

Digitized by the Internet Archive
in 2007 with funding from
Microsoft Corporation

THE
STUDENT'S
PRACTICAL DICTIONARY

CONTAINING

English Words with English and Urdu Meanings

AND

Hindustani Words with English Meanings

TOGETHER WITH

A LIST OF LATIN AND GREEK WORDS AND PHRASES WITH
THEIR ENGLISH AND URDU EQUIVALENTS

IN

PERSIAN CHARACTER

REVISED AND IMPROVED EDITION

[All rights reserved]

Rs. 16/-

ALLAHABAD
RAM NARAIN LAL BENI MADHO
PUBLISHERS AND BOOKSELLERS

Printed by Vijay Kumar Agarwal
at the Nav Sahitya Press Allahabad.

PK
1976
S78
1900z



813411

PREFACE

THE dictionaries at present used by school-boys and others in this country give for the most part meanings of English words in *Roman Hindustani*. To understand the various diacritical marks used in such dictionaries requires a considerable amount of practical experience, which it is hardly fair to expect from those for whom they are chiefly intended. This Dictionary gives meanings of English words in *Hindustani* expressed in *Persian Character*, and it is used to meet the requirements of the school-going population in the United Provinces of Agra and Oudh, Hyderabad ; Punjab and other provinces, where the study of the English language is prosecuted simultaneously with that of Urdu. European candidates for Civil and Military Service in India, who are required to pass a High Standard Examination in Urdu, and all foreigners, who may aspire to learn the correct sound of words occurring in Hindustani, will also find this book of reference of immense service to them.

In giving the meanings of words the following system has been adopted. In the first place, the words have been defined in *English*, the definitions being so framed as to give a full, clear and correct explanation of the various senses in which a word may at different times be used. Secondly, an idiomatic translation into *Hindustani* of the English definitions has been given ; accuracy, precision and distinctness have throughout been the aim of the translator. An appendix is given containing words and phrases from the Greek, Latin and other foreign language, with English and *Hindustani* equivalents.

A complaint generally made by Indian Booksellers and Publishers of the present day is that dictionaries do not sell, for the numberless glossaries, keys and commentaries issued by school-masters and others leave nothing that a candidate may require for his examination unsaid, rendering the consultation of a dictionary an unproductive labour and a waste of time and energy. But if this be a grievance of booksellers and publishers, school-boys and school-masters have their grievance as well. The small dictionaries consulted by school-boys in this country for the most part give definitions consisting of single words, generally as difficult, as, and sometimes even more difficult than those they seek to explain. Even when definitions, more fully framed, are given, the grievance is not removed, for they are often expressed in words, which assume on the part of the student a knowledge of words more difficult than they consult. In this Dictionary, simple words have been used as much as possible to frame definitions which, it is hoped, men of all classes will find it easy to understand.

The arrangement of words and their meanings is, indeed perfectly simple, the matter rich and full, and the price at which it is published very low, so that it cannot fail to make itself acceptable to all. To make this book attractive to school-boys, for whom it is mainly intended, the cloth cases in which the copies are bound up have been imported from England at considerable cost. Thus it will be found that nothing has been spared to make this undertaking a thorough success.

An able and efficient staff was engaged to compile the Dictionary. But it owes its present form to Munshi Dwarka Prasad of the Government High School, Allahabad under whose superintendence the staff worked.

RAM NARAIN LAL BENI MADHO.

PREFACE

TO THE


NEW AND ENLARGED EDITION

The rapid sale of the first and subsequent Editions of the **Student's Practical Dictionary** and its large demand from all parts of the country especially from H. H. the Nizam's Dominions, furnish an abundant proof of the exceptional favour it has found in the eyes of those for whom it has intended. This has encouraged the publisher to bring out this 'New and Revised Edition,' thoroughly revised, which is far superior to any of its predecessors. One of the special features of this edition is the use of Antique Type in the printing of the main words and it is hoped that this improvement will make the book far more valuable as a book of reference than its predecessors had been. In order to reduce the bulk of the book, the size has been changed to Double Crown Octavo to make it handy and easy of reference. A large number of new words and idiomatic phrases, or verbal aggregates with their explanations in English and Urdu, has been added to the main words with which they are respectively connected, and copious synonyms have also been grouped under many words requiring them throughout the book. The meanings, both in English and Urdu, have also been materially improved, and no pains have been spared to make the New and Revised Edition of the Dictionary more useful than its predecessors to the students in particular and for all other practical purposes in general.

RAM NARAIN LAL BENI MADHO.

ABBREVIATIONS OF GRAMMATICAL AND OTHER TERMS USED IN THIS DICTIONARY

<i>a.</i>	is used for	adjective	<i>Med.</i>	is used for	Medicine
<i>ad. or adv.</i>	„	adverb	<i>Met.</i>	„	Metallurgy
<i>Anat.</i>	„	Anatomy	<i>Naut.</i>	„	Nautical
<i>Ant.</i>	„	Antonyms	<i>n.</i>	„	noun
<i>Arith.</i>	„	Arithmetic	<i>opp.</i>	„	opposed to
<i>Ast.</i>	„	Astronomy	<i>p. prep.</i>	„	proposition
<i>Bot.</i>	„	Botany	<i>p. a.</i>	„	participle adjective
<i>Chem.</i>	„	Chemistry	<i>phr.</i>	„	phrase
<i>Colloq.</i>	„	Colloquial	<i>pl.</i>	„	plural
<i>Conj.</i>	„	Conjunction	<i>p. pr.</i>	„	participle present
<i>Contra.</i>	„	Contraction	<i>p. p.</i>	„	past participi
<i>Def. Art.</i>	„	Definite Article	<i>pron.</i>	„	pronoun
<i>Esp.</i>	„	Especially	<i>Prov.</i>	„	proverb
<i>Fem.</i>	„	Feminine	<i>Pers.</i>	„	Persian
<i>Fig.</i>	„	Figure	<i>Print.</i>	„	Printing
<i>F.</i>	„	Female	<i>Poet.</i>	„	Poetry
<i>Geo.</i>	„	Geometry	<i>Poss.</i>	„	Possessive
<i>Gr.</i>	„	Greek	<i>Pret.</i>	„	Preterite
<i>Gram.</i>	„	Grammar	<i>Rhet.</i>	„	Rhetoric
<i>Heb.</i>	„	Hebrew	<i>Scot.</i>	„	Scottish
<i>Interj.</i>	„	Interjection	<i>Sp.</i>	„	Spanish
<i>In Com.</i>	„	In Comparison	<i>sup.</i>	„	superlative
<i>It.</i>	„	Italian	<i>Surg.</i>	„	Surgery
<i>L. or Lat.</i>	„	Latin	<i>Syn.</i>	„	Synonym
<i>Math.</i>	„	Mathematics	<i>v.</i>	„	verb
<i>Masc.</i>	„	Masculine	<i>v. i.</i>	„	verb intransitive
<i>Mech.</i>	„	Mechanics	<i>v. t.</i>	„	verb transitive.



THE
STUDENT'S
PRACTICAL DICTIONARY
ANGLO-URDU,

A

ABBOT

A, The first letter in the English alphabet :
The indefinite article, a contraction of *an*, used before singular nouns beginning with a consonant :
صیغہ واحد میں اُن اسموں کے مقابل آنیوالا حرف تکریم ہے جنکے پہلے حرف صحیح ہو

A, (1) One (not more or less) : ایک (2) any ; some : کوئی - کوئی ایک (8) by ; per : - فی - ہر -
as, One rupee a yard ; Two annas a man. (4) when used before plural nouns it means ایک ایک as, A few men ایک ایک ; آدمی بہت سے لڑکے A great many boys ; آدمی

A, *prep.* (1) On : اس پر - اوپر - میں :
ashore ; afoot. (2) for : اس واسطے - لئے - کر - خاطر :
a-hunting ; a-swimming ; a-visiting .

A I, Of unequalled excellence : نہایت عمدہ - بے نظیر

Aback, *ad.* Backwards : - (Fig.) Unexpectedly ; by surprise : ناگہانی - اچانک - ناگہانی
as, To take a person *aback*.

Abaft, *ad. or prep.* Towards the stern of a ship ; behind : پیچھے - پیچھے کی طرف

Abandon, *v. t.* To desert ; to forsake ; to resign ; to quit ; to yield one's self without restraint :
ترک کرنا - چھوڑنا - دست بردار ہونا - کنارہ کش ہونا -
تجنا - اپنے تئیں بے ضبط کر دینا
Syn.—Abdicate, discontinue, leave, renounce, relinquish.
Ant.—Adopt, maintain, retain, uphold.

Abandoned, *pp. or a.* Forsaken ; * چھوڑا ہوا
Given up to vice ; profligate ; depraved ;
vicious : بگڑا ہوا - بدکردار - خوار - بے حیا

Abandonment, *n.* Forsaking ; desertion ;
relinquishment : دست برداری - ترک - تیاگ

Abase, *v. t.* To lower ; to humble ; to degrade :
کم قدر کرنا - ذلیل کرنا - درجہ گھٹا دینا - اتارنا

(1) *Abase* refers to outward conditions ; (2) *debase*, to quality or character.
Syn.—Disgrace, depress, humble.
Ant.—Exalt, raise, promote.

Abasement, *n.* A state of humiliation ; degradation : بے حرمتی - کم قدری - حقارت - خوارگی

Abash, *v. t.* To put to shame ; to confuse with shame or guilt : شرمندہ کرنا - نام نہان کرنا - اجالنا - گھبرا دینا
Syn.—Confound, discomfit, disconcert.
Ant.—Encourage, inspirit, cheer.

Abate, *v. t.* To lessen ; to deduct ; to mitigate :
(Law) * کم کرنا - دھیمنا یا ہلکا کرنا - منہا کرنا - گھٹانا
To annul ; to do away with : - رفع کرنا -
آٹھانا

—, *v. i.* To become less in strength or violence ; to subside : گھٹنا - مندہ پڑنا - کم ہونا
Syn.—Diminish, decrease, decline.
Any.—Enhance, increase, intensify.

Abatement, *n.* Reduction ; decrease ; mitigation ,
تصفیف - کمی - گھٹنا - کٹوتی :
deduction ; discount

Abattoir (*Fr.* a-bat-war), *n.* A public slaughter-house :
مذبح - بوجڑ خانہ - کھیل - مسلخ

Abbess, *n.* A female head or superior of a nunnery :
مررتوں کی خانقاہ کی سردارن - مہنتن - بائی

Abbey, *n.* A monastery ; the church of a monastery ; a society of persons of either sex secluded from the world, and devoted to religion and celibacy :
خانقاہ گردوارہ - مٹھہ - ایک جماعت جسکے شریک کنوارے اور دنیا سے الگ رہکر خدا کی عبادت کرتے ہیں

Abbot, *n.* The male head or superior of an abbey :
خانقاہ کا سردار - مہنت - مٹھہاری - سجادہ نشین

Abbreviate, v. t. To abridge ; to shorten ; to reduce to smaller compass : کم کرنا - مختصر کرنا
خلاصہ کرنا - سنکشیپ کرنا

Abbreviation, n. Act of shortening ; an abridgment ; a shortened form : سنکشیپ
* A syllable or letters standing for a word or words as, *Esq.* for *Esquire* ; *H.M.S.* for *His Majesty's Service* : ایک جز لفظ یا ایک حرف - کسی لفظ کی مختصر صورت - اختصار

Abdicate, v. t. or i. To give up office or dignity ; to renounce power voluntarily ; to withdraw from or resign : حق یا عہدہ چھوڑ دینا - ترک کرنا -
as, To *abdicate* a throne : تخت یا گدی یا راج پات چھوڑ دینا

Abdication, n. The act of giving up an office, especially the kingly office ; resignation : کسی عہدہ سے عہدگی خصوصاً ترک سلطنت - دست برداری

Abdomen, n. The belly : شکم - پیٹ - پیٹرو

Abdominous, a. Abdominal ; pot-belly : توندیلا - بڑا پیٹ والا

Abduce, v. t. To draw away ; to lead away : عہدہ کرنا - الگ لیجانا

Abducent, a. Drawing or pulling back : کھینچنا
ہوا - ہٹایا ہوا

Abduct, v. t. To take away by fraud or violence ; to draw or lead away : فریب یا زبردستی سے بھگا
لیجانا - نکال لے جانا - بھگا لیجانا

Abduction, n. Act of carrying away : * لیجانا
(Law) Taking a woman away by force, fraud or persuasion : عورت یا لڑکے کو جبراً فریباً یا ترغیباً
بھگا لیجانا

Aberrance, } n. Deviation from the right way ;
**Aberration, } mental wandering ; partial
alienation of the mind : راہ راست سے انحراف -
گمراہی - بدحواسی - نترور دماغ - جنون**

Aberrant, a. Wandering ; straying from the right way : گمراہ - بھگا ہوا

Aberrate, v. i. To go astray ; to diverge : گمراہ
ہونا - بھگنا

Abet, v. t. (Used chiefly in a bad sense.) To aid ; to incite ; to encourage ; to allure ;

to counsel : اعانت کرنا - ترغیب دینا - اسکانا
بھلائی - ورغلانا - تدبیر پیمانا

Abetment, n. The act of abetting ; encouragement ; aid : ترغیب دہی - اشتعاک - اعانت

Abettor, n. One who abets ; an accessory ; a supporter or encourager of something bad : معاون - شریک جرم - جانبدار - حامی

Abeyance, n. Temporary suspension : * انتظار
* Expectation : انتظار

Abhor, v. t. To detest ; to loathe ; to hate : نفرت کرنا - کراہیت کرنا - گھن کھانا - چڑھنا

Abhorrence, n. Detestation ; extreme aversion : نفرت - گھن - کراہیت - ازحد نفرت - گریز
Syn.—Hatred, loathing, repugnance.
Ant.—Admiration, esteem, approval.

Abhorrent, a. Odious ; repugnant ; hating
مکررہ - ناپسند - متنفر - بہت
خلاف یا ناموافق

Abhorrer, n. A detester ; a hater : کراہیت کرنے والا
نفرت کرنے والا

Abide, v. i. To take up one's abode ; to dwell ;
to stay : ٹھہرنا
To—by, to adhere to ; to maintain ; to accept : قائم رہنا
پکا رہنا - پابند رہنا - منظور رکھنا
—v. t. To wait for ; to suffer ; to put up with ; to take the consequence of - منتظر رہنا
سہنا - اٹھانا - نتیجہ بھگتنا

Abiding, p. a. Permanent ; continuing ; steadfast : as, An *abiding* faith.
استقامت - دائمی - استمراری - پایدار

Ability, n. Power whether bodily or mental ; skill ; strength : لیاقت - مقدر طاقت - قابلیت
pl. **Abilities, Talents ; powers of the mind ; capacity ; authority ; resources :** استعداد - حیثیت - ذہنی طاقت

Syn.—Capability, faculty, aptitude.
Ant.—Inability, incapacity, inefficiency.

Ab initio, adv. From the beginning : ابتدا سے

Abject, a. Mean ; low ; despicable ; worthless : کمینہ - حقیر - نیچ - بے وقار

Abjection, } n. Meanness of spirit ; baseness ;
**Abjectness, } servility : ہمتی - کمینہ پن - ذلت
خواری - چاپلوسی**

Abjuration, n. A denial upon oath : renunciation ; a total abandonment - حلفیہ انکار - دست برداری - قطعاً انکار یا ترک

Abjure, v. i. To renounce upon oath ; to forswear - حلفاً انکار کرنا - قسمیہ ترک کر دینا - دستبردار : ہونا

Abiative, n. A case of nouns in some languages denoting separation from : حالت مجازت - مفعول لہ

Ablaze, ad. In a blaze ; on fire ; radiant in a state of eager excitement or desire : شعلہ زں - سرزوں - درخشاں - بشدت - گرم - ہر انگیزتہ

Able, a. Skilful ; expert ; competent ; fit ; قابل - ہوشیار - لائق

(In comp.) as, marriage-able, tract-able, * question-able * بیباہن یوک تربیت پزیر

Able-bodied, a. Having a sound strong body ; قوی - طاقتور - بازاں - تگڑا - ٹھٹھا - موٹا - powerful : تازہ

Abluent, n. That which washes or carries off impurities ; a detergent : جسمانی آلائش دور کرنے والی : دوا

Ablution, n. The act of washing ; purification ; a washing of the body preparatory to religious rites : غسل - اشنان - نہنا دھونا - دھو - طہارت -

Ably, ad. In an able manner ; with ability : بالیاقت - قابلیت کے ساتھ

Abnegate, v. t. To deny ; to renounce : انکار - کرنا - ترک کرنا

Abnegation, n. Renunciation ; denial : ترک - انکار

Abnegator, n. One who denies : منکر - ترک کرنے والا

Abnormal, a. Contrary to rule ; irregular : خلاف قاعدہ - بے دستور

Abnormity, n. Irregularity ; deformity : قاعدگی - بد شکلی

Aboard, ad. Within or on board a ship or boat : جہاز یا کشتی میں

Abode, n. Habitation ; residence : مسکن - سکونت - قیام - گھر

Syn.—Dwelling, stay, house, domicile.

Abolish, v. t. To annul ; to make void ; to do away with ; to put an end to : منسوخ کرنا - رد کرنا - باطل کرنا - موقوف کرنا - نیست کرنا

Abolishable, a. That which may be abolished : قابل منسوخی - قابل موقوفی یا برطرفی - کھنڈن یوک

Abolishment, } n. The act of abolishing : موقوفی - منسوخی - کھنڈن - برطرفی

Abolitionist, n. One who is in favour of abolishing anything : منسوخی برطرفی یا موقوفی چاہنے والا

Abominable, a. Hateful ; detestable ; unclean : نفرت انگیز - مکروہ - ناگوار - نجس - گھونٹا

Abominate, v. t. To detest ; to abhor : نفرت کرنا - کراہیت کرنا

Abomination, n. Detestation ; abhorrence ; extreme aversion ; anything disgusting : کراہیت - شئی مکروہ - غلیظ چیز

Aboriginal, a. Primitive ; first ; indigenous : n. An original inhabitant : قدیمی یا اصلی باشندہ

Aborigines, n. pl. Primitive races ; the original inhabitants of a country : پر اچین لوگ

Abort, v. t. To miscarry in birth : اسقاط حمل ہونا - پیت یا حمل گرتا - گریبہ پات ہونا

Abortion, n. An untimely birth ; premature delivery ; a miscarriage ; failure : گریبہ پات - ناکامی

Abortive, a. Immature ; untimely ; unsuccessful ; producing nothing : کچھا - قبل از وقت - لاحاصل - ناکامیاب - رایگان

Abound, v. i. To be in great plenty ; to be full of ; to overflow : بکثرت یا افراط کے ساتھ ہونا - بھرپور ہونا - ریل پیل ہونا - امتنا

About, prep. Round ; near to ; relating to ; employed upon : چاروتعارف - قریب - میں - آسپاس -

ad. Around ; approximately ; here and there ; upon the point of ; more or less : گرد گرد - عقرب - جا بجا - کر -

To be—, to be engaged in : To bring—, to cause to happen : کرنے لگنا : To go—, to prepare to do : واقع ہونا : To come—, to happen : سیر کرنا : To take one—, چالاک دیکھنا

up and—

Above, prep. On the upside; beyond; more than; surpassing: سے زیادہ: بڑھکر - بعید - بڑھکر
ad. Overhead; before: سابق میں
***—all**: سمجھو: *—سب سے زیادہ یا پہلے
***—board, open; unconcealed; honestly:** سچے
*** Over and—, besides:** اور اور - کھلم کھلا - بلا فن و نریب
 طالعہ اِسکے

Above-mentioned, Above-cited, Above-said, } **ad.** Described above: مذکورہ بالا
 بالا - مسطورہ بالا - مرقومہ بالا

Abrade, v. t. To rub off; to wear away: رگڑنا - گھسنے - چھیلنا

Abrasion, n. Attrition; the act of rubbing off: رگڑ - چھیلنا - خراش

Abreast, ad. Side by side; with the breasts in a line: ساتھ ساتھ
To keep—of, to advance at an equal pace with: *پہلو پہلو بہ پہلو - برابر - ساتھ ساتھ
The times—, up-to-date: *بے روز قدم رکھنا - ہم قدم
 زمانہ کے ہم قدم ہونا

Abridge, v. t. To epitomize; to diminish; to deprive (in this sense followed by *of* as, *To abridge of* one's right): خلاصہ کرنا - مختصر کرنا -
 چھوڑنا کرنا - گھٹانا - محروم کرنا

Abridgment, n. A summary; an epitome: خلاصہ - اختصار - سنکشیپ

Syn.— Compendium, abstract, synopsis.

Ant.— Amplification, expansion, paraphrase.

Abroad, ad. In foreign countries; at large; out of the house; in all directions; widely: پورے میں - آزاد - باہر - دیس-دور - بدیس - جہاں جہاں
All—, having the senses confused: *دور دور - سب طرف - گھبراہٹ میں

Abrogate, v. t. To annul; to repeal: منسوخ کرنا - رد کرنا - اٹھا دینا

Abrogation, n. The repeal of a law; annulment: تلخیص - موٹوٹوٹی - اٹھا دیا

Abrupt, a. Steep; Broken off; precipitous: یکایک * ٹوٹا پھوٹا - نشیب و فراز - اونچا نیچا
Sudden: * ٹوٹا پھوٹا - نشیب و فراز - اونچا نیچا
Unconnected of a (style): * ربط
Rude (of manners): نا شایستہ

Abruption, n. Sudden breaking off; a violent separation: یکایک علیحدگی - اچانک ٹوٹ

Abruptly, ad. Suddenly; without any notice or warning; precipitously: یکایک - ناگاہ - دغماً -
 زدھڑک - بے ربطی سے

Abruptness, n. Ruggedness; unceremonious haste or vehemence: ناگہزاری - ہڑبڑی - اکھڑوں

Abscess, n. An inflammatory tumour; ulcer: پھوڑا - دمبل

Abscind, v. t. To cut off; to sever: جدا کرنا

Abscission, n. Act of cutting off; severance: تراش - کاٹ چھانت

Abscond, v. t. To flee from justice; to disappear; to decamp; to steal off: روپوش ہونا - فرار ہونا - غائب ہونا - بھاگ جانا

Absence, n. Want; a being away; separation; **of**—* غیر حاضری - عدم موجودگی - فرقت - غیبت - غفالت
mind, inattention: عدم توجہی - در دلی - محرومیت

Absent, a. Not present; away: غیر حاضر - موجود
—minded, forgetful or unconscious of one's surroundings: * نہیں اپنے خیال میں محروم - غافل - درچٹا
—, v. t. To keep away intentionally: غیر حاضر - کرنا

Absentee, n. One not present; one absent from his duty or country: غیر حاضر شخص - کام سے غیر حاضر یا بدیس رہنے والا

Absolute, a. Despotic; unconditional; complete; positive; pure; unrelated: کل مقتدار
 بلا قید یا شرط مطلق - محض - سراسر - قطعی - خالص
 (as, *absolute power*). بے تعقیق

Syn.— Unlimited, independent, perfect, peremptory.

Ant.— Accountable, limited, conditional.

Absolutely, ad. Without restriction; positively; entirely: بلا قید - البتہ - بالضرور - مطلقاً - محض - خالص
 (as, *absolutely impossible*).

Absoluteness, n. Despotism; independence; خود مختاری
 positiveness; completeness: مطلق الاعنائی - تکمیل - پورا پورا

Absolution, n. Acquittal; remission of sins; رھائی - مخلصی - نجات - مغفرت - معافی: forgiveness

Absolutory, a. Tending to absolute: معافی پزیر

Absolve, v. t. To pardon; to acquit; to forgive; or grant remission of sin; to free from: معاف کرنا - چھوڑنا - گناہوں سے معافی بخشنا - بڑی کرنا
To— from responsibility, بڑی الزمہ کرنا

Syn.— Exonerate, acquit.

Absonant, *a.* (*opp.* to Consonant) Absurd; discordant : contrary to reason : **فصول - اور تپانگ - خلاف عقل**

Absorb, *v. t.* To imbibe ; to suck in ; to engross ; to engage wholly : **جذب کرنا - سوں لینا - مستغرق کرنا - مشغول ہونا**

Absorbent, *n.* and *a.* A substance that sucks up ; imbibing : **جاذب - سوں کھنہ والا**

Absorption, *n.* Suction ; engrossment ; occupation ; consumption - **خروج - جزئیات - مصروفیت - اغراق - مصروفیت**

Absorptive, *a.* Having power to absorb or imbibe : **جذب کرنے کی طاقت یا صفت رکھنے والا**

Abstain, *v. i.* To keep one's self from ; to refrain : **اپنے کو باز رکھنا - پرہیز کرنا**

Abstainer, *n.* One who abstains esp. from the use of intoxicating drinks : **منشی اشیائے پرہیز کرنے والا**

Abstemious, *a.* Temperate ; (esp. in food, drink, or enjoyment) : **متقی - پرہیز گار - سنجھی - بھکت - قلیل الغذا**

Abstemiousness, *n.* Sobriety ; temperance : **پرہیز گاری - اعتدال**

Absterge, *v. t.* To cleanse by wiping ; to purify : **پوندھکر صاف کرنا - نرم کرنا**

Abstergent, *a.* Having cleansing quality : **مصفی**

Abstinence, *n.* The practice of voluntarily refraining from some bodily indulgence ; partaking sparingly of food and drink ; **تقا - ریاضت - پرہیز**

Abstinent, *a.* Refraining from ; abstemious : **پرہیز گار - متقی - نیمہ**

Abstract, *v. t.* To draw away : **To * کھینچ لینا** ; **To purloin** : **To epitomize** * نکال لینا - چرا لینا ; **to reduce** ; **to abridge** : خلاصہ نکالنا ; **To take from** * لب لباب نکالنا

---, *n.* An epitome ; an abridgment ; a short summary ; essence : **اختصار** ; **--- of an account** : **In the ---** , **مجموعہ** ; **في الجملة**

Syn.— See **Abridgment**.

Abstract, *a.* Separate ; not concrete ; abstruse ; **جدا - غیر مخصوص - دقیق - تعزیری - محض** ; **ideal** : **عقلی**

Abstracted, *a.* Lost in thought ; absent in mind : **مغور - خیال میں غرق**

Abstraction, *n.* A withdrawal ; purloining ; an ideal ; absence of mind : **آزادی سے نکال لینا - خیال - بے خودی - مصروفیت**

Abstruse, *a.* Hard to be understood ; mystical ; profound ; obscure : **مشکل - گہم - دقیق - مغلق - عمیق**

Absurd, *a.* Contrary to reason ; ridiculous ; nonsensical : **خلاف عقل - بے ہودہ - راہیات - اوت - پٹانگ**

Syn.— Foolish, irrational, unreasonable.

Absurdity, *n.* Unreasonableness ; folly : **خرافات - بے ہودگی**

Abundance, *n.* Ample sufficiency ; fulness ; **کثرت - زیادتی - کثیرت - زہادتی - کثیرت - انفرادی** ; **copiousness** ; **plentuousness** : **بہتات - انفرادی**

Syn.— Exuberance, affluence, profusion.

Abundant, *a.* Plentiful ; copious ; abounding ; **کثیر - واٹر - فراوان - ریل پیل**

Abuse, *v. t.* To misuse ; to put to a wrong use ; to use foul language ; to revile ; to defile : **بھیجا استعمال کرنا - بُرا بولا کھنا - گالی دینا - بُرا بُرتاؤ کرنا - آبرو لینا**

—, *n.* Ill-use ; reproach ; foul language ; unjust censure : **استعمال ناجائز - بدزبانی - تہمت** ; **pl. Abuses**, corrupt practices or customs : **خرابیوں - ظلم - انصافی - پے (as abuses of government)**

Abusive, *a.* Scurrilous ; foul-mouthed : **بد زبان - مہلکہ پھت**

Syn.— Reproachful, opprobrious, rude.

Abut, *v. i.* To border upon ; to project ; to be close upon : **متصل یا مقابل ہونا - نکالنا - ابھرنے - ملنا**

Abutment, *n.* The act or state of abutting ; a supporting structure : **اوپہار - پشتہ - پشتہ بندی**

Abysm, Abyss, *n.* A bottomless gulf ; anything profound and unfathomable, literally or figuratively : **فار عمیق - عمیق گہراؤ - انتہاء گہرا**

Acacia, n. A genus of trees with pinnated leaves :

بیڑول - کیکر

Academic, } a. Scholastic ; literary : -
Academical, }

مکتبی
علمی

Academician, n. A member of an academy or society for providing arts and sciences :

شریک یا اہل مجلس علما

Academy, n. College, university ; seminary ; a society for the promotion of science and arts :

علوم و فنون - بیت العلم - انجمن علمی

Accede, v. i. To comply with ; to agree to :

To enter ; to get possession * **To enter ; to get possession**

of : **as, He acceded to the sovereignty of.**

Syn.—Assent, acquiesce, concur.

Accelerate, v. t. To increase the speed of ; to hasten ; to quicken :

حرکت یا رفتار کو تیز کرنا -

جلدی کرنا

Acceleration, n. Speedy motion ; increase of velocity :

تیز رفتاری - جلدی - شتابی

Accend, v. t. To set on fire ; to kindle :

آگ لگانا -

جلانا

Accent, n. Modulation of the voice in speaking ; emphasis (on a syllable) ; pronunciation, word :

لہجہ - ارچارن - زور - سُر - ار از کا اُتار چڑھاؤ - تلفظ

—, **v. t.** To express or note the accent ; to emphasize :

لہجہ ادا کرنا - زور دینا - نشان لگانا

Accentuate, v. t. To emphasize ; to mark :

تلفظ کے نشان لگانا

Accept, v. t. To take (willingly) ; to agree to ; to acknowledge ; to approve ; to become liable for ; to understand (as, How are these words

to be *accepted*)

لینا - منظور کرنا - تسلیم کرنا - قبول

To—a bill, to

pay a bill of exchange : -

ہفتگی سکارتا - ذمہ دار -

ہو چاہتا - سکارتا

Acceptable, a. Capable or worthy of being received ; agreeable ; pleasing to a receiver ;

received :

قابل منظوری - مبارک - مقبول - پسندیدہ -

من بہارنا

Acceptance, n. A favourable reception ; an assent and engagement to pay a bill of exchange when due ; the bill itself when accep-

ted :

قبولیت - تسلیم - منظوری - سکارتی ہونے ہندے

Acceptation, n. The received meaning of a word : -

Reception : -

مقبولیت

Access, n. Approach ; passage allowing communication ; means of approach ; admission ;

increase ; attack (*afit*) as of fever

گزر - رسائی -

پہنچ - بار پائی - دخل - زیادتی - دورا - قربت - باری -

چڑھاؤ

Accessible, a. That which may be approached ; easy of access ; attainable :

ممکن المدخل - پہنچ

کے قابل - قابل گذر - ممکن المدخل

Accession, n. Augmentation ; approach ; the act of succeeding to a throne

افزائش - برتری -

پہنچ - تخت نشینی - راج طاک

Accessory, } a. Additional ; contributory ; sub-
Accessory, }

Accessary, } **n.** An

accomplice ; an accompaniment :

رازدار - معاون -

لوازمہ

Accidence, n. The part of grammar that has to do with changes of terminations :

آمدنامہ

صرف رفتو

Accident, n. An unforeseen event ; a casualty ; mishap ; an unessential quality of something ;

occurrence :

حادثہ - اتفاقات - واقعہ - خاصہ غیر ضروری

سرگذشت - واردات

Accidental, a. Happening by chance ; casual ; fortuitous ; non-essential :

انگہانی - اتفاقی -

اسماتی - عارضی - غیر ضروری

Acclaim, n. A shout of praise ; applause ;

applaud :

شاباشی دینا - واہ واہ کرنا

Acclamation, n. A shout of joy or welcome ; a shout in praise of some one by a number of

people :

واہ واہ - لہکار - مرحبہ - افریں - تحسین -

جیہیکار

Acclimatize, } v. t. To habituate to a foreign

Acclimatize, } climate ; to accustom to a new

climate :

ab دعو سے موافقت پیدا کرنا

Acclimation, } n. Becoming habituated to a

Acclimation, } climate :

موافقت اب و ہوا

Acclivity, n. (opp. to Declivity) The ascent of a hill ; a slope upwards :

چڑھائی - اونچائی -

لڑتفاع

Accommodate, v. t. To adapt ; to reconcile ; to make suitable or fit ; to make room for ; to supply with something that is needed : مطابق کرنا - ایک ذہنگ اختیار کرنا - میل ملاپ کرنا - مناسب حال کرنا - آرام کے لئے مکان میں جگہ دینا - زمانہ سازی کرنا * **To—one's self to the times,**

Accommodating, p. and a. Obliging ; disposed to comply and to oblige another ; pliable : مررتی - آرام بخش

Accommodation, n. (1) Space ; fitness ; adaptation ; adjustment of differences ; reconciliation : جگہ - سمائی - گنجائش - موافقت - مطابقت - میل ملاپ * (2) Anything which supplies a want as in respect of ease ; a loan of money ; a house : آرام کی چیزیں - قرض - مکان

Accompaniment, n. Something that goes along with ; something added by way of embellishment ; accompaniment ; appurtenance ; music by an instrument going along with the voice : ساتھ - مشورہ - جو بطور زیورٹش جوڑ دیا جاوے - ہم آہنگی - دمساز - لوازم

Accompany, v. t. To go along or join with ; to keep company with ; to play while another sings : ساتھ ہونا - ہمراہ ہونا - شریک ہونا - آواز - ملانا

Syn.—Attend, escort, convoy, wait on.

Accomplice, n. An associate in crime ; a helper in any bad deed ; (used with *of* and *with* before a person ; and *in* and *of* before a crime) : شریک جرم - مددگار - رفیق - ساتھی

Syn.—Accessory, abettor, co-adjutor.

Accomplish, v. i. To complete ; to fulfil ; to end ; to gain ; to achieve : تمام کرنا - پورا کرنا - بچا لانا - انجام دینا - مدعا پانا - کر دکھلانا

Accomplished, a. Well-educated ; perfect ; polished ; elegant : کامل - پورا - ماہر - صاحب : * پورا یا چھٹا ہوا بدعاش **knave** - سلیقہ - چھٹا ہوا شریف یا **gentleman** - علم کامل - **scholar** - فصیلت

Accomplishment, n. Fulfilment ; perfection : * مطالب پوری * **Attainment** : تکمیل - کمالیت - ہنر - جوہر * **Skill** : سلیقہ - قابلیت - **Elegance**

Accord, v. t. To grant ; to give ; to harmonize : مطابق ہونا - *v. i.* to agree ; to be in harmony : ملنا - دینا - منظور کرنا - مطابق کرنا - ملنا

—, *n.* Agreement ; union of minds ; harmony : مطابقت - موافقت - ایک دلی - اتفاق رائے - تال میل - * **Of his own—**, * ایک سہی - اتفاق * **Of one—**, یک رائے

Accordance, n. Agreement with a person ; conformity with a thing : - رضا مندی - مطابقت - موافقت - حسب - مطابق * **In—with** * میل

Accordant, a. Consonant ; corresponding : موافق - مطابق

According, p. pr. Agreeing ; harmonising with : جیساکہ - **as—** * حسب - **to—** * موافق - مطابق - مانو - جانو - گریا

Accordingly, ad. Agreeably ; conformably ; so ; consequently : موافق اس کے - چنانچہ - علیٰ ہذا القیاس - پس - اس لئے

Accost, v. t. To address before oneself is addressed ; to salute ; to speak first to : - مخاطب کرنا - سلام کرنا - بولنا - ٹوکنا

Accouchement, n. (*Fr.* ak-koosh'-mong) Child-birth ; delivery : چاہا - بچہ جنما

Accoucheur, n. (*Fr.* Ak-koo-she'r.) A surgeon who attends women in child-birth : چانے والا - ڈاکٹر

Accoucheuse, n. (*Fr.* ak-koo-shez) A midwife : دوائی جنائی

Account, n. A reckoning or computation : **A statement of facts ; narration :** سرگشتہ - تفصیل * **Sake ; behalf :** خاطر - واسطے * **Estimation :** امتحان - جانچ * **Examination :** قدر و منزلت - گنتی **—of lands,** * وجہ - باعث * **Reason :** پر تال **—Of 10,** * خرچ میں لکھنا **—Debit in—** * رقبہ بندی **—A man of great—** * ہیچ - کسی گنتی میں نہیں **—On your—** * تمہاری خاطر * **اعلیٰ رتبہ —Suspense—** * صورت سے **To make—of, to value :** جانچ **—Current—** * قدر کرنا **—To call to—, to make answerable :** جواب طلب کرنا **—To** * حساب چھوڑنا بنانا : to make false account :

make—of, to esteem : عزت کرنا • **To make** :
no—of, کرنا * **To take into—, to take**
into consideration : غور کرنا۔ خیال کرنا
no—of, to overlook : چشم پوشی کرنا • **To turn**
to—, to make good use of : عمدہ طور سے استعمال کرنا۔
To write off the—, to strike off
the accounts : نفع نکالنا • **To post an**
—, سیوا کرنا • **To credit in —, کہانا کرنا** •
On no—, کسی • **To—of, قدر کرنا**۔ کسی
 چیز سے نہیں۔ عزیز جاننا

Account, v. t. To esteem ; to answer for ; to
reckon : سمجھانا۔ خیال کرنا۔ قدر کرنا • جواب دینا :
 گنتی کرنا۔ شمار کرنا

—, v. i. To render an account ; to give reason ;
to explain : سبب بتانا۔ دلیل دینا

Accountability, n. Responsibility : جواب دہی۔
 ذمہ داری۔ بازپرسی

Accountable a. Responsible ; amenable ;
 قابل بازپرس۔ جوابدہ ذمہ دار

Accountant, n. One skilled in accounts ; a
book-keeper : منیجر۔ منیب۔ جمع خرچ نویس :
Village—, نیکہمال۔ پٹواری

Accoutre, v. t. To equip (esp. for military
service) ; to furnish with arms, &c. : سجانا۔
 مسلح کرنا۔ جنگی ردی پہنانا

Accoutrements, n. pl. Military dress or
equipments ; trappings ; fighting array :
 نژاتی کی پوشاک۔ اسلحہ۔ وردی۔ جنگی ساز و سامان۔ آرائش

Accredit, v. t. To give credit to ; to authorize ;
to place confidence in ; to send with credentials,
as envoy : مختار کرنا۔ اختیار دینا۔ سند کے
Accredited • ساتھہ ناصد بھیجتنا۔ یقین کرنا
Agent, an authorized employee : مختار کل

Accrescent, a. Increasing ; growing : بڑھتا ہوا۔
 ترقی کرنے والا

Accretion, n. Increase by natural growth :
 بڑھائ۔ افزونی

Accrue, v. t. To come to in addition ; to arise
or spring (as profit or loss) ; to be gained :
 اضافہ ہونا۔ پیدا ہونا۔ حاصل ہونا۔ نافع ہونا۔ ہونا۔
Cause of • **by alluvion**، دریا بزار، • **—** اپجنا
 • **بنادروی پیدا یا قائم ہوا**، **Right accrued** ;
 حقیت پہنچتی

Accumbent, a. Leaning or reclining ; سہارا لگانے
 ہوئے۔ لیٹا ہوا

Accumulate, v. t. To pile up ; to amass ; to
collect ; to hoard ; ڈھیر لگانا۔ بٹورنا •
To increase : بڑھانا۔ افزوں ہونا • **v. i. To**
collect : جمع کرنا

Accumulation, n. Mass ; heap ; collection ;
 ڈھیر۔ تودہ۔ انبار۔ جمائ

Accuracy, n. Correctness ; exactness ; nicety ;
freedom from error : درستگی۔ راستگی۔ خوبی
 بے خطائی۔ صحیح پن

Accurate, a. Free from error ; correct : صحیح۔
 درست۔ ٹھیک

Accurse v. t. To doom to misery , to curse :
 بددعا دینا۔ لعنت کرنا۔ سراپ دینا

Accursed. } pp. or a. Execrable, wicked ;
Accurst } exceedingly hateful : رانده۔ ملعون۔
 حرام۔ مکروہ

Accusable, a. Blamable ; censurable : قابل الزام
 یا بھٹکار

Accusant, n. One who accuses another : تہمت
 لگانے والا۔ مدعی

Accusation, n. A charge ; impeachment ;
blame : تہمت۔ الزام۔ دوش۔ عات۔ چہدا

Accusative, a. or n. Objective ; the objective
case of nouns and pronouns (in Latin gram.)
 حالت مفعول۔ کرم کارک

Accusatory, a. That which contains or pro-
duces an accusation : پر از الزام۔ قصور وار

Accuse, v. t. To bring a charge against ; to
blame : الزام لگانا یا دوش لگانا۔ تہمت لگانا۔ کسی عات :
 میں ماخوذ کرنا

Accused, n. The person against whom a charge
is brought : متعزم۔ ملزم شخص

Accuser, n. One who accuses : الزام لگانے والا۔
 مدعی۔ نریادی

Accustom, v. t. To make familiar with (by use)
عادت ڈالنا۔ بان ڈالنا ; **to habituate** ; معمول یا دستور
 باندھنا۔ سادھنا

Accustomary, a. Ordinary ; usual : معمولی

Accustomed, a. Habitual ; wonted ; familiar ;
 عادی۔ خوگر۔ معمولی۔ دستور کے موافق

Ace, n. A single point on cards or dice ; a unit ;
particle (as, I won't bate an *ace* : میں رتی
(بہر کم نہ کرونگا) ; an insignificant distance (as,
Within an *ace* : تاش کا ایکا - پو -) بہت ہی قریب
رتی یا ذرہ

Acerbity, n. A rough sour taste ; severity ;
harshness : قرشی - قرش مزاجی - سختی - تیزی -
تندی

Acetic, a. (a-set'ik), *adj.* Of the nature of
vinegar ; sour : سرکہ کی خاصیت رکھنے والا - قرش :

Acetify, v. t. To convert into acid or vinegar :
قرش ہو جانا - سرکہ ہو جانا :
v. i. To become acid ; to be
converted into vinegar : قرش ہو جانا

Acetosity, n. The state of being sour :
قرشی -
کھٹا پن

Acetum, n. Vinegar :
سرکہ

Ache, n. A continued pain : پید - درد - نیس
—, *v. i.* To be in continued pain : درد کرنا -
پراننا - ٹیسنا

Achievable, adj. Attainable ; accomplishable :
قابل حصول - سدا ہونے والا

Achieve, v. t. To accomplish ; to finish ; to at-
tain : انجام دینا - پورا کرنا - حاصل کرنا - کامیاب ہونا :

Achievement, n. Accomplishment ; an exploit ;
a heroic deed : سہم - بہادری کا کام - جرگہم

Achromatic, a. Destitute of colour (said of
light or of a lens) . بیرنگ - رنگتور

Acicular, a. Sharp-pointed ; needle-shaped :
نرکیلا - سرئی کی شکل کا

Acid, a. Sharp to the taste ; sour ; biting :
قرش - کھٹا - چوک

—, *n.* A sharp and sour substance :
قرش چیز - کھٹائی - (in Chem, نیزاب)

Acidify, v. t. To make acid : کھٹا کرنا - چوک کرنا -
قرش کرنا

Acidity, n. Sourness ; tartness : قرشی - کھٹا پن -
کھٹاس

Acidulate, v. t. To give an acid quality to :
کھٹا کرنا - قرش کرنا

Acknowledge, v. t. To own ; to confess ; to
avow receiving ; to admit ; to give a receipt for
(as money, &c.) تسلیم کرنا - قبول کرنا - پانے کا اقرار
کرنا - ماننا - رویتہ وغیرہ کی رسید دینا

Acknowledgment, n. Recognition ; admission ;
confession ; thanks ; receipt ; act of attesta-
tion : اقبال - اقرار - منظوری - شکر - گذاری - رسید -
—of ownership, تملیک نامہ - دھنی پتر
قبض الرصول - تیزلیت

Acme, n. The highest point ; extreme limit
top ; crisis : حد - انتہا - عروج - چوٹی

Acorn, n. The seed or fruit of the oak : بلوٹا کا
بیج یا پھل

Acoustics, n. The science of sounds ; means
used for making hearing easy : عام آواز - شبد :
ودیا - وسایل جسے آواز با سہولیت سنائی دے

Acquaint, v. t. To apprise ; to make familiar
with ; to inform ; to make aware of : واقف کرنا -
آگاہ کرنا - خبر دینا - جتانا

Acquaintance, n. Knowledge of a person or
thing ; familiarity ; a person known to one :
آگاہی واقفیت - جان پہچان - رہا - صاحب سلامت -
ملاقاتی - آشنا - واقفکار

Syn.—Intimacy, fellowship, friend.
Acquainted, a. Familiar ; having knowledge of ;
personally known : آگاہ - معرزم :
—, *v.* **Slightly** صورت شناس - صورت آشنا —

Acquiesce, v. i. To agree without opposition ; to
assent quietly : راضی ہونا - قبول کرنا - ماننا - تسلیم
کرنا

Syn.—Yield, comply, submit, rest.
Ant.—Dissent, disclaim, disagree, contradict,
refuse.

Acquiescence, n. Compliance ; silent assent ;
agreement : رضامندی - منظوری - خوشنودی

Acquiescent, a. Disposed to submit ; quietly
assenting ; submissive : ماننے والا - سیدھا

Acquire, v. t. To gain, by one's labour ; to
obtain ; to attain to : پیدا کرنا - کمانا - حاصل کرنا -
پانا

Syn.—Win, procure.
Acquirement, n. That which is acquired ; per-
sonal attainment ; learning ; skill : تحصیل -
انتساب - لیاقت - ہنر - علم - استعداد

Acquisition, n. The act of acquiring or gaining ;
the thing acquired or gained : حاصل - تحصیل -
پانت

Acquisitive, a. Desirous to acquire : حاصل کرنے کا
خواہشمند

Acumen, n. Quickness of perception ; acuteness ; keenness of insight ; sagacity : تیز فہمی - ہاریک - بھینٹی - دقیقه رسی - فراست

Syn.—Shrewdness, nice discernment ; sharpness.

Acuminate, v. i. To taper to a point ; * نرکیلا ہونا ;
v. t. To render sharp or keen : تیز یا نوکدار کرنا
—, **a.** Sharp-pointed ; acute : تیز - نوکیلا - نوکدار - تیز

Acute, a. Sharp ; shrewd ; keen ; ingenious ; shrill in sound ; severe, as a disease ; critical :

شدید - تیز - زبرد - ہوشیار - تیز (آواز) - سخت (بیہوشی) *
—angle, زاویہ حادہ

Ant.—Blunt, chronic, dull, heavy.

Acuteness, n. Sharpness : شدت * Penetration ; quickness of insight : تیز فہمی - زہد کی

Adage, n. A maxim ; a proverb ; an old saying : مقولہ - کہاوت - مثل

Adagio, n. A slow movement in music : دھیمی تال

Adam, n. The name of the first man : حضرت آدم *
Adam's apple, (in Anat.) the prominence in the forepart of the throat : گھینگھا - گھانگھا - گھانگھی

Adamant, n. A very hard stone ; a diamond : اعماس - ہیرا

Adamantine, a. Very hard ; made of adamant ; like adamant ; impenetrable : بہت سخت - اہلسی - ہیرا سا سخت - بے گذر

Adapt, v. t. To make fit ; to adjust ; to proportion ; to make suitable ; to alter for a new use : مرافق کرنا - ملازا - مناسب حال کرنا یا بنانا

Adaptation, n. The act of adapting ; suitability ; مرافق - مطابقت - مناسبت - میل

Add, v. i. To sum up ; to increase ; to say further ; to join ; to unite : جمع کرنا - جوڑنا - بڑھانا - اور کہنا - اندکی اندکی (Prov.) Add little to a little and it will be a great heap : میسورن بھیرن بھیرن کر کے تالاب بھرتا ہے

Addendum, n. Something added ; an appendix : pl. Addenda * تدمہ - ضمیمہ

Adder, n. A venomous serpent ; a viper : ایک قسم کا زہردار سانپ

Addict, v. t. To devote ; to habituate ; to give one's self up to (generally in bad sense) : عادی کرنا - خوگر کرنا - لگانا - تیل بنانا - دھت ڈالنا

Addicted, pp. Devoted to ; given up wholly to : عادی - خوگر - تیل - دھتیا - عادی

Addition, n. The act of adding ; the thing added ; the rule in Arithmetic for adding numbers together : جمع - جوڑ - بڑھوتری - زیادتی - جمع

Compound—, جمع مرکب * **In—to**, - سرا - اوڑھی - ساتھ

Additional, a. Added ; supplementary : زیادہ - ذاتر - مزید

Addle, } a. Barren ; unfruitful ; diseased ;
Addled, } confused in mind ; rotten : - لاحاصل - headed, * بے پروا - خاکھی - پریشان خاطر - گندہ (انڈا) - کند ذہن - کوزہ - مضرت

Address, v. t. To speak or write to : - مخاطب ہونا - پتہ لکھنا ; to direct (as a letter) : کہنا ; to court : کرنا ; to apply oneself to : شادی کی درخواست کرنا ; to deliver a speech : متوجہ ہونا - رجوع ہونا - درس سنانا

—, **n.** A speech ; manners ; dexterity ; direction of a letter ; title ; courtship : - طرز گفتگو - گزارش - نشست و برخاست - سابقہ - چالاکي - پتہ * **A man of pleasing—**, خوش وضع آدمی

Addressee, n. The person addressed : مکتوب ایفہ
Adduce, v. t. To bring forward ; to allege ; to پیش کرنا - بیان کرنا - ذکر کرنا - اقتباس : cite or quote : کرنا - لاذا

Adept, a. Completely, skilled in ; thoroughly کامل - ہنرمند - پورا - پکا - گھٹا ہوا - ماہر - versed :
n. A proficient ; master : ماہر - استاد - ناضل

Adequacy, } n. Sufficiency ; the state of
Adequateness, } being adequate : - کفایت - بس - بہتایت

Adequate, a. Equal to ; proportionate ; fully برابر - کافی - مرافق - معان - بس - sufficient : واجب - مناسب

Adhere, v. t. To stick or cling ; to be attached to ; to hold to (a person, party or opinion) : چپٹنا یا لگا رہنا - مستقل رہنا - پابند یا قائم رہنا

Adherence, n. Fidelity ; tenacity ; steady وفاداری - لگاؤ - attachment ; a holding firmly on : چسپندگی - ثابت قدمی

Adherent, n. A follower ; a partisan : - پیروکار
 * *a.* Sticking * مرید - رفیق - ہمراہی - ملندار - پچھلگر
 to ; attached : لگا ہوا - چپکا یا چمٹا ہوا

Adhesion, n. The act of striking to ; strong attachment ; assent : چسپیدگی - لگاؤ - پابندی - پیوستگی - وفاداری - منظری

Adhesive, n. Sticky ; tenacious : چپچپا - لسدار - چپداز

Adieu, a. and intj. (pl. Adieux or Adieus). An expression of kind wishes at the parting of friends ; farewell ; an affectionate good-bye : الوداع - خدا حافظ - سلام علیکم - نسکار

Ad interim, adv. For the meantime ; meanwhile : اتنے میں - اس اثنا میں - درمیان

Adit, n. An opening or passage into a mine :
 * *An* approach ; an access : کان میں پہنچنے کا راستہ - صوری - نالی
 راستہ - گذر - پہنچ یا رسائی کا ذریعہ

Adjacency, n. State of being adjacent nearness : نزدیکی - قربت

Adjacent, a. Adjoining ; lying close to ; contiguous : ملحق - متصل - پاس

Adjective, n. (Gram.) A word qualifying a noun ; an attributive : صفت - وھیش

Adjoin, v. t. To join ; to unite : * *v. i.* * جوڑنا - ملانا
 To be next or contiguous to : متصل یا ملحق ہونا
 لگا ہونا - ملنا ہونا - جٹا ہونا

Adjoining, a. Next to ; nearest : سب سے نزدیک والا - ستا ہوا - دوسرا - ملا ہوا

Adjourn, v. t. To defer ; to postpone : ملتوی کرنا - موقوف کرنا
 * *Syn.*—Put off, delay, prorogue, suspend.

Adjournment, n. Postponement ; delay : التوا - وقفہ - مہلت

Adjudge, v. t. To decree ; to sentence ; to decide, as a judge ; to pronounce judgment : تجویز کرنا - قرار دینا
 فیصلہ کرنا - حکم دینا - تقریر دینا - ڈگری کرنا

Adjudicate, v. t. To adjudge by law ; to determine judicially ; to pronounce : فیصلہ کرنا - تجویز کرنا

Adjudication, n. Judgment or decision given by a judge or umpire : فیصلہ - تجویز - نپٹارا

Adjudicator, n. One who adjudges : منصف - فیصلہ کرنے والا

Adjunct, n. An addition ; an appendage ; quality : * *a.* مضاف - ملحق یا جٹی ہوئی شے - کلمہ توصیف
 Joined or added to : ملا ہوا - جٹا ہوا

Adjuration, a. Act of adjuring ; a solemn oath : حلف - قسم

Adjure, v. t. To charge solemnly or on oath ; to charge a person on oath or in God's name to speak truth : حلف دینا - قسم لانا - سوگند کھلانا

Adjust, v. t. To put in order ; to regulate :
 * *To settle* : طے کر دینا - ترتیب دینا - ٹھیک کرنا - سدھارنا
 ملانا
 * *Syn.*—Adapt, suit, accommodate, rectify.
 * *Ant.*—Derange, confuse, disorder.

Adjustment, n. Settlement ; arrangement regulation * تصفیہ - نیصلہ - ترتیب - انتظام - صفائی
 باہم رفع داد - پنچایتی نیصلہ

Amicable, a. Friendly ; amicable : * *A large bird like a crane* : گرز

Adjutant, n. A military officer ; an assistant to the commanding officer : * *A large bird like a crane* : گرز

Administer, v. t. To manage ; to give ; to conduct the affairs of ; to supply ; to distribute ; to dispense :
 * *To—an oath*, * *To—justice*, * *To—medicine*, * *To—the law*
 * *To—*انٹظام کرنا - دینا - پھرنے کا - بانٹنا - ملحق دینا - قسم دینا
 متشاعرے قانون نافذ کرنا - دروا دینا

Administration, n. Management ; government ; executorship ; giving dispensation ; the ministers who manage the government of a country :
 * *To—*انتظام - نظام و نسق - حکمرانی - کاروبار - سربراہ کاری - دینا - جملہ اعمال و نگران ملک

Administrative, a. Pertaining to administration ; executive : انتظامی - عملی

Administrator, n. One who manages the property of an intestate ; director ; ruler : منتظم - سربراہ کار - کارکن - عامل

Admirable, a. Worthy of admiration ; excellent ; wonderful ; surprising : قابل تعریف - خوب - عجب - طرفہ - سزاوارتہ بزرگ

Admiral, n. A naval officer of the highest rank ; commander of a fleet : امیر البحر - جہازی سپہ سالار

Admiralty, a. Board of naval commissioner : امیر البحری - امیر البحری

Admiration, n. Wonder and delight ; high appreciation ; adoration : تعجب و خوشی - تعظیم - انبہش

Admire, v. t. To regard with love and wonder ;
to esteem highly : - متعجب ہونا - قدر کرنا - محبت کرنا -

تہسین کرنا - تعریف کرنا

Admirer, n. One who admires ; a lover :
ٹٹا خراں - مقنون - عاشق

Admissible, a. That may be admitted ; allow-
able : قابل منظوری یا سماعت :
واجب - جائز - میثہ - روا -
Syn.—Passable, bearable, unobjectionable.

Admissibility, n. The quality of being admissi-
ble : قابلیت منظوری یا سماعت

Admission, n. Act of letting into ; leave to
enter ; access ; acknowledgment ; confession :
—money, * دخل رسائی - گذر - منظوری - اقبال - رسید
نذرانہ - زرمداخت

Admit, v. t. To allow ; to grant entrance : اجازت
دینا
To own the truth of a
statement ; to confess ; to receive as true :
تسلیم کرنا - ماننا - اقبال کرنا - صحیح قرار دینا -
روراکھنا

Syn.—Suffer, grant, concede.

Admittance, n. Permission to enter ; entrance ;
access : اندر آنے کی اجازت - دخل - رسائی - گزر

Admix, v. t. To mingle or mix with something
else : ملانا - مرکب کرنا

Admixture, n. A number of things mixed to-
gether : آمیزش - ملوئی

Admonish, v. t. To reprove gently ; to warn ;
to advise : فہمائش کرنا - نصیحت کرنا - تنبیہ کرنا -
چٹانا

Admonition, n. Gentle reproof ; council ; advice ;
a quiet warning : فہمائش - نصیحت - ہند - تنبیہ -
رخط

Admonitory, a. Admonishing ; containing
advice : فہمائشی - تادیبی - خبردار یا متنبہ کرنے والا

Ado, n. Bustle ; difficulty ; labour ; fuss :
Much ado * جو میلا - بکھیڑا - تکلیف - دقت - محنت
ناحق کی توبہ تلا - بن مارے کی توبہ
With much—, بڑی دقت سے - خدا خدا کر کے

Adolescence, n. The prime of youth ; the
period of youth, in man, from 14 to 25 ; in
woman from 12 to 21 : جوانی - بلوغ -
کمسنی

Adolescent, a. Advancing to manhood : سیانہ -
بالغ - پٹھا

Adopt, v. t. To take as one's own what is an-
other's, as a child ; to accept ; to assume ; to
embrace ; to chose : اپنا کرنا - متبنی کرنا - ایسا لک
کرنا - گرد لینا - منظور کرنا - اختیار کرنا - لے لینا - اخذ کرنا

Adopted, a. Taken as one's own - اپنا
گرد لیا ہوا - متبنی

Adoption, n. The act of adopting ; state of
being adopted ; assumption ; the taking into
one language of words from another ; formal
acceptance ; choice : تبنیت - گرد بیٹھانا - کسی لفظ کا
دوسری زبان سے لینا - منظوری - اخذ - اقتباس

Adoptive, a. Capable of being adopted ; that
adopts or is adopted : گرد لینے والا
متبنی - اختیار کیا ہوا - اختیار کرنے والا

Adorable, a. Worthy of love and honour ;
divine ; most lovable ; estimable : قابل پرستش
لایق تعظیم و تکریم - ازحد محبت کے لایق

Adoration, n. Divine worship ; homage ; devo-
tion ; profound regard ; great love : پرستش -
پوجا - تعظیم - بھگتی - غایت درجہ کی محبت

Adore, v. t. To love intensely ; to worship :
ازحد پیار کرنا - محو ہونا - پوجنا - تعظیم و تکریم کرنا

Syn.—Supplicate, revere, venerate.

Adorer, n. One who adores ; a worshipper ; a
lover : عابد - پجاری - مقنون - فریفتہ - عاشق

Adorn, v. t. To make beautiful ; to decorate ;
to embellish : زیبائش کرنا - آراستہ کرنا - زینت دینا -
سجنا - بناؤتھناؤ کرنا - قیم ڈام کرنا

Syn.—Bedeck, grace, dress, beautify.

Ant.—Deface, disfigure, mar, spoil.

Adornment, n. Embellishment ; ornamentation ;
decoration : زیبائش - آراستگی - سنگار - سجارت

Adosculation, n. (Bot.) The inserting of one
part of a plant into another : تم لگانا - پیروند

Adrift, ad. Driven along by wind or stream ;
floating at random or without fixed aim :
اُدھر اُدھر بہتا ہوا - ڈانرا کول - ہوا و دھارا سے بہتا ہوا *

مارا مارا پھرتا - بہا بہا پھرتا - ڈانرا کول
چھوڑ دینا - نکال - To cast, set or turn * پھرتا
دینا (چاہے جدھر ہوا پانی یا قسمت لے جاوے)

Adroit, a. Dexterous ; active ; skilful : تیزدست
چالاک - پھرتلا - ہنرمند

Syn.—Clear, ingenious, expert, ready.

Adroitness, n. Dexterity ; activity : تیز دستی -
چالاکي - پھرتیلان

Adulate, n. To fawn upon ; to flatter servilely :
چاپلوسی کرنا - خوشامد کرنا - آسمان پر چڑھانا

Adulation, n. Flattery ; fawning ; praising too
highly : خوشامد - چاپلوسی - لٹو پٹو - چکنی چیز :
باتیں

Adult, n. A grown-up person ; a person of full
age : جوان - بالغ - سڈنا

Adulterate, v. t. To corrupt ; to make impure by
mixing ; to debase by admixture : آمیزش کرنا -
بگاڑنا - کھرت ملانا - ملوثی کرنا

Adulteration, n. Act of mixing with some-
thing else ; the state of being mixed with
something else : آمیزش - ملوثی - کھرت

Adulter, v. i. To commit adultery : زنا کاری کرنا -
حرام کاری کرنا

Adulterer, n. A man guilty of adultery ; a man
who uses another's wife as his own : زنا کار -
فاسق - حرام کار

Adulteress, n. A woman who commits adultery :
ناحشہ - ذانیہ - چھنال

Adulterine, n. A child born in adultery ; an
illegitimate child : ولد الزنا - نطفہ حرام

Adulterous, a. Guilty of adultery ; spurious :
زنا کار - کھوتا

Adultery, n. Violation of the marriage bed :
زنا کاری - حرام کاری

Adumbration, n. A faint sketch or representa-
tion : ہلکی سی تصویر - سایہ - پرچھائیں - پرتیمب

Ad valorem, According to the value or worth :
حسب القدر - حسب کی اکت

Advance, v. t. To bring forward ; to forward ;
to enhance ; to exalt ; to pay before
the money is legally due ; to promote ; to
lend : پیش کرنا - بڑھانا - سرفراز کرنا -
مرتبہ بڑھانا - پہاڑ بڑھانا - ترقی دینا
v. i. To proceed ; to progress ; to rise in rank :
آگے بڑھنا - ترقی پانا - مرتبہ یا عہدہ بڑھانا

—, n. Going forward ; increase ; rise in price ;
progress ; money paid before due : پیش قدمی -
اگرانی - بڑھوتری - پیشی - قیمت میں اضافہ -
In—, in front ; beforehand ; زر پیشگی

To be in—of the age, پیشگی
Advanced in
years, ہمعصر سے خیالات میں بڑھانا
* To go in—,
سن رسیدہ - عمر رسیدہ آگے بڑھانا - آگے جانا

Advancement, n. Progress ; improvement ; rise ;
ترقی - سرفرازی - پہلے ادائیگی -
payment in advance :

Advances, n. Payment before due ; money paid
beforehand to cultivators for growing certain
crops : — for disburse-
ment, * زر پیشگی - دادنی - تقوی :
* — for purchase of produce,
خرچ * — to ploughmen without interest,
زرد ادائیگی
بہات - کھاد

Advantage, n. Benefit ; profit ; superiority :
* A favourable
opportunity : * مزیدہ - حاصل - فوقیت - غلبہ
* To have
the—, * سرسبز ہونا - غالب آنا
* To take—of,
قابز یا موقع * فائدہ اٹھانا - پہل پانا
پانا

Advantageous, a. Beneficial ; profitable : مفید -
سود مند

Advent, n. A coming ; approach , the coming
of Christ : آمد - پھرنج - مسیح کی آمد

Adventitious, a. Accidental ; non-essential ;
additional ; coming from without : رتقہ قبی -
عارضی - خارجی - غیر ضروری

Adventual, a. Coming by accident : ناگہانی -
انقائیدہ - اکسماتی

Adventure, n. A risky or bold undertaking ; a
hazard ; a striking event ; an enterprise ;
سرگذشت : a remarkable incident or experience :
خطرناک - حادثہ - اتفاق - مہم - ماجرا - جان جو کھوں
Syn. — Occurrence, chance, event, undertaking.

—, v. To risk ; to venture : خطرہ میں ڈالنا -
جان پر کھیلنا - جرات یا ہمت کرنا

Adventurer, n. One who engages in hazardous
enterprises ; one who tries to rise in society
by unfair means ; a soldier of fortune, or
speculator : جاں باز - چودھا - سیاح - قسمت آزما -
دغا بازی سے سرفراز ہونے کا جویاں

Adventurous, } a. Daring ; courageous ; bold
Adventuresome, } enterprising ; ready to incur
ہمت والا - دلیر - بہادر - جانباز - اولوالعزم - سرورما
risk :

Adverb, n. (Gram.) A word qualifying a verb :
صفت فعل - ظرف

Adverbial, a. Relating to adverbs : متعلق فعل کے

Adversary, n. An antagonist ; a foe : - مخالف
دشمن - مدعی - حریف

Syn. - Enemy, opponent, rival.

Adversative, a. Expressing opposition : مظہر
اختلاف یا دشمنی

Adverse, a. In a contrary direction ; opposed
to inimical ; hostile ; unfortunate : - برعکس
— * ناموافق - اُلٹا - کربخت - مخالف - بد اندیش
پہلے ٹوٹے، circumstances، * الٹی ہوا،
طرف ٹانی، * party، * حال

Adversity, n. State in which things are against
a person ; affliction ; distress ; calamity ;
misfortune : تکلیف - مصیبت - آفت - بد بختی

Syn. - Misery, ill-fortune.

(Prov.) Adversity flatters no man, بیہوش
Adversity makes a man * کرٹی - اتھی نہیں
بیٹا سے گیان بڑے نہ دہن،
wise, not rich,

Advert, v. i. To attend to ; to heed ; to refer :
متوجہ ہونا - دھیان دینا - حوالہ دینا

Advertence, } n. Heedfulness ; consideration :
Advertency, } ترجمہ - غور - اعتنا

Advertent, a. Attentive ; heedful : متوجہ

Advertise, v. i. To announce ; to publish : خبر
دینا - مشہور کرنا

Advertisement, n. A public notice in a news-
paper or journal ; notoriety : اشتہار - شہرت

Advice, n. Counsel ; instruction ; opinion ;
suggestion ; information ; notice : نصیحت

Advices, news : * pl. **Advices, news :**
اطلاع - خبر

Advisable, a. Expedient ; proper ; prudent :
مناسب - معقول - اچھٹ

Advise, v. i. To counsel ; to consult ; to inform
of : مشورہ دینا - صلاح کرنا - نصیحت کرنا - خبر دینا
* v. i. to consider : غور کرنا

Syn. - Warn, apprise, acquaint, admonish.

Advisedly, ad. Deliberately ; intentionally ;
غور کر کے - سرچ بچار کے - -
ارادتا - دیدہ و دانستہ

Adviser, n. One who advises : - صلاح کار -
رکیل - مقتار، * مشیر - منتری

Advisory, a. Having power to advise ; contain-
ing advice : صلاح دینے کی طاقت رکھنے والا -
* ناصح - صلاح کار

Advocacy, n. The function of an advocate ; a
pleading for ; intercession ; defence : - کالت،
جوابدہی - سفارش - شفاعت - حمایت

Advocate, v. t. To defend ; to plead in favour
of ; to intercede : سفارش - حمایت کرنا -
کالت کرنا

—, n. One who pleads the cause of another ;
an intercessor or defender : شاعی - حامی -
وکیل

Advocation, n. The office of pleading ; plea :
عذر داری - کالت

Adze (adz), n. A kind of axe or hatchet :
کھڑائی - بسولا - تیشہ

Aerate (a'er-at), v. t. To put air into ; to
supply, or cause to mix with carbonic acid
or other gas : ہوا آمیز ہونا - ہوا
بھرنے - ہوا سے آمیز کرنا
* Aerated waters : آڑیا ہوا یا ولایتی پانی

Aerial (a-er'i-al), a. Belonging to the air ; inha-
biting or existing in the air ; lofty ; ethereal ;
imaginary : - ہوائی - بلندی - بے اصل - خیالی -
بادی - عالم جنات - متوازی ہوائی، * - beings،
عے وجود

Aerie, } (a'ri or e'ri), n. The nest
Eyrie, Eyry, } of any bird of prey, esp.
an eagle ; a house perched on some high or
steep place : شکاری پرندے کا گھونسلہ خصوصاً عقاب کا -
اونچھی جگہ کا مکان

Aeriferous, a. Carrying or containing air :
ہوا رسا

Aeriform, a. Resembling air ; gaseous ; unreal :
ہوا سا - بے بنیان

Aerify, v. t. To combine air with ; to change
from a solid or liquid state into air or gas :
ہوا بھرنے یا ہوا کی شکل میں کر دینا

Aerodynamics (a-er-o-di-namiks), n. The
science which treats of the motion and pro-
perties of the air : علم ہوا

Aerolite, n. A meteoric stone : آکاش -
پتھر - آسمانی پتھر

Aerology, n. The theory of the air : علم ہوا

Aerometer, n. An instrument for measuring the
weight or density of air : مقیاس ہوا

Aeronaut (a'er-o-nawt), n. A balloonist :
فبارے میں بیٹھکر اڑنے والا - سیار ہوا

Aeroplane, a. A kite-like flying machine :
پتنگ کی شکل کی ہوا میں اڑنے والی تل

Æsthetics, (es-thet'iks) n. The science which explains the perception of beauty, or the opposite, in what we see; knowledge of the beautiful, and how to express it: - اصول

خوبصورتی - سڈرتا کی پہچان

Afar, ad. At or to a great distance; remote:

ناصلہ پر - دور - پُورے

Affability, a. Civility; condescension; courtesy:

اخلاق - مزوت - خوش خاکی - حام - اطف

Affable, a. Easy of manners; courteous; condescending; mild; easy to speak:

خوش خلق - صاحب مزوت - حلیم - اہلیت سے کلام کرنے والا

Syn.—Civil, complaisant, benign.

Affair, n. Business; any small matter; a battle of minor importance; skirmish; incident:

واقعہ - ماجرا - معاملہ - بیڑھار - کام - دھندا - چوڑھی

An—of honour, a duel * نزاکت کی لڑائی

Affairs, n. pl. Transactions in general; public concerns:

امورات * **Worldly** — * ملکی یا سرکاری معاملات

Affect, v. t. To act upon; to aim at; to influence; to move the feelings; to be inclined to; to love, to make a show of; to feign:

اثر کرنا - لگنا - چہلنا - دیکھنا - اثر کرنا - سعی کرنا - نغزہ دکھانا - بہانا کرنا - مایل ہونا - اتقوت کرنا - شوق یا مصیبت دکھلانا - ظاہر داری یا بناوت کرنا

Affectation, n. False pretence; artificial show; assumed manners; airs:

ظاہر داری - بناوت - : - نمود - نغزہ - اترانا - چوچلا بازی

Syn.—Assumption, disguise, mask.

Ant.—Frankness, openness, simplicity, candour.

Affected, a. Not natural or real; pretentious:

pp. * **Touched**; influenced: - نغزے والی

Affecting, a. Pathetic; impressive; touching:

دل سوز - درد انگیز - مرثر - چہیتی

Affection, n. Attachment; kindness; sympathy; a disposition of mind; (*Med.*) a diseased or abnormal state of body or mind:

محبت - شفقت - : - اُلفت - ہمدردی - جوش - صفت لازم - مرض - بیماری

Affectionate, a. Fond; tender; loving: - شفیق عزیز - پیارا - محبت کرنے والا

Affectionately, ad. Fondly; tenderly: - پیار سے - شفقت سے

Affective, a. Exciting affection; emotional:

محبت پیدا کرنے والی - جوش دلانے والی - زود مشتعل

Affeer, v. t. To fix the market value of:

مقرر کرنا

Affiance, v. t. To betroth; to bind by promise of marriage; to give confidence to:

منگنی یا سگائی کرنا - بروسہ دینا - اعتبار دلانا

—, **n.** Faith pledged to; marriage contract;

نسبت - منگنی - سگائی - بروسہ - توکل

Affidavit, n. A deposition or written declaration on oath:

اظہار حافی - حلف نامہ

Affiliation, n. The act of receiving into a family or society as a member; (*in Law*) the assignment of an illegitimate child to its father:

کسی کو خاندان میں لپیلاک کرنا یا جواعت میں شریک کرنا - کسی والد لڑکا طفل کو اسکے باپ کے سپرد کرنا

Affiliate, v. t. To establish the paternity of; to adopt; to ally:

تصفیق ولدیت کرنا - متبئی کرنا - شامل کرنا - متعلق کرنا

Affinity, n. Relationship by marriage; connection; likeness of nature or disposition; (*in Chem.*) attraction of atoms:

رشتہ داری - مشابہت - کشش - میلان - تعاق

Syn.—Resemblance, agreement, union.

Affirm, v. t. To declare positively; to aver; to confirm:

استقلال سے کہنا - از روے ایمان کہنا - اقرار کرنا - پختگی سے اظہار کرنا - قائم یا بھال رکھنا

Syn.—Assert, declare, protest, ratify; asseverate.

Ant.—Contradict, deny, oppose.

Affirmation, n. A solemn declaration; ratification; assertion:

قول - قرار - بیان از روے ایمان - : - قلم

Affirmative, a. Confirmative; positive:

اثباتی - : - **n.** * مثبت * **Opposed to negative**: اقراری

A word expressing assent, as yes &c. : اقرار ظاہر : کرنے والے الفاظ مثلاً ہاں

Affix, v. t. To put at the end of; to fix to; to annex; to attach (to, on or upon):

بچھہ لگانا - معلق یا تھی کرنا - جوڑنا -

Affliction, n. A blowing or breathing upon : دم - پھونک
Afflatus, n. Divine inspiration ; blast of wind : الہام - کشف - رحي - ہوا کا جھونکا
Afflict, v. t. To harass ; to torment ; to trouble ; ستانا - دکھ دینا -
 to grieve ; to cause suffering : تکلیف دینا - رنجیدہ کرنا - مصیبت زدہ کرنا - بیٹا ڈالنا
Affliction, n. Adversity ; grief ; trouble ; مصیبت - رنج - تکلیف - دکھ :
 misery ; persecution : غم - بیٹا -

Syn.—Calamity, sorrow, distress, pain.

Afflicted, p. p. Harassed by disease ; or body پریشان - رنجیدہ - مصیبت زدہ :
 or mind ; suffering : تکلیف دہ -

Afflictive, a. Tormenting ; painful : دکھ دہندہ

Affluence, n. Abundance ; opulence : فراخ - آسردگی - تونگری - دولت

Syn.—Riches, wealth, profusion.

Affluent, a. Abundant ; wealthy ; flowing to : بہورا - پورا - مالا مال - دولت مند - متمول - غنی - رواں - جاری

—, n. A tributary ; a stream, or lake flowing into a river : معاون دریا - بجگندار دریا

Afflux, n. A flowing to ; an accession : بہاؤ - میلان - رجہاؤ - اجتماع

Afford, v. t. To yield ; to produce ; to be able to incur ; to be able to give : دینا - پھرنپانا - پیدا کرنا - گنجائش یا مقدر رکھنا

Syn.—Give, impart, supply, allow.

Afforest, v. t. To turn land into forest : جنگل بنا دینا

Affray, n. A quarrel ; a tumult ; a fight ; brawl : جھگڑا - ہنگامہ - لڑائی - کشت و خون - مار تگائی

Where—occurred, موقع واردات

Affright, v. t. To alarm ; to cause sudden fear to : ڈرانا :
n. Sudden terror : دھشت - ڈر - خوف

Affront, v. t. To insult ; to hurt one's feelings by want of respect ; to meet a person face to face : ذلیل کرنا - خف کرنا - اِحسان

Syn.—Illtreat, slight, provoke.
—, n. Open insult ; disgrace : کستاخی - بے عزتی
To take as an—, برا ماننا - ہتک
ہتک سمجھنا

Affusion, n. A pouring upon : بھراؤ
Afield, ad. In the field : کھیت کو یا : میدان میں

Aflame, a. and ad. Flaming ; glowing : شعلہ دار - چمکدار

Afloat, ad. Borne up by water ; moving ; float- بہتا ہوا - تیرتا ہوا :
 ing at sea ; in circulation : اُتراتا ہوا

Afoot, ad. On foot ; in motion : پاؤں پھاڑنا - پیدل چلنا ہوا

Afore, prep. Before : قبل
ad. In time past : اگلے زمانہ میں - پرانے وقتوں میں - سابق میں :
 In front of : سامنے - آگے -

Aforehand, ad. Beforehand ; before the regular time of accomplishment ; in advance : پیشتر سے - آگے سے

Aforementioned, Aforesaid, a. Mentioned or said before : سابق الذکر - مذکورہ بالا

Aforetime, ad. In time past ; formerly : زمانہ سابق میں

Afraid, a. Frightened ; filled with fear ; timid : خوف زدہ - ڈرا ہوا - سہما ہوا - بچکا ہوا - اندیشہ مند

Afresh, ad. Anew ; once more : نئے سرے سے - ازسرنو - پھر کے

Aft, a. and ad. At the back part ; near the stern of a ship : پچھلی طرف - جہاز کے پچھلی طرف کے :
Fore and— * نزدیک سرے تک

After, prep. and ad. Behind in place ; later in time ; following ; in pursuit of ; like or according to ; in search of ; in imitation of ; پچھتے - بعد کو -
 below in rank ; concerning : موافق - صورت پر - مانند - بموجب - تلاش میں - دیکھا دیکھی - ہوزا ہوزی - طرز پر - مانند - دوسرے آغوش - آخر کار :
all, at last * درجہ پر - نسبت * نوصت کے وقت hours - قصہ کوتاہ - حاصل کلام

One—another, Day * یکے بعد دیگرے - باری باری
—day, * نام سے * روز روز

Called—his name, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

—day, * ہر روز ہر روز

After-birth, *n.* The placentas ; secundines : - نال

جیل - کھیری

Aftercrop, *n.* A second crop in the same year :

دوہڑی کھیتی

Afternoon, *n.* The time from noon to evening :

farmer. a lazy ; dilatory man : * سہ پڑ
کال آدمی

Afterings, *n.* The last milk drawn in milking :

دردہ دودھنے پر جو پچھلی مقدار دودھ جاتی ہے

After-pains, *n.* Pains after delivery of a child :

اڑکا ہونے کے بعد جو درد زچہ کر ہوتا ہے

After-piece, *n.* A farce after a play :

نقل جو تمائشے کے بعد کی جاوے

After-thought, *n.* A later or more deliberate

thought : پس اندیشی - وہ خیال جو دوبارہ غور کرنے سے پیدا ہو

Afterwards, *ad.* In later time ; subsequently :

بعد ازاں - بیچھے

Again, *ad.* Another time ; once more ; besides :

* دوبارہ - ایک بار اور - اُلٹا - علاوہ - واپس :
بار بار - پھر پھر کے - سکرر مکرر :
* As much—, double : دوچند - اور - اُتھائی

Against, *prep.* Opposite to ; contrary ; facing :

خلاف - اُلٹا - سامنے -
in preparation for ; injurious :
ادب - مقابلہ میں - شغل - بیڑی - واسطے - ساتھ - پر
* Over—, opposite : سامنے

Agape, *ad.* Starting with eagerness

surprise ; gaping as with wonder :
شرق یا تعجب سے : آنکھ منہ کھولے - بھونکا - نقش دیوار

Agate, *n.* A precious stone used in jewellery :

یشب - سنگ سلیمان

Age, *n.* The duration of a man's life :

* عمر - زندگی
A definite period ; a great length of time ;
old age ; legal maturity (at 21 years) ; a
generation ; a century : جگ - بڑھاپا
* of consent, (Law). * زمانہ رضامندی
the prescribed age at which a girl can give
her consent to marriage : * با رغبت - سن تمیز
discretion, maturity : * The golden—, the best age, as the golden age
of literature : * The iron
* علمي زمانہ - The Augustun—, * کل بزرگ
The dark—, تاریکی یا جمال کا زمانہ

Aged, *a.* Advanced in age ; old ; ancient :

عمر رسیدہ - ضعیف - بدشا - سن رسیدہ - کهن حال

Agency, *n.* The duty of an agent ; instrument-

ality : کماشتہ گری - ذریعہ - رسیلہ - مقتاری - ازہت - منیم

Agent, *n.* One entrusted with the business of

another ; a deputy : نائب - کارندہ - منیم - کماشتہ
مقتار

Agenda, *n. pl.* Memoranda ; list of things to

be done or discussed : مضمون یا کاموں کی فہرست

Aggerate, *v. i.* To pile up :

ڈھیر لگانا - تودہ بنانا

Agglomerate, *v. i.* To gather into a mass :

ڈھیر کرنا - گولا بنانا

—, *v. i.* To become collected into a mass or

ball : بندھ جانا - بستہ ہونا - ڈھیم بندھنا - گولا بن جانا

Agglomeration, *n.* The formation into a mass :

a cluster : ڈھیر - گولا - ڈلا - اتر

Agglutinate, *v. t.* To cause to adhere by glue

or cement : چپکاتا - سائنا - سریش یا سیمینت سے جوڑنا

Agglutination, *n.* The act of uniting as by

glue ; adhesion of parts : لیس - چپ - چپکاو - جوڑ

Aggrandize, *v. t.* To exalt ; to increase ; to

enlarge ; to extol ; to make great : سرفراز کرنا - بڑھانا

Syn.—Augment, elevate, promote.

Aggrandizement, *n.* Exaltation ; augmenta-

tion ; enlargement : سرفرازی - بلندی - ترقی - عظمت

Aggravate, *v. t.* To make worse ; to intensify ;

to exaggerate ; to provoke ; (Met.) to make

heavy : بدتر کرنا - زیادہ کرنا - مبالغہ کرنا - بڑھانا - بھڑکانا

استعاق دینا - برفروختہ کرنا - بھاری کرنا - سنگین کرنا

(as, to aggravate a crime جرم سنگین کرنا)

Syn.—Promote, exasperate, heighten.

Aggravation, *a.* Act of making heavier ; any

thing which makes a thing worse ; provoca-

tion : زیادتی - سنگینی - اشتعال - برفروختگی - بھڑکاو

Aggregate, *n.* The sum total ; mass ; lump :

* In the—, مجموعہ - ڈھیر - تمام - کل - اٹھا - جماد

سب کا سب - کل - تمام

—, *a.* Formed of parts collected ; total :

کل قیمت - مجموعہ - value. * کل اجزا ملکر - تمام

کل تعداد - number, * قیمت

—, *v. t.* To bring together ; to accumulate ;
to bring into a whole : جمع کرنا - اکٹھا کرنا - یکجا
کرنا یا ہونا

Aggregation, n. Accumulation ; collection :
اجتماع - مجموعہ - سہرہ

Aggress, v. t. To make a first attack ; to begin
a quarrel : پہلے حملہ کرنا - جھگڑا شروع کرنا

Aggression, n. First attack ; invasion ; a
breach of the peace : ابتدائی حملہ - پیش دستی -
چڑھائی - چھیڑ - اقدام

Aggressive, a. Making the first attack ; inva-
sive ; assailant ; disposed to intrude : پیش
قدمی کرنے والا - حملہ آور - جنگ جو

Aggressor, n. One who begins a quarrel ; one
who attacks first : حملہ آور - بانی فساد

Aggrieve, v. t. To cause grief or pain to ; to
oppress : دکھ دینا - آزردہ کرنا - رنجیدہ کرنا - ستانا

Aghast, a. Struck with amazement or terror ;
stupefied with horror : ہیبت زدہ - حواس باختہ :-
* To stand—, ہکا بکا ہو نچک - ہکا بکا - سرا سیما
ہکا بکا ہو جانا - بھونچک رہ جانا

Agile, a. Active ; nimble ; brisk : چالاک - پھرتیلا -
تیز - چیل

Agility, n. Activity ; nimbleness ; briskness ;
quickness of motion : چالاکي - پھرتي - تيزي - چستي

Agistment, n. Taking cattle of others to graze
for a certain sum ; money paid for pasturing
cattle : چرائي - دوسرے کے چرانیوں کو اجرت پر چرانا

Agitate, v. t. To shake ; to debate ; to stir
violently ; to disturb ; to excite ; to ponder
on : ہلانا - جنبش دینا - مباحثہ کرنا - تقریر کرنا - کھلبلی
ڈالنا - مضطرب کرنا - جی میں اُت پات کرنا

Syn.—Move, excite, rouse, distract, discuss,
consider.

Agitated, a. Shaking ; wavy (as the sea),
stirred ; disturbed (in mind) : لہریں مارتا ہوا -
ہلکورے لیتا ہوا - بے تاب - بے قرار - مضطرب - بیابک -
بے چین

Agitation, n. Violent motion ; perturbation ;
discussion : جنبش - جھکور - کھل بلی - دھڑکن -
بے قراری - حیرانی - تکرار - بھٹ - مناظرہ

Aglow, ad. In a glow ; glowing ; very warm ;
red-hot : روشن - جلتا ہوا - بہت گرم - لال انگارہ سا

Agnate, a. Related on the father's side : - جدی
ابائی

Agnostic, n. One who holds ; that man can
have no knowledge of God or things unseen :
وہ جسکا قول یہ ہے کہ ہم خدا اور نادیدنی اشیا کے بارے
میں نہ کچھ جانتے اور نہ جان سکتے ہیں - وہ جو خدا کی
واقعیت سے منکر ہو

Ago, ad. Past ; gone ; since : گذشتہ - گذرا ہوا
* A short while—, * Long—, تھوڑا عرصہ ہوا
مدت گذری - بہت دن ہوئے - برسوں بیتے -

Agog, ad. Eager ; astir ; highly excited :
* To set—, to incite : سر گرم - پر جوش
* To be all—, * اُسکاٹا - آمادہ کرنا - شوق دلانا
مشتاق ہونا - سرگرم ہونا

Agoging, pr. p. In motion ; going on ; current :
چلتا کرنا - چلانا - * To set—, چلتا - رواں - جاری -
جاری کرنا

Agonize, v. i. To be in extreme pain ; to suffer
anguish ; to writhe : بہت تکلیف میں ہونا - درد سے
بیتاب ہونا - سخت جانفشانی کرنا

Agony, n. Violent pain ; anguish ; death
struggle ; pangs ; torment : سخت درد - جانکندنی -
عتاب

Agrarian, a. Relating to land : متعلق آراضی یا
قبضہ آراضی

Agree, v. t. To be in concord ; to concur ; to
tally ; to match ; to assent to ; to resemble ;
to be beneficial as diet or medicine : ایک دل
ہونا - موافق ہونا - متفق الراء ہونا - راضی ہونا - ملنا -
یکساں ہونا - مشابہ ہونا - فائدہ مند ہونا - گن کرنا -
* (in Gram.) ایک صیغہ یا حالت ہونا

Syn.—Assent, concur, consent, acquiesce.

Ant.—Contradict, deny, differ, disagree, refuse.

(Prov.) Agree, for the law is costly,

* آپس میں نیت لڑ نہیں تو کچھ ہی میں زبرد ہارے

دو پیشہ حاسد

ہمیشہ

Agreeable, a. Suitable ; accordant ; ready to
agree ; pleasant : موافق - مطابق - راضی - دل
خوش اطوار - manners— * پسند - خوش گوار
مزہ دار - لذیذ - * —to the taste

Agreeableness, n. The quality of being agree-
able ; affording pleasure : موافقت - سیانا پن -
خوشنودیگی

Agreeably, ad. In accordance with ; with pleasure : - بموجب - موافق - حسب - خوشی خوشی - شوق سے - رضا سے

Agreement, n. Concord ; conformity ; harmony ; bargain or contract : - موافقت - مشابہت - اتفاق - ملاپ - عہد - اقرار - شرط - قول و قرار - راضی نامہ

Agricultural, a. Relating to agriculture : زراعت کا - کھیتی باڑی کا

Agriculture, n. The art of cultivating the land ; tillage : کاشتکاری - زراعت - کھیتی
Syn.—Husbandry, farming, cultivation.

Agriculturist, n. One engaged in agriculture ; a farmer ; a husbandman : کاشتکار - کسان - مزارع

Aground, ad. On the ground ; stranded : زمین پر - زمین یا خشکی پر پھنسا یا اٹکا ہوا (as, The boat ran *aground* کشتی ٹک گئی)

Ague (a'gu), n. A fever coming in periodical fits, accompanied with shivering chilliness : تپ لرزہ - چرتی - اکتروہ - ہارپی کا بخار

Ah, interj. An exclamation expressing surprise, joy, pity, contempt, pain, &c. : آہ - اہا - واہ - اے اے افسوس - دریغ - حسرتا

Aha, interj. An exclamation expressing triumph, contempt or surprise : واہ واہ - تف - چھپ چھپ - ارہو - ارن ہوں

Ahead, adv. In or to the front ; in advance ; onward : **To go** — (as, He is *ahead* of me in English, میں مجھ سے آگے جا رہا ہوں) **To go ahead**, جازے کرتے جازے * **Go ahead**, * **Go ahead** * جازے جازے * **He can never get ahead of me**, وہ مجھ سے ہرگز سبقت نہیں لے جاسکتا

Aid, v. t. To help ; to succour ; to befriend : مدد کرنا - ہشتی کرنا - دستگیری کرنا - ساتھ دینا
Syn.—Assist, support, relief.

—, n. Help ; support ; assistance ; subsidy : مدد - سہارا - کمک - دستگیری - معاونت - اعانت - حفظ امن کے واسطے روپیہ کی مدد بادشاہ کو - خراج

Aide-de-camp, n. (ad-de-kong) (pl. Aides-de-camp). An officer who carries the orders of a general on the field and brings him intelligence : سپہ سالار کا مصاحب - نقیب

Ail, v. t. To afflict ; to trouble : دکھ دینا یا تکلیف دینا - **v. i.** To feel pain ; to be in

trouble : علیل ہونا - طبیعت ناساز ہونا - ماندہ ہونا - **What ails you** * تمہیں کیا ہے

Ailment, n. Pain ; slight illness ; disease ; indisposition : درد - آزار - بیماری - روگ - ناسازی - طبیعت - عارضہ

Aim, v. t. To direct or point towards ; to try to hit or get at ; to point a gun or other weapon ; to direct the intention or endeavour at : نشانہ باندھنا - تاک لینا - شست باندھنا - قصد کرنا - مدنظر رکھنا

—, n. Direction ; end ; intention ; purpose ; object : نشانہ - شست - مقصد - ارادہ - غرض - مدعا : **To take** —, نشانہ باندھنا * مقصد

Aimless, a. Without aim or object ; purposeless : بے مقصد - بے شست - بے مطالب

Air, n. The atmosphere ; a light breeze ; a tune ; attitude ; mien ; appearance ; publicity : ہوا - نسیم - راگ - وضع - تہنک - دھج - روش - صورت - **pl. Airs**, An affected manner ; show of pride or vanity : بناوت : **To take the** —, to take a walk : سیر کرنا یا

To build castles in the —, * **To give oneself airs**, to be arrogant in behaviour : سارو میں شیخی دکھانا - اترانا - گھمنٹ کرنا - اترنا برزہا چرچلا : - **The airs of youth in old age** : * **To live in an—of vice**, * **An—of self-esteem**, * **There was sedition in the** —, **To ventilate** ; to dry ; to publish ; to show off (as knowledge) : ہوا آنے دینا - ہوا دینا - **To—one's views**, اپنے خیالات کو مشتہر کرنا

Air-bladder, n. Any vesicle filled with air : گلیہڑا (in fishes) پوکھا

Air-gun, n. A gun in which condensed air is used to propel a ball : ہوائی بندوق

Airness, n. Openness to air ; gaiety ; lightness : کولا میدان - خوش طبعی - زندہ دلی

Airing, n. Exposure to the air or fire ; a short excursion in the open air ; ventilation : ہوا دینا - ہوا خوری - چہل قدمی - تفریح - ہوا کا آمد رفت

Air-pump, n. A machine for exhausting the air from vessels : هوا نکالنے کی کل

Air-shaft, n. A passage for air into mines : کان کے اندر ہوا آنے کا راستہ

Air-tight, a. So close or tight that air cannot get out or in : ایسا بند جسمیں ہوا نہ گذر کر سکے

Airy, a. Belonging to the air ; light as air ; open ; consisting of air ; sprightly ; well-ventilated ; unsubstantial - زندہ دل - خوش مزاج - ہوادار - ناپائیدار - بے اصل - دھمی - ہوائی - آمونہ - ہلکا - حباب سا - ہوا سے پر

Aisle (il), n. A side passage (esp. of a church) ; گرجہ میں بغلی راستہ

Ajar, ad. Partly open as a door : کچھ کھولا ہوا

Akimbo, a. With hand on hip and elbow bent outward. کولہ پر ہاتھ رکھ کھڑا

Akin, a. Allied by blood : رشتہ دار - قرابتی - سگما - ہم شکل - ملتا ہوا - یکساں - مشابہ

Alabaster, n. A species of soft white marble : مر مر سفید و نرم

Alack, interj. An exclamation expressing sorrow : ہاے ہاے - افسوس

Alacrity, n. Promptitude ; liveliness ; gaiety ; cheerfulness - مستعدی - آمادگی - بشاشت - زندہ دلی - تندرستی - خوشی - شوق - ذوق - جی جان

Alamort, a. Half-dead ; in a depressed condition ; dejected. ادھموا - گری حالت میں - پژمردہ

Alarm, n. Notice of danger ; sudden surprise with fear ; a mechanical contrivance to arouse from sleep ; a call to arms. خطرہ یا آنت کی خبر - ہلڑ - چلی پکار - اچانک خوف - دغدغہ - کھٹکا جگانے کی نل - گجور - فوج کو فوراً تیار کرنے کا حکم

Syn.—Fright, terror, consternation, dismay.

Ant.—Assurance, security, calmness.

Alarm, v. t. To cause to fear ; to rouse to a sense of danger ; to summon to arms : ڈرانا چونکانا - چوکس یا چونکا کرنا - لڑائی کے لئے ہوشیار کرنا

Alarm-bell, n. The bell that is rung at the approach of an enemy : گھنٹا جو غنیم کے آمد کے وقت بجایا جاتا ہے - خطرہ کی خبر دینے والا گھنٹا

Alarming, p. a. Terrifying : دہشت انگیز - خرنناک - ہوش ربا - خائف

Alarmist, n. One who gives an alarm needlessly ; or for insufficient reasons - وہ شخص جو بے فائدہ اور گروں کے داروں میں خوف پیدا کیا کرتا ہے

Alarum, n. An alarm clock : جگانے والی گھڑی

Alas, interj. An exclamation expressing sorrow, pity or concern : آہ - افسوس - عیاف

—the day, —the while, } ah ! unhappy day or time :
اس دن پر لعنت ہو - آگ لگے اس دن کو - وہ دن تدرے

Albeit, ad. Although ; notwithstanding ; even if : اگرچہ - باوجودیکہ

Albino, n. (pl. Albinos). A human being or animal whose skin or hair are abnormally white and the pupil of the eye of pink colour : سفید رنگ کا شخص یا حیوان

Albion, n. An ancient name of Great Britain ; گریت برٹن کا قدیم نام - انگلستان

Albugo, n. A disease in the eye : آنکھ میں سفید داغ

Album, n. A blank book for the insertion of photographs, pictures, poetical extracts, &c. ; scrap book : تصویر رکھنے یا شعر اشعار لکھنے کی کتاب

Albumen, n. A peculiar white substance found in animal and vegetable bodies ; the white of an egg : ایک سفید شے جو - ہوائی اور نباتاتی اجسام میں انثر ملتی ہے - اوندے کی سفیدی

Alchemist, n. One versed in alchemy : کیمیا داں - رساینی

Alchemy, } n. The art of trying to turn other metals into gold : علم کیمیا - رساین
Alchymy, } No—like saving, کفایت شعاری اصل کیمیا ہے

Alcohol, n. The intoxicating or poisonous element in fermented liquors ; pure spirit got by distillation : خالص شراب - شراب کی روح - شراب کا ست

Alcoholometer, n. An instrument for ascertaining the strength of spirits - خالص شراب جانچنے کا آہ

Alcoran, n. The book of the Mohammedan faith ; the Koran : قرآن شریف - کلام معبود

Alcove, n. A recess in a chamber ; an arbour : حجرہ - کونجا - ساندھیا - کنگ

Alderman, n. A city magistrate : شہر کا حاکم - قاضی - منصف

Ale, n. A fermented malt liquor ; beer : ایک قسم : کی شراب جو جڑ سے بنتی ہے - بیئر شراب - بوزہ

Alebrewer, n. One who brews ale : چوڑھی شراب : بنانے والا - بوزہ گر

Ale-house, n. A house where malt liquor is sold : بوزہ خانہ

Alembic, n. A vessel used by the chemists in distillation : بوبکا - قرنبیق

Alert, a. On one's guard ; watchful ; vigilant ; lively : کمر بستہ - آمادہ - ہوشیار - چونس - مستعد - چالاک

Syn.—Brisk, prompt, watchful, active, quick.

Ant.—Drowsy, inactive, sluggish, dull.

Alertness, n. Watchfulness ; promptitude ; liveliness : زندہ دلی - مستعدی - چالائی - چوکسی

Algebra, n. A method of calculating by symbols ; the science of number and numerical computations in which letters express quantities, and signs operation : جبر و مقابلہ - بیج گنت

Algebraic, a. Pertaining to algebra : متعلق جبر و مقابلہ

Algebraist, n. One skilled in algebra : فن جبر : مقابلہ میں کامل

Alias, ad. Otherwise : * **n.** An assumed or additional name : عرف - دوسرا نام - فرضی نام

Alibi, n. (Law) The plea of being in another place when the crime was committed : عذر عدم موجودگی یا موقع واردات

Alien, a. Different in nature ; foreign ; adverse to ; estranged - غیرو - اجنبی - پر دہیسی - اجنبی - غیرو - خلاف - شخصت ممالک غیر ساکن حال (in Law) * برگشتہ پر دہیسی - اجنبی - غیرو : * **n.** A foreigner : ممالک سرکار

Alienate, v. t. To transfer a right or title to another ; to withdraw the affections ; to misapply - انتقال جاہداد یا حق کرنا - برگشتہ کرنا - محبت ہٹا لینا - دل اٹھانا

Alienation, n. Transfer of property ; estrangement : انتقال یا فروخت جاہداد - حبہ - تبدیلی - ان بن - برگشتگی - ناموافق

Alienator, n. One who transfers a right or property : انتقال کنندہ

Alienee, n. (Law) One to whom a right or property is transferred : منتقل بہ

Aliferous, a. Having wings : بالو والا - پتھہ والا

Alight, v. i. To come down on a place, to dismount ; to descend and settle ; to fall upon : اترنا - آ بیٹھنا - نیچے آنا - آ پڑنا - گر پڑنا

Align, v. t. To regulate by a line ; to arrange in line, as troops : قطار باندھنا - صف بندی کرنا

Alignment, n. Reducing to a level or right line ; a laying out by a line ; arrangement of soldiers in a line or lines : - ہمرای - ہر ایڑی - صف - قطار - پڑا

Alike, ad. Having resemblance ; similar ; like one another : مشابہ - یکساں - ملتا ہوا - ہم شکل

Aliment, n. Nourishment ; food : - غذا - ادھار - رزق

Syn.—Nutriment, sustenance, support, fare.

Alimental, } a. Nourishing ; supplying food ;
Alimentary, } nutritive ; flesh-making ; relating to food : مقوی - پشت - انگ لگو - طاقت بخش - خوردنی

Alimentation, n. Act of nourishing : پرورش

Alimony, n. An allowance given to married woman after separation : نان نفقہ - روٹی کپڑا

Aliquot, a. Dividing exactly without a remainder : عدد متداخلہ - اپورتن - پورا تقسیم کرنے والا

Alive, a. Having life ; cheerful ; lively ; active ; sensitive ; in force : زندہ - جیتا - خوشدل - پھر تیل - دیکھتے رہنا - ہوشیار رہنا - * **To be—to** چیتن رہنا

Alkali, n. A chemical substance (as potash, soda, &c.) of a neutralizing nature : - رتھہ - سستی - کھار

All, a. Everyone of ; the whole of ; any whatever : * **ad.** Wholly ; altogether ; completely ; entirely ; only ; quite ; سراسر - سمرچا - کل - تمام پورا - ترا - * **n.** The whole number, quantity or amount ; the total ; everything : * **At—** along, * **—along,** * **بالکل - مطلق - ہرگز - ذرا بھی** پراپر - لبتار - شروع : continually ; throughout

Allotment, n. A setting apart as one's share or lot; the part or share which is given by lot: تقسیم - بٹائی - حصہ - بٹوارہ - بھڑہ

Alloverishness, n. A general sense of indisposition, over the whole body; a feeling of discomfort. عالت - ناما ازی طبیعت - بے چینی

Allow, v. t. To acknowledge; to permit; to grant; to deduct: قبول کرنا - اجازت دینا - کم کرنا * **To—time,** دم لینے دینا - مہلت یا فرصت دینا - میعاد پڑھنا

Allowable, a. That may be allowed; permissible: واجب - جائز - روا - میاہ - حلال - یوگ

Allowance, n. Permission; sanction; salary; deduction; portion; appointed: اجازت - منظوروی - مشاہرہ - تنخواہ - وظیفہ منہائی - حصہ - بہتا - خوراک - * **To make—for,** to take excusing circumstances into consideration: عذر معذرتے کا خیال کرنا

Alloy, n. A mixture of metals, esp. a baser with a more precious one; evil mixed with good: **v. t.** To reduce the purity of a metal by mixing a baser one with it; to corrupt: ملوئی کرنا - آمیزش کرنا - خراب کرنا

Allude, v. i. To refer to; to hint at; to insinuate: حوالہ دینا - کنایہ کرنا - اشارہ یا ایما کرنا
Syn.—Intimate, advert, suggest.

Allure, v. t. To tempt by a bait; to entice; to seduce: ترغیب دینا - لٹکانا - موہنا - لہانا - روغلانا
Syn.—Attract, decoy, seduce, charm.

Allurement, n. Enticement; temptation: ترغیب - لالچ - لہاؤ

Allusion, n. An indirect reference; a remark by the way. حوالہ - اشارہ - ایما - بہید

Allusive, a. Hinting at something; referring indirectly. حوالہ دینے والا - کنایت آمیز - اشارتی

Alluvial, a. Deposited by water; washed down by the water of a river: کھار - دریا پر آمد - بزار

Alluvion, n. Land gained from the sea by the washing up of sand and earth: کھار - آراضی - نوپر آمد - دریا بزار

Alluvium, n. (pl. Alluvia). Soil washed down by a river and laid on the lower grounds: دریا بزار مٹی وغیرہ

Ally, v. t. To bind to; to unite; to confederate; to connect: ربط ضبط کرنا - رشتہ یا اتحاد * **n.** One united by league; a friend; a confederate: رشتہ دار - رفیق - شریک - دوست - مددگار

Almanac, n. A yearly calendar showing days, weeks and months: تقویم - چنڈری - پتہ
Nautical —, تقویم بحری

Almighty, a. Having all power; Omnipotent, all powerful; able to do all things: قادر - **The—,** The Supreme Being; the Omnipotent God: پر میشر - الہ تعالیٰ - قادر مطلق

Almond (a'mund), n. The fruit of the almond tree; a tonsil of the throat: بادام - گلپہیز

Almoner (al'muner), n. One appointed to distribute alms: مہتمم خیرات - بندگاناری - سدا بخت والا

Almonry, n. The place where alms are given: خیرات خانہ - وہ گھر جہاں سدا بخت ہوتا ہے

Almost, ad. For the most or greater part; nearly: **It is—** * It is—new, **It is—** تقریباً - لگ بھگ - قریب - تقریباً ہے

Alms, n. Anything freely given to relieve the poor; charity: خیرات - دان - پن - بھیک - ذکات

Almsgiving n. Act of giving relief out of pity to the poor: **(Prov.) Alms-giving never made any man poor,** خیرات کرنے سے افلاس نہیں آتا

Aims-house, n. A poor-house: خیرات خانہ - دھرم خانہ - محتاج خانہ

Aloe, n. (Aloes used both in sing. and pl.) A plant which yields a medicinal gum: * اود - ادر - وود - * ایلوا - مصر - صبر - صبر - صبر - گھیکوار

Aloft, ad. On high; above; at the mast-head: بلند - اونچا - اوپر - مستول پر - آسمان میں

Alone, adv. Singly; by one's self only; exclusively: **Without another;** * آپ سے آپ - اکیلا - **single;** **solitary;** **all by oneself;** **single;** **solitary;** **all by oneself;**

ایک کرو، * Leave it— کنہا - انہی - کن تنہا
 چھوڑ دو - اسے مت، * Let it— جانے دو - دور کر دو
 چھوڑو - رہنے دو

Along, ad. Lengthwise; forward; (fol. by *with*) in company of; throughout; * لمبان
 میں - برابر - سیدھا - آگے - ساتھ ساتھ - ہموار -
 * *prop.* By the side of: بغل میں -
 چلے آؤ - * Come— * ہمپہلو - بغل میں :
 چلے جاؤ - ہٹ - * Go—, be off; چلے آؤ - آؤ
 * Going—, چلتے چلتے، * the road,
 سڑک - سڑک

Aloud, ad. Away at distance; apart from:
 * To stand or keep— جدا
 جدا یا الگ رکھنا - پھٹ رکھنا، جدا

Aloud, ad. With a great noise; loudly: -
 زور سے - باراز بلند - پکار کے

Alp, n. (pl. Alps). A high mountain (*esp.*
 applied to the lofty ranges of Switzerland):
 بلند پہاڑ

Alpenstock, n. A long stick or staff used by
 travellers in climbing the Alps: پہاڑ پر چڑھنے
 کا عسا یا چوبدستی

Alphabet, n. The letters of a language: حروف
 تہجی - برنامہ

Alphabetically, adv. In the order of an
 alphabet: بترتیب حروف تہجی - ردیف وار

Alpine, a. Relating to the Alps; very high:
 الپس پہاڑ کے متعلق - نہایت بلند

Already, ad. Before this time; now: -
 پہلے سے - ابھی - اسی وقت

Also, ad. Likewise; in addition to; as well;
 اسطرح - مع - ابھی - نیز - اور - ماسواء اسکے -
 ساتھ ہی

Altar, n. An elevated place for offerings; the
 communion table: قربان گاہ - بیٹی * To lead
 to the—, to marry: شادی کرنا

Altar-cloth, n. A cloth to lay upon an altar
 in churches: قربان گاہ کی چادر - بیٹی بستر

Alter, v. t. To change; to modify; to correct:
 * *v. t.* To vary; to change; to become different:
 بدلنا

Alteration, n. Act of altering; a variation;
 رد و بدل - تبدیل - ترمیم - کٹ کرٹ - تغیر
 و تبدل

Altercate, v. t. To dispute; to wrangle: حصص
 کرنا - تکرار کرنا - بحث کرنا - جھگڑا کرنا

Altercation, n. Dispute; debate; wrangle:
 حصص - بحث - تکرار - بحثا بحثی - کھٹا پٹی - تٹنا

Alternate, a. By turns; reciprocal; one after
 another: باری باری - آپس میں - باہم - یکے بعد دیگرے:
 * *v. t.* To cause to follow by turns or one
 after the other: باری باری کرنا - پھیر پھیر کرنا
 To happen by turns; to follow every other or
 second time: باری باری ہونا - ہیر پھیر ہونا

Alternately, adv. By turns; reciprocally:
 باری باری سے - ٹوبے بہ ٹوبے - ایک کے بعد ایک - ادل بدل کے

Alternation, n. Interchange; succession by
 turns: الٹا پلٹی - ادلا بدلا - باری سے آنا - پھیرا پھیری

Alternative, n. A choice of two things; one of
 two possible courses: دو چیزوں میں سے ایک کا
 پسند کرنا - چارہ - امر اختیار کرنا - دو فرض یا قیاس میں
 سے ایک - چاہے چاہے رہا

Syn.—Selection, preference, variety.

Although, conj. Suppose that; though; not-
 withstanding: گرکہ - اگرچہ - باوجودیکہ - ہر
 چند کہ

Altitude, n. Height; elevation; haughtiness:
 ارتقاع - عروج - (Gram.) غرور - اونچائی - بلندی

Altogether, ad. Completely; entirely; wholly;
 بالکل - سب کا سب - کلیہ - without exception:
 سرتا یا - ترا - معض - مطابق - نپت

Alto-rilievo, n. Figures projected by at least
 half their thickness from the background on
 which they are sculptured: اُپری ہوئی تصویر یا
 مزرت

Altruism, n. The principle of living and acting
 for the interest of others: اوردن کا خیال - پر
 آپکار

Alum, n. A mineral salt having an acid taste:
 پھمکری

Aluminium, n. A light, bluish-white metal:
 ایک ہلکے نیلے سفید رنگ کی دھات

Always, ad. At all times; constantly; perpe-
 tually; invariably; without ceasing: ہر وقت -
 ہمیشہ - سدا - نت - بلا ناغہ - متواتر - علی الدوام

Am, v. The first person singular of the verb
 to be: ہوں

Amain, ad. Violently; with main force or strength; at full speed; exceedingly: - بشدت زور سے - نڈھڑک - بے تہ اشا

Amalgamate, v. t. To compound; to mix; to blend; to unite: - آمیزش کرنا - ملا کرنا - شامل کرنا

Amalgamation, n. The act of mixing different things; the result of mixing: - آمیزش - ملاؤ

Syn.--Mixture, compound, combination.

Amanuensis (a-man-u-en'sis), n. A writer; a copyist; a clerk: - معزز - نقانویس

Amaranth, n. A flower that never fades; a colour nearly purple: - صدہا بہار - گل شاداب - ارغوانی رنگ

Amaranthine, a. Immortal; unfading; everlasting: - مدامی - ہمیشہ تازہ - لازوال

Amass, v. t. To accumulate; to heap up: - جمع کرنا - تھیر لگانا

Amateur (am-a-tar' or tur), n. A lover of any art, sport, game, etc., but who does not practise it for gain only; one who cultivates an art from the mere taste for it; a dilettante: - شایق - شوقین - عطائی

Amatory, a. Producing love; erotic; tender: - عشق انگیز - عاشقانہ

Amaze, v. t. To confound with tear or sudden surprise; to astonish: - متعجب کرنا - متعجب کرنا - حیرت میں ڈالنا

Syn.--Bewilder, confound, perplex, astound.

Amazement, n. Astonishment; wonder; great surprise: - تعجب - حیرت - اچنبھا - بڑی حیرانی

Amazing, a. Wonderful: - عجیب - طرہ - حیرت انگیز - غریب - ادبیت

Amazon, n. A warlike woman; a virago: - مسلح عورت جو مردانہ لباس میں ہو - اردا بیگنی - لڑانکا عورت - مردوزن صفت -

Ambassador, n. An envoy of the highest rank sent to a foreign government; a diplomatic minister of the lightest order sent by one sovereign power to another (*Fem.* Ambassador) - یلچی - سفیر - راجدوت

Amber, n. A yellowish fossil resin, used in making ornaments: - عنبر - گہرہ

Ambergris, n. A hard, opaque, resinous substance of an ash-gray colour, found floating on the sea or on the sea-coast of warm countries and in the intestines of the spermaceti whale: - مشک دانہ - عنبر

Ambidexter, a. Able to use both hands with equal ease; a double-dealer: - دو طرفہ - ریا - کار

Ambient, a. Encompassing; surrounding: - چاروں طرف گھیرنے والا - محیط - چواروں

Ambiguity, n. Ambiguity more than one meaning; doubtful or double meaning; equivocalness; uncertainty: - اشتباہ - ابہام - تذبذب - شک - دہکا - مخالفت - دو ارتہہ - رمز

Ambiguous, a. Having two meanings; doubtful; equivocal: - دو معنی - دو ارتہہ - رمز آمیز - مشکوک - مبہم - پیچیدار - مذہذب

Syn.--Uncertain, dubious, indefinite, vague, obscure.

Ambition, n. Eager desire of superiority; aspiration; covetousness: - حرص - ہوس - امنگ - بلند نظری - دہن - طمع - بلند پروازی

Ambitious, a. (Is followed by Prep. *of*) Desirous to excel; greedy: - حرص مند - عالی منش - آرزو مند - امنگی

Amble, v. t. To move as a horse at an easy pace affectedly: - درگامہ چلنا - رھارہا چلنا - رغا چلنا
n. A pace of a horse between a trot and a walk: - درگامہ چال - رھال

Ambler, n. A horse that moves at an easy pace affectedly: - درگامہ چلنے والا

Ambrosia, n. The fabled food of the gods which conferred eternal youth; and beauty to those who ate it; something delightfully sweet and pleasing: - آب حیات - امرت - سدھا

Ambrosial, a. Having the qualities of ambrosia; delicious; fragrant: - خوش ذائقہ - مزہ دار - خوشبودار

Ambrosial, a. Delicious; fragrant: - لذیذ - مزہ دار - خوشبودار

Ambulance, n. A carriage for the wounded or sick; a carriage which follows an army and serves as a movable hospital for the wounded; field hospital establishment: - زخمی اور

مریض سپاہیوں کو میدان جنگ سے اٹھانے والی گزری - میدان جنگ کے شعلہ خاند کا عملہ

Ambuscade, Ambush, n. A hiding to attack by surprise; a lying in wait; lurking : گھات گھات میں لگے - گھات کی جگہ رھنا - دائرہ گھات میں بیٹھنا

Ameliorate, v. t. To make better; to improve : بہتر کرنا - درست کرنا - سدھارنا - اصلاح کرنا

Amelioration, n. Improvement; a making or becoming better : ترقی - بہتری - اصلاح - سدھار

Amen, ad. So be it : آمین - ایسا ہی ہو - ایمر استبر - آمین اللہ

Amenable, a. Accountable; governable; tractable; submissive : جواب دہ - مطیع - اطاعت پسند

Amend, v. t. To correct; to reform; to make right : درست کرنا - صحیح کرنا - ترمیم کرنا - سدھارنا - درست ہونا - *v. i.* To become better : اصلاح ہونا

Amende honorable, A frank apology; reparation : عذر معافزات - علانیہ معافی مانگنا اور نقصان پورنا

Amendment, n. An alteration for the better; a reformation; rectification : ترمیم - اصلاح - درستگی

Syn.—Correction, improvement, reformation.

Amends, n. (pl.) Recompense; compensation; fine; penalty : مکافات - معاوضہ - جزا - بدلہ **To make—for, to compensate :** بدلہ چکانا - تازان دینا - ڈانٹ پھرتا

Amenity, n. Agreeableness; pleasantness; civility : خوبی - فرحت - نرمی - اشراف

Amensa et thoro : علاق ڈال و نفقہ - روٹی کپڑا دینے سے انکار

Amerce, v. t. To punish by a fine : جرمانہ کرنا - ڈنٹ لینا

Amercement, n. A fine; penalty inflicted : جرمانہ - ڈنٹ

Amethyst, n. A precious stone of a violet-hue colour : نیلم - لاجورد - یاقوت

**Amiability, } n. Sweetness of temper; lov-
Amiability, } bleness : خوش مزاجی - ہمدل - عزیز - لطافت - شایستگی - نیک بغٹی**

Syn.—Kindliness, sympathy, loving-kindness.

Amiable, a. Charming; worthy of love; sweet; gracious; kindly : شیریں - نیک نھاد - مزاج - من بہاڑ - سرشیل

Amiability, n. Friendliness; agreeableness; kindness : دوست نوازی - شفقت - صاحب مروتی

Amicable, a. Friendly; peaceable; صلح خراہ - ملا ملا - ملا جلا - صاحب مروت

Syn.—Cordial, friendly, hearty, sociable.

Ant.—Adverse, hostile, unfriendly.

Amicably, ad. In a friendly manner; peaceably; agreeably : دوستانہ طور پر - صلح کے ساتھ - آپس میں

Amid, Amidst, prep. In the midst or middle of; among : —the rest, باقیوں میں

Amiss, a. Ill; faulty; wrong : غیر واجب - ناقص - *ad.* In faulty manner; in a wrong sense : **To take—** سہرا - بھولکر - غلط طور سے - چوک سے - برا ماننا - ناراض ہونا - خفا ہونا

Amity, n. Friendship; good understanding; دوستی - مہربانی - اخلاص - میل - ارتباط

Ammonia, n. A strong-smelling gas used in medicine and the arts : ہوش میں لانے کی دوا

Salammoniac, n. نر - سادر

Ammunition, n. Any thing used for munition or defence; military stores as powder, balls, &c : اسباب جنگ مثلاً گولا بارود وغیرہ

Amnesty, n. A general pardon of offences against government; an oblivion : عفو - معافی : نامہ عام - جان بخشگی

Amok, See Amuck.

Among, Amongst, prep. Of the number of; **amidst :** بیچ میں - درمیان - منجمہ

Amorous, a. Inclined to love; easily inspired with love; fondly in love of : عاشق مزاج - عشق : باز - عاشقانہ - فریفتہ - شیدا - رسیدا - رنگیلا

Amorousness, n. Fondness; lovingness : عشق : نازی - تعشق

Amorphous, a. Irregular; formless : بدنما - بیقہنگا - بیقہول

Amort, a. Dull; dejected; spiritless : مست - اداس - افسردہ خاطر - مردہ سا

Amount, n. The sum total; the whole result; the effect or value: - جمع - کل - تعداد - مبلغ - بقدر - بانداز - * رقم - مقدار - حاصل - پورنچہٹا - چڑھنا

Amour, n. A love intrigue: عشق

Amphibious, a. Living both on land and water: درءصری - خشکی اور پانی میں رہنے والا - جل تھل چر

Amphibia, Amphibians, n. pl. Animals capable of living both under water and on land: آبی و ہوائی جانور - خشکی و تری دونوں میں رہنے والے جانور

Amphitheatre, n. A circular edifice having rows of seats one above another and having an open space, called the arena, in the centre; a place for shows and games: تماشے کا گول گھر - دنگل - اکھاڑا

Ample, a. With room enough; of large size; plentiful; sufficient: - بہت بڑا - وسیع - کشادہ - کافی - فراخ - بہت سا

Syn.—Full, spacious, extensive, wide, capacious.

Ant.—Insufficient, inadequate, scanty.

Amplification, n. Enlargement; exaggeration; diffusive description: طوالت - مبالغہ - بڑھانے - دستار - پھیلاؤ

Amplify, v. t. To make more copious in expression; to add to; to speak or write diffusively: بڑھانا - پھیلانا - طویل دینا - مبالغہ کرنا - طوالت سے بیان کرنا

Amplitude, n. Largeness of dimensions; ample capacity; extent: وسعت - کشادگی - سمائی - فراخی

Amplly, ad. Largely; liberally; copiously; abundantly; sufficiently: بکثرت - بفرات - بہتات سے - ریل پیل سے - مالا مال - بھر پور

Amputate, v. t. To cut off, as a limb or branch: عضو کاٹنا - قلم کرنا

Amputation, n. The operation of cutting off a limb or branch: قطع عضو - تراش - قلم

Amuck, (Malay) ad. Madly; in murderous frenzy: * دیوانہ وار - زندھا دھند - بے تماشہ - تندی سے
To run—, to rush about frantically attacking all that come in the way: دیوانہ وار دوڑنا اور جو آئے آدے اسے مارنا

Amulet, n. A jewel or ornament worn as a charm round the neck or arm to prevent sickness or other evil: تعویذ - چنتر - گنتا

Amuse, v. t. To divert; to entertain; to gratify: بہلانا - خروش کرنا - خیال سمٹانا - دل لگانا - تفریح دینا *
To delude: - دھم یا باتوں میں رکھنا - بہکانا

Syn.—Delight, please, occupy, biguile.

Ant.—Annoy, disquiet, tire.

Amusement, n. Diversion; entertainment; play; pastime: تفریح طبع - کوپیل تماشہ - دل بہلاؤ - دلگپی - شغل

Amusing, } a. Entertaining; pleasing;
Amusive, } causing fun or pleasure:
دل بہلاؤ - (things) - دلگپی 'از - نقل محاسن (person) فرحت انگیز - دلچسپ

An, The indefinite article placed before a word beginning with a vowel: حرف تنکیر جو اُن الفاظ کے قبل آتا ہے جنکے شروع میں حرف عات کی آواز ہو * ایک - کوئی One

Anacardium, n. A kind of fruit used for medicinal purposes; it is used by washermen to mark the clothes, and this serves the purpose of cloth-marking ink: بہلانوا - بہلونجی

Anachronism, n. An error in chronology; a putting of an event earlier or later than it really happened; an error in dating: تاریخ نی غلطی - اختلاف وقت

Anagram, n. The change of one word or phrase into another by the transposition of its letters, as 'live' = 'evil', 'time' = 'emit'; 'Florence Nightingale' = 'Flit on, cheering angel': حروف کی تبدیلی سے ایک لفظ یا جملہ کو دوسرا کر ڈالنا - تعریف قلب - اف رنشر

Analogical, a. Showing similarity of relations; similar: مطابق - مشابہ - ہمشکل - ملتا جلتا

Analogous, a. Having some likeness in thought; with parts or qualities that can be thought of as like those of something else: مطابق - یکساں - مشابہ - ایک صورت کا - ہمشکل

Analogue, n. A thing corresponding to another: متابہ یا ہمشکل چیز

Analogy, n. A likeness in some ways between things that are otherwise different; a resemblance of relations, as in the phrase: 'Knowledge is to the mind what light is to the eye'; 'Childhood is the dawn of manhood's day': - مشابہت - مشابہت کی بعض حالتوں کی مشابہت - مشابہت کی مشابہت - موازنت - قرینہ

Analyse, v. t. To resolve a whole into its elements; to separate into component parts: تشریح کرنا - ترکیب کرنا - تفصیل کرنا - تفریق کرنا - جز و ٹکڑے کرنا

Analysis, n. (pl. Analyses) Separation into elements; dissection; examination of constituents; (*Gram.*) the arrangement into its logical and grammatical elements of a sentence or part of a sentence: - تشریح - تفریق - تفصیل - ترکیب نصیری

Analyst, n. One skilled in analysis esp., chemical analysis: - سوردھنی - سوردھنی والا - تفریق دان - تجزیہ دان

Ananthis, a. Flowerless: بے پھول کا

Anarchy, n. Want of government in a country; political confusion; a breakdown of law and order: - بدانتظامی - غدر - ہنگامہ - بدعاطی - اندھیز - چرپٹ راج - مرہٹی گوس گوس - ہارنگ کا راج

Anarchist, (-kist) n. One who advocates anarchy; or aims at the overthrow of the civil government of his country: - غدار - مخالف بادشاہ - فاسد - بلوای - خرد مختاری کا خراباں

Anarsarca, n. A kind of dropsy: - استسقی - سرتوہ - ایک قسم کا جلندر

Anathema, n. A solemn ecclesiastical curse or denunciation involving excommunication: - لعنت - سراپ - دھکار - حقہ پانی کی بندی - کرنا کرم سے نکال جانا - پھٹکار

Anathematise, v. t. To pronounce accursed; to excommunicate: - پھٹکارنا - ذات باہر کرنا - برادری سے خارج کرنا - حقہ پانی بند کرنا

Anatomist, n. One skilled in the art of dissecting any organised body: - تشریح دان - نصاب - جراح - انگ و دیا گنی

Anatomize, v. t. To dissect; to examine

critically; to analyze: - چیرنا - کٹ کرنا - چاک کرنا - چیر پھاڑ کر کے جانچنا

Anatomy, n. The art of dissecting any organised body; the science of the structure of the body learned by dissection: - علم تشریح - جراحی - چیر پھاڑ - بدن کا علم

Ancestor, n. A forefather; one from whom a person is descended: - پرکھا - بپ دادا - بزرگ - اہلاف

**Ancestral, } a. Descending from ancestors: }
Ancestral, } مزرئی - پشتینی - جدی - بپ دادا کی - پورٹی - آبائی**

Ancestry, n. Lineage; high birth: - خاندان - حسب و نسب - پیڑھی - کل - عالی نسل - عالی خاندان

Anchor, n. An iron instrument with a hook for holding a vessel by gripping the ground; (*Met.*) any thing that gives stability or security: - ٹنگر * لنگر - جاسے پنڈا - آسرا - بوردسہ - لنگر اٹھانا - جہاز - لنگر ڈالنا * To cast—، جہاز * To come to—، بڑا لنگر * Sheet * چلاؤ کھڑا کرنا

Anchorage, n. A ground for anchoring; a harbour; a hold; ground of trust; the duty: - لنگر ڈالنے کی جگہ - بندر گاہ - بندر کا محمولہ - پنڈا گاہ - تکیہ گاہ - گوشہ

Anchore, n. A recluse; a hermit: - نشین - زاہد - سنیاپی - تارک الدنیا

Anchovy, n. A small sea-fish: - ایک قسم کی چھرتی سمندری مچھالی

Ancient, a. Old (in time); of long duration; belonging to former times; past: - پرانا - قدیم - دیرینہ - مدت کا - اگلا - پیشین - اگلے زمانے کا

n. Patriarch; an old man; one who lived long ago: پرکھا * pl. men of old; those who lived in remote times: - متقدمین - قدما - اہل کے اورگ - پرکھے

Ancipital, a. Double-faced; two-edged: - در رخا - در دھارا

Ancillary (an-sil-ar-i), a. Subordinate to; subservient: - خدمتگار - مددگار - ماتحت

And, conj. The conjunctive particle used to join words and sentences: - اور * حرف عطف - اور * وغیرہ - اسی طرح - —so forth, —so on, —that, * علیٰ ہذا القیاس

Anecdote, *n.* An incident of private life; a very short story; a biographical incident:

روایت - حکایت - قصہ - داستان - چٹکا

Anemography, *n.* A description of the wind:

بیان ہوا

Anemometer, *n.* For measuring the velocity or pressure of the wind:

مقیاس الہوا - ہوا نپ

Anent, *prep.* Concerning; about; in regard to:

نسبت - بابت

Anew, *ad.* Newly; afresh; over again:

از سر نو - نئے سے - پھر سے

Angel, *n.* A spiritual being; a messenger from God; a beautiful person:

فرشتہ - ملک

Like's visits, few and far between: گالے مٹھے کئی

The—of death, —s who question the death, The recording—s, کرامن کتابین - چنر گپت

Angelic, *a.* Belonging to or resembling angels:

ملکی - فرشتہ خو - پی پی پیکر

Anger, *n.* A strong passion; indignation; wrath; great displeasure:

غضب - غصہ - خفگی - غضب

Flushed with—, ریش - طیش - تپہا

لال ہو گیا - لال پیدا ہو گیا

Syn.—Rage, fury, vie, cholera.

—*v. t.* To make angry; to irritate:

غصہ دلانا - خفا کرنا

Angina, *n.* Inflammation of the throat:

گلیے کی - مزجن

Angle, *n.* A corner; point where two lines meet; (*Gram.*) the inclination of two straight lines which meet, but are not in the same straight line:

* زاویہ - گوشہ - کون

Acute—, زاویہ حادہ * Adjacent—, زاویہ متجاہدہ * Exterior—, زاویہ متبادلہ * Alternate—, زاویہ متضادہ * Interior—, زاویہ خارجہ

Obtuse—, *n.* A fish-hook; a fishing-rod with line and hook:

مچھلی

—of the eye, گوشہ * پہنسانے کا کانٹا - ہنسی

v. i. To fish with a rod and line:

v. t. To entice; to try to gain by some artifice:

لہانا - دل پہنسانا - ہینے بازی سے کوشش کرنا - چارہ ڈالنا - چال بچھانا

To—with a silver hook: سونے کی ڈھاری مارنا

Angler, *n.* One who fishes with a rod and line:

ہنسی باز - ہنسی کا کھلڑی

Anglican, *a.* English; belonging to the Church of England:

انگریزی - انگریزوں کے مذہب کا

Anglicize, *v. t.* To convert into English; to express in English idiom:

انگریزی بنانا - انگریزی معاصرہ میں لانا

Anglo-Indian, *n.* An Englishman born or living in India:

انگریز جسکی پیدائش یا سکونت ہندوستان میں ہو

Angour, *n.* A pain of the heart:

درد دل

Angry, *a.* Indignant; wrathful:

غضبناک - طیش میں عیش نہاں - کردہی

Anguish, *n.* Extreme pain of body or mind; agony:

سخت درد - جانکندنی - عذاب - کشت - چگر

Syn.—Agony, pang, distress, torture, torment.

Angular, *a.* Having angles; pointed; sharp and stiff; ungraceful:

گوشہ دار - کونے دار - کڑا - چبھتا - لگتا - ترش مزاج

Anhelation, *n.* Shortness of breath; difficult respiration:

دم پھولنا - تنفس - ہنپ ہنپی

Animadversion, *n.* Criticism; reproof; unfavourable remarks:

عیب نمائی - ملامت - سرزنش

Syn.—Stricture, comment, blame, remark, reproof.

Ant.—Panegyric, encomium, commendation, approval.

Animadvert, *v. i.* To make remarks on; to find fault with:

ملامت کرنا - سرزنش کرنا - عیب کھڑی کرنا

Animal, *n.* A creature endowed with life and the power of voluntary motion; any living being without reason:

* حائر - ہنر - حیوان

An irrational—, *A rational*—, *a.* of or belonging to animals; sensual:

—food, طبیعت کا جوش - من کی لہر - spirits— * گوشت - مانس

Animalcule, n. (*pl.* Animalcule, Animalcula),

An animal invisible or nearly so to the naked eye; a creature so small that it cannot be seen without a glass or microscope: بہت ہی چھوٹا کیڑا - چھوٹا کیڑا جو خورد بین ہی سے دکھائی دے

Animate, v. t. To give life to; to incite; to encourage:

جلانا - جان دلانا - ترغیب دینا - ہمت - ا. Alive: جاندار - زندہ

Animated, a. Living; lively; spirited; full of life: زندہ دل - پر جوش - گرم - چالاک - دلیر

Animation, n. Vigour; life; vivacity: زندگی - جوش - زندہ دلی

Animosity, n. Bitter hatred; active enmity; great ill-will: بغض - عداوت - دشمنی - کینہ - خصومت - لاگ

Animus, n. Intention; actuating spirit; prejudice; against: ارادہ - مزاج - خو

Aniseed, n. The aromatic seeds of a plant used for flavouring and as medicine: بادیان - سرف کی شراب, Anisetle * سرف

Ankle, n. The joint connecting the foot and leg: تھنا - گٹا

Anklet, n. An ornament worn on the ankle: پا زنج - کڑا - پائل

Anna, n. An Indian coin ($\frac{1}{16}$ of a rupee): آندہ - روپیہ کا سولہواں حصہ - ۴ پیسے

Annalist, n. A writer of annals: مورخ - واقع نگار - راوی

Annals, n. A history of events in chronological order; chronicles: تواریخ - اتماس - تھا - سالانہ سرگذشت

Anneal, v. t. To temper (glass and steel) by heat; to fix colours on glass by heating: تازہ دینا - سخت کرنا - شیشے کو رنگنے کے لئے گرم کرنا

Annex, v. t. To affix; to subjoin; to connect; to add: لگانا - جوڑنا - شامل کرنا - وصل کرنا - ملحق کرنا

Annexation, n. Act of annexing; addition; union: اتصال - جوڑ - لگاؤ - میل - الحاق

Annexed, ad. Joined; attached; connected: جوڑا ہوا - منسلک - مشعلہ - تھپی کیا ہوا

Annihilate, v. t. To destroy; to annul; to bring to nothing; to put out of being: نیست

و نابود کرنا - مٹانا - فنا کرنا - معدوم کرنا - ستیا
ناش کرنا

Annihilation, n. The state of being brought to nothing; a putting out of being: بربادی - نیستی - فنا - عدم

Anniversary, n. The annual celebration in honour of an event: سالگرہ - بڑھپی - سالانہ - Happening year after year; annual: بڑھڑپی

Annomination, n. The use of words nearly alike in sound but of different meanings; a pun: دو معنی لفظ - دو ارتھپی شبد - جگت

Anno Domini, In the year of our Lord: سن عیسوی

Anno Mundi, In the year of the world: سن پیدائش دینا

Annotate, v. t. To make remarks on by notes; to comment upon: شرح یا ٹیکا لکھنا - حاشیہ یا تفسیر چڑھانا

Annotation, n. An explanatory note; a remark; comment: تفسیر - شرح - ٹیکا

Announce, v. t. To make known; to publish; to declare: اعلان کرنا - مشہور کرنا - ظاہر کرنا - خبر دینا

Syn.—Proclaim, notify, intimate.

Ant.—Conceal, suppress, hide.

Announcement, n. Act of announcing; proclamation; declaration: اشتہار - اطلاع - اعلان - خبر

Annoy, v. t. To vex; to tease; to molest; to harm: دق کرنا - تکلیف دینا - کھجانا - دھوہ دینا

Syn.—Pester, disturb, trouble, perplex.

Ant.—Gratify, please, conciliate.

Annoyance, n. Act of annoying the state of being annoyed; that which annoys; trouble; vexation: تکلیف - دقت - ایذا - تصدیعہ - مضرت

Annual, a. Happening every year; yearly; lasting only one year: سالانہ - ہر سال - فصلی

Annual, n. A plant that lasts only one season; a literary production published once a year: ایک برس پیڑ - فصلی پودا - سالانہ رسالہ

Annually, ad. Every year; yearly; year by year: ہر سال - سال بہ سال - ہر برس

Annuitant, n. One who receives or is entitled to receive an annuity : سالانہ وظیفہ پانڈیوالا - سالانہ پینشنڈار - انگلینڈ

Annuity, n. An annual allowance; a sum of money paid every year : سالانہ وظیفہ یا مشاہرہ

Annul, v. t. To make null and void; to nullify; to repeal; to reduce to nothing or annihilate : رد کرنا - موقوف کرنا - منسوخ کرنا - اٹھا دینا - میٹنا

Annular, a. Ring-shaped round; circular : چوڑا نما - حلقہ دار - گول

Annulated, ad. Furnished with circles like rings : چٹلے دار - نکتے دار

Annulet, n. A little ring : چوڑا چوڑا - نکتہ - ککھی -

Annulment, n. The act of annulling; abolition; abrogation : منسوخی - موقوفی - تردید

Annunciate, v. t. To announce; to bring tidings of : مشہور کرنا - خبر لانا - خوشخبری دینا

Annunciation, n. Announcement : اطلاعہ - بشارت ; * The Church festival in memory of the announcement of the incarnation of Christ brought by the angel to Mary, falling on the 25th of March : مارچ مہینہ کی پچیسویں تاریخ جس روز فرشتہ نے حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خبر حضرت مریم کو دی تھی

Anodyne, adj. Soothing; assuaging pain : درد : * n. Any medicine which allays pain; a soothing medicine : درد کم کرنے والی دوا - مسکن دوا - پینز ہرٹ کم کرنے والی دوا - تسکین بخش دوا - * necklace, پھانسی

Syn. - Opiate, sedative, narcotic.

Anoint, v. t. To pour oil upon; to smear, or rub with oil; to consecrate by unction : تیل ڈالنا - چھڑنا یا ملنا - مساج سے پاک کرنا - راج تلک کرنا

Anomalism, n. A deviation from rule : بے قاعدگی - بے ضابطگی - انریٹ

Anomalous, a. Deviating from a general rule; out of order; irregular; abnormal; unusual : خلاف قاعدہ - بے قرینہ - بے ضابطہ - بے دستور - کتہنگ

Anomaly, n. Deviation from common rule; irregularity; something abnormal : بے ضابطگی - خلاف سرشتگی - انریٹ

Anon, ad. Forthwith; immediately; quickly;

at another time; thereafter; sometimes : جلدی - ابھی - اسی وقت - آنا نانا میں - فوراً - Ever and anon, * کبھی کبھی - گاہے گاہے - پھر - جب تب - پھر پھر کے - ہمیشہ

Anonymous, a. Wanting a name; nameless; without the writer's name : بے نام - گمنام - لامعوم - بندہ خدائی

Another, a. Not the same; different; one more; any one else : دوسرا - اور کوئی - غیر - پراپا - ایک اور

Answer, n. A reply; that which is said in return to a call, question, prayer, &c.; the result of an arithmetical or mathematical operation; a solution; (law) a counter-statement of facts in a course of pleadings : جواب (to a riddle) - اثر - حل - تردید - جواب دعویٰ - * جواب مرجبات - in appeal, * پل - برجہ * Evasive, * قطعی جواب - جواب شافی - definite, * تال مٹول

—, v. t. To reply to; to be opposite to; to refute; to act in satisfaction; to correspond with; to suit; to come in answer to; to be security for; to render account to or for; to suffer the consequences of; to serve : جواب دینا - مقابلہ پورا یا جواب میں ہونا - لاجواب کرنا - رد کرنا - نباہنا - انجام دینا - موافق ہونا - سن کرانا (as, I tapped on the door, and a lady answered the knock) - ضامن ہونا - حساب دینا - نتیجہ - بھگتا - کام دینا

—, v. i. To reply; to respond; to be like; to be sufficient (as, I do not want two one will answer; Money answereth all things); to be correlative; to succeed; to be accountable : جواب دینا - موافق ہونا - کافی ہونا (جیسے : "دو نہیں چاہئے ایک ہی کافی ہے) لازم ملزوم ہونا - نبھنا - مرزوں ہونا - ذمہ دار ہونا

Answerable, a. Capable of being answered; obliged to give an account; responsible; suitable; liable : قابل جواب - قابل باز پرس - جواب دہ - سزاوار - موافق - لائق - مستوجب

Ant, n. An emmet : * چیرنٹی - مزر - دیمک

Antacid, adj. Neutralizing acidity : اعلیٰ مار - دافع ترشی - کھٹائی مار

Antagonism, n. A contest; opposition; contrariety: - مبارحتہ - تکرار - متضاد - پیر - لاک - مقابلہ - اختلاف

Antagonist, n. An adversary; a foe; an opponent; a competitor; rival: - مضاد - دشمن - حریف - مقابل - متضاد - جزر

Antarctic, a. Relating to the southern pole or to the region near it: - جنوبی قطب والا - قطب جنوبی

Ante—, Anti—, (prefix.) (In comp.) Before: - آگے - پہلے - پیش - قبل

Antecedent, a. Going before, in time or place; prior; preceding: - ما قبل کا - مقدم - پیشرو - پہلے کا - پیشین

—, n. That which goes before in time or place; (*Gram.*) the word to which a relative refers; *pl.* a person's past history or conduct: - (Math.) مقدم - مقابل - موصول - توافیق گذشتہ - جملہ شرمایہ - مقدم (Logic) - پہلا انگ - رقم اول

Antecedently, adv. Previously; at a time preceding: - قبل ازیں - پیشتر سے - آگے

Ante-chamber, } n. A chamber leading to the
Ante-room, } chief apartment: - پیش دالان - ڈیرزہی - باہر کا کمرہ

Ante-date, v. t. To date beforehand; to anticipate; to date before the real time: - رقم سے پہلے - کی تاریخ لکھنا - پیشینہ کرنا - آگے کر کے تاریخ لکھنا

Ante-diluvian, a. Happening before the Flood (Noah's) * A person who lived before the Flood: - نوح کے زمانہ کا

Antelope, n. A species of deer: - چھلے دار سینک والا مرگ - ہرن - آہو - غزال - مرگ

Antelucan, a. Being before light; preceding the dawn: - روشنی نکلنے سے پیشتر - پور پھٹنے سے پہلے

Ante-meridian, a. Before noon; in the forenoon; (*A. M.*) قبل از دوپہر

Antemetic, a. Restraining or allaying vomiting: - قے روکنے والی * n. A medicine which checks vomiting: - قے روکنے والی دوا

Antemundane, a. Before the world's creation: - دنیا کی پیدائش سے پہلے

Antennae, n. pl. The feelers of an insect: - سینک جس سے کیڑے تتولتے ہیں

Antenatal, a. Existing or happening before birth: - قبل از پیدائش

Antenuptial, a. Before marriage: - شادی سے پہلے
Anterior, a. Before in time or place; former; foregoing: - مقدم - پیشین - اول - اگلا - سابق کا

Anthem, n. A divine song; a hymn of praise: - ہجمن - زہر - تعریف کا گیت

Anthology, n. A collection of beautiful passages from authors; a collection of selected poems; elegant extracts: - انتخاب نظم - گلستہ - نظم - گل دستہ اشعار

Anthropology, (an-thro-po-lo-ji), n. The science of mankind: - علم نوع انسان

Anthropometry, n. The measurement of men for identification and other purposes: - پیمائش جسم انسان

Anthropomorphism, n. The representation or conception of the Deity under a human form, or with human attributes and affections: - قادر مطلق کا شکل انسان میں آنا - جسم انسان میں روح پاک کا ہول کرنا - اوصاف انسانی کو خدا کی طرف منسوب کرنا

Anthropophagy, n. Cannibalism: - مردم خوری - آدم خوری

Anti—, (prefix.) (In comp.) Opposite to; against: - واقع - دشمن شکن - مار - ہرن - ناسک - خلاف - ضد - نفیز

Antic, a. Odd; ridiculous; old-fashioned: - عجیب - قابل ہنسی

—, n. A buffoon; a grotesque or fantastic figure; an absurd or ridiculous gesture: - چہل بل - لہلہ کردہ * *pl.* Tricks: - مستحرفہ

Antichrist, n. An opponent of Christ; the great enemy of Christ and His truth: - متضاد مسیح - دجال

Anticipate, v. t. To take or do before; another; to foresee; to expect; to preclude; to foretaste: - پیشدستی کرنا - پہلے سے سوچنا - جی ہی جی میں پہلے سے خوش ہونا یا مزہ لینا

Anticipation, n. Expectation; foretaste; realization beforehand; preconceived opinion: - پیش قدمی - تہور - خیالی مزہ

Antidote, n. A medicine that counteracts poison; remedy; preventive: - تریاتی - زہر مہرہ - ہمار - دوا - مانع

Antimony, n. A whitish, brittle metal used in medicine : سرمہ - آنتین

Antipathy, n. A natural dislike; enmity; aversion : نفرت - عداوت - دشمنی - گریز - کراہیت - چڑھا

Antipodes, n. pl. Those who live on the opposite sides of the globe and whose feet are directly opposite; (*fig.*) any thing diametrically opposite or opposed to another; a contrary : ساکنانِ تحت الارض یا رے لوگ جو کورہ زمین کے مقابل جانب رہتے ہیں - ضد - برودہ - تقیز

Antiputrefactive, Antiputrescent, a. Counteracting or preventing putrefaction; antiseptic : سزنے سے روکنے والی

Antiquary, Antiquarian, n. One devoted to the study of ancient times; one who studies or is interested in ancient matters or things; an archaeologist : زمانہ سلف کی تحقیق کرنے والا - محقق نشاناتِ زمانہ قدیم

Antiquate, v. t. To make obsolete, old or void : پے رواج کرنا - متروک کرنا - پرانا کرنا

Antiquated, p. ad. Grown old-fashioned; out of date : پرانا - متروک - غیر مستعمل

Antique, a. Ancient; of old fashion; odd : * قدیم - پوراچین - عجیب - انوکھا - نرالا - عتیق

Antiquity, n. Ancient times or their people; great age; a relic of ancient times : دستکاریِ زمانہ قدیم - زمانہ - سلف - اوایل - اگلے وقت - قدیم لوگ - متقدمین - قدامت - نشانِ ہنر سلف

Antithesis, n. pl. Antitheses (—sez.) Opposition of words; contrast; (*Rhet.*) a figure by which contraries are opposed to contraries; a contrast or opposition of words or sentiments (as, The prodigal robs his heir, the miser robs himself) : صنعتِ تضاد - معارضہ - مقابلہ - اجتماعِ ضدین - برودہ انکار

Antitoxin, n. (Med.) A fluid introduced into the blood to counteract the poison of a disease : کسی مرض کے زہر کو مارتے والی دوا جو بذریعہ ہچکاریِ خوں میں پھرنچائی جاتی ہے

Antonomasia, Antonomasy, n. (Rhet.) The use of the name of some office, dignity, profession, etc., instead of the name of a

person; (as, Mr. Chancellor, Mr. Editor or conversely the use of a proper noun instead of a common noun as, A Solomon, for a wise man) : کسی عہدہ یا پیشہ کے نام کا استعمال بجائے کسی شخص کے نام کے یا برخلاف اسکے کسی شخص کے نام کو بجائے رسم عام کے استعمال کرنا (جیسے مسٹر ایڈیٹر - ایک سلیمان بجائے عقلمند شخص کے)

Antler, n. A branch of a stag's horn : بارہ سنگے کے سینگ کی شاخ

Antonym, n. A word directly opposed to another in meaning : لغتِ اضداد

Anus, n. The inferior opening of the alimentary canal; the fundament : مقعد - کون - گدا

Anvil, n. An iron block on which metals are hammered and shaped : * نہاٹی - سندان - اہرن
It is on the—, بن رہی ہے - ہاتھ میں ہے

Anxiety, n. Pain or uneasiness of mind; solicitude; care; disquietude : اضطراب - فکر - اندیشہ - تردد - افسردگی - تشریش - چنٹا
Syn.—Concern, uneasiness, restlessness.

Ant. —Carelessness, heedlessness, inattention.

Anxious, a. Solicitous; earnestly desirous; uneasy : نکرمند - متردد - متفکر - اندیشہ ناک - بے قرار

Any, a. One out of many; an indefinite number or quantity; some of whatever kind : کوئی - کوئی سا - جونسا - جو کوئی - کسی قدر - کچھ - ہر چہ بادا باہ - جو ہر سو ہو - ہر صورت : کچھ ہی ہو

Any, ad. In any degree; to any extent; at all (any better) : کچھ - کچھ ایک - کسی قدر - ذرا

Anyhow, Anywise, ad. In any way; in any event; on any account : بہر کیف - کسی طرح - جیسے بنے - کیسے ہی - کسی نہ کسی طرح - بہر نوع

Anywhere, ad. In any place : کہیں - کسی جگہ - جہاں کہیں - کہیں نہ کہیں

Aorist, n. (Gram.) A verb of an indefinite tense in some languages : مضارع - ادیس

Aorta, n. The artery which rises immediately out of the left ventricle of the heart : رگ جان - شاہ رگ

Apace, ad. Quickly; hastily; swiftly; fast : جلدی سے - شتابی سے - ذررا - تریفت

Apanthropy, n. A love of solitude ; an aversion to the company of men : تنہائی کا شوق - انسانی صحبت سے گریز

Apart, ad. Separately ; aside ; asunder ; away : علیحدہ - ایک طرف - جدا - نیارا - ایک کڑا - دور - کنار (as, Other consideration apart, your age is a bar to appointment in this department) : خیال کرنے والی دیگر باتیں در : کنار تمہاری عمر وغیرہ

Apartment, n. A room in a house : کمرہ - کوٹھی - کوٹھا - خانہ

Apathetic, Apathetical, a. Having no feeling ; caring nothing : مرده دل - سرد مہر - بے پروا :

Apathy, n. Want of feeling ; indifference ; coldness ; unconcern ; بے پرواہی - عدم توجہی - سرد مہر - مرده دلی

Ape, n. An animal of the monkey kind having no tail ; (fig.) one who imitates servilely ; a mimic : بندر - لنگور - بھانڈ - نفال - ایس کرنے والا - ہرسیا

—, **v.** To imitate servilely ; to mimic : نقل کرنا - تقلید کرنا

Apepsy, n. A want of digestion : دوت ہاضمہ کا - رایل ہوجانا

Aperient, a. Gently purgative , laxative : n. Any laxative medicine , a purgative : دلاب - ریچک ارنکھد

Apert, a. Open ; evident : چلا - ظاہر

Aperture, n. An opening ; a hole ; a gap ; a passage , a cleft : درواخ - موکھا - چوید - چوہی - درن - سنگاف - درار

Apex, n. [pl. Apexes (a pex-ee), Apices (a pi-see)]. The top of any thing ; the highest point ; peak ; summit : رگ - سرا - چوٹی - انی - سکھ

Aphæresis, Apheresis, n. The taking of a letter or syllable from the beginning of a word ; (Surg.) amputation : لفظ کے شروع کا - حرف یا ٹکڑے میں سے گرا دینا - حذف شروع - قطع عضو - جوڑ کاٹنا

Aphonia, Aphony, n. Loss of voice ; dumbness ; voicelessness : گلا بیٹھنا - آواز نہ ہونا

Aphorism, n. A precept or principle ex-

pressed in a few words ; a brief pithy saying : مثل - مٹولہ - بچن - کہارت - syn.—Adage, proverb, maxim.

Apiary, n. The place where bees are kept ; a stand or shed for bees : مہال خانہ - مد ماکھی کا گھر

Apiculture, n. The art of managing bees in hives ; bee-keeping ; مد ماکھی پالنے کا ہنر

Apiece, ad. To each ; each by itself ; by the individual : ہر ایک کو - علیحدہ علیحدہ - ایک ایک - بی - وہاگ سے

Apish, a. Having the qualities of an ape ; inclined to imitate superiors ; affected ; foolish : بندر سا - مچھندر - میسوں حصات - احمق - حرصیا

Apocalypse, n. A revelation ; disclosure ; the last book of New Testament : المہام - مکاشفہ - آسمانی کتاب

Apocope, n. The omission of the last letter or syllable of a word as th' for the: محذوف الآخر - ترخیم - اوب

Apocopate, v. To cut off or drop the last letter or syllable of : ترخیم کرنا - لفظ کا آخری حرف یا جزر گرا دینا

Apocructic, a. (Med.) Astringent ; repelling : قابض - قبض کرنے والی

Apocrypha, n. Books of doubtful authority or credit : نامقابل اعتبار کتابیں - غیر ماہم کتابیں

Apocryphal, a. Uncertain ; of doubtful authority : مشکوک - غیر معتبر - بے سند - فیر - الہامی

Apodal, a. Having no ventral fins ; having no feet : بے گلیہڑے کا

Apologist, Apologizer n. One who makes an apology : معافی چاہنے والا - عذر خور

Apologize, Apologise, v. &. To make an excuse or apology : عذر کرنا - عذر چاہنا - عذر کرنا - معافی مانگنا

Apologue, n. A moral fable ; an allegory : نصیحت آمیز حکایت - تمثیل - حکایت - نصہ - کہانی

Apology, n. An excuse ; defence ; a poor substitute (as, That tattered cloud about his head is an apology for a turban) ; a makeshift : معافی - معذرت - عذر - تدبیر - قصور کا اقرار - اور معافی کی درخواست

Apophthegm, Apothegm, n. (Pr. a-po-then)

A short pithy and instructive saying:
ضرب المثل - کہاوت - مقولہ

Apoplexy, n. A sudden deprivation of sense and motion; a fit or stroke caused by brain disorder:
سکتہ - مرگی - سرع

Apostasy, n. A total desertion of one's faith, principles or party:
انصراف - مذہب - ترک
دین - برگشتگی - الہام

Apostate, n. One who has forsaken his faith; a pervert:
منکر دین - منحرف - برگشتہ - ملحد -
جے ایمان - جھوٹا - جے دھرم - منحرف
جے ایمان - جھوٹا - جے دھرم - منحرف

Apostatize, v. i. To abandon one's faith or party:
اپنا اصول دین یا فریق چھوڑنا - زر گردان
ہونا - ڈگنا

Apostle, n. One of the twelve disciples of Christ who were commissioned to preach the gospel one regarded as having a similar mission; one sent to preach or teach:
مسیح - رسول - ہراری - پیر یوت

Apostrophe, n. A sudden change in discourse; a sudden and direct address to a person or thing in the course of a speech; (Gram.) the sign used to mark the omission or merely as the sign of possessive case in nouns:
صنعت تھریز جسدیں مضمون کو چھوڑ کر مصنف
دفعاً کسی کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے - علامت حذف

Apothecary, n. One who prepares and sells drugs for medicine:
عطار - دوا فروش - دوا ساز

Appal, v. t. To terrify; to frighten; to dismay:
ڈرانا - خوف دلانا - ہمت توڑنا

Appalling, a. Dreadful; shocking:
دہشت انگیز - ہیبتناک - ڈرانا

Appanage, Appenage, Apanage, n. (Law.) Provision made for the maintenance of the younger children of kings, princes &c.; dependency:
شاہرا یا جاگیر بادشاہ کے نا بالغ بچوں کے واسطے

Apparatus, n. Means got ready for doing some work; a collection of instruments or tools:
لوازم - ساز و سامان - سر انجام - سامگری - آلات - ارزار

Apparel, n. Covering of the body; clothing

dress; raiment: پروشاک لباس - پیرا
dress; raiment: پروشاک لباس - پیرا
clothe; to adorn: اراستہ کرنا
ظاهر -
ردشن - اشکار - عیان - صریح - فاش - واضح - ہریدا

Apparent, a. Visible; plain; evident:
Hear—, one who is at present the heir:
رہی ہمہ - راج کٹر

Syn.—Obvious, clear, manifest, distinct.

Ant.—Inevident, obscure, invisible.

Apparition, n. Appearance; a ghost; a spectre:
صورت - شکل - ہوت - پریٹ - سایہ

Appeal, v. t. To call on one to come and help; to have recourse to; to ask that a case be taken from one court to another; to refer to a superior judge:
فریاد کرنا - مراعات کرنا - اپیل
کرنا - عدالت ادنیٰ سے عدالت اعلیٰ میں چارہ جوی کرنا
تہیاز سے چارہ جوی کرنا
To—to arms, ہتھیاز سے چارہ جوی کرنا

—, n. A call for help; recourse; a supplication; an entreaty; a reference to a higher court:
دلش - فریاد - مراعات - صدر عدالت سے چارہ جوی

Appear, v. t. To be visible; to seem; to come in the presence of a superior; to be manifest:
دکھائی دینا - معلوم ہونا - نظر آنا - حاضر ہونا -
پیش ہونا - ظاہر ہونا - اگھڑنا - نمایاں ہونا

Appearance, n. Act of coming into sight; the thing seen; external show; semblance; mien; presence; sign:
دکھانا - نموداری - ظہور -
شکل - موجودگی - حاضری - ظاہری صورت - نمائش -
حیثیت بنا تے رہنا
Syn.—Arrival, air, look, manner, mien.

Appease, v. t. To make quiet; to compose; to satisfy; to dispel, hunger, fear &c.:
خاموش کرنا - راضی کرنا - شانت کرنا - ٹھنڈا کرنا - مٹانا -
مارنا - دباننا - فرو کرنا

Appellant, n. One who appeals:
داد خواہ -
اپیلانت - مراعات کرنیوالا

Appellate, a. Relating to appeals; having cognizance of appeals:
مراعات سے نسبت رکھنے والی
والا - اپیل سننے والی (عدالت)

Appellation, n. Address; name; title:
خطاب -

Appellative, n. Name; title:
نام - لقب -
a. (Gram.) naming or marking out; denominative:
نکیرہ جاتی نام باجک - لقبی -
جنسی -

Append, v. t. To attach; to annex; to add to hang; to subjoin: - لگانا - منسلک کرنا - لگانا
ماہق کرنا - شامل کرنا - لگانا - جوڑنا

Appendage, n. Something added or annexed to: ضمیمہ - تسمہ - الحاق - پیروند - آویزہ

Appendant, a. Annexed; hanging; attached: ماہق - آویزان - منسلک

Appendix, n. (pl. Appendixes, Appendices)
A supplement or adjunct to book: to - کتبہ - ضمیمہ - ذیل

Appertain, v. t. To belong to; to relate: ملحقہ رکھنا - متعلق ہونا - سنبندہ رکھنا

Appertaining, p. a. Proper: مناسب - واجب

Appetible, a. Desirable, engaging: دلخواہ - دلہیز

Appetite, Appetence, Appetency, n. Natural desire; inclination; tendency; hunger: خوراک - رغبت - رجحان - اشتیاق - بھوک - گرسنگی - اشتہا

Syn.—Craving, longing, desire.

Applaud, v. t. To praise highly; to commend; to extol; to show approval of (esp. by clapping the hands): تعریف کرنا - تحسین کرنا - تابی
بیجا - راہِ راہ کرنا - سراہنا - آفریں کرنا

Syn.—Praise, extol, commend, magnify.

Ant.—Deride, denunciate, scorn.

Applause, n. Loud praise; acclamation; shouts of praise; cheers; commendation: تحسین - تعریف - راہِ راہ - آفریں - ستائش - مرحبہ

Apple, n. A tree and its fruit; the pupil of the eye; something esp. dear: سیب - آئینہ
کی پتلی - مردمک چشم - آنکھوں کا تارہ - کلیجہ کا لڑائی کا گھر - جھگڑے کی - * of discord
دلچسپی - * of love, love - * جز - * یس کی گانٹھ
* Apple-pie order, perfect order: بیگن - نمائند
* In apple-pie order: درست - اچھا انتظام - تربیت
* سجا سجا یا - ٹھیک ٹھاک

Appliance, n. Act of applying; thing applied; means or instrument; a device; a remedy; apparatus: تجویز - سامان

Applicability, Applicableness, n. Suitability: مطابقت - مناسبت - لگنا

Applicable, a. Suitable; fit; relevant: to the point: مناسب - مطابق - موزوں - جو لگ سکے - ٹھیک

Applicant, n. One who applies; a petitioner; a candidate: درخواست - کنندہ - عرضی دینے والا

Application, n. Act of applying; laying on of medicine; practical lesson or moral of fables, &c. (as, You know the fable of "King Log" what is the application); petition; close devotion or attention; sense: لگنا - لگاؤ - دروا لگانا (تیل - مرہم - زمانہ) نصیحت - استعمال - درخواست - عرضی - توجہ - مشغولیت - مرقع

Apply, v. t. To lay or place; to use or employ; to use as fitting or relative; to give the mind to; to apply oneself in earnest: رکھنا - استعمال کرنا - عاید کرنا - لگانا - منسوب کرنا - دل لگانا یا دینا - سرگرمی سے کام کرنا - کمر پاندھنا

Apply, v. i. To suit; to agree; to make request; to attend closely: * درست کرنا
* To have recourse to (with a view to gain something): ٹھیک ہونا - لگنا - ماننا - ٹھیک آنا - شایاں
ہونا - درخواست کرنا - چاہنا یا مانگنا - دھیان دینا
Appoint, v. t. To establish; to give place to; to put into an office; to fit out; to equip: نسب کرنا - مقرر کرنا - تعینات کرنا - جگہ دینا - تیار کرنا - آراستہ کرنا

Appointment, n. Act of appointing; settlement; designation to office; an office held; stipulation; engagement for meeting (with); تقریبی - ماننے کا
* (pl.) decoration; equipments: وعدہ - قول قرار - حکم - عہد - آراستگی - ساز و سامان

Apportion, v. t. To divide in just shares; to allot; to distribute; to assign: تقسیم کرنا - حصہ کرنا - بانٹنا - مخصص کرنا - ٹھہرانا

Apportionment, n. A dividing into parts: تقسیم - بانٹنا

Apposition, n. Addition; a setting to; accretion; juxtaposition: زیادتی - اضافہ - نزدیکی
(Gram.) دو اسموں کا ایک حالت میں ہونا

Apposite, a. Suitable; fit; very applicable; موزوں - مرقع کا - برمحل - ٹھیک

Appraise, v. t. To estimate the value of; to set a price upon: تشخیص کرنا - مول لگانا - اڈکنا - قیمت ٹھہرانا - نرخ ٹھہرانا

Appraisal, n. Act of appraising ; valuation ; estimation of worth : - تشخیص - تشخیص - اندازہ - انک

Appraiser, n. A professional valuer : - جانچریا - انکریا - نرخی - دلال

Appreciable, a. Perceptible ; capable of being valued ; considerable : - معاموم ہونے کے قابل - قابل قدر

Appreciate, v. t. To esteem highly ; to value : قدر دانی کرنا - چاہنا - گن پہچاننا

Appreciation, n. Correct estimation ; valuation ; rise : قدر دانی - گرائی

Apprehend, v. t. To arrest : to seize : گرفتار کرنا
* To understand ; to imagine ; to conceive ; to be in fear of a future evil : سمجھنا لینا - خیال میں لانا - خوف کھانا - دغدغہ رکھنا - اندیشہ کرنا

Apprehension, n. Arrest ; seizure : گرفتاری
* Fear ; distrust : * دغدغہ - اندیشہ - خوف
(as, He is a man of dull apprehension : وہ آدمی کا (عام فہم) ; Vulgar apprehension : (غبی) آدمی ہے)

Apprehensive, a. (prep. of) Anticipative of evil ; suspicious , fearful : خائف - اندیشہ مند

Apprentice, n. One bound to another to learn a trade or art ; a candidate ; a learner ; a novice : شاگرد - نو آموز - امیدوار - کام سیکھنے والا

Apprenticeship, n. The time an apprentice serves : زمانہ شاگردی - شاگرد عام

Apprise, v. t. To give notice (of) ; to inform : واقف کرنا - خبر دینا - اطلاع دینا - جتاننا - چتاننا

Approach, v. t. To come or go near in time or place ; to advance nearer ; to bring near ; to come or draw near to ; (fig.) to come near or resemble : نزدیک آنا - قریب پہنچنا
آپروچنچنا - نگھنچانا - آیا جا لگنا - پہنچنا

Approach, n. The act of drawing near ; a coming or advancing near ; access ; a passage ; (pl.) trenches ; advances : نزدیک - آمد - رسائی - گذر - پہنچ - راستہ - مورچہ - رسوخ پیدا کرنے کے ہیلے

Approbation, n. Commendation ; approval ; sanction : منظوری - پسندیدگی - قبول - خاطر پذیرگی
Syn.—Consent, liking, concurrence.

Appropriate, v. t. To take as one's own ; to set apart for or assign to ; (Law) to alienate a benefice : اپنا کرنا - اپنانا - لے لینا - اپنی قبضہ میں لانا - اپنے تصرف میں لانا - مخصص کرنا - علیحدہ کرنا - نکال رکھنا - وقف کرنا - خدا کے نام * یا اللہ کی راہ میں دینا - سٹلپ کرنا - دھرم میں لگانا
— in account, حساب میں لگانا - محسوب کرنا
— wrongly, ہتیا لینا - دبا لینا - ناجائز طور پر قبضہ کرنا - غبن کرنا - خورد برد کرنا

—, a. (prep. to, for) Fit ; suitable ; set apart for a particular purpose : لائق - واجب - مخصص

Appropriateness, n. Suitableness ; fitness : مناسبت - موافقت

Appropriation, n. Application to a particular use ; anything set apart : تصرف - تخصیص - وقف - دھرمارتھ

Approval, (proof'.) n. Approbation ; commendation : پسندیدگی - منظوری - مقبولی - خوشنودی

Approve, (proof'.) v. t. (Prep. of) To like ; to think or speak well of ; to be pleased with ; to commend ; to sanction officially ; to prove to be ; to sanction : پسند کرنا - تعریف کرنا - قبول کرنا - منظور کرنا - ثابت کرنا - تصدیق کرنا - ماننا

Approvable, a. Capable of being approved ; meritorious : منظوری کے لائق - قابل

Approver, n. One who confesses a crime and accuses another : مجرم اقراری

Approximate, a. Coming near to ; lying very close to ; nearly equal or correct : نزدیک - قریب - برابر یا صحیح - عنقریب

—, v. t. To approach (especially said of amount ; state or degree) ; esp. to draw near to : نزدیک جانا - پہنچنا - قریب قریب ہونا
* v. t. To make nearly equal : قریب پہنچانا

Approximation, n. Act of coming near ; an approach ; figures nearly but not correct : نزدیک - تقریب - تقرب

Appulse, n. A striking against ; a touching ; a sudden contact : ٹکر - لہر کر - ملاؤ

Appurtenance, n. An adjunct ; an appendage : متعلقہ شے - ارازم

Apricot, n. A stone fruit : خربازہ - زرد آلو

April, n. The fourth month of the year : انگریزی : چوتھا مہینہ - چیت بیساکھ

Apron, n. A covering for the front part of the body; an article of clothing worn in front to protect the clothes from dust or injury : کپڑا جو پیشانی کو صاف رکھنے کے لئے کام کرتے ہیں۔
کردہنی، string— * وقت سامنے پہننا جاتا ہے۔ تھک بند
Apropos (ap-ro-po), Opportune; seasonable; to the purpose; fitting the occasion; by the way : ہر موقع پر - مناسب حال - مناسبی
انوسار

Apt, a. Fit; liable; inclined; liable; having a tendency; quick to learn; ready; prompt : معقول - مناسب - لائق - مایل - راجب - ہونے والا - تیز
ختم - آمادہ - مستعد - مرغوب - اولین
Syn.—Meet, disposed, qualified, quick, ready, inclined.

Aptitude, Aptness, n. Fitness; tendency; readiness; readiness in learning; docility; قابلیت - رغبت - مستعدی - تربیت پذیری - استعداد

Aptly, ad. In a suitable manner; pertinently; readily; cleverly : معقول طور سے - سلیقہ سے - مستعدی سے - ہوشیاری سے

Aqua fortis, n. Nitric acid : شہرہ کا تیزاب

Aquarius, n. The water-bearer; a sign in the zodiac which the sun enters about the 21st of Jan. : برج دلو - کھوپڑہ راس

Aquatic, a. Living or growing in water : آبی - دریائی - دلچہر

Aquatic, n. A plant which grows in water; pl. Sports or exercises practised on or in water as rowing, swimming : آبی پودا - جل - پورا - پانی کے کھیل مثلاً تیرنا - کھینا وغیرہ

Aqueduct, (ak'we-duk.) n. An artificial channel for water : زالی - موزی

Aqueous, a. Watery : * مرطوب - آبی - humour, آنکھ کی مرطوبت

Aquiline, a. Resembling an eagle's beak (nose); hooked : تیزھا - انکڑی دار - عقاب کی چونچ سا

Arab, n. A native of Arabia : عرب کا باشندہ - Street Arabs, neglected or homeless boys or girls : لادار لڑکے

Arabesque, a. In the manner of Arabian

architecture : عرب کی معماری کے موافق - نقشیدار - بیل برتنے دار

Arabic, n. The language of the Arabians : اہل ببول کا گوند - عرب کی زبان - عربی

Arable, n. Fit for ploughing or tillage : قابل زراعت - جوڑنے لائق - کھیتی یوک

Arbiter, Arbitrator, n. A person appointed or chosen by parties in controversy to decide their differences; an umpire; a judge : ٹالک - منصف - پنچ

Arbitrament, n. Award; decision determination; settlement : فیصلہ ٹالک - فیصلہ پنچ

Arbitrarily, ad. In an arbitrary manner; absolutely; tyrannically; capriciously : زبردستی سے - جبراً - سینہ زوری سے - خوددستی سے

Arbitrary, a. Despotic; not bound by rules; absolute; capricious : خود مختار - بے اعدہ - زبردستی کا - بے وجہ - دایر و سایر - ظالم * خود مختار سلطنت - سلطنت - مطلق الامتاع

Arbitrate, v. t. To hear and decide, as arbitrators : ٹالٹی کرنا - پنچاپیت کرنا - انصاف کرنا - چکانا

Syn.—Tyrannical, imperious, unjust.

Ant.—Compliant, docile, meek, submissive.

Arbitration, n. Act of arbitrating; decision between two parties by someone whom they have chosen : فیصلہ - پنچاپیت - ٹالٹی - ٹبٹیرا - فیصلہ - بیچ بچاؤ

Arbitress, Arbitratrix, n. A female arbiter, پنچ (عورت)

Arborial, Arboreous, a. Relating to trees; like a tree. living on trees : درختوں کے متعلق - پتوں پر رہنے والا - شجری

Arbor, n. (Mech.) On axis or spindle : دھڑا - دھری

Arboriculture, n. The cultivation of trees and shrubs : درخت و جھاڑی کی کاشت - پتوں لگانا

Arbour, n. A bower; a seat in the open air shaded by intertwining branches and climbing plants : تنج - مشجر - منقہ - مانندھا

Arc, n. Part of the circumference of a circle : قطعہ دائرہ - قوس - چکر نکر - کمان - دھنک

Arcade, n. A series of arches; an arched passage: محتر ایدار راستہ - سلسلہ معرّاب - کمانچہ

Arcanum, (pl. Arcana.) A secret; a mystery: راز - ہیڈ - پوشیدہ بات

Arch, n. Part of a circle; a carved row of wedgeshaped stones covering an opening or supporting a wall kept from falling by their pressure against each other; a vault: قطعہ دائرہ - قدامت - معرّاب - گنبد - گنبت

—, **a.** (Principally used in composition as the first part of many words, as *archbishop* &c.) (1) Chief; of the first class or rank. اول - سردار - سرگزردہ - پر فہم - شرح

Archæology, n. The science of antiquities; knowledge of ancient things, as arts, customs, &c. قدیم چیزوں کا علم - زمانہ سلف کی دستکاری و عمارت وغیرہ تواریخی باتوں کا علم

Archaic, a. Ancient; obsolete: قدیم - پرانا - متروک الاستعمال

Archaism, n. An antiquated phrase; a word no longer used in a certain sense: پرانا معادرتہ - معنی متروک الاستعمال

Archangel, n. An angel of the highest order in the celestial heirarchy: فرشتہ مقرب - ملک الموت

Archbishop, n. A chief bishop: بڑا پادری - لٹ پادری

Archdeacon, n. A bishop's deputy: بڑے پادری کا نائب

Arch-duke, n. A grand duke (*esp.*) in the Austrian royal family: امیر اعظم

Arch-enemy, n. A chief enemy; Satan: خاص دشمن - شیطان

Archer, n. One who is skilled in the use of bow and arrow; a Bowman: تیر انداز - دھنش دھاری

Archery, n. The art of shooting with bows and arrows: تیر اندازی

Archetype, (—ke-tip), n. The original pattern: اصل نمونہ

Archipelago, n. A sea abounding in small islands; a group of isles: مجموعہ الجزائر - گاپورنی کا جھنڈ

Architect, n. A professor of the art of building; a master-builder; a contriver: - معمار راج - موجود - کاریگر

Architectural, a. Relating to the art of building: فن عمارت کے متعلق

Architecture, n. The art or science of building; structure: - فن عمارت - معماری - علم تعمیر - ساخت - قول

Architrave, n. That part of an entablature which rests on the column: چھت اور کھنڈے کے درمیان کی عمارت - مرغول ککر

Archives, n. pl. Repository of government records; ancient records: سرکاری کاغذات کا دفتر - پرانے کاغذات

Archivist, n. The keeper of records: محافظ دفتر

Archivilain, n. A thorough rascal: پکا شہدا

Archway, n. A passage under an arch: راستہ جو معرّاب کے اگتاز سے ہو

Arctic, a. Northern; surrounding or lying near the north pole: شمالی - اتر - بارید

Ardency, n. Eagerness; zeal; warmth; ardour: اشتیاق - سرگرمی

Ardent, a. Hot; vehement; passionate; fervent: * گرم - تند - پر جوش - دلسوز - سرگرم - کمال - desire, کمال آرزو

Syn.—Burning, intense, eager, keen, vivid, zealous.

Ant.—Cool, indifferent, listless, calm.

Ardour, n. Heat; warmth of passion; eagerness: گرمی - جوش - گرم جوشی - شوق - سرگرمی

Arduous, a. Difficult; hard (task or employment); laborious: مشکل - دشوار - سخت - مصعب - طلب

Syn.—Trying, painful, wearisome.

Are, (The present tense plural of the verb to be.) ہیں - ہوں

Area, n. Any plane surface; a court; the superficial contents of any space; a surface, as given in square inches, feet, yards, &c.: سطح - سطحن - رقبہ - عرض و مارل - گنچایش

Areca-nut, n. Betel-nut: بھاری - پھالیا - قلی

Arena, n. An open space for public contest; or shows (*esp.* as in the Roman amphitheatre)

- any sphere of action; battlefield: - اکھارا - میدان - دنکل - تماشہ گاہ
- Arenaceous, a.** Consisting of sand: - خاک آلودہ - ریٹ مالا ہوا
- Argent, a.** Silvery; bright like silver: - تقری - درپہلی - درخشاں
- Argentiferous, ad.** Containing silver: - جسمیں - چاندی ہوا
- Argil (ar'-jil), n.** Clay or potter's earth: - چکنی - یا کھار کی مٹی
- Argue, v. t.** To reason; to dispute; to discuss; to prove; to persuade by reasons: - حجت کرنا (Not to know him *argues* yourself unknown: - تمہارا اسکو نہ جاننا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ (دنیا میں Do not try to *argue* me out of my faith: - مجھکو دین سے بے دین کرنے کی کوشش نہ کیجئے) *
مناظرہ - بحث - دلیل - خلاصہ - تقریب
- Argument, n.** A process of reasoning; debate; discussion; summary: -
- Argumentation, n.** Reasoning; discussion: - دلیل - مباحثہ - مناظرہ
- Argumentative, a.** Containing argument; controversial; given to discussion: - مدال - بحثی - با دلیل - مباحثہ پسند
- Arid, a.** Dry; parched up with heat: - سڑکا - خشک - سڑختہ
- Aridity, Aridity, n.** Dryness; want of moisture: - خشکی - سڑکا پن
- Aries, n.** The ram; the first of the twelve signs in the zodiac: - برج حمل - میکہ - راس
- Aright, ad.** In a right way or form; properly; correctly: - صحیح سے - درست سے - صحیح صحیح - واجب یا مناسب طور سے
- Arise, v. t.** To mount upward (as, from bed); to ascend; to get up; to come into view; to originate; to start into action: - بلند ہونا - چڑھنا - اُٹھنا - جاگنا - ظاہر ہونا - نمودار ہونا - نکالنا - شروع ہونا - طلوع ہونا - مچنا
- Aristocracy, n.** Government by the nobles; nobility: - حکومت امرا - امرا
- Aristocrat, n.** A noble; one who favours the

- aristocracy; a haughty person: - امیر - حکومت امرا کا طرفدار - مغرور آدمی - مدمخ شخص
- Aristocratic, a.** Partaking of aristocracy; belonging to the higher ranks; fit for or like the nobility: - امیرانہ
- Arithmetic, n.** The science of numbers on the art of computation by figures or numerals: - علم حساب - علم ہندسہ - گنت و دیا
- Arithmetician, n.** One skilled in arithmetic: - محاسب - حساب دان
- Ark, n.** A small chest or coffer; (*Script.*); the repository of the covenant or tables of the law, over which was placed the golden covering or mercy-seat; the large floating vessel in which Noah and his family were preserved during the Deluge; hence, a place of safety and shelter: - صندوق - عہد کا صندوق - حضرت نوح کی کشتی - جائے پناہ
- Arm, n.** The limb between the shoulder and the hand; a bough; an inlet of water; (*fig.*) power; strength: - بازو - شاخ - کھاری - ٹہنی - زور
- At arm's length, n.** * آرام کرسی - * طانت ہاتھ پورے کے فاصلہ پر - ایک - چار قدم پورے
- Arm, n.** A weapon; a branch of the military service; (*pl. Arms*) weapons; warfare; armour; the military profession: - ہتھیار - آلات - ہتھیار - جنگ - کارہائے جنگ - سپاہ گری - نشان - ہتھیار بند - آمادہ جنگ - **Coat-of—, a complete set of arms for one soldier: ہتھیار** * **A stand of—, a complete set of arms for one soldier: ہتھیار** * **To—, a summons to fight: لڑائی کی پکار** * **To lay down—, to surrender: مطیع ہونا** * **Up in—, in readiness for fighting: لڑنے کو تیار**
- , v. t.** To furnish with arms; to fortify: **v. i.** * **ہتھیار باندھنا** - مستحکم کرنا - بچاؤ کرنا مسلم ہونا - ہتھیار اُٹھانا
- Armament, n.** A force equipped for war; munitions of war: - فوج آراستہ - آلات جنگی و سامان جنگ
- Armed, ad.** Furnished with arms: - ہتھیار بند - **to the teeth, ایسا** - ہتھیار بند ہو کر - پانچوں ہتھیار لگاے

Armenian Bole, n. ماطانی مٹی

Armistice, n. A truce; a temporary cessation of arms: مہلت جنگ - تڑائی کا چند روز بند رہنا

Armlet, n. A small arm, as of the sea; a bracelet: سمندر کی شاخ - بازو بند - بانگ - جوشن

Armorial, a. Belonging to the insignia of a noble family: علامات خاندان کے متعلق

Armour, n. Defensive arms; any covering worn to protect the body in battle: زره بکتر -

—er, * زره بردار —bearers, * جوہلم - چار ایندہ
a maker or repairer or caretaker: حربہ ساز
ذره ساز

Armoury, n. A place for keeping arms: سلاح خانہ - ہتھیار رکھنے کا گھر - دستر شاہ

Armpit, n. The hollow under the arm: بغل - کانچھ

Army, n. A body of troops; a host: فوج - لشکر - غنیم - سیمنا - اژدہام

Aroma, n. An agreeable odour; fragrance: خوشبو - مہک - رس - ادب - اطف
(fig.) delicate intellectual quality; flavour:

Aromatic, a. Odoriferous; sweet scented fragrant: خوشبودار - مہکنیوالا - معتبر - سنگدھت

Around, ad. In a circle; on every side: گردا - گرد - ہر طرف

—, prep. On all sides of; about; encircling; encompassing: ارد گرد - چو گرد - سب طرف

Arouse, v. t. To wake from sleep; to excite; to stir; to awaken: بیدار کرنا - جگانا - بیدگانا - اٹھانا

Arquebuse, n. A hand gun: دستی بندوق - تورت - دار بندوق

Arrack, n. A spirit obtained from rice or the cocoanut tree: عرق تازی - شراب - مد

Arraign, v. t. To summon before a court of justice; to accuse: ماخوذ کرنا - الزام لگانا - مجرم - تہرانہ - نالاش کرنا

Syn.—Impeach, charge, censure, indict.

Arraignment, n. Act of arraignment; accusation: نالاش - الزام - دعوی

Arrange, v. t. To put in proper order; to adjust; to classify; to settle beforehand; to prepare: ترتیب دینا - سجانا - درست سے رکھنا - سنوارنا - جنسوار تقسیم کرنا - پیشتر سے تیار کرنا - قرار دینا

—, v. i. To make or come to terms; to come to a settlement or agreement: کہہ سن لینا - انتظام کر چورزنا - ٹھیک کر لینا

Arrangement, n. Putting in order; preparation; settlement: ترتیب - انتظام - بندوبست - تصفیہ - تیاری - احتتام - نظم و نسق

Arrant, a. Very bad; notorious; vagrant; downright; out and out: بہت ہی بد - بد نام - رسوا - آزار - ہزرا - کامل - پکا - ٹپت - چھٹنا ہوا

Array, v. t. To put in order, place or dispose (as troops for battle); to marshal; to attire: ترتیب کرنا - صف آرائی کرنا - پوشاک پہنانا - آراستہ کرنا

—, n. Order, (esp. of battle); raiment; dress: صف بندی - پوشاک - لباس

Arrears, n. pl. That which remains unpaid or undone when the due time is past: بقایا - بقایا —of revenue, * باقیات - باقی حساب یا کام —of rent, * بقایا لگان, * مالگداری باقی رہنا

Arrest, v. t. To stop; to apprehend to seize by authority of law: روکنا - رکھنا - گرفتار کرنا
—, n. Seizure under a legal process; hindrance: گرفتاری - روک

Arrival, n. A coming or reaching to a place; act of arriving; attainment; the person or thing which arrives: آمد - پہنچ - تشریف آوری - حصولیت - آگمن - وورد

Arrive, v. t. To come to a place; to reach; to get to a destination; to attain to a certain result or state: آنا - پہنچنا - وارد ہونا - رونق افروز ہونا - آجانا - حاصل کرنا

Arrogance, n. Haughtiness; unbearable pride; pride with contempt of others; insolence: تکبر - غرور - گھومت - گستاخی - دماغ - مزاج

Syn.—Assumption, conceit, disdain.

Ant.—Modesty, meekness, lowliness, submissiveness.

Arrogant, a. Haughty; presumptuous; overbearing; proud and assuming: متکبر - مغرور - گستاخ - مدمنگاری

Arrogate, v. t. To claim or demand unduly, or presumptuously; to boast: دعوی باطل کرنا - شیخی مارنا - غرور میں آبر اختیار بیجا ہاتھ میں لینا

Arrow, n. A pointed weapon shot from a

- bow ; a shaft : تیر - بان - سر - کھدنگ : فاصلہ
the distance traversed by an arrows : چٹنی دور تیر جاوے
- Arsenal, n.** A military magazine or repository :
سلاح خانہ - توپ خانہ - میگزین
- Arsenic, n.** A violent corrosive poison :
سنگھیا - سہرتال - سم الفار
- Arson, n.** Maliciously burning a house ; the
crime of wilfully burning house : آتش زنی -
آگ لگانا - گھر میں آگ لگانے کا جرم
- Art, n.** Practical knowledge ; skill ; cunning ;
dexterity ; craft ; trade : علم - فن - کاریگری -
صنعت - مہارت - چالاکي - ہنر - حکمت - پیشہ - نظرت *
- Black arts, magic ; sorcery :** جادو * **Fine
arts, music, painting, sculpture, architecture,
and poetry :** موسیقی - مصوری - بت تراشي -
نارم ر : The arts and sciences * تعمیر - شاعري
دستکاری : The mechanical arts * فنون
- Syn.—**Science, literature, contrivance, artifice,
device.
- Artful, a.** Skilful ; cunning ; crafty :
ہنرمند - چالاک - کرپي - نظرتي
- Artless, a.** Ignorant ; guileless ; simple :
سادہ - بھولا بھالا - بدھو
- Artery, n.** One of the vessels conveying blood
from the heart to all parts of the body, (2)
any main channel of communication : شریان -
رگ جان - نبض - ناري - آمد و رفت کا پڑا راستہ
- Arthritis, n.** An inflammation of the joints ;
the gout : تقرسي - گٹھیا - جھنک بائي
- Artichoke, n.** A garden plant used as food :
ہاتھی چک - ہاتھی پیچ
- Article, n.** A particular commodity or sub-
stance ; a stipulation ; a point of faith ;
doctrine or duty ; a prose contribution to a
newspaper ; a single clause or term a part
of speech : شے - چیز - شرما - خطا بنام اخبار -
مضمون - دفعہ - حرف تکبير
- , v. i. To bind under written agreement :
پابند شرایط کرنا
- Articulate, a.** Formed with joints ; jointed ;
pronounced distinctly ; expressed clearly : گڑھ
صاف - مريض - شستہ - کولا ہوا * Clear : یا جوڑ دار

- , v. i. To utter words distinctly ; to joint ;
to give clear utterance to : صاف تلفظ کرنا - اجارن
کرنا - بولنا - ادا کرنا
- Articulation, n.** Distinct utterance ; a joint :
تلفظ - جوڑ - گڑھ - مقرر
- Artifice, n.** Artful contrivance ; workman-
ship ; fraud ; device ; a use of skill to gain
an end ; a clever plan : عیاری - کاریگری - ہنر -
فریب - حیلہ - حکمت - جکت - فن - بندش
- Syn.—**Stratagem, deception, shift.
- Artificer, n.** A workman ; a contriver ; a
maker ; a mechanic or handicraftsman :
دستکار - کاریگر - صانع - موجد - باني
- Artificial, a.** Made or contrived by art or by
human skill and labour : not genuine or
natural ; feigned ; false : مصنوعی - بناوٹی - تقلي -
ساختہ - جھوٹا
- Artificiality, n.** Appearance of art : بناوٹ - ساخت
- Artillery, n.** Offensive weapons of war ;
cannon ; great guns ; ordnance ; the men and
officers that manage the guns : سامان جنگ -
توپ - توپ خانہ
- Artisan, n.** One skilled in any art or trade ;
a mechanic ; a handicraftsman : ہنر پیشہ - اہل
حرفہ - کاریگر - دستکار
- Artist, n.** One skilled in the fine arts ; a
skilful person : کاریگر - گن رالا - اہل صنعت
- Artless, a.** Contrived without skill or art ;
simple ; frank ; ignorant : سادہ - بھولا - صاف
دل - بے علم - سینہ صاف
- Syn.—**Unaffected, sincere, candid.
- Ant.—**Accomplished, refined, polished, elegant.
- Artiste, n.** (—test'), n. One who is peculiarly
skilful in almost any art, as a public
singer, an opera dancer and even a cook :
عدۃ رقص - مشائخہ یا باورچی
- Artistic, a.** Showing skill and taste : مظهر
صنعت و مزاق - پور ہنر - خوبصورت
- As, ad. & conj.** Like ; while ; for example ;
thus ; because ; since : جیسا - ویسا -
جس وقت - مثلاً - چونکہ - کیونکہ - اسطرح - بمنزلت - حسب -
چھانک — far * جب - جبکہ - چنانچہ - جیوں - سا
* — long * دربارہ - نسبت - بابت - for, — to

اور - نیز - بھي - جیسا کہ - well - * جب تک ،
 * -if ، بھي ، well ، * ہنوز - اب تک ، yet - *
 * بااستور : usual - * گویا کہ - مانر : though -
 * -it ought ، * جتنے - جسقدر ، many ، -much ،
 * -often ، * جیسا چاہئے - کہا حقہ - باید و شاید
 جب جب
Asafetida, n. A gum resin of very offensive
 smell : انگوزہ - عینک
Ascend, v. t. To mount ; to rise : بلند
 ہونا - عروج کرنا
 —, v. i. To climb : چڑھنا - اڑ پڑ جانا
Ascendant, a. Predominant ; surpassing :
 بلند - اُونچا - بڑھکر :
 n. Superiority : * افضل - اولا - ائق سے اُونچا - غالب
 عروج - فرقیت - بلندی - بزرگ
Ascendency, n. Superiority ; controlling in-
 fluence : غالبہ - فرقیت - عروج
Ascension, n. Act of ascending ; a rising ; the
 elevation of Christ to heaven : - عروج -
 * The—of a prophet : معراج
Ascent, n. The act of rising ; an eminence ;
 way of ascending ; an upward slope : چڑھار -
 اُونچا - چڑھائی - اُونچائی - چڑھنے کا ذریعہ - ٹیلہ
Ascertain, v. t. To make sure ; to find out the
 truth about ; to learn about something :
 تحقیق کرنا - دریافت کرنا - معلوم کرنا - نشیج کرنا - جانچنا
Ascertainment, n. A gaining certainty ; dis-
 covery : تحقیق - دریافت - تجسس - تشخیص
Ascetic, n. A recluse ; a hermit : زاهد -
 گوشہ نشین - ذارف الدنیا - تپسوی
 —, a. Excessively strict or rigid in devo-
 tions or mortifications ; austere : - زاهدانہ -
 عابدانہ
Ascribe, v. t. To attribute to ; to impute ; to
 assign : منسوب کرنا - لگانا - ٹھہرانا - باعث سمجھنا
Aseptic, a. Not liable to putrefaction or
 decay : در گلے سڑے نہیں
Ash, n. A common tree with hard, tough
 timber : * ایک قسم کا درخت یا اوسکی لکڑی
 —coloured, between brown and gray : خاکئی
 The quaking—, the aspen : بید مجنوں
 —Wednesday, the first day of Lent when
 ashes were sprinkled on the heads of

penitents : عیبثیوں کے روزے اور توبہ کا پہلا دن
Ashamed, a. Abashed ; confused ; feeling
 shame ; unable to look up : - شرمسار -
 شرمندہ - شرمسار - خجل - پشیمان
Ashes, n. The remains of anything burnt ;
 the remains of a dead body after burning,
 or the dead body itself : خاک - رائیہ - بھس -
 خاک میں ، Reduce to—، بھول - استھی - بوبھوت
 ملانا - جلا کے رائیہ کرنا
Ashore, ad. On the land ; on the shore ; bank
 or beach : خشکی پر - ساحل پر - کنارہ پر
Aside, ad. On or to one side ; apart ; away ;
 To set—, quash : * ایک طرف - الگ - ایک بغل -
 منسوخ کرنا - رد کرنا یا باطل کرنا
Asinine, a. Having the qualities of an ass ;
 silly : گدھے کی خاصیت کا - بیوقوف - خر صفت
Ask, v. t. To require ; to enquire ; to solicit ;
 to demand ; to request ; to question ; to
 invite : مانگنا - دریافت کرنا - درخواست کرنا - طلب
 کرنا - پونچھنا - بلانا
 Syn.—Beg, petition, solicit, crave, implore.
Askance, ad. Obliquely ; sideways ; out of
 one corner of the eye ; awry : - ترچھی نظر سے -
 لٹکھیرنے سے - سلامی - ڈھالو
Aslant, ad. Obliquely : ترچھا
Asleep, ad. In a state of sleep ; at rest : -
 خفتہ - سوتا ہوا - آرام میں - ننداسا
Aslope, ad. With a slope or descent : ڈھالو
Asp, n. A small poisonous serpent : ایک قسم
 کا چھوٹا زہر دار سانپ - انعی - کال سرب
Aspect, n. Look ; mien ; view ; situation ;
 prospect ; outlook, (Ast.) the situation of
 one planet with respect to another : - صورت -
 شکل - حالت - نظر - ہیئت - رخ - سمت - چوگ - لگن
Aspen, n. A kind of poplar tree : بید مجنوں
Asperate, v. t. To make rough or uneven :
 ناہموار یا کھوکھرا کرنا
Asperity, n. Roughness of surface ; harshness
 of sound ; acrimony ; moroseness : -
 سختی - درختگی - تلخی - درکھاپن - ترشی - سختی -
 بد مزاجی
Asperse, v. t. To vilify ; to defame ; to spread
 reports about ; to speak ill of : عیب لگانا -
 بدنام کرنا - تہمت لگانا - حرف لانا - کلک لگانا

Syn.—Slander, defame, revile, censure.

Ant. - Laud, extol, praise.

Aspersion, n. Calumny; defamation: - ٹہمت بہتان - کلنگ

Aspirant, n. One who seeks eagerly; a candidate: امیدوار - آرزومند - چاہنے والا - شائق

Aspirate, v. t. To pronounce with full breath; to pronounce with such a sound as the letter h has: پورا تلفظ کرنا - (ہ) کی آواز نکالنا
An aspirated sound like that of h: حرف (ہ) کی آواز

Aspiration, n. A strong desire; seeking eagerly after anything: آرزو - تمنا
Pronunciation of a letter with full breathing: زور کا تلفظ کرنا - دسری لگانا - (ہ) لکھنا

Aspire, v. i. To desire eagerly; to aim at high things; to pant after a great or noble object; to tower up: آرزومند یا مشتاق ہونا - خواہش کرنا
بہت چاہنا - نگاہ یا تاک رکھنا - بلند ہونا - تمنا رکھنا

Aspiring, a. Having an ardent desire of power, importance or excellence; ambitious: بلند نظر - عالی صوت - بلند حوصلہ - عالی دماغ

Asquint, ad. Obliquely: کج نگاہوں سے - بھیننگے پن سے

Ass, n. A domestic animal of burden. • stupid fellow; a dolt: کدوا - حیر - بیدوقوف - احمق
* Wild—, کور خر

Assail, v. t. To attack violently, to fall upon: حملہ کرنا - چوٹ کرنا - آپڑنا

Syn.—Attack, assault, invade.

Ant.—Protect, defend, befriend.

Assailant, n. One who assails; one who makes attack: حملہ کرتے والا
* a. Assaulting; attacking: حملہ آور

Assassin, n. One who kills by secret assault; a secret murderer: دغا سے قتل کرنے والا - گپت گہاتی

Assassinate, v. t. To murder secretly: دغا سے مارنا - قتل کرنا - گہات سے مارنا

Assassination, n. Secret murder: قتل یا خون (دغا کے ساتھ) - گپت گہات

Assault, n. A violent attack; an onslaught; a storming: یورش - چڑھائی - دھاوا - حملہ - وار

—at arms, an exhibition or show of military exercises: دھاوا * Criminal—, حملہ

To—at night: چوہاپا مارنا * مجرمانہ

—, v. t. To attack; to storm; to fall upon: چڑھائی کرنا - یورش کرنا - حملہ کرنا - آپڑنا - چڑہ آنا

Assay, n. Attempt; کرشمہ * A test of the purity and genuineness of metals: کس - جانچ - پڑکھنا - امتحان

—, v. t. To attempt; to try; to test: قصد کرنا - کوشش کرنا - کسنا - جانچنا - پڑکھنا - ڈارنا * عیار شناس - er— * نکسال - دارالاضرب - office - نقاد - پڑکھنا

Assemblage, n. A collection of individuals; a company; assembly: مجلس جماعت - ہجوم - جاسے - مجمع - یوز

Assemble, v. i. To meet together; to convene: جمع ہونا - اکٹھا ہونا

—, v. t. To call or bring together; to collect: تراجم کرنا - اکٹھا کرنا

Assembly, n. A company met together; a meeting; a gathering; a legislature; council: مجلس - معقل - راضاؤں قانونکی مجلس - انجمن - ناچ گھر - Room— * اجلاس - مجمع - سہوا مجلس خانہ

Assent, v. To concede, to agree to; to yield; to admit as true: مان لینا - راضی ہونا - قبول کرنا
Syn.—Concur, acquiesce, accord.

—, n. The act of assenting or admitting; consent; concurrence; acquiescence; accord: منظوری - مقبولی - رضامندی - اتفاق - راے - انوخت * راضی نامہ - انوخت پتہ - Deed of— * پرتگیا شاہی منظوری - راج آگیا
Royal—

Assentation, n. Flattery; adulation: چوڑھی یا بناوٹی رضامندی - خوشامدائہ رضا

Assert, v. t. To affirm positively; to aver; to claim; to vindicate a claim or title to: یقیناً بیان کرنا - مظہر بالاستقلال ہونا - اقرار کرنا - دعویٰ کرنا

Assertion, n. Affirmation; vindication; a positive declaration or averment: اقرار - قول - بیان بالیقین - دعویٰ

Assess, v. t. To tax; to value for taxation; to estimate: محصل لگانا - تشخیص کرنا - تخمینہ زہ ہرجہ - damages— * کرنا - اندازہ کرنا - کرتنا

- جمع بندی کرنا - revenue, — * یا ٹوٹا ٹھہرنا
مالگذاری ٹھہرانا
- Assessment, n.** The act of assessing; taxation; the amount of tax to be paid: — تشخیص
—in kind, * جانچ - لگان -- جمع بندی - مالگذاری
* حصہ بندی; —on a share, * بٹائی - آئین جنس
—over — بھاری جمع یا لگان
- Assessor, n.** One who fixes the amount of tax to be paid; a legal adviser: — تشخیص کرنیوالا -
مشیر - اسسٹر - عامل - ٹالٹ
- Assets, n. pl.** Property sufficient to pay all legal claims; the entire property of a person: — اداے قرض کے لئے کل مال و اموال --
—Personal, * جائداد - مال و متاع - پرنسپل
—Real, * اثوار دهن - جائداد مقبولہ
—Unrealized, * مقبولہ - اٹل دهن
—مالگذاری
- Asseverate, v. t.** To affirm solemnly; to assert positively: — حلف سے اقرار کرنا - قول کرنا
—بھین کرنا
- Asseveration, n.** Solemn affirmation: — حلفیہ
—اقرار - قول - بھین
- Assiduity, n.** Constant or diligent application to any business or enterprise; diligence; unwearied attention: — مشقت - محنت -
—سعی - جہد - تن دہی - توجہ باستقلال
- Assiduous, a.** Constant in application; diligent; persevering; devoted; attentive: —
—محنتی - مستقل - تن دہ - پراسرہمی - پتے مار
- Assign, v. t. (prep. to)** To mark out as a portion allotted; to transfer or to make over to another; to specify: — منقسم کرنا - منتقل کرنا -
—مخصوص کرنا - حصہ مقرر کرنا - نام نہاد کرنا
- Assignable, a.** That may be assigned: — قابل
—انتقال - بیچنے یوگ
- Assignment, n.** A making over a thing to another; a making over by transfer of title; an appointment to meet one secretly: — خفیہ
—عازر سے ملاقات کرنے کا وعدہ - سپردگی - تفویض - انتقال -
—بیچنے
- Assignee, n.** A person to whom an assignment is made; a person appointed or deputed to perform some act or business, or enjoy some right; (pl.) trustees of a seques-

- trated estate: — منتقل ایہہ - کارکن - مختار - منتظم -
—وہی - ترکہ جائداد بنام زوجہ - استری ہیٹ دهن سنکلیپ
- Assignment, n.** Act of assigning; a transfer of title or interest; an allotting: — تفویض
—of dower, * سپردگی - انتقال حق - انتقال نامہ
—of land, * جاگیر -
—of property, * جاگیر
—of title, * جائداد
- Assimilate, v. t.** To bring to a likeness: to make similar; to cause to resemble; to absorb and incorporate (food) into the system: — ملانا - موافق کرنا -
—یکساں کرنا - مشابہ کرنا - ملانا - موافق کرنا -
—v. i. To become similar to be converted into the substance of the body: — موافق ہونا - یکساں ہونا - مل جانا - مشابہ
—ہونا - انگ لگنا - ایک جگر ہونا
- Assimilation, n.** The act of making similar; the process by which animals and plants convert and absorb nutriment so that it becomes part of the substances composing them: — موافقت -
—مطابقت - ہضم - بھوجن کا انگ لگنا
- Assist, v. i.** To help; to support: — مدد کرنا -
—دستگیری کرنا - سہایتا کرنا - سہارا دینا
- syn.—Aid, back, succour, befriend.
Ant.—Oppose, resist, discourage, hinder.
- Assistance, n.** Aid; relief; help: — مدد - سہارا -
—یادری - دستگیری - اعانت
- Assistant, n.** One who aids, assists another; an auxiliary: — مددگار - معاون - سہانگ -
—in (office) پیشکار - چھوٹا صاحب - منشی - باب
- Assize, v. t.** To fix the weight, measure or price of; to fix the rate of: — نرخ نکالنا
- Assize, n. (pl. Assizes).** A court of justice with judge or jury: — عدالت - کچھری
- Assizer, n.** An officer who inspects weights and measures: — وزن کی
—پرتال یا تحقیق کرت
- Associability, n.** The quality of being sociable; sociableness: — آشنا مزاجی - مناسری -
—ہمیشی
- Associate, v. t.** To unite with; to join in company; to combine; to join or connect intimately; to connect in thought: — ملانا - شامل
—کرنا - اتفاق کرنا - شریک کرنا - ایک ساتھ کرنا - اتصال
—خیالی پیدا کرنا

Associate, n. i. To unite in company; to join in a confederacy or association: میل جول - ساتھ بیٹھنا
 * a. Closely connected with; combined together: ساتھ کا - متفق

—, n. A friend, companion or partner; a mate; a confederate; an accomplice: رفیق - دوست - ساتھی - ہم نشین - یار - چلیس - ساتھی - شریک

Syn.—Companion, fellow, friend, ally.

Ant.—Enemy, stranger, rival.

Association, n. Union; connection; a society; the members of which are united by mutual interests or for a common purpose: اتفاق - میل - اتحاد - شراکت - جماعت - بہا - انجمن - مجلس

Associative, a. Having the quality of associating: صحبت کے قابل - میلی - مناسب

Assonance, n. Resemblance of sounds: ہم آہنگی - ہم آرازی

Assort, v. t. To separate and distribute into sorts, classes or kinds: تفریق - نمبروار لگانا
 v. i. To keep company: to agree: to suit together: صحبت رکھنا - باہم مواظقت رکھنا - سجتا - ٹویک ہونا

Assortment, n. Distribution into separate kinds; a collection of different sorts of things: مختلف اقسام کی چیزوں کی قسم بندی - مجمعہ مختلفہ - ترتیب - آراستگی

Assuage, v. t. To mitigate; to soften; to appease; to allay: کم کرنا - دھیرا کرنا - تسکین دینا - گھٹانا - ٹھنڈا کرنا - ستوش دینا

Syn.—Pacify, abate, alleviate, subside.

Ant.—Excite, provoke, kindle, arouse.

Assume, v. t. To take upon one's self; to take for granted; to adopt; to pretend to have or be; to appropriate: اپنے اوپر لینا - لینا - فرض کرنا - ماننا - اختیار کرنا - دھارن کرنا - اخذ کرنا - اپنا کرنا - جمانا - ظاہر کرنا - بیس بھونا - جامہ پہنا

—, v. i. To be arrogant; to claim more than is due: بیجا اختیار کرنا - اکرنا - بڑا دعوئی کرنا - *—airs*, بخر کرنا - اترانا - شیخی کرنا

Assumption, n. Act of assuming; a supposition: ذمہ داری - قیاس - فرض - اخذ - امر قیاسی

Assurance, n. Certain expectation; undoubting steadiness; intrepidity; excess of boldness; self-reliance; insurance: ذمہ داری - اطمینان - اعتقاد - دلجمعی - خاطر جمع - ڈھارس - یقین کرنے - company - جرات - گستاخی - بیمہ - توکل با خدا - in God, جان بیما - Life—

Assure, v. t. To make (a person or certain) sure; to convince; to embolden or make confident; to tell positively; to insure: اطمینان کرنا - یقین دلانا - یقین سے کہنا - ہمت دینا - بیمہ کرنا

Assured, a. Certain; convinced; confident; bold to excess; insured: یقین - بلا شبہ - قایل - مقرر - گستاخ - منہم ہوت - بد لگام - بیمہ کیا ہوا

Assuredly, adv. Certainly; undoubtedly: یقیناً - بلا شک

Asterisk, n. A mark in printing, a* (*): ستارہ - سا نشان جیسا یہہ (*)

Astern, ad. At, in or to the hinder part; backwards; behind the ship: پیچھے - پیچھے کی طرف

Asthma, n. A chronic disorder of respiration characterized by difficulty of breathing, cough, and expectation: ضیق النفس - دمہ

Astonish, v. t. To confound with fear or wonder; to amaze; to surprise greatly: متعجب کرنا - متعجب کرنا - ڈھیرانا - حیرت میں ڈالنا

Astonishment, n. Amazement; surprise; wonder: حیرت - تعجب - آعجب - اچنبھا - Lost in— ہورچکا - انگشت با دندان - اچنبھے میں تروبا ہوا

Astound, v. t. To stun; to amaze; to confound: شس کر دینا - متعجب کرنا - حیران کرنا - سکا - بکا کر دینا

Astraddle, adv. Straddling; with one leg on either side; astride: پیر پہیلاٹ ہونے - لمبی ٹانگیں - کٹے ہوئے

Astral, a. Pertaining to stars; starry: ستارے - تارے دار -

Astray, ad. Out of the right way or place: To go—, To —be led— گمراہ - منحرف - بھولا ہوا - بھٹکتا - گمراہ - بھولنا

Astride, ad. With the legs apart or across :

آڑی یا ترچھی ٹانگ ٹپے ہوئے۔ ٹانگیں چتر کے جیسے گھوڑے کی سواری

Astringe, v. t. To bind together ; to render

constipated : روکنا۔ کسنا۔ باندھنا۔ قبض کرنا

Astringency, n. The power of contracting :

روکنا۔ کسنا۔ قبض۔ بندھیم

Astringent, a. Binding ; contracting : -

قبض کرنے والی دوا * n. A medicine that causes costiveness :

Astrologer, n. One versed in astrology :

نجومی۔ جوتشی۔ اختر شناس

Astrology, n. The art of foretelling future

events by the position and aspects of the stars ; astronomy : علم نجوم۔ جیوتش۔ علم ہیئت

Astronomer, n. One who is versed in astronomy ; an astrologer :

علم ہیئت داں۔ نجومی

Astronomy, n. The science which treats of

the heavenly bodies, their magnitudes, motions, distance. &c. ; astrology : علم ہیئت۔ نجوم۔ تاروں کا علم

Astute, a. Cunning ; shrewd ; keen ; sagacious :

چالاک۔ سیانا۔ زیرک۔ نظرتی۔ تیز فہم

Asunder, ad. Apart ; separately :

مٹھکا۔ جدا جدا۔ الگ

Asylum, n. A place of retreat and security ;

a charitable institution ; a refuge for the unfortunate : حائے پناہ۔ حفاظت۔ دارالامان۔

* Lunatic، * Leper، * پاگل خانہ، * حیرات خانہ، * کوزھی خانہ

Syn. - Shelter, retreat, refuge.

Asymmetry, n. Disproportion :

ناموافقت۔ بے تھنگا پن۔ کھواری

At, prep In ; from ; towards ; near :

میں۔ مطلق۔ * all، * ہر۔ سے۔ طرف۔ پاس۔ حالت میں

* ہر حالت میں۔ ہرہر کیف، * all events، * بالکل

خواہ، * any rate، * ہر وقت، * all times،

اول۔ * first، * کچھ ہی بھی ہو۔ کسی نہ کسی صورت سے

پہلی نظر میں۔ * first sight، * پہلے ہی پہل

عقرب۔ * hand، * آرام سے، * ease، * نیکہتی یعنی

۔ * کم از کم۔ تاہم، * least، * پاس۔ سروسست

* دہنٹا۔ فی الفور۔ فوراً، * once، * آخر کار، * length

* فی الحال، * present، * مرضی موافق، * pleasure،

—random، * بے توئی۔ قیاساً۔ اٹکل پھرو، * sight،

—times، * عمارت، * that، * پیش کرنے پر۔ درشنی

To make one's self—home

with، * خوب واقف، * بے تکلف ہونا،

—a loss، * حیران پریشان، * worst، * بری سے بری

To be—، * موقع تکنا، * حالت میں

Atelier (at el-ya'), A workshop ; a studio :

کار خانہ

Atavism, n. The resemblance of off-spring to a

remote ancestor ; the return or reversion

among animals to the original type : ک

کسی صورت اعلیٰ کی صورت پر ہونا۔ جانور کا اصلی نمونہ

پر پیدا ہونا

Atheism, n. The disbelief in the being of

God : خدا کو نہ ماننا۔ انکار خدا : God

Atheist, n. One that denies the existence of

God . infidel : منکر خدا۔ دھریا۔ ناستک۔ ملحد

Athlete, n. A gymnast ; a champion ; a

wrestler ; a very strong man : ورزشی۔ کثرت

کرنے والا پہلوان۔ کشتی باز۔ شہزور

Athletic, a. Strong through physical exercises ;

robust ; muscular : قوی۔ زور آور

----- n. pl. **Athletics,** The practice of wrestling,

running &c. ; athletic sports : ورزش۔ پہلوانی۔

کثرت۔ کشتی گیری۔ کثرت کے کھیل

Athwart, prep. Across ; through ; from side

to side of : آڑا، * ad. Sidewise ; wrongly ;

آڑا۔ ترچھا۔ بینڈا۔ تیزھا۔ غلط

طرح سے

Atlas, n. A collection of maps :

نقشوں کی کتاب

Atmosphere, n. The air that encompasses

the earth (fig.) any surrounding influence

(as. He seems to have lived in a corrupt

moral atmosphere : کرؤباد۔ ہوا۔ تاثیر (جیسے ایسا

معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیر تاثیر اخلاق بد رہا ہے یا بری

صحبت میں رہا ہے)

Atmospheric, a. Belonging to the atmosphere :

ہوائی

Atom, n. Such a small particle as cannot

be physically divided : ذرہ۔ جزم لاینیتیز

Syn.—Gram, molecule, jot, iota.

Atone, v. i. To agree : متفق ہونا

* To expiate ;

to answer for ; to make amends - کفارة دینا - عیوض ہونا - بدلا دینا

Atonement, n. Expiation ; amends ; reconciliation : کفارة - معارضہ - میل - صلح

Atony, n. Weakness : تقاہت - کمزوری

Atrabilious, a. Melancholic : مبتلا املیضولیا - سردانی

Atramental, a. Black as ink : سیاہی سا کالا

Atrocious, a. Savagely wicked ; heinous : بہت بڑا - شدید - وحشیانہ - سنگین (جرم یا گناہ)

Syn.—Monstrous, terrible, enormous, diabolical.

Atrocity, n. Horrible wickedness ; enormous cruelty ; a terrible crime ; savagery : بدی - بدذاتی - گناہ عظیم - وحشیانہ ہے رحمی - خبیث

Atrophy, n. A wasting of the flesh with loss of strength ; emaciation : دبلا پن - سکونتی - لافری

Attach, v. t. (Prep. to) To fasten ; to take by legal authority ; to join ; to gain over ; to ascribe : باندھنا - قرن کرنا - تھی یا ملحق کرنا -

To— * اپنا کرنا - ماہل کرنا - محبت سے گریہ کرنا قابل طور یا بڑے معرکہ کا سمجھنا -

بڑی یا ضروری بات سمجھنا

Attache, n. A person attached to a foreign embassy : وابستہ سفارت - ایلیچی - ایلیچی کا صاحب

Attachment, n. Adherence ; affection ; fastening a seizure by virtue of a legal process : دلچسپی - رفاقت - انس - الفت - قرتی

Syn.—Love, devotion, seizure, predilection.

Attack, v. t. To assault ; to fall upon ; to make a hostile onset on ; to seize, as a disease ; to criticise severely : حملہ کرنا - آپڑنا - دھاوا کرنا - فرجشی کرنا - عیب نکالنا - حرنگیری کرنا

—, n. An assault ; setting to work upon ; calumny : حملہ - یورش - سخت حرنگیری

Attain, v. t. To achieve ; to obtain ; to reach : * پورا کرنا - حاصل کرنا - ہم پورنچانا - پورنچانا

To—one's majority, جوانی پر آنا - بالغ ہونا

To—perfection, کمال حاصل کرنا

Syn.—Reach, acquire, procure, succeed.

Attainment, n. Acquisition ; accomplishment ; that which is gained or reached ; (pl.) requirements in learning ; abilities : حصول

The— * صرف و علم - ایاقب - استمداد - جوہر - ہنر of one's wish, کامیابی - حصول مراد

Attain, v. t. To corrupt ; to find guilty of a crime ; to deprive of rights for being convicted of high treason : معیوب کرنا - داغ لگانا - رسوا کرنا - خراب یا فاسد کرنا

Attempt, v. t. To try ; to endeavour ; to make an effort ; to attack : کوشش کرنا - قصد کرنا - حملہ کرنا

—, n. An effort to gain a point ; an endeavour ; an attack : کوشش - قصد - جہد - حملہ

Attend, v. t. To wait upon ; to accompany ; to be present with ; to go to or visit ; to look after : خدمت میں حاضر رہنا - ہمراہ رہنا - ساتھ

رہنا - موجود رہنا - نگہبانی کرنا

Attend, v. i. To pay attention ; to listen ; to be in waiting : دھیان دینا - کان لگاتا - حاضر رہنا - مشغول ہونا

Attendance, n. Service ; presence : خدمت - اٹوہ پور حاضر رہنا

To dance— * چاکری - حاضری کرلہر کا بیل بنانا

Attendant, n. A companion ; one present ; a servant : ساتھی - ہمراہ - حاضر باش - شامل حال - ہمر کاب

Attention, n. Close application ; regard ; heedfulness ; courtesy ; care ; observation : دھیان - غور - توجہ - لحاظ - خاطر داری - التفات

Syn.—Thought, civility, application.

Attentive, a. Heedful ; paying attention ; courteous ; mindful : ہوشیار - متوجہ - مصروف - بامرت - دیکھنے سننے والا

Syn.—Intent, observant, diluting, circumspect.

Attenuate, v. t. To make thin or slender ; to rarefy ; to weaken : پتلا کرنا - رقیق کرنا - کمزور کرنا - لاغر کرنا

Attenuation, n. Act of attenuating : رقیق - پتلا پن

Attenuant, a. Making thin, as fluids : مائع - پتلا کرنے والا

—, n. A medicine which increases the fluidity of the humours ; a diluent : پتلا کرنے والی دوا

Attest, v. t. To bear witness to ; to certify : گواہی دینا - تصدیق کرنا - دستخط کرنا - ثبوت دینا

Attestation, n. Act of attesting; testimony; endorsement: تصدیق - شہادت - دستخط یا مهر

Attic, n. A garret: بالاخانہ - اڑپو کی کونہری - چربارا

Attire, n. Dress; clothes; garb; apparel: پوشاک - آرایش

Attitude, n. Posture or position of a figure; mood; gesture: وضع - طور - انداز - دھج - آن - ٹھانہ

Attitudinize, v. i. To strike an attitude: ٹھانے یا وضع دکھانا

Attorney, n. A proxy; a solicitor; a law agent: * مختار نامہ، * Power-of—، * مختار - وکیل
* مختار عدالت، * Public—، * سرکاری وکیل
Syn.—Agent, factor, lawyer, substitute.

Attract, v. t. To draw towards; to allure: کھینچنا - فریقہ کرنا - گرویدہ کرنا - مائل کرنا

Attraction, n. Power of drawing; the force which draws; allurements: کشش - کھینچاؤ
فریقگی - داربائی

Syn.—Attractiveness, enticement, fascination, magnetism.

Attractive, a. Having the power of drawing; enticing; charming: کھینچنے والا - دل فریب - مرقوب طبع - دلکش - دلچسپ

Attributable, a. That may be ascribed; imputable: منسوب ہونے کے لائق - نسبتی

Attribute, v. t. To ascribe; to impute; to consider as belonging or as due: نسبت دینا - نسبت دینا - باعتبار سمجھنا - منسوب کرنا

—, n. That which is attributed; inherent quality; property; characteristic: وصف - خاصیت - صفت - خاصہ

Attributive, a. Assigning an attribute: صفت بتانے والا

Attrition, n. Abrasion; friction; grief for sin: رگڑ - گھساؤ - تاسف

Attune, v. t. To put in tune; to adjust one sound to another; to bring into harmony; to cause to agree: سر ملانا - خوش آواز کرنا

Auburn, a. Reddish; brown: سرخی مائل - گندم رنگ - بھورا

Auction, n. A public sale of property to the highest bidder: نیلام

Auctioneer, n. A person who sells by auction: نیلام کنندہ

Audacious, a. Bold; daring; insolent: دلیر - بے ہاکی - گستاخ - شوع - بے ادب

Audacity, n. Boldness; impudence; effrontery; insolence: دلیری - گستاخی - بے ہاکی

Audible, a. Capable of being heard; perceivable by the ear: ممکن السمع - جو سنی جاسکے

Audience, n. A hearing; persons collected to hear; a formal interview; an assembly of hearers: سماعت - حاضری - سامعین - ملاقات - * chamber—، * مجسرا - حاضرین - اہل مجلس دیورائخانہ

Syn.—Meeting, interview, hearers.

Audiphone, n. An instrument for enabling the deaf to hear: بہور کے سننے کا ایک آلہ

Audit, v. t. To adjust account; to examine and verify by reference to vouchers &c.: حساب جانچنا - امتحان کرنا - جانچ پر تال کرنا

Auditor, n. An examiner of accounts; a hearer: محاسب - سننے والا

Auditory, a. Having the power of hearing: سننے کی طاقت رکھنے والا

—, n. An assembly of hearers; a place for hearing or for the accommodation of hearers: مجمعہ سامعین - سرورتا لوگ - سامعین کے بیٹھنے کی جگہ

Aufait (o-fa'), a. Well acquainted with; expert: کامل - استاد - حکمتی - تیز دست - ہوشیار

Augean, a. Full of filth or abuse: راز - غلاظت - بہت گندہ - خرابیوں سے بھرا ہوا

Augur, n. An iron instrument for boring holes: برما

Aught, n. Anything: کوئی چیز - کچھ

Augment, v. t. To enlarge; to increase; to add to; to make bigger: * زیادہ کرنا - بڑھاؤ
v. i. To grow larger: بڑھنا

Augmentation, n. Act of augmenting; increase; addition: اضافی - بیشی - افزائش - بڑھوتری
Syn.—Enlargement, extension, accession.

Augur, n. A soothsayer; a foreteller of future events by omens: غیب دان - پیشین گو - بھاری بکتا

—, v. t. To foretell from signs; to predict; to anticipate: پیشینگرمی کرنا - شگون چھارنا

Augur, v. t. To guess or conjecture; to foretell :

قیاس کرنا - فال دیکھنا - شکر لیکنا

Augury, n. A prediction; that from which a prediction is drawn; prognostication :

غیب دانی - پیشین گوئی - شکر - نشان

Syn.—Divination, omen, prophecy.

August, n. The 8th month of the year :

انگریزی : *a.* Great; grand ;

بزرگ - عالی شان - جلیل القدر - عظیم -

پر شکوہ - رعبدار

Syn.—Solemn, noble, stately, magnificent.

Augustness, n. Grandeur; magnificence ;

majesty : عظمت - شان و شوکت

Aunt, n. A father's or mother's sister :

خالہ - پورنہی - مہرہی - چچھی

Aureola, n. The golden light painted around the heads of Christ and the saints; a halo :

غلا - گزوں کا کنگل

Auricle, n. The external ear; *pl.* the two

upper cavities of the heart into which the

blood comes from the veins :

دل کے خانے

Auricular, a. Relating to the ear; known by

hearing or by report :

کان کا - سنی ہوئی - گوشہ زد - خفیہ - درپردہ

Auriferous, a. Yielding or producing gold :

containing gold : زرخیز - سرنے سے پورا

Aurist, n. An ear-doctor :

کان کے امراض کا علاج کرنے والا

Aurora, n. The dawn :

شرف - صبح - نور کا ٹوکا

—**Borealis**, The northern lights :

* شفق شمالی

—**Australis**, The southern lights :

شفق جنوبی

Auspice, n. Omen; favourable appearance :

pl. **Auspices**, Protection; patronage; influence :

حفاظت - حمایت - پناہ

Auspicious, a. Lucky; favourable; of good

omen; propitious : مبارک - مرائق - نیک - شہدہ

Austere, a. Severe; harsh; rigid; rigorous :

سخت - درشت - کڑا

Austerity, n. Severity; (*pl.*) mortification ;

asceticism : سختی - نفس کشی - زہد - تپسیا - زیارت

Authentic, a. Genuine; trustworthy; legally

attested : * اصلی - معتبر - معقق - مصدقہ

work, مستند کتاب

Authenticate, v. t. To determine as real and

true; to render trustworthy; to attest :

تصدیق کرنا - صحت کرنا - معتبر قرار دینا

Authentication, n. The act of authenticating ;

confirmation : صحت - تصدیق

Authenticity, n. Genuineness :

اصلیت - صداقت - صحت

Author, n. The first mover or beginner of

anything; the originator or creator; the

original composer of a literary work :

بانی - مرجد - مصنف

Authoress, n. A female author :

مصنفہ

Authoritative, a. Having due authority ;

positive; peremptory; dictatorial :

حاکمانہ - مستند - قطعی - معتبر - مطلق

Authority, n. Legal power; one in authority :

testimony; credibility; right; permission

pl. precedents; opinions or sayings carry-

ing weight; persons in power :

مجاز - حاکم - مدن - اختیار - اصل - معتبرین و کھارتیں - انسر - حاکم

Syn.—Power, influence, force.

Authorization, n. Establishment by authority :

حکم دہی - اجازت دہی

Authorize, v. t. To empower; to make legal ;

to give right to do a thing; to give the sanc-

tion of law to :

اختیار دینا - جایز قرار دینا - ہونے یا کرنے کی اجازت دینا

Autobiographer, n. One who writes the story

of his own life :

اپنی زندگی کا حال لکھنے والا - تزک نویس

Autobiography, n. The biography of one's

life written by oneself :

ذرائع عمری نوشتہ خود - توڑک

Autocracy, n. Supreme independent power ;

an absolute government by one man; des-

potism :

خودسری - خود اختیاری - اختیار بلا تید - شاہ مطلق الاعنان کی حکومت

Autocrat, n. An absolute sovereign :

خرد سر بادشاہ - شاہ خود مختار

Autograph, n. A person's own handwriting :

اپنا لکھا ہوا خط - دستخط

Automatic, a. Self-acting; having the power of self-motion: خود حرکت کرنے والی - خودرو

Automaton, n. A self-moving machine: خود حرکت کرنے والا آلہ

Autonomy, n. The power of self-government: اختیار خود انتظامی

Autopsy, n. Ocular demonstration; personal observation; (*Med.*) post-mortem examination: عین الیقین - اپنی آنکھ سے دیکھنا - وجہ موت دریافت کرنے کے لئے لاش کو چیر کر دیکھنا

Autumn, n. The third season of the year; the time of decline: موسم خزاں - پتھوڑ - زوال - بڑھاپا

Autumnal, n. Belonging to autumn: خزاں کا - پتھوڑ کا

Auxiliary, a. Helping; assisting: مدد - معاون - مددگار - کمکی

Syn.—Aiding, subsidiary.

—, *n.* A helper; an assistant; (*Gram.*) a verb which helps to form the moods and tenses of other verbs; (*pl.*) foreign troops in the service of a nation at war; allies: مددگار - سہایک - معاون فعل - کمکی فرج

Avail, v. i. To be of advantage; to answer the purpose: * فائدہ مند ہونا - سود مند ہونا - کام آنا

v. t. To be for the advantage of; to benefit: * To—oneself, فائدہ اٹھانا - مستفید ہونا

n. Profit; advantage; benefit; service: نفع - فائدہ - کام - پھل

Available, a. Advantageous; useful; procurable; at hand: کار آمد - فائدہ مند - دستیاب - یافتنی

Avalanche (*ava-lansh*), n. A large body of snow, earth &c., rolling down a mountain; snowslip: برف یا مٹی وغیرہ کا تھیر جڑ بہاڑ سے تھلکے

Avarice, n. A too strong desire for gain; greediness after wealth: حرص - لالچ - طامع

Avaricious, a. Greedy of gain; miserly; covetous: حرصی - لالچی - اربھی

Syn.—Niggardly, miserly, stingy, griping.

Avaunt, interj. Depart! begone! دور ہو - چل چٹھ

Avenge, v. t. To take just satisfaction, to revenge; to punish: عیوض لینا - بدلہ لینا - داڑی لینا

Avenue, n. A passage; an opening; an alley of trees: راستہ - درمیانہ درختوں کے بیچ کی روش - کھلی جگہ

Aver, v. t. To declare to be true; to state firmly: بیان کرنا - کہنا - اقرار کرنا

Average, n. A mean proportion; a medium; medial rate: اوسط - بیچ

—, *a.* Containing a mean value; proportionate; ordinary: اوسط درجہ کا - متوسط - سراسری: **Upon an—, * To strike an—, * اوسط نکالنا** * معہولی اوسط نکال کر

Averment, n. Positive assertion; affirmation: اظہار - اطمینانی بیان

Averse, a. Disinclined; unwilling; unfavourable: خلاف - ناراضا مند - ناموافق - روگردان - متنفذ

Aversion, n. Disinclination; dislike; antipathy; repugnancy: کراہیت - نفرت - دشمنی

Syn.—Disgust, hatred, abhorrence, reluctance.

Avert, v. t. To turn away; to keep off; to ward off: دفع کرنا - باز رکھنا - ہٹانا - ڈال دینا - دور کرنا

Aviary, n. An enclosure for birds; a bird-house: چڑیاگھر - طائر خانہ

Aviculture, n. Rearing of birds: پرندوں کا پالنا

Avidity, n. Strong appetite or liking; greediness; eagerness; intense desire: شوق - حرص - حرص

Avocation, n. Business or occupation; profession: کام - پیشہ - شغل

Avoid, v. t. To shun; to keep away from; to eschew; to evacuate; to annul: پرہیز کرنا - درر بھاگنا - گریز کرنا - باز رکھنا - ترک کرنا - رد کرنا

Avoidable, a. Capable of being avoided: قابل پرہیز - بچنے کے قابل

Avoirdupois (*aver'-du'-poiz*), n. A weight of which one pound contains 16 ounces: ایک پونڈ جس کے ایک پونڈ میں ۱۶ اونس ہوتے ہیں

Avouch, v. t. To affirm; to declare; to maintain: اقرار کرنا - اظہار کرنا - قائم کرنا - واجب ٹھہرانا

Avow, v. t. To declare openly; to confess: بیان کرنا - اظہار کرنا - اقرار کرنا

Avowal, n. A positive declaration; a frank confession: صاف اقرار یا اقبال

Avowedly, ad. In an open manner; with frank acknowledgment: *بزملا - کھلا کہا*

Await, v. t. To expect; to look for; to wait for; to be in store for: *انتظار کرنا - راہ دیکھنا - تیار ہونا*

Awake, a. Not sleeping; in a state of vigilance: *جاگتا ہوا - بیدار - ہوشیار - خبردار*

Awaken, v. t. To rouse from sleep; to awake: *جگانا - بیدار کرنا - اڑھانا*

Awake, v. i. To cease to sleep; to bestir or rouse one's self from a state resembling sleep; to become awake: *جاگنا - بیدار ہونا - آگاہ ہونا*

Award, n. Judgment; sentence; determination: *نہیصلہ - قہری - تجویز - حکم*

Awarder, n. One who judicially determines: *نہیصلہ کرنے والا - قہری دینے والا*

Aware, a. (Prep. of.) Watchful; informed of; attentive; conscions: *خبردار - مطلع - ہوشیار*

Away, ad. At a distance; absent; apart; gone; dead; off: *دور - غیر حاضر - غایب - جدا - دور - پرے - الگ*
** Int. Begone!* ** Int. مار ڈالنا*
To make—with, to kill: ** with him, * چھب کر چلا جانا*
To steal— ** اسکو لے جاؤ*
To give— *دے ڈالنا - بخشنا*

Awe, n. Reverential fear; solemn wonder; dread: ** قر - خوف - رعب - دبدبہ - سنجیدہ حیرت*
v. t. To subdue by inspiring reverence; to fill with dread or solemn wonder: *سورب کرنا - سنجیدہ حیرت میں ڈالنا - سکھ بیٹھانا - دہشت*
خوف زدہ - قرا ** struck, terrified*
—inspiring, impressing with fear: *قراونا*
To stand in— ** ہوا*

Syn.—Reverence, dread, veneration, terror.

Awful, a. That which strikes with awe; in-

spiring profound reverence; dreadful; causing awe; fearfully impressive; very great: *ہولناک - دہشت ناک - مہیب - رعب - جمانے والا - تعظیم کے خیالات پیدا کرنے والا*

Awhile, ad. For some time: *کچھ عرصہ - تھوڑی دیر تک*

Awkward, a. Clumsy; inelegant; ungraceful; untoward; embarrassing; difficult to deal with: *بے قول - بیہودہ - بدنما - اناڑی - نا معقول*
بے ذہب - ناترا شبدہ - بدصواب - حیران کرنے والا

Awkwardness, n. Clumsiness: *بد نمائگی*

Awl, n. A pointed instrument for boring holes; a shoemaker's picker: *سالی - سرجا*

Awning, n. A cover spread over a boat or vessel to keep off the weather: *شامیٹہ - نہ گیرا - چندرا*

Syn.—Canopy, tilt.

Awry, a. ad. Not straight: *دار کج - نیڑھا - توجھ - بیٹنتے*

Awsome, a. Appalling: *بہیمانک - دہشت زدہ*

Axe, n. An instrument consisting of a metal head with a sharp edge: *نہاڑی - تیشہ - تیر*

Axila, n. The arm-pit: *پغل*

Axiom, n. A self-evident truth: *علم - متعارفہ - امر بدیہہ - قول*

Syn.—Maxim, adage, aphorism.

Axis, (pl. Axes). The line, real or imaginary, on which a body revolves: *محور - ڈھری*

Axle, Axle-tree, n. A pin rod or bar on which a wheel revolves: *ڈھرا - ڈھری*

Ay, ad. Yes: *ہاں - البتہ - بلے*

Aye, ad. Always; for ever: *مدام - سدا*

Azoic, a. Without life; without organic remains: *بیجان*

Azure, a. Blue; faint blue: *نیاگون - آسمانی - لاجوردی - ارزقی - کیردی*

B

Babble, v. t. To prattle like a child; to talk idly; to speak without sense; to toll secrets:

بچتے کی طرح بکنا - بڑبڑانا - بیٹ کی بات کہنا - بھنڈا

n. Idle talk: ** پھوڑنا - افشا کرنا - بھید کہنا*
یا وہ گوی - بک بک

Babbler, n. An idle talker; a teller of secrets: *فضیل گو - بکوا دی - راز گو - بکی - جھکی - گپی*

Babe, Baby, n. An infant; a young child: *بچتہ - شیر خوار - طفل*

Babel, n. Confusion of sounds; disorder: *گڑبڑ - ابدرد*

Baboon, n. A monkey of the largest kind :
لنگور - میمون - بڑا بندر

Babyhood, n. Infancy ; childhood : بالین - بچپن

Bacchanal, n. A drunken reveller ; a drunkard : شرابی - مٹی پرست - اورباش

Bacchic, a. Drunken : مٹروا

Baccivorous, a. Living on berries : چھوڑ بیڑی
پر زندگی بسر کرنے والا

Bachelor, n. A man unmarried : ناگتخدا
فاضل - of-arts, B. A. ; graduate : * کراوا - مجبور

Back, n. The hinder part of the body ; the rear support : پشت - پیٹھ - پیچھواڑا - پشتی

ad. To the rear ; behind ; ago ; in return ; again : آگے - پھر - پیچھے

* پیچھولی طرف - پیشتر - بدلے میں - پور - دوبارہ

v. t. To mount ; to second, to be at the back of ; to support ; to put backward :

چڑھنا - سہارا دینا - تائید کرنا - پیچھے ہٹانا - روکنا - آگے

* *v. t.* To move backward : آگے

Behind one's--. When one is absent : پیچھے بیچھے - آنکھ اوجھل - پس

To--the oars, To row backward : پورہ

To cast behind the--. To forget : پیچھے * **To fall ; to recede :** پیچھے

* **To turn one's--,** Not to give help : ہٹنا

* **To--out of,** To change the mind : منہ مرزا

* **One's--being up,** میں حالت میں * بدل جانا

To fall--, چارو * **On one's--,** ہٹنا

* **To--out,** کرنا * **To--keep--,** باز رکھنا - پیچھے رہ جانا

Backbite, v. t. To censure the absent ; to speak evil of one in one's absence : چھٹی کھانا -
پیچھے بڑا کہنا - غیب کرنا

Syn.—Defame, revile, slander, libel.

Backbone, n. The spine : ریڑھ کی ہڈی

Backdoor, n. A door in the back part of a building : * **A nice wife and a backdoor do often make a rich man poor :** حسین عزت اور چور دروازہ - خوار کریں
مالدار کو خاصہ

Backfriend, n. A secret enemy : پوشیدہ دشمن

Backgammon, n. A game played with dice : ایک قسم کا کھیل - تختہ نارد

Background, n. The part behind shade ; the ground behind ; the back part of a picture ;

a place of obscurity : پیچھواڑا - سایہ - جاہ - تاریکی یا گمنامی

Backslide, v. t. To fall back in faith or morals ; to apostatize : پھر جانا - منحرف ہونا -
گمراہ ہونا - بگڑ جانا

Backslider, n. An apostate ; deserter ; renegade : منکر - منحرف

Backstairs, n. Private stairs : چور سیڑھی

Backward, a. Behind in time ; slow : unwilling : پیچھے - سست - نا حاضر - پس انداز - ہوسستی

پے من - کند ذہن

Bacon, n. The flesh of a hog salted and dried : سور کا خشک اور نمکین گوشت

Bad, a. Not good ; defective ; corrupt ; pernicious ; vicious ; contrary to reason or law ;

wicked ; hurtful ; unfortunate : بُرا - خراب - نا سد - تکمہ - ناقص - تکلیف دہ - عیبدار - نا جائز -

To go to the--. To fall into bad ways : آوارہ

* **To be in one's--looks,** To lose favour with one : کسی کی نظروں سے اتر جانا

* **shot,** wrong guess : غلط قیاس

Badge, n. A distinctive mark worn on the person : نشان - چھپراس - بٹن

* **Sweet mercy is nobility's true--.** رحم شرافت کی نشانی ہے

Badger, n. A small animal like a hog : بچر

Badinage, n. Light or playful discourse ; banter : مذاق - ٹھٹھا - دل لگی

Baffle, v. t. To frustrate ; to crush ; to foil ; to confound ; to perplex so as to cause to fail : باطل یا ضایع کرنا - توڑنا - نا کامیاب کرنا -

ہراڑنا - مات کرنا

Syn.—Balk, disappoint, defeat, cheat.

Ant.—Aid, promote, support, assist, encourage.

Bag, v. t. To put into a bag ; to capture ; to kill game ; to steal : تھیلی میں بھرنا - شکار مارنا -

* **A sack or pouch ; quantity of game bagged :** پکڑنا

پورا - تھیلی - بٹوا - شکار - مہیانی

Baggage, n. The luggage of an army : اسباب لشکر - پورہر

* **worthless woman ; a flirt :** پورہر * **باز عورت**

Bagpipe, n. A musical instrument, consisting of leathern bag fitted with pipes : چمڑے کی چوٹکی - بین - مشکی باجا

Bail, n. The security given; one who becomes surety; the top or cross-piece of the wicket: ضمانت - ضامن - کفیل - گلی

—, *v. t.* To release on the security of another; to clear (a boat) of water by buckets; or other means: ضمانت پر رہا کرنا - قتلوں سے پانی نکالنا

Bailable, a. Capable of being released on bail: قابل ضمانت

Bail-bond, n. A bond given for the appearance in court of a person who is bailed: حاضر ضمانت

Bailiff, n. A subordinate officer: ناظر - امین

Bait, v. t. To put meat to tempt animal; to lure; to give refreshment on a journey, to harass: چارہ لگانا - دام میں لانا - سفر میں دانا ہارانی دینا - حق کرنا

—, *n.* Meat set to allure animals to a snare; a temptation: چارہ - مامع دینے والی چیز

Baize, n. A kind of coarse woollen cloth: پتھر - موٹی بانٹ

Bake, v. t. To cook; to harden by heat: تندور میں پکانا - سر کھانا - سخت کرنا - پجھڑا چڑھانا

Baker, n. One whose occupation is to bake bread, biscuits &c. نان بائی - روٹی والا

Bakery, n. A bakehouse: روٹی گھر

Balance, n. A pair of scales: Surplus * ہم وزن * Equipoise: باقی * Remainder: باقی * (Ast.) Libra: ترازو

—, *v. t.* To weigh in a balance; to counterpoise; to render equal: ہم وزن کرنا

To lose one's—, To get confused: گھبرا جانا

—of trade, The difference in money value between the exports and imports of a country: کسی ملک کے مال آمدنی و رفتی کا فرق

—accounts with, کسی سے حساب کتاب یا اپنا فیصلہ کرنا

Balancer, n. The person that weighs any thing: بیا - تولیہ والا

Balcony, n. A projecting platform or gallery: برآمدہ - بار جا - بالا خانہ - پیش دالان - شاہ نشین

Bald, a. Hairless; unadorned; inelegant;

too literal: گنجا - چندلا - بد نما - بہت سادہ - بے رس - بے اعف

Baldness, n. Want of hair; inelegance: چندلائی - بد نمائی

Baldpated, a. Having no hair on the head: گنجا

Balderdash, n. Idle senseless talk; obscene language or writing: راجات گفتگو - بھش - تصدیق

Baldric, n. Belt over shoulder and across breast: پرتہ - سیانی کا وہ پٹکا جو شانہ اور سینے پر ہوتا ہے

Bale, n. A bundle of goods: گڈور - گڈوری - پرترا - * *v. t.* To make up in a bale: گڈوری اور لیچنا * To bale out: باندھنا

Bale, n. Misery; calamity; that which cause ruin, destruction or sorrow: مصیبت - آنت - چتا * fire, A funeral pile: آنت

Baleful, a. Destructive; pernicious; calamitous; deadly: زہر - مضر - مہلک - فناک

Balk, n. A ridge of land dividing two fields: A شہتیر * A beam: روک * A barrier: مینڈ * *v. t.* To disappoint: نا آمیدی * To baffle: بے کار کرنا * To swerve; to pull up: رک جانا

Ball, n. Any round body; a bullet; a globe an entertainment of dancing: گولہ - گولی - گولہ - کرہ * *of the eye, The eye within the socket:* آنکھوں کا ڈھیلہ * **To have the —at one's feet:** بائی عاتقہ میں ہونا * **To take up the—,** اپنی باری لینا

Ballad, n. A short narrative poem for singing; a versified story: گیت - راگ - الا - منظوم قصہ

Ballast, n. Something put at the bottom of the ship to keep it steady; that which gives steadiness; material filling up the space between the rails on a railway in order to make it firm and solid: چھاز کے قائم رکھنے کا بوجھ - ریل کے ٹکڑے - روڑا - ارہا لکڑے - چہ استقلال دہرے

Ballet, n. A theatrical exhibition with music, dancing, &c.: ناچ - ٹانگ - دھس

Balloon, n. A gas-inflated globe of silk to float in the air: غبارہ

Ballot, n. A little ball used in giving votes; the system of voting by means of voting ticket: گولی جو رائے دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ ممبر منتخب کرنے کا قرعہ

Balm, n. A fragrant ointment; anything which soothes or mitigates pain: مرہم یا کوئی چیز جس سے درد کم ہو

Balmy, a. Fragrant; soothing; soft; healing; refreshing: خوشبودار۔ آرام دینے والا۔ نرم۔ تسکین بخش۔ معطر۔ مہکدار

Balsam, n. A balm; an aromatic healing substance: گل مہندی * A kind of flower: روغن بلسان

Balustrade, n. A range of small pillars for a support in staircases; railing: ٹھیکڑا۔ بازو۔ چنگلا

Bamboo, n. An Indian reed with a hollow, jointed stem: بانس * sugar or manna, بنس ارچن۔ تباشیر

Bamboozle, v. t. To deceive; to impose upon; to confound: دعوکا دینا۔ چھوٹنا۔ چھوٹنا دینا

Ban, n. A public notice; proclamation; interdiction: * اطلاع۔ اعلان۔ ممانعت۔ عام اشتہار۔ لعنت۔ سزا

Banana, n. A tropical plant of the plantain family: نیلا

Band, n. A bandage; a tie: * پٹی بند * A body of men: * جماعت۔ کورہ * A party of musicians: * v. t. To unite together; to associate: * فراہم کرنا۔ جٹ باندھنا۔ ملا کر باندھنا

Bandage, n. A fillet used in dressing and binding up wound; ligature: * بند۔ پٹی * v. t. To apply a bandage to a wound: پٹی باندھنا

Band-box, n. A light kind of box for holding bands, caps, &c.: پٹاری

Bandicoot, n. A large rat of India about a foot in length: ایک ہندوستانی بڑا چوہا جو قریب ایک فٹ کے لمبا ہوتا ہے۔ گوبرنس

Bandit, n. (pl. Banditti). An outlaw; more commonly a robber; a highwayman; a brigand: راہ زن۔ قزاق۔ ڈاکو۔ لٹیرو

Bandoleer, n. A shoulder-belt carrying ball-cartridges reciprocally: توشدان

Bandy, a. Crooked: ٹیڑھا۔ کجدار

—, v. t. To beat to and fro; to give and take; to toss about; to exchange angry words: اُدھر سے اُدھر مارنا۔ قاترا توڑ کرنا۔ ردو بدل کرنا۔ چرچا کرنا۔ زبان پر لانا۔ کہنا سننا۔ * legged, a. Having crooked legs: * To—words with, بھک یا مباحثہ کرنا۔ لفظی بھک کرنا

Bane, n. Poison; mischief; ruin; woe; pest: زر خوشی کا زہر اور رنجور کی چیز

Baneful, n. Poisonous; destructive; pernicious: زہر دار۔ قاتل۔ مضر۔ مہاک۔ زہر

Bang, v. t. To beat with a club; to thump; to strike violently; to make a loud noise: سونٹے سے مارنا۔ ٹھونکنا۔ پیٹنا

—, n. Heavy blow: گورنسا۔ تھپڑ۔ دھماکا۔ ٹھوکا

Bangle, n. An ornamental ring worn upon the arms and ankles: جڑی۔ کڑا۔ بنگلی

Syn.—Bracelet, anklet, armlet.

Banish, v. t. To drive away from one's country; to exile; to cast from the mind (thought care or business): دور کرنا۔ شہر * بدر کرنا۔ جلا وطن کرنا۔ ترک وطن کرنا

Banish business, *banish* sorrow

To the gods belongs to-morrow:

چھوڑ دھندل الگ غم کر۔ کل کا مالک ہے پریشور

Syn.—Expel, transport.

Banishment, n. Exile; enforced absence: جلاوطنی

Bank, n. The earth rising on each side of the water; any heap of earth piled up; margin of a water course; rising ground in the sea: کنارہ۔ باندہ۔ پشتہ۔ تپلا۔ کراڑا۔ سمندر کی * A place to deposit money: * خشک زمین

بنک گھر۔ کوٹھی ساہوکاران

Banker, n. One who traffics in money: کوٹھی وال۔ ساہوکار۔ مہاجن۔ سرف

Bankrupt, n. A man unable to pay his debts; an insolvent; one whose bank is broken; destitute: دہرا لیا۔ ٹکڑنجیا

Bankruptcy, n. Failure in trade; insolvency:

دیوالہ - افلاس

Banner, n. A flag; a streamer; a standard; an ensign:

جھنڈا - اہم - نشان - پھریرا

Banns, n. pl. Marriage notice: شادی کا اشتهار

Bannock, n. An unleavened cake of meal baked on an iron plate:

چپاتی - پھلکی

Banquet, n. A feast; a grand entertainment:

ضیافت - جیونار - جشن

Syn.—Meal, treat, carouse.

Banter, v. t. To address humorous raillery to; to attack with jokes or jests; to make fun of:

ہنسی کرنا - مذاق کرنا

Syn.—Rally, joke, jest, ridicule.

Banter, n. Ridicule; raillery:

ہنسی - مذاق - تمسخر

Bantling, n. A little child; infant; a baby:

بچہ - طفل - شیر خوار - بھرتنگرا

Banyan, n. A kind of Indian fig: بڑ کا درخت

Baptism, n. A Christian rite performed by immersion or sprinkling with water:

بپتسمہ

Baptist, n. He that administers baptism:

دینیوالہ پادری

Baptize, v. t. To christen: مسیھی کرنا - عیسائی

To—wine, To mix water with wine:

شراب میں پانی ملانا

Bar, n. A piece of wood laid across a passage

to hinder entrance; a bolt to fasten a door;

an obstacle; a hindrance; a barrier:

تکڑا - The place in court

where prisoners are stationed for trial:

* **The whole body of lawyers**

licensed in a court: * **The enclosed**

space in a tavern where liquors are served

out: * **شراب خانہ کا ٹھہرا جہاں شراب دی جاتی ہے**

A bank of sand at the mouth of a river:

* **قانون پڑھنا، To read for the—**

* **Perpetual—** * **دایمی انسداد - استثناء مدام**

* **Temporary—** * **Case at—** * **انسداد چند روزہ**

* **Plea in—** * **مقدمہ پیشی میں**

To cross the— * **سزنا**

—v. t. To fasten with a bar; to shut one in

or out; to exclude; to object; to obstruct:

بیزا لگانا - روکنا - خارج کرنا - اعتراض کرنا - روکنا

Barred by the law of limitation, قانوں حد

سہمے عارض ہے

Barb, n. The sharp backward point of an

arrow or fish-hook &c.; armour for a horse:

تیز وغیرہ کا پھرا ہوا نوکدار کائٹا - انکڑا - گھوڑے کا

ذرا پکتر

Barbarian, n. & a. A savage; uncivilized; a

rude, wild or uncultured person:

وحشی - ناہائستہ - جاہل

Barbarism, n. An uncivilized state or condi-

tion; ignorance; rudeness of manners; for-

eign mode of expression:

وحشت - ناہائستگی - جہالت - غیر ملک کا سہارہ

Barbarity, n. Savageness; inhumanity; wild-

ness; ferocity:

وحشت - بے رحمی

Barbarous, a. Savage; cruel: brutal:

بے رحم

Barber, n. One whose occupation is to shave:

ڈاٹھی - حجام

Barberry, n. Piperidge bush:

زرشک

Bard, n. A poet; a minstrel:

شاعر - بھات

Bare, a. Naked; uncovered; unadorned;

destitute:

پرہنے - ننگا - کھلا ہوا - مفلس

Bare-faced, a. With the face not masked:

undisguised; unreserved; shameless; im-

pudent:

کھلے منہ - بے پردہ - بے شرم - شرم چشم - ڈھیلہ

Barely, ad. Scarcely; nearly; merely:

نقطہ - مشکل سے - صرف

Barful, a. Full of obstructions:

جامل - مزاحم

Bargain, n. A contract or agreement concern-

ing sale; the thing bought or sold; a good

purchase: * **قول و قرار - سودا - خرید فروخت**

—, bad— * **To make the best of —,**

* **To strike a—** * **ٹلے بڑے کا ٹباہا (سودا)**

On — * **The—is off,** * **چکا لینا**

a good—think twice, * **سستا سودا سوچ کے لو**

Barge, n. A boat for carrying loads; a yacht:

مال لانے والی ناؤ - مور پنکھی

Bargown, n. A court dress:

پوشاک عدالت

Bark, n. The skin or covering of a tree:

v. t. * **چھوڑنا جہاز - چھال - پوست**

To strip off the bark or skin: * **چھال اوتارنا**

چھیننا

- Bark, v. i.** To make the noise of a dog : کتے کا بھونکنا
- Barley, n.** A kind of grain : جو
- Barleycorn, n.** A grain of barley : * جو کا دانہ
انچہ کا تیسرا حصہ
A third of an inch :
- Barm, n.** Yeast; the froth of fermented liquors : خمیر - تاقی
- Barmicide, n.** One who offers an imaginary or pretended benefit : فرضی ضیافت یا فائدہ دینے والا
* a. Illusory; imaginary : فرضی - خیالی
- Barn, n.** A place or house for laying up any sort of grain, hay or straw : خرمن - کھلیان
- Barnacle, n.** A shell-fish; a bird like a goose; a kind of instrument : سیپ کی مچھلی - سنس کے مشابہ ایک چیز
- Barometer, n.** An instrument for determining the weight of the atmosphere : مقیاس
الہوا - ہوا ناپ
- Baron, n.** (*Fem.* Baroness). A degree of nobility next to a Viscount : ولایت کے امیر کا لقب - نواب - تعاقہ دار
- Baronage, n.** The dignity of a baron; the whole body of barons or peers : تعاقہ دار کا عہدہ یا رتبہ - امرا - اراکین
- Baronet, n.** A title next below a baron, and above a knight : صوبہ دار
- Barony, n.** The domain of a baron : تعاقہ دار کی عملداری - جاگیر
- Barouche, (ba-roosh), n.** A four-wheeled carriage with a falling top : چار پہیوں کی ٹپ دار گاڑی - چرپھیا گاڑی
- Barque, n.** A vessel with three masts : تین مستول کا جہاز
- Barrack, n.** Building for soldiers especially in garrison : بارک - سپاہیوں کے رہنے کا مکان
- Barratry, n.** Foul practice in law; the exciting and encouraging of lawsuits and quarrels : مقدمہ سازی
- Barrel, n.** A cask; a measure of beer, 36 gallons; a metallic hollow tube cylinder : پینیا - بیئر شراب کی ڈب - نل - بیان - قندلا
- Barren, a.** Unfruitful; sterile; scanty; dull : پے پر - اوسر - کم - نند - پنجر - غیر ممکن
- A bleak** * الزراعت - (a woman) - اقبیہ
کف دست میدان
- Barricade, n.** A fortification of trees, earth or stones hastily made; a bar : تپا پشٹہ - روک - کچی مورچہ بندی
- Barricade, v. t.** To obstruct; to block a road or passage : ناکہ بندی کرنا - روک ٹوک کرنا
- Barrier, n.** A defence; a boundary; an obstruction : پناہ - سرحد - روک
Syn.—Fence, obstacle, hindrance.
- Barrister, n.** A counsellor at law; one qualified to plead at a bar; an advocate : عدالت کا وکیل - بارسٹر
- Barrow, n.** A small hand carriage used to convey a load : دستہ گاڑی - ٹھیلہ
- Barter, n.** Traffic by exchange; the exchange of commodities : عرض معاوضہ کے ذریعہ سے تجارت
v. t. To exchange : * مبادلہ کی خرید و فروخت - لین دین مبادلہ کرنا
- Bartizan, n.** A small turret projecting from the top part of a tower or well : چھجا - ننگورا
- Basalt, n.** A hard, dark coloured rock of igneous origin : سنگ موسی - کالا پتھر
- Base, n.** Bottom; foundation; principle; groundwork : (Geo.) * پینڈی - بنیاد - نیو - کرسی
قاعدہ - آدھار
—, v. Mean; illegitimate; of little value; despicable; alloyed : کمینہ - حرامزادہ - ہیج - کم
—born, Born of low parentage; of illegitimate birth; vile : کم اصل - کھوٹا کمینہ
- Baseless, a.** Without foundation : بے بنیاد - بے اصل - بے تکی - بے پیر کی - جسکے سر نہ پیر
- Basement, n.** The lowest story of a building : کسی عمارت کے نیچے کا درجہ
- Bashful, a.** Very modest; sheepish; timid : حیا دار - شرمگین - اجب - بزدل
Syn.—Coy, timid, shy, timorous.
- Bashfulness, n.** Modesty : حیا - شرم - لاج
— is an enemy to poverty, حیا اور مفاسی میں
بیرھے (جسٹے کی شرم اوسکے پھوٹے کرم)
- Basil, n.** The slope of a joiner's tool : کاپی تلسی
* An aromatic plant : آدھار کا درخت - نیا زور

- Basilisk, n.** A fabulous serpent or dragon, a kind of crested lizard : ایک قسم کا چوڑی دار سانپ - انعمی - تلفی دار چھپکلی
- Basin, n.** A hollow vessel ; a wash hand basin ; any reservoir for water ; a dock : آئینہ - حمامی - آئینہ - آئینہ * That part of a country through which a river flows : حصہ ملک جو کسی دریا سے گزرتا ہے اور اوسکا کل پانی کسی دریا میں جا گرتا ہے
- Basis, n.** Foundation ; groundwork ; the first principle, the pedestal : بنیاد - بنا - نیو - **The—of all excellence is truth :** راستی سب خوبیوں کی چیز ہے
- Bask, v. t.** To lie in the sun ; to warm oneself : دھوپ کھانا - تاپنا
- Basket, n.** A vessel made of twigs, rushes &c. ; a hamper : * تکیا - ٹوکری - کوانچا - پٹارا —slung, * Pick of the—, best of the lot : سب سے عمدہ
- Bas-relief, n.** A sculpture in low relief : سنگتراشی جسمیں اُبھرے ہوئے نقش ہوں
- Bass, n.** A mat made of rushes &c. : * چٹائی ایک قسم کی مچھلی
- Bassoon, n.** A musical wind instrument : شہنائی
- Bastard, n.** An illegitimate child : حرامی - غیر : منکرہ عورت کی اولاد
- Bastardize, v. t.** To determine one a bastard : حرامی قرار دینا - کم اصل ٹھہرانا
- Baste, v. t.** To beat with a stick ; to drip butter on meat in roasting ; to sew slightly : پینٹنا - گوشت پر گھی یا مکھن ڈالنا - پسرچنا - کچی سلائی کرنا
- Bastinado, n.** Sound beating with a stick : لکڑی یا سوئے کی مار - پاکڑی کرنا - کھپائی کرنا
- Bastion, n.** A bulwark : قلعہ کا برج - گڑھ
- Bat, n.** A winged animal like a mouse : * A flat club : بٹ
- Batch, n.** Quantity of bread baked at one time ; number produced or despatched at one time : تھوک - گھان
- Bate, v. t.** To lessen ; to retrench ; to cut off : کم کرنا - گھٹانا - چھٹانا
- Bath, n.** A place for bathing ; a lavatory ; ablution : حمام - غسل - غسل خانہ
- Bathe, v. t.** To wash by immersion : غسل دینا - نہلانا
- Baton, n.** A staff or club ; a truncheon : ڈنڈا - چوب - عصا - سوتلا
- Battalion, n.** A body of troops consisting of about 800 men : پلٹن
- Battel, n.** The account of a student's expenses in any college in Oxford : آفسر کے کسی بڑے مدرسے کے طالب علم کے اخراجات کا حساب
- Batten, v. i.** To grow fat ; to live in luxury : مرنے تازہ ہونا - عیش کرنا - مٹانا
- Batter, v. t.** To beat down ; to shatter by heavy blows ; to wear out ; to attack with artillery : مار مار کر گرانے - شکستہ کرنا - مسمار کرنا - منہدم کرنا - اوزانہ
- Batter, n.** A mixture of flour, milk, eggs, &c. : آٹے دودھ اور انڈے وغیرہ کی لپسی
- Battering-ram, n.** An engine for beating down walls : دیوار گرانے کا اہتس
- Battery, n.** A line of cannons ; a raised work for cannons : (Law) an assault by beating and wounding : توپ خانہ - مورچہ - دمدمہ - مار : * An apparatus for originating an electric current : ایک بجلی - برق پیدا کرنے کا آلہ
- Battle, n.** A fight ; an engagement : لڑائی - جنگ : **To give—** * رن - معرکہ - رزم - کارزار - جنگ و جدل **A drawn—** * حملہ کرنا - چڑھائی کرنا : a contest in which neither party wins : **A pitched—** * لڑائی جسمیں کسی کی ہار جیت نہ ہو ، a battle in which the enemies have taken up fixed positions : صف بندی کی لڑائی - جنگ - صف بستہ
- Syn.—Engagement, combat, fight, encounter.
Ant.—Peace, truce, concord.
- Battle-axe, n.** A weapon anciently used in battle : پھوسا - تیز - گنڈا سا
- Battlement, n.** A wall with embrasures ; bulwark ; parapet : فصیح - شہر پناہ
- Bauble, n.** A trifling piece of finery ; a plaything ; gewgaw : نہ ایشی چیز - کھانا - لٹکوں کو خوش کرنے والی چیز
- Bavin, n.** A faggot : لکڑیوں کا گٹھا

Bawl, v. i. To hoot ; to shout ; to cry loudly ; to cry with vehemence : چلاؤا - پکارنا

Bay, n. An inlet of the sea : خلیج * The laurel tree : تاج کا درخت * —window, a window jutting outwards : باہر نکلا ہو

At—, So hard pressed as to be compelled to turn round and face the pursuer : معجزہ ہو کر پیچھا کرنے والوں کا مقابلہ کرنا

—, v. i. To bark as a dog at a thief : بھونکنا *

To shut in : گھیرنا * **To keep at—**, باز رکھنا *

To stand at—, سامنے کھڑا - مقابلہ کرنا *

To turn to—, لوٹ پڑنا * **a. Brown inclin-** ing to chestnut : سرنگ - کمید * **Chestnut—**, سرنگ * **Light—**, تیلیا کمید * **Dark—**, لائٹی

Bayonet, n. A short sword fixed at the end of a musket : سنگین

Be, v. i. To exist ; to become, to remain ; to have a certain state or quality : موجود

* رہنا - ہو جانا - وجود رکھنا - زندہ رہنا

To—about, to be engaged in : مشغول ہونا *

To—after, to be in search of : تلاش میں ہونا *

To—in for, to be involved in : پھنسنا *

—off ! Go away : نکل جاؤ * **To—ill at ease**,

to be disturbed in mind : پریشان خاطر ہونا *

To—on the alert, to be watchful : ہوشیار رہنا *

To—at a loss, to be undecided : چوکنا ہونا *

To—at daggers drawn, to be bitter enemies : دشمن جانی ہونا *

To—at large, to be unrestrained : آزاد ہونا *

To—at sixes and sevens, to be out of order : بے ترتیب یا بتر ہونا *

To—out of sorts, to be unwell : تھیل ہونا *

To—under a cloud, to be suspected : مشکوک ہونا *

To—no more, to be dead : مر جانا *

To—out with, to be angry : ناراض ہونا *

To—up, اُٹھنا

Beach, n. The shore ; the strand : کنارہ - ساحل

Beacon, n. A signal raised on a height to give warning of danger ; signal-fire ; a light-house : نشان - فانوس دار مینار اکاش دیا - روشن مینار

* **v. i.** To give light as a beacon : مثل روشن مینار

کے روشنی دینا

Bead, n. A small ball for counting prayer ; a rosary : دانہ - گزبہ - پوت - تسبیح - مالا - جپتی

The chief bead in a rosary : سپر - امام

Beadsman, n. One who prays for another ; تسبیح خواں - دعاگو

Beagle, n. A small hound with which hares are hunted : شکاری کتا

Beak, n. The bill or horny mouth of a bird ; a peak ; a point : منقار - چرنچ - چرتی - نوک

Beam, n. A horizontal piece of timber used in buildings : شہتیر - کزی - دھرن * **The pole of a balance :** شعاع - **A ray of light :** تیزازر کی تکتی

Ship's width : جہاز کی چوڑائی

Bean, n. A garden vegetable : اوربیا - سیم - پھلی -

رہمی

Bear, n. A rough savage animal : بھالو - ریچھہ

A—garden, a disorderly gathering : بتر مجمع

—, v. i. To carry : لیچالنا *

To support : برداشت کرنا *

To endure : سنبھالنا - تھامنا

To bring forth or produce : رکھنا - پیدا کرنا - پہلنا -

To afford : دینا - پہنچانا : لاننا - جنانا - پہنچ دینا - بیانا

To behave : چلنا - طریقہ اختیار کرنا * **To suffer :** رجوع ہونا *

To tend : سہنا * **To—down**, to overcome by force : غالب آنا

To—hard upon, to press or urge : سخت گیری

To—meekly, to be firm : لہو کا سا

To—out, to confirm : ثابت کرنا * **To—out**, to confirm : گھرت بی جانا

To—with, to be firm : مستقل رہنا *

To—a hand, to endure : برداشت کرنا - سہنا *

To—in mind, to help : مدد یا سہارا دینا *

To—through, to remember : نہاٹنا * یاد رکھنا *

To—up, to keep up one's courage ;

The Great Bear, دب اکبر - سپہ رشی

The Lesser Bear, دب اصغر

Beard, n. The hair that grows on the lips and chin ; the prickles on the ears of corn ;

ریش - تازہی - بال - خار

the barb of an arrow : ریش - تازہی - بال - خار

—, v. i. To oppose : مقابلہ کرنا *

To—the lion in his den, to attack a dangerous person at his own quarters :

مردی پر اوسی کے

سکونت پر حملہ کرنا

Bearer, n. A carrier of anything ; a porter ;

پلے دار - (of a letter) نامہ پر - حامل رقمہ

valet : (of a water pot or palki) : کھار - سردار -

پورہ

Bearing, n. Behaviour; relation; purport:

ڈھنگ - وضع - مطالب - صورت - نسبت

Beast, n. A quadruped: * **A** brutal man:

سنگدل آدمی

Beastly, a. Brutal; filthy; like a beast in action or behaviour:

ناباک - حیوانِ خصلت - گندہ - مکروہ

Syn.—Beastial, brutish, irrational.

Beat, v. t. To strike; to hammer; to overcome; to knock; to thrash; to get the victory over:

مارنا - پیٹنا - غالب آنا - ٹھکرنا - پھینٹنا (as eggs) - جھڑنا (as bushes) - ہرا دینا - بھجانا

—, **v. i.** To dash against; to trouble; to strike; to sound:

ٹکر کھانا - دھڑکا - ڈھمکھانا - مارنا (جیسے بوجھار) - ٹک ٹک کرنا (جیسے گھڑی) -

To—about, to search:

* **To—about the bush**, to talk in a round about manner:

To—beck, to compel to retire:

* **To—down**, to depress:

To—a retreat, to retire:

* **To—time**, to regulate time in music by the motion of the hand or foot:

* **To be beaten out**, to be exhausted:

* **To—into**, to repel:

میں یہ سادہ اصول گند ذہن کو نہ سمجھا سکا

Beat, n. A stroke; a throb:

* **ضرب** - دھڑک - round of a police man &c.; jurisdiction:

چرکیدار وغیرہ کا حلقہ

Beaten, a. Smooth; worn; old; defeated;

* **سوار** - پرانا - پھٹا ہوا - مغرب - تھکا ہوا

To keep the—track or path,

لکیر پر قیام کرنا

Beatific, a. Making happy; blissful:

شاد

Beatify, v. t. To make happy:

شاد کرنا - خوش کرنا

Beatitude, n. Felicity; blessedness; heavenly happiness:

مسرت - خوشی - پریم آند

Beau, (bo), (Fem. Belle.) n. A man of dress:

خوش پوشاک - بانگاہ - چھپاہ - اچھا

Beau monde, n. The gay or fashionable world:

امیر یا خوش وضع لوگ - عیش پسند لوگ - رنگیلے

Beauteous, a. Lovely; elegant:

حسین - شندر - خوبصورت

Beautiful, a. Fair; handsome:

حسین - خوبصورت - عمدہ - خوشنما

Beautify, v. t. To adorn; to embellish:

آراستہ کرنا - زیب دینا

Beauty, n. Loveliness; graceful symmetry; comeliness; good looks; a beautiful woman:

خوبصورتی - خوش اندامی - جمال - نصیبت - پری

—spot, n. A small black patch put on the face to heighten beauty:

* **پدمنی** - حسین صورت - حسن - سندرتا

Beauty is no inheritance,

حسن خدا داد ہے

Beaver, n. An amphibious animal valued for its fur:

ارد بلڑ

Becalm, v. t. To keep from motion; to quiet the mind; to still; to appease:

ٹھہرانا - تسکین - دینا - ٹھنڈا کرنا

Because, conj. For this reason; on this account:

اس باعث ہے - کیونکہ - چونکہ - اس لئے

Beck, n. A sign or nod:

اشارہ

Beckon, v. i. To make a sign; to call by a sign:

اشارہ کرنا - آنکھ مارنا - اشارہ سے بلانا

Becloud, v. t. To bedim; to obscure:

اپر چھانا - دھندلا کرنا

Become, v. t. To suit; to befit:

زیب دینا - شایان - ہونا - سبجا - ٹھیک آنا

—, **v. t.** To pass from one state to another:

* **To—of**, to be the fate or end of:

انجام کیفیت یا نتیجہ ہونا

Becoming, a. Suitable; proper; seemly:

لائق - مناسب - سزاوار

Syn.—Seemly, comely, decorous, suitable.

Becripple, v. t. To make lame:

انگرا کرنا

Bed, n. Something to sleep on bedstead:

تہہ - بستر - چار پائی

A stratum; a layer:

* **A piece of ground in a garden; a flowerplot:**

* **To make the—**, to arrange the bedding:

* **To be brought to—**,

to deliver a child:

* **—ridden,**

confin'd to bed by sickness or infirmity: جو کمزوری
As you make your bed, so you must lie, اپنے کئے کا پھل ہو کر

Bedaub, *v. i.* To besmear; to smear with any dirty matter: آلودہ کرنا - بیٹنا - میلا کرنا - دھبا
آڑنا

Bed-chamber, *n.* The chamber or room appropriated to rest; a sleeping apartment: سونے کا کمرہ

Bedding, *n.* The materials of a bed: بستر - توشک

Bedeck, *v. t.* To deck; to adorn: سجانا - آرایش دینا

Syn.—Decorate, embellish, beautify.

Ant.—Deform, desfigure, spoil, mar.

Bedew, *v. t.* To moisten gently: تو کرنا - نم کرنا - بھگونا

Bedim, *v. t.* To make dim; to obscure: دھندلا کرنا

Bedizen, *v. t.* To dress gaudily: بھڑکیلی پوشاک پہننا

Bedlam, *n.* A mad-house: پاگل خانہ

Bee, *n.* A four-winged insect which makes honey and wax: —line, the nearest distance between two places: سیدھی نزدیکی کی راہ

Beef, *n.* The flesh of an ox, bull or cow: گائے یا بیل کا گوشت

Bee-hive, *n.* The case or box in which bees are kept: شهد کی مکھیوں کا چھتلا

Beer, *n.* Liquor made of malt and hops: بیر - شراب - بوزہ

Beestings, *n.* The first milk drawn from a cow after calving: کھیس - پیوسپی

Beetle, *n.* An insect with hard covers for its wings: موزگی

Befall, *v. t.* To happen to; to occur to: واقع ہونا - پڑنا - ناڈل ہونا - بیتنا

Befit, *v. t.* To suit; to become: ٹھیک ہونا - موافق ہونا

Befool, *v. t.* To make a fool of: بھگانا

Before, *ad.* Sooner than; earlier; in time past; in front; already; previously: آگے - پیشتر - سابق - پہلے سے

—, *prep.* Further onward; in front of; ear-

lier than; prior to: — آگے - سامنے - زورور - پیشتر - قبل

Beforehand, *ad.* Previously; antecedently in advance: پیشتر سے - آگے سے - پیشدستی سے

Befoul, *v. t.* To make foul; to soil: خراب کرنا - غلیظ کرنا

Befriend, *v. t.* To favour; to aid: حمایت کرنا - مدد دینا - ساتھ دینا - عنایت کرنا - دستگیری کرنا

Befringe, *v. t.* To adorn with fringe: جہال کرنا

Beg, *v. t.* To ask alms; to live upon alms: *v. i.* To beseech; to entreat; to request: مانگنا - مانگنا - بھیک مانگنا - خیرات پر زندگی بسر کرنا - عرض کرنا - مانگنا - منت کرنا

Beget, *v. t.* To generate; to produce: پیدا کرنا - تفرستی ہزار * Health begets pleasure. نعمت ہے

Beggar, *n.* One who lives upon alms; a mendicant; a petitioner; a poor fellow: فقیر - گدا - To—description, to be beyond one's power; to describe adequately: بیان سے باہر * To—fancy, قیاس میں نہیں آتا

Beggary, *n.* Indigency; extreme poverty: تقریبی - مفلسی - کنگلا پن

Syn.—Want, penury, distress.

Begin, *v. t.* and *i.* To commence; to enter upon something new; to start; to enter upon existence: شروع کرنا - آغاز کرنا - وجود پانا - نیک آغاز * Well begun is half done: انجام بخیر

Beginner, *n.* An unexperienced attempter; a novice: نو آموز - مبتدی - بانی کار - موجد

Beginning, *n.* The first cause; origin; commencement; source: شروع - آغاز - ابتدا - نکاس - بنا

Begird, *v. t.* To bind with a girdle; to surround: گمر پاندھنا - گھیرنا - محیط کرنا

Begone, *interj.* Go away! depart! درر ہو - چلا جا - رُو چکر ہو

Begotten, *pp. of Beget.* Generated; produced: زادہ - جنا - پیدا - کیا ہوا

Begrime, *v. t.* To soil with dirt: میلا کرنا - خاکی لپیٹنا

Begrudge, *v. t.* To envy the possession of: حسد کرنا - کھانا کرنا - کڑکنا

Beguile, v. t. To impose upon; to delude; to amuse; to dupe: بھلانا - بھکانا - بھلانا

Syn.— Mislead, deceive, cheat.

Behalf, n. Favour; part; sake; side; benefit; خاطر - نایدہ - واسطہ - جانب - طرف - واسطے

Behave, v. t. or i. To carry; to conduct; to act: چلنا - ساری کرنا - پیش کرنا

Behaviour, n. Conduct; deportment: چال و چلن - ذہنگ - وضع

Behind, v. t. To sever the head from the body: سر کاٹنا

Behest, n. An injunction: حکم - ہدایت

Behind, prep. At the back of; after or coming after: ادنیٰ * Inferior to: دیر کرے - پیچھے

Behindhand, a. In arrears; backward: بقایا میں - پیچھے

Behold, v. t. To look at: دیکھنا - نظر کرنا - نگاہ کرنا

Beholden, a. Obligated; indebted: احسانمند

Behoof, n. Advantage; benefit; profit: نایدہ - نفع - لابیہ

Behove, v. t. To be fit for; to be necessary for: لائق ہونا - مناسب ہونا - لازم ہونا - واجب ہونا

Being, n. Existence; the person existing; entity; creature: ہستی - وجود - حیات - متنفس - حالت - احوال * State of— جاندار شئی - متطرق

Belabour, v. t. To ply diligently; to beat soundly; to cudgel: خوب محنت کرنا - بیٹنا - کوٹنا

Belated, a. Benighted; delayed: رات جس پر رات دن پڑے - شب رسیدہ

Belay, v. t. To block up; to place in ambush: روکنا - گھات میں رکھنا یا رکھنا

Belch, v. t. To eject wind from the stomach; to eruct: ڈکار لینا - ڈکارنا

Beldam, n. An old woman; a hag: بڑھیا - ضعیفہ - ڈوکری

Beleaguer, v. t. To besiege; to block up: محاصرہ کرنا - روکنا - ناکہ بندی کرنا

Syn.— Blockade, besiege, environ.

Belfry, n. A bell-tower: گھنٹا گھر

Belial, n. Wickedness; the devil; Satan; an evil spirit: شرارت - بدروح - بدذات شخص - شیطانیت - شیطان

Belie, v. t. To show to be false; to give a false account; to give the lie to: جھوٹا کرنا * His face—s his heart: کھانا * کھانا * His deeds—, فعل دیگر قول دیگر

Belief, n. Act of believing; faith; conviction; اعتقاد - ایمان - عقیدہ - یقین: assurance; tenet

Believe, v. t. To confide in; to regard as true; to credit; to feel convinced: یقین کرنا - یقین کرنا - اعتبار کرنا - صحیح سمجھنا

—, v. i. To exercise faith; to think: ایمان لانا - ماننا - خیال کرنا

Belike, ad. Likely; probably: غالباً - اغلب ہے - ممکن ہے

Belittle, v. t. To make small; to disparage: بے قدر کرنا - ادنیٰ سمجھنا - گرائی

Bell, n. A hollowsounding metallic vessel: گھنٹہ یا گھنٹی * To bear or carry the—, to be the first; to win: آگے ہونا * To—the cat, to perform a hazardous task at great personal risk: اپنی جانکو خطرہ میں ڈالکر مشکل طے کرنا

Belladonna, n. A poisonous perennial herb: مکو

Belle (bel), n. A gay young lady: رنگیلی عورت - البیلی

Belles-lettres (bel-let-tr), n. pl. Elegant; علم و ادب انشا پر دازی - نعل و بلاغت

Bell-hanger, n. One who fixes bells: گھنٹا ڈانگنے والا

Bellicose, a. Warlike; pugnacious: جنگجو - خوراہاں جنگ

Belligerent, a. Waging war; fighting. n. A party or persons waging war: جنگ آور - لڑاکا

Bell-metal, n. An alloy of copper and tin: کانسا - بھول - اڑدھات

Bellow, v. t. To roar like a bull; to shout aloud: بیل کی طرح ڈکارنا - گرجنا

Bellows, n. An instrument used to blow the fire: دھونکنی - بھاتی

Belly, n. The abdomen; the womb: پیٹ - پرا —pinched, starved: کوکھ - رحم

Belong, v. t. To be the property of ; to be a part of ; to pertain to ; to be suitable for :
ملکیت ہونا - علاقہ رکھنا - حق میں سے ہونا - شامل ہونا - سررکار یا تعلق رکھنا

Belonging, n. (Used in the pl.) Qualities :
Property ; relatives ; possessions ; accessories : مال و اسباب - رشتیدار - اوزامات

Beloved, a. Greatly loved ; very dear : - عزیز - معشوق - معشوق

Below, ad. In a lower place ; on earth : تلو-زمین
prep. Under ; lower than ; inferior to : کمٹی - اترا، par - نیچے - کم - ادنیٰ میں ہوا

Belt, n. A girdle ; circle ; band : کمر بند

Bemoan, v. t. To lament ; to bewail : افسوس کرنا - ماتم کرنا - پھپھانا

Bench, n. A long seat : The seat * بنچ - تختہ
for the judges in court ; the body of judges : اجلاس - حکام عدالت

Bend, v. t. To make crooked ; to incline ; to subdue : ٹیڑھا کرنا - جھکانا - بچانا - مغلوب کرنا

Beneath, prep. Under ; unworthy of ; lower in rank : * Beneath * تلے - نائابل - نیچے - کمتر
contempt, dignity, * حقارت کے لائق بھی نہیں اعلیٰ منصب کے لائق نہیں

Benediction, n. Act of blessing ; kind wishes : برکت - دعا گوئی - آشر باہ

Benefaction, n. A charitable donation ; boon : بخشش - دان - خیرات

Benefactor, n. He that confers a benefit : احسان یا نیکی کرنے والا - غریب پرور - منعم - خیر خواہ

Benefice, n. An ecclesiastical living and church preferment : * * * * *
بادری کی معاش - وقف - رضیقا

Beneficence, n. Active goodness ; kindness : فیض - احسان - کرم - سعادت

Beneficent, a. Kind ; doing good ; bountiful : مہربان - فیاض - نیکو کار - فیض بخش - شہی

Beneficial, a. Advantageous ; useful : مفید - سرد مند - کار آمد

Beneficiary, n. (Law.) One who receives the benefits or profits : فائدہ اٹھانے والا - نفع پانیرا

Benefit, n. A favour conferred ; advantage ;

good ; kindness ; use : - مہربانی - فائدہ یافت - حصول - عنایت

—, v. t. To do good : فائدہ پہنچانا
v. i. To improve ; to gain advantage ; to profit : بہتر ہونا - فائدہ اٹھانا - نفع پانا

Benevolence, n. Good will ; kindness ; charity : خیر خواہی - نیک اندیشی - مہربانی - کرم - فیاضی - سعادت

Benevolent, a. Humane ; benignant-kind-hearted : نیک - مہربان - خیر اندیش - کشادہ دل
Syn.—Generous, charitable, obliging.

Benight, v. t. To involve in darkness : تاریکی میں پھنسانا

Benighted, a. Overtaken by night ; ignorant : شب رسیدہ - جاہل - ناشایستہ

Benign, a. Kindly ; generous : * نیک - مہربان *
genial ; mild : * ملایم - شیریں مزاج - نیک اندیش *
Wholesome : عمدہ

Syn.—Kind, propitious, favourably, friendly.

Benignity, n. Graciousness ; generosity ; kindness : مہربانی - شفقت - خرشگواری - نیک خوراہی

Benison, n. A blessing ; benediction ; good wishes : برکت - دعا - خیر خوراہی

Bent, n. Tendency ; proclivity ; aim ; course ; میلان - رغبت - رجوع - خم - مڑ - جھوک - ارادہ :
* a. Incline ; turned : خمیدہ - مڑا ہوا - مسم - ارادہ کیا ہوا

Benumb, v. t. To make torpid ; to stupefy ; to render insensible : ٹھہرانا - سن کرنا - سکوت میں گردینا

Benzoïn, Benzoïne, n. A medicinal kind of resin ; an incense : لوبان

Bequeath, v. t. To leave by will to another : وصیت کرنا - چھوڑنا - دے مرنا - چھوڑ جانا

Bequest, n. Something left by will ; legacy : مال متروکہ - وصیت

Berate, v. t. To scold : جھڑکنا - پھنکارنا - لعنت ملاست کرنا

Bereave, v. t. To deprive of ; to take away from : لے لینا - چھین لینا - محروم کرنا

Bereavement, n. The loss of a relative ; deprivation : سدمہ - محرومی - کسی عزیز کی وفات

Bereft, pp. of Bereave. Deprived : محروم - بے وسیلہ
* of means. خالی

Berry, n. Any small fruit with many seeds :

بیر - پیدلی - یا کوئی چھوٹا پھل

Berth, n. A cabin : کمرہ * A post ; a situation : جگہ * Room : جگہ

Beryl, n. A precious stone : فیروزہ - زبرجد

Beseech, v. t. To entreat ; to implore ; to beg ; to ask : منت کرنا - عاجزی کرنا - التجا کرنا - مانگنا

Beset, v. t. To hem in ; to fall upon ; to embarrass ; to set or stud with ; to waylay : متحصّصہ کرنا - ٹوٹ پڑنا - حیران کرنا - ناک میں دم کرنا - جڑنا - گھات میں بیٹھنا

Beside, prep. At the side of ; distinct from ; deviating from : متجاوز - الگ - نزدیک * **To be—one's self, to be out of one's wit or senses :** آپ سے باہر ہو جانا - بیخود ہونا

Besides, ad. Moreover ; except : - سوائے - علاوہ - ماسوا

Besiege, v. t. To lay siege to ; to beleaguer ; to invest : متحصّصہ کرنا - گھیرنا

Besmear, v. t. To bedaub ; to soil ; to foul : لیسنا - الودہ کرنا - چپڑنا - غلیظ کرنا - بگاڑنا

Besom, n. A broom : جاروب - بڑھنی - جھاڑو

Besotted, a. Stupefied ; infatuated : - مد ہوش - معجھول - ذریقتہ

Bespangle, v. t. To adorn with spangles : ستارے لگانا - انشان کرنا

Bespangled, a. Adorned with spangles : انشان - چٹا ہوا - مرصع - - begemmed ; glittering : درخشاش - جگمگانا

Bespatter, v. t. To sport or sprinkle with dirt or water ; to asperse : - چھینٹنے ڈالنا - چھڑکنا - گندہ کرنا

Bespeak, v. t. To order beforehand : آگے سے کہہ رکھنا - روک رکھنا

Bespread, v. t. To spread over ; to cover over : پھیلاؤ - ڈھاپنا

Besprinkle, v. t. To sprinkle over : - چھڑکنا - چھینٹنے ڈالنا

Best, a. Most excellent ; finest ; good in the highest degree : بہت ہی اچھا - بہترین - نہایت * **At—, looked in the most favourable light :** * **To make the—of, to use to the best advantage :**

To do one's—, to exert one's utmost : حتی الوسع کوشش

At its—, man, بالا * **At its—, man, بالا** * **To make the—of one's way, گھر**

The best is best cheap : کم خرچ بالا نشیں

Bestial, a. Beast-like ; brutal : - حیوان سیرت - وحشی

Bestiality, n. Beastliness ; disgusting vice : حیوان خاصیت - حیوانیت

Bestir, v. t. To put into vigorous action : کام میں مشغول کرنا - سرگرم کرنا - مستعد کرنا

Syn.—Stir up, rouse, awaken.

Bestow, v. t. To confer upon ; to give in marriage ; to apply ; to place : بخشش کرنا - عطا کرنا - منصوب کرنا - لگانا - رکھنا

Syn.—Give, grant, present.

Bestowal, n. The act of bestowing ; gift ; disposal : بخشش - عطیہ - انعام

Bestrew, v. t. To scatter over ; to sprinkle : چھترانا - بکھیرنا - چھڑکنا

Bestride, v. t. To stride over ; to ride on : چڑھنا - سوار ہونا

Bet, n. A wager : * بازی - شرط - دارو - ہوز * **v. t.** To wager : بازی لگانا - شرط لگانا - ہوز دینا

Betake, v. t. To have recourse to ; to apply ; to resort ; to go : رجوع ہونا - مصروف ہونا - متوجہ ہونا - لگنا - جانا

Betel, n. An Indian shrub : *—box, خاصدان - پاندان

Betel-nut, n. The nut of the areca palm : - سچاری - چھالیا

Bethink, v. i. To recall ; to remind ; to think over ; to consider : غور کرنا - سرچنا - یاد کرنا

Betide, v. i. To happen ; to come to pass ; to befall : واقع ہونا - گذرنا

Betime, Betimes, ad. Seasonably ; early : وقت پر - پہلے

Betoken, v. t. To signify : ظاہر کرنا

Betray, v. t. To give up treacherously ; to mislead ; to disclose : دغا سے پکڑا دینا - بے وفائی * **To— one's secrets, راز کھولنا - بھینٹا پھرنے**

- Betrayal, n.** Act of betraying; treachery: بیوفائی - دھوکا - دغا
- Betroth, v. t.** To pledge to marriage: منہ برب کرنا - منگنی کرنا - سگائی کرنا
- Betrothal, n.** Betrothment; engagement: منگنی - سگائی
- Better, a.** More excellent; superior; not so bad: **Half a loaf is better than no bread.** * انہوت سے ادھی بھلی * **—off,** کھاتا پیتا - اسودا حال
- , ad.** In a superior way; in a higher degree; more thoroughly: بہتر طور سے - بڑے کرے - زیادہ تر
- Better, v. i.** To improve; to ameliorate: ترقی کرنا **To get the—of,** * کرنا - سدھارنا - بہتر کرنا to supersede; to overcome: غلب ہونا **To be—off,** to be in improved circumstances: خوش حال ہونا **For—or for worse,** happen what may: * جو ہو سو ہو **The—half, a wife:** اور بھی اچھا * **All the—, *** چرر **—, n.** Advantage; (pl.) Superiors: مابہ - دوق - برے - بہتر آدمی - اچھوں - بزرگ
- Between, Betwixt, prep.** In the midst of: **—whiles, at intervals:** گاہے گاہے
- Beverage, n.** Drink; liquor to be drunk. شربت - نوشیدنی
- Bevy, n.** A flock of birds; a company; an assembly: غول - جھنڈ - جماعت
- Bewail, v. i.** To express grief; to lament: رنج کرنا - ماتم کرنا - ہاتھ ملنا
- Beware, v. i.** (prep. of) To be cautious: ہوشیار ہونا - خبر دار رہنا - آگاہ ہونا
- Bewilder, v. t.** To confound; to perplex: گمراہ کرنا - بھٹکانا - کہنونا
- Bewilderment, n.** Confusion; perplexity: گمراہی - حیرانی - پریشانی - پراگندگی
- Bewitch, v. t.** To charm; to fascinate: جادو کرنا - انسوں کرنا - سحر کرنا - فریقہ کرنا
- Beyond, prep.** On the further side of; before in place or time; out of reach; exceeding: پار - اسطرف - پیشتر - پہنچنے سے باہر - بڑے کے - زیادہ
- , ad.** At a distance; vonder: اوسطرف
- Bezoar, n.** A medicinal stone from the East: زہر مہرہ - تریاق
- Bias, n.** Inclination; partiality; prepossession; prejudice: رغبت - طرفداری - میلان
- , v. t.** To prejudice or repossess: راعب
- , adv.** Crosswise: * یا مائل کرنا - رجوع کرنا
- ازیب - ازا**
- Bib, n.** A child's frock protector: چھوٹا کپڑا حوزہ
- Bibber, n.** A habitual drinker: شرابی
- Bible, n.** The sacred scripture: کتاب مقدس - انجیل - توریت
- Bibliography, n.** A full or exact knowledge or description of books: کتابوں کا بیان یا علم
- Bibliomancy, n.** Divination performed by means of books: کتاب سے شگون لینا
- Bibulous, a.** Absorbing; spongy; addicted to drinking: جاذب - آب نش - سونکھ لینے والا - نشے باز
- Bicephalous, a.** Having two horns: دوسر والا
- Bicker, v. i.** To wrangle; to skirmish; to fight off and on; to quiver: جھگڑنا - مارا ماری کرنا - لہرانا - تھرانا
- Bicornous, a.** Having two horns: دوسرینگ والا
- Bicycle, n.** A two-wheeled velocipede: دو پہیڑ گاڑی
- Bid, v. t.** To offer; to invite; to order: دام دینا **To offer a price:** * لگانا - دعوت دینا - حکم دینا **To—adieu,** to say farewell; to take leave: بولنا **To—defiance to,** to defy vigorously: * رخصت ہونا - وداع ہونا **To—fair to,** to give fair prospect of: اچھی علامت **To—God-speed,** * طاہر کرنا - اچھے نشان دکھانا **—, n.** To suffer; to wait for; to abide: رام کو سوچنا - خدا کے سیرد کرنا - اللہ نگہبان بنے ٹھنا
- Bide, v. t.** To suffer; to wait for; to abide: برداشت کرنا - موقع کا انتظار کرنا - سکونت کرنا - رہنا
- Bidental, a.** Having two teeth: دو دانت والا
- Bide, n.** A little horse: ٹٹو
- Biennial, a.** Happening once in two years; lasting two years: درسالہ - دو برسے - دو سال تک رہے
- Bier, n.** A carriage on which the dead are carried to the grave: جنازہ - تابوت

Biestings, n. The first milk of a cow : کائے کے
بیانے کے بعد کا شروع کا دودھ - پیوسی

Bifoliate, a. Having two leaves : دو پتیا - درپتے
دار

Big, a. Great in bulk ; large : بڑا * عظیم
Pregnant : حاملہ * Proud ; full : پھولا - مغرور
ہوا - پھرا ہوا

Bigamy, n. The crime of having two husbands
or two wives at the same time : ایک کے جیتنے
جی دوسرے شوہر یا بی بی کے رکھنے کا جرم

Bight, n. A bend in the seacoast forming
a bay : خلیج - کھاری

Bigot, n. A blind and obstinate zealot ; an
intolerant person : متعصب - پچھی - ستھہ دھرم

Bigotry, n. Blind zeal ; prejudice : تعصب -
مارنداری - ستھہ دھرمی

Bilateral, a. Having two sides : دو پہار والا

Bilbo, n. A rapier ; a sword : کچ - تارار

Bile, n. A bitter fluid secreted in the liver :
عدارت - غصہ - Ill-feeling ; ill-humour : پت - صفرا

Bilestone, n. A concretion of viscid bile : سنگ
مسنا - پتھری

Bilge, n. The bottom : v. i. * پیندا - تہہ
spring a leak : پیندا پھٹنا - جہاز کے تالے چھید ہونا

Bilingual, a. Containing two languages : دو زبانی

Bilious, a. Having an excess of bile : صفراوی

Bilk, v. t. To swindle ; to defraud : دغا کرنا -
چھلنا - فریب دینا

Bill, n. A bird's beak : * چونچ - منقار * An
account of money : فرد حساب * Proposed law :
* A prescription : نسیخہ * An
advertisement : ایشہار * A kind of battle-axe ;
* گتاسا - طبر - درالتی *
—of exchange, a draft : * ہنتی *
* کھازوں * —of health, a certificate as to
the health of a ship's company : مسافران جہاز
* —of loading, a memorandum
of goods shipped on board a vessel : نہرست
* —of mortality, an official death
return : * فزنی ناسہ * —of sale, a formal in-
strument for the transfer of personal
property : قہانہ - بیعنامہ

Billet, n. A short letter ; a ticket directing
soldiers to lodge ; a small log of wood : رقعہ -
گت - سپاہیوں کا بسانا - لکڑی کا بوٹا

Billet-doux (bil-le-doo), n. A love note or
letter : عاشقانہ رقعہ یا خطا - محبت نامہ

Billiards, n. A game played on a table with
balls and cues : اٹھے کا کھیل

Billings-gate, n. Abusive language ; ribaldry :
فہش کلامی - گندہ زبانی

Billion, n. A million of millions : کھرب

Billow, n. A great wave or surge of the sea :
لہر - موج

Bimanous, a. Having two hands : دو ہاتھتہ -
دو ہاتھتہ والا - دو دستہ

Bimonthly, a. Every two months but usually
twice a month : ہر دو ماہ یا مہینہ میں دو بار

Bin, n. An enclosed place for grain or wine :
کھتا - کرٹھی

Binary, a. Double ; two and two : دوہرا - جوڑا

Bind, v. t. To tie together ; to fasten ; to
restrain ; to engage ; to border ; to cover
باندھنا - کسنا - روکنا - ٹھہرا (a book) ; to oblige :
لینا - حد باندھنا - جلد بندی کرنا - مضمون کرنا

Syn.— Confine, restrain, compel.

Binding, a. Obligatory : * لازم - واجب :
* The covering, &c., of a book : جلد

Binocular, a. Having two eyes : دو انکھا

Binomial, a. An expression or quantity con-
sisting of two terms connected by the sign
plus or minus : دو عددی مقدار

Biographer, n. A writer of lives : سوانح عمری
لکھنے والا - مورخ

Biographical, a. Pertaining to the history
of a person's life : تذکرہ کے متعلق

Biography, n. The history of the life and
character of a particular person : سوانح عمری
* Syn.—Memoir, sketch, account, life.

Biology, n. Science of living matter : علم حیات

Biparous, a. Bringing forth two at a birth :
دو بچے دینے والی

Biped, n. An animal with two feet : دو پڑوں والا
جانور

Birch, n. A kind of tree : ایک قسم کا درخت

Bird, n. A general term for the feather kind ;
a fowl : چڑیا * **Bird's eye view**, a
view as it might appear to a flying bird ;
a general view : خلاصہ میں *
—of a passage, a periodical visitor : خاص
—lime, a glue to catch
birds : لاسا کا لاسا *
—cage, n. a cage
to keep birds in : چڑیوں کا پنجرہ

Birth, n. Coming into life ; parentage ; nature
extraction ; production ; inherited rank ;
پیدائش - اصل نسل - تولد - خاندان - پشتینی خطاب یا
* **To give—to**, جنما، جنما * درجہ - خاقت
—song, بدھاوا - بدھاوی

Birthday, n. The day of one's birth : -
سالگرہ - جنم دن

Birthplace, n. The place where a person is
born : جائے پیدائش - جنم بوم

Birth-right, n. A right acquired by birth :
جنم ادھکار - حق ولادت

Biscuit, n. A kind of hard dry bread : بسکٹ - گکیا

Bisect, v. t. To cut or divide into two equal
parts : تنصیف یا دو برابر حصہ کرنا

Bisection, n. Act of cutting into two equal
parts : دو برابر حصے کرنا - تنصیف

Bishop, n. One of the head order of the clergy :
بڑا پادری - دھنندھین عیسوی

Bishopric, n. The jurisdiction of a bishop :
بڑے پادری کا حلقہ

Bismuth, n. A brittle reddish-white metal :
پھول - کانسا

Bissextile, n. Leap year : سال کی بیسٹ - ہر چوتھا
سال جب فروری کے ۲۹ دن ہوتے ہیں

Bit, n. The iron part of the bridle : گھوڑے کا
تکڑا - پرزہ - لقمہ - نوالہ - زرہ سا - بہت
A small piece ; a morsel ; smallest
degree : توڑا

Bitch, n. The female of the canine kind : کتیا -
مادہ سگ

Bite, v. t. To crush or pierce with the teeth ;
دانٹ سے کاٹنا - بولڈ فاسٹ ; to cheat ; to pain :
بھینہڑنا - کٹنا - مضبوط پکڑنا - فریب دینا - جل دینا -
لگنا - چرم لگانا

Biter, n. One who bites ; cheat : کٹھنا - مروزہ
Great barkers are no—s,
جو بھونکتے ہیں سو کاتتے نہیں - جو گرجتے ہیں سو
بوستے نہیں

Biting, a. Sharp ; cutting ; sarcastic : تیز -
چبھتی ہوئی - طنز آمیز

Bitter, a. Having a hot, acrid taste ; distress-
ing ; severe : تلخ - کڑوا - داسرز - سخت

Bittern, n. A bird with long legs, which
feeds upon fish : بگلا - بوتی مار

Bitterness, n. A bitter taste ; malice ; severi-
ty of temper, sorrow : تلخی - بغض - ترشی -
سختی - آزدگی - رنج - غم

Bitters, n. pl. A liquid prepared from bitter
herbs or roots : نارنگی کے چھلکے کا عرق - عرق تلخ -
تلخ آب

Bitumen, n. A tar-like combustible substance :
نفت - مٹی کا تیل

Bivouac, n. An encampment of soldiers in
open air ; the night watch of an army : فوج کا
بزاؤ یا مقام - شبینہ فوج کی شب بیداری

Biweekly, ad. Occurring once in two weeks
but usually twice in every week : اصل میں
پندرہویں دن - مگر صحارہ میں ہفتہ میں دو مرتبہ

Blab, v. t. To tell secrets ; to tell tales ; to
tattle : n. & a. * بھید کھولنا - غپ ہانکنا - بک دینا
پیت کا ہلکا - چھچھورا

Black, a. Of the colour of coal ; very dark :
Gloomy : تاریک * Forbidding :
* Zoon : غمگین * Mournful : کرمہ

Horrible : ہولناک * Menacing ; malignant :
جادو - arts, Magic : * مہدد - بغض سے بھرا ہوا

—ball, v. t. to exclude by vote :
* خلاف رائے دینا - نامنظور کرنا - خارج یا نامنظور کرنا

In—and white, in writing : * تھریبی
A—sheep, a mean contemptible person :
بد چلن یا بدنام آدمی

Blackamoor, n. A negro : حبشی

Blackboard, n. A board painted black, used
in schools for writing or drawing lines on
with chalk for instruction : کالا تختہ

Blacken, v. t. To make black ; to darken :
کالا کرنا - سیاہ کرنا

Blackguard, v. t. To abuse with vile language :
 * *n.* A low fellow ; a scoundrel : بدذات - بد معاش - گالی دینا - لچاپن کرنا

Black-hearted, a. Morally bad : - تیرہ دل
 تیرہ دل

Black-mail, n. Money paid to avoid exposure the robber's fee ; exaction made by threats :
 روپیہ جو اخفایے راز کے لئے جبراً دیا جائے - چوتھہ - دتتہ - استحصاں بالجبیر

B'acksmith, n. A smith that works in iron :
 آہانگر - ارہار

Bladder, n. The urinary vessel : پھکنا
 مٹانہ - پھکنا

Blade, n. A spire of grass : پتا * The cutting part of an instrument : دھار - پھل *
 A sharp dashing fellow : چانڈاز - جران - بانک

Blamable, a. Culpable ; deserving of censure faulty : قابل الزام - قابل ملامت - تصور راز
 Syn. - Faulty, censurable.

Blame, v. t. To charge with a fault ; to censure : الزام لگنا - بدنام کرنا

—, *n.* Imputation ; reproach ; censure : الزام - ملامت - تفسیر

Blameless, a. Guiltless ; innocent : بے تصور - بے گناہ - بے عیب

Blameworthy, a. Blamable ; deserving censure : قابل الزام - تفسیر راز

Blanch, v. t. To whiten ; to bleach ; to strip or peel such things as husks : سفید کرنا - رنگ اڑانا - چھیلنا

Bland, a. Soft ; mild ; gentle ; soothing ; suave : ملائم - نرم - کومل - مسکن - چرب زبان

Blandishment, n. Soft words ; artful caresses ; allurements ; cajolery : شیریں زبانی - چوچلاپن - ناز و نقرہ - غمزہ - دلار پیار - پہلے سرے بازی

Blank, a. White ; unwritten ; empty ; fruitless : انسرودہ * Dispirited : سفید - کورہ - خالی - نشپول غیر مٹقنہ - بے قافیہ * Unrhymed : نا آمیدی

—, *n.* A void space : خالی جگہ * A disappointment : نا آمیدی

Blanket, n. A woollen cloth, soft and loosely woven : کمل

Blare, v. i. To bellow ; to roar ; to make a loud noise like trumpet : زور سے بچنا

Blarney, n. Flattery ; complimentary talk : چاڑھی - خورشامہ - چکنی چڑھی باتیں

Blasphemous, a. Impiously irreverent towards God : خدا یا مذہب کی توہین کرنے والا - کانر - منکر

Blasphemy, n. Irreverent or impious language : کامہ کفر

Blast, n. A gust of wind : ہوا کا جھوکا * The sound of an instrument : آواز * An explosion : بوزکا * A blight : صدمہ - * *v. t.* To split by an explosion : * *To blight* : غارت کرنا - تباہ کرنا * *To shatter* : تڑ تڑ پھوڑ ڈالنا - پوزے اڑا دینا

Blaze, v. t. To flame ; to be conspicuous : * *To—up* : اُٹھنا * اور اُٹھنا - بھڑکتا - مشتہر ہونا
 * *n.* A brilliant flame ; excessive light and heat.

Blazon, v. t. To adorn : آراستہ کرنا * *To publish* : مشتہر کرنا

Bleach, v. t. To whiten : سفید کرنا - اوجلا کرنا

Bleak, a. Exposed to the wind ; chill ; desolate cheerless : کھلا - سرد - ہوا زدہ - سوتا - ارداس - سونسان - ویران

Blear, a. Dim with rheum or water : کچھڑا یا - چندھلا

Blear-eyed, a. Having sore eyes : دھندھا - چوندھا

Bleat, n. The cry of a sheep or lamb : آواز - بھیں بھیں

Bleb, n. A little tumour blister : آبلہ - چھالا - بھپھولا

Bleed, v. t. To let blood ; to take blood from by opening a vein : * *To extort money* : خون نکالنا - نقد کھولنا
 دق کر کے روپیہ لینا

Blemish, n. A mark of deformity ; reproach ; disgrace : داغ - کانک - رسوائی - عیب - حرف

Blend, v. t. To mingle together ; to confound : ملانا - مظلوم کرنا

Bless, v. t. To confer blessing upon ; to pray for the happiness ; to render happy ; to glorify : برکت دینا - آفریں کرنا - بھرتہ منڈہ کرنا - خزش کرنا

Blessed, a. Happy ; beatified ; holy ; joyful : خوشحال - اسرودہ - مبارک

Blessing, n. Benediction ; divine favour : دعا - آغیر بان - فضل - رحمہ

Blight, *n.* Mildew : پالا : پھرتی - کنجورا * Any thing nipping or blasting : کوئی برباد کرنے والی شے - پالا - تسار

—, *v. t.* To blast; to frustrate : - جھاسانا مارنا - پالا مار جانا

Blind, *a.* Destitute of sight; unconscious; ignorant : آندھا - بے تمیز - بے خبر - جاہل

Blind-alley, a street closed at one end : گلی جسکا آنکھ مچھرائی : —man's buff, a play : آنکھ نہ ہو

Blind-fold, *v. t.* To hinder from seeing; to cover the eyes : آنکھوں پر پٹی باندھ دینا - نہ دیکھنے دینا - آنکھ بند کر لینا

Blindness, *n.* Want of sight; ignorance : آندھا پن - جہالت

Blind-worm, *n.* A small viper : کینچورا

Blink, *v. i.* To wink; to glimmer : آنکھ جھپکانا - To avoid noticing : چشم پوشی کرنا

Blinkard, *n.* One that has weak eyes : آنکھ والی

Bliss, *n.* The highest degree of happiness; felicity : خوشی - فرحت - مسرت - شادمانی

Blissful, *a.* Very happy : مسرت بخش - خوش - مگن

Blister, *n.* A pustule; a vesicle : پھپھولا - آبلہ -

Blithe, *a.* Gay; joyous : خوش دل - زندہ دل - مزاج

Blitheful, **Blithesome**, *a.* Joyous; gay, merry : خوش مزاج - مسرور - زندہ دل

Bloat, *v. t.* To cause to swell : سبجانا - پھولانا

Block, *n.* A thick piece of timber; an obstruction; a hat mould; a framed pulley; a row of houses : گندا - کالبرد - خانہ دار گھرنی - مکانوں کی قطار - روک - مزاحمت

—, *v. t.* To obstruct; to hinder; to shut up : روکنا - بند کرنا

Blockade, *v. t.* To shut up; to surround; to stop egress and ingress : معاصرہ کرنا - گھیر - لینا - ناکہ بندی کرنا - آمد و رفت بند کرنا

Blockhead, *n.* A stupid fellow; a dolt : بیوقوف - احمق - کورن

Blonde, *a.* Of a fair colour or complexion : صیبر - گورا - حسین

Blood, *n.* The red fluid which circulates the body : خون - لہر * Descent : نسل * High pedigree : عالی خاندان - اچھی ذات * Temper : * Murder : قتل * Flesh and—, human nature : انسانیت - بشریت * Kinsman : رشتہ دار * Half—, not of the same parents : * In cold—, deliberately : عمداً - عمدتاً * جان بوجھکر

Bloodhound, *n.* A hound that follows by the scent : شکاری کتا جو بڑے شکار کی کھوج لگاتا ہے

Blood-money, *n.* The wages of murder : خون کا انعام

Blood-relation, *n.* One related by blood : ایک بیڑھی کا - ایک جدی

Bloodshed, *n.* The crime of murder; slaughter : قتل - خونریزی

Bloodshot, *a.* Filled with blood; red : خونری سرخ

Blood-sucker, *n.* An animal that sucks blood, as a leech; a cruel man; an extortioner : چرنک - گٹر آدمی - جلاد

Bloodthirsty, *a.* Desirous to shed blood : خون کا پیاسا

Bloody, *a.* Stained with blood; cruel : خون آلودہ - بے رحم - خونری - خونریزی

Bloom, *v. t.* To yield blossom; to burst into flower; to open out; to glow : پھلنا - کھلنا - پھلنا - شگفتہ ہونا - لہلہانا

—, *n.* A blossom : گلہ - غنچہ * The prime of life : * Flush : عالم شباب - نو جوانی - نو خیزی

Blooming, *a.* Flowering; bright; flourishing : پھلا پھولا - شگفتہ - ہوا بہا - شاداب - اقبال مند

Bloomy, *a.* Flowery; youthful : پھولدار - شباب کا

Blossom, *n.* The flower of a plant : غنچہ - گلہ - پھول

Blot, *v. t.* To obliterate; to erase; to disfigure; to stain : مٹانا - قلم پھینونا - بدشکل کرنا - دھیا ڈالنا

Blotch, *n.* A spot or pustule upon the skin : ددرزا - داغ - چت

Blow, *v. t.* To make a current of air; to swell; to sound windmusic; to clear by blowing; to spread wide : پھولنا - پھونکا - پھونک - پھولنا - صاف کرنا - چھنکنا - مشورہ کرنا

Blow, *v. i.* To breathe hard; to bloom; to sound; to spout; to be brought by the wind: ہانپنا - کھلنا - شگفتہ ہونا - بھگنا - نوارا چھوڑنا - ازگے انا

—, *n.* A stroke; a calamity; a gale; larva: صدمہ - ضرب - گھونسا - آفت - تندباد - چورکا - مکھی کا اندرا

To—over, to pass away: گذر جانا

To—away, to dissipate: * ازادینا * نل جانا

To—out, to extinguish: * بجھانا * To—upon,

to bring into disfavour: رسوا یا بے اعتبار

To—one's trumpet, to trumpet اپنی تعریف آپ کرنا

foth one's own praises: اپنی تعریف آپ کرنا

—hot and cold, to be بے ثبات ہونا - غیر مستقل

fickle; to be irresolute: مزاج ہونا - چنچل ہونا

Blow, *n.* Inflated; out of breath; flyblown: پھلایا ہوا - دم چڑھا ہوا - مکھی کے انقڑن سے پورا ہوا

Blubber, *n.* The fat of whales: مچھلی کی چربی

Blubber, *v. t.* To cry like a child: لڑنے کی طرح رونا - بلبلا

Bludgeon, *n.* A short thick stick: سونٹا - ڈنڈا

Blue, *a.* Sky-coloured; cerulean: نیلا - آسمانی

Bluff, *a.* Big; broad and flat; blunt; surly: چڑوا چکلا - بڑا - ترش رو - ناگراشیدہ

blustering: بولنا - بھولنا

Bluish, *a.* Somewhat blue: نیلگور

Blunder, *n.* A gross or shameful mistake; an oversight: بھول - غلطی - خفا - خطاے فاش

Blunderbuss, *n.* A short gun with a large bore: چڑوے نل کی بندوق

Blunderhead, *n.* A stupid, careless fellow: بھولکر - بھونڈر

Blunt, *a.* Dull on the edge or point; rough; not quick; abrupt: کند - بھونٹرا - کردن - جلد باز

Blur, *v. t.* To blot; to soil; to stain; to obscure; to disfigure: دھبہ یا داغ ڈالنا - دھندلا - کر دینا - بگاڑ ڈالنا

Blurt, *v. t.* To utter suddenly or inadvertently: یکانیک یا بے درجے سمجھے کہہ ڈالنا - بک اُٹھنا

Blush, *v. i.* To redden with shame or modesty; to betray shame or confusion: شرمساری سے چہرہ لال ہونا - شرمندہ ہونا - خجل ہونا - سرخ ہونا

Blush, *n.* Rosy tint; appearance: لالی - گلہبی - شفق - نظر

Bluster, *v. i.* To blow with fitful violence; to bully; to boast: ہیر ہیر کے بڑور چلنا - بشورلا فزنی

کرنا - سنسانا - بھبکنا - شیخی مارنا

—, *n.* Violent storm; tumult; noisy

چھکر - تند ہوا - لاف و گزاف

Blustrous, *a.* Noisy: پر شور - تیز

Boa, *n.* A species of snake: ایک قسم کا سانپ - اژدھا

Boar, *n.* The male swine: جنگلی سور - بٹیل

Board, *n.* A thin piece of sawn timber: مٹھکہ

Board, *n.* A council: کھانا * Food: تختہ

Boarder, *n.* One who diets with another at a certain rate: کچھ دیکر دوسرے کے ساتھ کھانے والا

Boarding, *n.* Food and lodging: کھانا و سکونت

Boarding-house, *n.* A house, for boarders: طالبہ کے رہنے کا مکان

Boast, *v. i.* To speak highly of oneself; to brag; to be reasonably proud of: شیخی مارنا - نغز کرنا - تینک مارنا - واجبی نغز کرنا

Boastful, *a.* Ostentatious; bragging; haughty: شیخی خورہ - مغرور - ڈینگیا

Boat, *n.* A small vessel moved by oars: کشتی - ناؤ

Boatman, *n.* One who manages a boat: مانجھی - ملاح

Boatswain, *n.* A subordinate officer of a vessel in charge of rigging anchors, &c.: سرہنگ

Bob, *v. t.* To move in a short jerking manner; to jerk up and down; to cheat; to angle: ہلنا - ڈھوکا دینا - اوپر نیچے کرنا - پھنسانا

—, *n.* A pendant; a jerk of the head; a float: اوڑھ - لٹکن - بندہ - جھمکا - سر کا ہلانا - توندہ - float

Bobbin, *n.* A piece of wood on which thread is wound for making lace; reel; thin cord: چالی بٹنے کی سلائی - اٹیون - ڈری

Bode, *v. t.* To be the omen of; to show beforehand: نیک آغاز نیک انجام

bodes good end, نیک آغاز نیک انجام

Boddice, (*Corrupted form of bodies*) *n.* Stays; corset: انگیا - چرلی - سینٹہ بند

Bodkin, *n.* A large blunt needle; a small instrument for pricking holes or for dressing the hair: سوزا - ستارہ - ڈری بھونٹنے کی ڈنگہ دار - موٹی - دل کا کتا

Body, n. The material substance or frame of an animal ; a corpse : - جسم - تشاںسخت - جئہ * **A** * خاص حصہ - قاب * **The main part :** * لاش * **A corporation :** * چارہ : بہائی چارہ * **A collection :** * شخص - لفر - انسان * **Person :** * مجمع : **In a—,** ایک سنگ - اکتھے - جھنڈ کا جھنڈ

Body-guard, n. A life-guard : خاصہ برادر - مصافحہ جسم

Bog, n. A marsh ; a morass : - دلدل - پھنساڑ - دھسان

Bogey, Bogy, n. A goblin : بھوتنا - ہرا

Boggle, v. t. To start ; to hesitate : - چونکنا * پس و پیش کرنا - جھجھکا

Syn.—Doubt, shrink, waver, falter.

Boil, v. t. To be agitated by heat ; to be hot ; اربلنا - کولنا

—, v. t. To cause to boil ; to heat to the boiling point : - کھولنا * **An inflamed and painful tumour :** * جوشدینا - اربالنا - کھولنا * **Any written obligation ; fetters ; imprisonment :** * بند - زنجیر - قرار نامہ - تمسک - دستاویز - مچھانکہ * **Penalty—,** بیڑی - ٹوڈ

Boiler, n. The vessel in which water is boiled ; caldron : دیک - پتیل

Boisterous, a. Violent ; turbulent ; stormy ; شدید - ہر شور - گند - پر از طوفان - موجزن

Bold, a. Daring ; brave ; fearless ; impudent : بہادر - دلیر - نقر - گستاخ

Syn.—Courageous, valiant, intrepid, valorous.

Ant.—Cowardly, timid, timorous, fearful.

Bold-faced, a. Impudent ; shameless : - گستاخ * **To pick a—** with any one, to dispute : - شرم - شوخ چشم

Boldness, n. Courage ; bravery ; confidence, forwardness : - جرأت - دلہری - مبادرت - شجاعت - اطمینان - گستاخی

Bolster, n. A round long pillow ; a support ; گول لمبا تکیا - گار تکیہ - سہارا

Bole, n. The trunk of a tree : - ڈال * **Red clay :** * ماطانی مٹی

Boll, n. Pod or capsule ; round seed vessel of flax, cotton etc. : - ڈولٹا - ڈھنڈی - پھلی

Bolt, n. An arrow ; a dart ; a thunder bolt ; the bar of a door ; a shackle : - تیر - بان - بجائی - چٹھنی - بیڑی

—, v. t. To fasten with a bolt ; to utter precipitately ; to swallow ; to shackle ; to sift : - بانی یا آگل لگانا - بے سوچے سمجھے بولنا - بانی یا آگل لگانا * **To bolt to**

the bran, چھان بین کرنا - دودھ کا دودھ اور پانی کرنا کا پانی کرنا

Bolus, n. A large pill : بڑی گولی - لکیا

Bomb, n. An explosive iron shell : بمب کا گولا

Bombard, v. t. To attack with bombs : گولے چلانا - توپوں سے اڑانا

Bombardment, n. Attack with bombs : گولا : اندازی - گولونکی مار - گولا باری

Bombast, n. High sounding words ; a pompous style : لغت تراشی - لغافی

Bombastic, a. High-sounding ; pompous ; بڑے بڑے الفاظ سے بھرا ہوا - مبالغہ آمیز

Bonafide, a. (L.) In good faith : truly : ایماناً - سچا - نیک نیتی سے

Bonbon, n. A sugar plum ; sugar confectionary : بٹاشہ - کھانڈے کھانڈے

Bond, n. That which binds as a cord, &c. : **Any written obligation ; fetters ; imprisonment :** * بند - زنجیر - قرار نامہ - تمسک - دستاویز - مچھانکہ * **Penalty—,** بیڑی - ٹوڈ

Bondage, n. A slavery ; imprisonment : غلامی - قید - اسیری

Bondsman, n. A surety ; a slave : ضامن - غلام - بندہ

Bone, n. A firm hard substance of a dull white colour in animal body : * **استخوان - ہڈی** * **A—of contention, a subject of dispute :** * **To make no—s, to have no scruple :** * **Body and—,** a. Entirely : - کچھہ اندیشہ - بٹاشہ - جھگڑے کی چیز - زھر کی گانٹھہ بالکل - **To pick a—** with any one, to dispute : - **To the—,** to the inmost part : تکر

Bone-ache, n. Pain in the bones : ہڈی کا درد

Bonfire, n. A fire made for triumph : آتش شاد : مانی - روشنی - خوشی کا الاڑ

Bonmot, n. A joke ; a witty repartee : - چٹکلا - طرائف - لطیفہ - نکتہ

Bonnet, n. A covering for the head worn by females : زنانہ ٹوپی

Bonny, a. Handsome ; gay ; plump : خوبصورت - گداز

Bonus, n. A premium given by way of addition : انعام - نفع

Bony, a. Consisting of bones; stout: ہڈی دار - مضبوط

Booby, n. A large aquatic bird: آبی پرند * A dunce; a stupid fellow: احمق - بیوقوف - سادہ لوح

Book, n. A volume; a particular part of a work: پر توہی * **To be in one's good—s or good graces,** to stand in high favour with one: کسی کا منظور نظر ہونا * **To bring one to—,** to call a person to account: حساب مانگنا

—, **v. a.** To register in a book; to forward; to give one a conveyance ticket: کتاب میں درج کرنا - روانہ کرنا - راہ داری کا ٹکٹ

Bookbinder, n. One whose occupation is to bind books: جلد بند

Bookbinding, n. The art of binding books: جلد سازی - صحافی

Booking-clerk, n. A ticket clerk at a Railway station: ریل پر ٹکٹ تقسیم کرنے والا مہزر

Bookish, a. Fond of study: شوقین علم - مطالعہ دوست - کتاب دوست

Book-keeper, n. One who keeps accounts: منیب - حساب رکھنے والا

Book-maker, n. One who writes or compiles books; a compiler: مولف

Bookmate, n. A school-fellow: ہم مدرسہ - ہم مکتب

Bookseller, n. One whose occupation is to sell books: کتب فروش

Bookworm, n. A worm or mite that eats holes in books; an eager student: کتابی کیڑا - پڑھنے کا شائق

Boom, n. A chain or bar across a harbour; the sound of cannon: بلی - چھڑ - آر - آرپ کی * **To rush violently; to roar:** زور سے جھپٹنا - گرجنا

Boon, n. A gift; a prayer; a favour: بخشش - استدعا - عنایت

—, **a.** Gay; kind: خوش طبع - مہربان - زندہ * **A—companion,** یار شاعر - دل - یار باش - دلی باز

Boor, n. A rude peasant; a clown: دھقانہ - گنوار

Boorish, a. Rude; uncivilised; awkward: ذابایستہ - اوجھ

Boose, v. t. To drink excessively: کثرت سے شراب پینا - چڑھانا

Boot, v. t. To profit; to benefit: حاصل کرنا - زائدہ اٹھانا

—, **n.** Profit: نفع * A leather covering for the foot and leg: ٹبہا جوتا * **To—,** in addition to: اور بھی - زیادہ - رکن - گھارا

Booth, n. A stall or tent in a fair: چھونچڑا - ڈبیرا

Bootless, a. Useless; unprofitable; vain: لا حاصل - بیوایدہ - خالی

Boot-lick, n. — خورشامی - چاچاروس چیر فتائیہ - جوتیاں سیدھی کرنے والا

Boot-maker, n. One whose occupation is to make boots: موزچی

Boot-tree, Boot-last, n. A last or wooden mould for stretching boots: (kálbud): کالبد

Booty, n. Spoil taken in war; plunder: مال غنیمت - لوٹ

Booze, v. i. Same, as Boose.

Bo-peep, n. A game to amuse children: آنکھ منچواری

Borax, n. A compound of boracic acid and soda: سورا کا

Border, n. The outer part or edge of anything; a boundary: کنارہ - دامن - سوائے - حد - مگزی - سنجاف - بیل - حاشیہ (on cloth or paper) - روش (in a garden)

—, **v. t.** To be adjacent; to adorn with a border: متصل ہونا - چھونا - ملنا - سنجاف لگانا

Borderer, n. A dweller on the border: سرحدی - باشندہ

Bore, v. t. To pierce: سوراخ کرنا * **To vex:** دق کرنا - چھیڑنا

—, **n.** A hole made by boring: سوراخ * A person that annoys: مغز چات * **The advancing front of a tidal wave in a river:** * طغیانی * **The cavity of a gun:** اندرونی قطر

Boreal, a. Northern: شمالی - آرتری

Boreas, n. The north wind: باد شمال

Borecole, Kale, n. A kind of cabbage having curled or wrinkled leaves: نرم کلمہ - گانٹھہ گربی

Born, *pp.* of **Bear** (to bring forth). Brought forth : زایدہ - جنا - زادہ

Borne, *pp.* of **Bear** (to carry). Carried ; supported : لے جایا گیا - سہارا دیا گیا

Borough, *n.* A town entitled to send one or more members to Parliament ; an incorporated town : تہذیبہ جر اپنا ممبر پارلیمنٹ میں بھیج سکے

Borrow, *v. t.* To ask or receive as a loan ; to adopt ; to imitate : ادھار مانگنا - قرض لینا
To borrow on usury brings sudden misery : * مرگنا بیجا بھیج منگے
 He that goes a borrowing goes a sorrowing : ادھار کھائے کاپس بسائے

Bosage, *n.* Thicket underwood : جھاری - جھار کھت

Bosh, *a.* Nonsense ; trash ; void of meaning : بے مطلب - بے معنی - مہمل

Bosom, *n.* The breast ; the heart ; embrace ; the interior : اندرون * *n.* سینہ - دل - بغل گیری - اندرون
 Confidential ; intimate : گارہا - معتبر - جگری - دلپی

—, *v. t.* To enclose in the bosom ; to cherish ; to conceal : دل میں رکھنا - چھپانا

Boss, *n.* Protuberant part ; a stud ; master ; superintendent : نکلا ہوا حصہ - پھول - مالک - حاکم - مستم

Botanic, **Botanical**, *a.* Relating to plants : نباتاتی

Botanist, *n.* One skilled in botany ; a naturalist : علم نباتات داں

Botanize, *v. t.* To seek for studying plants and collect plants for study : پودوں کو جمع کرکے ترتیب سے لگانا اور مطالعہ کرنا

Botany, *n.* The science that treats of plants : علم نباتات

Botch, *n.* A swelling on the skin : - ددڑا - کچٹا یا * *A clumsy performance* : چٹپی - پھنسی ناقص کام

—, *v. t.* To mend or patch clothes clumsily : پیوند لگانا - اتاری پن سے مرمت کرنا

Botchy, *a.* Marked with botches ; clumsy : پیوند لگا ہوا

Both, *a.* and *pro.* The one and the other ; the two : * *conj.* As well - دونوں

Bother, *v. t.* To tease ; to perplex ; to give trouble to : تنگ کرنا - کھجانا

Botheration, *n.* Trouble ; vexation : - دقت جھمیل - بکھیرا

Bost, *n.* The larvæ of the gadfly : جوتک

Bottle, *n.* A glass vessel to hold liquor : بوتل - گدو - گھیا - * *gourd* : قرابہ

—, *v. t.* To put into a bottle : بوتل میں بھرنا * *companion*, a companion in drinking : ہم پیالہ

Bottom, *n.* The lowest part of anything foundation ; seat ; stanim ; vessel : - پینڈی - ٹھٹھی بنا - نشست - استکام - جہاز

Bottomless, *a.* Unfathomable : اگم - انتہاء

Bottomry, *n.* Money borrowed on a ship : قرض لینا جہاز کی مالیت پر - جہاز بندھک

Boudoir (*Boo-dwar*), *n.* A lady's private room : زنان خانہ - خاور گاہ

Bough (*bou*), *n.* A branch of a tree : شاخ - ڈالی * **The boughs that bear most hangmost** : شاخ پر میوہ سر پر زمین (جتنا پھلے اورتنا جھکے)

Bought, *v. t.* Past tense or *pp.* of **Buy** : خریدنا

Bought, *n.* A bend ; the part of the sling that contains the stone : خم - پیچ - مرز - گوبن کی چالی جس میں پتھر رکھ کر پھینکتے ہیں

Bouillon, *n.* (Pron. *Bul-yon.*) Clear soup especially from beef : بوریا خاصکر گائے کے گوشت - تا - پھنی

Boulder, *n.* A large stone rounded : پھر کا پڑا * **By the actions of water** ; a large pebble : گول مزل پتھر - پٹا

Bounce, *v. i.* To leap or spring suddenly : * *n.* A leap : * **To brag** : چھلانگ مارنا * **A heavy blow** : دھماکا - چوکھی

Bound, *n.* A spring ; a jump ; a limit : چھلانگ - پھلانگ - حد

Bound, *v. t. or i.* To limit ; to form a boundary ; to restrain ; to spring : حد باندھنا - کھیرنا - کرنا

—, *a.* Destined ; intending to go ; under an obligation ; tied ; having a binding (as a book) : * *bound* : - والا - روانہ ہونے والا بندھا ہوا - * *bound* : فرض - مجب

- Boundary, n.** A limit; separating line: حد - حد
حد - خطا وحدانی
- Bouden, n.** Binding; indispensable; obligatory: لازمی - ضروری
- Boundless, a.** Unlimited; unconfined: بے حد - لامتناہی
- Bounteous, a.** Liberal; bountiful; generous: سخی - فیاض
- Bountiful, a.** Liberal; abundant: کریم - سخی - نشادہ دل - وافر
- Bounty, n.** Generosity; liberality; munificence; a generous gift: فیض - سفارت - کرم - بخشش
- Bouquet (boo-kay), n.** A nosegay; bunch of flowers: گلستانہ - پھولوں کا گچھا
- Bourgeois, (Pron. Boorzhu), n.** A member of the middle class; a tradesman: متوسط درجہ کا آدمی - بقال
- , (Pron. Burjois). A size of type between brevier and long primer: ایک قسم کا حرف جر: بزبور اور لانگ پرائمر کے درمیان ہوتا ہے
- Burgeon, v. t.** To bud; to shoot; to sprout: کھپ نکلنا - شاخ پھوٹنا
- Bourn, Bourne, n.** A bound; a limit; a stream: حد - انتہا - سورتا
- Bout, n.** A twist: * A contest: لڑائی * A debauch: شرابخواری
- Bovine, a.** Pertaining to cattle: مویشی کے متعلق
- Bow, v. t.** To bend the body in token of respect; to stoop; to depress; to crush: * Better to—than break, جھک چلے تو توڑنے کا ہے
- Bow (bo), n.** An instrument to shoot arrows; rain-bow; the stem or prow of a ship; a fiddle stick; an ornamental knot; an obeisance: کمان - جہاز کا سامنا - اگزی - ریشمی فیتہ کا پھول - گز * A pellet—, * Carders—, * غلیل * دھنکی * To bend a—, * To unbend a—, * کمان چڑھانا * To draw the long—, * کمان ادرتارنا, to exag- gerate: لمبی چوڑی مانگنا
- Bowels, n.** The intestines: * آنتیں * The inner part of anything: * اندرونی حصہ * Compassion: * رحم - ترس * The—of the earth, the interior part of the earth: زمین کا اندرونی حصہ
- Bower, n.** An arbour; (shady recess): * retired chamber: * خات خانہ: * کونج - کونجی - خات خانہ
- Bowl, n.** A hollow, round vessel: پیالہ - * A wooden ball for playing: لکڑی کا گیند
- , v. t. To play with bowls; to move rapidly like a ball: گیند سا ڈھلکنا - اور ڈھلکنا
- Bowler, n.** One who bowls at cricket: گیند دینے والا
- Bowling, n.** The act of rolling the ball at cricket: گیند دینا
- Bowling-green, n.** A level green for bowlers: فریٹ کھیلنے کا میدان
- Bowman, n.** An archer: تیر انداز
- Bowse, v. i. (Naut.)** To haul or pull hard: مالگر کھینچنا
- Bowshot, n.** The distance to which an arrow can be sent from a bow: وہ ذصلہ جہاں تک تیر کمان سے پھونچایا جا سکے
- Bowstring, n.** The string of a bow: کمان کا چلہ
- Bow-yer, n.** A maker of bows; an archer: کمان بنانے والا - تیر انداز
- Box, n.** A chest: * صندوق: * A blow on the head or ear: گھونسا * The driver's seat: ایک قسم کا * کرچیکس * A kind of tree: * شکار گھر * A small shooting house: * A present: * سنڈی گھر * A shelter for a sentry: * To be in the wrong—, to be mistaken: * غلطی میں ہونا * To be in a witness-ness—, to appear as a witness: شہادت دینا
- , v. t. To shut up in a box; to strike with the fist: بند کرنا - گھونسا مارنا
- Boxer, n.** One who fights with the fist: کھونس باز
- Boy, n.** A male child; a lad: لڑکا - چھوٹا
- Boycott, v. t.** To combine against by refusing to buy the products of: کسی ملک کی چیزوں کو خریدنے سے ملکر انکار کرنا
- Boyhood, n.** The state of being a boy: * لڑکپن - طفلی - بچپن
- Boyish, a.** Childish: * مزاج - چھتپن * Trifling: ہلچل
- Brace, v. t.** To bind close; to tighten: * ڈھکنا - بندھنا

Brace, n. A bandage; a support; a thick strap: آڙ - تسمه * A pair: چڙا * *pl.* Braces; straps that suspend pantaloons: پتلون کي گيلس

Bracelet, n. An ornament for the wrists: ننگن - پهرنجي - چڙي - کڙا

Bracing, a. Healthy invigorating: صحت بخش - مقوي

Bracket, n. A slight wooden or iron support: خطاره - The sign parenthesis: ديڙال گير
رحداني - () بيه نشان

Brackish, a. Saltish: کھاري - سر

Brag, v. i. To boast: شيعي مارنا
Syn.—Bluster, vaunt, swagger.

Braggart, n. A boaster; a vain fellow: شيعي باز

Braid, v. t. To weave together; to plait: بڻا - کوٽهنا

—, *n.* A texture: بناڙت * A sort of lace: آڙي - چالي * A knot: چڙ * A plait: گونا

Brain, n. The soft, whitish mass enclosed in the skull: دماغ - The understanding: مغز
عقل

—fever, *n.* Inflammation of the brain: سڙام

—sick, *a.* Diseased in the understanding; whimsical: پاگل - کورڙه مغز

Brainless, a. Without understanding; silly: نادان - بيوقوف

Brake, n. A thicket: جهاري * An instrument for dressing hemp or flax: کنگهي * A contrivance to retard the motion of carriage wheels: اٽڪاڙو * A harrow; a kneading trough: پٿرا - گوندهنه کا برتن

Bramble, n. A blackberry bush; any rough, prickly shrub: چوڙ بيڙي - خاردار جهاري

Bran, n. Husks of corn ground: چوڙو

Branch, n. A small bough: شاخ * A shoot: اولاد - نسل * Descendants of a family: صيغه - غصو
Section; limb: ٽهني

Branchlet, n. A small branch; a twig: ٽهني

Brand, n. A burning stick: جٽي هوٽي لکڙي * A sword: داغ - کلنگ * stigma: تلوڙ - کڙ

* داغنه کا لڙها * A hot iron for marking: *v. t.* To burn with a hot iron; to stigmatise: جلائو - بدنام کرنا

Brandish, v. t. To wave, as a weapon; to strike about; to flourish: گھمنا - پھراڻا

Brandnew, a. Quite new: تھه درز - کورڙا

Brandy, n. An ardent spirit distilled from wine: براندي شراب

Brasier, n. An artificer who works in brass: نسيرا - ٽھٽيرا

Brass, n. An alloy of copper and zinc: پيٽل * Impudence: شوخي

Brassy, a. Like brass; impudent: پيٽل سا - شوع

Brat, n. A child, so called in contempt: چور کڙا - کٽيٽي بچي - چينگا پوٽو

Bravado, n. A boastful or threatening behaviour: لاف گزاف - دھمڪي

Brave, a. Courageous; bold; daring; excellent: دلير - بہادر - شجاعت والا - جرات والا - خوب

—, *v. t.* To defy; to meet with courage: سامنا کرنا - مقابلہ کرنا

Bravery, n. Intrepidity; courage; heroism; splendour; finery: بہادري - دليري - جوانمردي - چمڪ دمڪ - ذوق برق - پورشاڪ

Bravo, n. An assassin or murderer: خوني قاتل - کیا خوب - *inter.* Well done! excellent! رازہ رازہ

Brawl, v. t. To quarrel noisily; to wrangle: جھگڙا * *n.* A noisy quarrel: غل مچانا

Brawn, n. The salted flesh of a boar: سرر کا * The muscular part of the body: پٽھيا - بازو

Brawny, a. Muscular; having great strength of muscles: شہزور - قوي

Bray, v. i. To utter a harsh cry, as an ass: زينڪنا

Braze, v. t. To solder with brass: پيٽل سے مزھنا - جھالنا

Brazen, a. Made of brass: پيٽل کا * Impudent: بيھيا - گستاخ

Brazen-faced, a. Shameless; impudent: پے شرم - گستاخ - شوع

Breach, n. A gap : سرراخ - شکاف * Violation of a law or contract : عہد شکنی * A quarrel : جھگڑا

Syn.—Rent, cleft, disruption, dispute, contention.

Ant.—Contiguity, adhesion, union.

Bread, n. Food made of ground corn : روٹی -
—winner, one who works for the support of the family : کمپنرا * —and butter : (لفظی معنی) مکھن روٹی (مٹھاہارہ) * To fight with one's—and butter, پھرتی تھاپی میں لات مارنا

Breadth, n. Distance from side to side; width : پھاٹ (of a river) - عرض - چوڑائی (of a wall) اتار

Break, v. t. To part by violence : توڑنا * To violate : عہد شکنی کرنا * To interrupt ; to destroy : مغل ہرنا - قطع کرنا * To tame : پالنا - نکالنا

—, v. i. To burst : ٹوٹ یا پھٹ جانا * To come to view : نظر آنا * To become bankrupt : ٹوٹ جانا * To lose health : کمزور ہونا * To—off, to discontinue : بند کرنا * To—up, to separate : علیحدہ ہونا * To—ground, to begin : رنج * To—the heart, to afflict : دل دکھانا * To—the ice, to make a beginning : بند ہو جانا * To—down, to fail or to come down by breaking : بند ہو جانا * To—forth, to issue suddenly : برچھ * To—bulk, to unload : نکل پڑنا * To—over, to dash forth : اورتارنا * To—a house : نقب لگانا - سیند دینا * To—, to enter unexpectedly : گھس * To—into, to enter forcibly : اچانک آجانا * To—out, to issue forth : نکل پڑنا * To—, to arise or spring up : پھیلنا * To—, to part friendship with : قطع تعلق کرنا * To—news to one, to communicate bad news to one gently : کسی کو اسطرح پر خبر بد سنانا جوسیں صبح - ترکا * —of day, dawn : اسے صدمہ نہ پھونچے

Breakage, n. Act of breaking : شکستگی * An allowance for things broken in transportation :

ردانگی میں چھروں کے ٹوٹ جانیکا معاوضہ منہای باہت شکست ریخت

Breaker, n. One that breaks : * توڑنے والا * A wave broken on a rock or on the shore : چٹان پر ٹکرائے والی لہر

Breakfast, n. The first meal in the day - حاضرہی * Hope is a good—but it is a bad supper, اچھی آس کلیوا بیابا آس جی لیرا * ڈشٹا

Breakneck, a. Violent ; dangerous : خطرہ - ناک - تہاشا

Break up, n. Dispersion ; dissolution - انتشار - بربادی - انہدام

Breakwater, n. A mole to break the force of the waves : لہر توڑ - پشتہ بند

—, v. i. To cleanse a ship's bottom : جہاز کے نیچے کے حصہ کو صاف کرنا

Breast, n. The bosom ; the mother's nipple : دل - ضمیر - من * The heart ; the conscience : سینہ - چوچی - پستان

—, v. t. To meet in front : مقابلہ کرنا * To make a clean—, to disclose fully and without reserve : مابعد کا بظاہر نکالنا - صاف صاف کہنا

Breast-plate, n. Armour for the breast ; a strap that runs across a horse's breast : چار آئینہ - جہاتی تک ارنچا

Breath, n. The air drawn in and ejected out of the body ; respiration : دم * Life ; breeze : سانس - دم * Respite ; an instant : ہوا - جان * A puff of wind : ہوا کی رمق * Fragrance : سسکاری * To take away one's—, to cause surprise : متعجب کرنا * Under one's—, very quietly : بہت خاموشی سے - بالکل چپ چاپ

Breathe, v. i. To draw in and expel the air ; to live ; to utter softly : سانس لینا - جینا - * To inhale ; to infuse ; to exhale ; to utter (softly) ; to divulge ; to allow to take a little rest : دم لینا - آہستہ سے کہنا * To—, to exhale ; to utter (softly) ; to divulge ; to allow to take a little rest : اندر پھونکنا یا * To—, to exhale ; to utter (softly) ; to divulge ; to allow to take a little rest : سستانا یا دم لینے دینا * To—, to die : مر جانا - گذر جانا

Breathless, a. Out of breath ; spent with labour ; dead : بیدم - ہانپتا ہوا - مردہ

Breech, *n.* The lowest part of the body; the club end of a gun : چوڑے - بندھن کی پینڈی

Breeches, *n.* Trousers : پاجامہ

Breed, *v. t.* To beget; to bring up; to educate : چننا - پرورش کرنا - تعلیم دینا

—, *n.* Race or progeny; kind : قسم - ذات

Cross : اصیل - کھرا * Pure : درغلنا

Syn.—Engender, generate, produce.

Breeding, *n.* Nurture; education; manners : پرورش - تہذیب - تہذیب

Breeze, *n.* A light wind; a disturbance; باد صبا - نسیم - رنجش

Brethren, *n. pl.* of Brother : بھائی - بھائی

Brevier, *n.* A small kind of printing type : ایک چھوٹے قسم کا ڈاٹ

Brevity, *n.* Conciseness; shortness : اختصار - کوتاہی - چھوٹائی

Brew, *v. t.* To make malt liquor : بڑا کھی کرنا * *v. t.* To contrive; to plot : تدبیر کرنا - منصوبہ باندھنا

Brewery, *n.* A place for brewing : بڑا خانہ

Bribe, *n.* A reward given to corrupt or influence : رشوت * *v. t.* To give a bribe : رشوت یا گھوس دینا

Bribery, *n.* The practice of giving or taking bribes : رشوت خوری - رشوت ستانی

Brick, *n.* A mass of burnt clay : خشت - اینٹ : خرخش مزاج : آدمی

Brick-bat, *n.* A piece of a brick : رڑا - ٹھکرا

Brick-dust, *n.* Dust made by pounding bricks : سرخی

Brick-kiln, *n.* A kiln for burning bricks : بڑا

Brick-layer, *n.* A mason : راج

Bridal, *n.* A nuptial festival; marriage : بیاہر - عروسی - شادیانہ - بیاہ - شادی

Bride, *n.* A woman recently married, or engaged to be married : عروس - دلہن - بھر

Bridegroom, *n.* A man newly married, or about to be married : نوٹہ - دولہا

Bridesmaid, *n.* A woman who attends on the bride : سہیلی

Bridge, *n.* A pathway erected over a river : ٹاکی کا بانسا * The upper part of the nose : ناک کا پل

Flying—, *n.* Suspension—, *n.* * پھیروں کا پل

Bridle, *n.* The reins by which a horse is governed : لگام * A check : روک

—, *v. t.* To restrain or curb; to hold in check : روکنا - لگام دینا - ضبط کرنا

Brief, *a.* Concise; short; contracted : مختصر - مختصر کہہ دیتا * I will be—, *n.* سنکشیپ

Brier, or Briar, *n.* A prickly shrub; a wild rose : ایک کاتے دار جھاڑی - سدا گلاب

Brig, *n.* A small square-rigged two-masted vessel : دو مستول والا جہاز

Brigade, *n.* A division of troops : فوج کا ایک پڑا : دستہ جسمیں کئی پلٹیں ہوتی ہیں

Brigand, *n.* A robber; a free-booter : تیرا-ڈاکر * In—, *n.* چوری - ڈکیتی - رھزنی

Brigandage, *n.* Theft; robbery; plunder : چوری - ڈکیتی - رھزنی

Bright, *a.* Shining; transparent; brilliant : اچلا کرنا - شفاف - چمکیلا - جلا دار - روشن

Brighten, *v. t.* To make bright; to make lustrous; to enliven; to shed light upon : اچلا کرنا - چمکانا - جلا دینا - روشن کرنا

Brightness, *n.* Brilliancy; lustre; acuteness : چمک دمک - رونق - آبداری - تیزی - آب و تاب

Brilliancy, *n.* Splendour; great brightness : تاب - چمک

Brilliant, *a.* Shining; sparkling; splendid : چمکدار - تابدار - آبدار

Brim, *n.* The rim or border of any vessel; the upper edge : ٹنڈا * The brink of a river : بڑا

To—over, to overflow : بھرا جانا * To fill to the—, to fill to the top : بھرا

Brimful, *a.* Full to the top : بھریز

Brimmer, *n.* A bumper : جام بھریز - ساغر لبالب

Brimstone, *n.* Sulphur : تھدھک

Brindled, *a.* Spotted; streaked : ابلق - کبوا

Brine, *n.* Saltish water; the sea; tears : نم شور - سمندر - آنسو

Bring, v. t. To fetch from; to conduct; to convey or carry to; to accompany; to induce: لے آنا - لانا - لے جانا - ساتھ لانا
To—about, to accomplish: * مایل کرنا
To—to book, to call to account; to reprimand: حساب لینا - لیکھا لینا
To—down, to lower; to abase: * پھینکارنا
To—forth, to produce; * کم کرنا - ذلیل کرنا
To—forward, to produce to view or notice: * پیش کرنا - نظر کرنا
To—in, to introduce; to supply: * مہیا کرنا
To—off, to procure; to be acquitted: * بری کرنا - چھوڑنا
To—on, to originate; * شروع کرنا
To—over, to cause to change an opinion: * تبدیل کرنا
To make well; * راضی کرنا
To—to, to stop: * ٹھہرانا - روکنا
To—under, to effect: * انجام دینا
To—up, to subdue: * قابض کرنا
To—up, to educate: * ترقیب دینا
To—up the rear, to follow: * پیچھے چلنا
To—to light, to make clear: * ظاہر کر دینا

Brink, n. The edge, as of a precipice; the bank; the border: کراہ - ساحل - کنارہ

Brisk, a. Lively; full of spirit; active: چنچل - چست - پھرتیل - تیز - چالاک

Brisket, n. The breast of an animal: جانور کا سینہ

Bristle, n. The stiff hair of swine: شہر کا بال

—, v. i. To stand erect like bristles: (رٹھیں کھڑے ہونا)

British, a. Pertaining to Great Britain: برطانیہ کا - انگریزی

Brittle, a. Easily broken; apt to break; fragile: کمزور - نازک - ہور ہورا

Broach, v. t. To pierce; to tap; to utter: چھیدنا - کھولنا - کہنا

Broad, v. Wide; extended; open: - کشادہ - کھلا ہوا یا صاف

Syn.—Extensive, ample, comprehensive.

Broad-brimmed, a. Having a broad brim: چوڑے کنارہ کا

Broadcast, a. Widely spread; diffused: بکھرا ہوا - بھیل ہوا

Broadcloth, n. A fine kind of woollen cloth: بانٹ

Broaden, v. t. To make broad: - چوڑا کرنا - چوڑانا - کشادہ کرنا

Broadside, n. The side of a ship: جہاز کا ایک پہار
 The discharge of all the guns on one side of ship: جہاز کے ایک پہار کی کل توپوں کی بارہ
 A sheet of paper printed on one side: ایک رخ چھپا ہوا کاغذ

Broadsword, n. A sword with a broad blade: تیغہ - کھڑکی

Brocate, n. A flowered silken stuff variegated with gold or silver: کمخواب - زربفت - تاش بادلا

Brochure (bro-shoor), n. A short pamphlet: رسالہ

Brocket, n. A red deer, two years old: دو برس کا لال ہرن

Brogue, n. A stout, coarse shoe; a dialectic pronunciation: گنوارر جوتا - گنوارر بول چال

Broil, n. A tumult; a noisy quarrel: - دنگا - نساد

Broil, v. t. To dress or cook by laying on the coals: بوڑنا - کباب کرنا

Broken, pp. Parted by violence; infirm; crushed; subdued; bankrupt: ٹوٹا ہوا - شکستہ
— down with misfortune: پھٹے حال - تباہ حال - خراب خستہ

Broken-hearted, a. Crushed by grief or despair: شکستہ خاطر - انسردہ خاطر

Broker, n. A commercial agent; middleman; a dealer in second-hand goods: دلال - بچولیا - کبابی - کہنے فروش

Brokerage, n. Commission of a broker: دلالی - دستوری

Bronchial, n. Belonging to the throat: حاق کے متعلق

Bronchitis, a. Inflammation of the tubes of the wind-pipe: حاق کی سرجن - ذات الریہ

Bronze, n. A reddish-brown metal, compounded of copper and tin: کانسا - پیتل - پھول

Brooch, n. An ornamental pin, or small buckle: * v. t. To adorn with jewels: جواہرات سے آراستہ کرنا

Brood, *v. i.* To sit on eggs; to hatch: انڈے
 * To ponder: غور کرنا * *n.* Offspring; the
 number hatched at once: اولاد - جھول

Brook, *n.* A rivulet: نالہ * *v. t.* To bear;
 to endure: برداشت کرنا - سہنا

Broom, *n.* A besom for sweeping: بڑھنی

Broth, *n.* Liquor in which flesh has been
 boiled: شوربا - بیضی

Brother, *n.* One born of the same parents;
 an associate: سگا بھائی - برادر - ہم صحبت

Brotherhood, *n.* Fraternity; an association:
 بھائی چارہ - برادری - بھائی بند

Brother-in-law, *n.* The husband of a sister,
 or a wife's brother: بھنوئی - سالا

Brotherly, *a.* Like brother; affectionate:
 برادرانہ - عزیز

Brow, *n.* The arch of hair over the eye:
 * The edge of any high place: ابرو - بھو
 * The forehead: پیشانی

Browbeat, *v. t.* To bear down; to humble;
 to disconcert; to abash: دبانا - جھوننا - دھمکانا -
 سخت نلامی سے شرمندہ کرنا

Brown, *a.* Dusky; inclining to red or yellow:
 بھورا - میگوں - یادامی

Brown-study, *n.* Deep meditation; reverie;
 absent-mindedness: غور - خوض - حالت بے خودی

Browse, *v. i.* To feed on the shoots and
 leaves of plants: چرنا - چگنا

Bruin, *n.* A bear: رنچھہ - بھالو

Bruise, *v. t.* To crush or mangle by blow;
 to contuse: کھولنا - کھولنا * *n.* A hurt made by
 a blunt instrument: کھولگی - چرت چپیت

Bruit, *v. t.* To report; to noise abroad: مشہور
 کرنا - شور مچانا

—, *n.* A rumour; a report: افواہ - شہرت -
 * Much bruit, little fruit (Great boast,
 little roast): اونچی درکان بڑھیکي پکوان

Brunette, *n.* A woman of a dark complexion:
 سانولی عورت

Brunt, *n.* A shock; onset; blow: صدمہ -
 حملہ - چوٹ

Brush, *n.* A broom for sweeping: کھنچي *
 A painter's pencil: * A fox's tail: بارنکا قلم
 دھارے کی لڑائی * A quick fight: لومڑی کی ڈم

—, *v. t.* To sweep with a brush: جھارنا - بھارنا *
 To move with haste: تیز چلنا * To up,
 to polish: چمکانا * To improve: دینا *
 To—against, to knock against: ٹکرائنا *
 To—up one's learning, To—
 or scamper off: کانور یا چمپت ہونا

Brushwood, *n.* Rough shrubby thickets:
 جھاری - جھار جھنکار

Brusque, *a.* Rough; rude: اوجھ - گنوار - اوجھ

Brutal, *a.* Pertaining to a brute; savage:
 حیوانی - وحشی - بے رحم

Syn.—Cruel, inhumane, ruthless, barbarous.

Brutality, *n.* Inhumanity; savageness: سنگدلی -
 بے رحمی - وحشت

Brutalize, *v. t.* To make savage: وحشی یا سنگدل
 بنانا

Brute, *n.* A beast: جانور * A cruel or an
 unreasoning man: تند خو یا بے تمیز شخص

Brutish, *a.* Bestial; savage; unfeeling;
 stupid: حیوانی - وحشی - بے رحم - بیوقوف

Syn.—Ignorant, stupid, savage, cruel.

Bubble, *n.* A water bladder; a delusive
 scheme: حباب - گلبہ - نا پائدار یا بے ثبات چیز

—, *v. i.* To rise in bubbles; to run with
 a gurgling noise: * گلبے اوتھنا - گز گزاتے ہوئے بھنا
 * *v. t.* To cheat; to deceive: دھوکا دینا - فریب کرنا

Bubo, *n.* A tumour in the groin: گٹھی - گٹھیا

Buccaneer, *n.* A pirate: سمندری ڈاکو - سمندری ڈاکو

Buck, *n.* A male deer; a beau: چوہلا - ہرنا - بانکا

Bucket, *n.* A vessel for drawing up water:
 ڈول - ڈولچپی

Buckle, *n.* A frame with tongue or catch to
 fasten things together: بکسوا - پیٹی

Buckler, *n.* A shield: ڈھال - سپر

—, *v. t.* To defend; to support: پناہ دینا -
 بچانا - محافظت کرنا - حمایت کرنا

Buckram, *n.* A coarse stiff cloth: تلب والا
 کپڑا - میان تہ

Bud, *n.* The first shoot of a plant; a germ;
 an undeveloped flower: * *v. t.* To
 put forth buds: کیانا

Syn. Sprout, germinate, blossom.

Buddhism, n. The religion of the greater part of Central and Eastern Asia called after its founder Buddha :
 بدھتہ مذہب

Budge, n. To move off ; to stir ; to walk away :
 سرکنا - ملنا - لٹنا

Budget, n. A bag ; a store : ذخیرہ *
 The annual financial statement : ملک کی آمدنی
 و خرچ کا سالانہ حساب

Buff, n. Leather prepared from buffalo or other skins ; military coat ; yellow colour :
 * In buff, * بوینس کا چمڑا - سیاہیالیانہ پوستیں - زرد رنگ
 استہین چمڑا کر * ٹنکا - بونہ
 * a. Light yellow : کا * کھڑا ہونا

Buff, n. A buffet ; a blow : * v. t. To strike : مارنا

Buffalo, n. A species of the ox : بوینس

Buffer, n. A contrivance affixed to railway carriages to break the force of a collision :
 تھاپی - ریل گاڑی کی ٹکر روکنے والی چیز

Buffet, n. A blow with the fist ; a slap :
 گھرنسا - توڑ

Buffoon, n. A low jester : مسخرہ

Buffoonery, n. Low jests ; mimicry : مسخرہ
 ہن - نقالی

Buffoonize, v. i. To play the fool : کھونا

Bug, n. An ugly insect infesting beds, houses, &c. : کھمبل

Bug-bear, n. A false terror ; an idle phantom :
 جھوٹی ڈرائیوٹی شہ - لو لہ - ہوا

Buggy, n. A four-wheeled vehicle : چار پہیوں
 کی گھوڑا گاڑی - بگھی

Bugle, n. A musical wind instrument : بگل -
 نرسنگھا

Bugle-horn, n. A hunting horn : شکاری
 نرسنگھا

Build, v. t. To raise ; to construct ; to establish ; to strengthen : بنانا - تعمیر کرنا -
 آٹھانا - * To—castles in the air, to form impracticable schemes :
 خیالی پلاؤ

بوروں * To build on, * پکانا - من کے لٹو پھوڑنا
 * (محصن امید پر کبھی : بوروس نہ کرنا) (as : Never build on mere hopes or expectation)
 بڑا خوش قطع یا خوش اصرار

(as : He is a man of fine build : بڑا
 * A man of powerful build,
 قوی ہیکل آدمی

Building, n. The act of constructing ; an edifice :
 تعمیر - عمارت - مکان

Bulb, n. A round scaly root, as onion, tulip, &c. :
 (of a thermometer) - کانٹہ - پوتھی :
 کونھی

Bulbous, a. Having or pertaining to bulbs or a bulb :
 گھبلا - کانٹہدار

Bulge, n. The protuberant part of a cask ; a protuberance :
 * پینچہ کا اڑھو ہوا حصہ - اڑھون
 v. t. To swell or jut out :
 پھولنا - اڑھونا

Bulk, n. Magnitude ; size ; mass ; the largest part ; the greatest number :
 جسامت - قد -
 مقدار - بڑا حصہ یا تعداد

Bulk-head, n. A partition made across a ship with boards :
 جہاز میں تختوں کی دیوار

Bulky, a. Of great size ; large :
 - بڑا -
 جسامت - زیادہ

Bull, n. The male of bovine animals : * سالتہ
 * A blunder : * پوب کا حکم :
 A papal edict :
 * A paradox : * خرافات :
 An absurdity : * غلطی
 کونھی بات جو شاعرانہ بیہوشی ہو لیکن فور کرنے سے
 صحیح معلوم ہو

Bull's-eye, n. A hole or opening in a wall or other structure :
 گول روشندان - حدف کا بیچ یا مرکز

Bull-dog, n. A dog of particular form remarkable for his courage :
 بڑا چوڑے منہ کا کتا

Bull-dozing, n. Intimidating ; bullying ;
 ڈرانا - دھمکانا - ڈانٹنا :
 flogging : کوزے بازی کرنا

Bullet, n. A small ball : گولی

Bulletin, n. An official report : کیفیت باضابطہ

Bull-finch, n. A singing bird : ایک گائیوالی چیزیا

Bullion, n. Gold or silver in the lump : چاندی
 یا سونے کی اینٹ

Bullock, n. A young bull ; an ox :
 - بھل -
 بدھیا - نرگاڑ

Bully, n. A noisy, quarrelsome fellow ; a blusterer ; a hector :
 کلہ زب - لڑاکا - کلا دراڑ -
 اگڑوں

—, v. i. To overbear with menaces ; to threaten :
 چھوڑنا - دھمکانا

Bulwark, n. A fortification ; a rampart :
 کورت - قلعہ - شہر پناہ

Bumbailiff, n. A bailiff of the lowest kind :
 نائب ناظر

Bumblebee, *n.* A humble bee : بھونٹرا

Bump, *n.* A swelling : گومڑا * A heavy blow : ٹکر - صدمہ

—, *v. t.* To strike against anything large or solid ; to come in collision : ٹکرانا - ٹھونکنا - دھکا کھانا یا دینا

Bumper, *n.* A cup or glass filled to the brim : جام لبریز

Bumpkin, *n.* A clown ; an awkward person : گنوار - دھقانہ - کندہ ناٹراشیدہ

Bun, *n.* A small sweet cake : چوڑھی میٹھی پکڑی

Bunch, *n.* A hard lump ; a cluster ; a knot : گانٹھہ - گچھا - گڑہ

Bundle, *n.* A number of things bound together ; a pack ; a parcel : گٹھا - گڈھری - پوٹھی

Bundle, *v. t.* To tie in a bundle ; to put up together ; to send away : ٹاٹھری باندھنا * To—off out, to turn out : نکال باہر کرنا

Bung, *n.* A stopper for a barrel : ڈاٹ - گٹا

Bungalow, *n.* A house or cottage of a single floor which is either thatched or tiled : بنگلہ گھر - بنگلہ

Bungle, *v. i.* To work clumsily ; to botch : پورے پڑنے سے کرنا - بگاڑنا

Bungler, *n.* A bad workman : کام بگاڑنے والا - پورھڑ

Buoy, *n.* A floating mark to point out danger ; a float : لنگر نما پانی پر تیرنے والا نشان

—, *v. t.* To keep afloat : تیرتا رکھنا - تیرندہ - شنار سمیٹانا

Buoyancy, *n.* The quality of floating : پانی یا Light-heartedness ; vivacity : ہر ا میں بہنے کی خاصیت زندہ دلی - خوش طبعی

Buoyant, *a.* That which will not sink ; light : ہلکا - ٹھیک

Burden, *n.* A load : القرا * A chorus : وبال * Cargo : بار * Something grievous : بار ثبوت * — of proof : بار ثبوت * — of proof : بار ثبوت * The main theme : اصل موضوع * *v. t.* To load : لادنا * To oppress : ظلم کرنا

Burdensome, *a.* Grievous ; troublesome : دشوار - تکلیف دہ

svn.—Heavy, onerous, ponderous, oppressive.

Bureau (*buro*), *n.* A desk with drawers & papers ; an office ; a department : کھنڈے کی میز - دفتر - سرشتہ

Bureaucracy, *n.* A system of departmental government : رشتہ کی حکومت - اعلیٰ کاروں کا راج

Burgois, *n.* A citizen ; a printing type : یس - ایک قسم کا حرف

Burgess, Burgher, *n.* A citizen ; a representative : ڈیس - قائم مقام

Burgh, *n.* A corporate town ; a borough : قصبہ جسکو پارلیمنٹ میں ممبر بھیجنے کا اختیار ہو

Burgher, *n.* A citizen : شہر یا قصبہ حقدار کا آزاد باشندہ

Burglar, *n.* A nocturnal house-breaker : نقبزن - سینڈ ٹانڈیرالا

Burglary, *n.* House-breaking by night : نقب زنی - سینڈ

Burial, *n.* The act of burying ; interment ; a funeral : دفن کرنا - تدفین و تدفین

Burin, *n.* A tool for engraving : نقش کرنے کا آلہ

Burke, *v. t.* To murder by suffocation : گلا گھرونت : دبا رکھنا * To dispose of quietly : کر مار ڈالنا * Suppress : چھپانا

Burlesque, *n.* A ludicrous representation : ہنسانے والی نقل

Burly, *a.* Of great bulk ; stout : قدآور - مستعد

Burn, *v. t.* To consume with fire ; to scorch : جلاتا - جھلساتا

—, *v. i.* To flame ; to glow : بھڑکنا

To be inflamed with passion or love : جوش

To—one's fingers, to get oneself into unexpected trouble : ہاتھ بیٹھانے کسی آفت

To—daylight, to waste time : میں بھنس جانا

To—the candle at both ends, to overtax one's energies : وقت ضایع کرنا

سخت محنت سے اپنی تندرستی میں خلل ڈالنا

Burning, *n.* On fire ; excessively hot ; glowing ; intense ; exciting fervid interest :

جلنا - سرزاں - ازحد گرم - دمکنا - تمنا - شدت

کا - اشد جوش پیدا کرنے والا - جلد فیصلہ طلب - متقاضی

Burning-glass, *n.* A glass which collects or condenses the rays of the sun : آتشی شیشہ

Burnish, v. t. To make smooth and bright ;
to polish : جھانکنا - صیقل کرنا - چمکدار کرنا

Burrow, n. A rabbit's hole : بھت - سوراخ - بھت

—, **v. i.** To make a hole in the ground to
live in ; to mine ; to hide : بھ بنانا - کھودنا -
چھپنا

Bursar, n. A college treasurer : کالج کا خزانچی

Burst, v. t. To break or rend by violence ;
to force open : توڑنا - پھاڑنا - پھوڑنا - توڑنا -
چٹکانا

—, **v. i.** To fly asunder ; to explode ; to
appear suddenly and unexpectedly : پھٹنا -

To—forth, * ٹوٹنا - توڑنا - شق ہونا - پھرت نکلنا
To—upon, to come upon violently : ٹوٹ پڑنا * ٹوٹ
To—open, to break open : ٹوٹ پڑنا * ٹوٹ
into tears, to weep bitterly : پھرت پھرت کر رونا

—, **n.** A sudden outbreak ; an explosion :
پھرت - توڑک - توڑک

Bury, v. t. To inter ; to put into a grave :
گھڑنا - دفنانا - مٹی دینا

Syn. - Entomb, inhumate, cover, conceal.

Burying-ground, n. A graveyard ; cemetery :
قبرستان - مرگھت

Bush, n. A thick shrub ; a tavern sign :
Good wine needs * جھاڑی - شراب خانہ کا نشان
no bush, مشک آنست کہ خود پیوید نہ کہ عطار گرید

Bushel, n. A measure of 32 seers :
سیر کا وزن

Bushy, a. Thick ; full of bushes : جھاڑ دار

Business, n. Employment ; occupation ; transac-
tion ; mercantile office ; duty : کام - شغل -
Business is the * بیوپار - کار و بار - پیشہ - فرض
To mind * شغل زندگی کی جان ہے
one's own—, Thriving—, * اپنے کام سے کام رکھو
چلتی دکان یا روزگار

Syn.—Affair, concern, matter, engagement,
occupation, profession.

Business-like, a Methodical ; practical :
اچھا - خاصہ - خوب

Buskin, n. A kind of half boot : ایک قسم کا
گر گابی اونچی اتری کا جوتا

Buss, n. A kiss : بوسہ - چوما - بگی

Bust, n. A statue representing the human
figure up to the breast : انسان کی ہیٹھ سے
سینہ تک

Bustard, n. An ostrich-like bird : ایک شتر مرغ
کی قسم کا پرند

Bustle, v. t. To stir quickly ; to be very busy :
درز دھوب کرنا - کام میں بھڑنا

—, **n.** Great stir ; hurried activity :
بھڑبھڑ - درز دھوب

Busy, a. Occupied with employment ; diligent ;
bustling : مصروف - محتلی - مشغول

Syn.—Active, industrious, lively.

Ant.—Inactive, dull, idle, careless.

But, prep. Except ; leaving out : سوائے - چھوڑ کر
ad. Only ; merely ; simply : فقہا

But, conj. Except ; save that ; on the con-
trary ; otherwise than that ; only ; yet ; un-
less : لیکن - الا - ماسوائے - بجز - بر خلاف اسکے -
بلکہ - صرف - فقہا - تاہم

Butcher, n. One who slaughters animals for
market : قصاب - بوجر

—, **v. t.** To slaughter for sale ; to murder
cruelly : ذبح کرنا - حلال کرنا - گردن مارنا

Butchery, n. Barbarous slaughter ; a slaugh-
ter-house : خون خرابہ - قتل - بوجر خانہ

Butler, n. A servant employed in furnishing
the table ; the head servant ; bottle or cup-
bearer : حانساماں - آبدار

Butt, n. A mark ; a target : نشانہ - حدف - چاند

A large cask : بڑا پیپہ * An object of

ridicule : * رے جسکی ہنسی کیجیے - کھلنا

A limit : حد * The thick end of a musket :

*** A blow given by a horned beast :
دھکا - رگڑ - ہدا**

Butter, n. A substance obtained from cream :

Butter is gold in the morning,

silver at noon, and lead at night, لقمہ صبحی

بہ از مرغ و ماہی

—, **v. t.** To dress with butter : مکھن لگانا -

He knows which side his bread is

battered, رے جاننا ہے کہ کس سے اسکو دینا ہے

Butterfly, n. A beautiful winged insect:

تکلی - پروانہ

Buttermilk, n. The milk that remains after the butter is separated from it:

مٹھا - چھاپھٹ

Buttery, n. A room where provisions are laid up:

بہنڈار - مردی خانہ

Buttock, n. The rump; the part near the tail:

چوتڑ - پٹھا

Button, n. A catch of metal to fasten dress, &c.; a knob:

بڑعام - بٹن - تکمہ - گھنٹی

Buttonhole, n. The hole in which a button is caught:

کاج - حلقہ

Buttress, n. A pier built to support the main wall:

پشتہ

Buxom, a. Gay; frolicsome; healthy:

خوش - چنچل - تندرست

Buy, v. t. To purchase:

* مول لینا - خریدنا

To bribe: رشوت دینا

* **To-off,** to purchase the non-intervention of:

رشوت دیکر کسی کی مداخلت

To-on credit, to make purchases on promise of paying afterwards:

* اردھار لینا

To-over, to detach by a bribe from one party towards the other:

* رشوت دیکر ملا لینا

To-and sell, to betray:

پکڑا دینا

Buzz, v. t. To whisper; to spread secretly:

پھسپھسانا - کان پھوسنی کرنا

—, v. i. To make a low, continuous, humming sound:

* **n.** The noise of a bee or fly; a hum:

پھنپھناہٹ - گرنج

Buzzard, n. A species of hawk; a blockhead:

بیزرف: * شکرا - احمق - گاڑی - ہرنڈو

By, ad. Near; aside:

نزدیک - پاس

—, prep. At; in; near; along with; by means of:

سے - میں - قریب - ساتھ - ذریعہ - سے

By-ones, -fits and starts, -

بیکریک - معرفت - ازورے

By-ones, -hook or by crook, -

چٹروں تیروں - مرچ سے

By-ones, -virtue of, -

آپنی بدولت - کر کے - کہینچ تان کے

By-ones, -your bounty, -

* بحیثیت

By-all-means, ad. Certainly:

بالضرور

By-and-by, ad. In a short time; presently:

تھوڑے عرصہ میں - جلد

By-gone, a. Past:

گذرا ہوا - گذشتہ

By-lane, n. A secluded lane:

بگلی - کوچہ - گلیا

By-law, Bye-law, n. A private rule or order of a society:

قاعدہ مخصوص

By-name, n. A nick name:

پُلانے کا نام - تعظیر کا نام

Byre, n. A cow-house:

گوشالہ

By-path, n. A side path:

پگھنٹی

By-stander, n. One who stands near; a spectator:

پاس کھڑا ہونے والا - تماشبین

By-the-bye, } ad. Incidentally:

تطاح کلاماً - خیر

By-the-way, }

گلی کوچہ

By-way, n. A side street:

کھوت - کہوت

By-word, n. A saying; a proverb:

مقولہ - ضرب المثل

C.

Cab, n. A covered carriage drawn by one horse:

ایک گھوڑے کی چھت دار گاڑی

Cabal, n. A junto; an intrigue; a plot:

بندش کرنا - بندش سازش

v. i. To form plots:

* بندش سازش کرنا

Cabalistical, a. Mysterious; secret:

پوشیدہ

Cabaret, n. A tavern:

میتخانہ - لال خانہ

Cabbage, (L. caput, the head) n. A vegetable with a large head used for food:

* **v. t.** To steal in cutting clothes; to pilfer:

چھت میں کھانا پکانے کا کمرہ

کٹ

چھت میں کھانا پکانے کا کمرہ

Cabin, n. A small room; an apartment in a ship:

کوٹھی - کمرہ

Cabinet, n. A closet:

* **The select** counsellors of government:

چیدہ مشیران سلطنت

*** An almirah:**

آلماری

Cable, n. A rope or chain used to restrain a vessel at anchor:

* جہاز کا رسا یا زنجیر

Submarine telegraph wire:

سمندر کا برقی تار

Caboose, n. The cooking-room of a ship:

پہاز میں کھانا پکانے کا کمرہ

Cabriolet, n. A small one horse carriage:

ایک گھوڑے کی گھلی ہوئی چھوٹی گاڑی

Caca, **Cocoa**, *n.* A species of palm tree and its nuts : ناریلک - گری

Cachet, (*Fr.*) *n.* A sealed letter : مہر شدہ خطا

Cachexy, *n.* A bad state of body : جسم کی خراب حالت

Cachinnation, *n.* Loud laughter : تہقہ - ہنسی

Cackle, *v. t.* To make a noise like a goose or hen : کر کر کرنا - کر کرنا

Cactus, *n.* A tropical prickly-leaved plant : ناک پھنی - تھوڑ

Cad, *n.* A low-bred, vulgar man : سفلہ - کمینہ - پاجی

Cadastral, *a.* Pertaining to landed property : متعلق جاہداد غیر منقولہ

Cadaver, *n.* A corpse : لاش

Cadaverous, *a.* Ghastly ; pale ; deathlike : زرد - مردہ سا

Cadence, *n.* A fall of voice in reading or speaking : لہجہ - دھن - آواز کا اُتار چڑھاؤ - تال

Cadet, *n.* A younger brother : * چھوٹا بھائی
A young man in a military school : جنگی مدرسہ کا طالب علم

Cadi, *n.* A Turkish magistrate : قاضی

Cafe, *n.* A coffee-house : قہرہ خانہ

Caftan, *n.* A Persian garment : ایرانی پوشاک

Cag, *n.* A small cask : کبی

Cage, *n.* An enclosure of two twigs or wire for confining birds ; a prison : پنجرہ - قید خانہ - قفس

Cage, *v. t.* To confine in a cage ; to shut up : قید رکھنا - پنجرے میں بند کرنا

Cairn, *n.* A conical heap of stones built as a memorial : پتھر لگے قبر پر گاڑم ستیڑ - مزار

Cattiff, *n.* A mean despicable person : کمینہ - بد ذات - ملعون

Cajole, *v. t.* To deceive by flattery ; to coax ; to wheedle : پھسلانہ - خوشامد کرنا - دم دینا

Cajolery, *n.* A wheedling ; flattery ; coaxing tricks : چاپلوسی - خوشامد - پھسلا لینے کے فن و فریب

Cake, *n.* A kind of delicate bread : ٹکیہ - چھاتی

Calabash, *n.* A gourd-shell dried : تونیا - لڑکی

Calamitous, *a.* Distressing ; miserable : آفت - مساببت زدہ

Syn.—Disastrous, distressful, afflictive.

Calamity, *n.* A great misfortune ; mishap : آفت - بلا - مصیبت

Syn.—Disaster, downfall, rain.

Ant.—Success, blessing, prosperity.

Calcareous, *a.* Containing chalk or lime : کھریا کا - چوڑے کا

Calcination, *n.* Act of pulverizing by fire : پھونکنا - جلانا - رسائی کا بنانا

Calcine, *v. t.* To reduce a substance to powder by heat : راکھ کرنا - برادہ بنانا - کشتہ کرنا - رسائی : بنانا

Calcitrate, *v. t.* To spurn ; to kick : لٹھانا - لاث مارنا

Calcium, *n.* The metal present in chalk, stucco and other compounds of lime. ایک فلز (دھات) جو کھریا - سنگ مرمر کے چوڑے اور دیگر چوڑے کے مرکبات میں موجود ہوتی ہے

Calculable, *a.* Computable : قابل شمار

Calculate, *v. t.* To reckon ; to compute ; to estimate : شمار کرنا - تھمینہ کرنا - گننا

Calculation, *n.* The act of calculating ; computation : گنتی - شمار - تھمینہ

Calculator, *n.* A reckoner : محاسب

Calculous, *a.* Stony ; gravelly ; gritty : پتھریلا - کڈکریلا

Calculus, *n.* A hard concretion in the bladder : گھڑی - گنتی * A method of computation : پتھری

Caldron, *n.* A large kettle ; a boiler : دیک - کڑھی

Calefacient, *n.* A substance that excites warmth ; heating : گرمی پھونپانے والی شے

Calfaction, *n.* The state of being heated : تپش - حرارت - گرمی

Calendar, *n.* A yearly register ; an almanac : تقویم - پتھرہ - جنتری

Calender, *v. t.* To dress cloth by hot pressing : استری کرنا - گھونٹنا

Calf, *n.* The young of a cow : بچھڑا * The thick part of the leg below the knee : ساق - پندلی

Calibre, *n.* The diameter of the bore of a gun : Mental capacity * بندوق یا توپ کے نال کی چوڑائی - * قابلیت - قوت دماغ

Calico, *n.* Printed cotton cloth (first got from Calicut) : دریس - چھپت

Calidity, *n.* Burning heat : گرمی - سرزہ

- Calligraphy, n.** Elegant penmanship: خوشنویسی
- Caliph, n.** A title assumed by the successors of Mohamed: خلیفہ
- Callisthenics, n. pl.** Exercises for the purpose of promoting gracefulness as well as strength of the body: جسم کی طاقت اور خوبصورتی بڑھانے کے لئے ورزش - کثرت زنازی
- Calix, n.** A flower cup: پھول کا پیالہ
- Calk, v. t.** To stop the leaks of a ship: جہاز کی درزیں بند کرنا
- Call, v. t.** To name; to summon or invite; to convoke; to cry out; to appeal to; to admit; to awaken: نام رکھنا - بولنا - پکارنا - گائی
- To—names, to abuse:** * To—names, to abuse: کالی
- To—out, to challenge:** * To—out, to challenge: دینا
- To—to the bar, to recollect:** * To—to the bar, to recollect: یاد کرنا
- To—to admit as a barrister or advocate:** وکلاء
- To—at, to visit a place:** * To—at, to visit a place: میں نام درج کرنا
- To—on or upon, to visit:** * To—on or upon, to visit: کسی مقام پر جانا
- To— to invoke:** * to invoke: مانگنا دینا
- To— for, to demand:** * To—in, to invite: طلب کرنا
- To—up, to remember:** * To—up, to remember: یاد کرنا
- To—to mind, to recollect:** * یاد آنا - یاد کرنا
- To—together, to bring together by a call:** * To—together, to bring together by a call:
- To—to arms, to order arms:** * To—to arms, to order arms: بلاں
- To—in question, to challenge;** * To—in question, to challenge: مساعہ ورنیکا حکم دینا
- To—to account, to demand explanation of:** * To—to account, to demand explanation of: مقابلہ چاہنا
- , n.** A summon or invitation; requisition; demand; a divine vocation; a short visit: بلاں - نیوٹا - پکار - حکم - حکم الہی - ملاقات
- Calligraphy, n.** Fine penmanship: خوش خطی
- Calling, n.** Profession; employment: پیشہ - خاندانی پیشہ - Ancestral—, شغل - کار بزرگرتکا پیشہ
- Callosity, n.** A hard swelling without pain: گلہبی - گتہ - ٹھپٹا
- Callous, a.** Hardened; insensible: سنگ دل - سخت - گتھور
- Syn.—Obdurate, hard, unfeeling.**

- Callow, a.** Unfledged; wanting feathers; naked: بے بال و پر - گیدا - ننکا - سمن - ناتجربہ کار
- Calm, Calmness, n.** Tranquillity; stillness serenity; composure; repose: خاموشی - سکون - قرار - قیام - آرام - راحت
- , a.** Quite; still: خاموش - استہور - ٹہرا ہوا - ٹہراٹھا - ٹہرانا - خاموش کرنا - ٹہندا کرنا - دھیمما کرنا - فرور کرنا - تسکین دینا
- Calmly, ad.** Without violence; quietly: خاموشی سے - چپکے سے
- Calomel, n.** A preparation of mercury, used in medicine: پارے کا کشتہ
- Caloric, n.** Supposed element of heat: مادہ گرمی - حرارت
- Calorific, a.** Causing heat: حرارت پیدا کرنے والا
- Calorimeter, n.** An instrument to measure the quantity of heat generated in a body: حرارت ڈاپنے کا آلہ
- Caltrap, n.** گرگھور
- Calumet, n.** An Indian pipe: نرشی - حقہ
- Calumniate, v. t.** To charge falsely; to slander: تہمت لگانا - بدنام کرنا - غیبت کرنا - تہمتان جوڑنا یا باندھنا
- Syn.—Vilify, malign, defame.**
- Calumniation, n.** False accusation: تہمت - الزام
- Calumnious, a.** Injurious to reputation; slanderous: تہمت انگیز - گلگتی
- Calumny, n.** A false charge to hurt some one: بدنامی - تہمت
- Sny.—Slander, defamation, libel.**
- Calve, v. i.** To bring forth a calf: بیانا - بچھہ دینا
- Calvity, n.** Baldness of the head: گنجاہن
- Calx, n.** Any thing rendered reducible to powder by burning: راگہ - کشتہ
- Cambric, n.** A fine linen or cotton: نمکھہ کپڑا
- Camel, n.** A beast of burden: شتر - ارنٹ * سار بان - شہر بان —driver, کار پلنگ
- Camelopard, n.** The giraffe: کار پلنگ
- Cameo, n.** A gem on which figures are engraved: جواہر جسپر تصویریں کھودی ہوں

Camera, n. A dark room or box used in taking photographs: عکسی تصویر کھینچنے کا جج کے کمرے میں - (بریل) - In — * صنوبری یا کمرے (مدالغ میں نہیں)

Camlet, n. A stuff made of wool and silk: ایک اونٹنی ریشمی کپڑا - پتھر - دھوا

Camp, n. The ground on which an army pitches its tents; an encampment: - پتڑا - چھاؤنی - لشکر گاہ

Campaign, n. A large, open plain; the time for which an army keeps the field: میدان جنگھائے مسائل - حرکات و سکنات فوج

Campaigner, n. An old experienced soldier: ایک پرانا تجربہ کار سپاہی

Camphor, n. A solid, fragrant substance, having medicinal properties: کانفر - کپور

Camphorate, v. t. To impregnate with camphor: کانفر سے باسنا

Can, n. A cup; a tin: پیالہ - قراہے - دردھہ قابل: *v. i.* To be able: وغیرہ کے لئے تین کا برتن ہونا - سکا

Canaille, n. The rabble: ارذل - کمینہ

Canakin, n. A little cup: کٹوری - پیالہ

Canal, n. An artificial watercourse; a tube or duct: نہر - ٹی - موزی

Canard, n. A hoax; an extravagant or absurd story: غپ - جھوٹی خبر - مبالغہ آمیز یا بیوردہ کہانی یا خبر

Canary-bird, n. An excellent singing bird: ہلکے نرنگ کا ایک عمدہ گانے والا پرند

Cancel, v. t. To cross a writing; to efface; to annul; to obliterate: قلم زد کرنا - زرد کرنا - خارج کرنا

Syn.—Abolish, revoke, abrogate, repeal.

Cancer, n. A crabfish: * کیکڑا * A sign of the zodiac: برج سرطان * A virulent swelling or sore: ناسور - سرطان

Cancerate, v. i. To grow into a cancer: ناسور ہوجانا

Candelabrum, n. A branched candlestick: فرشی جھاڑ - تیلیا - سرز

Candent, a. Glowing with heat: تابان

Candid, a. Fair; just; impartial: صاف - منصف - صاف دل - کھرا - سینہ صاف - بے لاک اپیت

Syn.—Sincere, open, frank.

Ant.—Cunning, deceitful, subtle, wily.

Candidate, (L. candidatus, clothed in white)

n. One who seeks some post; an applicant; an aspirant: امیدوار - خواستگار - طالب روز گاریا - امتحان

Candied, a. Preserved with sugar: قند میں ڈالا ہوا

Candle, n. A light made of wax or tallow, surrounding a wick of cotton; a taper: دستری کی پڑھیا کا سیر سُنٹائی - اس - The game is not worth the—, the results are not worth striving for: دن دراپی کرنا - دونوں ہاتھوں لٹانا

Candlemas, n. A Roman Catholic festival: روزمن کیتھولک عیسائیوں کا ایک تیرہوار

Candle-stick, n. The instrument that holds candles: شمعدان

Candour, n. Frankness; openness: صاف دلی - کھراپن

Candy, n. Sugar boiled, and hardened: مصری مرزہ پکایا - پانگنا
—, *v. t.* To preserve by coating with sugar:

Cane, n. A walking-stick; the plant which yields the sugar; a reed: * چوڑی - ایکہہ - بید * *v. t.* To beat with a cane: بید مارنا

Cane-brake, n. A thicket of canes: بید کی جھاڑی

Canine, a. Having the properties of a dog: سگ صفت - کتے کی خاصیت کا

Canker, n. A worm: * گھن * An eating or corroding ulcer: * گھاڑ * Anything that corrupts or consumes: * بگاڑنے یا سزا نیرالی شے * Cankering care: چنتا - گھن

Cankorous, a. Corroding like a canker: گھانیروالا - کرم خوردہ

Cannibal, n. One who eats human flesh; a man-eater: مردم خوری - راکھش

Cannibalism, n. Feeding on human flesh; barbarity: مردم خوری - بے رحمی

Cannon, n. A large gun: توپ

Cannonade, v. t. To attack with cannon :
گرنے چلانا

Cannonier, n. One who manages cannon :
گولہ انداز - توپچی

Canny, a. Artful ; cautious : -
چالکی - ہوشیار - سپنا

Canoe, n. A boat made by cutting the trunk
of a tree into a hollow vessel :
تونگا

Canon, n. A law or rule : شرع - قانون
* آئین - قانون
A kind of type : A church
dignitary : Holy scriptures :
A ایک قسم کا حرف
* ایک بڑے درجہ کا پادری
جمہلہ - ممتیز کتب - بائبل

Canonical, a. According to the canon ;
regular ; spiritual : شرعی - باقاعدہ - مذہبی

Canonicals, n. (pl.) A clergyman's full
dress : پادری کا جامہ

Canonize, v. t. To declare any one a saint :
رہی یا پھر قرار دینا

Canopy, n. A covering spread over the
head : چھتر - شامیالہ - سایہ بان

Cant, n. Whining, hypocritical speech :
ظاہر - ہاری - مکر - خوشامد

—, **a.** Inelegant ; affected ; vulgar :
نہیجا -
* بناوٹی - ناہائستہ
بناکر بولنا - اصطلاحی الفاظ استعمال کرنا :

Canteen, n. A shop in military barracks for
sale of liquor &c. : a vessel used by soldiers
for holding liquors : پلٹن کا شرابخانہ - شراب پینے
کا برتن

Canter, n. A hypocrite : * مکار
gallop : - میٹھا ہریہ

Canticle, n. Solomon's song ; a song :
بوسن - کیت - فزل الغزلت سلیمان

Cantlet, n. A fragment ; a piece : ذرہ

Canto, n. A book or section of a poem :
نظم کی کتاب کا ایک باب - کانتو

Canton, n. A small division of land : * پرگنہ
A clan : فرقہ - قوم

Cantonment, n. A division of a town &c.,
assigned to particular troops : جہازنی - صدر

Canty, a. Talkative ; cheerful : بگی - زندہ دل

Canvas, n. A coarse cloth used for sails,
tents, &c. : کڑھچ یا ولایتی ٹاٹ

Canvass, n. Close inspection ; solicitation of
votes : چانچ - امتحان - درخواست - تقرری

—, **v. t.** To examine thoroughly ; to dis-
cuss : * جانچنا - بحث کرنا
v. i. To solicit
votes : رائے مانگنا

Cap, n. A covering for the head : * کلا - ٹوپی
A chief : * سردار
* To set
one's—at, to use measures with a view to
matrimony : * کسی سے شادی کرنے کو آمادہ ہونا
* To touch the—,
To—verses, * بیت بازی کرنا
سالم کرنا

Capability, n. Capacity ; fitness :
استعداد - قاطیبت

Capable, a. Qualified for ; suitable :
قابل - سزاوار - لائق

Syn.—Able, competent, fitted, efficient.

Ant.—Incompetent, inefficient, awkward.

Capacious, a. Roomy ; spacious ; extensive :
کشادہ - فراخ - وسیع

Capacitate, v. t. To render capable ; to qualify :
قابل بنانا - لائق کرنا - قوت دینا

Capacity, n. The power of containing ; abili-
ty ; space ; character ; position :
گنجائش - قابلیت - وسعت - رسائی - حیثیت

Cap-a-pie, adv. (Fr.) From head to foot :
سرتاپا - سر سے پاؤں تک - کل - تمام

Caparison, n. A covering laid over the saddle ;
trappings : * جھول - ساز - زین پوش
v. t. To
dress pompously : ساز پہنانا - جھول ڈالنا

Cape, n. A promontory : * راس زمین
گرہیاں - بارانی -
The
necklace of a cloak or coat : گردنی

Caper, n. A leap or jump : * کود پھاند - جست
v. i. To skip merrily ; to dance :
کودنا - ناچنا - کھیلنا

Capias, n. A judicial writ directing the sheriff
to take and hold in custody the person named
therein : گرفتاری کا پوراٹہ

Capillaceous, a. Hairy : بالدار

Capillary, n. A minute vessel in the circulat-
ing system : * باریک رگ
a. Resembling a
hair ; minute : بالسا باریک - مہین

Capillose, a. Hairy : بالدار - جھیزا

Capital, a. Principal ; excellent ; affecting the life ; **latge** : خاص - عمدہ - سنگین - بڑا - کلاس

Capital, n. The uppermost part of a column : دارالسلطنت : * The chief city : ستون کے اوپر کا حصہ

* Large letters : بڑے حروف : * Stock or money : جرم سنگین * —crime, —punishment, سزائے موت - پھانسی - سرمایہ

Capitalist, n. One who possesses large funds : ساہوکار - سرمایہ دار

Capitalize, v. t. To convert into capital : روپیہ بنانا - نقدی کرنا

Capitally, ad. Nobly : * Chiefly : * خاص کر * خردی سے

Capitation, n. A numbering of persons : ہر شخص پر * Poll-tax : مردم شماری - شہاری - محصول

Capitulate, v. i. To surrender on condition : شرط کے ساتھ اطاعت قبول کرنا

Capon, n. A castrated cock : مرغ آختہ

Caprice, n. A fancy ; a whim ; a humour : خیال - دھم - گمان - تلون

Syn. - Freak, fancy, vagary.

Capricious, a. Fanciful ; whimsical : - خیالی - تلون مزاج * Changeable ; fickle : - دھمی

Capricorn, n. The winter solstice : - برج جدی - مکرراس

Capriform, a. Having the form of a goat : بکرا سا

Capsicum, n. A pungent pepper : تڑی لال مرچ

Capsize, v. t. To upset or overturn : پلٹنا - اڑنا

Capstan, n. A cylinder with levers to wind up any great weight : چرخ بہاری چیزیں اڑوانے کے لئے

Capsule, n. The seed-vessel of a plant ; a pod : پھل یا پھول جسمین باریک دانے ہوتے ہیں - 13

Captain, n. A naval or military commander : جہاز کا ناخدا - سپہ سالار - کپتان

Captaincy, n. The post of a captain : کپتان کا عہدہ

Captious, a. -Fault-finding ; carping ; censorious ; peevish ; fitted to harass : - نکتہ چینی

حجتی - حرف گیر - چڑچڑا - پریشان کرنے والا

Captivate, v. t. To take prisoner ; to subdue ; to charm : قید کرنا - زیر کرنا - فریفتہ کرنا

Captive, n. A prisoner of war ; a slave : قید - اسیر - غلام

Captivity, n. Confinement ; subjection ; servitude : قید - نظر بندی - اطاعت - غلامی

Captor, a. One who takes a prisoner or a prize : گرفتار نندہ - پکڑنے والا

Capture, n. Arrest ; seizure of a prize : - گرفت * v. t. To take by force ; to arrest : چھین لینا - گرفتار کرنا

Car, n. A small carriage ; a chariot of war or triumph ; a railway carriage : - چھکڑا - رتہ - ریل گاڑی

Carabine, Carbine, n. A light musket used by mounted troops : قزاقین

Caracole, v. i. To move obliquely ; to wheel : کارا کاٹنا - چکر لگانا

—, n. An oblique movement of a horse : - کارا چکر

Carafe, n. A water-bottle or decanter : - قرابہ - شیشے کی صراحی

Carat, n. The weight of 4 grains : چار گرین کا وزن برابر ایک رتی کے

Caravan, n. A body of travelling merchants or pilgrims : قافلہ - کاروان

Caravansary. (Pers.) n. An Eastern inn : کاروانسرایے - مسافر خانہ

Caraway, n. An aromatic plant or seed : زیرے کا درخت - ایچ

Carbon, n. Pure charcoal : کوئلہ

Carbonic, a. Pertaining to, or of carbon : کوئلے کے متعلق - کوئلے کا

Carbonic acid, n. A compound of oxygen and carbon formed by burning : کوئلے کی گیس

Carbonize, v. t. To convert into carbon : کوئلا کرنا

Carboy, n. A Turkish vessel to hold liquor : ترابہ

Carbuncle, n. A beautiful gem of a deep red colour : لعل خورشنگ * An inflammatory tumour : منہ بند گھاڑ - گویگھا

Carcanet, n. A chain of precious stones for the neck : جواررات کی زنجیر یا ہار

Carcass, n. A dead body of an animal corpse ; skeleton : لاش

Card, n. A piece of thick paper painted with figures used in games : گنجینہ * A paper containing an address : نام کا ٹکٹ * A note : رقعہ * The instrument with which wool is combed : اُون چھاڑنے کی کنگھی * On the—s, probable : ممکن ہونے والا - الزفرع * A great—, a popular man : ہر دل عزیز آدمی *—party, persons playing at cards : ناش کھیلنے والے

Card, v. t. To comb wool ; to unravel : دھننا

—, v. i. To play at cards ; to game : ناش کھیلنا - بازی لگانا

Cardamom, n. A medicinal seed : الائچی

Carder, n. One who cards wool : - دُراف - دھنکی * —'s bow, بہنا

Cardiac, a. Pertaining to or resembling the heart : متعلق دل - دل کا - مشابہ دل

Cardinal, a. Pre-eminent ; chief ; principal : —points the four quarters : مغرب - مشرق - شمال - جنوب * —virtues, prudence ; justice ; fortitude ; temperance : دور اندیشی - انصاف - استقلال - اعتدال

Cardinal, n. One of the chief governors of the Roman Catholic Church : رومن کیتھولک دین کا ایک بڑا افسر

Care, n. Charge ; anxiety ; caution : - حیردگی - of, c/e. * فکر - تردد - خیرداری - احتیاط - پرواہ فکر سے کیا فائدہ * Care is no cure, * معرفت - ہاتھ

Syn. —Solicitude, concern, attention.

Ant. —Heedlessness, inattention, neglect.

—, v. i. To be anxious or solicitous ; to be inclined ; to have a regard to : - متفکر ہونا - لحاظ رکھنا - پرواہ کرنا

Career, n. A race-course : درز * Swift motion : * طرز زندگی - روش * Way of life : تیز رفتاری Course of proceedings : دوران زمانہ

Careful, a. Full of care ; attentive : - خیردار ہوشیار

Carefulness, n. Great care ; vigilance : - خیرداری - ہوشیاری

Careless, a. Inattentive ; negligent : - بے پرواہ - غافل

Carelessness, n. Heedlessness ; inattention : بے پرواہی - غفلت

Caress, v. i. To treat with affection ; to fondle : دلا کرنا - پچھکارنا - چھاتی سے لگانا

Caret, n. A mark [A] indicating some omission : ہول کا نشان

Care worn, a. Vexed or burdened with care : متفکر - فکرمند

Cargo, n. A load specially of a ship : بار - بھرتی - کھیپ

Caricature, n. A ridiculous picture of a person ; a distorted picture : عجیب کی تصویر - بگڑی ہوئی تصویر - نقل خندہ اور

Caricaturist, n. One who makes caricatures : عجیب کی تصویر بنانے والا

Caries, n. Rottenness of the bones : متھیرنکا گلفا - سڑکا - بوسیدگی

Cariole, n. A light carriage for one person : ڈھم

Carious, a. Rotten ; decayed : سڑا ہوا - گلا ہوا

Cark, n. Care ; anxiety : فکر - سرج - اندیشہ

—and care : سرج - فکر

Carl, n. A rustic ; a clown : گھوار - دھاتی

Car-man, n. A driver of a cart : گاڑی بان -

Carminative, n. A medicine to relieve colic or pain in the bowels : دافع باد - دافع ریاح

Carmine, n. A rich red or crimson colour : قرمزی یا گہرا لال رنگ

Carnage, n. Massacre ; slaughter ; havoc : قتل - خوردہیزی - تباہی

Carnation, n. Flesh-colour ; a pink : گوشت کا سا رنگ - گنار

Carneous, a. Fleishy ; like flesh : گوشت دار - گوشت سا

Carnival, n. A festival celebrated among the Catholics, before Lent : کیتھولک لوگوں کا ایک جشن

Carnivora, n. (p.). Flesh-feeding animals :
گروشت خوار جانور

Carnivorous, n. Flesh-eating :
گروشت خوار

Carol, n. A song of joy :
گیت - نغمہ * *v. i.* To sing with joy :
گیت گانا - الاپنا

Carousal, n. A jovial feast ; drinking bout :
چشن - مي نوشي

Syn — Feast, banquet, festival.

Carouse, v. i. To drink abundantly :
ہرنا - بہت شراب پینا

Carp, v. i. To notice small faults ; to cavil :
عیب جوئی کرنا

Carpenter, n. A worker in timber :
تجار - بڑھئی

Carpentry, n. The business of a carpenter :
بڑھئی کا کام - تجاری

Carpet, n. A thick covering for floors, &c. :
On the—, under discussion :
تالین * غلیچہ - تالین

—knight, a stay-at-home soldier :
گھر کے پیر

Carriage, n. Conveyance ; vehicle :
بار برداری -
Behaviour : سزای گازی

Carrier, n. One who carries ; a messenger ; a species of pigeon :
ایجنٹیرالا - پیغام بر - نامہ بر - کیولر

Carrion, n. Dead and putrefying flesh :
مردہ یا سڑا ہوا گوشت

Carrot, n. A plant having a long esculent root :
گاجر

Carry, v. t. To bear or convey :
ایجانا * To urge or impel :
انجام دینا * To accomplish :
اُسکانا * To gain, حاصل کرنا * To contain :
رکھنا * To manage :
دلائل کرنا * To imply :
انتہام کرنا - چلانا * To behave :
سارک کرنا * To—off, to remove to a distance :
دور ایجانا * To kill or cause to die :
مار ڈالنا * To—on, to manage :
انتہام کرنا * To—out, to execute ;
تعمیل کرنا * To—one's point, to succeed :
کامیاب ہونا * To—
the day, to gain victory ; to prevail :
فتح پالنا - * To—
coals to Newcastle, to take a thing to a place where it abounds :
اورنہ

تعمیل کرنا - To—into effect, * پائس ہو جاتی کر
To—two faces under one hood,
گونا * در رنجی ہاتھیں کرنا
To—matters with a high hand, to exercise authority with a crushing force :
سختی کر ساتھ اختیار کرنا
کام میں لانا

Cart, n. A two-wheeled carriage used commonly for conveying luggage :
چھکڑا گاڑی

Cartage, n. Charge for carting :
گازی کا کرایہ - ڈھوانی

Carte, n. (Fr.) A bill of fare :
نوٹے کی فہرست
—blanche (carte blanche) n. Unlimited authority :
اکسی تصویر
—de-visite, A small photographic picture pasted on a card :
جو پورٹریٹ کا تہہ اُتاری جاوے

Cartel, n. An agreement between governments regarding the exchange of prisoners.
قیدیوں کی تبدیلی کا عہد و پیمانہ

Carter, n. A driver of cart :
گازی بان

Cartful, a. As much as a cart will contain :
گازی بھر - چھکڑا بھر

Cartilage, n. Gristle :
کر کری ہڈی

Cartography, n. Art of making charts maps :
علم قریب نقشہ جات

Cartoon, n. A painting or drawing upon large paper ; a pictorial caricature.
بڑی تصویر - تصویر پی ہجو

Cartouch, n. (Pro. Cartush) A case to hold balls :
کارٹوس کا ترسدان

Cartridge, n. A case of paper, &c. holding the exact charge of any firearm :
کارٹوس - قوتنا - گازی کی لیک

Cartrack, n. The track of a wheel :
گازی یا چھکڑا پنانے والا

Cartwright, n. A maker of carts :
سنگ تراشی کرنا * To engrave :
نشان لگانا * To mark :
سنگ تراش - سنگ تراش

Carver, n. One who carves :
سنگ تراشی * Figures carved :
نقش و نگار

Cascade, n. A waterfall :
آبشار - چھوٹا

Case, n. A covering, box or sheath ; غلاف -
 * صندوق-میان * A frame sub divided into boxes
 to hold printing types : حروف کا خانہ * An
 event, circumstance, state or condition :
 حالت * An inflection of nouns ; ماچرا - سرگشت
 * A cause in court : اسم بصیثیت ناعلیٰ یا مقعراي وغيره
 * —of address : مقدمہ عدالت : * منادی
 * In any—, ہر * مقدمہ کہڑا کرنا
 * To get up a—, ہر صورت * حال - ہر صورت
 * In case, شاید
 * To put the—, مسئلہ - فرض کر

Syn.—Situation, condition, event, cause, suit.

Casemate, n. A kind of vault or covered
 archwork : گنبد - قبة

Casement, n. A window that opens on hinges :
 چھوڑوٹھا - کھڑکی

Casous, a. Pertaining to or like cheese : پنیر کی
 مانند - پنیر سا

Casern, n. A lodge for soldiers : گوردوٹکا مکان -
 بارک

Cash, n. Money ; ready-money ; coin : زر نقد -
 تروڑانا * v. i. To turn into money : روکڑوٹو پیند
 بھوڑانا

Cash-book, n. A book in which is kept an
 account of money received and paid : روکڑوٹو بھي

Cashier, n. One who has charge of money :
 * v. t. To dismiss from an office or service :
 برخاست کرنا - موقوف کرنا

Cashmere, n. A rich kind of cloth made of the
 downy wool of the Cashmere goat : شال

Casino, n. A public building for dancing,
 music, &c. : عام ناچ گھر

Cask, n. A small barrel : پینا

Casket, n. A small chest or box for jewels,
 &c. : قبة - صندوقچه

Casque (cask), n. A helmet : ٹوپ - خوہ

Cassia, n. A fragrant aromatic spice : تیج پات

Cassock, n. A priest's undergarment : جبے
 پادري کا اندروني جامہ

Cast, v. t. To throw, fling or send : بھینکنا -
 ڈال دینا * To shed or throw off : چھٹانا - مارنا
 * To discard, dismiss or reject : چھوڑ دینا
 * To shed or : خارج کرنا - نکال دینا - نامنظر کرنا

impart : بھینک دینا * To throw down : ڈالنا
 To mould : ڈھالنا * To compute : حساب چوڑنا یا
 لگانا * To—aside, to dismiss or reject :
 * To—away, to reject : خارج کرنا
 * To waste by extravagance : بھینک دینا - ڈال دینا
 * To—down, to deject or depress : آڑا دینا
 * To—forth, to throw out : ناامید یا اداس ہونا
 * To—off, to discard : باہر بھینکنا
 * To—in one's lot with, to share the fate of : نکال باہر کرنا
 یا ٹپڑے یا * To—in the teeth, to
 upbraid : بے لے کا ساتھي ہر جانا
 * To—about for, to look for : ملامت کرنا
 * To—up, to add up : تلاش کرنا
 * To—young, to miscarry : حمل گرانا
 * To—lots, to determine by the drawing of lots :
 * To—a horoscope, to reckon a horoscope :
 زائچہ بنانا

—, n. A throw : بھینک (of dice)
 * Air or mien : رنگ * A tinge : نظر
 * Glance : وضح - طرز - انداز

Castanet, n. Small shells of ivory or hard
 wood, which dancers rattle in their hands :
 کبکال - چکچکی

Castaway, n. An abandoned person : خوار یا
 ناکارہ - ردی * a. Useless ; rejected : آوارہ شخص

Caste, n. A separate and fixed order or class
 of society ; a tribe : قوم - ذات

Castellan, n. The keeper of a castle : قلعدار

Castigate, v. t. To chastise ; to punish ; to
 criticize : تنبیہ کرنا - سزا دینا - تملہ چینی کرنا -
 خوب تاناؤ

Castigation, n. Chastisement ; correction :
 تنبیہ - تادیب - گوشمالی

Castigatory, n. Tending to correct or chastise ;
 punitive : درست کر دینا - تنبیہي

Casting, n. The running of liquid metal into
 a mould : ڈھالنا * Something formed of cast
 metal : ڈھالی ہوئی چیز * —vote, the vote
 given by the president to decide a question,
 when the votes of the other members are
 equally divided : میر مجلس کی فیصلہ کرنے والی رائے

Castle, n. A fortified house; a fortress :
 قلعہ - کوٹ * **To build**—s in the air, to make
 visionary projects : من کے لٹو پھوڑنا - خام خیالی
 کرنا

Castor, n. A beaver : اُرد بلاز

Castor-oil, n. Oil got from an Indian plant :
 رینڈی کا تیل

Castrate, v. i. To deprive of the testicles ;
 to geld : خرچہ کرنا - خصی کرنا - آختہ کرنا

Casual, a. Accidental ; arising from chance :
 ناگہانی - اتفاقی

Syn.—Uncertain, at random, incidental, occa-
 sional.

Casually, ad. Accidentally ; without design :
 اتفاقاً - بلا ارادہ

Casualty, n. A thing happening by chance ;
 an accident : موت * **Death** : اتفاق - حادثہ

Casulist, n. One who studies and settles cases
 of conscience : قیامہ - مرشد - گرو - قیامہ شناس

Casuistry, n. The science of a casuist : علم
 فقہ - اجتہاد

Cat, n. A domestic animal that catches mice :
 * **Jackal** : and dog, quarrelsome : * بلی - گڑبہ
To rain cats and dogs, to rain heavily :
 * **To let the—out of the**
bag, to disclose a secret : * راز فاش کر دینا
 —of nine tails, a whip with nine lashes :
 نو شاخونکا چابک

Catacomb, n. A subterranean cavity for the
 burial of the dead : سردونکی دفنانے کا تہہ خانہ

Catadupe, n. A waterfall : جھونا

Catalepsy, n. A sudden suspension of the
 senses and of volition : حالت سکوت - سکتہ

Catalogue, n. A list of books, names or
 titles : فہرست کتب - فہرست

Catamount, } n. The wild cat : }
Catamountain, }

Cataplasm, n. A kind of poultice : ایک قسم کی
 پورٹس یا لیپ

Catapult, n. A machine for throwing stones
 &c ; a sling : گڑبہن - منجنیق

Cataract, n. A great waterfall : آبشار
 * **A disorder in the eye** : موتیا بند -
 پھولپی - جالا

Catarrh, n. A profuse discharge from the
 nose : زکام - سردی

Catastrophe, n. An unhappy final event ;
 calamity : آنت - بلا - مصیبت

Catch, v. t. To seize ; to ensnare ; to receive
 infection : * **پکڑنا** - پھسانا - گرفتار کرنا - ارز کر لینا
To—at, to try to lay hold of : ہاتھ پڑھانا -
 * **To—cold,** to suffer from catarrh : پکڑنا
 * **To—up,** to snatch : * **To—at**
a straw, to grasp at something trifling
 and unsubstantial : ہلکی یا کمزور چیز کا سہارا
 * **To—a Tartar,** to seize an enemy
 who proves too strong : اپنے سے زیادہ مضبوط
 * **To be**
caught red-handed, برقت خرم پکڑ لینا

Catch, n. Seizure : گرفت * **An advantage**
 taken : * **A song sung in succession** :
 گیت

Catch-call, n. A squeaking instrument : سیٹی

Catch-penny, n. Anything got up merely to
 sell : سستی بکنے لائق چیز - لغانیہ

Catchpoll, n. A bailiff's follower : داروغہ عدالت
 کا پیادہ

Catchword, n. The word at the bottom of the
 page repeated at the top of the next page :
 صفحہ کے آخر کا لفظ جو دوسرے صفحہ کے شروع میں
 لکھا جاوے

Catechise, v. t. To instruct by asking ques-
 tions ; to interrogate : بذریعہ سوال و جواب تعلیم
 دینا - سوال کرنا

Catechism, n. A book of questions and an-
 swers : سوال و جواب کی کتاب

Catechist, n. One who instruct by questions :
 سوال کے ذریعہ سے تعلیم دینے والا - عیسائی واعظ

Catechu, n. An astringent substance extracted
 from an Indian plant : کتھا - کھیر

Catechumen, n. (*Pro. Cat'-'ekiu'men*) One who
 is yet in the first rudiments of Christianity :
 نو مزید عیسائی

Categorical, a. Absolute; positive; authoritative: **تعلیمی - مطلق - غیر مشروط**

Categorize, v. t. To classify: **جسوار کرنا - منقسم کرنا**

Category, n. A class; a rank; an order of ideas: **قسم - درجہ - رتبہ - سلسلہ خیالات**

Catenation, n. Regular connection; a link: **تسلل - الحاق - لگاؤ**

Cater, v. i. To provide with food, entertainments: **کھانے کا انتظام کرنا**

Caterer, n. One who provides food: **خالسامان - بھانڈاری**

Cateress, n. A woman who provides food: **کھانے کا انتظام کرنے والی عورت**

Caterpillar, n. The larva of an insect; grub: **کیڑا - جھانچھیا**

Caterwaul, v. i. To cry like a cat: **بلی کی طرح - چلاٹا - بلیوں کی آواز**

Cates, n. Food; dainty: **طعام - نعمت - قہرمان - نقد مال - من سارا**

Catgut, n. Intestines of animals, dried and twisted: **رودہ - تانت**

Cathartic, a. Purgative: **دست آور**

Cathedral, n. The head church of a diocese: **بڑا گرجا**

Catheter, n. A tube for drawing off the urine: **پیشاب نکلنے کی ٹی**

Catholic, a. A universal or general; liberal: **عام یا کلی - آزاد**

Catholicism, n. Adherence to the Catholic Church; liberality of sentiment: **کیتھولک مذہب - کلی کی پابندی - بے تعصبی**

Catholicon, n. A universal remedy; a panacea: **عام دوا جو سب بیماریوں میں دی جا سکے - اکتیئر اعظم**

Catoptrics, n. pl. The science treating of reflected light: **علم عکس**

Cattle, n. Beasts of pasture: **مردیشی - گائے بیل - گورز**

Caudal, a. Relating to, or like, a tail: **دم کا - دم سا**

Caudate, a. Having a tail: **دمدار**

Caudle, n. A warm drink prepared from wine, eggs, sugar, &c., for sick persons: **حریرا - اچھوڑانی - حلاوا - پتھہ**

Caul, n. A thin membrane covering the intestines: **آنتوں کی جھلی** * A kind of small net: **ایک قسم کا چھوٹا جال**

Cauliflower, n. A species of cabbage: **پھول گوہی - کرم کلہ**

Caulk, v. t. To fasten together: **چرز ملاؤ - درز بند کرنا**

Causal, a. Implying a cause: **مرجوب - مسبب - علی**

Causality, n. The agency of a cause: **مسبب**

Causative, a. Effective as a cause or reason: **عادت یا مسبب ظاہر کرنے والا** * (Gram.) Expressing a cause or reason: **سبب یا باعث ہونے والا**

Causation, n. The act or result of causing: **تسبیب**

Cause, n. That which produces an effect; motive: **سبب** * A legal process: **مقدمہ**

v. t. To effect by agency; to bring about; to produce: **باعث ہونا - کرنا - نکالنا - پیدا کرنا**

Causeway, n. A raised way over wet ground: **باندہ - اونچھی سڑک**

Caustic, n. A burning application: **جلائو والا کھار - قرح - تیزاب**

Cauter, n. A searing hot iron: **داغ لگانے والا لوہا**

Cauterize, v. t. To sear with a hot iron or caustic: **گرم لوہے سے داغنا یا گل دینا**

Cautery, n. A searing with a hot iron: **داغ - گل**

Caution, n. Provident care; prudence; foresight; vigilance; warning: **خبرداری - احتیاط - آگاہ کرنا - جمانا** * **v. t.** To warn; to give notice of danger: **آگاہ کرنا - جمانا**

Cautionary, a. Conveying a warning; admonitory: **آگاہ کرنا والا - قابیہی**

Cautious, a. Careful; prudent: **ہوشیار - خبردار**

Syn. Discreet, wary, circumspect, vigilant.

Ant. Imprudent, rash, reckless.

Cavalcade, n. A procession on horseback :

سواروں کا چار - سواری کا چار

Cavalier, n. A horseman ; a knight :

سوار مسلح - بہادر * a. Brave ; haughty ; gay :
بہادر - گومندی - رنگیلا

Cavalry, n. Horse soldier ; a body of troops :

سواروں کا رسالہ

Cavate, v. t. To hollow out :

تور کھنا

Cave, n. A hollow place in the earth ; a den ;

غار کھنا * v. t. To make hollow :

غار کھنا - گہرا - گہرا

Caveat, n. A legal process to stop proceedings :

عدالت کا حکم امتناعی - تجویز مقدمہ کی ممانعت
کے لئے اعلان

Cavern, n. A hollow place in the ground ; a

large cave :

گہرا - غار - گہرا

Cavernous, a. Full of caverns ; hollow ; deep :

غار دار

Cavesson, n. A nose band for a horse :

گھوڑے کا
مہرہ

Cavil, v. i. To raise captious objections :

حرف
گیزی کرنا - نقطہ چینی کرنا

—, n. A false or frivolous objection :

حجت
بیجا - عیب جرنی

Caviller, n. One who cavils ; a wrangler :

نقطہ چین - تکراری

Cavity, n. An aperture ; a hollow place :

سوراخ - غار - گہرا

Caw, v. i. To cry as the rook, or crow :

کاؤں
کاؤں کرنا

Cayenne, n. Red pepper :

لال مرچ

Cease, v. i. To come to an end ; to stop :

ختم
ہونا - موقوف ہونا - ٹھہرنا - بند ہونا

Syn.—Desist, forbear, fail, intermit, discon-
tinue.

Ceaseless, a. Without ceasing ; incessant ; con-

tinued :

لگاتار - درامی - برابر

Cedar, n. A tree yielding valuable timber :

دیودار - صنوبر

Cede, v. t. To surrender ; to give up to an-

other ; to yield :

سرمینا - حوالہ کرنا - دے دینا

Ceil, v. t. To cover the inner roof of building :

چھت لگانا

Ceiling, n. The inner roof :

چھت

Celebrate, v. i. To make famous ; to honour ; to

extol ; to distinguish by solemn rites ; to

commemorate :

مشہور کرنا - عزت کرنا - متبرک ماننا

Celebration, n. A solemn remembrance ;

commemoration :

شہرت - ناموری - خوشی - یادگار

Celebrity, n. Fam ; renown ; distinction :

شہرت - ناموری - نیکنامی

Syn.—Renown, praise, commendation.

Celerity, n. Rapidity of motion ; swiftness ;

speed :

سبکدوشی - عجلت - سٹاپی

Celery, n. A species of parsley :

اجرائن خراسانی

Celestial, a. Heavenly ; angelic :

آسمانی - بہشتی -

فرشتہ خور

Celibacy, n. The unmarried state ; a single

life ; bachelor :

ناکندائی - گوارا پ

Cell, n. A small close apartment ; a cavity :

تنگ کونہری - گہرا - غار - حجرہ

Cellar, n. An underground place for stores :

تھہ خانہ - گودام

Cellular, n. Containing cells :

خانہ دار

Cellule, n. A small cell :

تنگ کونہری یا غار

Cement, n. A substance for uniting stones ;

mortar :

v. t. To unite :

چروڑنا - ملانا

Cemetery, n. A burial place :

قبرستان

Cenotaph, n. A monument to one buried

elsewhere :

خالی مقبرہ کسی شخص کی یادگار میں

ہو اور کہیں دفن ہوا ہو

Censer, n. The pan in which incense is burnt .

بخور دان - دھوپ دان - ورد دان

Censor, n. A harsh critic ; an inspector of

manners and morals ; a censorer :

معتب -

ناضی

Censorious, a. Given to fault-finding ; severe :

حرف گیر - نقطہ چین - سخت

Censurable, a. Worthy of censure :

قابل ملامت

Censure, n. Act of blaming; reprimand; re-proof: الزام - ملامت * *v. t.* To reprimand; to blame: نظام نکاتا - ملامت کرنا

Syn.— Blame, reprove, condemn.

Census, n. An official enumeration of the people of a country: مردم شماری

Cent, n. A hundred: صد * **An American coin:** امریکہ کا ایک کم قیمت سکہ

Centenarian, n. A person a hundred years old: سو برس کا آدمی

Centenary, n. The space of one hundred years; the commemoration of an event that occurred a hundred years before: سو برس - صدی - جلسہ یاد - گار صد سالہ

Centennial, n. Happening every hundred years: صد سالہ

Centipede, n. A many-legged insect: گرجر - کنکھجورا

Central, a. Relating to the centre: متوسط - بیچلا - مرکزی

Centralize, v. t. To render central: وسط میں لانا - بیچ میں لانا

Centre, n. The middle point: مرکز - وسط - تاق - بیچ

Centric, a. Placed in the centre: وسطی - بیچ کا

Centrifugal, a. Flying from the centre; tending to drive away from the centre: تازق المرکز - بعید از مرکز - دافع از مرکز

Centripetal, a. Having a tendency to the centre: مایل بہ مرکز

Centuple, a. Increased a hundred fold: صد چند - سو گنا

Centurion, n. A Roman officer who commanded hundred men: رومیونکا افسر جسکے تابع سو جوان رہتے تھے

Century, n. A hundred years: صدی - سو برس

Cephalic, a. Belonging to the head: سر کے متعلق

Cerate, n. An ointment of wax, oil, &c.: مرہم - روغن - مرہم

Cereal, n. Grains used for food: غلہ - اناج

Cerecloth, Cerement, n. A cloth coated with wax: موم جامہ

Ceremonial, a. Relating to ceremony; ritual: رسم - **Outward form:** ظاہر دار - پابند رسوم - ریت - دستور

Ceremonious, a. Full of ceremony; precise; formally respectful: پر تکلف - رسم پر - موزر

Ceremony, n. Outward rite; forms of civility: رسم * **To receive with—, Without—,** خاطر تواضع کرنا

Cereous, a. Waxy; like wax: موم کا - مثل موم

Cerography, n. Art of writing in wax: موم پر لکھنے کا علم

Certain, a. Sure; unfailling; fixed; inevitable: یقینی - صحیح - تحقیقی - کارگر - اچرک: **A—sum,** مقرر - کوئی - کسی * **Some:** بے شک پکا کرنا - ٹھیک کرنا * **To make—,** مبلغ

Certainly, ad. Surely; undoubtedly: یقیناً - بلاشک - ضرور

Certainty, n. Exemption from doubt or failure: تحقیق - یقین

Syn.— Positiveness, assurance, conviction.

Ant.— Indecision, hesitation, misgiving, precariousness.

Certificate, n. Testimony in writing: سند * **—of clearance,** ڈاروی کی چٹھی - پورا نڈہ * **—of death,** فوتی نامہ * **—of despatch,** چالان

Certification, n. Act of certifying: سند دہی - تصدیق

Certify, v. t. To testify to in writing; to give certain information of or to; to verify; to assure: سند دینا - تصدیق کرنا - گواہی دینا - یقین دلانا

Cerulean, a. Blue; sky-coloured: نیلگوں - آسمانی

Cerumen, n. The wax of the ear: کانکا میل - کھرنک

Ceruse, n. White lead: سفید سیب

Cervical, n. Belonging to the neck : گردن کے متعلق

Cervix, n. The hinder part of the neck : گردن کا پچھلا حصہ

Cesarean operation, n. پیٹ چاک کر کے بچہ نکالنا

Cess, n. A local rate or tax : محسول - خراج - اثواب

Cessation, n. Act of discontinuing ; stop ; intermission : مرتوئی - التوا - وقفہ

Cession, n. A ceding or yielding up ; resignation : سپردگی - تقویض

Cesspool, n. A pool in which filthy water collects ; a privy : چھ بیتہ - نا بدان

Chafe, v. t. To warm by rubbing ; to make angry : to fret ; to wear by rubbing : ماننا

Chafe, n. Irritation ; heat caused by friction ; wear : خشم - رگڑ کی گرمی - گھسار

Chaff, n. The husk of grain ; refuse ; banter : ٹھٹھا

Chaff, v. i. To joke : ٹھٹھا کرنا - مذاق کرنا

Chaffer, v. t. To buy or sell ; to bandy : خرید

Chaffer, v. i. To haggle about a price ; to chatter : چکرے مول لینا - بکواس کرنا

Chaffinch, n. A bird said to be like chaff : ایک قسم کا پرند

Chaffing-dish, n. A vessel for holding live coals : برسی - انگیٹھی

Chaffy, a. Full of chaff : چوکر ہوا

Chaffy, a. Worthless : نکما

Chagrin, n. (Pronounced *Shagrin*) Ill humour ; vexation ; mortification : بد مزاجی - آزردگی - خجالت - رنجیدگی

Chagrin, v. t. To vex ; to tease : دق کرنا - چھیڑنا

Chain, n. A series of connected links ; a fetter ; series ; the measuring instrument : زنجیر - بیڑی - سلسلہ - جریب

Chain, v. t. To bind with a chain ; to enslave ; to unite : زنجیر سے باندھنا - غلام بنانا - جکڑنا

Chain-shot, n. Bullets fastened by a chain : زنجیری گولہ

Chair, n. A moveable seat : گرسی - چوکی

Chair, n. Seat of authority : گدی

Chairman, n. The president of an assembly : میز مجلس - صدر نشینی

Chaise (shaz), n. A two-wheeled pleasure carriage : درہیلے کی گاڑی

Chalcography, n. Art of engraving on copper or brass : تائبہ یا پینٹل پر کندہ کاری کا فن

Chalice, n. A cup ; a bowl : پیالہ - گھورا

Chalk, n. A white calcareous earth : گھریا مٹی - گچ

Chalky, a. Consisting of chalk ; white : امیٹل - سفید

Challenge, v. t. To call to a contest ; to defy ; to object to : لٹکارنا - عذر کرنا

Challenge, n. A call to a contest : ہدائی - دعوت

Chalybeate, a. Impregnated with iron : آہن - لہیز

Chamber, n. A retired room ; an apartment : عدالت

Chamber, n. A court of justice : عدالت

Chamber, n. Pleasure—, of sorrow, ماتم سرا

Chamber, n. A chamber, of sickness is the chapel of devotion, بیماری کی خدمت گریا خدا کی عبادت

Chamber-maid, n. A woman having care of bed-chambers : آہیہ - نوکرانی - دایہ

Chambering, n. Intrigue : سازش

Chamberlain, n. A high officer in European courts ; an officer appointed to perform domestic and ceremonial duties ; a treasurer : یورپ کی عدالتوں کا ایک بڑا حاکم - دیران - خزانچی - حاجب

Chameleon, n. A reptile of the lizard kind : گرگت - گرگتن

Chamois, n. A species of wild goat : ایک قسم کی پہاڑی بکری

Chamomile, n. بابوننا

Champ, v. t. To gnaw ; to bite ; to chew : کڈرنا - دانست سے کاٹنا - چابنا

Champagne, n. A sparkling wine : (From Champagne in France) : شہین شراب

Champaign, n. A flat ; open country : ہموار

Champaign, a. Level, open : کھلا - ہموار

Champerty, n. A maintenance of a man in a suit, on condition of sharing the gain when received : مقدمہ میں اس شرط پر پیروی کرنا کہ جب نایدا ہو تب حصہ ملے

Champion, n. A hero; a zealous advocate : بہادر - غازی

Chance, n. That which happens; accident; possibility; opportunity : اتفاق - اقتاد - موقع
By—, as chance would have it : * حادثہ - ناامکان قسمت * Game of—, * ناگاہ - اتفاقاً - قمارا از شرفی

Syn.— Lot, hazard, fortune.

Chancel, n. The eastern part of a church where the altar or communion table stands : گرجے کا مشرقی حصہ جہاں بیڈی رہتی ہے

Chancellor, n. A high judicial officer : صدر الصدور -
of the Exchequers, * صدر دیوان - قاضی القزات
the chief minister of finance : دیوان خالصہ

Chancery, n. A high court of equity : صدر عدالت - صدر دیوانی

Candelier, n. A frame with branches for candles : بتیروں کا چھتر

Chandler, n. A maker or seller of candles : شمع ساز - بتی فروش

Change, v. t. To alter; to barter; to substitute; to replace : بدلتا - تبادلہ کرنا - عوض معاوضہ
* To be altered : * تبدیل ہونا - پلٹا کھانا
* To—colour, to turn pale : * رنگ نثق ہو جانا
* To—hands, to pass from one owner to another : * ایک سے دوسرے کے قبضہ میں جانا
* To—money, to convert a coin into smaller ones : نرت پھونانا *
* To—a bank note, to give or procure money for a bank note : نرت پھونانا

Change, n. Alteration : * Small money : * تبدیل - عرض
* —for the better, * ریزگارہی - بہتری

Changeable, a. Subject to change; fickle; inconstant : * ناپائیدار - متلون - غیر مستقل

Changeling, n. A substituted child; a fickle person : * بدلا ہوا لڑکا - احمق - کودن

Changer, n. A money-changer : صراف

Channel, n. A hollow bed; a strait or narrow sea; medium : نالہ - آبنائے - شاع - بحیرہ - ذریعہ

Chant, v. i. To sing; to recite in a singing manner : گانا - لگے سے پڑھنا - گیت - بھجن - سرود - راگ

Chanticleer, n. A cock : مرغ سحر

Chantress, n. A woman who sings : گانے والی - عورت

Chantry, n. A church endowed with revenue for priests to sing for the souls of the donors : ایک گرجا جہاں پادری راہبوں کی ارواح کے لئے دعا کرتے ہیں

Chaos, n. A confused mass; confusion; disorder : مادہ حیرلہ - بے ترتیب مجموعہ - گڑبڑ - ایتنی

Chaotic, a. Confused; disordered : گڑبڑ - بے ترتیب

Chap, v. t. or i. To crack; to split : تڑکانا - پھاڑنا - تڑکانا

—, n. A man or boy; a youth; a fellow; a gap; a chink; a crack in the hands or feet : مرد یا لڑکا ٹوچوان - درز - شکاف

Chapel, n. A place of worship : گرجا - خانہ - عبادت گاہ

Chaperon, n. An elderly woman who accompanies a young lady as protector; a hood : محافظ بی بی - زایکا - اورٹھنی - ٹوپ

Chaplain, n. A family clergyman : پادری

Chaplet, n. A garland or wreath for the head; a string of beads used in counting prayers : مالا - تسبیح - سحر

Chapman, n. A pedler : بساطی

Chapter, n. A division of a book : * باب - فصل
* An assembly of the clergy : * پادریوں کی جماعت
* To the end of the—, from the beginning to the end of a proceeding : کسی کارروائی کے شروع سے آخر تک

Char, n. A kind of fish : * ایک قسم کی مچھلی
* The work done by the day : * v. t. * یومیہ کام
* To burn wood to a black cinder; to scorch : * کوئلے بنانا - جھلسانا

Character, n. A distinctive mark : نشان * Reputation : ناموری * Personage : شخص * A letter : حرف * Personal qualities : حال چلن - * Account ; history : احوال * rank : مرتبہ * Disposition : مزاج * One of the persons of a drama or novel : سرائک

- Syn—**1. Figure, sign, emblem.
2. Constitution, nature.
3. Personage, individual.
4. Reputation, repute.

Characteristic, n. A distinctive feature ; a distinguishing trait : وصف - خصوصیت - علامت * a. Distinguishing ; peculiar to : مخصوص - نمایاں

Characterise, v. t. To express the character of ; to designate : خاصیت بیان کرنا - مخصوص کرنا - ممتاز کرنا

Charade (shar-ad), n. A kind of riddle ; an enigma : محما - پہیلی جسکی ہر جگہ ایک لفظ کے ٹکڑے چھڑنے سے نکلتی ہے

Charcoal, n. Coal made by burning wood : لکڑی کا کوئلہ - کوئلہ

Charge, v. t. To impute as a debt : ذمہ لگانا * To attack : حملہ کرنا * To accuse of a crime : سچد کرنا * To command : حکم دینا * To—against, to accuse : الزام لگانا * To—at, to attack : حملہ کرنا * To—for, to put in account against : حساب میں لکھنا * To—through, to cut one's way through : مار کے نکل جانا * To—away, to attack indiscriminately : بے تعاشا * To—on, upon, to impute : ماخوذ کرنا * To—over, to run over : درز ہرنا

—, n. Onset : حملہ * Accusation : الزام * Coat : حوالگی - سپردگی * Care : نگرانی * Command : حکم * Office : توجہ * Custody : امانت * Free of—, gratis : بارود - * of a gun, * In—, * Contingent—s : ساؤنڈرچ * To take—of, اپنے اہتمام یا تھوریک * To make a—, دعا کرنا

Chargeable, a. That may be charged ; imputable ; accusably ; costly : قابل ذمہ داری - متحمل - قیمتی

Charge d' affaires (shar-zha' daf-far'), n. A diplomatic representative . substitute : ایچی - قائم مقام

Charger, n. A war-horse : جنگی گھوڑا * A large dish : طشت

Charily, ad. Warily ; cautiously ; frugally : خبرداری سے - ہوشیاری سے - نفاہت سے

Chariot, n. A carriage of pleasure or state ; a car : گاڑی - رتھ

Charioteer, n. The driver of a chariot : رتھ بان - گاڑی بان

Charitable, a. Bountiful ; benevolent ; liberal : فیاض - ہمدلی - خیر اندیش

Charitably, ad. Benevolently ; liberally : فیاضی سے - سخاوت سے

Charity, n. Alms ; benevolence ; liberality ; tenderness : * خیرات - سخاوت - فیاضی - نرم دلی * —begins at home, اول خیریش بعدہ درویش

Charlatan (shar-la-tan), n. A quack ; an impostor : نیم حکیم - دغا باز

Charlatanry, n. Quackery ; deceit : نیم حکیمی - دغا بازی - فریب

Charm, n. Enchantment ; fascination ; spell ; amulet ; locket ; pl. beauty : جادو - فریبگی - منتر - * v. t. To bewitch ; to affect by magic ; to soothe ; to fascinate : جادو کرنا - منتر پڑھنا - فریبہ کرنا - مرہہ لینا

Charming, a. Highly pleasing : دلربا - موهنی

Charnel house, n. A place where bones of the dead are deposited : مردونگی ہڈیاں رکھنے کی جگہ

Charry, a. Pertaining to coal ; like coal : کوئلہ کے متعلق - کوئلہ سا

Chart, n. A delineation of coasts ; a map esp. of the sea ; deed : بحری نقشہ - دستاویز

Charter, n. A writing bestowing privileges ; a deed of grant : فرمان - سند شاہی - عہد نامہ

Syn.—Settlement, indenture, contract.

Charter, v. t. To establish by charter; to let or hire by charter as a ship: - سفد دینا - اقرار کرنا : اقرار نامہ سے کرایہ پر دینا یا لینا

Chartered, a. Granted by a charter; licensed: سفد یافتہ - اختیار والا

Charwoman, n. A woman hired by the day for household work: نوکرائی جو دن کا کام کرنے کے لئے تھیکہ پر رکھی جائے

Chary, a. Careful; cautious; frugal: - ہوشیار - خبردار - نفاہتی

Chase, v. t. To hunt; to pursue; to drive away; to run after: * شکار کرنا - پیچھا کرنا - رگیدنا
* n: Hunting: * تعقب - پیچھا * Pursuit: * شکار
A printer's frame: چھاپے کے حروف کسنے کا ڈھانچہ

Chasm (kasm), n. A cleft; a gap; a vacancy: درز - شکاف - چاف - خالی جگہ

Chaste, a. Pure; uncorrupt; modest: پاک صاف - پاک دامن - پاکیزہ - پارسا - عفت والی

Chasten, v. t. To correct by punishment; to purify: گوشمالی کرنا - تنبیہ کرنا - نفس مارنا

Syn.-- Chastise, punish, correct.

Chastise, v. t. To punish; to reduce to obedience: سزا دینا - تادیب کرنا - تنبیہ کرنا

Chastisement, n. A correction; punishment: گوشمالی - تنبیہ - سزا

Chastity, n. Purity; freedom from obscenity: * شائستگی زبان - * پاکیزگی - پاکدامنی
—once tarnished can be restored by no art. نہیں رہتی ہے وہ خوبی جہاں نعمت میں داغ آیا

Chat, v. i. To converse at ease: * صپ کرنا - بے * تکلف گفتگو کرنا
* n. Idle or familiar talk: گفتگو - گپ - بکراہ

Chateau, (fr. Pronounced Shato). n. A castle; a country mansion; a manor-house: قلعہ
کوت - گڑھی - بالا حصار

Chattel, n. Any moveable property; furniture: مال منقولہ - اسباب - متاع - اثاث الیبت

Cattels, n. Goods; moveables; cattle: اسباب یا مال منقولہ - مویشی

Chatter, v. i. To talk idly; to make a noise like birds: بک بک کرنا - تیس تیس کرنا - کلکلاٹا
* n. Noise like talk of a monkey: تیس تیس - کلکلاٹ

Catterbox, n. An incessant talker: - بکھی - غپی - جھکی

Chatty, a. Talkative; conversing freely: - بکھی بسیار گو - بڑبڑا

Chatwood, n. Fuel ایندھن

Cheap, a. Low-priced; of small cost; easy to be had: * Dirt—, excessively low price: ارزان - کم قیمت - مٹی کے مول - کوڑیوں کے مول

Cheapen, v. t. To make cheap: ارزان کرنا

Cheapjack, n. A seller of worthless articles: خراب چیزوں کا بیچنے والا

Cheapness, n. Lowness of price: ارزائی - سستا پن

Cheat, v. t. To defraud; to impose upon: * n. A fraud; a deceiver; a swindler: فریبی - دغا باز

Check, v. t. To control; to repress; to reprove; to compare: * n. A fraud; a deceiver; a swindler: دباننا - روکنا - ملامت کرنا - سرزنش کرنا - مقابلہ کرنا یا جانچنا - پرتالنا

—, n. Hindrance; restraint; reproof: * Order on a banker: روک - مزاحمت - ملامت
* A kind of cloth: چارخانہ - چک - ہندی

Syn.—Restrain, bridle, hinder, tally.

Checker, Chequer, n. A chessboard; alteration of colours; (pl.) draughts; chessmen: * v. t. To mark in squares of different colours; to variegate: * چار خانہ بنانا - رنگ برنگ بنانا
* n. Variegated; varying in character: ابلق - درنگا - برنگاموں

Checkmate, n. A movement on the chess-board that puts an end to the game: مات - کشت مات

Cheddar, n. A rich, fine flavoured cheese: عمدہ ذائقہ دار پنیر

- Check, n.** The sides of the face below the eye :
 * شوخی - گستاخی * Impudence : گستاخ - رخسارہ
 —by jowl, near or close to each other :
 پاس پاس - ساتھ ساتھ - ہمراہ
- Cheer, n.** Applause : * راہ راہ * Entertainment ;
 gaily : خوشی - ضیانت - عیش و عشرت - v. t. To
 cause to rejoice ; to infuse life, courage, hope,
 &c. into : خوش کرنا - زندہ دل کرنا - ہمت بندھانا -
 جی نہ ہارنا، —To be of good—، To—up، ہمت
 ہاندھنا - بشاش ہونا
 syn. — Gladden, encourage, console, exhilarate,
 enliven.
- Cheer, v. i.** To become gladsome : خوش ہونا
- Cheerful, a.** Lively ; animated ; joyful ; gay :
 زندہ دل - شاد - خوش - بشاش
 syn. — Jocund, joyous, blithe, gleeful.
- Cheerfulness, n.** Alacrity ; liveliness ; mirth :
 خوشی - زندہ دلی - شادمانی
- Cheerily, ad.** Cheerfully ; merrily : خوشی سے - مٹاد
 مائی کے ساتھ
- Cheerless, a.** Comfortless ; dejected ; joyless :
 بے چین - ارداس - ناخوش - اوجھل
- Cheery, a.** Gay ; sprightly ; merry ; pleasant :
 خوش - شادمان
- Cheese, n.** Curd of milk pressed hard : پنیر *
 To get the—, to be disappointed : نراس ہونا -
 نا امید ہونا
- Cheesemonger, n.** A seller of cheese : پنیر
 فروش
- Cheese-paring, a.** Mean ; niggardly : کمینہ -
 کنجوس
- Cheese-press, n.** A press for expelling whey
 from curd : پنیر نکالنے کی کلا
- Cheese-vat, n.** The wooden case in which the
 curds are pressed into cheese : پنیر کا پھل
 بچھ
- Cheesy, a.** Resembling cheese : پنیر سا
- Chef, n.** The head cook : سردار باورچی
- Chemical, a.** Pertaining to chemistry : کیمیائی
 کیمیائی فی چیزیں * pl. Chemicals : کیمیائی کے متعلق
- Chemise, n.** A shift, or undergarment for
 females : عورتوں کی کرتی
- Chemist, n.** One versed in chemistry : کیمیا گر *
 A dealer in drugs and medicines : دوا فروش
- Chemistry, n.** The science which shows the
 nature and properties of elementary substan-
 ces : کیمیا معذیات * Inorganic—، علم کیمیا :
 Organic—، کیمیا حیوانات و نباتات * Practical
 or applied—، کیمیا عملی یا لٹاپی
- Chenille, n.** Velv. frill : مشعل کی جھلر
- Cheque, n.** An order for money payable at
 demand : * To draw a—،
 منڈی کرنا
- Chequer, v. t.** To diversify ; جدا جدا کرنا -
 الگ کرنا
- Chequered, a.** Variogated ; diversified :
 گز - رنگ برنگ
- Cherish, v. t.** To nurse up ; to treat tenderly ;
 to support ; to hold dear : پرورش کرنا - پیار کرنا -
 پالنا - آنکھ کا تارا سمجھنا
- Cheroot, n.** A kind of cigar : چرت
- Cherry, n.** A small stony fruit : شاہ دانہ - زرشک
- Cherub, n.** A celestial spirit ; an angel : فرشتہ -
 کزوبی
- Chess, n.** A game played on a board divided
 into squares : شطرنج
- Chessboard, n.** The board on which the game of
 chess is played : تختہ شطرنج - بساط
- Chessman, n.** A puppet for chess : مہرہ شطرنج
- Chest, n.** A large box : صندوق * The thorax :
 چھاتی - سینہ
- Chestnut, n.** A tree and its fruit : * شاہ ہلوا
 Of reddish brown colour : خیرا - ہورا
- Chevalier, n.** A knight ; a cavalier : شہسوار -
 پہلوان - بہادر
- Chew, v. t.** To grind with the teeth : چبانے *
 To meditate * To—the cud, to
 ruminate : چکائی یا ہانگ کرنا
- Chicanery, n.** (Pronounced *Shi-ka-ner-i*) Mean
 artifice ; sophistry ; trickery ; sharp practice :
 بہانہ سازی - گانگول - بھدی باطل - بناوٹ - دغا - چکر
 مکر - فن فریبہ
 syn. — Quibble, duplicity, deception.

Chicken, n. The young of a bird, particularly of a hen : چرنه

Chicken-hearted, a. Cowardly ; timid ; fearful : بزدل - قور پرک

Chicken-pox, n. A mild eruptive disease : چپچک - مرتيا سينلا

Chide, v. t. To scold ; to reprove ; to blame : ڈانٹنا - جهونڪا - سرزنش ڪرنا - الزام لڳائڻ

Syn.—Scold, rebuke, reprove.

Chief, a. Principal ; eminent ; capital ; leading ; main : *n.* A commander ; a leader : انسر - سردار

Chiefly, ad. Principally ; mostly : خاصڪر - اڪثر

Chieftain, n. A commander ; the head of a clan : سردار - سرخيل - سرڪڙيا

Chiffonier, n. A rag-picker ; an ornamental cupboard : چٽوڙو ڇٽو والا - خربهررت الماري

Chilblain, n. A sore or blain which occurs on hands and feet in cold weather : برائي

Child, n. A son or daughter ; an infant : بچو - لڙڪو ٻالو - *pl.* Children, descendants : آسان ڪام : *'s play, an easy task — آڻ اولاد

Childbed, n. Parturition : زچڪي - جنائتي

Childhood, n. The state of a child ; minority : لڙڪپن - بچپن

Childish, a. Like a child ; silly : طفلانه - بچن ڪا : سٺا - طفل مزاج - هلاڪا

Childless, a. Without children : لڙوڪا - بچو اولاد

Childlike, a. Meek ; simple ; dutiful : طفلانه - بچو رڳا - حليم - سعادت مند

Chiliad, n. A thousand, esp., a thousand years : هزاره - هزار سائڻ ڪي مدت

Chill, a. Cold ; dejected ; lacking enthusiasm ; depressing : خنڪ - گهٽتيا - پڙمرده - سرد مهر -

Chill, v. t. To make cold ; to discourage : گهٽتيا ڪرڻا - دانشڪڻي ڪرڻا - افسرده ڪرڻا - دل ٽوڙڻا

Chilly, a. Somewhat cold ; frosty : سرد - خنڪ - گهٽتيا

Chime, n. Sound of bells in harmony ; concord of sound : گهٽونڪي سريلي آواز - جهونڪار - گهٽونڪا - آواز ڪي موافقت

—, *v. i.* To ring bells in tune ; to agree : * *To—in with*, to express assent : * *To—in*, to join in : هان ۾ هان ملاتا - راضي هوندا - موافق هوندا - هڪ ٻئي سان موافق هوندا - هڪ ٻئي سان ملائڻ

Chimera, n. A vain and wild fancy : وهم - خيالي باطل

Chimerical, a. Imaginary ; fanciful ; visionary : خيالي - وهمي

Chimney, n. Passage through which smoke is carried off : *A* * *Chimney* glass tube above a flame : فائوس - چمني - فائوس - دروڊان - فائوس - فائوس

Chimpanzee, n. A species of ourang-outang : ايڪ قسم ڪا بن مانس

Chin, n. The part of the face below the mouth : زنج - چهرڙي

Chincough, a. The hooping cough : شدت ڪي گهٽسي - ڏاڍا

Chine, n. The backbone or spine of beasts : چانورونڪي رڙهه

Chink, n. A crack or narrow opening a fissure ; a rent : *v. i.* To jingle ; to make a sound like coins hitting against each other : جهونڪا - گهٽڪا

Chinky, a. Full of holes ; gaping : درز دار - پهت هرا

Chintz, a. Cotton cloth printed in different colours : چھينٽ

Chip, n. A small piece cut off : چٽي - پرڙهه - *v. t.* To cut into small pieces : ٽڪڙو ٽڪڙو ڪرڻا - ٽڪڙو ڪرڻا

Chip, v. i. To fly off in chips : چھٽي - چھٽي ڪرڻا - چھٽي ڪرڻا

Chirography, a. Art of writing ; handwriting : خوشنويسي - خطا - علم تحرير

Chiromancy, n. Communication of thoughts by signs made by the hands and fingers ; dactylology : هاتھون اور انگليون ۽ اشارو ۽ گفتگو ڪرڻيڪا : علم

Chiromancer, n. One who predicts fortunes by inspecting the hands : دست شناس

Chiromancy, n. A divination by inspection of the hand ; palmistry : دست شناسی - سامدری

Chiropodist, n. One who extracts corns from the feet : پیروں سے گرگھور نکالنے والا - ڈیپکٹ

Chirp, v. i. To make a short, sharp sound : * n. The voice of birds : چرچر کرنا - چیں چیں کرنا

Chirurgery, n. Surgery : جراحی

Chirrup, v. i. To chirp : * v. t. To cheer up : چرچر کرنا - تیز کرنا

Chisel, n. An instrument for paring wood or stone : * v. t. To cut or carve with a chisel ; to cheat : ٹانگی لگانا - چھیننے سے کانا - دھا کرنا

Chit, n. A sprout ; shoot : * Baby : اکترا - بچہ

Chit-chat, a. Prattle ; idle talk : بات چیت - فب شب

Chitterlings, n. The entrails of animals : حلال جانوروں کا روده - آنتیں

Chivalric, Chivalrous, a. Bold ; gallant ; high-spirited : بہادر - دلیر - جواں مرد - ارا العظم

Chivalry, n. Gallantry ; heroism : بہادری - دلیری

Chives, n. Threads in blossoms : پھولوں کا سوت

Chloroform, n. A volatile liquid used to produce temporary insensibility : بیہوشی کی دوا

Chlorosis, n. Green sickness : عورتوں کی بیماری - جسم میں چمڑا سبز ہوجاتا ہے

Chock, v. i. To fill up ; to fasten as with a block : * ful, brimful ; خراب بھرا ہوا - لبریز - لبال

Chocolate, n. A beverage made from the nuts of the cocoa tree : عرق ذریعہ

Choice, n. Selection ; option ; preference : * a. Precious ; select : پیش قیمت - چنیڈا

Choir, n. A hand of singers ; a chance! : گانہ والوں کا طائفہ - گرجے میں گانہ والوں کے بیٹھنے کی جگہ - سرورہ گاہ

Choke, v. t. To suffocate ; to suppress ; to obstruct ; to prevent the growth of : * ٹھنکا - ٹھنکنا - ٹھنکنا - روکنا - دبا کرنا - بڑھنے نہ دینا

Chokeful, a. Completely full ; as full as possible : بھر پور - لبریز - مرنہ مرنہ - کھچا کھچ بھرا ہوا

Choler, n. Bile ; anger : صفرا - غصہ

Cholera, n. A disease characterized by bilious vomiting and purging : پیچھے

Choleric, a. Abounding with choler or bile ; irascible ; angry : * صفراوی - آتش مزاج - خشم ناک - غصہ میں آدمی - اندھا اور دیوانہ ہوجاتا ہے

Choose, v. t. To elect ; to pick out ; to prefer ; to adopt : منتخب کرنا - چن لینا - پسند کرنا - اختیار کرنا

Chop, v. t. To cut into pieces ; to sever by blows ; to devour eagerly : * چھانٹنا - ریزہ ریزہ کرنا - منطق بگھارنا - To—logic * بھوکھٹنا - To—one's words, بات چبا جانا

Chop, n. A small piece of meat : گوشت کا ٹکڑا یا رقم - قسم - درجہ : * A cleft : درز : * بوٹی

Chophouse, n. A house where provisions are sold : ذان بائی کی دوکان - بھٹیاں خانہ

Chopper, n. A tool for mincing meat : چائیز - قییمہ کرنے کا ہتھیار

Chopping-block, n. A log of wood for mincing meat : گوشت کاٹنے کا کٹڈا

Choral, a. Belonging to a choir : گانہ والوں کے طائفہ کے متعلق

Chord, n. The string of a musical instrument : * A right line joining the extremities of the arc of a circle : قوس کا وتر - تار - رردا * Harmony of sounds : ہم آوازی

Chorister, n. A singer in cathedrals, &c. : گانے والا - گانہ

Chorography, n. The art of making maps : نقشہ نویسی

Chorus, n. A number of singers ; verses in a song in which the company join the singer : گانہ والوں کا طائفہ - وہ حصہ گیت کا جسکو سب ملکر گائیں

Chrism, n. Unction : اربٹن

Christ, n. The anointed one ; the Messiah : ماسیح کیا ہوا - مسیح

- Christen, v. t.** To baptize; to denominate:
 پیتسمہ کرنا - استباغ دینا - نام رکھنا
- Christendom, n.** The whole body of Christians; portion of the world in which Christianity prevails:
 عسائیلوکیا فرقہ - ملک نصاری
- Christian, n.** A follower of the religion of Christ:
 عیسائی - مسیحی
- Christianity, n.** The religion of Christians:
 دین عیسوی
- Christianize, v. t.** To make Christian:
 عیسائی بنانا - کرسٹان کرنا
- Christmas, n.** The festival of Christ's nativity, Dec. 25:
 مسیح کی پیدائش کا دن جو ۲۵ دسمبر کو منایا جاتا ہے - بڑا دن
- Chroma, n.** Colour:
 رنگ - فام
- Chromatic, a.** Relating to colour:
 رنگ کے متعلق
- Chromatica, n.** The science of colours:
 رنگوں کا علم
- Chronic, a.** Continuing for a long time deep-seated:
 دیر پا - کھنہ - دائمی - دیرینہ
- Chronicle, n.** A register of events in the order of time; a history:
 تاریخ لکھنا - روایت کرنا
- Chronicler, n.** A historian:
 مورخ - راوی
- Chronogram, n.** An inscription in which the date is included in numeral letters:
 جسکے حروف کے اعداد سے تاریخ مطروم ہو
- Chronological, a.** In the order of time:
 وار - بلحاظ ترتیب وقت
- Chronology, n.** The science of computing and adjusting the periods of time:
 علم تواریخ - واقعہ نگاری
- Chronometer, n.** A watch for the exact measurement of time; an accurate time-keeper:
 گھڑی
- Chrysalis, n.** The form of butterflies, moths, flies, &c., before its becoming winged; the grub stage:
 قملی کے پڑ نکلنے سے پہلے کی حالت یا صورت
- Chrysanthemum, n.**
 گل داردی
- Chrysolite, n.** A yellow or green precious stone:
 ایک قسم کا سبز نگینا - لہسٹیا - زبر جد
- Chubby, a.** Plump; short and thick:
 موٹا - سلتہ منڈ
- Chuck, n.** The call of a hen:
 * مرغی کی آواز
- A throw:** پھینک
- , **v. t.** To call like a hen; to strike gently; to throw or toss quickly:
 مارنا - پھینکنا - ڈالنا
- Chuckle, v. i.** To laugh in a suppressed manner; to giggle:
 آہستہ سے ہلسا - دھیرے سے ہنسنا
- Chuff, n.** A blunt clown:
 دھقانہ - گنوار - ارجح
- Chum, n.** A chamber-fellow; a fellow-lodger; an intimate friend; a close companion:
 ہم کدو - ہم حجرہ - ہمدم - ہم نوائے ہمپیلانہ - صادق دوست
- Chump, n.** A thick heavy piece of wood:
 لکڑی کا ٹکڑا
- Church, n.** A building for Christian worship; the collective body of Christians:
 گرجا - کلیسیا
- Church, v. t.** To return thanks after childbirth:
 گرجا میں بیٹھہ ہونے کی نماز یا شکر پتہ
- Churchwarden, n.** A guardian of the concerns of a church:
 گرجے کا مصالط
- Churtyard, n.** The burial ground of a church:
 * گرجے کے متعلق قبرستان
- virtues, moral excellences of a high class:**
 اعلیٰ درجہ کی خیریں
- Churl, n.** A rustic; an ill-bred fellow; miser:
 گنوار - بیہودہ - بد اخلاق - کندہ ناکراش - بچے تمیز - کنجوس - بھیل
- Churlish, a.** Brutal; rude; surly:
 اچھ - اکھڑ - تلخ مزاج - رکھا
- Churn, n.** The vessel in which the butter is coagulated by agitation:
 * مٹھنا - دودھینتوی
- Churn staff, v. t.** To stir cream about in making butter:
 * رومی - مٹھنی - پلونا - مٹھنا
- Chyle, n.** A milky fluid formed in the stomach by digestion:
 کھاس - رس
- Chyme, n.** The pulpy matter formed by digested food in the stomach:
 کھوس رس
- Cicatrix, n.** The scar remaining after a wound; a mark:
 زخم یا پورے کے نشان - داغ
- Cicatrization, n.** The healing of a wound:
 انگر - بھراؤ - اندمال

Cicatrize, v. t. To skin over (a wound) ; to heal :
 زخم پُرانا - اندمال کرنا - انگور باندھنا

Cicerone, n. One who shows strangers curiosities of a place ; a guide :
 سیر کرانے والا - رہبر - رہنما

Cider, n. The juice of apples expressed and fermented :
 سیب کا عرق

Cigar, n. A small roll of leaf tobacco for smoking :
 چرت

Cigarette, n. A small roll of cut tobacco in paper for smoking :
 کاغذ کا چرت

Cilia, n. The eyelashes ; hair or hairlike growths :
 بالکے کے بال - روئیں یا باریک بال کی روئیدگی

Ciliary, a. Belonging to the eyelids :
 روئیں کا - پلکوں کا

Cimeter, n. A short sword :
 تھیخہ - شمشیر

Cimex, n. The bedbug :
 کھمبل

Cimmerian, a. Extremely dark ; profound :
 بہت اندھیرا - دیچرر - نہایت درجہ کا

Cincture, n. A belt ; a ring ; a girdle :
 کمربند - پٹکا - حلقہ

Cinder, n. A hot coal that has ceased to flame ; ember ; slag ; scoria :
 انگارا - کونٹہ - بھریل - چھانواں

Cineration, n. Reduction of anything to ashes :
 خاکستری

Cinereous, a. Like ashes :
 خاکسا

Cingle, n. A horse girth :
 گھوڑے کی تنگ

Cinnabar, n. Red sulphide of mercury used as a pigment, vermilion :
 سیندر - اینگر

Cinnamon, n. The inner bark of a tree, aromatic and of pungent taste :
 دار چینی

Cinque (singk), n. The number five :
 پانچ

Cinque-ports : Five ports on the southern shore of England towards France.

Cipher, n. An arithmetical mark (0) which standing by itself means nothing ; zero :
 اہمیت کی بلندی

A person of no consequence ;
 نہایت کمزور آدمی

A kind of secret writing :
 خفیہ

A figure among ciphers :
 اندھرتوں میں

To do sums in arithmetic :
 حساب کرنا

Circle, n. A round figure ; a ring ; an enclosure :

* گھیرا - جماعت :
 * حلقہ - دائرہ - حلقہ - گھیرا
 A province :
 صوبہ

— **v. t.** To move round ; to surround ; to enclose :
 * حلقہ باندھنا - معاصرہ کرنا - گھیرنا

To revolve ; to make a circle ; to circulate :
 گردش کرنا - دائرہ بننا - دررا کرنا

Circlet, A little circle :
 دائرہ خورد

Circuit, n. The space enclosed in a circle ; a ring revolution ; compass ; course ; district :
 گھیرا - حلقہ - گردش - گردا - دور

Circuitous, a. Roundabout :
 چکر دار - پیچیدہ - پھیرکا

Circular, a. Round ; intended for circular :
 گول - مدور - گشتی - گشتی اشتہار یا پروانہ

Circularity, n. The state of being circular :
 گولائی - مدورگی

Circulate, v. t. To send round ; to spread ; to publish :
 گھیرانا - پھرانا - مشتہر کرنا

— **v. i.** To move in a circle ; to flow in the blood vessels ; to pass from person to person :
 چلانا - پھیلانا - مشتہر کرنا

Circulation, n. Motion in a circle ; currency ; publication :
 دوران - گھیراؤ - گردش - رواج - اجرا

Circumambient, a. Surrounding :
 محیط - چاروں طرف کا

Circumambulate, v. t. To walk round about :
 گرد پورنا - چکر کھانا - گھومنا

Circumcision, n. Religious rite of the cutting of the foreskin :
 ختنہ - سنت

Circumference, n. A line that bounds a circle ; periphery :
 محیط - دائرہ - گھیرا - گردا

Circumferential, a. Relating to the circumference ; circular :
 محیطدار - مستدیر - گول

Circumferentor, n. An instrument used in measuring angles :
 زاویہ ناپنے کا آلہ

Circumflex, n. An accent (Λ) used to regulate the pronunciation of syllables :
 اہمیت کی بلندی

Circumfusion, n. The act of pouring round :
 بوجھار

Circumjacent, a. Lying round anything :
 آس پاس - گھیرا - چر حلقہ

- Circumlocution, n.** A roundabout way of speaking; the use of indirect expressions :
طول کلام - پیچیدہ گفتگو
- Circumnavigate, v. t.** To sail round : چارونطرف :
چاروں طرف سے گزرنا
- Circumnavigation, n.** Sailing round : دنیا کے گرد بہتری سفر
- Circumscribe, v. t.** To bound; to draw a line round; to confine; to limit : - محدود کرنا - گھیرنا - حد باندھنا
- Circumscription, n.** Limitation; restriction : حد - مصیبت - روک
- Circumspect, a.** Attentive; cautious; watchful :
خبردار - ہوشیار - چوکنا
Syn.—Prudent, thoughtful, wary.
- Circumspection, n.** Caution; prudence; thoughtfulness :
چوکسی - خبرداری
- Circumstance, n.** An event; an accident; condition; state of affairs : اتفاق - ماجرا -
* **Straitened**—s, narrow circumstances : تنگ دستی - تنگ حالت - مفاسی
* **Easy**—s, مرفحہ حالی
- Circumstantial, a.** Accidental : * اتفاقی - ناگہانی
Indirect (as circumstantial evidence) :
واقعاتی
- Circumstantiate, v. t.** To prove by circumstance :
* **To describe exactly** :
مفصل بیان کرنا
- Circumvallation, n.** A wall or fortification surrounding a town or fort :
چہار دیواری - شہر پناہ - فصیل
- Circumvent, v. t.** To deceive; to cheat : دھوکھا دینا - فریب کرنا
- Circumvention, n.** Deception; fraud : دھوکھا - فریب - چھل
Syn.—Imposture, deceit, delusion.
- Circumvolution, n.** A turning or rolling round; a roundabout procedure : گھوماڑ - چکر - گردش - ہیر پھیر
- Circumvolve, v. t.** To roll or move round : گھومانا - گردش دینا - چکر دینا
- Circus, n.** An open space or area for sport :
انگھارا - تماشہ کا میدان
- Cis, (Prefix)** On this side : اس جانب - اسطرف
- Cist, n.** A stone coffin : گڑھا - قبر
- Cistern, n.** A receptacle for water; a reservoir :
حوض - چھتہ بچتہ
- Cit, n.** Citizen : شہری - نگر باسی
- Citable, a.** That may be cited : قابل حوالہ
- Citadel, n.** A fortress in a city; a castle : قلعہ - گڑھ - کورت
- Citation, n.** Quotation; mention; summons to appear : حوالہ - مقررہ - نظیر - ذکر - دستک - طالبی
- Cite, v. t.** To quote; to summon : حوالہ دینا -
طلب کرنا
- Citizen, n.** An inhabitant of a city; a townsman; a freeman : رئیس - شہری
- Citizenship, n.** The rank of a citizen : حقوق رعایہ -
حقوق شہری
- Citron, n.** A large kind of lemon : ترنج -
چکرترا - کھٹا نیبو - گلک
- City, n.** A large town : شہر - نگر
- Civic, a.** Relating to a city : شہری
- Civil, a.** Political : * ملکی * **Civilized**; polite :
* **list** : * عدالت دیرانی * **court** : * شایستہ - خلیق
خانہ جنگی - * **war** : * ملکی انسورنگی فہرست
* **law** : قانون دیرانی * لڑائی
- Civilian, n.** One engaged in the pursuit of civil life; one who knows civil law : اہل
قلم - ملکی حاکم
- Civility, n.** Politeness; complaisance; courtesy, kind attention : خلقت - مروت - انسانیت - خرس
اخلاقی
- Syn.—Urbanity, good-breeding, refinement.
- Civilization, n.** The state of being civilized; life and training of a citizen : شایستگی - تربیت
- Civilize, v. t.** To reclaim from barbarism; to enlighten and refine :
تربیت کرنا - شایستہ کرنا
- Syn.—Cultivate, educate, polish, humanize.
- Clack, n.** A sharp repeated sound : چھٹکار -
کھڑکھڑاہٹ
- Clad, pp.** Clothed; covered : کپڑے پہنے ہوئے -
ڈھنکا ہوا

Claim, v. t. To demand of right ; to require :
 کرنا - طلب کرنا * **n.** A demand of anything
 as due : مطالبہ - دعوی * **A title:** حق

Claimant, n. One who claims : - مستغیث - مدعی
 دعویدار

Clam v. t. To clog with a glutinous matter ;
 to smear : لاسا لگانا - پھنکانا

Clamant, a. Crying ; clamorous : - روتا پیتنا ہوا -
 بشر منت کرتا ہوا

Clamber, v. t. To climb with difficulty : - دقت سے
 چڑھنا

Clammy, a. Viscous ; glutinous : - لپ لپا - چپچپا

Clamorous, a. Calling, loudly for something :
 بڑشور - غوغائی

Syn.—Noisy, boisterous, vociferous.

Clamour, n. Outcry ; noise ; uproar ; exclamation :
 * چلاہٹ - فرغا - شور - غل غپاڑا - جوش خروش
v. i. To talk loudly ; to vociferate ; to complain :

چلانا - شور مچانا - درہائی تمائی مچانا

Clamp, n. A piece of iron used to join stones
 together : * **v. t.** * رے لڑھا جس سے پتھر جوڑتے ہیں
 To secure or render firm : چکڑنا جوڑ میں لڑھا
 لگانا

Clamper, v. t. To botch up : پیرزد لگانا

Clan, n. A family ; a race ; a sect : فرقہ - خاندان -
 قوم - نسل

Clandestine, a. Hidden ; private ; secret : - خفیہ -
 پوشیدہ - مخفی

Clang, Clangour, Clank, n. A sharp shrill
 noise ; جھنجھناہٹ - ٹٹناہٹ

Clannish, a. Blindly devoted to one's own clan :
 اپنے فرقہ کا طرفدار

Clansman, n. One of a clan : کسی قوم کا ایک
 شخص - اہل فرقہ

Clap, n. A loud noise made by collision : - تڑاکا -
 * اچانک کی حرکت : * **A sudden act :** * تھپکی - تالی
 At a—, فوراً - دفعتاً

—, **v. t.** To applaud with the hands : * تالی بجانا
 To strike quickly : * پھٹپھٹانا - پٹپٹانا
To—hands, to applaud by striking both the hands:
 * **To—the wings, to flap both the**

wings : * پر پھٹپھٹانا
To—hold of, to seize suddenly : * یکایک پکڑ لینا
To—up : * جلدی : قید کر دینا - بدل کی کڑک
To—into : * سے کچھ کر دینا

Clapper, n. One who claps : * تالی بجانوالا
 The tongue of a bell : گھنٹے کی گولی یا لنگن

Clapper-claw, v. t. To chide ; to revile ; to fight
 and scratch : - بتارنا - پھٹکارنا - اتے لینا - دشمن دینا -
 نورچنا - کھسوٹنا

Clap-trap, n. Trick ; humbug ; an artifice for
 gaining popularity or applause : - نون - حیلہ -
 دھوکا - ہر داعیز بننے یا تعریف حاصل کرنے کی حکمت -
 طامعراق

Claret, n. A French wine : ایک قسم کی لال شراب

Clarification, n. The act of making clear :
 صاف پائی

Clarify, v. t. To make clear ; to purify : صاف
 کرنا - چھانٹنا - خالص کرنا - میل چھانٹنا

Clarion, n. A trumpet : توہی - نرسنگھا - قرنائی

Clarionet, n. A musical wind instrument :
 انخوڑا - بانسلی

Clash, v. i. To make a noise by mutual collision ;
 to oppose : * **n.** * ٹکرانا - ضد کرنا - مخالفت کرنا
 A noisy collision of two bodies ; opposition : -
 جھنکار
 مخالفت

Clasp, n. A hook ; a catch : * آنکڑا - بکسرا
 بند کرنا - باز دھنا - گلے **v.** بغلیگری -
 یا چھاتی سے لگانا

Class, n. A number of boys learning the same
 lesson ; a rank, order or division : - جماعت -
 * **v. t.** * **To rank together ;** * **To arrange separately :**
 ترتیب دینا - درجہ بندی
 درجہ - رتبہ - قسم
 کرنا

Classic, n. An author of the first rank ; a
 writer whose style is correct and elegant :
 مستند مصنف - مراف - صحیح و سستہ - منشی مستند

Classic, Classical, a. Of the first rank ; learned ;
 refined ; ancient ; historic or famous : - اعلیٰ -

مستند - شایستہ - مشہور یا ثورایفنی

Classification, n. Act of arranging in classes :
 ترتیب - درجہ بندی

Syn.—Arrangement, disposition, distribution, grouping.

Classify, *v. t.* To distribute into classes; to arrange methodically: درجه بندي کرنا - ترتيب دینا

Clatter, *v. t.* To make a rattling noise; to talk fast and idly: کھنکھانا - جهنجهانا - بک بک
 کھڑ کھڑ - * *n.* A rattling noise; commotion: کھل بلي - دند

Clause, *n.* Part of a sentence; sentence: جزو - جمله - فقره - عبارت - ضمون

Clavicle, *n.* The collar-bone: هنسلي کي هٽي

Claw, *n.* The sharp hooked nails of a beast or bird: چنگل
v. t. To tear with nails or claws: پنجه مارنا - کھروچنا

Clay, *n.* Thick and sticky earth: گارا
 * *v. t.* To cover with clay: ليپنا - کيسنا
 As cold as—, *a.* Dead; lifeless: بيجهان - مرده

Clayey, *a.* Consisting of clay: مٽيلا - گل آلوده

Clean, *a.* Free from dirt: صاف * Pure: پاک *
 Elegant: نفيس * Entire: بالکل * To make a—breast of anything, to make a full and unreserved confession: دل کي صفائي کرنا - صاف
v. t. To free from dirt; to cleanse: صاف کرنا - اُجلا کرنا

Cleanliness, Cleanness, *n.* Freedom from dirt; neatness: صفائي - طهارت - پاکيزگي

Cleanse, *v. t.* To render clean; to purify; صاف کرنا - پاک کرنا

Cleansing, *n.* Purification: پاکيزگي - صفائي

Clear, *a.* Bright: صاف و شفاف * Luminous: Free: * خالص * Pure: * ظاهري * Evident: * روشن
ad. * تيز * Acute: بے عيب: * Guiltless: * ميٺرا
 Quite; entirely: صفائي سے - صاف - بالکل

—, *v. t.* To make bright: اُجلا کرنا * To justify: * صاف کرنا * To free from obscurity: * حساب صاف کرنا
 To—up, to close an account: * خالي کرنا * To go away: * بهاک جانا * To—off, to run away: * هٽا دینا
 To—away, to remove:

Syn.—1. Free, lose, liberate.

2. Acquit, absolve, exonerate.

3. Extricate, disengage, disentangle.

Clearance, *n.* Act of clearing: صفائي * Disposal of old stock: پچھلے اسباب کي فروخت * A certificate that a ship has cleared at the custom-house: نکاسي کا پروانہ - چالان - ررنہ
 Net profit: بچت - نکاسي

Clearly, *ad.* Plainly; without reserve: صريحتاً - صاف - بالتصريح

Clear-headed, *a.* Sagacious: زيرک - روشن دماغ

Clear-sighted, *a.* Discerning: تيز نظر - ذی شعور

Clearness, *n.* Brightness; transparency: صفائي - شفافي

Cleave, *v. t.* To split; to part asunder: پھاڑنا
v. i. To adhere; to stick; crack; to be attached: چپٽنا - لپٽنا

Cleft, *n.* An opening made by splitting; a chasm: درز - دراز

Cleg, *n.* A horse-fly: گھڑ مکھی - ڌانس

Clemency, *n.* Mercy; remission of severity; mildness, compassion: رحم - شفقت - حلم - مهرباني - ملائمت

Syn.—Tenderness, forgiveness, leniency.

Clement, *a.* Merciful; mild: رحم دل - ملايم

Clench, *v. t.* To grip firmly; to close tightly: مضبوط پکڑنا - چکڑنا - کسنا

Cleptomania, *n.* An irresistible desire for stealing: جنون سرقه - چوري کي خواهش

Clergy, *n.* The whole body of divines; the ministers of the Gospel: پادريوں کا فرقہ

Clergyman, *n.* A man in holy orders; a minister of the church: پادري - پورهت

Clerical, *a.* Relating to the clergy, or to a clerk: خفيف * متعلق بہ پادري يا مکتور

Clerk, *n.* A writer in public offices; a scribe: مکتور - کاتب

Clerkship, *n.* The office of a clerk; scholarship: مکتوري - عالمي

Clever, *a.* Dexterous; skilful intelligent, adroit: چالاک - هوشيار - هنرمند - تيز فهم - چابک دست

Syn.—Expert, smart, quick.

Cleverness, *n.* Dexterity; skill: هوشيارى - هنرمندي - خوش اصولي

Clew, or Clue, n. A ball of thread ; trace :
 * A guide :
 - راغ - پتہ - سراغ -
 رهنما - رہبر

Click, v. t. To make a sharp, uninterrupted sound ; to tick :
 ٹک ٹک کرنا - ٹک ٹک کرنا

Client, n. One who employs a lawyer ; a dependant :
 موکل - اسامی - تابعدار

Cliff, n. A high steep rock ; a precipice :
 اورنچہ :
 اور ڈھار چٹان - ٹیلہ

Cliffy, a. Having cliffs ; craggy :
 چٹان دار - کڑاڑے -
 دار

Climacteric, n. A critical period of human life :
 زمانہ تبدیل اقبال یا تندرستی - خطرناک یا نازک
 وقت

Climate, n. Condition of a place in relation to temperature, moisture, &c. :
 آب و ہوا

Climatic, a. Relating to a climate :
 موسمی - آب و ہوا کا

Climatology, n. The science of climates :
 عام آب و ہوا

Climax, n. The highest point of anything :
 درجہ * Gradation ; culmination, upward movement :
 تدریج - عروج

Climb, v. i. To ascend ; to mount :
 چڑھنا - سوار
 ہونا

Clime, n. Climate ; region ; tract of earth :
 ملک - دیش - سر زمین

Clinch, v. t. To hold firmly ; to grasp ; to close tightly ; to render conclusive :
 چکڑنا -
 مضبوطی سے پکڑنا - مٹھی میں دباننا

Clincher, n. A cramp ; a holdfast ; a decisive argument :
 To—
 * اڑھ کا قبضہ - انکڑا - پکی دلیل
 the argument, بھک ختم کرنا

Cling, v. i. To adhere closely ; to hold fast :
 چپٹنا - لپٹنا - لگا رہنا

Clingy, a. Clinging ; adhesive :
 چپٹا ہوا -
 چپچپا

Clinic, Clinical, n. Pertaining to a sick bed :
 * Clinical surgery, متعلق مریض - صاحب بستر
 medical instruction imparted at the bed side
 تعلیم طبعی جو مریض کے پاس دیجاتی ہے

Clink, v. t. To make a small sharp sound :
 چھنچھننا - ٹھنٹھنا

Clip, v. t. To cut with scissors or shears ; to cut short ; to curtail :
 * نقرنا - کاٹنا - چھانٹنا
 To—one's words, چبا کر بولنا

Clipper, n. One who debases coin by cutting :
 نیز چلنے والا * A fast sailing vessel :
 جہاز - پنسوریا

Clique (clek), n. A number of persons acting together for a hidden purpose ; a coterie :
 فرقتہ - جماعت - مجلس چہر ایک راے ہو

Cloak, n. The outer garment :
 * لبادہ - جبہ
 A concealment :
 * پردہ * A disguise :
 بھیس - لباس

Clock, n. An instrument for measuring time :
 دھرم گھڑی - ساعت نما
 Syn.—Chronometer, watch, timepiece.

Clock-maker, n. One who makes clocks :
 گھڑی ساز

Clod, n. A lump of earth or clay :
 ڈھللا - لوند
 A dolt :
 * بیوقوف * v. t. To pelt with clods :
 ڈھیلے مارنا

Clodhopper, n. A rustic ; a clown :
 دھقانہ - گنوار

Cloddy, a. Earthy ; full of clods :
 ڈھیلوں سے بھرا
 ہوا

Clod-pate, n. A block-head ; dunce :
 احمق -
 کورن

Clog, n. An encumbrance :
 ہار - برجہ - روک - گلے
 * کھڑاڑ * A wooden shoe :
 * چھاتی کا پتھر
 v. t. To encumber ; to hinder :
 روکنا - رکھنا

Cloggy, a. Heavy ; thick ; hindering :
 رزنی -
 مروٹا - روکنے والا

Cloister, n. A place of religious retirement ; a monastery :
 حجرہ - کئیہ - خانقاہ
 Syn.—Monastery, nunnery, convent, abbey.

Close, v. t. To shut ; to conclude ; to enclose :
 To—
 * بند کرنا - تمام کرنا
 * To engage in combat :
 * راضی ہو جانا
 * To close up, (wound) بند ہونا * لڑ جانا

—, n. A grapple in wrestling :
 * مٹ پیچھڑ - پیچ
 End ; conclusion :
 * خاتمہ - انجام * Shut

fast ; wanting ventilation : Brief * بند - حبس *
 * Hidden : تنگ * Narrow : مختصر *
 —observe, باریک بین * shave, کا *
 —quarters, برابر کی بازی, game * فرق
 منہہ بھیڑ

Close-fisted, *a.* Stingy ; penurious : کنجوس -
 مکھی چوس

Closely, *ad.* Attentively ; secretly ; very near :
 فور سے - پوشیدہ طور سے - پاس پاس

Closeness, *n.* Narrowness : تنگی * Want of
 ventilation : Vicinity * حبس - گھٹن - امس :
 پوشیدگی : Privacy * تنہائی : Solitude * قربت

Closestool, *n.* A chamber stool : پاخانہ کی کرسی

Closet, *n.* A small private room : کمرہ - حجرہ
 —, *v. t.* To shut up in a closet ; to go into
 خلوت کرنا - پوشیدگی میں : private interview :
 گفتگو کرنا

Closure. *n.* The act of shutting up : بند کرنا *
 Enclosure , احاطہ * End : خاتمہ

Clot, *n.* A concretion ; a coagulation ; a mass
 of fluid matter : تھکا - چکا

Cloth, *n.* Anything woven for dress : کپڑا - جامہ

Clothe, *v. t.* To cover with dress ; to provide
 with clothes ; to invest : پوشاک پہنانا - ملبوس کرنا
 دینا - سر فراز کرنا

Clothier, *n.* A maker of cloth : کپڑا بنانے والا -
 جڑلا

Clothing, *n.* Dress ; garments : لباس *
 Cast-off clothings : ادرتن

Clotty, *a.* Full of clots ; concreted : چمکتے دار -
 منجمد

Cloud, *n.* A body of vapours suspended in the
 air : بادل - اب * To blow a—, to
 smoke a pipe : حلقہ پینا * Cirrus—,
 پتلے اور پھیلے * Cumulus—, * دل بادل
 * To be under a —, * ابز باران - برسائے بادل
 کسی علت میں ماخوذ ہونا

—, *v. t.* To darken with clouds ; to obscure :
 * To make sorrowful : بادل کا چھانا - تاریک کرنا
 اداس کردینا

Cloudiness, *n.* State of being cloudy : بدلی
 ابز - اندھیرا

Cloudless, *a.* Clear ; unclouded : صاف - کھلا ہوا

Cloudy, *a.* Covered with clouds ; dark ; ob-
 scure ; gloomy ; shady : بادل سے گھرا ہوا - تاریک -
 مبہم - فمگین - متفکر

Clout, *n.* A patch : پیرند - جزر * A cloth for
 any mean use : گھرنسا * A blow : چٹھڑا - لٹا
 v. t. To patch ; to mend coarsely ; to beat :
 پیرند لگانا - جزر لگانا - مارنا

Clove, *n.* A pungent aromatic Indian spice :
 لونگ - قونفل (لہسن) کی پوتھی - جزر

Clove, *p.* } Divided ; cleft : پھٹا ہوا - جزر ہوا
 Cloven, *pp.* }

Cloven-footed, *a.* Having the hoof into parts :
 پھٹا ہوا گھوڑا

Clover, *n.* A plant of the grass kind : درب -
 * To be or live in—, to be in most
 enjoyable circumstances : بڑی خوشحالی میں ہونا

Clown, *n.* A coarse ill-bred man ; a rustic ; a
 boor : بے شعور - بد خلق - دھقان

Cloy, *v. t.* To glut or satisfy ; to satiate : سیر
 کرنا - نای تک بھرنا - آسودہ کرنا

Club, *n.* A heavy stick ; cudgel : لٹھی * A suit
 of cards : تاش میں حکم کا رنگ * An associa-
 tion : مجلس - جماعت

—, *v. t.* To beat with a club : لٹھی
 * To join to one effect ; to con-
 tribute to a common expense : متفق ہونا - چنڈہ
 کرنا - شراکت کرنا

Club-footed, *a.* Having a deformed feet : تیزھے
 پاؤں والا

Club-headed, *a.* Having a thick head : بھاری سرکا

Club-law, *n.* The law of arms : زبردستی کی
 حکومت

Cluck, *v. t.* To call chickens as a hen : دت کت
 کرنا - کڑ کرنا

Clue, *n.* A ball of thread : سوت کا گولا * Trace :
 پتہ - نشان - سراغ

Clump, *n.* A small cluster of trees : جھنڈ -
 * A shapeless piece of wood : کڑھی

Clumsily, ad. In a clumsy manner : بھدے پن سے - بھوہڑ پن سے - بد وضعی سے

Clumsiness, a. Awkwardness ; unhandiness : بد وضعی - بھدا پن

Clumsy, a. Awkward ; uncouth ; heavy : - بیڈھنگا بھدا - بیدرل

Cluster, n. A number or similar things growing together ; a bunch ; a crowd : - خوشہ - گچھہ - بھیز - گھوڑ - جھمکا

Cluster, v. t. To grow in bunches ; to collect together : گچھا ہونا - اکٹھا ہونا - خوشہ ہونا

Clutch, v. t. To hold fast ; to grasp : گرفت کرنا - چکڑنا - قبضہ میں لانا - مٹھی میں پکڑنا

Clutter, v. t. To make a noise or bustle : شور مچانا - کھڑکھڑانا

Clyster, n. An injection into the bowels : - حقنہ پیچکاری

Clysterize, v. i. To apply a clyster : پیچکاری لگانا

Coach, n. A four-wheeled pleasure carriage : گاڑی

v. t. To carry in a coach : * چار پہیے کی گاڑی

To prepare for an examination by private instruction : کسی امتحان کے لئے خانگی تعلیم دیکر تیار کرنا

Co-action, n. Force ; compulsion : زور - دباؤ - زبردستی

Co-adjutor, n. A fellow-helper ; an assistant : حامی - مددگار - شریک

Syn.—Colleague, auxiliary, ally, aid, abettor.

Co-agent, n. An associate : ساتھی - شریک

Co-agulable, a. Capable of being concentered : قابل انجماد - جمنے کے لائق

Coagulate, v. i. To curdle, congeal or clot : جمنے - منجمد ہونا - بستہ ہونا - چکا ہونا

Coagulation, n. Concretion ; congelation : جماد - انجماد

Coal, n. Partially burnt wood ; charcoal : - کربلہ

To carry—s to Newcastle, to take things where they are already plenty ; to perform unnecessary labour : ضرور کام کرنا -

To haul over the—s, to

call to a strict or severe account ; to reprimand : سخت معاتبہ لینا - سرزنش کرنا : سلگتا کونٹا

Coal-black, a. Black in the highest degree : نہایت ہی کالا - کونٹا سا کالا

Coalesce, v. i. To grow together ; to unite : اکٹھا ہونا - ملنا

Coalescence, n. The act of uniting together : ملاؤ - جوڑ - اختلاط - اتصال

Coal-heaver, n. One who loads or unloads coal : کونٹا ڈھرنے والا

Coalescent, a. Joined : جزاں - ملواں

Coalition, n. Union in a body or a mass : اتفاق - میل

Syn.—Alliance, confederation, league, conspiracy.

Coarse, a. Not refined ; inelegant ; rough ; rude ; not delicate (*language*) : - مروا - بھدا - ڈالشیستہ - ارجتہ - نازا شیدہ - فوہش - گندی

Coarseness, n. Roughness ; rudeness ; grossness ; indelicacy : بھدا پن - کوخستگی - ناشایستگی - کوخرا پن - اکھڑ پن

Coast, n. The border of a country ; the land next the sea : کنارہ - ساحل

The—is clear, the danger is over or the enemies have gone :

v. i. To sail by or near the coast : کنارہ کنارہ جہاز رانی کرنا

Coat, n. The upper garment ; a covering ; the hair or fur of a beast ; a layer : - کواٹ - جامے -

—of arms, an armour : * زرہ بکتر

To wear the king's—, to be a soldier : * سپاہی بننا

v. t. To cover ; to invest : تہہ چڑھانا - خلعت پہنانا

Coating, n. A covering of paint : رنگ - قلعی - لپ

Coax, v. t. To wheedle ; to cajole : - پھولانا - پھلانا - منانا - دم دالسا دینا

Syn.—Wheedle, flatter, soothe, fawn.

Cob, n. The head or top : * سر یا چوٹی

A strong pony : مضبوط تتر - میانہ قد کا گھوڑا

Cobalt, n. A reddish grey-coloured mineral ; a coloured yellow pigment : - ایک قسم کی دھات

Cobble, v. t. To mend coarsely : - سوزنی
ٹانگنا - گانگھنا -
چرم دوزی کرنا

Cobbler, n. A mender of old shoes : - چہار -
مرچی - چرتی گانگھنے والا

Coble, n. A small fishing boat : - مچھلی پکڑنے کی
کشتی

Cobra, Cobra-de-capello, A poisonous snake :
ایک زہریلا سانپ

Cobweb, n. The web or net of a spider ; a snare ; anything flimsy : - مکڑی کا جالا - جال - جھلی سا پتلا

Cochineal, n. An insect from which a red colour is extracted : - ایک کیڑا جس سے رنگ بنایا
جاتا ہے - قرمز فرنگی

Cock, n. The male of birds : مرغ - مرغ - خروس *
A metal tap : * ٹرنٹی * Part of a gunlock :
* A—and bull story, an absurd or exaggerated story :
* جھونٹھا یا بنایا ہوا قصہ *
That—won't fight, that dodge won't answer :
وہ حکمت نہ چلیگی

Cock, v. i. To set erect ; to cock a gun : کھڑا
کرنا - گھڑا چڑھانا

Cockade, n. A ribbon or ornament on a hat : پھندا - طرہ - گچھہ

Cockatoo, n. A bird of the parrot kind, having a crest of feathers : طرطے کی ایک قسم - کاکاترا

Cocker, v. i. To fondle ; to indulge : پیار کرنا -
دلدار کرنا - ناز کرنا

Cockerel, n. A young cock : مرغ بچھہ

Cockle, n. A small shell-fish ; a weed : گھونگھا -
* v. t. To contract into wrinkles : * سیٹی - کھاس
چھری پڑنا - شکن پڑنا

Cock-loft, n. A room over the garret : بالا خانہ -
اتاری

Cockney, n. A contemptuous term for a native of London : شہر لندن کا ایک حقیر باشندہ

Cockpit, n. A ring for cock-fighting ; battle-ground : مرغیازی کا میدان - اکھازا - دانگ

Cock-roach, n. An insect : تل چٹا - چھینگر

Cockscomb, n. The comb of a cock : - کیس - تلگی -
تاج فرس - طرہ

Cockswain, n. The officer incharge of a small boat : چھرتی کشتی کا ناہدا - پتواریا

Cocoa, n. A species of palm tree : ناریل کا درخت

Cocoa-nut, n. The fruit of the cocoa tree : ناریل

Cocoon, n. An oblong case which contains the silkworm in its chrysalis state : ریشم کے
کپڑے کا خول - کویا

Coction, n. Boiling : ابال - جوش

Cod, n. A shell containing seeds ; a husk ; a pod : ایک سمندری مچھلی * A sea-fish : پھلکا - پہلی

Coddle, v. t. To make much of ; to pamper ; to parboil : * بڑی خاطر کرنا - ہلکا جوش دینا *
تreat tenderly : بڑے ناز سے رکھنا

Code, n. A digested system of laws : منجموعہ
قوانین - ضابطہ

Codicil, n. A supplement to a will : تتمہ -
رصیت نامہ

Codify, v. t. To digest into a code ; to arrange laws together : منضبط کرنا -
قانونوں کی ترتیب دینا

Codling, n. A small cod-fish : * چھرتی مچھلی *
An immature apple : کچھا سیب

Codliver-oil, n. Oil from the liver of the cod-fish : مچھلی کا تیل

Co-efficient, a. A number or quantity that multiplies or measures another joint-agent or factor : عدد تبدیلیا - مضروب فیہ - معاون

Co-efficiency, n. Co-operation : اتفاق - میل - تائید

Co-equal, a. Jointly equal : برابر - ہم سر

Co-equality, n. The state of being equal : برابر - ہم سرب

Coerce, v. t. To restrain by force ; to constrain ; to compel : روکنا - جبراً ناز رکھنا - دباؤ ڈالنا - مجبور
کرنا - زبردستی سے کرانا

Syn.— Check, repress, force.

Coercion, n. Force ; restraint ; check ; compulsion : زور - روک - اجبار - دباؤ

Coercive, a. Imposing restraint ; compelling ; restrictive : روکنے والا - اجبار - شدید - دباؤ ڈالنے

* —process : حکم شدید * والا

Coetaneous, a. Of the same age with another ;
contemporary : ہم عصر - ہم زمانہ

Coeval, a. Of the same age ; cotemporaneous :
ہم عصر - ہم زمانہ - ہم وقت - ہم عہد

Coexist, v. i. To exist at the same time : ایک
ہی وقت میں ہونا - ہم عصر ہونا

Coexistence, n. Existence at the same time
with another : ہم عصری - ہم قیامی

Coexistent, a. Existing at the same time :
ہم وقت - ہم عصر

Coexpand, v. t. To expand together equally :
برابر پھیلنا

Co-extension, n. Equal extension : -
ہم کشادگی - ہم فراخی

Coffee, n. The berries of a tree growing in
warm climates of Asia and America : قہرہ

Coffer, n. A chest generally for keeping
money : خزانہ کا صندوق - پیٹھی

Coffin, n. The box in which dead body is laid :
A nail in one's—, * مُردہ کا صندوق - تابوت
عمر گھٹاؤ - جرانی میں گون - صدمہ چانکاہ

Cog, n. The tooth of a wheel, by which it acts
upon another wheel : * پھینے کا دانت یا دندانہ
v. t. To cheat ; to deceive ; to wheedle : فریب
دینا - دغا کرنا

Cogency, n. Force ; strength ; power ; convinc-
ing power : زور - قوت - استحکام

Cogent, a. Forceful ; powerful ; convincing :
قوی - مقبول - متاثر

Syn.—Potent, strong, conclusive.

Cogitable, a. Conceivable : قریب الفہم - قابل قیاس

Cogitate, v. t. To reflect ; to think ; to med-
itate : غور کرنا - اندیشہ کرنا - خیال کرنا

Syn.—Ponder, consider, dwell upon.

Cogitation, n. Deep thought ; reflection : -
تردد - اندیشہ - غور

Cognate, a. Allied by blood or birth ; kindred
in origin : n. * ہم نسل - ہم جنس - ہم نسبت
kinsman : رشتیدار

Cognition, n. Knowledge ; complete conviction :
واقفیت - علم

Cognizable, a. Capable of being known or
apprehended ; capable of falling under judicial

notice : * شرابی کے لائق - قابل سماعت
جرم قابل دست اندازی پولیس :
Cognizance, n. Knowledge ; a judicial notice ;
واقفیت - سماعت - فریادرسپی - اختیار -
سماعت

Cognizant, a. Having knowledge of : واقف -
آگاہ - متحرم

Cognomen, n. A family name ; a surname :
خاندانی نام - پشتینی لقب - پدری

Cognoscence, n. Knowledge : علم - واقفیت

Cogwheel, n. A wheel with teeth : دانتے دار
پھیلا

Cohabitant, n. An inhabitant of the same
place : ہم وطن - ہم خانہ

Co-heir, n. A joint heir : شریک میراث - ہم ورثہ

Cohere, v. i. To stick together ; to cleave ; to
adhere : * To agree : چمٹنا - اتصال رکھنا - سٹنا
ملنا - جڑنا * To connect : موافق ہونا

**Coherence, } n. A sticking together :
Coherency, } * Consistency : چمٹیدگی - اتصال
مطابقت**

Coherent, a. Sticking together ; consistent :
چمچاں - چمٹا ہوا - متعلق - سلسلہ وار

Cohesion, n. The act of sticking together ;
connexion ; close union : اتصال - لگاؤ - ستاؤ

Cohesive, a. Having the power of sticking
together : چمٹنے والا - منبجہ - بندھا ہوا - لسدار

Cohibit, v. t. To restrain ; to hinder : ضبط کرنا - روکنا

Cohort, n. A troop of about 500 soldiers :
500 سپاہیوں کا رسالہ

Coif, n. A covering for the head ; a cap :
اورنگی - ٹوپی

Coil, v. t. To wind into a ring ; to roll into a
round form : لچھہ کرنا - لپیٹنا - گنتلی مارنا

Coil, n. The ring in which a rope is wound ; a
winding : لچھہ - گنتلی - حلقہ

Coin, n. Money stamped with a legal impression :
جالی * Counterfeit—, روپیہ پیسہ - زر
* Rubbed—, * پھرتا سکہ * Cracked—, * سکہ
* To pay a man back in his
own—, to treat a man as he has treated
you : جیسا سارک کرے تمہارے ساتھ کرتے ارے کے ساتھ
وہی سارے کرتا

Coin, *v. a.* To stamp and convert into money ;
to mint ; to invent : سکھ مارنا - ایجاد کرنا

Coinage, *n.* The act of coining money : سکھ زنی
Invention : ایجاد

Coincide, *v. i.* To fall upon the same point ;
to concur : * منطبق ہونا - ملنا - متفق ہونا

To concide in opinion : ایک رائے ہونا -
متفق الرائے ہونا - رائے ملنا

Coincidence, *n.* Act of falling together :
مطابقت - اتفاق

Syn.—Agreement, concurrence, consistency.

Coincident, *a.* Falling upon the same point ;
concurrent : منطبق - متفق - یکساں

Coiner, *n.* One who makes money; an inventor:
سکھ زن - ضرب - ٹکسائیہ - موجد

Coir, *n.* Coconut fibre formed into matting
ropes, cordage, sail-cloth, &c.: ناریل کی جٹا جسکی
چٹائی اور رسی وغیرہ بنا ئی جاتی ہیں

Coke, *n.* Coal out of which gas has been burnt ;
charcoal : * To cry—, to
beg for mercy : راسخے رحم کے استدعا کرنا

Colander, *n.* A sieve; strainer : چھانی - چٹائی

Cold, *a.* Bleak ; chilly : * Reserved :
* Not warm or hearty; unsatisfied :
* In—blood, without excitement or
passion : * To give,
show, or turn the—shoulder, to treat with
contempt : حقارت سے کنارہ کشی کرنا - بے رخی کرنا -
اتفاق نہ کرنا - بے اعتنائی کرنا

— *n.* Absence of heat ; chillness ; a disease
caused by cold : ٹھنڈ - سردی - بردت - خنکی - جازا -
* The cold fit of an ague : چھڑچھڑی -
تھوڑھری - لرزہ - جڑی

Coldly, *ad.* In a cold manner ; indifferently :
بے اعتنائی سے - بے پورائی سے - غفلت سے - سرد مزاجی
یا بے پرواہی سے - ملایمت سے

Coldness, *n.* Want of heat : * سردی * want of
zeal : * Want of passion : * مردہ دلی * کم توجہی :
بے پورائی * Indifference : * سرد مزاجی - تھوڑھری

Cole, *n.* The general name of all sorts of
cabbage : کروی

Colic, *n.* A pain in the bowels : - باز گولہ -
قرنج - درد شکم - مڑوڑا

Collaborateur. } *n.* An associate in scientific
Collaborator, } or literary work علمی مددگار

Collapse, *v. i.* To fall together suddenly ; to
shrink up; to break down; to come to nothing:
بیٹھہ جانا - پھک جانا - سکڑ جانا - ٹوٹ جانا - زایل ہونا
* *n.* A falling
together : (Med.) A sudden failing of
the vital powers : نا توانی - ضعف - نقاہت

Collar, *n.* Something worn round the neck :
* ٹیٹا - طوق - گلو بند - گھنٹی - گریبان - ہنسلی - حلقہ
پہنا تڑا یا نکال بھاگنا - نکل جانا یا
* *v. t.* To seize by
the collar : گریبان پکڑنا

Collar-bone, *n.* The clavicle : ہنسلی - گردن کے نیچے
خدمت میں : In—, in service : کی خمدار ہندی

Collate, *v. t.* To compare critically ; to gather
and arrange as sheets of a book for binding ;
to place in order : - * مقابله کرنا - ملانا
مطابقت کرنا

Collateral, *a.* Side by side ; running parallel ;
related to but not exactly the same ; indirect
subsidiary; descended from the same ancestor,
but not in a direct line; additional : پہلو بہ پہلو -
ہم سر - متوازی - ماتحت - یک جہی پر راست
ضمنی * Collateral security : * النصب نہیں - مزید
ثبوت یا شہادت مزید * —evidence : معائنہ

Collation, *n.* Act of bringing together and compar-
ing : ناشہ - کھانا * مقابله - جانچ

Colleague, *n.* A partner in office ; an associate:
ہم عہدہ - ہم منصب - ہم رتبہ - شریک - مددگار

Collect, *v. t.* To bring together ; to infer or
deduce : جمع کرنا - اکٹھا کرنا - وصول کرنا - نتیجہ نکالنا

To—one's self, to recover from surprise :
* To—one's
thoughts, to remember : * یاد کرنا *
چیرا تحصیل کرنا - زبردستی
* To—by sequestration : * تحصیل کرنا
* *v. t.* To recover from surprise :
* *n.* A short prayer : * ہرے میں آنا

Collection, n. Act of collecting : اجتماع * Things collected : مجموعہ * A sum of money : تصویل * Contribution : چندہ * Crowd ; assemblage : دیوان * —of poems, مجموعہ - مجمعہ

Syn.—Assemblage, contribution, gathering, mass.

Collective, a. Formed by gathering : - مجموعہ

Noun : اسم جنس - اسم مجموعہ

Collector, n. A gatherer ; a tax-gatherer : کلکٹر * Compiler : مولف (of a district) : تصویل کرنے والا - حاکم ضلع - صاحب کلکٹر - ضلع - میزبان - شاہ بندر - of port duties, بندر

Collectorate, n. Office of a collector : کلکٹر صاحب کا دفتر - سرشتہ کلکٹری - ضلع داری

College, n. An establishment for students acquiring languages and science ; a summary of the highest class ; a building for teaching or studying in : بڑا مدرسہ - مدرسۃ العارفین

Collegian, n. A member of a college ; a student : بڑے مدرسہ کا طالب علم - رکن مدرسہ

Collegiate, a. Relating to a college, as a school, as a collegiate church : متعلق کالج یا مدرسہ

Collet, n. The rim in which a gem is set : انگوٹھی کا حلقہ جس میں نگ جوڑا جاتا ہے

Collide, v. t. To dash against each other : ٹکر کھانا - بھڑکانا - ٹر جانا

Collier, n. A digger of coals : کالا * کولرہ کھودنے والا * A vessel for transporting coal : کولرہ لیجنڈیروالا * جہاز

Colliery, n. A coal mine or pit : کولرہ کی کان

Colligate, v. t. To fasten together : اٹٹھا کرنا * اجتماع کرنا

Collimate, v. t. To take aim at a mark : سیدھے پر لانا - ہم خط کرنا

Collision, n. A striking together : مت بھڑکانا * Opposition : مخالفت * ٹکر - دھکا

Collocate, v. t. To place ; to set in order ; to arrange : ترتیب دینا - سجانا

Collocation, n. A putting into proper place with something else : ترتیب - سجائوت

Syn.—Arrangement, distribution, disposition.

Collogue, v. t. To plot ; to flatter ; to confer secretly and confidentially ; to conspire : سازش کرنا - لالچ پتو کرنا - پوسلانا - پوشیدہ بات چیت کرنا

Collop, n. A slice of meat ; a child : گروش کا پارچہ - بچہ - لخت چکر - بچہ

Colloquial, a. Relating to conversation ; conversational : — متعلق گفتگو - بول چال کا * phrases, phrases used in ordinary conversation : معمولی بول چال کے فقرے

Colloquialism, n. A word, or phrase peculiar to the language or conversation : روزمرہ کی گفتگو کا فقرہ - بول چال کا جملہ

Colloquy, n. A mutual discourse ; a dialogue : گفتگو - بات چیت

Syn.—Dialogue, conversation, conference, talk, discourse.

Collude, v. i. To conspire in a fraud : سازش کرنا * ملجانا - ملکر فریب کرنا - اتفاق کرنا

Collusion, n. A secret agreement and co-operation for fraud : سازش - بندش - سٹہ بٹہ

Collyrium, n. A lotion for the eyes ; eye-salve : آنکھوں - سرمہ

Colon. The mark [:] used at the end of a clause : بڑھنے میں ٹھہراؤ کا بیہ [:] نشان

Colonel (ker-nel), n. The chief commander of regiment : پلٹن کا بڑا افسر - کرنل

Colonial, a. Pertaining to a colony : ٹہنی آبادی کے متعلق - ٹہنی بستی کا

Colonist, n. An inhabitant of a colony : نو آباد ملک کا رہنے والا

Colonize, v. t. To establish a colony ; to migrate and settle : آباد کرنا - بسنا - نئے ملک میں جا کر آباد ہونا - بسنا

Colonnade, n. A series of columns placed at regular interval : بڑا بڑا درمی بڑ ستونوں کی قطار

Colony, n. Settlement abroad ; the country colonised ; a body of settlers : نو آباد ملک - ٹہنی بستی - نو آباد کاران

Colossal, a. Very large ; huge ; gigantic : - قد آزر - عظیم المرتبت
عظمت صورت - قوی ہیملک - دیو سا - عظیم العیشہ

Colossus, n. A statue of a very large size : بڑی بہاری صورت

Colour, n. Tint ; dye ; paint : قام - رنگ * Appearance : صورت * Pretext : حیلہ * (pl.) Flag : Kind : قسم - رقم * Dull—, not bright colour : منہ رنگ * Fast—, standing colour : To give—to the matter, to render the matter more plausible of : کسی معاملہ * Under—of, under pretence of : حیلہ سے * There was not least—of the excuse, To lose one's—, To palliate ; to excuse : چشم * To make plausible : مامع کرنا - قہی کرنا - ظاہرہ قابل اعتبار بنا دینا - بات بنا

Colourist, n. One skilled in the use of colours : رنگ ساز

Colours, n. (pl.) A standard or flag : علم * To come off with flying—, to be successful : کامیاب ہونا

Colouration, n. Act of colouring : رنگ چڑھانا - رنگ سازی

Colporteur, n. A hawkler of religious books : مذہبی کتابوں کی بیہی لگائیرالا - گشتی کتب فروش

Colt, n. A young horse : بچہیزہ * A young foolish fellow : الوہر * To frisk ; to make a fool of : الہوہر بنا

Colter, n. The sharp fore-iron of a plough : ہل کی پہاڑ - ہل کا لوہا

Coltish, a. Wanton ; frisky : چنچل - شرع

Colubrine, a. Snake-like ; cunning : سانپ سا - چالاک

Column, n. A cylindrical pillar : ستون - کھنپا * A large body of troops : صف - قطار * A row of lines in a book : خانہ - جدول

Columnar a. Having the form of a column : کونپ سا - ستون سا

Coma, n. Complete insensibility ; lethargy : خراب غفلت - بیروشی کی نیند

Comate, n. A companion : ساتھی - ہم صحبت

Comatose, a. Inclined to sleep ; drowsy : ننداسا - بے خبر - بیروش

Comb, n. An instrument with teeth for adjusting hair, wool, &c. : کنگھی * The crest on a cock's head : تاج خروس - کنگھی * The structure of wax in which bees store honey : خانہ زنبور - چہتہ

Comb, v. t. To adjust or clean the hair ; to lay smooth : کنگھی کرنا - چھڑنا - صاف کرنا - ترمنا - دھننا * To—one's head, to humiliate a person : ڈیچا دکھانا - حقیر کرنا - ذلیل کرنا

Combat, n. A struggle to resist or conquer ; a contest ; a battle : لڑائی - میازرت - لڑائی * Single—, Syn.—Battle, engagement, conflict.

—, v. t. To fight ; to oppose : لڑنا - مقابلہ کرنا - پھڑنا

Combatant, n. One who fights with another ; a champion : لڑائیرالا - شریف - جنگ آور

Combination, n. A number of persons or things joined for a purpose ; union ; conjunction ; conspiracy : مجموعہ - ملاز - اتفاق - اتصال - قران - بندش - سازش

Syn.—Union, coalition, league.

Combine, v. i. To join together ; to unite ; to coalesce : ملانا - پیوستہ کرنا - گانہنا - جوڑنا * To join by twos ; to unite or agree : ملنا

Combustible, a. Capable of taking fire and burning ; inflammable : سوزندہ - آتش گیر - سوختنی - جل اٹھنے والا

Combustion, n. A taking fire and burning ; conflagration ; ignition : جلنے کی حالت - سوختگی - آفرختگی

Come, v. i. (opposed to Go). To draw near ; to approach ; to happen : آنا - ہونا - واقع ہونا * To—and go, to alternate : واقع ہونا * To—about, to happen : واقع ہونا * To—amiss, to be unsuitable : بھڑنا * To—at, to reach : پہنچنا * To—away, to leave : ہٹنا * حاصل کرنا

To—by, to pass near : گذرنا * قریب سے گذرنا
 To obtain : حاصل کرنا * To—down, to descend :
 * ذلیل ہونا * To be humbled or abased : اُترنا
 * To—home, to touch the feelings, interest, or
 reason : اثر کرنا * To—to hand, been received :
 ملنا * To—in, to enter : داخل ہونا * To—in, to
 be brought into use : استعمال میں آنا * To—into,
 to acquire by inheritance : وراثت یا ترکہ میں پانا
 * To—in for, to get a share of : حاصل کیا جانا
 * To—off, to escape : بچ جانا * To—to get free :
 * To—on, to advance : آگے بڑھنا * To—to happen :
 واقع ہونا * To—to be public : ظاہر ہو جانا
 * To : * To—to be introduced to general society :
 عام میں شریک ہونا * To—to result : نکلنا
 * To—to—out with, to let out or disclose :
 * To—to—round, to recover : ٹھیک ہونا * To—to
 short, not to reach : گھٹنا * To—to, to fall or be
 allotted to : حصہ میں پڑنا * To—to one's
 self, to recover : * To—to pass, to happen :
 واقع ہونا * To—to—true, to be verified :
 چڑھنا * To—to—up, to ascend : اُگنا
 * To—to—up to, to attain to : پہنچنا * To—to
 equal : برابر ہونا * To—to—into fashion, to be
 in vogue : رواج پانا * To—to—into force, to have
 effect : نافذ ہونا * To—to—terms, to agree :
 * To—to—blows, to * To—to—light, to be discovered :
 ظاہر ہو جانا

Comedian, n. An actor or player in comedy ;
 a writer of comedy : نقال-ہونڈا - ہمزویا - سوانگ کا
 لکھنے والا

Comeddy, n. A laughable dramatic piece :
 ہنسی کا سوانگ - نقل

Comeliness, n. Grace ; beauty ; dignity :
 خوبصورتی - خوش اندامی - شان

Comely, a. Graceful ; decent : خوش اندام
 Syn.—Fair, handsome, agreeable.

Comestible, n. An eatable ; an article of food :
 اشیاء خوردنی - کھانے کے قابل چیز

Comet, n. A heavenly body with a trail of
 light and eccentric motion : ڈمدار ستارہ - پونچھل
 تارہ

Cometography, n. A description of comets :
 دمدار ستاروں کا بیان یا تذکرہ

Comfit, n. A dry sweetmeat ; a confection :
 سرکھی مٹھائی - نقل - الاچی دانہ - پاگی ہوئی چیز

Comfort, v. t. To solace ; to invigorate : تسلی
 دینا - دلایا دینا

Syn.—Cheer, solace, console.

Comfort, n. Strength and relief under affliction ;
 consolation ; source of enjoyment ; satisfaction :
 تسلی - تسکین - تقویت - دلایا - دھارس - آرام -
 خاطر جمعی - خوشی

Comfortable, a. Affording or enjoying com-
 fort ; cheering ; convenient : آرامدہ - تسکین
 بخش - اسودہ - خوش

Comfortably, ad. With comfort : آرام سے -
 خوشی سے

Comforter, n. One who comforts : تسلی دینے والا -
 * A warm wrapper for the neck : گرم
 گلوند

Comfortless, a. Without comfort : بے چین - بے
 آرام - دل شکستہ

Syn.—Forlorn, desolate, wretched, miserable.

Comic, a. Relating to comedy ; causing mirth ;
 droll : funny : خندہ رو - متعاقب - سوانگ یا نقل کے

Comical, a. Diverging ; making mirth ; queer ;
 ہنسنا - خندہ آور - عسرت - مسخرہ - اترکھا

Comity, n. Courtesy ; civility : حلم - اخلاق -
 تہذیب - شرافت - خلق - دستا - راجہ رسم

Comma, n. A point [,] mark the smallest
 grammatical division in a sentence : جملہ میں
 بہت کم گھبرنے کا بیہ [,] نشان

Command, v. t. To govern ; to give orders to ;
 to overlook ; to beat the head of ; to get at
 pleasure ; to claim and receive : حکومت کرنا -
 فرمانا - حکم دینا - سرداری کرنا - ارپڑ ہونا - جب
 چاہے لے سکتا - طلب یا دعویٰ کرنا

— n. An authoritative order ; injunction ;
 فرمان - exercise of authority ; control ; power : حکم -
 حکومت - سرداری - اختیار

Commandant, n. A commanding officer : فرج کا
 سردار

Commander, n. One who directs ; chief ; leader :
سینا پتی - سردار - سالار

Commander-in-chief : سپہ سالار - سالار سالاران - سرورجنگ - جنگی لاک

Commanding, a. Governing ; chief ; highly impressive ; controlling ; imperious ; lofty ; advantageous : حکمران - اعلیٰ - نہایت موثر پر بدیدہ - تھکانہ - بلند - بہتر

Commandment, n. An authoritative order ; precept : خدا کا حکم - فرمان - اصول

Commando, n. A body of armed men raised for military service among the Boers : ہوارس لوگوں کی فوج

Commemorable, a. Worthy to be remembered ; worthy of celebration : قابل یادگار

Commemorate, v. t. To celebrate ; to preserve the memory of : یادگاری کرنا - منانا - عرس کرنا

Commemoration, n. A public celebration : یادگاری - عرس

Commence, v. t. To begin ; to originate : آغاز کرنا - شروع کرنا

Commencement, n. Beginning ; rise ; origin : ابتدا - آغاز - شروع

Commend, v. t. To praise ; to recommend : سپرد کرنا * To deliver : تعریف کرنا - سفارش کرنا * To give one's compliments to : حوالہ کرنا - سونپنا * To mention with approbation : ذکر خیر کرنا

Commendable, a. Worthy of praise : قابل تعریف

Commendation, n. Praise ; recommendation ; favourable mention : تعریف - سفارش - تحسین - تسلیمات

Commendatory, a. Containing praise ; laudatory : توصیفی

Commensurable, a. Having a common measure : ہم انداز - ہم وزن - ہم مقدار - ایک عدد پر برابر تقسیم ہو جانے والا

Commensurate, a. Equal ; proportional : برابر - ہم انداز - موافق

Comment, v. i. To annotate ; to make re-

marks ; to write explanatory notes : شرح لکھنا - ٹیپا کرنا - خیال ظاہر کرنا - تفسیر کرنا

Commentary, n. A book of comments ; exposition : شرح - ٹیپا - تفسیر - حاشیہ

Commentator, n. An expositor or annotator : شارح - مفسر - موضع

Commentitious, a. Inventive ; imaginary : موجود - تصوری - خیالی

Commerce, n. Interchange of commodities ; trade ; intercourse ; familiarity : سوداگری - تجارت - راہ درسم - آمد و رفت - میل ملاپ - سنگت

Commercial, a. Relating to trade ; mercantile : تجارتی - سوداگری

Commination, n. A threat of punishment ; denunciation : غضب - قہر - دھمکی

Commingle, v. t. To mingle in one mass : ایک میں ملانا

Commminute, v. t. To break into small parts : ریزہ ریزہ کرنا

Commiserate, v. t. To pity ; to show mercy ; to feel for another ; to sympathise with : رحم کرنا - قوس لگانا

Commiseration, n. Compassion ; pity : - رحم - قوس - دیا

Commiserative, a. Compassionate : درد مند - رحم دل

Commissariat, n. The department which supplies provisions, &c. for the army : سرشتہ - ہم رسائی رسد لشکر - محکمہ کھسرت

Commissary, n. A commissioner : نائب داروغہ - گماشتہ

Commission, n. A trust : سپردگی * An allowance made for transacting business : دستوری * Perpetration : ارتکاب حرکت * Command : سند - پروانہ * Warrant of authority : فرمایش * v. t. To authorize ; to appoint : اختیار دینا - مقرر کرنا

Commissioner, n. One empowered to act : مختار - امین - وکیل

Commit, v. t. To intrust : حوالہ کرنا * To imprison : ارتکاب کرنا * To perpetrate : قید کرنا

- To—to memory, to learn by heart :** زبانہ یاد کرنا
- Commitment, n.** Act of committing ; imprisonment ; consignment ; perpetrating ; a pledging : قول دینا - قید - ارتکاب - قتل سپردگی - حوالہ - قید - ارتکاب - قول دینا
- Committal, n.** Act of committing ; a pledge : سپردگی - حوالہ - امانت
- Committee, n.** Persons specially appointed to manage any business : کمیٹی - پنچایت - مجلس
- Commix, v. t. or i.** To mix together ; to blend : ملانا - مفاہم کرنا - ملنا
- Commode, (Fr.)** A night-stool : غسلخانہ کی چڑکی
- Commodious, a.** Convenient ; suitable ; roomy ; spacious ; serviceable : آرام دہ - وسیع - گنجائش کا - کشادہ - کام کا - موافق - مناسب
- Commodity, n.** That which affords convenience or advantage : Goods ; wares : مال - اسباب
- Common, a.** Belonging to several ; usual : **Abundant :** عام - معمولی - مزج - مستعمل - جاری * **حقیر - بڑج - ادنی - ہیج : Mean :** کمبند - جہت - بسیار **General :** * **gender, names** which, without a qualifying word, may be used of males or females : * **جنس مشترک :** * **sense, practical understanding :** * **عام عقل :** * **—people,** عوام الناس - ہما شما
- Syn.—Familiar, ordinary, usual.**
- Ant.—Peculiar, singular, unusual.**
- Commons, n.** The common people ; the members of the House of Commons ; food : عوام - Short— * **مجلس - کلاے رعایا - کہانا - خوراک** کمی راتب یا خوراک
- Commons, n.** An open public ground : میدان عام
- Commonalty, n.** The common people ; the general body of the people : عوام - عوام الناس
- Commonly, ad.** Frequently ; usually ; generally : عرف - بولتا * **called.** * **اکثر - بہت - عواما** ہوتا

- Commonplace, n.** Ordinary topic ; every day saying ; anything trite ; memorandum : معمولی : * **a. Common ; trite :** یادداشت ادنی - عام
- Commonwealth, n.** The public ; a republic ; the state : رعایا - حکومت جمہوری - ریاست - مملکت
- Commotion, n.** Agitation ; disturbance ; tumult ; perturbation : اضطراب - گھبراہٹ - ہلچل - بلوہ - بے قراری - بے چینی
- Commune, v. i.** To converse ; to confer : بولنا : **To—with one's self, n.** Friendly talk ; the common people : * **غرر کرنا - دل سے مشورہ لینا** دوستانہ بات چیت - عوام
- Communicate, v. t.** To impart information ; to make known : بتلانا - اطلاع دینا - خط و کتابت کرنا : جتانہ - خبر دینا
- , v. t.** To partake of the Lord's Supper : * **To have intercourse :** خط و کتابت رکھنا
- Communication, n.** The act of communicating ; intercourse ; correspondence ; news : اطلاع دہی - آمدورفت - خط و کتابت - خبر
- Communicative, a.** Unreserved ; open : صاف گر صادق
- Communion, n.** Fellowship ; union in religious worship ; participation ; mutual intercourse : رفاقت - شراکت - خط و کتابت - صحبت - مذہبی میل - عشاء رذانی
- Community, n.** The body politic ; the public : **of interests,** * **جماعت - فرقہ - خلیقت** **The good of the—, n.** **نیض عام,** * **رذانا عام**
- Commutable, a.** That may be exchanged : قابل تبدیل
- Commutation, n.** The change of a penalty to one less severe ; exchange ; alteration ; ransom : بہاری سزائی ہلکی سزائیں تبدیلی - ادلا بدلی : عیوض - معاوضہ - تبدیلی
- Commute, v. i.** To change a penalty to one less severe ; to change one thing for another : بہاری سزا کو ہلکی سے بدل دینا - تبدیل کرنا

Compact, n. An agreement uniting parties ; league ; treaty ; mutual agreement - قول قرار

* **a. Firm ; close ; brief ; united ; solid ; dense :** مختصر - گاڑھا - ٹھوس - پیوستہ - گڑھا * **a. Firm ; close ; brief ; united ; solid ; dense :** مختصر - گاڑھا - ٹھوس - پیوستہ - گڑھا

Companion, n. A comrade ; a partner : مصاحب
ہم پیالہ و ہم نوالہ * **A bottle—,** رقیق - ساتھی

Syn.—Associate, mate, compeer, ally.

Companionship, n. Fellowship ; association : صحبت - رفاقت - ساتھی

Company, n. A body of men : - گروہ - جماعت * **n. * Society :** ساتھی * **Fellowship :** طايفہ

Body of soldiers : فوج کي کمپني * **Trading society :** سا جھ کي کوٹھي

Syn.—Assembly, society, group, circle, troop, crew, gang.

Comparable, a. That may be compared : مقابلہ کے لائق - ہم چشم - ہمسر - برابر

Comparative, a. Estimated by comparison ; relative : متقابل - متناسب - تقصیلی - نسبتی

Comparatively, ad. Relatively : * **بمقابلہ۔** بد نسبت : ایسے جینے سے مرنا بہلا ہے

Compare (with), v. t. To examine together ; to liken : مقابلہ کرنا - ملانا - نسبت دینا

Compare (to), v. t. To hold or stand comparison : برابر ہونا

Comparison, n. Act of comparing ; a comparative estimate ; likeness : - تقابل - مشابہت - تشبیہ - تمثیل

Compartment, n. A division of a ship or a railway carriage ; a separate part ; a division : خانہ - حصہ - کمرہ - درجہ

Compass, v. t. To surround ; to besiege ; to obtain ; to accomplish ; to contrive : گھیرنا - متحصصہ کرنا - حاصل کرنا - پورا کرنا - تدبیر نکالنا -

Limit : * **Limit :** * دور - گھیرا : * **n. A circle :** * **Extent :** * **A magnetised needle used in steering ships :** * **I speak within—,** میں میبالغہ نہیں کرتا

Compasses, n. A two-legged instrument for describing circles, etc. ; a pair of compasses : پرکار

Compassion, n. Pity ; commiseration ; sympathy : * **Compassion, n.** Pity ; commiseration ; sympathy : * **Syn.—Sympathy, tenderness, clemency.**

Compassionate, a. Inclined to pity ; merciful : دردمند - رحم دل

Syn.—Sympathising, tender, pitiful.

—, **v. t.** To commiserate ; to pity : - رحم کرنا
توس کھانا

Compatibility, n. Consistency ; suitability ; congruity : میل - مطابقت - موافقت

Compatible, a. Consistent with ; suitable to : مطابقت - لائق - موافق

Compatriot, n. One of the same country : ہم ملک - ہم وطن

Compeer, n. An equal in rank, age or power ; a colleague ; a companion : - ہم سر - ساتھی

Compel, v. t. To force to some act ; to constrain ; to oblige ; to drive on ; to subjugate : بزر کرنا - زبردستی کرنا - مجبور کرنا - ناچار کرنا

Syn.—Constrain, coerce, oblige, necessitate.

Compendious, a. Short ; concise ; abridged ; succinct : مختصر - خلاصہ - منتخب

Compendium, n. A small book containing all that is important in a larger one ; epitome ; summary : انتخاب - اختصار - خلاصہ

Syn.—Abridgment, abstract, synopsis, brief, digest.

Compensate, v. t. To give weight for weight ; to make up for ; to remunerate ; to reward suitably ; to pay for loss : - عوض دینا - بدلہ دینا - تلافی کرنا - کسر نکالنا

Compensation, n. A making up for loss suffered : تلافی - عوض - ہرجہ

Syn.—Recompense, amends, satisfaction, remuneration.

Compete, v. t. To be a rival to ; to contend ; to contest ; to strive with or against : - برابری کرنا - ہمسری کرنا - رقابت کرنا

Competence, Competency, n. Sufficiency ; legal capacity or power ; fitness ; competent circumstances : آسودہ حالی - فراغت - اختیار - جواز - لیاقت - قابلیت - فارغ البالی - سوائی

Competent, a. Fit or able to do a thing :
قابل - لائق

Syn.—Sufficient, capable, qualified.

Competition, n. Rivalry ; contest : -
ہمسری - براہری - مقابلہ - رقابت

Competitive, a. Pertaining to competition :
مقابلہ کا - ہمسری کا

Compilation, n. A selection from various authors :
تالیف - ترتیب

Compile, v. t. To draw up from various authors ;
to make up bits from different books :
تالیف کرنا - ترتیب دینا - جمع کرنا

Complacence, Complacency, n. Pleasure ;
satisfaction ; civility :
خوشی - دلجمعی - خوش خلقی

Complacent, a. Pleasing ; civil :
خوش آئند - خوش خلق

Complain, v. i. To murmur :
To lament :
To make a charge :
To be ill :
* شاکہ ہونا - فریاد کرنا
* نالہ کرنا
* نالہ کرنا
* نالہ کرنا

Complainant, n. One who complains ; a
prosecutor ; a plaintiff :
شاکہ - متنبیغ - مدعی
نالشی - فریادی - داد خواہ

Complaint, n. A murmuring ; accusation ;
illness :
شکوہ - شکایت - نالہ - مرض

Complaisance, n. Civility ; urbanity :
خلق - اہلیت - مروت

Complaisant, a. Civil ; courteous ; polite :
با ادب - با مروت - خلایق

Complement, n. That which supplies deficiency ;
the full number :
متمم - تعداد - مقدار - پورتی

Complemental, a. Filling up ; completing :
مکمل - متمم

Complete, a. Perfect ; entire :
مکمل - تمام

v. t. To perfect ; to finish ; to accomplish :
پورا کرنا - تمام کرنا - ختم کرنا

Syn.—Perform, conclude, effect, fulfil.

Completely, ad. Fully ; perfectly ; entirely ;
utterly ; quite :
پورے طور سے - بالکل - سراسر - تمام و
کمال

Completeness, n. Entireness :
کمالیت - پور پوری
Completion, n. Act of finishing ; accomplish-
ment :
تکمیل - اختتام

Complex, a. Having many parts ; intricate :
مربک - پیچیدہ

Syn.—Composite, complicated, abstruse.

Ant.—Clear, simple, plain.

Complexion, n. The colour of the skin ; outward
appearance ; temperament :
صورت - رنگ -
خصلت - طبیعت - مزاج

Complexity, n. A complex state ; intricacy :
پیچیدگی - الجھاؤ

Compliance, n. A yielding to another's
wishes ; submission ; consent :
رضامندی - استرضا -
مرضی

Syn.—Concession, submission, obedience.

Compliant, a. Yielding ; giving into :
مان لینے والا - راضی - ملائم

Syn.—Obliging, submissive, obedient.

Complicate, v. t. To make intricate ; to involve :
پیچیدہ کرنا - الجھانا

Syn.—Entangle, implicate, involve.

Ant.—Disentangle, explicate, extricate.

Complicate, a. Involved ; complex :
پیچیدہ
v. t. To mix up ; to intricate :
الجھانا - پیچیدہ کرنا - بھسانا

Complicacy, n. Complexity ; intricacy :
پیچیدگی - الجھون - بھناؤ

Complication, n. A mixture of many things ;
entanglement :
پیچ - الجھاؤ - دقت

Complicity, n. Condition of being, an
accomplice ; partnership in any evil action :
سازش - شراکت - ساچھا

Compliment, n. A pleasing word or act ; an
expression of regard ; greeting :
تکلف - سلام
* Delicate flattery :
مدار - انقاب و آداب

تعریف :
* Praise :
خوشامد - چاہاروسی

Compliment, v. t. To pay a compliment to ; to
congratulate ; to praise :
مبارکبادی دینا - تعریف
کرنا - سراہنا

Complimentary, a. Expressive of regard or praise :
توصیفی - شوقیہ - تکلفانہ - تعریفی

Comply, v. i. To yield to ; to consent, (generally followed by with) ; to acquiesce to ; to conform to :
راضی ہونا - تسلیم کرنا - منظور کرنا - بجا - لانا - تعمیل کرنا

Component, a. Forming a part ; constituent :
جز - حصہ - ٹکڑا :
n. A component part : آمیزتہ

Comport, v. t. To behave ; to conduct : چلن
موافق ہونا :
v. i. To suit : پیش آنا
(Pride comports ill with poverty).

Comportment, n. Behaviour ; demeanour :
چال - رویہ - وضع - طور - اطوار

Compose, v. t. To allay : تسکین دینا
To constitute ; to write as author : تصنیف کرنا
To form a compound :
To arrange types : *
To adjust : *
To set to music : *
To fashion : *
راگ نکالنا * اصلاح کرنا

Composed, a. Calm : خاموش
Sedate : *
Tranquil : متطمئن - باقرار

Composer, n. An author : انشا پرداز

Composing-frame, n. (Print.)
حرف چھانے کا
stick : *
حرف چھانے کا رول : *
حرف چھانے کی تختی

Composite, a. Made up of parts ; compounded :
مرکب - ملوان

Composition, n. A mixture ; a literary work ; combination ; compromise ; adjustments ; synthesis :
آمیزش - ملاوت - ساخت - بناوت - تصنیف - انشا - طبع زاد - تصنیف - ترکیب - صلح

Compositor, n. One who sets types :
چھانڈیوالا

Compost, n. A mixture for manure :
پانس - کھاد

Composure, n. Calmness ; tranquillity :
اطمینان - دلچسپی

Compound, n. A mixture : آمیزش
An enolure :
رحامہ - باڑے - گھیرا

—, a. Composed of two or more elements, as a compound fraction, compound interest ; a compound word ; not simple ; composite :

fraction : *
نسب - آمیزتہ - ملاوت - مرکب - مخلوط
words, *
سرد در سرد
— **interest,** *
مرکب
چریاں - آری ماریاں :
— **larceny :** *
الٹا مرکب
متعدد سرقت - اخذ بیجا

—, v. t. To mix in one mass ; to adjust :
— **To settle :** *
ملاسا - مخلوط کرنا - باہمی فیصلہ کرنا
طی کرنا

Compounder, n. One who compounds :
ملائروالا -
دوا ساز

Comprehend, v. t. To understand ; to include ; to comprise :
سمجھنا - شامل کرنا - ملاسا
Syn.— Apprehend, contain, embrace.

Comprehensible, a. That can be understood :
قابل الفہم - سمجھنے کے لائق - غور کے قابل

Comprehension, n. Act of comprehending ; intellect ; capacity :
سمجھ - فہمید - گنجائش

Comprehensive, a. Having the power to understand :
*
Including much :
*
فہیم -
*
A—mind, *
گنجائش دار
Capacious :
Syn.— Large, full, extensive.

Comprehensiveness, n. The quality of including much in a few words ; extensiveness of scope :
پھیلاؤ - وسعت - گھیرا

Compress, v. t. To press together ; to condense ; to force into smaller space :
دبانا - گنجان
*
A soft pad for applying pressure :
*
کرنہ - بھینچنا - دبچھنا
گدی - پتی - بندھن

Compressibility, n. Quality of being compressible :
دباؤ - سکڑاؤ

Compressible, a. Yielding to pressure :
دبانے کے قابل - گنجان ہونے کے لائق

Compression, n. Pressing together ; condensation :
دباؤ - انجماد - بھینچاؤ

Comprise, v. t. To contain ; to include ; to embrace ; to comprehend ; to sum up :
شامل کرنا - ملاسا

Compromise, n. A mutual promise to refer a dispute to the decision of arbitrators ; adjustment by mutual concessions :
راضی نامہ -
*
v. t. To settle a dispute by giving up something on both sides :
راضی نامہ
*
رفع داء باہمی - صلح
کرنہ - طے کرنا

Compulsion, n. Act of compelling ; force ; violence ; constraint : زبردستی - زور - زیادتی - جبر

Compulsory, a. Compelling ; using force ; obligatory : مجبوری - جبریہ - جابرانہ - ناچار

Compunction, n. The sting of conscience ; repentance ; remorse : تاسف - توبہ - پشیمانی
پچھتاوا - خلش - غم

Compunctious, a. Giving pain for offences ; repentent ; remorseful : افسوس کرنے والا - پشیمان

Computable, a. Capable of being numbered : قابل تعداد - شمار پذیر

Computation, n. Act of reckoning ; calculation ; estimate : گنتی - شمار - تخمینہ

Compute, v. t. To reckon ; to calculate ; to count up : شمار کرنا - حساب لگانا - گنتا

Syn.—Number, count, enumerate.

Comrade, n. A close companion ; an associate : ساتھی - رفیق - ہم دم

Con, v. t. To study carefully ; to commit to memory : * معلوم کرنا - یاد کرنا - دھیان میں رکھنا

n. Opposition : * Pros and
—S, for and against : حق میں اور برخلاف - بحثا
بعضی

Concatenate, v. t. To link together ; to unite in a series : زنجیر بند کرنا - مسائل کرنا - لپی
باندھنا

Concatenation, n. A series of links or things united : سلسلہ بندی - تسلسل - لپی

Concave, (opposite of Convex) a. Incurved ; hollow ; vaulted : مجروف - قوسی - کھوکھلا

Concavity, n. Hollowness of a round body : قعر - فار - جوف

Conceal, v. t. To keep secret ; to hide ; to avoid : پوشیدہ رکھنا - نہاں کرنا - مخفی کرنا - نظر بچانا

Syn.—Hide, disguise, secret, screen, cover.

Concealment, n. Act of keeping secret ; a hiding secret ; a hiding place ; disguise :

* پوشیدگی - نہفتگی - پردگی - کھین کالا - زپوشی - اخفا
—of birth, *—of birth by the
mother, *—of crime,

* اخفاء ازدواج —of marriage, *
Wilful—, * اخفاء بالقصد Wilful—of heinous
offences, اخفاء عمداً جرائم سنگین

Concede, v. t. To admit ; to grant : تسلیم کرنا - منظور کرنا - مہمی بھرنا

Conceit, n. An ill-grounded opinion ; fancy ; vanity ; too high an opinion of oneself : فن ہے - بنیاد - خیال خام - تصور - غرور - خود بینی - برجستہ
نظر یا جی , * To put one out of—
سے گرانایا اوتارنا

Conceivable, a. That may be conceived : قرین القیاس - ممکن الفہم

Conceive, v. i. To imagine ; to understand :
* To take غور کرنا - خیال کرنا - سرچنا - تصور میں لانا
into the womb : حاملہ ہونا

Concentrate, v. t. To bring to a common centre ; to centralize ; to unite more closely ; to condense : ایک مرکز پر لانا - اکٹھا کرنا - جمع کرنا

Concentration, n. Act of drawing to a centre ; condensation : ہم مرکزی - دباؤ - اجتماع

Concentric, a. Having a common centre : ہم مرکز

Conceptible, a. Conceivable : قرین القیاس

Conception, n. Act of conceiving ; an idea ; apprehension ; notion : خیال - تصور - گمان
حمل
Pregnancy :

Concern, v. t. To affect ; to belong to ; to interest ; to have to do with ; to make uneasy : دخل دینا یا اثر کرنا - تعلق رکھنا - سرکار رکھنا -
علاقہ یا فرض رکھنا - دلگیر کرنا - فکرمند کرنا

—, n. Business ; anxiety ; solicitude ; importance ; interest : کار - تردد - اندیشہ - ضرورت - واسطہ - سرکار

Syn.—Care, interest, regard, worry.

Concerned, a. Interested ; anxious : سرکار رکھنے والا - سب
* All—, * شریک - غرضمند - دلگیر - فکرمند
فریقین - طرفین * The parties—, * سرکار رکھنے والے

Concerning, prep. Pertaining to ; regarding : نسبت - بابت

Concert, v. t. To contrive together ; to plan or act along with others : مشورہ کرنا - صلاح کرنا
* A musical * اتفاق * n. Agreement : * تجربہ کرنا
entertainment : * گانے والوں کی مجلس - دھس
—with another, * تلانے کی صلاح یا مت سے

Concession, n. Act of yielding; the thing yielded; a grant; privilege: - اجازت - رعایا - عنایت - رضامندی - عطا - اختیار - حق

Concessive, a. Yielded: رعایتی

Conch, n. Marine shell: نا قوس - سنکھہ

Conciliate, v. t. To gain over; to reconcile; to make an enemy into a friend: اپنا کر لینا - ملا لینا - راضی کر لینا - مٹانا

Syn. - Win over, propitiate, engage, pacify.

Conciliation, n. Act of reconciling; pacification: ارتطام - اختلاط - میل ملاپ

Conciliatory, a. Kind in manner; tending to reconcile: * دلکش - دل پسند - ملنسار - دلچسپ *
A-policy, تدبیر پسندیدہ

Concise, a. Brief; short: مختص - سنکشیپ
Syn. - Terse, laconic, succinct, abridged.

Conciseness, n. Brevity; shortness: اختصار - اجمال - کوتاہی

Concision, n. A cutting off; conciseness: کٹ - کورت - اختصار - سنکشیپ

Conclave, n. A private meeting; a secret assembly: خفیہ جلسہ

Conclude, v. t. To bring or come to an end; to infer; to settle: ختم کرنا - نتیجہ نکالنا - فیصلہ کرنا
کرتا - طے کرنا

Syn. - Determine, decide, end, finish.

Conclude, v. i. To come to an end; to close; to form a final judgment: آخر ہونا - تمام ہونا
تہرنا - فیصلہ ہونا

Concludible, a. Determinable: قابل تعین - انجام پذیر

Conclusion, n. Final decision; inference; close; result: انجام کار - نتیجہ - خاتمہ - اختتام
مستقتم - قطعی - شافی

Conclusive, a. Decisive; final: مستقتم - قطعی - شافی

Concoct, v. t. To digest; to ripen; to devise; to plot: تعادل کرنا - پختہ کرنا - تدبیر کرنا - سازش کرنا
نکالنا - سوچنا

Concoction, a. Digestion; preparation; mixture: بناوٹ - طیارہ

Concomitant, a. Accompanying; conjoined with; attendant: ساتھ - ملحق - ہم رکاب - شامل
حال

Concord, n. Agreement; union; harmony: مطابقت - ہم آہنگی - صلح - اتفاق - میل

Concordance, n. Agreement; accordance: لغت نما - فہرست
انفاذ
* An index to the leading words of a book: مواقت - ہم آہنگی

Concordant, a. Agreeing; suitable; harmonious: موافق - مطابق - ہم آہنگ - ایک میل

Concourse, n. An assembly; a throng; a crowd: جماعت - مجمع - ہجوم - ہیز

Concrete, a. Formed by concretion; united in a mass; applied to a particular object: n. A compound; a compact mass of gravel, stones, or other substances: جمادیا ہوا روزا وغیرہ
* اسم جنس، Noun - اسم ذات (Gram.)
* -Number, v. i. To run into one mass: بستہ ہونا - منجمد ہونا - بندھنا

Concretion, n. Act of concreting; a solid mass: بستگی - انجماد

Concubinage, n. The keeping of a mistress: مدخولیت

Concubine, n. A kept mistress: داشتہ عورت - زن
مدخراہ - رکھیلی

Concur, v. t. To meet in one point; to agree; to join or unite as in one action or opinion (to concur with a person in an opinion): متفق ہونا - متفق الرای ہونا - موافق ہونا - باہم ہونا

Concurrence, n. Agreement; union of minds; joint action; assent: موافقت - اتفاق (اے) - منظوری

Concurrent, a. Acting in conjunction; agreeing; working together: متفق - ایک دل - ہم
پہلو - ہم درجہ - برابر کا

Concussion, n. Act of shaking; a shock: لغزش - جنبش - صدمہ - ٹکر

Condemn, v. t. To pronounce to be guilty or unfit; to blame; to doom; to sentence: مجرم یا نا قابل قرار دینا - عیب لگانا - قہری دینا

- **Condemnable, a.** Worthy of being condemned ; blameable : قابل الزام
- Condemnation, n.** A sentence of punishment : سزا کا حکم - قتل
- Condemnatory, a.** Bearing condemnation : منصفانہ الزام سزا - حکمی
- Condensate, Condense, v. t.** To make dense ; to thicken : منجمد کرنا - بستہ کرنا - گاڑھا کرنا - جھانا
- Condensation, n.** Compression : دبائو - انجماد - تکثیف
- Condescend, v. i.** To waive a privilege of rank ; to stoop ; to yield : التفات کرنا - متوجہ ہونا - مایل کرنا - جھکنا - دینا
- Syn.**—Stoop, submit, deign, vouchsafe, yield.
- Condescension, n.** Act of condescending : فروتنی - Humility : التقات - رعایت - تواضع انکساری
- Syn.**—Complaisance, courtesy, affability.
- Condign, (Pron. kon-doin) a.** Suitable ; well-deserved ; merited : لائق - مناسب - راجب * (A condign punishment).
- Condiment, n.** A seasoning ; sauce : ذائقہ بخشش - چیز - مصالح - اچار - چٹنی
- Condition, n.** State ; position : Quality : حالت * Rank : شرط * Term of agreement : شرط * On—that. مرتبہ - بشرطیکہ
- Syn.**—State, situation, provision, stipulation, case.
- Conditional, a.** Imposing conditions, (as, A conditional sale) : شرطیہ - مشروط
- Condolatory, a.** Expressing condolence : غم خوارہی ظاہر کرنیوالا - ہم دردی دہلانے والا
- Condole, v. i.** To grieve with others ; to sympathise with : ماتم پڑھی کرنا - ہمدردی کرنا
- Condolence, n.** Act of condoling ; sympathy : ماتم پڑھی - ہمدردی
- Condonation, n.** Act of pardoning ; forgiveness : معافی - عفو
- Condone, v. t.** To pardon ; to overlook ; to pass on : معاف کرنا - طرح دینا - چشم پوشی کرنا

- Conduce, v. i.** To promote an end ; to contribute : مدد کرنا - ترقیت دینا - باعث ہونا
- Conducibile, Conducive, a.** Tending to promote ; leading to ; helping to cause : - معاون - باعث - مائل
- Conduct, n.** Behaviour ; guidance ; management : * حال چلن - سلوک - رہنمائی - انتظام
- v. t.** To lead ; to guide ; to manage : - لیجانا
- v. i.** To behave : سلوک کرنا * رہنمائی کرنا - اہتمام کرنا
- Conductible, a.** That may be conducted : قابل اہتمام
- Conduction, n.** Conveyance : رہنمائی
- Conduit, n.** A channel or pipe for water ; a sewer : ٹی - ٹیپ - پرنالہ - سرری
- Cone, n.** A solid body tapering to a point from a circular base : مخروط - گاڑ دم
- Confabulate, v. t.** To talk familiarly together ; to chat : گفتگو کرنا - بات چیت کرنا - ہم نلام ہونا
- Confabulation, n.** Familiar talk : گفتگو - چیت - بولچال
- Confection, n.** A sweetmeat ; a preserve : پاک - مرہہ - مٹھو ٹی
- Confectioner, n.** A maker or seller of sweetmeats : حلوائی - مرہہ ساز
- Confectionery, n.** A place where sweetmeats are made or sold : Sweetmeats in general : حلوائی * حلوائی کی دوکان
- Confederacy, n.** An alliance ; a league : عہد و پیمانہ - بندش - سازش
- Confederate, v. t. or i.** To unite in league ; to combine : n. An ally ; شریک - ساتھی - رفیق
- Confederate, n.** An ally ; an accomplice : شریک - ساتھی - رفیق
- Confer, v. t.** To grant ; to bestow : بخشنا - عطا
- v. i.** To consult or discourse together : صلاح کرنا - مشورہ کرنا
- Confederation, n.** The persons or countries joined together ; alliance ; union : افغانا - میل
- Conference, n.** Act of conversing ; a meeting for discussion : مشورہ - جلسہ - مباحثہ
- Confess, v. t. or i.** To acknowledge ; to own ; to bear or make confession : اقرار کرنا - قبول کرنا - تسلیم کرنا

Confession, n. Act of confessing ; acknowledgment : اقبال - اعتراف

Syn.—Acknowledgment, admission, avowal.

Ant.—Denial, concealment, dissimulation.

Confidant, n. (*Fem.* Confidante). A bosom friend : راز دار - همراز - معتمد - جگري دوست

Confide, v. t. To trust in ; to rely on ; to put faith : اعتبار کرنا - بھروسا کرنا
v. t. To intrust : اعتبار کر کے بتانا - سپرد کرنا

Confidence, n. Firm belief ; trust ; assurance ; boldness : اعتقاد - بھروسا - یقین - دلیری

Syn.—Trust, hope, expectation.

Confident, a. Having full trust ; positive ; sure ; impudent ; bold : معتقد - مستقل - بیباک

Confidential, a. Trustworthy ; faithful ; private : معتبر - راز دار - خفیہ - بھیدي

Confidently, ad. Without doubt ; positively : بلا شبہ - بالیقین - بھروسہ کر کے - ندھڑکے

Configuration, n. External form ; outline : سیاروں کی صورت
pl. Aspect of planets : بناوٹ - ترکیب

Confine, n. (generally in plural.) A limit ; border : سرانہ - سرحد - ڈانڈا - سرانہ
v. t. To limit ; to imprison ; to restrain : حد باندھنا - قید کرنا -
 * To be confined to one's bed, * چارپائی سے کمز لگ جانا
v. i. To border upon : * زچہ خانہ میں ہونا
 متصل ہونا - سرانہ ملا ہونا

Confinement, n. Imprisonment ; restraint : خلوت نشینی - Seclusion * قید - گرفتاری - روک
 * حالت زچگی : Childbirth * عزت گزینی - کنارہ کشی
 عیالت - بیماری
 Sickness :

Confirm, v. t. To make firm ; to render certain ; to ratify ; to admit to Christian communion : پکا کرنا - تحقیق کرنا - قائم کرنا - مستحکم کرنا - ثابت کرنا - صحیح کرنا - تصدیق کرنا - مسیحی کلیسیہ کے حقوق میں شریک کرنا

Syn.—Strengthen, verify, assure, settle.

Confirmation, n. Act of confirming ; proof ; an ecclesiastical rite ; convincing proof ; the rite of admitting to full communion :

استحکام - صداقت - ثبوت - مسیحی کلیسیہ کی رسم

Confirmative, Confirmatory, a. Tending to establish : مود - مثبت - معاون - تصدیق کرنے والا

Confirmed, a. Settled ; habitual : پکا - عادی
 مضبوط - قائم - برقرار - بھال

Confiscable, a. Liable to be confiscated : قابل ترقی یا ضبطی

Confiscate, v. t. To seize private property ; to appropriate to the state, as a penalty : قزق کرنا - ضبط کرنا

Confiscation, n. Seizure of private property : ترقی - ضبطی

Conflagration, n. A great fire : آتش زدگی - شعلہ زنی

Conflict, v. i. To contest ; to strive ; to struggle : لڑنا - مقابلہ کرنا - ٹکرانا - بھڑنا - مختلف ہونا

Conflict, n. A violent collision ; a contest : ٹکر - مقابلہ - جھگڑا

Conflicting, pp. Contradictory ; opposing : خلاف - برعکس

Confluence, n. A junction of two or more streams ; a place where two rivers meet ; a concourse : سنگم - اتصال - بھیز - انڈرہ

Confluent, a. Flowing together : ایک ساتھ بہنے والا - ملاوا

Conflux, n. A flowing or assembling together ; a crowd : دھارونکا ساتھ بہنا - سنگم - بھیز

Conform, v. i. To comply with ; to be of the same form ; to obey : منظور کرنا - قبول
v. t. To make alike : * کرنا - ایکساں ہونا - اطاعت کرنا
 ہم شکل کرنا - موافق کرنا - ایک میل کرنا

Conformable, a. Agreeable ; similar ; suitable ; compliant : موافق - مطابق - یکساں

Conformation, n. A proper disposition of parts ; structure ; adaptation : ترکیب - بناوٹ - ڈھانچہ - موافقت

Conformity, n. A compliance with ; Similitude ; resemblance ; consistency : * بھارپی - موافقت - مشابہت - مطابقت

Confound, v. t. To mingle ; to confuse ; to perplex ; to abash ; to throw into consternation : مظلوم کرنا - ملانا - گزب کرنا - گھبرانا - حیران کرنا - شرمندہ کرنا - پشیمان کرنا

Confounded, a. Confused ; egregious ; extreme ; odious : حیران - پریشان - اشد - سخت

Confraternity, n. Brotherhood : - بھائی چارہ برادری

Confront, v. t. To stand face to face ; to bring face to face ; to oppose with : سامنا - کرنا مقابلہ کرنا - ردرو ہونا

Confuse, v. t. To disorder ; to confound ; to mix or jumble up ; to disconcert ; to make one at a loss what to think : ابتر کرنا - گھبرانا - خلم - مل کرنا - منتشر کرنا

Confusion, n. Disorder ; tumult ; distraction ; abashment ; defeat : - ہزرتی - گھبراہٹ - ابتہی - فرغا - حیرانی - انتشار حواس یا خیال - شرمندگی - پشیمانی

Confutable, a. That may be disproved ; - جائز - ناروا - قابل تردید

Confutation, n. Act of confuting or proving to be false ; disproof : تردید - ابطال

Confute, v. t. To disprove ; to refute ; to prove to be wrong or erroneous ; to overthrow : چھوٹا کرنا - باطل کرنا - تردید کرنا - لاجواب کرنا - شکست دینا

Conge, (Pro. : kon-zhe), n. A bow ; reverence ; leave taking : سلام - کورنش - وداع - رخصت

Congcal, v. t. To freeze ; to stiffen : جمنا - منجمد کرنا - بانڈھنا

Congcal, v. t. To freeze ; to thicken : منجمد کرنا - جمنا - منجمد ہونا - v. i. * جما دینا - سرد کر دینا بستہ ہونا

Congener, n. A thing of the same nature ; ہم قسم - ہم جنس - ایک ذات

Congenial, a. Of the same nature or disposition ; kindred ; sympathetic ; suitable : ہم جنس ہم طبع - مزاج - ملوان - دلغرا - مرفوب طبع - مزاج

Congenital, a. Of the same birth : ہم زاد

Syn.—Kindred, sympathetic, pleasing, agreeable.

Congest, v. t. To collect in a mass ; to cause an excessive accumulation of blood : جمع کرنا - انبار کرنا - بٹورنا - بہت خون ہونا

Congestion, n. Under accumulation of blood : انجماد خون

Conglaciare, v. t. To turn into ice : برف بنانا

Conglobate, Conglobulate, v. t. and v. i. To form into a globe : گولہ باندھنا یا بندھنا - گتھلانا

Conglomerate, v. t. To gather into a ball : گولہ باندھنا - پتلا باندھنا

Conglomeration, n. A gathering into a mass ; collection ; accumulation : انجماد - اجتماع

Conglutinate, v. t. To glue together ; to cement ; to unite : چرکنا - ملانا - جمانا

Congratulate, v. t. To wish joy to ; to felicitate : مبارک باد کہنا - مزیدہ دینا - تہنیت کرنا

Congratulation, n. A wish of joy on account of something good that has happened : تہنیت نامہ - letter, * مبارکبادی - تہنیت

Congratulatory, a. Wishing or expressing congratulations : مبارکبادی - song, * تہنیت آمیز : شادمانہ

Congregate, v. t. or i. To gather together ; to meet ; to assemble : گھراہم ہونا - جمع ہونا - اکٹھا ہونا اکثر برابر ، equals with equals often — والے برابر والوں سے ملتے ہیں

Congregation, n. A religious assembly : اجتماع مذہبی مجلس

Congress, n. A meeting for setting public business : The * سبھا - مجمع - مجلس - جماعت - امریکا کا Parliament of the United States پارلیمانٹ

Congruent, a. Agreeing ; suitable ; fit : - موافق - مطابق - مناسب

Congruity, n. Consistence ; suitability : اتفاق - موافقت - مناسبت

Congruous, a. Agreeable ; fit ; consistent : موافق - ٹھیک - عمراہ - یکساں

Conic, Conical, n. Having the form of a cone : مخروطی - گاڑم

Conjectural, *a.* Depending on conjecture : خیالی - قیاسی - اٹکل پتھر

Conjecture, *n.* A surmise ; opinion without proof ; guess ; an idea : انداز * *v. t.* To guess ; to forecast ; to form an opinion without evidence : قیاس کرنا - خیال میں لانا - اندازہ کرنا

Conjoin, *v. t.* To connect ; to unite : - جوڑنا - ملانا - متحد کرنا

Conjoint, *a.* Connected ; united ; mutual : مشمولہ - مشترک - متفق

Jointly, *ad.* Unitedly ; together : - ملکر - بالاشتراک

Conjugal, *n.* Relating to marriage ; connubial : نکاہی - زوجی - عقی - میاں بی بی کا
Syn.—Matrimonial.

Conjugate, *v. t.* To join : - جوڑنا - ملانا * To inflect verbs : * گردانا - تصریف کرنا ; in pairs : جڑا - جفت - جڑان - زوج - توڑم

Conjugation, *n.* Union : The * اتصال - پیوستگی
Inflection of verbs : فعل کی گردان - تصریف

Conjunction, *n.* A meeting ; union : - ملاؤ - جوڑ - ملاؤ
(Gram.) A part of speech : حرف عطف

Conjunctive, *a.* Closely united ; serving to unite ; connecting together : وصلی - شرطیہ

Conjuncture, *n.* A critical time ; combination, union : نازک وقت - اتفاق

Conjuration, *n.* A summoning in a solemn manner ; a magic spell : طلبی بہ قسم - حاضرات - منتر - جادو

Conjure, *v. t.* To bind by an oath : - قسم دلانا
v. i. To practise magical arts ; to bewitch : منتر سے * *To—up* : جادو کرنا - ٹوٹ کرنا
طلب کر لینا - آپ ہی پیدا یا خیال یا ایجاد کر لینا
Syn.—Juggle, enchant, charm.

Conjurer, *n.* One who uses magic ; an enchanter : جادو گر - مداری - افسرنگر - صحر ساز - شعبدہ باز

Connate, *a.* Born at the same time ; united : ہم زاد - جڑواں

Connect, *v. t.* To link together ; to join ; to unite ; to associate : - جوڑنا - گانٹھنا - سلسل کرنا - ملانا - ہم رشتہ کرنا - ملحق کرنا

Connection, Connexion, *n.* Act of joining ; union ; relation ; kindred ; association ; circle of friends : - صلہ - علاقہ - تعاقب - جوڑ - میل - قرابت - رشتیدار - بھائی بند - تعلقات - جماعت
Syn.—Union, coherence, junction, intercourse.

Connective, *a.* That serves to connect : جوڑنے والا
n. A word that connects sentences : حرف ربط

Conner, *n.* An inspector : ناظر - داروغہ

Connivance, *n.* The act of winking at a fault ; pretended ignorance ; voluntary oversight : چشم پوشی - تغافل - اغماض - آنا کانی

Connive, *v. i.* To wink at ; to pretend ignorance ; to take no notice of - تغافل کرنا - اغماض کرنا - آنا کانی کرنا

Connoisseur, (*kon-is-sur*), *n.* A judge of the fine arts ; a critic ; a skilful or knowing person : صاحب تمیز - دقیقہ شناس - ماہر - واقفکار - شناسندہ

Connote, *v. t.* To imply ; to suggest certain attributes ; to signify secondarily : - دلالت کرنا - جتاننا - اشارہ کرنا - بعض اوصاف پر ایزہ کرنا

Connubial, *a.* Matrimonial ; conjugal : متعلق ازدواج - میاں بی بی کا

Conquer, *v. t.* To gain by conquest ; to overcome ; to subdue ; to acquire ; to vanquish ; to surmount : فتح کرنا - مغلوب کرنا - زیر کرنا - حاصل کرنا - سر کرنا - فرو کرنا - سر کرنا

Conqueror, *n.* A victor : فتہ مند - مظفر - ملک گیر - ناصر

Conquest, *n.* Act of conquering ; victory : فتح - تسخیر - ظفر - جیت

Syn.—Victory, triumph, subjection.

Consanguinity, *n.* Relationship by blood : * (L. *con. and sanguis, blood*). یگانگی - رشتہ

Conscience, *n.* Moral sense of right and wrong ; sense of duty ; consciousness scrupulousness : ضمیر - دل - تمیز - قوت ایزہ انیہ - اپنے دل کی گواہی - شک - اندیشہ

Conscientious, a. Guided by what conscience says is right; acting uprightly according to conscience: - ایزانداز - راست - صاحب انصاف - دیندار دار - صاف دامن

Syn.—Scrupulous, honest, faithful, just, upright.

Conscionable, a. Reasonable; right; just: معقول - سچا - راست باز

Conscious, a. Aware; inwardly persuaded; sensible; known to one's self: واقف - آگاہ - خبردار - واقف - ماہر - اپنے کو معلوم

Consciousness, n. Knowledge of what passes in one's own mind; sensibility: واقف - علم - آگاہی - واقفیت - خبر

Conscript, a. Enrolled; registered: بھرتی کیا ہوا - **n.** One whose name is written down to serve as a soldier or a sailor; a recruit: رنکرت - جبرن بھرتی کیا ہوا سپاہی

Conscription, n. A compulsory enrolment of soldiers: رعیت کو زبر دستی فوج میں بھرتی کرنا

Consecrate, v. t. To set apart for a holy use; to make sacred; to dedicate; to render venerable: متبرکی کرنا - مخصوص کرنا - نیاز کرنا - واجب - التعمیم بنانا

Consecration, n. Act of consecrating; dedication: مخصوصیت - نیاز - تقدیس - احترام - خدا کی خدمت کے لئے مخصوص کرنا

Consecutive, a. Following in proper order; regularly succeeding: متسلسل - متواتر - یکے بعد دیگرے

Conseminate, v. t. To sow mixed seeds: ملے ہوئے بیج بونا

Consensus, n. Unanimity; agreement: ایک دلی - اتفاق - موافقت - رضا مندی

Consent, n. Acquiescence, concurrence; agreement: * رضا - منظوری - رضا مندی - اتفاق - اجابت
v. t. To agree in opinion; to accede; to yield; to acquiesce; to comply: متفق ہونا - راضی ہونا - مان لینا - قبول کرنا

Consentient, (Pro: kon-sen-shient), a. Mutually agreeing: ہم راے

Consequence, n. That which follows; result; importance (as a man of great consequence): حاصل - نتیجہ - جزا - قدر - مضایفہ - لحاظ - ترتیب - **In—of, by reason of; through:** کچھ بات نہیں ہے، * It is of no—

Consequent, a. Following naturally, (with to or on) **n.** An inference; an effect: حاصل - نتیجہ - ثمرہ

Consequential, a. Self-important; pompous: خود بینی کا - تکبرانہ - گھومتی

Consequently, ad. By consequence; necessarily; accordingly; therefore; hence: اس واسطے - لہذا - پس

Conservancy, n. Conservation; preservation: بچاؤ - محافظت

Conservation, n. Preservation from loss or injury: حفاظت - نگہبانی

Conservative, a. Desiring to preserve; preservative; of those in favour of keeping up old and existing institutions: نظم و نسق حال و قدیم کے طرفداروں کا - پرانے خیالات کا پابند

n. A preserver; one who would keep up old and existing institutions; one wedded to antiquated ideas; one opposed to political changes; Tory: قائم یا سالم رکھنے والا - حامی نظم و نسق موجودہ - متضاد تبدیلی - بندھی ایک پر چلنے والا - متضاد تبدیل نظم و نسق حال

Conservatory, n. A green-house for exotic plants: شیشہ کا گھر جس میں پودے سردی سے بچائے جاتے ہیں - نازک لوگوں کا شیشہ گھر

Conserve, v. t. To keep whole or sound; to candy or pickle fruits: محفوظ رکھنا - مربا بنانا - **n.** A sweetmeat: مربا - گلفند

Consider, v. t. or i. To think maturely; to take into mental view; to regard; to suppose; to guess; to pity and relieve: غور کرنا - سرچنا - خیال - قیاس کرنا - فرض کرنا - اندازہ یا اٹکل کرنا - ترس کھانا اور مدد کرنا

Considerable, a. Worthy of regard; moderately large; of some importance: قابل لحاظ - زیادہ - عزت دار - بزرگ

Considerably, ad. In a considerable degree: بہت - بکثرت - افراط سے

Considerate, a. Regardful; thoughtful; discreet; prudent: - درو اندیش - ہر شیار - سمجھدار - اوروں کے آرام و حق کا خیال رکھنے والا - عاقبت اندیش - فہمیدہ

Syn.—Courteous, kindly, careful, deliberate.

Consideration, n. Regard; mature thought; deliberation: - * Re-spect; importance; motive; reason: - توقیر - * Compen-sation; remuneration: - حق الخدمت - انعام - عارض - زر ثمن - صلہ - قدر - خیال - مقصد - وجہ

Consign, v. t. To transfer to another; to intrust; to send to agent; to set apart; to appropriate: - تفویض کرنا - حوالہ کرنا - امانت رکھنا - سپرد کرنا - بھیجنا - ٹورانہ - منحصر کرنا - معین کرنا

Syn.—Deliver, commit, entrust.

Consignee, n. One to whom goods are con-signed: - مقرر الیہ - مقرر الیہ - وہ شخص جسکو مال بھیجا جائے

Consignment, n. That which is consigned or handed over; goods given for sale; deed of gift: - تفویض - سپرد کردہ مال - مال مرسلہ - سپرد گی - امانت - سپرد نامہ

Consignor, n. One who consigns goods: - مال بھیجنے والا - تفویض کنندہ - مرسل مال

Consist, v. i. To be made up of; to co-exist; to agree; to be composed; to be in accordance to; to depend: - مرکم ہونا - مرکب ہونا - مرجمد ہونا - موافق ہونا - بنا ہونا - موقوف ہونا

Consistence, Consistency, n. A holding together; firmness; congruity; agreement; degree of density; stability: - گارہاں - چوارٹ - ملاہقت - موافقت - پختگی - مضبوطی - ہمسازی - یکسانی - ہم وضعی - قیام

Consistent, a. Agreeing; firm; uniform: - مطابق - مضبوط - یکساں

Syn.—Compatible, suitable, accordant, fixed.

Consistory, n. A court composed of clergymen; an assembly: - مذہبی عدالت - مجلس - جماعت

Consolation, n. Alleviation of grief or affliction; solace; comfort: - تسلی - تشفی - دلالت - اطمینان - دلجمہ - تفتیح غم

Consolatory, a. Affording comfort in sorrow; assuaging grief: - تسکین بخش - آرامدہ - غم ہلکا - کرنے والا

Console, v. t. To cheer one in sorrow: - تسلی دینا - ڈھارس دینا - دلجوئی کرنا

Syn.—Solace, comfort, soothe.

Consolidate, v. t. To make hard or solid; to combine; to harden: - چمکانا - چمکانا - ملانا - یکجا کرنا

Syn.—Harden, condense, thicken, compact.

Consolidated, a. Solidified; united: - مشاہرہ - salary - * منجمد - ایکجا کیا ہوا - معرکہ بالقطعہ

Consolidation, n. Act of making hard or firm: - انجماد - بستگی

Consols, n. pl. (Short form of Consolidated Funds,) Part of the National Debt of Great Britain, which bears interest at from 2½ to 3 per cent.: - گورنمنٹ کی ہندی - سرکاری قرضہ

Consonance, n. Agreement of sounds; consistency; concord: - موافقت - میل - مطابقت

Consonant, a. Agreeable; consistent: - موافق * n. A letter which cannot be sounded by itself: - حرف صحیح

Consonous, a. Agreeing in sound: - ہم آواز - ایک سر

Consort n. A wife or a husband; a companion: v. i. To associate with; to unite: - صحبت رکھنا - ساتھ رہنا - ملنا

Conspicuous, a. Readily to be seen; that cannot be missed by the eye; prominent; distinguished; pre-eminent: - عیاں - نامور - معروف - مشہور

Syn.—Manifest, eminent, famous, illustrious.

Conspiracy, n. A plot: - سازش - بندش - مشورہ خلاف سرکار

Conspirator, n. A man engaged in a plot: - سازش کرنے والا

Conspire, (L. con and spirare, to breathe); v. i. To plot; to combine; to unite together for an evil and secret purpose: - سازش کرنا - متفق ہونا

Syn.—Plot, combine, rebel.

Constable, n. A peace-officer; a policeman: * پولیس کا چوہدراسی - چوکیدار - کانسٹیبل
To overrun or outrun —, to spend more than one's income: زیادہ خرچ سے حیثیت یا آمدنی
کرنے

Constancy, n. Firmness of mind; stability; fidelity: وفاداری - استواری - قیام

Constant, a. Permanent; steadfast; firm; faithful; unvariable; incessant: ثابت
* Constant قدم - مستقیم - وفادار - غیر متلون
Zer ke tipke se ptoor, dropping wears the stone, بھپ گوس جاتا ہے

Constantly, ad. Perpetually; steadily: ہمیشہ - ہر دم - استقلال کے ساتھ - متواتر

Constellation, n. A cluster of fixed stars; a galaxy; an assemblage of excellence: ستاروں
کا مجمع - تارا منڈل - مجمع نامور اشخاص

Consternation, n. Astonishment; amazement; great terror: حیرت - خوف - دہشت - گھبراہٹ -
حیرانی

Constipation, n. Costiveness: قبض - انقباض - بستگی

Constituency, n. The whole body of electors: مجمع انتخاب کنندگان

Constituent, a. Elemental; essential: اصلی -
* n. An essential ingredient; a representative: جز اصلی - مختار - کارندہ

Constitute, v. t. To form; to establish; to set up; to appoint: بنانا - معین کرنا - وجود دینا -
کھڑا کرنا - منحصر کرنا - مقرر کرنا

Constitution, n. Form or manner in which parts of a body are joined together; natural condition of the human body; system; political organization; the laws and customs of a country: ساخت - بناوت - خاصیت جسمی - ائین -
ضابطہ - دستور - نظم و نسق

Constitutional, a. Inherent in the constitution: bodily; natural; in agreement with the laws and customs of a country: ذاتی - پیدائشی -
* n. A walk for health: براے صحت پیادہ ہواخوری

Constrain, v. t. To oblige; to hinder by force; to confine: مجبور کرنا - ناچار کرنا - جبراً روکنا - قید کرنا

Syn.—Compel, force, drive, urge.

Constraint, n. Compulsion; confinement; reserve: مجبوری - دباؤ - زبردستی - پابندی - روک - گرفتاری - قید

Constrict, v. t. To bind; to cramp; to contract: سمیٹنا - سکڑنا - تنگ کرنا - گھورتنا

Constriction, n. Contraction; compression: کشش - سمٹناؤ - گھپاوت

Constringe, v. t. To compress; to contract: سمیٹنا - گھپنا

Constringent, a. Compressing: باندھنے والا - سکڑنے والا - سمیٹنے والا

Construct, v. t. To build up; to form: تعمیر کرنا - بنانا - وضع کرنا

Syn.—Build, erect, form, make.

Ant.—Demolish, break, destroy.

Construction, n. Building up; form configuration; grammatical arrangement; structure; interpretation; meaning: بناوت - تعمیر - ترضیع -
ساخت - ترکیب فقہی - معنی - تشریح

Construe, v. t. To explain; to interpret; to analyse; to show how words are connected with each other in a sentence: سمجھانا -
کرنے - تجزیہ کرنا - ترجمہ کرنا

Consubstantial, a. Of the same substance, nature or essence: ہم جنس - ہم مادہ - ہم ذات - ہم اصل

Consubstantiate, v. t. To unite into one common substance: ہم جنس کرنا - ہم ذات کرنا

Consul, n. The chief magistrate of the Roman Republic; representative of a government: اگلے زمانہ میں شہر روم کا افسر اول - ایلچی -
سفیر - وکیل

Consult (with), v. t. To ask one's advice or opinion; to refer to; to deliberate upon; to regard: صلاح لینا - مشورہ کرنا - دریافت کرنا - دیکھنا -
* v. i. To seek advice; to consider: راء ایفا - فور کرنا

Consultation, n. Act of consulting; a meeting for mutual deliberation : مشورہ - صلاح - مجلس

Consumable, a. That may be consumed : کثف یا خرچ ہونے کے قابل

Consume, v. t. To burn up; to spend; to waste; to exhaust; to use up : سوزنا - چاٹنا - جانا - خرچ کرنا - ضایع کرنا - صرف کرنا

Consummate, a. Accomplished; perfect; highest : - پورا - پختہ - پورے درجہ کا - **v. t.** To accomplish; to complete; to effect what is intended by : - پورا کرنا - تمام کرنا - تکمیل کرنا - فرض پوری کرنا

Consummation, n. Completion; perfection : تکمیل - کمال - اتمام

Consumption, n. Act of consuming; خرچ * صرف - Wasting disease of the lungs : تپ دق

Consumptive, a. Destructive; wasting : ضرر مدقوق - چھٹی روگ والا - Afflicted with consumption : * رساں - ضایع کنیوالا

Contact, n. Touch; close union : - لگاؤ - چھونا - * To come in - لمس - اتصال - ملنا - ملنا - بیڑنا - ٹکرائنا

Contagion, n. Infection; communication of disease by touch; pestilential influence : آڑ کر لگنے والی یا چھرت کی بیماری - وبا - سرایت

Contagious, a. Infectious; catching; touching; pestilential : پھیلنے والا - موثر - آڑتی - لگنی

Contain, v. t. To hold; to comprise; to restrain : * سمانا - شامل کرنا - گھیرنا - روکنا - باز رکھنا : **To be contained in,** اٹنا - امانا - آجانا

Contaminate, v. i. To defile; to corrupt; to stain : ناپاک کرنا - بگاڑنا - غلیظ کرنا - خراب کرنا

Contamination, n. Pollution; defilement : ناپاکی - آلودگی - چھرت

Contemn, v. t. To think little of; to despise; to scorn : حقیر جاننا - نفرت کرنا - ناچیز سمجھنا - امانت کرنا - خفت دینا

Contemplate, v. t. To meditate; to reflect; to view; to intend : غور کرنا - خیال کرنا - ارادہ کرنا - مد نظر رکھنا - منشا یا خیال میں ہونا

Contemplation, n. Meditation; close attention : تصور - خیال - غور - خوض - مراقبہ

Contemplative, a. Thoughtful; studious; meditative : * The - مامل - متفکر - ٹکرمند - قوت متخیلہ

Contemporaneous, Contemporary, a. Living or being at the same time : - ہم عہد - ہم عصر - ہم زمانہ

Contempt, n. Act of despising; disdain; disgrace : اہانت - تحقیر - حقارت - ذلت - خفت

Syn. - Scorn, derision, mockery, disregard, neglect.

Contempt of Court, Wilful disregard of a public authority : تحقیر عدالت - عدالتی قانون و قواعد کی ناقرمانی کرنا

Contemptible, a. Worthy of contempt; mean : حقیر - ذلیل

Syn. - Despicable, abject, vile, mean, base.

Contemptuous, a. Scornful; haughty; disdainful; insolent : حقارت کنیوالا - مغرور - متکبرانہ - گستاخانہ

Contend (with, against, for, about), v. t. To fight; to strive; to dispute; to reason : لڑنا - * with, to act against : - جھگڑنا - تکرار کرنا - بحث کرنا - مقابلہ کرنا - ہمچشمی یا براہری کرنا - لڑنا - جھگڑنا

Contending, a. Fighting; striving; opposing; rival : جنگ آور - مجتارب - مقابل کا - ہم چشم - حریف - مضاف

Content, v. t. To satisfy; to please; to gratify : * a. Satisfied; at rest : * رضی - آمردہ - خوش - قانع - صابر : رضامندی - منظری - تسلی - **Content is happiness,** قناعت ہی خوشی ہے

Contention, n. Contest; a - strife in words; debate : لڑائی - جھگڑا - قضیہ - مباحثہ

Contentious, a. Quarrelsome : تکراری - جھگڑا

Contentment, n. Satisfaction; gratification : * Contentment is great gain, قناعت بڑی دولت ہے

Contents, n. pl. The things contained; the list of subjects treated of in a book: اشياء مفروفت - احباب - چيز بست - فهرست مضامين

Conterminous, a. Bordering upon: سرحددي متصل - ملا عوا

Contest, n. Strife in arms; quarrel; dispute: مقابلہ - جھگڑا - مباحثہ - لڑائی

Syn.— Conflict, battle, combat.

Contest, v. t. To dispute; to litigate: حجت کوشش کرنا - مقابلہ کرنا - جھگڑنا - جد و جہد: **To—a claim,** * کرنا - مسرپی کرنا - مقابلہ کرنا **To—** جواب دہی کرنا - جواب دہی داخل کرنا **a decision,** فیصلہ کا مزاج یا اپیل

Contestable, a. Disputable: مباحثہ طلب

Context, n. Order of discourse; the parts that precede and follow a sentence: مضمون - متن - عبارات

Contiguity, n. Contact; nearness in place; proximity; closeness: الحاق - اتصال - نزدیکی - قربت - تسلسل

Contiguous, a. Near to; meeting at the border; lying side by side: ملحق - متصل - نزدیک

Syn.— Adjacent, bordering, touching.

Continence, Continency, n. Chastity; moderation; restraint of passion; forbearance: پرهیز - زہد - ضبط - عفت

Continent, a. Chaste; abstemious in lawful pleasure: پرهیزگار - زاهد - پارسا - ضابطا بنفس

Continent, n. A large tract of land containing several countries: ابر اعظم

Continental, a. Pertaining to a continent: متعلق بر اعظم

Contingency, n. Casualty; accident; a possible occurrence: *pl.* unforeseen expenses: وقوع - اتفاقی ناگہانی ضرورت یا وقوع - سائر خرچ - مذکورات

Contingent, a. Accidental; uncertain (as,

contingent charges): اتفاقیہ - ناگہانی - غیر معین - عارضی

Syn.— Liabile, casual, fortuitous.

Contingent, n. Chance: اتفاق * A suitable proportion of troops or soldiers: حصہ - بانٹ - مصارف عارضی - مذکورات *— expenses, اندازہ

Continual, a. Incessant; very constant; frequent: لگاتار - متواتر - برابر - پے در پے - جاری - دای

Continuance, n. Duration; permanence; stay: مدت - ہمیشگی - قیام

Continuation, n. Act of continuing; a constant succession; extension; prolongation: تواتر - سلسلہ - قیام - تکرار - درازی

Continue, v. i. To hold together; to remain; to last; to persevere; to go on; to persist: رہنا - قائم رہنا - جاری رہنا - پائدار عونا - نبھانا - جاری: **To—** * *v. t.* To protract; to extend: رکبنا - بحال رکبنا - پڑھانا

Continuity, n. Uninterrupted connection; unbroken texture: cohesion: اجرا - سلسلہ - الحاق

Continuous, a. Without break or stoppage; uninterrupted; extended: مداہمی - لگاتار - مسلسل - برابر

Contort, v. t. To twist together; to wrest: مڑونا - اینٹھنا

Syn.— Writhe, wring, distort.

Contortion, n. A twisting: پیچ - اینٹھون - پھینس مڑوڑ - بل

Contour (con-toor), n. The outline of a figure: نقشہ - شکل - ڈھانچا - صورت - ہیٹ

Contraband, a. Prohibited; illegal: ممنوع - *n.* Prohibited goods: اشياء ممنوعہ - تجارت ناجائز - خلاف قانون

Contract, v. t. To draw together; to shorten: **To—** * *v. i.* To shrink up: سمیٹنا - مختصر کرنا - حاصل کرنا - لینا - ہٹا ہٹا - ہٹ تھروٹا - اجارہ لینا - شادی **To—a marriage,** * معاہدہ کرنا - منگنی کرنا * **To—a debt,** * قرض اٹھانا - مقروض ہر جان * کرنا * **To—a bad habit,** * عیبی عادت پیدا کرنا یا ڈال لینا

To bargain: * *v. i.* **To—** * سکرنا - **To bargain:** * *v. i.* **To—** * سکرنا

To bargain: * *v. i.* **To—** * سکرنا

Contract, n. A bargain : شرط و قرار * A betrothment : نسبت * A written agreement : پتہ - اقرار نامہ

Syn.—Covenant, agreement, stipulation, bargain.

Contractile, a. Capable of contracting : خورد سکوڑنیوالا

Contraction, n. Act of contracting ; a shrinking : An abbreviation : اختصار

Contractor, n. One who contracts : قویکیدار - مستاجر

Contradict, v. t. To speak against ; to oppose verbally ; to be contrary to ; to deny ; or impugn a statement : خلاف کہنا - باطل کرنا - (L. Contra, against ; dictus, to speak.)

Syn.—Deny, gainsay, oppose, contravene.

Contradiction, n. Verbal opposition ; flat ; denial ; gainsaying ; inconsistency : زبانہی اختلاف - انکار - خلاف بیانی - صاف انکار - ضد

Contradictory, a. Opposite to ; inconsistent with ; contrary to each other ; adverse ; antagonistic : مختلف - متناقض - برعکس - بالکل بر خلاف

Contrariety, n. Opposition ; disagreement : اختلاف - ضد - فرق - ناموافق

Contrary, a. Placed opposite to ; disagreeing ; inconsistent : *n. pl.* A thing that is of opposite qualities : ضدین

Contrast, n. Comparison, as regards the difference between the objects ; difference ; opposition ; dissimilitude : مقابلہ بلحاظ اختلاف - فرق - *v. t.* To place in opposition : مقابلہ کرنا کہ فرق ظاہر ہو - مشابہہ کرنا - ملانا

Contravene, v. t. To oppose ; to hinder ; to baffle ; to break through : مزاحمت کرنا - باز رکھنا - مہرورم رکھنا - توڑنا

Contravention, n. Opposition ; violation : مخالفت - مزاحمت - بڑگشتگی - تعرض

Contributory, a. Paying tribute ; to the same sovereign ; auxiliary : باجگذار - مددگار

Contribute, v. t. To give for a common purpose ; to pay a share : حصہ یا چندہ دینا * *v. i.* To bear a part in ; to aid : مدد پہونچانا

Contribution, n. Act of contributing ; sum given ; donation : حصہ رسدہی - ہزری

Contributor, n. One who gives money or work to help ; a subscriber : چندہ دینےوالا - مددگار

Contrite, a. Broken down with sorrow for sin ; penitent : متأسف - پشیمان - نادم

Syn.—Broken-hearted, penitent, sorrowful, repentant, humble.

Contrition, n. Sorrow for sin ; penitence : تأسف - پشیمانی - پچھتاری

Contrivance, n. Act of contriving ; a plan ; a device ; a scheme ; invention ; appliance : بندش - تدبیر - حکمت - صنعت - ایجاد - ترکیب - انتظام - کل - آلہ

Contrive, v. t. To invent ; to design : ایجاد کرنا - تدبیر کرنا

Control, n. Check ; restraint ; authority ; superintendence : روک - ضبط - اختیار - قابو - حکومت * *v. t.* To restrain ; to govern ; to curb : روکنا - تابع رکھنا - حکومت کرنا - ضبط کرنا

Syn.—Rule, govern, direct, check.

Controller, Comptroller, n. One who governs ; one who checks the account of others by a counter-roll ; an officer who examines public accounts : عامل - ناظر - محافظ - لین داروغہ - میر حساب - حساب جانچنے والا حاتم

Controversial, a. Contentious ; polemical : تکراری - بحثی - بھک طلب - متعلق مناظرہ

Controversialist, n. One fond of disputing : میا حثہ کرنے والا

Controversy, n. A debate ; a contest ; a quarrel : میا حثہ - حجت

Syn.—Discussion, contest, debate, strife.

Controvert, v. t. To debate ; to refute ; to deny : انکار کرنا - حجت کرنا - جھٹلانا - رد بدل کرنا - انکار کرنا

Controvertible, a. Disputable ; dubious : قابل مباحثہ - حجت پذیر - قابل اعتراض یا تردید

Contumacious, a. Obstinate defying authority ; perverse ; disobedient : - ضدی - نافرمان - شکیلا - مکررا

Contumacy, n. Obstinacy ; perverseness : - ضد - سرکشہ - ہٹوہ

Contumelious, u. Scornfully offensive ; insolent ; disdainful ; rude : - مذمت آمیز - گستاخ - منہقر - دریدہ دہن

Contumely, n. Contemptuous language ; haughty contempt ; rudeness ; reproach : - تحقیر آمیز ظلم - بد زبانی - گستاخی - بے ادبی - حقارت - متکبرانہ حقارت

Contuse, v. t. To bruise ; to beat together : - کچلنا - کڑنا

Contusion, n. A severe blow ; a bruise : - ضرب - کچلاہٹ - چورت

Conundrum, n. A riddle ; a puzzle ; an enigma : - پوچھلی - معمہ

Convalescence, n. Renewal of health ; gradual recovery from a disease : - افاکہ - صحت - آرام

Convalescent, a. Recovering health ; growing well again : - آرام پذیر - صحت پذیر

Convene, v. t. To call together ; to summon : - بلانا
v. i. To assemble : - اکٹھا کرنا
اکٹھا کرنا

Syn. - Meet, assemble, join, unite.

Convenience, n. Fitness ; ease ; accommodation ; comfort : - * مناسبت - فراغت - سہولیت - آرام
At one's—, فرصت یا فراغت میں - آہستہ آہستہ

Convenient, a. Suitable in time or place ; adapted ; suited ; agreeable ; handy ; opportune : - مناسب - موافق - آرامدہ - معقول - آرام کا

Convent, n. A monastery ; a nunnery ; a body of monks or nuns : - خانقاہ - منیہ - بیراگی یا بیبا گیری کی گروہ

Convention, n. An assembly : - * مجلس - سیما
A contract : - عہد و پیمانہ - اقرار

Conventional, a. Stipulated ; customary ; formal : - معمولہ - مقررہ - معمولی - قرار یافتہ - رسمی - رواجی

Converge, (con-verj) v. i. To tend towards

one point ; to draw nearer : - ایک ہی مرکز کی جانب
مائل ہونا

Convergence, n. A coming towards the same point ; inclination : - جھکڑ - میلان بہ مرکز واحد

Convergent, a. Tending to a point : - ایک ہی سمت کو مائل - ہم مرکز - جھکا ہوا

Conversant (with), a. Familiar with ; versed in ; acquainted : - آگاہ - ماہر - جانکار
جہاں دیدہ - نرم و گرم - * شناسا
زمانہ دیکھے ہارے - دنیا کے ارنج نیچ سے واقف

Conversation, n. Familiar discourse ; talk ; colloquy : - بات چیت - ذکر مذکور - تکلم - مکالمہ - گپ شب

Conversational, a. Pertaining to conversation ; colloquial : - گفتگو کے متعلق - بول چال کا

Converse, (with a person on or about a subject), v. i. To discourse ; to talk familiarly : - ہم نلام
n. Intercourse ; familiarity : - * شناسائی - واقفیت
قضیہ - مناقض - برعکس شکل

Conversely, ad. With change of order ; reciprocally : - بالعکس - اہل بدل کرنا

Conversazione, (kon-ver-sa-siona) n. A meeting for conversation ; particularly on literary subject ; amusement : - علمی گفتگو
مکالمہ - دستاویز مباحثہ کا جلسہ

Conversion, n. Transmutation ; turning ; change of heart ; change from one religion to another : - تقلیب - تبدیلی مذہب - روحانی نوزادگی - دل کا تبدیل

Convert, v. t. To change into another form or state ; to alter ; to change the heart ; to change from one belief to another : - بدلنا - منقلب
کرنا - بدلنا - مذہب یا خیالات بدلانا - دل بدلنا - مرید
* n. One who has changed his opinions or religion ; a proselyte : - نو مرید - نو معتقد

Convertible, a. Capable of being interchanged ; transmutable ; transformable : - تبدیلی پذیر - قابل تبدیل

Convex, a. Rounded outward, (opposite of concave) : - قبة دار - گنبدی - محدب - مرغ سینہ - ماعی پشت

Syn. Bulging, spherical, globular.

Convexity, n. A spherical form : **قبة - گنبد -**
انحداب - باہر کی گولائی

Convey (to), v. t. To carry ; to transmit to ;
make over to ; to transport ; to do or carry
away secretly : **لیجنا - منتقل کرنا - حوالہ کرنا - ذریعہ :**
توسیل ہونا - چپکے سے کر دینا - پوشیدہ اٹھا یا سرکا لے
* الفاظ حامل خیالات ہیں **Words—ideas** * **جانا**
The air—sounds, ہوا ذریعہ توسیل آواز سے

Conveyance, n. Means of carrying ; transmis-
sion ; transference ; a vehicle ; canal : **روانگی -**
سواری - A vehicle : * تبدیلی - انتقال - ذلی - نہر
گازی

Convict, v. t. To prove guilty ; to find guilty :
* **n.** One proved guilty of a crime ; a malefactor ; a prisoner :
مجرم - تقصیر وار - قیدی

Conviction, n. A proving guilty : **ثبوت جرم -**
اعتقاد - یقین کامل : * **A strong belief** : الزام

Convince (of), v. t. To satisfy by proof ; to
persuade ; to convict : **قابل کرنا - یقین دلانا - الزام :**
نکاتا - تقصیر وار ٹھہرانا

Syn.—Persuade, gain over, convict.

Convincible, a. Capable of conviction : **قابل**
ثبوت - قابل یقین

Convitiate, v. t. To rebuke ; to reproach : **ملامت**
کرنا - چشم نمائی کرنا - دہشتنا

Convivial, a. Festive ; jovial ; social : **شعیاتی -**
کہانے پھانے کا - خوشی کا - خورش طبع - ملنسار

Conviviality, n. Good hum-ur at a feast ;
cheerfulness : **خوش طبعی - زندہ دلی - مسرت -**
نشانات - خوشی کا کہانا پینا

Convocation, n. Act of convoking ; an as-
sembly : * **A meeting of clergy ;**
an assembly of a University for conferring
degrees : **جسہ - اجلاس شرکے یونیورسٹی وغیرہ**

Convoke, v. t. To call together ; to convene ;
to assemble : **بلانا = جمع کرنا - اکٹھا کرنا**

Syn.—Call, summon, convene.

Convolution, n. Act of rolling or winding
together ; a twisting ; a fold : **لپیٹ - پیچ -**
پہچیدگی - بل

Convoy, v. t. To accompany for defence ; to
escort : **محافظت کرنا - رہبری کرنا - ہم رکاب جانا :**
* **n.** Attendance for
protection : **رہبر - بدرقہ - محافظ**

Convulse, v. t. To affect by violent motion ; to
agitate : **ہلانے - مڑوڑنا - اینٹھانا**

Convulsion, n. A violent contraction of the
muscles of the body : **اینٹھوں - مڑوڑ -**
* **A tumult :** دلچل - ہنگامہ

Cony, n. A rabbit : **خروگوش** * **A simpleton :**
سادہ لوح - احمق

Coo, v. t. To cry as a dove or pigeon : **فاختہ یا**
کوترو کی سی آواز نکالنا - کوکو کرنا

Cook, n. One who dresses victuals ; one who
prepares food : **v. t.** * **باورچی - طبخ - رسوئی :**
* **prepare food for the table :** پکانا - رسوئی بنانا

Cookery, n. The art of dressing victuals :
باورچی گری - طبخ

Cook-maid, n. A maid servant that dresses :
باورچی - روٹی پکانیوالی

Cool, a. Moderately cold : **Calm ;**
dispassionate ; indifferent : **باقرار - استہر - پے -**
headed, * **جوش - پے پروا - سرد مہر - روٹھا**
ٹھنڈا * **v. t.** To make cool ; to calm anger :
دیر تک حاضر - کرنا - فرور کرنا
ٹھنڈا ہونا - فرو ہونا : * **v. i.** To grow cool : **رہنا**

Coolly, ad. In a cool manner ; calmly ; in-
differently ; impudently : **ٹھنڈے دل -**
سے - دانہمی سے - شوخی سے - گستاخی سے

Coolness, n. Moderate cold ; indifference ;
calmness : **خنکی - سردی - پے پروائی - بیہمی -**
افسردگی - قائم العواصی

Cooly, Coolie, n. Labourer : **مزدور - قلی**

Coop, n. A barrel ; a cage for fowls : **پینا - ٹاپا -**
v. t. To shut up ; to confine : **دربا - کھانچا**
بند کرنا - قفس میں رکھنا - در پے میں ڈالنا

Cooper, n. A maker of cask : **پینا بنانے والا**
* **v. t.** To repair : **موسر کرنا**

Co-operate, v. i. To work together ; to contri-
bute : **ملکر کام کرنا - متفق ہونا - شریک ہونا -**
دینا

Co-operation, *n.* Joint labour; common endeavour : میل - اتفاق

Co-operative, *a.* Operating jointly to the same end; established for the purpose of providing the members with goods at wholesale prices : ایک ہی فرض کے - مدد - جس کا کاروبار سرمایہ مشترکہ پر چلتا ہو

Co-ordinate, *a.* Equal in rank or order : ہم رتبہ - ہم درجہ - ہم پلہ - مساوی

Coot, *n.* A small black water bird fond of still water; simpleton : مرغ آبی - پن ڈبی - چالو - گالڈی - صادہ لوح

Co-parcenary, *n.* Joint inheritance of an estate : * tenure, شریک داری

Co-parcener, *n.* A joint heir; a coheir : شریک ورثہ

Co-partnership, *n.* Joint concern in business : شریک - حصہ داری

Co-partner, *n.* A partner with others : شریک رفیق - حصہ دار

Cope, *n.* A priest's cloak; a hood; an arch : * *v. i.* To strive or contend with; to watch; to vie; to meet : مقابله کرنا - ہمسری کرنا - لڑنا - مقابلہ کرنا - سابقہ پڑنا

Coping, *n.* The top or cover of a wall : منڈیرو - پرچھتی

Copious, *a.* Abundant; plentiful; abounding in words : کثیر - زیادہ - رافر - وسیع - فراع

Copper, *n.* A metal named from the island of Cyprus : * A large boiler : دیگ * A coin made of copper : پیسا وغیرہ

Copperas, *n.* Sulphate of iron : توتیا - ہیرا سیس - زنگار

Copper-plate, *n.* A plate of copper on which pictures and writing are engraved : تانبے کی تختی

Coppersmith, *n.* One who works in copper : تھہیرا - مسگر

Coppery, *a.* Mixed with copper; like copper : مس آمیز - تانبہ سا

Coppice, Copse, *n.* A wood of small gro. h; a thicket : چھوٹے پیدڑوں کا جنگل - چوڑی

Copula, *n.* A band or tie; a word that joins the subject and predicate of a sentence : باند - جوڑنے والا - حرف ربط

Copulative, *a.* That which unites or couples : * (as, A copulative conjunction) : حرف عطف

Copy, *n.* A transcript from an original; an imitation; a pattern : نقل مطابق اصل - نقشہ - * *v. t.* To transcribe; to imitate; to make a copy from : نقل کرنا - اتارنا - نمونہ کے بموجب بنانا

Syn. - Imitate, reprint, counterfeit, forge.

Copy-book, *n.* A book in which copies are written for learners to imitate : * مہندیوں کی لکھنا - * لکھنے کی کتاب - مشق کرنے کی کتاب

Copy-hold, *n.* A tenure of lands evidenced by copy of court-roll : دستاویز قبضہ - پٹہ

Copyist, *n.* One who copies; a transcriber : نقل نویس - مکتوب - کاتب

Copyright, *n.* The sole right to publish a book : حق تصنیف یا تالیف

Coquet, *v. t.* To trifle in love affairs : * اٹھانا

Coquetry, *n.* Trifling in love; a mere show of love : * نغری بازی - ناز و ادا

Coquette, *n.* A vain, airy, trifling girl, who endeavours to attract notice : * نازنین - نغری بازی - عشقہ گر

Coracle, *n.* A kind of boat : ایک قسم کی نشتی

Coral, *n.* A hard red, white or black substance built up in the sea by small animals : مرجان - * A child's—, چسپنی - گلی

Corban, *n.* An alms basket; an offering : کاسہ - گداہی - توتیا - دان

Cord, *n.* A twisted string; rope : * روسی - کوری * A measure of 121 cubic feet : * ناپ کا فیتہ * *v. t.* To bind with cord or rope : روسی سے باندھنا - چکونا

Cordage, *n.* Ropes collectively : * بندھن - جوار کے پال کے رے

Cordate, a. Having the form of a heart : بشکل دل

Cordial, n. Anything that cheers ; a medicine ; an elixir : اکیسر - مقوی - دراء مقوی - فرح * فرح بخش شے - دراء مقوی - اکیسر
Hearty ; sincere ; invigorating ; reviving : چگری - دلپی - مقوی - دلکشا - مفرح - تازہ دم کرنے والا
 (as, a cordial reception ; cordial liquor).

Cordiality, n. Relation to the heart ; warmth of regard ; sincerity : دلداری - گرمجوشی - تپاک - ذوق - سچی الفت - صدق دلپی

Cordon, n. A line of military posts ; a ribbon worn as a mark of honour : جنگی ڈاکوئیا سلسلہ - ریشمی نیتہ

Cordovan, n. In Spain, leather made of goat-skins : ذری - گمایا ہوا چمڑا

Cordwainer, n. A shoemaker : چوڑی بنانے والا - موڑچی

Core, n. The heart ; the inner part of anything : دل - اندرونی حصہ - مغز - گودا - مراد - اصل - جگر
 Syn. - Kernel, stone, centre.

Co-respondent, n. A joint respondent : رسپانڈنٹ - تہیبی - ہم مدعا علیہ

Coriander, n. A plant bearing aromatic seeds : دھنیے کا درخت - کشنیز - کوتھویر

Cork, n. A tree or its bark ; a stopper : کاک - کاک لگانا * v. t. To put corks into bottles : ڈاٹ لگانا

Cork-screw, n. A screw for drawing corks : کاک نکالنے کا پیچ - کاک کش

Cormorant, n. A voracious web-footed seabird : A glutton or a greedy fellow : ایک آبی پرند - ماہی خور پیٹھر

Corn, n. A single seed ; a grain : دانہ - اناج - Beard * گھٹھا - ٹھینٹ * A hard tumour : * غلہ
 of—, * v. t. To preserve and season with salt (to corn beef) : نمکین کرنا

Corn--chandler, n. A retailer of corn : غلہ فروش - اناج والا - بقال

Corn-cutter, n. One who extirpates corns from the feet : پیر کے گورکھور ر کاتنے نکالنے والا

Cornelian, n. A precious stone : عقیق یمنی

Corneous, a. Horny ; like horn ; hard : سینک کا - سینک کے مانند - سخت

Corner, n. An angle ; a secret place : کونہ-گروہ - خارت

Corner-stone, n. The principal stone : مہارت میں خاص پتھر

Cornet, n. A musical instrument : * ترناٹی - ترہی - * A cavalry officer : رسالہ کا علم بردار

Cornice, n. The highest projection of a wall or column : کنگرہ - کنگھی - کنگر

Cornigerous, a. Having horns : شاخدار - والا

Corn-mill, n. A mill to grind corn : ناچ پیسنہ کی چکی

Corol, Corolla, n. The inner covering of a flower : پھول کی اندرونی پتی

Corollary, n. An inference ; a deduction : نتیجہ - حاصل - نتیجہ صریح

Coronal, a. Pertaining to the crown of the head : * n. A crown ; a garland : تاج - مکت - ہار

Coronation, (L. Corona, a crown), n. The act or ceremony of crowning a sovereign : تخت نشینی - جارس - راجگدی - رسم تاجپوشی

Coroner, n. An officer who enquires into the cause of any sudden death : حاکم جسکے متعلق تحقیقات مرت ناگہانی ہوتی ہے

Coronet, n. An inferior crown worn by the nobility : * The upper part of a horse's hoof : مکت - تاج - گھوڑے کے سم کے اوپر کا حصہ

Corporal, n. A non-commissioned officer : پائلن کا * a. Relating to the body ; material ; not spiritual : جسمانی - بدنی - مادی

Corporate, a. United in a body ; embodied : مجسم

Corporation, n. A body or society authorised by law to act as one individual : جماعت سند یافتہ - جماعت جو قانوناً مثل شخص واحد ہے

Corporeal, a. Having a body or substance ; material not spiritual : جسمانی - مادی

Corporeity, n. Materiality : جسمانیت

Corps (kor), n. A body of troops ; a regiment :

فوج - رسالہ - پلٹن

Corpse, n. The dead body of a human being :

مردہ جسم - لاش - میت

Corpulence, Corpulency, n. Bulkiness of body ; fleshiness ; obesity : - تن آردی - فزویہی - موٹائی - جسامت

Corpulent, a. Bulky ; fleshy ; stout : - فزویہ - موٹا - جسم

Corpuscle, (Pro : cor-pus-l), n. An atom ; a molecule :

ریزہ - ذرہ - لطف - پارہ

Corral, n. An enclosure for cattle : - احاطہ - باز

Correct, v. t. To rectify ; to amend ; to put right by punishing : - درست کرنا - تصحیح کرنا

a. Right ; accurate ; exact :

صحیح - ٹھیک - واجب

Syn. - Precise, regular, faultless.

Correction, n. Act of correcting ; amendment ; chastisement ; abatement of noxious qualities :

صحیح - تصحیح - سیاست - تہنیک - گوشمالی - بری

صفت کا گھٹاؤ

Corrective, a. Tending or having power ; to correct :

قابل صحیح - مصلح

Correctness, n. Exactness ; precision : - درستگی - صحیح

Correlation, n. Reciprocal relation : - مطابقت - نسبت

Correlative, a. Having a reciprocal relation :

(as father and son) : ہم نسبت - لازم ملزوم

Correspond (with), v. i. To answer each other's letters ; to have communication by letters ; to suit :

خط کتابت رکھنا - مراسلت کرنا - ٹھیک ہونا

Correspond (to), v. t. To be like in some ways :

مشابہ ہونا

Correspondence, n. Agreement ; suitableness ; communication ; interchange of letters :

مطابقت - مناسبت - خط و کتابت - مراسلت

Correspondent, a. Suitable ; adopted : - مطابق

n. One who carries on intercourse by letters :

مراسلہ نویس - راقم یا مرقوم الیک - خبر

An agent : کارندہ

Corridor, n. An open passage round a building ; a gallery :

برآمدہ - لمبا راستہ

Corrigendum, n. (Pl. corrigenda) A word or thing to be corrected : - صحت - درستگی - ترمیم - صحت نامہ

Corrigible, a. That can be corrected or set right :

قابل صحت - سزاوار - نصیحت پذیر

Corroborant, a. Strengthening ; invigorating :

قوت بخش - طاقت دینے والا - حامی

Corroborate, v. t. To confirm ; to establish ; to strengthen :

مضبوط کرنا - تائید کرنا - زور دینا

Corroboration, n. Act of confirming or giving additional strength to :

تائید - پشتی - ثبوت - استراری - تصدیق - تائید

Corroborative, a. Strengthening ; confirmatory :

مستحکم یا مضبوط کرنے والا

Corrode, v. i. To eat or wear away by degrees :

رقہ رقتہ کیا جانا - کھرچنا - بگاڑنا

Syn. - Consume, waste away, impair.

Corrodible, a. That may be corroded :

کھائے جانے کے قابل - کلاؤ

Corrosion, n. Act of eating away bit by bit :

بہ تدریج کٹاؤ - خراش - ہدت

Corrosive, a. Eating away gradually ; biting :

برندہ - ٹلانڈیوالا - کات کرنے والا

Corrugate, v. t. To wrinkle ; to contract :

چروپی ڈالنا - جھریانا - سکڑنا - سمٹانا

Corrupt, v. t. To make putrid ; to defile ; to spoil ; to bribe ; to pervert ; to destroy the purity of :

سڑانا - بگاڑنا - خراب کرنا - رشوت دینا - سزا ہوا - ناکارہ - فاسق - فاسد - ناقص - بے ایمان

a. Decayed ; depraved ; impure ; unsound ; dishonest :

سڑنا ہوا - ناکارہ - فاسق - فاسد - ناقص - بے ایمان

Corruptible, a. Capable of being corrupted :

سڑنیوالا - رشوت پذیر - قنا پذیر

Corruption, n. Putrid matter ; decomposition ; debasement ; depravity ; bribery :

سڑن - گن - بگاڑ - تزییل - کھوٹا پن - خرابی - رشوت ستانی

Corsair, n. A sea-robber ; a pirate ; the vessel of a pirate :

سمندری ڈاکو - ڈاکو جہاز

Corse, n. A corpse ; a dead body : - لاش - تن مردہ

Corselet, n. A light armour for the fore part of the body ; breastplate : جرسن - سینٹہ بکتر - زرہ - چارائیہ

Corset, n. A woman's stays : انگیا - کرتی

Cortege (cortazh), n. A train of attendants : ملازمونکی جماعت - جلوس - چار ملازمان

Cortical, a. Of bark ; external : چھلکے کا - باہری

Corticiform, a. Resembling bark : مارح کی طرح

Coruscate, v. t. To glitter ; to flash ; to gleam : چمکنا - چھلکنا

Coruscation, n. A sudden flash of light : چمک - دسک - شعلہ

Corvee, n. Any system of forced labour : بیگیاہی

Corvette, n. A warship carrying about 29 guns : جنگی جہاز

Corybantic, a. (From Corybantes) Madly agitated ; frantic : جنزونی - دیوانہ

Cozey, a. Snug ; comfortable : آرام کا - ہان

Cosier, n. A cobbler ; a clumsy tailor : پارہ درز - اٹاری داری

Co-significative, a. Of the same meaning : ہم معنی - ہم مطالب

Cosily, ad. Snugly ; comfortably : چین سے - اطمینان کے ساتھ

Cosmetic, n. An external application to improve the complexion : ایٹن - غارہ حسن افزا - مرطب : * a. Improving beauty : حسن دینہوالا

Cosmic, Cosmical, a. Pertaining to the universe ; rising or setting with the sun ; orderly ; vast : دنیاوی - آفتاب کے ساتھ - عالم : طالع و قلوب ہونیرالا - کائنات کا - باتقاعدہ - عظیم

Cosmogony, n. Science of the formation of the world ; (*Gr.* *kosmos* the world ; *gen* to bring forth) : علم پیدائش عالم - مسئلہ آغاز کائنات

Cosmography, n. A description of the world or universe : کیفیت جہان - علم ترکیب کائنات - کواہف کرن و مکان

Cosmology, n. A science of the universe : علم ساخت و ترکیب کائنات

Cosmopolite, Cosmopolitan, n. A citizen of the world ; a person who is nowhere a stranger, or who is at home in any place : اہل دنیا - شائق دنیا - مہذب عالم - وہاں وطن دوست نہیں * a. Free from local prejudices ; liberal : مطابق - حب العالم - فیاضانہ

Cosmos, n. The whole world ; universe : دنیا - عالم - کائنات

Cossack, n. A warlike Russian tribe very expert on horse-back : روس کی ایک بہادر قوم

Cosset, n. A lamb brought up by the hand ; a pet : ہاتھوں کا پلا ہوا بھیڑ کا بچہ - عزیز - لالا

Cost, n. The price for a thing ; charge ; expense ; loss ; suffering : قیمت - صرفہ - خرچ - میں نے، I know it to my— * لاگت - نقصان - ازیت * جیب سلطانی سے، At the king's— * کہو کے سیکھا ہے اصل لاگت، prime— * اصل قیمت

—, v. To require to be given or suffered : To—dear, * دام لگنا - خرچ ہونا - صرف ہونا بہت دام لگنا یا نقصان ہونا

Costal, a. Pertaining to the ribs : پہلو سے متعلق

Coster-monger, n. A fruit-seller : میوہ فروش

Costive, a. Bound in the bowels ; constipated : قابض - قبضیت

Costiveness, n. State of being costive ; constipation : قبضیت - قبض

Costliness, n. Expensiveness : بیش قیمتگی - بہاری مول کا

Costly, n. Of high price ; expensive ; dear : بہاری مول کا - گراں - بیش بہا - بیش قیمت

Costs, n. Law expenses : خرچہ عدالت : * Each party to pay its own—, خرچہ طرفین ذمہ، طرفین

Costume, n. A customary dress : لباس کا طریقہ - پہناوا

Cot, Cottage, n. A hut ; a small country house : چھوٹا بنگلا

Cot, n. A small bed : بنگلی

Cote, n. A pen ; a sheep-fold : کھیرا - بازار - دربا - باڑی

Coterie, (Pro. *co-le-ri*), *n.* A clique ; a set ;
a circle : جف - گروه - فریق

Cottager, Cotter, *n.* One living in a cottage :
چونڈی یا تھی کا رہنیرالا

Cotton, *n.* Vegetable wool and cloth made
from it : کپاس - پنپہ - رومی - روٹی کا کپڑا - سوتی کپڑا

Couch, *v. t.* To lie down ; to stoop, as in fear ;
to hide : لیٹ جانا - جھکنا - دیکنا - چھپنا

—, *v. t.* To lay down ; to compose to rest ;
to express ; to remove a cataract from the
eye ; to lower ; to conceal : اٹکانا - بیانکرنا - آنکھ سے

To—a spear or lance, *n.* A
seat of repose ; a bed ; a lair : کھات - پلنگ -
کوچ - جنگلی جانور کی بیٹھک

Couchant, *a.* Lying down with the head erect :
گربہ نشست یا سر اڑتھائے اڑنکڑو بیٹھا ہوا

Cough (*cof*), *n.* A violent effort of the lungs
to throw off phlegm : * کھانسی - سرفہ - کونکھی
v. i. To try to throw off phlegm : کھانسنہا -
کھکار کے تھوکرنا * **To—up**, کھکارنا - دھانسنہا

Could, (*p. t.* of Can) Was able or capable : سکا

Coulter, *n.* Knife in front of a ploughshare :
حل کی پھاڑ

Council, *n.* An assembly for consultation ; a
congress ; a convocation ; consultation :
—chamber, * مجلس - جماعت - سبھا - صلاح
* دیوان عام , Common—, * دیوانخانہ - نشستگاہ
Legislative—, * مشیران قانونی ,
مشورہ یا صلاح لینا

Councillor, *n.* A member of a council : رکن
جلسہ - صلاحکار

Counsel, *n.* Advice ; consultation : نصیحت
* An Advocate : راز * Secrecy : * صلح - مشورہ
v. t. To give advice ; to warn ; to direct :
* To keep one's
own—, * اپنا بھید چھپانا
to preserve a composed or natural look :
سنجیدہ مزاجی دکھانا

Counsellor, *n.* One who give advice ; a minis-
ter ; a barrister : * ناصر - متنبی - مشیر -
دکیل

Count, *v. t.* To number ; to reckon ; to coun-
pute ; to esteem : شمار کرنا - گننا - حساب کرنا
v. i. To swell
the number ; to add to ; to bereckoned ; to be
of value or significance ; to rely on : زیادہ
ہرنا - شمار کیا جانا - گنتی میں ہرنا - قابل
لحاظ ہرنا -
To—on or upon, to rely on : * بھروسہ
کرنا
To—up, to
add up : * جوڑنا
شمار
میں آنا

Syn.—Calculate, enumerate, number, compute.

Count, *n.* Reckoning : شمار * A charge in an
indictment : ایک * A title : الزام دہری - طع
خطاب

Countenance, *n.* Appearance ; the face ;
favour ; feature ; patronage ; aid : صورت
شکل - چہرہ - بشرہ - عنایت - شفقت - توجہ - مدد

—, *v. t.* To support ; to favor ; to patronise ;
* تائید کرنا - حمایت کرنا - مہربانی کرنا
encourage :
Out of—, confounded : * شرمندہ
in—, to support : سنبھالنا - مدد لینا

Counter, (*L. Contra*, against) *n.* One who
counts ; a piece of metal used in counting ;
a shop table : شمار کرنے والا - سکہ شمار - دوکان کی
میز جیسے روپیہ گنا جاتا ہے

Counter, *a.* Contrary ; opposite : مقابل -
برخلاف
Counteract, *v. t.* To act in opposition to ;
to hinder : مزاحم ہرنا - کاٹنا - ہاج ہرنا - روکنا

Counterbalance, *v. t.* To weigh against with
an equal weight ; to counterpoise : ہم وزن ہرنا -
ن. An equal weight in
the opposite scale : برابر وزن - برابر دھوا -
پاسنگ کرنا - برابر کرنا

Countercharm, *n.* That which dissolves or
opposes a charm : دافع افسوں - اٹنا متبر

Countercheck, *n.* A stop ; a rebuke : روک -
صافحت - سرزنش

Counterfeit, *v. t.* To imitate ; to feign ; to
forge : نقل کرنا - تلبیس یا تقلید کرنا -
جھلسازی کرنا -
نقل کرنا

—, *a.* Forged ; fictitious ; spurious ; hy-
pocritical ; presenting a likeness : جعلی -
جوڑا - دغل - نقلی - مکرکا - شباہت افہ -
بڈاڑتی - کھوٹا
(as A counterfeit coin).

Counterfeit, n. An impostor ; a forgery ; an imitation : - دغا باز - دغا بازی - جعل - نقل - ملبس - مزدور

Counterfoil, n. The corresponding part of document : مثنی

Countermand, v. t. To call back command ; to revoke a command : حکم بدلنا - رد کرنا - منسوخ
* **n.** A contrary order ; revocation : تبدیلی
حکم - تردید یا تفسیح حکم

Countermarch, v. i. To march back, or in reversed order : مراجعت کرنا - پیدچھ لوٹنا - الٹا کوچ
* **n.** A change of the wings or face of battalion : صف کا ہلٹنا - الٹا کوچ - واپسی

Countermine, n. A gallery under ground from which to destroy the mines of the enemy :
* **v. t.** To frustrate by secret and opposing measures ; to intercept with a countermine : پوشیدگی سے شکست دینا یا زیر کرنا - چال یا چھل سے رو کرنا - سرنگ در سرنگ سے روکنا

Counterpane, n. The cover of a bed ; coverlet : پانگ پوش

Counterpart, n. The corresponding part ; a copy ; a duplicate ; an opposite : مثنی - نقل
بمقابلہ اصل - جراب

Syn.—Copy, duplicate.

Counterplea, n. A publication to a plea : مرجعات - جراب عذر

Counterplot, n. A plot against a plot : سازش کے خلاف سازش

Counterpoise, v. t. To counterbalance ; to equal in weight ; to balance : ہم وزن کرنا - پاسنگ کرنا

Countersign, v. t. To sign in addition and opposite to the signature of a principal ; to attest the authenticity of a writing : دستخط کے مقابلہ تصدیق دستخط کرنا

—, **n.** A military watchward : رة نشان جس سے
(Counter-signature) * پھرے والا فوج میں داخل ہونے دیتا ہے
ٹپت دستخط

Countervail, v. t. To act against equally ; to counterbalance ; to be of equal value to ; to

برابر کرنا - ہم وزن کرنا - ہم قیمت کرنا - پورا عیوض دینا

Countess, n. The wife of a Count : بی بی - بیگم

Countless, a. Innumerable ; numberless : بیشمار - بیعداد

Country, n. A tract of land ; rural parts opposed to town or city ; the populace : ملک
* **ولایت** - **اقلیم** - **دیہات** - **بیرونیات** - **رعایا** - **عوام**
* **ملکی** - **ا.** Pertaining to the country ; rude : کسی ملک کے باشندے
— **folk, n. pl.** the inhabitants of a country :

Countryman, n. One of the same country ; a rustic : ہم وطن - ہم ملک - دھقان - دیہاتی

County, n. A shire ; a district : علاقہ - ضلع
— **town,** the chief town of a county : قصبہ

Coup, n. A master-stroke ; a sudden stroke
* **چست** و **ار-داؤں** - **حکمت** - **چرت** - **ضرب**
— **de grace (kood gras),** a decisive stroke ;
— **de main, (kood man),** a sudden and overpowering attack : دھاوا
— **de soleil, (kood-so-la-yi)** a sunstroke : دھوپ کی چوٹ - لولا - سرسام

Couple, n. Two alike ; a pair ; a brace : دو
* **v. t.** To chain together ; ملانا - جوڑنا - عقد
to unite as husband and wife : باندھنا - شادی کرنا

Couplet, n. Two lines of poetry that rhyme together : بیت - فرد - شعر - دوہا

Coupling, n. That which couples or connects : آنکڑا - جوڑے - بندھن

Coupon, n. (koopon), An interest certificate attached to a transferable bond : پرچہ - رسید
* A part of a railway ticket or postal money order which is cut off when a payment is made : کوپن اقرار نامہ

Courage, n. Bravery ; intrepidity ; valour : ہمت - جرات - دلیری - بہادری - جرأتوروی - شجاعت
Syn.—Heroism, gallantry, boldness, dauntlessness.

Courageous, a. Brave ; daring ; bold : دلیر - جرأتوروی - بہادر

Courier, n. A messenger sent in haste, usually on public business; a travelling servant:
 ہرکارہ - نامہ بر - قاصد

Course, n. A race-ground; progress; career in life; the way; manners of proceeding; procedure; regular succession; *pl.* menses:
 گھوڑے دوڑ کا میدان - رفتار - روش - طور - طریق - راستہ - قاعدہ - ڈھنگ - سرشتہ - سلسلہ - حیض - گھانوں کا دور - **Course (at table) *** ایام - اٹناہ صلاح - **Best** * دھارا - بہاؤ - **of a river** * پورسنا سلسلہ وار - **In**—, in regular order: * مصالحت مقابلہ برابری - **In**—of business, * بدای - عیوض میں رت پر, **In due**— * میں - کاروبار کے انتظام میں **Of**—, undoubted-ly * قاعدہ سے - معمولی - چاندے بعد - **Out of the ordinary**— * خلاف دستور - خلاف قاعدہ مقررہ, **Words of**—, صرف باتیں - باتیں ہی باتیں

Syn.—Road, route, passage, race, series, mode.

—, v. t. To hunt; to chase; to pursue; to force to run:
 شکار کرنا - رگیدنا - پیچھا کرنا - کھدیرنا - دوڑانا

Courser, n. A race-horse; a war-horse:
 سبند - گھوڑے دوڑ کا گھوڑا - اسپ باد پا - لڑائی کا گھوڑا

Court, n. The residence or retinue of a prince:
 بادشاہی محل یا ارکان دولت - ہشتم و خدم - بادشاہ
The hall or chamber where justice is administered: * **Open space before a house:** * **چوک** - میدان
The judges: * **Polite attention:** * **حکام عدالت**
Addresses; respects: * **خطاب**
To hold a—, * دربار کرنا * **To pay—to one, * کسی کی خاطر کرنا**
of Ist instant, سر پرست * **of wards, مرافعہ اول**
In open—, سر سر اجلاس * **نا بالغان**

Court, v. t. To try to win favour or love:
 * **دعا کرنا** - **تعلق ظاہر کرنا** - **آرزو مند ہونا** - **چاہنا**
To—a quarrel, * لڑائی مول لینا
To—death, * موت چاہنا - **جان سے بیزار ہونا** - **ذیست سے تازہ دھونا**

Courteous, a. Polite; civil; complaisant; affable:
 صاحب اخلاق - نیک نہاد - مانسار - خوش اطوار

Courtesy, n. Civility; politeness; affability; favour:
 نیک نہادی - خوش اخلاقی

Courtier, n. One who frequents the courts of princes; a flatterer:
 درباری - خوشامدی - دنیا ساز

Courtly, a. Elegant in manners; polite; refined; dignified:
 خوش اخلاق - خوش اصواب - مہذب - رعبدار

Court-martial, n. A court of officers for trying offences in the army or navy:
 فوجی عدالت یا بحری عدالت

Courtship, n. Act of wooing in love:
 طلبگاری - عشق بازی - اظہار محبت بغرض شادی

Court-yard, n. An enclosed yard adjoining a building:
 آنگن - صحن

Cousin, n. The child of an uncle or aunt:
 چچھیرا یا مرسیرا بھائی

Cousin-german, n. A first or full cousin:
 چچھیرا بھائی

Couteau (Pro. Cuto), n. A double-edged knife:
 دو دھار والا چھرا

Cove, n. A small creek or bay; an inlet; a recess:
 کواڑی - خلیج - کول

Covenant, n. A mutual agreement; a contract; a deed; the writing:
 قول و قرار - عہد و پیمانہ - **v. t.** To grant or promise by covenant:
 لکھ دینا - اقرار کرنا

Cover, v. t. To spread over; to screen; to envelop; to include; to incubate; to secure; to be sufficient for:
 ڈھانکنا - چھپانا - ملغوف کرنا - **n.** A lid; ڈھکنہ - غلاف - آفانہ - سرپوش - **shelter; pretence:**
 پناہ - حیلہ

Coverlet, n. The upper covering of a bed:
 پوش - چادر - بالا پوش - اورنگینی - دلائی

Covert, n. A shelter; a defence; a thicket:
 * **a. Secret; disguised:** * **جائے پناہ** - **بچاؤ** - **جھاری** - **آز**
 مخفی - پوشیدہ - پناہ دار - **sheltered:**
 محفوظہ

Syn.—Shelter, refuge, asylum, retreat.

Coverture, n. The state of a married woman; a place of concealment:
 سوہاگن پنا - سوہاگ - پناہ - جائے حفاظت

Covet, v. t. To wish for eagerly or unlawfully ;
to hanker after : طمع کرنا - لالچ کرنا - حرص کرنا

Covetous, a. Very desirous ; avaricious : لالچی
حریص

Covetousness, n. An eager desire of gain ;
avarice : لالچ - حرص - طمع

Syn.—Avarice, cupidity, eagerness ; parsimony.

Covey, n. A brood of birds : جھول - پال - جھنڈ
Syn.—Brood, flock, set.

Covise, n. A secret agreement to injure another ;
conspiracy : خفیہ عہد دوسرے کو ضرر رسائی کے لئے - سازش

Cow, n. The female of the bull ; (Pl. cows or
kine) : گڑ * v. t. To depress with fear ;
خوف دلانا - ڈرانا - دھمکانا - دبانا

Coward, (L. Cauda, a tail) n. One who lacks
courage ; a poltroon : - نامرد - بزدل - حیز -
بزدل بے رحم ہوتے ہیں ، * Cowards are cruel * کاہر

Cowardice, n. Want of courage ; timidity :
بزدلی - نامردی - کم ہمتی

Cowardly, a. Timid ; mean ; faint-hearted ;
dastardly : ڈرپونکا - لینڈی - بزدلا - نامرد

Cow-dung, n. Excrement : گوبر

Cower, v. i. To sink down through fear ; to
crouch : خوف سے دبنا یا جھک جانا - سکر جانا

Syn.—Shrink, cringe, fawn, stoop.

Cowherd, n. One who tends cattle : گروالا -
گھوسہی - اھیر

Cow-itch, n. کوڑھ کا درخت - کوڑھ کی پھلی

Cow-pox, n. The vaccine disease : گرتوں سیٹلا

Cowl, n. A monk's cap or bonnet ; a covering
for the head : کلا - قلندر کی ٹوپی - جبہ - نقی

Coxcomb, n. A fop ; a jester ; top of the
head : بانکا - مسخرہ - اکر باز - چھیلا - کپال - چوٹی

Coxswain, n. A seaman who steers a boat : پتہ دریا

Coy, a. Modest ; shy ; reserved : شرمگین -
محجوب - لجبت

Coyness, n. Reserve ; shyness ; modesty ;
bashfulness : حجاب - حیا - شرم - لاج

Cozen, v. t. To cheat ; to deceive ; to beguile :
(A form of cousin,
to claim as one's cousin or relative in
order to cheat).

Cozenage, n. Fraud ; deceit : فریب - دغا بازی
دھوکھا - چھل

Cozy, a. Warm ; snug ; comfortable : آرامدہ

Crab, n. A well-known shell-fish : * ٹیکڑا * A
sign of the zodiac : * بروج سرطان - کرک راس *
ایک قسم کا جنگلی سیب

Crabbed, a. Sour in temper ; difficult : ترش
مزاج - مشکل - چڑچڑا - سخت

Crack, n. A small opening ; a fissure :
* کڑی - تڑکا - درز - شکاف - شق - آن کی آن
میں اسے آن : I will fetch him here in a crack

v. t. To break into chinks ;
to split ; to snap ; to boast ; to cry up : تڑکانا -
پھاڑنا - بال ڈالنا - درز ڈالنا - چیرنا - چٹکانا - شیخی

* ٹوٹھا مارنا - چٹکا چھڑنا : * To—a joke,
* To—a louse, * To—one's fingers,
* v. i. To burst ; to

open in chinks ; to utter a loud sudden sound :
* To پھٹنا - تڑکانا - کڑکانا - بھڑکا ہونا - چٹاٹھا ہونا
—a crib, to break into a house as a thief :

عمدہ - * a. Excellent - سیدھا لگانا - نقب زنی کرنا
تڑاٹھے کا بولنے والا ، * speaker - بڑا تڑاٹھے کا - کڑاٹھے کا

Crack-brained, a. Crazy ; insane ; mad ;
whimsical : دیوانہ - سڑی - پاگل

Cracker, n. * پٹاٹھا * A kind of firework :
boaster : * شیعھی باز - تڑار زبان -
ایک قسم کا بسکت

Crackle, v. i. To make small, sharp, noises one
after another ; to sputter : چڑچڑانا - چٹکانا -
تڑکانا

Cracknel, n. A hard brittle biscuit : ایک قسم
کا کڑوا بسکت

Cracksman, n. A burglar : نقب زن

Cradle, n. A rocking bed for infants : پالنا
* The nursery, * گھراہ - ہنڈرلا
* A case for a broken bone :
* From the— * ٹوٹی ہوئی ہڈی کے سنبھالنے کی خول
معد سے امد تک - بالوں سے بڑھاپے تک
* v. t. To lay or rock in a cradle ; to nurture :
چھلانا - لڑی دینا - پرورش کرنا

Craft, n. Manual art ; trade ; ہنر۔ پیشہ * دستکاری - ہنر۔ پیشہ
Fraud ; cunning : دغا - چال * A small sailing
vessel : قرننگا - کشتی * *v. i.* To play tricks :
چال کرنا - نطارت کرنا - تڑونا

Craftily, a. Cunningly ; artfully : - چالاکي سے
دغا بازی سے - عیاری سے

Craftiness, n. Cunning ; stratagem : - چالاکي
عیاری - حرفت - روڈیا بازی

Craftsman, n. An artificer ; a mechanic : - اعلیٰ
حرفہ - کاریگر - دستکار

Crafty, a. Artful ; skilful ; cunning : - حرفہ
چالاک - عیار

Syn.—Wily, subtle, dexterous, deceitful, sly.

Crag, n. A rough, steep rock : کراہ - ٹیلا

Craggy, a. Full of crags ; rugged : - کراہے دار -
ناہموار - بیخیز

Cram, v. t. To stuff ; to thrust in by force ;
to eat beyond satiety : - ٹھونسنا - بھر لینا
* To coach for an examination : * امتحان کے لئے تیار کرنا
To learn by heart without understanding : رت لینا

Cramming, n. Act of qualifying for an ex-
amination by hasty preparation : - رتت - ٹھونسنا

Crambo, n. Rime : قافیہ بندی - بیت بازی

Cramp, n. A spasm or contraction of the
limbs ; a compression : - ایٹھن - تشنج - مزور
روک - دباؤ

Crane, n. A migratory fowl : کلنگ * سارس * A
machine for raising heavy weights : بھاری
بوجھ اٹھانے کی کل - دمکلا - منجینک

Craniology, n. Science of the structure of the
skull and its relation to the faculties of the
mind ; phrenology : - سر یا دماغ کی ترکیب کا علم -
علم کاسہ سر

Cranium, n. The skull : کوہڑی - کپار

Crank, n. The end of an axis bent down : دھرے
* A bend : خم * A twist-
ing or turning in speech : گفتگو کی پیچیدگی
* *v. i.* To run in a winding course : تیز رفتاری سے
میں جانا

Crank, a. Brisk ; merry ; liable to be upset :
چست - چالاک - زندہ دل - خوش - اٹھنے کے قابل

Cranky, a. Crazy ; crotchety ; unsteady : - سڑی
خبلی - باؤلا - دھمی - متلون مزاج - غیر مستقل - کمزور

Cranny, n. A small, narrow opening ; a fissure ;
a crevice : دراز - سوراخ - شکاف

Crape, n. A species of black gauze worn as a
sign of mourning : ایک قسم کا باریک ماتمی کپڑا

Crapulence, n. Sickness by intemperance :
خمار - سرمستی

Crash, n. A loud noise, as of things falling
and breaking ; ruin ; failure : - دھڑکا
* *v. i.* To fall to pieces
with loud noise : ہڑھڑانا - بڑے زور سے ٹوٹنا

Crass, a. Gross ; dense : - کثیف - مورتا - سخت -
تپت

Crate, n. A hamper of wicker-work for croc-
kery : ڈوکرا - جھانپہ - درہی

Crater, n. The mouth of a volcano : - جوڑالا مکھہ
دھانہ گڑا آتش نشاں - آتش خیز پہاڑ کا دھانہ

Cravat, n. A neckcloth (Fr. corruption
of croat).

Crave, v. t. To ask earnestly ; to beg ; to long
for : درخواست کرنا - التجا کرنا - طالب کرنا - چاہنا

Syn.—Ask, seek, beseech, beg, implore, entreat,
solicit.

Ant.—Claim, demand, insist, require.

Craven, n. A weak-hearted fellow ; a coward :
نامرد - بزدل

Syn.—Coward, poltroon, dastard.

Craving, n. A strong desire ; a longing : دلی
خواہش - لالسا

Craw, n. The crop or stomach of a bird : پورٹا -
جھوجھہ

Crawl, v. t. To move slowly ; to creep : آہستہ
آہستہ چلنا - رینگنا

Crayon, n. A pencil of coloured chalk : رنگدار
نقشہ کھینچنے کا * *v. t.* To sketch : کھریا کی پنسل
(*L. Creta, chalk.*)

Craze, v. t. To impair the intellect ; to crush or
weaken : دیوانہ کرنا - عقل بگاڑنا - کچلنا - چور چور
* *n.* Derangement of the intellect ; pas-
sion ; rage ; wild fancy : سردا - خلل دماغ -
چاند تلاش - چند روزہ شوق - راہیات خیال

Craziness, n. The state of being deranged :

سردا - پاگلپن - ديوانگي

Crazy, a. Broken ; disordered to intellect ; shattered in mind : سردائي - ديوانه - شڪسته

Creak, v. t. To make a grating sound :
چرچرانا - کرکرانا - چرانا - مچھچھانا

Creaking, n. A harsh noise : چرچراھت

Cream, n. The oily part of milk ; the best part of anything ; a cosmetic : لب لباب - بالائي - شڪستہ - ديوانہ - سردائي
* The—of the joke is, طرفہ ٻيہ ۽

Creamy, a. Full of cream ; rich ; luscious ; unctious : بالائي دار - عمدہ - چکنِي چپڙي (باتين)

Crease, n. A mark made by folding or doubling over : سلوت - چين - چنت - شڪن - v. t. To mark by folding : شڪن ڌارنا - ٽوڙنا

Create, v. t. To bring into being ; to originate ; to occasion : زيبست سے ھستڪرنا - پيدا ڪرنا - ايجاد
ڪرنا - باعث ھونا

Creation, n. Act of creating ; things created the universe ; constitution : پيدائش - خلت - دنيا - خلق الله - ڪائنات - هستي - عالم ڪون و فساد - نيا نقرر

Creator, n. One who creates ; God : آفريننده - خالق - پروردگار

Creature, n. A being or thing created ; a term of contempt or endearment ; a dependent ; a puppet ; one who rises to preferment merely through the favour of another : - منظور - بندہ - پيدائش - حيران - بيچارہ - غلام - اوردہ - پروردہ جسماني آرام و آسائش کي comforts - منظور نظر - of impulses, * - چيزين - عمدہ ڪوانا پھننا - ٽرمال * - of circumstances, ڪا * ھري آدمي حيوان, Irrational—, حيوان ناعقل Rational—, مطلق

Credence, n. Belief : اعتبار - اعتقاد

Credentials, n. Testimonials or certificates showing that one is entitled to credit, or has authority or official powers : سند - وثيقہ - دستاويز - وڪالت نامہ

Credibility, n. Claim or right to be believed : معتبري يا باوقري

Credible, a. Worthy of belief ; deserving credit : معتبر - قابل اعتبار - سچا

Credit, n. Belief ; faith ; reputation ; esteem ; honour ; trust ; loan : - ابرو - معتبري - اعتبار - رسوخ - نيڪنامي - سند - عزت - قدر - قرض - اردھار * —side of an account, the side of an account in which payment is entered : جمع کي * Letter of—, an order given by bankers or others at one place to enable a specified person to receive money at another : * (Opposed to debit). معتبري کي چٽھي
To carry to—, جمع ڪرنا - داخل ڪرنا - مچرا ڪرنا
To exceed amount at—, * باقي فاضل نڪلنا
To have one's—at stake, * پگڙي اٽڪنا
To confide in ; to believe ; to enter upon the credit side of an account : بهورسا ڪرنا - اعتبار ڪرنا
To lose—, شھوت ميں دھيا, * جمع ڪرنا - وصال لکھنا لگنا - ساڳھ ڪھرنا

Creditable, a. Worthy of esteem ; reputable : ذمي عزت - معتبر - باوقر

Creditably, ad. Reputably ; with credit : خوبي سے - بااعتبار سے - بخوبي

Creditor, n. One to whom a debt is due : * (Opposed to debtor). قرضخوہ - داين

Credulity, n. Easiness of belief ; a disposition to believe on sight evidence ; superstition : سادہ دلي - بهولاپن - سريخ الاعتقاد

Credulous, a. Apt to believe ; easily deceived ; simple ; unsuspecting : سريخ الاعتقاد - بهولا - سيدھا - سادہ

Creed, n. A summary of the articles of faith : مذهب - عقيدہ

Creek, n. A small inlet ; a bay : خايچ - ڪھاڙي - ڪول

Creep, v. i. To go upon the belly ; to trail ; to move slowly ; to crawl : پيٽ ڪر بل چلنا - بيل ڪي طرح چلنا يا پھلنا - ٻوڙ پھري آنا - سرسراڻا - آھستہ چلنا - رينگنا

Creep, n. A plant that creeps or climbs ; an insect : پھل - اتر - رينگنہ والا ڪيزا

Cremate, v. t. To burn the dead : داغ : مردہ جلانا - دینا

Cremation, n. The burning of a dead body instead of burial : مردہ کا جلانا - داغ

Crematory, n. A place for burning dead bodies : مردہا گھاٹ - مردوں کے جلانے کی جگہ

Crenated, Crenelled, a. With notches on the edge : دندائے دار - دنتیلا - کنگرے دار

Creputate, v. i. To crackle ; to snap : - چڑچڑانا - چٹکنا

Crescent, n. The new moon : ہلال - درج کا چاند
 * The Turkish standard : روم کا چھنڈا
 a. Increasing ; shaped like a crescent : بڑھتا ہوا - ہلال سا

Cress, n. A plant which grows in moist places : چنسر

Cresset, n. A light set upon a beacon ; a torch : آکائی دیا - مشعل - شمع

Crest, n. A plume of feathers ; a helmet ; the comb of a cock ; a tuft : چڑھی - کلفی - خرد - تاج
 شینقی - فخر - شان - Pride ; courage : * خروس دلیری

Crest-fallen, a. With crest knocked down ; with pride brought low : پڑمردہ - مایوس - اندردہ
 دل - ٹوٹے دل - سرنگر

Syn.—Heartless, dejected, dispirited.

Crestaceous, a. Chalky : کھریا مٹی کا

Crevice, n. A small crack ; a narrow opening ; a fissure ; a cleft : درز - شق - سوراخ - رزق

Crew (Pron. kroo), n. A ship's company ; a gang : اہل جہاز - ملاح وغیرہ - مانجھی - گروہ - منڈلی

Crib, n. A manger ; a stall ; a bin for corn ; a child's bed ; a cottage : - ٹھرا - ناند - ٹھرا - چرنی
 v. t. To confine ; to shut up ; * کھنولا - جھرنیزا
 to pilfer : مقید کرنا - بند کرنا - چوری کرنا - علیحدہ کرنا

Cribble, n. A coarse sieve : چھنی - چھٹنا

Crick, n. A painful stiffness in the neck ; a spasm : * گردن کا مرنا - جوڑ اینٹھن - تشنج اعضا - چرچراہٹ
 The noise of a door :

Cricket, n. A chirping insect : چھینگر * A game played with bat and ball : گیند بلے کا کھیل

Cricketer, n. One who plays at cricket : گیند کھیلنے والا

Crier, n. One who cries : مرزن - پکارنے والا - منادی والا

Crime, n. A breaking of the law ; an offence ;
 a sin : * Capital—, جرم - تقصیر - گناہ - خطا
 * Heinous—, جرم قبیح - قابل پھانسی
 * To perpetrate a—, جرم سنگین
 ارتکاب جرم کرنا

Criminal, a. Guilty of a crime ; culpable ; nefarious ; not civil ; wicked : مجرم - خطارار - تقصیروارہ - نہایت برا - زبون - فاسد - فرجدار

Criminal, n. One guilty of a crime ; a malefactor ; culprit ; transgressor : - مجرم - گنہگار
 عاصی - تقصیروارہ - بدکار

Criminality, n. State of being criminal ; guiltiness : معصیت - گنہگاری

Criminate, v. t. To charge with, or convict of crime ; to implicate : مجرم قرار دینا - الزام لگانا

Crimination, n. Act of accusing ; charge : اتہام - جرم - تہمت - الزام - ماخوڑی

Criminatory, a. Involving accusation : متضمن الزام - الزام دہ

Crimp, v. t. To twist ; to curl ; to pinch ; to hold ; to decoy : سکرتنا - چھلے دار بنانا - لہردار کرنا - چٹکی سے پکرتنا - فوج یا جہاز کی ٹوکری میں پھنسانا

Crimple, v. t. To contract ; to cause to shrink : سمیٹنا - سکرتنا

Crimson, n. A deep red colour : گہرا سرخ رنگ - قرمزی - * a. Of a deep red colour : ارغوانی - لال

Crimson, v. t. To bow obsequiously ; to flatter meanly : زمین بوسی کرنا - خوشامد کرنا - چاہا بوسی کرنا

Cringe, n. A low crouching ; mean reverence ; a servile obeisance : فراشی سلام - گورنش - تملق - قدم بوسی - تلتوت

Crinkle, n. A wrinkle : چھری - شکن - بل - لپیٹ

Cripple, n. A lame person : لنگڑا * v. t. To make lame ; to disable : لنگڑا کرنا - لولا کرنا - پیار
 * His means were crippled, اسکی آمدنی گھٹ گئی

Crisis, n. A critical moment ; a turning point ;
وقت معرکہ - نازک وقت - ساعت - وہ گھڑی یا موقع

Crisp, Crispy, a. Curled ; brittle ; frizzled :
پھینچدار - بلنار - چھری دار - بہرہ - کرارا -
- ہل دینا - چھری ڈالنا - مروڑنا -
make brittle : - داندانہ دار کرنا

Criterion, n. A standard of judging ; a test :
مقیاس - کسوٹی - میزان - اندازہ - جانچ - علامت ناطق

Critic, n. A judge of merit in literature or art :
One who finds fault :
عیب جو - حرف گیر - نقطہ چین

Critical, a. Having the skill to judge ; nice ;
captious ; dangerous : نازک - ممیز -
دقیقہ سنج - حرف گیر - خطرناک

Criticism, n. Act of criticising or judging
carefully ; animadversion :
دقیقہ سنجی - نقطہ -
چینی - حرف گیری

Criticize, v. t. To examine and judge as a critic ;
to animadvert on : - جانچنا -
تعمیر کرنا - تقریظ کرنا -
عیب بتلانا - جانچنا - گرفت کرنا

Critique, n. A critical examination ; a critical
dissertation or essay :
باریک بینی کے ساتھ آزمائش -
کسی تصنیف کے حسن و قبح کے بارے میں تصنیف

Croak, n. The cry of a frog or a raven ; a
murmur : ٹوٹوں - گونگہوں - غوں غوں - بڑبڑاہت

Croak, v. -i. To make a low, hoarse sound ; to
forebode evil ; to grumble :
ٹوٹوں کرنا - گونگہوں -
کرنا - بد شگونئی کرنا - کڑکڑانا

Croaker, n. A grumbler :
کڑکڑانیوالا - شکایت کرنے والا

Crochet, n. A kind of netting made with a
small hook and thread :
ایک قسم کا جال - جالی :
کا کام

Crockery, n. Earthen-ware ; vessels of clay,
glazed and baked :
ظروف گلی - چینی کا برتن

Crocodile, n. Amphibious animal of the lizard
kind :
tears, false :
پنارت کی رولائی -
گربہ رنجی - دسورے

Croft, n. A small field near a house :
مکان کے
متصل چھوٹا کھیت

Crofter, n. A tenant who cultivates a croft :
چکدار - خورد کاشت

Cromlech, n. A large stone resting on two or
more others, like a table :
لانہہ - مینار

Crone, n. An old woman :
بزر زال - بڑھیا - تڑکی

Crony, n. An intimate friend ; an old and
intimate companion :
لنگڑیا یار - چگری دوست -
یار غار - رفیق

Crook, n. A shepherd's or bishop's staff ; a
bend or turn ; a trick :
آنکس - پادری کا عصا -
خم - کج - حیلہ

Crookback, n. One who has a crooked back :
کبڑا - خمیدہ پشت

Crooked, a. Bent :
خمدار - ٹیڑھا - گمراہ - ضعی

Croon, v. t. To sing or hum softly :
گنگنانا -
بھنبھنانا - دھیمی آواز میں گانا

Crop, n. The harvest ; product of a field :
فصل -
* پرٹا : The stomach of a bird *
The top of any thing :
* چرٹی - کلفی -
*—ful, satiated :
زیادہ کھانے :
*—sick, sick of a surfeit *
* بھرپت - سیر
* ظاہر ہونا - نکلنا :
*—out, to appear *
* پینے سے بیمار
*—up, sprout :
* نکل آنا :
* To turn out neck
and—, *
* Vernal—, *
* گردنی دیکر نکال دینا
*—breed, *
* ملی نسل -
* ربيع - آسارہی
کاٹنا - قام کرنا :
* off the ends ; to prick ; to reap :
کھرنٹنا - فصل پیدا کرنا

Pars.—Cropping, cropped.

Croquet (croka), n. An out-door game played
with wooden balls and mallets :
ایک قسم کا کھیل
جو لکڑی کی گیند اور مڑگڑی سے کھیلا جاتا ہے

Crosier, n. The official staff of an archbishop :
بڑے پادری کا عصا

Cross, n. Two pieces of wood placed at right
angles over each other ; a gibbet ; misfor-
tune ; the ensign of the Christian religion :
سولی - صلیب - مصیبت - مسیحی مذہب کا نشان

—, a. Transverse ; peevish ; perverse ;
ill-tempered ; unfortunate :
آڑا - ترچھا -
مخالف - چڑچڑا - ضعی - کمبخت

—, *v. t.* To put across ; to strike out ; to pass over ; to obstruct : قلمزد - کرنا - خارج کرنا - قلمزد
آزا ڈالنا - خارج کرنا - قلمزد
* * * To be at—
purpose, to misunderstand each other : غلط :
فلط : * To—one's path,
to thwart one's purpose or design : کسی کے
کسی کے
* To cross-question, *v. t.*
to cross-examine : جرح کرنا - پوچھنا - پوچھنا

Cross-bow, n. An ancient weapon for shooting arrows :
کمان - ظلیل

Cross-breed, n. A breed produced from parents of different breeds ; a hybrid : درخت
پن - کم نسلی - درخت - پیوندی

Cross-examination, n. The examination of a witness of one party by the opposite party or his counsel :
سوال جرح

Crosslet, n. A small cross : چھوٹی صلیب

Crossness, n. Peevishness : تشر مزاحی - چڑ
چڑاؤ

Cross-question, n. A question so intelligently put as to elicit facts that the one questioned is reluctant to give :
سوال جرح

Cross-road, n. Not the direct high road :
چراستہ

Crosswise, ad. Across ; transversely ; in the form of a cross :
آزا - ترچھا - صلیب سا

Crotch, n. Fork : کانٹا - آنکڑا - بھال - درشاخہ

Crotchet, n. A note of music ; a whim ; a bracket :
راگ کا ایک نشان - خیال - ترنگ - قوس -
ڈریکٹ - خطوطا وحدانی

Croton, n. —oil, a powerful purgative :
ایک تیز جلاب

Crouch, v. i. To stoop low ; to fawn ; to cringe :
دیک بیٹھنا - پٹو پڑنا - ماتھے جوڑنا - خوشامد
کرنا

Croup, n. The buttocks of a horse ; the rump of a fowl ; a disease in the throat :
چوڑے - پیٹھا -
گالے کی بیماری

Crow, n. A well-known bird : * The voice of the cock : بانگ * As the—flies, in a direct line :
سیدھے

—, *v. i.* To make a hard sound like a crow or cock ; to boast ; to brag : - شیطانی مارنا
بانگ دینا - شیطانی مارنا
لان زنی کرنا

Crow-bar, n. A bar of iron used as a lever :
پرچہ اٹھانے کی ڈنڈی

Crowd, n. A large number close together ; a concourse :
انبرہ - تودہ - ہیز - جمعیت

—, *v.* To press close together ; to be in great numbers ; to press upon : -
کھسنا - ہجوم کرنا -
ہیز کرنا

Crown, n. The top of the head ; a jewelled cap worn on the head ; an emblem of sovereignty ; royalty ; a silver coin worth 5s. ; summit :
چاند -
تاج - مکت - سلطنت - ۲ روپیہ ۸ آنے کا سکہ - چوٹی
تکلیف بغیر تاج نہیں

—, *v. i.* To invest with the crown ; to dignify ; to adorn ; to complete : -
تاج رکھنا - توجہ دینا -
* The end—
all, the end—
* To—all, قصہ - قصہ
جام لبریز - چہلکتا * Crowned cup, طرزہ یہ ہے
بیانہ - صلیب

Crown-prince, n. The prince royal who succeeds to the crown :
راہی عہدوارت تاج و تخت - راج کور :
(L. Corona, a crown).

Crucial (crooshal), a. Transverse ; searching ; testing ; severe :
* آزا - صلیبی - سخت - دشوار :
A—test, کسوٹی - ثبوت قطعی

Crucible, n. A chemist's melting pot :
گھریا -
پوتہ - گھالی

Crucifix, n. A picture of Christ upon the cross :
مسیح کے مصائب ہونے کی تصویر

Crucifixion, n. A nailing to a cross ; death on a cross :
تصیب - دار کشی

Crucify, v. t. To fasten to a cross ; to mortify ; to torment :
تصیب دینا یا چڑھانا - تصدیقہ دینا
Syn.—Execute, mortify, put down.

Cruciform, a. In cross-shaped :
صلیب کی شکل کا

Crude, a. Raw ; unripe ; immature ; undigested :
ناقص - کچھا - ناتمام - نامکمل - خام - ادھورا

Crudity, n. Immaturity ; rawness ; unripeness :
خامی - کچھا پن

Cruel, a. Hard-hearted ; pitiless ; inhumane :
سنگ دل - بیرحم - بے درد - ظالم

Cruelly, n. Inhumanly : بیرحمی سے - سنگ دلی سے

Cruelty, n. Inhumanity ; barbarity : - بیرحمی
سنگ دلی - تشہورائی

Cruet, n. A small pot or jar : سرکہ دان - اچار
دان - شیشی

Cruise, n. A voyage without settled course :
جہاز سی سفر - سیر دریا

Cruiser, n. A vessel in search of an enemy ;
v. i. To sail backwards and forwards on the sea : ادھر
ادھر سفر دریا کرنا

Crumb, n. The soft part of bread ; a fragment :
ٹھیک ٹھیک * To a—, روٹی کا گودا - ٹکڑا - ریزہ - پارچہ
ٹھیک - جوں کا توں - ہونہر - عین میں

Crumble, v. i. To break into small pieces : چور
* چور ہونا - ریزہ ریزہ کرنا یا ہونا - برباد ہونا
Crumbling walls, پرانی دیواریں لگی دیواریں

Crummy, a. Full of crumbs ; soft : گودے دار -
گدر - نرم

Crumple, v. t. To draw into wrinkles ; to
shrink up : سکڑنا - شکن پڑنا - جھول ڈالنا -
کھینچنا

Crunch, v. t. To crush with the teeth ; to chew
with a grinding noise : چرمر کرنا - کرم کرم کرنا

Crupper, n. A strap from the saddle passing
round the horse's tail : دمچی - لید خورہ

Crusade, n. An expedition for the Holy Land ;
a romantic enterprise : دینی لڑائی - جہاد

Crusader, n. One who takes part in a crusade :
غازی - مجاہد - مذہب کی خاطر لڑنے والا

Cruse, n. A small cup or phial : چھوٹا پیالہ - شیشی

Cruset, n. A goldsmith's melting pot : گھڑیا -
وہ مٹی کا بوتل جس میں سونا رونا چاندی گلاتا ہے

Crush, v. t. To press and bruise between hard
bodies ; to squeeze ; to subdue ; to ruin : کچلنا -
* To داب ڈالنا - زیر کرنا - مغلوب کرنا - کرا دینا
— a cup of wine, * n. A violent * ٹھٹھا - ٹوش کرنا
collision ; a pressure by a crown ; a squeeze :
صدمہ - ریلہ - ٹکر - دھکا - دباؤ

Crust, n. A hard covering ; a hard piece of
bread : پتہ - پیرے *v. t.* To cover with

a hard case ; to envelope : - لپیٹنا -
پتہ پانا

Crusty, a. Covered with a crust ; ill-natured :
چھلکے کا - چڑچڑا - بد مزاج - تنک مزاج

Crutch, n. A staff for cripples : - لادھی - بیساکھی -
عصا

Cry, v. i. To call aloud ; to proclaim ; to weep :
چلانا - پکارنا - مشہور کرنا - منادی کرنا - رونا - نالہ کرنا
* To—out against, to complain loudly
against : * To—down, to condemn :
تعریف : * To—up, to praise : ٹیب یا الزام لگانا
روتے روتے آہیں لال کرنا * To—one's eyes out,
چینخ - آواز - گریہ - نالہ

Crying, a. Notorious : مشہور - عالم

Crypt, n. A subterranean cave : غار - تمھانہ -
گپھا

Cryptical, a. Hidden ; secret : پوشیدہ -
گپتہ - مستفی

Cryptography, n. The art of writing in secret
characters : نامعلوم حروف میں لکھنے کا فن

Crystal, n. A regular solid transparent body ;
a fine kind of glass : بلور

Crystalline, a. Like crystal ; transparent :
بلوری - صاف - شفاف

Crystallization, n. The process of forming
crystals : قلم یا رزا بنانے کی ترکیب

Crystallize, v. t. To form into crystals : اس
ترکیب سے جمانا کہ قلمیں بن جائیں

Cub, n. The young of a lion, tiger, bear etc.,
a whelp : پلا - بچہ - تیندرا

Cube, n. A regular solid body with 6 square
equal sides and containing equal angles ; the
third power of a root : کعبہ - معکب - کعبہ

Cubeb, n. A pungent berry : کباب چینی -
سینٹل

Cubic, Cubical, a. Having the form of a cube :
معکب

Cubit, n. The fore arm ; a measure of length :
دست - ہاتھ - گز - ہاتھ بہر - نزدیک 1/4 فٹ

Cuckoo, n. A well-known bird : کرکلا

Cucumber, n. The name of a garden plant and of its fruit : ککڑی - کھیرا

Cud, n. The food which ruminating animals bring from the first stomach to chew again : - جگالی
جگالی * **To chew the—**, to ruminate : جگالی
غور کرنا * **To ponder** : کرنا - پاگر کرنا

Cuddle, v. t. To lie close together ; to hug closely : سگ کے لیٹنا - چمت رہنا - لپٹ جانا - بغل گیر ہونا

Cudgel, n. A thick heavy stick : - لاٹھی - سونٹا - ڈنڈا

—, *v. t.* To beat with a stick ; پینٹنا ;
* **To take up the—s**, to stand boldly forth in defence : لڑائی کر نیکو تیار ہو جانا
* **To—one's brains**, to attempt painfully to understand or remember a thing : کسی بات کے سمجھنے یا یاد کرنے کی سخت کوشش کرنا

Cue, n. The tail or end of any thing ; a hint ; a straight rod used in playing billiards ; the last words of an actor's speech : - چہرہ - انتہا - اشارہ - ایما - کنایہ - رمز - انٹا کھیلنے کی چھڑی - پہلے نکل کے کلام کا آخری لفظ - دوسرے کی ہاری

Syn.—Catch-word, suggestion, signal.

Cuff, n. A blow with the open hand ; a slap ; the end of the sleeve : طمانچہ - تھپڑ - آستین کی مٹھی - کف

Cuirass (kwiras), n. A breastplate : زره بکتر - جوشن - چار آئینہ

Cuirassier (kwi-rasser), n. A soldier in armour : زره بکتر پوش سپاہی

Cuisine (kwizeen'), n. The kitchen ; style of cooking : باروچی خانہ - مطبخ - طرز طباطخی - کھانا - پکوانا - رہندھنا - باروچی گری

Cul-de-sac (kool-de-sak), a. A blind ally ; a trap : بند گلی - کوچہ سر بستہ - جال - پھندا - دام

Culinary, a. Belonging to the kitchen : مطبختی - متعلق باروچی خانہ

Cull, v. t. To select from others : چننا - انتخاب کرنا - بیٹنا

Cullender, n. A draining vessel : چھنٹی

Cullis, n. A gutter in a roof : پرنالہ

Cully, n. A mean dupe : دل سادہ - بھولا * *v. t.* to deceive meanly : چھلنا - فریب دینا - تھمنا

Culm, n. Stalk : قلم

Culminate, (L. Culmen, the highest point), v. n. To be in the meridian : - کمال عروج کو پہنچنا
خط نصف النهار پر ہونا

Culmination, n. The transit of a planet through the meridian : کسی سیارے کا خط نصف النهار پر ہونا
* **The top or crown** : چوٹی - انتہا درجہ

Syn.—Completion, zenith, summit.

Culpable, a. Censurable ; faulty ; blameable : سزاوار - قصوروار - مازم

Culprit, n. A criminal ; an offender ; a felon : مجرم - قصوروار - گنہگار

Cult, n. Religious belief ; ceremonial : - مذہب - طاریقت - رسوم

Cultivate, v. t. To till ; to foster ; to breed ; to improve by labour ; to produce ; to study : کاشت کرنا - جوئنا - بوئنا - قائم رکھنا - آراستہ کرنا
* **To—the friendship**, * **To—the intellect**, رفاقت پیدا کرنے کی کوشش کرنا

Cultivation, Culture, n. Art or practice of cultivating ; tillage ; making a person's powers better by practice ; fostering ; care ; refinement : کاشتکاری - زراعت - پیداوار - تربیت - تہذیب - بہتری - اصلاح

Syn.—Tillage, education, improvement.

Cultivator, n. One who tills ; an agriculturist : کاشتکار مردورٹی * **Hereditary—** کاشتکار * **Non-resident—** پاہی کاشت

Culvert, n. An arched drain : پٹی ہوئی مہراب دار - موری - پل

Cumbent, a. Reclining : مڑا ہوا - چھکا ہوا

Cumber, v. t. To clog ; to embarrass ; to obstruct : جوچھنا - لادنا - پریشان کرنا - ستانا - روکنا
اجھانا - گھیرنا

Syn.—Overload, burden, oppress, impede.

Cumbersome, Cumbrous, a. Burdensome ; weighty ; troublesome ; oppressive : - دزنی - بھاری - تکلیف دہ - سخت - بوجھل

Syn.—Heavy, embarrassing, vexatious, clumsy.

Cumbrance, *n.* Burden; clog; hindrance :
برجھہ - انگاڑو - روکاڑو

Cumulate, *v. t.* To amass; to heap together :
تھہیر لگانا - جمع کرنا

Cumulation, *n.* Act of amassing; accumulation :
اجتماع - انبار - تھہیر

Cumulative, *a.* Forming a mass; augmenting :
حصوں سے ملکر بنا ہوا - ترقی پذیر - افزوں - مجموعی -
-argument, * متواتر اضافہ سے زور پکڑنے والا -
-evidence, * ثبوت پر ثبوت، * دلیل پر دلیل
* دروٹی جسکا اثر بار بار کھانے سے دکھائی دے،
-punishment, سزائے متعدد

Cunning, *a.* Skilful; knowing; crafty; sly :
n. Skill; متفنی - چالاک - عیار - ہوشیار - نظرتی
artifice; craft; slyness : - حکمت -
ہنر - استادی - ہمدردی * Cunning is the ape of wisdom,
مکاری عقل کی نقل ہے

Cup, *n.* A small drinking vessel; cupful; a
cupping-glass : پیالہ - کٹورا - ساغر - جام - سینگی
جام و صراحی - شیشہ و ساغر - ہمدردی *
-and can, مسست، * To be in one's—s, شکر - یارگار
چملا - کاسہ - A beggar's—, * ہونا - متورلا ہونا
* bearer, * ساقی، * To bleed by
scarification and cupping-glass; to supply
with cups : سینگی لگانا - - جام دینا

Pars.—Cupping, cupped.

Cupboard, *n.* A case with shelves : الماری - برتنوں
مطلب کی یاری - غرض کی، *—love, اور کھانے کی الماری
دوستی

A cupboard love is seldom true

A love sincere is found in few.

مطلب کی محبت ہے ہمیشہ کچی
کم ہوتی ہے دنیا میں محبت سچی

Cupid, *n.* The god of love : * کامدیو - حضرت عشق :
(L. Cupio, to desire).

Cupidity, *n.* An eager desire to possess something; covetousness :
طمع - حرص - لالچ

Cupola, *n.* An arched roof; a dome : * گنبد -
گمٹ

Cupping-glass, *n.* A glass used for drawing
blood : سینگی

Cuperous, *a.* Consisting of copper : * تانبہ کا

Cur, *n.* A degenerate dog; a surly man; a
mongrel : - لیتنی کتا - جھگڑالو یا بد مزاج آدمی -
نگرزا - پاجی

Curable, *a.* That admits of remedy : - علاج پذیر -
قابل شفا

Curate, *n.* A clergyman who assists the rector
or vicar of a parish : پادری کا نائب

Curator, *n.* A guardian; one who has the care
and superintendence of anything, as a public
library, museum and the like : - محافظ - مہتمم -
منتظم

Curb, *n.* Part of a bridle; restraint : کھانکے کی
* v. t. To bridle; to روک - ضبط - انگاڑو
restrain; to check : - تھامنا -
کام دینا - روکنا - تھامنا -
اندسار کرنا

Syn.—Control, hinder, repress, restrict.

Curd, *n.* Coagulated milk : دھی - مٹھا - جغرات

Curdle, *v. t. or i.* To coagulate; to congeal; to
thicken : چمنا - جامنا - منجمد ہونا - بستہ ہونا یا
کرنا

Cure, *n.* A remedy; a healing; restoration to
health; spiritual charge : - علاج - معالجہ - صحت -
* To make a * درستی - تدبیر - تندرستی - شفا -
مسیحائی - کرامات دکھانا - اعجاز -
wonderful—, مسیحتی کرنا

—, *v. t.* To heal; to remedy; to preserve :
* To prepare for شفا دینا - علاج کرنا - تندرست کرنا
preservation, at by drying, salting, &c. :
خشک کر کے یا نمک چھڑ کر محفوظ رکھنا

Cureless, *a.* Incurable : لاعلاج
With patience undergo

A cureless ill, since fate will have it so.

نہو جس مرض کی پیدا دوا
کر صبر اسپر رضا با قضا

Curfew, *n.* (*Fr.* couvre feu, cover fire) A bell
formerly rung in the evening as a signal to the
inhabitants to rake up their fires and retire
to rest : شام کا گھنٹا واسطے سونے کے

Curiosity, *n.* A strong desire to see something,
inquisitiveness : * راز جہی - تجسس - تفحص -
تعمق - سوغات
rarity; a novelty :

Curious, *a.* Inquisitive : راز جہی - متجسس -
* Rare; singular; nice : * شرفین تحقیقات
عجیب - باریک - عمدہ - نازک

Curl, n. A ringlet of hair; flexure; indulation; wave; twist: - زلف - کاکل - شکن - پیچ - لہر

v. t. To form into ringlets; to twist; to crisp; to coil; to ripple: بل - پیچیدہ بنا - ڈالنا - لپیٹنا - پیچ و تاب دینا۔ موجیں اٹھانا

Curlew, n. A long-billed waterfowl: - ہن کوڑی - کراکل

Curly, a. Having curls; tending to curl: پیچدار - گھبرنگہ والے

Curmudgeon, (Pron. karmuj-un), n. An avaricious fellow; a miser: لالچی - کنجوس - بخیل

Currant, n. A shrub and its fruit: خشک انگور - یونانی کشمش - سٹقا - مویز

Currency, n. Circulation; current value; the money of a country, both coin and paper: حال - رواج - دورہ - بازار کا ہواؤسکہ یا نوٹ - سرکاری
* The report has found currency that, یہہ افواہ پھیلی ہے

Current, u. Running rapidly; circulating; now passing; common: رواں - چلتا ہوا - جاری -
n. A running stream: (سلسلہ واقعات) عام - مستعمل
* A running stream: (as, The current of events)

Currently, adv. Commonly: عموماً - عالی العموم
Syn—Stream, course, flow.

Curricule, n. A chase of two wheels with two horses: دو پہیئے اور دو گھوڑوں کی گاڑی

Curriculum, n. A race-course: دورے * A specified fixed course of study: مقررہ کتابوں کی فہرست

Currier, n. A dresser of leather: دباغ ساز

Curry, v. t. To dress tanned leather; to rub and clean: * To— * چمڑا کمالا - ملنا - گھیرا کرنا
favour, to flatter: خوشامد کرنا

Curry-comb, n. A comb to clean horses: گھیرا

Curse, v. t. To wish evil against; to execerate; to vex; to imprecate: بددعا کرنا - لعنت کرنا

v. i. To use profane language; to swear: * کوسنا - کوسنا - پھنگارنا - پھیرنا
n. * کوسنا - قسم کھانا
Imprecation of evil; malediction; torment: نقیب - لعنت - بددعا - اذیت - وبال - خدا کی مار

Cursive, a. Hasty; careless: ردا روی - بے پردہ - شکستہ خط * A cursive hand, سراسری

Cursory, a. Hasty; done quickly or carelessly: * سراسری - جلد - جلدی یا بے پردہائی سے کیا ہوا
چھٹی نظر - نظر اجمالی - سراسری نظر - تیز - تیز نظر - درازی

Curt, a. Short; concise; brief: کم - تیز * A—answer, تیز
یا رد کہا جواب - آگزا جواب

Curtail, v. t. To cut short; to abridge; to diminish: کم کرنا - کالنا - مختصر کرنا - گھٹانا - چھٹانا

Curtain, n. A hanging cloth for a bed or window: * Behind the—, out of sight: پرشیدہ پردہ یا ارجھل میں - اوت میں
—lecture, a reproof given on bed by a wife to her husband: خانگی نصیحت
شروع کرنا * To raise the—, to begin: کرنا

Curvature, n. Crookedness; a curve: خم - پیچ - کجی

Curve, n. Anything bent: * جھکاؤ - خمی - پیچ
v. t. To bend; to inflect; to crook: جھکانا - لچکانا - خم دینا

Curvet, n. A leap; a frolic; prance: جست - کود پھاند

Cushat (koosh'at): حلقہ دار ناخستہ

Cushion, n. A stuffed bag to sit or recline upon: مسند لگانا - گدی لگانا
v. t. To furnish with cushions: نوکھ

Cuspidate, v. t. To point; to sharpen: کرنا - تیز کرنا

Custard, n. A composition of milk, eggs, sugar, &c.: شریفہ
*—apple, فیرونی کی قسم کی شیرینی: سینا پھول

Custodian, n. One who has the care of a public building; a superintendent: داروغہ - محافظ - نگہبان - رکھوالا

Custody, n. Guardianship; imprisonment; confinement: * حراست - نفویض - نگہبانی
* To commit to close—, * حبس
* In close—, * نظر بندی میں - حراست میں - کرنا

Custom, n. Habitual practice; usage; fashion: عادت - رسم - دستور - رواج - ضابطہ - ررع - مطابقت

Habitual buying of goods : خریداری - لین دین - *** A tax on goods (usually in the plural) :** محصول - پرمت - لگان

Customary, a. According to custom ; habitual ; conventional ; holding or held by custom : دستور کے موافق - معمولی - رسمی - بنا دستور - مزوج

Customer, n. One who buys goods from the same place ; a purchaser : گاہک - خریدار - آسامی

Custom-house, n. The place where customs or taxes on goods coming into a country are paid : مال در آمد پر محصول لینے کا مقام - چٹنگی گھر - پرمت کی چوکی

Cut, v. t. To make an incision ; to sever ; to chop ; to hew ; to carve ; to shun ; to divide

چھرنا - قلع کرنا - : To deduct : کاٹنا - قلم کرنا - تراشنا - عاصدہ کرنا - قاش کاٹنا - منہا کاٹنا -

To—against, to operate against : * کرنا - مجھرا یا وضع کرنا

To—down, to reduce ; to retrench : * گھٹانا - کم کرنا

To—off, to sever from the other parts : کات

To bring to an untimely end : * ڈالنا

To—interrupt : * روکنا

To—out, to fashion ; to shape : بنانا

To—short, to abridge : * مختصر کرنا

To out in pieces : * ٹکڑے ٹکڑے کرنا

To affect greatly : * نکتہ چینی کرنا

To—off with a shilling, to disinherit an heir : * ڈرائس سے خارج کر دینا

To—a figure, to make a display : نمائش کرنا - تمکلت

To—a joke, to crack a jest : مذاق کرنا -

—and dry, ready for use : * تیار

To—open, to open with a knife : کھولنے سے

Cut and come again, * لوٹنا

To—Cut glass, * نقشی گلاس

—be—out for, * لایق یا قابل ہونا - استعداد رکھنا

To—capers, * لڑل کھول کرنا

—, n. A gash ; stroke ; a slight ; a groove ; a division ; an engraving ; style ; (*pl.*) a lot : زخم - چھرا - تھپڑ - طعش - تعظیر - کٹاڑ - نالا - دھار - گھوڑ - چھانٹ - کات - کندہ تصویر - قلم - تراش - گٹھیروٹ - رواج - قلمت

Cutaneous, a. Relating to the skin : متعلق جھم - جھال کا - جلدی

Cuticle, n. A superficial covering : جھلی - پوست

Cutlass, n. A broad, curved sword : شمشیر - تیغہ - سیف

Cutler, n. A maker of knives and edged tools : کاریگر - لوہار

Cutlery, n. Cutting instruments in general ; business of a cutler ; چھری - لوہاری - چھری

Cutlet, n. A piece of meat cut off for broiling : چاقو بنانے یا بیچنے کا پیشہ

Cuttle, n. A foulmouthed fellow : منہ بہت یا گوشت کا ٹکڑا جو پکانے کے لئے کٹا جاتا ہے

Cut-purse, n. A pick-pocket : گتھکٹا

Cutter, n. One who, or an instrument which cuts : برندہ

A light, fast-sailing vessel : ایک ہلکا تیز جہاز

Cut-throat, n. One who cuts throat ; an assassin ; a ruffian : قاتل - خونی - دھڑن - گردن کش

a. Murderous ; cruel : مارے بے رحم - ظالم

Cuttie, n. A worthless woman : نکمی عورت

Cutting, n. Incision ; clip ; chip ; twig : کٹائی - کات - تراش - چھتی - کٹلا - چھانٹن - قلم -

a. Sharp ; sarcastic ; dividing ; chilling : کالنے والا - تیز - طنز آمیز - چبھتی ہرٹی - افسردہ کرنے والی - دل چھوٹا کرنے والی

Cwt, n. A hundredweight : ایک من سولہ سیر کا - انگریزی وزن

Cycle, n. An imaginary circle or orbit in the heavens ; a periodical space of time : چرخ - پیر کی گاڑی

A bicycle : * دو تھرو

Cyclic, a. Relating to a cycle : متعلق چرخ یا دور

Cycloid, n. A geometrical curve : ایک هندسی شکل

Cyclone, n. A violent rotatory wind : گردن - باد - بونڈل

Cyclopædia, n. A dictionary of arts and sciences ; a circle of knowledge : علم و ہنر کی لغت -

Cyclos, a circle ; *paideia, learning.* دائرہ علم - مجموعہ علوم - دائرہ علم

Cyclops, n. One of the fabled race of giants living in Sicily with but one eye in the middle of the forehead : خیالی ایک آنکھ والا دیو

- Cyclopean**, *a.* Vast ; terrific ; giant-like عظیم
ہر لٹاک - مہیب
- Cygnets**, *n.* A young swan : ہنس کا بچہ
- Cylinder**, *n.* A long, circular body, of uniform
diameter ; a roller : - مستدیرہ - استوائیہ -
چرنکا - بیلیں
- Cylindric, Cylindrical**, *a.* Having the shape of
a cylinder : چرنکی کی شکل کا - بیلیں سا - نلدار
- Cymar**, *n.* A slight covering : اورہنی - دوپٹہ
- Cymbal**, *n.* A dish shaped musical instrument
of brass used in pairs : کرتال - مجبیرا -
جوانچہ
- Cynic**, *n.* A morose man ; a misanthrope : خفگی
مزاج آدمی - انسان سے نفرت کرنے والا
- Cynical**, *a.* Churlish ; snarling : : سگ خر - ٹوڑا -
ردکھا - ترش رو - کنیا راسی
- Cynosure**, *n.* The constellation of the Lesser
Bear ; centre of attraction or admiration : قلبی
تازہ - مرکز کشش - منظر ہدف نگاہ
- Cypher**, *n.* The figure 0 ; a secret writing : سحر
بندی - رمز نویسی
- Cypress**, *n.* A genus of coniferous trees : سرو یا
شمشاد کا درخت
- Cyst**, *n.* A bag containing morbid matter : پیپ
کی تھیلی
- Czar (Zar or Tsar)**, *n.* The Emperor of
Russia : شہنشاہ روس
- Czarina**, *n.* The Empress of Russia : ملکہ
روس کا لقب
- Czarowitz, Czarowich**, *n.* The eldest son of
the Czar : روس کا ولی ہد

D.

- Dab**, *v. t.* To strike gently with something
moist ; to besmear ; to slap : پھارنا پھونکنا -
مارنا - تھپڑ مارنا - تھپکی دینا
- , *n.* A gentle blow ; an artist ; an expert :
* To be a—at, کسی بات میں اُستاد ہونا
- Dabble**, *v. t.* To wet ; to smear ; to sprinkle ;
to spatter : پھگنا - تر کرنا - فرستہ دینا - پھارا دینا
- , *v. i.* To play in water, as with the hand ;
to meddle ; to trifle ; to work superficially :
پانی میں کھیلنا - دخل دینا - ادھورا کام کرنا - پانی
میں چھپ چھپ کرنا - اڑپری یا سرسری طور سے کرنا
- Syn.**—Spatter, moisten, play.
- Dabbler**, *n.* One who dabbles ; a meddler ;
پانی میں کھیلنے والا - دخل دینے والا - انازی -
نیم حکیم - نیم قر
- Dabchik, Didapper**, *n.* بظغ - مرغابی
- Dabster**, *n.* One who is expert ; an adept :
عذر مند - چالاک - اُستاد
- Dacker**, *v. t.* To search as for stolen goods :
تلاش کرنا
- Dacoit**, *n.* A robber : ڈاکو
- Dactyl**, *n.* A poetic foot, consisting of one long
syllable and two short ones : شعر کا ایک وزن
- Dactylogy**, *a.* The art of communicating
thoughts by the fingers : انگلیوں سے بات چیت کرنا
- Dad, Daddy**, *n.* Father : باپ
- Daff, Doff**, *v. t.* Put off : الگ یا پر طرف
کرنا
- Daffodil**, *n.* A plant with yellow flowers :
نوکس کے قسم کا ایک پھول
- Daft**, *a.* Foolish ; silly ; insane : - پاگل -
خبطی - دیوانہ - بے وقوف
- Dagger**, *n.* A short sword : خنجر - کٹار
یہ [†] حوالہ کا نشان [†] :
To be at—s drawn, to be bitterly hostile :
تصائی کی نگاہ * To look—s, دیکھنا -
پہاڑ کھانے کو دوڑنا
- Daggle**, *v. t.* To trial in the dirt ; to drag on
wet ground : لٹھیرنا - ماننا - گیلی زمین پر کھینٹنا
- Daggle-tail**, *n.* A filthy person : ناپسند
شخص - اگدروی
- Daily**, *a.* Happening every day ; diurnal : روزانہ
- *n.* A daily paper : * ہر روز کا اخبار
* ad. Every day ; day by day ;
ہر روز - روز بروز
- Daintiness**, *n.* Fineness of taste ; delicacy ;
fastidiousness : نراکت - لطافت - خوش دماغی

Dainty, a. Delicious; nice; elegant; delicate; fastidious: - نازی - لطیف - نفیس - مزہ دار - لذیذ - مزہ دار - نفیس - لطیف - نازی - خوش ذائقہ - خوش وضع - خوش اسلوب - نازی پسند .
* To make—, * Dainty maketh dearth, " تکلف میں ہے تکلیف سراسر "

Dainties, n. pl. Choice morsel; dish; a delicacy: نفیس چیز - نازی شے - نعمت

Dairy, n. The place where milk is kept, and made into butter and cheese: شیر خانہ - پنیر اور - گواراں - گڑھی - گڑھی - گڑھی maid—* مکھن بنانے کا گھر

Dais, n. A raised floor at the upper end of a dining hall; a raised seat: شہ نشین - چپوترہ

Daisy, n. A spring flower: گل بہار

Dale, n. A low place between hills; a vale; a valley: وادی - گھائی - نشیب زمین

Dalliance, n. Interchange of caresses; act of fondness; delay: بوس و کنار - راز و نیاز - اختلاط - تفرہ - ترقف - درنگ - امروز فردا - لبت و لعل

Dally, v. i. To fondle; to delay; to trifle away time: بوس و کنار کرنا - چوچلے کرنا - پیار کرنا - دیر کرنا - وقت ڈالنا - درنگ کرنا

Dam, n. A bank of earth to stop the flow of water: * A bank of earth to stop the flow of water: - مینڈ - مادہ - مان - پشتہ - مینڈ - پشتہ یا: * v. t. To shut up water by moles: مینڈ باندھنا

Damage, n. Mischief; loss; injury: نقصان
* pl. (Law.) The value in money of what is lost or injured: تاراج - ہرجتہ
* To assess—s, * s for defamation of character: ہرجتہ تشخیص کرنا
ہر جہہ - ہرجتہ ازالہ حیثیت عربی

Syn.—Mischief, injury, harm.

—, v. t. To injure; to impair: نقصان پہنچانا - تروڑنا - بگاڑنا

Damask (Damascus), n. Cloth of silk, cotton or wool, with figures woven on it first made at Damascus: مشجر - برتیدار کپڑا - جامدانی

Dame, n. A lady; a woman; a schoolmistress: بیگم - صاحب خانہ - خاتون - بازو - آستانی

Damn, v. t. To condemn; to doom: ملعون کرنا - مردود کرنا - لعنت کرنا - دوزخ میں بھیجنا

Syn.—Doom, condemn, sentence.

Damnable, a. Deserving to be condemned; odious: لعنتی - ملعون - زہون - کرہتہ - نفرتی

Damnation, n. Eternal punishment: عذاب - قصب یا لعنت دوامی

Damnify, v. t. To injure: نقصان پہنچانا - ضرر پہنچانا

Damp, a. Moist; humid; watery; dejection: سجلا
* v. t. To moisten; to make humid; to depress; to cast down one's spirits: نم کرنا - مرطوب کرنا - دلگیر کرنا
* n. Moisture; depression: نمی - سیک - تری - دلگیری

Dampness, n. Moisture; humidity: نمی - مرطوبت - تری

Damsel, n. (L. *Domicella*, a girl) A young unmarried woman; a maiden: نو جوان - ناکندہ - درشیزہ - کنواری - باکرہ

Damson, n. A kind of plum first found at Damascus: آبل بخارہ

Dance, v. i. To leap; to move with measured steps: کودنا - ناچنا - رقص کرنا

—, v. t. To cause to dance; to dandle: * To—attendance, to wait with obsequiousness: * He dances well to whom fortune pipes, * I will make him—without a pipe, * n. A regulated movement of the feet: ناچ - رقص

Dancer, n. One who dances: ناچنے والا - رقاص
A dancing master; a teacher of dancing: ناچ سکھانے والا

Dandle, v. t. To toss on the knees; to fondle: گھنٹو پیرو اچھالنا - کھلنا - چھلنا

Dandriff, } n. Scaly scurf on the head; Dandruff, } پھیاس - روسی - بٹھا

Dandy, n. A fop: بازکا - چھیلا

Syn.—Cozcomb, silly fellow.

Dandyism, n. Quality of a dandy; foppishness: بازکاپن - البیلا پن

Dane, n. A native of Denmark : باشندہ دانمارکی

Dane-geld, n. Money paid to Danes by old English king to buy off their ravages : روپیہ جو انگلستان کے قدیم بادشاہ ڈین لوگرنگ انگریزوں کو خریدنے کے لئے دیتے تھے

Danger, n. Exposure to risk ; peril ; insecurity ; fear : خطارہ - خوف - ڈر - اندیشہ

Syn — Hazard, jeopardy, risk.

Dangerous, a. Full of danger ; risky : خطرناک۔ پکا بد معاش - چوٹا گھوا - A—character * خطر شہدا

Dangle, v. i. To hang loose ; to swing about : چھلنا - لٹکنا - پیچھے لگے پھرتا

Dangler, n. One who hangs about women : عورتوں کے پیچھے گھومنے والا - پیچھے لگا

Dank, a. Damp ; moist : نم - تر

Dapper, a. Little and active ; smart in dress and appearance : نانا اور چالاک - صاف - چست - لٹھا ہوا

Dapperling, n. A little person ; a dwarf : بوتا - نانا - توٹگنا

Dapple, v. i. To streak ; to spot ; to variegate : رنگ پر نک - ابلق - چت کیرا

Dare, v. s. To have courage ; to venture ; to defy : جرأت کرنا - ہمت رکھنا - لاکارنا - خم ٹھوکنا - آنکھیں دکھانا

(1) He dare not leave the room

(2) He dares to leave the room.

(3) He durst not leave the room.

Dare, v. t. To defy ; to challenge ; to frighten : مقابلہ چاہنا - لاکارنا - دھمکانا

(1) He dares me (challenges me) to fight.

(2) He dared me (challenged me) to my face.

Daring, a. Having courage ; bold : دلیر - شجاع - ہمت ور

Syn.—Fearless, intrepid, audacious, brave, courageous.

Dark, a. Wanting light ; obscure ; gloomy ; not fair ; ignorant ; mysterious ; evil : تاریک - اندھیرا - نمکین - کالا - جاہل

The dark, n. darkness : پوشیدہ - مخفی - مطلق - مبہم
The—ages, تاریکی : ہزاروں سالہ عرصہ
looks, نما : معنی دار مقولے
The—half of a month, خبیثانہ اعمال : بشرف
بسی - اندھیرا پاک - کرشن پکش

Darken, v. t. To make dark or black ; to render dim ; to cloud ; to perplex ; to sully : تاریک کرنا - اندھیرا کرنا - پوشیدہ کرنا یا تاریکی ہونا
نمکین ہونا - اوداسی چھانا - بے رونق کرنا

Darksome, a. Obscure ; gloomy : تاریک - دھندلا - نمکین

Darky, n. (Colloq.) A negro : حبشی

Darkly, adv. Obscurely : کم نمائی - دھندلے طور سے - دھمکی کی نگاہ سے - لال پیالی آنکھیں کر کے

Darksome, a. Gloomy ; cheerless : اندھیرا - دھندلا - دل اداس یا اچات کرنے والا

Darling, a. Favourite ; dearly ; beloved : عزیز - محبوب - دلآرام - اخص جگر

Darn, v. t. To mend holes in clothes by sewing : رنر کرنا - مرمت کرنا - پھر دینا

Darner, n. One who darns : رنر کر

Darning, n. The act of repairing holes in thread with a needle : رنر گری

Dart, n. A weapon thrown by the hand ; javelin ; a missile : تیر - نیچہ - ٹھوس
v. t. To throw ; to shoot ; to hurl suddenly : پھینکنا - چلائنا - مارنا - لپکانا

Dash, v. t. To strike against ; to throw violently ; to shatter ; to frustrate ; to abash ; to adulterate ; to break ; to knock down ; to obliterate : ٹکرانا - پاش پاش کرنا - پھینکنا - دے مارنا - توڑنا پھوڑنا - تباہ کرنا - شرمندہ کرنا - پشیمان کرنا

To—about, to rush about : متانتا
To—parade ostentatiously : نمائش دکھانا
To—against, strike against : ٹکر کھانا
To—at, to move rapidly : جلدی جانا
To—aside, to put aside : الگ کرنا
To—cast off, to show off : دکھانا
To—off, to make anything rapidly : تباہ کرنا
To dash through thick and thin, اتھا دھند منہ اٹھانا - چلا جانا

Dash, n. Collision ; a blow ; a sudden onset ; admixture ; a mark (—) at a break in a sentence ; a vain show : گھر - گھر کو - حملہ -
To cut * دھارا - آمیزش - یہہ نشان (—) - نمائش
 اپنے کو بنانا - دکھانا -

Dastard, n. A coward ; a poltroon : قہرے -
 قہرے - حیز : * a. Cowardly : بزدل - نامرد

Dastardly, a. Cowardly ; meanly ; timid :
 قہرے - بزدلی - حقیر ہونا

Data, n. pl. Facts given or admitted : مراتب
 (L. * مسئلہ - امور معلومہ دریافت کی ہوئی بات
 datum, given.)

Date, n. The precise time of any event ; duration : وقت - زمانہ - متی -
The fruit of the palm tree : * خرما - چھوٹا - کھجور
Out of date, * میعاد پھٹی - متی دار ہنسی -
To note the time of : * تاریخ یا متی لکھنا :
 مورخہ - سرگرمہ

Date-palm, n. The genus of palms bearing dates :
 کھجور کا درخت

Dative, n. In grammar, the case that signifies the person to whom a thing is given :
 مفعول بہ

Datum, n. A known or assumed fact : جانی یا
 مانی ہوئی بات

Daub, v. t. To smear with something adhesive ; to plaster ; to paint coarsely : لیسنا - پرتنا -
A smear ; a coarse picture : * لیسنا - آلودہ کرنا - لٹھیرنا - ساننا
 دھبہ - لسانی - آلودگی - اٹازی کی :
 مصوری

Daughter, n. A female child : لڑکی - بیٹی -
Step—, in-law, son's wife : * پتھرہو -
 the daughter of one's husband or wife by a previous marriage : سوتیلی بیٹی :
Daughters and fish are no keeping wares, بیٹیاں
 اور مچھلیاں رکھنے کی چیز نہیں

Daunt, v. t. To fill with fear ; to intimidate ; to frighten : دھمکانا - قرائنا - دہشت دلانا -
 بے دل کرنا

Syn.—Intimidate, dishearten, dismay, discouragement

Dauntless, a. Fearless ; bold ; intrepid : بیباک
 نڈر - بے خوف

Daw, n. A jackdaw : ایک قسم کا لڑا

Dawdle, v. t. To waste time ; to trifle : وقت
 برباد کرنا - دیر لگانا - ہرزہ گردی کرنا

Dawn, v. i. To begin to grow light in the morning ; to glimmer obscurely ; to begin to become visible : پھلنا - تڑکا ہونا - جھلملانا - شروع
 (The truth dawns, upon me) * کرنا - روشن ہونا - نکلتا - سمجھتے ہونا (جوانی)
 * حقیقت دھلائی پڑتی ہے :
 فجر - تڑکا - : beginning :
 شروع - صبح - علی الصباح

Day, n. The time between the rising and setting of the sun ; twenty-four hours ; دن - روز - نوم - آٹھوں پہر :
 age ; time ; victory : * of judgment, the doomsday : * Lack a—, alas !
A red letter—, a lucky day :
Halcyon—, peaceful or happy days :
s of grace, (Commerce) Three days allowed to the debtor after a bill is due :
A nine—s' wonder, a subject of astonishment and gossip for a short time :
 تمام - * in,—out, all day long : چار دن کا تھہ
**Advancing—, In open—, دن دھڑے *
 Declining—, دن میں *
 By day, * چڑھتا دن
 One's days being numbered, * ڈھلتا دن
 The other day, * کسی دن پورے ہو جانے کو گوارے لگنا
 To win the—, to gain the victory, to be successful : کچھ دن گزرے
 فتح مند ہونا کامیاب : ہونا**

Day-book, n. A tradesman's journal : روز نامہ

Day-break, n. The first appearance of light in the morning : طلوع آفتاب - فجر - سویرا

Day-dream, n. A visionary fancy ; reverie :
 بیداری کا خواب - خیال

Day-labourer, n. One who works by the day :
 روزنکار - نڈر - مزدور

Day-light, n. The light received from the sun :
 سورج کی روشنی

Day-spring, n. The early dawn : سحر - نور کا تڑکا

Day-time, n. The time in which there is light :
 دن کا وقت

Daze, *v. t.* To **dazzle** to ; confuse ; to bewilder :
 چوندھیانا - گھبراننا - پریشان کرنا - مضبوط کرنا -

Dazzle, *v. t.* To overpower with light ; to surprise with brilliancy :
 چوندھیانا - تلملانا

Deacon (*de'con*), *n.* An officer who attends to the secular affairs of the church :
 کلیسے کے دنیوی :
Fem. **Deaconess**. کاموں کا منتظم

Dead, *a.* Without life :
 مردہ - بیجان -
Wanting spirit * **Gloomy** * سنسان * متوفی - نوت شدہ -
 بے حرکت : **Motionless** * مردار

* **Useless** : بے مزہ * **Tasteless** * ساکن
Monotonous * انسردہ - سست - مانڈا - اُداس * **Dull**

بے چوک - بے خطا - **Sure** * ہموار - سیات - یکساں :
Dead night, آدھی رات * **Dead** * کاری * ناکل

* **A—calm**, مردنی * **A—sleep**, خواب فطرت
A—level, سپات میدان - یکساں کف دست میدان

Dead ahead, ناک کی سیدہ * **Dead sleep**, * **To come to a—stop**,
ad. Thoroughly ; اٹک جانا - رگ جانا

To be—against, to be opposed to :
 * **—ahead**, directly in front :
 * **—beat**, utterly failed :
 * **A—loss**, a complete loss :
 * **—drunk**, intoxicated to such an extent as to be perfectly powerless :

* **The—of night**, midnight :
—shot, a person who is certain to hit his mark :
A—letter, a law that has fallen out of use :
A letter lying at the post office for which no one applies :
 خفا جسکا کوئی طالب نہیں ہے

Dead-body, *a.* A corpse :
 لاش

Deaden, *v. t.* To make dead ; to deprive of force ; to make void or spiritless :
 مردہ کرنا -
 کمزور کرنا - کاند کرنا - سست کرنا - سن کرنا - بے آب کرنا

Deadly, *n.* Destructive ; mortal ; fatal ; implacable :
 مہلک - قاتل - جانی - ہلا ہل - کرا - سخت

Dead-march, *a.* A funeral music :
 نمکین رنگ جو :
 مردہ کی لڑائی کے ساتھ بجا رہتا ہے - ماتمی یا سینہ پھا کا باجا

Deadness, *n.* دل بے - انسردگی - سرد مہری -
—of an eye, ضعف بصارت * **—of the affections**, انسردہ دلی - سرد مہری

Deaf, *a.* Wanting the sense of hearing ; unwilling to hear :
 بھرا - پتہ بگوش - بے پرواہ * **To turn a—ear to**, to pay no attention to :
 پتہ بگوش ہو جانا - توجہ نہ کرنا

Deafen, *v. t.* To make deaf :
 بھرا کرنا

Deafness, *n.* Want of power to hear :
 سامع اسم ناعل ہے - کراں گوش

Deal, *v. i.* To traffic ; to transact business ; to distribute ; to behave well or ill :
 بیوپار کرنا - بانٹنا - قسمت کرنا - حصہ کرنا - سلوک کرنا - سروکار

A great part ; quantity ; **Fir-wood** :
 بہت سا - بہت کچھہ * **A great—**, تقسیم -
Dealer, *n.* One who deals ; a trader :
 بیوپاری -
A double—, سردا کر - نروشدہ - دوکاندار مکار - در پھیسہ

Dealing, *n.* Transaction ; treatment :
Double—, لین دین - تجارت - بیوہار - سلوک * **Fair—**, سچا معاملہ - ریاکاری - مکاری : **duplicity**

Unfair—, کھرا معاملہ - ایمان کا سردا **Plain—**, بددیانتی - بے ایمانی

Dear, *a.* Beloved :
 عزیز - دلربیز - خوشگوار

Valuable ; costly ; scarce :
 قیمتی - گراں - نادر * **as the apple of the eye**,
 قرۃ العین - آنکھ کی پتلی یا تارا

Dear-bought experience, کھڑے سیکھی ہوئی بات

Dearly, *ad.* Heartily ; earnestly ; at a high price ;
 دل و جان سے - بہت - از حد مہلکا - اعلیٰ : **charmingly**

To sell one's life—, طور سے - لطف سے - پیار سے
To love one dearly, کسی کو عزیز رکھنا یا چاہنا

Dearness, *n.* Fondness ; love :
 محبت * **Scarcity** ; high price :
 کم پائی - گرانہ

Dearth, *n.* Scarcity ; want ; famine :
 گرائی - تھرا - کم - قحط

Death, *n.* Extinction of life ; mortality ;
 * **demise** - اجل - مرگ - قضا - انتقال :
At—s door, on the point of death :

- agony**, the struggle often preceding death : موت کی کشمکش * —**bed**, * جانکنی - موت کی کشمکش * —**bell**, the passing bell : * کوس رحلت * —**blow**, ضرب * —**damp**, a cold sweat preceding death : موت کا پسینا * —**rattle**, * موت کی علامت : نزع * —**throes**, the dying agony : * موت کی علامت : نزع * —**token**, a sign of impending death : موت کی علامت : نزع * —**warrant**, an order for the execution of a criminal : * موت کا پرورانہ - سزائے موت : موت کے مار ڈالنا * **To snap from—'s jaw**, موت کے چاب لب - پا بگر
- Deathless**, *a.* Not subject to death ; immortal : لزرال - امر
- Death-warrant**, *n.* An official order for the execution of a person : حکم موت - قتل کا پرورانہ
- Debacle**, *n.* Breaking up ; bursting ; sudden flood or violent rush of water : ٹوٹ جانا - پھٹ جانا - پانی کا اچانک ریللا - سخت بغیانی
- Debar**, *v. i.* To exclude ; to preclude ; to hinder : خارج کرنا - مصروم رکھنا - باز رکھنا - روکنا
- Debase**, *v. t.* To degrade ; to adulterate ; to lessen in value : گھٹانا - کم قدر کرنا - ملوثی کرنا (L. de, down ; and base, low).
- Debasement**, *n.* Act of debasing ; degradation : کم قدری - ملوث - تذلیل - بے آبروئی - سبکی
- Debatable**, *a.* Subject to debate ; disputable : قابل بحث یا عذر
- Debate**, *n.* A wordy contest ; a controversy ; a dispute : تقریر - مکالمہ - مباحثہ
- Debate**, *v. t.* To controvert ; to dispute : بحث کرنا - حجت کرنا - فیصلہ کرنا
- Debauch**, *v. i.* To revel : * بدمستی کرنا * خراب کرنا - بگاڑنا - آوارہ کرنا
- Debauchee**, *n.* A person given over to intemperance ; a drunkard : اوراشر-تماش بین - عیاش - شرابی
- Debauchery**, *n.* Lewdness ; licentiousness ; intemperance : اوراشری - عیاشی - بے اعتدالی
- Debenture**, *n.* A written form given by a person or a company to show a claim for money lent ; نوشتہ باقبال قرض - تمسک
- Debilitate**, *v. t.* To make feeble ; to weaken : کمزور کرنا - ناتوان کرنا - نا عاقف کرنا
- Debility**, *n.* Feebleness ; infirmity ; weakness : کمزوری - ناتوانی - ضعف - قہاقہ
- Debit** (opposed to Credit), *n.* The debtor side of an account-book : مدخرج - دین قرضہ * *v. t.* To charge with debt ; to enter on the debit side : * ذمہ لکھنا - مدخرج میں ڈالنا (To debit a person for or with goods).
- Debonair** (Pro : *Deb'-o-nar'*), Courteous in manners ; well-bred ; elegant ; gay : خلیق تربیت یافتہ - خوش وضع - خوش طبع
- Debouch** (*de-boosh*), *v. i.* To march out of a confined place or from defiles : تنگ جگہ یا گھاٹی سے نکلنا
- Debris** (*de-bre*), *n.* Fragments of rocks : چٹان کے ٹکڑے - کھردر چار - ملبا : اینٹ روزا
- Debt**, *n.* What one person owes to another : **Bad—**, irrecoverable loan ; * غیر ممکن الوصول قرض * **To pay the—** of nature, to die : قرض ہونا - قضا کرنا : **Over head and ears in—**, deeply immersed in debt : —bearing no interest, ہال بال قرضدار : **To pay the—** of honour, شرط یا جرا کا قرضہ ادا کرنا : **To incur a—**, Written release from—, نارغ خمپی - رن چکوتی
- Debtor**, *n.* One who owes money : قرضدار - **Insolvent-debtor**, * دار - مدیون - احسانمند - مقرض - judgment—, * دوالیہ - قرض دار - بے زر مدیون ڈگری
- Debut** (*da-boo*), *n.* First appearance before the public : ابتدائی نمود - شروع - آغاز
- Decade** *n.* (Gr. deka, ten), The sum or number of ten years : دہائی و معشر - دس
- Decadence**, *n.* Declension : زوال - ارتار
- Decagon**, *n.* A figure of ten sides and ten angles : شکل معشر
- Decalogue**, *n.* The ten commandments given by God to Moses : دس احکام جو خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دیئے تھے

Decamp, v. i. To shift the camp ; to move off ; to depart suddenly : **ڈیرہ اٹھانا - روانہ ہونا - بھاگ جانا - غایب ہونا - چمپت ہونا**

Decampment, n. Act of marching off : **کچھ روانگی - رحلت**

Decant, v. t. To pour off gently as liquor from its sediment or from one vessel into another : **تتھارنا - اذتھلنا - ڈھالنا**

Decanter, n. A glass vessel for liquor : **شیشہ مینا - آئیگنہ - قرابہ**

Decapitate, v. t. To behead ; to cut off the head : **سرکاٹنا - گردن مارنا - قتل کرنا**

Decapitation, n. The act of beheading : **سرکاٹنا قتل**

Decay, v. i. To lose excellence ; to decline ; to wither : **برسیدہ ہونا - زایل ہونا - سڑنا - بگڑنا - مرجھانا**

Decay, n. A falling off ; gradual failure ; decline : **تکڑل - زوال - برسیدگی - فرسودگی**

Syn.—Decline, consumption, decomposition.

Decease, n. Departure from life ; death : **انتقال کرنا - مرنا - گذر جانا**

Deceased, a. Dead : **مردہ - مرحوم - متوفی**

Deceit, n. Fraud ; cheat ; artifice : **نریب - دغا - حیالہ - نظارت - چہل - مکر**

Syn.—Deception, imposition, treachery, duplicity.

Deceitful, a. Full of deceit ; fraudulent : **نریبی - دغا باز - نظارتی - مکار - متقنی**

Deceitfully, ad. Fraudulently ; in a deceitful manner : **نریب سے - دغابازی سے**

Deceive, v. t. To lead into error ; to impose upon ; to disappoint : **دھوکھا دینا - فریب کرنا - نا امید کرنا - دم دینا - جھانسا دینا**

Deceiving, of deceiver is not knavery : **بڑے سنگ براہی کھوت نہ کھوتی**

Syn.—Mislead, delude, beguile, ensnare.

December, n. The last month of the year : **دسمبر - یوس**

Decemvirate, n. A government by ten rulers : **دس حکام کی جماعت**

Decennary, Decennium, n. A period of ten years : **دسراں**

Decennial, a. Happening every ten years : **دس سالہ - دس برس کا annus, a year).**

Decency, n. Propriety ; modesty ; fitness : **شعور - ادب - شرم - سلیقہ - شایستگی - معقولیت**

Decent, a. Suitable ; becoming modest ; tolerable : **معقول با سلیقہ - با حیا**

Syn.—Proper, comely, delicate, chaste, pure.

Deception, n. Act of deceiving or misleading : **دغابازی - فریب - حیالہ سازی - بھلا**

Deceptive, a. Having power to deceive or mislead ; false : **دھوکے میں ڈالنے والا - مبالغہ : دہ - نریبی - دغاباز - جھوٹا**

Decide, v. t. To determine ; to settle ; to bring to an end ; to resolve : **تقریر کرنا - فیصلہ کرنا**

v. i. To give judgment : **طے کرنا - قرار دینا - قصد کرنا فیصلہ ہونا**

Decidedly, ad. In a decided manner ; indisputably : **البتہ - صریحاً - لاکلام**

Syn.—Clearly, firmly, resolutely.

Deciduous, a. Falling off every year ; not evergreen ; not permanent : **قطعاً جھڑنے والا - چند روزہ - ناپائندار**

Decimal, a. Counted by tens ; tenth part : **دسراں اءشاریہ - عشر - دسواں کثر متوالی**

Decimate, v. t. To take one in every ten : **دسراں لینا**

Decipher, v. t. To explain ; to unfold ; to unravel ; to interpret : **بیان کرنا - حل کرنا - تعبیر کرنا - تھار کرنا**

Decision, n. Act of deciding ; determination ; judgment ; firmness of purpose : **انفصال - نتیجہ - فیصلہ - رائے - ثابت قدمی - استقلال**

Syn.—Conclusion, resolution, firmness.

Decisive, a. Conclusive ; final ; positive : **قطعی - اخیر - طے شدہ**

Deck, v. t. To cover ; to dress ; to adorn ; to set off : **ڈھانکنا - پوشاک پہننا - آراستہ کرنا**

- The floor of a ship : * تختہ - جہاز کی تختہ بندی :
To clear the—, to prepare a ship for action : جہاز کو لڑائی کے واسطے تیار کرنا
- Declaim, v. t.** To harangue ; to make a set speech in public : کلام کرنا - تقریر کرنا - وعظ دینا -
 خالی لفظی Mere—, کلا درازی کرنا - لفظی کرنا
- Disclaimer, n.** One who declaims ; one who habitually speaks for rhetorical display : تقریر کرنے والا - سر مجلس - لسان - وعظ
- Declamation, n.** A passionate discourse ; a set speech in public : - وعظ - فصیح کلام - : تقریر لفظی
- Declamatory, a.** Appealing to the passions : سوج خیز - ترغیب دہ - ترغیبانہ - نفسانی - لمبی چوڑی
- Declaration, n.** Act of declaring ; affirmation ; a statement in writing : - اقرار - اظہار - : بیان دعویٰ - اعلان - اشتہار نامہ
- Declaratory, a.** Affirmative ; clear ; explanatory : توضیحی - تصریحی - مظهر
- Declare, v. t.** To lay open ; to make known ; to affirm ; to decide in favour of ; to proclaim : اظہار کرنا - مشہور کرنا - واضح کرنا - بیان کرنا - راعی مظهر کرنا - مظهر ہونا
- Declension, n.** Declination ; descent : - زوال : * Variation of nouns : * نشیب نامنظوری
 Non-acceptance :
- Declin-able, a.** Admitting of inflection : قابل : تصریف - تصریف پذیر
- Declination, n.** Act of declining ; deviation from ; inflection of nouns : - کنزل - انحراف - : تباہی - تصریف
- Decline, v. t.** To refuse ; to shun : باز : * To inflect : * رکھنا - پرہیز کرنا
 lean downwards ; to decay : زوال پر : چھیننا
 * n. Diminution ; decay ; consumption : کنزل - زوال - گھٹی - ٹپ دق
- Declivity, n.** Inclination downwards ; gradual descent : نشیب - ڈھال - اتار
- Decoat, (L. de, down ; vocatus, to cook) v. t.** To prepare by boiling ; to boil down ; to digest ; to devise : جوش دینا - اُباننا - ہضم کرنا - تجربہ کرنا
- Decoctible, a.** That may be boiled : جوش دینے کے لائق - اربانے یوگ
- Decoction, n.** Act of boiling ; a preparation made by boiling : جوش - جوشانہ - گارھا
- Decollate, v. t.** To behead : سر اوتارنا
- Decolour, v. t.** To deprive of colour ; to bleach : سفید کرنا - رنگ چڑھانا
- Decompose, v. t.** To resolve into original elements ; to purify : جدا کرنا - اجزائو کرنا - متفرق
 * v. i. To rot : سڑنا - گلنا
- Decomposition, n.** Separation of parts ; dissolution ; putrefaction : - مرکب کے حصوں کی تفریق - تجزیہ - بوسیدگی - سڑن
- Decorate, v. t.** To adorn ; to embellish ; to beautify : آراستہ کرنا - سجاونا - سنوارنا - زینت دینا
- Decoration, n.** Act of decorating ; embellishment ; a badge of distinguished service : آرایش - سجاوت - زینت - زیبائش - تمغہ نمودار خدمت کا
- Decorous, a.** Becoming ; proper ; decent : مناسب : * لائق - معقول - خوش اسلوب - شایستہ
 A—pretext, چال یا روئے شایستہ
 معقول بہانہ یا عذر
- Decorticate, v. t.** To strip off the bark ; to peel : چھلکا اوتارنا - چھیلنا
- Decorum, n.** Propriety ; decency : سلیقہ - شایستگی : امتیاز
- Decoy, v. t.** To entice into a snare ; to entrap ; to inveigle : دام میں لانا - پھنسانا - فریب دینا - دھوکا - دم - : * n. Allure ; a trap : * لاسہ پر لگانا
 جھانسنہ - فریب - لاسہ - مغالطہ - پرندوں کے پکڑنے کی جگہ - پھندا - گھات - داروں - فلورت
- Decrease, v. i.** To grow less ; to be diminished : کم کرنا - گھٹانا : * v. t. To lessen : * کم ہونا - گھٹنا
 n. A becoming less ; diminution ; reduction : تخفیف کمی - تنزل
- Decree, v. i.** To ordain ; to determine judicially : حکم کرنا - تقدیر میں لکھنا - ڈھروانا - ڈگری صادر کرنا
- Decree, n.** An edict ; a law ; a determination ; a decision of court ; fore ordination : فرمان حکم - قریب - فیصلہ - عدالت - قضا و قدر

Decrement, n. A falling off; gradual decrease :
کرتا ہے - کمی - گھٹتی - ریزگی

Decrepit, a. Worn out with age; infirm :
کمزور - پیر - کبیر - ضعیف العمر - ناتواں

Decrepitate, v. t. To crackle in the fire :
آک میں تڑکنا - بھننا

Decrepitude, n. The state of being broken down with age; old age :
کمزوری - ضعیفی - ضعف
پیری - پیرانہ سالی

Decrescent, a. Decreasing; wanting :
گھٹتے ہوئے - کم ہوتے ہوئے

Decretal, a. Pertaining to a decree :
متعلق یا
پوپ کا فرمان * n. The Pope's decree :
یا فیصاحہ

Decrial, n. A clamorous censure :
بدنامی - مذمت

De-crown, v. t. To deprive of a crown :
تخت سے
اُتارنا

Decry, v. t. To cry down; to depreciate; to censure; to condemn :
بد نام کرنا - مذمت
کرنا - تعقیر کرنا - عیب لگانا - کمقدر کرنا

Decumbent, a. Recumbent; prostrate :
جھکا
ہرا - گرا ہرا - لیٹا ہرا

Decuple, a. Tenfold :
دس چند - دس گنا

Dedicate, v. t. To consecrate; to devote to; to inscribe or address a book to a friend or patron :
نذر کرنا - چڑھانا - نذر کرنا - تصدق کرنا -
مختصر کرنا - سونپنا - کسیکے نام پر تصنیف کرنا - نام
نہاد کرنا

Dedecorate, v. t. To disgrace; to reproach :
بد نام کرنا - ملامت کرنا

Dedication, n. Act of dedicating; consecrating; an address to a patron :
چڑھاوا - نذر -
تقدیس - نامزدگی - کسیکے نام کی تصنیف - نام نہادی

Dedicatory, a. Comparing a dedication :
توصیفی -
تقدیسی - نامزدگی کا

Deduce, v. t. To derive by logical process; to infer :
استفراج کرنا - نتیجہ نکالنا - حاصل کرنا - بات
پیدا کرنا

Syn.—Gather, conclude, discover.

Deducible, a. Capable of being deduced or inferred :
قابل استفراج - قابل دریافت - متبج

Deduct, v. t. To take away from; to subtract :
گھٹانا - کم کرنا - ملنا کرنا - مجھرا کرنا

Deduction, n. An abatement; subtraction; an inference; conclusion :
کمی - گھٹتی - نتیجہ

Deductive, a. Deducible :
متعلق نتیجہ براری

Dec, n. A pocket book; a detective :
چیبی کتاب -
شہر - تھانگی

Deed, n. An action; an exploit; performance; fact; a writing to convey property :
کام - مہم
Indeed, * فعل - اصلیت - دستاویز - انتقال - جائداد
In very—, * البته - ضرور - در حقیقت
فارغ خطی - خلاصی *—of acquittance, * حقیقت میں
—of— * ان نامہ *—of disinheritance, * نامہ
—of— * تولیت نامہ *—of surrender
* قبائلی * Title— * رہن نامہ * Mortgage * لادعوی
Deed of—, جیسا کہنا ریسا کرنا

Deem, v. t. To think; to judge; to regard :
n. * خیال کرنا - غرر کرنا - تعجریز کرنا - تصرر کرنا
دانست -
راے - خیال - گمان

Deep, a. Far to the bottom; low :
گہرا - عمیق -
گہریر - متعلق - عالی -
* Profound : * اگم - نیچا
* Sagacious : * دانا
* Strongly coloured :
* دقیق - پیچیدہ * Intricate : * شرح - چٹکیلا - تیز
* بھاری * Grave : * فریبی - مکار
* Crafty; artful :
دور - پرے - پیچھے
Farback from the front :
(as, A company of soldiers six files deep :
* Intense : * سپاہیوں کا ایک پورے - چھ قطار پورے
(as, Deep * نہایت - سخت - پرلے سرے کا - بے حد
water; a deep pit; a deep valley; a deep wound;
a deep heart). ad. Profoundly; intensely :
داسے - بدرجہ کمال - خوب - نہایت - ازحد

Deep, n. The ocean; the sea :
بحر - معیطا - اگادہ
* Anything * نشیب - گدھا * An abyss : * سمندر
incomprehensible :
دقیق بات

Deepen, v. t. To make deep; to darken; to make more sad :
گہرا کرنا - شوخ رنگ کرنا - تاریک
کرنا - بھاری کرنا - رنج یا تکلیف کر بڑھانا

Deep-laid, ad. Astutely formed :
بڑی ہوشیاری یا
فطرت سے کیا ہوا

Deep-read, a. Profoundly versed :
خوب پڑھا ہوا

Deep-seated, a. جہاں ہوا - گہری جڑ پکڑے ہوئے - اندر دھسا ہوا

Deer, n. An animal hunted for venison: آہر - ہرن - غزال

Deface, v. t. To disfigure; to destroy: بد صورت کرنا - بد نما کرنا - بگاڑنا - غارت کرنا

Defacement, n. Act of defacing; erasure; injury: بربادی - بگاڑ - تخریب - مٹانا - محو

Defalcation, n. A cutting off; diminution; a fraudulent deficit; embezzlement: منہاٹی - گھٹی - تصفیہ - خدائت - غبن

Defamation, n. A malicious utterance; calumny; slander: ازالہ حیثیت - (Law) * بد گوئی - ہتک عرفی - رسوائی - بدنامی
Syn.—Slander, calumny, detraction.

Defamatory, a. Slanderous; calumnious: ہتک (as, Defamatory articles) آمیز - تہمتی - باعث بدنامی

Defame, v. t. To slander; to calumniate: بدگوئی کرنا - ہتک کرنا - رسوا کرنا - تہمت لگانا

Default, n. Omission; neglect; non-appearance in court: غفلت - خطا - عدم موجودگی - عدم

In—of, in place of; in lieu of: * بٹے کھاتے لکھا گیا * —occurred, * بالعروض آسکے * —of security, Let a case go by default, * عدم ادخال ضمانت * گری یکطرفہ پر مقدمہ چھوڑنا

Defaulter, n. One who is deficient in his duty; a delinquent: قصوروار - خاطی - باقیدار - عہد شکن - شخص غیر حاضر

Defeasance, n. Act of annulling; undoing: منسوخی - تردید - ابطال

Defeasible, a. That may be annulled: قابل منسوخی - قابل تردید

Defeat, n. Overthrow; frustration; loss of battle: ہار - زک - شکست - ہزیمت - ابطال - *v. t.* To overthrow; to rout; to frustrate; to make null; to resist with success: شکست دینا - غالب آنا - پسپا کرنا - ہراننا - مار ہٹانا - باطل کرنا

Defecate, v. t. To purify; to clear from impurities: صاف کرنا - میل کاٹنا

Defect, n. Want; imperfection; fault; blemish; deficiency: کوتاہی - کسر - نقص - عیب - چرک - بھول - خطا - عیب

Defection, n. A falling away; desertion: انصراف - برگشتگی - ترک

Defective, a. Wanting; full of defects; faulty: ناقص - ناتمام - عیب دار - کھوتا

Syn.—Deficient, imperfect, incomplete, faulty.

Defence, n. Guard; protection; vindication: بچاؤ - حفاظت - عذر - جواب دہی - معذرت پستی - دعوی

Defenceless, a. Without defence; unprotected: بے پناہ - بے حفاظت - بلا جوابدہی

Defend, v. t. To protect; to maintain; to vindicate; to repel; to oppose: بچانا - جوابدہی کرنا - عذر کرنا - گھٹانا - رفع کرنا - مقابلہ کرنا

Syn.—Protect, guard, uphold.

Defendant, n. A person accused and called into court to answer a charge; an accused person: مدعا علیہ - طرفداری - ملزم

Defender, n. One who defends; vindicator: حامی - طرفدار - دستگیر - تائید کرنے والا

Defensible, a. Capable of being defended: حفاظت پذیر - قابل جوابدہی

Defensive, a. That serves to defend: — *n.* That which defends; posture of defence: بچاؤ - پناہ - اپنے حملہ نہ کرنا بلکہ دشمن کے وار یا یورش کو روکنا

Defer, v. t. To put off; to delay: ملتوی کرنا - توقف کرنا - دیر کرنا

Syn.—Delay, postpone, adjourn.

— *v. t.* To yield to opinions or the wishes of another (out of respect): تسلیم کرنا۔مان لینا۔خاطرأ: منظور کرنا - لحاظاً قبول کرنا - ادب سے مان لینا

Deference, n. Regard; respect; submission: لحاظ - تعظیم - ادب - تابعداری - اطاعت - انقیاد - عجز و نیاز

Deferential, a. Expressing deference; respectful: مودب - تعظیم کوئی والا - نیازمندانہ - بڑوں کا لحاظ رکھنے والا

Defiance, n. A challenge; act of daring; contempt of opposition: لاکار - چٹوٹی - برا نگیختگی - دھمکی - مقابلہ

Defiant, a. Daring ; brave ; menacing ; insolently bold ; summoning to fight : - للکارثیوالا
دلیر - گستاخ - بے باک - جنگجو

Deficiency, n. Want ; failure ; imperfection ; defect : نقص : کمپی - گھٹی - خسارہ - خامی - کوتاہی - نقص

Deficient, a. Wanting ; failing ; imperfect : - کم
قلیل - کوتاہ - ناقص - خام - ناکامل

Deficit, n. Want ; deficiency in an account : - ٹوٹا
کمپی - گھٹا - کسر

Defile, v. t. To make foul or impure or pollute ; to corrupt ; to violate - نجس کرنا - غلیض کرنا

* پلید کرنا - زاپاک کرنا - بے حرمت کرنا - عصمت لینا
v. i. To go in a line ; to march one after another :
* قطار میں چلنا - صف باندھ کے چلنا -

A path between hills ; file : گھاٹی - پہاڑوں کے
درمیان کا راستہ - قطار

Defilement, n. Act of defiling ; pollution ; corruption : آلودگی - آلائش - نجاست - کُذدگی
زاپاکی

Defiliation, n. Depriving a parent of his son : والدین سے بچے کو لے لینا

Define, v. t. To limit ; to explain ; to determine precisely ; to describe what a thing is : محدود کرنا - قائم کرنا - بیان کرنا - تصریح کرنا - تعریف کرنا

Definite, a. Certain ; limited ; exact ; precise : ٹھیک - محدود - مقرر - معین - مکمل - خاص - تحقیق - معروف تقریقی

Definition, n. Explanation in words ; description ; meaning : تعریف - تصریح

Definitive, a. Limiting ; positive ; final : قطعی
واقعی - آخر - ناماق

Deflagrate, v. t. To burn ; to consume : جلانا
* **v. i.** To burn rapidly : جلنا - شعلہ - آگ لگانا
اُٹھنا

Deflect, v. t. or i. To turn aside ; to bend ; to deviate : مڑنا - جھکانا - گمراہ کرنا یا ہرنا - سیدھے
راستہ سے مڑنا

Syn.--Deviate, diverge, swerve.

Deflection, n. A turning aside ; deviation : مڑنا - جھکاؤ - گمراہی

Deflower, (L. de, away, flor, a flower) v. t. To deprive of flowers ; to ravish ; to stain or sully : پھول توڑنا - حسن و خوبی اوتار لینا - بکر توڑنا - زنا کرنا - بے آبرو کرنا - خراب کرنا

Defoliate, v. t. To deprive of leaves : پتوں کا چھڑنا

Deform, v. t. To spoil the look or form of ; to deface : بدشکل کرنا - صورت بگاڑنا - بد نما کرنا
Syn.--Mar, disfigure, dishonour.

Deformity, n. Want of symmetry ; irregularity of shape or feature ; defect : بد نمائی - بد صورتی - زشتی - کبھی - عیب

Defraud, v. t. To deprive of right by fraud ; to cheat : حق مارنا - دغا کرنا - تھمنا

Syn.-- Beguile, cozen, deceive.

Defray, v. t. To bear the expenses of ; to pay the price of anything : خرچ اٹھانا - ادا کرنا - پھرنے

Defrayment, n. Payment of expenses : ادائیگی
خرچ

Deft, a. Dexterous ; fit ; neat : چالاک - ہوشیار - لائق - صاف

Deftly, ad. Skilfully ; cleverly : چالاکي سے - چترائی سے

Defunct, a. Deceased ; extinct : - مرحوم - معدوم

Defy, v. t. To challenge ; to dare ; to set at naught : - سامنا کرنا - مقابلہ کرنا - ناچیز سمجھنا - الکارنا - خم ٹھونکنا - ایسے الفاظ کہنا جس سے دوسرا لڑنے کو تیار ہو جیسے تم کیا کر سکتے ہو - تمہاری کیا بسات ہے - تم کس تکبر کے پتھرے ہو

Degeneracy, n. Decay of ancestral virtue ; decline in good qualities ; meanness : نسبت سے
اُتار دہنی - تنزل - خفت - کمیٹہ پن - بستگی - کمقدری - پست ہمتی

Degenerate, a. Fallen from former good qualities ; unworthy ; base ; corrupt : ذلیل - کم قدر -
v. t. To decay in kind or virtue ; to fall from nobler state, to become worse : ذلیل - کم قدر ہونا - ہونا - نسل بکر جانا

Degeneration, n. Act of degenerating ; deterioration ; degradation : کم قدری - ذلت - ایترو

Deglutinate, v. t. To unglue : **چھڑانا - چھٹی ھوئی :** چیز کو علیحدہ کرنا - جدا کرنا

Deglutition, n. Act of swallowing : **ہڑپ :** نکلنا - کر جانا

Degradation, n. Deprivation of rank ; baseness : **تذلل - ذلت - رسوائی**

Degrade, v. t. To deprive of rank ; to dishonour ; to lessen ; to disgrace : **گھٹانا - درجہ - توڑنا - حقیر کرنا**

Syn.—Demean, lower, corrupt, vitiate.

Degree, n. A grade or step ; station ; rank ; a mark of distinction ; order ; extent ; the 360th part of a circle ; geographical miles ; مرتبہ - درجہ - منزلت یا فضیلت کا خطاب - measure : **قسم - حد - وسعت - دائرہ کا تین سو ساٹھواں حصہ - By—, * نقشہ میں ساٹھ میل - مقدار - اندازہ * رفتہ رفتہ - درجہ بدرجہ - قدرے قدرے - اندازہ**
To a—, to a certain extent : یہاں تک - نہایت ہی

Deification, n. The act of deifying apotheosis : **دیوتا بنانا - دیوتا بنانا - دیوتا بنانا**

Deiform, a. Like a god : **خدائی - دیوتا سرورپ**

Deify, v. t. To make divine ; to render god-like ; to adore : **خدائی کا رتبہ دینا - پریشور - سمجھنا - دیوتا بنانا - تعظیم کرنا**

Deign (den), v. i. To condescend ; to vouchsafe : **جھکنا - متوجہ ہونا - لپٹنا - برائے نوازش کچھہ : v. t. To grant ; to give ; to allow :** **تبرہ کرنا - عنایت کرنا - بخشنا - کچھہ کرنا**

Deism, n. Belief in a God apart from revelation ; natural religion : **حقانیت - وحدانیت - عقیدہ وحدانیت و انکار الہام و تزیل - تصوف**

Deist, n. One who believes in the existence of a God but denies revealed religion : **صوفی - اہل - تصوف - مرحد - خدا کی ہستی کا قائل پر تزیل کا منکر**

Deistical, a. Embracing deism : **صوفیانہ - سادہ - آزاد - مراحدانہ**

Deity, n. Divinity ; the Divine Being ; God : **ربانیت - خدائی - پریشور - اللہ تعالیٰ**

Deject, v. t. To cast down ; the spirits of ; to dispirit ; to grieve : **اداس کرنا - شکستہ دل کرنا - رنجیدہ کرنا**

Dejection, n. Lowness of spirits ; depression ; melancholy : **داسی - آزدگی - دلگیری - ملال**

Delation, n. Information ; accusation : **مقبوری - خفیہ مقبوری, Close— * خیر - الزام - انجام**

Delay, v. t. To put off ; to defer ; to detain ; to retard : **ملتوی رکھنا - توقف کرنا - تاخیر کرنا - عرصہ لگانا - رکنا - انکانا - مانع ہونا - مظاہم ہونا**

v. i. To linger : **n. A putting off ; detention :** **التراء - دیر - عرصہ - تاخیر - توقف - معطل**

Dele, v. t. (Print.) To blot out ; to erase : **مٹا دینا - خارج کرنا - قلم پھیرنا - دور کرنا**

Deleble, a. Capable of being obliterated : **محو ہونے کے لائق - مٹنے والا**

Delectable, a. Pleasing ; delightful agreeable : **خوشگوار - دلپسند - فرحت بخش - مرغوب - خوش ایندہ**

Delegate, v. t. To send as one's representative ; to depute ; to intrust : **n. A deputy ; a representative :** **سفیر کرنا - نائب بنانا - سفارت پر بھیجنا - سپرد کرنا - تقریض کرنا - مقرر - سفیر - مختار - وکیل**

Delegation, n. Sending away ; commission ; persons deputed : **رسالت - سفارت - تعیناتی - وکیل - سفیر**

Delete, v. t. To blot out ; to efface ; to strike out : **خارج کرنا - مٹانا - کاٹنا**

Deleterious, a. Hurtful to life or health ; injurious ; poisonous : **مضر حیات - مہاک - زہریلا - قاتل**

Deletion, n. Act of blotting out ; erasure : **کٹ - کورت - احتکاک - چھیل چھال**

Delf, n. A kind of earthenware made at Delft in Holland : **ایک قسم کا مٹی کا برتن**

Deliberate, v. i. To weigh in the mind ; to reflect upon ; to ponder ; to take counsel with yourself : **غور کرنا - سوچنا - تامل کرنا - اپنے سے مشورہ کرنا**
*** a. Circumspect ; cautious ; slow Well considered ; well-weighed :** **دیدہ دانستہ - سرچا سمجھا ہوا - جنتا - تگ ہوا**

Syn.—Wary, thoughtful, considerate, designed.

Deliberately, ad. Circumspectly ; with careful consideration ; slowly : فر سے - تامل سے - سرچ - بچار کے - عمدہ - جان بوجھ کر

Deliberation, n. Act of deliberating ; mature reflection ; calmness : فر - تامل - خوف - اندیشہ

Delicacy, n. Daintiness ; niceness in eating ; softness ; refinement ; tact ; fastidiousness ; weakness of constitution ; a dainty : لذت - خوبی - نفاست - ملائمت - زینگی - نعمت - لطیف کھانا - نزاقت - نازک مزاجی

Delicate, a. Dainty ; fine ; soft ; effeminate : لذیذ - باریک - ملایم - نازک - دقیق

Delicious, a. Highly pleasing ; sweet ; affording exquisite pleasure : خوشگوار - مزہ دار - شیرین - نفیس - مرغوب

Syn.—Delightful, toothsome, pleasant, luscious.

Delight, n. Great joy or pleasure ; extreme satisfaction : خوشی - خرمی - سرور - آند - آسودگی - خوش کرنا - مسرور کرنا

Delightful, a. Very pleasant ; charming : خوش آئندہ - دلچسپ - دلکش - فرحت بخش

Delineate, (L. ds, down ; linea ; a line), v. t. To depict ; to portray ; to describe : نقشہ بنانا - خاکہ اورتارنا - شبیہ اورتارنا - بیان کرنا

Delineation, n. Outline of a picture ; a sketch ; a verbal description : خاکہ - نقشہ - بیان - نقل

Delinquency, n. Failure or omission of duty ; fault ; crime : خطا - ادائے فرض میں کوتاہی - تقصیر - قصور - جرم

Delinquent, n. An offender ; one who fails in or neglects duty : تقصیروار - عاصی یا مجرم - فرض شکن

Deliquescent, a. Liquefying in the air : ہوا سے گلنے یا پگھلنے والا

eliration, n. Aberration of mind : گمراہی - جنون - مقہورالعقلی - شرعیہ سرب

Delirious, a. Wandering in mind ; light-headed : بدحواس - بیہوش - بے خبر - سرسامی - ہز یا نردہ - بے خود

Syn.—Raving, crazy, insano.

Delirium, n. Derangement of the brain ; strong excitement : بدحواسی - بیہوشی - سرسام - بے خودی : شراب کی زیادتی سے بے خودی

Deliver, v. t. To set free ; to give or transfer ; to utter ; to release ; to rescue ; to surrender ; to make over ; to discharge ; to disburden of a child : آزاد کرنا - حوالہ کرنا - پرانا - تقریر کرنا - چھوڑنا - خلاص کرنا - بھنگنا - سپرد کرنا - To—a child, to give birth to : پیدا کرنا - To—up, the person : خطر کرنا - روڑو کرنا - موجود کرنا

Deliverance, n. Act of delivering ; rescue ; a release ; a legal judgment : مصلحتی - بٹالا - رھٹی - چھٹکارا - تبریز

Delivery, n. Transfer ; surrender ; rescue ; utterance ; child-birth : تقریر - سپردگی - نجات - تقریر - جنم

Dell, n. A hollow ; a narrow valley ; dale ; glen : خندق - رادی - گھاتی

Delta, n. (Gr.) The alluvial land formed between two mouths of a river : مٹک نما زمین جو کسی دریا کے مہانے پر بنتی ہو

Delude, v. t. To deceive ; to mislead ; to beguile ; to frustrate : دھوکا دینا - بھنگنا - بھکانا - دم دینا - بیکار کرنا

Deluge, n. A general inundation : طغیانی - طوفان - سیلاب نوح - * The flood in the time of Noah : ڈبرنا - غرق کرنا - مغلوب کرنا

Delusion, n. A false representation ; illusion ; deception : دھوکا - فریب - دغا - بھلوا - جھانسا

Delusive, a. Apt to deceive ; deceptive ; fallacious : مغالطہ دہ - بھنگاؤ - دھوکے میں ڈالنے والا

Delve, v. t. To dig with a spade ; to excavate : پھاڑے سے کھودنا - گڑنا

When Adam delved and Eve span.

Who was then a gentleman.

Demagnetize, v. t. To deprive of magnetic power : مقناطیسی خاصیت یا سہاڑ مٹانا

Demagogue, n. A ring-leader of the rabble : سرگورہ - ا popular and factitious ; orator : درغلنے والا - متکلم - متغنی - تشہ کر

Demand, v. t. To claim; to require; to necessitate; to call for question - دعویٰ کرنا * **In—, in request:** * مطالبہ کرنا * **On—, on presentation:** * عندالطلب * **Note payable on—, n.** A claim by right; a desire to buy goods; request; a claim; **earnest enquiry:** * دعویٰ - مطالبہ - تقاضا - استدعا - حق - ڈالش دعویٰ - درخواست

Demarcate, v. t. To settle the limit: - حد - بانڈھنا حصہ لگانا

Demarcation, n. Division of territory; boundary; a fixed limit: - حد بندی - حد براری - مفارقت

Demean, v. t. To behave; to undervalue; to debase: - سلوک کرنا - کم قدر کرنا - ذلیل کرنا

Demeanour, n. Manner of behaving; conduct; mien: - طرز - طریق - چلن - وضع - ڈھنگ

Dementate, v. t. To make mad: - دیوانہ کرنا پاگ - پنانا

Demerit, n. Ill desert; fault; misconduct: - *(opposed to merit.)* * نالایقی - عیب - بیقداری - تقصیر

Demesne, Demain, (demein), n. An estate in land: - علاقہ - زمینداری - سیر - وزارت - ملک

Demi, a. (L. Semi, Gr. hemi, half) نصف - آدھا

Demi-god, n. A deified hero: - وہ بہادر جو دیوتا کی طرح مانا جائے

Demise, n. Death; decease; - موت - وفات - رحلت * **The—of the crown, v. t.** To grant by will; to transfer; to alienate: - وصیت کرنا - انتقال کرنا - دینا - بخشنا

Democracy, n. Government by the people: - سلطنت - جمہوری

Syn.—Popular government, republic.

Democrat, n. One who upholds democracy; a republican: - سلطنت جمہوری کا طرفدار

Democratic, Democratical, a. Relating to popular government: - سلطنت جمہوری کا - جمہوری

Demolish, v. t. To throw down; to pull down; to destroy: - ڈھانا - مسمار کرنا - توڑنا - منہدم کرنا

Demolition, n. Act of demolishing; destruction; overthrow; ruin: - مسماری - انہدام - غارتگری - ویرانی

Demon, n. An evil spirit; a devil; genius; fiend; a very wicked person: - جن - پڑت - شیطان مجسم

Demoniac, a. Influenced by evil spirits; devilish: - آسیب زدہ - عفریتی - دیو کا سا - شیطان گرفتہ آدمی

Demonology, n. A treatise on evil spirits: - علم شیاطین - جادو منتر کی پڑتھی

Demonstrate, v. t. To point out; to exhibit; to prove with certainty; to exhibit as indubitable: - بتلانا - تصریح کرنا - ثابت کرنا - قابل یقین - واضح کرنا

Demonstration, n. Certain proof; manifestation of feelings or sympathy; show: - اثبات - * دلیل - دلی حالات اور خیالات کا اظہار - نمود ہمدردی

Direct or positive—, n. قبیہ مرجبہ یا اثباتی * **Indirect or negative—, n.** قبیہ سالبہ یا نفی

Demonstrative, a. Proving fully; conclusive; expressive of feeling or sympathy: - مثبت - مدلل - مبرہن - قاطع - مدلل - دلی جوش یا ہمدردی ظاہر اسم اشارہ، A—pronoun * کرنے والا - اشارہ کرنے والا

Demonstrator, n. One who explains and exhibits something, as a teacher: - وہ استاد جو کسی علم کو بیان کرے اور کونکے ذریعہ سے ثابت کرے سکھائے

Demoralization, n. Corruption of manners, morals or discipline: - بد اخلاقی - بد اطواری - نفسانیت - خبث

Demoralize, v. t. To render corrupt in morals; to deprave: - بد اطوار کرنا - بگاڑنا - طبیعت کا ذلیل کر دینا

Demulcent, a. Soothing: - ملائم یا نرم کرنے والا

Demur, v. t. To pause; to hesitate; to delay; to object: - تاخیر کرنا - پس و پیش کرنا - شش و پنج کرنا - توقف کرنا - ڈھیل ڈالنا - اعتراض کرنا - ہچکچ کرنا

Demure, a. Affectedly modest; grave: - شرمگین - پرجنباب - سنجیدہ

Demurrage, n. An allowance for the delay of a vessel in a yard: (also applied to railway waggons, &c.) - جہاز کا بندر میں زیادہ ٹھہرنے کا ہرجہ - خسارہ

Demy, n. A size of paper. 22½ by 17½ inches - کاغذ کی ایک تقطیع جو - ۲۲½ × ۱۷½ انچ ہو

Den, n. A cavern; the cave of a wild beast; haunt: - غار - بھتار - ماند - کھو - کھت - نشستگا -

بسیرا - اکھارا - آمد و رفت کی جگہ

Denationalize, v. t. To deprive of national character or rights: قوم کے حقوق سے خارج کرنا

Denaturalize, v. t. To render unnatural; to deprive of natural rights: غیر حقیقی کرنا - خلاف طبع کرنا - قدرتی خاصیت سے بدلنا

Dendrology, n. The natural history of trees: علم اشجار

Dendriform, a. Having the appearance of a tree: درخت سا

Deniable, a. That may be denied: قابل انکار

Denial, n. Act of denying; negation; refusal; contradiction; disavowal: انکار - تئانی - صد - تفیض - نامنظوری - تعرض

Denizen, n. A stranger who has become a citizen; an inhabitant: باشندہ - رہنے والا

Denominate, v. t. To name; to give a name to: نام رکھنا - موسوم کرنا - نامزد کرنا

Denomination, n. The act of naming; a title; a class; name; designation: اسم - لقب - نام - قسم - ذات - فرقہ

Denominator, n. One who denominates: نام رکھنے والا * The number below the line in a vulgar fraction: نسب نما

Denote, v. t. To indicate; to signify: دلالت کرنا - ظاہر کرنا - جتنا - معنی دینا - مطلب یا مراد رکھنا

Denounce, v. t. To blame openly; to censure publicly; to threaten; to stigmatize; to proclaim: ملزم کرنا - ملامت کرنا - دھمکانا - ملامت کہنا - اعلان کرنا

Syn.—Arraign, brand, deary, menace.

Denouncement, n. The act of proclaiming by a menace: دھمکی - ملامت

Dense, a. Crowded; close; compact; thick: گھنا - منجھد - گاڑھا

Density, n. Closeness of parts; compactness: (as, Density of population). گھاٹائی

Dental, a. Pertaining to the teeth: دندانہ دہتی

Dentate, a. Toothed; notched: دانتے دار - آرا جیسا

Dentist, n. One who cures diseases of the teeth; a maker of false teeth: دانت کے امراض کا طبیب - دندان ساز

Dentifrice, n. Tooth-powder: منجھن - مٹی

Dentition, n. The cutting of teeth: دانت کا کلنا

Denude, v. t. To make bare or naked; to strip of a covering: ننگا کرنا - پرہنے کرنا - کپڑا اوتارنا

Denunciation, n. Declaration of a threat; public menace or accusation: دھمکی - ملامت - لمن طعن

Deny, v. t. To contradict; to refuse; to reject; to disown: انکار کرنا - نفی کرنا - نامنظور قس کرنا - خود انکاری * To—one's self, کرنا

Deodorize, v. t. To deprive of foul smell: بدبوی دور کرنا

Depart, v. i. To go away; to quit; to leave; چلا جانا - چھوڑنا - رخصت ہونا - فوت ہونا - die: چھوڑنا - To—with, * تجاوز کرنا - انتقال کرنا دے دینا

Department, n. A separate office or division: سرشتہ - صیغہ - منجھکہ - تسمہ

Departmental, a. Belonging to a department: متعلق سرشتہ

Departure, n. A going away; death; deviation: روانگی - کوچ - رحلت - فوت - کنارہ کشی - گریز

Depend, v. i. To rely on; to hang from; to be sustained by; to be pending: متعلق ہونا - منحصر ہونا - لگنا - سہارے کی نظر رکھنا - زیر تجویز یا در پیش ہونا

Dependant, n. A subordinate; a retainer; a servant: تابعدار - ماتحت - دامنگیر - بندہ - وابستہ - ملازم

Dependence, n. Reliance; connection; subjection; confidence; trust: سہارا - علاقہ - وابستگی - اعتماد - اعتماد - آسوا

Dependency, n. Reliance : - بهر رسا - آسرا *
Confidencce : اعتبار * Subjection : - فرمانبرداری *
A colony : ماتحت ملک - نو آبادی

Dependent, a. Hanging down ; relying ; contingent : - متعلق - ملحق - آویزاں - محتاج - منحصر - مترصل - ماتحت

Depict, v. t. To paint ; to portray ; to describe :
تصویر کھینچنا - نقشہ بنانا - بیان کرنا

Depilatory, n. An application used to take away hair :
بال اڑانیرالی دوا - بال صفا

Deplete, v. t. To empty ; to lessen ; to exhaust :
خالی کرنا - کم کرنا - چکانا

Depletion, n. The act of emptying ; blood-letting :
خالی کرنا - خون نکالنا

Deplorable, a. Sad ; lamentable ; pitiable :
غمگین - تاسف انگیز - قابل رحم

Deplore, v. t. To lament ; to bewail : - غم کرنا -
انسوس کرنا - ماتم کرنا

Syn.—Mourn, lament, bewail.

Deploy, v. t. To open ; to extend ; to display :
کھولنا - پھیلانا - دکھانا

Deplume, v. t. To strip of feathers : - پر نوچنا -
بے پر و بال کرنا

Depone, v. t. To assert under oath ; to depose :
حلفیہ اظہار دینا - شہادت دینا

Deponent, n. One who gives testimony on oath ; a witness :
شاهد - گواہ - سাকشی

Depopulate, v. t. To dispeople ; to lay waste :
اوجاڑنا - ویران کرنا

Deport, v. t. To carry into exile ; to demean :
شہر بدر کرنا - ایجانا - وضع بنانا

Deportation, n. Transportation :
چلوٹنی

Deportment, n. Conduct ; demeanour ; bearing :
چلن - وضع - طریق

Deposal, n. The act of deposing : - معزولی -
برخاستگی - موقوفی

Depose, v. t. To degrade ; to dethrone ; to examine upon oath : - معزول کرنا - تفت سے اُتارنا -
v. i. To testify under oath : * برطرف کرنا - حلف دیکر کسی کا اظہار لینا
شہادت دینا - اظہار دینا

Deposit, v. t. To lay up ; to entrust ; to lay aside ; to lay : - جمع کرنا - سپرد کرنا - رکھنا -
n. Anything lodged in trust ; a pledge ; a security ; a precipitate ; sediment :
امانت - گزر - دھروڑ - تلچھت - ریزگی

Depositary, n. One with whom anything is lodged in trust : - امانت دار - تحویلدار - امانتدار

Deposition, n. Dethronement : * معزولی * Evidence on oath : * شہادت - اظہار -
To take down a—, زبان بندی کرنا - اظہار لکھنا

Depositor, n. One who deposits : جمع کرنے والا

Depository, n. The place where anything is lodged ; a store-house : - امانت خانہ - توشہ خانہ -
گودامی - گودام

Depot (dep'o), v. A place for stores ; a magazine :
گودام - گودامی - معزین - ذخیرہ

Depravation, n. Act of making worse ; degeneracy :
تغریب - بگاڑ - ابتہری

Deprave, v. t. To vitiate ; to corrupt : - بگاڑنا -
خراب کرنا

Syn.—Contaminate, pollute, defile.

Ant.—Purify, refine, purge, clear.

Depravity, n. Corruption ; wickedness : - خرابی -
ردالت - سفلگی - ابتہری - خباثت

Deprecate, v. t. To implore mercy of ; to plead against ; to regret deeply ; to disapprove of strongly :
شفاعت کرنا - پتلا مانگنا - عذر کرنا -
توبہ کرنا - محنت نا پسند کرنا

Deprecation, n. Act of deprecating : -
انسوس - توبہ

Depreciate, v. t. To lessen in price ; to undervalue ; to degrade : - قیمت گھٹانا - کم قدری کرنا -
خفیف یا ذلیل کرنا - دل سے اُتارنا

Depreciation, n. Reduction of worth : - کم قدری -
ذلت - سبکی

Depredate, v. t. To plunder ; to lay waste :
لوٹنا - غارت کرنا

Depredation, n. Act of plundering ; pillage :
لوت - غارتگری

Depress, v. t. To press down ; to lower ; to humble ; to sadden ; to lessen :
ہٹانا - نیچا کرنا -
پست کرنا - انسردہ کرنا - گھٹانا

Syn.— Sink, lower, abase, cast down, deject.

Depression, n. Act of pressing down ; dejection ; a hollow ; a falling in humiliation :
دباؤ - کراڑ - پستی - اوداسی - پژمردگی - ملال
کمقدری - ذلت

Deprivation, n. Act of depriving ; loss ; bereavement :
محرومی - نقصان - برطرفی - زوال

Deprive, v. t. To take from ; to dispossess ; to bereave of :
لیلینا - بیدخل کرنا - محروم رکھنا -
باز رکھنا

Depth, n. Deepness ; profundity :
گہرائی - عمق
Middle : زیادتی - تکمیل * Greatness : بیچ *
Sagacity and penetration : ذکاوت - رسائی *
The—of night, رات * The—of forest, بیچ
* The—of scholarship, بیچ نصیحت *
An intellect of wonderful—, عجیب ذہن رساں

Depurate, v. t. To purify ; to cleanse :
میل
کاٹنا - صاف کرنا - چھانٹنا

Deputation, n. Act of deputing ; the persons deputed :
قائم مقامی - سفارت - تعیناتی - سفیر

Depute, v. t. To empower to act ; to send as a substitute :
مقتار یا وکیل کر کے بھیجنا - معین یا مقرر
کرنا

Deputy, n. One appointed to act for another ; substitute ; a lieutenant :
وکیل - گماشتہ -
نائب - امین

Syn.— Delegate, representative, proxy.

Derange, v. t. To disorder ; to confuse ; to upset ; to turn topsy turvy :
اچتر کرنا - پریشان کرنا -
درہم برہم کرنا - الٹ پلٹ دینا

Syn.— Displace, unsettle.

Derangement, n. State of disorder ; insanity :
اچتری - پریشانی - بدحواسی

Derelict, a. Abandoned ; forsaken :
مترک -
چھوڑا ہوا

Dereliction, n. Act of forsaking ; abandonment :
ترک - کلارہ کشی

Deride, v. t. To laugh at ; to mock ; to ridicule :
ہنسنا - تہتاہا مارنا - تضحیک کرنا

Syn.— Ridicule, taunt, insult, scorn.

Derision, n. Act of deriding ; mockery :
تمسخر -
تہتاہا - مذاق - استعزاز

Syn.— Scorn, insult, ridicule.

Derivation, n. Deduction from a source ; descent ; etymology :
استخراج - اشتقاق - مادہ -
نسل - مصدر

Derivative, a. Derived : مشتق لفظ * مشتق

Derive, v. t. To draw from ; to trace ; to deduce ; to turn aside ; to trace the origin :
نکالنا -
حاصل کرنا - اخذ کرنا - نتیجہ نکالنا - ایک طرف
پھیرنا - اصل یا جز بتلانا

Syn.— Trace, receive, infer.

Dern, a. Hidden ; secret :
پوشیدہ - خفیہ

Derogate, v. t. To repeal partly ; to disparage ; to depreciate :
منسوخ کرنا - کم قدر کرنا - گھٹانا - ہٹنا
Dishonoured ; degraded :
* کاننا - اپنے کو ہلاک کرنا - مکسر شان ہونا
ذلیل - بے حرمت

Derogation, n. Diminution ; detracting ;
گھٹاؤ -
تھتیر - بیداری

Derogatory, a. Degrading ; detracting ; injurious :
کم قدر کرنیوالا - معیوب - باعث کسر شان -
حقارت آمیز - نقصان دہ

Descant, v. t. To sing in parts ; to discourse :
* n. A song in
* سرود کرنا - گانا - تقریر کرنا - بیان کرنا
سرود - گیت - بیان - بحث

Descend, v. t. To come down ; to fall upon ; to stoop ; to make an invasion ; to be derived from :
نازل ہونا - اترنا - اپنے کو نیچا کرنا - حملہ آور
ہونا - نسل سے ہونا - نکالنا

Descendant, n. The offspring of an ancestor ;
نسل - اولاد - ہنس
pl. progeny :

Descent, n. Progress downwards ; declivity ; invasion ; birth ; fall :
اورتارنا - نزل - نشیب -
وراثت * By— * یورش - حملہ - پیدائش - نزل - اچتری
میں - ورثہ میں

Describe, v. t. To delineate ; to represent by words ; to give an account of :
جٹانا - کھینچنا -
بیان کرنا - ذکر کرنا - کیفیت دینا

Description, n. A definition; narrative; an account: تذکرہ - کیفیت - بیان - * **Sort:** — of a person, حلیہ - بشرًا - شکل - صورت

Descriptive, a. Containing description: — مبین
بیانیہ - مظهر - شرح - تعریفی

Descry, v. i. To spy out at a distance; to detect; to discover: — دریافت کرنا - معلوم کرنا

Desecrate, v. t. To pervert from a sacred purpose; to profane: — ناپاک کرنا - ناپاک کرنا - دنیاوی کام میں لانا

Desecration, n. Profanation: — ناپاکی - پلیدی - آلودگی

Desert (desert), a. Wild; solitary: لقا - ویران
* **n.** A wilderness; a vast sandy plain: صحرا - ریگستان - جنگل - بیابان

Desert (de-zert), n. Merit; reward: — قابلیت - لیاقت - جوہر ذاتی - انعام

Syn.—Merit, worth, excellence.

Desert, v. t. To abandon; to forsake; to abscond: — چھوڑ دینا - ترک کرنا - چھوڑ بھاگنا

Syn.—Relinquish, quit, leave.

—, **v. i.** To run away: — بھاگ جانا

Desertion, n. Act of abandoning; wilful abandonment; an absconding: — ترک - علیحدگی - فرار - ہجرت

Deserve, v. t. To be worthy of; to merit: لایق
* **First deserve** — سزا وار ہونا - سزا وار ہونا - حق رکھنا
and then desire, پہلے مستحق ہو پیچھے مانگو

Deservedly, ad. According to desert; justly: — لیاقتاً - استحقاقاً - بواجبی - انصاف سے

Deserving, a. Meriting: — قابل - حقدار

Deshabille (des-a-bil), n. An undress: — گھر کا معمولی لباس - سونے کے کپڑے

Desiccant, a. Tending to dry: — خشک کرنیوالا - جاذب - سرکھنے والا - چرسنے والا

Desiccate, v. t. To dry up: — خشک کرنا - سکھانا - چنپ کرنا

Desiderate, v. t. To want; to desire earnestly: — چاہنا - خواہش کرنا - ضرورت رکھنا

Desideratum, n. (Pl. Desiderata) A real want; anything desired: — ضرورت - خواہش

Design, v. t. To purpose; to sketch; to plan to draw; to intend: — قصد کرنا - بندش کرنا
* **n.** A purpose; sketch; intention; plot; aim; draught; artistic idea: — نقشہ - ارادہ - مدعا - سازش - کچا
نقشہ - صنعتی تصویر

Syn.—Plan, purpose, mean, project, scheme.

Designate, v. t. To show; to point out; to denominate: — ظاہر کرنا - پتہ بتانا - موسوم کرنا - ملقب کرنا

Designation, n. Act of pointing out; a distinctive title; signification: — لقب - ساخت - معنی - مراد - مطالب

Designedly, ad. Purposely: — صدًا - دیدہ و دانستہ - صدًا

Designing, a. Insidious; treacherous; artful; scheming: — فطرتی - دغا باز - ریاکار - فریبی - عیار - جکت باز

Desirable, a. Worthy of desire; pleasing; eligible; agreeable; preferable; proper: — دلپسند - مرغوب - دلخواہ - احسن - حسب دلخواہ - معقول - خاص

Desire, n. Wish; eagerness to obtain or enjoy; longing; the object of desire: — خواہش - شوق - تمنا - آرزو - رغبت - مراد - مقصد

Syn.—Inclination, craving, eagerness.

—, **v. i.** To wish; to long for; to aspire after; to ask: — چاہنا - خواہش کرنا - اشتیاق رکھنا - عرض کرنا

Desirous, a. Full of desire; eager: — خواہش - آرزومند - شایق

Syn.—Eager, covetous, solicitous.

Desist, v. t. To cease; to stop; to forbear: — باز رہنا - کنارہ کرنا - دست بردار ہونا - پرہیز کرنا

Desk, n. An inclined table for writing or reading: — ڈھلوان میز

Desolate, a. Without inhabitants; solitary; dreary; comfortless: — ویران - سنسان - لقا و دق
* **v. t.** To deprive of inhabitants; to lay waste: — اجازت - ویران کرنا - بے چراغ کردینا - تباہ کرنا

Desolation, n. Destruction ; waste ; ran wretchedness : پرہادی - سنان - ویرانہ - اجاز - بدبختی - آشفتگی

Despair, n. Loss of hope ; despondency ; hopelessness : مایوسی - نامیدی - نراس

Despair, v. t. To be without hope ; to despond : مایوس ہونا - نامید ہونا

Despatch, v. t. To send away hastily ; to hasten ; to expedite ; to kill ; to finish : روانہ کرنا - قتل کرنا - ختم کرنا

—, **n.** Rapid performance ; a government message ; any sending away ; an important letter or communication on public affairs : شتاب کاری - سرکاری روکار - مراسلہ - خبر - ڈاک

Despatcher, n. One that despatches : ڈاک روانہ کرنے والا

Desperado, n. A desperate fellow ; a mad man : بے ہڈی شخص - دیوانہ

Desperate, a. Hopeless ; violent ; rash ; fearless : * مایوس - نامید - پریشان - خشگیں - بیخوف - سینہ زور - شہدہ - بد معاش

Syn.—Despairing, furious, frantic.

Desperation, n. Hopelessness ; despair : مایوسی - نامیدی

Despicable, a. Contemptible ; base ; mean ; vile ; sordid : ذلیل - حقیر - کمینہ - پاجی

Despise, v. t. To scorn ; to contemn ; to look down upon : حقیر جاننا - نفرت کرنا - حقارت کرنا - ڈانچیز جاننا - ہلکا سمجھنا

Syn.—Slight, undervalue, hold in contempt.

Despite, n. Malice ; defiance : دشمنی - ضد - *prep.* In spite of ; notwithstanding : * مقابلہ - بغض - از حد کینہ رپی باوجودیکہ - حالانکہ

پر خلاف

Despiteful, a. Malicious ; malignant : بد اندیش - کینہ ور

Despoil, v. t. To rob ; to spoil ; to deprive ; to strip : لوٹنا - چھین لینا - معرور کرنا - اترار لینا

Despond, v. t. To lose hope ; to despair ; to become disheartened or dejected : مایوس ہونا - ہمت چھوڑنا - بے دل ہونا - افسردہ خاطر

Despondency, n. State of despair ; dejection : مایوسی - نامیدی - پاس - دلگیری

Syn.—Dejection, depression, discouragement, sadness.

Despondent, a. Hopeless ; despairing ; dispirited ; in low spirit : مایوس - پست ہمت - بے دل - دلگیر - افسردہ خاطر

Despot, n. An absolute prince ; a tyrant ; an autocrat : مطلق العنان بادشاہ - ظالم

Despotic, a. Absolute in power ; tyrannical ; autocratic : خود مختار - ظالم

Despotism, n. Absolute power ; the government of a despot or autocrat : خود مختاری - مطلق العنانی - بے اپنی - خود مختار بادشاہ کی حکومت

Dessert, n. A service of pastry, fruits, &c., after an entertainment : ضیافت کے بعد پھل وغیرہ کی تراضح - قفل

Destination, n. Predetermined object ; design ; end of a journey : مقصد نظر - مراد - ارادہ - منزل - مقصد

Syn.—Lot, fate, destiny, inolination.

Destine, v. t. To doom ; to decree ; to ordain ; to fix unalterably ; to appoint : مقرر کرنا - تقدیر میں - ہرنا - قرار دینا - ٹھہرانا

Destiny, n. Fate ; invincible necessity : تقدیر - انجام - ہونہار - امر نا گذیر (ضرور ہونے والی بات)

Destitute, a. In want ; forsaken ; needy ; indigent ; deficient : محتاج - عاجز - مفلس - تہی - دس - تنکا بھوک - معرور - بے کس - بے نوا

Destitution, n. Deprivation ; extreme poverty : معرورگی - لاچارگی - مفلسی - محتاجی - بیکسی - بے نوا - عدم استطاعت

Destroy, v. t. To demolish ; to ruin ; to annihilate ; to extirpate ; to lay waste ; to kill : مسمار کرنا - تیرباد کرنا - منہدم کرنا - تلف کرنا - اجاز کرنا - غارت کرنا - ہلاک کرنا - بیخ کنی کرنا - معرور کرنا - تال کرنا

Destructible, a. Liable to destruction : قابل تیرباد ہونے کے - فانی - شکست پذیر

Destruction, n. Act of destroying ; ruin ; eternal death : تیراہی - معروریت - ویرانی - تخریب - اکبر فنا

Destructive, a. Ruinous ; fatal ; wasteful :
مہلک - مضر

Syn.—Mortal, deadly, fatal.

Desudation, n. A profuse sweating ; eruption of small pimples :
چھرتی چھرتی : پھنسیوں کا نکلنا

Desuetude, n. Cessation of use :
پے استعمالی - علم رواجی

Desultoriness, n. Unconnectedness :
پے ترتیبی - پے قاعدگی

Desultory, a. Immethodical ; unconnected ; out of course :
پے ترتیب - غیر مسلسل - پے ربطا

Syn.—Inconstant, rambling, cursory, unsettled.

Detach, v. t. To separate ; to disengage ; to send off a party :
الگ کرنا - چھڑانا - روانہ کرنا

Syn.—Separate, disunite, disengage.

Detachment, n. A body of troops sent out from the main army ; separation :
لشکر - فرل - گروہ - جدائی - مفارقت

Detail, v. t. To relate particularly ; to narrate ; to enumerate ; to set apart :
تفصیل کرنا - مفصل : بیان کرنا - تفہیق کرنا - تشریح کرنا - الگ کرنا
* n. A minute account ; a narrative :
مفصل بیان - کیفیت - بیروا - تشریح (کسی خدمت کے واسطے)
In detail, رتروار - تفصیلاً - مفصلاً

Syn.—Account, narrative, relation, recital.

Detain, v. t. To withhold ; to keep back ; to delay ; to keep in custody :
باز رکھنا - روکنا - ٹھہرانا - حراست میں رکھنا - تعویذ میں رکھنا

Syn.—Stop, hinder, check, retard.

Detect, v. t. To discover ; to find out a crime or artifice ; to make known ; to bring to light :
درپائت کرنا - گرفت کرنا - تاز جانا - ظاہر کرنا - کھول دینا

Detection, n. Discovery of guilt, fraud or anything hidden :
اظہار - گرفت - انکشاف - انشا

Detective, a. Skilled or employed in detecting :
گرفت کرنے والا - کاشف - مجرموں کو خفیہ طور سے گرفت کرنے والا
* n. A policeman whose business is to detect rogues :
اٹھکار خفیہ پولیس

Detenebrate, v. t. To dispel darkness :
اندھکار : دور کرنا

Detention, n. Act of detaining ; delay ; confinement ; restraint :
توقف - دیر - قید - دباؤ

Deter, v. t. To prevent by fear ; to hinder :
خوف : دھمکا کر باز رکھنا - روکنا - پسپا حوصلہ کرنا - قرا کر روکنا

Deterge, v. t. To cleanse ; to purge away :
صاف : کرنا - آلیش دور کرنا

Detergent, a. Cleansing ; purging :
صاف : کرنا - صافی زخم

Deteriorate, v. t. To degenerate ; to impair ; to become worse :
پگڑنا - ناقص ہونا - خراب ہونا
* v. t. To make worse ; to impair :
خراب کرنا - بگاڑنا - ابتر کرنا

Deterioration, n. Act of making worse :
خرابی - ابتری - بربادی

Syn.—Debasement, degradation, depravation.

Determinate, a. Determined ; limited ; definite ; conclusive :
معین - محدود - مستحق - مقرر
* pp. Ended ; determined upon ; decided :
تمام - منقطی - تمام یا ختم کرنا
* v. t. To end :
مقصود - مجبوزہ - قطعی - مستغل

Determination, n. Resolution ; decision ; end ; impulsion :
قصد - ارادہ - نیصلہ - انجام
اختتام - تحریک

Determinative, a. Conclusive ; limiting :
تلقیحی - قاطع - یقینی - مقرر - آخر

Determine, v. t. To limit ; to fix ; to define ; to finish ; to influence ; to decide ; to shape ; to define :
حد باندھنا - مقرر کرنا - تہین کرنا - تہرانا - ختم کرنا - تجویز یا نیصلہ کرنا - قول پر لانا
* v. t. To resolve ; to decide :
قصد کرنا - ارادہ کرنا - فیصلہ کرنا - منصوبہ باندھنا

Determined, a. Firm in purpose ; resolute :
مستقل - معین - مصمم - پکا - محدود

Deterration, n. A taking out of the earth :
دھینہ نکالنا - دبی چیز اٹھانا

Detersion, v. t. A cleansing (as of sore) :
صفائی زخم وغیرہ کے

Detest, v. t. To hate extremely ; to abhor :
نفرت کرنا - گھن کرنا

Syn.—Loathe, abominate.

Detestable, *a.* *Hateful; execrable:* - ناکرار
مکروہ - پلید - ناپاک - گھڑنا

Detestation, *n.* *Hatred; abhorrence:* - نفرت
کراہیت - گھن

Dethrone, *v. t.* *To deprive of regality; to depose:* اختیاراٹ شاہی چھین لینا - تھف سے اُتارنا

Detinue, *n.* *A writ against a person who detains anything unlawfully:* پوراٹھ عدالتی
اس شخص کے نام جس نے بیجا طور پر کڑھی ہے رکھی ہو

Detonate, *v. i.* *To explode:* ہڑاکا ہونا *
v. t. *To cause to explode:* بھک سے اڑا دینا

Detonation, *n.* *Explosion:* ہڑاکا - تڑاکا - کھڑکا

Detort, *v. t.* *To twist; to wrest; to pervert:* اینٹھنا - مڑوڑنا - اڑلٹنا پلٹنا - معنے بدلنا

Detortion, *n.* *A perversion:* اُٹاؤ - مڑوڑ

Detract, *v. t.* *To derogate; to slander; to take away:* -
بیقدری کرنا - گھٹانا - عیب جوڑی کرنا -
غیبیت کرنا - بدنام کرنا - گھٹانا - لے جانا - جدا کرنا

Syn.—Decry, disparage, depreciate, abuse.

Detraction, *n.* *Defamation; slander:* -
بیقدری - بدنامی - عیب جوڑی - تہمت - غیبیت

Detriment, *n.* *Loss; damage; harm:* -
ہرجہ - نقصان - ضرر

Syn.—Injury, hurt, harm.

Detrimental, *a.* *Harmful; mischievous:* -
ضرر رسان - خلل - ہرجہ

Deuce, *n.* *A card or dice with two spots:* -
شیطان * The devil : * تاش کی دوکھی

Deuterogamy, *n.* *A second marriage:* دوسری
شادی

Devastate, *v. t.* *To lay waste; to desolate; to pillage:* -
ویران کرنا - اُجارتا - برباد کرنا - لوٹنا -
غارت کرنا

Devastation, *n.* *A laying waste; desolation;*
ویرانی - بربادی - تباہی -
havoc; destruction : -
اوجاز - پایمالی

Develope, *v. t.* *To unfold; to lay open; to unravel:* -
کھولنا - آشکارا کرنا - ہاہو کرنا - واضح کرنا -
* To develop a plot. -
بھید کھولنا - بھندا پھوڑنا

Develope, *v. t.* *To become visible gradually;*
to go through a process of natural evolution:
رتقہ رتقہ دکھائی دینا - رنگ پر آنا - شگفتہ ہونا -
ظاہر ہونا - پختہ ہونا

Development, *n.* *An unfolding disclosure;*
gradual growth; evolution: سلجھاؤ ظہور - انکشاف
- Full * نشرنامہ - بالیدگی - ایہار - بڑھنا - پکنا
پزلز بہار - تکمیل

Deviate, *v. i.* *To wander; to go astray; to err;*
بھٹکنا - گمراہ ہونا - منحرف ہونا - روگردان ہونا

Syn.—Swerve, stray.

Deviation, *n.* *A wandering from the right way;*
error; sin: گمراہی - تجاؤز - انحراف - بھٹکاؤ -
غلطی - بھول

Device, *n.* *A contrivance; a design; an invention;*
an emblem: - تدبیر - تجویز - تدبیر
منصوبہ - ایجاد - نمغہ - جکت - بندش - فطرت

Devil, *n.* *Satan; an evil spirit:* - شیطان
ایلیس - شیطان * What the—you are
after, * تم کیا کرتے ہو *
To be in a devil of a mess, *
A devil-may-care sort of (person)
* بڑا بے پرواہ قسم کا آدمی
* To go to the—, * جہنم میں جاؤ
اودھم مچانا - برباد کرنا
To play the devil,

Devilish, *a.* *Like devil; wicked:* - شریر
پر لے درجہ کا، A—cheat * مرڈی -
ذمہ - سنیاء دل
فریبی

Devilry, *n.* *Extreme wickedness:* - بدذاتی
شرارت - بدذاتی

Devious, *a.* *Going astray; erring:* -
گمراہ - بے راہ - راستی سے منحرف -
ڈانوا ڈول

Devisable, *a.* *That may be devised; capable of*
being bequeathed: قابل ایجاد -
منصوبہ پذیر
وٹیس کے قابل

Devise, *v. t.* *To contrive; to scheme; to be-*
queath: تدبیر کرنا - سرچنا -
رصیتا ہبہ کرنا - دے
Devise not evil against the neighbour,
* رصیت نامہ
* n. A will : * اپنے بیڑوسی کا
برامت چیتو

Devisee, *n.* *One to whom a thing is bequeathed:*
موصی علیہ - مرہوب علیہ

Deviser, *n.* *One who devises; an inventor:*
مجزو - موجد - نظری -
بانی - بنانے والا -
صانع

Devisor, *n.* *One who grants by will:* -
موصی - راہب

Devoid, a. Destitute of ; free from ; empty :
تہی - عاری - خالی - معرور

Devolution, n. Act of devolving ; passing from one person to another ; transference : -
سودگی - انتقال - داخل خارج

Devolve, v. t. To roll onward or downward ; to transfer from one to another ; to hand over :
v. t. To * ہونے کا منتقل کرنا - حوالہ کرنا - سونپنا
میراث ہونا - حسب - میراث ہونا
بدست پہنچانا - آہٹا - اوتارنا

Devote, v. t. To appropriate by vow ; to dedicate ; to give up wholly to doom : -
صدقہ کرنا - نیاز کرنا - قربان کرنا - مصروف کرنا - مہر کرنا - نذر
* To appropriate ; to * کرنا - تصدق کرنا - نذر کرنا
* مصروف کرنا - مصروف کرنا - حوالہ کرنا : To addiot
* ملامت کرنا - مردود کرنا : To condemn
حوالہ کرنا - برے کاموں میں دل لگانا : To give up to ill
Syn.—Apply, resign, consign.

Devoted, a. Strongly attached ; ardent ; doomed ; consecrated ; holy ; sacred : از
جان نثار - بس سرگرم - تصدق کیا ہوا - مظلوم - متبرک - پناہ

Devotee, n. One given wholly up to religion :
زاہد - عابد - ایشی - پرچارا

Devotion, n. Act of devoting ; consecration ; religious offerings :
زہد - عبادت - مہبہ - سرگرمی - نیاز - ذکراۃ

Syn—Consecration, devoutness, religiousness.

Devoional, a. Pertaining to devotion : -
عبادتی - مذہبی

Devour, v. t. To eat up greedily ; to consume ; to waste ; to enjoy with avidity :
کھا جانا - ہڑپ - کرجانا - بھکرسنا - ضائع کرنا - برباد کرنا - اڑا دینا - مزے اڑانا - عیش و عشرت کرنا

Devout, a. Pious ; sincere ; religious expressing devotion ; earnest : -
صادق - پارسا - بھگت - دیلدار - عابد - دلورز - عارف

Dew, n. Moisture from the atmosphere condensed by cold bodies upon their surfaces, specially at night ; fresh vigour : -
شبنم - اوس - تدر تازگی - نرحب

Dew-drop, n. A drop of dew :
شبنم کا قطرہ - لوس کی ہوقد

Dewlap, n. The flesh that hangs down from the throats of oxen :
کالے ہیلے کے گردن سے نیچے لٹکنے والا گوشہ - گھینگا - گلتھا

Dewy, a. Moist with dew :
ہینم آلودہ - اوس سے بھیگا ہوا

Dexter, a. Right, as apposed to left :
داهنا - راس

Dexterity, n. Adroitness ; activity ; skill :
چالائی - چستی - ہنر مندی - چابک دستی - مشائی کاریگری

Syn.—Expertness, aptitude, cleverness, address.

Dexterous, a. Expert ; ready ; active ;
چالاک - پھرتیلا - تیز دست - استقامی کا

Diabetes, n. A morbid copiousness of urine :
سلسل بول

Diabolical, a. Devilish ; extremely wicked :
شیطانی - بدذات - ملعون - خبیث - ذیشت ملیک

Diabolism, n. The act of a devil ; devilish conduct ; sorcery ; possession by the devil :
شیطانی حرکت - جادو - آسب - بھوت کا سذیہ

Diacritic, Diacritical, a. Distinctive (*Print.*):
marks, — * فرق بتلانے والا - فرق نلندہ - معیز اقرب - علامت آواز - زیر - زبر - پیش

Diadem, n. An ensign of royalty ; crown
کاکہ شاہی - مکہ - تاج - سلطنت

Diæresis, Dieresis, (Gram.) A mark (..) placed over the second of two adjacent vowels to show that each is to be pronounced separately :
نشان (..) پہلے یعنی حروف علت کو حروف صحیح پڑھو

Diagnose, v. t. To judge of a disease by its symptoms :
طالع سے بیماری کو پہچاننا

Diagnosis, n. Determination of a disease by distinctive characteristic ; a brief description ; scrutiny : -
تشخیص مرض - مختصر بیان - دیکھتے پہال - جانچ

Diagonal, n. A line drawn from angle to angle :
تعلو یا قطر

Diagram, n. A mathematical scheme : -
نکشتہ - شکل هندسہ - صورت - سانچہ

Dial, n. A plate marked with lines, where a hand or shadow show the hour; the face of a clock. دھوپ گھڑی - حلقہ

Dialect, n. Local form of a language; speech; idiom: مقامی بولی - دیسی بھاکھا - زبان - متعارفہ

Dialectics, n. The art of reasoning logically: علم منطق - علم معقول

Dialogue, n. A conversation between two or more; colloquy: گفتگو - مکالمہ - بات چیت

Diameter, n. A right line passing through the centre of a circle and dividing it into two equal parts: قطر - دائرہ - خط جو مرکز سے محیط تک جاوے - بیاس

Diamond, n. The hardest and costliest of gems: تاش
A set in playing cards: ہیرا
چھاپے کے باریک ٹائپ - (Print.) * میں اینٹ کا رنگ
ہیرے کی قلم - A cutting, * خط خفی

Diaper, n. Figured linen cloth; a towel or napkin: چامدانی - گاج - ریشمی کھیس - مشجر - رومال - تریبہ - انگورچھا

Diaphanous, a. Pellucid; translucent; transparent: شفاف - جسکے اربار نظر جاسکے

Diaphoretic, a. Increasing perspiration: پسینا لانیوالی

Diaphragm, n. The midriff: سرورخدار پردہ - شکم

Diarist, n. One who keeps a diary: روز نامچہ - نوٹس - مانیب

Diarrhoea, n. A morbidly frequent evacuation of the intestines; looseness of the bowels; a purging: اسہال - پیٹ چلنا - جزیان شکم - دست - کئی بیماری

Diary, n. A register of daily occurrences: روزنامچہ - سیاہا

Diatribes, n. A continued discourse; disputation: لگاتار بیان - مسلسل - مباحثہ - سلسلہ بند - تقریر

Dibble, n. A pointed instrument used in planting: کدائی - پھالی

Dice, n. pl. of Die. A game with dice: پانسیا یا - کعبتین کا کھیل

Dicephalous, a. Two-headed: دو سر والا

Dickey, n. The driver's seat: گاری بان پی بینک یا اسن

Dictate, v. t. To tell another what to say or write; to communicate authoritatively - فرمانا املا یا عبارت لکھوانا - حکومت سے کہنا - ارشاد کرنا

Dictate, n. A command; an order; a rule: فرمان - حکم - ہدایت - قانون

Syn.—Command, injunction, order.

Ant.—Obedience, submission, acceptance.

Dictation, n. Act of dictating; a school exercise: ہدایت - املا

Dictator, n. One who dictates; one invested with absolute authority; a magistrate of unlimited jurisdiction: املا لکھوانیوالا - مطلق العنان حاکم - انسر اعلیٰ

Dictatorial, a. Authoritative; imperious; domineering: حاکمانہ - خود مختارانہ - تھکمانہ

Diction, n. Language; style; manner of expression: زبان-طرز - عبارت - متعارفہ - انشا - بولی

Dictionary, n. A book in which words are alphabetically arranged and explained; a wordbook: فرہنگ اصطلاحات
—of technical terms, فرہنگ اصطلاحات

Dictum, n. (pl. Dicta.) An authoritative saying or assertion: قول - مقوالہ - دعویٰ - اظہار

Didactic, a. Fitted to teach; instructive; preceptive: پند آموز - نصیحت آمیز - عبرت بخش

Didactics, n. pl. The art or science of teaching: پڑھانے کا فن یا علم

Didder, v. i. To shiver: کپکپانا - تھرتھرانا

Die, v. i. To cease to live; to lose life; to depart this life; to draw one's last breath; to become indifferent; to vanish; to expire; to wither: مرنا - مرت ہونا - انتقال کرنا - رحلت کرنا - معدوم ہوجانا - ختم ہونا - فراموش ہونا - کم ہوجانا
* **To-away,** to disappear: مرجھانا
* **To-out,** to become extinct: غائب ہوجانا
* **To-at the top,** بمقامی مرض
* **To-in harness,** منصبی کم کرتے مٹا
* **To-a martyr,** شہید ہونا
* **To-out,** مردانہ موت
* **To-prematurely,** پہلے وقت مٹنا

Digit, n. The measure of a finger's breadth ; a finger ; any number under ten : - انگلی - انگل
ہون انچ - عدد مفرد ایک سے نو تک

Dignify, v. t. To honor ; to exalt ; to give distinction to : - عزت کرنا - حرمت بڑھانا - توقیر بخشنا
کرتا * Your worth will—our feast. آپکے سبب سے ہماری ضیانت میں رونق ہر جا رہیگی

Dignitary, n. A clergyman of rank : معزز پادری

Dignity, n. Worthiness ; elevation of rank ; grandeur ; stateliness : - لیاقت - منزلت - مرتبہ - منصب - وقار - شکوہ - تمکنت - جلال - شان - درجہ - رتبہ

Digress, v. i. To turn aside ; to depart from the subject ; to wander ; to offend : - تجاویز کرنا - گریز کرنا - اصل مضمون کو چھوڑ کر از سر کسی بات کا ذکر کرنا - خلاف کرنا - منہ پھیرنا - عدول حکمی کرنا

Syn.—Deviate, wander, expatiate, amplify.

Digression, n. A turning aside ; transgression : اختلاف - تجاویز اصل مضمون سے - گمراہی
تقصیر

Digressive, a. Deviating : تجاویز - بعید از مطالب - مخالف

Dike, n. A ditch ; a mound of earth ; channel ; embankment : - ڈائی - کھائی - خندق - مینڈ - پشتہ - بند

Dilapidate, v. To go to ruin ; to become decayed : *v. t.* To pull down ; to diminish by waste ; to squander : منہدم کرنا - ڈھانا - مسمار کرنا - برباد کرنا - بیجا صرف کرنا - ضایع کرنا - ٹٹانا - خاک میں ملانا

Dilapidation, v. Ruin ; decay ; waste ; خرابی - خرابی - زبردستی - انہدام - نقصان بیجا

Dilacerate, v. t. To tear ; to rend : - پھاڑنا - پھیرنا

Dilatation, n. Act of dilating ; extension : پھیلاؤ - تراخی - کشادگی

Dilate, v. t. To spread out ; to expand ; to widen ; to speak diffusely : - پھیلانا - طویل دینا - بڑھانا - شرح بیان کرنا - بڑھا کر کہنا

Dilatoriness, n. Slowness ; sluggishness ; delay : سستی - آہستگی - تاہل - تاخیر - دیر - ترقب

Dilatory, a. Tardy ; slow ; backward : - کاہل
سست - دیر کرنا - لیت و لعل کرنے والا

Syn.—Sluggish, delaying, inactive, behind-hand.

Dilemma, n. A perplexing state ; a difficult or doubtful choice ; a puzzling alternative ; awkward predicament : - شک - پس و پیش - کشمکش - متحمل الصدین - بے ذہب حالت - سراسیمہ گی - پس و ادھر کنرا اردھر * To be in a—کھائی - دقت میں پھنسنا

Diletante, n. Amateur ; an admirer or lover of the fine arts : اعلیٰ علوم و فنون کا مداح یا شائق

Diligence, n. Industry ; assiduity : محنت - کوشش : *Fr.* A four-wheeled stage coach : فرانس میں ایک قسم کی گاڑی
Syn.—Attention, constancy, care.

Diligent, a. Assiduous ; industrious ; sedulous ; محنتی - ہوشیار - خیردار - بڑا شاغل - ہمہ تن مصروف

Dilly-dally, v. t. To delay or trifle : تاخیر کرنا
ڈھیل ڈھال کرنا - ایت و لعل کرنا

Diluent, a. Making thin : پتلا یا دہلے کرنا

Dilute, v. i. To make thinner or more liquid ; *a.* * to reduce : کمزور کرنا - رقیق کرنا - پتلا - کمزور
Thin ; weakened :

Dilution, n. Act of making thin or weak : - قوت - کمزوری - پتلپن

Diluvial, Diluvian, a. Pertaining to or caused by a flood : طاری - دریا بڑ - دریا شکست

Diluvium, Diluvion, n. A deposit of earth, &c., caused by a flood : مٹی وغیرہ جو پانی یا سیلاب کے زور سے جمع ہو جائے

Dim, a. Not bright or distinct ; obscure ; faint ; دھندلا - پھیکا - بے آب - بے نور - چمکنا - کم نظر - نڈ

Syn.—Dark, dusky, dull, imperfect.

Dimension, n. Bulk ; extent ; capacity : جسامت - وسعت - مقدار

Diminish, v. t. To lessen ; to reduce : گھٹانا - شرم کے * To hide one's—ed head مارے سر نیچا کرنا یا منہ چھپانا - آنکھیں - اٹنے نہ کرنا
Syn.—Decrease, abate.

گھٹانا - کم - ختم - خراب ہونا - کم ہونا - چھوٹا معلوم ہونا

Diminution, n. The act of making less ; degradation ; decrease ; deduction ; reduction :
تخفیف - گھٹتی - کمی - بے قدری - رسوائی - خفت -
خزائی - منہائی - ذلت

Diminutive, a. Small ; tiny ; little ; contracted :
n. A * چھوٹا - ننھا - ذرہ سا - خورد - کوتاہ - تھوڑا
derivative word expressing littleness : اسم
تصغیر

Dimness, Obscurity ; تیرگی - دھند -
ضعف بینائی - کمی بصارت ، of sight * خیرگی

Dimple, n. A hollow in the cheek or chin :
گال یا تھوڑھی پر کا گڑھا - چاہ زنتداں - چاہ غبغب

Din, n. A loud, stunning noise : دھوم - غل - شور
* غل سے کان پھوڑنا - کان کھانا - غرغہ
To—in one's ears, To—abroad, مشہور
کرنا - شہرت دینا

Dine, v. t. To take dinner ; to eat : کھانا - تناول
کھانا کھانا - دعوت : * فرمانا
یا عیانت دینا

Ding, v. t. To dash with violence : دے - پٹکدینا
مارنا - ٹن ٹن کرنا - گھنٹنا بھاننا -

Ding-dong, n. The sound of bells - گونٹے کی آواز -
ٹن ٹن

Dingle, n. A hollow between hills ; a dale :
گھاٹی - تنگ واہی - درہ

Dingy, a. Dark ; soiled : کالا - میلا

Dinner, n. The principal meal of the day ; a
feast : کھانا - رسوائی - عیانت

Dint, n. A blow ; a stroke ; force ; power ;
ضرب - چرٹ - زور - طاقت : - چوت :
By—of, by means of : * کا گہرا داغ - اثر
بندوبست - وسیلے سے - بل سے

Diocese, n. The jurisdiction of a bishop :
سرمدار پادری کا علاقہ

Dip, v. t. To plunge or immerse in water or
other liquid ; to moisten ; to lift with a
ladle : غرغہ دینا - ڈبونا - تر کرنا - کھچنے سے نکالنا
* v. i. To sink ; to penetrate ; to incline
downward ; to enter transiently : غروب -
ہونا - نیچے کو ڈھلنا - سرسری طور سے دیکھنا یا توجہ دینا

Diphthong, n. A union of two vowels in one
sound : در حرف علت کی ملی ہوئی آواز - لقیف مقرون

Diploma, n. A writing conferring some pri-
vilege or honour : سند - لیاقت - دستاویز -
انتظار

Diplomacy, n. Art of conducting negotiations
between nations ; dexterity in securing
advantages ; astuteness ; tact : ایلچی کرپی -
سلطنتی معاہدے کرنے کا ہنر - معاملہ فہمی - معاملہ
رسی - حکمت عملی - لیاقت سفارت - فراست

Diplomatic, a. Pertaining to diplomacy ; skil-
ful in negotiation : سند کے متعلق - سفارت میں
ہوشیار - معاملہ فہم

Dire, a. Dreadful ; horrible ; bading evil :
خوفناک - ہیبت ناک - مہیب - منہوس

Syn.—Horrid, terrific, shocking.

Direct, a. Straight ; plain ; open : سیدھا -
* v. t. To aim or drive in
a straight line ; to point ; to guide ; to
order ; to superscribe : شست لگانا - پتہ دینا -
ہدایت کرنا - فرمانا - اقبال لکھنا

Direction, n. Act of directing ; aim ; command :
* Side ; superscription ;
board of directors : جانب - سرنامہ - منتظموں کی
جماعت

Syn.—Course, inclination, aim, bearing.

Directly, ad. In a straight line ; immediately ;
without intermediary ; honestly : سیدھا - فوراً -
فی الفور - ناک کی سیدہ میں - بلا وسیلہ - براہ راست

Director, n. One who directs ; superintendent ;
manager or governor ; councillor ; a part of a
machine : رہنما - منتظم - کارپرداز - کارکن - مشیر -
ملاکار - کل کا ایک حصہ جس سے حرکت پیدا
* Fem. Directrix. ہوتی ہے

Directory, n. A book of directions ; a city
guide book ; an address book : دستور العمل -
کتاب ہدایت - مجموعہ سرنامچات

Direful, a. Dreadful : ہولناکی - مہیب

Direness, n. Dismalness ; horror : ہیبت ناکي -
خوفناکی - دہشت

Dirge, n. A funeral song ; a mournful ditty :
مرثیہ گیت - مرثیہ

Dirk, n. A kind of dagger : خنجر - تار - چھرا

Dirt, n. Any filthy substance ; loose earth :

* To throw—at, * منعمت کرنا - بدنام کرنا
 میل - نچاس - میل - گندگی - کرنا
 * To foul ; to make dirty :
 میل کرنا - غلیظ کرنا
 نچس کرنا

Dirty, n. Foul ; shabby ; mean : -
 میل - غلیظ
 ذلیل - کمینہ - پراچی

Disability, n. Want of power ; weakness :
 ناتوانی - ناقابلیت - ضعیفی - مجبوری

Disable, v. t. To deprive of natural force ; to
 disqualify :
 ناتوان کرنا - ناقابل کرنا - بیکار کرنا

Disabuse, v. t. To free from mistake ; to unde-
 ceive :
 درسہ کرنا - ہوشیار کرنا - آنکھ کان کھولنا

Disadvantage, n. Deprivation of advantage ;
 unfavourable circumstances ; detriment ;
 prejudice ; loss : -
 نقصان - قباہت - نواقص -
 * To sell at—, * زیاں - ضرر - گھانا - ٹوٹنا
 اونے بیچ کرنا - اونے سے بیچ کرنا

Disadvantageous, a. Unfavourable : -
 مضر - غیر مفید - خلاف مزاج

Disaffect, v. t. To fill with discontent ; to
 dislike ; to make unfriendly :
 ناراض کرنا - بد خواہ
 بنانا - دل بگڑنا - ناپسند کرنا

Disaffection, n. Alienation ; dislike ; ill-will :
 مفارقت - بیگانگی - بداندیشی - نفرت - دشمنی

Disaffirm, v. t. To deny ; to set aside ; to
 repudiate :
 انکار کرنا - منسوخ کرنا - ناجائز قرار دینا -
 مکرنا

Disagree, v. i. To differ ; to be unsuitable ; to
 be at variance ; to dissent :
 تفاق رکھنا - ناموافق
 ہونا - مخالف ہونا - اتفاق رائے نہ کرنا - نامنظر کرنا

Disagreeable, a. Contrary ; unpleasant ; un-
 suitable :
 ناموافق - ناپسند

Disagreement, n. Difference of opinion ; un-
 suitability ; dissension :
 نااتفاق - ناخوشی -
 ناموافقیت - اختلاف

Disallow, v. i. To refuse permission ; to deny ;
 to reject :
 اجازت نہ دینا - نامنظر کرنا - انکار کرنا

Disallowable, a. Improper : -
 ناجائز - غیر مناسب -
 رد کرنا

Disallowance, n. Prohibition : -
 انکار - صلت -
 نامنظری

Disannul, v. t. To make void :
 رد کرنا - باطل کرنا

Disapparel, v. t. To undress :
 لباس اتارنا

Disappear, v. i. To be lost to view ; to vanish :
 غائب ہونا - کانور ہوجانا - دھج ہوجانا

Disappearance, n. Removal from sight :
 گم گشتگی - عدم موجودگی

Disappoint, v. t. To defeat of expectation ; to
 frustrate ; to render ineffective : -
 ناامید کرنا -
 فراس کرنا - مایوس کرنا - دل توڑنا - باطل کرنا - ناکارگر
 کرنا

Disappointed, a. Defeated of hope, unpre-
 pared :
 مایوس - ناکام - نامراد - شکستہ دل

Disappointment, n. Defeat of expectation ;
 frustration :
 ناامیدی - مایوسی - ناکامی

Disapprobation, n. Displeasure : -
 ناخوشی

Disapproval, n. Act of disapproving ; dislike ;
 censure :
 نامنظری - ناپسندگی

Disapprove, v. t. To dislike, to censure ; to
 reject :
 ناپسند کرنا - نفیر کرنا - رد کرنا

Disarm, v. t. To deprive of arm ; to take
 away the arms from ; to render powerless or
 harmless :
 نقصان رسائی -
 قابل چھوڑنا

Disarrange, v. t. To put out of order ; to throw
 into confusion ; to unsettle :
 بے ترتیب
 کرنا - گھٹا کرنا

Disarray, n. Disorder ; confusion ; undress :
 الجھن - بے ترتیبی - بڑھنگی - بے لباسی

Disassociate, v. t. To disunite :
 جدا رکھنا

Disaster, n. Misfortune ; calamity ; misery :
 مصیبت - غصہ - آفت - حادثہ

Disastrous, a. Unlucky ; calamitous : -
 مضر - زوں کار - آفت خیز - پر حوادث

Disavow, v. t. To disown ; to deny :
 انکار کرنا

Disavowal, n. Act of disowning ; denial :
 نامنظری - انکار

Disband, v. t. or i. To dismiss from military
 service to disperse :
 تفرق کرنا -
 تفرق کرنا

Disbelief, n. Refusal of belief : بے اعتباری - بے اعتقادی - نامعتبری

Disbelieve, v. t. To discredit : اعتبار نہ کرنا - یقین نہ کرنا - نہ ماننا

Disburden, v. t. To rid of a burden ; to unload ; to relieve : بوجھ اتارنا - خالی کرنا - سبکدوش کرنا

Disburse, v. t. To pay out ; to expend : دیدالنا - صرف کرنا - خرچ کرنا - خرچ میں لانا

Disbursement, n. Act of disbursing ; the sum spent : خرچ - صرفہ

Disc, n. The face of a celestial body ; a quoit : مثال - گزرا

Discard, v. t. To dismiss ; to discharge ; to cast off : نکال دینا - موقوف کرنا - خارج کرنا

Discern, v. t. To descry ; to see ; to judge ; to distinguish : معلوم کرنا - دیکھنا - تمیز کرنا - پہچاننا - شناخت کرنا

Discernible, a. Apparent ; perceptible : ظاہر - معلوم ہونے کے قابل - قابل فہم

Discernment, n. Act of seeing ; discrimination ; insight : تمیز - شناخت - ادراک
Syn. - Discrimination, penetration, sagacity.

Discharge, v. t. To disburden ; to dismiss ; to release ; to pay a debt ; to perform ; to let fly : بوجھ اتارنا - موقوف کرنا - آزاد کرنا - ادا کرنا - داغنا * مراد نکالنا یا چھڑنا - بھٹنا

n. Act of discharging, dismissal ; performance, matter emitted ; explosion : سبکدوشی - موقوفی - برطرفی - تعمیل - بیباقی - مراد - دھواکا

Disciple, n. A scholar ; a follower : طالب علم - پیرو - مرید

Disciplinarian, n. One who keeps good discipline : قواعد دان - حکمران

Discipline, n. Education ; rule ; military regulation ; subjection to rule ; correction ; chastisement : تربیت - تادیب - بندوبست - جنگی - انتظام - فوجی آرستگی - فرمانبرداری - اطاعت - اصلاح - * **v. t.** To train ; to regulate ; to chastise ; to bring under control ; a compendium of church rules : تربیت - نرنا - قواعد سمجھانا - تہیہ کرنا - ضبط میں رکھنا - قاعدہ کا پابند کرنا - ہدایت نامہ

Disclaim, v. t. To disown ; to renounce ; to reject : لادعوی ہونا - دست بردار ہونا - ترک کرنا - باز رہنا - بڑی الذمہ ہونا

Syn. - Disavow, deny.

Disclaimer, n. One who disclaims or renounces ; a disclaiming act or notice : دست برداری - منکر - باز دعوی

Disclose, v. t. To uncover ; to reveal ; to divulge : کھول دینا - ظاہر کرنا - واضح کرنا - فاش کرنا

Disclosure, n. A revealing ; discovery ; exposure ; revelation : افشا - اظہار - انکشاف

Discolour, v. t. To stain or change the colour : داغ دار کرنا - بد رنگ کرنا - صورت بدلانا - متغیر کرنا

Discomfit, v. t. To defeat ; to frustrate ; to vanquish : شکست دینا - ہراساں کرنا - پست کرنا

Discomfiture, n. Defeat ; overthrow ; rout : شکست - ہزیمت - ہار

Discomfort, n. Want of comfort ; uneasiness : بیکلی - بیچینی - رنج - آزار

Discommode, v. t. To put to inconvenience ; to annoy : ایذا پہنچانا - تکلیف دینا - دق کرنا

Discommodity, n. Inconvenience ; trouble : اذیت - دکھ - مصیبت

Discompose, v. t. To disarrange ; to break up ; to disturb the temper : منتشر کرنا - گھبرانانا - درہم برہم کرنا - پریشان کرنا - مضطرب کرنا

Syn. - Disorder, unsettle, disturb, fret, vex.

Discomposure, n. Disturbance ; disorder : گھبراہٹ - انتشار - بے ترتیبی

Disconcert, v. t. To unsettle ; to disturb ; to frustrate ; to embarrass : اہتری کرنا - پریشان - کرنا - گھبرانانا - خلل ڈالنا

Syn. - Derange, unruffle, disturb.

Disconnect, v. t. To disunite ; to separate ; to detach : جدا کرنا - علیحدہ کرنا - بے ربط کرنا

Disconsolate, a. Comfortless ; hopeless ; sorrowful ; heartbroken ; unconsolable : بے چین - آداس - غمگین - افسردہ - شکستہ دل - ناقابل تسکین

Discontent, n. Uneasiness ; dissatisfaction ; ناخوشی - بے قناعتی - بیزاری - ناراض شخص

Discontinuance, n. Cessation ; intermission ; suspension : موقوفی - ترک - جدائی - رتقا - التوا

Discontinue, v. t. or i. To leave off ; to cease : چھوڑ دینا - بند کرنا یا ہونا - معطل کرنا - موقوف ہونا

Discord, n. Disagreement ; want of concord ; dissension ; far : نا اتفاق - اختلاف - نا مناسبت - نا موافقت - نزاع - نساد - جھگڑا

Discordant, a. Inconsistent ; not harmonious ; harsh : ناموافق - مصنف - بے سرا - بے میل - نا منظم

Syn.—Disagreeing, incongruous, opposite, contrary.

Discount, n. Deduction of a sum ; deduction for an interest ; an allowance : منہائی - بٹہ - *v. t.* To deduct ; to loan money upon, deducting the allowance for interest : منہائی کرنا - بٹہ دینا - چھوٹ دینا

Discountenance, v. t. To abash ; to discourage : شرمندہ کرنا - دل شکستہ کرنا - پست ہمت کر دینا - بے رخی کرنا - ناراضماندی ظاہر کرنا - شرمندہ کرنا

Discourage, v. t. To depress ; to dishearten ; to deter : ہمت توڑنا - بیدل کرنا - افسردہ کرنا - شرمندہ کرنا

Syn.—Diapirit, depress, deject.

Discouragement, n. That which discourages or deters : دل شکنی - دل اشنگی - مایوسی - نا امیدی - بے حوصلگی

Discourse, n. Conversation ; a sermon ; a treatise : * گفتگو - مکالمہ - تذکرہ - رسالہ - درس - **Discourse of reason, the reasoning faculty :** عقل - مدرکہ

Discourse, v. i. To exercise reason ; to hold forth ; to treat of in writing ; to relate : تقریر کرنا - ہجرت کرنا - تعین عام کرنا - مجمع میں * گفتگو کرنا - رسالہ بنانا - تذکرہ کرنا - عقل درازانا

Discourse high, v. t. * شیخی مارتا - لاف زنی کرنا
To utter or give forth : بولنا - کہنا

Discourteous, a. Uncivil ; unpolite ; rude : بد اخلاق - بد خلق - بے ادب - ناتوا شیدہ

Discourtesy, n. Incivility ; rudeness : بد اخلاقی - بے ادبی

Discover, v. t. To disclose ; to find out : ظاہر کرنا - دریافت کرنا - تحقیق کرنا - پتہ لگانا

Syn.—Exhibit, tell, reveal, discern.

Discovery, n. Act of discovering ; disclosure ; thing discovered : انکشاف - دریافت - تحقیق - نشانی - معلوم کی ہوئی چیز - شہی یافتہ - اخترا

Discredit, n. Want of credit ; ignominy disgrace : بے اعتباری - بد نامی - رموٹھی - خفت

Syn.—Disrepute, dishonour.

—, *v. t.* To disgrace ; to distrust ; to disbelieve ; to deprive of credibility : نا معتبر ٹھہرانا - ذلیل کرنا - سچا نہ جاننا

Discreditable, a. Disreputable ; disgraceful : نامعقول - زبون - رسوا - معیوب - نامعتبر

Discreet, a. Prudent ; cautious ; modest : عاقل - *To* * ہوشیار - دور اندیش - جا تمیز - صاحب سلینتہ - *maintain a discreet silence :* اختیاری کرنا

Discrepancy, n. Disagreement ; difference : اختلاف - فرق - *inconsistency ; divergence :* تفرق

Syn.—Discordance, contrariety, shortcoming.

Discrete, a. Distinct ; separate ; not continuous : الگ - علیحدہ - جدا

Discretion, n. Prudence ; judgment ; wise management ; caution ; freedom to act : * امتیاز - شعور - احتیاط - تمیز - خبرداری - اختیار

Years of—, majority : * *At* * سن تمیز - باورغ - اختیار یا قابو میں - مرضی *one's discretion, To exercise—, دور* * مرضی یا سمجھتہ پر - دور * *To exercise—* * موافقت اندیشی کرنا - انجام سوچنا

Discretionary, a. Unrestrained ; unlimited : مطابق العناد - غیر محدود

Discretionary, a. Left to discretion ; unrestrained : اختیاری - غیر مقید - آزاد - بے ررک

Discriminate, v. t. To distinguish ; to select from : پہچاننا - امتیاز کرنا - تفریق کرنا

Discrimination, n. Act of distinguishing ; distinction ; discernment ; judgment ; * امتیاز - تمیز - فہمیدہ - رہ کی

Syn.—Discernment, penetration, clearness, acuteness.

Discriminative, a. Making a difference : - تمیز قوت ممیزہ، power، دار - دقیقہ شناس - ممیز

Discrown, v. t. To deprive of a crown : تاج اُتارنا - مکت لے لینا

Discursion, n. A running about; desultory talk; act of reasoning : - درّ دھروپ - بول چال - بصفت - تقریر

Discursive, a. Argumentative; rambling : - مدلل - چکر دار - کراں کرل - بے ربطا

Discus, n. A quoit; a disc : گوردہ - چکر

Discuss, v. t. To debate; to sift to examine critically; to disperse : - مباحثہ کرنا - تحقیق کرنا - چوان بین کرنا - جانچنا - خوب تحقیق سے دیکھنا - تحلیل کرنا

Discussion, n. Examination of a question : تقریر - مباحثہ - گفتگو

Disdain, v. t. To think unworthy; to scorn : **n.** Scorn; contempt : ہانٹ - نفرت - حقارت

Disdainful, a. Haughty; scornful; contemptuous : متکبر - مکرورہ - حقیر

Disease, n. Distemper; illness; malady : * مرض مہاک، Fatal، عارضہ - بیماری - مرض **Contagious**، امراض چلپی، Skin-s، * Diseases are the tax on ill pleasures، بیماری عیاشی کی سزا ہے

Disembark, v. t. To put on shore; to land : جہاز سے کنارا پر اُتارنا

Disembowel, v. t. To take out the bowels of : آنت نکالنا

Disenable, v. t. To deprive of power; to disqualify : ناقامت کرنا - ناقابل کرنا

Disenchant, v. t. To free from enchantment : سحر توڑنا - چادر دور کرنا - افسوں اتارنا

Disencumber, v. t. To disburden : ہلکا کرنا - بار دور کرنا - بوجھ اوتارنا

Disengage, v. t. To separate; to extricate; to withdraw; to release : - الگ کرنا - نکالنا - چھوڑنا - مخلصی دینا - ہٹانا

Disenroll, v. t. To erase from a roll or list : فہرست سے نام کاتنا یا خارج کرنا

Disentangle, v. t. To unravel; to disengage; to set free from impediments : الگ کرنا - آزاد کرنا - صاف کرنا

Syn.—Untold, loose, untwist, separate.

Disesteem, n. Want of esteem; a disregard : بے قدری - دم لفظی

Disfavour, n. Slight displeasure; discountenance : ناخوشی - ناراضی

Disfigure, v. t. To change to a worse from to deface : شکل بگاڑنا - بدصورت کرنا

Disfranchise, v. t. To deprive of privileges : حقرت - چھین لینا

* **Disgorge, v. t.** To vomit : استفرار کرنا : **To discharge; to give up** : - راج کرنا - خارج کرنا : نکال دینا

Disgrace, n. Shame; ignominy; dishonour; disesteem; infamy; cause of shame . - ذلت - ہتک - بدنامی - فضیحت - رسوائی - بے غیرتی - عیب - **v. t.** To put out of favour; to dishonour; to bring disgrace or shame upon : - ذلیل کرنا - بے آبرو کرنا - بے وقور کرنا - فضیحت کرنا - نام کو ہٹا لگانا

Disgraceful, a. Shameful; disreputable; base : شرم آمیز - ذلیل - زبورن - نامعقول - کمینہ - پاجیٹا

Disguise, v. t. To change the appearance of; to disguise; to hide; to mask; to veil : بھیس بدلنا - صورت تبدیل کرنا - بد شکل بنانا - چھپانا - پردہ ڈالنا

Syn.—Conceal, dissemble, feign.

Disgust, n. Dislike; aversion; loathing; abhorrence : فرت - کراہیت - قنفر - بڑی نا پسندی

Syn.—Distaste, aversion.

—, **v. t.** To offend the taste; to displease : جی اٹھانا یا بگاڑنا - دل پھیر دینا - نفرت دلانا - چیچھنا

Dish, n. Vessel for serving up food; a particular kind of : * رکابی - قاب - تھالی - کھانا - پورسا : **Dish-cloth, dish-clout,** صافی - جھارت

Dishabit, *v. t.* To throw out of place ; to expel :

نکال دینا - خارج کرنا

Dishearten, *v. t.* To discourage ; to dispirit ; to

deject : *حوصہ* - *حوصہ* : *ہمت توڑنا* - *من بگاڑنا* - *بے دل کرنا* - *حوصہ*

پست کرنا - آزاد کرنا

Dishevil, *v. t.* To spread the hair disorderly :

بکھرے ہوئے * *led looks*, *بال بکھیرنا* یا *کھوسرنا*

بال - *زلف ہریشان*

Dishonest, *a.* Wanting in honesty ; fraudulent ;

indecent ; *inchaste* : *بے ایمان* - *بد دیانت* -

* *دغا باز* - *بدکار* - *ناراست* - *بد نیت* - *خلاف عہد*

- *transaction*, *چھوٹا معاملہ* - *بے ایمانی کا سودا*

Dishonesty, *n.* Want of honesty ; faithlessness ;

fraud ; *unchastity* : *بے ایمانی* - *بد دیانتی ناراستی* -

دھوکھا - *بدکاری*

Dishonor, *n.* Disgrace ; ignominy ; shame

reproach : *بے عزتی* - *بدنامی* - *سراپتی*

Dishonour, *v. t.* To bring shame upon ; to

refuse to pay : *بے حرمت کرنا* - *بے آبرو کرنا* -

بھنڈی *نہ سکارنا*

Dishonorable, *a.* Disgraceful ; shameful :

بے آبرو - *ذلیل* - *شرمنگ* - *ذلت رماں*

Dishonorably, *ad.* Ignominiously : *بے آبروئی سے* -

ذلیلانہ

Dishonour, *n.* Ill-humour : *بدمزاجی* - *چڑچڑاہٹ*

Disinclination, *n.* Dislike ; aversion ; unwilling-

ness : *نفرت* - *کراہیت* - *چڑا* - *علم میلان* - *اعتراض* :

کرنا - *ناپسندی*

Disincline, *v. t.* To produce dislike ; to make

averse : *متنفر کرنا* - *دل پھیرنا* - *روکش کرنا* - *رجوع* :

نکرتا - *بھاگنا* - *دور رہنا*

Disinfect, *v. t.* To cleanse from infection ; to

purify : *بدمزاجی دور کرنا* - *چھرت چھٹانا* - *اثر بدلنا* - *مرض* :

متعدی کے مادے کو ماز کو صاف کرنا

Disingenuous, *n.* Not noble ; mean ; wanting

in frankness ; *unsincere* ; *crafty* : *فریبی* -

کمینتہ - *ذلیل* - *دورنگا* - *مکار*

Syn.—Unfair, illiberal, deceitful.

Disinherit, *v. t.* To cut off from hereditary

right : *عاق کرنا* - *خارج کرنا* - *محرور الارث کرنا*

Disinter, *v. t.* To unbury ; to dig up : *گرمی* *ہوئی چیز* :

کھرد کر باہر نکالنا - *قبر میں سے مردہ نکالنا* - *باہر لانا* -

Disinterested, *a.* Unselfish ; indifferent : *بے*

غرض - *بے ہررا* - *بے طمع* - *بے تعلق* - *بے سروکار*

Disinterested party, *فریق بے غرض*

Syn.—Unbiased, impartial, indifferent.

Disjoin, *v. t.* To separate ; to disunite : *جدا کرنا* -

توڑنا - *الک کرنا* - *بے رہنا کرنا*

Syn.—Separate, sever, detach.

Ant.—Unite, join, compose, attach.

Disjoint, *v. t.* To put out of joint ; to dislocate :

جڑ جڑ علیحدہ کرنا - *بند بند کھولنا*

Disjunction, *n.* Disunion ; separation : *مفارقت* -

عہدگی - *جدائی*

Disjunctive, *a. v.* Disjoining ; marking opposi-

tion in sense : *جدا کرنیوالا* - *علیحدہ کرنیوالا* -

v. A word that ** اختلاف* یا *مقابلہ ظاہر کرنیوالا*

disjoins : *حرف تردید*

Disk, See Disc.

Dislike, *n.* Disinclination ; aversion : *ناپسندی* -

کراہیت - *نفرت* - *ناپسندی*

Syn.—Disapprobation, aversion.

—, *v. t.* To disapprove ; to have aversion to ;

not to like : *ناپسند کرنا* - *نفرت کرنا* - *مکروہہ جانتا* -

پرا جانتا

Dislocate, *v. t.* To displace ; to put out of joint :

سرکانا - *ہٹانا* - *ہٹتی ٹالنا* - *گلتھہ سے اُکھڑنا*

Dislocation, *n.* Act of displacing ; a disjoin-

ing : *ہٹتی کا سرکانا* - *تھکل* - *سریگ ہوا جڑنا*

Dislodge, *v. t.* To drive from a place of rest :

To ** دور کرنا* - *نکال دینا* - *ہٹانا* - *اڑھنا دینا*

کرایہ دار کو اڑھنا دینا

Disloyal, *a.* False to allegiance ; faithless :

نمک حرام - *بے ایمان* - *بے وفا* - *بدخواہ*

Disloyalty, *n.* Want of fidelity : *بے ایمانی* - *بغاوت* - *سرکشی*

Dismal, *a.* Sorrowful ; dreadful ; gloomy ;

dark : *غمگین* - *ہولناک* - *مہیب* - *تاریک* - *اندھیرا*

Syn.—Dreary, lonesome, gloomy, sad, unhappy.

Ant.—Radiant, gleaming, bright, clear, glow-

ing.

Dismantle, *v. t.* To strip ; to divest ; to break

down ; to render useless ; to demolish : *تکا*

کرنا - *اُتار لینا* - *توڑ ڈالنا*

Dismask, v. t. To uncover : بزقہ اتارنا - پردہ اٹھانا

Dismast, v. t. To deprive of masts : مستول توڑنا
ڈالنا

Dismay, v. t. To terrify ; to discourage ; to daunt ; to appall : ہمت توڑنا - دہشت دلانا - n. خوف - دہشت - ہول
Loss of courage ; terror :

Syn.—Fear, fright, terror, dejection.

Dismember, v. t. To separate member from member ; to sever the parts of : عجز اٹک - باند باند جدا کرنا - بانٹنا - ایک ایک کرنا

Dismiss, v. t. To send away ; to discharge ; to reject ; to send away ; to remove from office : رخصت کرنا - موقوف یا خارج کرنا - برطرف کرنا - چھڑا دینا

Dismissal, n. Discharge ; dismissal : برخاستگی - موقوفی - برطرفی - معزلی

Dismission, n. Act of dismissing : معزلی - برطرفی - برخاستگی

Dismount, v. t. To descend ; to alight from a horse : اترنا - نیچے آنا - گھوڑے پر سے اترنا

Disobedience, n. Neglect or refusal to obey : نافرمانی - انصراف - سرکشی

Disobedient, a. Refusing to obey ; undutiful : نافرمانی پر دار - سرکش - منحرف

Disobey, v. t. To neglect or refuse to obey : نافرمانی کرنا - سرکشی کرنا - نہ ماننا - عدول حکمی کرنا

Syn.—Transgress, violate, infringe.

Ant.—Obey, comply, consent.

Disoblige, v. t. To offend ; to displease ; by declining to do a friendly service : رنجیدہ کرنا - ناخوش کرنا - احسان کرنے سے ناراض کرنا - بے مروتی سے ناراض کرنا

Disorder, n. Want of order : بد انتظامی - ابدی *
Confusion : عارضہ - Disease : ہنگامہ - گھبراہٹ : خلل دماغ - بیماری *
—of the brain

—, v. t. To throw into confusion ; to derange ; to disturb ; to make sick : بے درہم بڑھ کرنا - بے ترتیب کرنا - حیران کرنا - بیمار کرنا

Disorderly, a. Lawless : Out of order : خراب *
Tumultous : بے ترتیب - بے قاعدہ -
turbulent : شرور شریقی

Disordinate, a. Vicious : زشت - فاسد

Disorganization, n. Subversion of order or system : بے ترتیبی - بد انتظامی - پریشانی

Disorganize, v. t. To destroy the harmony of ; to throw into disorder : بے ترتیب کرنا - بے ترتیب کرنا - درہم بڑھ کرنا

Disown, v. t. To disavow ; to renounce ; to deny : قبول نہ کرنا - تری کرنا - انکار کرنا

Disparage, v. t. To vilify ; to debase : برائی کرنا - کم قدر کرنا

Syn.—Decry, discredit, lower, under-value.

Disparity, n. Inequality ; unlikeness : اختلاف - تفاوت - نامرافقت

Dispassionate, a. Free from passion ; cool ; temperate ; impartial : حلیم - بردبار - منصف - سچا - سلیم الطبع - سادہان - بے طرفدار

Dispatch, See Despatch.

Dispel, v. t. To drive away ; to scatter ; to dissipate : دور کرنا - رفع کرنا - نکالنا - بھگانا - برباد کرنا

Dispensable, a. Capable of being dispensed with : چھڑے جانے کے لائق - جسکے بغیر ہرج نہ ہو

Dispensary, n. A place where medicines and medical advice are given gratis to the poor : دارالشفاء - خیراتی شفا خانہ یا درواخانہ

Dispensation, n. Distribution : تقسیم - بانٹ - برائت : Exemption * قسمت - نصیب - تندہر مرضی خدا : Method of Providence * معنی

Dispensatory, a. Granting dispensation : برائت دینے والا

—, n. A book for compounding medicines : کتاب نسخہ جات

Dispense, v. t. To deal out ; to distribute ; to administer ; to make up a medicine : بانٹنا - حصہ کرنا - دینا - دروا بنانا

—with, v. t. To do without : بے درہم کرنا - بے ترتیبی سے چھٹانا
—with : بے درہم کرنا - بے درہم کرنا - بے درہم کرنا
—a prescription : بے درہم کرنا - بے درہم کرنا
—justice : بے درہم کرنا - بے درہم کرنا
یا بنا دینا

Dispeople, v. t. To depopulate : - ویران کرنا -
آجائنا - برباد کرنا

Disperge, v. t. To sprinkle : چھڑکنا

Disperse, v. t. To scatter ; to spread abroad ;
to distribute : - پھیلانا - منتشر کرنا - پراگندہ کرنا -
v. i. * چھترانا - بانٹنا - تتر بتر کرنا - تین تیرہ کرنا
To separate ; to vanish ; to distribute wealth :
پھیلنا - الگ الگ ہونا - منتشر ہونا

Dispersion, n. Act of scattering or state of
being scattered : پھیلاؤ - انتشار - پراگندگی - ایتری

Dispirit, v. t. To discourage ; to di-hearten :
ہمت یا دل توڑنا - آرزوہ کرنا - بیزار کرنا

Displace, v. t. To put out of place ; to disorder ;
to dismiss : الگ رکھنا - اہت یلت کرنا - مرقرف کرنا :
Syn. - Disarrange, discard.

Displacement, n. The act of displacing :
علحدگی - جنبش - ہٹاؤ

Displacency, n. Displeasure : ناخوشی -
ناراضماندی - خفگی

Display, v. t. To spread wide ; to exhibit ; to
set out ostentatiously ; to view : پھیلانا - ظاہر
کرنا - دکھانا - عیاں کرنا

Syn. - Exhibit, show, spread out.

Display, n. An ostentatious show ; an exhibi-
tion ; parade : نمائش - اظہار - دکھار - تماشا -
نمایش - دھوم دھام

Displease, v. t. To give offence ; to dissatisfy :
ناراض کرنا - ناخوش کرنا - رنجیدہ کرنا

Displeasing, a. Disagreeable : ناگوار -
ناپسندیدہ - گھناؤنا

Displeasure, n. Slight anger ; dissatisfaction :
خفگی - بیزارگی - ناراضگی - ناخوشی

Disport, v. t. To play ; to wanton ; to divert :
کھیلنا - کھیل کرنا - دل بہلانا

Disposal, n. Regulation ; management ;
arrangement ; power to dispose of : اختیار -
* فیصاء - ترتیب - بندوبست - انتظام - اختیار - قابو

—for life, آپکے اختیار، * At your— شادی کر دینا،
تصرف یا حکم پر منحصر، * Held at— میں

Dispose, v. t. To place ; to regulate ; to incline ;
to bestow ; to adapt or fit ; to settle ; to sell :

رکھنا - مرتب کرنا - موافق کرنا - مائل کرنا - دیدینا -
مشغول کرنا - سنبھالنا - بیچ دینا - چکانا - فیصلہ کرنا -
To— * بیچ ڈالنا - فروخت کرنا، * To—of، * الگ کرنا
for، * To—of a dispute، * مردوز بننا
چکانا - تصفیہ کرنا

Disposition, n. Arrangement ; order ; inclina-
tion ; temper of mind : ترتیب - سجاوٹ - انتظام
—Of، * رغبت - طبیعت - مزاج - شوق - التفات
ذاتی یا، * Natural— انتقال حایداد
جہلی خاصیت یا عادت

Dispossess, v. t. To put out of possession ; to
deprive : بیدخل کرنا - محروم کرنا - خارج کرنا
حق دبا لینا - تصرف بیجا کرنا
* —wrongfully

Disproof, n. Refutation : پے ثبوتی - بطلان - تردید

Disproportion, n. Want of symmetry ; un-
suitableness : نامناسبیت - پے اندازگی - پے اعتدالی -
پے تناسبی

Disproportional, a. Lacking due proportion :
پے اندازہ - ناموافق کمتی بڑھتی

Disproportionate, a. Unsuitable : ناموافق - پے
اندازہ - پے قول

Disprove, v. t. To prove to be false ; to refute :
باطل کرنا - جوڑنا ثابت کرنا - رد کرنا - غلط ٹھہرانا

Dispunge, v. t. To blot out ; to erase : مٹا دینا -
چھیل ڈالنا

Disputable, a. Controvertible : ممکن التکرار - قابل
مباحثہ

Disputant, n. One who disputes ; a reasoner :
مباحثہ کرنے والا - معترض

Disputation, n. Act of disputing ; controversy ;
argumentation : حجت - تکرار - بحث - مناظر

Disputatious, a. Given to dispute ; captious ;
cavilling : حجتی - تکراری - قضیہ دلال - جھگڑار

Dispute, v. t. To debate ; to discuss ; to con-
tend for : تقریر کرنا - بحث کرنا - تکرار کرنا - حجت
* To—one's، * کرنا - معترض ہونا - لڑنا - جھگڑنا

اپنے حق پے جھگڑنا، right

Dispute, n. A controversy ; a debate ; a con-
test : بحث - حجت - جھگڑا - تکرار

Disqualification, n. Act of disqualifying ;
disability : نااہلی - نااہلیت - ناموافق - نااہلیتگی

Disqualify, v. t. To make unfit ; to disable : نالایق بنانا - ناکابل کرنا

Disquiet, Disquietude, n. Want of tranquillity ; uneasiness ; anxiety : بے چینگی - بے کلي - تردد - بے صبری - گھبرائش - فکر

Disquisition, n. A discussion ; an examination : مباحثہ - مناظرہ - تفتیش - پوری تحقیقات

Disregard, n. Slight notice ; neglect : عدم * توجہی - عدم لحاظی - بے پروائی - غفلت - بے التفاتی
v. t. To slight ; to neglect ; to pay no heed to : لحاظ نہ کرنا - غفلت کرنا - بے پروائی کرنا

Disregardful, a. Negligent : غافل - عدم لحاظ - بے خیر - بے پروا

Disrelish, n. Distaste ; dislike : بے مزگی - ناپسندی - نفرت - بدمزگی - ناگوارگی

Disreputable, a. In bad repute ; disgraceful : بے وقار - ناشایستہ - بے قدر - نامعقول

Disrepute, n. Want of reputation ; disgrace ; discredit : بے قدری - مذمت - رسوائی - ذلیل و خوار کرنا - نام کو بٹا کرنا

Disrespect, n. Want of respect ; incivility ; rudeness : بے ادبی - بے امتیازی - گستاخی - شرخی
v. t. بے ادبی کرنا - بے قدری کرنا

Disrespectful, a. Uncivil ; irreverent : بے تمیز - بے ادب - گستاخ

Disrobe, v. t. To undress ; to uncover : کپڑے اتارنا - برہنہ کرنا - ننگا کرنا

Disruption, n. Act of breaking asunder , a rent : پھوٹ - دریدگی - شق - شگاف

Disruptive, a. Bursting : توڑنے والا - پھوڑنے والا

Dissatisfaction, n. Discontent ; disapprobation ; disgust : ناپسندی - ناپسندیدگی - ناخوشی

Dissatisfactory, a. Not giving satisfaction : ناپسند خاطر - بے اطمینان - ناکافی

Dissatisfy, v. t. To displease ; to discontent : ناخوش کرنا - ناراض کرنا - رنجیدہ کرنا - خاطر جمع نہ کرنا - بیزار کرنا

Dissect, v. t. To cut up ; to anatomize : کاٹنا - چیرنا - امتحان کرنا

Dissection, n. Act of dissecting ; anatomy : چیر پھاڑ - تشریح

Disseize, v. t. To dispossess wrongfully : چوراً بیدخل کرنا

Dissemble, v. t. To play the hypocrite ; to disguise ; to pretend : مکر کرنا - بھیس بدلنا - حیلہ یا بہانہ کرنا

Dissembler, n. A hypocrite : ریاکار - زمانہ ساز - مکار

Disseminate, v. t. To sow ; to scatter ; to disperse ; to spread abroad : بڑا - پھیلانا - چھترانا - ظاہر کرنا - شہرت دینا
Syn.—Spread, diffuse, disperse.

Dissemination, n. Diffusion : انتشار - چھٹکاؤ - چھتراؤ - پھیلاؤ

Dissension, n. Disagreement ; strife ; contention ; discord : تفاق - جھگڑا - مخالفت - قضیہ - ان - بن - بگاڑ - رنجش

Dissent, v. t. To differ in opinion ; to disagree ; to deny : * اختلاف کرنا - ناموافق ہونا - انکار کرنا
n. Disagreement ; difference of opinion : ناموافق - اختلاف رائے - ناراضماندی - انکار

Dissenter, n. One who dissents ; a non-conformist : معتقد الراءے - مخالف دین مزوجہ - منکر

Dissentient, a. Disagreeing : غیر متفق - مخالف

Dissertation, n. A discourse ; an essay ; a treatise : تقریر - بیان - مضمون - درس - رسالہ

Disserve, v. t. To injure : ضرر یا نقصان پہنچانا

Dissever, v. t. To cut in two ; to break ; to divide : دو ٹکڑے کرنا - در حصہ کرنا - توڑنا - جدا کرنا

Dissidence, n. Disagreement ; dissent : ناموافق - اختلاف

Dissimilar, a. Unlike ; diverse : برعکس - مختلف - غیر جنس

Dissimilarity, Dissimilitude, n. Unlikeness ; want of resemblance : ناموافق - مختلف - غیر مشابہت

Dissimulation, n. Concealing one's real feelings under a false appearance ; hypocrisy ; pretention : ریاکاری - مکر - زمانہ سازی - فریب - ظاہر داری

Dissipate, v. t. To scatter; to disperse; to squander: ہترانا - پھیلاؤ - برباد کرنا - اُڑا دینا

Syn.—Dispel, spend, squander.

Dissipated, a. Squandered; given to profligacy; debauched: - برباد شدہ - عیاش - اربش - آوارہ

Dissipation, n. Dispersion; an abandoned life; trifles or pleasures that waste time: پھیلاؤ - انتشار - چھتراؤ - بربادی - پراگندگی - چھوٹی

چھوٹی باتیں - کھیل یا تماشے جنسے وقت ضایع ہوتا ہے - ارباشی - عیاشی

Dissociate, v. t. To separate; to disunite: علیحدہ کرنا - جدا کرنا

Dissoluble, a. That may be dissolved: گلنے یا ملنے کے قابل

Dissolute, a. Loose in morals; licentious: بد چلن - بدکار - آزارہ

Syn.—Uncurbed, wild, lewd, rakish.

Dissolution, n. Decomposition; liquefaction: بربادی - فنا - ہلاکت - موت - معدومیت

* Destruction; death: تخریب - تفریق

Dissolve, v. t. To melt; to dismiss; to separate: پگھلانا - ہل کرنا - کھلانا - برخاست کرنا - جدا کرنا

Dissolvent, a. Solvent: گرا زندہ - مصلح

Dissonance, n. Discord; disagreement: ناسازگاری - ناموافقت - اختلاف

Dissortant, a. Discordant; unharmonious: ناموافقت - بے میل

Dissuade, v. t. To advise or exhort against; to try to turn from a purpose by remonstrance: باز رکھنا - منع کرنا - سمجھا کے باز رکھنے کی کوشش کرنا

Dissuasive, a. Tending to dissuade: باز رکھنے والا - مانع - مزاحم

Dissyllable, n. A word of two syllables: دو حرکت کا لفظ

Distaff, n. A staff from which flax is drawn in spinning: تکلا - بونہی

Distance, n. Space between two objects; remoteness: فاصلہ

* Respect: ادب * Alienation: جدائی

* Aversion: نفرت * Coldness: سرد مزاجی

Hostility; enmity: دشمنی * Variance: - پھرت

v. t. To leave behind, as in a race: پیچھے چھوڑنا - تفاوت پر رکھنا - کسی سے دور نکل جانا

گھر دراز نا post—کسی پر فوق لے جانا

* To keep at a—, At a—, * نشان

منہ نہ لگانا - دور رکھنا

Distant, a. Remote in place or time; reserved; separate: دور - بعید - سرد مزاج - روکھا - علیحدہ

Syn.—Far, indistinct, shy, cool, haughty.

Distaste, n. Disrelish; dislike; aversion: بد مزگی - ناپسندگی - نفرت - گریز - تصریح

Distemper, n. A disease; ill-humour disorder; tumult: مرض - عالت - بد مزاجی - ہنگامہ - بارہ

v. t. To derange the temper; to disease: پریشان کرنا - بیمار کرنا

Distend, v. t. To stretch out; to spread apart; to swell: پھیلانا - پھیلانا - تاننا - پھول جانا

Distension, n. A stretching; breadth: کھڑ پھیلاؤ - چوڑائی

Distich, n. A couplet of verses: بیت - فرد - دو عا

Distil, v. t. To let fall in drops; to rectify: عرق نکھینچنا - چرانا

v. t. To fall in drops; to flow gently: ٹپکنا - چرنا

Distillation, n. Act of distilling: عرق کشی - چراؤ - ٹپکنا

Distillery, n. A place where spirits are distilled: سے خانہ - بھٹی خانہ - آبکاری

Distinct, a. Separate; different; clear; obvious; definite: علیحدہ - مختلف - جدا - صاف - واضح - ظاہر - تحقیق - غیر مبہم

Distinction, n. Division; discrimination; difference; conspicuous station; eminence: تقسیم - قسمت - درجہ - مرتبہ - فوقیت - تفاوت

شاخص - فرق - فرق - نامور

Distinctive, a. Marking distinction: فرق کو نیرالا - سمیز - پہچان کا

Distinctness, n. Plainness; perspicuity: صفائی - وضاحت - امتیاز - ادراک

Distinguish, v. t. To note the difference; to separate; to discern critically; to re-

- cognize ; to make eminent : - امتیاز یا تمیز کرنا - فرق بنانا - جدا کرنا - پہچاننا - شہرت دینا
- Distinguishable, a.** Capable of being distinguished : قابل تمیز
- Distinguished, a.** Illustrious : نامور - ممتاز - مشہور
- Distort, v. t.** To writhe ; to twist ; to deform ; to pervert ; to put out of the true posture : ایٹھنا معنی یا مٹا - الٹنا - زورنا - پیچ دینا - سکڑنا - بگاڑنا
- Syn.—Twist, deform, bend, pervert, wrest.
- Distortion, n.** Act of distorting ; the state of being twisted ; perversion : - زور - ایٹھنا - of the face, منہ کا تیزھا ہوجانا - لٹرہ
- Distract, v. t.** To turn away : * To perplex ; to confuse ; to render insane ; to draw a part or a way : حیرت - مضطرب کرنا - گھبرانا - میں ڈالنا - دیوانہ کرنا - ہر طرف گھبھنا پڑے کرنا - درز کرنا
- Distraction, n.** Confusion ; perplexity ; disorder : گھبرائیت - پریشانی - اضطراب - خبط - بدحواسی
- Distractive, a.** Tending to confuse : پریشان کرنا - منتشر خاطر
- Distrain, v. t.** To seize goods for debt : ضبط کرنا - قرق کرنا
- Distraint, n.** A seizure for debt : قرقی
- Distress, n.** Extreme suffering ; misfortune ; pain ; grief ; the act of distraining : مصیبت - ایذا - تکلیف - رنج - قرقی
- , **v. t.** To afflict ; to harass ; to seize for debt : تکلیف دینا - تصدیعہ دینا - دکھ دینا - قرق کرنا
- Distressful, a.** Full of trouble ; پر درد - رنج - آلودہ
- Distribute, v. t.** To divide among several ; to allot ; to administer ; (*Print.*) to restore type in boxes ; متقسم کرنا - بانٹنا - دینا - خانہ میں - حروف پھینکنا
- Syn.—Disperse, allot, share.
- Distribution, n.** Act of distributing ; classification allotment ; alms-giving : تقسیم - بانٹ - ترتیب - خیرات
- Distributive, a.** Tending to distribute ; expressing separation : بانٹنیوالا - تجاؤز - افرادی
- District, n.** A territorial division ; circuit ; ضلع - علاقہ - صوبہ - عملداری
- Distrust, v. t.** To disbelieve ; to suspect ; to doubt : ہوسہ نہ کرنا - شبہہ کرنا - ہے اعتباری - شبہہ - شک
- Distrustful, a.** Apt to distrust ; diffident : بدگمان - مشتبہہ - شکي - رھي
- Disturb, v. t.** To perplex ; to agitate ; to de-ange ; to interrupt : چھیڑنا - پریشان کرنا - درعم - پرہم کرنا - ایتہ کرنا - بے ترتیب کرنا - خلل ڈالنا - باز رکھنا
- Disturbance, n.** Confusion ; agitation ; interruption ; uneasiness : ہنگامہ - گزب - خلل - ہرج - مزاحمت - بے قراری
- Disunion, n.** Want of union ; separation ; contention ; severance ; dissension : فاسازی - جدائی - نا اتفاق - پھرت - بے چیني - اضطراب - ہنگامہ
- Disunite, v. t.** To separate ; to part : الگ کرنا - جدا کرنا
- Disuse, n.** Cessation of use to custom : بے استعمال - استعمالی - بے رواجی
- Disaccustom, v. t.** To cease to use ; to ترک کرنا
- Disvalue, v. t.** Depreciate : کمقدر کرنا - ناچیز جاننا
- Ditch, n.** A trench cut in the ground ; a moat ; any long narrow receptacle of water : کھائی - غا - خندق - ڈالا - موری
- Ditto, n.** The same thing repeated ; as stated above : * ایضا - رھي - ایساہي - علیٰ ہذا القیاس
- To say—to, to acquiesce in : منظور کرنا
- Ditty, n.** A poem to be sung : نغمہ - گیت - راگني - ترانا - ٹھمري
- Diurnal, a.** Pertaining to the daytime ; daily : روز نامہ
- n.** A day-book : روز نامہ

Divaricate, v. i. To divide into two : دو حصہ ہونا - پھٹنا - شق ہونا

Dive, v. i. To plunge underwater ; to go deep ; to penetrate : - قریبنا - قریبی مارنا - قریبنا - مصروف ہونا - مستغرق ہونا - مجزوب ہونا - تھ کو پھرنیچنا

Diver, n. One who dives : غواص - پن قبا

Diverge, v. i. To tend various ways from one point ; to recede from : - چھترنا - منتشر ہونا - پھیلتا - پھرتا

Divergence, n. A receding from ; a going aside : ہٹاؤ - پھیلاؤ

Divers, a. Several ; more than one ; sundry : کئی ایک - چند

Diverse, a. Different ; various : - متفرق - مختلف کئی - گونا گوں - اقسام اقسام کا

Diversification, n. Variety ; change : - اختلاف تبدیلی - رنگ برنگی - بوقلمونی

Diversify, v. t. To make different ; to variegate ; to dapple : - طرچ بطرح کرنا - مختلف شکل یا صفت کا بنانا - بوقلموں یا گونا گوں کرنا

Diversion, n. Turning aside ; sport ; amusement ; a mock attack : - موڑ - انحراف - کھیل - تماشا - تفریح - دل بہلانے والی بات - چھوڑنا - حوصلہ مغالطہ

Diversity, n. Difference ; variety ; unlikeness : فرق - انواع و اقسام - اختلاف - تفاوت - عدم مشابہت

Divert, v. t. To turn aside ; to amuse : - موڑنا - پھیرنا - دل بہلانا

Livest, v. t. To strip ; to deprive ; to dispossess : - اڑھانا - ننگا کرنا - چھین لینا - محروم کرنا - بد دخل کرنا

Divide, v. t. To sever into parts ; to separate ; to distribute ; to share : - جدا کرنا - تقسیم کرنا - حصہ کرنا - بانٹنا - حصہ کرنا

Divide, v. i. To cleave ; to break the friendship ; to be of different opinions : - پھٹنا - شق ہونا - جدا ہونا - دوستی توڑنا - مختلف رائے ہونا

Dividend, n. A number or quantity to be divided : عدد مقسوم * A share paid to creditors : سود - مذافع - حصہ

Divination, n. Act of divining ; prediction ; the supposed art of foretelling future : پیشبینی - گدڑی - علم غیب - الہام

Divine, a. Pertaining to God ; heavenly ; excellent : خدائی - رحمانی - قدرتی - آسمانی - عمدہ - اولیٰ - اولیٰ * To err is human to forgive— : پورے کام انسان کا بخشش کام رحمان کا

Syn.—Godlike, heavenly, supernatural, sacred.

Divine, v. t. To foretell : پیشبینی کرنا - غیب کی بات بنانا

Divinity, n. Divine nature ; Deity ; theology : * الہیت - خدائی - پریشور - علم تصوف - علم الہی علم الہی جاننے والا - علم تصوف - عرف - صرفی

Divisible, a. Capable of being divided : قابل تقسیم - قسمت پذیر

Division, n. Act of dividing ; partition : - تقسیم Section * قسمت - بھاگ * Share : * عہدگی - بٹوارہ قسمت - Section of a province : * فصل - باب * اختلاف - نامرتبہ : Disunion ; variance : * نمشور Beat : * ضربہ - پرگنہ - قسمت (of a country), (Arith.) * دستہ - حصہ فرج - پورا (Mil.) * علاقہ - حلقہ The process of finding how many times one number or quantity is contained in another : تقسیم - بھاگ

Syn—Compartment, share, variance, partition.

Divisor, n. The number by which the dividend is divided : قاسم - مقسوم علیہ

Divorce, n. A legal dissolution of the marriage contract : طلاق * v. t. To separate a husband or wife ; to disunite : چھوڑنا - طلاق لینا - تیاگانا

Divulge, v. t. To reveal ; to publish ; to make known : ظاہر کرنا - انشا کرنا - مشہور کرنا - فاش کرنا

Dizziness, n. Giddiness in the head : دوران سر - چکر - گھومری

Dizzy, a. Giddy ; confused : سرگرداں - مدھوش

Do, v. t. T perform ; to make ; to accomplish ; to cook completely : to translate into ; to deceive ; to explore : کرنا - بنانا - انجام دینا - کھانا پکنا
 v. i. To behave ; to fare ; to suit ; to answer ; to have done with anything : سلوک کرنا - گذرنا - کسی حال میں ہونا
 بسر ہرنا - موافق ہرنا - کافی ہونا - فارغ ہونا
To—away, to remove : چھوڑنا - آزاد ہونا
To annul : منسوخ کرنا
To—into, to translate : توڑنا * ترجمہ کرنا
To—off : ہلاک کرنا * کپڑے پہننا
To—on * پرہتہ کرنا
To—over, to perform again ; to repeat : دوبارہ کرنا - دہرائنا
To—up, to put up ; to tie up : باندھنا - لپیٹنا
To—with, to dispose of : کر چکنا
To—out of, to cheat : دھوکا دینا
To—without, to have business with : سروکار رکھنا
How—you—? How are you getting on ? ان دنوں آپکا مزاج کیسا ہے
How does your honour for this many a day ? ان دنوں آپکا مزاج کیسا رہتا ہے
Could not—withal, could not help it : لاچار تھا

Syn.—Aet, perform, achieve, fare, make, cause.

Docile, a. Teachable ; ready to learn : سیکھنے کے قابل - تربیت پذیر

Docility, n. Teachableness : تربیت پذیری - اصلاح پذیرگی - غوریگی

Dock, n. The stump of a tail : دم
 to receive vessels : بندرگاہ - گھاٹ
 A place in court where criminals stand : تھرا
 —dues : آسٹیک

Docket, n. A label tied to goods ; a summary or digest ; an abridged entry of proceedings in an action : ایک تھرا
 An official letter : پتہ - خلاصہ - یادداشت

Dockyard, n. A place for depositing naval stores : جہاز بندھنے کا گودام

Doctor, n. A title in Divinity of Law, &c., a learned man ; a physician : عالم - ملا - فاضل
 * of Divinity, ہادی - حکیم
 * of law, —of horse, قتی - قاضی - شرع چاہنے والا
 سلوٹری

Doctress, n. A female doctor : - طالبہ - عورت معالج

Doctrinal, a. Pertaining to or containing doctrine : تعلیمی - اصولی - حکمی

Doctrine, n. What is taught ; a principle of belief ; tenet ; instruction : تعلیم - عقائد دین - اصول نام - قضیات - مذہبی سند

Document, n. A written instruction ; proof ; precept : سند - دستاویز - تمسک - پروا - ہدایت
 دلیل - پند

Documentary, a. Pertaining to written evidence : سند
 —proof, سند
 دستاویزی - تحریری - سند
 دلیل - تحریری ثبوت

Dodecagon, n. A figure of twelve equal sides : شکل دوازدہ اضلاع

Dodge, v. t. or i. To start suddenly aside ; to evade ; to use mean tricks ; to quibble : ہٹ جانا
 بچنا جانا - ڈال مٹول کرنا - کٹرانا - دائیں بٹئیں دیکر چھوٹنا
 n. A dexterous device : چال - دم بازی

Dodgery, n. Trickery : چال - فریب - چھوٹنا

Dodo, n. ایک قسم کا سب سے بڑا پرند جو اب ڈابید ہے - سیمورغ - عفا

Doe, n. A female deer : ہرنی - مادہ آہو

Doff, v. t. To put off ; to strip : اُتارنا - ننگ کرنا
 دور کرنا

Dog, n. A domestic animal ; an audiron : نٹا
 * To go to the—s, 'o go to ruin : لوٹنے کا آنکڑا
 * To lead the life of a—, to live a wretched, miserable life : خراب ہو جانا - خراب ہو جانا
 —cheap, exceedingly cheap : نہایت سستا - کوریزوں
 —sleep, a pretended sleep : چھوٹی
 * —keeper, * ٹینڈ
 * To follow as a dog : پیچھے لگنا
 * to worry : تنگ کرنا - تائبید کرنا

Dogcart, n. A one-horse vehicle for sportsmen : ایک گھوڑے کی گاڑی

Doggeral, n. Mean, undignified verse : زنگ قافیہ - شکستہ شعر

Dogma, n. A settled opinion ; a maxim or tenet : قول مستند - اصول - قاعدہ

Syn.—Opinion, preposition, doctrine.

Dogmatical, *a.* Authoritative ; positive ; over-bearing : - تعسکانه - مستقل - خود راے - خود بین - مضم

Dogmatism, *n.* Positiveness in opinion : خود بینی - خود رائی

Dogmatize, *v. i.* To assert positively ; to teach magisterially : یقیناً بیان کرنا - حاکم نہ طور سے تعلیم دینا - ہت دھرمی کرنا - بدعت کرنا

Dog-rose, *n.* صدا گلب - سیرتی

Dogs-bane, *n.* کچلا

Doings, *n.* Events ; proceedings ; behaviour : معاملات - افعال - حرکات

Doit, *n.* A small piece of Dutch money ; a trifle : دمڑی - ایک کا آٹھراں حصہ - ناچیز شے

Dole, *n.* Anything dealt out ; a portion ; alms : *v. t.* * رنج * Grief * بانٹ - تقسیم - حصہ - خیرات
To deal out ; to distribute : بانٹنا - تقسیم کرنا

Doleful, Dolesome, *a.* Expressing grief ; sorrowful ; melancholy : رنج آلودہ - غمناک - آزرده - *sire* * پر درد راگ - *lay* * دلگیر - غمگین
بپ

Syn.—Mourful, woful, gloomy, sad.

Dolorific, Dolorifical, *a.* Causing pain or grief : غمناک - غم افزا - ماتم خیز - درد انگیز

Doll, *n.* A child's puppet or baby : کڑیا - گدا - کیتے : کا کھلونا

Dollar, *n.* A silver coin of the United States equal to *4s. 2d.* sterling : ملک امریکہ کا ایک سکہ
قیمت میں سوا دو روپیہ کے برابر

Dolorous, *a.* Sorrowful : غمگین

Dolphin, *n.* A sea fish : ایک قسم کی سمندری مچھلی

Colt, *n.* A heavy, stupid fellow ; a blockhead : احق - کودن

Domain, *n.* Dominion ; the territory over which the authority is exerted ; an estate : عملداری - علاقہ - ریاست - جاگیر

Syn.—Empire, possession, estate.

Dome, *n.* An arched roof or cupola ; a building : گنبد - قبة - عمارت - مکان - حویلی

Domestic, *a.* Pertaining to the house or home ; remaining much at home ; not foreign ; not wild : خانگی - گھریلو - پالتو - خانہ ساز

Domestic, *n.* A house-servant : ملازم خانگی - بوکر - معاملات خانگی * *affairs* - چاکر

Domesticate, *v. t.* To make domestic ; to tame : پالتو بنانا - سلا - دھنا - وابستہ کرنا

Domestics, *n. pl.* Home-made cotton cloth : * گھر کا بنا سوتی کپڑا - بوکر چاکر - خانگی ملازم

Domicile, *n.* A permanent residence ; an abode : *v. t.* * سکونت - مستقل - بود و باش - مکان : سکونت مستقل : نرنا - بود و باش اختیار کرنا

Domiciliary, *a.* مکان کے متعلق - مکان میں نفل کرنے خانہ تلاشی کے لئے جانا * *visit*, (*Law*) کے لئے

Dominance, *n.* Ascendancy : غلبہ - فرقیہ

Dominant, *a.* Predominant ; ruling ; prevailing ; غالب - فرما تورا - والا اقتدار - حکمران - زبردست

Dominate, *v. t.* To govern ; to prevail over : حکومت کرنا - سرداری کرنا - غالب ہونا

Domination, *n.* Act of dominating ; government ; tyranny : حکومت - فرمانروائی - عملداری - سلطنت - سرداری

Domineer, *v. t.* To rule with insolence ; to rule arbitrarily : ظلم سے حکومت کرنا - زبردستی کرنا

Dominion, *n.* Sovereign authority ; government ; territory ; highest authority ; chieftainship : حکومت - سلطنت - تلوہر - علاقہ - ملک - بزرگی - فضیلت - غلبہ - سرداری

Domino, *n.* Mosquerade cloak ; woman's mourning vest : برقعہ - نقاب - یودہ - ماتمی حرزا - یا لباس

Don, *v. t.* To put on : * *n.* Sir ; grandee, the head of a college : صاحب - امیر کبیر - سر مدرسہ

Donation, *n.* A gift ; a present : بخشش - نذرانہ - داد و دھش

Done, *pp.* of Do : * To have— * ہو چکنا - کر چکنا : * *brown*, * تھکا ہوا - ماندہ : * *up*, exhausted : * *completely* baffled : بے قوف بنایا گیا

Donee, *n.* One to whom a gift is made : موہرب الیہ - علیحدار - بخشش پانے والا

Donjon, *n.* The innermost part of a castle ; قلعہ کا اندر دنی حصہ - قید خانہ - زنداں - حصار

Donkey, *n.* An ass or mule; a stupid fellow :
گدھا - خچر - احمق - بیوقوف

Donor, *n.* One who gives; a benefactor : -
واہب -
دینے والا - بخشندہ

Doodle, *n.* A simple fellow : -
بیوقوف - کون -
نادان

Doom, *v. t.* To pronounce sentence; to condemn;
to destine; to ruin : -
سزا کا حکم دینا - تہی دینا -
تہی -
n. Judicial sentence; con-
demnation; unhappy fate; end : -
تہی - حکم -
قضا تقدیر - عاقبت

Doomsday, *n.* The day of judgment : -
روز معشر -
روز قیامت

Doomster, *n.* The public executioner : قاتل -
جلاد

Door, *n.* The entrance of a house or room; the
portal; a house; means of approach : -
دروازہ -
* To lie or be at one's
* کسیکے ذمہ لگنے کے قابل :
* In
* پاس - قریب :
* Next—to, near to :
* or within—s, within the house : -
* In
* کے بیچتر -
* —keeper,
* چوکھٹ کا بازو -
* —mat, انداز * دربان
* An empty door will
* پڑوس - قریب -
tempt a saint : مفت کی شراب قاضی کو بھی حلال

Dormancy, *n.* Quiescence; sleep : -
سکونت -
راحت - خواب

Dormant, *a.* Quiescent; sleeping; concealed :
* ساکن - دبا ہوا - مخفی
* —partner,
شریک

Dormitory, *n.* A large sleeping apartment :
سرنے کا کمرہ - خوابگاہ

Dormouse, *n.* A small rodent animal :
ایک گلہڑی :
کے قسم کا چھوٹا جانور

Dorsal, *a.* Relating to the back : -
پشت کے متعلق -
پچھلا

Dose, *n.* A certain quantity of medicine : -
اندازہ -
* مقدار -
* v. t. To give in doses : -
* معناد کرنا -
* مقدار -
اندازہ کرنا

Dot, *n.* A small point or stop :
* نقطہ -
* بڈی -
* v. t. To mark with dots :
* نقطہ دینا -
* نقطہ بٹان

Dotage, *n.* Imbecility of mind; excessive fond-
ness; the foolish affection of old man : -
جنون -
* عقل -
* فریفتگی -
* لڑ -
* پیار -
* تہشقی پیری -
* مفلولیت
* گانی -
* سٹھیاہٹ

Dotal, *a.* Pertaining to dower :
* جہیز کے متعلق

Dotard, *n.* One whose intellect is impaired by
age; an imbecile; driveller :
* پیر -
* پیرا بلہ -
* ضعیف العقل -
* بدھا پارلا

Dotation, *n.* A marriage portion; an endow-
ment :
* وقف -
* جہیز

Dote, *v. i.* To have the mind impaired by age;
to be excessively or foolishly fond : -
* سٹھیانا
* سوڈھی ہونا -
* نہایت پیار کرنا -
* فریفتہ ہونا

Dottard, *n.* A tree kept low by cutting :
* تلم کیا
* ہوا درخت

Double, *a.* Two of a sort; twofold; in pairs;
deceitful : -
* درگنا -
* دوہرا -
* درہالا -
* To
* جہیزا -
* مٹنی -
* کپٹی -
* در فصل -
* درنگا -
* چھلیا
* دررخچہ چال چلنا -
* دوہرا دینا
* To work a—tide, دوگنا کام
* کرنا
* A reconciled friend is a double
* کرنا
* He that
* مٹنیا دوست درنا دشمن
* leneth loseth double,
* اور دھار دیوے دونوں تھروے
* v. t. To make twice as great;
* to pass around or by; to fold one part upon
* another :
* دو
* چند کرنا -
* گھومکر جانا -
* درہرا کرنا
* چھل -
* دغا
* A trick :
* مٹنی

Double-dealing, *n.* Trickery : -
* دغا بازی -
* چھل -
* فریب -
* درنگی پن

Double-dealer, *n.* A deceitful, trickish person :
* فریبی -
* دغا باز -
* دو دلا -
* مکار -
* مذنب

Double entendre, *n.* A word or phrase with
two meanings, one usually more or less,
indecent :
* دو
* معنی -
* فر معنی

Double-minded, *a.* Deceitful : -
* مکار -
* مذنب

Doublet, *n.* A pair or couple; a waist-coat :
* جوڑا -
* جفت -
* سدھی -
* مرزئی

Doubly, *ad.* Twice the quantity :
* دوگنا -
* در
* چند

Doubt, *v. t.* To distrust; to disbelieve : -
* شک کرنا -
* v. i. To suspect; to hesi-

tate : *n.* Hesitation ;
distrust ; fluctuation ; uncertainty of mind ;
suspicion ; suspense :
شک - شبہہ - تاہل کرنا
ذکرہ - تذبذب - اہام - وسواس

Doubtful, a. Uncertain ; ambiguous ; suspicious :
غیر مقرر - مشکوک - مشتبہ

Doubtless, a. Without doubt ; unquestionable :
بیشک - بلاشبہ

Douceur (du-sur), n. A small present ; a conciliating bribe :
بخشش - انعام - رشوت - شیرینی
نذرانہ

Dough, n. Unbaked paste :
سانا ہوا آٹا - خمیر -
لڑنی

Doughty, a. Brave ; valiant ; strong :
ہادر -
دلیز - جرار - شجاع

Doughy, a. Not quite baked ; soft :
سانا ہوا -
پاپلا - ملائم

Douse, v. t. To plunge suddenly into water ;
to dip :
غمرلہ مارا - ڈبکی لگانا

Out, v. t. To extinguish :
بچھوٹا - گل کرنا

Dove, n. A kind of pigeon :
* ناختہ - قمری - کپورت
گڑا باز کپورت - لڑنی کپورت

Dovecot, n. A shed for pigeons :
کابک - درہ -
کپورت خانہ

Dovetail, n. A joint in form of a dove's tail spread :
چول - قلفی - کرام

Dowager, n. A widow with a jointure :
ریاست
دار بیوہ - بادشاہ بیگم

Dowdy, n. An awkward, ill-dressed woman :
بے سلیقہ عورت - پورھڑ

Dowel, v. t. To fasten by means of iron or wooden nails :
درختوں کے کناروں کا ملنا - درز ملانا

Dower, n. The property which the wife brings to her husband ; a widow's jointure ; gift :
* Customary—, جمیز - مہر - بخشش - استری دہن
* Deferred—, payable on dissolution of marriage : غیر مرچل

Down, n. Soft feathers or tender hair : نرم پر
* A large open plain ; a bank of sand ;
* treeless land : کراڑا - پتلا کنارہ -
* of chin, خطا - سبزہ - یگستان

dejected : *ad.* Below the horizon ; on the ground ; in a low state :
اوراس - دلگیر - کمبختی یا تنزلی کی
نیچے تلے - زیر -
پست - نگوں

—, *prep.* Along a descent ; from a higher to a lower place ; towards the mouth of a river :
* نشیب کی طرف - نیچے - ندی کے رخ کی طرف
Up and—, high and low :
* Here and there : کہیں کہیں
—in the mouth, dejected :
* To boil—, ارداس - دلگیر
* To come—upon, اڈنا ہونا
* To lull—, درج - ذلیل کرنا - شرمندہ کرنا
* To take—, اٹارنا - قلمبند کرنا
* To throw—, نشیب و فراز - پٹک دینا
* Ups and—s, فراز - پراپی بولانی

Downcast, a. Bent down ; dejected :
سرتنگوں -
شرمگین - دلگیر

Downfall, n. A falling downward ; ruin :
مسماوی - تنزلی - خرابی - زوال

Downhearted, a. Low-spirited ; discouraged :
اوراس - غمگین - رنجیدہ

Downlying, n. Time of retiring to rest :
سوتے یا آرام کا وقت

Downpour, n. A very heavy fall of rain :
موسلا - دھار - مینہ

Downright, a. Plain ; direct ; artless complete :
صاف - سیدھ - فاش - اصل - راست - پکا
کامل - نپت - بالکل

Down-trodden, a. Trodden under the feet :
کچلا
ہوا - دبا ہوا

Downward,—wards, ad. From a higher place to a lower place in a descending course :
نیچے کی طرف - تنزل پر - نشیب کے جانب

Downy, a. Made of down : soft :
روئیں دار -
* cheek, سبزہ آغاز رخسار
* ملائم - گدار

Dowry, n. A wife's portion : جمیز

Doxology, n. A short hymn of praise to God : حمد الہی - مناجات

Doze, n. A light sleep ; slumber : غوردگی -
* v. t. To slumber ; to be drowsy :
* اونگھہ - چھپکی - نیند
اونگھنا - چھپکی لینا

- Dozen, n.** A set of twelve; twice six: - دوجین
تیرہ * Baker's—, thirteen: - بارہ
- Doziness, n.** Drowsiness: غنودگی
- Drab, n.** Thick, gray woollen cloth: ایک موٹا اونٹنی
سمند - * Of a dun colour: - پتھر - دھسا
پھوڑا اور کالا ملا ہوا
- Drabble, v. t.** To besmear with mud and water: تھپڑنا - آلودہ کرنا
- Draff, n.** Refuse: پھرک - سیتھا - فضلہ
- Draft, n.** An order for money; a bill of exchange: نقشہ - * Sketch: - ہتھی - حکم دہا باند نقد
* Medical potion: کشش: * Pull: - مسودہ - خاکہ
* Selection of men from army: ہتھی, * To honour a—: دستہ سپاہیان
* Depth of water: عمق - گہرائی
- Draft, v. t.** To draw outline of; to compose and write; to detach: - مسودہ کرنا - جدا کر لینا
- Draftsman, n.** See Draughtsman.
- Drag, v. t.** To draw along by main force; to pull; to pass with difficulty: - گھسیٹنا - کھینچنا
* n. A kind of net: ایک قسم کا * تکلیف سے گزارنا
* A hook: گٹھی - چھکڑا * A car: * جال
آنکڑا
- Draggle, v. t.** To draw on damp ground or mud: تھپڑنا - ساڑنا
- Dragoman, n.** A guide to foreigners; an interpreter: رہنما - مترجم
- Dragon, n.** A monstrous winged serpent: تاد - ہیبت ناک شخص
* A fierce; violent person: * اڑدھا - پردار سانپ
- Dragon-tree, n.** A species of palm: ٹاز کا درخت
- Dragoon, n.** A cavalry soldier: ترک سوار - سپاہی سوار یا بیادہ
- Drain, v. t.** To draw off gradually; to filter to exhaust: * رسانا - چھانٹنا - خالی کرنا
دن پورے کرنا - زندگی کا پیالہ * one's cup of life, * n. A water-course; a sewer: * موری
- Drainage, n.** A drawing off; a system of drains: بدر (د) - موری
- Drake, n.** The male of the duck: ہنس - بٹا کا نر
To make ducks and—s of one's money: نقرہل خرچی کرنا - اپنا مال لٹانا
- Dram, n.** The eighth of an ounce; a small quantity of liquor: ارنس کا آٹھواں حصہ - تکیل
مقدار - ایک گھونٹ شراب - درہم
- Drama, n.** A play; a theatrical entertainment; a poem: نقل - ٹاک - ڈرامے - واقعات
دلچسپ
- Dramatic, a.** Pertaining to a drama: - نقلی
ڈرامے - سرائگ کے متعلق
- Dramatist, n.** A writer of plays: نقل یا ڈرامے کا مصنف
- Drape, v. t.** To cover or adorn with drapery: کپڑے سے اراستہ کرنا
- Draper, n.** A cloth-merchant: بزاز - پارچہ فروش
- Drapery, n.** Occupation of a draper; woollen stuffs: پارچہ فروشی - اونٹنی کپڑے
- Drastic, a.** Powerful; efficacious: قوی - زہر آور - مرتزہ - تاثیر عشق
- Draught, n.** The act of drawing; quality drawn at once; a current of air; a sketch or outline: کشش - گھونٹ - ہوا کا جھوکا - نقشہ - خانہ
Draught of an account, لدر جائزہ * At a—, ایک گھونٹ میں
- Draughtsman, n.** One who draws writings or designs: مسودہ بنانے والا - نقشہ نویس
- Draw, v. t.** To pull along; to attract; to unsheathe; to inhale; to suck; to write; to deduce; to attract; to let out; to remove the contents of; to deduce: کشش
کرنا - نکالنا - باہر گزانا - دم لینا - کشید کرنا - چوسنا - لکھنا - تہیجہ نکالنا - پہلانا - عہق بنانا - خالی کرنا -
* To—aside, to remove to one side: * صاف کرنا - پانا - حاصل کرنا
* To—back, to retreat; to withdraw: * ہٹ لینا
* To—forth, to take out: * باہر نکالنا
* To—in, to entice: * کھینچنا - لانا
* To contract: * للچانا
* To approach: * نزدیک آنا
* To divert: * نکالنا
* To—on, to advance: * بڑھنا
* To cause payment by bill: * ہتھی کرنا

to descend : نازل کرنا * To draw information from : اخذ کرنا - معلوم کرنا * To—out, to pump out ; to extract : اِخْرَاج کرنا - کھلا لینا * To arrange in regular order : صف آرانی کرنا * To—up, to compose in one form : مرتب کرنا * To—one's self up, to rise to full height : اُکڑ کر کھڑا ہونا * To—for money on a person, گواہ توڑ لینا * To—over a witness, زنگ مارنا - غب مارنا - شیخی * To—the long bow, بڈانا لکھنا - صف لگانا * To—up, بڈانا

Drawback, n. Duty refunded on goods ; a discouragement or hindrance : چھوٹ - پھوٹا - روک - نقص - خرابی

Syn.—Disadvantage, detriment, deficiency, imperfection.

Drawbridge, n. A bridge made to draw up : تختہ کا پل

Drawer, n. One who draws ; a sliding box : کھینچنے والا - نکلانے والا دروازہ

Drawers, n. pl. دروازے - سرکانے والا خانہ - گھٹنا - چانگھیا

Drawing, n. Delineation ; representation : نقشہ - خاکہ - تصویر - نقاشی - فن مصوری

Drawing-room, n. A room for the reception of company : ملاقات کرنے کا کمرہ - گول کمرہ - دیوان خانہ

Drawl, v. t. To utter slowly : چبا کر بولنا

Drawn, pp. of Draw. Pulled : —a. * کھینچا ہوا * A—battle, a battle in which neither party wins : مساوی * To be at daggers—, to be at enmity : ہمت زرنکل جانے کے باعث

Dray, n. A low cart for heavy burdens : چوہڑا - نیچے گاڑی

Dray-horse, n. A cart horse : چوہڑیکر گھوڑا

Dread, n. Great fear ; terror : خوف - ڈر * خوف - ڈر

—, v. i. To be in great fear : خوف زدہ ہونا * A scalded cat dreads the cold water : دودھ کا جلا چبا چھوڑو پھوک پھوک پیتا ہے

Dreadful, a. Awful ; terrible : دہشت ناک * **Syn.—**Fearful, terrible, shocking.

Dreadless, a. Fearless ; daring : ڈر - ہرات والا

Dream, n. A sleeping vision ; idle fancy : خواب - سہما - وہم - خیال خم - خیالی بلاؤ

—, v. i. To imagine during sleep ; to idle : خواب دیکھنا - سہما دیکھنا - سستی کرنا

Drear, a. Dismal ; gloomy : ہرلہاکی - خوفناک - سناں

Dreariness, n. Gloominess : تاریکی

Dreary, a. Mournful ; dismal : تاریک - ہیبت ناک - سناں

Syn.—Gloomy, cheerless, dismal, dark.

Dredge, n. An oyster-net : سیبیوں کا جال

—, v. t. To catch or gather with a dredge : جال سے پکڑنا

Dregs, n. pl. Sediment of liquors ; lees ; refuse ; worthless matter : تالچت - کواہی - سیاہی - گانہ - کدبڑے * Dregs of society : نکمی چیزیں - اخروہ - تھوہی - نیچے قوم

Syn.—Sediment, lees, grounds, feculence.

Drench, v. a. To wet thoroughly : تر کرنا - بھگوننا - شور بزر کرنا

Syn.—Saturate, soak, steep, imbibe, wet.

Dress, v. t. To clothe ; to adorn ; to cover a wound ; to trim ; to cook ; to adjust : پہننا - سہنا - مرہم پٹی کرنا - چھانٹنا - پکانا - درست کرنا - چمک دمک کیے کپڑے * To—up or out, پہننا - لباس ذخیرہ زیب تن کرنا

Syn.—Attire, apparel, clothe, array, deck.

Dresser, n. One who dresses : آراستہ کرنے والا * A table on which food is repared : میز

Dressing, n. Clothes ; manure given to land ; starch ; condiment ; bandage ; thrashing, لباس - ہوا - کلب - مصالح - مرہم پٹی - مار پیت - سنگار گھر * room, سنگار دان * case, سنگار میز * table, سنگار میز

Dressy, a. Showily dressed ; fond of dress : خوش پوشاک - زرق برق بنا رہنے والا

Dressmaker, n. A maker of ladies' dresses : درزی - خیاط

Drey, n. A squirrel's nest : لہری کا گھونٹا

Dribble, v. i. To fall in drops : قطرة قطرة ٹپکتا - چرنا - رسنا
Driblet, n. A very small drop ; a small quantity or sum : چھرتا سا قطره - ریزہ - ذرہ - نکڑا - روپیہ تھڑا تھڑا کرکے ادا کیا گیا

Drift, n. That which is driven ; a pile of snow or sand ; tendency ; direction ; meanings : ہواؤ - انبار - ڈھیر - جھکڑ - سمت - مراد - شعراء کلام

Drift, v. t. To drive into heaps : ہوا کر ڈھیر : **The—of rain,** * **The—of wind,** چھونکا

Drill, v. t. To pierce with a drill ; to bore : فوج کو قواعد : **To train soldiers** : * سالقا - سوراخ کرنا سکھانا

Drill, n. A pointed instrument for boring holes : فوجی قواعد - صف آرٹھی : **Military exercise** : * برما

Drill-master, n. A trainer in military or gymnastic exercises : فوجی قواعد یا کسرت سکھانے والا

Drill-plough, n. A plough for sowing grain : تاج بونے کا ہل

Drink, v. i. To swallow liquors ; to quench thirst ; to imbibe : پیٹنا - مہ نوشی کرنا - چوسنا
To—down, to swallow : **To reduce** : * پی لینا
To—up, to absorb : * جذب کرنا
To—to the health of, to signify good-will to, while drinking : * تمام کرنا
To—off, to finish a draught : * سلامتی کا جام پینا
To—deep, to indulge in liquor to excess : * سب پی لینا
To—like a fish, to drink copiously : * کثرت سے پینا
Given to—, شراب پینے کا عادی

Drip, v. t. To fall in drops : ٹپکتا - چرنا
 a dripping ; the edge of a roof : ٹپکتا - چھیدگی - اترتی - کنگڑی

Drive, v. t. To push forward ; to impel ; to force into ; to guide or go in a carriage ; to carry on : چلانے - دھکا دینا - آگے سرکانا - دوڑانا
 * ہلکتا - گھسیڑنا - سوار پر جانا - جا رہی رکھنا - چلانا
To—about, to hunt about : * ڈھونڈنا
To—at, to tend towards : * ہوا ہانا
To mean : * ارادہ کرنا

To—away, to expel : نکالنا * **To scatter** : ٹپکتا
To—forth, to impel : آگے ٹھیلنا * **To—**
in, to force in : ٹھوسنا
To—up, ٹھونپنا * **v. i.**
To move furiously ; to be impelled ; to go by
carriage ; to aim : چمپت ہرنا - چلنا - ہلنا
 گاڑی پر جانا - تصد کرنا - تاک لگانا

Drive, n. A carriage excursion ; a road prepared for driving : گاڑی کی سواری - گاڑی جانے کا چکر

Drivel, v. t. To slaver ; to be weak or foolish ; to dote : رال ٹپکانا - کمزور یا بیدار ہرنا - رال ٹپکی
 پڑنا - منہ میں پانی بہ آنا - محبت کرنا

Driveller, n. An idiot : احمق - گارڈی - سادہ لوح

Driver, n. One who drives : گاڑی والا - بان

Drizzle, v. t. To rain gently ; to fall in small drops : پھوہار پڑنا - توشیح ہرنا - چھوٹی چھوٹی بوند ہونے کرنا

Droll, n. A jester ; a farce : مسخرا - سوانک - **a. Ludicrous ; odd** : نقل - ہنسی کی بات - چٹکلا
 تماشے کا - ہنسی کا - عجیب

Drollery, n. Buffoonery ; idle jokes : مذاق - طرائف - تمسخر

Dromedary, n. A camel with one hunch : ساندھی : نانہ

Drone, n. The male of the honey bee ; a slug-gard : مس زہر - شہد کی نر مکھی - سست آدمی - سستی
v. i. To live in idleness ; to hum : * کھل میں گزارنا - بھنبھانا

Droop, v. i. To hang down ; to pine away ; to be dispirited : جھکتا - مرجھانا - پژمردہ ہونا
*** Drooping eyes,** چشم بیمار

Drop, n. A globule of moisture ; a small quantity : ٹپک * **Act of falling** : قطره - ذرہ
Earrings : * لٹکن
To have a—too much, نشہ میں ہرنا - بہت پی جانا

Drop, v. t. To let fall ; to dismiss ; to communicate by suggestion ; to lower ; to bedrop : * گرانا - چرانا - چھڑانا - موقوف کرنا - اشارہ کرنا
 ٹپکتا - چرنا : **v. i.** To fall in drops : نیچا کرنا
To—down, to fall down : گر جانا
To—in, to come accidentally : * آپڑنا
To—off,

To—through, *n.* * To—through, لاجھال ھونا * **To—anchor**, *n.* * To—all ideas of, خيال * **To—acquaintance**, *n.* * To—acquaintance, دوستي چورڙا * **To—out**, *n.* * To—out, نڪ پوڻا * **To—ping fire**, *n.* * To—ping fire, باقاعدہ گولا باري

Droplet, *n.* A little drop : چھوٽا تملو - بندڪي

Dropsical, *a.* Diseased with dropsy : چلندري - مستسقي

Dropsy, *n.* A collection of water in the body : استسقي - جانندر

Dross, *n.* The scum of metal ; rust ; refuse : ميل - زنڪ - فضاء - ڪوروت

Drought (droul), *n.* Want of rain ; dryness ; thirst : خشڪ سالي - امساک باران - قنصا - خشڪي - خشڪي

Droughty, *a.* Wanting rain ; thirsty : - روڻا - خشڪ - بے باران - پيداسا - خشڪ لب

Drove, *n.* A number of animals driven ; a crowd ; a driftway : جانورون کا جهنت - گلا - ريزور - جهنت - بهيز

Drown, *v. t.* To overwhelm in water ; to over flow ; to overpower : ڏٻوڙا - غرق ڪرڻا - غالب آڻا - *v. i.* ڏٻوڙا - ڏٻوڙا - ڏٻوڙا

Drowse, *v. t.* To sleep unsoundly ; to slumber : جهٻڪي ليئا - اڻوڻيا - نيند ميڻ آڻا

Drowsiness, *n.* Sleepiness : نيند - غلودگي - نيند

Drowsy, *a.* Inclined to doze ; dull : خراب اڻوڻا - آلسي - سست

Drub, *v. t.* To beat heartily ; to thrash ; to cudgel : ٽوڙڪڻا - پيٽڻا - ڪوڙڻا

Drubbing, *n.* A beating ; a thrashing : مار پيٽ - ٽوڙڪڻا ٿيڻ

Drudge, *v. t.* To work hard ; to labour in mean offices : محنت ڪرڻا - غلامي ڪرڻا - مزدوري ڪرڻا - سڀي ڪرڻا

Drudgery, *n.* Mean labour ; hard work ; ignoble toil : غلامي - محنت محنت - مزدوري - ذليل محنت

Drug, *n.* A medicine : *n.* * An article of slow sale or no demand in the market : * سڌا جس کا ڪوئي گاهڪ نه هو - کم بڪري کي چيز *v. t.* To administer drugs : ڏوا ملانا - نسخو لکڻا

v. t. To prescribe medicine : ڏوا - نسخو لکڻا

Druggist, *n.* One who deals in drugs : ڏوا ساز - دڪان

Drum, *n.* An instrument of military music ; the barrel of the ear : ڏهل - ٽارا - مردنگ - ٽارا * **A kettle**—, *n.* * A kettle—, ڪن کا ڀرڻو * **To announce by the beat of—**, * ٽوڙڪڻا پيٽڻا - منادي ڪرڻا - مشهور ڪرڻا

v. i. To beat a drum ; to beat with a pulsatory motion : ڏهل بجانا - ڏهلڪا - اچيڻا

Drummer, *n.* One who drums : ٽوڙڪڻا - ٽوڙڪڻي - سپرڊاي - دهل

Drumble, *v. i.* To drone ; to be sluggish : ڏهلڪا - اڪسانا

Drunk, *p. a.* Intoxicated ; saturated : ڏنڊو - ڏنڊو * **Dead**—, *p. a.* * **Dead**—, متوالا - ٽر - ٽر * **as a wheel-barrow**, ٽر ۾ ڏنڊو ٿيڻا

Drunkard, *n.* One addicted to excessive drinking : شرابخوار - نشه باز - شرابي - متوالا - پيڪو * **A drunkard's purse is his bottle**, شرابي کي جمع بوتل

Drunkenness, *n.* Intoxication ; inebriation : خوري - نشه بازي

Dry, *a.* Free from moisture ; thirsty ; sarcastic ; plain : خشڪ - پيداسا - طعنہ اميز - روڻا - سڌو - بے لطف * **lodgings**, sleeping accommodation only : اڙڻي کا مقام * **nurse**, opposed to wet-nurse : ڏاڍو ڇڙو بچو کي پرورش ڏيڻي بے جو دودھ پلائي بے اوسڪو Wet nurse ٿيڻي * **shod**, without wetting the feet : **bread at home is better than roast meat abroad**, ڏهاڙي کي چڪڙي چڙهي ڪوڙي ڏيڻي (روڻي سونهي ٿيڻي)

v. t. To free from moisture ; to drain ; to exhaust : ٽوڙ - ڪوڙا - ڪوڙا - جنڀ ڪرڻا

Dryness, *n.* Want of moisture ; quiet humour : خشڪي - روڻائي - بے مزگي

Dual, *a.* Expressing the number two : ڏوہڙا * **(Gram)** That number which is used when two persons or things are spoken of : مٿئي مٿي

- Dub, v. t.** To confer a title ; to strike with a sword : خطاب عمل کرنا - تلوار سے مارنا - ضرب دینا
- Dubious, a.** Doubtful ; uncertain ; not clear : مشکوک - مشتبہ - پیچیدہ - مذہب
- Syn.** - Doubting, uncertain, unsettled.
- Dubitable, a.** Very uncertain ; open to doubt ; doubtful : غیر مقرر - مشتبہ - مشکوک
- Ducal, a.** Pertaining to a duke : دُکیر کے متعلق - نوابی
- Duchess, n.** The wife of a duke : دُکیر کی بیگم
- Duchy, n.** The territory of a duke : - دُکیر کا علاقہ - نواب کی ریاست
- Duck, n.** A waterfowl : مرغابی - بھا
- Duckling, n.** A young duck : بھا کا بچہ
- Duct, n.** A tube ; a channel ; a passage : نالی - نالی
- Ductile, a.** Flexible ; easily led ; docile ; capable of being drawn out into wire ; or threads. لچک دار - ملائم - نرم - تڑیلت پذیر - جسک تار یا آسانی کھینچ سکے
- Ductility, n.** Flexibility ; docility : - ملائمت - تڑیلت پذیری
- Dudgeon, n.** Anger ; resentment ; malice ; discord : خفگی - رنجش - ناراضی - نا اہم
- Due, a.** Owed ; proper to be paid . claimable ; required ; liable to come at any moment ; fit ; owing to : واجب الوصول - واجب الدین - یافتنی - واجب العالی - لازم - ضرور - بر وقت - بر محل - آنے - **author-**ity, * والی - مناسب - درست - ٹھیک - بسبب لازم ہونا - **To fall** - * اختیار کامل یا مناسب ہونا - **Is due,** * واجب ہونا - فرض ہونا - **To render one his** - * باقی رہا - **n.** That which belongs to one ; مطالبہ - حق اختیار - موصول - right ; custom : دستور
- Duel, n.** A combat between two persons : دو آدمیوں کی باہم لڑائی - کشمی
- Duet, a.** A musical composition for two performers : راگ جسکو دو آدمی ملکر گائیں یا بجائیں
- Dug, n.** The pap or nipple of a beast : تھون - بستانی
- Duke, n.** One of the highest order of nobility in England : انگلستان کے بڑے درجہ کا امیر
- Dukedom, n.** Possession or title of a duke : دُکیر کا علاقہ یا رتبہ
- Dulcet, a.** Sweet to the taste, the ear or the mind ; harmonious : - لذیذ - خوش آواز - شیریں - میٹھی
- Dulcify, v. t.** To sweeten ; to set free from acidity : شیریں کرنا - میٹھا کرنا - تلخی دور کرنا
- Dulcimer, n.** A kind of musical instrument : پچاس تاروں کا ایک ہاجا - ہریٹ
- Dull, a.** Slow of understanding ; stupid ; sluggish ; insensible ; not bright or clear ; drowsy ; sad ; cheerless ; dim ; blunt : - کند - احمق - سست - بے رونق - بے خبر - بے ہوش - مردہ - خراب آلودہ - **v. t.** To make dull ; to stupefy ; to make blunt : کند - **brained,** of stupid intellects : * نورو مغز - **color,** light colour : * پھیکا رنگ - **market,** market not brisk : منہ ہا زار
- Dullard, n.** A stupid person ; a blockhead : احمق - کودن - گاربی
- Dully, ad.** Stupidly : بیوقوفانہ سے
- Dulness, n.** Stupidity ; weakness of intellect ; dimness : احمق - کند ذہنی - دہرندہ پن
- Duly, ad.** Fitly ; properly ; regularly : - درستی سے - واجبی طور سے - حسب تہاہلہ - حسب دستور - کما حقہ - براہر
- Dumb, a.** Deprived of speech ; mute ; silent : خاموش کرنا - **To strike** * گونکا - رن - متعیر کرنا - لاجواب کر دینا - بے سخن کر دینا
- Syn.** - Mute, silent, speechless.
- Dum-bells, n.** Two spheres of iron, connected by a bar for swinging in the hands : مکگر
- Dumbness, n.** Inability to speak ; muteness : گونکا پن - خاموشی
- Dumb-waiter, n.** A lift for dishes : چرخہ - دوسرے درجہ تک پہنچانے کا چھیک
- Dumfound, a.** To strike dumb with amazement : ہکا بکا کر دینا - سن سن کر دینا

Dummy *n.* A dumb person ; a lay figure ; a doll : گونکا - بت جسکو دوکان میں کپڑے پہنا کر بطور نمونہ رکھتے ہیں - گاڑ منض - کانہہ کا الہ

Dump *n.* Sorrow ; melancholy ; sadness ; a melancholy strain in music : - غم - ملال - اداسی -
رنجیدہ یا **To be in the—s**, * غم‌آلود نغمہ غمگین ہونا

Dun *a.* Of a dark colour ; partaking of brown and black ; obscure : سمند - بھورے اور کالے رنگ * *n.* A dark colour : سمند رنگ * *n.* A clamorous, troublesome creditor : متقاضی - دستکری

Dun *v. t.* To urge for a debt : تقاضا کرنا - دھرونا دینا - چوڑی بٹھانا

Dunce *n.* A dullard ; a blockhead : بیوقوف - احمق - گاردی

Dune *n.* A low hill of sand on a sea coast : بالر کا اونچا کرارا

Dung *n.* The excrement of an animal ; manure : گوبر - لید - گندگی - کھاد - پانس

Dungeon *n.* A close prison : زندان - حبس - قید خانہ - کال کرٹھری

Dunghill *n.* A heap or accumulation of dung : گھورا - گوبر کا ڈھیر

Dunny *a.* Deaf : بھرا

Dupe *n.* One easily cheated ; a victim of deceit ; a gull : دغا باز : *v. t.* To deceive ; to impose upon ; to overreach ; to delude : دینا - ٹھگنا - آنکھوں میں دھول چھونکنا - ہٹنا دینا

Duplicate *a.* Double ; twofold : - درچند - مثنی - مثنی * *n.* An exact copy ; a transcript : - درگذا * *v. t.* To double ; to make a copy of : درگذا کرنا - مثنی بنانا

Duplicity *n.* Doubleness ; deceit : دو رنگی - زبانہی - فریب - دغا - ریا - مکر

Syn.—Dissimulation, deceit, guile.

Durability *n.* The power of lasting : پایداری - مضبوطی

Durable *a.* Lasting ; permanent : پایدار - استوار - مضبوط - مستول

Duration *n.* Continuance ; length of time : استقامت - قیام - مدت - زمانہ

Duress *n.* Imprisonment ; constraint ; hardship : دھمکی - جبر - تعزیر - قید - کشت - دکھ - * حبس بیجا - قید بیجا - Illegal * تشدد - مشقت - سزا یا قید کی دھمکی - **—by means of threats**, چسپ یا جان کا خوف دینا

During *prep.* In the time of ; continuing : درمیان میں - اندر - در اثنا ہر - ہر - تک

Dusk *n.* Tendency to darkness ; twilight ; darkness of colour : کچھ کچھ اندھیرا - شام - دھندھلاپن

Dusky *a.* Tending to darkness ; gloomy : دھندھلا - کالا

Dust *n.* Fine sand ; grave ; a law condition, money : خاک - مٹی - گور - قبر - پست حالت - روپیہ - کسی کے آنکھوں میں : **To throw—**in one's eyes, to mislead or to blind one : ہاتھ کا میل نچھہ **As—in the scale**, * دھول ڈالنا - دھوکا دینا عاجزی قبول کرنا **To bite the—**, * بھی فزق نہیں خاک جھاڑنا - سفرف کرنا - جھاڑو - reduce to powder : دینا

Duteous, Dutiful *a.* Obedient ; respectful : فرمانبردار - مردب

Dutiable *a.* Subject to the payment of a duty : قابل محصور

Duty *n.* What is due from one to another ; military service ; obedience ; tax or customs : فرض - خدمت - فرمانبرداری - ادب - محصور - رسوم

Dwarf *n.* A person below the usual size : پیرنا - ٹھنگنا - ناتا

Dwarfish *a.* Below the usual size ; little ; low : ٹھنگنا - ناتا - پستہ قد - نیچا

Dwell *v. t.* To inhabit ; to live in a place ; to reside ; to fix the mind upon ; to continue long speaking : **To—** on or upon a subject, to take a long time with it ; to ponder over it : ٹھہر کرنا - طول کلامی کرنا

Dwelling *n.* Habitation ; place of residence ; abode : برد و باش - سکونت - مسکن - مکان

Syn.—Residence, domicile, home.

Dwindle, v. i. To shrink ; to grow less ; to fall away : سکڑنا - سمٹنا - کم ہونا - گھٹنا - کوتاہ ہوجانا
Dye, v. t. To tinge ; to colour : * رنگنا - رنگ چڑھانا
 n. Colouring liquor ; hue : رنگ - رنگ
Dyeing, n. The art of colouring cloth : رنگ سازی - رنگ ریزی
Dying, pp. Expiring : مرنا ہوا - فانی
Dyer, n. One who colours cloth : رنگریز یا رنگ ساز
Dynamics, n. Science of motion : علم حرکت اجسام
Dynamite, n. An explosive substance : ایک بھک سے آواز دینے والی شے
Dynasty, n. A race or succession of rulers : خاندان یا نسل شاہی - سلطنت

Dysentery, n. A disorder of the bowels : - پیچش - اسہال
Dyspepsy, Dyspepsia, n. Difficulty of digestion ; indigestion : بد ہضمی - گرائی
Dyspeptic, a. Afflicted with or pertaining to dyspepsia : مبتلا بد ہضمی - وہ شخص جسکو بد ہضمی ہو
Dyspnoea, n. Difficulty of breathing : ضیق النفس - مرض دم
Dysury, n. Difficulty in discharging the urine, attended with pain and heat : حبس البول - پیشاب کا درد اور جلی سے نکلنا - تقطیر

E.

Each, a. Either of two ; every one of any number, taken separately : ہر - ایک سے ایک
Eager, a. (Preps. for, in) Keenly desirous ; impetuous ; sharp : آہرز مند - مشتاق - سرگرم - تیز
 Syn.—Earnest, zealous, ardent, forward, fervent.
Eagerness, n. Ardent desire ; avidity ; impetuosity : شوق - لہرز - تمنا - تیزی
Eagle, n. A bird of prey : * عقاب
 A military standard : فوجی نشان
Eaglet, n. A young eagle : عقاب کا بچہ
Ear, n. The organ of hearing : * کان
 Sense of hearing : توجہ - * Attention : قوت سامعہ
 * Of corn : بالی * خروشہ - بالی * All—, all attention : * To set by the—s, to cause to quarrel : * ازرونا
Over head and—s, deeply, (indebt) سرنا پا : wax, the cerumen : * سننا
To give—, to listen : * Ear pick, an instrument for clearing the ear
کان کا میل * کان کا میل - فوہنت : * shot— * نکالنے کا آواز
To have one's—s, کسی کی بہت سننا - کسی کی التفات کا * کسی کی بہت سننا
To be up to the ears (in), * نکلانے کا آواز
To lend an—, * غرق - قریبا ہوا
To poison one's—s, * غور سے سننا
To turn a deaf—, * کانوں میں انگلی دینا

Earmacap, n. A covering for the head and ear : تہترپ
Earlock, n. The lock of hair curling over the ear : زلف
Ear, v. t. To plough or till : چرکنا
Earl, n. A title of nobility : ولایت کے نوابوں کا ایک لقب
Earldom, n. The jurisdiction or dignity of an earl : انگلستان کے امیر کا علاقہ یا رتبہ
Earliness, n. The state of being early : - شتابی - زردی - جلدی
Early, a. In advance of the usual or appointed time ; timely ; not late : - پیش از وقت - سریزے - پہلے - بروقت - * ad. Soon ; in good season : جلدی سے
 Syn.—Soon, betimes, seasonably.
Earmark, v. t. To set apart for a special purpose : اچھا رکھنا - علیحدہ رکھنا - چھوڑنا
Earn, v. t. To gain by labour ; to acquire : کمانا - حاصل کرنا - پیدا کرنا
 Syn.—Gain, get, acquire, win, procure.
Earnest, a. Ardent ; zealous : شوقین - مشتاق - * بیعانتہ - قول قرار
Money : * سرگرم - مستعد Seriousness ; pledge : بیعانتہ - نکالت - سنجیدگی - سنجیدہ - سنجیدگی سے - In—, serious ; seriously : صحیح

Earnestly, ad. Eagerly; zealously : - شوق سے - سرگرمی سے

Earnestness, n. Seriousness; eagerness : سنجیدگی - شوق - سرگرمی - دلسرزی

Earth, n. The globe we inhabit; the world; soil; region : ملک - مٹی - زمین - دنیا - مٹی - ملک - کینڈھرا

Earthen, a. Made of earth or clay : خاکی - مٹی کا

Earthenware, n. Ware made of clay; pottery : ظرف کچی - مٹی کے برتن

Earthy, a. Belonging to the earth; sensual : دنیاوی - نفسانی

Earthquake, n. A trembling of the earth : زلزلہ - بھرچال

Earthy, a. Consisting of earth; gross; unrefined : مٹی کا - موٹا - بھاری - مٹیلا

Ease, n. Rest; freedom from pain facility : آرام - فراغت - آسائش - سہولیت
of mind, * آرام-راحت - فراغت - آسائش - سہولیت
To sit at—, * فرغ البال - بانراغت - تسکین
To set one's heart at—, * پھیل کر بیٹھنا - آرام سے بیٹھنا
 مہلتک پڑنا - مطمئن ہونا

Syn.—Repose, tranquillity.

Ant.—Discomfort, uneasiness, vexation.

Ease, v. t. To free from pain; to assuage; to mitigate : آسائش دینا - دکھ مٹانا - تسکین دینا - کم
To—off or away, * سرکارا-آگیا کرنا - جاہ ضرور جانا
To—oneself, * حاجت انسانی سے فارغ ہونا - جاہ ضرور جانا
 بے چین : * Ill at—, disquieted

Easel, n. A wooden frame to support pictures while being painted : ایک لکڑی کی ٹیٹائی جیسپر رکھکر تصویر میں رنگ بھرا جاتا ہے

Easement, n. That which gives ease; convenience : * آسائش (Law) Privilege which one proprietor has in another's estate distinct from the ownership of the soil, as a water-course, &c. : حق قدامت رستہ چلنے وغیرہ کا

Easily, ad. In an easy manner; without difficulty; without exertion; gently; readily; leisurely : آسانی سے - سہولیت سے - بیٹھے بیٹھے - بنا
 ہاتھ پیدھلائے - خرسی بفرشی - جلدی سے - ایک آن میں - فی الفور - رفتہ رفتہ - فرصت میں

Easiness, n. The quality of being easy; flexi-

bility : - سہولیت - آسانی - آرام - ہولاپن - بردباری - حالم

East, n. The quarter where the sun rises : مشرق - ررب

Easter, n. A festival, celebrated on the Sunday after Good Friday, commemorating Christ's resurrection : حضرت عیسیٰ مسیح کے از سر نو زندہ ہونے کا تیرہوار

Easterly, a. Coming from the east; lying towards the east : مشرقی - پوروا - پورب رخ - شرقی

Eastern, a. Pertaining to the east : مشرقی - پوربئی

Eastward, ad. Towards the east : جانب شرق

Easy, a. Not difficult : سلیس - آسان - سہج - * چمکا * Smooth * سیدھا - حلیم : * صریح الفہم
 * Contented * مستعد : * Ready * ملائم * Gentle : مرغ حالی - * circumstances, * خورشمال - آسردہ
 Syn.—Quiet, tranquil, secure, calm.

Eat, v. i. To swallow; to consume; to corrode : * کھا جانا - خرچ کر کالنا - گوسنا - چات ڈالنا
To— humble pie, * ذلت یا ندامت اٹھانا
To— one's words, * دیمک کی طرح ہالینا
 * بات چبا جانا - بات پھیرنا - اپنے حق سے توبہ کرنا
 * حرام کے کڑے
To— the bread of idleness, * کھانا بیٹھے روٹیاں توڑنا
To— bread in the sweat of one's brow, * مصنت سے روٹی کھانا
 v. i. To take food : تغاول کرنا - کھانا - چمکنا

Eatable, a. Fit to be eaten : کھنے کے لائق - روزنی

Syn.—Edible, esculent.

Eaves, n. The edges of the roof of a house : * ادلتی
— drop, v. i. & v. t. To listen for secrets : * دوسرے کی بات چھپکر سننا
 چوہپ کر سننے والا

Ebb, n. The reflux of the tide; decline : زوال عمر
The— of life, * جزر - بہتا - زوال - گھٹتی
—, v. i. To flow back towards the sea; to decline : سندر کی طرف بہ جانا - بہتے کا آنا - تنزل ہونا - گھٹنا

Ebon, n. Of ebony; very black : آبنوس کا - نہایت کالا

Ebony, n. A hard, heavy, black wood : آبنوس

Ebriety, n. Intoxication; drunkenness : مدہوشی - مقوالات

Syn.—Drunkenness, intoxication, inebriation.

Ebullient, a. Boiling over : ابلنے والا

Ebullition, n. Act of boiling out ; burst of feeling : اُبال - جوش

Syn.—Effervescence, bubbling, fermentation, outbreak.

Eccentric, a. Deviating from the centre ; irregular ; whimsical : منحرف المركز - بیقاعدہ - دھمی - لہری - تونگی

Syn.—Erratic, anomalous, strange, different.

Eccentricity, n. Deviation from the centre : irregularity ; singularity ; oddity : مرکز سے انحراف - بیقاعدگی - دھم - نرالا پن - انوکھا پن

Ecclesiastic, n. A clergyman ; a priest : پادری - خادم دین

—, **Ecclesiastical, a.** Pertaining to the church or to its organization : کلیسائی - متعلق بہ دین کلیسیائی

Echinate, a. Prickly ; having sharp points : خار دار - کانٹے دار

Echo, n. A sound reflected or reverberated to the ear : صدا * **To applaud to the—,** از حد تعریف کرنا

Echo, v. t. or i. To reverberate or resound : صدا کرنا - گونجنا - آواز آنا

Eclat (e-kla), n. Splendour ; applause ; renown : نمایش - رونق - شان - دھوم - شاباشی - آفرین - واہ واہ - شہرت

Eclectic, a. Selecting : منتخب کنندہ

Eclipse, n. An obscuration of the luminaries of heaven ; darkness : کسوف - خسوف : * **v. t.** To darken ; to obscure ; to bedim ; to surpass : گریہن - چھپانا - گریہن لگنا - سایہ ڈالنا - اوداس کر دینا

Ecliptic, n. The apparent path of the sun round the earth : طریق الشمس - مدار الشمس

Eclogue, n. A pastoral poem : دھنائی گیت - آہا - گرزور کی منظوم گفتگو

Economical, a. Pertaining to the household ; frugal ; saving : گریہتی کے متعلق - کفایتی - نم - خرچ - جزرس - چلن کا

Economist, n. One who manages with frugality, one who is conversant with political economy : نفایت شعار - منتظم - علم سیاست المدن کا ماہر - مدبر

Economize, v. t. To expend frugally : کم خرچ کرنا - نفایت کرنا - واجبی خرچ کرنا

Economy, n. Management of domestic affairs, as to expense ; frugality ; parsimony : طریقہ خانہ داری - نفایت شعاری - وارا - قاعدہ انتظام

Ecstasy, n. Excessive joy ; rapture ; enthusiasm ; madness : نہایت خوشی - انبساط - وجد - جوش - مسرت - شادی مرگ

Syn.—Transport, rapture, delight.

Ecstatic, a. Transporting ; rapturous : مقرر - بیخود - فریفتہ - دلشاد - مگن - دلربا - دل لینے والا - دچداور

Edacious, a. Voracious ; greedy : بسیار خور - کھور

Eddy, n. A contrary current ; a whirlpool : * **v. t.** To move as an eddy : بہنور کی طرح گھومنا - گھومتے یا چکر کھاتے ہوئے چلنا

Eden, n. The garden in which Adam and Eve were placed by Good : * **A delightful region :** باغ عدن - فردوس - عیش گاہ - باغ رضوان

Edentate, Edentated, a. Deprived of tooth : پوہلا - ادنت - ادانت گزے ہوئے

Edge, n. The thin cutting side of a blade ; brink ; sharpness ; keenness : دھار کنارہ - * **To set the teeth on—,** تیز کرنا * **v. t.** To sharpen ; to fringe or border ; to move or put in quietly : تیز کرنا * دھار رکھنا - حاشیہ لگانا - آہستہ سے سرکانا یا داخل کرنا * **v. i.** To move sideways, or by little and little : کتراتے ہوئے چلنا یا پوہنا - ذرا ذرا کر کے سرکانا

Edgeless, a. Blunt ; not sharp : کند - موہرا

Edgewise, ad. With the edge forward : دھار کے جانب - کھڑا - ترچھا

Edible, a. Fit to be eaten ; eat ble : کھانے کے لائق - خوردنی

Edict, n. A proclamation of command or prohibition ; a law ; a decree : فرمان شاہی - منافی - ترویں - آئین

Syn.—Law, statute, decree, regulation.

Edification, n. A building up ; instruction ; improvement : تعمیر - تربیت - تعلیم - ترقی - اصلاح

Edifice, n. A large building : عمارت - حویلی - محل

Syn.—Building, fabric, structure.

Edify, v. t. To improve the mind ; to instruct ; to build up : علم و عقل کو بڑھانا - تعلیم دینا - مہذب کرنا - تعمیر کرنا

Edit, v. t. To superintend the publication of ; to revise and prepare for publication : چھاپنے کا اہتمام کرنا - چھاپنے کے لئے تیار کرنا - ترمیم کرنا - شایع کرنا

Edition, n. The publication of a literary work ; number of copies published at a time : چھاپا - نوبت طبع - کل جلدیں جو ایک دفعہ چھپتی ہیں

Editor, n. One who superintends the publication of a literary work : سراف - مہتمم طبع

Editorial, a. Pertaining to an editor : شایع ایڈیٹر کا * n. A leading article : ایک لکھا ہوا مضمون

Editorship, n. The office and duty of an editor : مہتمم طبع کا عہدہ یا کام

Educate, v. t. To inform and enlighten the mind of ; to instruct ; to bring up ; to form the mind and character of : فہم کو علم و درستی دینا - تعلیم دینا - تربیت کرنا - عقل و اخلاق کو آراستہ کرنا

Syn.—Instruct, train, teach.

Education, n. Act of bringing up ; a cultivation of the mind ; tuition ; training ; schooling ; instruction : خوراندگی - تعلیم - تربیت - شکشا - لکھانا پڑھانا - تدریس

Educational, a. Pertaining to education : تعلیم کے متعلق

Educe, v. t. To draw forth ; to elicit ; to extract : نکالنا - کھینچنا - استخراج کرنا - برآمد کرنا

Eduction, n. Act of drawing out : نکاس - استخراج - کھنچاؤ - استنباط

Eel, n. A serpent like slimy fish : بام مچھلی

Efface, v. t. To blot out ; to erase ; to obliterate ; to destroy : مٹانا - محو کرنا - چھپانا - نیست و نابود کرنا - بگاڑنا

Effacement, n. Act of effacing : کٹ ٹوٹ - چھیل - چھال

Effect, n. That produced by an agent or cause ; consequence ; impression produced ; purpose : (pl.) * نتیجہ - حاصل - ثمرہ - تاثیر - مطلب Goods : اسباب - چایداد - مال و متاع

Syn.—Consequence, result, issue, event.

—, v. t. To bring to pass ; to produce to accomplish ; to achieve : انجام دینا - پیدا کرنا - of the-deceased — * بر لانا - پورا کرنا - تعمیل کرنا To carry into—, * مردہ کا مال - نوٹہ-میزاٹ Cause and—, * نافذ کرنا - جاری کرنا - عمل میں لانا * بالفہ کے طور پر For—, * علت و معلول - سبب مسبب * بجالانا - تکمیل کرنا - نتیجہ نکالنا To give—to, * پکا - Of good—, * حقیقت میں - در اصل In—, * بے فائدہ - لا حاصل Of no—, * صحیح - اصل To the—, اس مضمون یا عبارت سے

Syn.—Cause, produce, create.

Effective, a. Efficacious ; operative ; useful ; strong ; impressive : موثر - کارگر - قوی - مفید

Effectual, a. Producing effect : موثر - حکمی

Effectuate, v. t. To render effectual ; to fulfil : موثر کرنا - پورا کرنا - تکمیل کرنا

Effeminacy, n. Womanish delicacy : زن صفت - نراکت - ملائمت

Syn.—Weakness, softness, timidity.

Effeminate, a. Womanish ; tender : زتانه - نازک - کمزور

Effervesce, v. i. To bubble and hiss ; to be in commotion : ابلنا - جوش میں آنا - کھد بدانا - آپے سے باہر

Effervescence, n. State of effervescing : ابال - جوش - اُبھان - بھاپ

Effete, a. Barren ; worn out with age ; exhausted ; no longer capable of producing young : بے پھل - ضعیف - ناتواں - بچہ دینے کی عمر سے اُتری

Efficacious, a. Effectual ; powerful : موثر - تاثیر بخش - مقوی

Efficacy, n. Power to produce effects ; energy : تاثیر - قوت

Efficiency, n. Power of producing effect : تاثیر - قابلیت - استعداد - نتیجہ یا اثر پیدا کرنے کی طاقت

Efficient, a. Producing results; effective; competent; active; energetic: - کارگر - موثر
خاص **An-cause**, * کامل - قابل - چست - مستعد
سبب

Effigy, n. An image of any person or thing: صورت - شکل - شبیہ

Efflate, v. t. To puff up: پھونک کر پھلانا

Efflorescence, n. Time of flowering: پھول نکلنے کا وقت - شگرتہ آوری

Effluent, a. Flowing out; issuing out of: بہتا
n. A stream that flows out of another stream or lake: ندی جو دوسرے ندی یا جھیل سے نکلے

Effluvium, n. Exhalation from putrefying substances: بخارات جو سڑے گئے اجسام سے نکلتے ہیں - ابخرا مضر

Effort, n. Exertion; endeavour: سعی - کوشش - جد و جہد - جانفشانی

Effrontery, n. Impudence: گستاخی - بیہیائی - بے شرمی - شرمی

Syn. - Boldness, assurance, impudence, audacity.

Effulgence, n. Lustre; extreme brilliancy: دمک - جھلک - نور - تجلی - جاوہ

Effulgent, a. Luminous; bright; shining: منور - چمکیلا - تابدار - جلوہ گر - درخشاں

Effuse, v. t. To pour out; to shed: اُتیلنا - ڈھالنا - بہانا

Effusion, n. A pouring out; that which is poured out; literary outgush; a literary production: ریزش - چھڑکاؤ - دھارا - رساؤ - خوش سخن - انشا پردازی - تصنیف

Egg, n. That which is laid by fowls or birds: * دینگن - بھانگا - بادنبجان - * انڈا - بیضہ
ہت مصروف، **To have too many—s in basket**,
v. t. To urge on; to incite: تحریک دینا - ترفیب دینا - لچانا

Eglantine, n. سیڑتی - نسریں

Eglomerate, v. t. To unwind itself: سلجھانا - اُلجھون کھولنا

Egoist, n. One who practises egoism: خود بین

Egotism, n. Self-praise; conceit: - خود ستائی - لاف زنی

Syn. - Vanity, self-praise.

Egotist, a. One who talks much of himself: اپنی تعریف خود کر بیوالا - خود بین

Egotise, v. t. To talk much of one's self: خود اپنی تعریف کرنا

Egregious, a. Remarkable; eminent; extraordinary: مشہور - نامور - عجیب - بے انداز - بڑا

Syn. - Extraordinary, monstrous, great.

Egress, n. Act of going out or leaving; departure: برآمد - خروج - روانگی

Egret, n. A species of white heron: ایک قسم کا بگلا

Egyptian, n. A native of Egypt: مصر کا باشندہ

Eight, a. and n. Twice four: آٹھ

Eighteen, a. and n. Twice nine: اترہ - ہیڑہ

Eighteenth, a. Next in order to the seventeenth: اٹھارہواں

Eightfold, a. Eight times: آٹھ گنا - ہشت چند

Eighth, a. Next in order to the seventh: آٹھواں - ہشتم

Eightscore, a. Eight times twenty: - آٹھ کڑی - آٹھ بیسی

Eightieth, a. Tenth in order after the seventieth: اسیواں

Eighty, a. and n. Four times twenty; four score: اسی - چار کڑی

Either, a. and pro. One or the other; each of two: ایک نہ ایک - دو میں سے ایک کوئی - کوئی نہ کوئی - چونسا - یہ یا وہ - خواہ - چاہو - یا

Ejaculate, v. t. To utter suddenly and briefly: بول اُٹھنا - دفعتاً کہدینا

Ejaculation, n. Act of throwing out a short occasional prayer: ادخال - درود - دعا

Ejaculatory, a. Throwing out; sudden: پھینکنے والا - اتفاقی

Eject, v. t. To throw out; to cast forth; to expel: * پھینکنا - نکالنا - خارج کرنا - بیدخل کرنا

To— * شعلہ زن آنکھیں **ing flame**,
ذات بہر کرنا **from caste**,

Ejection, n. A casting out : - اخراج - چھیناؤ -
جلا وطنی - بے دخائی

Ejectment, n. Expulsion ; ejection ; an action for the recovery of possession of lands or tenements :
اخراج - بیدخائی - نالاش بیدخائی

Eke, v. t. To increase ; to enlarge ; to supply what is wanting : پورا - ملاؤ -
پڑھانا - کھینچ لینا -
چڑھانا (آمدنی) * To-out, کرنا - جوڑنا

Eke, ad. Also ; likewise ; moreover : نیز - بھی -
اسی طرح - علاوہ

Elaborate, v. t. To produce with labour ; to work out thoughtfully and industriously :
مصنعت سے بنانا - دقت آٹھانہ - غور و جہد سے تکمیل کو
مصنعت سے بنایا ہوا - مکمل - مکلف -
highly finished : - مشکل

Syn. - Laboured, prepared, studied, perfected.

Elapse, v. t. To pass or glide away : - گذر جانا -
ہرچکنا - چلا جانا - بیت جانا

Elastic, a. Having elasticity ; springing back :
لچیلا - لچلیلا - دمदार - اپنی اصلی حالت پر پور اُترنے والا

Elasticity, n. The property of springing back to its original form :
پھر اصلی حالت پر آجانے کی خاصیت - لچک - دم

Elate, a. Flushed with success ; puffed up ; proud :
پھولا ہوا - خوش - مغرور
Syn. - Proud, puffed up, lofty, exalted.

Elate, v. t. To exalt the spirit of ; to elevate ; to puff up : - دل بڑھانا - بلند کرنا - سرفراز کرنا -
مغرور کرنا

Elation, n. Inflation of mind ; haughtiness :
تکبر - گھمٹت - مغرور
Syn. - Exultation, pride, high spirits.

Elbow, n. The joint connecting arm and forearm ; an angle : گوشہ -
Out * کہنی - کرنا - گوشہ
at-s, shabbily dressed :
To be * پھٹے حال
at the-، بغل میں رہنا - پاس میں رہنا

Elbow, v. t. To push with the elbow : کہنی سے
To-one's way * ڈھکیلنا - کہنی مارنا - کہنیوں
through a crowd, بھیز میں سے کہنی مارنے تکل
جانا

Elbowchair, n. A chair with arms : بازو دار کرسی

Elder, a. More advanced in age ; older : - جیٹھا
* n. One who is older ; a senior ;
بزرگ * n. One who is older ; a senior ;
an ancestor ; an ecclesiastical officer :
تر - بڑا - بڑکھا - پادری

Elderly, a. Somewhat old : - پیرانہ - ادھیڑ -
بتہاسا

Eldership, n. Seniority ; primogeniture :
جیٹھائی - بزرگی

Elect, v. t. To choose for officer ; to prefer ; to select by vote : چننا - چننا -
پسند کرنا - پسند کرنا - چننا
* a. Chosen : -
پسندیدہ * n. One elected :
منتخب شدہ - برگزیدہ * منتخب

Election, n. Act of choosing ; choice ; discernment :
انتخاب - مقبولیت - پسندیدگی - دانائی -
نمیز - پہچان

Syn. - Selection, preference, choice.

Elective, a. Regulated by choice ; dependant on choice :
انتخابی - مضموم - اختیاری - ارگوں کی
مرضی یا پسند پر

Elector, n. One who elects, or has right of choice :
منتخب کنندہ - پسند کرنے والا - چننے والا
وہ جس کو رائے دینے کا مجاز ہے

Electoral, a. Pertaining to an elector : -
انتخابی - مضمومی

Electorate, n. Territory of an elector :
جرمن کے ایک چھوٹے بادشاہ کی سلطنت

Electrical, Electric, a. Pertaining to, or containing electricity :
جاذبہ - کهربائی - برقی -
قوت تہربائی رکھنے والا

Electricity, n. A property of bodies which causes repulsion and attraction :
قوت کهربائی -
کشش - بجلی

Electrify, Electrify, v. t. To communicate electricity to :
برقی قوت پہنچانا یا دینا

Electroplate, n. Articles coated with silver or other met. by means of electric currents :
پرتن وغیرہ چنبرہ برقی عمل سے تلمی کی گئی ہو

Eleemosynary, a. Living on charity ; given in charity :
خیرات خور - خیرات یا صدقہ میں دیا گیا

Elegance, n. The state of being elegant ; grace ; propriety : - خوش و رعہی - حسن - خوبصورتی - لطانت - نزاکت - شستگی - زیب و زینت
Syn.—Grace, beauty, propriety, refinement.
Elegant, a. Graceful ; pleasing ; neat ; refined : - خوش و رعہی - نازک - پاکیزہ
Elegiac, a. Used in Elegies ; sad ; sorrowful : مظہر غم - غمناک - مازہی
Elegy, n. A mournful poem ; a dirge - مرثیہ - نوحہ - ماتمی گیت
Element, n. A first principle ; a constituent part ; an ingredient ; proper state or sphere ; rudiments of knowledge : - اتمت و عنصر - اربعہ - عناصر - جزاء - مادہ - مفردات - اصول علم
Elemental, a. Pertaining to the elements ; rudimentary : - عنصری - غیر مرکب - بنیادی - اصولی
Syn.—Constituent, ingredient.
Elementary, a. Primary ; simple : - ابتدائی - رسالہ - An—treatise, * عنصری - اصلی - غیر مرکب
Elephant, n. The largest quadruped : - ہاتھی - وہ بڑا جہان دیدہ ہے ، * He has seen the—
Elephantiasis, n. A species of leprosy : - دالغیل - ہاتھی پا - نیل پا
Elephantine, a. Pertaining to or like elephant ; bulky : - متعلق ہاتھی - ہاتھی سا - بڑا - عظیم
Elevate, v. t. To raise up ; to exalt ; to promote ; to cheer : - بلند کرنا - سرفراز کرنا - اونچا کرنا - ترقی دینا - مرتبہ بڑھانا - خوش کرنا - مسرور کرنا
Elevation, n. Act of raising ; exaltation ; dignity ; height ; altitude : - سرفرازی - عروج - ترقی - مرتبہ - بلندی - اونچاپائی
Eleven, a. and n. Ten and one : - گیارہ - بزدلہ
Eleventh, a. The ordinal of eleven : - گیارہواں - دیر گھر * At the—hour, the very last moment :
Elf, n. An imaginary spirit ; a fairy : - بہرت - پریزیت - پری
Elf-lock, n. A tangled lock of hair : - ارلجھ بال - جٹا
Elicit, v. t. To draw out ; to deduce : - نکالنا - کھینچنا - ظاہر کرنا

Elide, v. t. To cut off ; to suppress : - کاٹ دینا - حذف کرنا - گرا دینا
Eligible, a. Fit to be chosen ; preferable ; qualified : - قابل پسند - بہتر - لائق - معقول
Eliminate, v. t. To expel ; to set aside ; to infer : - نکال دینا - خارج کرنا - دزر کرنا - نتیجہ نکالنا
Syn.—Exclude, reject, repel.
Elimination, n. Act of expelling : - استخراج - نکاسی
Elision, n. Act of cutting off : - حذف - ازالہ حرفی
Elite, n. A chosen part ; best of anything : - برگزیدہ حصہ
Elixir, n. A compound tincture or medicine ; a liquor for transmuting metals into gold ; a cordial : - وہ عرق جو فلزات کو طلا کر دے - حواریش - یا قوتی - اکیسیر - آب حیات - امرت
Elk, n. A species of stag : - ایک قسم کا بارہ سنگا
Ell, n. A cloth measure of a yard and a quarter : - انگلی پکڑتے پھرنچا پکڑتا ہے * Give an inch and he will take an— :
Ellipse, n. An oval figure : - شکل بیضاری * The path which the planets describe round the sun : - راستہ جو سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں بناتے ہیں
Ellipsis, n. (Pl. Ellipses), (Gram.) A figure of syntax by which words are omitted ; omission : - حذف - اختصار - تقدیر کلم
Elliptical, a. Having a part omitted : - محذوف - بیضاری * Oval :
Elm, n. A forest tree : - ایک چانگلی درخت
Elocation, n. A removal ; a departure : - انتقال - سکونت - نقل مکان
Elocution, n. Pronunciation ; utterance ; oratory : - تلفظ - نطق - نصاحت - لسانی - گویائی - سخن دربی
Elocutionary, a. Pertaining to elocution : - متعلق تلفظ یا نصاحت
Eloge, Elogy, Eulogy, n. Praise ; panegyric : - نوحہ - مرثیہ - سرگ کا گیت - مدح
Elongate, v. t. To lengthen : - * To draw out : - تاننا - طویل کرنا
Elongation, n. Act of lengthening out : - تاننا - کھینچنا - طویل کرنا

Elope, v. i. To run away privately (esp. a woman): **چھپ کے بھاگ جانا - نکل جانا - روپوش ہوجانا**

Syn.—Abscond, run off.

Elopement, n. A running away clandestinely: **گریز - روپوشی - فرار**

Eloquence, n. Fluency of language; oratory; persuasive power: **خوش تقریری - فصاحت - خوش گوئی - لسانی - مرہٹے یا رغبت کرنے والی قوت**

Eloquent, v. Having the power of oratory; convincing: **خوش گوئی - شہساز - فصیح - خوش گفتار - راغب کرنے والا - قائل کرنے والا**

Else, a. and pron. Other; one or something besides: **اد. and conj.** Beside; otherwise: **اور - دوسرا - دیکر - سوا - علاوہ - نہیں تو - ورنہ**

Elsewhere, ad. In some other place: **کہیں اور - دوسری جگہ**

Elucidate, v. t. To explain; to make clear; to throw light on: **تشریح کرنا - واضح کرنا - روشن کرنا**

Elucidation, n. Explanation; exposition: **تشریح - بیان - تہبیر**

Elucidative, a. Tending to elucidate; explanatory: **توضیحی - تشریحی - بیانیہ**

Elude, v. t. To escape by stratagem; to evade: **حکمت سے نکل جانا - بچنا - ٹال دینا - ہاتھ نہ آنا**

Syn.—Avoid, evade, escape.

Elusion, n. Escape by artifice; evasion: **حیلہ سازی - گریز - بچاؤ**

Elusive, Elusory, a. Tending to elude; evasive; deceitful; cleverly escaping: **دھوکے باز - حیلہ باز - فریبی - چالاک سے بچ نکلنے والا - مغالطہ دہا - چورٹا - باطل**

Elysian, a. Blissful; most delightful: **راحت بخش - فرحت انگیز - بہشتی - فردوسی - پر فضا - دلکشا**

Syn.—Charming, delightful.

Elysium, n. The abode of the blessed after death; any delightful place: **عالم ارواح - برگزیدگان - بہشت - بیکشہ - آرام گاہ - جنت - فردوس - بشارت - وجد**

Emaciate, v. i. To lose flesh; to grow lean: *** لاغر ہونا - دہلا ہونا - لت جانا - کمزور ہوجانا - سرکوتا**

a. Wasted: **دہلا - لاغر - نحیف**

Emaciation, n. The loss of flesh; act of becoming lean: **لاغری - دہلا پن - کمزوری**

Emanant, a. Issuing from: **نکلنے والا - بہنے والا**

Emanate, v. i. To flow from; to arise: **جاری ہونا - صادر ہونا - نکلنا**

Syn.—Proceed, issue, spring.

Emanation, n. Act of flowing from; issue: **صدر - بز آمد - خروج - روانگی - بہاؤ**

Emancipate v. t. To free from servitude; to disenthral; to liberate: **آزاد کرنا - رہائی دینا**

Emancipation, n. Deliverance from slavery; release: **خلاصی - آزادی - رہائی - چھٹکارا - بریت**

Syn.—Liberation, release, freedom.

Emasculate, v. t. To castrate; to render effeminate: **خسی کرنا - خوجہ کرنا - آختہ کرنا**

Embale, v. t. To pack up; to bind up: **ٹھور باندھنا - لپیٹنا - کسنا**

Embalm, v. t. To preserve from decay with aromatics; to perpetuate; to perfume: **لاش میں خوشبو لگا کر سونے سے محفوظ رکھنا - خوشبودار کرنا**

Embank, v. t. To enclose with a bank: **پشتہ یا بند باندھنا**

Embankment, n. Act of surrounding with a bank; a mound; a dike: **پشتہ بندی - ناندھ - پشتہ**

Embargo, n. A prohibition by public authority of departure from a port; a restraint: **بندرگاہ چھڑنے کی ممانعت - جہاز کو ٹھولنے یا چلانے کی سرکاری روک**

Embark, v. t. or i. To go on board a ship; to enter upon: **جہاز پر چڑھنا - جہاز آمدہ ہونا - شامل یا شریک ہونا**

To engage in: *** اقدام کرنا**

Embarkation, n. Act of putting or going on board: **جہاز پر لادنا یا سوار ہونا**

Embarrass, v. t. To perplex; to disconcert; to impede; to hamper; to involve; to beset with pecuniary difficulties: **پریشان کرنا - مضطرب کرنا - شش و پنج میں ڈالنا - الجھانا - مشکلات میں پونسانا**

روپیہ پیسوں کی دقتوں سے گھیرنا - تنگ حال کرنا

Embarrassment, n. Distress; perplexity; confusion of mind; pecuniary troubles: **پریشانی - حیرانی - تنگ دستی - اضطراب - سراسیمگی - تنگ دستی**

Embassy, n. The public function of an ambassador ; legation : - رسالت - ایچی کری - پیغامبری - سفیر - پیغام شاہی

Embed, v. t. To lay, as in a bed : لٹانا - گاڑنا

Embellish, v. t. To decorate ; to adorn ; to beautify ; to make graceful : - آراستہ پیداستہ کرنا - زیبادیش دینا - خوبصورت بنانا - سجتانا - سنوارنا

Embellishment, n. Adornment ; decoration : آرایش - زینت - رونق

Embers, n. Smoldering coals in ashes ; live cinders : بھربھل - دہی آگ - انگارے

Embezzle, v. t. To appropriate fraudulently to one's own use : غبن کرنا - تغلب کرنا - خیانت کرنا

Embezzlement, n. Unlawful appropriation of what is intrusted to one's care : غبن - خیانت

Embitter, v. t. To make bitter ; to exasperate : تلخ کرنا - ناگوار کرنا

Emblazon, v. t. To deck in glaring colours ; to adorn with ensigns armorial : چمکمانا - زرق و برق بنانا - زینت دینا

Emblem, n. A symbol ; a representation : علامت - صورت - نقش

Syn.—Figure, type, sign.

Emblematic, a. Pertaining to emblems : علامت دار - رمزدار - نشاندار - - allusive ; typical : تصویری

Embody, v. t. To form into a body : to incorporate : متجسم کرنا - منساک کرنا - شامل کرنا - یکجا کرنا - اکٹھا کرنا - ملانا - جوڑنا

Embolden, v. t. To give courage to ; to make bold : دلیر کرنا - ہمت دینا - جی بڑھانا - دھارس دینا

Embosom, v. t. To take into the bosom ; to caress ; to over-shadow : چھاتی لگانا - ہم آغوش کرنا - گلے لگانا - پیار کرنا - سکوڑنا - چھایا کرنا

Emboss, v. t. To ornament with raised work ; to adorn with protuberances ; to raise in relief ; to hunt down : اربھوراں کام سے منقش کرنا - بیل - برٹا کاڑھنا - کندہ کاری کرنا - پھول کاٹنا - منقش کرنا - شکار کر لینا

Embouchure, (Fr.) (an' bushur,) n. The aperture of a wind-instrument ; a mouth : باجے کا منہ - مہانا - دھانا

Embowel, v. t. To take out bowels ; to enclose in something else : آنت نکالنا - خالی کرنا
* To bury : گاڑنا

Embower, v. t. To place or lodge in a bower ; to shelter as with trees : کنج میں رکھنا یا رہنا
درختوں سے چھپانا

Embrace, v. t. To hold fondly in the arms ; to clasp ; to surround ; to include, to accept : بغل گیری کرنا - آغوش میں لینا - چمٹنا - گھیرنا - احاطہ کرنا
* n. A caress ; a fond pressure : ہم آغوشی - بغل گیری - وصل

Embracer, n. (Law) One who influences jurors by corrupt means to deliver a partial verdict : اہل جوری کو مالاہنے والا

Embrasure, n. An opening in a wall or parapet through which cannon are discharged : توپ کا جھرکا - نصیل - رند

Embrocate, v. t. To foment a diseased part : آتش کرنا درد و سوجن پر

Embroider, v. t. To cover with ornamental needle-work or figures : کار چربی کرنا - گل بوٹے کاڑھنا - نقش و نگار کرنا

Embroidery, n. Variegated needle-work ; decoration : کار چربی - زردوزی - گل کاری - چکن دوزی

Embroid, v. t. To disturb ; to confuse ; to entangle : مضطرب کرنا - گھبرانا - پریشان کرنا - پھنسانا

Syn.—Entangle, encumber, confound.

Embryo, n. The offspring yet imperfect in the womb : * The rudiments of anything unformed : کوئی چیز جو ابتدائی یا ناقص ہو
* In— غیر مکمل حالت میں ہو
حالت میں - جسکی آئند نچھوہے کی امید ہے

Syn.—Germ, rudiment.

Emend, v. t. To correct ; to improve : صحیح کرنا - ترمیم کرنا - اصلاح کرنا

Emendation, n. Correction, improvement : ترمیم - درستگی - بہتری

Emerald, n. A green precious stone ; (Print) a small size of type : زمرد - سبزہ چھوٹے حروف - خطا خفی

Emerge, v. t. To rise out of ; to issue and appear : نکلتا - برآمد ہوتا - ظاہر ہوتا

Emergency, n. Sudden appearance : یکایک
سخت ضرورت : * Pressing necessity : * آمدگی - نکاس
* Unexpected casualty : - احتیاج مفاجاتی -
اتفاق - نازک وقت

Emergent, a. Suddenly appearing ; urgent ;
unforeseen ; pressing : ناگہاں ظہر ہونے والا -
اتفاقی - اشد ضروری

Emerods, n. Piles : بواسیر کے دانے - سے

Emersion, n. Act of rising out of ; reappear-
ance : طلوع - برآمدگی

Emery, n. A mineral used in polishing :
سہبادا - کورت - مہار

Emetic, n. A medicine which causes vomiting :
قے آور دوا - مقی

Emigrant, n. One who removes from his own
country : اپنا وطن چھوڑنے والا - جلاوطن - تارک وطن -
پزدیسی

Emigrate, v. i. To remove from one country to
another for residence : ترک وطن کرنا - دوسرے
دیس میں جا بسنا

Emigration, n. Act of emigrating to another
country : ترک وطن - انتقال - ملک غیر

Eminence, n. Loftiness ; height : اونچائی - بلندی
* Summit ; * Fame ; distinction ; ناموری - شہرت -
رفعت - * Exalted personage : - صاحب جاہ و جلال
رمنازات - صاحب جاہ و جلال

Eminent, a. High ; dignified ; remarkable :
بلند - مرطف - اعلیٰ - ممتاز - مشہور
Syn.—Distinguished, conspicuous, celebrated.

Emissary, n. A secret agent ; a spy : جاسوسیا -
مخبر - بیویڈیا

Emission, n. Act of sending out ; issue : اخراج -
ارسال - نکاس - صدور

Emissive, a. Sending out : نکلا ہوا - خارج

Emit, v. i. To send out ; to exhale : نکالنا -
چھوڑنا - صادر کرنا
Syn.—Eject, discharge, publish.

Emmet, n. An ant ; a pismire : چیٹتا -
مور

Emmew, v. t. To coop up ; to confine : درجے میں
بند کرنا - قید کرنا - قفس میں رکھنا

Emollient, a. Softening : ملائم کوندیوالی (دوا)
ملین - درد کو رفع کرنے والا

Emolument, n. Profit ; advantage ; gain :
منافع - فائدہ - حاصل - بالائی یافت

Emotion, n. Mental excitement ; agitation of
mind ; a moving of the feelings : جوش دل -
جذبہ - ترنگ

Emotional, a. Exciting : جذب دہنے والا - پر جوش

Empale, v. t. To enclose ; to fence round with
stakes : گھیر لینا - چرب بندی کرنا - گھیر لینا
* To put to death by fixing on a
stake : سولی دینا

Empalement, n. Fencing ; Execution by
thrusting a stake into the body : سولی -
تصلیب

Empanel, v. t. To enter on panel ; to enrol
jury : انل چوری میں داخل کرنا - چوری کی فہرست
میں مندرج کرنا

Emperor, n. The sovereign of an empire :
سلطان - شاہنشاہ - قیصر

Emphasis, n. Stress laid on a word ; force ;
impressiveness : تاکید لفظی - زور - دباؤ - مرثو

Emphasize, v. t. To utter with stress of voice ;
to intensify ; to render significant : زور دیکر
تلفظ : کرنا

Emphatic, a. Uttered with emphasis ; forcible :
تائیدی - پر زور - موثر

Emphatically, ad. With emphasis ; forcibly ;
most certainly : یقیناً - زور سے

Empire, n. The dominion of an emperor ;
supreme power : سلطنت - ریامت - حکمرانی -
حکمداری - تسلط

Empiric, n. An ignorant physician ; a quack ;
one whose knowledge is got from experience
only : * نیم حکیم - محض تجربہ سے سیکھا ہوا آدمی
a. Known only by experience : * تجربہ -
مجبوب دوا - medicine — * تجربہ کی ہوئی - لنگے کا

Employ, v. t. To keep at work ; to engage : to
use : کام لینا - مشغول رکھنا - نوکر رکھنا - استعمال :
کرنا - لگانا

Employee, n. One who is employed : ملازم - نوکر

Employer, n. One who employs : نوکر رکھنے والا -
خاوند - مالک

Employment, n. Business ; office : شغل - کام
* Out * ملاشی روزگار — In search of * منصب - عہدہ
خالصی - بے کار - بے روزگار — of —

Emporium, n. A mart ; place of merchandise :
بازار - تجارت گاہ - مندی

Empoverish, (See Impoverish.)

Empower, v. t. To authorise ; to enable : اختیار دینا - مقتیار کرنا - قابل کرنا - لایق کرنا

Empress, n. The wife of an emperor : ملکہ - سلطانہ

Emptiness, n. Vacuity ; want of sense : - خلو تہی مغزی - بے عقلي

Empty, a. Void ; without effect ; unfurnished ; unsatisfactory ; wanting substance ; lacking sense : خالی - تہی - بے اثر - بے اصل - بے ذبیحہ - بے محنتی - بے وجود - تہی مغز - احمق - بے سر و سامان

Syn. - Void, devoid, unoccupied, vacant.

Empty, v. t. To exhaust ; to evacuate : خالی ارٹیلنا * To pour out : تہی کرنا

Empurple, v. t. To dye purple : - ارغوانی کرنا - بینچنی رنگنا

Empyrean, a. Formed of pure fire or light ; ethereal ; the highest : آشی - روشنی کا بند ہوا : آسمانی - اعلیٰ - بلند ترین

Empyrean, n. The highest heaven : - فرش ہرین - فلک اعلیٰ

Emulate, v. t. To strive to equal or excel ; to rival : ہمسری کرنا - برابری کرنا - مقابلہ کرنا
Syn. - Vie with, compete with.

Emulation, n. Rivalry ; contest ; competition ; envy : رشک - ہمسری - مقابلہ - حرص - رقابت - حریصی

Emulous, a. Desirous to excel ; rivalling ; envious : سبقت یا ہمسری چاہنے والا - سبقت جو - حاسد

Emulsion, n. A liquid resembling milk formed by mixing oil and water : شیرہ (مٹلا شیرہ روغن : شیرہ روغن مٹھی رخیوہ)

Enable, v. t. To make able ; to empower : قوی کرنا - اختیار دینا

Enact, v. t. To establish by law ; to perform : قانون بنانا - آئین جاری کرنا - پورا کرنا - ایفا کرنا

Syn. - Ordain, decree, establish.

Enactment, n. The passing of a bill into a law ; a decree : اجراء - مسودہ - قانون کو نافذ کرنا - آئین

Enamel, n. A smooth glassy substance used in enamelling ; thing enamelled : مینا - مینا کار
v. t. To inlay ; to variegate with colours : مینا کاری کرنا - منبت کرنا - کوفت کرنا

Enamour, v. t. To inflame with love ; to make fond ; to charm : فریقتہ کرنا - شیقہ کرنا - عاشق کرنا - مرہنا

Syn. - Captivate, fascinate.

Encage, v. t. To shut up ; to confine : - بند کرنا - قید رکھنا

Encamp, v. t. or i. To pitch tents ; to halt : خیمہ زن ہونا - پڑاؤ ڈالنا - اترنا

Encampment, n. Act of pitching tents ; a camp : خیمہ زنی - پڑاؤ - لشکرگاہ - چھاؤنی

Encase, v. t. To inclose in a cover or case ; to surround : غلاف کرنا - خانہ کے اندر رکھنا - بند کرنا - لپیٹنا - گھیرنا

Encave, v. t. To hide as in a cave : غار میں چھپانا

Enceinte, (ong-saynt Fr.) a. and n. In the family way ; the rampart surrounding a town : حاملہ - بار دار - امید سے - چہار دیواری

Enchant, v. t. To charm ; to fascinate : مقترن کرنا - فریقتہ کرنا - مرہنا

Syn. - Captivate, enamour.

Enchantment, n. Magical charms ; fascination ; delight : جادوگری - فریفتگی - دلربائی

Enchantress, n. A sorceress ; a woman versed in magical arts : جادوگری - ساحرہ

Enchase, v. t. To adorn by embossed work ; to fix in a border ; to set jewels ; to engrave : منبت گری کرنا - حاشیہ لگانا - چڑاؤ کام بنانا - کھدایا ہوا کام بنانا

Encircle, v. t. To enclose by a circle ; to surround : حلقہ باندھنا - گھیرنا - محاصرہ کرنا

Syn. - Embrace, encompass, environ.

Enclose, See Inclose.

Enclosure, n. See Inclosure.

Encomiast, n. One who bestows praise ; a eulogist : ثناخوان - تعریف کرنے والا - بھارت

Encomium, n. Panegyric ; high praise : ثنا - مدح - تعریف

Encompass, v. t. To go round ; to surround : حلقہ باندھنا - گھیرنا

Encore (an-kor), ad. Once more ; again : دوبارہ
v. t. * بار دیگر - پھر - بار ایک بار دوبارہ چاہنا - پھر بلانا
petition :

Encounter, n. A contest ; a meeting ; face to face ; a fight ; a brush ; an encounterer : -

مقابلہ - اتفاقی ملاقات - موائجہ - جوڑپ - دشمنی - لڑائی - مقابلہ کرنا * *v. t.* To fight ; to meet : - ملنا

Encourage, v. t. To give courage to ; to animate ; to incite ; to enhearten ; to reassure ; to patronise ; to stimulate ; to cherish : ترغیب کرنا - دلیر کرنا - ترغیب دینا - تقویت کرنا - دلایا دینا - دلجمعی کرنا - تھریک دینا - بڑھارا دینا

Syn.—Embolden, animate, cheer.

Encouragement, n. Incitement ; hope : - ترغیب تقویت - تسلی - دلایا

Encroach, v. i. To intrude ; to advance by stealth ; to infringe : - دست اندازی کرنا - گھس جانا - تجاوز کرنا

Encroachment, n. An unlawful intrusion ; an inroad : - دست درازی - مداخلت بیجا - چڑھائی

Encumber, v. t. To clog ; to load ; to impede ; to obstruct ; to load to debt : - لادنا - دباننا - بوجہ دینا - بھاری کرنا - روکنا - مزاحمت کرنا - مقرر کرنا

Encumbrance, n. A load ; impediment ; burden on an estate ; one dependant on another : - بوجہ - بھار - گلے کا ہار - پانر کی بیڑی - مزاحمت - روک - قرض ذمہ جاہداد - منحصر

Syn.—Load, burden, impediment, hinderance.

Encyclopædia, n. Circle of human knowledge ; a work containing information on every department of knowledge : - دائرہ علم - مجمع العلوم - لغت - سار سنگرہ

End, n. Last point or portion ; termination ; extremity ; limit ; conclusion ; final doom ; death ; purpose ; design : - خاتمہ - انتہا - حد - سر - **To make both—s meet, to make one's income cover one's expenditure :** * **To put an—to, to terminate :** کرنا * **To gain one's—, At the—, * To bring to an end, to make an end of,** ہر چکننا - پورا ہونا - **To come or draw to an end, * To no—, لا حاصل - اختتام کر پھونچنا** **To put an—to, * To stand**

on—, اس واسطے **To the—that,** سیدھا کہو ہرنا، تاکہ **To what—, کس واسطے،** **Still an end,** اخیر تک براہ -

—, *v. t.* or *i.* To terminate ; to conclude ; to close ; to put to death : آخر کرنا یا **To—in smoke, to be useless :** رائگاں جانا - بے فائدہ ہونا

Endanger, v. t. To bring into peril ; to hazard : خطرہ میں ڈالنا - آنت میں پھسانا

Endear, v. t. To make dear ; to make beloved : عزیز کرنا - پیارا کرنا

Endearment, n. Affection ; tenderness ; caresses ; blandishments : - صحبت - اُلفت - پیار - چھوڑا چائی - ناز و نیاز - لاق

Endeavour, n. An attempt ; an effort : - کوشش **v. t.** To attempt ; to strive ; to effect : - قصد کرنا - کوشش کرنا - سعی کرنا

—, *v. i.* To try ; to labour ; to strive : فریش کرنا - سعی کرنا - زور مارنا

Endemic, a. Peculiar to a people or a district : **n.** A disease affecting a number of persons simultaneously : ملکی بیماری

Ending, n. Termination ; conclusion : - خاتمہ - انجام - آخر - کاسنی - ہندبا

Endive, n. A plant : **Endless, a.** Without end ; perpetual : ceaseless : - حد - لا انتہا - بے پایاں - دائم - متواتر **Syn.**—Eternal, everlasting, infinite.

Endmost, a. Farthest : سب سے دور **Endogenous, n.** Growing or originating from within : اندر سے اگلنے یا ظاہر ہونے والا

Endorse, v. t. To write on the back of a bill ; to superscribe ; to sanction : عبارت ظہری لکھنا - پشت پر لکھنا - منظور کرنا - دستخط ثبت کرنا

Endorsement, n. Act of endorsing ; that which is written on the back of a bill : - عبارت ظہری - **Endorse acknowledgment of notice,** اطلاع یابی لکھنا

Endow, v. t. To furnish with a permanent means of support ; to give a dowry ; to settle upon ; to enrich : چھینز دینا - وقف کرنا - بخشنا - عطا کرنا - مالا مال کرنا

Endowment, n. A permanent fund of maintenance ; the fund settled ; a dower ; a natural gift ; (pl.) talents : *جہیز - وقف - بخشہ ہونے والی چیزیں* (pl.) talents : *جہیز - وقف - بخشہ ہونے والی چیزیں* ; *جایداد - دان - وصف - ذاتی لیاقتیں*

Endurance, n. Continuance ; suffering ; patience : *قیام - پایداری - تحمل - برداشت - بردباری - صبر*

Endure, v. t. To bear ; to sustain ; to last : *برداشت کرنا - سہنا - چھیلنا - گوارا کرنا - قیام کرنا - ٹھہرنا*

Syn. — Continue, abide, submit.

Enduring, a. Lasting ; long suffering : *دیر پا - دایمی - پائیدار - شکیبا - مستحکم*

Endwise, ad. On the end ; uprightly : *کنارے کے - بل کھڑا*

Enema, n. A clyster : *پچھکاری - شائے*

Enemy, n. An adversary ; a foe : *دشمن - حریف - جانی دشمن - جان لیوا* — A mortal or deadly — *دشمن - جان لیوا*

Syn. — Antagonist, foe, opponent.

Energetic, a. Forceible ; active ; powerful ; efficacious : *مضبوط - موثر - چست و چالاک - زور آور*

Syn. — Potent, effective, vigorous.

Energy, n. Power ; force of expression ; vigour ; spirit : *قوت - زور - استعداد - تائید - سمت*

Syn. — Vigour, spirit, zeal, strength.

Enervate, v. t. To make feeble ; to weaken : *کمزور کرنا - ناتواں کرنا*

Syn. — Weaken, debilitate, enfeeble.

Enervation, n. Act of weakening : *کمزوری - نفاست - ضعف*

Enfeeble, v. t. To weaken : *کمزور یا تقییم کرنا - دہلا کرنا*

Enfeeblement, n. A weakening : *کمزوری - نفاست*

Enfeoff, v. t. To give in fee simple : *بطور معافی درام یا قبضہ مطلق عطا کرنا - بندہ یا غلام بنا دینا*

Enforce, v. t. To strengthen : *قوت دینا - مستحکم کرنا* ; *To put in execution : * To compel : * To put in execution : * To urge : * To prove : ثابت کرنا*

Enforcement, n. Act of enforcing ; putting into execution ; restraint ; compulsion : *زبر - دستی - زور آوری - تعہد - اجرا - عمل در آمد - مجبوری - زبر - ضبط - پردہ داری*

Enfranchise, v. t. To set free ; to admit to the privileges of a freeman : *رہا کرنا - خلاص کرنا - حقوق رئیس بخشنا*

Enfranchisement, n. Act of liberating admission to civil and political rights : *مخاصی - رہائی - اختیار یا حق توطن*

Engage, v. t. To bind by contact : *قول و قرار سے* ; *To pledge : * To pledge to marriage : * To win ; to allure : * To employ : * To fight : لڑنا*

Engaged, a. Busy ; employed ; affianced ; left as a hostage ; pledged ; entangled : *مصرف - منسوب - بطور یرغمال یا کفیل - چھوڑا ہوا - مکمل - الجھا ہوا - پونسا ہوا*

Engagement, n. Act of engaging ; employment ; obligation ; battle ; promise ; stipulation ; an appointment ; betrothal : *ذمہ داری - شغل - معاہدہ - لڑائی - وعدہ - قرار - یقین - ملاقات - منگنی - نسبت*

Engaging, a. Winning ; attractive ; pleasing ; interesting : *پیدا - دلچسپ - دلربا - دلکش - خوش آئند*

Engender, v. t. To beget ; to produce ; to stir up : *جنمنا - پیدا کرنا - اُٹھانا - مچانا*

Syn. — Breed, generate, cause.

Engild, v. t. To brighten ; to illuminate : *چمکا دینا - جلوہ گر کرنا*

Engine, n. An instrument of action ; a machine ; means : *آلہ - کل - ذریعہ*

Engineer, n. One skilled in mechanics, and in the construction of public works, &c. : *فن معماري ازر کل وغیرہ میں ماہر - کل ساز - انجینیر*

Engineering, n. Art of an engineer : *کل سازی کا فن - تروپ خانہ کا کام - عام معماري*

Engirdle, v. t. To encircle ; to encompass : *حلقہ باندھنا - گھیرنا*

English, a. Belonging to England : *انگلسٹانی* ; *n.* The people or language of England : *انگریز - اہل انگلستان - انگریزی زبان*

Engraft, v. t. To graft into another shoot ; to introduce ; to fix deeply : *پیوند لگانا - داخل کرنا - گارنا - بٹھانا - جزنا*

Engrain, v. i. To dye of a fast colour ; to infix deeply : *پکارنگ رنگنا - گارنا - تیرونا*

Engrave, v. t. To cut figures on metal, wood, &c.; to impress deeply : نقاشی - کندہ کرنا - کھردنا
کرنا - قلمکاری کرنا - بٹھانا - جڑنا

Engraving, n. The art of cutting on metals, wood, &c.; an engraved plate : - نقاشی - کندہ تصویر

Engross, v. t. To purchase the whole; to absorb : کل یا تھوک خریدنا - جذب کرنا - لگا لینا

Engulf, v. t. To swallow up; to absorb : - نگلنا - جذب کر لینا

Syn.—Absorb, swallow up, engross.

Enhance, v. i. To raise in esteem or price; to aggravate : شرح یا مول بڑھانا - زیادہ کرنا - بڑھانا - سخت کرنا - سنگین کرنا

Enhancement, n. Act of increasing; augmentation : بڑھانی - زیادتی - اضافہ - سنگینی

Enigma, n. An obscure question or saying; a riddle : معما - پھیلانی - پیچیدہ معاملہ

Syn.—Conjecture, puzzle.

Enigmatical, a. Containing a riddle; obscure; mysterious; unintelligible : رمز آمیز - دقیق - مبہم - محذلق - بعید القہم

Enjoin, v. t. To command; to order; to enforce; to direct; to prevent : فرمانا - حکم دینا - تاکید کرنا - ہدایت کرنا - نصیحت کرنا - ممانعت کرنا - باز رکھنا

Enjoinment, n. A command; a direction : فرمان - ہدایت - نصیحت

Enjoy, v. t. To feel or perceive with pleasure; to delight in; to have possession of : اٹھانا - خوشی کرنا - اطف اٹھانا - لینا - پانا

Enjoyment, n. Possession with pleasure; fruition : حظ - خوشی - آرام - آسائش - مزہ - لذت - تمتع

Enkindle, v. t. To set on fire; to incite : جلانا - ساگنا - بھڑکانا - اشتعال دینا

Enlarge, v. t. To make larger, to extend; to set free : **To** * بڑھانا - زیادہ کرنا - پھیلانا - آزاد کرنا : **To** * طرالت دینا : **—upon,** to discuss fully : **To** * دل بڑھانا - ہمت دلانا : **—the heart,** to encourage : دلانا

Syn.—Increase, extend, expand.

Ant.—Lessen, reduce, subtract.

—, v. t. To become larger; to be diffused in speaking or writing : بڑھنا - تراخ ہونا - طول دیکر کہنا - مبالغہ کرنا - طرالت لانی کرنا

Enlargement, n. Increase; augmentation; extension; release; diffuseness in speaking or writing : افزائش - مبالغہ - زیادتی - فراخی - خلاصی - طرالت

Enlighten, v. t. To illuminate; to instruct; to make clear to the intellect : روشنی کرنا - تربیت کرنا - ذہن روشن کرنا - عقل دینا

Enlightenment, n. Instruction; knowledge : تربیت - تعلیم

Enlist, v. t. To enter a name on a list; to enrol : *نہرست میں نام درج کرنا - بھرتی کرنا - نوکر کرنا : **v. i.** To engage in public service; to enter heartily into a cause : بھرتی ہونا - نوکر ہونا - دل سے کام میں شامل ہونا

Enliven, v. t. To animate; to cheer : زندہ کرنا - جلانا - ہمت دینا - تیز کرنا - خوش کرنا

Syn.—Inspire, cheer, exhilarate.

Enmesh, v. t. To entrap; to entangle : پھانسنا - کھیرنا

Enmity, n. Ill-will; animosity; hatred : عداوت - دشمنی - نفرت

Syn.—Hostility, rancour, animosity.

Ant.—Friendship, concord, harmony.

Ennoble, v. t. To make noble; to elevate : ممتاز کرنا - سرفراز کرنا - مشرف کرنا - بڑھانا - معزز کرنا

Ennui (on-new), n. A feeling of weariness or disgust from satiety; listlessness; lassitude : سستی - ماتدگی - آس

Enormity, n. Atrociousness; excessiveness; villainy : زیادتی - خلاف رزوی - خباثت - زبونی - بدذاتی - شرارت - گناہ کبیرہ

Enormous, a. Beyond rule or measure; excessive; very wicked : بے انتہا - بے اندازہ - نہایت - غایت - بہت زیادہ مکروہ - بہت بڑا

Syn.—Immense, huge.

Enough, a. Sufficient; giving content : کافی : **n.** Sufficiency : کافی * بس - خاطر خراہ - رانی کافی - از بس - اچھی * **ad.** Sufficiently : **Over and— and** کافی و رانی * **to spar,** کافی و رانی

Enquire, v. t. To ask : *پرچھنا : **To investigate** into : تحقیقات کرنا - دریافت کرنا

Enrage, v. t. To irritate; to provoke; to exasperate : غصہ کرنا - طیش میں لانا - برہم کرنا - پراگندہ کرنا

- Enrange, v. t.** To place regularly : ترتیب وار رکھنا - سببانا
- Enrank, v. t.** To place in order : صف میں ترتیب دینا
- Enrapture, v. t.** To transport with pleasure ; to delight highly : دماغ باغ کرنا - خوشی سے بے خود کرنا - ازحد مسرور کرنا - مصطرب کرنا
- Enravis, v. t.** To transport with delight ; to enchant : خوشی سے بے خود کرنا - دماغ : دماغ - وجد : میں لانا - مقتون کرنا
- Enregister, v. t.** To record : مندرج کرنا - فہرست : میں لکھنا
- Enrich, v. t.** To make rich ; to adorn ; to fertilize : مہرول کرنا - غنی کرنا - آراستہ کرنا - زرخیز : کرنا
- Enrichment, n.** Act of making rich ; embellishment : تونگری - پر رونقی - آراستگی
- Enrobe, v. t.** To dress ; to adorn : پوشاک پہنانا - آراستہ کرنا
- Enrol, v. t.** To enlist , to enregister : داخل فہرست : کرنا - درج رجسٹر کرنا - بھرتی کرنا
- Enrolment, n.** A registering : اسم نویسی - اندراج - فرد - فہرست - چہتا
- Enroot, v. t.** To implant : جز جمانا - گاڑنا
- Enroute, plur.** On the way : راستہ پر - برسر راہ
- Ensanguine, v. t.** To stain or cover with blood : خون آلودہ کرنا - لہر سے بھرنا
- Enshrine, v. t.** To preserve as sacred ; to cherish : پاک سمجھکر محفوظ رکھنا - بچا رکھنا - استعجاب : کرنا
- Enshroud, v. t.** To cover, as with a shroud : ڈھانپنا - تپینا
- Ensign, n.** An officer that carries a standard : ایک فوجی بالٹن کا نشان : علم بردار - انسپر جھنڈا - Flag distinguishing a nation : نشان نشان
- Enslave, v. t.** To reduce to slavery : غلام کرنا - اسیر کرنا
- Enslavement, n.** State of servitude ; bondage : حلقہ بگرشی - غلامی - اسیری
- Ensnare, v. t.** To entrap ; to allure : جال میں پھنسانا - ورغلا

Syn.—Catch, inveigle, allure.

- Ensue, v. t.** To come after ; to succeed : واقع ہونا - صادر ہونا - ہونا - برپا ہونا - پیروی کرنا
- Ensure, v. t.** To make certain or secure : یقین کرنا - ذمہ کرنا - محفوظ کرنا
- Entail, n.** An estate entailed or settled : جائداد جو چند پشت معین تک وراثتاً دی گئی ہو اور ہر وارث کو اختیار اسکے جبا کا نہ ہو
- v. t.** To settle the descent of an estate ; to be necessarily followed by : جائداد کی وراثت محدود کرنا - بالضرور آید کرنا - لازمی نتیجہ کے طور پر پیدا کرنا
- Entangle, v. t.** To involve ; to twist ; to puzzle ; to involve in complication ; to puzzle : الجھانا - الجھنا - پوانسنا - گھبرانا - شش و پنج میں ڈالنا
- Enter, v. t.** To come or go into ; to penetrate ; to unite in ; to record ; to inscribe ; to insert ; to enrol : داخل کرنا - شامل کرنا - گھسنا - مندرج کرنا - لکھنا - شریک ہونا - گھسیڑنا - درج کرنا - قلمبند کرنا - خانہ پروری * داخل ہونا : To—into, to penetrate : کرنا To engage in : شریک ہونا : To be an ingredient in : * جز ہونا : To—on or upon, to begin : شروع ہونا
- , v. t. To go in ; to engage in ; to form a part of ; to sympathise : اندر جانا - گھسنا - شراکت کرنا - شامل ہونا - درد کھانا - درد شریک ہونا - دل میں بیٹھنا
- Enterprise, n.** An undertaking ; a blood attempt ; eagerness to engage in : کار عظیم - مہم
- v. t.** To undertake ; to venture upon : قصد کرنا - کوشش کرنا
- Enterprising, p. a.** Resolute ; energetic and progressive : دلیر - جہاد - عالی ہمت - جانباز
- Entertain, v. t.** To treat with hospitality ; to amuse ; to keep in the mind ; to support ; to take into consideration : تواضع کرنا - دل بھلانا - دل میں رکھنا - پرورش کرنا - سہارا دینا - غرر کرنا - عرضی منظور یا قبول : To—a petition, * التفات کرنا سماعت کرنا - مقدمہ سننا : To—a suit, * کرنا
- Entertaining, a.** Amusing ; diverting : دلچسپ - مفرح
- Entertainment, n.** Hospitality ; amusement : مہمانداری - تفریح طبع - دعوت - زیارت
- Syn.—Amusement, diversion, recreation.
- Enthral, See Inthral.**

Enthroned, v. t. To place on a throne : **تخت نشین کرنا - راج گدی دینا**

Enthusiasm, n. Ardent zeal ; fervor of soul : **دلہرزگی - سرگرمی - جرش - وجد - شوق - تمصب**

Syn.—Ecstasy, zeal, ardour, fanaticism, religious, frenzy.

Ant.—Calmness, indifference, apathy, dulness, prudence.

Enthusiast, n. A zealot ; one who is completely possessed by a subject : **سرگرم - پرشوق - تمصب - مجذب - مرد جانسوز - مست مری - وہ جسپر ہر وقت ایک ہی خیال سرور رہے**

Enthusiastic, a. Ardently zealous ; vehement ; warm : **ہر جرش - سرگرم - جانشان - پرتواک**

Entice, v. t. To allure ; to attract ; to incite : **بھڑکانا - لہکانا - لہکانا - توغیب دینا - بھڑکانا**

Syn.—Coax, decoy, seduce, tempt.

Ant.—Distress, annoy, disturb, irritate, repel.

Enticement, n. Allurement ; blandishment : **دل لہیبی - اغوا - دلروائی - ناز**

Entire, a. Whole ; undivided . complete : **تک - پورا - مہرجا**

Syn.—Complete, unbroken, whole, full.

Ant.—Incomplete, partial, inadequate.

Entirely, ad. Wholly ; fully ; complete : **سوار - بالکل - یک لخت - سب - بے کم و کاست - مکمل**

Entirety, n. Completeness ; the whole : **صحیح - سالمی - تمامی - کلیت - صحیح رقتا**

Entitle, v. t. To give a title or right ; to style ; to designate ; to qualify : **خطاب دینا - مستحق - کرنا - لقب کرنا - نام دینا - لاق کرنا**

Entity, n. Real existence ; being ; essence : **ہستی - موجودگی - اصلیت - ماہیت**

Entomb, v. t. To deposit in a tomb ; to inter : **قبر میں دینا - دفن کرنا - گاڑنا**

Entombment, n. Interment : **دفنانا - تدفین و تکفین**

Entomology, n. The natural history ; science which treats of insects : **علم - حشرات الارض کی زندگی کا بیان - علم**

Entrails, n. (pl.) The bowels ; intestines ; internal parts : **آئیں - انتریاں - روده - اندرونی حصہ**

Entrance, n. The act of entering the door or passage by which to enter ; the door ; initiation : **ادخال - گذر - دروازہ - آیرزگی - آغاز**

Syn.—Entry, passage, admission.

Ant.—Departure, egress, exit, withdrawal.

Entrance, v. t. To put into a trance or ecstasy ; to enchant : **بیشرد کرنا - بیہوش کرنا - شیفتہ کرنا - دل لہانا**

Syn.—Charm, enrapture.

Ant.—Disenchant, irritate.

Entrap, v. t. To catch in a trap ; to ensnare ; to entangle : **جال میں پکڑنا - پھنسانا - الجھانا**

Entreat, v. t. To beg earnestly ; to beseech ; to pray for : **صت کرنا - التجا کرنا**

Syn.—Solicit, crave, implore.

Entreaty, n. Petition ; earnest prayer ; supplication ; request : **التجا - استدعا - التماس - درخواست**

Entree, n. Entry ; free access : **داخل - بارے گی - داخلہ خاص - ملاقات خاص کے لئے بے پی**

Entrepot (ang-tre-po), (Fr.) A magazine ; a ware-house : **مغزن - گنج - ترشہ خانہ - گردام**

Entrench, v. t. To surround with a trench : **خندق - تھیزہ مورچہ بندی کرنا**

Entrust, See Intrust.

Entry, n. The passage by which one enters a house . entrance ; act of registering ; the item registered : **دروازہ - داخل رسائی - اندراج - رقم - مندرجہ**

Entwine, v. t. To twine or wreath round : **بل دینا - لپیٹنا - مڑنا - بٹنا**

Enucleate, v. t. To clear ; to disclose ; to disentangle : **خلاص کرنا - کھولنا - سلجھانا - بری کرنا**

Enumerate, v. t. To number ; to reckon singly ; to detail : **گنتا - شمار کرنا - تفصیل کرنا - ایک ایک بیان کرنا یا سننا**

Enumeration, n. Act of numbering : **شمار - گنتی - حساب تذکرہ**

Enunciate, v. t. To declare ; to proclaim ; to utter : **بیان کرنا - دعوی بیان کرنا - اعلان کرنا - مشتہر کرنا - ظاہر کرنا**

Enunciation, n. Declaration ; utterance of words : **دعوی - اظہار - اعلان - تلفظ - بیان**

Envelop, v. t. To inclose ; to cover ; to hide ; to surround : **مغلف کرنا - ڈھانکنا - پھونکنا - چھونکنا**

Envelope, n. A covering for a letter ; a wrapper : **لغافہ - غلاف**

Envelopment, n. Entanglement perplexity : **پہنچ رتب - پھنڈاؤ - الجھان**

Envenom, *v. t.* To poison : زہر آلودہ کرنا - زہر
 * To taint with
 bitterless or malice : متغیر کرنا - عداوت پیدا کرنا - کسی کی طرف سے دل میں کر دینا
Enviably, *a.* Exciting envy : * Desirable : قابل رشک - مرغوب خاطر
Envious, *a.* Feeling envy : jealous ; spiteful ; malicious : کینہور - حاسد - بداندیش
Environ, *v. t.* To surround ; to encompass : گھیرنا - محاصرہ کرنا
Environment, *n.* The act of surrounding ; that which encompasses ; a surrounding : چوگردی - حوالی - نواح - پڑوس
Environs, *n. pl.* Places that lie around a town ; suburbs : قرب و جوار - اطراف - فصل - گرد نواح - حوالی
 Syn.-- Neighbourhood, vicinity.
Envoy, *n.* A public minister sent from one power to another ; a diplomatic agent ; a plenipotentiary : ایجنٹی - سفیر
Envy, *v. t.* To grieve at another's good ; to grudge : حسد کرنا - رشک کرنا - قہا لیجانا - دیکھتے تہ
n. Pain excited by another's prosperity ; jealousy ; malice ; spite : حسد - بغض رشک - کینہ
Enwrap, *v. t.* To wrap up ; to envelop : لپیٹنا - ڈھانکنا
Epact, *n.* The difference in length between solar and lunar time : قمری اور شمسی مہینے کا فرق
Epaulet, *n.* A badge worn on the shoulder by military and naval officers : جہا جہ فوجی اور بحری حکاموں کی وردی میں کندھے پر ہوتا ہے - جہا - بلا
Ephemera, *n.* An insect that lives one day only ; a fever that lasts but one day : ایک کیڑا - جہ صرف ایک روز زندہ رہتا ہے - دن بھر کا ہفتار
Ephemeral, *a.* Lasting one day ; short-lived : یکروزہ - قلیل الیعیات - سریع الزوال - جلد مرجانے والا
Ephemeris, *n.* An astronomical almanac ; a journal : ستاروں کا روزنامچہ - تقریم
Epic, *a.* Containing heroic narration : - رزم کا بیان
n. An epic or heroic poem : * آلا - کڑکا - سا کہا
 نظم رزمیہ یا بہادرانہ
Epicene, *a.* Common to both sexes : تائیک و تذکیر - میو - مشدک

Epicure, *n.* A luxurious and dainty eater : شکم پرور - پیٹر - عیاش - خرش خوراک - نعمت شناس
 نفس پرست
Epicurean, *a.* Luxurious ; sensual : چشورا نفسانی - بہارازا - عیاش
Epicycle, *n.* A little circle whose centre is on the circumference of a greater circle ; ایک چھوٹا دائرہ جسکا مرکز بڑے دائرے کے محیط میں ہے
Epidemic, *a.* Affecting great numbers ; generally prevailing : بہتیر نگر گرفتار کرنے والا (مرض) - جہانگیر - عالم میں پھیلنے والا آڑنی - پھیلائی - لگتی - * *n.* A disease generally prevailing : عام وبا - مہا ماری
Epidermis, *n.* The outer skin of the body : جلد
 کی اوپر کی پرت - چھالی
Epigram, *n.* A short, witty poem ; any concise and pointed saying : لطیفہ - غزل - چٹکلا - نکتہ
Epigrammatist, *n.* A writer of epigrams : لطیفہ نویس
Epigrammatic, *a.* Like an epigram ; concise and pointed : لطیفہ کے متعلق - نکتہ پرداز - شغفہ - رقتہ - تلا و دلا
Epigraph, *n.* An inscription on a building, tomb, &c. ; a motto at the commencement of a book or its parts : نوشتہ جہ کسی عمارت یا قبر وغیرہ پر کھدایو - تکیہ - لوح - مقراء - کلام
Epilepsy, *n.* The falling sickness : صرع
Epileptic, *a.* Afflicted with or pertaining to epilepsy ; convulsed : صرعی والا - صرع کے متعلق
Epilogue, *n.* A speech at the end of a play ; conclusion of a book : تقریر جو نقل یا تماشہ کے آخر میں حاضرین سے کہی جائے - خاتمہ - تقریریں
Episcopacy, *n.* Government of the church by bishops : سردار پادری کی حکومت کلیسیہ
Episcopal, *a.* Governed by bishops ; vested in bishops : سردار پادری کے ماتحت یا اختیار میں
Episcopate, *n.* Office of a bishop : سردار پادری کا عہدہ
Episcopicide, *n.* The murderer of a bishop : پادری کا قاتل
Episode, *n.* An incidental narrative ; a digression : اتفاقی ماجرا - داستان در داستان

Epistle, n. A writing sent to a person; a letter : خطا - رقعہ

Epistolary, a. Relating to an epistle : مکتوبی
خطا کتابت کے متعلق

Epitaph, n. A commemorative inscription on a tomb : تکیہ - لوح قبر - نوشتہ

Epithalamium, Epithalmy, n. A nuptial song : جارتہ کا گیت - شادیانا - گھڑی بدھائی

Epithet, n. An adjective denoting a quality; a title : صفت - لقب

Epitome, n. An abridgment; a compendium : انتخاب - خلاصہ

Syn. -- Abstract, summary, synopsis.

Epitomize, v. t. To shorten or abridge; to summarise; to make an extract : اختصار کرنا -
انتخاب کرنا - خلاصہ کرنا - چوانگنا - لب لباب نکالنا

Epoch, n. A fixed point of time or period; زمانہ - عہد - جگ - دور - تاریخ - قابل یاد کار :
زمانہ

Syn. -- Era, time, date, period.

Epode, n. The last part of an ode. قصیدہ کا
آخری حصہ - قطعہ - چروپا

Epopee, n. The history or action of an epic poem : تواریخ رزمیہ - ساکھا

Epsom-salt, n. The sulphate of magnesia; a useful purgative medicine : ایک قسم کا نمک جو
جلاب کے کام آتا ہے

Equable, a. Equal and uniform; even : برابر -
ہموار - یکساں

Equal, a. Having the same magnitude, dimensions, value, or degree; adequate; just :

n. One of the same age, rank, or merit : ہمسر -
مساوی * برابر - ہموار - موافق - مناسب

v. t. To be equal to; to recompense fully; to make equal :

یکساں ہونا - برابر ہونا - پورا کرنا - مساوی کرنا

Equality, n. Likeness; uniformity; sameness; evenness : برابر - ہمواری - یکسانی - ہمسطی -
مواظقت

Equalization, n. Act of equalizing : برابر - مساوات - یکسانی

Equalize, v. t. To make equal; to make even : برابر کرنا - ہموار کرنا

Equally, ad. In the same degree; uniformly :
ایسقدر - اتناہی - برابر برابر - ایساہی

Equanimity, n. Evenness of mind : استقلال -
قرار - تحمل - مزاج کی یکسانی - متحمل مزاجی

Equation, n. A making equal; equal division : مساوات -
برابری - تقسیم مساوی

Equator, n. A great circle passing round the middle of the globe, at an equal distance from the two poles : خط استوا -
خط اعتدال

Equatorial, a. Pertaining to the equator : خط استوا کا -
استوا کے متعلق

Equerry, n. One having the nobleman : داروغہ
جسکے بادشاہ یا امیر کے گھوڑوں کی نگہبانی سپرد ہو -
داروغہ اصطبل - میزبان خور

Equestrian, a. Pertaining to horses or horsemanship; riding on horseback habitually :
گھوڑوں سے متعلق یا منسوب - شہسوار کی - چابک سوار کی

n. A horseman; a rider : شہسوار - سوار

Equiangular, a. Having equal angles : مساوی
الزائیۃ - سہکون

Equidistant, a. At an equal distance from the same point : ہم فاصلہ -
برابر

Equiform, a. Having the same form : ہمشکل

Equilateral, a. Having all the sides equal : متساوی الاضلاع

Equilibrate, v. t. To balance, to counterpoise : ہم پائے کرنا -
ہم وزن کرنا

Equilibrium, n. Equality of weight; level position : ہم وزنی -
مساوات - برابری

Equinoctial, a. (*ekwi-nok'shal*), The great circle in the heavens, which answers to the equator : معتدل النہار -
متعلق سر زمین استوائی - اس موسم کے متعلق جب اعتدال لیاں و نہار ہوتا ہے

Equinox, n. The precise time when the days and nights are equal : تقاضا اعتدال لیاں و نہار -
رات دن کی برابری جو ۲۱ مارچ اور ۲۳ ستمبر کو ہوتی ہے

Equip, v. t. To fit out; to prepare; to furnish : مسلح کرنا -
تیار کرنا - آراستہ کرنا

Syn. Furnish, provide, fit out.

Equipage, n. Furniture; fitting a carriage and attendants; retinue : احباب - ساز و سامان -
سوار کی - جار - ہمواری

Syn. -- Apparatus, equipment, baggage.

Equipment, *n.* Act of equipping : - آراستگی
 سامان * Any apparatus furnished : -
 لوازم
 Equipoise, *n.* Equality of weight or force : ہم
 وزنی - استقلال
 Equipollent, *a.* Equal in force or power ;
 equivalent : ہم قوت - برابر زور والا
 Equiponderance, *n.* Equality of weight : ہم
 وزنی
 Equiponderant, *a.* Of the same weight : ہم
 وزن
 Equitable, *a.* Loving justice ; impartial ; up-
 right : حق پسند - منصف - راست
 Syn. - Just, fair, honest, reasonable.
 Equity, *n.* Justice : according to common sense ;
 impartiality ; fairness : عام عقل کے ذریعے انصاف
 انصاف - حق رسانی - عدل - راستی
 Equivalence, *n.* The state of being equivalent :
 مساوات - برابری - معادلت
 Equivalent, *a.* Equal in power or merit :
 مساوی - برابر - مساوی القوت - معادل - ہم قدر چیز -
 ہم معنی کلمہ
 Equivocal, *a.* Ambiguous ; uncertain ; dubi-
 tulous ; unsatisfactory : فریبی - مشتبہ - مذہب -
 فریبی
 Equivocate, *v. i.* To use words of double mean-
 ing ; to speak ambiguously : دو معنی والے کلمات
 مشتبہ الفاظ بولنا
 Equivocation, *n.* Ambiguity of speech : دو معنی
 الفاظ - ابہام - مذہب - ہیر پھیر - پیچ کی بات
 Era, *n.* A fixed point of time, from which a
 series of years is reckoned : سن - سال - سہبت
 Syn. - Epoch, period, date, age.
 Eradicate, *v. t.* To root out ; to extirpate ; to
 destroy : جڑ سے اڑھارنا - نیست کرنا - رفع کرنا - بھج
 کرنا
 * *v. i.* To shoot out like a
 ray of light : چمکنا - نون نکلنا
 Eradicative, *a.* Serving to eradicate : جڑ سے
 اڑھانے والا - معدم
 Erase, *v. t.* To blot out ; to efface ; to scrape
 out : مٹانا - نیست و نابود کرنا - چھینا کرنا
 Syn. - Extirpate, uproot, destroy.
 Erasure, *n.* Expunction ; obliteration : چھینل
 چھال - مٹانے - محو
 Erasure, *n.* Act of erasing : کٹ کرنا - چھینل
 چھال

Ere, *ad.* and *prep.* Before ; sooner than : قبل
 پیشتر - قبل ازین
 Erect, *a.* Upright ; perpendicular ; directed
 upward ; bold : سیدھا - استادا - مستقل - اڑھا -
 * *v. t.* To set upright ;
 to lift up ; to build : تھرا کرنا - قائم کرنا -
 بنانا - بنانا
 Syn. - Set up, raise, elevate, build, found.
 Erectile, *a.* That may be erected : جو کھڑا کیا جا
 سکتا
 Erection, *n.* A setting upright ; elevation ; a
 structure : استاداگی - بلندی - تعمیر - عمارت
 Syn. - Building, edifice.
 Erelong, *ad.* Soon ; before long : جلد -
 عرصہ میں
 Eremitic, *n.* A hermit : گوشہ نشین - زاہد - تپشی
 Erenow, *ad.* Before this time : اس سے
 قبل ازین
 Erewhile, *ad.* Some time ago ; before now :
 کچھ عرصہ گذرا - قبل ازین - اس سے پہلے
 Ergo, *ad.* Hence ; therefore : پس - اس لئے - لہذا
 Ergot, *n.* A protuberance on a horse's leg :
 ایک گھوڑے کی پیرا
 Ermine, *n.* A species of animal and its fur :
 چھوٹا جانور اور اسکا بال - فاقم
 Erode, *v. t.* To eat away : کھا جانا - چات جانا
 Erosion, *n.* Act of eating away ; corrosion :
 کھا جانا - کات - رگڑ
 Erosive, *a.* Corrosive : کاتنے والا
 Err, *v. t.* To wander ; to mistake ; to sin :
 گمراہ ہونا - غلطی کرنا - خطا کرنا
 Errand, *n.* A message ; mission : پیغام - سادیسا
 Errant, *a.* Wandering ; roving : گمراہ -
 آوارہ
 Erratic, *a.* Wandering ; deviating :
 بے قاعدہ - Irregular ; uncertain * سیلابی - منحرف
 بے ٹھیک
 Erratum, *pl.* Errata, *n.* An error in writing
 or printing : تحریر یا چھاپے کی غلطی - بھول
 Erroneous, *a.* Containing error ; incorrect ;
 false ; misleading : ناطا - نادرست - باطل -
 بھولانے والا
 Error, *n.* A mistake ; a blunder ; a sin : غلطی
 Errors and omissions, E. & O. گتہ

Errors and omissions excepted, E. & O. E.: * بول چوک چھوڑ کے : * Clerical—, کاتب کی غلطی - سپر آفیس
Erubescence, n. Redness ; blush : سرخی - لالی
Erupt, v. t. To belch : تکار لینا
Erudite, a. Learned : عالم - فاضل
Erudition, n. Knowledge gained by the study of books ; learning : فضیلت - علمیت - لیاقت
Syn.— Knowledge, learning, lore, scholarship.
Ant.— Imprudence, nonsense, foolishness, absurdity.

Eruption, n. Act of breaking forth ; emission ; explosion : * The rash pustules accompanying a cutaneous disease : پھوٹنے - پھوڑا - پھوڑا
Eruptive, a. Bursting forth ; having eruption : اُبھرنیوالا - پھوٹ نکالنے والا

Erysipelas, n. A disease called St. Anthony's fire ; an inflammatory disease : سرخ بادہ
Escalade, n. An attack in which ladders are used to mount a rampart : دیواروں پر سنبھلی یا کوند لگا کر چڑھیں - نماند اندازے

Escapade, n. A prank ; a mischievous freak ; the fling of a horse : خلاف قاعدگی - شرارت - ننگھٹی - پشتنگ اندازی
Escape, v. t. To flee from and avoid ; to be saved from ; to shun ; to run out or issue ; to free from one's self : * To one's notice, * نظر یا نگاہ سے رہ جانے
Act of avoiding ; flight ; evasion : بچاؤ - * To make an—, فرار ہو جانا - کانفر یا رفو چکر ہونا

Escapement, n. Act of escaping ; * گریز - بچت
A contrivance in a time piece : گھڑی کا ایک پرزہ : جس سے حرکت باقاعدہ ہوتی ہے
Escarp, v. t. To slope : ڈھلار بنانا
Escheat, v. t. To revert or become forfeited by failure of heirs : ضبط ہو جانا - لاوارث مال ہونا
—, n. Property that falls to the lord of the manor by forfeiture or for want of heirs : بیت المال - لاوارث مال - نزل
Eschew, v. t. To shun or avoid : کنارہ کرنا - باز رہنا - ترک کرنا

Escort, n. A guard : بدرہ - محافظ - نگہبان
Esculent, a. Good for food ; eatable ; edible : خوردنی - کھانے کے قابل

Escutcheon, n. A family shield bearing a coat-of-arms : * امیوی خاندان کی علامت - نام - ایمر

Esoteric, a. Secret and recondite : پوشیدہ - مخفی اور دقیق

Especial, a. Principal ; chief ; particular : خاص - مقدم - مختصر
Epecially, ad. Chiefly : خصوصاً

Espionage, n. Secretly watching the words and actions of others ; the employment of spies : پوشیدہ طور سے اوروں کے گھر کا بھید لینا - جاسوسی - بھیدیاپن

Esplanade, n. An open space before a fortification : قلعہ کے سامنے کا میدان

Espousal, n. Act of espousing ; betrothal ; adoption ; protection : منگنی - سنگنی - پشتی - اختیار کرنا - اپنے اوروں کے لینا - حفاظت

Espouse, v. t. To marry ; to betroth ; to take up : سنگنی کرنا - منگنی کرنا - شادی کرنا - نکاح کرنا - لینا

Espy, v. t. To catch sight of ; to inspect narrowly ; to decry : دیکھنا - تازنا - غور سے دیکھنا - نگاہ کرنا - بھجانا - ناگاہ نظر کرنا

Esquire, n. The attendant of a knight : ممتاز - تعظیم کا خطاب : * سرور کا ملازم جو نام کے پیچھے لکھا جاتا ہے

Essay, v. t. To attempt ; to try ; to make experiment of : کوشش کرنا - جانچنا - کسنا - کسوٹی : کوشش - * n. An attempt ; a trial : * آزمائش - * A short treatise : * سعی - تجربہ - آزمائش
Syn.— Attempt, trial, endeavour.

Essayist, n. A writer of essays : رسالہ نویس

Essence, n. The nature of a thing ; predominant qualities ; being ; extracted virtue of any drug : اصلیت - جوہر - سب - عطر - ذات - * Perfume ; scent : خوشبو - * وجود - ہستی

Essential, a. Necessary to existence ; very important ; rectified : ضروری - لازمی - خاص
Syn.— Vital, necessary.

Essential, n. Being something necessary : - وجود اصلي
اصلي چيز - جزو اصلي

Establish, v. t. To settle firmly ; to ratify ; to confirm : - مقوم کرنا - مقرر کرنا - بنياد ڈالنا - مضبوط کرنا - مستقل کرنا

Establishment, n. A fixed state : - قيام * قیام * Confirmation : - انتظام * Founda- tion : - بنياد * An institution : - Of right, حقيقت، ثبوت

Estate, n. Condition : - Rank : - درجہ * Landed property : - Order : - مہانم * State : - ملکیت * Government : - نظام و نسق

Esteem, v. t. To value ; to regard ; to think : - n. Value ; regard ; respect : - قيمت - قدر - توقير - عزت

Esthetics, n. Science of beauty : - علم خوبصورتی

Estimable, a. Valuable ; respectable : - قابل قدر - معزز - محترم

Estimate, v. t. To set a value on ; to appreciate : - n. A value set ; calculation ; estimation ; opinion of a thing's character : - تخمينہ - شمار - قدر - کسی چيز کی حقيقت یا وصف کی نسبت جو خیال ہے

Estimation, n. A valuing ; calculation ; regard ; opinion : - تشخیص - اندازہ - حرمت - قدر - رائے - تجویز

Syn. - Calculation, computation, honor, regard.

Estop, v. t. To impede ; to bar : - روکنا - اٹکانا

Estoppel, n. A plea in bar : - عذر - عارض - سوائت : - ایسے قول کی جو قیل کے نکل سابق کے خلاف ہے

Estrange, v. t. To keep at a distance ; to alienate ; to withdraw ; to alienate the affection or confidence of : - فاصلہ کرنے - دور کرنا - عھدہ کرنا - ہٹا لینا - ہرایا کرنا - انتقال کرنا - محبت ہینچ لینا - دل ہٹا لینا

Estrangement, n. Alienation : - عھدگی - بیگانگی - فرق

Estuary, n. An arm of the sea ; a firth : - سمندر کی شاخ - نہاڑی

Etcætera, Etc'era, Contr. Etc. and &c. (Lat.) And so forth : - علیٰ ہذا القیاس - وغیرہ

Etch, v. t. To engrave on metal by means of aqua fortis : - کسی دھات پر تیزاب قاکہر نقش و نگار بنانا

Eternal, a. Without beginning or end of existence ; everlasting ; perpetual : - ابدی ازلی - مداہی - لازوال - استمراری

Eternise, v. t. To make eternal or endless : - دائم کرنا - ابدی کرنا

Eternity, n. Duration without beginning or end : - ابد و ازل - مدارت - ہمیشگی - بقا - Syn. - Perpetuity, endless, duration.

Ether, n. The subtle fluid supposed to fill space : - جوہر شراب - ایک مادہ (Chem.) * خالص ہوا لطیف - شراب کی روح

Ethereal, a. Consisting of ether : - * خالص ہوا کا * Spirit-like : - آسمانی * روحانی

Ethic, a. Relating to ethics ; moral : - علم اخلاق کے متعلق - اخلاقی

Ethics, n. The science of moral philosophy ; the doctrines of morality : - علم اخلاق - اصول اخلاق - اصول عمل

Ethiopian, n. A native of Ethiopia : - حبشی

Ethnic, Ethnical, n. Heathen ; pagan : - مشرک - بت پرست

Ethnology, n. Science of the varieties of the human race : - انسان کی مختلف نسلوں کا علم

Etiquette, n. Forms of ceremony ; decorum : - تعظیم و تکریم - آداب تہذیب - مدارات - تکلفات - اخلاق ہمیشگان

Etymological, a. Relating to etymology ; بصرف - اشتقاقی

Etymology, n. That part of philology which explains the origin and derivation of words : - صف - اشتقاق

Eucharist, n. The sacrament of the Lord's Supper ; communion : - مقدس عشہ ربانی

Eulogise, v. t. To praise ; to commend : - تہنیت کرنا - ستایش کرنا

Eulogist, n. One who praises or commends : - تعریف یا ثنا گوئی والا

Eulogium, Eulogy, n. Commendation ; panegyric : - تعریف - مدح - ثنا

Syn. - Praise, encomium, panegyric.

Ant. - Calumny, vilification, abuse.

Eunuch, n. A man who has been castrated : - خوجہ - ہنجڑا

Eupepsia, n. Healthy digestion : درست ہاضمہ - صحیح تھلیل

Euphemism, n. A delicate way of expressing what might offend : نرم گزینی - ناشیستہ یا کریمہ بات کو پھیر کے ساتھ یا ملایم الفاظ میں ظاہر کرنا - شکر دہنی

Euphony, n. An agreeable sound; smooth enunciation : خوش آوازی - حسن تلفظ

Euphuism, n. A high flown expression : ہستیار لطیف زبانی - لغت تراشی

Euphuist, n. ذراک لائم - لغت تراش

Eurasian, n. A child of one European and one Asiatic parent : کرائی - دوغلا - نسل جر ہندوستانی عورت اور فرنگی مرد سے ہو

European, a. Pertaining to Europe : یورپ کا - فرنگی - *n.* A native of Europe : اہل یورپ کے

Eurus, n. The east wind : باد مشرقی

Euthanasia, n. An easy, peaceful death : روا موت - جہلا تکلیف عو - امن چین کی موت

Evacuate, v. t. To make empty; to discharge; to quit : خالی کرنا - ترک کرنا - چھوڑنا
Syn. - Vacate, quit, leave.

Evacuation, n. Act of emptying; discharge; voidance; excretion; withdrawal : اخراج - موقوفی - دست - قے

Evade, v. t. To escape from; to slip away; to elude; to avoid : بچنا - نکل بھاگنا - روپوش ہونا - **To—trouble,** * ٹال مٹول کرنا - حیلہ حراہ کرنا - **—ing** * جپ چرانا یا چھپانا - دقت سے گریز کرنا (روپوشی از حکم عدالت)

Evanescient, a. Vanishing; imperceptible : غایب ہوجانے والا - گذر جانے والا

Evangel, n. The gospel : انجیل

Evangelical, a. Pertaining to the gospel; contained in the gospel; earnest for the preaching of the gospel : انجیل کے متعلق - داخل - انجیل - سچا - کورا - صاف - صادق القول

Evangelist, n. A writer of the history of the Saviour; a preacher of the Gospel : حضرت عیسیٰ کی تواریخ لکھنے والا - وعظ انجیل - انجیل نویس

Evaporate, v. i. To pass off in vapour; to waste insensibly : بخار ہونا - بخار ہوجانا - بخار ہوجانا - بخار ہوجانا

Evaporation, n. Conversion of fluid into vapour : تبخیر - بخار - بھاپ

Evasion, n. Artifice; equivocation : حیلہ - کنارہ کشی - **—of process,** * فریب - ٹال مٹول - بھانہ از اجراء حکم نامہ - عول حکمی

Syn.—Shift, subterfuge, prevarication.

Evasive, a. Using evasion; elusive : دہنہ از - گول جواب - **—answer,** * حیلہ باز - گول مول - مذنب جواب

Eve, n. Evening : وقت مغرب - **Wife of Adam :** حضرت ہوا

Evection, n. چاند کی ٹھٹھتی بڑھتی کا - اوتار - چڑھاؤ

Even, ad. Likewise; exactly; still; at the very time; emphatically : اسی طرح - ویسے ہی - حتمی - نیز - **—if, —though,** * اگرچہ - **—a. Level; smooth; equal :** ہموار - برابر - **Not odd :** جفت - عدد - **—if, —though,** * جو بھرا دز پر تقسیم ہوجا رہے ہموار کرنا - برابر کرنا - بے بات کرنا

Even-handed, a. Impartial; fair; just : برحق - منصف - راست - ٹھیک ٹھیک کاٹنے کا قول - بلا رو بھرا انصاف - **—justice,** * رعایت

Evening, n. The close of the day : شام - سانبھہ

Evenly, ad. Impartially; uniformly : بلا طرفداری کے - بلا رو و رعایت - سیدھے - ہموار

Evenness, n. The state of being even : ہمواری - برابر - راستی - سنجیدگی

Even-pleached, a. Smoothly entwined : سچل طار سے بٹھا ہوا

Event, n. That which happens; an incident : **Consequence; end; issue :** * واقعہ - حادثہ - **At all—s, in any case :** * حاصل انجام - نتیجہ در صورت - اگر **In the—of,** * بہر کیف - بہر حال

Eventful, a. Full of incidents and changes : پر از واقعت - سنگین - طویل - پر حادث - پر انقلاب - گردشی

Eventual, a. Consequential; final : یا نتیجہ - قطعی - اخیر - عارضی

Eventually, ad. Ultimately; at last : آخر کار - انت میں

Eventuate, v. i. To happen; to terminate : واقع ہونا - اخیر ہونا - ختم ہونا - انجام پانا

Ever, ad. At any time past or future : کبھی *
 At all times ; always : سدا - ہمیشہ - مدام *
For—, eternally : ہمیشہ * —and anon, now
 and then : again and again : - پھر پھر *
 * خوراہ کیسا ہی کیوں نہ ہو ، —so, never so, اثر
Not—, changing, مل * ہمیشہ نہیں
 جاری - ہمیشہ ، —flowing, * یقین - نت بدلنے والا
 —so little, * جب سے جب سے ، —since, * پہلے والا
 —young, * کتنا ہی ، —so much, * کتنا ہی توہڑا
 نت سدا چران **Ever spare and ever have,** نت
 بچارے نت پڑے

Evergreen, n. A plant that is green through-
 out the year : سدا بہار - ہمیشہ تروتازہ

Everlasting, a. Lasting without end ; eternal .
 لا زوال - ابدی - استمراری - دائم - قائم

Syn.—Eternal, endless, immortal.

Evermore, ad. Always ; eternally : - ہمیشہ -
 مدام - سدا

Evert, v. t. To subvert ; to destroy : پائمال کرنا -
 بگاڑنا - برباد کرنا

Every, a. Each one of a whole : ہر ایک - ہر
 —now and then, frequently : روز نہ حالت *
 —day occurrence, * ایک ایک

Everywhere, ad. In every place : ہر جگہ

Evict, v. t. To dispossess by legal process :
 قانونی حکم سے لے لینا و بیدخل کرنا

Eviction, n. Dispossession by judicial process :
 بیدخلی حسب ضابطہ

Evidence, n. That which makes manifest ;
 conclusive testimony ; proof ; a witness :
 * شہادت - گواہی - ثبوت صفاًئی - گواہ - شہد
 —taken at the time, عندالمعاملہ ،
 * Collateral—، * ثبوت تائیدی ،
 * Ocular—، * دستاریز - ثبوت تھریری ،
 شہادت حضوری یا عینی

Evident, a. Plain ; clear ; manifest ; apparent :
 صاف - عیاں - ظاہر - علانیہ - صریح - معارف

Syn.—Manifest, clear, obvious, plain.

Evidential, a. Affording evidence ; clearly
 proving : مثبت - موضوع

Evidently, ad. Clearly ; manifestly ; certainly :
 صاف - صریحاً - بدیہی - ظاہر - ضرور - بلا شک -
 لا کلام تحقیق

Evil, a. Not good ; wicked ; sinful ; unfor-
 tunate : * شریر - خراب - بد - نامت - کمبخت - منحوس :
 —speaking, * بداندیش ،
 —minded, * غیبت
King's—, To speak—
 of, * بدگزر کرنا

Syn.—Mischievous, hurtful, wicked, bad.

—, n. Wickedness ; injury ; calamity : - شرارت
 شیطان **The—, the devil :** * بڑائی - مصیبت

Evince, v. t. To make evident ; to prove ; to
 show ; to overcome : - آشکارہ کرنا - ثابت کرنا - ظاہر -
 کرنا - دلنشین کرنا - قائل کرنا - غالب آنا

Evincible, a. Capable of being proved ; demons-
 trable ; that may be made evident : ثابت ہونے
 کے قابل

Evince, a. Convincing : قائل کرنیوالی - یقین
 دلانیدی

Eviscerate, v. t. To take out the bowels of :
 آنتیں نکالنا

Evitable, a. That may be avoided : قابل پرہیز -
 بچنے योग

Evitate, v. t. To shun ; to avoid : - پرہیز کرنا -
 بچنا - ڈال جانا - باز رہنا

Evoke, v. t. To call or summon forth : پکارنا -
 بلانا

Evolution, n. Act of unfolding ; development ;
 a series of things unfolded ; (Math.) extraction
 of roots ; (pl.) orderly movements of a body
 of troops or of ships of war : - انکشاف -
 کشادگی - نمائش - نمود - ترقی - الٹ پلٹ - نزول - فرج
 یا جنگی جہازوں کی باقاعدہ حرکت

Syn.—Unfolding, expansion.

Evolve, v. t. To unfold ; to disclose ; to
 expound : تہہ کھولنا - ظاہر کرنا - سلجھانا - نھولنا -
 پھیلاتا

Ewe, n. A female sheep : بھینسی

Ewer, n. A kind of pitcher : - کرا - لوٹا - صراحی -
 بدھنا - کڑوا - اکتاہ

Exacuate, v. t. To take out the kernel : گودا یا
 مینگی نکالنا

Exacerbate, v. t. To provoke ; to inflame : to
 irritate ; to increase the violence or malig-
 nance of : - آگ لگانا - مشتعل کرنا -
 افزوخنے کرنا - شدت یا سوزش کو بڑھانا

Exact, a. Closely correct; punctual; precise; honest; careful: درست - ٹھیک - برابر - صحیح - پر - مکمل - دیانت دار - ہوشیار - سچا - کھرا - صاف
Syn.—Accurate, methodical.

Exact, v. t. To demand; to extort: طلب کرنا - جبراً وصول کرنا - مانگنا

Exaction, n. Act of extorting; compelling to pay or yield unjust demand; tribute: مطالبہ - دست درازی - اخذ بالجبر - زیادہ ستانی - اخذ بیجا - اخذ بالجبر
Compulsory—محصول - خراج

Exactly, ad. Accurately; nicely: ٹھیک سے - ٹھیک - ہو بہو - ہمینہ - جیسا کا جیسا

Exactness, n. Accuracy; precision; careful observation: درستگی - تحقیق - چوکسی - ہوشیاری - احتیاط

Exaggerate, v. t. To heighten in representation; to magnify unduly; to intensify; to amplify: حد سے زیادہ کہنا - مبالغہ کرنا - بڑھانے کہنا - لمبی چوڑی مانگنا

Exaggeration, n. Representation beyond truth; hyperbole: زیادہ گوئی - مبالغہ

Exalt, v. t. To raise high; to elevate; to dignify; to praise; to elate; to extol: بلند کرنا - بڑھانا - ترقی دینا - اعلیٰ رتبہ دینا - سرفراز کرنا - تعریف کرنا - ثنا کرنا

Exaltation, n. Act of exalting; elevation; dignity: سرفرازی - ممتازی - ارتقاہ - بلندی - عروج - ترقی - تعریف

Examination, n. A scrutiny; inquiry; trail; test of capacity: امتحان - آزمائش - تقابض - امتحان
To go up for an— * امتحان میں بیٹھنا

Examine, v. t. To scrutinize; to search into; to question: امتحان کرنا - آزمائش کرنا - سوال کرنا
To—a house, * پوچھنا - تحقیق کرنا - دریافت کرنا
To—and scrutinize, * خانہ تلاشی کرنا
To—the person, * تلاشی یا جاہزا لینا
Syn.—Discuss, debate, explore.

Examinee, n. One who undergoes an examination: امتحان دینے والا

Example, n. A pattern; an instance; a specimen; an illustration; a warning: بانگي - For— * نمونہ - نقل - مثال - نظیر - باعث عبرت
To set an— * مثلاً - جیسا کہ - چنانچہ
To make an—of one, * دوسروں کے لئے نظیر بنانا

Exanimous, a. Dead; lifeless: بے - بیجان - مرمت

Exasperate, v. t. To provoke; to enrage; to worry: بڑھکانا - بھڑکانا - غصہ کرنا - پرانگیختہ کرنا - آگ بیولا کرنا

Exasperation, n. Provocation; aggravation: خشمگینی - پرانگیختگی - برہمی - شدت

Excavate, v. t. To make hollow: نکھولنا کرنا - کھودنا - پولا کرنا

Excavation, n. Act of hollowing; a cavity: کھودائی - نکھولائش - غار - گدھا

Exceed, v. t. To go beyond; to surpass: حد سے باہر جانا - بڑھانا - تجاوز کرنا - سبقت لیجانا - ترجیح یا غلبہ پانا

Exceedingly, ad. Very highly; excessively; beyond measure; uncommonly: بہت ہی - بہت - بڑھ کر - بہتایت - از حد - از بس - بدرجہ غایت

Excel, v. t. To exceed; to surpass: ترجیح رکھنا - دابق ہونا - سبقت لیجانا

Excellence, n. Goodness; eminence; superiority; worth: خرابی - فضیلت - شرف - فوقیت - بزرگی - شان - رتبہ - گئی - جوہر

Excellency, n. A title of honor: حضرت - خداوند - نعمت

Excellent, a. Eminent in any good quality: عمدہ - افضل - مہقر - خوب

Syn.—Worthy, choice, prime, select.

Except, v. t. To leave out; to object to: سنٹھنی - کرنا - چھوڑ دینا - اعتراض کرنا - خارج کرنا - فرور
prep. With exclusion of; leaving out; but: ماسوا - چھوڑ کر - والا - بجز - قطع نظر

Except, con. Unless; if not: سوائے - مگر - ہر گاہ - الا

Excepting, prep. Leaving out: چھوڑ کر

Exception, n. Act of excepting exclusion; the thing excluded; objection: استثناء - اخراج - اعتراض کرنا
To take— * منہائی - اعتراض - گرفت - ہجرت
find fault with: - ہجرت کرنا - ہجرت کرنا

Exceptionable, a. Liable to exception; objectionable: قابل استثناء - قابل اعتراض

Exceptional, a. Forming an exception; peculiar: واجب التری - نادیر - خاص

Excerpt, n. An extract from an author :

انتخاب - خلاصہ

Excess, n. More than enough ; superfluity ;

intemperance ; remainder : - فراوانی - زیادتی

بہتاریت - بد پرہیزی - نکلتا - فاضل

Excessive, a. Beyond due bounds ; extreme ;

over much ; violent : - نضرل - بہت - افروز - زیادہ

سنگین

Exchange, v. t. To give or take in return for

something else ; to interchange : - مبادلہ کرنا -

بدلنا - عرض و عارضہ کرنا - ایک چیز کے بدلے دوسری

چیز دینا

Syn. - Barter, commute, bargain, truck.

—, n. Act of giving and receiving reciprocally :

Balance of money : * عرض - معارضہ

A place where merchants meet : * ہتھکڑوں - ہتھکڑی کا نرخ - بھاڑ - در

چوک جہاں سوداگر لوگ * Bill of—, جمع ہوتے ہیں - سرافا - ساہرکارا

An order for money drawn by one banker on

another : * ہتھکڑوں چڑھتی - above par - ہتھکڑی

—operations, ہتھکڑی کا لین دین

Exchequer, a. A court in England which

tries questions of the king's revenue ; the

public treasury : - خزانہ - انگلستان کی عدالت مل - خزانہ

دیران خاصہ * Chancellor of—, بیت المال

Excise, n. A tax on commodities ; department

concerned with this tax : - چنگی - محصول آبکاری -

محکمہ تحصیل آبکاری

Syn.—Duty, tax.

—, v. t. To lay a duty on goods ; to cut :

محصول لگانا - کاٹ ڈالنا

Exciseman, n. An officer who inspects the

commodities, and rates the excise upon them :

محصول لگانے والا - داروغہ آبکاری

Excision, n. A cutting off ; removal by surgical

operation ; extirpation : - کاٹ - عمل جراحی سے

نکالنا - تراش ڈالنا - بربادی - بیض نبی

Excitable, a. Capable of being roused into

action ; irascible ; quick-tempered : - ترغیب

پذیر - تحریک پذیر - زود رنج - قابل استعمال - جاد

چوش میں آجانے والا - آتش مزاج

Excitation, n. The act of exciting : - ترغیب

تحریک - جنبش

Excite, v. t. To rouse ; to stir : - تحریک کرنا -

اُہارنا - ترغیب دینا

Syn.—Incite, awaken, animate, rouse, inflame.

Excitement, n. Act of exciting ; agitation ;

that which excites ; commotion ; sensation :

پرانٹھتگی - جنبش - تحریک - چھیڑ - افروختگی -

واولہ - مرجب تحریک - اہر

Exciting, a. Enlivening ; thrilling ; crimina-

ting ; generating : - تور تھرانے - زندہ دل کرنے والا -

والا - (روح افزا - بھگانے والا - مہرک - پیدا کرنے والا -

متعدی

Exclaim, v. t. To cry out : - گل مچھانا -

Exclamation, n. A loud outcry ; clamour ; a

فرواد - ڈالہ - mark (!) indicating emotion : -

واولہ - غل - شور - تعجب کا یہہ (!) نشان

Exclamatory, a. Containing exclamation :

پر شور و شعب

Exclude, v. t. To shut out ; to debar ; to

prohibit ; to reject : - نکالنا - باز رکھنا - منع کرنا -

خارج کرنا

Exclusion, n. Rejection ; a shutting out ; ejection

: - ممانعت - اخراج - روک - استرداد - مہررمی

Exclusive, a. Shutting out ; debarring ; sole ;

not taking into account : - غلہ - بلا شریک

داستنداد - مادرا - بیجز - بلا شریک غیر

Exclusiveness, n. Debarring : - جدائی

Excogitate, v. t. To invent ; to devise : - ایجاد

کرنا - غور کر کے نکالنا

Excommunicate, v. t. To expel from commun-

ion especially of the church : - مذہب کے حقوق سے

خارج کرنا - مردود کرنا - ملعون کرنا

Excommunication, n. An ecclesiastical inter-

dict, expulsion : - مسیحی دین کے حقوق سے اخراج -

مردودی

Excoriate, v. t. To strip off the skin : - کھال

کھینچنا - چمڑا اودھینا

Excoriation, n. Act of stripping of skin : - پوست

کٹی - کھال کھینچنا - رگڑ - خراش

Excorticate, v. t. To strip the bark of : - کھال

اُترنا

Excrement, a. That which is discharged from

the animal body ; dung : - غلیظ - نضام - گوبر

Excrementitious, a. Containing excrement :

پر آلیش - غلیظ سے بھرا ہوا

Excrescence, n. A tumour; a morbid growth.

ان inconvenient outgrowth : - پھوڑا - پھانسی -
مسا - ددوڑا - گانٹھہ - گنھوی - پتوڑی - ازدیاد ناگوار -
افرود نامعقول

Excretion, n. Throwing out matter from the animal system; matter excreted; excrement:

اخراج - الایش - گزیر - میلا

Excretory, a. Throwing off: - لگی جسکے وسیلے سے
الایش نکلتی ہے - مطارج مادہ نکالنے یا مضر

Excruciate, v. t. To torture: - ستانا -
اذیت دینا

Excruciating, a. Torturing; racking: -
شدید - جان کن - اذیت دہ

Excruciation, n. Torture; extreme vexation:
اذیت - عذاب - آزار

Exculpate, v. t. To clear from a charge of
fault or crime: - معذور - بیگناہ یا بے جرم ٹھہرانا -
کرنا - بری کرنا

Syn.— Exonerate, absolve, excuse.

Exculpation, n. Act of clearing from blame:
الزام سے معافی - بیگناہ ہی یا بے جرمی

Excursion, n. A trip for pleasure or health;
an expedition; ramble; digression: -
خروج - سیر سیاحت - مٹرکشت - یورش - تاحت - حملہ -
چڑھائی - مارل کلامی

Syn.— Journey, tour, ramble.

Excursive, a. Wandering; rambling; diges-
sive; enterprising: - بھگتنا - رمتا - غیر مستقل -
مہم چر - صاحب ہمت

Excusable, a. That may be excused; pardon-
able; admitting of justification: -
قابل عذر - واجب الرعیات - در گذر کرنے کے قابل -
قبل پردہ پوشی

Excuse, v. t. To exculpate; to ask or give
pardon for; to overlook: - معافی مانگنا
بری کرنا - To—oneself * یا - معاف کرنا - در گذر کرنا - چھوڑ دینا
He excused himself off, * یا - معاف کرنا - جواب نہ دینا
n. Apology; remission; pretext: - معافی - عذر -
رہائی - بہانہ - جھوٹا عذر - False—, lame; frivolous:
عذر نامعقول

Exeat, n. A formal leave: - باہر جانے کی اجازت

Execrable, a. Detestable; accursed: -
مکروہ - مردود - ملعون

Execrate, v. t. To abhor; to curse: -
نفرت کرنا - لعنت کرنا - کوسا

Execration, n. Imprecation of evil; curse; an
abomination; utter detestation: -
لعنت - نفرت - سراب - اظہار تفر - مکروہ چیز - استکراہ بے غایت

Syn.— Curse, malediction.

Exact, v. t. To cut out: -
کٹ ڈالنا - خارج کرنا

Execute, v. t. To carry into effect; to perform:
* To put to death: - عمل میں لانا - پورا کرنا -
تعمیل کرنا - پھانسی دینا - قتل کرنا

Syn.— Accomplish, effect, fulfil, finish.

Execution, n. Performance: -
بجا آوری - اختتام

Capital punishment; a judicial writ: -
* پھانسی - سزائی - قرقی - اجرا -
* of orders, حکم - * بجا آوری فرض
* About to be taken in—, * فرق ہونے والا
* In—of decree, * قرقی نامہ
* writ of—, * Place of—, * عدم تعمیل
* Non—, * کئی علت میں
* Take out—, * ڈگری جاری کرنا
* Sue out—, * پھانسی گور -
مقتل
* To take property in—, * ڈگری جاری کرنا
* جاہداد قرق کرنا

Executioner, n. One who puts criminals to
death: - جلاہ - قاتل

Executive, a. Carrying into effect: -
عامل

n. The person or power that executes
the law; governing person or body: -
عامل - کارکن - حکمراں - مختار کار

Executor, n. Person appointed by a testator
to carry into effect his will: -
وصی - کارکن

Executrix, n. A female executor: -
وصیہ

Exegesis, n. The science of interpretation;
exposition; interpretation; a critical com-
mentary: - علم تفسیر - تشریح - شرح -
تیکہ - تفسیر بہ - تشریح عیب و ثواب

Exegetical, a. Explanatory: -
تشریحی - تفصیل وار - مشرح

Exemplar, n. A pattern; a copy; a model:
نمونہ - نظیر

Exemplary, a. Worthy of imitation: -
تقلید کے قابل - معقول - عبرت انگیز

Syn.— Meritorious, good, worthy.

Exemplify, v. t. To illustrate by example; to
copy: - مثال دینا - نظیر دینا - نقل کرنا

Exempt, v. t. To free from ; to grant immunity : *a.* * آزاد کرنا - بی کرنا - چھوڑ دینا - معاف کرنا : Free by privilege ; not liable : معاف - بی الزمہ - خارج - مبراہ

Exemption, n. Freedom ; immunity : - پریت - معافی - چھوٹکارا

Exenterate, v. t. To take out the bowels : آنتیں نکالنا

Exequies, n. Funeral rites : - رسوماتِ تدفین و تکفین - کرنا کرم کی رسمیں

Exercise, n. Labour ; practice ; bodily exertion ; drill ; a lesson or task ; religious service : ریاضت - مشقت - مشق - ورزش - مشقی قواعد - سبق
v. t. To set in action : * برائے مشق - عبادت - ریاضت - دعا بندگی
* چلانا - جاری کرنا - نافذ کرنا
* مشق کرنا - استعمال کرنا
* To train by use ; to task : * اختیار عمل میں لانا
To—powers, n. * اختیارات
To take— ریاضت کرنا - نثر کرنا - پھرنا

Exert, v. t. To put forth ; to perform ; to strain : ہاتھ پیر مارنا * To—one's self, زور مارنا

Exertion, n. Act of exerting ; effort : جانفشانی - کوشش - جدوجہد

Exfoliate, v. i. To scale off : اُتارنا - پرت اُتارنا

Exhalation, n. Evaporation ; vapour : تبخیر - بھاپ

Exhale, v. t. To emit as vapour ; to evaporate : اُڑانا - اُٹھنا - تبخیر کرنا - ابخرے بڈنا - اُڑانا

Exhaust, v. t. To drain off completely : بالکل خالی
* کل خرچ کر ڈالنا : * To expend entirely : * کر ڈالنا
* نائراں یا : * To enfeeble : * تھکانا
* ناطقت کر دینا

Syn.—Spend, empty, tire out, consume.

Exhaustion, n. Act of exhausting ; state of being emptied or wearied ; complete fatigue or loss of strength : تھنچاؤ - صرف - تھکاوٹ - ضعف - سستی - کمزوری

Exhaustive, a. Serving to exhaust : سرکھنے تمام - * Thorough ; complete : * والا - خرچ کرنا
* پورا - مکمل - ایسا نہ کرنا * دقیقہ باقی نہ چھوڑنے

Exhibit, v. t. To offer to view ; to show ; to display : * ظاہر کرنا - دکھانا - پیش کرنا

To— * To— a prize, * انعام مقرر کرنا
To— a complaint, * دلالت کرنا
n. Any paper produced as a

voucher, or in proof of facts : سند - شہادت نامہ - دستاویز - ثبوت

Exhibition, n. Act of exhibiting ; manifestation ; public show : * نمایش - اظہار - تماشا
A university grant to a student : وظیفہ

Syn.—Display, show, manifestation.

Exhilarate, v. t. To make cheerful ; to enliven : خوش کرنا - شاد کرنا - مسرور کرنا

Exhilaration, n. Act of exhilarating : خوشی - خرمی - تقریح - فرح

Syn.—Animation, joyousness, gladness, cheerfulness.

Exhort, v. t. To incite to good ; to advise ; to admonish : نیکی کی ترغیب دینا - پند دینا - نصیحت کرنا

Exhortation, n. A persuasive discourse ; counsel ; a religious discourse : * ترغیب - وعظ - نیک صلاح - پند

Exhumation, n. Removing from the grave ; disinterment : قبر سے مردے کو نکالنا - کھود کر نکالنا

Exhume, v. t. To unbury ; to disinter : کھودنا - کھود کر نکالنا

Exigency, n. Urgent demand ; pressing necessity : ضرورت - حاجت - احتیاج - تنگی

Syn.—Demand, emergency, necessity, urgency.

Exigent, a. Pressing : ضروری - اہم

Exile, v. t. To banish ; to transport : - جلاوطن کرنا
n. Banishment ; one away from his native country : * شہر بدر کرنا - دیش نکالا دینا
* تارک الوطن - بن باسی

Exist, v. i. To have being ; to be ; to live : ہستی رکھنا - موجود رہنا - زندہ رہنا - جان رہنا - رہنا

Existence, n. Being ; life : وجود - ہستی - زندگی
Existing, a. Having existence or being : موجود - زندہ

Exit, n. A going out ; departure ; a way or passage : * نکلنا - راجت - راستہ - نکاس

Exodus, n. Departure from a place ; the second book of Moses in the Ho'y Bible : - * کوچ - توریث کی دوسری کتاب

Ex-officio, (Latin) By virtue of one's office : * اعتبار عہدہ - بلحاظ منصب

Exonerate, v. t. To disburden ; to acquit ; to free from the burden of a charge or obligation :
 بوجھ اُتارنا - سبکبار کرنا - بری کرنا - بے قصور کرنا - چھوڑنا

Syn. - Absolve, acquit, exculpate, clear.

Exoneration, n. Act of exonerating : - سبکباری - آزادی - بریت - تمہمت سے خلاصی

Exorable, a. Capable of being moved by entreaty :
 عنبر معذرت سے نرم ہونے والا

Exorbitance, n. Deviation from rule or right ; extravagance ; enormity : - تجاوز - گمراہی - ضروری - زیادتی - بے اندازی

Exorbitant, a. Excessive ; extravagant :
 بے اندازہ - بے حد - زیادہ - فضول

Exorcise, v. t. To expel evil spirits ; to call forth as a spirit :
 جھڑنا - پھونکنا - بھوت اُتارنا - دم کرنا - ارجھائی کرنا

Exorcism, n. Expulsion of evil spirits :
 جھڑ - پھونک - منتر - جانت - ارجھائی

Exordial, a. Introductory :
 شروع کا - تمہیدی

Exordium, n. The beginning ; the introduction ; the preface :
 ابتدا - دیباچہ - تمہید

Exoteric, a. Open external ; public :
 بیرونی - عام

Exotic, a. Foreign :
 غیر ملکی اجنبی

Expand, v. t. To lay open ; to spread out ; to dilate :
 کھول دینا - پھیلاؤ - بچھانا - پھیلانا - بکسانا - فراع کرنا

Expanse, n. Wide extent of space or body ; the firmament :
 پھیلاؤ - وسعت - کشادگی - فضا - آسمان - فلک

Expansible, a. That may be expanded :
 پھیلنے کے قابل - وسعت پذیر - وسیع

Expansion, n. Act of spreading out ; dilatation ;
 پھیلاؤ - شانگی - امتداد - وسیع - سطح

Expansive, a. Diffusive ; dilative ; wide ; reaching many :
 پھیلانے والا - پھیلاؤ والا - فراع - پھرتوں - کو پھرنے والا

Exparte, a. Partial ; prejudiced ; upon hearing one party only :
 ایک طرفہ - غیر حاضر تجریر

Expatriate, v. t. To move at large ; to wander ; to enlarge in discourse or writing :
 پھرنا - گھومنا - تفسیر کرنا - تفصیل وار لکھنا - مشرغ بیان کرنا

Expatriation, n. Enlarging in discourse or writing :
 شرح وار یا تفصیل وار لکھنا

Expatriate, v. t. To banish from one's country :
 شہر بدر کرنا - جلاوطن کرنا

Expect, v. t. To look or wait for ; to anticipate :
 * راہ دیکھنا - انتظار کرنا - امید رکھنا - منتظر رہنا
 It is—ed, It was—ed, * گمان ہے

Syn. Look for, hope, await.

Expectancy, n. A state of waiting : - امیدواری
 حقیقت جو وقوع میں آنا چاہئے * Estate in—
 * In—، اس سے - حاکمہ - پیر - بہاری

Expectant, a. Looking for ; waiting : - منتظر
 * n. One who waits in expectation :
 امیدوار - منتظر

Expectation, n. Hope ; prospect of good to come :
 * With—، انتظار - امیدواری - توقع - امید
 منہ ٹوڑنے کا ہنسنے

Syn. - Anticipation, confidence, trust.

Expectorant, n. A medicine that promotes discharge from the lungs :
 باغم کالنے والی دوا

Expectorate, v. t. To eject from the lungs :
 کھانکنا - باغم کرنا

Expectoration, n. Act of discharging from the lungs :
 نغ یا باغم کا چھوڑنا - اخراج

Expedience, Expediency, n. Advisability (under existing circumstances) ; suitability to immediate gain or self-interest ; haste ; speed-expedition ; fitness ; propriety :
 مصلحت بلکہ صورت حال - مناسب - حال کے یا اپنے فائدہ کے خیال - عجابت - جلدی - مہم - عظمت

Expedient, a. Fit ; proper ; suitable ; expeditious : rapid :
 * لائق - مناسب - لازم - شائب تیز رفتاری کے کا
 n. Means to an end :
 n. Means to an end :
 * عاج - چارہ - صورت
 Syn. Shift, resource, resort, contrivance.

Expediently, ad. Suitably ; conveniently ; quickly : at once :
 جیسا چاہئے - سہولیت سے - اسی
 دم - فوراً - جلدی

Expedite, v. t. To hasten forward ; to accelerate ; to send forth :
 تہجیل کرنا - جلدی کرنا - روانہ کرنا - ارسال کرنا

Syn. - Despatch, hurry, quicken.

Expedition, n. Haste ; despatch :
 * شتابی - عجابت
 * An enterprise :
 سفر دریائی
 مہم - یورش

Expeditious, a. Speedy ; quick ; nimble :
سہل ترکیب * بہر تیز - چست

Expel, v. i. To drive or force out ; to eject ; to banish :
نکالنا - خارج کرنا - جلاوطن کرنا

Syn. - Banish, drive out.

Expend, v. t. To lay out ; to disburse ; to employ ; to waste :
خرچ کرنا - صرف کرنا - لگانا - برباد کرنا

Expenditure, n. Act of spending ; sum expended :
تصرف - خرچ - صرفہ - لاگت

Expense, n. Cost ; charge ; money expended :
s incurred, * خرچہ - صرفہ - لاگت - اخراجات
دوسرے کے ذمہ یا * At another's —, خرچ دینا بڑا
زیر بار ہونا - غیر * To suffer needless —, سر پر
* To put to —, خرچ کرانا * To cover the — of,
خرچ کو کافی ہونا

Expensive, a. Costly ; dear :
قیمتی - گران - مہنگا - گراں بہا

Expensiveness, n. Dearness ; costliness :
گراںی - مہنگائی

Experience, n. Practical trial ; knowledge ; actual trial ; experiment :
تجربہ - آزمودہ کاری - امتحان کرنا - برداشت کرنا - مزہ
آزمایش - امتحان - عمل - چھاندگی

Syn. - Trial, proof, test, experiment.

—, *v. t.* To know by practice ; to try ; to feel ; to suffer or enjoy ; to undergo :
تجربہ کرنا - معلوم کرنا - امتحان کرنا - برداشت کرنا - مزہ
چکھنا - سہنا - اٹھانا

Experiment, n. Trial ; practical proof ; a scientific test :
امتحان - آزمائش - عمل - جانچ * *v. i.* To test by trial :
جانچ کرنا - آزمائش کرنا * تجربہ

Experimental, a. Founded on experiment :
امتحانی - تجربہ پر موقوف - آزمودہ

Expert, a. Experienced ; skilful ; dexterous ; ready :
تجربہ کار - ہرشیار - چالاک - مستعد - مشاق - ہنرمند

Syn. - Skilful, adroit, ready, prompt.

—, *n.* A scientific or professional witness :
تجربہ کار - ماہر

Expiate, v. t. To atone for at crime ; to appease :
تفاریہ دینا - توبہ کرنا

—, *p.p.* Terminated ; at hand :
متضمنی ہو گیا - آگیا ہے - سر پر ہے

Expiation, n. Atonement ; compensation :
تفاریہ - صدقہ

Expiatory, a. That makes expiation ; atoning :
تفاریہ کا - گناہ مٹانے والا

Expiration, n. Act of breathing out ; end ; termination :
دم زنی - تنفس - اختتام انقضا - اخراج نفس

Expire, v. t. To exhale ; to emit ; to breathe out :
v. i. * سانس چھوڑنا - دم خارج کرنا - نکالنا
To die ; to cease ; to become extinguished ; to breathe one's last :
دم چھوڑنا - مر جانا - معدوم ہونا - ختم ہونا - دم ٹوٹنا - فوت ہونا

Expiry, n. Conclusion ; end :
خاتمہ - تہائی

Explain, v. t. To make plain ; to elucidate ; to give an account of ; to state clearly :
ظاہر کرنا - تفسیر کرنا - سمجھانا - معنی کہنا - تشریح کرنا - صفائی سے کیفیت دینا

Syn. - Expound, interpret, clear up.

Explanation, n. Act of explaining, definition ; elucidation ; interpretation ; exposition ; account ; a settlement of misunderstanding :
تفسیر - تشریح - بیان - کیفیت - توضیح - سزاوت - رفع
و انجاش یا غلط فہمی

Explanatory, a. Serving to explain :
بیانی - تفسیری - مشرح

Expletive, n. A word inserted to fill a space :
تکیہ تلام - پورٹی

Explicate, v. t. To unfold the meaning of ; to explain ; to show :
کھولنا - بیان کرنا - ظاہر کرنا

Explication, n. Interpretation ; explanation :
تشریح - بیان - تفصیل - تعبیر

Explicit, a. Plain ; clear ; distinct :
صاف - مشرح - ظاہر - واضح

Syn. - Express, clear, plain.

Explode, v. i. burst with a loud report ; to blaze up ; to be violent ; vented :
پھک ہو جانا - زور و شور سے پھٹنا - اڑنا ٹوٹنا یا بھری اٹھنا (غصہ کا) - پھرتا پھرتا

Exploit, n. A heroic deed ; an achievement ; military service :
دلیری کا کام - مہم - بڑے معرکہ کا کام - جنگی فرائض - سپہ گری

Exploration, n. Act of exploring ; an examination (of an unknown region) ; a close search ;

a scrutiny : - سر زمین نا معارف کا دریافت حال - جستجو - تجسس - کھوج

Explore, v. t. To search through ; to scrutinise ; to try : تلاش کرنا - کھوجنا - جانچنا - آزمانہ

Explosion, n. A sudden bursting with noise : بھڑاک - دھڑاکا پھوٹنا - بھک

Explosive, a. Causing explosion ; بھک سے آڑ جانپوالا - پھوٹنے والا - جل اُٹونے والا

Exponent, n. One who or that which sets forth ; an expounder ; a representative : مظاہر - علامت -

Exponent, n. * An algebraic letter or number : حیرت انگیز مقابله میں قوت کی علامت یا عدد

Export, v. t. To carry or send out of a country : دسار کر لانا - ملک سے باہر لیجانا - پھرتی کرنا

Export, n. * Act of exporting ; پھرتی - روانگی مال - چالان - چالان - thing exported : رفتنی - سوداگری مال

Exportation, n. Sending goods abroad : ادائیگی - روانگی مال کی

Expose, v. t. To lay open ; to disclose ; to put in danger : کھولنا - آشکارا کرنا - خطرہ میں ڈالنا

Exposition, n. Exhibition ; explanation : انشا - انکشاف - تشریح - بیان ٹیپا

Syn. - Explanation, interpretation, elucidation.

Expositor, n. An interpreter : مفسر - شارح - معنی - کھنڈیوالا

Expostulate, v. t. To remonstrate earnestly ; with ; to explain ; discuss : حجت کرنا - شکریہ - کرنا - رد و بدل کرنا - سمجھانا - منت اور دلیلوں سے باز رکھنے کی کوشش کرنا - مفصل بیان کرنا - روشن کرنا

Expostulation, n. Earnest remonstrance : حجت - تکرار - گلہ گذاری گفت و شنید

Exposure, n. Act of exposing ; state of being exposed : اظہار - افشا - پردہ فاشی - دکھڑو

Expound, v. t. To explain ; to interpret : شرح - کرنا - بیان کرنا

Syn. - Declare, indicate, exhibit.

Express, v. t. To press or squeeze out : دبا کر

Express, v. t. * To declare ; to show ; to utter ; to بیان کرنا - ظاہر کرنا - ملاحظہ کرنا - بتانا -

Express, n. * To one's self : اپنی رائے یا خیال ظاہر کرنا * To one's self : اپنی رائے یا خیال ظاہر کرنا * To one's self : اپنی رائے یا خیال ظاہر کرنا * To one's self : اپنی رائے یا خیال ظاہر کرنا

Express, n. * A special messenger or message : پیغام - تیز ریل گاڑی

Express, n. * A special messenger or message : پیغام - تیز ریل گاڑی

Expressible, a. That may be uttered : قابل اظہار - ادا پندہ

Expression, n. A pressing out : * Feature : بیان اظہار - * Utterance or representation ; a phrase or mode of speech : کلمہ - متاورہ

Expressive, a. Indicative ; significant : مظہر - پر مطلب - پر معنی

Expressly, ad. In direct terms ; plainly ; especially : بے لگاؤ - ظاہراً - صریحاً - صاف صاف - خاصاً

Expugn, v. t. To conquer ; to take by assault : فتح کرنا - حملہ کر کے لیلینا

Expulsion, n. Act of driving out : اخراج - دفع - راندگی

Expunction, n. Act of erasing : کٹ کرنا - استعساک

Expunge, v. t. To blot out ; to efface ; to cancel : محو کرنا - مٹانا - چھیلنا - کٹ ڈالنا - فلم پھیرنا

Expurgate, v. t. To cleanse ; to purify ; to expunge ; to clear off objectionable passages : صاف کرنا - پاک کرنا - خارج کرنا - نقاب سے بیجا یا فائش اطاعت کو خارج کرنا

Expurgation, n. A cleansing : صفائی - شستگی - پاکیزگی

Exquisite, a. Very fine ; excellent ; delicate ; exceeding ; fastidious ; نقیس - لطیف - باریک - نازک * زائد - افزوں - شدید - دقیقہ رس - عالی - دماغ - نازک - پسند - نادر صنعت - workmanship

Syn. - Nice, delicate, exact, accurate.

Exquisite, n. One over-nice in dress or ornament ; a fop : چھیلا - بانگا

Syn. - Dandy, fop, beau.

Exquisitely, ad. Most finely ; delicately ; with consummate art : نہایت نازک - نفاست - صنعت - کی کمال لطافت سے

Excise, v. t. To cut off : کٹ ڈالنا

Extant, a. Now in being ; not lost : موجود - قائم - موجود

Extemporaneous, a. Uttered without previous study : عین وقت پر کہا گیا - پر مہل یا برجستہ - کہا گیا

Extempore, ad. Without previous study or meditation : بوجستہ - بیغور - بلا سرچے - برصطل

Extemporize, v. i. To speak extempore : فی البدیہہ کہنا - بلا قلم بولنا - بوجستہ کہنا

Extend, v. t. To stretch out ; to spread ; to prolong ; to impart : پڑھانا - پھیلاتا - لٹا کرنا - دراز کرنا دینا

Extension, n. Act of extending ; enlargement : فراخی - کشادگی - درازی - وسعت - گنجائش

Extensive, a. Wide ; large : چہرزا - وسیع - توہیل - فراخ

Syn. - Wide, large, broad.

Extent, n. Space ; bulk ; compass : وسعت - فراخی - مقدار - اندازہ - حد

Extenuate, v. t. To make thin ; to lessen ; to palliate : لاغر کرنا - دہلا کرنا - کم کرنا - گھٹانا

Syn. - Palliate, lessen, diminish.

Extenuation, n. Act of extenuating ; palliation : لاغری - دہلا پن - تطفیف

Exterior, a. Outward ; external : بیرونی - باہری

Exterminate, v. t. To root out : - جڑ سے اکھاڑنا - نیست و نابود کرنا - پرہود کرنا - تباہ کرنا

Extermination, n. Destruction : - پرہادی - نیستی - بیخ کنی - تباہی

External, a. Outward ; foreign ; visible ; accidental : بیرونی - خارجی - غیر ملکی - ظاہری - اتفاقی

Syn. - Foreign, exterior, visible, extrinsic.

Externals, n. Outward rites : رسومات ظاہری - محسوسات - صورت

Externally, ad. Outwardly ; apparently : باہر سے - خارجاً - ظاہراً - دیکھنے میں

Extinct, a. Extinguished ; put out ; closed ; no longer in force or existence ; dead : بجھا ہوا - موقوف - معدوم - مردہ - بند - غیر صروج

Extinction, n. Destruction ; suppression : نیستی - فنا

Extinguish, v. t. To put out to quench ; to annihilate ; to destroy ; to eclipse : بجھانا - گل کرنا - نیست کرنا - معدوم کرنا - مٹا دینا

Extinguishment, n. The act of extinguishing ; extinction : بجھو - عدم - نیستی - فنا

Extirpate, v. t. To root out ; to eradicate : بیخ کنی کرنا - جڑ سے اکھاڑنا - نیست و نابود کرنا

Extirpation, n. Eradication ; total destruction : استیصال - نیستی - بیخ کنی

Extol, v. t. To praise greatly ; to commend ; to glorify : - حمد کرنا - ستائش کرنا - تعریف کرنا پڑھانا

Syn. - Exalt, laud, eulogize, glorify, commend.

Extort, v. t. To wrest or wring from ; to gain by force ; to exact : چھین لینا لینا - بھڑور لینا - جبراً - وصول کرنا - زیادہ ستائی کرنا

Extortion, n. Unlawful exaction : زبردستی - دست درازی - حصول دلچسپ

Syn. - Rapacity, exaction, oppression.

Extortionate, a. Oppressive ; too rigorously exacting : ظالم - زبردست - سخت - جبار

Extra, a. Over and above ; uncommon : فاضل - سرا - زائد - فالتو - غیر معمولی - علاوہ

Extract, v. t. To draw out ; to take from ; select ; to obtain by distillation ; infusion or decoction ; to find by a mathematical process : چریش دیکر کاڑھنا - نکالنا (ازرور قواعد ریاضی)

—, n. That which is drawn out : An essence : A passage from a book ; a quotation : ست - استخلاص

Extraction, n. Act of extracting ; lineage ; descent : استخراج - اخذ - اشتقاق - ٹھینچوڑ - نسل - پشت - نسل

Extradition, n. Delivery ; by one state to another ; of fugitives from justice ; in pursuance of a treaty : فیروغی - خارج - سپردگی - حوالہ سازی - غیر

Extraneous, a. Foreign : فیروغی - خارج - انہمال - عاصدہ

Extramundane, a. Beyond this world and its affairs : خارج از دنیا و دنیاوی معاملات

Extraneous, a. Irrelevant ; foreign : غیر متعلق - بیگنہ - اجنبی

Extraordinary, a. Uncommon; wonderful; remarkable : - ناہر - عجیب - نامور -
 بے قاعدہ - غیر معمولی - عجیب - ناہر -
 a. pl. that which is extraordinary :
 عجیب ماجرا

Extravagance, n. Prodigality; excess; violence :
 قہرل خرچہ - زیادتی - شدت
 Syn.—Wildness, excess, waste, violence.

Extravagant, a. Irregular; excessive; wasteful :
 بے دستور - بے حساب - قہرل خرچ
 Syn.—Excessive, prodigal, wasteful, profuse.

Extreme, a. Most remote; greatest; final :
 Necessity, * سب سے دور - ازحد پرا - اشد - آخری
 a. The utmost limit; extremity :
 * To go to—s, to go to too far; use extreme measures :
 حد سے - غایت درجہ
 * In the—, * قریب المرکی
 * In extremis, * تجاوز کرنا
 بے غایت - بہ شدت

Extremity, n. The utmost point; the highest degree; verge : - حد - حد - حد - غایت درجہ - حد -
 اتم - ضرورت
 Syn.—Verge, border, end.

Extricate, v. t. To set free; to disentangle :
 آزاد کرنا - خلاص کرنا - نکالنا - حلجانا

Extrication, n. Act of disentangling; liberation :
 چھٹکارا - خلاصی - آزادی - رہائی

Extrinsic, a. Outward; external; unessential :
 باہری - بیرونی - خارجی - ظاہری

Extrude, v. t. To thrust out; to expel : - ٹھیلنا -
 ڈھکیلنا - نکال دینا

Exuberance, n. Overflowing; plenty; superfluity :
 افراط - افرونی - ثمرت - فراوانی
 Syn.—Abundance, excess, plenty, overflow.

Exuberant, a. Overabundant; superfluous; profuse; rich :
 کثیر - فراوان - لیروز - بہت زیادہ - سرسبز - ہرا ہورا

Exudation, n. The act of sweating out; substance exuded; secretion; oozing; liquid matter given out : - اخراج - رس - پسینہ -
 ترق - رطوبت

Exude, v. t. To discharge through the pores :
 * * * * * نکالنا

Exulcerate, v. t. To grow to an ulcer : ناہر ہونا

Exult, v. t. To rejoice greatly; to triumph; to rejoice triumphantly; to spring joyously :
 بہت خوش ہونا - باغ باغ ہونا - مگن ہونا - فخر کرنا
 لیروز مندانہ فخر سے خوشی کرنا - شادیاں بجانا - خرمی سے اچھلنا - بہر لائے سمانا

Exultant, a. Rejoicing; triumphing : - شاداں -
 فرحان - نمناہ خوشی

Exultation, n. Great joy : - فخر - خرمی -
 اُسک
 Syn.—Joy, transport, elation, delight.

Exustion, n. Consumption by fire : - آگ سے جلنا -
 جسم ہر جلتا

Exuvize, n. The cast skins or shells of animals :
 خول - کیچیل - اُترن

Eyas, n. A nestling hawk :
 چوزہ باز کا بچہ جو ابھی
 شکار نہ کر سکتا ہو

Eye, n. The organ of sight : چشم *
 * The power of seeing :
 * View : نظر - نگاہ
 * Watch : سرنی کا ٹکا کا
 * Hole of a needle : *
 * Catch for a book : *
 * Bud of a plant or root :
 * انکورا
 * The power of judging accurately by the eye :
 * شائحت
 * A bright spot on a feather :
 * چٹپی
 * To keep an—on, to watch :
 * To put one's—s out, to extract one's eyes :
 * In the— of the wind, in the direction right opposite to that of the wind :
 * عین کے عین
 * In the twinkling of an—, very soon :
 * To cry one's—s out,
 * To feast the eyes upon,
 * To find favour in the eyes,
 * حاضر تواضع اور مدارات سے پیش آنا
 * Better an eye out than always aching,
 * آنکھ پڑوتی بینہ
 * The master's—makes the mare fat,
 * کھیتی خص سیتی

Eyeball, n. The ball or apple of the eye :
 آنکھ کا
 اچھہ یا پتلی - آنکھ کا تارا

Eyebrow, n. The hairy arch over the eye :
 ابرو - ابرو

Eyedrop, n. A tear :
 آنسو - آنسو

Eye-glass, n. A glass to assist the sight
چشمہ - عینک
Eyelash, n. Hair on the eyelid : مژگہ - بلک
Eyeless, a. Deprived of sight : اندھا
Eyelet, n. A small hole or opening : سوراخ
Eyelid, n. The cover of the eye : پلک
Eyesalve, n. Ointment for the eye : آنکھ کا انجلی
Eyesight, n. Power of seeing ; vision : بینائی

Eyesore, n. Something offensive to the sight : آنکھوں کا خار - آنکھوں کا کٹنا
Eye-tooth, n. The tooth next the grinders : کھرتے ، وہ دانت جو ٹھیک آنکھ کے نیچے ہوتے ہیں
Eye-witness, n. One who sees a thing done : چشم دید گواہ - معائنہ - شاہد حال
Eyry, Eyrie, n. A place where birds of prey build their nests and hatch : شکاری چڑیوں کا گھرنا

F

Fable, n. A fictitious narration intended to enforce some useful truth ; a moral story : حکایت - نصیحت امیز مثنوی - داستان - افسانہ - ایجاد کرنا - کہنا - اپنے دل سے : **v. t.** To invent : کہنا
Fabric, n. A building : عمارت - حویلی - مکان
* Manufactured cloth : بناوت - پارچہ
* Make ; construction : ساخت ترکیب و ترتیب - نظم و نسق
Fabricate, v. t. To build ; to construct ; to manufacture ; to forge : تیار کرنا - تعمیر کرنا - بنا کرنا - ساخت کرنا - جعل کرنا - جوڑنا کلفظ بنانا
Fabrication, n. Construction ; manufacture ; invention a story ; a falsehood : تعمیر - بناوت - دروغ - ہفتی - ساخت - تعمیر - کہتہ - قصہ - جوڑت
Syn.—Fiction, figment, invention.
Fabulist, n. A writer or inventor of fables : افسانہ نویس - قصہ گو
Fabulous, a. Fictitious ; unreal ; false : جوڑنا - مصنوعی - دروغ - قصہ کہانی کا زمانہ
Facade, n. The front view or elevation of an edifice : سامنا - اگواڑا - روئے مکان - پیش گاہ
Face, n. The visage ; the countenance : چہرہ
* Surface : سطح
* The fore-part : اجزا
* Boldness : حضور
* Presence : اگواڑا
* Dial of a watch : گھڑی کا
* A ; lane side : A ; lane side
* Effrontery : شرمی
* Look : نظر
* To make a grimace : مسکنا بنانا
* to—, to look gloomy : منہ لٹکانا
* To
* روڑو - آئے سامنے
* Confronting each other : سامنے سامنے
* To
* By in the—of, to act in direct opposition

آنکھ سے ، Look in the—, بخلاف کلم کرنا :
التفات نہ کرنا ، To set the—against, * آنکھ ملانے پھیر لینا
Face, v. i. To carry a false appearance ; to turn about ; to act impudently or hypocritically : رخ پھیرنا
* مقابله کرنا - لڑنا - سامنا کرنا - ڈھانکا - مکاری کرنا
* شرمی سے کسی کو
* To—one out of his wits, زبردستی ہنگام فرار دینا
* To—a man out of one's acquaintance, بے حیائی سے کہنا نہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں
* **v. t.** To meet in front, to stand opposite to ; to confront ; to cover in front : مٹنا
* — : بچھ کرنا - مقابل ہرنا - منہ ڈٹنا - پینٹ نہ دکھانا
* ڈھانکنا - پاننا - چھپانا - ہرانا
Facer, n. One who puts on a false show ; a bold faced person ; a severe blow on the face : پھریبہ - شرم - مکار
Facetious, a. Gay ; humorous ; witty : خوش مزاج - طریف - تمہیہ باز - مذاقہ - ہسوز
Facetize (fa-si-ze) n. pl. Humorous sayings or writings : نکتہ - لطیفہ - طریفانہ کلم - مذاقہ نام
Facile, a. Easy ; affable ; pliant : آسان - خوش خلق - ملائم
Syn.—Pliant, flexible, ductile, easy.
Facilitate, v. t. To make easy : آسان کرنا - سہل کرنا
Facility, n. Easiness ; dexterity ; ready compliance : آسانی - تیز دستی - سہولیت - مستعدی
Syn.—Ease, readiness, condescension, affability.
Facing, n. A covering in front for ornament or protection : پردہ - استرگاہی - حاکمیت - نثار - گور - سنبھار

Fac-simile, n. Exact likeness : ٹھیک نقل یا صورت - نقل مطابق اصل

Fact, n. A thing done ; deed ; reality ; truth ; statement of a thing done : - کلم - فعل - امر - * حقیقت - اصل حقیقت - امر واقعی - کیفیت * -s of the case, * درحقیقت * In- حال - بیان خلف امر * Not founded in- * حالت - مقدمہ سچ سچ - دراصل * As a matter of- , * واقعی
Syn. - Act, event, incident.

Faction, n. A political party ; dissension : ملکی فریق - جھگڑا - نا اتفاق

Factious, a. Given to faction ; turbulent : قہقہہ انگیز - مضد
Syn. - Turbulent, seditious, refractory.

Factitious, a. Made by art ; artificial : - صناعی - مصنوعی - جلیبی - تطبیعی - ساختہ

Factor, n. A mercantile agent : - کارکن - گماشتہ * (Math.) Anything that contributes to a result or forms a product : - جز اجزاء ضروری

Factorage, n. A factor's commission : حق گماشتگی - ہلالی - آرہت - دستوری

Factory, n. A place where factors transact business for employers ; a manufactory ; the body of factors : - گودام - نوٹھی کارخانہ - جماعت کارکن - کارندے

Factotum, n. One employed to do all kinds of work : وہ نوکر جس سے سب قسم کا کام لیا جاوے

Faculty, n. Power of the mind ; ability : * Natural power or endowment : * اصل جوہر * * Talent : * خداداد وصف * * A body of men whom any specific right or privilege is granted : جماعت سند یافتہ - علماء

Fade, v. i. To perish gradually ; to lose colour ; to vanish : مر جھانا - کم ہونا - رنگ پھیکا ہو جانا * زایل ہونا - کانور ہونا

Fadeless, a. Not liable to fade : - جرنہ مرجھائے - لژوال

Fadge, (Faj) v. i. To agree ; to snit ; to fit together ; to succeed : - موافق ہونا - مطابق ہونا * ٹھیک بیٹھنا - کامیاب ہونا * میں آنا

Faeces, n. (Foe-ces) (Pl.) Dregs ; excrements ; sediments : گان - پا خانہ - کچھوٹ - آلیش

Fag, v. i. To grow weary ; to tire ; to drudge : سہمنا * n. An under schoolboy ; a drudge : - نچلے - غمگین

Fag-end, n. The end or lesser part of anything ; the end of a web of cloth ; the last part : چھانٹن - قطبہ - تارے کا موٹا حصہ - بالکل آخری حصہ

Faggot, n. A bundle of sticks for fuel : ایندھن کا گتھ

Fail, v. i. To be wanting ; to fall short ; to decay ; to cease ; to miss ; to become insolvent ; to miscarry : کٹنی نہرنا - کم ہونا - گھٹ جانا - زایل ہونا - محسوم ہونا - نا کامیاب ہونا - دیوالہ نکالنا - کر جانا - چوکنا - نہ چلنا - پورا نہ ہونا

Failure, n. Deficiency ; omission ; decay ; bankruptcy : کمی - نقص - نا کامیابی - بھول - خٹا - زوال - دیوالہ

Fain, ad. With joy or pleasure ; gladly : خوشی سے - شوق سے

Faint, a. Lacking strength ; weak in spirit ; depressed ; done in a feeble way ; timorous : ناتوئی - کمزور - قہریمی - بزدل - اوداس - افسوس -

Faint, v. i. To grow feeble ; to swoon ; to decay ; to become depressed : کمزور ہونا - غش میں آنا - زایل ہونا - مایوس ہونا - جی قہرینا - اوداس ہونا

Faint-hearted, a. Cowardly ; timorous : - بزدل قہریمی

Faintness, n. State of being faint ; languor ; feebleness of colour ; light, &c. ; dejection : ضعف - کمزوری - ناتواپی - پھیکاہن - ہلکاہن - اوداسی - کالھی

Fair, a. Handsome : * Clear : * خوبصورت : * Even : * Not black : * کورا * * Favourable : * مقبول : * Just ; * Open : * ہموار * * Frank : * سچا * * Upright : * سیدھی * * Not cloudy : * کھلی * * Pretty ; good : * دلچسپی * * The * -dealing, * سچا بیروار * * By * -means or foul, * کی * * sex, * عورتیں * * A * -character, * طرح * * ایہ انداز ہے یا پے ایہانی سے * * play, * نیک نامی * * مستخانہ ساری

Syn. - Pure, frank, honest, equitable.
* The * * میٹہ - نامشا : * * n. A stated market : * * حسن - خوبصورتی * * Beauty : * * عورت * * female sex : * * خوش قسمتی - کھلائی * * Good fortune : * * جمال

To bid—to, to be likely to : غالباً ہونا : * and square, justly ; honestly : ایمانداری سے : *
—play and no favour, just treatment and no show of kindness : ایمان اور رعایت نہیں : *
ad. kindly ; honestly ; clearly ; straight :
دوستانہ - بامراقتہ - ایمانداری سے - ظاہرہ - صاف صاف - دھیرج سے

Fairness, n. Beauty ; honesty ; clearness :
خوبصورتی - حسن - ایمانداری - راست بازی - صفائی

Fairy, n. A fabled spirit ; an enchantress :
پری , faced, * پری زاد - پری - جادوگرانی - ساحرہ
بینکر - پری زر

Fairy-land, n. The abode of fairies :
پرستان - پری لوک

Faith, n. Firm and earnest belief ; confidence ;
ایمان - اعتقاد - creed ; promise ; loyalty ; fidelity :
To break—, عقیدہ - رعدہ - قرار - نمک حلائی - وفا
نیک , In good—, * انفرار سے پورنا - خلاف وعدہ کرنا
To keep—with, * یقینی سے - ایمن سے - دھرم سے
رعدہ رفا کرنا

Faithful, a. Trusty ; loyal ; upright ; honest :
معتبر - معتد - نمک حلال - ایماندار - راست باز -
صادق القول

Syn.—Trusty, honest, upright, sincere.

Faithfully, ad. Honestly : ایمانداری سے - راست بازی سے

Faithfulness, n. Veracity ; honesty :
سچائی - ایمانداری

Faithless, a. Unbelieving ; treacherous ; dis-
loyal : بے دین - بددیانت - نمک حرام - بے وفا

Faithlessness, n. Treachery : دغا بازی - دھرمہا

Falcate, a. Hooked : خمدار - تیرھا

Falchion, n. A short crooked sword : خمدار
تلواری - قیضہ

Falcon, n. A hawk trained for sport : باز -
شکر - شاہ باز

Falconry, n. Act of training hawks : بازداري -
شاہین پروری

Fald stool, n. A folding stool ; a bishop's
chair : لپیٹنے والی کرسی - سردار ہارڈی کی کرسی

Fall, v. s. To drop down ; to become prostrate ;
to find a final outlet ; to perish ; to lose
strength ; to be brought forth ; to become

insignificant ; to depart from faith or from
rectitude ; to become ; dejected ; to be entrap-
ped ; to become ; to happen ; to begin
with haste ; to become the property of :
گونا - پڑنا - ٹپکنا - چھکنا - اونٹھے پڑنا - گونا - پڑنا - ٹپک
ہونا - نیست و نابود ہونا - پست ہونا - گھٹنا - چٹنا -
پچھ دینا - خفیف ہونا - حقیر ہونا - منحرف ہونا -
آزردہ ہونا - بزمردہ ہونا - پوسنا - گرفتار ہونا - ہرجانا -
پڑنا - واقع ہونا - نازل ہونا - فرٹنا - ہاتھ آنا -
لانر یا : * To—away, to grow lean : پورنچنا
* To revolt : منحرف ہونا * دہلا ہونا
perish : مرجھانا * To—back upon, to with-
draw or go back to : پٹا لینا * To have re-
course to : مجبوراً قبول کرنا * To—down, to come
to the ground : گر پڑنا * To—from, depart
from duty or allegiance : منحرف ہونا *
To—in with, to agree with : اتفاق کرنا * To
meet accidentally : * اتفاقیہ ملاقات ہرجانا *
To—off, to drop down : * forsake : * گر پڑنا
* To—on or upon, to attack ; to as-
sault : نازل ہونا * To light on : * حملہ کرنا
* To—out, to begin eagerly : جلدی سے شروع کرنا
* To quarrel : * واقع ہونا :
To—through, to fail ; to drop : * گر پڑنا :
* To—to, to begin miscarry : نا کامیاب ہونا
* To apply eagerly to eat : کھانے پر ٹوٹ پڑنا
* To—foul of, to come in violent contact with :
* لڑ پڑنا یا بھڑ پڑنا :
* To—short of, to be less than : کم ہونا
گمنام ہونا - فواموش ہونا - یاد سے
داون پر , * To—into the clutches of, * اٹرنا
چڑھنا - چٹھے چڑھنا

Fall, n. Act of falling ; the act of dropping
or tumbling descent ; overthrow ; destruction ;
diminution : اُتادگی - نزلہ - پھہار - پٹکنی - لوٹنی
اوتار - نشیب - پایمالی - شکست - تنزلی - زوال - گھٹی
پتھہر - Autumn, * آبشار : * A cataract * کھی
چوک * To break the—of any thing, * خزان
بھگانا

Fallacious, a. Producing mistake ; deceitful :
حیلہ آمیز - غلط کار - فریبی - مکار - کاذب

Syn.—Deceptive, delusive.

Fallacy, n. A deceitful argument ; sophism :
مغالطہ - دھوکھا - خلف بیانی - کنپ

Fallibility, a. Liableness to err : - خطا پذیری
تقصرواری

Fallible, a. Liable to mistake : - چوکے
خطا پذیر - درال

Falling-sickness, n. A name for epilepsy : - مری

Fallow, a. Pale, red or yellow : - سرخی یا زردی
بنسیر - غیر - Left untilled ; unsown : * مایل

Fallow, v. t. To plough without sowing :
چرتنا - ہل چلنا

False, a. Not true : - جھوٹا * Unfaithful :
جھوٹا * Counterfeit ; not genuine :
To put a—colour on, * کاپی - تقابلی -
ملمع کرنا - ٹیپ ٹاپ کرنا

Falsehood, n. Want of veracity ; untruth ;
treachery : - دروغ - جھوٹہ - ناراستی - فریب

Falsely, ad. Untruly ; treacherously : -
ناراستی سے - دغا بازی سے

Falsify, v. t. To represent falsely ; to prove
to be false ; to counterfeit : - جھوٹا بنانا -
جھوٹا ثابت کرنا - جھوٹا ٹھہرانا - جھپٹی بنانا

Falsify, v. i. To tell lies ; to forge ; to prove
untrustworthy ; to break by falsehood : -
جھوٹہ - بولنا - جھپٹی بنانا - جھوٹا بنانا -
جھوٹا ثابت کرنا

Falsity, n. Quality of being false ; a false
assertion ; lie ; deceit : - دروغ - جھوٹہ - فریب

Falter, v. t. To hesitate in speech ; to stammer ;
to tremble : - پس و پیش کرنا - کھلانا - کانچنا -
لکنت کرنا - ہچکچاتا - سفارش کرنا

Fame, n. Celebrity ; reputation ; renown :
شہرت - ناموری - نیک نامی - پیش

Familiar, a. Domestic ; intimate ; free ; well-
versed ; well-known : - خانگی - بیگانا - آشنا -
On—terms * مانوس - بے تکلف - واقف - مشہور
* To be—with, * رہنا - * To grow—, * یا بنا رہنا

Familiarity, n. Easy intercourse ; intimacy :
بے تکلفی - ربط - میل - اندیش - دوستی - اختلاط -
ارتباط

Syn.—Acquaintance, fellowship.

Familiarize, v. t. To make familiar or intimate ;
to habituate ; to inure ; to make fully :
ربط کرنا - ہلانا - آسان کرنا - خوگر کرنا - عادی کرنا -
خوب شننا سا واقف یا ماہر کرنا

Familiarly, ad. In a familiar manner ; com-
monly : - بلا تکلف - بے ہلکانا - اکثر اوقات - عموماً

Family, n. A household ; a generation ; kindred
a lineage ; a class : - گھرانہ - نسب -
خاندان - گھرانہ - نسل - نسل - نسل -
ہائے بند - سکے - ودرے - اقربہ - نسل - نسل -
ہائے - پیت سے - قوم - برداری - ذات

Famine, n. General scarcity of food ; dearth :
نقصا - اکل - گرانہ

Famish, v. i. To die of hunger : -
نافہ نرنا - بھوکوں مونا

Famous, a. Renowned ; illustrious :
مشہور - معروف - نامور

Syn.—Noted, signal, remarkable.

Fan, n. An instrument to blow and cool the
face, and one to winnow grain : - پنکھا -
پنکھا - بادنش - مرچھل - سوپ

—, v. t. To cool with a fan ; to winnow ; to
blow on : * پنکھا کرنا - صاف کرنا -
دھونکنا : To excite : * بھڑکانا
To—the fire, To—the flame, * آگ سلانا - بھڑکانا

Fanatic, n. An enthusiast ; a bigot : -
مجنون - متعصب

Syn.—Enthusiast, visionary, zealot.

Fanatical, a. Wild ; mad ; visionary : -
متعصبانہ - مجنونانہ

Fanaticism, n. Extravagant notions ; religious
frenzy : - تعصب - سرگرمی - جوش - مذہبی جنون -
نفرین - تعصب

Fancier, n. One who has a special liking for
anything : - شوقین - لہمی - مرجی - وہمی

Fanciful, a. Whimsical ; visionary : -
وہمی - خیالی

Fancy, n. The power of forming images in the
mind ; whim ; notion ; liking ; capricious
inclination : - قیاس - وہم - خیال - پسند -
امسک - * اپنے خیال کے موافق, * After one's—
* To take a—to, دل دینا - چاہنا - من بسنا

Syn.—Imagination, conception, thought.

Fancy, v. t. or i. To imagine ; to conceive :
تصور کرنا - گلے کرنا

Fane, n. A temple ; a church : - مندر -
گرجا - مسجد - شوالہ - مقدس مکان

Fang, n. The tusk of an animal ; a claw or
talon : - لمبیا دانت - پنچہ - چنگک -
زھریریز دانت

Fantastic, a. Irrational ; capricious ; imaginary : خیالی - وہمی - متکبران مزاج - لمبی

Fantastical, a. Existing only in the imagination : محض خیالی (وجود)

Fantasy, n. Fancy ; imagination ; a curious decoration or pattern نگار نقش و نگار خیال - رهم - خیال

Fap, a. Drunk ; fuddled : مضرور - مدھرش - پمے ہوئے

Far, a. Distant ; remote : دور - بعید

—, *ad.* At or to a great distance ; very remotely ; very much : دور سے - دوری سے * **By—**, in a great degree : بدرجہ * **From—**, from a great distance : بہت چارونطرف * —and wide, all around : چارونطرف

Farce, n. A ridiculous show ; a low style of comedy : غندہ انگیز - وائک - نقل - ادنیٰ قسم کا - سرائک
 Syn. - Burlesque, caricature.

Farcical, a. Belonging to a farce ; ludicrous : سرائک - متعلق - ہنسی کا

Fardel, n. A little pack ; a bundle : بچھہ - بوثری - گھوڑی

Fare, v. i. To go ; to travel ; to be in any state, good or bad ; to happen well or ill ; to feed : جانا - سفر کرنا - کسی حالت میں ہونا - گذرنا - * واقع ہونا - پڑنا - کہنا - اوقات بسر کرنا - گذران کرنا
 Let us see how it fares with him, دیکھئے
 n. Price of conveyance ; the person conveyed ; food ; the state of things : کرایہ - سرائی - اجورہ - خوراک - صورت - حال

Farewell, n. A wish of welfare at parting : الوداع - خدا حافظ

Farina, n. Flour ; starch or fecula : آٹا - پھولنکی رچ

Farm, n. Land occupied by a tenant ; a landed estate : زمینداری
 v. t. To let to a tenant on rent ; to cultivate land : ٹھیکہ پالگان پر اسامی کو دینا - جرتنا

Farmer, n. One who cultivates a farm : کاشتکار - کسان - ٹھیکہ دار

Faro, n. A gambling card game : گنجفہ کا ایک ٹھیل

Farrago, n. A medley ; a confused mass : پھمیل - کھینچہ - گھسٹہ

Farrier, n. One who shoes horses ; a horse doctor : ٹیلند - سوتری - ٹھوڑوں کا علاج کرنے والا

Farriery, n. The business of a farrier : سوتری کا کام - ٹیلندی

Farrow, n. A litter of pigs : سرور کا جھول

Farther, a. More remote : زیادہ دور

Farthing, n. The fourth part of a penny : پینے کا چوتھا حصہ

Farthingale, n. A hoop to spread the petticoat ; a hoop-kirt ; a crinoline : سایا پھیلائی کا چکر

Fascinate, v. t. To enrapture ; to captivate ; to bewitch : فریقہ کرنا - مرہ لینا - جادو کرنا
 پس میں کرنا

Fascination, n. Act of bewitching ; a charm ; inexplicable influence : جادوگری - فریقگی - سحر - نظر بندی - دلکشی

Fash, v. t. To vex ; to annoy : حق کرنا - چھیڑنا - ستانا

Fashion, n. Form ; custom ; style of dress : شکل - صورت - دستور - رواج - وضع - طرز - طریقہ
 ڈھالنا - بنانا : *v. t.* To mould ; to adapt : موافق کرنا

Fashionable, a. Conforming to the fashion ; well-bred ; genteel : رواج کے مطابق - وضع دار - شریف - خلیق

Fast, v. i. To abstain from food : فاقہ کرنا - روزہ رکھنا - پرت کرنا

Fast, n. Abstinence from food : فاقہ کشی - روزہ - پرت

—, *a.* Firmly fixed ; strong ; steadfast ; swift ; faithful ; deep ; immutable : چکڑا ہوا - استوار - مستقل - کسا ہوا - تیز رفتار - سچا - شرح - ہمیشہ کے لئے

Fasten, v. t. To fix firmly ; to hold together : چکڑنا - کسنا - پاندھنا

Fastidious, a. Difficult to please ; squeamish ; delicate to a fault : تک مزاج - مہمغ - عالی دماغ - باریک بین - نک چڑھا - نازکی پسند - مرزا پھریا
 —temper : نازک مزاج
 Syn. - Squeamish, over-delicate.

Fastidiousness, n. Over-niceness : باریک بینی - عال مہمغ

Fasting, n. Abstaining from food : روزہ داری - ہفت

Fastness, n. Firmness ; a stronghold : مضبوطی - استواری - قیام - پختگی - کثرت - کڑھ - قلعہ

Fat, a. Plump ; greasy ; rich ; dull ; fertile : نرہ - موٹا - چربی دار - روغنی - سست - زرخیز

Fat, n. Oily part of animal bodies : چربی * **A large tub or cistern :** کنوئہ - کنہرا - **The best part,** پانچوں انگلیاں **To live on the fat of the land,** کھی میں

Fatal, a. Destructive ; deadly ; unlucky : مہلک - مضر - قاتل - کمبخت

Fatalism, n. The doctrine of fate ; or inevitable necessity : قضا و قدر کا عقیدہ - تقدیر کی تعلیم

Fatality, n. Invincible necessity ; mortality ; that which is decreed by fate : تقدیر - قسمت - ہلاکت - نوشتہ ارل - حکم - قضا - مقسم

Syn.—Destiny, fate, mortality.

Fate, n. A decree pronounced by God ; destiny : قسمت - تقدیر - سر نوشت - قضا - مرت - بھا بھ

Syn.—Destiny, doom, fortune, death.

Father, n. A male parent : باپ - پدر - والد * **First ancestry :** بزرگ - دادا پر دادا * **Dignitary or authority in the church :** پادری * **Almighty Father of all :** پر میشر * **Originator :** موجد - بانی اصل و نسل

—, v. t. To adopt ; to acknowledge one's self author of ; to own : متبئی کرنا - کسی تصنیف کو : کسی شخص سے منسوب کرنا - قبول کرنا

Fatherhood, n. State of being a father ; paternity : پدریت - اہربیت

Father-in-law, n. Father of one's husband or wife : خسر - سسر - سورا

Fatherless, a. Having no father : یتیم کا - بیتم

Fatherly, a. Paternal ; tender ; kind : پدرانہ - پدری - شفیق - مہربان

Fathom, n. A depth of 6 feet : ۶ فٹ گہرائی * v. t. To sound the depth of ; to penetrate : تھام لینا - پتھانا - خوض کرنا

Fathomless, a. Incapable of being fathomed : صیق - اتھامہ - اگم

Fatigate, n. Weary : تھکا - ماندہ

Fatigue, n. Great weariness ; toil : تکان - تھکانا - ماندہ کرنا - v. t. To weary with exertion ; to tire : تھکائی - مصنت

Fatling, n. A young animal fattened for slaughter : جانور جو ذبح کرنے کے لئے نرہ کیا جائے - حلوان

Fatness, n. Plumpness ; fertility : موٹائی - نرہی - زرخیزی

Fatten, v. t. To make fat ; to enrich : موٹا مٹایا چھانا - نرہ ہونا - v. i. * کرنا - زرخیز کرنا گورانا

Fatty, a. Containing or like fat ; greasy : چربی دار - روغنی - موٹا

Fatuity, n. Weakness of mind ; foolishness : حماقت - بیوقوفی - سادہ لوحی - بیعظی

Fatuous, a. Silly ; illusory : احمق - نادان - بے Ignis fatuus, * جز - بے بنیاد - بے اصل - چھلرا بے اصل اک

Fauces, n. The posterior part of the mouth : حلق - کٹھنہ

Faugh, inter. An exclamation of contempt or abhorrence : کلمہ تعظیر - نف - چھی چھی

Fault, n. A defect : قصور - An offence : عیب * **To find—** * **with,** عیب نکالنا - کتہ چینی کرنا - قصور وار ٹھہرانا

Faultless, a. Without fault ; blameless ; perfect : بے عیب - بے نقص - ذمہ

Faulty, a. Defective ; imperfect ; blameable : زبون - عیب دار - ناقص

Faun, n. A rural deity : ادھا : بکرا ادھا آدمی

Fautenil (fo-ley), n. An armchair esp. a president's chair : آرام کرسی - مسند

Favour, v. t. To regard with kindness ; to support ; to facilitate : مہربانی کرنا - مدد دینا - رعایت کرنا - مرفوع دینا

—, n. Kind regard : شفقت * Countenance : اہانت - یاری - مہامب * **Good will :** * **Regard :** * **Betrudding :** * نیک اندیشی

In— * مزہبہ لگا ہوا * **To be in—with** * التفات
of, تاریکی * **Under—of darkness,** بہ نام،
کی پناہ میں

Syn.—Kindness, support, grace, gift, morey, regard.

Favourable, a. Indicating partiality; kind;

friendly; advantageous; suitable: — طرفدار
مددگار — مہربان — مفید — موافق — معقول

Favoured, a. Treated with special kindness;

especially liked or approved: — منظور نظر — معقول
پرگزیدہ — پسندیدہ — خاص طور سے — خاطر پزیر یا

Hard—, course visaged: * مستحسن ہو جانا

بدصورت: — **Ill—, ugly; ill-looking:** * درشت صورت
خوش شکل: * **Well—,** goodlooking: * زیشتر

Favourite, n. A person or thing regarded with

favour; loved or preferred above others; pet;
darling particularly liked: — عزیز — دلپسند — مقرب —

منظور نظر — دروست — دلرا — لالا — منہ لگا — ناک کا بال

Favouritism, n. The act of showing favour;

partiality: — پاسداری — طرفداری — مہربانی — رعایت

Fawn, n. A young deer: * ہرن کا بچہ — آہو — بڑہ

v. t. To court favour by cringing; to toady or
play the sycophant: — خوشامد کرنا — عاجزی کرنا —
چاپلوسی کرنا — کچھ فیض حاصل کرنے کے لئے تعاقب کرنا

Fay, n. A fairy; an elf: * **Faith:** * پری — جن

اپنے ایمان کی قسم — ایمان سے — **By my—** * ایمان

Faalty, n. Fidelity; loyalty: * فرماں برداری — وفا

داری — نمک حلائی — ایمانداری

Syn.—Homage, loyalty, fidelity.

Fear, n. Apprehension of danger; dread;

anxiety: * **v. t.** * دہشت — خوف — قر — اندیشہ — دغدغہ

To be afraid of; to dread: * **v. t.** * **دردنا** — خوف کرنا — **رعب:** * **ماٹنا** — اندیشہ کرنا

Fearful, a. Timorous; afraid; dreadful: * دہشت

انگیز — خوف زدہ — مہیب — خوفناک

Fearfully, ad. Timorously; frightfully: * خوف سے —

ہیبت سے

Fearless, a. Free from fear; bold; undaunted;

intrepid; daring: * بلاخوف — بیباک — تھور — دلیر

Feasibility, n. Practicability: * امکان — سہرلیت —

آسانی — عمل پزیری — ہونہاری

Feasible, a. That may be done; practicable:

قابل تعمیر — ممکن — قابل عمل درآمد — ہونہار

Feast, n. A banquet; a festival; feasting:

قیاضہ — دعوت — تقریب

Syn.—Entertaining, treat.

—, v. t. To entertain sumptuously: * دعوت کرنا

To—one's eyes: * **فیانہ** کرنا — **فرضہ** بخشنا

آنکھیں سینکنا

—, v. t. To eat sumptuously; to be highly del-

ighted: * **عدہ** کھانا کھانا — **حظ** اٹھانا — **مزہ** لینا

Feasting, n. An entertainment; a treat: * دعوت

مہمانداری — تواضع

Feat, n. An act; a deed; an exploit; a trick:

کام — فعل — مہم — بازی گری — کرتب — چالائی

Feather, n. The plume of birds: * پر — پنکھہ

Species: * **An ornament:** * **قسم** — **جنس**

Down: * **Birds collectively:** * **پرند:** * **زیبایش**

—in the cap, a mark of honor: * **رونگٹا** — **روان**

To show the white—, to show signs of cowardice:

* **عزت** یا **ناموری** کا نشان

In full—, * **اراستہ** — **خراب** سچ **دھج** کے —

To be in high—, * **پیراستہ** ہو کے

اٹا — **کرپڑ** میں **اٹا** — **مکن** ہونا

—, v. t. To furnish or adorn with feathers:

To—one's nest: * **پر**وں سے **اراستہ** کرنا — **پر** لگانا

اپنا **گور** بھرنا — **تورنگر** یا **مال** مال کرنا

Feathery, a. Covered with or like feathers:

پردار — **پر** لگا ہوا

Featly, ad. Gracefully: * **دھج** سے — **خوش** ادائیگی سے

Feature, n. Form of the face; a lineament;

marked peculiarity: * **شکل** — **صورت** — **خال** و **خط** —

قشہ — **حلیہ**

Febrifuge, n. A medicine serving to remove

fever: * **بخار** کی **دوا**

Febrile, a. Pertaining to or indicating fever:

بخار کے **متعلق**

February, n. The 2nd month in the year:

انگریزی: * **فروری** — **فروری** — **پہاگن**

Fecul, a. Pertaining to feces or excrement:

گاد یا **گوبر** — **آلایشی**

Feculent, a. Foul; muddy; turbid: * **گندہ** — **میلا** —

گدلا — **مکدر**

Fecundity, n. Quality or power of producing

fruit or young; power of germinating; ferti-

lity: * **توت** تولید — **بار** آوری — **طانت** بچہ **کشی** — **زر** خیزی

—of imagination, **تصور** کی **تخیل** الثمری

Federal, a. Pertaining to a league or contract :

متعلق اتفاق - پابند عہد و پیمانہ - شرعی

Federate, a. Leagued ; confederate ;

عہد و پیمانہ میں شریک - معاہدہ - رفیق

Federation, n. Act of uniting in a league ;

مواقت - اتفاق - شریک - عہد و پیمانہ

Fee, n. A reward for service ; a tenure :

مہلتانہ - * معانی دوام - simple - اجرت - نطقہ - جاگیر

Conditional—, Customary—,

رسوم

—, v. t. To reward ; to bribe ; to hire :

اجرت دینا - رشوت دینا - نواہ پر لینا - مہلتانہ یا

حق العذمت دینا

Feeble, a. Weak ; infirm, show :

ذتوان - کمزور - لچر یا بوج عبارت - style - * ضعیف - سست

Syn.—Infirm, imbecile, languid.

Feebleness, n. Infirmary ; weakness :

اقاہت - ضعف - ناتوانی - کمزوری

Feed, v. t. To supply with food ; to nourish :

چرانہ - To graze : * دینا - پرورش کرنا - پیت پورنا

* خوش کرنا : To delight : * پالنا : To cherish : * چکنا

To—the fire, * آگ لہکانا - پوز چرکنا

with hopes, امیدوار کرنا - دم دلا سے میں رہنا

—, n. That which is eaten ; act of eating :

خورش - غذا - چارا

Feeder, n. One who gives food :

کھانے والا - پالنے والا - * One who eats : خوردگہ

* One who fattens cattle for slaughter : جو

* A fountain ; tributary : * مریضوں کو ذبح کے لئے پالتا اور مرنے کرتا ہے

* A branch railroad : * آج بھا - کھال - معارف دریا

ریل ٹی سڑک کی شاخ

Feed-pipe, n. A pipe for supplying water to a

د، ٹی جو steam engine boiler, or to a pump :

انجن کے دیگ میں پانی پہنچانے کے

Feel, v. t. or i. To perceive by the touch ; to

experience ; to test ; to suffer ; to have a sense

of : * ٹٹلنا - معارف کرنا - مس کرنا - سمجھنا :

To—for others, * قیاس کرنا - امتحان کرنا - دیکھ اٹھنا

غمگاری کرنا - ہمدردی کرنا

—, n. The sense of feeling ; the touch :

لمس - چھونا

Feeler, n. An antenna ; any device for ascertain-

ing the feelings or views of others : کیڑوں کا

مونچھہ یا سینک - اوروں کے خیالات دریافت کرنے کے

Feeling, n. Sensibility ; touch ; consciousness ;

emotion ; sentiment ; tenderness : - لمس - لمس -

مس - چھونا - علم - دریافت - جوش - لطف و کرم -

دل لینا, To sound one's—, دلی خیال - دل

Syn.—Sensation, pathos, emotion, passion,

agitation.

Feign, v. t. To assert by a fiction ; to pretend ;

دروغ بیان کرنا - بانڈھنا - بنا کر کرنا :

to counterfeit : حیالہ کرنا - تقلید کرنا

Feint, n. A false show ; a mock attack :

بنارت - ہانڈہ - دھڑنہا - نمائشی حیالہ - مغالطہ - ہلاوا

Felicitate, v. t. To make happy ; to delight ; to

خوش کرنا - رجھانا - مسرور کرنا - congratulate :

مبارکباد دینا - محبت یا خوش نصیب سمجھنا

Felicitous, a. Happy ; prosperous ; aptly used :

شادمان - خوش - خرم - فرخندہ - مبارک - پرچستہ -

معتول

Felicity, n. State of being happy ; happiness ;

شادمانی - خرمی - اقبالمندی - بقا آوری - prosperity :

خوش اصراری - خوش صنعت

Syn.—Bliss, blessedness, happiness.

Felicitous, a. Pertaining to or resembling a cat :

بلی کا - بگڑے مثل

Fell, v. t. To knock or cut down ; to prostrate :

گرا کرنا - کٹ ڈالنا - بچھڑانا

—, a. Cruel ; savage ; bloody :

بے رحم - سنگ

Fellest * دل - ظالم - وحشی - خونی - مہلک - جلد

مہلک بیماری * Fell disease, بے رحم دشمن

خون کرنے کے ارادہ سے گھات میں - lurking,

پیشہ ہوا

—, n. A skin or hide of a beast :

چرم نوردش

Fell-monger, n. A dealer in hides :

—, n. A companion ; an associate ; a per-

son : * چرم - کھال

دیزان پھاری

Fellowship, n. State or relation of being a fel-

low ; companionship ; partnership :

رفاق - محبت - شراکت

Felon, n. One who is guilty of felony ; a male-

factor :

گنہگار - تصدیرار - مجرم

Syn.—Culprit, criminal, malefactor, outlaw.

Felonious, a. Villainous ; malignant ; criminal ;

culpable : بدکار - شریک - ناسد - مجرم

Felony, n. A capital offence ; a heinous crime :

جرم شدید - جرم سنگین - کبیرہ

Felt, n. A woollen stuff or cloth ; skin : لونی کپڑا - نمدا

Female, n. The sex that bears young : عورت -
 تریا، craft - * مرثک * زن - مادہ
 چتر - استری وید

Feminine, a. Pertaining to women ; womanly ;
 effeminate : مادہ - زنانہ - مرثک - نرم

Femoral, a. Belonging to the thigh : جانگھہ کا -
 ران کے متعلق

Fen, n. Boggy land ; moor ; marsh : دلدل -
 جھوپڑ - دھاسان

Fence, n. A guard ; security ; enclosure ;
 fencing ; adroitness in debate or repartee :
 حفاظت - بناؤ - پناہ بازی - چوار دیواری - احاطہ - بارزا
 کسی فریق کا، On the - * تباری - حاضر جوابی
 سینقہ باندھنا - مصفوظ رہنا - * v. t. To enclose with a fence ; to
 guard ; to fortify : معاق
 * v. i. To practise the art of
 manual defence : لکڑی پھینکنا
 * v. t. To practise the art of
 manual defence : لکڑی پھینکنا - پناہ پھینکنا
 —with foils، لکڑی پھینکنا

Fencing, n. Art of self defence with the sword :
 پٹھہ بازی

Fencing-master, n. One who teaches the use
 of weapons : پٹھہ بازی و لکڑی کا اُستاد

Fend, v. t. To keep off, to shut out ; to dis-
 pute : باز رکھنا - روکنا - آنے نہ دینا - کاٹنا - دُنا

Fender, n. A utensil placed before the fire :
 آتش خانے کے سامنے کی آڑ

Fennel, n. An aromatic plant with yellow
 flowers : سرف - سورا

Fenugreek, n. میتھی - شہپرلید - ہلیت

Fedary, n. An accomplice : مشارک

Feoff, n. A fief : جاگیر - * v. t. To grant
 possession of a fief : جاگیر دینا - دخل دینا

Proffee, n. Person invested with the fief : جاگیر
 دار

Feracious, a. Fruitful : باردار

Ferine, a. (pl. Feræ) Wild ; savage : جنگلی -
 وحشی - درندہ

Ferment, n. that which causes fermentation ;
 commotion ; tumult : خمیر - حرکت - جوش -
 * v. t. To excite internal motion :
 جوش دیکر اُٹھانا

Fermentation, n. A gaseous change that takes
 place in certain substances : خمیر - اربال -
 جوش - اربال - تخمیر

Fermentative, a. Causing fermentation ;
 fermenting : اربال لانیرالا - مخمر - خمیر اُٹھانیرالا

Fern, n. A flowerless plant : ایک قسم کا پردہ
 جسکو ہنسراج کہتے ہیں

Ferocious, a. Indicating cruelty ; ravenous ;
 savage : بے رحم - خونخوار - وحشی

Syn.—Savage, fierce, wild.

Ferocity, n. Savageness ; cruelty : وحشت -
 سنگدلی

Ferrous, a. Made of or pertaining to iron :
 لوہے کا آہنی

Ferret, n. An animal of the weasel kind :
 * v. t. To drive out
 of a hiding place : نکال دینا
 * v. i. To search carefully : خوب تلاش کرنا - دھونڈنا

Ferriage, n. The fare, or price paid at a
 ferry : فاری کی اُترانی

Ferule, n. An iron ring at the end of a
 stick to keep it from cracking : چھلا جو لکڑی
 کے سرے پر لگا یا جاتا ہے اسے پھٹنے سے روکنے کے لئے - شام

Ferry, n. A passage across a river or stream :
 a boat : ناؤ - معبر - Beach of—laws,
 حرکات خلاف قانون معبر ناؤ

Ferryman, n. One who keeps or rows a
 ferry : منجھوی - بھٹوال

Fertile, a. Fruitful ; abundant : زر خیز - سرسبز -
 بارآور - جنید

Syn.—Fruitful, productive, rich, luxuriant,
 exuberant.

Fertility, n. Fruitfulness ; productiveness ;
 richness : * زر خیزی - بارآوری - ثروت - پیداوار
 —Of resource, حکمت عملی

Fertilize, v. t. To make fertile or productive ;
 to enrich : زر ریز کرنا - قابل زراعت کرنا

Ferule, n. A rod to punish children at school :
 تمچی - چھڑی - بید
 a cane :

Fervency, n. Ardour; extreme eagerness; zeal: جوش - سرگرمی - دلسوزی - شوق - تیزی

Fervent, a. Ardent; eager: سرگرم - پر جوش - شوقین - دمگتا ہوا - تپندگی - سرزنای

Fervently, ad. Warmly; eagerly: - دلسوزی سے

Fervid, a. Very hot; vehement; zealous: سرزادہ - تیز - تند - سرگرم

Fervour, n. Heat; excessive warmth; zeal: حرارت - محم جوشی - سرگرمی - رغبت

Fescue, n. A wire or straw to point out letters to learners: وہ تار یا تنکا جس سے مہندہوں کو حروف بتاتے ہیں

Festal, s. Relating to a feast: Joyous * زینتی سرور - خوش - شاد - خرم

Fester, v. i. To grow virulent; to rankle; to corrupt: گھوڑ پکنا یا سونا - گندا - ناقص ہونا

Festival, n. A day of civil or religious joy: تیرہار - تقریب - پرپ

Festive, a. Pertaining to a feast; joyous; gay: تیرہار کا - خوش - خرم

Festivity, n. Festive or social joy; a festival: تہی - جشن - عید

Festoon, n. A garland, wreath, &c., hanging in a curve: سہرا - بیل بوٹا - ہار

Fetch, v. t. To go and bring; to sell for, to obtain: To * لے آنا - قیمت پانا - وصول پانا

Turn, n. A trick; a stratagem; an artifice: * چکر کرنا لہی - فریب - عیاری

Fete, n. A festival: تیرہار - پرپ

Fetid, a. Having an offensive smell; stinking: فندہ - متعفن - بدبو دار - سزا ہوا

Fetlock, n. A tuft of hair growing behind a horse's pastern joint: گھوڑے کے ٹانگے کے اٹلی طرب

Fetters, n. A chain for the feet; restraint: پا بہ چرلن * In-s, بیڑی - زنجیر - روک - چرلن پا بہ زنجیر

Fetter, v. t. To bind; to shackle; to confine: پابند کرنا - بیڑی ڈالنا - قید کرنا - روکنا

Fitter, n. Restraint: بیڑی - روک

Fetus, n. An animal in the womb: بیٹ کا بچہ

Feud, n. A deadly quarrel; contention; sief: نفاق - چھکڑا - خانہ جنگی - چنی دشمنی - چاگیر

Feudal, a. Held by tenure: متعلق - گیر حوشتا - معرقت - ملک ریاست کے ہو

Feudalism, n. The ancient system of holding lands on military service: جاگیر داری - معرقت کار - فرج

Feudalist, n. One versed in the laws of feudalism: ایک شخص جو جاگیر داری، معرقت کار فرج کے قانون سے - سر ہو

Feudatory, n. One who holds not in chief, but by some conditional tenure: جاگیر دار - حکم چاگیر - ہشت طاقت جانی دی ٹٹی ہو

Feudejoie, n. (*Fr. pro. Fu-de-zhwa*) A discharge of musketry in honour of any important event: کسی بڑے معاملہ کی خوشی میں ماسی - شلک - توپوں کا تیز جس سے خوشی کی عظمت ظاہر ہو

Fever, n. A disease marked by heat, thirst and accelerated pulse: بخار - تپ - حرارت

Feverish, a. Affected by fever; hot; sickle: بخار سا - مایل بد اہت - سرزبان - چنچل

Few, a. Not many; small in number: معدودہ - معذہر طرز سے - چند - In- * چند - تلیل - معدودہ خاصہ تعداد - A good- * الفاظ میں - تصدق کرنا

Fey, n. The Moorish or Turkish cap: ترکی ٹوپی - تیرہوش - منگیتر

Fiance, n. A betrothed man: خطا - غلطی - چوک - فاندھیانی

Fiasco, n. A signal failure: حکم - فرمان - ارشاد - تقریب

Fiat, n. A command to do something; a decree: حکم - فرمان - ارشاد - تقریب

Fib, n. A lie; a falsehood: جھوٹ

Fibre, n. A slender thread of an animal or plant: نس - ریشہ - تار

Fibrous, a. Consisting of fibres: ریشہ دار - نمدار

Fickle, a. Changeable; inconstant; unsteady: متاثر - تون مزاج - بے قرار - ناپائیدار - بوالعقول - بے قرار

Syn.—Wavering, irresolute, unsettled, unsteady.

Fiction, n. A feigned story; a romance; a falsehood: حدیث - داستان - فسانہ - جھوٹ - بناوٹ - فسانہ سازی

Syn.—Fabrication, falsehood.

Fictitious, a. Feigned; counterfeit; false: مقہی - مصنوعی - جھوٹا

Fiddle, n. A stringed instrument ; a violin :
 سارنگي بجانا - هاتھه نچانا - چڪارا
 in ; to trifle :
Fiddle-de-dec, intj. : نيا ڪهنا هه
Fiddle-faddle, n. A trifling talk :
 فصرل باتين - لغز - غپ - بڪراس
Fidelity, n. Faithfulness ; loyalty ; veracity ;
 وفا داري - نمڪ حلاي - راستي - ايمانداري -
 عفت - عثمت
Fidget, v. i. To move about uneasily :
 چلپلانا - دلپلانا - بيڪل هونا
Fidgety, v. Restless ; uneasy :
 مضطرب - بيڪل - پریشان
Fiducial, a. Confident :
 معتقد - مستحکم
Fie, interj. An exclamation denoting contempt
 or dislike :
 ڪاهه تهقير - چهي - تف
Fief, n. An estate held under condition of mili-
 tary service :
 جاگير جو فوج کا کام کرنے کی شرط پر عطا
 هو - تعلقه
Field, n. Felled ground :
 * Cleared land :
 * A battle ground :
 * Extent :
 * To be in the—, * To gain in the—, * To keep the—against the enemy.
 * To—book, a book used by surveyor :
 * day, a day when a regiment is taken to the fields for practice :
 * To win the—, to gain a victory :
Field-marshal, n. An officer of the highest military rank :
 سڀه سالار
Field-piece, n. A field-gun :
 سڦري توپ - رھڪه
Fiend, n. An implacable foe :
 devil ; an infernal being :
 دشمن چٽي - شيطان - جهنمي
Fiendish, a. Like a fiend ; malignant :
 شيطان سيرت - بدخواه - بروڪينه
Fierce, a. Savage ; ferocious , easily enraged :
 وحشي - خرنظوار - تڪن - غضبي - درنده
Fiery, a. Consisting of fire ; ardent : irritable :
 آتش - پر تنوع - آنشي مزاج - زود رنج
Fife, n. A pipe used as a wind instrument :
 پانسني - مرلي - العزرة

Fifteen, n. Five and ten :
 پندرہ
Fifth, a. Next after the fourth :
 پنچم
Fiftieth, a. The ordinal of fifty :
 پچاسواں
Fifty, a. five times ten :
 پچاس
Fig, n. The fruit of the fig tree :
 * انجیر - گولہ
 Also used as a term of contempt ; as, " I don't care a fig for you " .
 میں تمہاری رتی ہر پروا نہ ہیں کرتا
Fight, v. t. To contend with ; to war against :
 * n. A battle ; an engagement ; combat :
 * In the heat of the—, عین لڑائی میں - ہدالت جنگ
 Syn.—Battle, engagement, combat, struggle.
Figment, n. An invention ; a fiction :
 ایجاد - بناوٹ - ساخت
Figurative, a. Representing by figure ; typical ;
 used in a metaphorical sense ; flowery :
 * مثالی - مجازی - اصطلاحی - رنگین - استعارے والی
 * style, رنگین عبارت
Figure, n. A character denoting a number ;
 Form ; shape ; resemblance :
 * بت - صورت - تصویر - Image * شکل - صورت - شبیہ
 نمونہ - مثال - Type * مرل - دام - قیمت - Price
 * (Gram.) A peculiar expression used for impressiveness, as a metaphor, &c. :
 شان شوکت * To cut a—, * نام - استعارہ - ہدازہ
 بنانا
—, v. t. To form into any shape ; to show by
 a resemblance :
 * To imagine :
 * To indicate by numerals ;
 * To—up, to calculate :
 * شکل بنانا - تشبیہ دینا - شمار کرنا
 ۱۵۳
Filament, n. A slender thread ; a fibre :
 سوت - ریشہ - نس
Filch, v. t. To steal ; to rob ; to pilfer :
 چراننا - ارزالیانا - چھوٹی چوری کرنا
File, n. A collection of papers, arranged for preservation and reference :
 * A wire on which paper are strung :
 * A list :
 * An instrument for reaping :
 * A line of soldiers :
 * love, * فرزندانی - فرزندانه
 * obedience, * محبت فرزندانی - درودانہ اطاعت

Filings, n. (pl.) Particles rubbed off by a file : جرر - برادہ

Fill, v. t. To make full ; to supply abundantly ; to satisfy ; give to drink : - لبریز کرنا - پورا کرنا - پورنا - آوردہ کرنا - سیر کرنا - نقشہ پوری کرنا - انبار دینا * Things that are sweet and fat are more filling, میتھے اور سکیل چیز سے جاد جی بہر جانا ہم

—, **n.** As much as fills or satisfies ; a full supply : * To weep one's—, سیری - بہر بیت
* To eat one's—, بہر کھانا
 —me some wine, * To—in, پلاڑ شراب
* To—out, ڈالنا
 To—up to the brim, لبریز کرنا - مرہا منہ پورنا - لبا لب دینا

Fillet, n. A head band : * Fleshy سر بند - مرہاف
 part of the thigh : * Meat rolled کورشت کی گریا
 together and tied round :

Fillibuster, n. A free booter ; a sea robber : لٹیرا - سمندری ڈاکو

Filly, n. A young mare : بچھڑی

Film, n. A thin skin or pellicle on the eye : جھاپی چلا

Filmy, a. Composed of films : جھاپی دار

Filter, n. A strainer for clearing liquids : - صافی
v. t. To purify by passing through a strainer : * چھنا
v. i. To pass through ; to percolate : * چھنا - رسنا

Filth, n. Foul matter ; dirt ; nastiness : - میرا - گندھی - آلودہ

Filthiness, n. Dirtiness : غلاط

Filthy, a. Dirty ; foul ; polluted : - نجس - غلیظ - میرا

Syn. - Foul, dirty, obscene, impure.

Filtrate, v. t. To strain ; to percolate : - چھانڈنا - تھراننا - صاف کرنا

Filtration, n. Act or process of filtering : چھنڈنی - تھراننی

Fimbriate, v. t. To fringe : چھ لگنا

Fin, n. The wing-like organ of a fish : مچھلی کا بازو یا پیر

Final, a. Conclusive ; ending ; last ; destructive : * قطعی - ناطق - اخیر - مہلک - قاتل
 — cause, مہلک غائی منشا

Syn. - Conclusive, ultimate.

Finally, ad. Lastly ; in conclusion ; completely : آخرش - پس - تمامی - محض

Finance, n. Public revenue ; income : - مانگداری - آمدنی - خزانہ

Financial, a. Pertaining to finance : مانگداری یا آمدنی کے متعلق - خزانہ کا - مانگا

Financier, n. One skilled in financial matters : دیون دار احوال - خزانچی - زرگر یا - پوت دار

Finch, a. A small singing bird : ایک چھڑی گائیوالی چڑیا

Find, v. t. To light upon ; to discover : دریافت
To determine by verdict : * مہیا کرنا
To come upon by seeking : * پانا - تلاش سے پانا
To provide for : * مہیا کرنا - باہم پہنچانا
To—oneself, fault with, * عیب نکالنا - دوش لگانا - ہونا - رہنا - پانا

Finding, n. A discovery ; the verdict of jury : دریافت - کورج - تجویز - فیصلہ

Fine, a. Thin ; delicate ; keen ; nice ; pure ; باریک - تیز - نرک - دقیق - صاف - عمدہ - لطیف - جلا دار - ہونیک
 handsome ; showy : -

n. * عجیب ادبی - طرفہ مہجرت —fellow, * عیب - رماند - مصدرة - انصاف - قصہ کوتاہ - آخر - انجام - آخر - ناراض
Penalty ; forfeiture ; the end : * صاف کرنا - میل چھانڈنا - جرمانہ کرنا
penalty : * صاف کرنا - میل چھانڈنا - جرمانہ کرنا

Fineness, n. Elegance ; delicacy ; purity ; subtlety : خونگی - عمدگی - باریکی - صفائی - پکیرگی

Finery, n. Decoration ; show ; splendour : زیبائش - رونقی - آرایش - کھانا - چھوٹے زیورات

Finesse, n. Subtlety ; artifice : - زبورگی - ظہارت - حاکم - جگت - حریف

Finger, n. One of the 5 terminating members of the hand : * ہانہ کی انگلی - انگشت
To burn one's—, to fall into trouble : * تکلیف میں مبتلا
To have a—in, to be concerned in : * ہونا
To have at one's— * کسی معاملہ میں دخل رکھنا

- ends. To be quite familiar with : خوب یاد
 ہاتھ سے * To let slip through the—s, نہ ٹھہرا
 نکل جانے دینا - کھونا
- Finger, *v. t.* To handle ; to touch lightly : ہونٹا
 * To perform on, or with, the fingers : تھونڈ
 * To pilfer : کھونا * انگلیوں چلانا - بھگانا
- Finical, *a.* Nice in trifles ; fastidious ; foppish :
 نازک - باریک بین - چھیل چکھیا
- Finis, *n.* (*Lat.*) The end ; conclusion : خاتمہ -
 اختتام
- Finish, *v. t.* To complete ; to make perfect : پورا
 * *n.* The last touch to
 a work ; polish ; careful elaboration : صنف کار
 کا کول - نکمیل - جلا - سیقل شستگی - تکمیل پاندریم
 و با احتیاط
- Finished, *a.* Completed ; perfected ; highly
 wrought ; polished : مکمل - مکلف - نہایت شستہ -
 مسل
- Finite, *a.* Limited ; bounded ; terminable :
 محدود - معین
- Finny, *a.* Having wings : پرار (مچھلی)
- Fir, *n.* A tree allied to the pines, valuable as
 timber : صنوبر
- Fire, *n.* Heat and light ; combustion : آگ - شعلہ -
 * *Heat* : روشنی - پرتو - نور - تجلی * *Light* : جلن
 سرگرمی - * *Enthusiasm ; passion* : سرزش - گرمی
 * *To take—*, * *Oil* * شوق
 جلنے لگنا - آگ ہرجانا
- , *v. t.* To set on fire ; to inflame ; to
 irritate ; to discharge : آگ لگانا - سلگانا - غصہ
 * *To—away, to begin* : * *Down* * داغنا
 * *To—up, to fly into a passion* : غصہ سے بھڑک اٹھنا
 * *No smoke without—, to every scandal*
 تانہ برد چیز کے مردم :
 گورنڈ چیز ما
- Fire-arms, *n.* (*pl.*) Guns, muskets, &c. : توپ -
 بندوق وغیرہ - حربہ - آتش انجن
- Firebrand, *n.* A piece of wood kindled : جلتی
 * *One who*
 * *An incendiary* : آتش زن * لکڑی
 قتنہ انگیز
 inflames factions :
- Fire-engine, *n.* A machine for pumping water
 to extinguish fire : آگ بجھانے کی کل
- Fire-fly, *n.* A winged luminous insect : کرم
 شب تاب - چکنر - پٹیچھنا
- Firelock, *n.* A musket : پتھر کا بندوق
- Fireman, *n.* A man who extinguishes fires or
 tends engine fires : انجن میں آگ بجھانے یا چلانے
 والا - حلاصی
- Fire-pan, *n.* A pan for holding fire : آتش دان -
 انٹیٹھی
- Fireside, *n.* The hearth or space about the fire-
 place ; chimney ; home : آگ کے قریب کی جگہ -
 آتش دان - خانہ - کھر - عیال اطلال
- Fire-works, *n.* Preparations of powder for bril-
 liant display : آتش بازی
- Firk, *v. t.* To beat : مارنا - پیٹنا
- Firkin, *n.* A vessel of 9 gallons : ایک پیمانہ ۳۲
 سیر از ۱۰ چھانک کا
- Firm, *a.* Strong ; hard ; solid ; fixed ; steady :
 مضبوط - محض - ٹھوس - مستحکم - مستدل - پائدار
- , *n.* A partnership business : کارخانہ شراکتی -
 مکان تجارت کوٹھی
- Syn.—Concern, house, company.
- Firmament, *n.* The region of the air ; sky or
 heavens : آسمان - فلک - چرخ
- Firmly, *ad.* Strongly ; steadily ; constantly :
 مضبوطی سے - پایداری سے - بالائے انقلاب
- Firmness, *n.* State or quality of being firm ;
 solidity : پایداری - مضبوطی - سنگینی
- First, *a.* Earliest ; foremost ; chief ; eminent or
 exalted : اول - اول - سابق - مقدم - زرا - ازینجا -
 اول تو پہلے In the—place * اعلیٰ تر - بزرگ
- Syn.—Primary, original, chief, principal.
- First-born, *n.* The eldest child : پہلے پیدا ہونے والا
- First-hand, *a.* Obtained direct from the factory :
 * *At—* * کوٹھی یا تجارت گاہ سے سیدھا لایا ہوا - نیا
 فوراً - اسیدقت
- Firstling, *n.* First produce : پہلا بیج - چانور کا
 پہلا بیجہ
- Firstly, *ad.* In the first place : پہلے سے پہلے -
 اولاً - پیدشتو
- Firth, *n.* A narrow passage of the sea ; an
 estuary : کھوڑی - نارا یا مہا
- Fisc, *n.* State treasury ; public revenue : سرکاری
 خزانہ - بیت المال

Fiscal, a. Pertaining to the public treasury or revenue : سرکاری خزانہ یا خراج کے متعلق

Fish, n. An animal that lives in water : - مچھلی - ماہی

—, *v. i.* To try to catch fish : مچھلی کا شکار کرنا *

To—in the air, to try at impossibilities :

To—in troubled waters, to strive against hope : نہ اُمید میں

To have the—to fry, have something else to do : اور کام ہونا

Fisherman, n. One who catches fish : مچھوڑا - ماہی گیری

Fishery, n. The business or place of fishing : ماہی گیری - مچھلی کے شکار کی جگہ

Fish-hook, n. A hook for catching fish : بنسی - مچھلی پکڑنے کا کاٹا

Fishmonger, n. A dealer in fish : ماہی فروش - مچھلی بیچنے والا

Fissile, n. That can be cleft : شگاف پذیر - پھوڑے جانے کے قابل

Fissure, n. A cleft ; a narrow chasm : درز - شگاف - دراز

Fist, n. The human hand clenched : مشت - گھونسا - مٹھی

Fistula, n. A reed : نالی - Pimple : a deep, narrow, chronic abscess : نالی - بھنگندر

Fit, n. A paroxysm ; a convulsion ; a disorder ; a sudden effort or motion ; a passing humour : بیماری کا غلبہ - غش - دورہ - اینٹھون - جوش - چکر - غش - A fainting—, ایک - اچنگ

By—s and starts, marked by sudden impulses : تیز تیز کے - دم لے لے کے

—, *a.* Adapted to an end ; suitable ; sudden impulses : مراضق - لائق - مطابق - بے قرار - اہری - متگورن - جوش میں

Syn.—Suitable, proper, appropriate ; desultory ; whimsical.

—, *v. t.* To suit ; to adapt ; to qualify : ٹھیک

To—into, to adjust : * To—out, to equip : راستہ کرنا

To—up, to furnish : * To—up, to furnish : تیار کرنا

Fit, v. i. To be suitable : مناسب ہونا - زیب دینا

Fitch, n. A kind of pea : شمر کی ایک قسم

Fitness, n. Propriety ; suitability : مابقت - لیاقت

Five, a. One more than four ; half of ten : پانچ - پنج

Five fold, a. Five times as much : پانچ گنا

Fix, v. t. To make firm ; to transfix ; to establish : مصبوط کرنا - گاڑنا - متعین یا مقرر کرنا - باہم کرنا :

To prepare : * To stitch : * To stitch : تیار کرنا

To—a charge, to be—ed on anything, * To—one's habitation, * To—

گوار کرنا - جو پورا، سکونت اختیار کرنا

Syn.—Arrange, adjust, place, settle.

Fix, n. A difficulty : مشکل - دقت - حیرانی

To be in a fix, * To be in a fix, مشکل میں پڑنا

Fixation, n. Act of fixing ; stability ; firmness : استحكام - پایداری - مصبوطی

Fixity, n. Permanence ; stability : پایداری - استقامت - قیام

Fixture, n. Any article fixed to a house, &c. : کوئی چیز جو کسی مکان میں جوڑ دی جائے

Flabby, a. Soft ; loose ; easily shaking : پلپلا - ڈھیلے - پھچپھچا - لچیلے

Flaccid, a. Flabby ; easily yielding ; soft and weak : پلپلا - ملائم - پرلا - ڈھیلے - نرم - کمزور

Flag, v. i. To grow spiritless ; to lose vigour : پژمردہ ہونا - ضعیف ہونا - تھل تھل کرنا

Syn.—Droop, decline, pine, fail, languish.

Flag, n. A flat stone used for paving : پتیا - رنگ

An aquatic plant : * Colours or an ensign : نشان * To hang the flag half-mast high, * To strike or lower the—, چھتا چھکنا

Syn.—Banner, pennon.

Flageolet, n. A small wooden flute : الفوجہ

Flagitious, a. Extremely wicked ; guilty of enormous crimes : بدذات - زبون - شریو - مردود

Flagon, n. A vessel with a narrow mouth for holding liquors : جویجر - قرابہ - صراحی

Flagrancy, n. Notoriousness ; enormity : بدذاتی - عمارت - زبونی

Flagrant, a. Burning; glowing; ardent; notorious : سوزان - طاہر - سرگرم - مشہور

Syn.—Atrocious, glaring, flagitious.

Flagstone, n. A large paving stone : فرش بندی کا بڑا پتھر

Flail, n. An instrument for threshing grain : خرمن کوب - ایک حربہ جنگ

Flake, n. A scale; a thin stratum; flock : پرت - طبق - پہل - کالا - پھاہا

Flambeau, n. A lighted torch : مشعل - نلیتہ

Flame, n. Light emitted from fire; a blaze; ardour; love; object of love : شعلہ - آو - شعلہ - آو * v. i. * سرگرمی - داسروزی - عشق - عشوق - پیدارا - سنم To blaze; to be enkindled; to break out in passion : شعلہ اڑھونا - دھدھکنا - مہکنا - بھڑک اٹھنا : ملیش مزین آنا - جوش میں ہونا

Flamingo, n. A flame-coloured genus of birds : ایک قسم کی سرخ چڑیا - لال لٹانگر

Flange, n. A projecting edge or rim on a wheel to keep it on the rails : پہننے کی نر طرف کی بازو ہو ہونا - پہلو پر ہونے - بغلی ہونے **n.** Side of the body or of an army or fleet : بغل - بازو لشکر یا بیڑا - پہلو

Flank, v. t. To pass round the side of; to attack : بازو پر ہونا - پہلو پر ہونے - بغلی ہونے

Flannel, n. A woollen cloth : فلائین - ایک قسم کا اونی کپڑا

Flap, n. Anything that hangs broad and loose : The motion of it or the noise made by it : * Flap * پھٹکار - پھڑپھڑاہٹ * Flap jack, * پڑ - روپی

—, v. t. To ply the wings with noise : پر جھارتنا یا پھڑپھڑانا

Flare, v. i. To glitter with transient lustre : لو - دمک - چمک **n.** An unsteady, broad, offensive light : چمکنا

Flash, n. A sudden blaze; a sudden burst of light : * v. i. * To glitter with a quick and transient flame; to burst out into flames : کوندنا - دمکنا - چمکنا - بھڑکنا - اک لک اٹھنا

Flashy, a. Dazzling; showy; tasteless : چمکیلا - بھڑکیلا - نمائشی - بے مزہ - اڑا ہوا

Flask, n. A bottle; a vessel; a powder horn : کبا - صراحی - شیشہ - سینکرا

Flat, a. Level; even; without elevation : ہوار - * Fal - * چمکنا : * Smooth * چورس - برابر - زمین درز * Cast * کھٹا - صاف : * Downright * گرا ہوا : * Not sharp; dull : * Low * دھیمہ : * Insidid * بے مزہ - بے اثر ہونا : * To fall * لطف

—, n. An extended plain : * A shoal * میدان : * A mark of depression in music : * A floor in a building :

Flatly, ad. Horizontally; peremptorily : * صاف صاف - درتوتی

Flatness, n. Evenness; dulness; insipidity : * ہمواری - سستی - بے مزگی - بے لذتی - سینٹھا پن

Flatten, v. t. or i. To make or grow flat; to depress; to render stale : * ہموار کرنا - چپٹہ کرنا یا : * ہونا - دبنا - انسدہ کرنا - پڑ مردہ کرنا - سست کرنا - پاسی کرنا - بے مزہ کرنا

Flatter, v. t. To soothe with praises; to praise falsely : خوشامد کرنا - چاپاروسی کرنا - پہلانا

Flatterer, n. One who flatters : خوشامدی - چاپاروس - دمباز

Flattery, n. False praise : خوشامد - چاپاروسی - پتو - میٹھی باتیں

Flatulence, Flatulency, n. Windiness in the stomach : نفخ - ہڈی - ریح

Flatulent, a. Windy; puffy; empty : بادبی سے پھولا ہوا - نفخ - خالی

Flaunt, v. i. Flutter; to display ostentatiously; to carry a pert or saucy appearance : پھڑپھڑانا - اکرتنا - اٹھتہ کرچلنا - بوری دکھلانا - نمائش * One flaunts in rags, one flutters in brocade : کڑھی گڈڑی میں مسست کڑھی دوشلے میں مسست

Flavour, n. Relish; taste; odour : مزہ - ذائقہ - خوشبو

Syn.—Smell, odour, fragrance, taste.

Flavour, v. t. To give taste or odour : مزہ دار بنانا - خوشبو دار کرنا - معطر کرنا

Flaw, n. A crack; a blemish; a defect; a fault : دراز - شگاف - شق - عیب - نقص - قصور

Syn.—Break, crack, cleft, rent, blemish.

Flawless, a. Free from crack or defect : - بے درز بے بے عیب

Flawy, a. Full of flaws or cracks ; defective : شکاندار - ناقص

Flax, n. Plant of which linen is made : سن کا پیڑ - سن - کتان

Flaxen, a. Made of flax ; like flax : سن کا بنا ہوا - سن سا

Flay, v. t. To strip off the skin : - کھال کھینچنا - چمڑا اوتارنا

Flea, n. An insect : * A mere—bite, a trivial pain : * چند لمحوں کی تکلیف : ناگوار اشارہ یا : * ٹاکمیاپ ہونے : * To have a—in the air, جراب پر ہنسی اڑانا - تالی پٹوانا

Fleam, n. An instrument for opening veins ; a lancet : نشتر

Fleck, n. A spot ; streak ; speckle : - دھبہ - لکیر - داغ - چمٹی

Flecker, v. t. To spot ; to streak : داغدار کرنا - دھاری ڈالنا

Fledge, v. t. To furnish with wings or feathers : پر دار کرنا - اورتے کے لایت کرنا - سبزہ لانا

Fledgeling, n. A young bird just fledged : پتھا - بیچہ

Flee, v. i. To shun or avoid : گریز - بھاگنا * **v. i.** To run away ; to escape : بھاگنا - چل دینا

Fleece, n. The wool shorn from a sheep : بھینز کٹنا - * **v. t.** To strip or plunder : * کا اون - پشم مروتنا - لوٹنا

Fleecy, a. Covered with wool : پشم دار - اونھی

Fleer, v. t. To gibe ; to mock ; to deride : منہ مچھانا - ہنسی کرنا - تھٹھا کرنا

Fleet, n. A number of ships in company : جہازوں کا بیڑا * **marriage** : * مہکمہ بصر : * A navy : * کا بیڑا گاندھور بواہ

—, a. Swift in motion ; nimble : - تیز رو - ہادیا - چالاک - جلد باز

—, v. t. To fly swiftly : تیزی سے اورتا - جلد گذر جانا

Fleeting, a. Passing rapidly ; transient : رواں - عارضی - بے بھا

Syn.—Transient, transitory.

Fleetness, n. Swiftness ; speed : تیز روی - جلد بازی - رفتاری

Fleg, v. t. To affright : ڈرانا - دھشت دلانا

Flesh, n. The muscular part of an animal body ; animal food ; human nature ; mankind ; carnality : جسم - بدن - گوشت - انسانیت - بنی آدم - and — * انسان - خوراکش نفسانی یا حیوانی - نفس امارہ بشریت - آدمیت - جسم - انسان

Flesh-monger, n. One who deals in flesh : قصاب - قصابی - گوشت بیچنے والا

Fleshy, a. Full of flesh ; corpulent ; plump : جسم - پر گوشت - تر بے - مرٹا

Fletcher, n. A maker of bows and arrows : تیر و تمان بنانے والا

Flex, v. t. To bend : خم کرنا - مروتنا - لچکانا

Flexibility, n. The quality of being easily bent ; pliability : لچلچھات - ملاہیت - نرمی

Flexible, a. Pliant ; manageable ; not stiff : لچیلے - جھکنے کے قابل - ملاہم - نرم

Syn.—Tractable, yielding.

Flexure, n. A bending to one side ; bend or crevice ; a bow ; joint : ایک طرف جھکاو - خمی - بانک - نیچی - کورنش - فراشی سلام - لچک - مورت - خم

Flicker, v. i. To flutter ; to blaze fitfully ; to fluctuate : پھٹ پھٹانا - ٹمٹماتا - تملانا - لہرانا

Syn.—Flutter, fluctuate, waver.

Flight, n. Fleeing : * **Flying** : * پرواز * **Removal** : * نقل مکان

Flock of birds : * پرندوں کا * **Sally** : * زمینہ * **Set of stairs** : * جھنک - غول - پرواز * **Wandering** : * گشت * **Volley** : * سیر * **Height of imagination** : * ترنگ * **—of steps** : * خیال کی بلند پروازی * **—of fancy** : * سیزہیں

Flightiness, n. Capricious feeling : بیقراری - بے خودی - دھم

Syn.—Levity, giddiness, volatability.

Flighty, n. Transitory ; indulging in wild sallies of imagination ; giddy-headed ; eccentric ; swift in its flight : - چیل - ناپایدار - لہری - بیک مزاج - بکر چالیا - تیز پرواز - چنچل - دھمی

Flimsy, a. Thin ; weak ; feeble ; unsubstantial : پتلا - کمزور - ہردا - ناپایدار - جھانی - چھرا

Flinch, v. i. To draw back ; to shrink : - ہٹنا - چھوٹنا - چھوٹنا - کھینچنا - ڈر سے ہٹنا

Fling, v. t. To cast ; to hurl ; to throw : - پھینکا
 چھینکنا * To—open a door,
 چھٹک چھٹک * To—out, اچانک یا زور سے کھول دینا
 * To—down, ممت دینا - دے ڈالنا * To—in, مسوار کرنا

—, v. i. To act in a violent and irregular
 manner ; wince ; sneer : - ٹنگنا - هلنا - دولتی چلانا -
 طعنہ دینا - بولی مارنا

—, n. A throw or cast ; a gibe ; a sneer :
 پھینک - انداخت - بولی تھری - آوازہ کشی - طعنہ

Flint, n. A hard stone : پتھری - چقماق

Flinty, a. Made of flint ; hard : - چقماق کا بنا ہوا -
 سخت

Flip, n. A drink made of beer and spirits : شراب
 کا شربت

Flip-flap, ad. پھوپھو - ٹھپ ٹھپ

Flippancy, n. Talkativeness ; petness : - طراپی
 چرب زبانی - لسانی - بے امتیازی

Flippant, a. Nimble of speech ; talkative ; pert :
 چرب زبان - طرار - شوخی - بکی - بکواسی

Flirt, v. t. To throw with a jerk or quick effort ;

to toss about : - پھینکنا - جھکا دینا - اڑھانا - ہلانا

v. i. To coquet : - چرچلے کرنا - ناز و نضرہ کرنا

n. A sudden jerk ; a jeer : * بازی کرنا - ادا دکھانا

عشرہ گری یا نضرہ باز : * A pert girl ; a coquette : * جھٹکا

عورت - عیار - چلبلی

Flirtation, n. Act of flirting ; coquetry : - چٹپٹ
 ناز - نضرہ - اچھلاہٹ

Flit, v. i. To fly away ; to move ; to flutter :

اڑ جانا - چلنے سے گذر جانا - نقل مکان کرنا - پھت پھٹنا

Flitch, n. The side of a hog salted and cured :

سور کے پھار کا نمکین گوشٹ

Flitting, n. A fluttering ; a removal from one

house to another : پرواز - اڑان - نقل مکان

Float, v. i. To be borne on the water ; to move

lightly : * تیرنا - پانی کے اوپر رہنا - چلنا

تیرنے والی : Something that swims ; a raft : چیز - بیڑا

Floatage, n. Anything that floats on the water :

وہ چیز جو پانی پر تیرے

Floating-bridge, n. A bridge formed of beams

of timber or boats : بلبروں کا پل

Floating-capital, n. Capital employed in busi-
 ness, but of uncertain amount free to be used
 as occasion requires : پر نسی جو ہر وقت استعمال
 میں آسکے

Floating-debt, n. Debt not funded : قرض جو ادا
 نہیں ہوا

Flock, n. A company of birds, sheep, or beast ;
 a lock of wool : * غول - جینت - گلہ - اون کی جٹا
 دیواروں پر چپکاتے کی چھینٹیں یا اُڑی وغیرہ
 —paper,

—, v. i. To gather in a crowd ; to assemble :
 ہجوم ہونا - جمع ہونا - اکٹھا ہونا

Floe, n. A large mass of floating ice in the
 ocean : سمندر میں برف کا بہتا ہوا ٹودہ

Flog, v. t. To strike with rod ; to whip ; to
 lash : تازیانہ مارنا - روزه پھانکارنا - بید مارنا

Flogging, n. A whipping ; castigation : کڑے
 کی مار - سزای تازیانہ

Flood, n. A great overflow of water ; the flow-
 ing in of the tide ; a great quantity ; a great
 body or stream of any fluid substance : - طغیانی -

سیلاب - بارہ - جوار - چڑھار - کثرت - ریل پیل -

v. t. To inundate : * افراط - دریا - ندی - نالا - در

سیلاب زدہ کرنا - غرق کرنا - طوفان آنا

Flood-gate, n. A gate for regulating the flow
 of water : پانی کے نکاس کا پھانک

Flood-mark, n. A high water mark : وہ نشان
 جہاں تک کہ جال بڑھ کر پہنچے

Floor, n. The bottom of room ; a story : فرش -
 سطح - گچ

Floor, v. i. To cover with floor : فرش بنانا - گچ
 دے مارنا : * To lay level with the floor : شکت
 کرنا

Floor-cloth, n. An oil-cloth for the floor :
 فرش - جاجم

Flop, v. t. To clap or strike the wings : باز
 پھپھٹانا - پھوپھوڑانا

Flora, n. The goddess of flowers : * پھول دیوی
 The plants belonging to a country and their
 description : کسی ملک کے اقسام نباتات اور انکا

بیان

Floral, a. Pertaining to flowers : گل سے منسوب - پھولوں کا

Florescence, n. The season of flowering in plants ; a bursting into flower : پھولنے کا موسم - بہار پر آنا

Floret, n. A small flower : چھوٹا پھول - گلچہ

Floriculture, n. The culture of flowers : پھولوں کا چمن لگانا - چمن سازی - باغبانی - پھولوں کی زراعت

Florid, a. Flowery ; red ; highly decorated : گلزار - گلگام - سرخ - آراستہ - چمکدار

Floriferous, a. Producing or bearing flowers : پھولدار - گلدار

Florin, v. An English silver coin worth 2s. : ایک انگریزی چاندی کا سکہ ہوا پر ایک روپیہ کے

Floss, n. The down on the husks of plants : کچا بال - بگڑ - ریشم

Florist, n. One who cultivates flowers : باغبان

Flotation, n. Act of floating ; science of floating bodies : بہاؤ - روانی - تیرنے والی چیزوں کا علم

Flotilla, n. A small fleet ; a fleet of small vessels : جہازوں کا چھوٹا بیڑا - چھوٹے جہازوں کا بیڑا

Flotsam, n. Goods lost by shipwreck and found floating on the sea : ٹوٹے جہاز کا بہتا مال و اسباب

Founce, n. A loose ruffle or flap, around the skirt of a lady's dress ; an impatient gesture : *v. t.* To deck with founce : *v. i.* To struggle violently : *v. t.* To struggle with violent and irregular motion ; to tumble about : *v. t.* To struggle with violent and irregular motion : ہاتھ پائوں مارنا - تڑپنا - چھوٹپٹانا

Flounder, n. A small flat sea-fish : ایک قسم کی ہاتھ پائوں مارنا - تڑپنا - چھوٹپٹانا

Flour, n. The edible part of ground corn : آٹا *v. t.* To grind into flour ; to pulverize : آٹا پیسنا - میدا بنانا - سفوف بنانا

Flourish, v. t. or i. To thrive ; to prosper ; to embellish ; to brag ; to make ornamental strokes with pen : مزہب ہونا - اقبالند ہونا - زینت دینا - آراستہ کرنا - شیخی کرنا - لکھنے میں نقش و

n. A fanciful stroke of the pen or graver ; showy ; display ; embellishment : قلم کے کندہ کاری کے نقش و نگار - آرایش - زینت

Flout, v. t. To mock or insult ; to sneer at : چھڑنا - اہانت کرنا - آواز کسنا - طعنہ دینا

Flow, v. i. To run as water ; to rise ; to melt ; to glide smoothly : بہنا - چڑھنا - جوار آنا *n.* The rise of water ; a stream ; abundance : سیلاب - جوار - چڑھاؤ - دھار - انراط - کرت

Flower, n. The blossom of a plant ; the prime or basis of anything ; a figure of speech : پھول - کنی - عمدہ چیز - جوانی - عروج - بہار - صنعت - *The — of life, The — of youth, v. i.* To blossom forth ; to flourish : پھولنا - کھلنا - بہار پر آنا *v. t.* To adorn with figures : گل کاری - کرتا - کشیدہ لکنا - دیل بوٹے کاڑھنا

Flowery, a. Full of flowers ; highly ornamented : گلدار - رنگین

Fluctuate, v. t. To waver ; to be unsteady ; to rise and fall : لہرنا - بے قرار ہونا - کم بیش ہونا - گھٹنا بڑھنا

Syn.--Waver, vacillate, hesitate, scruple.

Fluctuation, n. Vacillation ; uncertainty ; unsteadiness : بے ثباتی - بے قراری - کمی بیشی - نشیب و فراز

Flue, n. A passage for smoke : دھواڑا - درگوش - *n.* Fur or hair : مبرور

Fluency, n. Facility of utterance ; command of language ; ready ; facility of expression ; copiousness : روانی - زبان آوری - طزاری فصاحت - لسانی - طاقت گویائی - چرب زبانی - زبان آوری - طزاری

Fluent, a. Liquid ; flowing ; voluble : جاری - لسان - نصیح

Fluently, ad Volubly : فصاحت سے - صاف

Fluff, n. Very light down : لائٹ - رول

Fluid, n. Anything that flows readily ; a liquid substance : عرق - پانی - رس

Fluidity, n. The quality flowing readily : بہاؤ - رفت - ہلکاپن

Fluke, n. The part of an anchor which fastens in the ground: لنگر کا وہ حصہ جو زمین میں گڑ
ایک قسم کی چپٹی * A small flat fish: چاتا ہے

Flume, n. The water which drives a mill; channel for water: پانی کے پھلے کو چلاتا ہے -
پانی کی موری یا راستہ

Flummery, n. A kind of jelly: لپسی - فالودہ -
Empty talk or compliment: * نمش - ظہیری
flattery: فضول بات - خراش آمد - چاپلوسی - بے لطف
د بے مغز تحریر یا تقریر

Fluminous, a. Abounding with rivers: دریاؤں کا
نکرت سے ہونا

Flunky, n. A livery servant; lackey; a mean-spirited fellow: -
چپراسی - پیادہ - خدمتگار -
کمینہ شخص - مرگا - خراش مدی - تلو - قدمپوس

Flurry, n. A sudden blast; violent agitation; commotion:
چھوڑکا - ہڑتائی - گھبرائت

Flush, v. i. To redden suddenly; to glow; to elate; to flow and spread suddenly: یکایک
سرخ ہو جانا - باغ وغیرہ فر جانا - چہرہ تمنا - پھیلنا -
* v. t. To redden suddenly; to strike the spirits of; to cause to start, as a hunter, a bird; to wash or cleanse with water: لال یا سرخ کر دینا - خوش کرنا - باغ باغ کرنا - شکار چگانا
* a. Fresh; * یا چکانا - دھونا - پانی سے پاک صاف کرنا
* n. A flow of شگفتگی چہرہ - گزرتی - لیدگی -
vigor: تاش کا رنگ * A suit at card: دمک - جیش

Fluster, v. t. To make hot and rosy: -
سرخ کرنا * To confuse: مدہوش کرنا - مست کرنا
مضطرب کرنا

Flute, n. A musical pipe: بانسلی - مری - نے

Flutter, v. i. To flap the wings rapidly: پر جھارتا
* v. t. To agitate; to throw into confusion: بے قرار کرنا - گھبرا دینا - مضطرب کرنا
* n. Rapid motion; hurry; confusion: پھرتی پھرتی - اضطراب - گھبرائت - بیقراری

Syn.—Confusion, agitation, disorder.

Fluvial, a. Pertaining to rivers: متعلق دریا -
دریائی

Flux, n. A flowing; looseness; a flow of matter; quick succession: -
سیلان - بہاؤ - جریوں -

جزر * and reflux of the sea, ریزش
پگھلانا - * v. t. To melt or fuse: مدد جزر
کھلانا - کانا

Fluxibles, a. Capable of being melted: کھلنے کے
قابل

Fluxion, n. Act of flowing; matter that flows:
بہاؤ - روانی - جاری مادہ

Fly, v. t. To move with wings: پرواز کرنا - اڑنا -
To pass swiftly: * چلنے سے گذر جانا
To escape: ترک
* To quit: * گریز کرنا
* To shun: * بھاگ جانا
* To—at, to rush on; to fall on suddenly: * کرنا
* To—in the face of, to act in direct opposition: کسیکے
بالکل خلاف کام
* To—in the face of, to insult; to oppose:
* To—off at a tangent, to turn aside: * کرنا
* To—open, to open suddenly: * پھولنا -
تجاویز کرنا
* To let—, to discharge: چلانا
* To come off with—ing colours, سر کرنا -
نقص مند ہونا
* To—in the face of, to insult; to oppose:
* n. A small two-winged insect; a light carriage; a hook; that part of a vane which points out the direction of the wind: مگس - مکھی -
ڈانس - ہلکی گاڑی - انکڑا - کانٹا - جھنڈی کا کپڑا -
گلدوا * —of a tent, پھیرا

Flyblow, n. The egg of a fly: بیضہ مگس - مکھی
کا اڈا

Flyblown, a. Tainted with flyblows; sullied:
جسمین مکھی کے اڈے پڑ گئے ہوں - قدرے سڑا - آلودہ -
گندہ

Flying-fox, n. The bat: چمگادڑ

Flying-leaf, n. A blank leaf at the beginning or end of a book: کتاب کے شروع یا آخر میں سادہ
ورق

Foal, n. The young of a mare or she-ass: گھوڑی
* v. t. To bring forth a colt or filly: * یا گدھی کا بیچہ - بچھیرا -
بچھیرا یا بچھیری بیانا

Foam, n. Froth; spume: کف - جھاگ -
Rage: * v. t. To froth; to be in a rage:
پھین یا کف لانا - برہم ہونا

Foamy, a. Covered with foam: جھاگ دار - کف دار

Fob, n. A small pocket for a watch : گھڑی کی
 نریب دینا - ٹھکانا - دغا کرنا - *v. t.* To cheat :
 آنکھوں میں دھول ڈالنا

Focal, a. Belonging to a focus : مرکز شعاع کے
 متعلق

Focillation, n. Comfort : دم دلاسا - تسلی

Focus, n. (pl. Foci, Focuses). The point of
 convergence of rays : مرکز شعاع

Fodder, n. Food for cattle : نیار - بھوسا -
v. t. To feed as cattle : چرانا

Foe, n. An enemy ; an adversary : دشمن - حریف -
 عدو - متخاف - بیرونی - غنیم - بدخواہ

Syn.—Enemy, adversary, ill-wisher.

Fog, n. A thick mist ; a dense vapour : کورھاسا -
 کورھرا

Foggy, a. Misty ; cloudy ; obscure : کورھ کا -
 کورھدار - دھندلا

Fogy, n. A dull old fellow ; an old-fashioned
 person : سست ضعیف شخص - پرانے خیالات کا آدمی

Foh, int. A term expressive of contempt or
 dislike : چھی چھی - نف

Foible, n. A moral weakness ; a frailty ; a
 fault : نقص - خطا - قصور - کھوت

Syn.—Fault, imperfection, weakness, defect.

Foil, v. t. To defeat ; to frustrate ; to blunt :
 شکست دینا - باطل کرنا - خراب کرنا - رد کرنا - کند

Folly, n. A defeat : ہار - شکست - *n.* A thin leaf
 of metal : کند تکرار

Foin, n. A thrust : *v. t.* To push ; to thrust :
 کھونچنا دینا - دھکیلنا - بھونکنا

Foison, n. Abundance ; plenty ; rich harvest :
 بہتایت - کثرت - فصل مالا مال

Foist, a. To insert wrongfully ; to interpolate ;
 to pass off as genuine : ملا دینا - آمیزش کرنا -
 -انٹنا - الحاق کرنا - اصلی کر کے گئے مڑھنا

Fold, n. A pen for sheep ; a doubling ; a plait ;
 بھیتری خانہ - بازہ - گلہ - تہ -

Fold, v. t. To double over ; to wrap ; to embrace ;
 to confine in a fold ;

Fold, v. t. To double over ; to wrap ; to embrace ;
 دوہراننا - تہہ کرنا - لپیٹنا - بغلیگر کرنا - بازے میں

ہاتھ جوڑ کر **With—ed hands,** بند کرنا

Folder, n. An instrument to fold paper : کاغذ کے
 تہہ کرنے کا آؤرار

Foliaceous, a. Leafy ; like a leaf : برگ دار -
 ورق سا

Foliage, n. Leaves of trees : پتیاں - برگ

Foliation, n. The leafing of plants : برگ داری
 The act of beating metals into thin plates :
 ورق سازی

Folio, n. A book of two leaves to a sheet ; a
 page : ایک تختہ کے دو ورق - ورق یا صفحہ

Folk, n. People in general : انھنص - مردمان -
 لوگ

Folk-lore, n. Popular tradition ; rural tales :
 کہارت - روایت گھریار - کہانیاں - گنوار و مسلہ

Follow, v. t. To go or come after : پیچھے جانا -
 پیروی

To obey : پیچھا کرنا - رگیدنا :
To imitate : تقلید کرنا -
To practise : چانشین ہونا :
To succeed : عمل کرنا

To result from : *مشق کرنا - عمل کرنا
As—s, Away : I will—*instantly,*

چار میں ابھی آتا ہوں

Follower, n. One who follows ; a disciple ; an
 attendant : پیرو - شاگرد - مرید - تابعدار - ملازم -
 حالی مرالی - ہمراہکار

Syn.—Imitator, disciple, adherent, attendant.

Following, a. Being next after ; succeeding :
 دوسرا - ذیل کا

Folly, n. Weakness of intellect ; foolish con-
 duct : *اہلیہ - بیوقوفی - حماقت - نادانی کا کام

مصغری کرنے کا عادی :
 —fallen, given to fooling :

Foment, v. t. To bathe with warm lotions : گرم
To encourage ; to abet : * پرنپی سے دھونا - سیکنا

To— **dissension,** given to fooling :
 * بھرت ڈالنا - جھگڑا یا لڑائی کروانا
To—mischief, نساد اٹھانا

Fomentation, n. A bathing with warm lotions :
 توغیب - تھریک : **Instigation :** * گرم پانی کی سینک

Fond, a. Foolish ; silly ; loving : بدتوف -
 نادان - شایق - نریقتہ - مانگ

Fondle, v. t. To treat with tenderness ; to
 caress : نازبوداری کرنا - پچکارنا - پیار کرنا -
 سہلانا

Fondling, n. Person or thing caressed : پت :
 پیارا - دلارا - عزیز

Fondness, n. Partiality; affection; inclination; relish : اشتیاق - پیار - رغبت - شوق

Font, n. A baptismal vessel; (*Print.*) a fountain; a fount or assortment of printing types of one size : پانی کا بونٹن جو اصطلاح دیتے وقت کام آتا ہے - چشمہ - سرتا - منبع - (*Print.*) ایک سائپ کے چھاپے کے حروف معہ اوزام

Food, n. Anything that nourishes; victuals; provision : خوراک - خورشر - چاروا - and raiment, کھانا کپڑا ذان و نقعہ - کھانا کپڑا
Syn.—Sustenance, provision, alimant.

Fool, n. One destitute of reason; an idiot : A jester : مسخرہ - بیوقوف - احمق - گاردی : And fools rush in where angels fear to tread, ہاتھی گھورتے بے خبروں - گدھا بوجھے
To put the—on, احمق بنانا - بے وقوف سمجھنا
v. t. To make a fool of; to cheat : ذلیل یا خفیف کرنا * To make a—of, to cause to appear ridiculous : ضایع
To—away, to waste or spend foolishly : کسی کا روپیہ ٹھک لینا
To—one out of his money, حماقت

Foolery, n. Acts of folly; absurdity : بیوقوفی - نادانی

Foolhardy, a. Foolishly bold; reckless; rash : ارجحہ - اکھڑ - بیہیا - بے وقوف بہادر

Foolish, a. Void of understanding; silly : بھولا - بیوقوف - بے معنی - لغو

Foolishly, ad. Absurdly : حماقت سے - بیوقوفی سے

Foolscap, n. A kind of paper of a small regular size : ایک چھوٹے تختہ کا کاغذ - فاس کیپ

Foot, n. The part of leg below the ankle : قدم - Lowest part or foundation; basis : دارۃ النجیہ کی : 12 inches * نیچا - تالہمی - بنا - جز * **Infantry :** * **By—, On—, walking :** * **To set on—, to originate ; to begin :** * **To put one's best—foremost,** to adopt all the means at command : A square—, a square whose side is one foot : * **To be on—, چل نکلنا** * **To set on—, گاڑی کا** * **iron—, مرزہ چوٹی بوٹ** * **gear—, جارے کرنا**

مستقل ارادہ * **To put one's—down** کسی بات پر قائم ہوجانا یا جم کر کھڑا ہونا * **To set one on his—, کسی کو پیروں پر کھڑا کر دینا** - مدد کر دینا کہ پھر اپنا کام چلانے لگے

Football, n. An inflated ball kicked about in sport; the game itself : پاؤں سے کھیلنے کا کینڈ - کھیل جسمیں کینڈ کر لات سے مارتے ہیں

Foot-boy, n. An attendant in livery : ہرکارہ

Footman, n. A soldier who marches and fights on foot; a servant in livery : پیادہ - ہرکارہ

Footnote, n. A note of reference at the bottom of the page : حاشیہ - ٹیکا

Footpad, n. A highwayman that robs on foot : راکہ زن - ٹھک - بت مار - ڈاکو

Footpath, n. A way for foot passengers : پگ - ڈنڈی

Footprint, n. Impression of the foot; visible; evident : قدم کا نقش - پیر کا نشان - ظاہرۃ ثبوت

Footstep, n. Mark of the foot; track; example : نقش پا - علامت - نمونہ - ڈھرا

Footstool, n. A stool for the feet : پاؤں کی چوکی - مرتعہ - مچھیا - پیڑھی

Fop, n. A vain man fond of dress; a coxcomb : بانکا - چھیل چکنیا - اہیلا

Syn.—Dandy, beau.

Foppery, n. Foolish vanity in dress or manners; coxcombr; folly : خورد نمائی - اہیلا پن - چھیل پن - ڈانک پن - خورد بینی

Foppish, a. Vain of dress; ostentatious : رنگیلا - نمائشی - پر تکلف

For, prep. or conj. In the place of; instead of; with regard to; because of; in favour of; towards; in exchange; as being; in spite of; during; واسطے - بجائے - بابت - بوجہ - بخاطر - طرف کو - پلٹے * **میں - بمنزلے - باوجودیکہ - واسطے - لئے - تک** * **—all the world, in every respect :** * **—ever, eternally :** * **ازانکہ - چونکہ - چراکہ :** * **—instance, by way of example :** * **—the most part, generally, mostly :** * **نفع نظر اسکے - اگر یہہ نہیں** * **Were it not—, سو**

Forage, n. Food for horses and cattle ; provisions : چارہ - دانہ

Foray, n. A pillaging excursion ; a raid : لوت کا دھارا - حملہ - یورش

Forbear, v. t. To refrain ; to cease ; to delay ; to decline ; to restrain one's self under provocation : باز رہنا - تحمل کرنا - توقف کرنا - انکار
* کرنا - اپنے کو زیرِ اشتعال ضبط کرنا - غصہ ہی جانا
v. t. To abstain from ; to bear with : -
بچھا رہنا - درگزر کرنا - برداشت کرنا

Forbearance, n. Command of temper ; long-suffering ; mildness : برداشت - تحمل - صبر - حلم

Forbid, v. t. To prohibit ; to oppose ; to hinder : خدا تک کرے - مزاحمت کرنا - روکنا

Forbidding, a. Disagreeable ; repulsive : - ناگوار
زیست رز - A—countenance, * زیست - مکررہ
کریہ منظر

Force, n. Strength ; active power : طاقت - قوت -
تشدد - ظلم - ستم - Violence : * زور - میدا حرکت
* pl. Armament : * توشیحہ : * Efficacy : * زور دستی
* تلبے ہونے زور s in equilibrium, * اشکر - فرج
In—, کچھہ ہرورہ, * No—, جاری - ذوق - مجاریہ
* Of—, خوارہ مشورہ, * نہیں

—, **v. t.** To compel ; to constrain ; to urge ; to impel : -
دباننا - مجبور کرنا - زبردستی کرنا -
* بے عزت کرنا : * To ravish : * تک کرنا - قہقہیلنا
—per—, * To—upon one, * مجبوراً - چار ناچار,
* Forced labour, * گلے مرہنا

Forceps, n. A surgeon's tongs, plucers, &c :
جراحی - چمٹی - دست پناہ وغیرہ

Forcible, a. Strong ; powerful ; violent ; efficacious : مضبوط - قوی - مجبور - جاہلانہ - موثر

Ford, n. A shallow part of a river ; a stream :
* v. t. To pass without swimming ; to wade through :
پایاب : * پایاب گھات - ہلا - نالا - دھارا
اوتر جانا - مجھنا

Fordable, a. Passable without swimming :
پایاب - ممکن اگزر

Fore, a. Anterior ; not behind ; before ; advanced in time :
اول - اول - پہلا - مقدم

Forearm, n. The part of the arm between elbow and wrist : کٹائی - پہرہنچے سے کرہنی تک
* v. t. To arm beforehand ; to prepare for

attack : پہلے سے حملہ کے لئے
* ہتھیار و مسلح کر دینا

Forebode, v. i. To foretell ; to prognosticate :
پیشین گوئی کرنا - پہلے سے معلوم کرنا - پیش بینی کرنا
Syn.—Foretell, predict, portend.

Forecast, v. t. To contrive beforehand ; to provide against : -
پیش بندی کرنا - تدبیر کرنا -
* n. Contrivance beforehand ; foresight :
پیش بینی - دراندیشی

Forecastle, n. The forepart of a ship :
جہاز کا :
اول حصہ - اگرازا

Foreclose, v. t. To shut up ; to preclude ; to prevent :
* بند کرنا - باز رکھنا - روکنا
— a mortgage, عدالت کے حکم سے بیع قطعی کرنا

Foreclosure, n. Act of precluding : - امتناع
ممانعت - مسابوہی حق انہکاک

Foredate, v. t. To date before the true time :
پہلے کی تاریخ ڈالنا

Foredoom, v. t. To doom beforehand :
پیشتر سے مقرر کرنا

Forefather, n. Ancestor :
* آبا - اجداد - بزرگ - مورث - جد

Fore-finger, n. The finger next the thumb :
انگشت شہادت - سیاہہ - تریچنی

Forego, v. t. To quit ; to give up : -
چھوڑنا - ترک کرنا - ہتھ دھو بیٹھونا

Forehand, a. Anticipative ; premature :
مناسب
* A—shaft, * وقت سے پہلے کا - پیش از وقت کا
جو نشانے کے بیچ رہیج لگانے کے لئے رکھا ہو

Forehead, n. The upper part of the face :
پیشانی - ماتھا - جبین

Foreign, a. Belonging to another country :
* Remote ; extraneous :
* غیر وطنی - غیر ملکی :
* بیعد - غیر - بے علاقہ -
* not to the purpose : خارج

Foreigner, n. One born in a foreign country ; an alien :
اجنبی - پردیسی - بدیسی

Forejudge, v. t. To judge beforehand :
پیشتر سے ٹھہرانا - قبل ثبوت تجریر کرنا

Foreland, n. A promontory ; a headland :
رأس - کوہ پیشانی

Forelock, n. A lock of hair on the head
* To take time by the—, to let
* no opportunity escape :
* موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا

- Foreman, n.** The chief man of a jury ; a head workman : میز مجلس - پیش دست - سردار - مہتمم - داروغہ - میز کاربگراں - میز کارخانہ
- Foremast, n.** The forward mast of a vessel : اگلا بادبان
- Foremost, a.** First in time, place, rank, &c. : اول - بزرگتر - اعلیٰ - بالاتر
- Forenoon, n.** The former part of the day, from morning to noon : قبل دوپہر
- Forensic, a.** Belonging to courts of law : عدالتوں کا - متعلق عدالت
- Foreordain, v. t.** To determine beforehand : پہلے سے مقرر کرنا
- Forepart, n.** The anterior part or portion : سامنے کا حصہ - آگے
- Forepass, v. t.** To pass unnoticed : بے معلوم گذر جانا
- Forerank, n.** The first or front rank : اول درجہ - صف اول - پیشگاہ
- Forerunner, n.** One sent before ; a messenger : پیش رو - پیغمبر - پیشوا - ہرکارہ
- Foresaid, p. p.** Spoken of before : مذکورہ بالا - ذکر شدہ
- Foresee, v. t.** To see beforehand ; to anticipate : پیش بینی کرنا - آگے سے دیکھنا - آگے سے سوچنا
- Foreshadow, v. t.** To prefigure : پیشتر سے بتلانا یا دلالت کرنا
- Foreshorten, v. t.** To paint figures as they appear when viewed obliquely : تصویر ترچھے رخ بنانا
- Foreshow, v. t.** To discover before it happens : واقع ہونے سے پہلے ظاہر کرنا - پہلے سے دکھلانا - آگے کہنا - جمانا
- Foreside, n.** The front side : سامنے کی جانب
- Foresight, n.** A seeing beforehand ; penetration ; prudence : پیش بینی - دور اندیشی - احتیاط
- Forest, n.** A tract of land covered with trees : جنگل - بیابان - دشت
- Forestal, a.** Belonging to a forest : جنگل کا - دشت کا
- Forestall, v. t.** To anticipate ; to buy goods before they reach the market ; to precede ; to preoccupy : پیش بندی کرنا - چیزوں کو ہات میں جانے سے پیشتر خرید کرنا - سبقت لیجانا - پہلے گھیرنا - آگے سے خرید رکھنا - ناکے ہی پر خرید لینا
- Forester, n.** The keeper of a forest : جنگل کا محافظ
- Forestry, n.** The art of cultivating forests : جنگل کے کاشت کا علم
- Foretaste, n.** A taste beforehand ; anticipation : چاشنی - پیش بینی
- Foretell, v. t.** To predict ; to prophesy : پیش گوئی کرنا - آگے کہنا - پہلے سے جمانا
- Forethought, n.** Anticipation ; provident care : پیش بینی - دوراندیشی - عائبت اندیشی
- Foretooth, n.** One of the front teeth : سامنے کا دانت
- Foretop, n.** The hair on the front part of the head : پیشانی کے بال
- Forewarn, v. t.** To admonish beforehand : خبردار کرنا - ہوشیار کرنا
- Forfeit, n.** What is lost by an offence ; a fine ; a mulct : *v. t.* * تاراج - جرمانہ - ضبطی - ترقی : تاراج - جرمانہ دینا - جرمانہ دینا
- Forfeitable, a.** Subject to forfeiture : ضبطی یا ترقی کے قابل
- Forfeiture, n.** A loss of property ; a penalty : ترقی - ضبطی - جرمانہ - دانت
- Syn.—Fine, penalty, amercement.
- Forge, n.** A furnace, where iron is wrought ; a smithy : *v. t.* * لوہار خانہ - بھٹی - لوہار - ٹھونک ٹھونک کر بنانا - گڑھنا - جعل کرنا - قالب کرنا - چھوڑنا
- To—a signature, n.** جعلی دستخط کرنا
- Forgery, n.** Act of counterfeiting ; or falsifying ; the thing forged : جعل سازی - تقلید - تصنع - بناوٹ
- Forget, v. t.** To lose the remembrance of ; to overlook ; to neglect : بھولنا - فراموش کرنا - خیال اپنے کر، *To—oneself* * نہ رکھنا - غفلت کرنا بھولنا - اپنے رتبہ کا لحاظ نہ رکھنا - آپے سے بڑھ جانا
- Forgetful, a.** Apt to forget ; careless : فراموش کار - بھولکر - غافل

Forgetfulness, n. Aptness to forget ; neglect :

فراموشی - نسیں - سہو - غفلت

Forget-me not, n. A perennial herb bearing

blue flowers : ایک ہمیشہ رہنے والا پودھا جس میں

نیلے پھول لگتے ہیں اور وفاداری کی علامت خیال کیا

جاتا ہے

Forgive, v. t. To pardon ; to remit :

بخشنا - درگزر کرنا - عفو کرنا

Forgiveness, n. Act of forgiving ; pardon :

معافی - عفو - مغفرت

Forego, v. i. To restrain from ; to quit :

باز رہنا - چھوڑ دینا

Fork, n. An instrument with prongs ; a point :

To play a good—and knife, * ٹھانے کی میز کا کاٹنا - دوشادہ - نری

The—s of a river or road, * دوراہا - سنگم

To shoot into blades ; to divide : پتی ڈکنا - دو

شاخہ ہونا - کٹنا

Forlorn, a. Deserted ; destitute ; helpless :

بیگس - تنہا - لاچار - عاجز - سنسان - ممتوری - بے

دہ جاتباز : *—hope, a body of soldiers selected for

some service of uncommon danger : ہاتھ دھکر لڑائی میں آئے جاتے ہیں

سپاہی جو زندگی سے ہاتھ دھکر لڑائی میں آئے جاتے ہیں

Form, n. Shape ; elegance ; mode ; order :

* شکل - حسن وضع انتظام - تراش - ہیٹ - ترتیب

Model ; frame ; ceremony : - ڈھانچہ -

A long bench : * بنارت * تکلف

Formality : * دستور - ضابطہ : * درجہ : رسم

Mould, - * تکلف - ظہر داری - رسم

The type in a chase : * قالب

To—an opinion, * صورت میں چھپا ہوا جزر

To construct ; to mould ; to train : -

بنانا - * ساخت کرنا - شکل بنانا - ڈھالنا - ترتیب دینا -

رہے قرار دینا - صلاح دینا

Formal, a. Ceremonious ; precise ; methodical ;

باناہدہ - تکلف مزاج -

ظاہر دار - پابند ضابطہ - نمائشی - تکلفی مورجہ - رسمی -

تکلفات رسمی - compliments * قرار یافتہ

Syn.—Precise, ceremonious.

Formalist, n. An observer of form :

ظاہر دار - پابند رسم - رسم دوست - تکلفی بندہ

Formality, n. Observance of form or ceremony ;

preciseness : تکلف - ظاہر داری - ادب دستور

Formally, ad. In a formal manner ; precisely :

باقاعدہ - حسب ضابطہ - مراتب دستور - ظاہر طور سے

Formation, n. Act of forming ; production ;

ساخت - ترتیب - پیدائش - بنارت

Former, a. Preceding in time ; ancient ; fore-

going ; first mentioned :

اکلا - قدیم - پیشین - سابق الذکر -

Syn.—Prior, previous, anterior.

Formerly, ad. In time past ; in former times ;

زمانہ گشتہ میں - سابق میں -

heretofore : اگلے وقتوں میں

Formidable, a. Exciting fear or apprehension ;

terrible : ہیبت ناک - مہیب - ہولناک - ہوش روبا

Formidably, ad. In a terrible manner :

ہولناکی سے

Formless, a. Shapeless :

بے شکل - بے قول - بے ترتیب

Formula, n. A prescribed or set form :

قاعدہ - دستور - ضابطہ

Forsoke, v. t. To quit entirely ; to abandon ; to

desert : تری کرنا - قطعاً چھوڑنا - روگرداں ہونا

Syn.—Abandon, relinquish, renounce.

Forsooth, ad. In truth ; in fact ; certainly :

درحقیقت - فی الواقع - بے شک - بے شبہہ - اس

میں کیا کلام ہے (ظناً یا ہجو ملیح سے)

Forswear, v. t. To renounce or deny upon oath ;

قسم پر تری یا انکار کرنا - دروغ

حافی کرنا

Fort, n. A fortified place ; a castle -

قلعہ - کُرت - گتھ

Syn.—Castle, stronghold, fortification.

Forte, n. The strong point ; that in which one

مضبوطا بات - وہ صفت جسمیں کوئی نصیحت

رکھتا ہو

Forth, ad. Forward ; away ; abroad :

آگے - * From this day—, * سامنے - باہر

اظہار * To set—, * آگے بڑھنا * To step—, * اب سے

کرنا - بیان کرنا

Forthcoming, a. Ready to appear :

موجود یا حاضر

بہم پورنچنا - * To be—, * رہنے کو تیار - آنے والا

دستیاب ہونا - ہاتھ لگنا

Forthwith, ad. Immediately :

فی الفور - فی الحال - فوراً

Fortieth, a. The tenth taken four times :

چالیسواں - چہارم

Fortification, n. The art of fortifying ; the

works constructed for the purpose of streng-

ening a position ; a fort : - فن مورچہ بندی - قلعہ بندی - قلعہ

Fortify, v. t. To strengthen ; to secure by fort, batteries, &c., to confirm : قلعہ مضبوط کرنا - قلعہ بندی کرنا - زور دینا

Fortissimo, adv. Very loudly : بہت زور سے

Fortitude, n. Passive courage ; resolute endurance ; firmness of mind : ہمت - برداشت - دلیری - جوانمردی - استقلال - استقامت

Syn. Resolution, endurance, resoluteness.

Fortnight, n. The space of 2 weeks : دو ہفتہ - پندرہ روز

Fortress, n. A fortified place : قلعہ - قلعہ

Fortuitous, a. Accidental ; casual : ناگہانی - اتفاقی - عارضی

Fortuity, n. Accident ; chance ; casualty : حادثہ - اتفاق - موقع

Fortunate, a. Lucky ; happy ; successful : خوش نصیب - خوش قسمت - بخت آور - نیک اختر - خوش کامران - کامیاب

Syn. — Auspicious, lucky, happy, successful.

Ant. — Ill-starred, unlucky, miserable, wretched, unsuccessful.

Fortunately, ad. Successfully : خوش نصیبی سے - کامیابی سے

Fortune, n. Chance : اتفاق * Luck : نصیب - خوشی - کامیابی - Happiness ; success : * Event : ماجرا * Wealth ; estate : * to frown on one, * قسمت پھوٹنا - تقدیر اٹلنا - دن بڑے اٹا - * to smile on one, * قسمت کھانا - چار چاند لگنا

Syn. Chance, luck, fate, accident.

Fortune hunter, n. A man who endeavours to marry a woman only for her fortune : رے شخص جو بہت بھنز کے لالچ سے شادی کرے

Fortune-teller, n. One who pretends to reveal the future events of one's life : رمال - فال گو - جرنشی

Forty, a. and n. 4 times 10 : چالیس - چہل

Forum, n. (Lat.) A market place ; a tribunal ; a court : چوک - چہوتروہ - بازار - اجلاس - عدالت

Forward, ad. Onward ; advance ; progressively : آگے - پیش - سامنے

—, a. Near or at the forefront : * Ready ; prompt ; eager : - شایق - مستعد - آمادہ * Bold ; Impudent : شوخ - گستاخ

Forward, v. t. To advance ; to promote ; to quicken : آگے کو چلتا کرنا - روانہ کرنا - بڑھانا - ترقی دینا - مدد کرنا - تیز کرنا

Forwardness, n. The quality of being forward ; want of modesty ; eagerness ; readiness : پیش دستی - چالاکی - چستی - سرگرمی

Fosse, n. A ditch ; a moat : خندق - کھائی

Fossil, a. Dug out of the earth ; petrified : * n. A substance dug from the earth : شے معدنی

Fossilize, v. t. or i. To petrify ; to render antiquated : پتھر بن جانا - پراانا ہو جانا

Foster, v. t. To nurse ; to feed ; to cherish ; to support : پرورش کرنا - غذا دینا - پالنا - مدد دینا - سرپرستی کرنا

Foster-child, n. A child brought up by a stranger : لے پالک - پروردہ

Foster-father, n. One who brings up a child in place of its father : رے شخص جو غیر لڑکے کی پرورش کرتا ہے

Foul, a. Dirty ; filthy ; impure ; wicked ; میلا - گندلا - ناپاک - کالی کالج کی - سخت - cloudy : بے امید نی کا کھیل - play - * خراب - دھندلا - زمین - * To fall—, * مسردہ - A-copy * روٹی کا کھیل - لڑنا - جھگڑنا

—, v. t. To make dirty ; to daub ; to besmear : * to entangle : * دھیر ڈالنا - کیچڑ میں بھرنا - * To run or fall—of, to rush or stumble against : * کھجھٹی ڈالنا - اٹکنا - بھڑ پڑا - ٹکر کھ جانا

Foul-mouthed, a. Addicted to the use of profane language : منہ بہت - بد زبوں - بد لگام - دروہہ - دہن - کل موہنا - کلک لگنے والا

Foulness, n. The state of being foul ; unfair action in any game ; dishonest dealing : گندمی - میلان - غلاظت - اٹکنا - زبوں کھیل - حیلہ بازی - بے ایمانی

Found, v. t. To lay a basis ; to build ; to establish ; to cast : بنیاد ڈالنا - عمارت بنانا - آیم - یا - پتھر کرنا - ڈھلنا

Foundation, n. The basis of an edifice ; first principles ; establishment ; an endowment : * wheel — * بنیاد - نیز - جز - اصل - ابتدا - تقرر عطیہ - کنوئیں کی کڑھی - پرتھی

Founder, n. One who founds; a caster of metal: **دھات ڈالنے والا** - **v. t.** To sink; to fail; to trip: **فرق ہونا - بیٹھ جانا - چرکنا - لنگڑانا - تریبنا**

Foundry, n. A place for casting metals: **دھات ڈھانے کا کارخانہ**

Foundling, n. A deserted infant: **پرچا پایا بچہ - لاوارث بچہ - مائل افتادہ - شیر خوار - متروک - لایق**

Font, n. A fountain: **چشمہ** * A complete assortment of printing types of one size or body: **چھاپے کے ایک ہی سائز کے حروف**

Fountain, n. A spring; an artificial jet: **چشمہ - اصل بنیاد - جز** * Origin; source: **فرارہ - حوض**

Four, a. Twice two: **چار - چار** * **On all—s,** on hands and knees: **گھٹئیوں پر**

Fourfold, a. Four times as much: **چارگنا - چند**

Fourscore, a. Four times twenty; eighty: **چار کترتی - اسی**

Fourteen, a. Four and ten: **چودہ - چار دہ**

Fourteenth, a. The ordinal of fourteen: **چودھراں**

Fourth, a. The ordinal of four: **چوتھا - چہارم**

Fowl, n. Winged animal; a bird: **پرند - مرغ - چڑیا**

Fowler, n. A sportsman who catches birds: **چڑیا مار - صیاد**

Fowling-piece, n. A gun for shooting birds: **چڑیوں کے شکار کی بندوق**

Fox, n. An animal remarkable for cunning: **حیلہ باز - A sly cunning fellow - لومڑی - روڈا - مکار**

Foxy, a. Like a fox; wily; reddish-brown: **مٹک - روڈا - چال باز - حیلہ ساز - سرخ پورے رنگ کا**

Fracas, n. An uproar; a noisy quarrel: **شور - فساد - رولا - بارا**

Frack, a. Strong; vigorous; firm: **مضبوط - زوردار - قوی**

Fraction, n. A piece; a part of an integer: *** کسر اعشاریہ - Decimal - کسو - ٹکڑا - جز - Vulgar - کسر عام**

Fractional, a. Belonging to fractions; broken: **مکسور - کسری**

Fractious, a. Cross; peevish; fretful; snappish; unruly: *** چڑچڑا - کراہو - تک مزاج - تنگ انگیز - صبر برد مزاج - منہ زور - متمرد - a.**

Fracture, n. A breach; separation; a rupture: **ٹوٹ - عارضی - زک - دراز - حق ٹوٹنا**
Syn. - Rupture, crack, breach, cleft.

Fracture, v. t. To break as a bone &c.: **ٹوڑنا - یا ٹوڑنا - حق وغیرہ کا**

Fragile, a. Easily broken; brittle; weak: **نرک - ہودا - کمزور**

Fragility, n. Brittleness; frailty: **نرکت - برداہن - کمزوری**

Fragment, n. A part broken off; a detached portion: **ٹکڑا - جز - پارچہ - ریزہ - ریزہ**

Fragmentary, a. Composed of fragments: **ٹکڑوں سے بنا ہوا - بے ردا - بے سلسلہ - نا مکمل**

Fragrance, Frangency, n. Sweetness of smell; perfume: **خوشبو - روگندہ - مہک**

Fragrant, a. Sweet of smell; odorous: **خوشبودار - مہک - معطر**

Frail, a. Weak; infirm; liable to error: **نرک - کمزور - ناپیدار - بے استقلال - خطاوار**

Frailty, n. Weakness; infirmity: **نرکت - ضعف - کمزوری - خطاوار**

Frame, v. t. To construct; to fabricate; to devise: *** بنانا - تعمیر کرنا - ڈھنڈا - ڈھنڈا کرنا**

To—a lie, بنانا * **To—a picture,** **n.** A fabric; structure: *** تصویر میں چکونا لگانا**

Temperament: * ترتیب - وضع - Order * ڈھانچا - قالب * **Apparatus * نقشہ - مزاج - حالت** * **An unhappy—** for holding a picture: *** چوکھٹہ - دل کی ناخوش حالت**

Franc, n. A French silver coin: **فرانس کا ایک چاندی کا سکہ**

Franchise, n. A privilege; immunity: **استحقاق - حق معافی**

Franchisement, n. Release; freedom: **رہائی - آزادی**
Syn. - Right, privilege, exemption, immunity.

Frangibility, n. State of being frangible: **کمزوری - نرکت - برداہن**

Frangible, a. Easily broken; fragile: **نرک - کمزور - پور پورا - تنگ**

Frank, a. *Liberal*; candid; ingenuous; sincere : - فیاض - صاف - بے تکلف - کشادہ دل - پاک - راست باز

Syn.—Open, undisguised.

—, v. t. To exempt from charge or postage : - معصوم سے بڑی کرنا - بے معصوم خط بھیجتا

Frankincense, n. A fragrant resinous substance : لوزبان

Franklin, n. A free-holder; a yeoman : - معافدار - داروغہ - اہتمامچی : A steward * آمودہ حال - کنس

Frankly, ad. Without reserve; openly : بے تکلفی سے - آزادانہ - صاف

Frankness, n. Openness; ingenuousness : صاف دلی - سادگی

Frantic, a. Mad; furious : - جنونی - سردہائی - دیرانہ

Fraternal, a. Brotherly : برادرانہ

Fraternity, n. A brotherhood : - بھائی چارہ

Fraternize, v. t. To associate as brethren : - بھائی بھنی کرنا - بھائی چارہ رکھنا

Fratricide, n. The murder or murderer of a brother : برادر کشی - برادر کش

Fraud, n. Deceit; trick; artifice : - فریب - حیلہ - دغا بازی

Syn.—Deceit, deception, guile, trick.

Fraudulence, Fraudulency, n. Deceitfulness; trickery : - دغا بازی - حیلہ سازی - مکاری

Fraudulent, a. Using fraud; treacherous; dishonest : - * دغا باز - فریبی - مکار - فاسد : - insol-
vency, مال نقص کر کے مفلس بننا - ناداری بہ نیت فاسد

Fraudulently, ad. Treacherously : - - مکاری سے - دغا سے

Fraught, a. Loaded; full : - - مہر - لبریز

Fray, n. A broil; a quarrel; a contest; a place injured by rubbing : - جھگڑا - قضیہ - لڑائی - * دنگا - دنگا - رگڑ - گوسا

To frighten; to terrify; to rub : - * دنگا - دنگا - دہشت دلانا - رگڑنا - کھچنا - گوسا

Freak, n. A whim; a fancy : - - لہر - وہم - * جولانی

Freakish, a. Whimsical; capricious : - - رھمی - متکرن - لہری

Freckle, n. A spot on the skin : - چمڑے پر داغ - چتی - دھبا - لہسن - لہسنیا

Freckle, ad. Marked with spots : چتی دار - داغدار

Free, a. Not under restraint; liberal; innocent; open; frank; exempt; familiar; guiltless; immoderate; exempt; gratuitous : کہلے

بند - غیر تابع - آزاد - خود مختار - معفی - بیگناہ - سینہ صاف - صادق - مبرا - بڑی - گستاخ - مذہبہ نگا - بے خطا - معصوم - پاک - بے حد - متجاوز -

v. t. To set at liberty; to clear; to absolve; to keep free; to remove : - * معاف - مفت - بے - بے دام

آزاد کرنا - رکھا کرنا - صاف کرنا - بڑی کرنا

بچا رکھنا - بچانا - پتہ چھڑانا - دور کرنا - رفع کرنا

Freebooter, n. A robber; a plunderer : - لٹیرو - غارت گر - قزاق

Freedom, n. Exemption from control; liberty; undue familiarity : - آزادی - مخلصی - بے لفاظی - بے باکی

Freehand, a. Without the help of gaiding and measuring instruments : - بلا آلات پیمائش وغیرہ - معصوم سٹی

Freehold, n. Land held in perpetual right : - معاف حق حین حیاتی - لاخراج - زمینداری بڑی از خدمت

Freely, ad. Liberally; willingly; profusely : - آزادانہ - خرش دلی سے - خاطر خراہ - کثرت سے

Freemason, n. A member of a secret friendly society : - ایک خفیہ برادرانہ جماعت کا شریک چمکے : خاص اصول شاید یہ ہیں : بٹی آدم بھائی ہے - مذہبی

عصب نا جائز ہے - مصیبت زدہ بھائی کی دستگیری فرض ہے

Freeness, n. The quality of being free; liberality : - آزادی - سفارت - بخشش - آمرزگاری

Freestone, n. A kind of stone that has no grain and cuts freely : - بزر پورا پتھر

Freethinker, n. One who discards revelation : - ملحد - ناستک - دھریا

Free-trade, n. Commerce not subject to protective duties : - تجارت جو جنگی اور دیگر معصوم سے بڑی ہو

Freewill, n. Power of acting at pleasure : - * خورد مختاری - فعل مختاری - رضا آزاد - ارادت راستہ

a. Voluntary : - اپنے من کا

Freeze, v. t. To become congealed by cold; to become chilled : - منجمد ہونا - جم جانا - تھہر

جانا - اکڑ جانا

Freight, n. The cargo or lading of a ship : ہار :
 اجراء * Charge for carrying goods : اسباب کا
 جہاز * *v. t.* To load as a vessel : طرح :
 جہاز کی طرح : ہار :
 پر بوجھ لادنا

French, a. Pertaining to France or its inhabitants :
 * To take—leave, to depart secretly : فرانس یا اس کے باشندگان کے متعلق
 خفیہ چلیدینا -
 * *n.* The language or people of France : فرانس کی زبان یا لوگ

Frenetical, a. Distracted ; mad : مجنون - پاگن -
 سرداشی

Frenzy, n. Distraction of mind ; madness : جنون - دیوانگی - خبط

Frequency, n. Oftenness of repetition ; commonness of occurrences : کثرت - زیادتی

Frequent, a. Happening often ; common : اکثر
 * *v. t.* To visit often ; to resort to : ہزار ہا آنا - آمد رفت رکھنا - متواتر

Fresco, n. Coolness : ٹھنڈک * A kind of painting on fresh plaster : تازہ استرو کاری پر تصویر
 کھینچنے کا ایک طرز

Fresh, a. Cool : ٹھنڈا * Not salt : شیریں :
 * Ruddy ; recent ; unused ; vigorous ; brisk ; new ; unpractised ; renewed in vigour :
 نیا - گرا - جدید - تازہ دم - پھر چلا - :
 تازہ - دلکا - ہوا - تازہ کار - کچا - تر و تازہ - شاداب

Freshen, v. t. or i. To make fresh ; to grow fresh : تازہ کرنا - تازہ ہونا - پھرنا

Fret, v. t. or i. To ornament : to wear away by rubbing ; to chafe ; to corrode ; to be agitated ; to irritate : رنگین کرنا - رگڑنا - گوسنا -
 * *n.* Agitation ; irritation : گھبراہٹ - پریشانی - دقت

Fretful, a. Disposed to fret ; peevish ; cross : ناخوش - چڑچڑا

Fret-work, n. Raised work in masonry : منبت - اربھوراں کام

Friable, a. Easily crumbled : نرم - خستہ

Friar, n. A begging monk : فقیر - درویش - گدا - مہنت

Friary, n. A monastery : خانقاہ

Fribble, a. Frivolous ; trifling ; silly : بے پرواہ - ناچیز - سفلہ - لڑچکا

Friction, n. Act of rubbing one body against another ; attrition : گواہت - رگڑ - مالش - ناچتی

Friday, n. The 6th day of the week : جمعہ - شکر ہار

Friend, n. An intimate associate ; an ally : a companion : دوست - رفیق - حامی - ساتھی - متر
 * To make—s with, دوست بنانا - دوستی کرنا

Friendless, a. Having no friends ; deserted ; forlorn : بے ہار - بلا دوست - بلا مددگار - بچھڑا

Friendly, a. Kind ; amicable ; favourable : * مہربان - ملنسار - ہللا - دوستانہ - رائق - شفیق
 - بreeze ہوا

Friendship n. Friendly relation or intimacy : دوستی - محبت - خیر خواہی - آشنائی

Frieze, n. A coarse woollen cloth : موٹا ارنی کپڑا

Frigate, n. A ship of war, carrying from 30 to 50 guns : جنگی جہاز جس میں ۳۰ سے لیکر ۵۰ توپ تک رہتی ہیں

Fright, n. Sudden terror : ڈر - خوف - دہشت
 * To take—، ڈرنا - ہچکنا - حول

Frighten, v. t. To terrify ; to intimidate : ڈرانے - دھت دلانا

Frightful, a. Terrible ; dreadful : عیب ذک - خوفناک - مہیب
 Syn. - Terrific, fearful, alarming.

Frightfully, ad. Dreadfully : دہشت سے - مہیبانہ

Frigid, a. Cold ; dull ; insensible : ٹھنڈا - سرد
 * *style* - رکھی عورت ، مردہ - کشیدہ - رکھا

Frigidity, n. Coldness ; dulness : خفگی - سردی - درکائی

Frigorific, a. Causing or producing cold : ٹھنڈک پیدا کرنے والا - سرد کرنے والا

Frill, n. An edging or ruffle of fine linen : * *v. t.* To decorate with frills : سنجف یا لیس لگانا

Fringe, n. A trimming consisting of hanging threads : جھلر لگانا
 * *v. t.* To adorn or border with fringe : جھلر لگانا

Frippery, a. Having little value ; worthless : * *n.* Old clothes ; worthless things ; trumpery ; traffic in cast off clothes : پورے کپڑے - اترے - ناچیز - کم قدر چیزیں کا بیسہ - چورق شسکی - مامع سازی

Frisk, v. t. To leap ; to dance ; to gambol : اوپھلنا - ناچنا - کرل کرنا - لڑکھ پھرنا

Frisket, *n.* A frame to confine sheets of paper in printing : ایک چڑکوتہ جہ کاغذ کو چھپاتے وقت اعلیٰ ہونے سے روکے رکھتے ہے

Friskiness, *n.* Liveliness ; gaiety ; wantonness : چلبلاہن - کلرل - شوخی - اچھلی

Frisky, *a.* Frolicsome ; gay ; airy : خوش طبع - کھلاتی

Frith, See **Firth**.

Fritter, *n.* A small pancake ; a fragment : ہارچٹہ
* *v. t.* To cut into small pieces for frying ; to cut or break in small pieces : پورنے
چورا، دورا - away * کے لئے ٹکڑے ٹکڑے کرنا - کٹنا
چورا کر کے آڑ دینا - توڑنا توڑ کر کے ٹکڑا

Frivolity, *n.* Triflingness ; folly ; levity : - خفت
ہلکا پن - سبکی

Frivolous, *a.* Of little importance ; trifling :
—argument, ہلکا پن - ناگاہ - خفیف - ہلکا - بے وقوف
پوچھ دلیل

Frizz, *v. t.* To form into small curls ; to crisp :
پیدھدار کرنا - اسیٹھنا

Frizzle, *v. t.* To curl or crisp, as hair : - پیدھدینا
اڑتھنا

Fro, *ad.* From : away ; back or backward : - آگے
* *To and—*, backward and forward :
اُدھر اُدھر - آگے پیدھچھ

Frock, *n.* An outer garment ; a dress ; a coat :
(انگڑکھا - لوگرنگا کپڑا)

Frog, *n.* An amphibious animal : غروک

Frolic, *a.* Gay ; merry ; full of levity : - خرخش
ناچ

n. A wild prank ; merrymaking : چلبلاہن - کلرل
* *v. i.* To play pranks ; to sport :
کردنا - کلرل کرنا - اٹھلانا

Frolicsome, *a.* Full of gaiety ; playful : - چنچل
شوخ - کھلاتی

Syn.—Playful, gay, lively.

From, *prep.* Out of ; because of ; since : سے
* طرز سے - منجانب - ازرو - مزائق - چھانچھ - بسبب
—time immemorial, * پرانے وقتوں سے
جو کہ ایسے کہایا ہبہ کہ بچایا - نا عاقبت
اندیشی سے

Fron, *n.* The leaf of a fern or palm : جھتری یا
تار

Fruondescence, *n.* The season when plants unfold their leaves :
پتی نکلنے کا موسم

Front, *n.* The forehead ; the face ; the part of anything directed forward : - ماتھا - چہرہ
* *v. t.* To oppose face to face ; to stand opposite : - منہ ہونا - مقابل ہونا

Frontage, *n.* The front part of an edifice, &c. : مکان کا اگراڑا - سامنا

Frontal, *a.* Belonging to the front : - متقابل
سامنے کا

Frontier, *n.* The utmost verge of a country ; the limit ; the boundary : سرانگہ - حد - سرحد

Frontispiece, *n.* An illustration fronting the first page of a book : تصویر چڑکوتہ کے شروع میں لکائی جانے والی

Frost, *n.* Frozen dew ; severe cold : پرالا - سرما - جازا

Frosty, *a.* Like frost ; white ; freezing ; gray-haired : ٹھنڈا - سفید - بھ - سن سفید

Froth, *n.* Spume ; foam : بھلا - پھین - *
بے اصل چیز
Un-substantial matter : کھنکھن - جھگ

Frothy, *a.* Full of froth ; foamy : نرم - انور - پھردہ
* *v. t.* To froth : اسیٹھنا - شکن

Frounce, *v. t.* To frizzle ; to curl : قائم - بان دینا

Froward, *a.* Peevish ; refractory ; perverse : تنک نواج - سرکش - ضدی - شرور

Frowardness, *n.* Perverseness ; peevishness : سرکشی - تنک مزاجی

Frown, *v. i.* To look stern ; to scowl : آنکھ
* *n.* A look of displeasure : چڑھی نگاہی - ناراضگی

The—s of fortune, قسمت کی برکشتگی

Frowzy, **Frouzy**, *a.* Fetid ; musty ; slovenly : سزا - میلا - گڈے

Frozen, *p. p.* Congealed with cold : منجمد - بستہ
انجمد

Fructiferous, *a.* Producing fruit : پانر اور
پھلدار

Fructification, *n.* Act of fructifying ; fecundation ; the production of fruit : بارآوری - بھلا

Fructify, *v. t.* To make fruitful ; to fertilize : بار آور کرنا - زرخیز کرنا - اوپچانا

Frugal, *a.* Thrifty ; sparing ; economical : کفایتی - کم خرچ - کفایت شعار - خورس

Frugality, *n.* Prudent economy ; thrift : کفایت
شعاری
Syn.—Economy, thrift, parsimoniousness.
Ant.—Extravagance, liberality, waste.

Frugally, ad. Sparingly : نظائت شعای سے

Frugiferous a Bearing fruit ; fruitful : پھلدار - پھل آؤر - ثمر دار

Fruit, n. The product of a tree - پھل - میوہ
 Off-spring : اولاد * Consequence : نتیجہ - انجام

Fruitage, n. Fruit in general : - پھل - میوہ جات - پھلاری

Fruiterer, n. One who deals in fruit : میوہ فروش

Fruitful, a. Yielding fruit ; productive : پھلدار - پھل آؤر - زرخیز

Fruition, n. Possession of anything ; enjoyment : حصول - کامیابی - خوشی - مقصود پر - کام کوئی

Fruitless, a. Not bearing fruit - barren : بی ثمر - برباد - لاف - برباد - unprofitable

Fruментy, n. Food made of hulled wheat boiled : پھلنا جو گھیوں کو دودھ میں اریلکر بناوا جائے - پارچ دلیا

Frustrate, v. t. To disappoint ; to defeat ; to defeat ; to nullify : - شکست دینا - نسیخ کرنا - بطل کرنا
 Syn. - Baffle, disappoint, balk.

Frustration, n. Disappointment ; defeat : مایوسی - دکامیابی - شکست

Frustum, n. The part of a solid next the base, formed by cutting off the top : مشروطاً ناقص

Fry, v. t. To heat or roast in a pan over the fire : پورننا * n. A swarm ; a dish of any thing fried : - پھلنا - پکوان

Frying-pan, n. A kitchen utensil : - کڑھ ٹی - ماہی تابه

Fuddle, v. t. To make foolish by drink : مدہوش کرنا - مست کرنا

Fudge, n. A made-up story ; nonsense : جھوٹا قصہ - لغویات

Fuel, n. Anything that feeds fire : - تیزم
 * To add—to the flame, to kinille : پورننا - آسکانا

Fugacious, a. Volatile ; transitory : - اُڑانیوالی - بے بقا - چند روزہ

Fugitive, a. Apt to flee away ; wandering : بھاگ * n. A runaway ; a deserter : بھگڑا - فراری

Fulcrum, n. A prop or support : - ٹیک - کھنپا

Fulfil, v. t. To accomplish ; to perform ; to complete : پورا کرنا - پورا کرنا - تمام کرنا

Fulfilment, n. Accomplishment ; execution : تکمیل - ارفا - بجا آوی

Fulgency, n. Splendour ; brightness : - روشن - چمک - روشنی

Fulgent, a. Bright ; shining ; dazzling : - روشن - چمکدار

Full, a. Filled up ; not empty ; replete ; crowded ; perfect ; strong ; abundant ; loud : پورا ہوا - لدا - لمب - معور - تمام - مکمل - مضبوط - بہت * کڑھ کرنا - کڑھ لدا کرنا * To pay in— (آواز) دام دام وصول پانا * To receive in—

Full, v. t. To draw up or pucker the cloth : کھک کرنا - کلب کرنا

Fullage, n. Money paid for fulling cloth : پالاک - * ad. Quite ; exactly ; directly : پورے - صریحاً

Full-blown, a. Fully expanded or distended : پورلا ہوا - شگفتہ

Fuller's earth, n. A soft clay absorbing grease : رتھ - سبھی مٹی

Fully, ad. Completely ; entirely ; clearly : تمام - سارا - بھڑھی

Fulminate, v. i. To thunder ; to explode ; to thunder forth menaces : - کھکنا - کھکنا - کھکنا - اڑے ہاتھوں لینا

Fulmination, n. Act of fulminating : * راج - کھک * ملامت - روزنش

Fulness, n. Completeness ; abundance ; plenty ; satiety : تمام - سیرگی - سیرگی - سیرگی

Fulsome, a. Offensive ; gross : - ناگوار - زبیا

Fumble, v. i. To grope about ; to seek awkwardly : to handle much : - بے طور ہتھ ڈالنا - تل اوپر کرنا - اولت پالت کرنا - گھول میل کرنا

Fume, n. Smoke ; vapour : - بخار * v. i. To Rage ; idle conceit : * غصہ - خام خیالی

Fume, n. Smoke ; vapour ; to be in a rage : دھراں اٹھنا - بخار بنکر اڑ جانا - جذبہ میں آنا

Fumigate, v. i. To smoke ; to perfume ; to purify : دھراں دینا - بپہارہ دینا - معطر کرنا - صاف کرنا

Fumigation, n. Act of fumigating ; scent raised by fire : دھوئی - پھک - خوشبو

Fun, n. Sport ; merriment ; frolic : - تماشہ - کھیل - سوانگ
Funambulist, n. A rope dancer : - نٹ - رسن باز
Function, n. Employment ; office ; the office of any bodily organ ; power or action : کار - کام - گذاری - منصب - عہدہ - جسمانی اعضا کا کام - قوت - اختیار

Functionary, n. One who holds an office or trust : عہدہ دار - کار پرداز

Fund, n. A stock or capital ; an invested sum ; ample store : جمع - پونجی - سرمایہ - مخزن

Fundamental, a. Pertaining to the basis ; essential : ضروری
The —s of faith, دین اصول

Syn.—Primary, important, indispensable.

Funeral, n. The ceremony of burying a dead person ; obsequies : اہلیت : تدفین

Fungus, n. (L.) A mushroom ; an excrescence : کھڑکھڑا - مسہ - حرام گوشت

Funnel, a. An inverted hollow cone with a pipe : چرنگہ - ڈالی - دود کش

Funny, a. Droll ; comical : خروش گپ - ظریف - لطیفہ گو

Fur, n. The fine, soft hair of certain animals ; the skins of certain wild animals : - سمور - بال - پشم - پرستین

Furbish, v. t. To polish ; to rub or scour to brightness : صیقل کرنا - جلا دینا - ملنا

Furcate, a. Forked : شاخدار

Fur-fur, n. Bran-like scales of skin ; scurf ; dandruff : پھیاس - جلد کی پیڑی

Furious, a. Transported with passion ; raging ; violent : تند - خشمگین - غضبناک - پرہم - آشفتہ
Syn.—Vehement, boisterous, fierce, mad.

Furl, v. t. To draw or wrap up ; to contract : تہہ کرنا - لپیٹنا - اینٹھنا

Furlong, n. The 8th part of a mile : ایک میل کا آٹھویں حصہ

Furlough, n. A temporary leave of absence : رخصت - چھٹی - رضا

Furnace, n. A place for melting metals ; an inclosed fire-place : بھٹی - بھڑ - آتش دان

Furnish, v. t. To apply ; to store up ; to fit up ; to equip : مہیا کرنا - موجود کرنا - بھم بھونچانا - سجا کرنا - آراستہ یا تیار کرنا

Furniture, n. Chattels ; moveables ; goods : اثاثہ الیبت - اسباب - ارازمہ - ساز و سامان

Furor, n. Fury ; rage ; madness : جذبہ - جوش و خروش - غضب - غصہ - طیش

Furrier, n. A dealer in furs : - سمور فروش - پشم فروش

Furrow, n. A trench made by a plough ; a hollow ; a wrinkle : - ڈالا - ڈھل - خط - لکیر - کونا - جھری

Further, a. More remote ; additional : دور کا - **ad.** To a greater distance ; moreover : مکرر - ماسرا - آگے - دور - **v. a.** To advance ; to promote : بڑھانا - ترقی دینا

Furtherance, n. Act of furthering ; advancement : ترقی - اعانت - مدد - ترقیت

Syn.—Promotion, advancement, helping forward.

Furthermore, ad. Moreover ; besides : - ماسرا - علاوہ - بڑیں - اسکے سوا

Furthermost, Furthest, a. Most distant : دور ترین - سب سے دور

Furtive, a. Stolen : خفیہ - دزدیدہ - مسروقہ - چوری کا

Furuncle, n. A small tumour ; a boil : گانگہ - گانگن - بھڑرا

Fury, n. Violent passion ; rage ; madness : جذبہ - جوش - غضب - غصہ - خفگی - جنون

Furze, n. A prickly shrub used for fuel : ایک کانٹے دار جھاڑی جو ایندھن کا کام دیتی ہے

Fuse, v. t. To melt ; to liquefy by heat : گلا - **n.** A firelock ; a match ; a cigar light : بندوق - تپیلہ

Fusibility, n. The quality of being fusible ; گل جانے کی خاصیت

Fusible, a. That may be melted ; liquefiable : گلنے کے لائق - گداختنی

Fusil, n. A light musket : ایک ہلکی بندوق

Fusileer, n. A foot soldier ; a soldier armed with a fusil : برتندار - پیدل - بندوقچی

Fusillade, n. A simultaneous discharge of musketry : بندوقچی سلاح - فائر - بڑے

Fusion, n. Act or operation of melting ; state of being melted ; union : - نگہلاؤ - گداؤ - آمیزش

Fuss, n. A tumult; bustle; annoying ado : شرور و غل - سنگم - دلچل - بے فائدہ کی درز دھوپ -
 فضاں عالیلی - تریہ تلا کرنا
Fussy, a. Making a fuss, or unnecessary ado about trifles : تہڑی ہلت میں غل شرور مچانیرالا
Fustic, n. Yellow wood used for dying : ایک قسم کی بیلی لکڑی جو رنگنے کے کام آتی ہے - تچ
Fustigate, v. t. To beat with a stick : لاٹوی سے مارنا - سرتھے سے بیٹنا
Fusty, a. Ill-smelling : بدبودار - پھوپھوڑی دار
Futile, a. Of no importance; trifling; worthless : ناکارہ - زچیز - مہمل - سبک
Syn.—Trifling, frivolous, worthless, trivial.

Futility, n. Want of importance or effect; uselessness : ہلکاپن - سبکی - بیقدری - ارچھا پن
Future, n. About to be; liable to be or come hereafter : آئندہ - مستقبل - آئندہ * n. Time to come : استقبال - زمانہ آئندہ
Futurity, n. Future time; time to come : زمانہ آئندہ - علم غیب - دہنہار - عاقبت
Fuze, n. A tube used in blasting : پھرر کر آڑنیکا ٹل - قتیلا
Fuzz, v. i. To fly off in minute particles : ذرہ ذرہ ہلکے ذرے * n. Fine, light particles : ہلکے ذرے
Fy, Fie, interj. A word expressing blame, dislike or contempt : تھ - چھی - لاجول و لاقرت - تریہ تریہ

G

Gab, n. Idle prate; loquacity : بک بک - غپ شپ -
 * The gift of the—, the power of eloquence : بکراہ * v. i. To talk idly : بجزانا - بیہرہہ بکنا
Gabardine, n. A long coarse cloak : چرغہ - جیہ - انگرکھا - فرغول
Gabble, v. i. To talk without meaning; to prate : بک بک * n. بک بک کرنا - بجزانا - گیس پس کرنا
 Loud or rapid talk without meaning : بک بک - بجزاوت
Gabion, n. A wicker basket in fortification : ڈلیا - ٹوکڑی
Gable, n. The triangular end of a house : مکہنکے چیت کا ٹوکڑا حصہ
Gad, n. The point of a spear; a wedge : بڑچھی
 * To rove or ramble idly : آوارہ گھومنا - سیک سپائے کرنا * v. i. To rove or ramble idly : بچر
Gadfly, n. A fly that stings cattle : ڈانس - گومکھی
Gaffer, n. An o'd fellow; an aged rustic : ایک بوڑھ گڈوار
Gag, v. t. To stop the mouth : منہ بند کرنا -
 * Something thrust into the mouth to hinder speaking : ڈانٹ
Gage, n. A pledge or pawn; security : ڈرپی
 * A challenge to combat : شہنی کی * اہن - خامنی
 * To bind by pledge; to engage; to

measure : - شرمہ کرنا
 قول و قرار کرنا - ڈاپنا
Gaiety, n. Cheerfulness; finery : خرسی - چہل - زب زبنت - سببارت
Gaily, ad. Merrily : خرسی سے
Gain, n. Thing gained; profit; advantage; acquisition : یافت - منفعت - حاصل - ذدہہ
 * To obtain; to acquire; to attain; to reach : آگے بڑھنا - پیدا کرنا - نفع اڑھونا -
 * To advance : آگے بڑھنا * v. i. To advance : پہونچنا
 * To—over, to win over : پاس پہونچنا
 To—ground, to advance nearer to : مفید - سودمند
Gainful, a. Profitable : بے سود - لا حاصل
Gainless, a. Unprofitable : خلاف کہنا - ود کرنا - انکار کرنا - بات کاٹنا
Gainsay, v. t. To contradict; to deny; to oppose : رتار - چال - ڈھنگ
Gait, n. Manner of walking; bearing : شان و شرکت - خرسی کا دن - روز عید
Gala, n. Pomp; show or festivity : خرسی کا دن - * day, a festive day : جشن
Galaxy, n. The milky way : * کہکشاں
 * An assemblage of notable persons : اشخص - انجمن
Gale, n. A strong wind; breeze : آندھی - چھرکا - نسیم - بادصبا

Gall, n. The bile ; rancour ; malignity : - صفراء
 v. t. To fret and wear
 away by friction ; to tease ; to vex : - رگڑنا
 گھسنا - چھیڑنا - دق کرنا

Gallant, a. Gay ; heroic ; courageous ; courtly :
 خوش طبع - دلیر - جانباز - صاحب اخلاق - اعلیٰ :
 —springing grown up in youthful
 beauty ; full of the promise of youth : جر اپنے
 n. * شباب کی بہار میں ہے - جوانی میں لہلہانا
 رضعدار - : a suitor ; a lover :
 عشق باز - آشنا - بانکا

Gallantly, ad. In a polite manner : - شریفانہ
 تکلف سے

Gallantry, n. Bravery ; intrepidity ; attention
 to ladies : عالی ہمتی - جانبداری - خاتون - عزیزی
 نراری

Gallery, n. A long and narrow corridor ; a
 balcony round a building ; collection of paintings,
 &c : لمبا کمرہ جس سے اور کمرے میں راستہ :
 ہو - برآمدہ - بالا نشستگاہ - رنگ مہل - تصویر خانہ

Galley, n. A low, flat vessel with one deck ;
 ایک قسم کا جہاز - (Print.) flat oblong tray :
 چھاپے کے حروف بٹھانے کا تھلہ

Galliard, n. A gay, sprightly man : خوش طبع :
 زندہ دل آدمی

Galligaskins, n. Leg guards ; loose breeches :
 چمڑے کا ہڈی - جانگیا - نراریدار پانجامہ

Gallipot, n. A small earthen pot painted and
 glazed : چینی کابرتن - مرتبان

Gallon, n. A liquid measure of 4 quarts : 4
 چھٹانک کا پیمانہ - گیان

Gallop, v. i. To run with leaps as a horse ; to
 move very rapidly : سویت درڑنا - پریوں درڑنا :
 n. The swiftest motion of a horse :
 سویت - پریہ

Galloway, n. A horse of small size : چھوٹے قد
 کا گھوڑا - تھو - ڈنگون - اسپ میانہ

Gallow, v. t. To terrify : ڈرانا - خوف دلانا - دہشت
 زدہ کرنا

Gallows, n. A frame for the execution of criminals :
 —bird, A person
 who has the appearance of a condemned
 criminal : خپس

Galvanic, a. Relating to galvanism : کھربنی

Galvanism, n. A species of electricity : ایک قسم
 کی برقی یا کھربانی قوت

Galvanize, v. t. To affect with galvanism : برقی
 تلعی دار لڑھکا * اثر پیدا کرنا

Gamble, v. i. To play for money : قمار
 جوئے : v. t. To squander by gaming :
 ہاڑی کرنا
 میں ہار جانا

Gambling, n. The practice of gaming for
 money : قمار بازی - قمار

Gambol, n. A skip ; a leap for joy ; a frolic :
 کھیل - کود - کرل

Syn.—Frolic, prank.

—, v. i. To dance ; to skip ; to frisk : ناچنا
 کرنا - اچھلنا - پھوٹنا - کولیں کرنا

Game, n. Sport : کھیل * Play : کھیل * Scheme :
 مذاق : — Jest : شکار * Animals hunted :
 * To make—of, اُڑا بنانا * مضحکہ
 بہادر - مستقل : a. Brave ; resolute

Game-cock, n. A cock bred to fight : لڑائی کا مرغ

Game-keeper, n. One who has care of game :
 محافظ شکار

Gamesome, a. Frolicsome ; gay : چنچل - کھلاڑی

Gamester, n. One addicted to gaming :
 جواڑی -
 قمار باز

Ganmon, n. The thigh of a hog smoked or
 dried : سوو کی خشک ران : v. t. To salt and dry :
 تھپا کرنا : — To hoax : گوشت میں نمک لگا کر سکا کرنا
 بیوقوف بنانا

Gamut, n. A scale of notes in music : راک کے
 سروں کی علامت - سرگم

Gander, n. The male of the goose : ہنس - بطخو -
 قز

Gang, n. A company ; a band ; a troop : گروہ -
 غرل - مائتہ - ٹولی - دھڑ

Gangrene, n. Mortification of flesh : گوشت کی
 —زن - داد
 مردہ

Gangrenous, a. Mortified :

Gangway, n. A narrow passage way on a ship's
 side : جہاز کے کنارے کے تنگ راستہ

Gaol, (jail), n. A prison ; a place for confine-
 ment : زندان - قیدخانہ

Gaoler, n. A jailer : قید خانہ کا داررغد

Gap, n. An opening ; a cleft ; a vacancy : شکاف
 از درز کی * To stand in the—, شق - خالی - جگہ
 * To stop a—, حلقے کے واسطے اپنی جان دینا
 رخنے بند کرنا - نقص رنج کرنا

Syn.—Cleft, crevice, crack.

Gape, v. i. To open the mouth wide ; to yawn ;
 to stare : کھلکا بکا رہنا * منہ پھلانا -
 جموٹی لینا - کھلکا بکا رہنا
 * To—for or after, چاہنا - مانگنا

Garb, n. Clothes ; dress ; fashion, or mode of
 dress : پوشاک - لباس - رضع - پہناؤ

Garbage, n. The bowels of an animal ; refuse :
 لرجھڑی - فضلہ

Syn.—Offal.

Garble, v. t. To pick out what may suit a pur-
 pose ; to sift : چن لینا - چھاننا - تعریف کرنا -
 کاٹنا - چھٹنا

Garden, n. A piece of ground for cultivating
 flowers, or vegetables, &c. : باغ - چمنزار -
 گلستان حدیقہ - ڈنڈار - پھولراوی

Gardener, n. One who makes and tends a
 garden : باغبان - مالی

Gargarize, v. t. To wash the mouth with medi-
 cated liquors : پانی میں دوا ڈالکر کلی کرنا

Gargle, v. t. To wash the mouth and throat :
 کلی کرنا - غرغره کرنا - مزمزہ کرنا

Garland, n. Wreath of flowers ; a crown :
 ہار - گھرا

Garlic, n. A strong scented plant of the onion
 kind : لہسن

Garment, n. An article of clothing ; dress :
 کپڑے - پوشاک

Garner, n. A place where threshed corn is
 stored ; a granary : n. t. * غلہ کا گروہام انبار خانہ
 * To store in a granary : غلہ خانہ میں
 ناچ بھرنا - غلہ خانہ میں
 رکھنا

Garnet, n. A precious stone of a red colour :
 یاقوت - تمارا

Garnish, v. t. To adorn ; to embellish :
 آراستہ کرنا : زیب و زینت دینا - سفاونا

Garniture, n. Furniture ; embellishment :
 اسباب - زیبائش

Garret, n. A room directly under the roof :
 اتاری - لڑپری کمرہوی - بالا خانہ

Garrison, n. Soldiers for the defence of a town
 or fort : قلعہ کی فوج * v. t. To place soldiers in a
 fortress for defence : حصے میں فوج
 متعین کرنا

Garrotte, v. t. To strangle and rob : گھونٹکر
 لوٹنا

Garrulity, n. Talkativeness : بک بک
 بک بک - بک بک

Garrulous, a. Talkative ; loquacious :
 کپپی - بڑبڑیا

Garrulousness, n. Talkativeness : کپ - بک بک

Garter, n. A band to hold up stockings on the
 leg : * مورزہ بند پٹی * The highest order of
 knighthood in England and the badge of it :
 انگلستان میں اعلیٰ درجہ کا بہادری کا خطاب اور اسکا
 تمغہ

Gas, n. An aeriform fluid : گیس - ہوا
 ہوائے سبڑدہ (جو روشنی کے کام آتی ہے)

Gasalier, n. A gas-burning chandelier :
 گیس کا : جہاز

Gasconade, n. A boast or boasting ; a bravado :
 v. t. To boast ; to brag : گداز - گفتاری -
 ڈینگ ڈینگ مارنا - لوبی ہنکنا

Gaseous, a. In the form of gas : گیس کی صورت

Gash, n. A deep and long cut : گہرا گہاڑ
 * v. t. To cut deep : گہرا زخم
 کاری * زخم کاری
 گہرا گہاڑ کرنا

Gaskins, n. Loose breeches : ڈھیلا
 ڈھنگوہا - گپٹنا

Gasometer, n. A place where gas is prepared :
 وہ مقام جہاں گیس طیار کی جائے

Gasp, v. i. To pant for breath : ہانپنا - دم لینا
 * n. A laboured respiration : سانس بھرنا

At the last—, n. * دم دایمیں - سانس - دم مرگ
 دم مرگ - پندرگور - قریب
 از مرگ

Gast, v. t. To frighten : ڈرا دینا

Gastric, a. Pertaining to the stomach : شکم یا
 معدے کے متعلق

Gastritis, n. Inflammation of the stomach :
 پیٹ کی سوجن

Gastronomy, n. The science of good eating :
 علم لذت - شکم پرستی

Gate, n. A large door ; a way or passage :
 پھاٹک - دروازہ - در

Gather, v. t. To bring together ; to collect ; to
 plait ; to pluck : اکٹھا کرنا - فراہم کرنا - بٹورنا -
 پلاٹ ; to pluck

- Gather**, *v. i.* To infer : نتیجہ نکالنا * *n.* A plait or fold in cloth : شکن - چٹا
- Gathering**, *n.* An assembly of people ; a collection : جماعت - مجالس - اجتماع
- Gaud**, *n.* Ornament ; trinket : زیور - کھلونا
- Gaudery**, *n.* Finery ; ornaments : آرایش - زینب و زینت
- Gaudily**, *ad.* Showily ; splendidly : - بھڑک سے - چٹک سے
- Gaudiness**, *n.* Showiness : بھڑک - چٹک - آرایش
- Gaudy**, *a.* Ostentatiously fine ; showy : زینبیشی - نمائشی - بھڑکیلا
- Gauge**, *v. i.* To measure or ascertain the contents of : * *n.* A measure ; a rod for measuring : ماپ - پیمانہ پائی ٹائپ کا گز
- Gaunt**, *a.* Lean ; meagre ; thin : دہلا - لاغر - پتلا
Syn.—Thin, lean, slender.
- Gauntlet**, *n.* An iron glove : دستانہ آہنی * To throw the—, to offer a challenge : چیلنج کرنا * To take up the—, بیڑا اٹھانا - میدان میں آنے
- Gauze**, *n.* A thin silk or linen : باریک ریشمی کپڑا - گاجھہ
- Gawk**, *n.* A simpleton : گاڑی - بیوقوف
- Gay**, *a.* Cheerful ; merry ; playful : دلشاد - نمائشی * Showy : شادمان - باغ و باغ خوش
Syn.—Merry, blithe, frolicsome.
- Gayety**, See Gaiety. **Gaze**, *v. t.* To look steadily ; to look fixedly : گھورنا - ٹکٹی لگنا - شوق سے ٹکٹکی - نظر
- Gazelle**, *n.* A species of Arabian deer : غزال - ہرن - مزگ - چکارا
- Gazette**, *n.* An official newspaper : سرکاری اخبار - شایع کرنے - درج * *v. t.* To publish officially : اخبار سرکاری کرنا
- Gazetteer**, *n.* A writer of news : اخبار نویس لغت : A geographical dictionary : جہاں شہروں اور ملکوں کا بیان ہو
- Gear**, *n.* Goods ; harness : مال و اثاثہ - ساز و سامان
- Gelatine**, *n.* An animal substance which dissolves in hot water, and forms a jelly on cooling : جانوروں کا وہ چٹا چٹا مواد جو پانی میں ٹھل کر لسلسا ہو جاتا ہے

- Gelatinous**, *a.* Like gelatine : چھپچھپا - لسلسا
- Geld**, *v. t.* To castrate : آختہ کرنا - بدھیا کرنا - خصبی کرنا
- Gelding**, *n.* A castrated animal : آختہ جانور - خصبی - بدھیا
- Gelid**, *a.* Extremely cold : نہایت سرد
- Gem**, *n.* A precious stone ; a jewel : گوہر - شکرگتہ - کئی * A bud : من
- Gemini**, *n. (pl.)* The twins ; a sign in the zodiac : توام - مہون راس - جرزا - جوزا
- Gemmy**, *a.* Glittering or adorned with gems : چراہرات سے چمکاتا - مرصع
- Gendarme (zhandarm)**, *n.* فرانسیسی رسالہ کا سردار
- Gender**, *n.* Sex, male or female : نوع مذکور و مؤنث - ذکر - رنٹ
- Genealogical**, *a.* Pertaining to genealogy : نسبی - نسلی
- Genealogist**, *n.* One who traces pedigrees : نسب دان - شجرہ نویس
- Genealogy**, *n.* An account of the descent of a person or family from an ancestor ; lineage : نسب نامہ - شجرہ خاندان - بنسالی
- Genera**, *n. pl. of Genus.* Kinds ; species : اقسام - اجناس
- General**, *a.* Common ; public ; usual ; not specific : عام - کلیہ - اکثریہ * A—term, کل * In—, ہر جنس فرس * A—dealer, جنس پر لحاظ کیا جاوے - فی الجماعہ - اکثر - عمرماً
Syn.—Common, universal.
- General**, *n.* The whole ; the main part : سب سے سالار - سپہ سالار - The commander of an army : سینا پتی
- Generalize**, *v. t.* To arrange under general heads : جنس جنس یا قسم قسم کرنا - ترتیب دینا
- Generallissimo**, *n.* A commander-in-chief : سب سے سالار - سالار چٹک
- Generality**, *n.* The state of being general : the greatest part ; majority : عمومیت - کلیت - جمہور - زیادہ حصہ - بہت آدمی - عام تصور
- Generally**, *ad.* Commonly : عمرماً - اکثر - عمرماً کہنے کو * —to say, علی العموم
- Generalship**, *n.* Skill and conduct of a general-officer : سپہ سالاری
- Generate**, *v. t.* To beget ; to bring into life ; to produce : پیدا کرنا - جنمنا - نمودار کرنا - نکالنا

Generation, n. Offspring; breed : نسل - اولاد *
A race : قوم * An age : زمانہ - پشت

Syn. - Progeny, offspring.

Generative, a. Able to produce; prolific : پیدا
کرنیوالا - مواد - اوہجاڑ

Generator, n. One who produces : -
پیدا کرنے والا - اوہجا نیرالا

Generic, a. Pertaining to a genus or kind ;
very comprehensive : جنس کا - قسم وار - بہت چیزوں
یا خصوصیتوں پر ہارہی

Generosity, n. Quality of being generous; mag-
nanimity : کفایت دلی - سخاوت - فیاضی - بخشش - فیض

Syn. - Munificence, benevolence.

Generous, a. Magnanimous; honourable; muni-
ficent; liberal : سخی - عالی منہ - بلند - وصلہ -
کفایت دل - فیض - مالا مال - وافر - صاحب ہمت

Genesis, n. The first book of the Old Testa-
ment : * Origination : پرانے عہد نامہ کی پہلی کتاب :-
پیدائش - ابتدا - آغاز

Genet, n. A small Spanish horse : اسپن کا نر -
ہالینڈ کی شراب

Genial, a. Generative : والا * Gay :
خوشدل - دلگند - فرح افزا : cheerful; friendly

Geniality, n. Sympathetic; cheerfulness :
انسیٹ - میل - خرس طبعی

Genially, ad. Cheerfully : خرسطبعی سے - بخوشی

Genital, a. Pertaining to generation : نسل کے
متعلق - اصلی - پیدائشی

Genitals, n. The external organs of generation :
اعضائے تناسل - شرمگاہ

Genitive, n. The second case in Latin grammar :
مضاف الیہ

Genius, (pl. Geniuses) Intellect : ادراک -
ذہن یا صاحب : A man of genius * نهم - عقل
جن - (pl. Genii) Spirits; demons : جن -
بوت

Genteel, a. Well-bred; polite; graceful in
mien, or form : خوش اخلاق - مہذب - خرس وضع -
آراستہ

Syn. - Polite, well-bred, refined, polished.

Gentile, n. One of a non Jewish nation :
ہت پرست - کافر : A heathen * جو یہودی قوم کا نر

Gentility, n. Politeness of manner :
شرافت - انسیٹ - مروت

Gentle, a. Well-born; mild; meek; docile ;
شریف - نیک - حلیم - سلیم الطبع -
تربیت بزرگ - مسکن - ملکی - مٹھی

Syn. - Tame, mild, meek.

Gentlefolk, n. Persons of good breeding and
family : شریف لوگ

Gentleman, n. A man of good family; a well-
bred man : عالی خاندان - شریف - خلیق - خوش
خلق

Gentlemanly, a. Behaving a gentleman;
polite : بزرگوارانہ - خلیق - حلیم

Gentleness, n. Sweetness of disposition; mild-
ness : شفقت - حلم - ملائمت

Gentlewoman, n. A woman of good breeding;
a lady : نیکبخت عورت - صاحبہ

Gently, ad. Meekly; softly : براہمیت - باہستگی -
دھیبے

Gentry, n. A class of people above the vulgar;
شرفا - رؤسا

Genuelect, v. i. To kneel as in worship :
کے وقت جھکنا

Genuelection (Jen-yu-flec-shu), n. The act of
kneeling : زانو کا جھکانا عبادت کے وقت

Genuine, a. Not adulterated; real; pure; not
spurious : بے لیا - اصل - حقیقی - خالص - سچا -
نا مقاد

Genuineness, n. Freedom from adulteration;
purity : اصلیت - چرکبازن - پورائی - صحت

Genus, n. A distinct class or group : جنس -
فرع - قسم

Geographer, n. One versed in geography :
جغرافیہ دان

Geography, n. A description of the earth :
جغرافیہ

Geographical, a. Pertaining to geography :
متعلق جغرافیہ

Geological, a. Pertaining to geology :
علم طبقات کے متعلق

Geologist, n. One versed in geology :
مابحر علم طبقات ارض

Geology, n. The science which treats of the
formation and structure of the earth : علم
طبقات - کوا ارض - ارضیات علم ترکیب زمین

Geomancy, n. Fortune telling by lines or
figures : زائچہ دانہی - رمنا

Geometrical, *a.* Pertaining to geometry : علم اقلیدس کے متعلق
 Geometrician, *n.* One skilled in geometry : اقلیدس دان - مهندس
 Geometry, *n.* The science which treats of the relation, properties and measurement of solids, surfaces, lines and angles : تھریئر : اقلیدس - مساحت - ریکھا کنت
 Germ, *n.* The rudimentary form of a living thing (*animal or plant*) a sprout or shoot ; جاندار شئی کی ابتدائی صورت - کل - انکھوا اصل - انگز
 German, *a.* Closely allied : *n.* نزدیکہ * رشتیدار
 Germinate, *v. i.* To sprout ; to bud ; to put forth : کل پھرتنا - ارگنا - نکلا
 Germination, *n.* The act of sprouting or shooting ; growth : ارگنا - اکساز - نمود
 Gerund, *n.* A kind of verbal noun, which governs cases like a verb : اسم فعل کی ایک قسم
 Gestation, *n.* Act of bearing young in the womb : حمل رکھنا - آبستنی - گریہہ
 Gesticulate, *v. i.* To show postures ; to make gestures : to play antic tricks : صورت بٹانا - حرکت : *v. t.* To represent by gesture ; to act : بھاؤ بٹانا - نقل کرنا
 Gesticulation, *n.* Act of making gesture : حرکات جسمانی - نقل
 Gesture, *n.* A motion of the body or limbs expressing sentiment or passion : حرکات جسمانی - وضع
 Get, *v. t.* To procure ; to acquire ; to procure ; to gain possession ; to win ; to learn ; to prevail on : پیدا کرنا - حاصل کرنا - ہاتھ لگانا - قبضہ * میں اتنا - جیتنا - سیکھنا - امادہ کرنا - توغیب دینا
 To—about, to circulate : *To—abroad*, to become known : کھلانا - ناش ہونا
 To—at, to reach : *to gain* : حاصل * *To—away*, to go away ; to depart : *to remove* ; to carry off : ہٹا لیجنا * *to remove* ; to carry off : چلا جانا
 To—back, to return : *To—down*, to descend : *To—in*, to enter : داخل
 To—bring : لانا * *To—off*, to escape : دور کرنا * *to remove* : ہٹا کر نکل جانا - فرار ہوجانا

to alight : اترنا * *To—on*, to make progress : *To—out*, to extricate one's self : *To—over*, to overcome : *To—par* ہونا * *To—cross* : غالب آنا
 To make ready : تیار کرنا * *To—through*, to traverse or pass through : *To—accomplish* : پھرچنا * *To—to*, arrive at : انجام دینا
 To—*together*, to assemble ; to conven : *To—up*, to rise from a seat or bed : *To—prepare* : تیار کرنا * *To—about one's business*, to be off ; to go away : چل
 To—*by heart*, to commit to memory : *To—clear of*, to escape unhurt : *To—drunk*, to become intoxicated : *To—rid of*, to get quit of : *To—scent of*, to get an inkling of : *To—th* : better, to gain advantage : *To—the start of*, to gain advantage over : *To—wind*, to become known : *To—get up a suit* : *To—by heart*, *To—the better of*, غائب رہنا - فرق کے چٹا - دبا لینا
To—gain : to become : *To—above*, *To—along* : *To—clear* : *To—on*, *To—through*, کسی کے بیچ سے ہو کر نکالنا
Gewgaw, n. A showy trifle ; a toy : کھارنا - کتبہ پتلی
 Syn.—Toy, plaything, bauble.
Geyser, (Pr. gui-ser) n. A fountain which spouts boiling water : گرم چشمہ جسمیں سے فوارہ نکلتا ہو
Ghastliness, n. Frightful aspect ; paleness : خوفناک صورت - زرد روئی
Ghastly, a. Death-like ; pale ; dreadful : مردانی - زرد - خوفناک - مویب - ہیبت ناک
Gherkier, n. Any small cucumber used for pickling : چورٹی کڑی - کھیرا
Ghost, n. An apparition ; the spirit : عورت پریت * *The Holy Spirit* : روح القدس * *To give up the—*, مرجانا - جان بحق تسلیم کرنا

Ghostly, a. Relating to apparitions : * اسپیدی
Spiritual : روحانی

Syn.—Spiritual, spectral, phantomlike.

Giant, n. A man of extraordinary stature : خوب
لمبا چوڑا آدمی - دیو

Gib, n. An old worn out animal : پرزہ ادر نہایت
نیل کا ایک * A part of machinery : ضعیف جانر
پرزہ

Gibber, v. i. To speak rapidly and inarticulate-
ly : جلدی میں صاف نہ بولنا، گلبل نابل کرنا، کھڑے سپڑ بولنا :

Gibbet, n. (pr. Jibet) A gallows : پھانسی کی گتھی
v. i. To hang on a gibbet ; to expose to
infamy : پھانسی دیکر لٹکا رکھنا - رسوا کرنا - رو سیاہ
کرنا

Gibbous, n. Protuberant ; convex ; humped :
اُبھرا ہوا - خمیہ دار - گرتڑا

Gibe, v. i. To rail ; to mock ; to sneer : چڑھانا
آزے ہاتھ لینا - طعن تشنیہ کرنا
Syn.—Sneer, scoff.

Giblets, (pl.) The parts of a goose which are
cut off before it is roasted : پرند کے رے اعضا جنکو
ذباب کرنے سے پہلے کٹ داتے ہیں

Giddily, ad. Carelessly ; unsteadily : -
مضطربانہ - بیقراری سے

Giddiness, n. The sensation of reeling ; levity :
دوران سر - تیرر - گھمبہری - ہلکان
Syn.—Vertigo, dizziness.

Giddy, a. Dizzy ; unstable ; flighty ; heedless :
سرگرداں - چکراتا - گھومتا - بے قرار - چنچل - متحرک
غافل

Gift, n. Anything given ; a present : عطیہ -
* * * وصف خداداد : بخشش - نذرانہ
فصاحت -
of the gale, fluency of speech : خوشگویی

Gifted, a. Endowed with a faculty : وصف -
خداداد رکھتا ہوا - ہوشیار
Syn.—Talented, intelligent.

Gig, n. A top or whirligig : * لٹو - پھرکی
ہلکی گاڑی - تم
* * * A ship's boat : کشتی - قونگي
* * * lamps, spectacles : چشمہ - عینک

Gigantic, a. Of extraordinary size ; mighty :
عزیزت صورت - نوی ہیکل - عظیم الجثہ - مہیب -
زی

Giggle, n. A kind of laugh : * کھلکھلاہٹ - ہنسی
v. i. To laugh ; to titter : کھلکھلانا - ٹوٹھلانا

Gild, v. t. To overlay with gold ; to illuminate ;
to brighten : سونا چڑھانا - جلادینا - چمکانا

Gilder, n. One who gilds : ملاح ساز

Gill, n. The respiratory organ in fishes : مچھلی
کھلاڑ عزت * A sportive or wanton girl : کا گلپھڑا
* The fourth part of a pint : قریب
آدھہ پاؤ کے

Gillie, n. A man servant : * خدمتگار - خادم
The man who leads a pony about when a child is
riding : نوکر جو لڑکے کو تتر پر سوار کرا کر سیر
کرائے

Gimlet, n. A small borer : چوڑونا برما - برمی

Gimp, n. A kind of silk lace : ایک قسم کا ریشمی
گرتا

Gin, n. An alcoholic liquor : * جین شراب
A machine for separating the seeds from cotton.
* دام - پھندا * A trap ; a snare : روٹی اوتنے کی کل

v. t. To clear cotton of its seed ; to catch in
a trap : روٹی اوتنا - بذلہ نکالنا - دام میں پھنسانا

Ginger, n. A plant and its hot and spicy root :
* زنجبیل - سرنگھہ * ادک - سرنگھہ
—bread work, نقشین اور ناذک کام

Gingerly, a. Cautiously ; nicely : ہوشیاری سے -
خوبی سے - عمدہ طور سے

Syn.—Fastidiously, carefully.

Gipsy, n. One of a vagabond race : ایک خائف
بدوش قوم

Giraffe, n. An African quadruped whose fore-
legs are much longer than the hind ones ;
the camelopard : زرافہ - شتر گاؤ

Gird, v. t. To bind ; to tie round ; to encircle ; to
seize : پکڑنا - گھیرنا - کسنا - گھیرنا - پکڑنا
کمر کس کر ملبار : To—up the
lions, to get ready for hard work : (کسی مشکل کام کے واسطے)
* To—one's self, کمر بستہ ہونا - تیار ہونا

Girder, n. One who girds : * A main
beam resting upon a wall at each end : دھرنی
یا کڑی جو در ستونوں پر ہموار پڑی ہو

Girdle, n. A band for the waist ; a belt : کمر بند -
* To turn one's—, to challenge :
چالنی مانگنا - مقابلہ چاہنا - کشتی کے لئے تیار ہوجانا

Girl, n. A female child : لڑکی - کنیا - دختر - چہرکڑی - لڑکی - کنیا

Girlhood, n. The early stage of maidenhood : کنوارا پن - بالا پن

Girt, v. t. To gird ; to surround : لپیٹنا - گھیرنا -
 اسی سے چکڑا ہوا * a. Bound by a cable : کسنا

Girth, n. A strap for a saddle ; circumference : پشت تنگ - معیہ - حلقہ - گھیرا

Gist, n. The main point of a question or action ; that on which it rests or turns ; point to arrive at ; pith : منشاء سوال - اصل مطلب - بنا امر

Give, v. t. To bestow ; to confer ; to grant ; to pay ; to yield ; to utter : عذیت کرنا - بخشنا -
 To—away, to part with : دے ڈالنا * To—back, to restore : عکس یا پرتو ڈالنا * To reflect : واپس دینا - لوٹانا
 To—forth or out, to publish ; to announce : اعانت قبول * To—in, to yield : مشہور کر دینا
 To—off, to emit, to exhale : نکالنا * To—out, to announce : مشہور کر دینا * To emit ; to send forth : چھوڑنا - ڈالنا
 To—over, to abandon : ہاتھ دھو * To despair of one's recovery : ترک کر دینا
 To—up, to abandon : ترک کر دینا * To—birth, to be delivered of : جنم پیداکرنا * To—chase, to pursue : پیچھا کرنا * To—one's self, airs, to assume an affected or haughty manner : مغرور ہونا - تمکنت ڈھلان
 To—one's self up for lost, اپنے تئیں ہلاکت کا تمہہ سمجھنا * To—one the go-by, to pass one over : ٹوکا دینا * To—one the slip, to steal off : چھوٹ یا نکل بھاگنا * To—the cold shoulder to, to show deliberate neglect or contempt to : بے التفاتی کرنا * To—the cue, to give one a hint : اشارہ دینا * To—the lie to, to show the falsehood of : جھٹلانا
 To—up the ghost, to die : مرجانا * To—vent to, to pour forth : ظاہر کرنا * To—way, to fall back : پس پا ہونا * To—way to, to make room for : راہ دینا * He giveth twice that gives intrce, تیرت دان مہا کلین

Gizzard, n. The stomach of a bird : پرنتہ - سنگدان - پتھری

Galcial, a. Consisting of ice ; icy ; frozen : برف دار - برف کا - منجمد

Glaciate, v. t. To turn into ice : برف - برف ہوجانا

Glacier, n. A field or mass of ice : برف کا میدان - برف پتھردہ

Glacis, n. A sloping bank : ڈھال - پشتہ

Glad, a. Cheerful ; joyous ; pleased : دلشاد - مسرور - خرسحال - خوش - خرسند

Gladden, v. t. To make glad ; to cheer : خوش کرنا - مسرور کرنا

Glade, n. An opening through a wood or ice : جنگل یا برفستان میں گذرگاہ یا صاف میدان

Gladiator, n. A sword-player : سیف پھینکنے والا - شمشیر باز

Gladly, ad. Cheerfully : با خوشی - شوق سے

Gladness, n. Joy ; cheerfulness ; exhilaration : خوشی - فرحت - شادمانی - انبساط

Gladsome, a. Pleased ; joyful ; cheering ; causing joy : خوش - خرم - مسرور - فرحت بخش

Glair, n. The white of an egg ; anything slimy ; a halbert : اوندے کی سفیدی - لسدار شے - گنداسا

Glamour, n. Enchantment : دھیشہ بندی

Glance, n. A sudden shoot of light ; a darting of the eye ; a glimpse : کرن - جھلک - نظر - نگہ
 —, v. t. To dart a ray of light ; to look with a rapid cast of the eye ; to allude to : نظر پھینکنا - سراسری دیکھنا - اشارہ کرنا

Gland, n. A soft fleshy organ in animals and plants : گانڈھہ - گانڈی - غدود

Glanders, n. (pl.) A contagious disease in horses : گھوڑوں کی ایک بیماری جو ہوائے بویاتی ہے

Glandular, a. Consisting of glands : گانڈی دار

Glare, n. A bright, dazzling light ; a fierce ; piercing look : چمک - چمک - جگمگات - تابش
 —, v. t. To shine with a clear, dazzling light ; to look with fierce ; piercing eyes : چمکنا - دمکنا - ڈلنا - غور سے دیکھنا

Glaring, a. Shining brightly ; clear ; notorious : چمکیلا - صاف - ظاہر - معروف - مشہور

Glass, n. A hard, brittle transparent substance; a mirror; a telescope; a drinking vessel: شیشہ - آئینہ - درز بین - آئینہ - جام

Glass-blower, n. One who fashions glass: شیشہ گر - منہار

Glassy, a. Made of glass; like glass; smooth: کانچ کا - شیشہ سا - چمکا

Syn.—Vitreous, crystal, crystalline.

Glave (glair), n. A broadsword; a falchion: چرزی تارار - تیغہ

Glaze, v. t. To furnish with glass; to render smooth: شیشہ چرنا - روشن کرنا - گورننا - مہرا کرنا - گافز کر

Glazier, n. One whose business is to set glass: شیشہ چرنے والا - دروازوں میں

Gleam, n. A shoot of light; ray; brightness: شعاع - کرن - روشنی - چمک

—, **v. i.** To cast light; to shine; to glimmer: شعاع یا کرن ڈالنا - چمکانا - چمکانا

Gleamy, a. Sending forth rays: کرن ڈالنا ہوا - چمچماتا

Glean, v. t. To gather what reapers leave behind: خشہ چینی کرنا - بیننا - پھوس رہاں سے چن لینا

Glebe, n. Turf; soil; sod: مین - اراضی - کھیت - دب چورا - مٹی

Glee, n. Joy; merriment; a song in parts: خوشی - شادمانی - ٹپہ - خیال - گیت

Gleeful, a. Gay; merry; joyous: شادمان - خوش - مگن

Glen, n. A secluded and narrow valley; a dale: درہ - راہی - گھاٹی

Glib, a. Smooth; slippery; voluble: چمکانا - پوسلنا - چرب

Glibly, ad. Smoothly; volubly: چمکاہٹ سے - چرب زبان سے

Glide, v. i. To flow gently; to slide: آہستہ سے - گزرتا - بہتا - پوسلنا

Glimmer, v. i. To shine faintly: ٹمٹمانا - چمکانا

Syn.—Shine, gleam, glitter.

Glimmer, n. A faint light; feeble, scattered rays of light: ٹمٹماہٹ - جواہرات - دھندلی روشنی

Glimmering, p.p. Shining faintly: جواہراتے ہونے - چمکاتے ہوئے

Glimpse, n. A sudden flash; a short, hurried view: جواہرات - کرنہ - چلتی نظر - جھپک

Glisten, v. i. To sparkle with light; to shine: جواہراتا - دمکانا - چمکانا

Glister, n. Lustre; brightness: چمک - چمکی

Glitter, v. i. To shine brightly: دمکانا - چمکانا

Gloat, v. i. To stare with eagerness or desire: بڑے شوق یا خواہش سے دیکھنا - ٹکنا - گھورنا

Syn.—Stare, gaze.

Globose, a. Globe-shaped; round; spherical: مدور - گول - کرپی

Globe, n. A round or spherical body; a ball; a sphere; the earth: گول چیز - گولا - کرہ زمین

Globular, a. Spherical; round: گول سا - گول

Globose, n. A little globe; a small round particle: گول دانہ - گولی

Glomerate, v. t. To gather into a ball: گولی پاندھنا

Glomeration, n. The act of winding into a ball: گولا پاندھنا

Gloom, n. Darkness; obscurity; heaviness of mind: دھندھاپن - تاریکی - ظلمت - ملال

Syn.—Darkness, heaviness, depression, sadness.

Gloomily, ad. Obscurely; sullenly: تاریکی سے - ملال سے - اداسی سے

Gloominess, n. Obscurity; gloom: تاریکی - ظلمت - ملال - کاف

Gloomy, a. Dark; dismal; sullen: دھندھلا - تاریک - دلگیر - مارول - اندردہ

Glorify, v. i. To make glorious to exalt: ستائش کرنا - عظمت دینا - تعریف کرنا

Glorious, a. Noble; illustrious; magnificent: جلیل - ذوالجلال - عظیم - نامی

Glory, n. Praise; honor; splendour; renown: ستائش - تعریف - عزت - جلال - نور - شان - شہرت

v. i. To exult; to rejoice; to boast: شادمانی: کرنا - خوش ہونا - نظر کرنا - ناز کرنا

Gloss, n. Brightness : چمک - چمک * A specious appearance : نمایشی رونق * A comment ; explanation : تیکا * *v.t.* To make smooth and shining ; to explain : - جلا دینا - شرح کرنا

Glossarist, n. A writer of a glossary : شارح - حاشیہ نویس

Glossary, n. A vocabulary of words requiring elucidation : فرہنگ لغات - ترویج الفاظ

Glossography, n. The writing of commentaries : شرح نویسی

Glossy, a. Smoothly polished ; bright : چمکیلا - درخشاں

Glove, n. A cover of the hand : دستہ * **Hand and—, sworn friends :** - چگری یار

Glow, v. t. To shine with intense heat ; to burn : طیش : * **To rage with passion :** - دھکا - ہلکا - چلکا میں آنا

Glow, n. Shining heat : تابش * **Brightness of colour :** - لالی * **Intense excitement :** - آسنگ - طیش - لہر

Glowing, a. Shining with heat ; ardent ; inflamed : روشن - تابدار - روناہ انگیز

Syn. — Vehement, exciting.

Glow-worm, n. The fire fly : چمکو - کرم شب تاب

Glaze, v. t. To flatter ; to wheedle ; to misinterpret : چاپلوسی کرنا - خوشامد کرنا - غلط بیانی کرنا

Glue, n. A viscous substance ; a cement : سریس لگانا - سٹنا - چروٹا * *v. t.* To join with glue ; to unite : سریس لگانا - سٹنا - چروٹا

Gluey, a. Viscous ; adhesive : لاسا - چپچپا

Glum, a. Sullen ; gloomy : خوش رو - ارداس - ناخوش - مکدر - خاموش - بیزار

Glume, n. The husk or chaff of grain : بھوسی - اناج کا چھلکا

Glut, v. t. To swallow greedily ; to satiate ; to overfill : بھوسنا - بھرتنا - سیر کرنا - بھرمار کرنا

Gluten, n. The sticky substance which makes dough tough : نشاستہ - اناج کا اس

Glutinate, v. t. To join with glue : سریس سے چروٹا

Glutinous, a. Tenacious ; viscous : لسار - چپچپا

Glutton, n. One who eats to excess ; a gourmandizer : بیسار خوار - پیٹر - کھڑ جوالبقر

Gluttonous, a. Given to excessive eating : بیسار خوار - پیٹو

Gluttony, n. Excess in eating : بیسار خوری

Glycerine, n. An extract from fatty matter : چربی دار چیزوں کا عرق - گلیسرین

Gnarl, v. t. To growl ; to snarl : گڑگڑانا

Gnarled, a. Knotty ; full of knots : گھپلا - گڑا دار

Gnash, v. t. To grind or strike together the teeth : دانت بیدنا - دانت کچکچانا

Gnat, n. A small insect that bites : مچھوڑ - کنگی - پشہ

Gnaw, v. t. To bite off little by little ; to corrode : کڑنا - دانت سے کاٹنا - کھا جانا - بوس : **Gnaw the bone which is fallen to thy lot :** قسمت میں جو لکھا ہے سو بھروٹا ہرگا

Gnome (Pr. nom), n. A fabulous race of people who inhabit the inner parts of the earth : ایک قسم کے اورگ جنکی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کے اندر رہتے ہیں

Gnomon, n. The style or pin of a sun dial : دھب گڑی کا کاٹنا - مقیاس

Gnostics, n. One of a sect, which maintained that knowledge and not faith was the way of salvation : عیسائیوں کا ایک فرقہ جسکا اعتقاد تھا کہ ایمان سے نہ کہ ایمان سے نجات ملتی ہے اور کہ تمام حقیقت دینی و نا دینی ظہور الہی ہیں

Go, v. i. To move ; to walk ; to travel : - جانا

To advance ; to proceed : * چلنا - روانہ ہونا - سفر کرنا

To pass : * آئے جانا - بڑھنا

To have currency or use : * پیسہ ہونا

To be taken ; accepted, or regarded : * دراج ہونا - دستور ہونا - مشہور ہونا - قدر کرنا

To depart, or ruined, or ruined, or ruined : * رخصت ہونا - الگ ہونا - گریز کرنا

To—about, to move from place to place : * مرننا - فنا ہونا - برباد ہونا

To—about, to endeavour to attain one's duties ; to be off : * ادھر ادھر پھرنا

To—about one's business, to attend one's duties ; to be off : * میں لگنا -

گھومنا * To—abroad, to walk out : چلا جانا
 To become public : مشہور ہوجانا * To—
 against, to oppose : برخلاف ہونا * To be dis-
 agreeable : ناموافق ہونا * To—ahead, to
 advance : آگے بڑھنا * To—astray, to wander :
 بھٹکانا * To—between, to interpose or medi-
 ate between : بیچ بیچاؤ کرنا - درمیان میں پڑنا
 * To—by, to pass away unnoticed : گذر جانا *
 * To act by ; to follow : کسی ناعدویٰ مطابق چلنا *
 * To—down, to fall down : گر پڑنا * To fall
 in value : قرب جانا * To sink : قیمت گھٹ جانا *
 To set : غروب ہونا * To—for nothing, to
 have no value : کسی قیمت کا نہ ہونا * To—forth,
 to become published : مشہور ہوجانا * To—off,
 to depart : روانہ ہونا * To be discharged :
 دغ جانا * To—on, to continue : نظر ڈالنا *
 To pass off : اپنا راستہ * To—on one's way :
 اپنا راستہ * To—out, to become extinguished as a
 lamp : بجھ جانا یا گل ہر جانا * To be extinct as
 life : نکلچایا یا پروراز کر جانا * To become
 public : پھیل جانا * To—over, to change
 sides : پڑھنا یا * To read or revise : سزاہش کرنا *
 To—through, to finish : نظر ڈالنا * To—through,
 to finish : برداشت کرنا * To endure or suffer :
 ختم کرنا * To go through fire and water : اپنے مطالب
 * To—up, to rise : اٹھنا * To—up, to rise
 in price : گران ہوجانا * To—against the
 grain, to cause trouble : مقرر ہونا * To—
 all lengths, to go to the utmost extent : کوشش
 بلیغ * To—halves, to share equally : آدھا
 کرنا * To—hand in hand with, to come
 along with : لازم و ملزوم ہونا * To—
 hard with, to fare ill with : بڑی آنت میں آنا * To—
 on all fours, to move on hands and feet :
 گھٹنوں چلنا * To—with the stream, to follow
 the multitude : دیکھا دیکھی کام کرنا * To—
 well, to prosper : اقبالہند ہونا - کامیاب ہونا * To—
 without saying, to be plainly self evident :
 To—the way of all flesh, to go the way of all
 the earth ; to go to one's account : خود ظہر ہونا
 رحلت کرنا - راہی ملک بقا * ہونا - خدا کو اپنا
 حساب دینے کو جانا

Go, n. A circumstance ; the fashion or mode :

* حالت - حقیقت - طرز - وضع - چال - ماجرا - صورت

On the +, ناقرار ہوتے * ادھر اُدھر پھرتے
 کیا عجب ماجرا یا کیفیت ہے Here's a pretty—

Goadsman, n. An ox-driver : بیل ہنکاندروال

Goad, n. A pointed instrument to urge on a
 beast : گودی * v. t. To drive with a
 goad ; to instigate : آگس مارنا - گودنے - آگسنا

Goal, n. The point set to bound a race ; the
 final purpose : گہرز قور کے حد کا نشان - منزل
 مقصود

Goat, n. A quadruped with horns and long
 hair : بکرا - چھیری

Goatee, n. A trimmed beard like that of a
 goat : بکرے کے سی قازقی

Goat-herd, n. One who tends goats : گدڑیا - چر
 و اھا - گلہ بان

Gobbet, n. A mouthful, a lump : ذرائعہ - اقمہ -
 گمراہی

Gobble, v. t. To swallow hastily : بھڑپ
 کر جانا

Goblet, n. A drinking vessel without a handle :
 ساغر - پیالہ - جام - قح - کاسہ

Goblin, n. An evil spirit ; a frightful phantom :
 بھوت - پریٹ - آسیب - جن

Go-by, n. Evasion ; a passing without notice :
 ڈال مٹول - حیلہ حرالہ - در گذر - اغماز - جان کے
 انجان ہوجانا - تغافل دہنستہ

Go-cart, n. A wheeled apparatus for teaching
 children to walk : پھلے دار گل جس سے بچے چلنا
 سیکھتے تھیں - گڈرنا

God, n. The Supreme Being : خدا - پرمیشور -
 خدا کی قسم - خدا کے اگے * God before,
 بیانہ کا روپیہ - سرفی کا * God's penny,
 پیسہ

God's acre, A church yard : قبرستان

God child, n. A child for whom one becomes
 sponsor : دھرم کا بچہ

Goddess, n. A female deity : دیوی

Godfather, n. A man who becomes sponsor :
 دھرم کا باپ

Godhead, n. The divine nature ; divinity :
 الوہیت - خدائی

Godless, a. Ungodly ; irreligious ; wicked : ملحد - بے دین - منکر - کافر - ناسنک

Godlike, a. Resembling God ; divine : خدائی - ربانی - رحمانی

Godliness, n. Piety ; a religious life : تقویٰ - خدا - پرستی - دینداری

Godly, a. Pious ; righteous ; religious : خدا پرست - دیندار - بہت

Godmother, n. A woman who becomes sponsor : دھرم کی ماں

Godown, n. A goods warehouse : گودام - مال گدام

Godsend, n. An unexpected gift : نعمت غیر متوقعہ - بخشش - خدا داں - ہدیہ اسمانی

Godship, n. Divinity ; deity : اُلوهیت

Godson, n. One for whom another has been sponsor : دھرم کا بیٹا

Godspeed, n. Success ; a prosperous journey : ڈمبانی - سفر مبارک

Goggle, v. t. To strain or rill the eyes : پتلی پھیرنا - آنکھ کو پھیرنا - آنکھیں پھیر پھیر کر دیکھنا

Going, n. Act of moving ; departure ; course of life : رفتار - روانگی - رخصت - عاوری طریق - forth, outlet : نکاس - s or -s out, utmost extremity ; departures or journeys : چال چلن : s on, behaviour : حد - روانگیان - سفر

Goitre, Goiter, n. A tumour on the forepart of the throat : گھبنکا

Gold, n. A precious metal : سونا - طلا - زر - lace, thread : کلا پتوں - طلائی گونڈا

Gold-beater, n. One who makes gold leaf : ورق حاز - زرکوب

Golden, a. Made of gold ; shining : سنہرا - کواہت - The-mean, wedding : زرین - چمکیلا شادی کی پہچا سویریں یادگاری - wedding : اعتدال

Golden-age, n. The primeval age of innocence : ست چک

Golden-rule, n. پیشہ اصرار - گر - اربعہ

Goldsmith, n. A worker in gold : سادہ کار - سنار - زر گر

Golf, n. A game played with clubs and ball : ایک ٹھیک جو چھڑی اور گولڈرنس کھیلا جاتا ہے

Gondola, n. A Venetian pleasure boat : ملک رینس کی موز پٹنگھی

Gone, p. p. Departed : * Past : گیا * Undone ; lost : پرواں - تباہ

Gong, n. A kind of metal drum : گھنٹا - گھڑیال

Goniometer, n. An instrument for measuring angles : مقیاس الزاویہ

Gonorrhoea, n. An infective inflammation of the urethra : سوزاک

Good, a. Not bad ; excellent : اچھا - عمدہ * Wholesome : لایق - مناسب * Fit : * Virtuous : حلیم * Mild : نیک * Considerable : * Valid : سچ * Of use : * Kind : * As—as, not less than : * As—as one's word, faithful to one's promise : * To keep —, to remain in a good and sound condition : * To make—, to supply deficiency in : * To—stand, to be firm or valid : * A good fellow, many : * In—time, To make—(a charge), ذمہ کرنا

—, n. Welfare ; prosperity ; benefit ; pl. household furniture ; movable property : خیر - رعایت - سلامتی - بہتری - بہلائی - حاصل - ذمہ * For—, For—and all, finally : * ad. Well ; equally well ; quite ; considerably : خراب عمدہ - بالکل - زیادہ

Good-breeding, n. Polite manners or education : خوش اخلاقی

Good-bye, interj. Farewell : چلتے وقت کی دعا - سلام - رام رام - خدا حافظ

Good-day, n. A term of salutation at meeting or parting : سلام - بندگی - رام رام

Good-for-nothing, a. Worthless : ناکارہ - خراب - لا حاصل

Good-humoured, a. Good-natured : خوش مزاج - نیک نہاد

Good-nature, n. Kindness : مہربانی

- Goodness, n.** State of being good; excellence :
بہلائی - خوبی - نیکی
- Good-night, n.** A parting salutation at night :
رات کے وقت رخصت کا سلام
- Goods, n. (pl.)** Commodities; chattels : - اسباب
مال و متاع - جائیداد
- Goodly, a.** Pleasant; comely; graceful; large :
خوشگوار - خوشنما - حسین - جمیل - شکیل - بڑا - عظیم
- Goodness, n.** Virtue; excellence; benevolence :
نیکی - خوبی - بہلائی - لطف - مہربانی
- Good turn, n.** A kindness; a good service :
مہربانی - نیک ساری - نیکی
- Good-wife, n.** The mistress of the house : مالکہ
خانہ - گھریالی
- Good-will, n.** Benevolence; heartiness; the benefit of the patronage of old customers :
نیک اندیشی - خیرخواہی - دلدہی - شوق - سرگرمی -
پرانے گراہی کا ذمہ
- Goody-goody, a.** Mawkish good; overnice in morals :
حد سے زیادہ نیک - اخلاقی باتوں میں بہت ہی وسواسی
- Goose, n.** A fowl : قز * A tailor's smoothing iron :
بوزقوف - * A silly creature : نادان
- Gooseberry, n.** A thorny shrub and its fruit :
گوردنڈے کا درخت - گوردنڈا
- Goosecap, n.** A silly person : - احمق - گاردی -
بوزقوف
- Gordian-knot, n.** An inextricable difficulty :
سخت مشکل - مہم - پیچیدہ دار گڑھ
- Gore, n.** Thick or clotted blood; a triangular piece of cloth :
v. t. * گاڑھا لہ - کپڑے کی تکیا To pierce with a horn; to cut in triangular form :
سینگ چبھنا یا بھونکنا - کٹی کاٹنا
- Gorge, n.** The throat : حلق * A narrow passage between mountains :
v. t. * درہ - گذرگاہ To fill up to the throat; to satiate :
حلق تک To feed greedily :
v. i. * بھرنا - ناک تک بھرنا - بھرنا سیر ہرنا - اچھوٹا
- Gorgeous, a.** Showy; splendid; fine : - بوزیکلا -
زرق برق - عالی شان - عمدہ - فاخرہ
- Gorgeously, ad.** Splendidly : - شان : شوکت سے
بوزک سے
- Gorgeousness, n.** Show; magnificence : - بوزک -
زق - ہمک - زرق
- Gorget, n.** Armour for the neck : گردن کا بکتر
- Gorgon, n.** A fabled female monster : ایک
خیالی زشت و عورت
- Gorilla, n.** An ape of tropical Africa, of great size, strength and ferocity :
بنغالیس
- Gormand, n.** A glutton; an epicure : بسیار
خوار - پیٹو - دکم پرورد - نعمت خور - خوش خوراک
- Gormandize, v. i.** To eat ravenously :
بیکرمانا
- Gory, a.** Covered with gore; bloody; murderous :
خون آلودہ - لورہ لورہن - خونئی
- Gosling, n.** A young goose : بٹا نا بچہ
- Gospel, n.** Glad tidings : خوش خبری * One of the historical narratives of Christ's life :
انجیل مقدس
- Gossamer, n.** A flimsy substance like cobweb :
مکڑے کے جالے کا تر جز درختوں پر نظر آتا ہے
- Gossip, n.** One that tattles : * غیبی - بگردادی
غیب شب - چرچہ - Mers talk; idle rumour :
بات چیت کرنا - * v. i. To chat; to prate :
فپ فپ کرنا
- Gothic, a.** Pertaining to a style of architecture with high, sharply-pointed arches; barbarous :
تورکیالی معراب کی تعمیر کا - وحشی - بے
* n. The language of the Goths :
گاتھ قوم کی زبان
- Gouge, n.** A chisel with a round edge : گول
* v. t. To scoop out with a gouge :
بوسے سے سوراخ کرنا
- Gourd, n.** A plant and its fruit : لوبی - گھبیا
- Gourmand, n.** A glutton; an epicure : پیٹو -
بسیار خوار
- Gout, n.** A painful chronic disease of the joints :
ٹوٹیا - تقرس
- Gouty, a.** Afflicted with the gout : تقرس -
ٹوٹیا کے متعلق
- Govern, v. t.** To regulate by authority; to direct; to manage; to restrain :
فرمان دہانی

- * کرنا - حکم کرنا - سنہالنا - انتظام کرنا - روکنا
(Gram.) * عمل کرنا * v. i. To exercise authority :
راج کرنا
- Governable, a.** That may be governed ; obedient :
حکم بردار - حکم پذیر - روکنے قابل
- Syn.** - Submissive, controllable.
- Governance, n.** Management ; control : - انتظام
بندوبست - دباؤ
- Governante, n.** A governess : - اُستائی - اطوین - خانگی معلمہ
- Governess, n.** A female governor ; an instructor :
اطالیق - حاکمہ - اُستائی
- Government, n.** Control ; executive power ; an empire or state : - اختیار - حکومت - انتظام - سرکار - مملکت - سلطنت
- Governmental, a.** Pertaining to government :
متعلق سرکار - سرکاری - راج سمبندھی
- Governor, n.** One who governs ; a ruler ; a tutor :
لاٹ - General — * ناظم - حاکم - اُستاد :
نظمت - سرکرداری - ship, * صاحب - سربردار
- Gown, n.** A woman's upper garment : - پیدشراز -
A loose robe worn by professional men and scholars :
جینہ - جامہ - چوڑے - لہنگا
- Grab, v. t.** To seize ; to snatch :
چھپت کے پکڑنا - لپک لپک لینا - گرت کرنا
- Syn. - Clutch, seize.
- Grace, n.** Divine favour . فضل الہی .
Favour : کرم * Elegance of manners :
ایک چھوٹی دعا - * حسن - خربی
The title of a Duke or Archbishop :
پادری یا قیصر کا خطاب - حضرت -
Archbishop :
* v. t. To adorn ; to dignify ; to favour :
آراستہ کرنا - سنوارنا - رونق دینا - عزت دینا - مہربانی
کرنا
- Graceful, a.** Beautiful with dignity ; elegant :
حسین - خوش اصاری - وضع دار - سقور
- Gracefully, ad.** Elegantly : بطور -
پسندیدہ
- Gracefulness, n.** Elegance of manner : - حسن
خوش اصاری - وضع داری
- Graceless, a.** Void of grace ; corrupt : - کدبخت -
ایتز - شیر - بدذات
- Gracious, a.** Kind ; benignant ; benevolent :
رحیم - مہربان - کریم - نیک خو - دیوانت
- Graciously, ad.** Kindly ; courteously : - شفقت سے
مہربانی سے
- Gradation, n.** Orderly arrangement or progress ; a step in a series : - تدریج - رتبہ - درجہ -
پایہ - چڑھاؤ اتار
- Grade, n.** Rank ; degree : مرتبہ - درجہ - رتبہ
- Gradient, a.** Moving by steps : چلنے والا - تدریج
n. Degree of ascent or descent on a railroad :
انداز - اتار چڑھاؤ
- Gradual, a.** Proceeding by degrees ; progressive ; slow :
درجہ بدرجہ - رفتہ رفتہ - قدم بدم -
تدریج - آہستہ
- Gradually, ad.** By degrees : رفتہ رفتہ - درجہ
بدرجہ - تدریج
- Graduate, v. i.** To receive an academical degree :
To change gradually :
* فضیلت کا خطاب پانا
n. One admitted to an academical degree :
سند یافتہ
- Graduation, n.** Regular progression :
درجہ
پدرجہ کی ترقی - درجوں کی تقسیم
- Graft, n.** A small shoot inserted into another tree :
To insert, as cutting from one tree in a branch or stem of another ;
to implant ; to incorporate :
قلم لگانا - پیروند
دینا - شامل کرنا
- Grain, n.** A seed ; corn collectively ; a minute particle :
تشم - بیج -
Against * اناج - دانہ - ذرہ - سب سے چھوٹا وزن
مرضی کے خلاف - ناگوار -
* پکا دغا باز - ذاتی دغا باز * اٹھورنا
To dye in—, * پکا رنگ رنگنا
To paint in imitation of the grain of wood :
اصالی حالت
میں رنگنا
- Gram, n.** چنا - چھوٹا - نظرد
- Graminivorous, a.** Feeding on grass :
گھاس
کھانے والا - چرندہ
- Grammar, n.** Science of language ; the art of speaking or writing correctly :
قاعدہ صرف و
نعر - دیاکرون

Grammarians, n. One versed in Grammar :
قواعددان - معقق زبان

Grammatic, a. Pertaining to grammar :
صرفی متعلق - قواعد کی

Grammatical, a. According to the rules of
Grammar :
بہ قاعدہ صرف و نحو - با قاعدہ

Granary, n. A store-house for thrashed grain :
غلہ کا گودام - کھیتی - کھج

Grand, a. Of large size ; illustrious ; magni-
ficent :
بڑا - عظیم - بزرگ - اعلیٰ - کبیر

Syn. — Magnificent, sublime, majestic.

Grand-child, n. The child of a son or daughter :
پوتلا - پوتلی - فراسا - فراسی

Grand-daughter, n. The daughter of a son or
daughter :
پوتلی - دھتی

Grandee, n. A man of high rank :
رکن - امیر -
کبیر

Grandeur, n. Splendour ; magnificence :
شان و
شرف - عظمت - دیدہ

Grandfather, n. A father's or mother's father :
دادا - آجا - نانا

Grang, n. A farm with the building, &c. —
مزرعہ -
کھیتی

Grandiloquence, n. A lofty style of speech :
لغت تراشی - رنگین عبارت

Grandmother, n. A father's or mother's mo-
ther :
دادی - نانی

Grandsire, n. A grandfather ; any male an-
cestor :
دادا - جد اعلیٰ - بزرگ

Grandson, n. The son of a son or daughter :
پوتلا - فراسا - دھتا

Graniferous, a. Bearing grain :
دانہ دار - اناج لئے
ہونے

Granite, n. A hard and durable rock or stone :
سخت پتھر - سنگ لاج

Granivorous, a. Living on grain :
دانہ خوار - غلہ
خوار

Grant, v. t. To allow ; to concede ; to bestow :
قبول کرنا - منظور کرنا - عنایت کرنا - عطا کرنا

Syn. Give, bestow, confer, allow, concede.

Grant, n. A bestowing ; a conveyance by deed or
in writing :
بخشش - انعام - ہبہ - معافی - عطیہ
* جاگیردار - معافی دار - ملکی
Royal—, التصدق

Grantee, n. One to whom a grant is made :
مروہوب لہ - دہنے والا

Granulate, v. t. To form or break into grains :
دانہ دار کرنا - انکور لانا

Granulation, n. Act of forming into grains :
دانہ ہونا

Granule, n. A particle :
روا - دانہ - ریزہ

Granulous, a. Full of grains :
دانہ دار

Grape, n. The fruit of the vine :
انگور - عنب -
دائکہ - تانی

Graphic, a. Well delineated or described :
مشحون - واضح - منقش

Graphically, ad. In a graphic manner :
خوش
بیانی سے - اچھے نقشے سے

Grapple, n. A small anchor :
چوڑا لنگر

Grapple, v. t. To seize ; to lay hold of :
پکڑنا
* v. i. To contend in close fight as
wrestlers :
* To—with
a question, to investigate or discuss a
question :
* n. Seizure : a
wrestler's hold ; close fight :
گرت - کشتی - مشہدہ
بیگز - گتھم گتھا

Grasp, v. t. To seize and hold :
پکڑنا - گرت کرنا
* n. Gripe of the hand :
گرت - پنچہ چنگل - قبضہ

Grasping, a. Greedy :
لاالچی
Syn. — Avaricious, covetous.

Grass, n. Herbaceous :
* Not to allow
the—to grow under one's feet, to allow no
delay :
موقع کرجنے نہ دینا

Grass-hopper, n. A jumping insect :
آدم پوروا -
قدا - پھٹکا

Grassy, a. Covered with grass ; green :
گھاس سے
سبز - گھکا

Grate, n. A frame of iron bars for holding
coals used as fuel :
چونچیری - اتشدان - جالی -
رگڑنا -
* v. t. To rub ; to mortify :
* To—the
teeth, دانہ پینا

Grateful, a. Thankful : * ممنون - احسانمند - شاکر
Pleasing ; acceptable : خوش گوار - پسندیدہ

Syn.—Gratifying, delightful.

Gratefully, ad. With gratitude : احسان مندی سے -
ممنونگی سے

Gratefulness, n. Thankfulness ; gratitude :
شکر گذاری - احسان منگی - ممنونگی - حق شناسی

Grater, n. جھانڑا - ریتی

Gratification, n. Pleasure ; delight ; satisfaction : خوشی - فرحت - خاطر داری - حظ - سہری -
مقتصدوری - تفریح - لذت

Gratify, v. t. To indulge ; to please ; to recompense : لذت بخشنا - معطر کرنا - خوش کرنا - ایفا کرنا

Syn.—Indulge, humour, please, delight.

Grating, a. Fretting ; harsh : کڑیہ - سخت -
جھانڑھری - جالی * n. A partition of bars * ٹاکرا

Gratingly, ad. Harshly : درشتی سے

Gratis, ad. For nothing ; without reward : مفت - بلا عرض - بلا دامن

Gratitude, n. Thankfulness : شکر گذاری -
احسانمندی - شکر

Gratuitous, a. Free ; voluntary ; asserted without proof : مفت اختیارے - انعامی - بطور بخشش -
بلا ثبوت

Gratuitously, ad. Freely ; without reward : بے دام - بلا اجرت - مفت

Gratuity, n. A free gift ; a present : بخشش -
عنایت - انعام - خدمت - شکرانہ

Gratulate, v. t. To express joy at another's prosperity : مبارکبادی دینا - بے بے کار کرنا

Gratulation, n. A rejoicing with another : مبارکبادی - بے بے کار - بدھائی

Gratulatory, a. Expressing joy : مبارکبادی کا -
خوشی آمیز

Grave, v. t. To carve or cut ; to engrave ; to impress deeply : * کندہ کرنا - کوہنڈا - گہرا اثر کرنا

* n. A pit for the dead ; a tomb : مزار -
* a. Serious ; weighty ; solemn ; heinous :

سنجیدہ - سنگین - شدید - گہرے بھاری

Syn.—Sober, serious, sedate.

Gravel, n. Pebbles : سنگ ریتہ - کنکر - سنگ مساندہ -
پتھری

Gravelly, a. Abounding with gravel ; like gravel : کنکریلا - پتھریلا

Gravely, ad. Seriously : سنجیدگی سے

Graveness, n. Seriousness ; solemnity : سنجیدگی -
حلم - بزد باری - بھاری بھوکم پن

Grave-yard, n. A cemetery : قبرستان -

Gravid, a. Pregnant : حاملہ

Gravitate, v. i. To tend to the centre of attraction : مرکز - کشش کی طرف رجوع ہونا - جھکنا - مائل ہونا

Gravitation, n. Tendency to the centre : مایل ہونے کی^۱ توجہ -
بمركز کشش - کھنچاؤ - میلان - باہمی کشش

Gravity, n. Weight : * Tendency to the centre of attraction :
* Seriousness : کشش مرکز :
* Importance : ضرورت : سنجیدگی

Gravy, n. The juice of roasted meat : پیختی -
آبچرش

Gray, a. Hoary ; white mixed with black ; old : پھرا -
خاکھی سفید اور کالا ملا ہوا - کیرا - نینا - پوانا
* Gray hairs are death blossoms,
بال مرت کا پھل

Gray-beard, n. An old man ; a large stone jar : پتھ آدمی -
ایک بڑا پتھر کا برتن

Graying, n. A fish allied to the trout : ایک قسم کی^۱ روپھی مچھلی

Graze, v. t. To feed on grass ; to rub slightly : گھاس کھانا - چرنا -
رگڑنا - گھسنے - چرانا

Grazier, n. One who feeds cattle : گاہ بان

Grease, n. Animal fat : * v. t. To smear or anint with grease :
* چکنلا - چربی لگانا
* To —the palm, مٹھی گرم کرنا -
ورشرت دینا

Greasy, a. Oily ; fatty : چربی دار

Great, a. Large : * Much : * Vast : * عظیم :
* Important : * شدید : * Wide :

* Numerous : * Principal ; chief : * وسیع :
* Pregnant : * Teeming : * حاملہ : * خاص :

* —while, * عرصہ دراز : * —the, people of rank :
* —morning, broad daylight : * دن کا بڑا روشن

* —the, people of rank : * —morning, broad daylight :
* دن کا بڑا روشن

Greatly, ad. In a great degree ; much ; nobly : بہت سا - نہایت امیرانہ - دلیرانہ

Greatness, n. Largeness ; dignity ; nobleness : بڑائی - جسامت - زیادتی - بزرگی - عظمت

Greaves, n. Armour for the legs ; the sediment of melted tallow : - ساق پوش - تالو کا بکتہ - چربی کی گچھوت

Grecian, a. Pertaining to Greece : یونانی

Grecism, n. A Greek form of expression : یونانی زبان کا معارفہ

Greed, n. Eager desire ; greediness : - شوق - طمع - لالچ

Greedily, ad. Ravenously ; eagerly : بیصبری سے - شوق سے

Greediness, n. Ravenousness ; ardent desire : کھانے کا شہوا - بیصبری - طمع - شوق

Syn.—Ravenousness, voracity, eagerness, avidity.

Greedy, a. Ravenous ; voracious ; vehemently desirous : - جوعاکیب - پیشو - کھڑ - مشتاق - لڑہی - طمع - حرص

Greek, n. A native or language of Greece : **a.** Belonging to Greece : یونانی زبان **calends, A time never to come** - وقت جو کبھی دیکھنے میں نہ آئیگا

Green, a. Of the colour of grass ; verdant : سبز * **Unripe** : خام * **Fresh** : تازہ * **Inexperienced** : نیا * **Now** : گیل * **Not dry** : ناتھریہ کار - آٹائی - **vitriol** : سبز رنگ - مرغذار - **n.** The colour of grass ; a grassy plain : سبز رنگ - مرغذار

Green-grocer, n. One who sells vegetable : سبزی فروش - کھجرا

Green horn, n. An inexperienced fellow ; a novice : ناتھریہ کار جوان - مبتدی

Green-house, n. A house for preserving plants : پودوں کے تڑتارے رکھنے کا مکان

Greenery, n. Green grass or plants : - سبز زار - مرغذار

Green-eyed, a. Having green eyes : ارزق چشم

Greenness, n. Green colour ; unripeness : - سبزی - خامی

Green-room, n. A private room where actors dress and undress : - ایک کمرہ جہاں اداکار اپنے پریشاک بدلتے ہیں

Greet, v. t. To salute kindly or respectfully ; to compliment : - سلام کرنا - ہندگی کرنا

Greeting, n. Salutation ; compliments : - سلام - اداکاروں کی کورٹس

Gregarious, a. Living in a flock or herd : - چھوٹا جم میں رہنے والا

Grenade, n. A small bombshell : - چھوٹا بم کا گولا

Grenadier, n. A tall foot soldier : - آدھ پیدل سپاہی

Grewsome, a. Frightful ; horrible : - خوفناک - خوفناک

Greyhound, n. A swift dog, employed in hunting : - تازی کتا - شکاری کتا

Griddle, n. A pan to bake cakes in : - روتھی پکانیگا ٹوا

Gridiron, n. A grate to broil meat on : - گوشت پھرنے کی لڑھی کی انگلیٹھی

Grief, n. Pain of mind ; sorrow ; regret : - رنج - غم - اندوس **Syn.**—Affliction, sorrow, distress, sadness.

Grievance, n. A wrong suffered ; an injury : - ظلم - زیادتی - رنجش - سختی - جبر - نقصان **Syn.**—Burden, oppression, hardship, trouble.

Grieve, v. i. To feel grief ; to mourn : - رنج کرنا - غم کرنا

Grievous, a. Hard to bear ; painful : - شدید - سخت - درد انگیز - تکلیف دہ - غم آلود - غمگین

Grievously, ad. Painfully : - نہایت تکلیف سے

Grill, v. t. To broil : - پھوننا - کباب کرنا

Grim, a. Horrible ; hideous ; frightful : - ہائیت - ناکی - رشتہ پر - مہیب - تروارنا - کریہہ منظر

Grimace, n. A distortion of the countenance : - مہیہ بھانا

Grime, n. Soot ; dirt : - کاجل - میل - **v. t.** To foul or soil deeply ; to dirt : - گندہ یا میل کرنا

Grimy, a. Dirty ; foul : - میلا - فلیٹھا

Grin, v. i. To show the teeth : - دانت **n.** An affected laugh, a showing of the teeth : - جھمکت کی ہنسی - ٹھیس

- Grind, v. t.** To reduce to powder ; to sharpen ; to whet ; to oppress : - تیز کرنا - پکڑنا - پھینسا کرنا - سان چھڑانا - بڑا دھرنا - تنگ کرنا
- Grinder, n.** One who grinds : پسنہار * A molar tooth : دڑا
- Grindstone, n.** A revolving stone for sharpening tools : سان - چکی * To hold one's nose to the—, ناک رکھنا - ناک گھسنا
- Grip, n.** A grasp ; a seizing : گرفت - پکڑ
- Gripe, v. t.** To seize and hold fast : زور سے پکڑنا * To pain the bowels of ; to afflict : پیچش کرنا - تکلیف دینا
- Gripe, n.** Grasp ; seizure ; pain in the bowels : گرفت - پکڑ - پیچش - مڑوا
- Grisette, n.** The wife or daughter of a tradesman in France : فرانس ملک میں تاجار کی زوجہ یا لڑکی - معنت مزدوری کرنے والی جوان عورت
- Grisly, a.** Frightful ; horrible : ہیبت ناک - مہیب
- Grist, n.** That which is ground at one time ; supply ; provision : روٹی کا علاہ - گھان - رسد - زاد راہ
- Gristle, n.** A cartilage : کرکری یا چینی ہڈی
- Gristly, a.** Like gristle : کرکری ہڈی دار - کرکری ہڈی سا
- Grit, n.** The coarse part of meal : کنکی - کنکری * Sand : بالر * Resolution : استقلال * Coarse part of meal : بھوسہ * Oats coarsely ground : دلینا - ارداوا
- Grittiness, n.** The quality of being gritty : کرکری - کھمکھمساہٹ
- Gritty, a.** Full of grit ; sandy : بڑا - بھرا
- Grizzie, n.** A mixture of white and black : سیاہ - کالا عوا سفید و بھورا - خانی
- Groan, v. i.** To breathe or sigh, as in pain ; to mourn ; to strive after earnestly : کرنا - اہ - اہ - اہ * **under,** - مارنا - رنج کرنا - سہی کرنا - جھد کرنا - مٹایا یا دبایا جانا - مظالم ہونا : to be oppressed
- Groaning, n.** A deep sigh ; lamentation : آہ - سرد - ذلہ وزاری
- Groat, n.** Four pence : تین - ایک سکہ - چار پانس کا ایک سکہ - کڑی - دمڑی - ٹکا
- Grocer, n.** A dealer in tea, sugar, spices, &c. : پسناری - کرانہ بیچنے والا
- Grocery, n.** Commodities sold by grocers ; a grocer's store : پسناری کا سودا - کرانہ
- Grog, n.** Spirit and water : شراب اور پانی کی آمیزش
- Groin, n.** The part next above the thigh : جگھاسا - جھما
- Groom, n.** One who tends horses : سائیس * A bridegroom : دلہا * **v. t.** To feed and attend to horses : چرانا - گھروڑوں کی سائیس کرنا
- Groove, n.** A furrow ; a long, hollow cut by a tool : خانہ - جھڑی - چھڑی * **v. t.** To cut a channel ; to furrow : خانہ بنانا - چھڑی بنانا
- Grope, v. i.** To feel as in the dark : گھوننا
- Gross, a.** Great ; bulky ; coarse : بڑا - جسیم - فاحش - گنوار - Stupid ; dull : بھاری - مرنے گندہ - مکررہ - Impure : نکل - تھوک - Entire : Bulk : بڑا حصہ : **n.** The main body : غلیظ * ۱۲ - درجن : The number of 12 dozen * نکل
- Grossly, ad.** Coarsely ; indecently ; bulkily : مرنے وار سے - بھدی وار سے - بے تمیزی سے - نہایت
- Grossness, n.** Coarseness ; thickness ; enormity : بھداری - مرنائی - نفش - درشتی - کرختگی - سب کا سب - سب - جملہ - In—, شدت - سختی - مجہرتا
- Grotesque, a.** Wildly formed ; whimsical ; ludicrous : عجیب - خدلی - خانہ انگیز
- Syn. —** Fantastic, fanciful, odd.
- Grotto, n.** A natural cavern : گپھا
- Ground, n.** The surface of land : روئے زمین * **The earth ; soil ; land :** دھرتی * **Foundation ; basis :** اصل جز * **A field :** میدان * **Reason ; Principle :** قاعدہ * **To break—, to take the first step :** - - - * **To break—, to take the first step :** - - - * **To fall to the—, to come to nought :** لا حاصل ہونا * **To gain—, to advance :** سبقت لیجانا * **To obtain an advantage :** * **To become general :** پھیل جانا * **To lose—, to withdraw :** ہٹنا * **To decline :** پیچھے ہٹنا * **To Down to the—, completely :** بالکل * **To furnish— for action, completely :** کرنا تمام کرنا

gain—, **To lose—**, * غائب آن - فریب پھرنیسا
 * **To give—**, * ہارنا - شکست پانا - اعتبار چانا
 * **To hold one's—**, * جمانہا، * ہونا-دب چانا
v. t. To lay or fix firmly ; to found ; to in-
struct in first principles : * تھروانا - زمین پر رکھنا -
 * **قیم کرنا - بنا ڈالنا - ابتدائی تعلیم دینا - شروع کرنا**
v. i. To strike the bottom and remain fixed :
 زمین سے لگ چانا - ٹک چانا

Groundless, a. Without ground ; unfounded ;
false : بے سبب - بے وجہ - بے بنیاد - جھوٹا

Groundlessly, ad. Without reason : بلا وجہ

Ground-rent, n. The rent paid for the ground
on which a house is built : کرایہ زمین

Ground-sill, n. The lowest horizontal timber in
a frame building : داسا

Ground-swell, n. A broad-deep heaving of the
sea : سمندر کا بڑھنا - ایک بڑی لہر جو طوفان کے گذر
 جانے کے بعد آتی ہے

Ground work, n. Basis ; first principles : اصل -
 جز - بنیاد - ابتدا - شروع

Group, n. An assemblage of person or things ;
a cluster ; a crowd ; a number of persons
photographed together : - مجتمع - جھنڈ - گروہ - غت -
v. t. To collect to-
gether : * آدمیوں کی یکجاٹی تصویر
 یکجا کرنا - جمع کرنا - ترتیب دینا

Grouse, n. Moor-fowl : جنگلی مرغ

Grout, n. Coarse meal ; a mortar or cement
mixed with gravel : ارداوا - دلیا - ٹکڑیٹی - گرا
 * **v. t. To fill with grout :** ایٹونکے بیچ چرنا یا
 گرا لگانا

Grove, n. Walk shaded by trees : درختوں کا چھتہ -
 نچ

Grovel, v. i. To creep on the earth ; to be low or
mean : دینگنا - خرابی یا ذات اختیار کرنا

Grow, v. i. To vegetate ; to increase ; to be-
come : - اُگنا - پیدا ہونا - بڑھنا - زیادہ ہونا -
 * **To—up, ہونا** * **To—up, ہونا** * **To—**
upon one, لگنا * **—n over, لگنا** * **—n up, ہونا** * **—n up, ہونا**
v. t. To cause
to grow ; to produce ; to raise ; to cultivate :
 اُجھانا - اُگنا - پیدا کرنا - بڑھانا

Syn.— Enlarge, increase, augment.

Growl, v. i. To grumble ; to snarl : برہانا -
 * **n. Murmur of a cross dog :** غراہٹ

Growth, n. Act of growing ; vegetation ; pro-
duction : پیدائش - بیدگی - بڑھنا - ترقی

Grub, v. i. To dig in or under the ground , to
root up : * **n. A small de-**
structive worm : گھن - کرمک

Grubber, n. A tool for pulling stumps : کرا

Grudge, v. t. To part with reluctantly ; to look
upon with envy : - ناخوشی سے علیحدہ ہونا - کڑکھانا -
 کینہ - * **n. Old quarrel ; ill-will ; envy :** * چلنا
 کینہ رکھنا * **To entertain a—, عداوت - کسر**

Syn.— Aversion, dislike, ill-will, spite, pique.

Gruel, n. Food of oat-meal boiled in water :
 دلیا - شلہ - لپسی - سارہ - بیچ

Gruff, a. Sour of aspect ; harsh ; surly ; rugged :
 توش - درشت - محض - زورنا - تلخ مزاج

Syn.— Rough, charlish, rude, uncivil.

Gruffly, ad. Roughly : - سفتی سے - توش زنی سے -
 اُچتہ پن سے

Gruffness, n. Moroseness : زورکھاپن

Grumble, v. i. To murmur with discontent ; to
growl : شکایت کرنا - کڑکھانا

Grumbling, n. A murmuring : زورکھات

Grunt, n. The sound of a hog : سر کی آواز-غراہٹ

Grunt, v. i. To utter a sound like a hog : -
 گراکھانا

Guano, n. Bird-droppings, used as manure :
 پرندوں کی بیٹ جو کھاد کے کام آتی ہے

Guarantee, n. Security ; one who guarantees :
 * **v. t. To warrant ; to**
 ذمہ لینا - ضمانت کرنا - بیہ کرنا - دل جمعی :
 کرنا

Guard, v. t. To protect ; to defend ; to watch :
 حفاظت کرنا - محفوظ رکھنا - نگہبانی کرنا

—, n. A state of caution or vigilance ; pro-
tection : * **n. A sentin-**
 * **To be on one's—, to**
 be vigilant and ready for an attack : چوکس
 چوکس * **To be off one's—, to be**
 careless or heedless : غفلت میں رہنا - بے خبر رہنا

* Run the—, get past a guard or sentinel without detection : ستھری سے بغیر دیکھ کر نکل جانا
 * To mount—, بہرے پر ہونا
 Guardable, a. Capable of being protected : قابل حفاظت
 Guarded, p. p. or a. Defended ; cautious : محفوظ - ہوشیار - محتاط - باخبر
 Guardian, n. One who protects ; a keeper ; a warden : سرپرست - ولی - محافظ - نگہبان
 Guardianship, n. The office of a guardian : امانت - سرپرستی
 Guava, n. A tropical tree and its fruit : امرود
 Gudgeon, n. A small fresh-water fish : ایک چھوٹی چھوٹی دریائی مچھلی
 * A person easily cheated or inebared : گاردی - بھولا - سادہ لوح
 Guerdon, n. A reward ; a recompense : اجر - جزا - معارفہ - بدلہ
 Guerrilla, n. An irregular warfare : بے ترتیب لڑائی
 Guess, v. t. To form an opinion ; to conjecture : اٹکل کرنا - گمان کرنا - فیاس کرنا
 Syn.—Surmise, think, suspect.
 Guest, n. A visitor ; a lodger at a hotel, &c. : مہمان - شب باش - مسافر
 Guffaw, n. A hoarselaugh : قہقہہ
 Guidance, n. Act of guiding direction ; government : رہنمائی - ہدایت - پیشوائی - رہبری - حکومت
 Guide, v. t. To lead or direct ; to regulate ; to influence : راہ دکھلانا - رہنمائی کرنا - ہدایت کرنا
 * n. One who leads or directs ; a conductor : ہادی - پیشوا - رہنما - رہبر - اگرا
 Guild, n. A corporation : فرقہ - جماعت - گزہ
 Guildhall, n. The hall where a guild or corporation assemble : مجلس خانہ - سماج
 Guile, n. Craft ; artifice ; duplicity : جمل - حیالہ - فریب - دغا
 Syn.—Cunning, artfulness, duplicity, fraud, deceit.
 Guileful, a. Deceitful ; treacherous ; artful : فریبی - حیالہ باز
 Guileless, a. Free from guilt ; artless : بے مکر و فریب - بے ریا - بھولا بھولا - سیدھا سادا

Guillotine, n. A machine for beheading criminals : مجرمان کے سر کاٹنے کی کل
 Guilt, n. Sin ; criminality ; crime : گناہ - جرم - تقصیر
 Guiltily, ad. Criminally : مجرمانہ تقصیروارے سے
 Guiltiness, n. Criminality : تقصیروارے - گناہگاری
 Guiltless, a. Free from guilt ; innocent : بے قصور - بے گناہ - معصوم
 Guilty, a. Criminal ; wicked : مجرم - بد
 Guinea, n. An English gold coin = 21s. انگریزی اشرفی براہر ساڑھے دس روپیہ کے شکل - صورت - لباس - پیماس - دستور
 Syn.—Custom, mode, practice.
 Guitar, n. A stringed musical instrument : ستار
 Gulf, n. A large bay ; an abyss : خلیج - کھاتی - بندقہ
 Gull, v. t. To cheat ; to defraud : فریب
 * n. One easily cheated ; a trick : سادہ لوح - احمق - جل - دغا
 Gullet, n. The throat : حاق - گلا
 Gully, n. A channel formed by running water : نالی
 Gulp, v. t. To swallow eagerly : ڈھکوسنا - نگلنا - جرء - ہپا کور - ہڑپ
 n. A swallow : گوند لگانا
 Gum, n. A resin which exudes from certain trees : گوند لگانا
 * The fleshy socket of the teeth : * v. t. To smear with gum : چسپاں کرنا
 Gummy, a. Consisting of gum : چسپا - لاسلا
 Gumption, n. Shrewdness ; understanding : ہوشیاری - سمجھدہ - عقل
 Gun, n. A general name for firearms : توپ - پادوق
 Gunner, n. A cannonier : گولہ انداز
 Gunny, n. A kind of coarse sackcloth : ڈٹ
 Gunpowder, n. An explosive composition of saltpetre, sulphur, and charcoal : بارود
 Gunshot, n. The reach or range of a shot : گولی کا تیبہ یا مار
 Gunsmith, n. One who makes or repairs small arms : ہندوق ساز

Gunstock, n. The stock or wood in which the barrel of a gun is fixed : بندوق کا کندہ

Gunwale, n. The upper edge of a ship's side : جہاز کا سینہ پٹا

Gurge, n. A whirlpool : گرداب - پہنر

Gurgle, v. i. To flow with noise, as water from a bottle : ہیر ہیرا کے بہنا - کڑکڑانا

Gush, v. i. To rush forth as a fluid : پانی وغیرہ کا شدت کے ساتھ نکل پڑنا

Gush, n. A sudden flow : دھڑکنے والا بہاؤ - جھکرا

Gusset, n. An angular piece of a shirt-sleeve : چمڑے کا ٹکڑا

Gust, n. A sudden blast of wind ; a sudden violent burst of passion : جھونکا - جربند - جوش
چکھنا * v. a. To taste ; to have a relish for : چکھنا - مزہ لینا

Gustable, a. Pleasant to the taste : مزہ دار - خوش ذائقہ

Gusty, a. Stormy : طوفانی

Gut, n. The intestinal canal of an animal : آتیس نکالنا - صاف کرنا
* v. t. To take out the bowels from ; to eviscerate :

Gutter, n. A passage or channel for water : نالی بنانا
* v. t. To hollow : پرزلا - مردی

Guttural, a. Belonging to the throat : گلے کے متعلق - حلق - حلقی

Guy, n. A rope for steadying a heavy body : بھاری چیز کے قائم رکھنے کا رسا

Guzzle, v. t. To eat or drink greedily : ڈمکوسنا
چڑھا جان - بہت پیانا

Gymkhana, n. A place for athletic games : کسرت خانہ

Gymnasium, n. A place for athletic exercises : دنکل - انہارا

Gymnast, n. One who teaches athletic exercises : کسرتی - ورزشی

Gymnastic, a. Relating to athletic exercises : کسرت کے متعلق

Gymnastics, n. (pl.) The art of performing athletic exercises : کسرت - ورزش

Gymnosophist, n. One of a sect of Indian philosophers who go naked : ہندو سادھو جو برہنہ رہتے ہیں - سونی

Gynarchy, n. Female government : حکومت زن - عورت کا راج

Gyn-e-cology, n. The science that treats of the diseases peculiar to women : امراض کا علم

Gypsum, n. A kind of plaster : ایک قسم کی کھریا مٹی

Gypsy, n. See Gipsy.

Gyrate, v. i. To turn round ; to move in a circle : گھومنا - چکر دینا

Syn. - Rotate, revolve, whirl, turn round.

Gyration, n. A circular motion : گردش - چکر

Gyves, (pl.) Fetters or chains for the legs : بیڑی - زنجیر پا - پیکڑی

H

Ha, interj. An exclamation of surprise, joy, or grief : واہ واہ - ہے ہے - کیا خوب - ہاے

Habeas-corpus, (Lat.) A writ to bring a party before a court or judge, especially, one to inquire into the cause of a person's imprisonment or detention by another : حکم نامہ چالان مجرم

Haberdasher, n. A seller of small wares, such as, tapes, ribbons, pins : بیساطی - رینڈا فروش - پتلا - بکس والا

Habergeon, n. Armour for neck and breast : گلے اور سینہ کا بکتر

Habiliment, n. Garment ; clothing &c. : لباس - پوشاک - پیراہن - جامہ

Habilitate, v. t. To fit out : ساز سامان - تیار کرنا

Habilitation, n. Training ; preparation : تیاری - سرانجام آراستگی

Habit, n. Temperament of body or mind : مزاج - عادت - خصلت * Fixed custom :

Dress ; attire ; a tight-fitting dress worn by ladies on horseback : پوشاک - لباس عورتوں

Eادت یا خر * To acquire a— کی سواری کی پوشاک

- Habit**, *n.* — *is* second nature, عادت دوسری * پکڑنا
ادسی * Man is a bundle of habits, طبیعت ہے
عادتوں کا پتلا ہے
- Syn.**— Mode, manner, way, style.
- Habitable**, *a.* Fit to be inhabited . قابل سکونت -
رہنے کے لائق
- Habitation**, *n.* Place of abode ; residence : گھر -
مکان بنانا , رمان , مسکن - سکونت
مقرر کرنا
- Habitual**, *a.* Acquired by habit ; customary :
داخل عادت - خوگر - عادی - رسمی - معمولی
- Syn.**— Usual, common.
- Habitually**, *ad.* Customarily : عادت کے -
معمولی - متعلق
- Habituate**, *v. t.* To accustom to ; to familiarize
عادت دلانا - عادی کرنا - ایویاس کرنا
with :
- Habitue** (*abitoa*), *A* frequenter : ہیشہ جانے والا
(کسی تماشہ گاہ وغیرہ کے)
- Habnab**, *ad.* By chance : اتفاق سے
- Hack**, *v. t.* To cut irregularly and awkwardly ;
to mangle : کٹنا - کٹنا * To speak with stops
or hesitation : ٹنگ کر بولنا * To hire :
* دندانہ - تراش : * ن. A notch ; cut : کرایہ کرنا
* Hesitating or faltering speech : زبان کی لکنت
* A horse let out for hire : کرایہ کا گھوڑا
- Hackery**, *n.* A bullock cart : بیل گاڑی
- Hackle**, *v. t.* To tear asunder ; to dress flax :
* ن. A fly for * چیرنا - جدا کرنا - سن صاف کرنا
angling : * A comb for dressing
سن صاف کرنیکی کنگھی
flax :
- Hackney**, *n.* A horse or coach for hire : بھاریکا
گھوڑا یا گاڑی
- Hackneyed**, *a.* Worn out ; much used ; trite ;
استعمالی - بوتا ہوا - دیرینہ بھڑے :
کا - کرایہ کا
- Hades**, *n.* The abode of departed souls ; the
عالم ارواح - مسکن رھلان -
برزخ - شہر خموشاں
- Haft**, *n.* The handle of an instrument : قبضہ -
دستہ - مرثیہ
- Hag**, *n.* An ugly old woman ; a witch : پیدر زال -
قاین - چادرگرنی
- Haggard**, *a.* Lean and wasted ; deformed :
لاغر - دیلا - بدصورت
- Haggle**, *v. t.* To mangle in cutting : کات کات
* *v. i.* To be slow
* کرنا - کٹرنا - پررے پررے کرنا
and hard in making a bargain : -
چھینچھت کرنا -
بھیڑا کرنا
- Hagiography** (*Ha je-o-grafe*), *n.* Holy or sacred
writings : کتاب مقدس
- Hail**, *n.* Frozen drops of rain or vapour : -
زلہ - پتھر
—, *v. t.* To salute ; to call after : -
سلام کرنا -
* *interj.* Wish of health ; greeting :
سلامت - شاباش - انزین - مرحبہ
- Hail-fellow**, *n.* A familiar friend : ہم صحبت -
* *Intj.* * رفیق - درست - ہار
واہ ہار - اور ہار
- Hail stone**, *n.* A particle or single ball of
hail : اولہ - پتھر - بندری
- Hair**, *n.* Dry, elastic filaments arising from the
skin of animals : بال - رداں - پشم * Not
worth a—, trifling : * ناچیز بیکام * To split
—s, to be overnice in making distinctions :
* Against the—, * بال کی کھال نکالنا - نقطہ چینی کرنا
* To comb a
against the grain : * ناگوار *
person's—wrong way, to provoke him :
* To keep one's hair on, to
keep cool : * جوش میں نہ انا :
stand on end, to give the greatest astonish-
ment or fright : * متعیر یا خورندہ کرنا *
To the turn of a—, with perfect nicety ; exactly:
* Not worth a—, of no
value : ناکارہ - نکما
- Hair-breadth**, *n.* A very small distance : بال برابر :
بال باں بچنا * —escape,
فصلہ
- Hairdresser**, *n.* One who dresses or cuts hair :
بال بنانے والا - حجام
- Hairy**, *a.* Made of or covered with hair : -
پشمی -
بالدار - جھیرا
- Halberd**, *n.* An ancient, military weapon :
تیشہ - گنڈاسا
- Hale**, *a.* Healthy ; robust ; sound : -
تندرست -
* —and hearty,
تازہ و توانا * مضبوط - ہٹا کا

Half, *n.* One of two equal parts : - نیم - نصف
 * In —, * آدموں آدھے * To go—halves,
 آدھے کا دعویٰ * To cry halves, * آدموں آدھے لینا
 نیم شنیدہ * —heard, * ٹرنا - آدموں آدھے لینا

Half-blooded, *a.* Degenerate ; mean : - سرتیلا -
 کمینہ

Half-caste, *n.* One born of mixed European and
 Asiatic blood : درنگلا - درنگلا

Half-penny (*hapen-i*), *n.* Half a penny ; an
 English coin worth one cent : چار پائی کی قیمت
 کا پیسہ

Half-seas-over, *a.* Half-drunk ; tipsy : -
 مستوور - سرشار

Halibut, *n.* A large flat sea-fish : ایک قسم کی
 مچھلی

Haliography, *n.* A description of the sea :
 سمندر کا بیان

Hall, *n.* A public room ; entrance of a house :
 * —of audience, * دیوان عام - بارگاہ - کمرہ - دہان
 دیوانخانہ - دیوان عام

Syn.—Vestibule, entry, court-passage.

Hall-mark, *n.* The official stamp affixed on
 articles of gold and silver by the a office :
 سرنے یا چاندی کے چیزوں پر سرکاری نشان

Hallelujah (*hülle-looya*), *n.* Praise ye Jeho-
 vah : الحمد للہ

Halloo, *v. t.* To encourage with shout ; to call or
 shout to : * لگانا - پکارتا * *n.* A shout or call :
 لکار - پکار

Hallow, *v. t.* To consecrate ; to make holy :
 مقدس کرنا - پاک کرنا

Hallucination, *n.* A species of mania ; delu-
 sion ; error : گھبراہٹ - فریب - بھول - چرک - سودا

Halm, *n.* Thrashed straw : بھوسا

Halo, *n.* A circle of light ; a luminous circle
 round the sun or moon ; glory : کنتال - ہالہ -
 منقار - اٹنی چکر

Halt, *v. t.* To stop in walking or marching ; to
 hesitate : * مقام کرنا - ٹھہرنا - لنگڑنا - پس و پیش
 کرنا

Halt, *n.* A stop in marching : * مقام - منزل -
 * Act of limping : لنگ

Halter, *n.* A rope for hanging malefactors :
 یا گتھور - * —for a horse, * پھانسی لگانے کا رجا
 گاڑی - پچھڑی

Haltingly, *ad.* In a slow manner : دھیرے
 دھیرے - لنگڑا کر

Halve, *v. t.* To divide into equal parts : نصف
 نصف کرنا - آدھوں آدھے کرنا

Halyard, *n.* A rope to raise or lower yard or
 sails : * دال یا باد بان کے اوپر اٹھانے یا نیچے کرنے کا رجا :
 سرور کی خشک اور نمکدار ران

Ham, *n.* The hip : * ران - ٹولا * The thigh of a hog
 سرور کی خشک اور نمکدار ران

Hamlet, *n.* A small village : * قریہ - نکلہ - پڑی -
 ٹھہرا

Hammer, *n.* An instrument for driving nails,
 beating metals, &c. : * ہتھوڑا - مار تال - مرگڑی
 * To bring to the—, to sell by auction :
 * Up to the—, first rate : * بذریعہ نیلام فروخت کرنا
 * *v. t.* To beat from or forge with
 hammer ; to contrive by intellectual labour :
 پیتنا - گزینا - ٹھہرکنا - دل سے بنانا یا تیار کرنا -
 کڑینا (as, I must hammer out a short address to the
 boys to morrow.)

Hammock, *n.* A swinging bed : چھڑی پلنگ چور
 لٹکا ہوا ہوتا ہے

Hamper, *n.* A covered basket : * ٹوکرا - ٹوکری
 * *v. t.* To embarrass ; to shackle :
 * fetter : * بیڑی :
 ستنا - بھننا - بیڑی ڈالنا

Hamstring, *v. t.* To lame by cutting the tendon
 of the ham : ران کی نس کا ٹکر لنگڑا کرنا

Hanaper, *n.* A treasury : خزانہ

Hand, *n.* The outer extremity of the human :
 چار انچ : * A measure of 4 inches : ہاتھ - دست
 * The pointer of a clock or watch :
 * کاربگر : * An agent or workman :
 * Direction : * دستکاری - مہارت : * Skill :
 * کارندہ - زور * Style of hand writing :
 * قبضہ - اختیار : * Possession : خطا - لکھت
 * At—, near, in time or place : قریب
 * At first—, in any case : * ہر کیف
 * direct from the producer or seller : اصل
 * At —, * بذاتیرالہ یا بیچنے والے سے (خریدا ہوا مال)
 * second,—or second—, from an intermediate

purchaser ; old or used : - دوسرے کے ہاتھ - One's right—, one's best man : کسی کا نہایت سچا مددگار یا بھروسے کا : By—, manually : دستی * From—to—, from one person to another : ایک سے دوسرے کے : In the state of preparation : ہاتھ : With—, unhesitatingly : بے دریغ * Off—, without previous preparation : پر جستہ * On—, in present possession : موجود - ہاتھ میں : On all hands, generally : عام طور پر : Out of—, at once : فوراً * Under one's—, with the signature of : بہ دستخط : —to—, close fight : ملکر - ہوتی : —to mouth, as want requires : ہوتی (لزانی) * To ask the—of, to ask in marriage : شادی کی : To be— and glove with, to be intimate and familiar with : یکجان دو قالب : To bear, give or lend a—, to help : ہرنا * To change—s, to change owner : مدد دینا * To gain the upper—, obtain the mastery : غالب ہونا * To lay—s on, * to seize : پکڑنا * To live from—to mouth, روز لانا روز کھانا - بات میں * To shake—s, to clasp the hands as a greeting : ہاتھ ملانا * To strike—s, to make a contract : اقرار کرنا * To take in—, to attempt to undertake : شروع کرنا * To wash one's—s of, to have nothing more to do with : الگ ہو جانا * To—down, to transmit in succession : عاجزانہ * Cap in—, humbly : یکے بعد دیگرے چھڑتے آنا

Hand, v. t. To give ; to transmit ; to conduct : دینا - حوالہ کرنا - سونپنا - رہنمائی کرنا

Handbook, n. A manual : یادداشت کی کتاب

Handcuff, n. A manacle for the wrists : ہتھکڑی * v. t. To put handcuffs on ; to manacle : ہتھکڑی پہنانا یا لگانا

Handful, n. As much as the hand will contain : مشتہ - مٹوے - ہر - تھوڑا

Handicap, n. A race on certain conditions : کھانے میں رکھنا * v. t. To impose special advantages or impediments upon : توجہ ڈالنا اوروں کے برابر سہولت نہ دینا

Handicraft, n. Manual occupation : دستکاری - ہنر - ہنرگاہی - ہنرگاہ

Handily, ad. With skill : حکمت کے ساتھ - سلیقہ سے

Handiness, n. Ease in performance ; readiness ; dexterity : کاریگری - تیز دستی - چستی و چالاکی

Handiwork, n. Work done by the hands : دستکاری - کاریگری

Handkerchief, n. A piece of cloth for wiping the face, etc. ; a neckcloth : روسال - دست مال - گلہ بند

Handle, v. i. To touch ; to manage or wield ; to discourse on : چھرتا - چھیوننا - ہاتھ لگانا - انتظام کرنا - بندوبست کرنا - چلانا - ہمارا کرنا - بیان * n. The part by which a thing is held : دستہ - موٹھہ - قبضہ - مرسیلہ

A—to one's name, خطاب - لقب

Handmaid, n. A waiting-maid : لڑکتی - کنیز - ڈھالی - خادمہ

Handsal, n. First sale ; earnest money : پہلی - زر بیعنا

Handsome, a. Graceful ; goodlooking : * فیاض : Liberal ; generous : خیرصورت - حسینی * Moderately large : زیادہ - بسیار * A—fortune, کام پیارا ہے جام پیارا نہیں

Syn. — Goodlooking, becoming, appropriate.

Handsomely, ad. Gracefully ; liberally : خوبصورتی سے - کھانا دہی سے

Handspike, n. Wooden lever : چوب - لکڑی کی ٹیک

Handwriting, n. The form of writing peculiar to each hand or person : ہر شخص کی خط - لکھائی

Hand, a. Skilful ; dexterous : تیز دست * Convenient of use : معقول - آرام کا کام

Hang, v. t. or i. To suspend : لگانا * To put to death on a gallows : لگانا * To fasten : چسبنا - پڑھنا * To droop : بانڈھنا

- To—around**, *v. t.* اردگرد پھرتے رہنا * **To—up one's hat**, to make one's self completely at home in a house : ٹھہر کر اپنا گھر بنانا * **To—back**, to halt ; to go reluctantly forward : پیچھے رہ جانا * **To—on**, to be dependent on : متحصص ہونا - آسرے پر ہونا * **To—up**, to be suspended : لٹکانا * **To—fire**, to delay the punishment : سزا کو ملتوی کرنا * **n.** Declivity ; mode in which any thing hangs ; a slackening of motion : - ڈھلوان - میلان - جھکاو - ترتیب - رفتار کا ہلکا کرنا
- Hang-dog**, *n.* Low ; degraded : sneaking : کمینہ - ذلیل - دیکیل
- Hanger-on**, *n.* A servile dependant : دام-گیر - وابستہ - پیچھے لگو
- Hangman**, *n.* A public executioner : جلاؤ - دارکش - چنڈال
- Hank**, *n.* A skein of thread ; a tie : پیدچک - اٹی - لچھا
- Hanker**, *v. t.* To desire vehemently ; to long for : کمال خواہش رکھنا - بڑی آرزو کرنا - ترسنا - لاپچانا - اشتیاق سے چاہنا
- Hankering**, *n.* An eager craving : شوق - آرزو - خواہش
- Hankey-pankey**, *n.* Jugglery ; trickery : شعبدہ بازی - چہل پتہ
- Hap**, *n.* Casual event ; accident ; fortune ; lot : اتفاق - حادثہ - قسمت - بھاگ - سانچو
- Syn.—Chance, fate.
- Hap-hazard**, *n.* Extra hazard ; chance ; accident : اتفاق - واقعہ - حادثہ - شدنی
- Hapless**, *a.* Unhappy ; unfortunate : بے نصیب - بدبخت - کمبخت
- Syn.—Luckless, unlucky.
- Haply**, *ad.* By chance ; by accident ; perhaps : اتفاقاً - شاید
- Happen**, *v. t.* To come by chance ; to take place ; to fall out : واقع ہونا - آ پڑنا - نازل ہونا - ٹکرنا * There shall no evil happen to the just, - نیک کو اچھ نہیں

- Happily**, *ad.* By good fortune ; luckily : خوش نصیبی سے - قسمت سے - خوشی سے
- Happiness**, *n.* State of enjoyment ; facility : خوشی - آرام - کامرانی - سکھ
- Happy**, *a.* Favoured by luck or fortune ; successful ; blessed ; prosperous : خوش - خوش نصیب - کامران - مبارک - سر سبز - فرخندہ - خجستہ - **Happy-go-lucky**, trusting to luck ; improvident ; easy-going : قسمت پر دار - مدار رکھنے والا - کوتاہ اندیش
- Harangue**, *n.* A popular oration ; a declamation : مکالمہ - رخط - زور و شور کی تقریر
- Harass**, *v. t.* To weary ; to tease ; to annoy ; to torment : عاجز کرنا - تنگ کرنا - دق کرنا - ستانا
- Harbinger**, *n.* A forerunner ; a precursor : پیشوا - اگوا - مقدم - پدم رسا - رہبر
- Harbour**, *n.* A station for ships : بندر - بندرگاہ - حفاظت و پناہ کی جگہ - ٹھکانا
- Harbour**, *v. t.* To entertain as guest ; to shelter ; to protect ; to entertain or cherish : مہمانداری کرنا - جگہ دینا - چھپانا - پناہ دینا - لکانا - **ing knowingly bad characters**, بد معاشرے کو دیدہ و دانستہ جگہ دینا
- Harbourage**, *n.* A place of shelter : پناہ گاہ - حفاظت کی جگہ - امان
- Hard**, *a.* Solid : مشکل - سخت - ٹھوس * **Difficult** : * **Severe** : * **Laborious** : * **Cruel** : * **To be—up**, to be in difficulties : * **got**, obtained with labour : * **To be—at study**, کا مطالعہ میں غرق * **To be—cash**, ready money : * **Diligently** ; with difficulty : * **To run—**, * **To be—up**, دست * **To be—put to**, * **To be—upon**, کسی پر تشدد کرنا
- Harden**, *v. t. or i.* To make hard ; to strengthen ; to become hard : سخت کرنا - کڑا کرنا - مانگین کرنا - مضبوط کرنا - سخت یا کڑا ہر جانا
- Hard-fisted**, *a.* Having hard hands ; close-handed ; covetous : قوی پنجہ - پختیل - مکھوی - چرس - لالچی

Hard-hearted, a. Unfeeling ; cruel : - سبکدل - کٹھور - کڑا - بیرحم

Hardihood, Hardiness, n. Boldness ; bravery ; firmness : جرأت - بہادری - بے ڈکڑی - مضبوطی

Syn.—Intrepidity, courage, stoutness, audacity.

Hardily, ad. Boldly ; firmly : - مضبوطی سے

Hardy, ad. In a difficult manner ; severely ; scarcely : بدقت - مشکل سے - شاذ و نادر - کم

Hardiness, n. The quality of being hard ; severity ; bravery : - سختی - دشارپی - مضبوطی - کڑبڑ - بہادری - دلہاری

Hardship, n. Severe labour ; burden of any kind : سخت محنت - کسالا - سختی - ظلم

Hardware, n. Wares made of iron, etc. : اوتے کی چیزیں - چاندی وغیرہ آلات و ظروف یعنی

Hardy, a. Bold ; stout ; firm ; able to bear cold, exposure and fatigue ; impudent : بہادر - دلدار - مضبوط - قوی مزاج - سردی گومی و ماندگی برداشت کرنے کے قابل - شوخ - بے شرم - بے ہشام

Hare, n. A small, timid animal : - خرگوش - سسا - ٹھہرا

Harebrained, a. Wild ; giddy ; heedless : ڈالا - کورسغز - بے ذکر

Harem, n. Apartments allotted to the females : حرم سرا - زن خانہ - زوراس

Hark, v. i. To listen : کان لگنا : * سننا - دھیان دینا - کان لگنا : * سنو

interj. Hear : مسخڑا

Harlequin, n. A buffoon : مسخڑا

Harm, n. Injury ; hurt ; wickedness ; mischief : نقصان - چرت - بُرائی - ضرر

chief : misfortune : ضرر

v. t. To hurt ; to injure ; to damage : نقصان پہنچانا - ستنا

Harmful, a. Full of harm ; injurious : مضر - ضرر رساں - ہون

Harmless, a. Free from harm ; innocent : بے ضرر - معصوم

Harmonical, a. Relating to harmony ; musical : سربلا - یکساں - ہم آہنگ - سر اور کال سے درست

Harmonious, a. Symmetrical ; concordant ; musical : خوش اصنرب - جسکے اجزاء با موافقت ہوں - ہرگز - قبول - سربلا - ہم آہنگ

Harmonium, n. A wind-instrument, played with keys like an organ : ہار : ایک قسم کا ہاجا - ہار

مرنیم

Harmonize, v. i. To be in harmony ; to correspond : ہم آہنگ ہونا - آواز ملنا - موافق یا مطابق ہونا - سر ملنا

Harmony, n. Concord of sound ; agreement : ہم آہنگی - موافقت - میل - مناسبت - اجزا کی ہمہ مطابقت

Syn.—Melody.

Harness, n. Equipment for horses : گھوڑوں کی ساز

Harp, n. An upright, stringed instrument of music : * v. i. To play on a harp : چنگ - کینگری - چنگ

To dwell on : * To dwell on : چنگ بجانا - چنگ بچانا

Harpist, n. One who plays on the harp : چرت بجانے والا

Harpoon, n. A barbed spear : - چڑھی - بلم - مسخڑا مارنے کا نیزہ

Harrier, n. A kind of hound used in hunting hares : خرگوش کے شکار کا کتا

Harrow, n. An instrument to break or smooth land : سزارن - ہینگا - پھیلا

Harrow, v. t. To break with a harrow : ہینگا ستانا - دق : * To torment : سزارن پھیرنا

Harry, v. t. To pillage ; to ravage , to worry : لوتنا - اچڑنا - ستانا - تنگ کرنا

Harsh, a. Rough to the touch, taste, or feeling ; austere : - رکھا - ٹھوکھرا - توش - تلخ - کڑا - سخت - کڑیہ - ڈنگورا

Harshly, ad. Roughly ; rudely : - سختی سے - درشتی سے

Harshness, n. Roughness ; severity : - ٹھوکھرا ات - سختی

Syn.—Acrimony, roughness, sternness.

Hart, n. A male deer ; a stag : ہرن - ہارہ : سبکا

Harum-scarum, a. Wild ; reckless : ہلکا - ہلکا - ہلکا

Harvest, n. The season of gathering crops ; product ; gain : - درو - فصل - حاصل - ٹمرہ

Hash, *v. t.* To chop into small pieces and mingle : کرنا * قیہہ یا کر ذہ کرے ملا - نکڑے نکڑے کرنا :

n. Minced meat : قیہہ - کوٹہ

Hasp, *n.* A clasp for a staple : قیضہ - کنڈا - زنجیر

Hassock, *n.* A thick mat for kneeling in church : کرچے کی نمز کا بڑیا - سجادہ

Haste, *n.* Rapidity ; bluntness ; precipitation : شتابی - چالپی - عجلت - اور ڈالپی - پھرتی

Hasten, *v. t.* To drive or urge forward ; to push on ; to expedite : دوڑانا - چالپی کرنا - پھرتی کرنا - شتابی کرنا

Hastily, *ad.* With haste ; speedily : چالپی سے - پھرتی سے

Hasty, *a.* Quick ; forward ; precipitate ; rash : **To take no unkindness of one's—words,** اس کی سخت کلامی کا اپ کچھہ خیال نہ کریں

Hat, *n.* A covering for the head : ٹوپی - کلاہ - **To pass round the—, to beg for contributions :** چندہ مانگنا

Hatable, *a.* Detestable : مکروہ - نفرت انگیز

Hatch, *v. t.* To produce young from eggs : اٹنے : تدبیر کرنا : **To contrive :** ہچمے نہ لانا

Hatchet, *n.* A small axe : تلمہاری - بسولا - تبر : **To bury the—, to put an end to war :** بند کرنا - صلح کرنا

Hatchway, *n.* An opening in a ship's deck : جہاز کا دروازہ

Hate, *v. t.* To dislike greatly ; to abhor : نفرت : *n.* Great dislike ; aversion : نفرت - حقارت - کراہیت

Hateful, *a.* Detestable ; abominable : کریمہ - مکروہ - ناگوار

Hatred, *n.* Very great dislike ; antipathy ; enmity : نفرت - کراہیت - بغض - عناد - دشمنی - خصرمت

Syn.—Odium, ill-will, animosity.

Hatter, *n.* A maker or seller of hats : کلاہ ساز - کلاہ فروش - ٹوپی بنانے یا بیچنے والا

Hauberk, *n.* A coat of mail : زرا بکتر

Haughtily, *ad.* Arrogantly : مسبرانہ - مغروری سے - عقوت سے

Haughtiness, *n.* Arrogance ; pride ; loftiness : تکبر - خود بینی - عالی دماغی - اہمیت

Haughty, *a.* Proud, arrogant ; insolvent : مہر - کومتی - متکبر - خود بین - دمخ - شوع

Haul, *v. t.* To pull ; to draw ; to drag by force : *n.* A pulling ; a draught, of fishes : بلیج - کھینچ - کشش - کل مچھلیاں جو ایک ڈال میں پکڑی جائیں

Haulm, *n.* The stalk of corn : سیرکی - پھرتیاں

Haunch, *n.* The thigh ; the hip ; the hind quarter : ہانکہ - پٹھا - کولا

Haut, *v. t.* To frequent ; to resort to : آمد و رفت : *n.* A place much frequented : شست گاہ - اڈا - اکوڑا

Haunted, *a.* Inhabited or frequented by a ghost : ہتہا - ہتہیرا - ہتھیللا - جس جگہ بورت کا صرار ہو

Hautboy (*ho boy*), *n.* A wind instrument : شاہ ٹپی - نفیری

Hauteur, (*Fr. n. oter*) Haughtiness ; insolence : تکبر و غرور - زعم

Have, *v. t.* To hold ; to possess ; to win ; to obtain regard ; to accept ; to take ; to be impelled by duty : رکھنا - پکڑنا - قبضہ میں رکھنا - لحاظ کرنا - پاس کرنا - قبول کرنا - لے لینا - لینا - اٹھا لینا - معذور ہونا - **To—away, to remove :** حاصل کرنا **To—, to contain :** ہٹا لیجاتا **To—a care, to be on guard :** ہوشیار رہنا **To—it out of a person, to retaliate on a person :** کسی سے بدلا لینا **To—it out,** پہن لینا **To—on,** سے بدلا لینا **To—rather,** دینا **To—, to remove :** توجیع دینا

Haven, *n.* A harbour ; a port ; a place of safety : بندر - بندر گاہ - حفاظت کی جگہ - امن کی جگہ

Haversack, *n.* A bag for soldier's provisions : سپاہیوں کا - جھولا

Havoc, *n.* Wide and general destruction ; waste : تیغی - خرابی - بربادی - زیرانی

Haw, *n.* The berry and seed of the hawthorn : *v. i.* To speak with hesitation : پس - پیش کی - توبہ بولنا

Hawk, n. A bird of prey : جزہ - بز - شکرہ - v. t. *
 To sell by outcry : پیکار پیکار کر چیز کر بیچتے پھرنا *
n. i. To force phlegm up the throat : کھانکنا
 کھانسنہ

Hawker, n. A pedler : پھیری والا - خرائچہ والا

Hawser, n. A small cable ; a large rope : جہاز
 کارسا

Hawthorn, n. A thorny flowering shrub or tree :
 پھولدار کٹیالی درخت یا جھاڑی

Hay, n. Grass dried for fodder : کاہ *
 *سرکھی گھاس - کاہ

Make—while the sun-shines, seize a favourable opportunity :
 مرقع کر فتمیت جانتا

Hazard, n. Chance ; accident ; risk ; casualty :
 جوا - قمار * Game * خطرہ - افتاد - اتفاق - حادثہ

v. t. To put in danger ; to risk :
 خطرہ یا اندیشہ میں ڈالنا - مخاطرہ میں پڑنا

Hazardous, a. Exposed to hazard ; risky ; precarious :
 خطرناک - اندیشہ ناک

Syn.—Perilous, dangerous, bold, daring.

Haze, n. A thin mist or fog ; dimness : کھر -
 غبار - دھند

Hazel, n. A nut-bearing shrub : ایک مغز دار
 * a. Of the colour of hazel ;
 بھورے رنگ کا

Haziness, n. The state of being hazy : دھندلا
 ہٹ - تاریکی

Hazy, a. Misty ; obscure : تاریک -
 کوہر دار

He, A pronoun of the 3rd person masculine :
 ضمیر مذکر ہی روح واحد غائب - وہ

Head, n. The top part of the body ; the brain :
 Chief : ذہن * Understanding : سر - دماغ
 An * سر چشمہ - ذہن - مبداء - منبع * Spring * سردار
 A * سامنا : Front * شخص - نفر
 Culminating point : * صیغہ - خانہ-باب
 chapter : بالکل : --and ears, wholly * انتہا - پولادرجہ
 * زبردستی : --and shoulders, by force * سرتاپا
 * سر نہ پیر - آغاز نہ انجام
 Neither—nor tail * To come to
 Per— * فی کس - ادسی پیچھے
 a—, منہ در منہ * To his— * پھوڑے کا ہک جانا
 ادسی * To speak over the—s, منہ پر
 * fore— * تقریر کرنی کہ بولنے والوں کے بعد الفہم ہو

most, بل *—over heels, بازی * Out of
 one's—, آپہی آپ - خورد بخورد * Over—and
 ears, completely engrossed : غرق * مہر - غرق *
 To make—against, to resist with success : مقابہ
 * To come to a—, to ripen ;
 * کون - سامنا کرنا
 to mature : پختہ ہونا * To hit the nail on
 the—, to do the right thing : مناسب کام کرنا
 * To lose the—, to get muddled and confused :
 * گڑبڑا جانا - دماغ میں خلل آنا
 To make nei—ther—nor tail of anything, to be unable to
 understand the meaning of a statement :
 کسی چیز یا تذکرہ کا مطالب نہ سمجھنا

Head, a. Chief ; principal ; first : - اعلیٰ -
 سردار * v. t. To lead ; to direct ; to govern :
 ہونا - اول ہونا - پیش قدمی کرنا - پیشروائی کرنا

Headache, n. Pain in the head : درد سر - صداع

Headiness, n. Rashness ; obstinacy : - ہڈائی
 بے تاملی - شتاب کاری - ضد - ارجح پن

Heading, n. Enumeration of subjects :
 خاکہ - مد - باب - فصل - پیشانی - سرنامہ

Headland, n. A promontory : راس زمین

Headless, a. Having no head : بے سر بیدہ - بے سرکا
 * Without sense : بے عقل * Rash :
 شتابکار

Headlong, ad. With the head foremost ;
 سر کے بل - سرنگور - بے احتیاطی سے - بلا تامل : rashly

Headman, n. A chief ; a leader : - چودھری -
 مکھیا

Headmost, a. Most advanced : اگلا

Headsmen, n. An executioner : جلاہ - پھانسی دیئے
 والا

Headquarters, n. The residence of the princi—
 pal officer : صدر مقام

Headstrong, a. Stubborn ; obstinate : سرکش -
 منہ زور - کستانخ - سرچڑھا - بد کام

Headway, n. Progress made by a ship in
 motion ; success : ترقی بڑھتی

Head-work, n. Mental labour : دماغی محنت

Heady, a. Rash ; unruly ; violent : بے
 * The liquor is too heady,
 یہ شراب بہت نشیلی ہے

Heal, v. t. To cure : چنگا کرنا - شفہ بخشنا - علاج : نراج کرنا

Health, n. Sound state of body or mind welfare ; a pledge drunk to one's health : تندرستی - صحت - خیریت - جامِ صحت - شراب

Healthful, a. Free from sickness ; salutary ; wholesome : صحیح و سلامت - تندرستی - بھلا چنگا

Healthy, a. Hale ; sound ; wholesome ; con-
ducing to health ; salubrious : بھلا - چنگا - تندرستی - صحت بخش - صحت افزا

Syn.—Vigorous, hale.

Heap, n. A pile or mass ; a crowd : ڈھیر - انبار -
v. t. To pile ; to mass ; to accu-
mulate : تھیر کرنا - تودہ کرنا - انبار کرنا - (تھا) کرنا - ہجوم

Hear, v. t. To perceive by the ear ; to listen to :
سننا - کان دھرنا - ترجمہ کرنا - سماعت کرنا - لکھ کرنا
To—a bird sing, چرواہے کی خانگی خبر پانا - خفیہ
چرواہے کے ذریعہ سنانا To—say, * معلوم کرنا

Hearing, n. Act of perceiving sound ; atten-
tion ; presence ; judicial investigation :
استماع - شراعتی - ترجمہ - سماعت - موجودگی یا حضوری -
پیشگی

Hearken, v. t. To hear with attention ; to heed ;
سننا - سن لینا - متوجہ ہونا

Syn.—Listen, attend, hear.

Hearsay, n. Report ; rumour ; common talk :
افواہ - سماعی بات - شہرت - سنی سنائی بات - زبان زد
خلایق

Hearse, n. A carriage for conveying the dead
to the grave : مردہ کو قبر تک لے جانے والی گاڑی

Heart, n. The seat of life in the animal body :
جگر - Spirit ; courage : دل - قلب - جگر - من
Conscience : * حافظہ - یاد - Memory * دلیری
* The part nearest the middle or the cen-
tre : At—, at bottom ; مغز - گودا :
really : * To break the—of, to
cause grief to : * To get or learn
by—, to commit to memory : ذراں
* To have the—in the mouth,
to be terrified : حرف زدہ ہونا - سہمنا - کچھ منہ تو
دلیجہ معنی رہنا - بے
* To set the—at rest. * To set the—upon,
دل دینا - عاشق * نرار نہ ہونا

broken, intensely afflicted : دل
*—rending, agonising ;
Sick, درد ناک - نہایت دلخیزار
* آزرده خاطر
* بڑی آرزو
* After one's own—, to be much affected by :
To take to—, to feel encouraged :
دل یا دم نہ ہونا - جرات پانا

Heartache, n. Deep sorrow : درد دل - اندوہ
خاطر - غم

Heart-broken, a. Deeply affected or grieved :
دل شکستہ - غمگین

Heart-burn, n. An uneasy, burning sensation in
the stomach : کلیجہ کی جان - رجحان افراد

Hearth, n. A fireplace : آتش دان
The family circle : دل بچے

Heartily, ad. From the heart ; sincerely :
دل سے - جانفشانی سے

Heartless, a. Spiritless ; cruel : بے رحم

Heart-rending, a. Very distressing :
دل دکھانے والا

Hearty, a. Proceeding from the heart ; sincere :
سچا - راست - دلسوز - صادق - سرگرم

Heat, n. Great warmth ; glow : گرمی - جلش
v. t. To make hot :
to excite : گرم کرنا - تیز کرنا - اُکسانا

Heath, n. An evergreen plant : ایک قسم کا درخت -
بیتا - جسکی چھڑ بقی ہے

Heathen, n. A pagan ; an idolator : بت پرست -
کافر - بیبدین - مشرک

Heathenism, n. Paganism ; gentilism ; idolatory :
بت پرستی - کفر - دیر پوجا

Heating, a. Importing heat : گرمی دینے والا - حرارت
پیدا کرنے والا

Heave, v. t. To lift ; to raise ; to cause to swell ;
to paint : * A
* نرہا - اڑھانا - اڑھانا - پھولنا - ہانپنا
* rising of the breast : سینہ کی اُٹھان - اڑھان

Heaven, n. The sky ; the abode of the blessed ;
the Supreme Being : آسمان - جرم - اللہ - بہت -
مخداوند - اللہ

Heavenly, *a.* Pertaining to heaven ; celestial
blissful : اسمانی - نیکے - جنتی - بہشتی - متبرک

Heavenward, *a. and ad.* Towards heaven : آسمان
کی طرف

Heavenly, *ad.* Laboriously ; sorrowfully : - سختی سے -
بدشرواری - اڑاسی سے

Heaviness, *n.* Weight ; depression : - وزن -
بھاری پن - اڑاسی - غمگینی

Heaving, *n.* A motion of the heart ; a rising or
swelling : دل کی حرکت - سینہ کی اُبھار - اے سرد

Heavy, *a.* Weighty ; ponderous : بھاری *
Oppressive : دشار * Incumbered : سبقت *
Slow : سست * Expensive : قیمتی * Indigestible :
غمگین : حاملہ * Gloomy : سبقت - کڑا

H. betate, *v. t.* To blunt ; to stupefy : کند کرنا -
ذہن کرنا

Hebetude, *n.* Bluntness ; obtuseness : کندگی -
بندوبستی

Hebrew, *n.* A Jew ; the Hebrew language : -
عبرانی زبان

Hebrican, *n.* One skilled in Hebrew : -
عبرانی زبان دان

Hecatombe, *n.* A sacrifice of a hundred oxen :
سور بیلی کی قربانی

Hectic, *a.* Habitual ; constitutional : * عادی -
معتادی * مدقوق - دقی

Hector, *n.* One who teases or vexes ; a bully :
چھیڑنے والا - رستم خان - اکوٹا - شیخی باز - بڑولا

Hedge, *n.* A fence made of shrubs : -
چھڑی - ٹٹی * *v. t.* To inclose or separate with a hedge ;
to obstruct : احاطہ بندی کرنا - بار رکنا - باز رکنا

Hedge-hog, *n.* A kind of pig covered with spikes
or prickles on the back : خار پشت - سہی

Heed, *v. t.* To take notice of ; to attend to ; mind :
n. Care ; * خیال کرنا - مترجم ہونا - دھیان کرنا
attention ; notice : لفظ - دھیان - خیال
Syn.—Care, caution, attention, observation.

Heedful, *a.* Attentive ; watchful : ہوشیار -
خبردار

Heedless, *a.* Inattentive ; careless : - غافل -
بے فکر

Heedlessly, *ad.* Carelessly : غفلت سے -
بیخبری سے

Heedlessness, *n.* Negligence : غفلت - بے پرواہی

Heel, *n.* The hind part of the foot : * ایزہ -
باشنگہ * To be at the—s, *t.* A spur :
مہمیز * To be at the—s, *t.* To pursue closely :
* سایہ کی طرح پیچھے ہرنا * To be
down at—, to be slipshod : بیعتے - ہرنا
سرد پاؤں رکھنا * To go—s over head,
پہاڑوں سے گزرنا * To lay the—s, *
اندھا دند ہوا گنا * To tread upon one's—s,
کسی کے بہت قریب * To show the—s, to run
away : بھاگنا * To take to the—, to take to
fight : فرار ہونا - چاندینا

Heel-piece, *n.* A piece fixed on the heel of a
shoe : * چمڑے کا تکڑا جو جوتے کی ایزہ پر لگا
جاتا ہے

Heifer, *n.* A young cow : بچھیا

Height, *n.* Elevation ; eminence ; summit : -
بلندی * In the—of, * درمیان - بیچ
میں

Heighten, *v. t.* To raise high ; to enhance :
اڑھنا * یا بلند کرنا - بڑھنا - بہتر کرنا

Heinous, *a.* Atrocious ; wicked : - سخت -
شدید - بڑا

Syn.—Enormous, hateful, odious, atrocious.

Heir, *n.* One who inherits the property of another :
وہی عہد فرضی، presumptive، * وارث - ولی -
حقدار

Heir-apparent, *n.* The next heir to a crown :
وہی عہد

Heiress, *n.* A female heir : وارثہ

Heirless, *a.* Without an heir : لاوارث

Heirloom, *n.* Any moveable property which
descends to the heir : اسباب یا مال منقولہ جو ورثہ میں
آئے

Heir-ship, *n.* The state of an heir : میراث -
وراثت

Helical, *n.* Having many circumvolutions :
* پیچ در پیچ

Heliolatory, *n.* The worship of the sun :
پرستش آفتاب - سورج کی پوجا

Hell, *n.* The place of punishment for the wicked
after death : * جہنم - درج - جہنم - نرک *
Go to—, * میں جہنم میں بڑے - چولہے میں جاز
* To play—, * قاتل - قاتلین * قاتل شرور کرنا

Hellenic, *n.* Greek ; Grecian . یونانی

Hellenism, *n.* An idiom of the Greek : یونانی زبان کا معنی

Hellish Internal ; wicked : - درزخی - چھانچھان - شریر

Helm, *n.* The instrument by which a ship is steered : پتھار

Helmet, *n.* Defensive armour for the head ; head-piece : لوبے کا تپ - مخنجر - خرد

Helm'sman (Helm'sman), *n.* The man at the helm : مہجھوی - مکمانی

Helotry, *n.* Serfdom ; slavery : غلامی

Help, *v. t.* To aid ; to assist ; to support ; to prevent ; to remedy : مدد کرنا - اعانت کرنا - دستگیری - روکنا - باز رکھنا

To —on, *adv.* From this place or time : اب سے - دور سے - دور سے - دور سے - دور سے

This cannot be—ed, *adv.* From this place or time : اب سے - دور سے - دور سے - دور سے - دور سے

Syn.—Assist, succour, relieve, aid, serve.

Help, *n.* Assistance ; support ; relief : مدد - دستگیری - تفریت - سہارا - آرام

Helpful, *a.* Affording aid : مددگار - مفید

Helpless, *n.* Destitute of help ; feeble : بے بس - بے اختیار - کمزور

Helplessness, *n.* Want of help or support : بیفردی - ناچاری - عاجزی - فرمائندگی

Helpmate, *n.* An assistant ; a companion : مددگار - ساتھی

Helter-skelter, *ad.* In hurry and confusion : گرتے پڑتے - ہڑبڑی میں

Helve, *n.* The handle of an axe or hatchet : کلہ تری کا دستہ - ہینٹ

Hem, *n.* The border of a garment doubled and sewed : گرت - *v. t.* To fold and sew down the edge of ; to shut in : سبباف یا : **To—in**, to surround : باہر نکالنا * **To—out**, دور کرنا

Hemicrania, *n.* ادھ کپالی - درد شقیقہ - آدھ سیسی

Hemiplegia, *n.* Paralysis of one side of the face or body : اقباض - فالج

Hemi—phere, *n.* The half of a sphere : نصف کرہ - نصف دنیا

Hemispherical, *n.* Shaped like half a globe : نصف کرہ

Hemistich, *n.* An uncompleted verse : نصف بیت - مصرعہ اتمام - تک

Hemlock, *n.* A poisonous plant : ایک زہردار درخت

Hemorrhage, *n.* A flowing of blood from a rupture : جریان خون

Hemorrhoids *n.* The piles : خونچا برائیں

Hemp, *n.* A plant whose fibres are used for cloth and cordage : پت سن

Henbane, *n.* A herb : پھانگ - گانچا

Hempen, *a.* Of hemp : پتسن کا

Hen, *n.* The female of the domestic fowl : مرغی - کزنڈی

Hence, *adv.* From this place or time : اب سے - دور سے - دور سے - دور سے - دور سے

Henceforth, Henceforward, *ad.* From this time forward : اب سے - اس وقت سے - بعد ازیں

Henchman, *n.* A page ; a servant ; a follower : نوکر - خدمتگزار

Hen-coop, *n.* A cage for confining hens : مرغیوں کا پنڈیرا

Hen-hearted, *a.* Cowardly : بزدل - کم ہمت

Hen-pecked, *a.* Governed by one's wife : چورو کا غلام - زن مرید

Heptagon, *n.* A plane figure consisting of seven sides and seven angles : سابع سابعہ الاضلاع

Heptagonal, *a.* Having seven angles or sides : سابع پہلو

Heptarchy, *n.* A government by seven persons : سات بادشاہوں کی حکومت - سابع مملکت انکسائٹان

Her, *pron.* The objective and the possessive case of the personal pronoun she, *ad.* غریب

Herald, *n.* An officer of arms, a forerunner : منادی کرنیوالا * Proclaimer : پیشرو

Heraldry, *n.* The art or office of a herald : ایانچہ گی - ہراولی - نقابت

Herb, *n.* A plant with a succulent stalk : جڑی بوٹی - نبت

Herbaceous, *a.* Relating to herbs : - نباتاتی
برقی کا

Herbage, *n.* Herbs collectively ; grass ; pasture :
نباتات - چڑی بوٹی - بناس پتی - گھاس پات - ہریالی

Herbarium, *n.* A collection of dried plants : سرگرمے
پودے

Herbivorous, *a.* Eating herbs : - نباتات کھانے والا
چرندہ

Herculean, *a.* Having extraordinary strength :
دشوار - مشقت طلب
Very difficult : بہت ٹری

Herd, *n.* A number of beasts assembled together ;
a collection : جوڑ - گولہ - گلہ - *v. i.* To unite or
associate, as beasts : گولہ میں ملنا یا پورنا

Herdsmen, *n.* The owner or keeper of herds :
چرواہا - گلہ بان

Here, *ad.* In this place or state : اس جگہ یا اس
حالت میں - یہاں

Hereabout, *ad.* About this place : یہاں کہیں اس گرد
نواح میں

Hereafter, *ad.* In time to come : - آگے -
آئندہ - اب سے

Hereat, *ad.* At or by reason of this : اس پر

Hereby, *ad.* By means of this : اس سے

Hereditary, *a.* That may be inherited : قابل ارث

Hereditament, *n.* Any property that can be in-
herited : مال مرزوثی - میراث

Hereditary, *a.* Descended by inheritance : مرزوثی -
پشتینی - آبائی

Syn.—Ancestral, patrimonial, inheritable.

Herein, *In this :* اس میں

Heresy, *n.* An unorthodox opinion in religion ;
heterodoxy : دین سے گمراہی - اہلک - بدعت

Heretic, *n.* One who errs in religious faith : -
ماعد - کانر - بدعتی

Heretical, *a.* Containing or pertaining to heresy :
متعلق اہلک - نکر آمیز - عبرت انگیز

Heretofore, *ad.* Formerly ; anciently : - سابق میں -
پیشتر

Hereupon, *ad.* Upon this : اس پر

Herewith, *ad.* With this : اس کے ساتھ - منسلک

Heritage, *n.* Thing inherited ; inheritance : - ورثہ
میراث

Hermaphrodite, *n.* An animal in which two
sexes are united : ہیچڑا - مخت - آختہ

Hermetic, *a.* Chemical ; perfectly close : کیہ ٹیہ -
بکل بند

Hermetically, *ad.* Closely ; chemically ; in an
airtight manner : چار نظر سے بستی (بند) -

کیہ بانی طور سے (بند) - اس طرح سے بند نہ ہو اندر
داخل نہ ہو سکے

Hermit, *n.* A recluse : گوشہ نشین - زاہد - بان
پوست - تارک الدینا

Hermitage, *n.* A hermit's dwelling : حجرہ -
تبیہ - تہی

Hernia, *n.* Unnatural protrusion of any internal
organ : مرض ترق - بان خایہ

Hero, *n.* A brave man : شجاع - بہادر - سرورہ - غازی
مرد

Heroic, *a.* Becoming a hero ; brave : دلیرانہ - غازیانہ
بہادرانہ

Syn.—Brave, intrepid, courageous, daring.

Heroine, *n.* A female hero : بہادر عورت - مردانی

Heroism, *n.* Valour ; gallantry : شجاعت - بہادری -
جرات

Syn.—Courage, fortitude, bravery, valour.

Heron, *n.* A wading bird that feeds upon fish :
بگلا - بوتیمار

Herring, *n.* A small sea-fish : ایک قسم کی چوٹی
مچھلی

Hers, *pron.* The possessive form of she : اُسکا -
اُسکی

Herself, *pron.* The emphatic form of she and
her : اپنے تئیں - آپ خود

Hesitancy, *n.* Act of hesitation or doubting ;
uncertainty : شش و پانچ - تامل - شک - تذبذب

Syn.—Dubiousness, suspense, indecision.

Hesitate, *v. i.* To pause in deciding or acting ;
to be doubtful ; to stammer : پس و پیش کرنا -
قامل کرنا - شک میں ہونا - ہچکچانا

Syn.—Doubt, waver, scruple, deliberate, falter.

Hesitation, n. Act of hesitating; doubt : شش ر پنچ - پس ر پیش - توقف - شک - دبدھا

Hesper, n. The evening star : شام کا ستارا

Hesperian, a. Western : مغربی

Hest, n. Command : حکم - فرمان * Precept : (Poet.) * نصیحت - ہند

Heterodox, a. Not orthodox; heretical : ملحد - خلاف دین - کانز - گمراہ

Heterodoxy, n. An opinion or doctrine contrary to some established standard; heresy : العاد - نقر

Heterogenous, a. Differing in kind; dissimilar : غیر جنس - بے میل - نامطابق - مختلف - نامطابق اجزا یا غیر جنس چیزوں کا بھاؤ

Hew, v. t. To cut with an axe; to hack; to chop : کھاتی سے کاٹنا - تراشنا - چور چور کرنا - چھانٹنا

Hewer, n. One who hews wood or stone : ہیزم - کش - لکڑھارا - سنگتراش

Hexagon, n. A figure of six sides and six angles : سدس - شش پہلو - شش گوشہ

Hexagonal, a. Having six sides and angles : سدسی - چھ گوشہ والا

Hexahedron, n. A solid body with six sides : مکعب - شش پہلو

Hexameter, n. A verse of six metrical feet : چھ رکن کے وزن کا شعر

Hexangular, a. Having six angles : چھ کونیا - کھت کون

Hexapede, n. An animal with six feet : چھ پانوالا جانور

Hey, interj. An exclamation expressive of joy or exhortation : ارہو - آھا

Hiatus, n. An opening; a chasm : سوراخ - رخنے - چھید

Hibernal, a. Belonging to winter : سردماہی - جارتیکا

Hibernate, v. i. To pass the winter in a torpid state : جاڑا گذارنا یا کاٹنا

Hibernian, n. A native of Ireland : اہل آئر لینڈ * a. Relating to Ireland; Irish : متعلق آئر لینڈ - آئر لینڈ کا

Hiccough, n. A spasmodic affection of the stomach : ہچکے - فراق

Hidden, p. p. Concealed; mysterious : چھپا ہوا - پوشیدہ - پنہاں

Hide, v. t. To keep secret; to conceal; to defend : v. i. To lie concealed or secreted : چھپانا - منظم رکھنا - محفوظ رکھنا - لڑکونکا کھیل - and seek, a children's game : کھال - جام * n. The skin of a beast : چمڑا

Hideous, n. Horrible; frightful : ہیبت ناک - مہیب

Syn.—Dreadful, terrible, ghastly, shocking.

Hideousness, n. Frightfulness : ہیبت ناکي - رحشت - انگیزی

Hiding, n. Act of hiding; a concealment : پوشیدگی - چھپاؤ

Hie, v. i. To hasten; to repair to : جانا

Hierarch, n. The chief of a sacred order : پیر - مہنت - مرشد

Hierarchy, n. An ecclesiastical government : دینی بزرگوں کا انتظام

Hieroglyphic, n. A sacred character, especially the picture-writing of the ancient Egyptian priests : قدیم مصریوں کی تصویر جن میں حرف کی جگہ تصویریں اکھی چٹی ہیں

Hieromancy, n. The act of divining or observing things offered in sacrifice : چڑھاوے سے پیشین گوئی کرنا

Hierophant, n. A chief priest : پادری اعظم

Higgle, v. i. To use many words in bargaining : لین دین میں حجت کرنا

Higgledy-piggledy, ad. In utter confusion : درہم برہم - گتہ - ایتہ - کھال میل

High, a. Elevated; lofty; tall : بلند - اونچا - امبا * Exalted : اعلیٰ * Superior : برتر * Boastful : سفت - مغرور * Difficult : مشکل - دشوار * Full; complete : گراں * Dear : پورا * On—, aloft : بلندی پر *—and dry, out of water : خشکی میں *—day, a festival :—life, the style of living of the upper classes :—and low, handed, oppressive :—time, full time : سفت - جاہر

- words, angry words : **liver**, غصہ کے الفاظ
 * **treason**, دشمنی کی نمک
 * **In-feather**, خورش * حرامی - بدخراہی سرکار
With a—hand, نغرت سے
Syn.—Tall, lofty, elevated, exalted, supercilious.
Ant.—Short, low, depressed, ignoble, inferior.
- High, ad.** Aloft ; eminently ; profoundly : اونچا - بلند - زور سے
- High-bred, v.** Of noble breeding, or pure blood : عالی خاندان میں پرورش یافتہ - نہایت مہذب - غیر متقلبا نسل کا
- Highland, n.** Elevated land ; a mountainous region : پہاڑی ملک - کوہستان
- Highly, ad.** In a high degree of manner : بہت - نہایت
- High-mettled, a.** High-spirited ; courageous ; fiery ; mettlesome : بڑا تیز - شعلہ خو - جانباز - بہادر
- Highness, n.** Elevation : ارتقاع * A title of honour given to princes : مہاراج - حضور
- Highroad, n.** A public road or passage : شارع عام - شاہراہ
- Highschool, n.** Chief school : بڑا مدرسہ
- High-seasoned, a.** Enriched with spices ; piquant : خوب مصالح دار - چھل - چٹپٹا
- Highsounding, a.** Bombastic : بڑا آواز - بڑے الفاظ کا
- Highway, n.** A public road : عام راستہ
- Highwayman, n.** One who robs on the public road ; a highway robber : قزاق - دھون - لوٹیرا
- Hilarity, n.** Mirth ; glee ; gaiety. خرمی - چہل خرمی
Syn. Merriment, gaiety.
- Hill, n.** An eminence less than a mountain : پہاڑی - کورہ - پرنت
- Hillock, n.** A little hill : ٹیلا - پہاڑی
- Hilly, a.** Abounding with hills : کوہستانی - پہاڑی
- Hilt, n.** The handle of a sword : قبضہ - دستہ
- Him, pron.** The objective case of he : اُسے - اُسکو
- Himself, pron.** The emphatic form of he : خود-آپ
 آپ, **Of** * آپ ہی - تمہا - اکیلا, **By** * اپنے نہیں سے آپ - خود بخود

- Hind, a.** Backward ; back : پیچھے
- Hind, n.** The female of the stag : مادہ بارہ سنگا - ہرنی
- Hinder, v. t.** To impede progress ; to prevent ; to interrupt ; to retard : مزاحمت کرنا - منع - روکنا - مزاحمت کرنا - روکنا - اٹکانا
Syn.—Stop, interrupt, oppose, debar.
- Hinderance, Hindrance, n.** Act of hindering ; obstacle : مزاحمت - مزاحمت - امتناع - روک
Syn.—Impediment, obstacle, difficulty.
- Hindmost, Hindermost, ad.** The last : سب سے پیچھے
- Hinge, n.** The joint on which a door turns : قلابہ
- v. t.** To furnish with hinges : چول * قبضہ - چول
- v. i.** To turn as on a hinge ; to depend on : انکنا-مدار ہونا - منحصر ہونا * لگانا - چول لگانا
- Off the—es,** in a state of confusion : گزرتی میں - حالت ابتری میں
- Hint, v. t.** To suggest ; to allude ; to intimate : * اشارہ کرنا - کنایہ کرنا - مطلع کرنا - کنایتیں بیاں کرنا
n. A distant allusion ; slight mention : اشارہ - ایسا - رمز
- Hip, n.** The thigh joint : چوتڑ - پٹھا * **v. t.** To sprain or dislocate the hip : کولا اوتارنا
- Hippodrome, n.** A circus in which horse races are performed : گھوڑدروڑ کا چکر
- Hippopotamus, n.** The river horse : ایک سمندری جانور - دریائی گھوڑا - اسپ نیلاب
- Hire, v. t.** To engage for pay : کرایہ کرنا - اجرت پر
n. * رشوت دینا * To bribe : رکھنا - ہمارے پر لینا
 کرایہ-اجرت-مہنتانہ : Wages ; reward ; recompense
Syn.—Salary, stipend, pay, allowance.
- Hireling, n.** One hired ; mercenary : اجورہ - دار
- His, pron. poss. of he.** Belonging to him : اُسکا - اپنا
- Hiss, v. t.** To condemn by hissing : سسکار سے حقارت
v. i. To make a sound like that of s, as a goose or a serpent : سسکانا - پیچکانا
 حقارت کی آواز - چوی
- Historian, n.** A writer or compiler of history : مورخ - راوی - نقل - واقع نگار

Historical, a. Relating to or containing history :

تواریخی - روایتی

History, n. A narrative of past event :

تواریخ -

اتہاس - روایت

Historionic, a. Theatrical :

نقل خانہ سے متعلق -

نقل اور سرائگ سے منسوب

Hit, v. t. To strike ; to reach ; to suit :

مارنا - ضرب * To—on or upon, to

light on : * To—the mark,

light on : * To—the right nail on the

head, to find out the real meaning :

صحتیح مطالب
دریافت کر لینا

Hit, n. A strike or blow ; a lucky chance ; a happy

thought or expression :

مار - ضرب - حسن اتفاق -

Lucky—, * خیال یا بت جو یکایک سرچشمہ بڑے

حسن اتفاق - اچھا موقع

Hitch, v. t. To become entangled ; to be caught ;

to move by jerks :

پھانس جانا - اٹکنا - اُلٹھنا -

n. A catch or hook ; sudden

halt ; an impediment :

گرت - کانٹا - ہچک -

رک - اٹکڑ

Hither, ad. To this place :

ادھر - اہل طرف -

and thither, back and forward ; to and fro :

ادھر

Hitherto, ad. To this time ; as yet :

اب تک -

ہنوز - اسوقت تک - یہاں تک

Hitherward, ad. Toward this place ; this way :

اہل طرف - ادھر

Hive, n. A box for bees ; a swarm of bees :

خانہ - چھتہ -

مکھیر کی چوٹی

Ho, interj. A sudden exclamation to stop :

ہو -

ہرت - ٹھہرانے کی آواز

Hoar, a. Gray or white with age :

پیری سے سفید
(بال)

Hoard, n. A store of anything laid up ; treasure :

ذخیرہ - جمع - ہرنجبی - خزانہ

Hoard, v. t. To store secretly ; to accumulate :

چھپنا - جمع کرنا - چھپنا - اکٹھا کرنا

Hoarfrost, n. Dew frozen :

پالا - کھرا

Hoariness, n. A gray colour :

دھولا پن - پیری -
کھن مائی - سفیدی

Hoarse, a. Having a rough deep voice :

بھاری
بیٹھی ہوئی آواز والا - گلو گرفتہ - صدا گرفتہ - کرخ

گلا پھٹنا - آواز بیٹھنا * To become—

Hoarseness, n. Roughness of voice :

گلو گرفتہ -

آواز کا بیٹھنا

Hoary, a. Gray ; white :

بھورا - سفید

Hoax, n. A deceptive trick or story ; a practical

joke ; a waggish deception :

دھوکا - مستحضرے کی آرائی

ہوئی بت - شطرنج - پھر پھند - چال بازی - عملی دلتگی

* v. t. To impose on : پھر -

پھند کرنا

Hobble, v. i. To walk lamely :

* لنگڑاٹا - مشک کر چلنا

n. A halting walk :

لنگڑاٹ

Hobble-de-hoy, n. A youth between boyhood and

manhood :

چھوڑتا جسکے ریکھیں نکلتی ہوں - نیم

جوان

Hobby, n. A child's horse :

* بچہرنگہ لکڑی کا ٹھڑا

A kind of hawk : * A favourite

pursuit :

منظر نظر - شوق کی چیز

Hobgoblin, n. An apparition :

بھوت - پریٹ - پشچ

Hobnail, n. A nail with a thick head ; used in

the shoes of horses and of men :

تلمیخ - موٹا -

سرنکی کیل

Hock, n. The posterior part of the knee joint :

گھٹنے

ایک قسم کی * A light sort of wine

ہلکی شراب

Hockey, n. A game at ball played with a curved

stick :

ایک کھیل جو ٹینڈ اور ٹیڑھی لکڑیوں سے کھیلا

جاتا ہے

Hocus-pocus, n. A juggler ; juggler's stick :

نت - بازیگر - جھان مٹی کا کھیل - چھو مہتر

Hod, n. A bricklayer's trough :

راج یا معمار کی گارے

کی توڑکری

Hoe, n. An instrument for cutting up weeds and

loosening the earth :

* v. t. To dig

with a hoe : کھودنے سے

Hog, n. A swine ; a pig :

سور - خوک

Hog-cot, n. A house for hogs :

سور ہارا - خنزیر

خانہ

Hoggish, a. Like a hog ; filthy :

سور کے ایسا -

نجس - سیلا

Hogshead, n. A measure of 63 gallons : ایک پیمانہ : قریب پانچ من کے

Hoiden, n. A romping girl : ہلکی لڑکی - شوخ بچی

Hoise, v. t. To lift : اٹھانا

Hoist, v. t. To raise; to lift : - اٹھانا - کھڑا کرنا : -
To—the sail, * نال اٹھانا * **n.** Act of rising up : * چڑھڑ * A machine for elevating goods : اسباب چڑھانے کی کل

Hoity toity, inter. An exclamation of surprise : کلمہ تعجب و تعقیر

Hold, v. t. To grasp : پکڑنا - کرنا * **To maintain :** * روکنا * **To restrain :** * قبول کرنا - ماننا * **To receive :** * پانا * **To consider :** - سمجھنا * **To contain :** * سرچنا * **To bind :** * منعقد : لازم ولادہ جانا * **To celebrate :** کرنا - اجلاس کرنا

Hold, v. i. To endure; to refrain : - قائم رہنا - مضبوط * **To—fast, to stand firmly to :** * پکڑے رہنا * **To—forth, to put forward to view :** * **To—good,** * دماغ دینا * **To—harangue :** * **To—in play, to be applicable :** * صادق آنا * **To—on, to continue ; to last :** * قائم رہنا - چلنا * **To—out, to extend :** * جاری رہنا * **To last :** * پڑیلانا * **To—over, to put off :** * ماتوی رکھنا * **To—one's own, to cling to :** * جما رہنا * **To—one's own, not to lose ground :** * اپنی جگہ پر قائم رہنا * **To—one's own, to compete successfully :** * ہوسری کرنا * **To—one's own, to have peace, to up, to be consistent or logically sound :** * **To—water, to be consistent or logically sound :** * **To—with the hare and run with the hounds, to play a double and deceitful game ; to be with both sides at once :** دورنگی کرنا - دغا بازی کا کھیل کھیلنا - ریاکاری سے طرفین کو خوش رکھنا

Hold, n. Catch ; seizure : قبضہ * **Support :** * گزشتہ - قبضہ * **The bottom of a ship :** * جہاز کا پینڈا * **Confinement :** * قیود - حوالات * **A fort :** * گڑھ * **To lay—upon :** * **گزشتہ کرنا - قبضہ کرنا - داخل کرنا**

Holdback, n. A check : رکی - مزاحمت

Holdfast, n. A long nail ; a catch : - انکڑا - گرفت کی کڑھی چیز

Holding, n. Tenure ; hold ; influence : - دخل قبضہ - میعاد ٹھیکہ * **over,** * اختیار - کاشت - پتی - علاقہ - اجازت گذرنے کے بعد بھی زمین پر قبضہ رکھنا

Hole, n. A hollow place ; a perforation ; a cell : -
To pick a— in one's coat, * **A—to** creep out of, a plea : سڈر : رخنہ نکالنا - رخنہ (روزن)

Holiday, n. A festival day : تمغہ

Holiness, n. Sanctity ; piety : - پاکیزگی - پوپ کا خطاب * **The title of the pope :** تقری

Hollo, Holloa, v. i. To cry out loudly : لاکارنا - لاکار - پکار * **n.** A shout ; a loud call :

Hollow, a. Excavated ; vacant ; not sincere : -
n. A cavity ; a space between hills or elevations : خندق - غار - جرف - درہ

Hollow-hearted, a. Dishonest; incincere : - بے ایمان - بے وفا - کھٹی

Hollowness, n. State of being hollow : - خالی گھرائی - ناراضگی * **Insincerity :**

Holly, n. An ever green tree : ایک قسم کا درخت جو ہمیشہ سبز رہتا ہے

Holocaust, n. A whole burnt sacrifice : - ہرم یا قربانی جسے آگ میں بالکل جلا دیں - سرخندی قربانی - ہون

Holster, n. A leather case for a horseman's pistol : ہاتھوں رکھنے کی چمڑیکی تھیلی - قبور

Holt, n. A woody hill : جنگ - پہاڑی - بن

Holy, a. Perfectly pure ; consecrated ; pious : پاک -
Ghost, * کتاہ سے مبرا - پارسا - دیندار - مقدس روح القدس

Homage, (Fr. Hom'aj) n. Fealty ; obeisance ; respect : - اطاعت - فرمائندہ داری - تسلیم اطاعت کرنا * **To pay—to,** مطیع ہونا - سرچکادنا

Home, n. One's dwelling house ; one's country : -
One's long or last—, the grave : **To beat—with,** * **To bring—to, to prove :** * ثابت کرنا * **To pay—,** to retaliate : بدلا لینا

Home, a. Domestic ; close ; severe : - دیسی - دلایتی - قریب - سفت

Home bred, a. Native ; plain ; artless ; domestic : وطنی - ذاتی - اصلی - دیسی - خانگی - والدی

Homeless, n. Destitute of a home : لامکان

Homeliness, n. Plainness ; rudeness : - ادگی - زراشیدگی

Homely, a. Plain ; coarse ; poor ; - سادہ - ناتراشیدہ - غریب - روکھا - روکھا

Homeopathy, a. The system of medicine founded upon the belief that drugs have the power of curing diseases similar to those they excite in healthy persons : ہومیوپیتھک علاج - آج کاجا اگی سے اچھا ہرگز ہے جس سلسلہ کے موافق علاج کرنا

Homesick, a. Grieved at separation from home ; longing to return home : - گھر سے جدا ہونے سے غمگین - گھر چنیکہ آرزومند

Homespun, a. Spun at home ; plain ; coarse : خانہ بانف - سادہ - پودا - گھرتی کا - مرٹا

Homesold, n. ▲ farm with its buildings : زمیندار کا ضلع - مسکن

Homeward, a. Toward home : گھر کی طرف - گور گور

Homeward-bound, a. Destined for home : گھر لیا وطن چنیکو طیار

Homicidal, a. Pertaining to homicide ; murderous : قاتل - خونہی

Homicide, n. Manslaughter : مردم کشی - قاتل - ہمجنس

Homiletic, a. Relating to homilies : وعظ یا نصیحت کے متعلق

Homily, a. A plain and familiar sermon ; a serious discourse : مذہبی نصیحت - وعظ - گفتگو

Hominy, a. Maize coarsely ground and boiled : دلیا - مہربی

Homocentric, a. Having the same centre : ہم مرکز

Homogeneous, a. Of the same nature or kind : ہم جنس - موافق - ہم قسم - مشابه الاجزاء

Homologous, a. Of the same typical structure : ہم - مقدار - ہم - وزن - یکساں - ہم - متناسب

Homonym, n. A word which agrees with another in sound and spelling but differs in meaning : الفاظ جو عموماً لکھے ایک ہی مختلف معنی رکھتے ہوں

Hone, a. A stone for sharpening : سلی - سان لگنے کا پتھر

Honest, a. A fair in dealing with others ; upright ; sincere : دیانت دار - راست باز - گھرا - سچا
Syn. - Upright, just, true, sincere faithful.

Honesty, a. Plain dealing ; integrity ; uprightness : دیانت داری - راست بازی - ایمانداری - صدق

Honey, n. Sweet juice collected by bees from flowers : گرنے دے گرنے کی سی بات تر گھہ
Honey in the mouth saves the purse.

Honeycomb, n. The cells in which bees store honey : شہد کی مکھڑوں کا چھتا

Honey-moon, n. The first month after marriage : شادی کے بعد کا پہلا مہینہ

Honorarium, n. An extra fee tendered to a professional man ; a present : نذرانہ - مہینتہ - اہم

Honorary, a. Conferring honour ; holding a title or office without performing services or receiving a reward : عزت بخش - فارسی - بلا تشریح

Honour, n. Dignity ; high rank ; fame ; reputation ; reverence ; an ornament ; proper spirit ; pl. privileges of rank or birth ; title of respect : شہن - مرتبہ - عزت - عظمت - وقار - شہرت - ادب - تعظیم - وقار - شرف - زینت - آرائش - انبان - فضیلت - سرانندی - خردبدولت - An affair of—, a duel : حضور - جذبہ - حضور * On or upon one's—, truthfully : پاس عزت * A point of—, Last—s, obsequies : تہذیب و کفایت

Honour, v. t. To respect ; to revere : عزت کرنا
To accept and pay : ہنڈی سا کرنا * تعظیم و تکریم کرنا

Honourable, a. Worthy of honour ; estimable ; illustrious : صاحب آبرو - معزز - شریف - ذی حاصل - مہی ہمت - صاحب جاہ و جلال

Honourably, ad. With honour ; reputably : ابرور
 سے - حرمت سے - مردانہ

Hood, n. A covering for the head : - ٹرپ - ادرہ ٹھی -
 آنکھوں - ہیں دھول ڈالنا - (of carriage) گاڑی کی چھتری
 (of snake) پھون -

Hoodwink, v. t. To bind by covering the eyes ;
 to hide ; to impose on : آنکھوں - ہیں دھول ڈالنا -
 چھپنا - چل دینا - چھلنا

Hoof, n. The horny part of a beast's foot :
 ٹھور - سم

Hook, n. A bent piece of iron : انکڑا - کانٹا - قلابہ
 * By—or by crook, by some means or others :
 طرماً و کرماً - جبرن - جیوں تیروں - جس طرح بن پڑے
 * On one's own—, on one's own account : خود
 v. t. To catch with
 a hook ; to entrap : کانٹے یا انکڑے سے پکڑنا - انکڑا -
 تیرنا : v. i. To be curved ; to land : دام میں لانا
 ہونا - چھکنا

Hoop, n. A metal band to confine staves ; a
 ring : حلقہ - چوٹا - ڈنڈی - گھیرا

Hooping-cough, n. A convulsive cough : کوکر
 کھنسی

Hoot, v. t. To shout at in contempt : تالی بجانا -
 ہر ہر کرنا - اُلو - v. i. To cry as an owl : * دھتکارنا
 Cry of * دھتکار - ن. A cry in contempt : * کا بولنا
 اُلو کی آواز

Hop, v. To lap on one leg ; to skip lightly ; to
 limp : * ایک ڈنگ سے کودنا - پھونکنا - کھلنا - لنگڑا نا
 n. A jump on one leg ; a spring ; a dance :
 * A bitter plant used in brewing : ایک تلخ پودا چر شراب اُتارنے کے
 کام آتا ہے

Hope, n. Anticipation ; belief ; confidence ;
 چراغ خندان - of the family, - * توقع - آشا - آسرا
 عصے سے بیٹری

Hope, v. t. or i. To desire with expectation :
 امید کرنا - توقع رکھنا

Hopeful, a. Full of hope ; encouraging : امیدوار -
 متوقع

Hopeless, a. Destitute of hope ; despairing :
 مایوس - نا امید - نراس

Hopelessly, ad. Without hope : نا امید
 مایوسی سے
 ناامیدی

Hopelessness, n. Despair :

Hopper, n. One who hops : * A funnel
 by which grain passes into a mill : چکی کا گنہ

Hopple, v. t. To fetter the legs of : پیڑ میں زنجیر
 باندھنا

Horary, a. Hourly ; continuing an hour : گھنٹے بھر
 کا - ساعتی

Horde, n. A migratory body of men ; a clan :
 خانہ بدوش فرقہ - گروہ

Horizon, n. The apparent junction of the earth
 and sky : دائرہ - افق

Horizontal, a. Parallel to the horizon ; on a
 level : افق کے متوازی - سطح کے ہموار - پت

Horizontally, ad. In a horizontal direction :
 افق کے متوازی

Horn, n. A hard-pointed substance on an ani-
 mal's head : قرن - شاخ - سینگ * A wind in-
 strument of music : * نو سنگھ * A drinking cup of
 horn : دمدم کر * To pull in the—s, * جام شراب
 دب جانا - ٹوٹنے * To draw in the—s, * بہاگ جانا
 The—s of a dilem- * پڑ جانا - شیخی بھول جانا
 ma, ادھر تو اوردھر ہوتی - حالت متضاد جس سے بچ
 نکلنا مشکل ہے

Horn book, n. The first book for children :
 بچوں کی پہلی کتاب

Hornet, n. A large, strong, venomous wasp :
 زنبور - اکھیری - بڑی

Horn pipe, n. A kind of single dance : ایک ڈم کا
 ناچ جسمیں ناچنے والا اکیلا ناچتا ہے

Horologe, n. A timepiece of any kind : گھڑی -
 گھڑیال - ساعت نما

Horoscope, n. The aspect of planets at the
 hour of one's birth : جنم گن - نقلی - جنم پٹری -
 راجچہ

Horrible, a. Dreadful ; awful ; hideous : دہشت
 ناک - ہیبت ناک - بھیانک - مکروہ

Syn.—Frightful, fearful, terrible, hideous.

Horribly, ad. Frightfully : خوفناکی سے - مہربانہ

Horrid, a. Frightful ; horrible ; hideous ; shocking : وحشت ناک - خرنڈک - زشت - زبون

Syn.--Dreadful, frightful, awful, terrific, hideous.

Horrific, a. Causing ; dread ; terrible : - خرنڈکی - وحشت انگیز

Horrrify, v. t. To impress with dread : - دہشت دلانا - قرانا

Horror, n. Dreadful sensation ; terror : - لرزہ - دہشت - خوف - کپکپی

Horse, n. A hoofed quadruped : اسپ * **Cavalry, n.** Cavalry : سوار * **v. t.** To mount upon a horse : گہوڑے پر سوار ہونا

Horse-breaker, n. A trainer of horses : چابک سوار - گہوڑا نکالنے والا

Horse-dung, n. The dung of a horse : لید

Horse-laugh, n. A loud laughter : قہقہہ - کراہلاہٹ

Horseman, n. One skilled in riding : سوار

Horsmanship, n. Art of managing a horse : چابک سوزاری

Hortative, a. Encouraging ; advising : - تقریب دہ - نصیحت آمیز

Horticultural, a. Pertaining to garden culture : متعلق نظربندی وغبندی

Horticulture, n. Art of cultivating gardens : فن ربغبانی - نظربندی

Hose, n. Stockings : مرزہ * A flexible pipe to convey water : چمڑے کا نل

Hosier, n. One who deals in stockings, &c. : مرزہ فروش

Hosiery, n. Knitted goods : بنی ہوئی چیزیں مثلاً مرزے وغیرہ - مرزہ سازی

Hospitable, a. Kind to guests ; attentive to strangers : مہمان نواز - مسافر نواز

Hospitably, ad. In a hospitable manner : خاطر داری سے - غریب نوازی سے - مہمانداری سے

Hospital, n. A building in which the sick are treated : شہ خانہ - دارالشفاء - اسپتال

Hospitality, n. Kindness to strangers ; friendly welcome and entertainment of guest : - مہمانداری - مہمان نوازی - مسافر پروردی - تواضع - مدارات

Host, n. One who entertains others : مہماندار - مسافر خانہ کا * A landlord : میزبان - صاحب خانہ لشکر - گزرا * An army ; any great number : انبوهہ - مجرم - بھیڑ

Hostage, n. A person given as a security for the performance of conditions : قویل - بیضعال

Hostelry, n. An inn ; a hotel : مسافر خانہ - ہوٹل - سرائے - ٹولگ

Hostess, n. A female host ; a landlady of an inn : عورت میزبان - سروربانہ - ہوتیاری

Hostile, a. Inimical ; adverse ; repugnant : عداوت کا - مضاف - مکرورہ - بد اندیش - دشمن

Syn.--Warlike, inimical, unfriendly, adverse.

Hostility, n. Active opposition ; animosity : خصومت - عداوت - مخالفت - بغض - دشمنی

Hostler, n. One who has the care of horses at an inn : مسافر خانہ کا سائیس - چمڑے دار

Hot, a. Having heat : گرم - سوزاں * **Fiery ; lustful ; violent : acrid : - تیز - پرشہوت - مس - سفت - تلخ**

Syn.--Burning, glowing, fiery, eager.

Ant.--Freezing, frozen, cool, bleak, chilly.

Hot-bed, n. A heated bed of earth for rearing early plants : بامی کی تیزی جو غیر فصل پرورنکی پرورش کے لئے گرم کی جاتی ہے

Hotch-potch, n. A mixture ; a confused mass : کھچڑی - ملگوبا

Hotel, n. An inn or public house : سرائے - مسافر خانہ

Hot headed, a Violent ; rash : تیز مزاج - غصورر - مغارب الغضب

Hotspur, n. A rash person : تیز مزاج شخص

Hough (hok), n. The ham : چنور کی پچھلی ٹانگ کا جوڑان سے ملا ہوا

Hound, n. A hunting dog : شکاری کتا

Hound, v. t. To set on ; to incite ; to chase : لاچارنا - ملکرنا - پدپھہ درنا

Hour, n. The space of sixty minutes : ۶۰ منٹ کا
 * To keep good—s, رات - ساعت - رت
 سریرے سرنا اور : to go to bed and to rise early
 * The small—s of the morning, رات کے دو تین بجے
 * At the eleventh—, اخر
 *—s of pleasure are short, خوشی کی گزریاں چھوٹی ہوتی ہیں

Hourglass, n. A glass containing sand for measuring time :
 بالو کی گھڑی

Hourly, n. Happening every hour ; frequent :
 ساعت بساعت - گھڑی گھڑی - انٹر

House, n. A dwelling place ; a mansion ; a family :
 * گھر - مکان - محل - گھرانہ - خاندان
 * A branch of the legislature : راضعان نائون کی مجلس
 *—of call, جس کا رخاٹہ
 *—of correction, جس جگہ مسافر اور بیگمرا اعلیٰ حرفہ رہتے ہیں
 * v. t. To protect by covering ; to shelter : زیر سایہ رکھنا - پناہ
 دینا - ٹھہرانا - ٹکانا - اوتارنا

Housebreaking, n. Act of feloniously entering a house :
 سینڈ - نقب زنی

Household, n. A family living together : -
 خاندان - گھرانہ - گرهستی - ٹمب

Householder, n. The master of a house :
 صاحب خانہ - مالک مکان

Housekeeper, n. A superior female servant :
 خانہ دار - خادمہ - چاکرنی - نرکونی

Housekeeping, n. Domestic management :
 گھر کا انظام - گرهستی

Houseless, a. Without shelter :
 بے گھورا - خاٹہ بدوش

Housemaid, n. A female servant : -
 خادمہ - ٹھانی - چاکرنی

Housewife (huzif), n. The mistress of a family :
 * A little case for materials used in sewing :
 تلمے دانہ - کیسہ - تھیلی

Housing, n. Putting under shelter ; a saddle-cloth ; (Pl.) trappings :
 پناہ دہی - زمین پوش - چارل اور دیگر آرائش

Hovel, n. A shed ; a cottage :
 * v. t. To shelter in a hovel :
 سائبان - چھونچا - چپیر میں بند کرنا

Hover, v. i. To hang fluttering in the air ; to move to and fro in the neighbourhood of :
 منزلانا - پار - نزدیک پھرنا - جھرمنا

How, ad. In what manner ; to what degree or extent :
 کیسا - کس طرح - کتنا - کس قدر

Howbeit, ad. Nevertheless : -
 تاہم - باوجود - مگر - بہر کیف

However, ad. Nevertheless ; at least ; yet : -
 بہر ہی - و لیکن - توہی - پر - کتنا ہی کیوں نہ - خوراکیساہی

Howitzer, n. A short piece of ordnance :
 ایک قسم کی چھوٹی توپ

Howl, v. i. To cry as a dog or wolf :
 * بھرکنا - چلانا
 n. The cry of a dog or wolf :
 کتے یا بھڑتے کی آواز

Howlet, n. An owl ; an owlet :
 چغد - آو - بوم

Howsoever, ad. In whatever manner ; notwithstanding :
 کیساہی - کتناہی - باوجودیکہ

Hoy, n. A coasting vessel :
 ایک چھوٹی کشتی

Hoy, int. Ho ; hallo :
 ہو - ہا

Hub, n. The nave of a wheel :
 پہیئے کی ناہ

Hubbub, n. Uproar ; tumult :
 غوغا - شور - ہانک - ہنہنہ

Syn.—Tumult, uproar, riot.

Huckster, n. A retailer of small articles ; a peddler :
 خریدہ فروش - پھیری والا - بساطی

Huddle, v. i. To press or hurry in disorder ; to crowd together :
 گچ پیچ کھڑے ہونا - جھجھکنا - مٹھلوا کرنا
 n. A confused crowd of persons or things ; confusion :
 بھیز - جھجھک - گروہ - ابتہی

Hue, n. Colour ; tint ; shade :
 رنگ - لون - صورت

Huff, n. A swell of anger : -
 عیش - خفگی - غصہ
 * v. t. To swell ; to bully :
 پھولنا - خفا
 ہونا - چڑچڑانا

Hug, v. t. To embrace closely ; to treat with fondness ; to keep close to :
 چھاتی سے لگانا - گرد میں
 n. A close embrace ; a clasp ; a gripe :
 بغلیگری - ہم آغوشی

Huge, a. Very great ; vast ; immense :
 عظیم - وسیع - کلاں

Syn.—Enormous, gigantic, colossal, immense.

Hugger-mugger, n. Secret ; sly ; slovenly :
گڑبڑ * n. Secrecy ; privacy ;
disorder : پوشیدہ - گپ چپ - گڑبڑ

Hulk, n. The body of an old ship : ہزانے جہاز کا
تڑپھا ہول

Hull, n. The outer covering of a nut : چھلکا - پوست
The frame of a ship : جہاز کی کڑھی یا پیٹ

Hum, v. i. To sing low ; to buzz : گنگناٹا - ہینہیناٹا
To—and haw, to hesitate in giving a
plain answer : صاف جواب دینے میں ہس و پیش
ہینہیناٹ - گنگناٹ : n. A buzzing sound : گنگناٹ * کرنا

Human, a. Pertaining to mankind ; not divine :
انسانی - فوطی

Humane, a. Kind ; benevolent ; tender ; merciful :
مہربان - دردمند - رحیم - نرم دل

Syn - Kind, sympathising, mild, benevolent.

Humanely, ad. With kindness : مہربانی سے - ملامت سے
سے

Humanity, n. Mankind collectively : بنی آدم - جنس
دردمندی - رحم دلی * Benevolence : آدم

Humanise, v. t. To render humane : انسان بنانا -
نرم دل کرنا

Humankind, n. Mankind : بنی آدم - آدم زاد - نوع
انسان

Humble, a. Low ; modest ; submissive ; meek :
* To eat—pie, ذلت اٹھانا : خاکسار - فروتن -
حلیم - عاجز - غریب - عاجز - مطیع

Syn. —Low, insignificant, modest, mild.

Humble, v. t. To bring low ; to make submissive :
حلیم کرنا - خائسار کرنا - عاجز کرنا - مطیع کرنا

Humblebee, n. A large kind of bee : زنبور - ہونٹرا

Humbleness, n. Absence of pride ; humility :
عاجزی - حام - مسکینی - خاکساری - غریب

Humbly, ad. Without pride : عاجزانہ سے - غریبی سے

Humbug, n. An imposition ; a hoax ; a deceiver :
* v. t. To deceive : فریب - جھوٹہ - ٹھیک بدیا - مکر - دغا باز
فریب دینا

Humdrum, a. Dull ; stupid : کند - بے وقوف - احمق

Humid, a. Moist ; damp : مرطوب - نم - تر - گیلا

Humidity, n. Moisture ; dampness : رطوبت - سیل - تری

Humble, v. t. To humble ; to depress ; to
mortify : عاجز کرنا - شرمسار کرنا - ذلیل کرنا

Humiliation, n. Act of humbling ; mortification ;
meekness : ذلت - خفت - عاجزی - غریبی - فروتنی

Humility, n. Lowliness of mind ; modesty :
انکساری - حلیمی - عاجزی - خاکساری

Humming, n. Noise of bees or flies : ہونہونہٹ
شکر خور، *—bird، بھنک

Humorist, n. A whimsical person ; a wag ; a
droll : متکون - مزاح - ظریف - مستزہ

Humorous, a. Whimsical ; jocular ; playful :
مزاح - ظریف - خوش عیب - تسوڑ - منہوچی - ٹوٹیے باز
Syn. — Whimsical, jocular, witty, merry.

Humour, n. Moisture : نم - رطوبت * Mood ;
temper : مزاج * Wit : خیال * Whim : عادت *
Morbid—s, مذاق * Habit : خور - عادت - لذت
* v. t. To comply with the
humour of ; to gratify : سازبوداری کرنا - خاطر کرنا -
خوش کرنا - مہربانی کرنا

Hump, n. A protuberance ; a hunch : کب - کڑبڑ -
کوز - کرھان

Hump back, n. Having a crooked back : کوزہ
پشت - کبڑا

Hunch, n. A protuberance ; a hump : کب - کڑبڑ
A push with the elbow : کھنی کا دھکا

Hunch-back, n. A humpbacked person : کبڑا شخص
جسکے کڑبڑ ہو

Hundred, n. Ten times ten : سو - صد - سینکڑا

Hundred-fold, n. A hundred times as much :
سورچند

Hundredth, a. The ordinal of a hundred : سوواں

Hunger, n. A craving for food : گرسنگی *
* A strong desire : آرزو - خواہش - اشتیاق

Hunger is the best sauce, میں کرا پیاز
* v. t. To crave food ; to long for : ہونہونہٹا -
ترسنا

Hungrily, ad. With a keen appetite : گرسنگی سے -
بے صبری سے

Hungry, a. Feeling hunger : بھرکھا - گرسنا *
A hungry man is an angry man, ہونہونہٹا سو روکھا

Hunt, v. t. To chase ; to search diligently after ; to
pursue : شکار کرنا - جستجو کرنا - تعقب کرنا - پیچھا
* To—down, to pursue and kill or

capture ; to exterminate : پیدھا کر کے مارتا - ہودیر
 کرنا **To—up or out**, to search for : تلاش کرنا
Hunt, n. A chase ; pursuit ; search ; a body of huntsmen : شکار - پیڑوی - تعقب - تلاش - شکاریوں کا گروہ
Hunter, n. One that hunts : شکار باز - جریاں
Huntress, n. A woman that follows the chase : شکاری
Huntsman, n. A man who hunts : شکار باز
Hurdle, n. Sticks woven together for enclosure : تکی - تیر
 &c. :
Hurdy-gurdy, n. A stringed instrument : ایک سازنگی کی قسم کا تانت کا باجا
Hurl, v. t. To throw violently ; to cast : اچھالنا - پھینکنا
Hurly-burly, n. Tumult ; bustle ; confusion : کھول
 باہی - ہڑبوی - غل غپاڑا
Hurrah, interj. A shout of joy or exultation : واہ
 واہ - جے جے - شہباش
Hurricane, n. A violent storm of wind : طوفان - آندھی
Hurriedly, ad. In a hurried manner : عجلت سے - جلدی سے
Hurry, v. t. To hasten ; to urge onward : عجلت کرنا
v. i. To move or act in haste : جلدی چلنا - تعجیل کرنا
Hurry, n. Act of hurrying ; haste ; speed : اضطرابی - جلدی - تیزی
 Syn. Haste, speed, despatch, expedition.
Hurt, v. i. To harm ; to injure ; to damage : نقصان
n. * پھرنچاٹنا - تکلیف دینا - چوٹ دینا - ضرر دینا
 A wound or bruise ; mischief : نقصان - چوٹ
 Syn. - Wound, harm, mischief, damage, loss.
Hurtful, a. Mischievous ; injurious : مضر - نقصان
 پہنچانڈوالا - زہون - فساد - تکلیف دہ
Hurtle, v. t. To move with violence ; to push forcibly : دھکا دینا - ڈھکیلنا
Husband, n. A married man : * خاوند - شوہر - خصم
v. t. To manage frugally ; to cultivate : کفایت
 شعاری یا احتیاط سے چلانا - کاشتکاری کرنا

Husbandless a. Without a husband : بلاشوہر کے
Husbandman, n. A tiller of the ground ; a farmer : کاشتکار - کسان
Husbandry, n. A care of domestic affairs ; domestic economy ; tillage : کفایت شعاری - گزہستی - خانہداری - زراعت - کاشتکاری
Hush, a. Silent ; still ; quiet : چپ - چپ
v. t. To still ; to calm : * خاموشی - سکوت : * چپ
interj. Be silent : * خاموش کرنا - سنان کرنا : * چپ رہو
Hush-money, n. A bribe to secure silence : رشوت
 منہ بھری - چپ کراہی
Husk, n. The covering of certain fruits : چھلکا
 پوست - چھال - بیوسی
Husky, a. Consisting of husks ; rough in tone ; hoarse : پوست دار - روکھی یا بھاری (آواز)
Hussar, n. A mounted soldier : ولایتی رسالہ کا سپاہی
Hustings, n. The place where the election of a member of Parliament is held : وہ جگہ جہاں پارلیمنٹ کے ممبر کا انتخاب ہوتا ہے
Hustle, v. t. To push rudely : ڈھکیلنا
Hut, n. A poor cottage ; a lodge : جوہنچڑا - کٹی
Hutch, n. A box or chest ; a rat trap : صندوق - پنجرہ
Huzza, n. A shout of joy : جے جے
Hyacinth, n. A beautiful flowering Dutch bulb : سنبل
Hyades (Hai-a-tiz), n. A cluster of stars in the head of Taurus : ستاروں کا ایک گچھا جسکے نکلنے پر مینہ برسے گا اندیشہ ہرتا ہے
Hybrid, a. Of different species ; mongrel : مختار - انسل - درگلا
Hydrant, n. A pipe of discharging water : پانی کا نل
Hydraulics, n. (pl.) The science which treats of fluids in motion : علم قوت آب
Hydrocele, n. Serious fluid in the testicle : آب نزل
Hydrogen, n. A gas which is one of the elements of water : وہ ہوائے لطیف جو پانی کا ایک جز ہے

Hydrography, n. Art of measuring and describing the seas, lakes, rivers, &c., or of forming charts of the same : بحر جھیل دریا وغیرہ کے ناپ اور بیان کا علم

Hydromancy, n. A prediction by water : پانی سے شکرز لینے کا طریقہ

Hydrometry, n. The art of measuring the density of fluids : عذوق کی تیز اور گراہی معلوم کرنے کا علم

Hydropathy, n. Treatment of diseases with cold water : ٹھنڈے پانی سے بیماریوں کے علاج کا طریقہ

Hydrophobia, n. The dread of water ; canine madness : نفوس آب - دیوانگی جو باگل تھکے کاٹنے سے پیدا ہر

Hydroscope, n. A clock set in motion by water : پانی کی گھڑی

Hydropic, a. Dropsical : مستحقی - جانداری

Hydrostatics, n. The science which treats of the properties of fluids at rest : علم مائیات

Hyena, n. A fierce animal : چرخ - لکڑبھگا

Hygiene, n. The sanitary science : عام یا قواعد حفظ صحت

Hymen, a. The god of marriage : شادی کا دیوتا

Hymeneal, a. Pertaining to marriage : شادی کے متعلق

Hymn, n. A song of adoration : حمد - بھجن : *v. t.* To praise in songs : حمد کرتا گانا

Hymnist, n. A writer of hymns : بھجن لکھنے والا

Hyperbole, n. A figure of speech, which expresses more or less of the truth ; exaggeration : ایک صنعت جس میں حق سے زیادہ یا کم ظہر کیا جاتا ہے - مبالغہ

Hyperbolize, v. t. To speak or write exaggeration : مبالغہ کرنا

Hyperborean, a. Very cold ; northern : نہایت سرد - شمالی

Hypercritic, n. An unreasonable critic : نقاد چہین - حرف گیر

Hyphen, n. A mark (-) joining syllables or words : ہفٹن نشان (-) جو مرکب الفاظ کے اجزاء کے بیچ میں لکھا جاتا ہے

Hypnotic, a. Causing sleep : نیند لانے والی - سولا ڈیرالی

Hypnotism, n. A sleeplike condition brought on by artificial means : وہ خراب کی حالت جو مصنوعی طریق سے پیدا ہر

Hypochondria, n. A mental disorder caused by indigestion : خال دماغ جو بدضمعی سے پیدا ہر

Hypocrisy, n. False profession ; pretence : مکر - فریب - ظاہر داری - بندرت - ریڈکاری

Syn.- Dissimulation, pretence, affectation, sham.

Ant.- Candour, frankness, openness, truth, sincerity.

Hypocrite, n. A pretender to virtue or piety which he has not : دینے دیا کار یا مکر - منافق - جو فروش - گندم تھا

Hypocritical, a. Dissembling ; insincere : مکر آمیز - ظاہر پرست

Hypostasis, n. A distinct substance ; personality : شے - وجود

Hypotenuse, n. The line that subtends the right angle : وتر مثلث قائم الزاویہ

Hypothecate, v. t. To mortgage : گور ٹوٹا - رہن رکھنا

Hypothecation, n. Act of pledging as security : نکالت - استغراق رہن - گور

Hypothesis, n. A supposition : دعوی - قیاس - فرض

Syn.- Theory, supposition, assumption.

Ant.- Fact, supposition, proof.

Hypothetical, a. Supposed ; conditional : فرضی - قیاسی - شرطیہ

Hypothetically, ad. Conditionally : فرضاً - شرطیہ

Hyssop, n. An aromatic plant : ایک خوشبو دار پودا - ڈونڈ

Hysteria, Hysterics, n. A nervous disease, confined to woman : مہرچھا روگ جو عموماً عورتوں کو ہوتا ہے

Hysteric, Hysterical, a. Troubled with fits : مہلاہ - مرض ہائو گولا

- I, Stands for one :** درمن ایک کا ہندسہ
- I, pro.** The pronoun of the first person : میں
- Iambus, n.** A poetic foot of a long and a short syllable : انگریزی شعر کا رے وزن جس میں ایک لنگا اور دو سزا چھوٹا رکن ہر
- Ibex, n.** A species of goat : ایک قسم کا بکرا
- Ibis, n.** A bird of Egypt : ملک مصر کی ایک چڑیا
- Ice, n.** Frozen water : برف - برف - برف - برف
—, to open the way : راجہ نکالنا - شروع کرنا - حجاب توڑنا
- Ice, v. t.** To cover with ice : برف سے ڈھکانا
- Ice-berg, n.** A floating mountain or great mass of ice : برف کے ٹیلے جو سمندر میں تیرتے دھتے ہیں
- Icebound, a.** Totally surrounded with ice : برف سے بستہ
- Ice-cream, n.** Cream flavoured and congealed : تلیقی
- Ichneumon (Ik-nu-mon), n.** A sort of weasel : ایک قسم کا نیولا
- Ichnography, n.** A ground plan ; a platform : نقشہ - سطح - چبوترہ
- Ichorous, a.** Like ichor ; thin : زرداب کا سا - پتلا
- Ichthyology, n.** The natural history of fishes : علم حرت - رے علم جمعیں مڑولی کا بیان ہر
- Icicle, n.** A pendent conical mass of ice : برف کا قام : پیریزہ
- Icily, ad.** In an icy manner ; coldly : سردی سے - سردی سے
- Icing, n.** A coating of something resembling ice : پاک - کٹولی سفید چوہر جو مٹھاپی وغیرہ پر چڑھاتے ہیں
- Iconoclast, n.** A breaker or destroyer of images : بت شکن
- Iconography (I-ko-nog-ra-phi), n.** A description of statues : بت شکنہ تذکرہ
- Icteric, a.** Affected with jaundice : مریض برفوں -
* A remedy for jaundice : کنول کا روگی دوا
- Ictus, n.** A blow : ضرب
- Icy, a.** Composed of ice ; abounding in ice ; cold ; frosty : برف کا بنا ہوا - پختدار - سرد - پالا سا
- Idea, n.** A mental image ; notion ; opinion ; thought : تصور - دھم - رائے - خیال
- Ideal, a.** Existing in idea ; mental ; visionary : وہمی - خیالی - قیاسی
Syn.—Mental, intellectual, visionary, fanciful.
Ant.—Substantial, real, actual.
- Ideal, n.** A model of perfection ; a type : کمال کا نمونہ
- Idealism, n.** The doctrine of ideal existence : یہہ عقیدہ کہ دنیا خواب و خیال ہے - مایا
- Idealize, v. i.** To form ideas : تصور کرنا - خیال باندھنا
- Ideally, ad.** In an ideal manner ; mentally : خیال سے - ذہن میں - معنی
- Identical, a.** The same ; not different : وہی - ہمیشک - مطابق - ہجسہ - ایک ہی
- Identically, ad.** With sameness ; exactly : ویسے ہی - بعینہ - بے مطابقت
- Identification, n.** The act of identifying : شناخت - پہچان
- Identify, v. t.** To make to be the same ; to prove to be the same : مطابق کرنا - شناخت کرنا - پہچاننا
- Identity, n.** Sameness : یکسان - مطابقت
- Ides, n.** The fifteenth day of March, May, July and October, and the thirteenth day of the other months : رومیوں کی تقیم میں ماہ - مئی - جولائی اور اکتوبر میں ۱۵ اور دسمبر میں ۱۳ تاریخ
- Idiocy, n.** Natural absence and intelligence ; imbecility : پیدائشی خبط - سو - ا - جنون
- Idiom, n.** A peculiar mode of expression in a language : متبادرہ - اصطلاح - طرز کلام - بول چال
- Idiomatic, a.** Peculiar to a language ; phraseological : بزمبادرہ - اصطلاحی یا محاورہ
- Idiopathy, n.** A primary disease : اصالی بیماری
- Idiosyncrasy, n.** A peculiarity of constitution and susceptibility : مزاج یا طبیعت کا خاصہ
- Idiot, n.** One without reason ; a simpleton : بخلطو العقل - بخلطی یا بیوقوف شخص
- Idiotic, a.** Foolish ; sottish : بے عقل - کند - ذہن

Idiotism, n. An idiom : اصطلاح : Foolishness : بیوقوفی

Idle, a. Useless ; trifling ; unemployed ; lazy : بیکار - بیہودہ - بے شغل - کامل - سست - مجہول

Syn. - Inactive, unemployed, indolent.

Idle, v. t. To spend in idleness : سستی یا کاهنی میں بسر کرنا - گزارنا

Idle-headed, a. Foolish ; unreasonable : بے وقوف - بے مغز

Idleness, n. Laziness : سستی

Syn. - Indolence, inaction, sloth.

Ant. - Diligence, activity, industry.

Idle-pated, a. Idle-headed ; stupid : کند ذہن - بے وقوف - احمق

Idler, n. A lazy person ; a sluggard : سست آدمی - کامل - آرام طالب - آزارہ

Idly, ad. Ineffectually ; lazily ; carelessly : بے نادرہ - کاعلی سے - بے ہرراہی سے

Idol, n. An image employed as an object of worship : بت - صورت * A person or thing greatly loved : صام - معشوق

Idolator, n. One who worships idols ; an admirer : بت پرست - عاشق - گزویہ

Idolatress, n. A female idolater : بت پرست عورت

Idolatrize, v. i. To worship idols ; to admire : بت پرستی کرنا - پوجنا

Idolatrous, a. Pertaining to idolatry : بت پرستی کے متعلق

Idolatry, n. The worship of idols or images ; excessive attachment : بت پرستی - عشق - غایت درجہ کا اعتقاد

Idolize, v. t. To reverence to adoration ; to love to excess : پوجنا - پرستش کرنا - عزیز جاننا - لڑھکانا - خدا ماننا

Idoneous, a. Adequate ; fit ; proper : ٹھیک - درست - مناسب

Idyl, n. A short pastoral poem : چوڑھی کسافی گیت - قصیدہ مکلف

If, conj. In case that ; allowing that ; supposing that ; whether or not : اگر - جس حال میں - نہ - بشرطیکہ - بالفرض - گویا - جو ایسا نہر

Igneous, a. Consisting of fire ; containing fire ; resembling fire : آتش کا بنیاد - آتشی

Ignescent, a. Emitting sparks of fire when struck with steel : لہے سے مارنے پر آگ نکالنے والا آتش ریز - شرر افشاں

Igniferous, a. Producing fire : آگ پیدا کرنے والا

Ignify, v. t. To form into fire : آگ بنانا - آتش کرنا

Ignipotent, a. Presiding over fire : آگ پر قدرت - زبانی والا

Ignis-fatuus, n. Will-o'-the-wisp ; fiery meteor ; a delusion : شیطانہ آگ - شہبہ - غول بیابانی - دھوکا - جھوٹا - لڑک

Ignite, v. t. or i. To set fire ; to kindle ; to take fire : آگ لگانا - جلا - اٹبنا - سلگنا

Ignitable, a. Capable of taking fire : جاننے کے قابل

Ignition, n. The act of setting on fire : آتش زنی - سردستی

Ignivomous, a. Vomiting fire : آتش نساں - حرا - مکیو

Ignoble, a. Of low birth ; mean ; worthless : کمینہ - کم ظرف - کم اصل - رذیل - نکمہ - سقاء

Syn. - Degenerate, degraded, base, infamous.

Ignobly, ad. Dishonorably ; basely : بے حرمتی سے - ذہینگی سے

Ignominious, a. Dishonorable ; shameful : بے آبرو - بے حرمت - بے شرم - بدنام - رسوا - ناشایستہ - معیوب

Syn. - Infamous, shameful, despicable.

Ignominy, n. Shame ; reproach ; infamy ; disgrace : شرم - نقصیت - بدنامی - بے حرمتی - روائی

Ignoramus, n. An ignorant person : جاہل - احمق - سرکوبہ

Ignorance, n. Absence of knowledge : جاہالت - علمی

Ignorant, a. Destitute of knowledge ; unacquainted : لاعلم جاہل - بے وقوف - ناواقف - بے خبر

Ignorantly, ad. Without knowledge : جاہل شخص : * n. A person untaught : جہل سے - ذرا آفیت سے

Ignore, v. t. To set aside ; to disregard : نا منظر - کرنا - کچھ خیال نہ کرنا

- Ilk, a. (Scot.)** The same ; each : وہی - ہر ایک
- Ill, a. Bad :** * ناموافق * Disagreeable : بد - خراب
 Evil : بدمعاش * Sick ; diseased : مایک - بیمار
 غلط - Not accordant with rule : * ناساز - مانده
 چڑچڑا - تنگ * Cross : ناموزوں - نازبیا - بیجا - ناچیز
 مزاج - نیک چڑھا - بد خلق
- Ill, n. Misfortune ; wickedness ; depravity :** بدبختی -
 With *ad.* عیب - شامت - کمبختی - برائی تباہت
 بہ تکلیف - بہ - pain ; not easily ; not rightly : مشکل - بہ خرابی - بدنت
- Illapse, n. A sliding in ; sudden attack :** سرک
 چاٹا - یکایک حمہ
- Illaque a'e, v. i. To insnare ; to entangle ; to catch :** پونسانا - دام میں لانا - پکڑا - گرفتار کرنا
- Illation n. Inference ; deduction :** نتیجہ - حاصل
- Illative, a. Inferential ; conclusive :** نتیجہ - حاصل
 * n. That which denotes conclusion : چر نتیجہ ظاہر کرے
- Illaudable, a. Not worthy of approbation ; worthy of censure :** نا قابل تحسین - قابل نفیرین
- Ill-blood, n. Resentment ; enmity :** غصہ - دشمنی -
 عداوت - لاگ
- Ill-bred, a. Impolite ; uncivil :** بداخلاق -
 کچھ خاق
- Ill-breeding, n. Unpoliteness ; indecorum :** بے ادبی -
 ناشایستگی - بد اخلاقی
- Illegal, n. Contrary to law :** خلاف قانون
- Illegality, a. Contrariety to law :** مخالفت شرع -
 زانرسنگی
- Illegally, ad. In an illegal manner :** برخلاف قانون
- Illegible, a. Not readable ; indistinct :** چر پڑھ نہ
 جائے - بد خطا
- Illegibly, ad. In a manner not to be read :** ایسے طور
 پر چر پڑھا نہ جائے
- Illegitimacy, n. The state of bastardy :** کم اصلی -
 دروغہ پن - حرامی پن
- Illegitimate, a. Improper ; unlawfully begotten ; illogical ; improper ; born out of wedlock :** نا مناسب -
 نا روا - نا جائز - خلاف قانون غیر منکرہ
 عورت سے پیدا - حوام زادہ - خلاف منطوق
- Ill favoured, a. Ill-looking ; deformed ; ugly :** بد صورت -
 بد شکل - کربہ - نظر - زشت
- Illiberal, a. Not generous ; niggardly ; base :** کتیرس -
 بخیل - کمینہ - تنگ دال - بے فیض - پست
 حوصلہ
- Illiberality, n. Meanness ; parsimony :** کمینہ پن -
 کتیرسی - بخیلی
- Illiberally, ad. Uncharitably ; parsimoniously :** کتیرسی سے
 بخیلی سے
- Illicit, a. Prohibited ; unlawful :** نامشروع -
 * جعل * Imitation, * خلاف قانون - نا جائز
 تجارت ممنوع سرکار trade
- Illimitable, a. Incapable of being bounded :** بے حد -
 بے پیمانہ - بے انتہا
 Syn. - Boundless, limitless, infinite, vast, immense.
- Illimited, a. Unbounded :** بے حد - بے انتہا
- Illiteracy, n. Ignorance ; want of learning :** جاہالت -
 نا خواندگی
- Illiterate, a. Unlettered ; untaught ; unmistrusted :** جاہل -
 نا خواندہ
 Syn. - Ignorant, untaught.
 Ant. - Literate, educated.
- Ill-judged, a. Not well judged ; injudicious :** خلاف
 مصلحت - بے سلیقہ
- Ill lived, a. Leading a wicked life :** بدکار
- Ill nature, n. Bad temper ; malevolence :** بد مزاج -
 بد طبیعت - شرارت
- Ill-natured, a. Peevish ; fractious ; surly :** بدبظن -
 بد مزاج - چڑچڑا - بد خو - خبیث
- Illness, n. Disease ; indisposition :** مرض - بیماری -
 خرابی - شرارت * نا سازی
 Syn. - Disease, sickness, indisposition, wickedness, iniquity.
- Illogical, a. Contrary to the rules of logic :** خلاف
 منطوق - بے دلیل - خلاف عقل
- Ill-omened, a. Unfortunate :** بد بخت - بد شگون
- Ill starred, a. Fated to be unfortunate :** بد اختر
- Ill-tempered, a. Sour ; peevish ; fretful :** تشریب -
 مزاج - تیز مزاج - نا خوش

Ill-treat, v. t. To treat in a cruel manner : بری طرح سے پیش آند یا سلوک کرنا

Illude, v. t. To deceive ; to mock ; to play upon by artifice : فریب دینا - چھل کرنا - دھوکا دینا

Illume, v. t. To illuminate ; to enlighten : روشن کرنا - چلانا

Illuminate, v. t. To enlighten ; to adorn ; to illustrate : روشن کرنا - مرتب کرنا - راستہ کرنا - نقش و تصویر سے ظاہر کرنا

Illuminate, a. Enlightened : روشن - منور - چمکتا - ہرا

Illumination, n. The act of illuminating ; display of lights : * روشنی - چراغدان - دیپ دان - درخشش - ہر کاش - : Inspiration : * Brightness : تجلی

Illumine, v. t. To enlighten ; to adorn : روشن کرنا - فریب دینا

Illusion, n. A deceptive appearance : دھوکا - فریب - تضحیک - نقل - : Mockery ; error : مایا - غلطی

Syn. — Delusion, mockery, deception, error.

Illusionist, n. One given to illusion : دھوکے باز - فریبی

Illusive, a. Deceitful ; false ; unreal : دھوکے کا - پر فریب - باطل

Illusory, a. Fraudulent ; fallacious : دغا کا - باطل

Illustrate, v. t. To make intelligible ; to explain ; to adorn ; to brighten : شرح کرنا - مبین کرنا - زیب دینا - آرائش کرنا - روشن کرنا - مثال دینا - نقش و تصویر سے ظاہر کرنا

Illustration, n. Explanation ; a making clear : تشریح - بیان ترضیح - نمائندگی

Illustrative, a. Explaining ; serving to illustrate : مبین - مظہر - روشن کرنے والا - مشرح

Illustrator, n. One who illustrates : کاشف - شارح - مفسر

Illustrious, a. Luminous : * Eminent ; renowned : روشن - نامی - گرامی - صاحب مرتبہ - مشہور - نامور

Syn. — Eminent, distinguished, celebrated, glorious.

Ant. — Ignominious ; disreputable, disgraceful, degraded, inglorious.

Illustriously, ad. Eminently ; nobly : شان سے - نامور سے - شرافت سے

Ill-will, n. Enmity ; malevolence : عداوت - دشمنی - بدخواہی - بداندیشی

Image, n. A copy ; an idol ; idea ; likeness ; a picture in the imagination : تصویر - نقل - بت - خیال * v. t. To form a mental likeness of : خیال میں نقشہ بانڈھنا - تصور کرنا

Imagery, n. Imitation ; sensible representation ; forms of fancy picture ; a figure of speech : نقل - نقشہ - تصویر - خیالی تصویر - صنعت - استعارہ و تشبیہ وغیرہ

Syn. — Phantom, vision, dream.

Imaginable, a. Capable of being imagined : خیال کرنے کے قابل

Imaginary, a. Existing only in fancy ; not real : خیالی - قیاسی - بے اصل - دھمی - فرضی

Imagination, n. The power of forming mental images ; idea ; conception ; conceit : قوت متخیلہ - قوت متصورہ - خیال - تصور - قیاس - غرور

Syn. — Conception, idea, conceit, fancy, device.

Imaginative, a. Full of imagination ; fantastic : پر فکر - پر خیال - مضمون خیز - دھمی - من مروجی

Imagine, v. i. or v. t. To conceive ; to scheme ; to think : خیال کرنا - قیاس کرنا - تصور کرنا - بندش - کرنا - تجریر کرنا - سرچنا

Imbank, v. t. To inclose with a bank ; to defend by mounds : پشتہ بندی کرنا - پشتہ سے گھیرنا - بند - باز دھنا

Imbathe, v. t. To bathe all over : غرطہ لگانا - غسل کرنا

Imbecile, a. Weak ; destitute of strength, either of body or of mind : ضعیف - ناتواں - ضعیف العقل - ضعیف الذہن

Syn. — Weak, debilitated, feeble, infirm.

Imbecility, n. Weakness ; feebleness of body or of mind : نحف - ناتوانی - ضعف عقل - ضعف جسم

Syn. — Debility, impotence, infirmity, weakness

Imbed, v. t. To lay, as in a bed : بٹنگ یا بستری پر لیٹانا - زمین پر ٹپ میں گارنا

- Imbibe, v. t.** To drink in ; to admit into the mind and retain : ذہن میں لیتا - جذب کرنا - سرگھس لینا - ذہن نشین کر لینا
- Imbiber, n.** One who imbibes : پینے والا - جذب کرنے والا - سرگھس کرنے والا
- Imbitter, v. t.** To make bitter ; to make grievous ; to exasperate : تلخ کرنا - کڑوا کرنا - منگھس کرنا - دق کرنا - کھجھانا
- Imborder, v. t.** To adorn with a border : گورت لگانا - کنارہ لگانا
- Imbosk, v. t.** To conceal : چھپانا - پوشیدہ کرنا
- Imbrangle, v. t.** To entangle : اربجھانا - پھنسانا
- Imbricated, a.** Lying over each other like tiles : گھیردہ رنگے طرح اور دیکھتے رکھا ہوا - تہہ بہ تہہ
- Imbrication, n.** Overlapping of the edges : مہراب : دار - قوس
- Imbrigo (Imbro-igo), n.** An intricate plot ; a complicated state of things : پیچیدہ بندش - گھڑی سازش - پیچیدہ معاملہ
- Imbrown, v. t.** To make brown ; to obscure : بھورا کرنا - تاریک کرنا
- Imbrue, v. t.** To wet ; to soak : تر کرنا - قہرنا
- Imbrute, v. t. or v. i.** To degrade or sink to the state of a brute : ذلیل کرنا - جانور بنانا
- Imbue, v. t.** To tinge deeply ; to cause to imbibe ; to moisten : گہرا رنگ دینا - لانا تر کرنا
- Imburse, v. t.** To supply with money : زر پیشہ دینا
- Imitability, n.** The quality of being imitable : قابلیت - تقلید
- Imitable, a.** Capable of being copied ; worthy of imitation : نقل یا تقلید کے قابل
- Imitate, v. t.** To follow as a pattern ; to copy ; to mimic ; to counterfeit : تتبع کرنا - نقل کرنا - تقلید کرنا
- Imitation, n.** The act of imitating ; resemblance : تقلید - نقل
- Syn.—**Copy, likeness, resemblance, counterfeiting.
- Imitative, a.** Aiming at resemblance : تقلیدی - تقلید کی خاصیت رکھنے والا
- Imitator, n.** One who imitates : مقلد - نقل - پیرو
- Imitatorship, n.** The office of an imitator : نقل
- Immaculate, a.** Spotless ; without blemish ; بی عیبہ - بے داغ - صاف - بے جرم - بے عیب
- Immaculateness, n.** State of being immaculate : بے عیبی - صفائی - طہارت - پاکیزگی
- Immailed, a.** Wearing armour : مسلح - ذرہ پوش
- Immalleable, a.** Unhammerable : جو ہتھوڑی سے نہ بڑھا سکے - کڑا
- Immanacle, v. t.** To fetter ; to confine : پتھر لگانا - قید کرنا
- Immane, a.** Very great ; huge ; monstrous : بہت بڑا - عظیم - کلاں - درشت - ہوا
- Immanent, a.** Inherent ; internal : از درونی - اصلی - ذاتی - طبیعی
- Immanity, n.** Vastness ; ferocity ; barbarity : عظمت - روعت - درشتگی - وحشت
- Immanuel, n.** [Heb.—im, with, anu, us, and El, God.]—God with us ; an appellation of Jesus Christ : حضرت عیسیٰ کا ایک خطاب
- Immartial, a.** Not warlike : غیر جنگناہ - خالی از ہیکار
- Immaterial, a.** Spiritual ; unimportant : روحانی - غیر مادی - غیر ضروری - خفیف
- Immaterialism, n.** Doctrine of spiritual existence : عقیدہ وجود ارواح - روحانی ہستی
- Immaterialist, n.** One who believes in immaterialism : معتقد وجود - ارواح مجردہ
- Immaterially, ad.** In a manner unimportant : غیر ضروری طور سے - خفیف طور سے
- Immature, a.** Unripe ; crude ; premature : کچھا - خام - ناپختہ - نامکمل - نارس - پیش از وقت
- Syn.—**Imperfect, premature, untimely.
- Immaturity, n.** Unripeness ; incompleteness : نارسیدگی - خامی - نامکملی - ناپختگی
- Immeasurable, a.** That cannot be fathomed ; بے ناپ - بے اندازہ - بے انتہا - بے حد
- Immeasurably, ad.** Beyond all measure : بے پائیائی سے - بے اندازگی سے

Immediate, a. Without a medium ; proximate ;
instant : بلا - بلا واسطہ - قریب - بلا واسطہ - ترقف

Immediately, ad. Proximately ; instantly ;
directly : عاقرب - بع مجرد - زراً - بلا واسطہ

Syn. Directly, instantly, presently, quickly.

Immedicable, n. Incurable : لا دوا - بے علاج - لا علاج

Immelodious, a. Unmelodious : نا ہمدرد - بے سر - ناموزوں

Immemorial, a. Beyond memory ; out of mind :
یا۔ سے باہر - جسکا خیال نہیں - قدیم

Immense, a. Unlimited ; very great ; huge ;
vast : بے حد - بہت بڑا - بے پایاں - عظیم

Syn.— Infinite, illimitable, monstrous.

Immensely, ad. Infinitely ; vastly : بے حد - حد سے زیادہ - بکثرت - بہت

Immensity, n. Unbounded extent ; immensity :
بے پایاںی - عظمت - نلائی

Immensity, n. Infinity ; unlimited extension :
بے پایاںی - عظمت - کلائی

Immeasurable, a. Immeasurable : بے حد - بے پایاں - لا انتہا

Immensurate, a. Unmeasured : بے حد - بے ناپ

Immerse, v. t. To plunge into a fluid ; to dip :
غرق کرنا - غوطہ دینا - ڈبو ڈبو

Immerse, v. t. To plunge into a fluid ; to dip ;
to engage deeply : غرق کرنا - ڈبو - نہایت - مصروف کرنا

Immersion, n. The act of immersing ; a dipping ;
absorption : غرق - غوطہ - مشغولی - مصروفیت

Immethodical, a. Without order ; confused :
بے ترتیب - اہتر

Syn.— Irregular, confused, disorderly.

Immethodically, ad. Irregularly : بے ضابطگی سے - بے ترتیبی سے

Immigrant, n. One who immigrates : غیر ملک میں جانے والا - غریب الوطن - پردیسی

Immigrate, v. i. To pass into a country for
permanent residence : غیر ایک ملک میں جا بسنا - وطن ہونا

Immigration, n. Removing into a country for
permanent residence : غیر ملک کی سرکنت ہونے

Imminence, n. Impending evil : قاتل ہونے والی بلا - آنے والی آفت

Imminent, a. Threatening ; impending : سر پر - کھڑا - شہرہ

Syn.— Impending, threatening, near at hand.

Imminution, n. Diminution : تطفیف - مٹھائی - کمی

Immission, n. The act of sending ; injection :
اندر بھینچنا - دخول - ادخال

Immit, v. t. To inject ; to infuse : اندر داخل کرنا - چڑھنا

Immitigable, a. Not capable of being mitigated :
نا تطفیف پذیر

Immix, v. t. To mix ; to mingle : آمیز کرنا - ملا کرنا

Immobility, n. Fixedness in place ; immovability :
سکون - عدم حرکت - قیام

Immoderate, a. Exceeding usual bounds ;
extravagant : بے حساب - زاید - افزوں - نامعتدل

Syn.— Excessive, intemperate.

Immoderately, ad. Excessively ; unreasonably :
از حد - بے اعتدالی سے - زاید

Immodest, a. Immoderate ; arrogant ; unchaste ;
obscene : بے قاعدہ - خرد نما - بے عصمت - ذہاک

Syn.— Indecorous, shameless, impudent.

Immodestly, ad. Indecently : ناشائستگی سے - بے حیائی سے - بے غیرتیی سے

Immodesty, n. Indecency ; unchastity : بے حیائی - بے عصمتی

Immolate, v. t. To sacrifice ; to offer up : قربانی کرنا - ذبح کرنا - بل دینا - چڑھنا

Immolation, n. An act of sacrificing ; sacrifice :
قربانی - چڑھاؤ - بلدان

Immolator, n. One who offers in sacrifice :
قربانی کرنے والا

Immoral, a. Not moral ; wicked ; unjust :
ناصواب - فاجر - برا - بد - ذہون - بدکردار - غیر انصاف - خلاف شیع

Syn.— Vicious, vile, depraved, dissolute.

Immorality, n. Vice ; wickedness : بد کرداری - بستی - فحش - بدعت

Immorally, ad. Wickedly ; viciously : - زبردستی سے - فاجرانہ

Immortal, a. Not mortal ; lasting for ever ; eternal : - ابنشہی - غیر فانی - دائمی - امر - قدیم - لازوال - باقی - پایدار

Syn.—Eternal, everlasting, unending, deathless.

Ant.—Transitory, transient, moral, perishable.

Immortality, n. Exemption from death ; perpetuity : حیات ابدی - بقا - حیات جاودانی

Immortalise, v. t. To render immortal : - لازوال کرنا - حیات جاودانی دینا - امر کرنا

Immortification, n. Want of subjection of the passions : پیروی نفس - نفس پرستی

Immovability, n. Steadfastness : - استقلال - سکون - قرار

Immovable, a. Incapable of being moved ; firmly fixed ; steadfast ; unchangeable ; impassive : غیر متحرک - اچل - اٹل - غیر متاثر (جاہاد) - مستحکم - مضبوط - قائم - ثابت قدم - نا اثر پذیر

Immovably, ad. Unalterably ; unchangeably : مضبوطی سے - استقامت سے - بے حرکتی سے

Immunity, n. A particular privilege ; freedom ; exemption : - خاص طور پر آزادی - استثناء - اجازت - برکت

Immure, v. t. To enclose within walls ; to shut up ; to imprison : - دیوار سے گھیر لینا - بند کرنا - قید کرنا

Immusical, a. Not harmonious : - بدالحن - بے سہم - بے راگ

Immutability, n. Unchangeableness ; invariableness : - ثبات - عدم تبدیلی - غیر تغیری

Immutable, a. Unchangeable ; invariable : - بلا تغیر - بے تبدل - یکساں

Immutably, ad. Unchangeably : - بلا تغیر

Imp, n. A young or little devil ; a mischievous child : - شیطان خرد - شریر لڑکا

Impact, v. t. To drive close : - داہنا - سانہنا - ملانا - ٹکر - ملاپ - داب * n. Collision ; touch : - ٹکرنا

Impair, v. t. To make worse ; to enfeeble ; to diminish : - خراب کرنا - کمزور کرنا - گھٹانا - بگاڑنا

Syn.—Diminish, decrease, injure, weaken, enfeeble.

Impale, v. t. To fix on a stake ; to put to death ; to enclose ; to surround : - سرلی - میخ پر چڑھانا - دینا

Impalement, n. The act of enclosing with stakes : - ٹکھورا بندی

Impalpable, a. Extremely fine ; unperceivable ; immaterial : - ناقابل لمس - نا معلوم - نرچہراؤ - نہایت باریک - غیر محسوس - غیر مادی

Impalpably, ad. In a manner not readily felt or apprehended : - نا معلوم طور سے

Impanel, v. t. To enrol the names of a jury : - اہل جری کے نام فہرست میں لکھنا

Imparity, n. Inequality ; disparity : - تفاوت - مراعات

Imparl, v. i. To have delay for mutual adjustment : - باہم فیصلہ کرنے کے لئے ٹالنا

Imparlance, n. License for delay of trial : - مہلت کا پورا کرنا

Impart, v. t. To give ; to disclose ; to communicate : - دینا - ظاہر کرنا - بتلانا - متاع کرنا
Syn.—Share, yield, confer, grant, reveal.

Impartial, a. Unprejudiced ; disinterested ; just : - غیر تعصب - بے غرض - بے طرفدار - عادل - منصف - عادلانہ - کسی طرف نہیں

Syn.—Unprejudiced, just, equitable.

Impartiality, n. Disinterestedness ; equitable-ness : - بے غرضی - بلا طرفداری - انصاف - نیازی

Impartially, ad. Without bias ; justly : - بے غرضی سے - انصاف سے - منصفانہ - حق حق رعایت - بے غرضی سے

Impartible, a. Not partible ; capable of being imparted : - ناقابل تقسیم - بتلائے جانے کے لائق

Impartment, n. Communication ; disclosure : - اطلاع - اظہار - ایشا

Impassable, a. Impenetrable ; impervious : - ممتنع - داخل - بند - ناممکن گذر

Syn. Impenetrable, pathless, impervious.

Impassibility, n. Exemption from pain or suffering : - رنج و تکلیف سے برکت

Impassible, a. Incapable of suffering ; inaccessible to pain : - رنج و تکلیف سے میرا

Impassion, v. t. To affect strongly with passion : - خشم الوردا کرنا - نفس کو بر انگیزتہ کرنا - اشتعال دینا

Impassive, a. Not susceptible of pain ; insensible : - درد سے بے

Impassiveness, n. Insensibleness : - درد سے بے حس

Impaste, v. i. To knead : - گوندھنا

Impatience, n. Uneasiness under pain or suffering ; restlessness ; fretfulness : - درد سے بیقراری - بیصبری - بے چینپ

Impatient, a. Not patient ; intolerant ; restless ; hasty ; eager : - بے صبر - بے تاب - بے قرار - جلد باز - بہت خراہش مند - اُتارالا - مضطرب

Syn.—Hasty, eager.

Impatiently, ad. With uneasiness : - بیصبری سے - بے قراری سے

Impawn, v. t. To pledge ; to deposit as security : - رهن رکھنا - گور رکھنا

Impeach, v. t. To impede ; to accuse ; to call in question : - باز رکھنا - روکنا - الزام لگانا - متہم کرنا - باز پرس کرنا - جواب طلب کرنا

Impeachable, a. Accusable ; liable to impeachment : - اتہام کے قابل - الزام لانے کے قابل - مآخرفی کے لائق

Impeachment, n. Hindrance ; a calling to account ; accusation : - روک - باز پرس - اتہام مآخرفی

Syn.—Accusation, indictment, charge, censure.

Impearl, v. t. To form into pearls ; to decorate with pearls ; to adorn : - مرتی کی شکل میں بنانا - مرتیوں سے آراستہ کرنا

Impeccable, a. Not subject to sin ; perfect ; immaculate : - معصوم - بے گناہ - بے خطا - بے داغ - بے عیب

Impeccancy, n. Sinlessness : - معصومیت - بے گناہی - بے تقصیری

Impeccant, a. Sinless ; impeccable : - بے گناہ - معصوم - بے خطا

Impeccunious, a. Poor ; penniless : - غریب - مفلس - کنگال

Impede, v. t. To hinder ; to obstruct : - باز رکھنا - روکنا - بند کرنا - انسداد کرنا

Impediment, n. Hindrance ; obstruction : - روک - انسداد

Syn.—Hindrance, obstruction, difficulty.

Ant.—Aid, relief, assistance.

Impeditive, a. Impeding : - روکنے والا - سد راہ

Impel, v. t. To drive forward ; to instigate : - توبلنا - ریلنا - ڈھکیلنا - مہجور کرنا - ترغیب دینا

Syn.—Inolite, move, excite.

Impellent, n. A power that drives forward : - ڈھکیلنے والی یا چلانے والی طاقت

Impeller, n. One who impels : - چلانے والا

Impen, v. t. To shut in a narrow place : - گھیرنا - بند کرنا

Impend, v. i. To hang over ; to be imminent : - آویزاں ہونا - سر پر چھانا - قریب ہونا

Impendence, n. The state of impending ; near approach : - سر پر چھائے ہوئے رہنے کی حالت - نزدیک

Impending, a. Hanging over ; near : - سر پر چھائے ہوئے - نزدیک

Impenetrability, n. The quality of being impenetrable : - عدم تداخل

Impenetrable, a. Incapable of being penetrated : - بے گذر - جس میں دخل یا تاثر غیر ممکن ہو

Impenetrably, ad. So as to be impenetrable : - دشوار گھاری سے

Impenitence, n. Obduracy ; hardness of heart : - سختی - سنگدلی

Impenitent, a. Not penitent : - گناہ کی معافی نہ n. A hardened sinner : - سخت گنہگار - سرکش

Impenitently, ad. Without repentance : - بغیر توبہ سے - تاسفی سے

Impennous, a. Having no wings : - بے پر کا

Imperative, a. Expressive of command ; authoritative : - تاکید - تعکم امیز - حکمیہ - ضروری - The form of a verb which expresses command, &c. : - فعل کی صورت امریہ

Imperatively, ad. Authoritatively : - امرانہ - حاکمانہ

Imperceptible, a. Not to be apprehended ; not discernible ; insensible : - غیر محسوس - غیر نمود - نا قابل دید

Imperceptibleness, n. The quality of being imperceptible : - غیر محسوسیت

Imperceptibly, ad. In a manner not to be perceived : - بے محارم طور سے

Imperdible, a. Not destructible : **بے زوال - نا ممکن**
افنا - اڈل

Imperfect, a. Not perfect ; defective ; weak :
نا مکمل - ناقص - ناتمام - کمزور - خام

Syn. - Unfinished, incomplete, defective, im-
 paired.

Ant. - Finished, complete, entire, full.

Imperfection, n. Defect ; fault ; blemish : -
نقص - ضرر - عیب - خطا - خامی

Imperfectly, ad. Not fully ; not completely :
ناتمام طور سے - ناقص طور پر - بلا تکمیل - خامی سے

Imperforable, a. Incapable of being perforated :
جس میں سوراخ نہر سکے

Imperforate, a. Not pierced through : -
ناستغنتہ - ان بیدھا - بے سوراخ

Imperial, a. Pertaining to an empire, or to an
 emperor ; royal : *** بادشاہی - شہنشاہی - خسروانہ**
n. * **A** Of superior size or excellence : **بڑا - عظیم**
tuft of hair on a man's lower lip : **مورے لب**
زیرین - بچھری

Imperialism, n. The power of an emperor :
راختیار شاهی - حکومت خسرویی

Imperil, v. t. To endanger : **بلا میں ڈالنا -**
مہلتا کرنا

Imperious, a. Commanding ; haughty : **حکومتی**
تکمانا - مغرور - متکبر - شدید - تیز

Syn. - Lordly, haughty, tyrannical, despotic.

Ant. - Lowly, meek, humble, submissive, leni-
 ent.

Imperiously, ad. With arrogance : -
غرور سے - تکبر سے

Imperiousness, n. Authority ; arrogance : -
غرور - تکبر

Imperishable, a. Not liable to perish ; inde-
 structible ; enduring ; everlasting : -
غیر فانی - لازوال - دائم - جاہدانی

Impermeable, v. Impenetrable : -
نا ممکن داخل - بے گذار - بند

Syn. - Impassable, impenetrable, pathless.

Impersonal, a Not varied according to the
 persons : **نعل اقص - بلا شخصیت - قائل معین یا**
معلم

Impersonality, n. Want of individuality ; anony-
 mous character : **غیر تشخیص - بے نامی**

Impersonally, ad. Without personality :
بے تشخیص

Impersonate, v. t. To personify ; to act ; to
 represent or assume the character of : **فرضی**
شخص بنانا - شخص مجازی ٹھہرانا - نقل کرنا - کسی کے
پریس میں ہونا - اپنے تئیں دوسرا دکھانا

Impersonation, n. Personification : **انسان**
قرار دینا

Imperspicuity, n. Vagueness : **نا صافی - ابھام**

Imperspicuous, a. Not clear ; vague : -
ناصاف - شبہ - مبہم

Impertinence, n. Irrelevance : **بے تعلق -**
گستاخی - بے ادبی - شوخی

Impertinent, a. Irrelevant ; meddling ; rude :
بے محنت - خارج البصحت - دخل دینے والا - شوخ - بے
n. **An intruder :** *** ادب - گستاخ - ادبی - نا قابل لفاظ**
بجھا مداخلت کرنے والا

Impertinently, ad. Officiously ; rudely :
خرامخواہ - بے ادب سے

Imperturbability, n. Coolness ; self-possession ;
پرودت - اطمینان - استقلال

Imperturbable, a. Incapable of being dis-
 turbed : **مستقل - نایم مزاج**

Imperubation, n. Calmness : **استقلال**
سراجی

Imperviability, n. Impenetrability : **دشووار گذاری**

Impervious, a. Impenetrable ; impassable :
نا ممکن داخل - دشوار گذار - نا ممکن عبور

Syn. - Impassable, impenetrable, pathless, im-
 permeable.

Impetrate, v. t. To obtain by request : **منصوب سے**
حاصل کرنا - مانگ لینا

Impetration, n. The act of obtaining by peti-
 tion : **منصوب رسد سماجت سے حاصل کرنا**

Impetuosity, n. Violence ; vehemence : -
تیزی - شدت

Impetuous, n. Violent ; furious ; forcible ;
سخت - غضب ناک - خشناک - بزرور -
شدید - تیز - تند

Syn. - Forcible, rapid, hasty, furious, violent.

Impetuously, ad. Violently; forcibly; vehemently : سختی سے - خشمنائی سے - تیزی سے - تندگی سے

Impetus, n. Force of motion; violent tendency to any point : حرکت کا زور - قوت - تیزروی

Impierce, v. t. To pierce through : چھیدنا - آرہا کرنا - پیدھنا

Impiety, n. Ungodliness; profaneness : نابخدا - تیزی - ناپاکی - ناپارسائی - کفر - عیب - بدی

Impinge, v. t. To dash against; to clash; to infringe : اُپر پر گزنا - لگنا - ٹکر ہانا - توڑنا

Impious, a. Not pious; irreligious; profane; wicked : فاسق - فاجر - بے مذہب - بے دین - ناپاک - زریز - رند

Impiously, ad. Profanely; wickedly : ناپاکی سے - کانزائے

Implacability, n. Irreconcilable enmity : خصومت - عداوت - دشمنی - سنگدلی - لگ

Syn. - Malice, rancour, cruelty.

Ant. - Placability, tenderness, forgiveness.

Implacable, a. Not to be appeased; inexorable : بے تسکین - بے رحم - سخت - سنگدل

Implacably, ad. With enmity not to be pacified : سخت دشمنی سے - سنگدلی سے

Implant, v. t. To infix; to set; to ingraft : نسب کرنا - قائم کرنا - کاڑھنا - بیٹھانا - جمانا - قائم لگانا

Implantation, n. The act of implanting : جمارت - قائم بندی - داں ڈھینگی

Implausible, a. Not plausible; spacious : نا خوشنما - ناپرسندیدہ - ناقابل اطمینان

Implead, v. t. To accuse; to prosecute : الزام لگانا - ماضی کرنا

Implement, n. An instrument; a utensil : اوزار - ہتھیار - الا - ایاب - سامان

Implication, n. The act of filling; a filling : ہراڑ - پڑی

Impex, a. Intricate : پیچیدہ - دقیق - پیچیدہ

Implicate, v. t. To involve; to entangle : پھنسانا - مایوں کرنا - اچھانا - لپیٹنا - شامل کرنا

Implication, n. Involution; entanglement : اچھوار - لپیٹ

Implicative, a. Tending to implicate : پیچیدہ - کنایہ دار - پھانسنے والا

Implicit, a. Tacitly comprised; implied; trusting to the word or authority of another : کامل - پورا - مزادی - اعتباری - بسواسی - دوسرے پر ہونے والا

Implicitly, ad. By implication; unreservedly : دھما - مراداً - بے کم و کاست - بے شہدہ

Syn. - Virtually, unreservedly, assuredly.

Implore, v. t. To beseech; to entreat : منت کرنا - استدعا کرنا - التماس کرنا - التجا کرنا - مانگنا

Syn. - Beg, crave, entreat.

Imploringly, ad. In an imploring manner : التجا سے - منت سے

Implunge, v. t. To immerse : غرق کرنا - ڈبا دینا - قورنا

Imply, v. t. To involve; to mean; to signify : لپیٹنا - معنی رکھنا - مقوم رکھنا - مراد رکھنا - دلالت کرنا

Syn. - Include, comprise, import, signify, mean.

Impoison, v. t. To imbitter; to impair : تلخ کرنا - زہر الرده کرنا - منقص کرنا - خراب کرنا

Impolicy, n. Inexpedience : نا مناسبت - بی حکمت - بد تدبیر

Impolite, a. Not polite; rude : ناتوازی - بے ادب

Impolitely, ad. Uneivilly : ناشائستگی سے

Impoliteness, n. Want of politeness; incivility : نا شائستگی - بے ادبی

Impolitic, a. Inexpedient; imprudent : خلاف مصلحت - بے موقع - بیجا - نامناسب - غیر ہدایتی - ناتوازی

Imponderable, a. That cannot be weighed : جزو وزن نہ کیا جاسکے

Imponderous, a. Void of perceptible weight; light : غیر وزن - عاکا

Imporosity, n. Closeness; compactness : اتصال - اجڑاے بستگی - ٹھوس پن - انجماد

Imporous, a. Destitute of pores; solid : بے مسام - ٹھوس - نف

Import, v. t. To bring in from abroad; to signify; to imply : باغری لانا - معنی رکھنا - دلالت کرنا - ظاہر کرنا - مراد رکھنا

Syn. - Denote, mean, signify, concern.

Import, n. Anything imported : اشیاء درآمد - مال
وزن - قدر - وقعت : Weight ; moment : * آمدنی

Importable, a. Capable of being imported :
اندر لیجانے کے قابل - لادنے کے لائق

Importance, n. Consequence ; weight ; moment ;
importance ; the question at issue : ضرورت - قدر -
وقعت - وزن - منزلت - رتبہ - لحاظ - وقر

Important, a. Weighty ; momentous ; of great
weight ; consequential ; pompous ; urgent :
بڑا - وزنی - ضروری - مقدم - متقاضی - تاکید - قابل
لحاظ

Importantly, ad. Weightily ; forcibly : -
وزن سے - بزر

Importation, n. The act of importing ; commo-
dities imported : در آمد - اشیاء درآمد

Importer, n. One who brings from abroad :
غیر ملک سے مال لانے والا

Importunate, a. Incessant in solicitations ;
exacting ; very pressing : سخت و سماجت کرنے
والا - دق یا تنگ کرنے والا - متقاضی - ضدی - غرض
باؤلا

Importune, v. t. To solicit earnestly ; to press
by entreaty ; to request with great pertinacity ;
to dun : سماجت کرنا - اصرار کرنا - بار بار کہنا - بھد
* a. Vexatious ; unreasonable :
تنگ کرنے والا - بے سمجھ

Importunity, n. Urgent request ; pressing solici-
tation : اصرار - تقاضا - آڑ - سماجت - جد و جہد -
درخواست یا اسرار

Impose, v. t. To lay on ; to levy ; to pass off :
سرپر رکھنا - ذمہ کرنا - لگانا - دھوکا دینا - ٹھکانا

Imposing, a. Impressive ; commanding : -
موجب دار

Imposition, n. The act of laying on ; injunction ;
deception ; penalty ; command : لگانا یا دھرنا -
محصول - حکم - حکم امتناعی - فریب - دھوکا - مطالبہ
گراں بار - فرمایش - ارشاد - حکم سزا - گنہگاری

Impossibility, n. Impracticability : -
ناممکن ہونا محال

Impossible, a. Not possible ; impracticable :
ناممکن - غیر ممکن - محال

Impost, n. A tax ; a toll ; custom ; duty :
محصول - خراج - کر - راجہ داری

Syn.—Tax, duty, custom, tribute.

Imposthume, v. t. To form an abscess : -
ہونا - پکنا

Imposthumation, n. The act of forming an
abscess : دمل - پھرنا - پھرے کی پکارت

Imposthume, n. A collection of pus ; an abscess :
مواد یا پیپ کا جمع ہونا - پھرنا

Impostor, n. A deceiver ; a pretender : -
فریبی - دھوکے باز - مکار

Syn.—Deceiver, pretender.

Imposture, n. Fraud or imposition : -
دغا بازی - ظلمت - فن و فریب - عیبیاری - تلبیس

Impotence, n. Weakness ; inability ; inbecility :
کمزوری - ضعف - ناتوانی

Impotent, a. Weak ; feeble ; wanting competent
power : ضعیف - ناتوان - کمزور - کم طاقت - بے مقدر

Syn.—Disabled, weak, feeble, infirm.

Ant.—Potent, strong, firm.

Impotently, ad. Without power ; weakly :
بے - کمزوری سے

Impound, v. t. To put in a pound ; to confine :
گھیرنا - احاطہ میں رکھنا - قید کرنا - بند کرنا - مویشی
خانہ میں رکھنا

Impoverish, v. t. To make poor ; to exhaust
fertility : غریب کرنا - محتاج کرنا - کمزور کرنا (زمین)
کو) نا طاقت کر دینا

Impoverishment, n. Exhaustion ; reduction to
poverty : کمزوری - افلاس

Impracticability, n. Impossibility : -
دشواری - عدم امکان - ناقابلیت تعمیل

Impracticable, a. Impossible ; untractable ;
unmanageable ; unpassable : - محال -
دشوار - منہ زور - نا قابل عمل درآمد - ناممکن گذر

Syn.—Untractable, stubborn, unmanageable,
unreasonable.

Ant.—Practicable, manageable, feasible, pos-
sible.

Impracticably, ad. In an impracticable manner :
ناممکن طور سے

Impactical, a. Not practical ; visionary : **نا ممکن - خیالی**

Imprecate, v. t. To call for evil ; to invoke a curse : **کرسنا - لعنت کرنا - بددعا دینا**

Imprecation, n. Prayer for evil ; curse ; malediction : **بددعا - لعنت - سراپ**

Syn.—Curse, execration.

Ant.—Blessing, benediction.

Imprecatory, a. Invoking evil ; maledictory : **لعنتی**

Imprecision, n. Want of precision : **عدم صحت یا درستی**

Impregnable, a. Not to be taken ; invincible ; incorruptible : **جو لیا نہ جاسکے یا قبضہ میں نہ آسکے - An—fortress, * نا ممکن التسخیر - نا بگڑنے یا خراب ہونے والا قلعہ جو سر نہ ہوسکے * An—resolution, * مستحکم ارادہ - تصد مسمم * An—virtue, نا قابل تخریب عصمت - ست جو بگڑنے والا نہیں**

Impregnability, n. State of being invincible : **غیر مغترب ہونے کی حالت**

Impreguably, ad. So as not to be taken : **بہ استحکام - اسطرح پر کہ قبضہ نہ کیا جاسکے**

Impregnate, v. t. To make pregnant : *** حاملہ کرنا**
To infuse ; to fill ; to imbue : **بوردار کرنا - بھرنا - ڈالنا - پلانا**

Impregnation, n. The act of impregnating : **حمل - باربرداری**

Imprescriptible, a. That cannot be lost by neglect : **جو عدم توجہی سے زایل نہ ہوسکے - صریحی - بدیہی**

Impress, v. t. To stamp ; to imprint : **مہر کرنا - بیگار پڑنا - زبر**
To force into service : * چھاپنا
To make a serious effect : * دستی خدمت لینا
To fix deep : * بزا اثر کرنا
To compel to enter public service ; to take for public use by force : * بچبر ملازمت سرکاری
n. * میں داخل کرنا - سرکاری کام کے لئے بیگار پکڑنا
Seal ; stamp ; device : مہر - ٹھپتہ - نشان

Impressible, n. That may be impressed ; susceptible : **نقش پذیر - تاثیر پذیر**

Impression, n. Mark ; image in the mind ; influence ; effect ; idea ; slight remembrance : **نقش - نشان - اثر طبع - تصور - خیال - اثر - تاثیر - جس قدر ایک مرتبہ ہو * گمان**

Impressive, a. Capable of being impressed ; earnest ; solemn : **نقش پذیر - مؤثر - خواہش - مند - مشتاق - سنجیدہ**

Impressively, ad. In an impressive manner : **مؤثرانہ - دل نشین طور پر**

Impressment, n. Act of forcing into service : **جبراً کام لینا - بیگار**

Impressure, n. Impression ; indentation : **نقش - داب - نشان**

Imprest, n. Loan ; money advanced ; earnest money : **قرض - پیشگی - بعاث**

Imprimatur, n. (*L.* Let it be printed) A license to print : **چھاپنے کی اجازت**

Imprimis, ad. In the first place ; first in order : **اولاً - پہلے**

Imprint, v. t. To impress ; to stamp ; to fix on the mind : *** چھاپنا - مہر کرنا - دل نشین کرنا**
n. Name of the publisher ; time and place of publication of a book, etc., printed on the title page of a book : **کتاب کے شایع کرنے والے کا نام معہ تاریخ و مقام**

Imprison, v. t. To put into prison ; to confine : **قید میں رکھنا - قید کرنا - بند کرنا - اسیر کرنا**

Imprisonment, n. Confinement or restraint : **قید یا * with labour, - اسیری - حبس * without labour, - مشقت * with irons and labour, - قید یا مشقت و جلال**

Syn.—Incarceration, custody, duress.

Improbability, n. Unlikelihood ; something not likely to happen : **عدم امکان - امر ناممکن**

Improbable, a. Not likely : **- ناممکن - خلاف قیاس نہیں**

Improbably, ad. Without likelihood : **خلاف قیاسی سے**

Improbability, n. Dishonesty : **بے ایمانی - بددیانتی**

Impromptu, ad. or a. Off hand ; extempore ; without previous study : **پر جستہ - بے غور - بے تا - عمل - بے ساختہ - بر محل**

- time, عین وقت پر * —truth, سچ * —as far as, یہاں تک * To be—with, درستہ رکھنا
- Inability, n.** Want of power ; impotence ; weakness : کم طاقتی - ناتوانی - نا نابلت - کمزوری
- Inaccessible, a.** Not to be approached ; unobtainable : رسائی سے باہر - پہنچ سے باہر - نا ممکن : الاصول
- Inaccuracy, n.** Want of accuracy ; mistake ; error : نادراستی - نقص - غلطی
- Inaccurate, a.** Not correct ; erroneous : غلط - نادراست - ناقص
- Inaccurately, ad.** Incorrectly ; erroneously : غلطی سے
- Inaction, n.** Want of action ; idleness ; rest : بیکاری - سستی - بے شغلی - آرام - نرست
- Inactive, a.** Not active ; inert ; indolent ; sluggish : بے حرکت - کابل - سست - مہمل - آسپی
- Inactivity, n.** Rest ; idleness ; sluggishness : آرام - سکون - سستی - کالمی - آس
- Inadequacy, n.** Insufficiency ; inequality : عدم اکتفا - کوتاہی - کمی - نا مراقت - نا برابر
- Inadequate, a.** Not adequate ; defective ; unequal : غیر کافی - کم - نقص - برابر - دہرا
- Syn.**—Unequal, incompetent, insufficient, defective.
- Ant.**—Equal, competent, adequate, sufficient.
- Inadequately, ad.** Not sufficiently : کمی سے - کوتاہی سے
- Inadhesive, a.** Not adhering : جو چسپیدہ نہ ہو
- Inadmissibility, n.** The quality of being inadmissible : نا قابل قبول - نا قابل منظوری
- Inadmissible, a.** Not proper to be admitted : نا قابل منظوری - نا قابل سماعت - نامسوع
- Inadvertence, a.** Carelessness ; inattention ; negligence : بے ہرانی - غفلت - بے خبری - بے لگاپی - سہم - بھول
- Inadvertent, a.** Heedless ; careless ; inattentive : بے پروا - غافل - بے فکر - بے خیبر
- Inadvertently, ad.** Inconsiderately ; carelessly : بے خبری سے - بے ہرانی سے - غفلت سے
- Inaffable, a.** Reserved : کم سخن - کم گو
- Inalienable, a.** That cannot be alienated or transferred : ناقابل انتقال - نا ممکن التبدیل - نا ممکن الانتقال

Inalienably, ad. In a manner that forbids alienation : منتقل نہوسکنے کے طریق سے

Inamorato, n. A lover : عاشق

Inane, a. Empty : بے - بے - Void of sense : بے عقل - بے مغز

Inanimate, a. Lifeless ; dead : بے حیات - بے جان - مردہ

Syn.—Lifeless, dead.

Inanition, n. Want of fulness ; emptiness ; exhaustion from want of food : خلا - خلار - بے مغزی - ارچہ! پن - غیر معروزی

Inanity, n. Void space ; vanity : خلا - خلار - ارچہ! پن - بے مغزی

Inappetence, n. Want of appetite : عدم اشتہا - خرا - ہش نہ ہونا - سیری - اسودگی

Inapplicable, a. That cannot be applied ; unfit : نامراقتی - بے مرقع - نا مناسب - انہول

Syn.—Unsuitable, unadapted, inappropriate.

Ant.—Suitable, fit, appropriate.

Inapplication, n. Negligence ; indolence : غفلت - سستی - کالمی

Inappreciable, a. That cannot be duly valued ; too small or slight to be perceived : جسکی قدر نہ کیجاسکے - اکتفا توہرا نہ معلوم نہ ہوسکے

Inapprehensible, a. Not intelligible : نا قابل فہم - مہمل - سمجھ سے باہر - مغلط

Inapproachable, a. Inaccessible : جسکے قریب پہنچ نہ سکیں

Inappropriate, a. Unsuitable : نامناسب : نامراقتی - نا مناسب - بے محل

Inaptitude, n. Unfitness : نامراقت - نا مناسب - مغیرت

Inarticulate, a. Not uttered with distinctness ; indistinct : جو بولنے میں صاف نہ ہو - بے معنی - مہمل

Inarticulation, n. Indistinct pronunciation : نا صاف آواز - گلبلاہٹ

Inartificial, a. Not done by art ; artless ; simple : غیر مصنوعی - بلا تصنع - بے ساختہ - بے تکلف - سادہ

Inattention, n. Heedlessness ; neglect : تغفل - عدم توجہی

Inattentive, a. Heedless ; negligent ; careless : بے خیبر - کم توجہ - غافل - بے پروا

Inaudible, a. That cannot be heard ; making no sound : جو سُنائی نہ پڑے - نا مسوع - آہستہ

Inaudibly, ad. In a manner not to be heard : اِس طرح پڑ کہ سُنائی نہ دے

Inaugural, a. Pertaining to inauguration : جاوس یا شگون کے متعلق - نئے عہدہ پر جاوس کرنے کا

Inaugurate, v. t. To invest with office ; to exhibit : نئے عہدہ پر مقرر کرنا - تخت نشین کرنا - تلک دینا

Inauguration, n. Investiture with office by appropriate ceremonies : جاوس - تخت نشینی - راجدگی - ٹیکا

Inaurate, a. Covered with gold ; gilded : سونا چڑھا
سونا چڑھانا - سونے کا : * v. t. To gild : * v. t. To gild : ملاح کار ملاح کرنا

Inauration, n. The process of covering with gold : طلاکاری - ملاح سازی

Inauspicious, v. Unlucky ; evil ; unfavourable : بدبخت - بد - نا باریک - نامرانی - منکوس - اشیہ

Inborn, a. Implanted by nature ; innate : ذاتی - خَلقی - جبلی - پیدایشی - سرشتی - جو ہری

Inbred, a. Innate ; natural : اندرونی
قید میں : بند کرنا

Incalculable, a. Beyond calculation or estimation ; countless : بے شمار - بے حساب - بے اندازہ - لاتعداد

Incalescent, a. Growing warm ; increasing in heat : گرم ہونے والا - جس میں حرارت بڑھتی جائے - تباد حرارت

Incandescent, a. White or glowing with heat : روشن - تابان - جلتا - دھکتا ہوا - دھکتا ہوا

Incantation, n. A magical charm ; enchantment : جادو - منتر - افسون - سحر - ٹرنا

Incapability, n. Incapacity ; want of power : نا قابلیت - بے مقدری - نا طاقتی

Incapable, a. Unable ; unequal to ; unfit ; disqualified : نا قابل - نا موافق - نا لائق - بے بس - مجتہر - ناچار - معذور

Incapable, a. Unable ; unequal to ; unfit ; disqualified : نا قابل - نا موافق - نا لائق - بے بس - مجتہر - ناچار - معذور

Incapable, a. Unable ; unequal to ; unfit ; disqualified : نا قابل - نا موافق - نا لائق - بے بس - مجتہر - ناچار - معذور

Incapacious, a. Narrow ; of small content : تنگ - سگزا - چھوٹا - کم وسعت

Incapacitate, v. t. To render unfit ; to disable : نا قابل کرنا - بے بس کرنا

Incapacity, n. Inability ; incompetency : نا قابلیت - معنوری - بے استعدادی - مجتہری - بے بسی

Incarcerate, v. t. To imprison ; to confine : قید کرنا - بندی کرنا

Incarceration, n. Imprisonment : قید - حبس - اسیری - بند

Incaruate, v. t. To clothe with flesh ; to embody in flesh : * معجم ہونا - جسم پکڑنا - اوتار لینا
Invested with flesh : معجم - جسم نی

Incarnation, n. The act of assuming flesh : تجسم - جسم نیٹ - ارتار

Incarnative, a. Healing ; generating flesh : اِندعال کرنے والا - بھولانے والا - گوریت پیدا کرنے والا

Incase, v. t. To enclose in a case ; to cover : میان میں رکھنا - غلاف چڑھانا - منقارنا - چڑھانا

Incautious, a. Unaware ; careless ; heedless ; unwary ; indiscreet : واقف - غفلت - بے پروا - بے خبر - بے احتیاط - بے امتیاز - لاپرواہی کا

Syn.—Imprudent, careless, heedless, thoughtless.

Ant.—Cautious, careful, heedful, thoughtful.

Incautiously, ad. Unwarily ; carelessly : ناواقفیت سے - غفلت سے - بے پرواہی سے

Incendiarism, n. An incendiary act : آتش اندازی - آتش افروزی

Incendiary, n. One who sets on fire ; an agitator : آتش افروز - آگ لگانے والا - تنگہ انگیز - فتنہ برپا

Syn.—Inflammatory ; seditious : سوزاں - خشم انگیز - نساہی

Incense, n. Perfume exhaled by fire : بخور - دھوپ - معک - لپٹ - خوشبو

Syn.—Perfume.

Incense, v. t. To enrage ; to provoke : طیش میں لانے - بھڑکانے - برافروختہ کرنا
To perfume with odours : خوشبو دار کرنا - معطر کرنا

Syn.—Enrage, provoke.

Incentive, a. Inciting ; moving : برافروختہ کرنے والا - ترغیب دینے والا - محرک
n. Motive ; stimulus : باعث - سبب - ترغیب - اشتعال

Inception, n. A beginning; commencement :

آغاز - شروع

Inceptive, a. Noting; beginning :

شروع کرنے والا - ابتدائی

Inceptor, n. A beginner :

مبتدی - نوآموز

Incessant, a. Unceasing; unintermitted; continual :

یک لخت - ممترا - پیہم - مداہم

Syn. - Unceasing, constant.

Incessantly, ad. Continually :

علی التواتر - لگاتار - متواتر - پئے درپئے - بلاذائقہ

Incest, n. Sexual intercourse within the prohibited degrees of kindred :

زنا کاری یا خویش اقارب - گوتز گمن

Inch, n. The twelfth part of a foot; small distance or degree :

(Pro. *insh*) * انچ - تسو - فاصلہ قلیل * چھوٹا جزیرہ - ٹاپو

By inches, by slow degress : * Every

جزو جزو - بند بند - بالبال

Inchastity, n. Lewdness :

ذاپارحائٹی - بے عصمتی

Inchoation (in-ko-a-shon), n. Beginning of any work :

کسی کام کی ابتدا - شروع

Incident, a. Casual; falling on; liable to occur; naturally belonging to anything :

اتفاقی - ناگہانی - واقعہ - حادثہ

* n. Casualty; fact : حادثہ

Incidental, a. Accidental; casual :

اتفاقی - ناگہانی - مشہوریت

Syn. - Accidental, casual, contingent.

Incidentally, ad. Casually; occasionally :

انفاتی - ناگاہ - کبھی کبھی - ناگہاں - تصاکر

Incipency, n. Commencement :

شروع - آغاز - ابتدا

Incipient, a. Beginning :

ابتدائی - شروع درجہ کا

Incise, v. t. To cut in; to carve :

کاٹنا - تراشنا - کاٹا کرنا - گودنا

Incision, n. A cut; gash; a wound :

تراش - کاٹ - زخم - گھاڑ

Incisive, a. Cutting; sharp; biting :

کاٹنے والا - تیز - سخت

Incisure, n. An incision; a cut :

کاٹ - چیرا

Incite, v. t. To stir up; to rouse; to spur on :

ترغیب دینا - تحریک کرنا - اوجھڑنا - برانگیختہ کرنا

تیز کرنا - شہ دینا

Incitement, n. Motive; incentive; impulse :

تحریک - ترغیب - پرمادا - تعزیر - اشتعالک

Syn. - Stimulus, encouragement.

Incivility, n. Want of courtesy; disrespect; impo-

liteness; rudeness : - بے مروتی - بد اخلاقی - روکھاہن - بے ادبی

Inclasp, v. t. To embrace; to encircle :

اغوش میں لانا - بغلیں کرنا

Inclemency, n. Severity; roughness :

سختی - تندہی - کوخنگی - درشتی - بے رحمی

Inclement, a. Unmerciful; severe; stormy ;

پے درد - بے رحم - سخت - تند - طوفانی - برساتی

Syn. - Rough, stormy.

Inclination, n. A leaning; tendency; disposition ;

رغبت - میل - طبیعت - میلان طبع - محبت - شوق

Syn. - Bent, proneness, tendency.

Incline, v. t. or i. To lean; to dispose; to bend :

مایل کرنا - راغب ہونا - میل رکھنا - چھکنا

Inclose, v. t. To shut in; to put in a case or en-

velope : بند کرنا - گھیرنا - ملفوف کرنا

Inclosure, n. The act of enclosing; that which is

احاطہ بند - گھیرا - بازہ - چوک - صحن - حد - ملفوفی - مشمولات - کاغذات ملفوف

Include, v. t. To hold; to comprise :

رکھنا - شامل کرنا - مشتمل ہونا

Inclusion, n. The act of including; restriction :

اندراج - ادخال - مشہوریت

Inclusive, a. Inclosing; comprehending :

مشتمل - مشمولہ - معہ - لغایت

Incoagulable, a. Incapable of being concreted :

جو جم نہ سکے - ناقابل انجماد

Incoercible, a. Incapable of being compelled :

جو مجبور نہ کیا جاسکے

Incogitancy, n. Thoughtlessness :

بے فکری - بے تاملی - عدم خیالی

Incognisable, a. That cannot be recognised or

known : نا قابل شناخت - جو پہچانا نہ جاسکے

Incognito, a. or ad. Unknown; in disguise :

نامعلوم - پوشیدہ - بویس بدلے ہوئے

Incoherence, n. Want of cohesion; want of

غیر مطابقت - نا موافقت - علیحدگی - بے میلی - انتشار

connection : بے میلی - انتشار

Incoherent, a. Unconnected ; loose ; inconsistent :
پے چورے - پے میل - ناموافق

Incoherently, ad. Inconsistently : -
نا مناسب طور سے - ناموافق سے

Incombustible, a. That cannot be consumed
by fire :
چراغ سے نہ جل سکے - نا سرختمنی

Income, n. Revenue ; receipts ; earnings ; proceeds ;
profits :
آمدنی - حاصل - واصلات - پانٹ - فائدہ -
معاملہ
-tax, a tax levied on
income :
آمدنی پر محصول

Incoming, a. Accruing ; coming in :
حاصل
ہونیوالا - اندر آنیوالا

Incommensurate, a. Not of equal measure :
غیر
مساوی - کم - تابا برابر - پے اندازہ

Incommodious, a. Unsuitable ; inconvenient ;
annoying :
ناموافق - تکلیف دہ - ناگوار - تصدیعہ دہ

Incommunicative, a. Not apt to impart ; re-
served ; not disposed to hold intercourse with
others :
کشیدہ - نا آشنا مزاج - کم سخن - چپچاپا - غیروں
سے کم مانگ والا

Incommutable, a. Not to be exchanged with
another :
تبدیل نہ ہونے کے لائق

Incompact, Incompact, a. Not solid :
چور ٹھوس نہ ہو - تھیللا - نا پیوستہ

Incomparable, a. Excellent ; matchless :
بہتر -
عدہ - فائدہ - پے مثل - پے نظیر - لائق - پے مانند

Syn. - Peerless, matchless.

Incompatible, a. Inconsistent ; incongruous :
خلاف - مختلف - نا موافق - پے میل

Syn. Inconsistent, incongruous.

Incompatibly, ad. Inconsistently :
نا موافقت سے

Incompetence, n. Inability ; insufficiency :
نا
قابلیت - نا لیاقتی

Incompetent, a. Inadequate ; incapable ; in-
sufficient :
نا کافی - نا قابل - نا لائق - کم - غیر کافی

Incomplete, a. Unfinished ; imperfect :
نا تمام -
نا مکمل - ادھررا

Incompletely, ad. Imperfectly ; partially :
نا کامل
طور سے

Incompleteness, n. Imperfectness ; an unfin-
ished state :
نقص - نا تمامی - ادھررا ہیں

Incomplex, a. Uncompounded ; simple :
غیر
مركب - مفرد - صاف

Incompliance, n. Untractableness :
نا پزیرائی -
نا منظورئی - نا مقبولی

Incomprehensible, a. That cannot be compre-
hended ; inconceivable :
سمجھ سے باہر - عیدالغیاس

Incomprehension, n. Want of comprehension :
نا فہمی

Incomprehensive, a. Not extensive ; limited :
غیر وسیع - پے وسعت - محدود

Incompressible, a. Incapable of being reduced
by force into a smaller compass :
چور دب نہ سکے

Incomputable, a. Incalculable :
نا قابل شمار - پے
تعداد

Inconcealable, a. Not to be kept secret :
نا قابل
اخفا - نا پوشیدنی

Inconceivable, a. Incomprehensible :
غیر قابل
ادراک - سمجھ سے باہر - عیدالغیاس

Inconclusive, a. Not settling a point in debate :
غیر قطعی :
ناقص - نا تمام

Incondensable, a. That cannot be condensed :
نا قابل انجماد

Incongealable, a. Incapable of being frozen :
نا قابل انجماد

Incongenial, a. Unsuitable ; not of a like nature :
ناموافق - نا مطابق - غیر جنس - پے میل

Incongruity, n. Inconsistence ; unsuitableness ;
impropriety :
نامطابقت - نا مناسبت - اختلاف - ناموزونیت

Incongruous, a. Inconsistent ; unsuitable ; inap-
propriate :
نامناسب - نا موافق - ناموزون - پے ٹھیک -
پے چورے - بر خلاف

Syn. Unfit, inappropriate.

Inconsequent, a. Not regularly inferred ; illog-
ical :
غیر منطقی - پے ثمر - خلاف منطقی -
نامعقول

Inconsiderable, a. Unworthy of notice ; unimpor-
tant ; small :
نا قابل لحاظ - خفیف - ناچیز - چورٹا -
تھورٹا - ادنی

Inconsiderate, a. Careless ; thoughtless :
پے پورا -
پے احتیاط - پے فکر - پے خبر - غافل

Inconsiderately, ad. Carelessly; thoughtlessly :
 بے ہوشی سے - بے احتیاطی سے - بے فکر سے - بلا اندیشہ -
 بلا زامل

Inconsideration, n. Want of thought :
 بے فکر سے - بے تاملی - تغافل

Inconsistence, } n. Want of agreement; incon-
Inconsistency, } gruity; unsteadiness :
 ناموافقیت - نامطابقت -
 معاندت - بے ربطی - بے استقامتی - بے استحکامی

Inconsistent, a. Not consistent; unsuitable;
 contrary : ناموافق - نامناسب بعید - خلاف

Inconsistently, ad. Incongruously :
 بے مہیا سے - بے ربطی سے - خلاف - بے ہرہ

Inconsolable, a. Not to be comforted :
 غیر تسکین پذیر - غمگین - دلگیر

Syn. - Disconsolate, comfortless.

Inconsonant, a. Inconsistent; discordant :
 ناموافق - نامطابق - بے جرز - بے ربط - علیحدہ - بے میل

Inconspicuous, a. Not discernible :
 نامعلوم - غیر ظاہر - مخفی

Inconstancy, n. Unsteadiness; fickleness; vari-
 ableness : بے ثباتی - بے قرار - بے استقامتی

Inconstant, a. Not firm; mutable; fickle;
 variable : ناپائیدار - بے ثبات - بے قرار - بے استقامت -
 متلون - تبدیل پذیر

Syn. - Mutable, unsteady, changeable.

Inconstantly, ad. Not steadily; changeably :
 غیر استقامتی سے - بے ثباتی سے - تبدیلی سے

Incontaminate, a. Pure : صاف - پاک - بے غل و
 غش - خاص

Incontestable, a. That cannot be disputed; un-
 questionable : جس کے لیے حجت یا دلیل کی ضرورت
 بڑھان قاطع - شافی proof - نہ ہر - لا لام - قطعی
 دلیل

Incontinence, n. Want of restraint of the passions;
 lewdness : نفس پرستی - بے اعتدالی - بد کاری - بد
 پرہیزی - بے عصمتی

Incontinently, ad. Unchastely : بے
 عصمتی سے - بے اعتدالی سے

Incontrovertible, a. Indisputable :
 بلا حجت - لا لام - مسلم

Inconvenience, n. Unfitness; disadvantage;
 annoyance : * r. t. * انا-مناسبت - ہرج - دفع - تکلیف
 To put to trouble : تکلیف دینا - ہرج کرنا

Inconvenient, a. Unfit; incommodious; causing
 uneasiness; inopportune : ناموافق - بے
 موقع - بے دھب - تکلیف دہ - بے آسائش

Inconvertible, a. Incapable of being changed :
 غیر متبدل - تبدیل نہ جاسکے

Incorporate, v. t. or v. i. To form into a body;
 to grow into; to unite : مجسم کرنا - شریک
 کرنا - اکٹھا کرنا - مجمع کرنا - ملانا -
 مظاہرہ کرنا - آمیز کرنا -
a. Associated; mixed : ملا کرنا -
 ملا کرنا - مظاہرہ

Incorporation, n. Combination; association;
 formation of a political body : میل - آمیزش -
 ربط - کسی ملکی جماعت کا قرار پانا

Incorporeal, a. Immaterial; spiritual :
 غیر مادی - غیر جسمانی - بے جسم - روحانی

Incorrect, a. Inaccurate; faulty :
 غلط - غیر صحیح - نام درست - ناقص

Syn. - Erroneous, wrong.

Incorrectly, ad. Inaccurately; not exactly :
 نادریستی سے - غلطی سے

Incorrigible, a. Bad beyond correction; unreclaim-
 able : ایسا خراب جسکی اصلاح نہ ہو سکے - حد سے
 زیادہ بڑا - غیر ممکن التدارک - بے گنہرا - لاعلاج

Incorrigibly, ad. Irreclaimably :
 بلا امکان تدارک - بلا امید - لاعلاج

Incorrupt, a. Pure; sound; untainted; honest :
 صاف - پاک - صحیح - سالم - محضوم - ایماندار - کورا -
 نابگزا ہوا - بڑی

Incorruptible, a. Incapable of corruption :
 خراب نہ ہونے والا - بے زوال

Incorruption, n. Exemption from corruption :
 عدم نقص پذیری - بے زوالی

Incrassate, v. t. To become thick; to grow fat :
 * a. Thickened; fattened :
 جما ہوا - گاڑھا - مورتا ہونا -
 جما ہوا - گاڑھا - مورتا

Incrassative, a. Tending to thicken :
 گاڑھا کرنے والا - مورتا کرنے والا

Increase, v. i. To become greater ; to grow ; to advance : ترقی دینا : بڑھنا - **v. t.** To augment ; to add to : ترقی کرنا : * **n.** Augmentation ; produce ; growth ; additional to the original stock : بڑھتی - زیادتی - ترقی - ترقی - ناپیدہ

Increasingly, ad. Growingly : بڑھتی ہوئی

Incredible, a. Impossible to be believed : ناقابل اعتبار - غیر معتبر

Incredibly, ad. In an incredible manner : ایسے زور پر کہ اعتبار نہ کیا جاسکے - بعینہ القیاس

Incredulity, n. Indisposition to believe : بے اعتباری - بے اعتقادی

Incredulous, a. Indisposed to receive as true : یقین نہ کرنے والا - غیر معتقد - بے عقیدہ

Increment, n. Increase ; production : ترقی - زیادتی - بڑھتی ہوئی - بڑھتی ہوئی

Incriminate, v. t. To accuse ; to criminate : الزام لگانا - ملزم ٹھہرانا - مجرم قرار دینا - گنہگار ٹھہرانا

Incrimatory, a. Charging with crime : الزام دہ

Incrust, v. t. To cover with a hard coat : تہہ چڑھانا

Incubation, n. The act of sitting on eggs for the hatching of young ; meditation on schemes : انڈا سیدھا - غور - بچھاڑ

Incubus, n. A demon ; the nightmare : بھوت - پڑیٹ - رات کے ڈرانے خواب - بھیانک سپن

Inculcate, v. t. To impress or enforce by frequent admonition ; to urge, on the mind : صراحت دینا - نصیحت کرنا - سمجھانا - دل نشیں کرنا - دل میں ڈالنا

Inculcation, n. The act of impressing on the mind by frequent repetitions : نصیحت - تہمیش - تعلیم - تاکید

Inculpable, a. Blameless ; without fault : بے قصور - بے داغ - بے عیب - بے تقصیر - بے گناہ

Inculpate, v. t. To blame ; to censure : تہمت لگانا - الزام لگانا - بدنام کرنا

Incumbency, n. A lying on something : تکلیف - عہدہ داری - عہدہ دور

Incumbent, a. Resting upon ; imposed as a duty : **n.** One who is in present possession of a benefice, or any office : مال وقف کا مالک - عہدہ دار

Incur, v. t. To run into ; to become liable to ; to bring on : نذر درگزا - مستوجب یا سزاوار ہونا - قرض اٹھانا - اودھار لینا - debt - لاٹا - لٹانا - ڈالنا

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incur, v. t. To run into ; to become liable to ; to bring on : نذر درگزا - مستوجب یا سزاوار ہونا - قرض اٹھانا - اودھار لینا - debt - لاٹا - لٹانا - ڈالنا

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Incurable, a. Remediless ; irrecoverable : لاعلاج - لادرا - ناقابل صحت - ناممکن التدارک - نہ اچھا ہونے والا

Syn. Irretrievable, remediless.

Indecorum, n. Impropriety of behaviour ; bad manners or form : **پے امتیازی - ناشایستگی - گستاخی** :

Indeed, ad. In reality ; in fact : **دراصل - فی الحقیقت - واقعی** :

Indefatigable, a. Untiring ; not yielding to fatigue : **پے تکان - قوی - جو تھکے نہیں - محنتی** :

Indefeasible, a. Incapable of being made void : **نا قابل انصاف - غیر ممکن الابطال** :

Infefective, a. Perfect ; complete : **پورا - کامل - بلا نقص - پے عیب** :

Indefensible, a. Not to be vindicated or justified ; incapable of being defended or maintained : **مستحق الحفظ - غیر ممکن الحفظ - پے بپاؤ - خام - نامستحق** :

Indeficient, a. Perfect : **پورا - کامل - درست - پے نقص** :

Indefinite, a. Not precise ; unlimited ; vague : *** غیر مقرر - غیر معین - نامحدود - پے انتہا - مبہم** :
The—article, (Gram.) The articles a and an : **حرف تکمیل** :

Indefinitely, ad. Without any settled limitation : **بلا تعین - پے حد - بلا تصریح - لاانتہا - غیر مستحکم طور سے** :

Indeliberate, a. Sudden ; unpremeditated : **بلا تامل - فی الفور - پے غور - جوت پت** :

Indelible, a. That cannot be blotted out : **جو مٹ نہ سکے - لازوال - پایدار** :

Indelibly, ad. In a manner not to be effaced : **طور پر کہ کبھی نہ مٹے - پکا - کھرا - امت** :

Indelicacy, n. Want of elegant decency : **ناشایستگی - پورھڑپن** :

Indelicate, a. Indecent ; coarse ; offensive to good manners : **پے سلیقہ - ہودا - زبون - بد نما - ناپسندیدہ - پورھڑ - ناشایستہ** :

Syn.—See under Indecent.

Indemnification, a. Security against loss or damage ; reimbursement : **نقصان کی ذمہ داری - تاوان - نفع** :

Indemnity, n. Security against loss or penalty ; compensation : **نقصان یا سزا کی حفاظت - ضمانت - عرصہ - معاوضہ - عذر** :

Indent, v. t. To notch ; to bind by contract ; to indenture : **دندانہ دار کرنا - دانٹی ڈالنا - شرط** :
n. A notch in the margin : **قرار کرنا - دانٹہ - دندانہ** :

Indentation, n. The act of cutting into points ; a cut in an edge or border : **دندانہ نکالنا** :

Indenture, n. Written agreement : **مہد نامہ - اقرار** :
v. t. To bind by a written contract : **قول و قرار کرنا - مہد کرنا - شرط کرنا** :

Independence, n. Exemption from undue influence : **آزادی - خرد مختاری - سوتنترتا** :

Independent, a. Not relying on others ; not subordinate ; affording a comfortable livelihood ; not subject to bias ; separate from : **آزاد - خرد - مختار - غیر تابع - خرد سر - مطلق العنان - فارغ البال - اسردہ - پیتا کھانا - منہرجی - پے قید - عاہدہ - جدائگانہ** :

Indescribable, a. That cannot be described : **جو بیان نہ ہو سکے** :

Indesinent, a. Perpetual ; unceasing : **مترائر - لگاتار** :

Indestructible, a. That cannot be destroyed : **غیر فانی - لازوال** :

Indeterminable, a. Impossible to be determined : **پے تعین** :

Indetermination, n. Wavering state of mind ; irresolution : **پس و پیش - تذبذب - پے استقلال** :

Indevotion, n. Impiety ; irreligion : **ناپائی - اعتقادی - نا پارہائگی - لامذہبی** :

Indevout, a. Irreligious : **پے دین - نا معتقد - غیر پابند - عقاید - ناقص الارادت** :

Index, a. That which points out ; the hand used by printers, &c., to call attention : **پلانے کا * انکشت شہادت - ترجمہ * The forefinger** :
A table of the contents of a book : **مضامین** :

Indexterity, n. Want of readiness ; clumsiness : **سستی - اناپی پن - گاردی پن - پے ہنری** :

Indian, a. Pertaining to India : **ہندو تمانی - امریکہ** :
n. A native of India : **باشندہ ہند - ہندی** :

Indian-corn, n. A species of maize : **مکھنجا - جوار** :

Indicant, a. Showing : **مظہر - ظاہر کرتے ہوئے** :

Indicate, v. t. To point out ; to show : - ظاہر کرنا - بتلانا - دلالت کرنا - دکھانا . علامت بتلانا

Indication, n. Token ; sign ; symptom : - اشارہ - نشان - علامت

Syn.— Mark, token, sign, symptom.

Indicative, a. Showing ; bringing to notice : دکھانے والا * والا - اطلاع کرنے والا - ظاہر کرنے والا - مظہر (Gram.) The form of the verb which simply affirms or denies : انگریزی قواعد میں نعل کی حالت بیانیہ

Indict (indit), v. t. To charge with a crime : الزام لگانا - مارم ڈھرنانا

Indictable, a. Liable to be indicted : الزام کے لائق - قابل مآخرفی

Indictive, a. Proclaimed ; declared : مشہور - علانیہ - ظاہر کیا گیا

Indictment (Indit' ment), n. A formal charge ; an accusation : الزم - عات - اتہام

Indifference, n. Mediocrity ; impartiality ; unconcernedness : اوسط درجہ - بے طرفداری - بے غرضی - بے تعلق - بے پرواہی - غفلت

Syn.—Unconcernedness, carelessness, negligence.

Indifferent, a. Neutral ; passable ; disinterested ; impartial ; trivial : یکساں - بے غرض - بے لڑت - بے سروکار - نرپکیش - ناچیز

Indigenous, a. Native to a country : دیسی - ملکی - دیساری

Indigence, n. Penury ; poverty : فلاس - تنگدستی - ناداری

Syn.—Poverty, want, need, pauperism.

Indigent, a. Needy ; poor : مفلس - محتاج - غریب - نادار

Indigestible, a. Not digestible : ممتنع الہضم - بے تحلیل - ثقیل

Indigestion, n. Want of due digestion : دھمھی - اجیزن

Indignant, a. Affected with indignation ; angry ; raging : خشم آلودہ - غضب ناک - قہرناک - خفا - غصہ میں پردیش

Indignation, n. Anger mingled with disdain : غصہ - حقارت آمیز

Indignity, n. Contemptuous injury ; an affront : خفت - اجانت - تنک - بے عزتی - ذلت

Indigo, n. An Indian plant used in dyeing blue : نیل

Indirect, a. Not direct ; circuitous ; round about ; inferential : ناراست - پیچدار - لاگ لپیٹ والا - نادرست

Indirectly, ad. Obliquely ; unfairly : کجی - سے - پھیر سے - ناراستی سے

Indirectness, n. Obliquity ; dishonesty : ٹیوہائی - ناراستی - پیچ - پھیر - بے ایمانی

Indiscernible, a. Not visible ; not perceptible : جو نظر نہ آوے

Indiscerptible, a. That cannot be destroyed by dissolution or separation of parts : غیر تفریق پذیر - جو حصوں کے تفریق سے نابود نہ ہو سکے

Indiscoverable, a. That cannot be discovered : جو دریافت نہ ہو سکے - ناقابل ادراک

Indiscreet, a. Imprudent ; inconsiderate ; injudicious : نا عاقبت اندیش - بے شعور - بے تمیز - بے احتیاط - بے امتیاز

Indiscretion, n. Imprudence ; rashness : نا عاقبت اندیشی - بے احتیاطی - گستاخی - حماقت

Indiscriminate, a. Without making any distinction ; promiscuous : بے تفریق - بے تشخیص - عام - غیر معین - مختلرا

Indiscriminately, ad. Without distinction ; in confusion : بے تفریق - اذہما دھند

Indiscrimination, n. Want of distinction : عدم امتیاز - بے تمیزی - اذہما دھند

Indispensable, a. That cannot be spared ; absolutely necessary : جس کے بغیر نہ بن سکے - ضروری - لازمی - لاپدی - ناگزیر

Indispensably, ad. Necessarily : قطعاً - واجباً

Indispose, v. t. To disincline ; to render unfit ; to disqualify ; to disorder : ناراض کرنا - نالائق کرنا - ناقابل کرنا - بیمار دلانا - علیل کرنا - بے ترتیب کرنا

Indisposed, a. Unwilling : نا خوش - Not in perfect health : علیل - کس مند ناساز

Indisposition, n. Slight illness ; dislike : علامت - ناسازی - تفر

Indisputable, a. Incontestable; evident : ناقابل
اعتراض - بے تکرار - یقینی - قطعی - صریح - لا کلام

Syn.—Unquestionable, incontestable.

Indisputably, ad. Unquestionably : بے شک و شبہہ - لا کلام - یقیناً

Indissoluble, a. Not to be dissolved; firm; binding : جو گلے یا گولہ کے لایق نہ ہو - سخت - مضبوط - پایدار

Indistinct, a. Not plainly marked; not clear; faint; obscure : نامعلوم - اندھیرا - مضبوط - دھندلا

Syn.—Obscure, dim, vague, imperfect.

Indistinctly, ad. Confusedly; obscurely : مذہذب طور پر

Indistinctness, n. Obscurity; uncertainty : دھندلا پن - تاریکی - تذبذب - بے ربطی - مشکوکی

Indistinguishable, a. Unable to be distinguished or separated : جسمیں شناخت یا تمیز نہ ہو سکے

Indite, v. t. To dictate what is to be written; to compose : لکھانا - مضمون بتانا - تصنیف کرنا

Individual, a. Single; one : واحد - مفرد - ایک - ایک شخص : *n.* A single person or thing * تن تنہا یا شے - فرد بشر

Individualise, v. t. To distinguish from others : تمیز کرنا - الگانا - جدا کرنا

Individuality, n. Separate existence; distinctive character : احدیت - فردیت

Individually, ad. Separately : فرداً فرداً - الگ الگ - جدا جدا

Indivisibility, n. Inseparableness : علم انقسام - ناممکن التفریق

Indivisible, a. That cannot be divided : جو قسمت پذیر نہ ہو - ناممکن التقسیم

Indocile, a. Unteachable; intractable : نا تربیت پذیر - نہ سیکھنے والا - غیر اصلاح پذیر

Indoctrinate, v. t. To teach; to imbue with learning; to tincture with any opinion : سکھانا - پڑھانا - تہمید دینا - اصول دینی تعلیم کرنا

Indo-European, a. Same as Aryan : آریا

Indolence, n. Laziness; dislike to exertion : سستی
Castle of— * کٹلی - آرام طلبی - کام سے نفرت
To loll in the lap of— * سستی - آسے
پڑے اینٹا روتا - کمال و جرد ہونا - بیٹھے اٹھے سینا

Indolent, a. Lazy; careless : سست - کاٹل - معیہوں - بے فکر

Indolently, ad. Lazily; listlessly : کاٹلی سے - سستی سے - تعانلانہ - آرام طلبی سے

Indomitable, a. Unconquerable; untamable : فیتر مغلوب - جو قابو میں نہ آسکے - بے قابو

Indoor, a. Performed or being within doors : مکان کے اندر - بیہتر

Indorse, v. t. To write on the back of any paper; to assign by indorsement; to approve : کسی کاغذ کی پشت پر دستخط کرنا - عبارت ظہری لکھنا - دستخط کرنا - سکارنا - منظور کرنا - تصدیق کرنا

Indorsee, n. The person to whom a note or bill of exchange is indorsed : جسکے نام ہندی سکاری کے نام ہندی سکاری

Indorsement, n. Sanction; a writing on the back of a note : اجازت - عبارت ظہری - سکار

Indorser, n. One who indorses : سکارنے والا - ہندی پر دستخط فرماتے لکھنے والا

Indraught (indraft), n. An opening from the sea into land : کھال - کپڑی

Indubitable, a. Not admitting of any doubt; unquestionable : جسمیں شک کی گنجائش نہیں ہے - لا کلام - صریح

Induce, v. t. To introduce; to prevail on; to bring on; to cause : لانا - راغب کرنا - مایل کرنا - آمادہ کرنا - باعث ہونا

Inducement, n. That which induces; motive : تھریک - تھریص - ترغیب - طمع - باعث - سبب

Inducer, n. A persuader : ترغیب دینے والا

Induct, v. t. To introduce; to put in possession of an office : اندر لانا - عہدہ دینا - مامور کرنا

Induction, n. Introduction to an office; entrance; the method of reasoning from particulars to generals : استقرار - عہدہ کا تقور - داخا - نتیجہ استقرار

Inductive, a. Persuasive; leading to inference : باعث ہونے والا - استقراری

Inductively, ad. By inference : بہ استقرار - بانامدہ - استدلال یا نتیجہ سے

Inductor, n. One who inducts : داخل کرنے والا - دینی عہدہ پر مامور کرنے والا

Indulge, v. t. To give way to ; to humour ; to allow ; to gratify : خاطر - کرنا - ناز برداری کرنا - نہ روکنا - ناز - اجازت دینا - رعایت کرنا - خوش کرنا - راضی کرنا * **To—in**, ہونا - خوگر ہونا * **To—children**, خوش کرنا - مسرور کرنا * **To—overwhelming mirth**, دل نہر لکر ہنسنے کے لئے

Indulgence, n. Forbearance of restraint ; favour granted ; gratification ; fondness : عنايت - اجازت - پیار - لاف - شفقت - ناز برداری - نفس پرستی

Indulgent, a. Prone to indulge or humour ; not strict : شفیق - مہربان - از بردار - عنايت فرما -
Syn.—Kind, liberal, favouring.

Indurate, v. i. To grow hard ; to become obdurate : سخت - ناخوس - کڑا - سنگ - سفتی - سخت یا کڑا ہونا - پتھر عرنا :
unfeeling ; obdurate : دل - گھور

Induration, n. The act of hardening ; a hardened state : سختی - سنگینی - سنگدلی - ناخوسی

Industrial, a. Denoting the processes of manufacture ; pertaining to industry or art : متعلق - مصنت یا حرفت

Industrious, a. Assiduous ; diligent : مصنتی - مشقتی - سرگرم

Syn.—Active, laborious.

Industry, n. Diligence ; assiduity : مصنت - مشقت - مصنت * **—is fortune's right hand**, تقدیر کا دھنا ہاتھ ہے

Indwelling, a. Remaining in the heart : اندرونی - باطنی - بیہوشی

Inebriant, a. Intoxicating : **n.** Anything that intoxicates : منشی یا نشہ اور چیز

Inebriate, v. t. To intoxicate ; to exhilarate : سر مست کرنا - مترولا کرنا - مست کرنا

Inebriety, n. Drunkenness ; intoxication : مترولا - پن - مدھوشی

Inedited, a. Not published : بے چھاپا

Ineffable, a. Unspeakable ; unutterable : بیان سے - واہر - جو کہنے میں نہ آسکے

Ineffably, ad. Unspeakably : نامکنتی طرز سے - بہت زیادہ

Ineffective, a. Not effective ; useless ; inefficacious : غیر موثر - بے کار - بے اثر

Ineffectual, a. Without effect ; inefficient : بے تاثیر - ناکام - بیکار

Ineffervescent, a. Insusceptible of effervescence : بے جوش

Inefficacious, a. Unable to effect ; futile ; not productive of the expected result : بے اثر - بے تاثیر جس سے حسب امید نتیجہ نہ پیدا ہوا ہر

Inefficacy, n. Want of power ; inefficacy : بے کاری - بے اثری - خامی - بے حاصلی

Inefficient, a. Not efficient ; not active : بیکار - سست - مجہول

Inelastic, a. Wanting elasticity : بے لچھیل - نہر - دم دار

Inelegance, n. Want of elegance : بددعا - بدمنائی - پن

Inelegant, a. Not elegant ; coarse ; homely ; unpolished : بددعا - بدمنائی - ناخوس - بد اسلوب

Inelegantly, ad. Coarsely ; roughly : بے ہوشی سے - بد اسلوبی سے

Ineligible, a. Incapable of being elected ; not expedient ; objectionable : ناقابل - نا قابل - پسند - غیر ضروری - نامناسب - قابل اعتراض - خلاف مصلحت

Ineloquent, a. Not fluent ; not persuasive : غیر فصیح - ناموثر

Inept, a. Unfit ; useless : **Silly** * نالائق - بیکار : بے وقوف - احمق

Ineptitude, n. Unfitness ; nonsense : نامناسبیت - بیوقوفی - نالیقی

Inequality, n. Lack of uniformity ; unevenness ; inadequacy ; diversity : نا برابر - نامساوی - نامنصف - نامنصف - نامنصف - اختلاف

Inequitable, a. Not just ; unfair : خلاف - نامنصف - معرک

Ineradicable, a. Incapable of being rooted out : جسکی بیخ کنی نہ ہو سکے - مضبوطی سے جڑ پکڑے ہوئے

Inerrable, a. Exempt from error ; infallible : بے سہر - بے چوک - بے خطا

Inert, a. Inactive ; lazy ; sluggish ; motionless : ساکن - غیر متحرک - سست - مجہول - کابل

Inertia, n. Want of activity ; incapability of self-motion and self-stoppage ; sluggishness : حالت سکون - مادے کی وہ خاصیت جس سے نہ خود متحرک ہو سکتا ہے اور نہ حرکت پا کر پھر رک سکتا ہے - کاغلی

Inertness, n. Sluggishness ; state of being inert : سستی - کاغلی

Inestimable, a. Incalculable ; invaluable : بے حساب - بیش قیمت - انمول

Inestimably, ad. Above all price : بہت ہی زیادہ

Inevitable, a. Unavoidable ; irresistible : - برحق - لا بدی - لالاج - چار و ناچار

Inevitably, ad. Unavoidably ; certainly : - ضرور - خیراہ متفراہ

Inexact, a. Not exact ; not absolutely true : نادراست - بے ٹھیک - غلط

Inexcitable, a. Lifeless ; dull : - بے جان - مردہ - سست

Inexcusable, a. Not to be excused or justified : نا نابل غفر

Inexcusably, ad. So as not to be excused : خیراہ متفراہ - بلا غفر - بغیر عذر کے

Inexecution, n. Neglect of performance ; non-performance : عدم تعمیل - عدم اجرا

Inexertion, n. Want of effort : - کاغلی - سستی - سکون

Inexhausted, a. Not spent ; not emptied : خرچ نہ کیا ہوا - غیر خالی - بھرا

Inexhaustible, a. Unfailing : خالی یا کم نہ ہو - بیحد

Inexhaustive, a. Not to be spent : خرچ نہ ہو سکنے والا

Inexistent, a. Not having existence : - بلا وجود - ناپیدا

Inexorable, a. Inflexible ; unyielding ; not to be moved by prayer : کڑا - سخت - ہٹی - سنگدل - بے رحم - بے ترس

Inexpedience, n. Want of fitness ; inadvisability ; unpolicy ; unsuitableness : نامناسبیت - خلاف مصلحت

Inexpedient, a. Unfit ; improper : - نا مناسب - ناوائق - بیجا - بے ٹھیک

Inexpensive, a. Not expensive ; cheap : - کم خرچ - کم قیمت - سستا

Inexperience, n. Absence of experience : نا آزمودہ کاری - ناتجربہ کاری - نا واقفیت - کچا پن - خامی

Inexperienced, a. Unskilled : - ناتجربہ کار - اناہی - کچا - بے خبر

Inexpert, a. Unskilful ; unhandy : - بے سلیقہ - گاردی

Inexplicable, a. Incapable of being rendered plain and intelligible : نا قابل توضیح - ادنیٰ

Inexplicably, ad. So as not to be explained : اسطور پر نہ جسکا بیان یا اظہار نہ ہو سکے

Inexplicit, a. Not clearly stated : - غیر واضح - ناصاف - گول گول

Inexpressible, a. Unspeakable : - غیر ممکن الاظہار - نا گفتہ

Inexpressive, a. Ineffable : - جو کہنے میں نہ آوے - غیر مظہر

Inexpugnable, a. Impregnable : - جسپر حملہ کار کٹر - فہر - نا ممکن استفسیر

Inextinguishable, a. Unquenchable : - جو بجھنے کے لائق نہ ہو

Inextricable, a. That cannot be untied ; hopelessly complicated : - جو کھول نہ سکے یا حل نہ ہو سکے - پیچیدہ

Inextricably, ad. So as not to be untied : اس طرح جو نہ کھول نہ سکے - الجھن سے

Infallible, a. Unerring ; certain ; incapable of committing a mistake ; perfectly trustworthy ; sure to prove efficacious : - بے چوک - سہر - بے غلطی سے ہر - بالکل معتبر - حکمی - مجرب - حکم انداز - یقینی

Infallibly, ad. Unfailingly ; certainly : - یقیناً - قطعاً - ضرور

Infamous, a. Notoriously vile ; scandalous ; detestable : بدنام - رسوا - بے حرمت - مکروہ

Syn.—Base, scandalous, notorious, vile, wicked.

Infamously, ad. Disgracefully ; with infamy : بے عزتی سے - بدنامی سے - بدروانی

Infamy, n. Public disgrace ; extreme vileness : بے غیرتی - رسوائی - بے آبروئی - بدنامی - بددیانتی - خفت - بزدلی

Infancy, n. The first part of life ; beginning ; minority : - بچپن - عمران - آغاز - صغیر سنی - طفولیت

Infant, n. A young babe ; a minor : - بچہ - طفل
 * a. Tender ; not mature :
 نوجوینز - جدید - نابختہ
 * کودک - شیر خوار - نابالغ

Infanta, n. In Spain and Portugal a princess of the royal blood :
 ملک اسپین اور پرتگال میں راجہ کی بیٹی
 شہزادی

Infanticide, n. The murder of an infant : بچہ
 مائل کش * Slayer of infants : - مائل کشی
 بچہ کا مار ڈالنے والا

Infantile, Infantine, a. Pertaining to or characteristic of infancy :
 نوجوانوں کا متعلقہ

Infantry, n. Foot soldiers of an army : سپاہ
 فوج

Infatuate, v. t. To make foolish ; to mislead : بے
 عقل کرنا - بیوقوف کرنا - دیوانہ یا فریفتہ کرنا - گمراہ کرنا
 Syn.—Befool, besot, delude.

Infatuation, n. Folly ; stupefaction : بے رفتوی
 احصائی - دیوانہ پن - بے ہوشی

Infeasible, a. Impracticable : غیر ممکن

Infect, v. t. To taint with disease ; to vitiate ; to defile :
 بیماری کی چھوت لگانا - خراب کرنا - متعفن
 کرنا - سزانا - بگاڑنا

Infection, n. A prevailing disease ; that which corrupts :
 چھوت - آلودگی

Infectious, a. Contagious ; vitiating : ہوا سے لگنے
 والی - سرانگہ بیماری - چھوتی

Infecundity, n. Unfruitfulness : غیر مثمری

Infelicitous, a. Unhappy ; unfortunate : ناخوش
 بد نصیب - بد بخت

Infelicity, n. Unhappiness ; unfortunate state : ناخوشی
 بد بختی - بد نصیبی

Infer, v. i. To draw as a conclusion from general facts ; to deduce :
 نتیجہ نکالنا - تجویز کرنا

Inferable, a. Deducible : جو کسی بات سے نکل سکے -
 مفہوم

Inference, n. Deduction ; conclusion : حاصل
 نتیجہ - مفہوم - خلاصہ

Syn.—Conclusion, deduction, consequence.

Inferential, a. Deducible by inference : نتیجہ نکل
 سکنے کے قابل

Inferior, a. Lower in place ; less valuable : ادنیٰ
 نیچیا - چھوٹا - گھٹن - کم رتبہ - کم قدر - کم
 * One who is of a lower station or rank :
 ماتحت - چھوٹا

Infernal, a. Pertaining to hell ; hellish : دوزخی
 * Wicked ; diabolical :
 برا - شیطانہ - پانالی
 Syn.—Hellish, devilish, fiendish.

Infertility, n. Unproductiveness ; unfruitfulness :
 عدم پیداوار - غیر باروری - بانجھ پن

Infest, v. t. To disturb ; to harass ; to plague :
 خلل ڈالنا - دق کرنا - ستانا - ایذا یا تصدیعہ دینا - ناک
 میں دم کرنا

Infidel, n. A disbeliever ; a freethinker ; one who does not believe in any revealed religion :
 شخص
 لامذہب - آزاد - جو کسی مذہب کو نہ مانے - ملحد -
 * a. Unbelieving : کافر - بے دین - غیر معتقد
 معتقد - کافر - بے دین

Infidelity, n. Unbelief ; unfaithfulness to the marriage contract ; treachery :
 کفر - الحاد - بے ایمانی - بے وفائی - دغا بازی

Infiltration, n. The act of passing into the pores of a body :
 سرایت

Infinite, a. Unlimited ; boundless ; perfect ; very great :
 بے حد - بے انتہا - کامل - عظیم
 Syn. Interminable, unbounded.
 Ant.—Bounded, finite, measurable, restricted.

Infinitely, ad. Without limits ; immensely : بے حد
 بے انتہا - بے پایاں - بہت زیادہ

Infinitesimal, a. Infinitely small : نہایت چھوٹا -
 خورد

Infinitive, a. Unlimited : بے پایاں - بے حد
 (Gram.) That part of a verb which expresses the action without the limitation of number or person :
 فعل کی حالت مصدریہ

Infinity, n. Boundlessness ; great multitude :
 بے پایاں پن - انتہائی

Infirm, a. Not sound ; weak : مریض - کمزور
 * Irresolute ; not stable :
 غیر مستقل - مضطرب - بے قرار - نا پائدار

Syn.—Sickly, irresolute, feeble, imbecile.

Infirmary, n. A hospital for the sick : دارالشفاء
 خانہ

Infirmary, n. Weakness ; instability ; defect :

ضعف - نازوانی - نفاہت - کمزوری - نقص - غیر
Natural — * استقلالی - حامی - کچاپن - تصور
A friend should bear a friend's
infirmities, دوست کو درست ہی برائی - ہنا چاہئے

Infix, v. t. To set in ; to implant :

گازنا - جزنا - لگانا - جمانا بیٹھانا

Inflame, v. t. To kindle ; to set on fire ; to excite ;

to irritate : - روشن کرنا - اشتعال دینا - بوڑگانا جوش -
میں لانا - خفا کرنا - آگ لگانا - پھونکا - جوش دینا -
گرم : v. t. To grow hot and painful * چرخ دینا
ہونا - جوش میں آنا اور دہنا - فضاںک کرنا

Inflammable, a. Easily enkindled ; combustible :

جو جلد جل سکے - آتش گیر - چاد جل اٹھنے والا

Inflammation, n. The act of setting on fire ;

heat ; animosity ; hardness and swelling :
آتش زنی - انزختگی - گرمی - عداوت - بغض - جل
وسرجن - سوزش - آشوب

Inflammatory, a. Tending to inflame ; seditious :

روشن کرنے والا - آتش افزوز - غصہ آور - فتنہ انگیز

Inflate, v. t. To swell with air ; to elate :

پھولانا - a. Distended ; swollen ; bombastic :
پھولا ہوا - سوجا ہوا - پھولا ہوا - شیطانی والا

Inflation, n. The act of being inflated ; flatulence ;

conceit : بہارت - پھولان - اُپھولان - غرور - تکبر

Infect, v. t. To bend ; to decline ; to conjugate ;

to modulate : چھکانا - موزنا - گردانا - تصریف :
کرنا - آواز بدانا

Infection, n. A bend ; modulation :

موز - چھکاؤ - (Gram.) Variation of termina-
tions : گردان - تصریف * آواز کا ملنا

Inflex, v. t. To bend ; to make crooked :

ٹیڑھا کرنا - کج کرنا

Inflexibility, n. Firmness ; stiffness ; obstinacy :

سختی - کرختگی - کڑاپن - ہت

Inflexible, a. Unyielding ; firm in purpose ; unal-

terable : - جر جھک نہ سکے - مضبوط - سخت - مستقل -
غیر متبدل - سکتی - مگرا پن

Syn. — Unbending, unyielding, rigid.

Inflict, v. t. To lay on ; to apply ; to impose :

ڈالنا - پھینچانا - لگانا - سزا دینا - مارنا - مایہد کرنا

Infliction, n. Punishment ; calamity : - سزا - مار -
آفس - تکلیف

Inflorescence, n. The act of flowering : - پھول نکلنا -
شائقگی

Inflow, v. t. To flow in :

پہنا - جاری ہونا - پڑھنا

Influence, n. Authority ; sway :

* اختیار - حکومت - Moral or spiritual power ; directing power ;
قوت اخلاقی یا روحانی : effect ; ascendancy ; prestige : اثر - تاثیر - اثر - دباؤ - روسوخ - رعب داب

Syn. — Authority, sway, control, predominance.

Influence, v. i. To move ; to persuade :

اثر ڈالنا - دباؤ ڈالنا - تھریک کرنا - رجوع کرنا

Influential, a. Exerting influence of power :

فنی - اختیار - رعب داب والا - روسوخ والا

Influenza, n. A violent form of catarrh :

زکام - سردی کا بخار

Influx, n. The act of flowing in ; infusion ; intro-

duction : * Crowd ; abundance : در آمد - اندر -
پھیڑ - نشوت

Influxion, n. Infusion :

دخول

Infold, v. t. To inclose ; to embrace ; to in-

volve : ڈھیرنا - آغوش میں لینا - لپیٹنا

Inform, v. t. To instruct ; to advise ; to apprise ;

to inform knowledge to ; to tell : - آگاہ کرنا -
متاع کرنا - اپنا - چنانا - خبر دینا

Syn. — Teach, mention.

Informal, a. Not in the established form ; irregu-

lar : خلاف دستور - بے قاعدہ - غیر معمول - بے ضابطہ

Informally, ad. Without the usual forms :

ضابطگی سے - بے ناعدہ

Informality, n. Want of regular form :

بے ضابطگی - خلاف دستوری - بے تکلفی

Informant, n. Informer ; one who gives intel-

ligence spy : متخبر - گویندہ - خبر رساں - غماز -
جاسوس - خفیہ نويس

Information, n. Intelligence ; knowledge :

خبر - ٹالس : * A charge - اطلاع - آگاہی - علم - رقرق
فریان - دعوی - جرائم خلاف سرکار

Syn. — Notice, advice.

Informers, n. One who informs :

خبر رسا - متخبر -
گویندہ

Infraction, n. Breach ; violation - شکست - نسیخ -
عہد شکنی، of a treaty، * انصراف - رخانہ - خلاف رزوی

Infragrant, a. Inodorous : بے خوشبو

Infrangible, a. Not to be broken ; strong : جسے
تور نہ سکیں - غیر قابل نسیخ - سخت

Infrequency, n. Uncommonness ; rareness : قلت -
کم پائی - کمی - نادر الوجودی

Infrequent, a. Rare ; uncommon : کم - نادر -
قلیل الوقوع

Infringe, v. t. To break ; to transgress : توڑنا -
تجاوز کرنا

Syn. - Break, violate, transgress.

Infringement, n. Breach ; violation : نسیخ -
خلاف رزوی، * of laws، انصراف - خلاف رزوی
از قوانین سرکار

Infused, a. Dried in smoke ; smoked : دھواں میں
خشک کیا ہوا - دھواں دیا ہوا

Infuriate, v. t. To render mad ; to enrage : دیوانہ
a. * کرنا - غضب میں لانا - خشم آگیاں کرنا - غصہ بھڑکانا

Enraged ; mad : خشم آگیاں - غضب ناک - دیوانہ

Infuse, v. t. To pour in ; to instil ; to inspire ; to
steep in liquor ; as principles or qualities :
انداز ڈالنا - داخل کرنا - دلوں ڈالنا - عرق میں
بھگوننا - دل میں ڈیھانا - ذہن نشین کرنا

Syn. - Instil, engraft, implant, inspire.

Infusion, n. The act of pouring in : ریزش *

Instilling : صلاح - مشورہ - Inspiration : دلنشینی
بڑی بھگڑیا - A solution in water of a vegetable :
ہوا پانی - جرشاندہ

Ingathering, n. Harvest ; the act of securing the
fruits of the earth : انبار سازی - خرمن اندرزی

Ingeminate, a. Redoubled ; repeated : درگذا
مثنواتر

Ingenerate, v. t. To beget ; to produce within :
a. * جننا - پیدا کرنا - اندر پیدا کرنا - من میں اور پچانا

Inborn ; innate : چلی - باطنی

Ingenious, a. Inventive ; skilful ; witty ; well-
formed ; of curious design : ایجنہ کرنیوالا -
صنعت کار - ہنرمند - ذکی - تیز طبع - سگیز - صفت کا
عمدہ - خریصرت

Syn. - Clever, smart ; inventive.

Ant. - Dull, unskilful, stupid.

Ingeniously, ad. With skill : کاریگری سے - صنعت سے -
زیرکی سے

Ingeniousness, n. Superior skill ; the quality of
being ingenious ; power of ready invention ;
curiousness in design : تیز ذہنی - سگیزائی -
چترائی - فراست - صنعت کاری

Ingenuity, n. Skill ; invention ; wit : صنعت کاری -
ایجنہ - لطیفہ گوئی - حاضر جوابی - خوش طبعی

Ingenuous, a. Of honorable extraction ; noble ;
open ; generous : عالی نسب - شریف - عمدہ - کشادہ -
دل - سینہ صاف - سخی - صاحب صفت - دانا

Syn. - Frank, candid, sincere.

Ingenuously, ad. Openly ; fairly ; candidly : کشادہ
دلی سے - صاف دلی سے - صاف صاف - بے ریاپی سے

Ingenuousness, n. Frankness ; fairness : کشادہ
دلی - صاف دلی - راستی - صدق - انصاف

Ingestion, n. The act of throwing into the stom-
ach : معدہ میں پھینچانا یا داخل کرنا

Inglorious, a. Shameful ; ignominious ; disgrace-
ful : شرم آگیاں - خفیف - ہلکا - بزا - بے عزت - گمنام -
پر ذلت - مضموم

Ingoing, a. Going in ; entering upon : اندر جانیرالا -
متداخلہ

Ingoing, n. Entrance : دروازہ

Ingot, n. A mass of unwrought metal : سونے یا
چاندی وغیرہ کا ڈالا - سلاج

ingraft, v. t. To insert a scion of one tree into
the stock of another ; to fix deeply and firmly :
قلم لگانا - پیڑوں لگانا - جڑنا - قائم کرنا - جمانا - پیوستہ
کرنا

Ingraftment, n. The act of ingrafting : قلم لگانا

Ingrain, v. t. To impregnate ; to dye in the grain :
باردار کرنا - بھرننا - رنگا - پکا رنگ کرنا

Ingrate, a. Ungrateful ; unpleasing : ناشکر گذار -
ناحق شناس - ناگوار - ناپسندیدہ

Ingrateful, a. Ungrateful : نیک حرام - بے دانا

Ingratiate, v. t. To get into favour : عزیز یا مقبول
ہونا - دل میں جگہ کرنا - منظور نظر ہوجانا

Ingratitude, n. Unthankfulness ; the return of
evil for good : ناشکر گذاری - احسان
فرواشرقی - نیکی کے عوض بدی

Ingredient, n. A component part ; an element :
جزو - کرٹی چیز جو شے کی ترکیب میں داخل ہو -
سامان - مادہ

Ingress, n. Entrance : درآورد - رسائی - داخل -
پیٹھہ - درآورد - باریابی

Syn. - Entrance, entry.

Ingulf, v. t. To swallow up in a gulf ; to overwhelm :
گھیرے میں گھینچ لینا - مغارب کرنا - نکل لینا :

Ingurgitate, v. t. To swallow in great quantity ; to drink largely :
تھکوسنا - بہت پینا

Inhabit, v. t. To dwell in ; to occupy as a dweller ; to abide :
رہنا - سکونت کرنا - بسنا

Inhabitable, a. That may be inhabited : قابل سکونت -
رہنے کے لائق - قابل بود و باش

Inhabitant, n. One who resides in a place ; a resident :
باشندہ - رہنے والا - مہوطن - نواسی

Inhabitation, n. Place of dwelling ; abode ; population :
رہنے کے جگہ - مسکن - مکان - آبادی

Inhale, v. t. To draw into the lungs ; to inspire :
دم لینا - دم پھینچنا - سانس لینا

**Inharmonic, } a. Unmusical ; discordant :
Inharmonious, }
پے سزا - پے تالہ - ناموافق - نا موزوں**

Inhere, v. i. To exist or to be fixed in : رہنا - کڑا -
ہونا - مستقل ہونا

Inherent, a. Innate ; native ; naturally pertaining to :
جپلی - پیدایشی - ذاتی - ذاتی

Syn. - Innate, inborn, inbred.

Ant. - Casual, accidental, outward.

Inherit, v. t. To take by descent from an ancestor ; to have by nature ; to own :
ارث پانا - وارث ہونا - لینا - وصف قدرتی رہنا

Inheritance, n. Hereditary estate or possession ; a permanent blessing ; natural gift :
ارث - ترکہ - قبضہ - نعمت - چارداہی - وصف خدا داد - جوہر ذاتی -
بیوتی - وراثت

Inheritor, n. An heir : وارث - میراث پانے والا

Inheritrix, n. An heiress : وارثہ

Inhibit, v. t. To restrain ; to prohibit : روکنا - منع -
کرنا - باز رکھنا

Inhibition, n. The act of inhibiting ; restriction :
سزاوت - روک - اٹکنا

Inhospitable, a. Not disposed to entertain strangers :
نامہمان نراز - پے تواضع - ناموافق پرور

Inhospitably, ad. Unkindly ; illiberally : نامہربانی
- بلا تواضع - رکھے ہن سے - فیاضی سے

Inhuman, a. Barbarous ; cruel ; unfeeling :
پے رحم - سنکدل - پے درد - پے ڈرس

Inhumanly, ad. Cruelly ; barbarously : پے رحمی
- پے دردی سے - سنگ دلی سے

Inhumanity, n. Cruelty ; barbarity : پے رحمی
- سنکدلی - پے دردی

Inhume, v. t. To bury ; to inter : ڈرنا - دفن کرنا -
مٹی دینا

Inimaginable, a. Inconceivable : خارج از قیاس

Inimical, a. Unfriendly ; inconsistent ; repugnant ; hurtful :
ناموافق - مخالف - برخلاف - مفر - نقصان رسا - بد اندیش

Syn. - Hostile, adverse.

Ant. - Friendly, amicable, affable.

Inimically, ad. In an unfriendly manner : ناواقف
- دشمنی سے

Inimitable, a. Incapable of being copied ; surpassingly excellent :
نا قابل تقلید - پے نظیر

Syn. - Matchless, peerless.

Inimitably, ad. In an inimitable manner : پے نظیری سے

Iniquitous, a. Unjust ; unrighteous ; wicked :
پے انصاف - پے عمل - ذراست - شریز - بد - زبوں

Syn. - Wicked, unjust.

Iniquity, n. Gross injustice ; unrighteousness ; wickedness ; sin :
پے انہمانی - ناراستی - شہارت - گناہ - فسق - بدی

Initial, a. Commencing ; incipient : آغاز کا - شروع
n. The first letter of a word or proper name :
نام یا لفظ کا پہلا حرف

Initiate, v. t. To begin ; to instruct in the rudiments or principles ; to admit :
شروع کرنا - ابتدائی - نامعلوم کار -
a. Unpractised ; begun ; newly admitted :
نورمزید

Initiation, n. The act of initiating admission ;
introduction : تعلیم ابتدائی - ادخال - ابتدا

- Initiative, a.** Inceptive : ابتدائی
- , *n.* An introductory step ; power of commencing : شروع کرنے کا اختیار
- Initiatory, a.** Introductory ; tending to initiate : شروع کا تمہیدی
- Inject, v. t.** To dart in ; to cast : بوہتر ڈالنا - لہجانا - پھینکنا - پھکاری دینا
- Injection, n.** The act of throwing in : بوہتر ڈالنا - پھکاری
- Injudicious, a.** Unwise ; indiscreet ; wanting in judgment : بے تمیز - ذامعقول - خلاف مصلحت - بے ساقیہ - بے شعور
- Syn.**—Indiscreet, inconsiderate.
- Injudiciously, ad.** Unwisely : بے عقلی سے - ذامعقولیت سے - بے تعازی سے
- Injunction, n.** An order ; a precept ; a legal writ : حکم - ہدایت - حکم امتناعی - تاکید - ممانعت
- Syn.**—Command, mandate.
- Injure, v. t.** To hurt ; to wound ; to damage ; to annoy : ضرر پہنچانا - مجروح کرنا - نقصان پہنچانا - تکلیف دینا
- Injurious, a.** Wrongful ; prejudicial ; harmful ; detractory : مضر - ہارج - نقصان پہنچانے والا - زیان - کار - بگاڑنے والا - مذمت آمیز
- Injury, n.** Mischief ; detriment ; damage : نقصان - ضرر - جفا - ستم - زیان - گھٹا - خسارہ
- Injustice, n.** Violation of the rights of an individual ; iniquity ; wrong : حق تلفی - ناراضی - ضرر - نقصان
- Syn.**—Unfairness, grievance.
- Ant.**—Fairness, equity, justice, rectitude.
- Ink, n.** A coloured liquid used in writing and printing : سیاہی سے کالا کرنا - سیاہی پھیرنا - سیاہی سے کالا کرنا * *v. t.* To blacken with ink : درات - سیاہی دان
- Inkhorn, n.** An inkstand :
- Inkle, n.** A kind of broad narrow fillet : ٹوڑا
- Inkling, n.** Inclination ; an intimation ; a hint or whisper : رغبت - میل - اطلاع - خبر - اشارہ - ایما - بھنک - کنایہ
- Inkstand, n.** A vessel for holding ink and writing materials : درات - سیاہی دان
- Inky, a.** Black as ink : سیاہی سا کالا
- Inlace, v. t.** To surround with lace : گورتا یا کناری گانا
- Inland, a.** Interior ; domestic ; confined to a country : خشکی میں - اندرونی - گھریلو - خانگی - دیسی * *n.* The interior part of a country : ملک کا اندرونی حصہ
- Inlay, v. t.** To diversify with other substances ; to ornament by laying in pieces of metal, ivory, &c. : لکڑی عاج وغیرہ پر پھپی کاری کرنا * *n.* Matter or pieces of wood ivory, etc., inlaid : لکڑی عاج وغیرہ پر پھپی کاری میں استعمال کی جانے والی چیزیں
- Inlet, n.** Entrance ; an opening ; an arm of the sea : داخلہ - ناکا - گذرگاہ - تھاتی
- Inly, ad.** Internally ; secretly : اندر کی طرف - اندرونی - پوشیدگی سے
- Inmate, n.** A fellow lodger : ہم خانہ - ہم مسکن
- Inmost, a.** Deepest within : سب سے بوہتر کا - اندرونی - بوہتری
- Inn, n.** A tavern ; a hotel : مسافر خانہ - سرائے
- Innate, a.** Inborn ; natural ; native : جنم کا - جبلی - خاکی - طبعی - مادری
- Innavigable, a.** Impassable by ships : جس جہاز یا کشتی نہ چل سکے
- Inner, a.** Interior ; not outward ; obscure : اندرونی - باطنی - پوشیدہ
- Innermost, a.** Farthest inward : سب سے اندر کا - بوہتری
- Inning, n.** The ingathering of grain : فلتہ جمع کرنا * The turn for using the bat in cricket : کریکٹ کھیلنے میں گیند بازی کی باری
- Inn-keeper, n.** The proprietor of an inn : ہتھیارا - سرائے والا
- Innocence, n.** Freedom from sin ; purity of heart ; ignorance : معصومیت - بے گناہی - صفائی - دل - پاک - سادگی - بے خبری
- Innocent, a.** Free from guilt ; harmless ; lawful ; not contraband : بے گناہ - بے تقصیر - شرعی - قانونی - ناممزع
- * *n.* One free from guilt ; an idiot : بے گناہ - بے وقوف - سادہ لوح

Innocently, ad. Harmlessly : بیگناہی سے - سادہ دلی : سہ

Innocuous, a. Harmless ; innocent : بے ضرر - بے گناہ - بغیر نقصان

Innominate, a. Anonymous ; unnamed : گمنام - بے نام

Innovate, v. t. To alter by introducing some-thing new : اختراع کرنا - ایجاد کرنا - تبدیل کرنا - نئی بات کو ایجاد کرنا - نیا طریقہ جاری کرنا

Innovation, n. Introduction of novelties ; change in established laws and practices : اختراع - ایجاد - نو طرز - نیا دستور

Innovator, n. One who innovates : بنی - موجد

Innoxious, a. Harmless in effects ; pure : بے ضرر - بے نقصان - صاف

Innuendo, n. An oblique hint ; an indirect in-timation : اشارہ - کنایہ - رمز

Syn. - Insinuation, suggestion, representation.

Innumerable, a. Incapable of being enumerated ; numberless : بے شمار - بے حساب - ان گنتی

Inobservance, n. Want of observance ; disobedience : عدم توجہی - خلاف ریزی - نافرمانی - عدم تعمیل

Inobservant, a. Heedless : بے توجہ - نا فرمان

Inoculate, v. t. To bud : * To communicate disease by inserting infectious matter : نشتر سے مرض متعدی کا مواد جامد میں پہنچانا

Inoculation, n. The art of inoculating : پودہ

Inodorous, a. Scentless : بے بو - بے داس - نرگند

Inoffensive, a. Harmless ; doing no mischief : کار آمد - اور غریب جانوروں پر رحم کرنا فرض ہے

Inoffensiveness, n. Harmlessness : معصومیت

Inofficial, a. Not proceeding from the proper officer : غیر سرکاری - بے ضابطہ

Inofficious, a. Not attentive ; unkind : نامہربان

Inoperative, a. Not active ; producing effect : بے تاثیر - غیر مرثر - ناکارگر

Inopportune, a. Inconvenient ; unseasonable : بے موقع - بے وقت

Inopportunely, ad. Unreasonably : بے وقت - بے موقع

Inordinacy, n. Disorder ; irregularity : بے ترتیبی - بے ضابطگی

Inordinate, a. Disorderly ; excessive : بے قاعدہ - حد سے زیادہ

Inordination, n. Irregularity : بے ضابطگی - خلاف قاعدگی

Inorganic, a. Not endowed with organs : بے جز - بے ستور - nature, * درخش - بے عضو

Inquest, n. Quest : * Judicial inquiry : تلاش - تحقیقات

Inquietude, n. Want of rest of mind ; restless-ness : بے چینگی - بیگلی - بیقرارگی

Inquire, v. t. or i. To ask about ; to seek after ; to examine : دریافت کرنا - تلاش کرنا - امتحان کرنا - تحقیقات کرنا

Inquirer, n. An investigator ; seeker : والا - متلاشی - جوہلیں - محقق - پرسوں

Inquiry, n. Interrogation ; research ; investi-gation ; scrutiny : پرسش - استفسار - تلاش - آزمائش

Inquisition, n. Investigation ; judicial inquiry : آزمائش - تحقیقات - درہات

Inquisitional, a. Pertaining to the inquisition :

inquisitive, a. Addicted to inquiry ; curious : متلاشی - متجسس - متفحص - راز جو - جاسوس طبعیت

Inquisitiveness, n. Curiosity to learn which is not known : دریافت کرنے کی خواہش - تجسس

Inquisitor, n. One who inquires officially : تحقیقات کرنے والا

Inrail, v. i. To inclose with rails : ریل سے گھیرنا

Inroad, n. A sudden incursion ; encroachment : حملہ - تاخت - یورش - دست درازی

Insalubrious, a. Unwholesome ; unfavourable to health : مضر صحت - ناکوار - نافرمانی نادرستی

Insalubrity, n. Unhealthfulness ; unwholesome-ness : غیر صحت آوری - نا موافقت - ناکواری

Insalutary, a. Not wholesome ; productive of evil :
مضر - ناکوار - نقصان رساں

Insane, a. Mad : سردانی - دیوانہ - خبطی - پاگل
مجنون

Syn. - Crazy, lunatic, mad, distracted.

Ant. - Sound, sane, rational, collected.

Insanity, n. Madness ; derangement of intellect :
پاگل پنہا - سردا - جنون - خبما - خفتان - ناکص عقل

Insatiability, n. The quality of being insatiable :
عورکا - نیم سیری - حرص کا نہ سعتہ بیچہنا

Insatiable, a. Incapable of being satisfied ; very greedy :
جو سیر نہر - حریص - مر بہر نہا

Insatiate, a. Not to be satisfied : ناسیر - بے اگہایا -
بہر نہا - لالچی

Insatiety, n. Excessive greediness : نہایت حرص - بے
حد لالچ - بے صبری - ناکبیدی

Inscribe, v. t. To write ; to imprint ; to assign ;
to impress : لکھنا - نقش کرنا - نشان کرنا - دلنشین کرنا

Inscription, n. Something written or engraved ;
title ; address : نقش - کتابچہ - کتاب کا خطبہ - پتہ -
نام نہاں

Inscrutability, n. Unsearchableness : تلاش نہ کیئے
جاسکتے کی خاصیت

Inscrutable, a. Unsearchable ; impenetrable :
جسکی تلاش نہ ہو سکے - اگدار - ناقابل التفتیشات

Inscrutably, ad. In a manner not to be found
out : اس طرح ہر کہ دریافت نہ ہو سکے

Insect, n. A small creeping or flying animal :
کیڑا - کرم کیٹ

Insecticide, n. The killing of insects : کیڑوں کا
مارنا

Insection, n. A cutting in ; incision : کاٹ - تراش -
چیر

Insecure, a. Not safe ; exposed to danger ;
uncertain : نا مضبوط - خطرہ میں - غیر مستحکم -
بے قیام

Insecurely, ad. Without safety ; without cer-
tainty : بلا حفاظت - بلا سلامتی - بلا تحقیق

Insecurity, n. Danger ; want of confidence in
safety : خطرہ - خوف - بے امنی - اندیشہ - ٹھنکا

Syn. - Exposure, risk, hazard.

Insensibility, n. Inability to feel or perceive ;
stupidity : بے خبری - مہربانی - بے روشی - بے وقوفی -
جہالت

Syn. - Dulness, numbness, apathy, torpor.

Insensible, a. Imperceptible ; unsusceptible : بے
* چین - بیہوش - غیر متضرر - نا معلوم - بے خبر
Stupid : بے وقوف

Insensibly, ad. Imperceptibly ; by slow degrees :
بے معلوم طور سے - بتدریج - رفتہ رفتہ

Inseparability, n. The quality of being such as
cannot be separated : ربط و ضبط - لازم ملزومی

Inseparable, a. Not to be parted : جو جدا نہ
ہو سکے - ذتفریق پذیر - غیر متفک

Inseparably, ad. With indissoluble union :
بلا تفریق - بلا مہاجرت - بہ کہا - ربط و ضبط

Insert, v. t. To thrust in ; to set within some-
thing : منبج کرنا - داخل یا شامل کرنا - ڈالنا

Insertion, n. The act of placing in or among other
things : شمول - داخلہ - اندراج

Inside, a. Internal : اندرونی * n. Internal portion :
اندرونی حصہ

Insidious, a. Watching to ensnare ; crafty : گھاتی -
فطرتی - عیار

Ant. - Artful, designing, treacherous.

Insidiously, ad. Deceitfully ; treacherously :
دغا بازی سے - دھوکا بیکر - عیاری سے

Insight, n. Deep inspection ; thorough knowledge :
بصیرت - معرفت - وقوف - شناخت - پر نہہ - پہچان

Insignia, n. pl. Badges of office or honor : نشان -
علامت - پتہ - تمغہ

Insignificance, n. Want of force ; unimportance ;
meaness : ناچیزی - بے قدری - خفت - ہلک پن

Insignificant, a. Destitute of meaning ; unim-
portant ; mean ; without weight : بے معنی - بے
قدر - حقیر - ادنی - خفیف - ہلکا

Syn. - Immaterial, petty.

Ant. - Essential, considerable, immense.

Insincere, a. Dissembling ; hypocritical ; untruth-
ful : مکار - دغا باز - دورنگا - دیاکار - ناراست -
جہر نہا

Insincerely, ad. Hypocritically : - ہورنگی سے
دیکھا رہی ہے - دعا سے

Insincerity, n. Dissimulation ; hypocrisy : - رنکارہی
ظاہر داری - دعا

Insinuate, v. t. or i. To introduce gently ; to instil ; to hint ; to creep in ; to push oneself into favour : - آہستہ آہستہ داخل کرنا - دلنشین کرنا - اشارہ :
کرنا - پیٹھنا - عیاری سے کہہ کرنا - دل میں جگہ کرنا - اپنے اہل مرہبان کرنا

Insinuation, n. The act of insinuating ; a distant allusion : - دخل - اشارہ - ایما - کنایہ

Insipid, a. Destitute of taste ; vapid ; wanting life ; flat : - بھیکا - بے ذائقہ - بے مزہ - بے جان - مردہ - بھردہ - بھاری

Insipidity, n. Want of taste : - بے مزگی - بے لذتی - بے لطفی

Insist, v. t. To dwell upon ; to persist in ; to urge : - ٹھہرنا - مستقل رہنا - ضد کرنا - ہتھ کرنا - تاکید کرنا - بضد ہرنا - اسرار کرنا - ارگے کہڑا ہوجانا

Insinuate, v. t. To entrap ; to seduce by artifice : - پھنسا سارنا - پوندے میں لانا - ورغلانا - جال میں پھنسانا

Insobriety, n. Intemperance ; drunkenness : - بے اعتدالی - بد پڑھیزی - شراب خورہی - بدمستی

Insociable, a. Disinclined to unite in social converse ; taciturn : - نا آشنا مزاج - غییر مانوس - انمیل - چپا

Insolate, v. t. To dry in the sun : - دھرب میں سکھانا - دھرب دینا

Insolence, n. Impudence, overbearing treatment of others : - گستاخی - شوخی - سرکشی - بے امتیازی :
کج ادائیگی

Insolent, a. Haughty ; overbearing ; abusive ; rude : - گستاخ - شرح - سرکش - بے ادب - دشنام آمیز
Syn.--Proud, insulting, contemptuous.

Insolently, ad. Haughtily ; rudely : - گستاخانہ
بے ادبی سے

Insolubility, n. The quality of not being soluble : - نہ گھلنے کی خاصیت

Insoluble, a. Incapable of being dissolved in a fluid ; insolvable : - نہ گھلنے والا - نہ پگھلنے والا

Insolvable, a. Not capable of solution or explanation : - لا حل - مشکل - غیر قابل ادراک - نہ گھلنے والا

Insolvency, n. Inability to pay one's debts : - درالیاہی - ناداری - مفلسی - ادائے قرض نہی ہے
مقدوری - ناداری

Insolvent, a. Unable to pay debts : - درالیا - مفلس - * creditor - قرضدار ہے - قرضدار ہے * debtor - قرضدار ہے
To take the benefit of the act, مقبور ہے قرضداروں کی رضا کی ان مطابق مناصی حاصل کرنا
* creditor - قرضداروں کی رضا کی ان مطابق مناصی حاصل کرنا
n. A debtor unable to pay his debts : درالیا - تنگ دست

Insomnia, n. Sleeplessness : - نہ سونے کی بيماری - بے خوابی - بے داری

Insomniac, a. Restless in sleep : - سونے میں بے چینی

In-so-much, ad. So that ; to such a degree that : - اس قدر - اس درجہ تک - یہاں تک

Insooth, ad. Truly ; indeed : - حقیقتاً - فی الحقیقت

Inspect, v. t. To look upon ; to superintend ; to examine : - دیکھنا - ملاحظہ کرنا - معائنہ کرنا - جانچنا - امتحان کرنا

Syn. Examine, scrutinize, investigate.

Inspection, n. Trying examination ; watch ; superintendence : - امتحان - جانچ - معائنہ - نگرانی - حفاظت

Inspector, n. One who looks into ; a superintendent : - جانچ دیکھنے والا - معائنہ کرنے والا - ممتحن - انسپکٹر

Inspectorate, n. The office of an inspector ; a district under charge of an inspector ; a body of inspectors : - عہدہ - نظارت - داررغائی - علاقہ - انسپکٹری - ممتحنوں کی جماعت

Inspectorship, n. The office of an inspector : - ممتحنی - انسپکٹری

Inspire, v. t. To place in an orb : - ٹھہرنا - گھنڈ - کی شکل بنانا

Inspirable, a. Inhalable ; capable of being drawn into the lungs : - دم نشی کے قابل - پینے کے لائق - دم سے پھینچنے کے قابل

Inspiration, a. Inhalation ; * The supernatural influence of the Holy Spirit : - اہام - وحی

Inspire, v. t. To breathe ; * v. t. To infuse into ; to instil ; to animate supernaturally : - پھینکنا - دل میں قہرنا - تلقین کرنا - وحی پھینچنا

Instrumentality, n. Agency ; means : - کار بردازی - وسیلہ - ترسہ

Insubjection, n. State of disobedience to government : نا متابعت - نافرمانی - عدول حکمی - سرکشی

Insubmission, n. Disobedience : نافرمانی - عدول حکمی

Insubordination, n. Disorder ; disobedience to lawful authority : اہترتی - سرکشی - عدول حکمی

Insufferable, a. Intolerable ; detestable : نا قابل برداشت - نہ سہنے کے لائق - ناگوار - سخت

Insufficiency, n. Deficiency ; inability ; incompetency : کمی - کوتاہی - نا قابلیت - نالایقی - ادم اکتفا

Insufficient, a. Inadequate ; unfit ; incompetent : ناکافی - کم - نالایق

Insufficiently, ad. Inadequately : کم - غیر مکتفی

Insular, a. Belonging to an island ; surrounded by water : ٹاپر کا - جزیرہ - پانی سے گھرا ہوا

Insulate, v. t. To place apart : جدا کرنا - الگ کرنا

Insulated, n. Standing by itself : علیحدہ - بے لگاؤ

Insult, v. t. To treat with abuse : بد زبانی - ذلیل کرنا - **n.** Indignity ; outrage : ہتک - بے - عزتہی - توہینیں - طعن - بے آبروئی - چھیڑ

Syn. - Outrage, insolence.

Insulting, a. Insolent ; abusive : گستاخ - بے ادب - ہتک آمیز

Insultingly, ad. With insolent contempt : طائز سے - گستاخانہ

Insuperable, a. Insurmountable ; invincible : غیر مغلوب - طے نہ ہونیکا - صعب - زہر دست

Insuperable, ad. Insurmountably ; invincibly : اس طور پر کہ زہر نہ ہو سکے

Insupportable, a. Insufferable ; intolerable : نا قابل برداشت - سخت - شدید - مشکل

Insuppressible, a. Irrepressible : جو چھپ نہ سکے - ظاہر

Insurance, n. The act of insuring against loss or damage : بیمہ * The premium paid for insuring : بیمہ کے واسطے جو روپیہ دیا جاوے

Insure, v. t. To make sure ; to secure against loss or contingency by the payment of a certain sum :

v. t. To underwrite : بیمہ کرنا - دلجمعی کرنا - بیمہ کرنا - اطمینان کرنا

Insurgent, a. Rising in opposition to lawful authority ; rebellious : بڑانی - قتلہ انگیز - نا فرمان

n. One who rises against lawful authority ; rebel : بڑاؤٹی - فسادہی - قتلہ انگیز - بانگی

Insurmountable, a. Incapable of being overcome ; insuperable : جو سر نہ ہو سکے - غیر مغلوب - زہر دست

Insurrection, n. A revolt ; a rebellion : بغاوت - شورش - فساد - ہنگامہ - قتلہ

Insurrectionary, a. Rebellious ; seditious : بغاوتی - قتلہ انگیز - فساد انگیز

Insusceptible, a. Not capable of being moved or affected : غیر متاثر - سخت - نا قابل

Intact, a. Uninjured ; undefiled ; entire : بے زہان - بے بگاڑ ہوا - پورا - کامل - سوجھا

Intangible, a. Not perceptible to the touch : غیر محسوس - جو چھونے یا تھونے سے نہ معلوم ہو

Integer, n. A complete entity ; a whole number : غیر مکتر - عدد صحیح

Integral, a. Complete ; whole ; entire : کامل - **n.** A whole ; a number : پورا - عدد صحیح

Integrate, v. t. To make entire ; to perfect ; to give the sum or total : پورا کرنا - کامل کرنا - میزان دینا - جمع کرنا

Integration, n. The act of making entire ; completion : تکمیل

Integrity, n. Wholeness : کلیت - **n.** Uprightness : راستی - امانت - دیانت - صفائی - پوری - **n.** A whole ; a number : پورا - عدد صحیح

Syn. - Probity, honesty, uprightness.

Integument, n. A covering ; skin ; membrane : پردہ - چھال - جھلی - پوست

Intellect, n. The understanding ; reasoning or thinking faculty : سمجھ - فہم - ذہن - عقل - قوت - متخیلہ

Intellection, n. The act of understanding ; intuition : سمجھ - فہم - ادراک

Intellective, a. Able to understand : سمجھدار - عاقل - ذہیب

Intellectual, a. Belonging to the mind ; mental :
متعلق دماغ - دلہی - ذہنی - عقلی - تیز فہم

Intellectually, ad. By means of the understanding :
سمجھتہ کر - بہ فراست

Intelligence, n. Understanding ; quickness of apprehension ; intellectual power ; instruction ; news ; notice :
سمجھتہ - فہم - ہدایت - اراک کی - اطلاع
Have, * تیزی - روح ذی عقل - آگاہی - خبر - اطلاع
have familiarity or intercourse ; be in league :
اختلاط رکھنا - متحد ہونا

Syn. — Understanding, intellect, advice.

Intelligent, a. Sensible ; skilful ; well informed :
صاحب فہم - ذی عقل - ہوشیار - سمجھدار - واقف کار -
مہترم کار - روشن دماغ - خود فہم - معقول - خبر رساں

Intelligibility, n. The quality of being intelligible :
سمجھتہ میں آنے کا وصف

Intelligible, a. Comprehensible ; clear ; plain :
قابل فہم - صاف - صریح - سمجھتہ میں آنے والا

Intelligibly, a. In a manner to be understood ;
clearly ; plainly :
سمجھتہ میں آنے کے لائق - سوز سے - صاف صاف - بہ صراحت

Intemperance, n. Want of proper restraint ;
immoderation ; excessive indulgence in intoxicating liquors ; excess ; drunkenness :
بے احتیاطی -
بد پرہیزی - زیادتی - شراب خوری - بے ندرشی - عیاشی -
درہنشی

Intemperate, a. Immoderate in appetite ; excessive ; violent ; addicted to the excessive use of intoxicants :
بے اعتدال - بد پرہیز - بسیار خور - تند مزاج - نشہ باز - بلا ندرش

Intemperately, ad. Immoderately ; excessively :
بے اعتدالی سے - زیادتی سے

Intenable, a. Not defensible :
جس کو قائم نہ رکھ سکیں - غیر محفوظ

Intend, v. t. or i. To mean ; to attend to ; to contemplate ; to strain :
نیت رکھنا - ارادہ رکھنا - منصوبہ کرنا - متوجہ ہونا - غرر کرنا - کوشش کرنا - جاں فشانی کرنا

Intendancy, n. The office or district of an intendant :
ضلعدار کی کچھڑی - ضلع

Intendant, n. Superintendent :
نظر - معائنہ - نگران - فرجدار

Intended, a. Betrothed ; purposed :
منسوبہ
* n. One who is betrothed :
جسکی نسبت ہوگئی ہو

Intense, a. Strained ; ardent ; keen ; vehement ;
شدید - زیادہ - تیز - نہایت - ازبس - تند -
violent :
بڑے زور کا - عمدہ تن مصروفیت کا - اشد - شہ

Intensely, ad. To an extreme degree ; vehemently :
بے حد - سرگرمی سے - تیزی سے - بے کمال توجہ سے

Intensify, v. t. To render more intense :
تیز کرنا - تند کرنا - شدید کرنا - بڑھانا

Intensity, n. Extreme degree ; excess :
زیادتی - شدت - سختی - پھیلاوت

Intensive, a. Stretched ; serving to give emphasis :
پھیلا ہوا - کھینچنے یا تننے والا - زور دینے والا

Intensively, ad. Foreibly :
تاکیداً

Intent, a. Anxiously diligent ; eager in pursuit of an object :
مشائق - عمدہ تن مصروف - بدل و جان -
* n. Design ; meaning ; aim :
نیت - مطلب - ارادہ - منصوبہ
To all— and purposes, practically ; really :
فی الحقیقت - دراصل

Intention, n. Design ; purpose :
aim :
تجویز - ارادہ - مطلب - قصد - مدعا

Intentional, a. Intended ; designed ; contemplated premeditated ; studied :
ارادہ کیا ہوا - ارادتا
تجویز کردہ - دانستہ - پہلے سے سوچا ہوا

Intentionally, ad. Purposely ; with choice :
ارادتا
باقصد - دیدہ و دانستہ - بالارادہ - جان بوجہ کر

Intently, ad. Closely ; attentively :
بغور - جی لگا کر - دھیان کے ساتھ

Intently, ad. Fixedly ; earnestly ; diligently :
جی لگا کر - محنت سے - بہ جد و جہد - سرگرمی سے

Inter, v. t. To deposit and cover in the earth ; to bury :
مٹی سے دبانا - مٹی دینا - دفن کرنا
Syn. — Bury, inhume, entomb.

Intercalary, a. Inserted ; added ; additional :
بڑھایا ہوا - جوڑا - زاید - فروری کا انٹیسواں دن جو سال شمسی پورا کرنے کے لئے جوڑتے ہیں

Intercalation, n. The insertion of days in a calendar :
درمیان میں زیادہ دنوں کا جوڑ دینا

Intercede, v. i. To interpose ; to mediate ; to act as a friend between parties at variance :
شفاعت
کرنا - بیچ میں پڑنا - بیچ بچاؤ کرنا

Intercept, v. t. To stop ; to cut off ; to cut short :
 راستہ میں روکنا - جدا کرنا - مسدود کرنا - باز رکھنا -
 روکنا - حائل ہونا - حرج کرنا

Interception, n. The act of stopping ; hinder-
 ance :
 روک - انکڑ - مزاحمت

Intercession, n. Mediation ; interposition with the
 view of reconciling differences : سفارش - شفاعت
 بیچ بچاؤ

Intercessor, n. A mediator : شفیع - درمیانہ

Interchain, v. t. To link together ; to unite close-
 ly and firmly : مسلسل کرنا - لڑی میں باندھنا -
 مضبوطی سے ملانا - زنجیر بند کرنا

Interchange, v. t. To give and take mutually ; to
 exchange ; to alternate : عوض معاوضہ کرنا - ادلا
 عوض معاوضہ کرنا * Exchange ; alternato ;
 succession ; barter ; commerce : عرض معاوضہ -
 ادلا بدلا - خرید و فروخت - تجارت بیوپار

Interceptient, a. That intercepts ; stopping : روکنے
 والا - مزاحم - راہ میں پکڑ لینے والا

Interclude, v. t. To intercept ; to cut off ; to
 interrupt : مزاحم ہونا - مزاحمت کرنا - باز رکھنا - روک
 دینا - بند کرنا

Intercommon, v. i. To feed at the same table :
 ایک ہی میز یا دسترخوان پر کھانا

Intercommune, v. t. To associate : میل جول
 رکھنا - راہ رسم رکھنا - بیروہار رکھنا - رفا ضابطا رکھنا

Intercommunicate, v. t. To communicate mutu-
 ally ; to hold mutual communication : باہم آمد و
 رفت رکھنا یا کرنا

Intercommunity, n. Mutual intercourse ; mutual
 freedom : آپس کا بیوہار - باہمی میل جول - راہ رسم -
 مذہبی میل ملاپ

Intercourse, n. Communion ; commerce ; famili-
 arity ; communication : میل جول - تجارت - لین
 دین - میل جول - راہ رسم - رفا ضابطا - خط و کتابت

Syn.—Communication, connection.
Ant.—Avoidance, boycotting, estrangement,
 alienation.

Intercurrent, a. Intervening : درمیان میں حائل

Intercutaneous, a. Being within the skin : کھل
 کے پھیلتا

Interdict, v. t. To forbid ; to prohibit ; to forbid
 communion : منع کرنا - باز رکھنا - روکنا - میل جول کی
 ممانعت کرنا

Syn.—Forbid, prohibit, inhibit, debar.
Ant.—Enjoin, authorise, allow, permit, suffer,
 tolerate.

Interdict, n. Prohibition ; a prohibiting order or
 decree : ممانعت - حکم امتناعی

Interdiction, n. Prohibition ; inhibition ; curse :
 ممانعت - روک - بددعا - سراپ

Interdictory, a. Serving to prohibit : امتناعی
 مانع

Interest, n. Concern ; sympathy ; regard : ذمہ داری
 * تعلق - ہمدردی - غرض - واسطہ - سرورکار - رسوم
 * نایدہ - بلائی - نفع : Advantage ; good ; profit :
 * The profit per cent. derived from
 money lent : * Influence over others : * حصہ : Share

Simple—, * سود مفرد **Compound**—, * سود
To have some interest at court : * مرکب - سود در سود
To make—, * دربار میں کسی قدر رسوم حاصل ہونا
Take—, * مزہ * ذریعہ پیدا کرنا
v. t. To concern ; to affect ; to engage ;
 علاقت رکھنا - واسطہ رکھنا - اثر
 کرنا - راغب کرنا - شریک کرنا - حصہ دینا

Interested, a. Concerned in a cause ; liable to be
 affected : غرض مند - ساجھی - شریک - غرضی - متاثر
Syn.—Partial, biased, prejudiced.
Ant.—Impartial, fair.

Interesting, a. Exciting the attention or curiosity ;
 attractive ; entertaining : دلچسپ - مرغوب - دلکش

Interfere, v. i. To come in collision ; to inter-
 meddle ; to interpose : ٹکرائنا - مزاحم ہونا - متخل
 ہونا - بیچ میں بڑنا - دخل دینا - دست اندازی کرنا

Interference, n. Interposition ; collision ; clash-
 ing : بیچ بچاؤ - مداخلت - دست اندازی - مت بھیز

Interfused, a. Spread between : بیچ میں پھیلا ہوا

Interim, n. The meantime ; the time interven-
 ing : بیچ کا وقت - وقفہ - انٹر - انڈو - عرصہ مابین

Interior, a. Internal ; inland : اندرونی - بیہتر کا
 انڈر - بیہتر * n. The inside : * مفصل کا

Interjacent, a. Intervening : درمیانہ - متوسطا

Interject, v. t. To insert ; to throw in between :
 داخل کرنا - بیچ میں ڈالنا

Interjection, n. The act of throwing between :
حرفِ ندیدہ وندا * بیچ میں ڈالنا
sudden emotion :

Interlace, v. i. To insert ; to intermix ;
داخل کرنا - گھال میل کر دینا - آمیزش کرنا

Interlard, v. t. To insert between ; to mix ;
داخل کرنا - خلط ملا کرنا - مندرج کرنا

Interlay, v. t. To lay between ; to join :
بیچ میں رکھنا - ملانا

Interleaf, n. A leaf inserted between other leaves :
ورق جو اور درتوں کے درمیان لگا دیا جاوے

Interleave, v. t. To insert blank leaves in a book
between other leaves : کتاب کے اوراق کے درمیان
ایک ایک سادہ ورق لگانا

Interline, v. t. To write in alternate lines :
ایک ایک - مترو - مترو کے بیچ میں لکھنا

**Interlineal, } a. Occurring between lines :
Interlineary, }** مترو کے بیچ میں درج کیا ہوا

Interlineation, n. The act of interlining :
سترو لکھنے کے بیچ میں اندراج

Interlink, v. t. To connect by uniting links :
کڑی سے کڑی جوڑنا

Interlocation, n. Interposition :
بیچ میں رکھنا

Interlock, v. i. To unite :
ملانا

Interlocution, n. Dialogue ; conference :
گفتگو - بات چیت

Interlocutor, n. One who speaks in dialogue ; a
dialogist ; an interlocutory judgment : سوال و
جواب میں تقریر کرنے والا - گفتگو کرنے والا - فیصلہ یا
حکم درمیانی

Interlocutory, a. Consisting of dialogue ; inter-
mediate : سوال و جواب میں - درمیانی

Interlope, v. t. To intrude ; to forestall ; to come
between and intercept advantage : دست اندازی
کرنا - دخل دینا - ناحق کسی کام میں ہاتھ ڈالنا - بلا
اجازت تجارت کرنا - دخل در معقولات کرنا

Interlude, n. An entertainment exhibited on the
stage between the acts of a play : تماشا یا گانا جو
ناتک کے ایکٹ کے درمیان ہو

Interlunar, a. Belonging to the time when the
moon is visible : اُس وقت کے متعلق جبکہ چاند نہیں دکھلائی
تھتہ الفِ قاع - شبِ دیدہ - space - * دیتا ہے

امواس

Intermarriage, n. Reciprocal marriage between
families : آپس میں بیواہ شادی کا رسم

Intermarry, v. t. To marry persons of a family,
tribe or a nation with some of another : آپس میں
بیواہ شادی کرنا

Intermeddle, v. t. To interfere without right ;
دخل در معقولات کرنا - to interpose ; to mix with :
بیچا مدخلت کرنا - مغل ہرنا - خلط ملا ہرنا

Intermediary, a. Situated between : * درمیانی
n. One who goes between ; one who interposes :
کارن - درمیانی - بچرونی

Intermediate, a. Intervening ; interposed ; lying
between two extremities : بیچ کا - درمیانی -

Intervene, v. i. To come between ; to intervene :
بیچ میں پڑنا - درمیان آنا - مغل ہرنا

Intermediation, n. Intervention : دخل - مداخلت

Intermediately, ad. By way of intervention : بیچ
بچرونی کے طور پر

Interment, n. Burial ; sepulture : تکفین - تدفین

Interminable, a. Boundless ; endless ; infinite :
جے حد - جے انتہا - جے پایاں

Interminate, a. Unbounded ; unlimited : جے حد -
جے انتہا

Intermingle, v. t. To mix together : مغلرہ کرنا
ملانا

Intermission, n. A temporary pause ; cessation
for a time ; an intervening time ; leisure : وقفہ -
مہلت - التوا - نائغہ - اثناء - فرصت

Intermittent, n. A disease which ceases at certain
intervals : بیماری جو کچھ وقت تک بند رہے - وقفہ دیکر

Intermittent, a. Ceasing at inter-
vals ; coming on or flowing again : * اترے کا
باری کا بھڑا - fevers,

Intermix, v. t. To mix together ; to intermingle :
خلط ملا کرنا - ملانا - کت بق کرنا

Syn. - Blend, commingle, mix.

Internal, a. Interior ; domestic ; intrinsic ; of the
heart ; confined to one's country : اندرونی - باعانی -
جگہری - خانگی - اصلي - دلی - دیسی

Internally, ad. Inwardly ; spiritually : بویتر
اندرازد - دل میں - باطن میں

International, a. Pertaining to the relations of two or more nations : مختلف قوموں کے درمیان -
law, rules which regulate states in their conduct towards one another : ملکہوں کے قوانین کا اتفاق

Internecine, a. Doadly ; fatal : قاتل - خونخوار

Internuncio, n. A messenger between two parties : ایچپی - رکیل

Interpellation, n. Interruption ; interposition ; a citation ; an earnest address : - دخل - مداخلت - مزاحمت - دستک - طالبی - بلاوا - مہبت کے درمیان کا سوال

Interpolate, v. t. To insert unfairly ; to thrust in ; to insert a spurious passage : ناچائز طور پر زیادہ کرنا - داخل کرنا - بنا یا ہوا مضمون شامل کرنا - ملائی ہوئی عبارت - تعریف

Interpolation, n. The act of unfairly inserting a word or passage into a book : الحاق - کسی کتاب میں کوئی لفظ یا نیا مضمون شامل کرنا - چھپک

Interpose, v. t. To intervene ; to intercede : مداخلت کرنا - دخل دینا - بیچ میں بیٹنا

Interposer, n. One who interposes : بیچ میں بیٹنے والا - درمیانی

Interposition, n. Intervention ; mediation : دخلت - بیچ بیچاؤ - رسالت - شفاعت - توسط - وسیلہ

Interpret, v. t. To expound ; to define ; to explain ; to unfold ; to translate : بیان کرنا - تعریف کرنا - شرح کرنا - تشریح کرنا - ترمیم کرنا - تھولنا - ترجمہ کرنا

Interpretation, n. Translation ; construction ; ترجمہ - مفہوم - تشریح - ترمیم - تعبیر - تفصیل

Interpreter, n. An expositor ; a translator : مترجم - شارح - تعبیر کو

Interregnum, n. The time during which a throne is vacant : زمانہ جب تک تخت بادشاہ سے خالی رہے

Interrogate, v. t. To question ; to ask : پوچھنا - استفسار کرنا

Interrogation, n. An inquiry ; the act of questioning ; a mark (?) denoting a question : - سوال - سوال کی علامت (?)

Interrogative, a. Expressed in the form of a question : **n.** A word used in asking questions : کلمہ استہمام

Interrogatory, n. A question : سوال - استفسار
a. Containing a question : استہمامیہ سوال

Interrupt, v. t. To hinder the progress of : ہارج ہونا - مانع ہونا - دخل دینا

Interruption, n. Stop ; cessation ; intervention : روک - تھراؤ - مداخلت

Intersect, v. t. To divide into parts ; to cross mutually : **v. i.** * تقاطع کرنا - بانٹنا - حصہ کرنا : meet and cross each other : تقاطع کرنا

Intersection, n. The point where lines cross each other : تقاطع جہاں خطوط ایک دوسرے کو کاٹیں

Interperse, v. t. To scatter here and there : پھیلاتا - بکھیرتا

Interspersion, n. The act of scattering about : چھراؤ - بکھراؤ - پھیلاؤ

Interstellar, } a. Intervening between the
Interstellary, } stars ; situated beyond the solar system : ستاروں کے درمیان کا نظام شمسی کے باہر والا

Interstice, n. A narrow or small space between things ; a chink ; a crevice : تنگ یا خالی جگہ - درز - شکاف - پھانک

Intertropical, a. Situated between the tropics : جر خطوط میزان و جدی کے درمیان واقع ہو

Intertwine, v. t. To unite by twisting one with another : بٹنا - لپیٹنا

Interval, n. A space between things ; space of time between any two points or events : وقفہ - وقفہ - فاصلہ - عرصہ

Intervene, v. t. To come between ; to interpose : درمیان میں آنا - بیچ میں بیٹنا - حائل ہونا

Intervention, n. Interposition ; state of coming between : مداخلت - شفاعت - رسالت - بیچ بیچاؤ
Syn.—Interposition, interference.

Interview, n. A formal meeting ; conference : ملاقات - مشورہ

Interweave, v. t. To intermingle ; to set together : ساتھ ساتھ - در تعلق سے بننا - ملا کر جڑنا

Intestable, a. Not legally competent to make a testament : جسکو وصیت کرنے کا مجاز نہ ہو

Intestate, a. Dying without a will : **n.** * بلا وصیت مرنا ، **n.** A person who dies without making a valid will : وصیت کیے بغیر مر جانے والا

Intestine, *a.* Domestic ; not foreign ; internal :

خانگی - ملکی - اندرونی - بومی

Intestines, *n. pl.* The bowels ; the entrails :

آنت

Inthral, *v. t.* To enslave ; to shackle :

غلام بنانا - حلقہ بگوش کرنا - قید کرنا - گرفتار کرنا

Intimacy, *n.* Close acquaintance ; friendship :

دوستی - اعلانی - یارانہ - میل

Syn. - Friendship, familiarity, fellowship.

Intimate, *a.* Innermost ; near ; close ; familiar :

بومی - اندرونی - نزدیکی - آگاہ - محترم دلی

Intimate, *n.* A familiar or confidential friend :

یار

v. t. To suggest indirectly ;

کنایاً بتلانا - اشارہ کرنا -

مطالع کرنا

Intimately, *ad.* Closely ; familiarly :

نزدیکی سے - بدل و جان - بہ اختلاص

Intimation, *n.* A hint ; a declaration ; direction ;

اشارہ - ایہ - خبر - آگاہی - عدایت - اطلاع -

صلاح

Intimidate, *v. t.* To dishearten ; to deter ; to

frighten : پست ہمت کرنا - ڈرانا - خوف - دلانا

Syn. - Alarm, scare, daunt, terrify, appeal.

Intimidation, *n.* The act of making fearful :

تخریف - دہشت - ڈر - ڈرانت

Into, *prep.* A word which denotes entrance or

passage inwards : اندر - درمیان - میں - بوقت

Intolerable, *a.* Not capable of being endured ;

insupportable ; insufferable :

اقابل برداشت - غیر - متحمل - جو سہا نہ جاسکے

Intolerably, *ad.* In an unendurable manner :

نہایت ہی - سختی سے - بڑداشت سے باہر

Intolerance, *n.* Want of toleration :

* عدم تحمل : تعصب - مخالف - Bigotry

Intolerant, *a.* Not enduring ; unable to bear :

پے : متعصب * *n.* A bigot

Intoleration, *n.* Refusal to suffer ; difference of

opinion or worship in others : تعصب

Intomb, *v. t.* To bury :

دفن کرنا - گاڑنا

Intonation, *n.* Modulation of the voice :

لہجہ - اعلان - آواز - سر

Intone, *v. t.* To chant ; to read in a singing

style : گانا - گن گنانا - گا کر پڑھنا - اعلان سے پڑھنا

Intort, *v. t.* To wring ; to twist :

مڑزنا - ایتھوہ -

Intoxicant, *n.* That which intoxicates ; an intoxi-

cating substance : متوالا کثیرالی چیز - نشہ دار شے

Intoxicat^e, *v. t.* To make drunk ; to inebriate ;

to infatuate : مدہوش کرنا - سرشار کرنا - بپہرش کرنا -

مست کرنا

Intoxication, *n.* Drunkenness ; inebriety ; in-

fatuation : مدہوشی - نشہ - متوالا پن - مستی

Intractable, *a.* Stubborn ; unruly ; violent ;

obstinate ; unmanageable : ہٹی - مگرا - منہ زور -

بے لگام - سرکش - نافرمان

Syn. - Refractory, ungovernable.

Intrados, *n.* The interior or lower surface of an

arch : صحراب کے اندرونی یا نیچے کی جگہ

Intransient, *a.* Not passing suddenly away :

جو چاند نہ گذر جائے - نا رفتنی - پایدار

Intransitive, *n.* (*Gram.*) Expressing an action

limited to the agent : لامی - غیر متعدی

Intransmutable, *a.* That cannot be changed into

another substance : غیر متبدل - جو درستی شے میں

تبدل ہو سکے

Intrench, *v. t.* or *i.* To dig a trench ; to fortify

with a ditch and parapet : خندق کھودنا - نہائی

To encroach : دست درازی * کھودنا - مورچہ بندی کرنا

کرنا

Intrenchment, *n.* A ditch and parapet for pro-

tection : En-

croachment : * خندق - نہائی - مورچہ بندی - دھس

دست درازی

Intrepid, *a.* Brave ; undaunted :

دلیر - بواہر - فخر - پے ہک

Intrepidity, *n.* Courage ; heroism ; resoluteness :

ہمت - بہادری - دلیری - پے ہاکی

Syn. - Boldness, bravery, fearlessness.

Ant. - Cowardness, bravery, fearlessness.

Intricity, *n.* Complication ; involution ; per-

plexity : پیچ - لپیٹ - اور لچھاؤ - دقت - دشواری -

پزیشانی

Syn. - Complication, perplexity, complexity.

Intricate, *a.* Entangled ; complicated ; obscure :

اور لچھا ہوا - پیچ دار - دقیق

- Intrigue, n.** A plot ; a stratagem : - سازش - بندش -
انگیزہ - گانگہد * A love affair : - منصرفہ باری
انگیزہ * *v. t.* To plot secretly ; to carry on
پوشیدہ سازش کرنا - نا جائز صحبت
an illicit love : کرنا
- Intriguer, n.** One who intrigues : - سازشی -
نظارتی
- Intrinsic, a.** Inward ; true ; essential ; inherent :
اندرونی - حقیقی - اصلی - ضروری - ذاتی
- Intrinsically, ad.** Really ; truly : - حقیقتاً -
فی الحقیقت
- Intrinsicate, a.** Intricate : پیچیدہ
- Introduce, v. t.** To lead in ; to make acquainted ;
to bring into practice ; to produce ; to begin :
انداز کرنا - لاؤت کرنا - ملانا - جاری کرنا - رواج دینا -
پیدا کرنا - ظاہر کرنا - آغاز کرنا - شروع کرنا
- Introduction, n.** The act of introducing ; preli-
minary matter ; a preface : - ادخال - شناسائی -
ذکر - عنوان - ابتدا - تمہید - دیباچہ
- Introductory, a.** Previous ; introductory : - ابتدائی -
تمہیدی
- Introductory, a.** Serving to introduce ; prelimi-
nary . prefatory : - بطور عنوان - ابتدائی -
معارفی چٹھی * An -letter, بطور دیباچہ
- Introspection, n.** A view of the interior : - اندرون
بینی - بویتری نگار
- Introspective, a.** Seeing inwardly : - بویتر دیکھتے
شرکتے
- Intrude, v. t.** To encroach ; to infringe ; to thrust
in : - دست دراری کرنا - توڑنا - تجاوز کرنا - گھوسنا - گھوس
جانا
- Syn.** Obtrude, encroach, infringe.
- Intrude, v. t.** To thrust one's self in ; to enter un-
invited into company : - گھوس جانا - بے بلائے جاننا - مظل
ہونا
- Intruder, n.** One who thrusts himself in without
right : - دست انداز - مظل - ہارج - بغیر بلائے آنے والا
- Intrusion, n.** Encroachment : - دست
اندازی - دخل بیجا - بغیر جان پہچان گھوس جانا
- Intrusive, a.** Tending to intrude : - والا -
مظل
- Intrust, v. t.** To confide to the care of ; to con-
sign : - سپرد کرنا - تفویض کرنا - دینا - حوالہ کرنا
- Inuition, n.** Direct cognition ; immediate percep-
tion ; a distinct inspection of the mind : - الہام
ذات - باطنی دانش
- Intuitive, a.** Perceived by the mind without argu-
ment or testimony : - دل سے بے دلیل و غور کے
مواہم ہوجائے
- Intuitively, ad.** Without reasoning ; by immediate
perception : - بے دلیل و - - زود دریافت سے
- Intrumescence, n.** A swelling ; a tumour : - سوجن -
پھولن - گانگہد
- Intwine, v. t.** To wreathe ; to twist together :
گوندنا - مرزونا - بل دینا - بٹنا - لپیٹنا
- Intwist, v. t.** To interweave . ملا کر بٹنا
- Inundate, v. t.** To deluge ; to flood ; to overflow :
غرق کرنا - ڈبرنا - سیلاب کرنا - لپیڑ ہونا - بہ نکنا -
بھنا
- Inundation, n.** A flood ; an overflow of water
or other liquid : - طوفان - سیلاب - طغیانی - بازہ
- Inure, v. t.** To habituate ; to harden : - عادی کرنا -
v. i. To have effect ; to
کارگر ہونا - اثر کرنا - مستعمل ہونا -
کام میں لانا
- Inurement, n.** Use ; practice ; custom : - عمل -
استعمال - عادت - خو - دستور - رواج
- Inurn, v. t.** To bury ; to inter : - دفن کرنا - گارنا
- Invade, v. t.** To attack ; to violate ; to enter in
a hostile manner : - چڑھنی ہونا - لشکر کشی کرنا -
حملہ کرنا - یرش کرنا
- Invader, n.** An assailant ; an encroacher : - حملہ آور -
غزیم - دست درازی کرنے والا - چڑھنے والا - آنے والا
- Invalid, a.** Weak ; of no force ; void ; null ;
feeble ; in ill health : - ضعیف - خالی - بطل -
n. A person sickly or in-
disposed : - مریض - درکی
- Invalidate, v. t.** To weaken ; to overthrow ; to
make void : - کمزور کرنا - غالب آنا - بطل کرنا - نا
جائز کرنا
- Invalidity, n.** Weakness ; want of force : - ضعف
کمزوری - ناطقتی
- Invaluable, a.** Inestimable ; beyond value : - بے
بیش قیمت - انمول

Invariable, a. Immutable; unalterable; always the same: - بے تبدیل - بے تغیر - یکساں - غیر متدوں - فراری

Syn.—Constant, immutable, unalterable, uniform.

Ant.—Mutable, changeable, fickle, unstable.

Invariableness, n. Immutability; unchangeableness: - عدم تغیر - بے تبدل

Invariably, ad. Unchangeably; uniformly; constantly: - بلا تغیر - یکساں - الاقدام - برابر

Invasion, n. Inroad; encroachment; a warlike entrance: - حملہ - پرورش - دست درازی - چڑھائی - دھاڑا - لشکر کشی

Syn.—Irruption, attack, assault, incursion, foray.

Invective, n. A violent utterance of censure; sarcasm: - بد زبانی - دشنام - گالی - شکایت - طعن

Syn.—Abuse, censure, reproach.

Invective, a. Abusive; railing: - دشنام آمیز - طنزیہ - ہتھوریہ

Inveigh, v. t. To exclaim against; to express reproach: - لعنت کرنا - طعنہ تشنیع کرنا - مذمت کرنا

Inveigle, v. t. To entice; to seduce: - بھگانا - پھسلانا - لہانا

Inveiglement, n. Allurement; enticement; seduction: - لہاؤ - پھسلاہٹ - دم بازی

Inveigler, n. A seducer: - فریب دہ - دہماز - بھکانے والا - پھسلانے والا

Invent, v. t. To find out something; to manufacture; to feign: - اختراع کرنا - ایجاد کرنا - نکلانا - بنانا - گڑھنا - بھانا کرنا

Syn.—Contrive, devise, originate.

Invention, n. The act of finding out something new; a device; forgery; a fiction: - اختراع - ایجاد - ترکیب - ساخت - جعل - تقلید - بدوش - جکت

Inventive, a. Quick at contriving; ingenious: - تیز فہم - ہنرمند - رسا - مرجد

Inventor, n. One who finds out something new: - مرجد - واضع

Inventional, a. Belonging to an inventory: - ایجاد کرنے کے متعلق

Inventory, n. A catalogue of moveable property: - فہرست - فہرست تہلیقہ

Syn.—List, register, roll, schedule,

Inventory, v. t. To make a list; to insert in an account of goods: - فہرست میں چڑھانا

Inverse, a. Inverted; reciprocal: - معکوس - اولٹا - الٹی لک، ratio * - زہر زہر

Inversely, ad. In an inverted order: - برعکس

Inversion, n. A turning backward; a change of order or position: - اولت - پات - انقلاب

Invert, v. t. To put upside down; to place in a contrary position: - اوندھا کرنا - اورتھا - اورتھا رکھنا

Invest, v. t. To dress; to array; to confer; to bedeck; to surround; to place in possession of rank: - پوشاؤ پہنانا - خلعت پہنانا - ممتاز کرنا - سرنراز

To lay out money: - روپیہ لگانا * v. t. To make an investment: - روپیہ لگانا

Investigable, a. That may be investigated: - قابل دریافت - تفتیش پذیر

Investigate, v. t. To search out; to inquire and examine into with care and accuracy: - تلاش کرنا - دریافت کرنا - تحقیقات کرنا

Investigation, n. Research; study; inquiry; examination: - تہسس - تلاش - سعی - دریافت - تحقیقات

Investigator, n. One who searches diligently into subject: - متلاشی - مصفق - کورچی

Investiture, n. The act of investing or giving possession of any manor, office &c.: - دھانی - بخشش

Investment, n. A vestment; robe: - لباس - خلعت - Blockade * - محاصرو * The laying out of money in the purchase of some species of property, usually of a permanent nature; money invested: - سود پور - لگانا اور روپیہ لگانا

Inveteracy, } n. A deep-rooted firmness
Inveterateness, } from age; obstinacy: - استقامت - قیام - ہٹ

Inveterate, a. Obstinate; deep-rooted; long established; virulent: - ہٹی - ضدی - گہرا - دلی - سخت - قدیم - شدید

Invidious, n. Envious; likely to provoke envy; hateful: - حسد کے لائق - حسد انگیز - نفرت آمیز - ناگوار

Invidiously, ad. Enviously ; malignantly : حسد سے - بغض سے - کینہ سے

Invidiousness, n. Quality of provoking envy or hatred : بغض - حسد - کینہ - دشمنی

Invigorate, v. t. To strengthen ; to give life and energy to ; to animate : مضبوط کرنا - قوت دینا - جان ڈالنا - جلانا

Syn. - Strengthen, fortify, animate.

Invigoration, n. The act of invigorating : قوت دہی - تقویت - ترائی

Invincible, a. Unconquerable ; insuperable : غیر مغلوب - غیر مفتوح - زبردست - اجیت

Invincibly, ad. Unconquerably ; insuperably : غیر مغلوبی سے - زبردستی سے

Inviolable, a. Not to be polluted ; not to be broken ; not to be lost : ناقابل الودگی - غیر ممکن - الفسخ - بے زوال

Inviolatè, a. Uninjured ; unbroken ; unpolluted : بے نقص - ناشکستہ - مسام - ناالردہ - پاک و صاف

Syn. - Unhurt, unprofaned.

Invious, a. Impassable ; untrodden : بے گذر - جسپر - قدم نہ پڑا ہر - اگم

Invisible, a. Incapable of being seen ; imperceptible by the sight : نا پدید - پوشیدہ - غایب - نادیدنی

Invisibly, ad. Imperceptibly to the eye : غائبانہ - پوشیدہ پوشیدہ

Invitation, n. The act of inviting ; solicitation : دعوت - طالب - استدعا - منات - نوید

Invite, v. t. To request ; to bid ; to notice : استدعا کرنا - نوید دینا - بلوا بھیجنا - ورغلانا - لالچ دینا

Syn. - Solicit, bid, call, summon.

Ant. - Discard, forbid, expel, shun, exclude, ingore.

Invoke, v. t. To invoke ; to implore ; to address in prayer : بلانا - مانگنا - دعا مانگنا

Invocation, n. The act of addressing in prayer : طلبی A judicial call : * دعا - مناجات آراش

Invoice, n. A bill of goods with price annexed ; a consignment : بیبک - چالان

Invoke, v. t. To summon ; to address in prayer : بلانا - دعا کرنا

Involuntarily, ad. Spontaneously : بے قصہ - ارادے

Involuntary, a. Not having choice ; not proceeding from choice ; unwilling : بے ارادہ - بے خواہش - بے اختیار - بے مرضی - خود بخود

Involution, n. The action of infolding ; complication ; envelope : پیچ - لپیٹ - الجہ - ڈ - نلاف

Involve, v. t. To roll up ; to envelope ; to complicate ; to contain ; to embrass ; to catch ; to mingle confusedly : لپیٹنا - ڈالنا پنا - گھیرنا - پھونکانا - شامل کرنا - گھیرنا - پکڑنا - ملا جلا دینا - بہت مصروف رکھنا

Syn. - Imply, implicate, entangle, complicate.

Ant. - Express, explicate, disentangle, disconnect.

Invulnerable, a. Incapable of being wounded : جسپر زخم نہ سکے - روئیں تن - بھرتگی - غیر ممکن التردد

Inward, a. Interior ; internal : اندرونی - باطنی
a. Toward the inside ; within ; in the mind : اندر کی طرف - اندر - دماغ

Inwardly, ad. Internally ; privately : باطن - میں

Inwardness, n. The state of being inward or internal ; intimacy : اندرونی حالت - ہم دمی - اختلاط

Inweave, v. t. To weave together ; to intermix : بنانا - بٹکانا - لپیٹنا

Inwrap, v. t. To involve ; to infold ; to perplex : لپیٹنا - تھم کرنا - حیران کرنا

Inwrought, a. Adorned with figure ; worked in : جڑاڑ - موصع - کامدار

Ionic, a. Pertaining to Iona or the Ionians : یونان کے متعلق - یونانی - یونان کا ذرا - شمع

Iota, n. A title ; a jot : ذرا - شمع

Irascible, a. Easily inflamed with resentment ; irritable : زود رنج - غصہ ور - تنک مزاج

Irate, a. Wrathful ; angry ; enraged : غضبناک - غصہ ور - غصیل

Ire, n. Anger ; passion ; rage : غصہ - خشم - غضب

Syn. - Fury, indignation.

Ant. - Forbearance, gentleness, calmness, patience, self-control.

Ireful, a. Full of ire ; angry ; wrathful : غصہ ور - خفا - خشمناک

Iridescent, a. Having colours like the rainbow :
دھنس کے طرح رنگدار

Iris, n. The rainbow : قوس قزح * دھنس *
The coloured circle round the pupil of the eye : آنکھ
کئی پتلی - مردمک چشم

Irish, a. Pertaining to Ireland or its inhabitants :
* n. The language * متعلق آئرلینڈ یا اوسکے باشندے
or people of Ireland : آئرلینڈ کئی زبان یا اوسکے
باشندے

Irk, v. t. To weary ; to give pain to : دق :
کونا - تنگ کرنا - دھوکہ دینا - تکلیف دینا

Irksome, n. Wearisome ; tedious ; vexatious :
گراں - ناگزار - دھرار - بھاپی - تکلیف دہ - زدن

Irksomeness, n. Vexatiousness ; weariness :
آردگی : نکان

Iron, n. A well-known metal ; an instrument
made of iron : * ارہا آهن - آزار آہنی *
To strike th—while it is hot : وقت پر کام
* The—age, * کرنا - بہتے دریا میں ہاتھ دھو لینا
درسائل - * To have two—s in the fire, * کجک
* To have too many—s in the fire, اتنے کام ساتھ میں لے لینا
* The—entered into his soul, اس کے دل پر چھڑی پور گئی - اس کو سخت
استرار * Usual—power of will. * ملال گذرا
* n. pl. Fetters ; * ارادہ سے - اپنے ارادے کی استراری سے
handcuffs : * ا. Made of iron ; * تھپڑی - تھپڑی
harsh ; rude ; robust : آہنی - سخت - کوخت -
* v. t. To smooth with a hot * مضبوط - کڑا - فولادی
iron ; to chain ; to fetter : استری کرنا - لوہا ڈرنا -
پابجھراں کرنا - بیڑی ڈالنا

Ironclad, a. Covered with iron plates ; armour-
plated : * n. A man * ارہا چڑھا ہوا - زہا پوش - مسلح
of war covered with thick plates of iron : جگہ
جہاز جو لوہے سے مزین ہو

Iron-founder, n. One who makes iron castings :
لوہا دھانڈوالا

Iron-hearted, a. Hard-hearted ; unfeeling :
سنگدل - بے دوس

Ironical, a. Expressing one thing and meaning
the opposite ; lightly sarcastic : طنز - طعنہ
آہنی

Syn.—Derisive, bantering, mocking.

Ironically, ad. By way of irony : طنز سے

Iron-mould, n. A stain made by the rust of iron
on cloth : لوہے کا داغ رنگ یا مورچے کا داغ

Iron-monger, n. A dealer in hard-ware : لوہے
چیزوں بیچنے والا - ارہیا

Irony, n. A mode of speech in which the meaning
of the speaker is contrary to his words :
* a. Made of iron ; hard : آہنی - سخت
طنز

**Irradiance, } n. Emission of rays of light on
Irradiancy, }**
شعاع ریزی - تجلی - نور - چمک
an object ; splendour :

Irradiant, a. Emitting beams of light ; shining :
کریں بھینکے ہوئے شعاع ریز - درخشاں

Irradiate, v. t. To brighten ; to illuminate ; to
decorate with shining ornaments : روشن کرنا -
* ارچال کرنا - چمکانا - زور برق کرنا - زور سے آراستہ کرنا
شعاع ریزی کرنا -
* v. i. To emit rays ; to shine : چمکانا

Irrational, a. Void of understanding ; absurd ;
foolish ; unreasonable : بے عقل - غیر نطق - غر -
بہبودہ - نامعقول

Irreclaimable, a. Incapable of being reclaimed :
گیا گذرا - جسکی درستگی نہ ہو سکے

Irreconcilable, a. Implacable ; incongruous ;
sistent - بے میل - ناموافق - مختلف

Irreconcilement, n. Disagreement : ناموافق
اختلاف

Irrecoverable, a. Incapable of being recovered or
regained ; incurable : ناقابل - حصول - علاج - گیا
گذرا

Irrecoverably, ad. Beyond recovery : عدم
لا علاج

Irredeemable, a. That cannot be redeemed :
نا قابل نفعگی جو چڑھایا نہ جسکے

Irredeemably, ad. Beyond redemption : عدم
اخلاص سے

Irreducible, a. That cannot be brought back to
a former state, or changed to a different one :
جو حالت اصلی پر نہ اسکے یا نہ بدل سکے - گھٹنے کے
نا قابل

Irrefragable, a. Incontestable ; undeniable :
لاجراب - قطعی - ناقابل تردید

Syn. - Incontrovertible, unanswerable, indisputable.

Irrefutable, a. Incapable of being disproved :
ممتنع البطلان - جس پر حجت نہ وارد ہو سکے - لا کلام -
لا جواب - لا رد

Irregular, a. Not accordingly to common form ;
not straight ; not uniform ; immethodical ; vi-
cious : خلاف دستور - ٹیڑھ - ناراست - بے قاعدہ - نامنواہ :
n. A soldier not in regular service ; one not following
any fixed rule : چپلہ جوشکر میں بھرتی نہر -
جر شخص دستور یا قاعدہ کی پابندی نہ کرے

Irregularity, n. Deviation from rule ; vice ;
neglect of law : قاعدہ سے انحراف - بے ضابطگی -
اقتی - بھرتی

Irregularly, ad. Without rule or method : بے
قعدہ - خلاف دستور

Irregulate, v. t. To make irregular : بے
ترتیب کرنا

Irrelative, a. Not relative ; unconnected : بے
علاقہ - بے جزر - بے میل

Irrelevancy, n. The quality of being irrelevant :
بے علاقگی - بے لگائز - بے تعلق

Irrelevant, a. Not pertinent ; not to the purpose :
غیر متعلق - خارج

Irreligious, a. Ungodly ; impious ; wicked :
ناخدا - ترس - پلید - ناپاک

Syn. - Impious, ungodly.

Irremediable, n. That cannot be cured or correct-
ed : علاج - بے دراز - بے چارہ

Irremissible, a. That cannot be forgiven or re-
mitted : ناقابل معافی

Irremovable, a. That cannot be changed ;
immovable : ناقابل تغیر - غیر متقلد

Irreparable, a. Not capable of being recovered
or regained ; that can not be repaired or recti-
fied : ناقابل ترمیم - گیا گذرا - غیر مرمت پذیر

Irrepealable, a. Incapable of being repealed :
غیر قابل منسخری

Irreprehensible, a. Not to be blamed or cen-
sured : بے الزام - بے عیب - ناقابل ملامت - نردوش

Irrepressible, a. That cannot be subdued :
جو دب : یا رک نہ سکے

Irreproachable, a. Free from blame ; upright :
بے قصور - پاک وصف - ناقابل ملامت - بے الزام

Irreprovable, a. Blameless ; upright : بے عیب -
پاک و صاف

Irreptitious, a. Secretly introduced :
چر پوشیدہ داخل : دیا جاوے

Irresistance, a. Passive submission ; forbearance
to resist : فرما برداری - بے مزاحمتی - تحمل

Irresistible, a. That cannot be opposed :
اروک - اثر

Irresistibly, ad. So as not to be opposed :
بے روک سے (زر زور سے)

Irresolute, a. Not decided ; not firm in purpose ;
wavering unstable : متشکی - بے استقلال - دائرواں
قرل - متزلزل - غیر مستقل

Irresolutely, ad. Without firmness :
غیر مضبوطی - بلا استحکام سے

Irresolution, n. Want of decision in purpose :
بے استقلالی - تذبذب

Irresolvable, a. That cannot be resolved :
ذقابل تھیل

Irrespective, a. Not regarding conditions :
بلا لحاظ - قطع نظر

Irrespectively, ad. Without regard to :
قطع نظر

Irresponsible, a. Not liable to answer for con-
sequences : جوابدہی سے بڑی - بے مواخذہ

Irretentive, a. Incapable of retaining :
بھرائز - بولز : بھرائز

Irretrievable, a. Irremediable ; incurable ; irre-
coverable ; irreparable : لاعلاج - گیا گذرا -
ناصممکن الاصلاح

Irreverence, n. Want of veneration :
بے ادبی - بے امتیازی

Irreverent, a. Wanting in respect to superiors :
بے ادب - بے لحاظ

Irreverently, ad. Without due respect :
بے ادبی سے

Irreversible, a. Irrevocable ; irrepealable :
بے تغیر - ناقابل منسخر - جو بدلا نہ جاسکے

Irrevocable, a. Incapable of being recalled or
revoked : ذقابل تفسیح یا تردید

Irrigate, v. t. To water; to moisten: آب پاشي / کرنا - سينچيئا

Irrigation, n. The act of watering or moistening: آبياشي - سينچيئا

Irrigulous, a. Watery; moist: تر و تازه - شاداب - مرطوب - آبي

Irritability, n. Vexation; exasperation: زود رنجي - برانزخنگي - تيري - چچوچاپن - تنک مزاجي

Irritable, a. Easily inflamed: تنک مزاج - زود رنج

Irritant, n. That which causes pain: * تکليف ده
a. Rendering null and void: مبطل - ناسخ

Irritate, v. t. To inflame; to provoke; to tease: برانزخنگه کرنا - کرهئا - اشتهال ديئا - دق کرنا - چچوچرنا

Irritation, n. Provocation; anger: برانزخنگي - غصه

Irritative, a. Serving to excite action or irritation: غصه دلائي: والا - بوچوکانير، والا

Irruption, n. A bursting in; a sudden incursion: ثرت پوتنا - ناخست - يررش - حملاه - دور - چچوچرنا

Is, v. i. Third person singular; present tense of the verb *to be*: هه

Ischury, n. A stoppage of urine: حبس البول - پيشاب کا رکي چنا

Isinglass, n. Fish glue: سرس مهي - ائسن گلاس

Islam, n. The Mahomedan religion or the people who profess it: اسلام - اهل اسلام

Island, n. A tract of land surrounded by water: جزيرہ - ديپ

Islander, n. An inhabitant of an island: اهل جزيرہ

Isle, n. An island: جزيرہ - ٿاپو

Isochronal, a. Being of equal duration: مساوي الوقت

Isolate, v. t. To place in detached a situation; insulate: الگ رکونا - علحدہ کرنا

Isolated, a. Detached; placed by itself: الگ - علحدہ - جدا - اکیلا

Isonomy, n. Equal distribution of rights and privileges: قانون مساوي الحقوق

Isosceles, a. Having equal sides or legs: متساوي الساقين

Isothermal, a. Having equal temperature: معتدل

Israelite, n. A descendant of Jacob; a Jew: بني اسرائيل - يھود کي نسل کا - يھودي

Issue, n. Egress; delivery; event; consequence; offspring; discharge; the point in dispute in a suit at law: بر آمد - خروج - روانگي - نتيجہ - انجم - اولاد - نسل - نکاس - صدور - امر متنازعہ - امر To * بصت کا * At—, in controversy: * تنفيص طالب join or take—, * امر متنازعہ کي تنقيح * v. i. Two flow out; to rush out; to spring; to close; to end: نکلنا - جاري هورنا - بهه چلنا - طے هورنا - ختم - نکالنا - جاري کرنا - رواج ديئا - چلايا * v. t. To send out; to put into circulation; to deliver for use: شايع کرنا - چلانا

Issueless, a. Wanting children: لا ولد

Isthmus (isthmus), n. A narrow strip of land uniting two large portions together: منق الارض - خانکاهے - گردن زمين

It pron. The thing already spoken of: بهه - وه

Italian, a. Of Italy: * اٿيلي کا * n. A native of Italy; the language used in Italy: اٿيلي - مله اٿيلي کي زبان

Italics, n. pl. A sloping sort of type or letter: توجھے حرف

Itch, n. A cutaneous disease; a constant irritating desire: کھچلي - خارش - کھاج - چل - لت - چسکا: کھچلي اوٿوئا - * v. i. To feel a particular uneasiness in the skin; to long for: خورامش خورامش کرنا

Itchy, a. Infected with the itch: خارشتي

Item, n. An article; a scrap of news: رقم - مد - يادداشت لکبه ليئا * v. t. To make note or memorandum: خبر (خبرکي)

Iterate, v. t. To do a second time; to do over again; to repeat: مکرر کرنا - دهرانا - دبراره - باره کھنا

Iteration, n. The act of repeating: دهرائز - مکرر کھنا

Itinerancy, n. A travelling from place to place: خانہ بدوشي - سياحي - جيهه جيهه پورنا

Itinerant, a. Wandering ; not settled : خانہ
 * n. One who travels from place to place : خانہ بدوش - چاقا پھرتا - کشتی - دورا کرنے والا
 سیاح

Itinerary, n. A guide or route book for travellers : * a. Travelling ; done on a journey : سفر نامہ - ہدایت مسافروں - سفری

Itinerate, v. i. To wander without a settled habitation : اورا ہونا - پھیرنا - دورے دینے کے لئے جا : بیجا گشت کرنا

Itself, pron. A reciprocal pronoun generally applied to things : خود - فی نفسہ - اپنی

Ivory, n. The tusk of the elephant : تھوپے دانت

Ivory, a. Prepared from ivory : تھوپے دانت کا

Ivy, n. A well-known evergreen creeping plant : ایک قسم کی بیل

J

Jabber, v. i. To talk nonsensically ; to chatter : * n. Rapid talk : جلدی جلدی کی گفتگو - گل بل

Jack, n. A familiar substitute for the name of John : * A sailor : * An instrument to pull off boots : * A pitcher of waxed leather : * A flag of Britain called the Union Jack : * The male of certain animals, as the ass : * A contrivance for raising great weights : * in office, one who is vain of his petty office : *—of-all-trades, a person who can turn his hand to any kind of business : *—with a lantern, the will-o'-the-wisp : *—out of office, *—pudding.

Jabber, n. A political disorganizer ; a pigeon : مفسد - مخالف - برکار - ایک قسم کا پتھر

Jacobite, n. An adherent of James II, king of England : انگلستان کے بادشاہ جیمس دوم کا ساتھی

Jaculate, v. t. To emit : چھڑکنا

Jade, n. A mean horse ; a mean woman ; a wench : * v. t. To tire out ; to harass : *—تنگ کرنا

Jag, n. An indentation ; a notch : * v. t. To notch ; to cut like the teeth of a saw : *—دنداندار کرنا - دانتی نکالنا

Jaggy, a. Uneven ; notched : *—دنداندار

Jaguar, n. The American tiger : امریکہ کا چیتا

Jail, n. A prison : * bird, n. One who has been in a jail ; a prisoner : قیدی

Jailer, n. The keeper of a jail : *—داروغہ جیلخانہ

Jalap, n. A purgative medicine : ایک قسم کا جلاب - گل عباس کی چیز

Jam, n. A conserve of fruits boiled with sugar : * v. t. To press ; to squeeze tight : *—دباننا - کسنا - چکڑنا

Jangle, v. i. To sound harshly ; to altercation : *—جھنجھانا - بے سزا بولنا - جھگڑا کرنا - بکواد کرنا

Jangler, n. A quarrelsome fellow : *—جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا

Janitor, n. A door-keeper : *—چوکیدار

Janty, a. Showy : رنگیل - چھیل

January, n. The first month of the year : *—جانوری

Jackal, n. A wild animal allied to the wolf : *—سیار - شغال

Jackanape, Jackanapes, n. A monkey : *—بندر

Jackass, n. The male of the ass ; a blockhead : *—گدھا - بیوقوف - خر دماغ - احمق

Jackboots, n. pl. Heavy boots for rough service : *—بڑے چرتہ

Jackdaw, n. A species of crow : *—زاغ - کرا

Jacket, n. A short coat : *—سرتھی - جاکٹ - ہڈتی

Jack-knife, n. A large pocket-knife : *—چاقو

Jangle, v. i. To sound harshly ; to altercation : *—جھنجھانا - بے سزا بولنا - جھگڑا کرنا - بکواد کرنا

Jangler, n. A quarrelsome fellow : *—جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا - جھگڑا کرنا

Janitor, n. A door-keeper : *—چوکیدار

Janty, a. Showy : رنگیل - چھیل

January, n. The first month of the year : *—جانوری

Janu'orm, a. Two-faced : دو چہرے دار

Japan, n. A varnish or varnished work : زرغن یا زرغنی
 * v. t. To varnish ; to black and gloss : زرغن کرنا - کالا چمکیلا رنگنا

Japanese, a. Pertaining to Japan or its inhabitants : ملک جاپان یا وہاں کے باشندوں کے متعلق

Jar, v. t. To shake : ہلانا * v. i. To vibrate harshly ; to quarrel ; to dispute : جھنگرنا - کھڑنورنا - جھگڑنا
 * n. A discord ; a harsh sound ; collision : ٹاموافت - تکرار - جھنگار - جھبھنا ہٹ - سیو - نگری - * An earthenware vessel : ٹکر - دھکا مٹکا - مورتیاں

Jargon, n. Gabble ; slang ; unintelligible language : غپ شب - کپڑ سپڑ - گزارز بولی - برلی جو سمجھتے میں نہ آتے

Jasmine, n. A kind of plant with white fragrant flowers : چمیلی یا سمن - موگرا - بیلا

Jasper, n. An opaque variety of quartz : زہر جد - سنگ یشب

Jaunce, v. i. To ride hard : کوی سواری لینا

Jaundice, n. A disease in which the body and the eyes become yellow : یروان - کنول - پانصر روگ

Jaunt, v. t. To ramble here and there ; to stroll : سیر * n. An excursion ; a ramble : سیر - گشت - ہوا خوری

Javelin, n. A half-pike of spear : نیزہ - برچہدی

Jaw, n. The bone of the mouth in which the teeth are fixed : جھونکا * v. i. To scold :

Jay, n. A chattering bird with beautiful plumage : تیل کٹھہ

Jealous, a. Envious : حسد - بد گمان - رشکی - کسی سے شکي - متکبر * Suspicious ; anxious : جلتے والا

Jealousy, n. Suspicious caution ; solicitude : حسد - بدگمانی - خدشہ - بیقراری - خلش - جان - رشک - رقابت - بدزنی - سوتیا ہڈہ

Jeer, v. i. To sneer ; to mock ; to gibe : چنگی لینا - برلی بھینکا - مانتے مارنا - چڑھانا

Syn.—Sneer, scoff, mock.

Jeer, n. Scoff ; taunt ; mockery : طعن - تشنیع - تمہتر - آرازا کشی

Jeerer, n. A scoffer ; a mocker : طعن کرنے والا - طعنہ زنی - مسخرہ - قہقہور

Jeeringly, ad. Scornfully ; in mockery : حقارت سے - مسخرہ پن سے - تمسخر سے

Jehovah, n. The Hebrew name of the Deity : یا ہو - عبرانی زبان میں خدا کا نام

Jejune, a. Starving ; vacant ; spiritless ; void of interest : بھک مرا - خالی - بے مزہ - روکھا

Jelly, n. A viscous substance ; the inspissated juice of fruits boiled with sugar : لعاب - تمام - چاشنی - میاڑوں کے عرق کی چاشنی

Jennet, n. A small Spanish horse : اسپین کا تارو

Jenny, n. A spinning machine : بننے کی کل

Jeopard, v. t. To hazard ; to peril ; to expose : خطرے میں ڈالنا - جرگہم میں ڈالنا - غیر محفوظ رکھنا

Jeopardize, v. t. To expose to loss or injury : نقصان یا خطرے میں ڈالنا

Jeopardous, a. Perilous ; hazardous : خطرناک - خوفناک

Jeopardy, n. Hazard ; danger ; peril : خطرہ - خوف - اندیشہ - جان جوگہم

Jerk, v. t. To throw with a quick effort ; to give a sudden pull : ہچکولا دینا - ہچکولا دینا * n. A short, sudden thrust ; push : ہچکولا - جنبش - ناگہانی - دھکا - جھٹکا

Jerkin, n. A jacket ; a kind of waist coat : جاکٹ - ایک قسم کی واسکت - کورتی

Jersey, n. Combed wool ; a woollen shirt : سلجھایا ہوا زون - ارنی کرتا

Jess, n. A short strap of leather or silk : چوڑے کا یا : ریشمی تسمہ

Jessamine, n. Jasmine : چمیلی یا سمن - موگرا - بیلا

Jest, n. Joke ; fun ; sport ; burlesque : جوگہما * v. * مسخرایں - ہنسی - لطیفہ - مذاق - سوانگ - بھیس ہنسی کرنا - مسخرایں کرنا * t. To joke ; to rally : دگنی کرنا - مذاق کرنا

Jester, n. A buffoon ; a merryandrew : مسخرہ - بھانڈ - ٹھٹھورلیا

Jesuit, n. [From Jesus] A member of the religious order of the Roman Catholic : رومن کیتھولک * An intriguer : مکار - فطرتی

Jesus, n. The son of God, frequently conjoined with Christ : خدایہ عیسی

Jet, n. A very black fossil : سنگ مرسی * A spouting stream : سیلاب - فوارہ - فونٹی : black, کالا * سیلاب - فوارہ - فونٹی : To spout forth ; to shoot forward : نکل پڑنا - پھینا

Jetty, n. A kind of pier : ایک قسم کا مہرابدار * a. Made of jet ; black : سنگ مرسی کا - سیاہ

Jew, n. A Hebrew : یہودی

Jewel, n. A gem : جواہر * A name of fondness : Set—, زینر مرصع * v. t. To adorn with jewels : زینر سے آراستہ کرنا

Jeweller, n. One who makes or deals in jewels and other ornaments : جواہر ندرش - زینر فروش

Jewellery, n. Jewels in general : جواہرات

Jeweſs, n. A Hebrew woman : یہودن

Jewish, a. Pertaining to the Jews : یہودیوں کے متعلق

Jib, n. The foremost sail of a ship : جہاز کا سب سے اگلا * The cut of one's—, appearance : شکل

Jibe, v. t. To move restively sideways : ہرنا

Jiffy, n. A moment ; a very short tune : لمحہ - دقیقہ - پل

Jig, n. A light dance ; a dance tune : تھوک - ناچ * v. t. To dance : ناچنا - رقص کرنا

Jilt, n. A young woman who lightly trifles with her lover ; a coquette : نضرے باز عورت - بالے بتانے والی * v. t. To trick in love ; to coquet : نضرے بازی کرنا - دیدار بازی اور پردھیز کرنا - چھلنا

Jim, a. Neat ; handsome : صاف - ستھرا - خوشنما - پاکیزہ

Jingle, v. t. To clink : جھنکھنا - جھنکھنا * n. A rattling or clinking sound : جھنکھناہٹ - جھنکھناہٹ

Jingo, n. A word often used in vulgar oath : ایک لفظ جو اکثر قسم کھانے میں استعمال ہوتا ہے

Job, n. A piece of work : کام * An undertaking with a view to profit : آمد یا منفعت کا کام * To do the—for one, کار ڈالنا * v. t. To do by lots ; to buy and sell as a broker : متفرق کام کرنا - خوردہ فروشی کرنا

Job-printing, n. Miscellaneous printing : مختلف قسم کی چھپائی

Jobber, n. A person who undertakes to perform small pieces of work : A dealer in the public stocks of funds : ٹھیکیدار - دلال

Jockey, n. A man who rides horses in a race ; a dealer in horses : گھوڑوں کا سرار - گھوڑوں کا سوداگر * v. t. To cheat ; to trick ; to jostle by riding against : چابک سرار فریب دینا - چالاکئی کرنا - ہراسے سے سرار ہر کر دھکا دینا

Jocose, a. Given to jokes ; sportive ; witty : خوش طبع - ہنسنے والی باز - لطیف گو

Jocular, a. Given to jesting ; sportive ; not serious : خوش طبع - ظریف - دلگلی باز - مسخرہ

Jocularity, n. Merriment ; jesting : طرائف - طبعی

Jocund, a. Merry ; airy ; sportive : خوش - زندہ دل - کھیلاڑی

Syn.—Frolicsome, jolly, gay.

Jocundity, n. Gaiety ; mirth : مزاجی - خوشی

Jog, v. t. To shake ; to push : دھکا دینا * v. t. To move by small shocks ; to walk slowly : رک رک کر چلنا - جوہوم جھام کر چلنا

Joggle, v. t. To shake slightly : ہلانا * n. A joint made by means of jogs or notches : بیٹھایا ہوا جرز

Join, v. t. To connect ; to associate ; to adjoin ; to link : ملانا - جوڑنا - متفق ہونا - ملنا - وصل کرنا * To—hands, شامل کرنا - بیوند کرنا - چپکانا - کٹھننا * To make troops—in battle, ہانپ کرنا - ہانپہ میں ہاتھ دینا * v. i. To be in contact ; to unite : ملا رہنا - ملنا

Joiner, n. A carpenter : نجار

Joint, n. Junction ; a hinge ; a knot : مفاصل - جانزور کا عضو جسے تصاب عابدیہ : Space between two knots : جرز - قبضہ - کاتبہ * The limb of the animal prepared by the butcher : پور - عضو - تکرز * a. United ; combined ; shared among more than one : Out of joint, بے مطلق * Case of— * مشترک - ملاجہ - یکجہائی - شاملائی * v. t. To fit : جاہدہ اجمالی کا مقدمہ

together ; to articulate ; to divide ; to joint :
 ٹھیک کرنا - درست کرنا - موافق کرنا - صاف تلفظ کرنا -
 عصبہ کرنا - ملانا

Jointly, ad. Together ; not separately : -
 باہم شتراک - ملکر - شامل ہو کر

Joint-stock, n. Stock held in the company :
 سرمایہ مشترک

Jointure, n. Estate settled on a married woman for life, to be enjoyed after her husband's decease.
 v. t. To settle a jointure : * جائیداد استغری دہن - حق زوجیت -
 مہر - حق زوجگی مقرر کر دینا

Joist, n. One of the smaller timbers of a floor or ceiling on which the boards may be nailed : -
 کچی
 v. t. To furnish with joists :
 کچی لگانا

Joke, n. A jest ; what is not in earnest : -
 ہنسی
 مضرت آمیز ہنسی - Practical * مذاق - تہمتا
 * v. t. To rally ; to banter : ہنسی
 * v. i. To jest ; to do something for sport :
 مذاق کرنا - کویل کرنا

Jollity, n. Merriment ; festivity ; gaiety : -
 خوشی
 خرمی - عیش - جشن - شادی - آئند

Jolly, a. Jovial ; merry ; handsome ; plump : و
 * A-fellow, * خرم - شادمان - زندہ دل - مروتا تازہ
 boat, n. * دلگلی باز - یار باش - خرش طبع - زندہ دل
 اچھا سا کشتی
 a small boat belonging to a ship : کشتی

Jolt, v. i. or t. To shake by sudden jerks : -
 ہچکولنا
 * n. A shock by a sudden jerk : ہچکولا

Jolt-head, n. A dunce ; a block-head : -
 بیوقوف - گاردی - احمق

Jonquil, n. A kind of flower : -
 ایک قسم کا پھول : -
 گل نورمس - گاشیر

Jostle, v. t. To run against and shake ; to push against rudely :
 دھکا دینا - دھکپنا

Jot, n. An iota ; a point ; the least quantity : ذرہ
 v. t. To set down ; to make a note of :
 لکھہ رکھنا - یادداشت لکھنا

Jotting, n. A memorandum : یادداشت

Journal, n. A diary ; a register of daily transactions ; a paper published daily : روز
 بہی کہتا - روز
 ٹیپو - اخبار روزانہ

Journalise, v. t. To enter in journal : روزنامہ
 یا اخبار میں درج کرنا

Journalist, n. The writer of a journal or diary ;
 a newspaper editor : روزنامہ نویس - اخبار نویس

Journey, n. Travel from one place to another ;
 passage ; voyage : سیاحت - راہ پیمائی -
 v. t. To travel from place to place : سفر
 سفر کرنا - سیاحت کرنا

Journeyman, n. A man hired to work by the
 day : مزدور پر روزانہ کام کرنے والا کاریگر - روزانہ دار :
 دستکار

Journeywork, n. Work done for hire : اجرت کا کام -
 تھیکہ

Joust, n. Tournament ; mockfight : ٹھیکہ کی لڑائی
 v. i. To engage in a mockfight on horseback :
 سوار ہو کر چھوٹی لڑائی کرنا

Jovial, a. Gay ; merry ; jolly : خوش - ہشاش - خرم -
 سرور

Jovialist, n. One who lives jovially : خوش
 طبع

Joviality, Jovialty, n. Merriment ; festivity :
 خوشی - سرور - خرمی

Jowl, n. The cheek : گال - رخسارہ

Jowler, n. A hunting dog : شکاری کتا

Joy, n. Pleasure ; delight ; mirth ; festivity ; ex-
 ultation : عیش - خوشی - فرحت - عشرت - شادمانی -
 * کسی کو دعا ایشیس دینا - * To wish one
 دہن بن منگل کہاں -
 * موت کی جوت ہے

Syn.— Gladness, pleasure, delight.

Joy, v. t. To congratulate ; to gladden : مبارک باد
 خوش : خوش : * v. i. To rejoice ; to exult :
 ہونا - شادمانی کرنا

Joyful, a. Full of joy ; very glad : خرم - شادمان
 خوشی

Joyfulness, n. Great gladness ; exultation :
 انہسام - شادمانی

Joyless, a. Destitute of joy ; unenjoyable : ناخوش -
 بے مسرت - ناشاد - اوداس

Joylessness, n. State of being joyless : بے خوشی -
 اوداسی

Joyous, a. Glad ; gay ; joyful : خوش - شاد -
 سرور

Joyously, ad. With gladness : خوشی سے - آگند

Joyousness, n. The state of being joyous : - خوشی
بشاشی - مسرت

Jubilant, a. Uttering songs of triumph ; rejoicing :
قتح و نصرت کے گیت گانے والا - شادمان - شادمانی کرنے والا

Jubilate, v. i. To rejoice : مگن ہونا - مگن ہونا

Jubilee, n. A season of great public festivity and joy :
* Exultation : خوشی * جشن کا زمانہ :
ہر پچاسواں سال ہر پچاسویں میں

Judaism, n. The religion of the Jews : کا یہودیوں کا مذہب

Judge, n. The presiding officer in a court of law who awards punishment to offenders ; one who has skill to decide on the merits of a question ; the Supreme Being ; an expert :
جج - حاکم - منصف - قاضی - مقفی - عادل - نیائی - مبصر - خدا -
A Judge * مرلی - واقف کار - اہلکار - ماہر -
is to mind four things ; to hear courteously ; to answer wisely : to consider soberly, and to give judgment without partiality :
منصف کو چار باتوں کا خیال رکھنا چاہئے - اخلاق سے سنا - عقلمندی سے جواب دینا - سمجھنے سے - سچا اور بطور ادائیگی حکم دینا
Syn.--Umpire, arbiter, arbitrator, referee.

Judge, v. i. To pass sentence ; to determine ; to sit in judgment : - حکم دینا - تجویز کرنا - فیصلہ کرنا
* v. t. To try ; to think ; to reckon :
تعمیق کرنا - جانچنا - غور کرنا - تجویز کرنا - شمار کرنا - حساب کرنا

Judgeship, n. The office of a judge : ججی کا عہدہ - عہدہ منصفی

Judgment, n. The act of judging ; opinion ; taste ; decision of a court ; a providential punishment ; a sentence ; doom :
امتیاز - رائے - دقیقہ سمجھی - نکتہ دانی - فیصلہ عدالت - سزائے
The * داروں - حکم سزا - تدری - عقوبت تھا - تقدیر
* نیامت - معشر -
the debtor, * مدیون کوئی
تجویز ثنائی - Review of * مدیون کوئی

Judgment-seat, n. A court ; a tribunal : عدالت - محکمہ عدالت

Judicative, a. Having power to judge : فی اختیار عدالت

Judicatory, a. Dispensing justice : عدل گستر
A tribunal ; distribution of justice : - محکمہ عدالت - عدل گستری

Judicature, n. The power of distributing justice ; a court of justice : اختیار عدل گستری - فی اختیار عدالت - محکمہ عدالت - پھری

Judicial, a. Appropriate to courts of justice ; employed in the administration of justice : متعلق بہ
اظہار declaration * عدالت - عدالتی - عدالت کا
* روایتی عدالت proceedings * روزر عدالت
To take notice * حکم نامہ writ --
حاکمانہ کرنا - رعایت بطور حاکمانہ کرنا

Judicially, ad. In the forms of legal justice ; by way of penalty : عدلانہ - قانوناً - بطور سزا

Judiciary, n. The judges taken collectively : - حاکم - جج - منصف

Judicious, a. Prudent ; skilful ; discreet : دانشمند - دور اندیش - باشعور - پر تمیز - داننا - صاحب تمیز

Judiciously, ad. Wisely ; skilfully : - عقلمندی سے - دانائی سے

Judiciousness, n. Discretion : عقلمندی

Jug, n. An earthen vessel employed to hold liquors ; a pitcher : - گوزا - گوزہ - جگور -
لوبالنا : To boil or stew, as in a jug * کرنا

Juggle, n. i. To play tricks by sleight of hand ; to conjure ; to practise imposture :
ماہرہ کی چالاکی * یا صفائی کی بازیگری کرنا - نھر بندی کرنا - دھوکا دینا
n. A trick ; an imposture : بازیگری - دھوکا -
ق تیت بندی - نھر بندی

Juggler, n. One who deceives by sleight of hand ; a cheat ; a deceiver : بازیگر - دغا باز - فریبی

Jugglery, n. Trickery ; imposture : - بازیگری - فریب - چال

Juggling, n. Deception ; trickery : فریب - بازیگری

Jugular, a. Pertaining to the throat : گردن کا -
vein, One of the large trunks (two on each side) by which the greater part of the blood from the head, &c., returns to the heart :
ہرے

Juice, n. The sap ; the fluid part of animal substances : برقی رس

- Juiceless, a.** Destitute of juice ; dry : بے رس - بے عرق - خشک
- Juicy, a.** Abounding with juice ; succulent : رسدار - عرق دار
- Jujube, (Jú-júb) n.** A pulp fruit sometimes used as spectoral remedy : عناب
- Juke, v. i.** To perch upon anything, as birds : بیٹھنا - اُترنا
- Julep, n.** A sweet drink ; a liquid medicine : شربت مرق - پتلے دوا
- July, n.** The seventh month of the year : انگریزی سال کا ساتواں مہینہ جولائی
- Jumble, v. t.** To mix in a confused mass : متضارب خلطاً ملنا * **n.** Confused mixture : گڈبڈ کرنا میٹھی گکیا - نان * A small sweet cake : کھچڑی خٹائی
- Syn.**—Disorder, confusion, disarrangement, chaos.
- Jump, v. i.** To skip ; to spring : کودنا - اڑچھلنا * **v. t.** To pass by a leap ; to pass over eagerly : پار کود جانا - اڑچھلکر پار کرنا - چھوڑ جانا - پار کوڑا * **n.** A leap ; spring ; a rise : پھلانگ - جست - کود - چڑکڑی
- Juncate, n.** A cheesecake ; an entertainment : پیزا - برنی - ضیانت
- Junction, n.** Union ; combination ; joint ; the place of union : ملنے کی جگہ - ملاپ - اتقان - جوڑ - ملنے کی جگہ
- Juncture, n.** The line or point at which two bodies are joined ; a seam ; a point of time ; a crisis : مقام اتصال - نقطہ یا جگہ جہاں دو چیزوں کا جوڑ ہو - عین وقت - مرقع - اتقان - سنسبج
- June, n.** The sixth month of the year : انگریزی سال کا چھٹا مہینہ
- Jungle, n.** Land mostly covered with forest trees : جنگل کا جنگل
- Junior, a.** Younger : کوچک - صغیر * **n.** A younger person : عمر میں چھوٹا - کمتر - کم مرتبہ شخص
- Junk, n.** A Chinese vessel : * ملک چین کی کشتی : Old ropes : پرانی رسیاں
- Junket, n.** A sweetmeat : * ایک قسم کی مٹھائی : stolen entertainment : دعوت * **v. i.** To feast privately ; to feast : ضیانت کرنا - ضیانت کرنا
- Junto, n.** A cabal ; a foction : - مجمع سازشی - مجمع فرول
- Jupiter, n.** The supreme deity among the Greeks and Romans ; the largest planet of the solar system : یونانی اور آئی رالوں کا قدیم دیوتا - مشتری پوسیت
- Jurat, n.** A person sworn : معسٹریٹ - حاکم فوجداری جو حلف پر مقرر کیا گیا ہے
- Juridical, a.** Pertaining to a judge : متعلق عدالت گسٹری - عدالتی - قازرتی
- Juridically, ad.** With legal authority : حسب قانون یا آئین
- Jurisconsult, n.** One learned in the law ; a jurist : قانون دان - وکیل - مفتی
- Jurisdiction, n.** Legal power or authority ; extent of authority ; the district to which any authority extends : اختیار یا حد سماعت - عملداری - علاقہ
- Jurisdictional, a.** Pertaining to jurisdiction : علاقہ یا اختیار کے متعلق
- Jurisdicive, a.** Having jurisdiction : اختیار رکھنے والا - مجاز
- Jurisprudence, n.** The science of law : علم اصول قوانین
- Jurisprudent, a.** Understanding law : قانون دان
- Jurist, n.** One who is skilled in civil law ; a civilian : قانون دان - تقیہ
- Juror, n.** One who serves on a jury ; a juryman : پنچ - ڈٹ
- Jury, n.** A certain number of men selected and sworn to declare the truth on the evidence placed before them : جوڑی - اہل جوڑی
- Juryman, n.** One who serves as a juror : جوڑی - ٹالک - پنچ
- Just, a.** Equitable ; upright ; true : منصف - راست * **Nor-**mal ; regular : مناسب - باقاعدہ - ٹھیک * **Tasteful** : خوش صلیح - ایماندار * **Accurate** : درست - ٹھیک * **Righteous** : درست - ٹھیک
- Syn.**—Exact, accurate, equitable, fair, deserved.
- Just, ad.** Precisely ; closely ; nearly : ٹھیک طور پر - **as,** * ذرا میری بات سنو - **hear me** * تقریباً ٹھیک اتنا ہی - **enough, but,** * جیسانہ زیادہ نہیں

Justice, n. Equity ; rectitude ; impartiality ;
desert : * عدل - راستی - بے طرفداری - واجبیبت -
A judge : حاکم عدالت * For the
purpose of—, به نظر داد دہی - انصاف کے واسطے
Syn.—Fairness, integrity, uprightness.
Ant.—Iniquity, partiality, unfairness.

Justiceship, n. The office or dignity of a justice :
حاکم عدالت کا عہدہ -

Justiciary, n. An administrator of justice : عدل
گستر - چیف جسٹس

Justifiable, a. Defensible ; warrantable ; excus-
able : عذر پذیر - راجب - جائز - روا

Justifiably, ad. So as to be justified ; rightly :
جوازاً - راجبی طور سے

Justification, n. Vindication ; defence ; remission
of sin : اثبات جواز - صفائی - نجات

Justifier, n. One who justifies ; one who frees
from sin by pardon : روا رکھنے والا - گناہ معاف کرنے
والا - حمایتی - جانبدار - حامی

Justify, v. t. To vindicate ; to clear to ; to absolve ;
to maintain ; to pardon : بے گناہ ٹھہرانا - صحیح ثابت
کرنا - معاف کرنا

Justle, v. i. To encounter ; to clash : ٹکر -
ٹکرائیٹا - ٹھیلنا * v. t. To push ; to drive :
ٹکر - دھکا
n. An encounter or shock :

Justly, ad. Honestly ; fairly ; accurately :
سے - راجبی - راست راست - صحیح صحیح

Justness, n. Justice ; reasonableness ; equity ;
exactness : انصاف - معقولیت - راستی - صحت -
واجبیبت

Jut, v. i. To shoot forward : اوبھرنا
Syn.—Project, protrude, stand out.

Jute, n. A substance resembling hemp, from
which a coarse kind of cloth is woven : جوت

Juvenescent, a. Becoming young : جوانی پر آتا ہوا

Juvenial, a. Youthful ; childish : خرد سال - کم سن -
نوجون بچہ

Juvenility, n. Youthfulness : نوجونی - نوجونی
جوانی - طاقیت

Juxtaposition, n. A being placed near ; conti-
guity : قربت - نزدیکی
Syn.—Proximity, contiguity, contact.

K

Kadi, n. A Turkish judge : قاضی

Kafir, n. An unbeliever : کافر * An inhabitant of
South Africa : باشندہ افریقہ جنوبی

Kale, Kail, n. A cabbage : * ایک قسم کی گوبھی
—yard, a kitchen of garden : باغ ترکاری کا

Kaleidoscope, n. An optical instrument which
exhibits a variety of beautiful colours by reflec-
tion : ایک ٹھارنے کی قسم کا آلہ جس میں شیشوں کے ذریعہ
سے مختلف رنگ نظر آتے ہیں

Kam, a. Crooked : ٹیڑھا - خمدار

Kangaroo, n. A herbivorous pouched quadruped
peculiar to Australia : کنگارو - اسٹریلیا کا ایک چرند
جسکے پیٹ پر ایک تھیلہ ہوتا ہے

Kaw, v. i. To cry as a crow : کانو کانو کرنا

Kawn, n. A Turkish inn : ترکی سرائے

Kayle, n. A nine pin : ایک قسم کا کھیل

Keck, n. To retch : اوبکائی لینا - تے کرنا

Keel, n. The principal timber in a ship : جہاز کے
* v. t. To navigate ; to
کہینا - ناز چلانا - اوندھا کر دینا -
موت دینا

Keelage, n. Port dues : بندر گاہ کا محصول

Keen, a. Sharp : Penetrating : تیز * تیز -
* تند - تیز * Bitter : شایق * سرگرم * Eager * دقیق
Acute of mind : تیز - زرد نہم - چتر

Keenly, ad. Sharply ; eagerly ; severely ; bitterly :
تیزی سے - شوق سے - سختی سے - تلخی سے

Keeness, n. Vehemence ; sharpness ; acuteness :
سختی - تیزی - تندہی - آبداری - ہمت - شدت - بڑا شوق

Keep, v. t. To retain : رکھنا - روکنا - ٹھہرانا
محفوظ رکھنا - To observe ; to
* رکھنا - رکھنا -

hold ; to protect ; to conceal : - بچا لانا - پابندی کرنا
 بچا لانا : - To fulfil * بار رکھنا - بچانا - مضفی رکھنا
 To—abreast of, to progress * ماٹنا - تعمیل کرنا
 To—aloof, to remain at a distance : * برابر ترقی کرنا
 To—at arm's length, to prevent another from becoming too familiar : زیادہ ہین میل ہونے سے باز رکھنا - مانہ نہ لگنے : دینا
 To—back, to check : * روکنا
 To—down, to repress : * زیر رکھنا
 To—from, to avoid : * باز رکھنا
 To—in, to conceal : * قید رکھنا
 To hold in confinement : * سنبھالنا
 To—off, to remain at a distance : جاری
 To—on, to continue : * آگ رکھنا
 To—to, to confine oneself to : - بند رکھنا
 To adhere strictly to : * قائم رکھنا - یا بند : * نہ چھوڑنا
 To—up, to maintain without abatement : * رکھنا
 To keep awake : * محفوظ رکھنا
 To—body, and soul together, to maintain oneself with great difficulty : * دقت سے گذران کرنا
 To—above water, to avoid running into debt : نرض
 To—the wolf from the door, to keep away starvation : * سے بچا رکھنا
 To—up appearances, to maintain an external show : * ظاہر دوست رکھنا
 To—one's self, to—one's own council, to—one's room or bed, To—out of, To—the field, To—touch, To—up, جاری رکھنا

Keep, v. i. To abide ; to last ; to dwell : - رکھنا-چلنا
 The strongest and securest part of a castle : * حالت : * برد بٹش کرنا
 مستحکم اور محفوظ جگہ
 Keeper, n. One who keeps : * معائنہ - نگہبان - ناظر : * داروغہ جیل خانہ

Keeping, n. Custody ; support ; conformity : * حراست - معائنات - قیضہ مطابقت
 In—with, موافق

Keepsake, n. A token of friendship : * یادگار

Keg, n. A small cask : * چھوٹا پیپہ

Kell, n. A child's caul : * جہاں جسمیں بچہ لپٹا
 ہوا پیدا ہوتا ہے

Ken, v. i. To know ; to understand ; to recognize : * جاننا - سمجھنا - پہچاننا
 view : * نظر - نگاہ - جانچ

Kennel, n. A house or cot for dogs ; a pack of hounds : * تھونکے رہنے کا گھر - شکاری تے
 To confine in a kennel : * سگ خانہ میں رکھنا
 To lodge ; to dwell : * بردباش رکھنا

Kerchief, n. The head dress of a woman ; any cloth used in dress : * سر بند - رومال

Kern, n. An Irish foot soldier ; a hand-mill : * ایک
 آئر لینڈ کا سپاہی - چکی

Kernel, n. A little grain or corn : * بیج - نغمہ
 The substance contained within the shell of a nut ; a nucleus gist : * مغز - گوی - اصل - تہ - مطلب
 To harden or ripen into kernels : * پک کر سخت ہونا

Kerosene, n. Oil extracted from bituminous coal, used for illumination and other purposes : * کیروسین - مٹی کا تیل

Kersey, n. A species of coarse woolen cloth : * ایک
 قسم کا موٹا ادنیٰ کپڑا

Kerseymer, n. Cashmere : * کشمیرا

Ketch, n. A strongly built two-masted vessel : * ایک
 مضبوط دو مستول کا جہاز

Ketchup, n. A sauce for flavouring soups ; meats, &c. : * چٹنی

Kettle, n. An iron vessel for heating and boiling water or other liquor : * دیکھی - دیک

Kettle-drum, n. A drum made of metal : * تارہ - ڈھول

Key, n. A fastener ; a well-known instrument for shutting and opening locks ; an instrument which is used by being inserted and turned : * کلید - کچی - تالی - کھونٹی
 A. solution ; an explanation : * شرح - تیکہ
 The small lever in a musical instrument ; key note : * باجے میں سر کا پردہ

Keyhole, n. A hole in a door or lock ; for receiving a key : * کچی جانے کا سوراخ

Keystone, n. The highest central stone of an arch : * معراب کے بیچوں بیچ کا پتھر

Khan, n. A prince ; a king ; a chief : * خان - سردار
 بادشاہ - امیر

Khedive, n. A Turkish title of the governor of Egypt :
خدیو مصر کے بادشاہ کا خطاب

Kibe, n. A chilblain :
گوشٹ میں درار - بوائی

Kick, v. t. To hit violently with the foot :
لالت
To—up the beam, to be found wanting in weight :
وزن میں کم ہونا - پلڑے کی ڈنقی
To—the bucket, to die :
شور و غل
To—up a row, to create a disturbance :
لالت
To—over the traces, n. A blow with the foot :
درتلی

Kickshaw, n. Something ridiculous or fantastical ; a fancy dish :
انڑکھی عجیب شے - نیا اور عجیب کھانا

Kicksy-wicksy, a. Flickering :
بے چین - بے قرار
n. A wife :
عورت

Kid, n. A young goat ; a small tub ; a fagot :
بکری
v. t. or i. To bring forth a young goat :
بچہ بیانا

Kiddle, n. A stake fence set in a stream for catching fish :
مچھلی پکڑنے کی ٹپ کی باڑ

Kidnap, v. t. To steal human being :
آدمی کر چرا
لیجانا

Kidney, n. That part of the viscera which secretes the urine :
عادت :
Habit ; sort ; kind :
اس قسم
People of this—, *
کے لڑکے

Kill, v. t. To put to death ; to slay ; to quell ; to calm :
*
مار ڈالنا - قتل کرنا - دھیمہ کرنا - فرور کرنا
To—two birds with one stone, to gain two objects by one exertion :
*
ایک پتھیہ دو کاج
ing the time, wasting one's time :
*
وقت ضایع کرنا
To—up,
بیخ کنی کرنا

Syn.—Slay, murder, execute, despatch, assassinate.

Kiln, (kil) n. A large stove ; a fabric for burning and drying anything :
بوٹھا - آوا - پڑایہ

Kilogram, Kilogramme, n. A French measure of weight equal to 22 lbs. :
ایک فرانسیسی
پیمانہ جو وزن میں سیر ۲۲ کے قریب ہوتا ہے

Kilometre, n. A French measure :
۱۰۰۰ میٹرس یا
قریب ایک میل کا
۸

Kilt, n. A Highlander's short petticoat :
ہائی لندر
سپاہیوں کا گھانگرا

Kimbo, a. Crooked ; bent :
نیڑھا - خمدار

Kin, n. Relatives ; kindred :
رشتہ دار - قرابت دار - ناتے
ایکسا - :
a. Of the same nature ; congenial :
ہم جنس

Kind, n. Race ; genus :
*
قسم - جنس - نوع - ذات
Nature :
*
Style, manner :
وضع - طور - طریقہ
In—, with produce :
as, To pay in kind,
In a—, to some extent :
کسی حد
*
a. Obliging ; benevolent ; good ; lenient :
مہربان - رحم دل - نیک - ملائم

Syn.—Benevolent, gracious, mild, indulgent.

Kind-hearted, a. Having much kindness of nature :
رحم دل

Kind-heartedness, n. Benevolence :
رحم دلی -
دردماندی

Kindle, v. t. To set on fire ; to light ; to inflame ; to fire :
آگ لگانا - روشن کرنا - جلانا - ساگانا - مشتعل
*
v. t. To take fire ; to be roused ; to be exasperated :
جلنا - مشتعل ہونا - غصہ ہونا - خفا ہونا

Kindliness, n. Benignity ; benevolence ; softness :
مہربانی - شفقت - نیکی - نرم دلی

Kindly, a. Benevolent ; sympathetic ; mild ; gently :
*
ad. مہربان - نرم دل - نیک - ملائم - شریف
With good will ; benevolently :
مہربانی سے -
شفقت سے

Kindness, n. Good-will ; benevolence ; grace ; favour ; a kind act :
مہربانی - رحم - فضل - نرازش
عنایت - لطف و کرم - مروت

Kindred, n. Relation by birth or marriage ; relatives :
رشتہ دار - قرابت

Kindred, a. Related ; congenial :
قرابتی - ہم جنس

Kine, n. Pl. of cow ; cows :
جمع مادہ گاؤ - گائیں

King, n. A chief ruler ; a sovereign :
بادشاہ -
*
A card having the picture of a king :
*
The chief piece in the game of chess :
شطرنج کا شاہ

Kingcraft, n. The act of governing ; royal policy :
بادشاہی نظارت - راج نیٹھی

Kingdom, n. Rule ; monarchy ; realm ; the dominion of a monarch ; a principal division ; a class :
حکومت - پادشاہت - قلمرو - سلطنت - مملکت -
طبقہ

- Kingfisher, n.** A species of bird : ایک قسم کی : چڑیا - رام چڑیا
- Kingly, a.** Regal ; royal ; becoming a king ; noble ; splendid : - معزز - شاہانہ - خسروانہ - معزز - شاہی - شاہانہ * *ad.* With an air of royalty : شاہانہ
- King's evil, n.** Scrofula : کٹھہہ مالا - گنت مالا
- King's English, n.** The standard English : عمدہ صحیح انگریزی
- King of terrors, n.** Death : موت
- Kink, n.** Spontaneous twist of a rope or thread when doubled : رسی یا ڈور کا آپ سے آپ بل کھانا
- Kink, v. i.** To twist spontaneously : آپ سے آپ بل کھانا
- Kinsfolk, n.** Relation ; persons of the same family : رشتہ دار - قرابتی - ایک خاندان کے لوگ - بھائی بند
- Kinship, n.** Relationship : قرابت - رشتہ داری
- Kinsman, n.** One related by blood : رشتہ دار - نائے دار
- Kinswoman, n.** A female relative : رشتہ دار عورت
- Kip, n.** The skin of a young beast : جوان جانور کی کھال
- Kirk, n.** A place of worship ; a church : عبادت گاہ - گرجا
- Kirtle, n.** An upper garment ; a gown ; a short jacket ; a mantle : جامہ - گھاگرا - جاکت - لبادا
- Kiss, v. t.** To salute with the lips ; to smack ; to caress ; to touch gently : چومنا - بوسہ لینا - مس کرنا * *n.* A salute with the lips ; a smack : بوسہ - چرما
- Kit, n.** A wooden tub : لکڑی کا ٹب * A sailor's or soldier's outfit : جہاز یا سپاہی کا سامان
- Kitchen, n.** A cook-room : باورچی خانہ - مطبخ
- Kitchen-garden, n.** A garden where vegetables used as food are raised : سبزی کا باغ
- Kitchen-maid, n.** A woman whose duty is to attend to the work of kitchen : ڈورچن
- Kitchen-wench, n.** A scullion : برتن ماٹھنے والی
- Kite, n.** A bird of prey : چیل * A child's paper toy for flying in the air : پتنگ - کتکوا - گدی
- Kith, n.** Acquaintance : ملاقاتی * — and kin, friends and relatives : دوست و آشنا
- Kitten, n.** The young of the cat : بلی کا بچہ * *v.* To bring forth young cats : بلی کا بچہ دینا
- Knab, v. t.** To bite with noise : دانٹ سے کاٹنا * To apprehend : چھانا - پکڑنا
- Knack, n.** A toy ; a nice trick : کھلونا - حکمت * Dexterity ; peculiar aptness ; skill ; a plaything : ہنرمندی - سلیقہ - چالاکی - ڈھب - حکمت - چھٹخفا - پھٹنا * *v. i.* To crack : مکار - دغا باز
- Knag, n.** A knot in wood : لکڑی کی گاتھہ * A peg : پہاڑی کا : کھوتی * The rugged ridge of a hill : ٹاھوڑا ٹیہ
- Knaggy, a.** Knotty ; rough : گتھیل - ڈھوڑار
- Knap, n.** A protuberance : پھولن * A summit : چپٹ * A slap : چپٹ
- Knap, v. t.** To bite off : کاٹنا * *n.* To break short : ٹوٹ جانا * **Knapsack, n.** A soldier's bag : سپاہی کا جھولا - بچھہ
- Knave, n.** A dishonest person ; a rascal ; a villain : تاش کا غلام * A jack : دغا باز - بد معاش - لچا
- Syn.—Villain, rascal, scoundrel, rogue, cheat, sharper, scamp.
- Knavery, n.** Dishonesty ; fraud ; trickery : دغا بازی - فریب - عیاری - جاہلی
- Knavish, a.** Fraudulent ; villainous : حراف - دغا باز - شریہ - بد ذات
- Knavishly, ad.** Dishonestly ; fraudulently : بے ایمانی سے - دغا بازی سے
- Knead, v. t.** To work and press ingredients with the hand into a mass : بھرتا : بوتلا - ساننا - مانترا - بھرتا : گوندھنا - ساننا - مانترا - بھرتا : بڈنا - سرڈنا
- Knee, n.** The joint formed at the junction of the leg and thigh : گھٹنا - زانو
- Knee-deep, a.** Sunk to the knees : گھٹنے تک گھرا
- Knee-pan, n.** The round bone of the knee : سر زانو - کاسہ زانو - گھٹنے کی چپٹی
- Kneel, v. i.** To bend the knee : گھٹنا جھکانا - دو زانو ہونا

Knell, n. The sound of a bell rung at a funeral :
 * ماتمی گھنٹے کی آواز
 death : بھانا - موت کے وقت بھانا

Knick-knack, n. A toy ; a bauble : ناچیز

Knife, n. A well-known cutting instrument : چاقو - چھری

Knight, n. A follower ; a champion ; a title of rank : * بیڑ و بہاوان - غازی مرد - بہادری کا خطاب
 A piece in chess : شطرنج کا گھوڑا

Knight, v. t. To dub a knight : نایت بنانا - بہادری کا خطاب دینا

Knight-errant, n. A wandering knight : نایت
 جو اپنا جرعہ دہانے کو اُدھر اُدھر پھرا کرے - مہم جو - بہادر

Knight-errantry, n. The manners of wandering knights : بھرتے والے ناٹونکا طریقہ

Knighthood, n. The dignity of a knight : نایت کا : رجمہ - بہادری

Knit, v. t. To tie together, as cord ; to join ; to unite closely ; to thread in : - ملانا - جوڑنا - سائننا
 * v. i. To weave anything making knots : * جالی بنانا یا گونٹھنا - کارھنا
 * n. Texture : جالی بنانا - بانٹ

Knitting, n. The work of a knitter ; junction : جالی کارھنے والے کا کام - ملب

Knob, n. A hard protuberance : گڑہ - گانٹھہ - گمڑی

Knobby, a. Full of hard protuberances : گڑہدار - گڈھیل
 گڑھڑی دار

Knock, v. i. or v. t. To strike ; to clash ; to rap upon :
 * To—about, * مارنا - ٹکرانا - ٹھوکرنا - ٹکر کھانا
 to wander here and there : * آوارہ بھرنا
 * To—down, to collide : * ٹکر مارنا
 * To assign to a bidder : * مار یا کات کر گرا دینا
 * To—under, to yield ; to submit : * کسی کے نام نیلام کر دینا - مطیع : ہار ماننا - مطیع : کام بند کر دینا
 * To—over, to upset : * اولت دینا
 * To—up, to be worn out : * تھک جانا
 * To arouse by knocking : * ٹکرانا جگانا

Knock, n. A blow ; a rap : - ضرب - ٹکر - کھٹ کھٹاہٹ - جھپٹ

Knocker, n. One who knocks : * ڈھرتے والا
 contrivance fastened to a door to knock for admittance : دروازہ پر آمد کی اطلاع دینے کا گڈھکا

Knoll, v. t. To ring a bell ; to proclaim by ringing :
 * n. The ringing of a bell : * گھنٹا بھانا - گجر دینا -
 * A little round hill : چھوٹی گول پہاڑی

Knop, n. A bud ; a bunch ; protuberance ; a button : کپی - گاہوا - گچھا - گانٹھہ - گھنٹی

Knot, n. A tie ; bond of union ; a perplexity :
 * A cluster ; a joint in the stem of a plant : * گڑہ - عقد - ارلچہاڑ
 * Slip—, solve a problem ; slapdash : سہلے سے
 * Cut the—, solve a problem ; slapdash : عقدہ کشائی

Knotless, a. Free from knots : صاف - بے گانٹھہ

Knotted, a. Having knots : گڑہدار - گڈھیل

Knotty, a. Full of knots ; hard ; intricate : گڑہدار - دشوار - سخت - پیچیدہ - مشکل

Knout, n. An instrument of punishment in Russia : روس میں ایک قسم کا آلہ سزا

Know, v. t. To perceive clearly ; to be assured of ; to be acquainted with ; to recognise ; to approve :
 * nothing, * جاننا - پہچاننا -
 * nothing, * جاننا - راقف عرفنا - جاننا - پہچاننا -
 * nothing, * پسند کرنا
 جاہل مطلق

Knowing, a. Skilful ; well-informed : ہوشیار - راقف - کار

Knowingly, ad. Intelligently ; deliberately : ہوشیاری سے - دیدہ و دانستہ - جان بوجھ کر

Knowledge, n. Certain apprehension ; cognition ; instruction ; acquaintance ; information ; notice : علم - دانش - شعور - شناخت - راقفیت - آگاہی - اطلاع - خبر

Knuckle, n. A joint of the finger : پوررا - انگلی کا :
 * v. i. To beat with the knuckles ; to submit ; to yield : * جرز
 * انگلی کے پور سے مارنا - تابع ہونا - مطیع :
 * To—down, to apply one's self vigorously : زور شور کے ساتھ کام میں لگنا

Knurl, n. A knot : گڑہ - گانٹھہ

Koran, n. The Scripture of the Mohamedans : قرآن

L

- La, int.** Look ! see ! behold ! : تاکر - نظر کرو - دیکھو -
نہارو
- Labefaction, n.** The act of weakening - ناتوانی - کمزوری - ضعف
- Labefy, v. t.** To waken ; to impair : - کمزور کرنا -
ناتواں کرنا - بگاڑنا
- Label, n.** A narrow slip of paper, &c., containing a name or title, affixed to anything ; a codicil : نام یا خطاب لکھا ہوا پرچہ جو کسی چیز پر چسکاوں -
v. t. To affix a label to : لیبیل لگانا۔ تتمہ وصیت نامہ لیبیل لگانا - نام لکھ کر چسکانا
- Labial, a.** Belonging to the lips ; uttered principally with the lips : متعلق بہ لب - جو ہونٹوں سے
n. A letter uttered chiefly with the lips : حرف شفوی
- Labially, ad.** By the lips : لب سے
- Labio-dental, a.** Formed by the lips and the teeth : جو ہونٹوں اور دانتوں سے نکلتے - ہونٹوں سے دنتی : اکثر
- Laboratory, n.** A druggist's shop ; the work room of a chemist : عطار کی دکان - کیمیاگر کا کارخانہ
- Laborious, a.** Requiring labour ; toilsome ; diligent ; industrious : محنت طلب - سخت مشقت طلب - مصہقتی - جفاکش
- Laboriously, ad.** With difficulty : مشکل سے
- Laboriousness, n.** Toilsomeness ; assiduity ; diligence : سختی - محنت کشی - جفاکشی - دقت - دشواری
- Labour, n.** Exertion ; mental effort ; work ; مشقت - محنت - جدوجہد - سعی - دقت - درد زہ - جانفشانی - درد ابستنی
- Syn. - Work, toil, drudgery, task.
- Labour, v. t.** To work ; to toil ; to strive ; to be in travail : کام کرنا - محنت کرنا - مشقت کرنا - کوشش کرنا - درد زہ میں مبتلا ہونا
- Labourer, n.** One who labours : مزدور - فلی - مصہقتی
- Labourless, a.** Easily done : آسان - سہل - بے مشقت
- Laburnum, n.** A small tree with clusters of yellow flowers : ایک چھوٹا درخت جس میں زرد پھولوں کے گچھے ہوتے ہیں
- Labyrinth, n.** A place full of intricacies ; a maze ; پیچ پانچ کی جگہ - بھول : an explicable difficulty : بھولیاں - سخت الجھن
- Labyrinthian, n.** Winding : * چکر دار - پیچ در پیچ : Intricate ; perplexed : حیران - پیچ و تاب میں
- Lac, n.** A resinous substance : لاکہ * One hundred thousand : لاکھ
- Lace, n.** A fine kind of texture ; کناری - جالی -
v. t. To fasten with a string ; to adorn with lace : گرتا * تری یا گرتا لگانا : مارنا - زد و کرب کرنا To beat :
- Lacerate, v. t.** To tear ; to rend ; to wound ; to injure : پھاڑنا - چیرنا - زخمی کرنا - تکلیف دینا
- Laceration, n.** The act of rending : چیر پھاڑ - کات کرت
- Lacerative, a.** Tending to tear : گوشت کو پھاڑ دینے والا
- Laches, n.** Remissness ; negligence ; inexcusable delay : غفلت - بے پرواہی - بے خبری - تساہل - سستی
- Lachrymal, a.** Conveying tears : اشک آزر - آنسو پیدا کرنے والی
- Lachrymary, a.** Containing tears : پر از اشک - آنسو بھری ہوئی
- Lachrymose, a.** Tearful ; sad ; doleful : پر اشک - غمگین
- Lack, v. t.** To be destitute of ; to want : محروم
v. t. To be in want : * ہونا - محتاج ہونا - خالی یا کم ہونا : * احتیاج رکھنا : حاجت - قلت - ضرورت - کوتاہی - نقص need :
- Lackadaisical, a.** Sentimental : خیالی - دقت انگیز
Syn. - Melancholy, gloomy.
- Lackaday, int.** Alas ! an expression of sorrow or regret : واہ صیبتا - واہ - ہاے - ہاے - افسوس
- Lackbrain, n.** One who is deficient in understanding : احمق - کند ذہن
- Lackey, n.** A footman : * پیادہ - ہرکارہ - خدمتگار :
v. i. or t. To attend servilely ; to wait upon : خدمتگاری کرنا - ٹہل کرنا pointed :
- Lack-lustre, a.** Wanting lustre : بے آب - بے چمک - دھندلا

Laconic, *a.* Short ; brief ; succinct ; sententious ;
چھوٹا - مختصر - پر معنی - متین - خوبصورت

Syn. - Brief, concise, short, succinct.

Laconically, *ad.* Briefly ; concisely : مختصر طور پر
میں

Lacquer, *n.* A kind of yellow varnish ; a varnish
made of lac and alcohol : ایک قسم کی زرد وارنش -
لاکھہ ازر شراب کا بنا روغن

Lactation, *n.* The act of giving milk : دودھ پلانا

Lacteal, *a.* Milky ; conveying chyle : دودھ
کیاوس پہنچانے والی * *n.* A vessel of the body that
conveys chyle : کیاوس پہنچانے والی رگ

Lacteous, *a.* Milky ; convey-chyle : دودھ سا
پہنچانے والی

Lactescence, *n.* Milkiness ; milky colour : دودھیا
دودھ کا رنگ

Lactiferous, *a.* Bearing milk or white juice : دودھ
یا سفید رس دار

Lactometer, *n.* An instrument for ascertaining
the quality of milk : دودھ جاننے کا آلہ

Lad, *n.* A young man ; a stripling : لڑکا - لڑچران -
چھوڑکا

Laddie, *n.* A young man ; a suitor : لڑچران - شادی
کا خواہاں

Ladder, *n.* A frame with steps for climbing ; any-
thing by which one ascends or rises : کڑھ -
کی سیڑھی - زینہ

Lade, *v. t.* To load ; to freight ; to dip : لادنا -
بوجھنا - ڈبانا

Lading, *n.* A load or cargo ; a weight ; freight :
بوجھ - بار برداری

Ladle, *n.* A dish with a long handle ; large
spoon : کنگیر - کرچھا - قڑھی - چمچ - پلہ

Lady, *n.* A mistress ; a woman of position ; a
woman of refined manners ; wife : بی بی - بیگم -
خاتم - صاحبہ - عورت - چورر - بی بی - بھر

Lady day, *n.* The day of the annunciation of the
Virgin Mary ; March 25th : جس دن فرشتہ نے
مریم کو عیسیٰ کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی - ۲۵
مارچ

Lady-like, *a.* Proper to a lady ; soft ; genteel ;
well bred : بیگمانہ - خلیق - شریف

Lady-love, *n.* A sweetheart : معشوقہ - معشوقہ

Ladyship, *n.* The title of a lady : معزز اور تونکا
خداہ

Lag, *a.* Slow ; tardy ; last : اخیر - سست -
* *n.* One who lags ; the fag end ; the rump : کاٹل
e. i. To * چھانٹن - فلا - پٹیوہ کی ہٹی کا اخیر حصہ
loiter ; to saunter ; to stay behind : آہستہ چلنا -
تھلنا - پھینچ رہنا

Syn. - Linger, loiter, delay.

Lager beer, *n.* A German beer : جرمن کی بیر شراب

Laggard, *n.* Slow ; sluggish ; backward : سست
کاٹل - پوسٹی

Lagoon, *n.* A fen or marsh ; a shallow lake :
دلال جھیل

Lair, *n.* The resting place of a wild beast : ماند -
جنگلی جانور کے رہنے کی جگہ

Laird, *n.* A lord ; a landowner : زمیندار -
مالک

Laity, *n.* The people as distinguished from the
clergy : گزشتہ جو پادریوں کے فرقہ میں نہر - دنیا
دار لڑک

Lake, *n.* A body of water surrounded by land :
گلاب رنگ * A rose colour : تال

Lakelet, *n.* A little lake : تلیا - چھوٹی جھیل

Lamb, *n.* The young of the sheep kind : بڑہ -
e. i. To bring forth lambs : بھیز کا بچہ
بچہ دینا

Lambent, *a.* Playing on the surface ; wavering :
تھلنا - چنچل - لکیلا - ادھر اُدھر کھیلتا ہوا

Lambkin, *n.* A small lamb : بڑہ کا چھوٹا بچہ

Lame, *a.* Crippled ; imperfect ; not smooth : لنگڑا
e. i. To * لڑا - لگ - ناقص - شکستہ - ناھموار
cripple ; to render imperfect and unsound : لنگڑا
ڈرنا - ناقص یا کمزور کرنا

Lamella, *n.* A thin plate of anything : پتھر - ورق -
پرت

Lamellar, *a.* Composed of thin plates or scales :
پرت دار - ورق دار

Lamely, *ad.* In a lame manner ; imperfectly ;
weakly : لنگڑا کرنا - مکمل طور سے - ضعف سے

Lameness, *n.* The condition of being lame ; imperfection ; weakness : ضعف - نقص - *** لنگڑا پن -**
—in verse, **مکتا**

Lament, *v. i.* To express sorrow ; to mourn ; to weep : زنج کرنا - افسوس کرنا - غم کرنا - رونا - ناله رونا
n. A weeping : آہ رزاري کرنا
آزبہ ر زاري - غم - واريل - فوجہ - رلاب

Lamentable, *a.* Mourning ; sorrowful ; pitiable ; ماتم خيز - غم آردہ - درد انگيز - تومس ناک -
افسردہ - حسرت

Syn.—Deplorable, mournful.

Lamentably, *ad.* Pitifully ; despicably : اندوهناکي
سے - درد انگيزي سے - خزانئي سے - بري طرح

Lamentation, *n.* Expression of sorrow : اندوہ -
حزن - فوجہ - ماتم - نعال - واريل

Lamina, *pl.* Laminæ, *n.* A thin plate or scale : طبیق - رلق - چھلکا

Laminar, *a.* Consisting of thin plates or layers : وردندار - پرت دار - پرتيل

Laminate, *v. i.* To form into thin plates : پرت يا
پرتي اوتارنا - نکلے کرنا

Lamish, *n.* Somewhat lame : کسي قدر لنگ

Lammas, *n.* The first day of August : ماہ اگست کا
پہلا دن

Lamp, *n.* A light producing apparatus ; any contrivance for giving light ; an article for containing oil and wick to give light : لمپ - چراغ - ديا -
قندیل - فانوس - کپي - مشعل

Lampblack, *n.* A fine soot formed by the condensation of the smoke from burning oil : کاجل -
کالک

Lamplighter, *n.* One who lights street lamps : گليوں کے لمپ روشن کونيوالا

Lampoon, *n.* A personal satire ; abuse : هجو -
v. i. To libel ; to defame ,
to satirize : هجو کرنا - بدنام کرنا - نندا کرنا

Syn.—Libel, defame, slander, satirize.

Lamprey, *n.* A kind of fish resembling the eel : ایک مچھلي جو بام کی طرح ہوتی ہے

Lanary, *n.* A store place for wool : پشمینہ کے
ذخیرہ کی جگہ اون کا گودام

Lance, *n.* A long spear : نیزہ - پالم - بوالا - *** بوجھا**
v. t. To pierce with a lance ; to open with a lancet :
بوجھا مارنا - نشتر مارنا

Lanceolate, *a.* Tapering toward both ends :
دوئوں طرف نوکيل

Lancer, *n.* One who lances : نیزہ بردار -
علم بردار

Lancet, *n.* A small, sharp, two-edged knife used by surgeons to open tumours, etc. :
نشتر

Lanch, *v. i.* To dart ; to wound : پھينکا - چھوڑنا -
زخمي کرنا

Lancinate, *v. t.* To tear ; to lacerate : پوزنا -
چھیننا - چھیننا

Land, *n.* Earth ; ground ; a region ; a country ;
** مٹی - زمین - اقلیم - ملک - اراضی - علاقہ* :
To make the—, to discover land from the sea :
** along a stream, recovered from water, کھوار*

** Arable—, recovered from water, گنگور*

** The Fallow—, where water settles, where water settles, جاز*

** of Nod, خشکی میں اوتارنا - کنارے پر رکھنا -*

v. t. To set on shore ; to disembark : جہاز پر سے اترنا

v. i. To go on shore from a ship : سے کنارے پر آنا

Landau, *n.* A light carriage whose top may be opened and thrown back :
لقد گاری

Landed, *a.* Consisting in land : مشتمل بہ اراضی -
چاوداد غیر منقولہ

Landholder, *n.* A proprietor of land : مالک اراضی -
تملقد دار - زمیندار

Landing, *n.* The act of going on shore :
زبانہ : ** The broad level part of a staircase*

Landjobber, *n.* One who buys or sells land : زمین
کا خریدنے یا بیچنے والا

Landlady, *n.* A woman who has tenants holding
عزرت جو مکان :
کرایہ پر دے

Landlock, *v. i.* To encompass with land : زمین سے
گھیرنا

Landlord, *n.* The lord of land : زمیندار
مالک زمین - مکاندار -
بھتیارہ

Landlouper, n. A vagabond ; one who has no settled habitation : بے خانہ بدوش - بے خانہ ماں - آگھار

چرلہا

Land-lubber, n. A raw sailor : نا تجربہ کار ملاح

Landmark, n. A mark to designate the boundary of land : نشان کا سرحد - سرانا - مینڈ - قنقا

* Any elevated object on land which serves as a guide to seamen : زمین پر اونچا مقام جو جہاز کی رہنمائی کا کام دے

Landscape, n. Such a portion of country as the eye can view at a single glance : جسقدر زمین

A picture representing rura scenery : میدان وغیرہ کی تصویر - سر زمین کی تصویر : منظر

Landslip, n. The sliding down of a considerable tract of land from a mountain : پہاڑ کے اوپر کی زمین کا پھسل جانا

Landsman, n. One who lives on land : خشکی کا رہنے والا

Landtax, n. A tax laid on land and building : مکان و زمین کا محصول

Landwaiter, n. An officer of the customs : گھاٹ والا - گھاٹ پر مہسول لینے والا

Landward, ad. Towards land : زمین کی طرف

Lane, n. A narrow road or street : گلی - کوچہ - تنگ گذرگاہ

Language, n. Human speech ; style ; manner of expression : زبان بولی - عبارت - طرز کلام - طرز فصیح کلام - منجھتی یا بولی * Polished - گفتگو بولی

Syn. - Speech, tongue, idiom, dialect.

Languid, a. Faint ; weary ; exhausted : سست - تپکا ہوا - ماڑا

Syn. - Spiritless, inactive.

Languidly, ad. Weakly ; feebly : ضعف سے - ناتوانی سے

Languidness, n. Feebleness ; dullness : ضعف - ناتوانی - سستی - کمزوری - ماندگی - پژمردگی - کالہی - آلس

Languish, v. i. To lose strength ; to pine ; to wither ; to grow dull : ناتوان ہونا - کمزور ہونا - گھولنا - گھٹنا - پژمردہ ہونا - مرجھانا - سست ہونا - مضبوط ہونا

Languishing, n. Feebleness : کمزوری - ناتوانی - کمزور - ناتوان - نقیہ : a. Showing languor : نقیہ * نقامت

Languishingly, ad. Weakly ; feebly ; dully : ناتوانی سے - کمزوری سے - کالہی سے

Languishment, n. The state of languishing tenderness of look : نقامت - ناتوانی - نزاکت

Languor, n. Faintness ; feebleness ; lassitude ; softness : پژمردگی - نقامت - ماندگی - کمزوری

Laniary, n. Used for tearing flesh : گوشت پھرنے والا

Lank, a. Thin ; slender ; not plump ; lax : پتلا - کمزور - دپلا - ڈھیل

Syn. - Lean, thin, meagre.

Lankly, ad. Weakly ; thinly : پتلے سے - کمزوری سے

Lankness, a. Leanness : دپلا پن - لاغری - کمزوری

Lanky, a. Slender ; slim : دپلا - پتلا - کمزور

Lantern, n. A perforated case for a candle or lamp : لالٹین - قندیل

Lanuginous, a. Covered with down ; woolly : روئیں دار - ارنی - پشمی

Lap, n. The loose part of a coat : * دان - پلا
That part of a person sitting which reaches from the waist to the knees : * Border ;
edge : کنارہ : v. t. To fold ; to wrap ; to involve ; to lick up : شامل - اڑھنا - لپیٹنا
* v. i. To be spread or laid over ; to take up liquor or food with the tongue : پھیلاتا - چپڑ چپڑ کرنا - چائٹا

Lap dog, n. A pet dog : چھوٹا کتا جسے گورد میں رکھتے ہیں

Lapidary, n. A dealer in precious stones ; one who cuts or polishes precious stones : جوہری - حکاک - پچی کار - جوہر تراش

Lapidation, n. n. The act of stoning to death : پتھروں کی مار

Lapidescence, n. The process of becoming stone ; a stony concretion : پتھر ہوجانا - پتھر کا سا انجمان

Lapidify, v. t. To turn into stone : پتھر بنانا
* v. i. To form into stone : پتھر ہوجانا - پتھر بن جانا

Lapidist, n. A dealer in precious stones : - چوہری -
نگینہ فروش

Lapse, n. A gliding ; a slip ; an error ; a mistake : - چوک -
گذرنا - غلطی - غلطی - غلطی - غلطی - غلطی -
گذرنا - مانتھی ہونا -
بیتنا - لغزش کرنا - خطا کرنا - یزنا

Lapstone, n. A stone on which shoemakers beat leather :
وہ پتھر جسپر مورچے چمڑا بیٹتے ہیں

Larboard, n. The left hand side of a ship, looking towards the head : - چہار -
سرے کی رخ دیکھنے سے چہار
کا دست چپ

Larcegist, n. One who commits theft : - چور -
دزد -
سازق

Larceny, n. Theft : - چوری -
دزدی -
سرقہ

Lard, n. The fat of swine : - سور کی چربی -
To grease ; to fatten : - چربی لگانا -
مروٹ کرنا

Larder, n. A place where meat or victuals are kept ; pantry : -
گروٹ رکھنے کی جگہ -
رکاب دار خانہ

Large, a. Big ; great ; wide : - بڑا -
چوڑا - وسیع -
Abundant ; ample : - کثیر -
زیادہ -
Bulky ;
جسیم -
مشرح -
diffuse ; free ; liberal ; generous : -
At—, without
restraint : -
A prisoner at—, The people at—,
اکثر اشخاص

Syn. Grand, great, big, enormous, huge, massive, immense.

Largely, ad. Extensively ; amply ; liberally : -
کثرت :
بہ زیادتی سے -
بہ انعام -
فیاضی سے

Largeness, n. Bigness ; greatness ; liberality ; generosity ; abundance : -
کثرت -
عظمت -
کلائی -
بہمت -
انعام -
فیاضی -
کشادہ دلی

Largess, n. (Fr. largesse) A present ; a donation ; a bounty : -
نذر -
بخشش -
انعام و اکرام -
داد و دہش

Syn.—Bounty, present, donation, gift.

Lark, n. A singing bird : - لڑا -
A frolic

Larva, n. An insect in the grub state : -
کیرپکی اڈے :
سے نکلنے کے بعد کی صورت -
جھانچھا

Larynx, (larynxes.) n. The upper part of the wind pipe :
ٹیمپورا -
نرکھوی -
حقوقم

Syn.—Caterpillar, grub, maggot.

Lascar, n. A native sailor ; a campfollower : -
چہاز پر -
یا لشکر کا ہندوستانی ملازم

Lascivious, a. Loose ; wanton ; lustful ; luxurious : -
نفس پرست -
مستانہ -
نحش -
پر -
شہرت -
عیاش

Lasciviously, ad. Loosely ; wantonly : -
مستانہ :
طور سے -
نحش طور سے

Lash, n. The thong of a whip ; a stroke of sarcasm ; a cut : -
چابک کا تسمہ -
رسی -
توری -
ضرب -
چابک -
طعن -
آزارہ -
بولی

Lash, v. t. To whip ; to satirize ; to kick out ; to bind with a rope : -
چابک مارنا -
ملاست کرنا -
لقیانہ -
کرنا -
کڑوا مارنا :
To ply the whip : -
رسے سے بندھنا
چابک پھینگانا

Lass, n. A young woman ; a girl : -
جوان عورت -
لڑکی

Lassitude, n. Weakness ; heaviness ; weariness : -
ضعف -
کمزوری -
سستی -
تھکارت -
ماندگی

Lasso, n. A cord with a noose : -
پھندا -
کمند -
پھانسی

Last, a. Final ; hindmost ; utmost ; lowest ; next before the present : -
آخر -
پچھلا -
نہایت -
سب سے
انجام کر -
At—, Finally
آخر تک -
عمر بھر :
To the—, to the end :
آخر کر
* On one's—legs about to die :
قرب
* المرگ -
قبر میں پیر لگائے ہوئے -
کام تمام ہونے پر
مرنا -
نوت ہرنا -
To breathe one's—, to die :
اخیر مرتبہ -
ad. The last time ; finally :
* دم کلنا
تھہرنا : -
To endure ; to hold out :
* v. i. To endure ; to hold out :
* بار

Lasting, a. Durable ; permanent ; unending :
پائنداری
* n. Endurance :
* پائنداری -
دائمی -
مدامی
حاصل کلام -
آخر الامر

Lastly, ad. In conclusion ; at length : -
آخر الامر

Lastly, ad. In conclusion ; at length : -
آخر الامر

Latch, n. A small piece of iron or wood used to fasten a door : -
چمکنی -
بلی -
* v. t. To catch ; to fasten by means of a latch : -
پکڑنا -
بھنسانا -
بلی لگانا -
چمکنی چڑھانا

Latchet, n. The string that fastens a shoe : -
چوٹا
بندھنے کا تسمہ -
نفس بند

Latch key, n. A key used to raise the latch of a door :
بلی کھسکانے کی چابی

Late, a. Coming after the usual time ; slow ; tardy ; departed ; recent ; fair in the day or night : حال - سست - کاہل - مرحوم - مٹرنی - حال
دیور - سست - کاہل - مرحوم - مٹرنی - حال
night : حال - سست - کاہل - مرحوم - مٹرنی - حال
After the usual time ; not long ago ; far in the day
معمر لپ وقت کے بعد - حال میں - بہت دن
or night : دن - بہت دن
چڑھے یا رات گئے

Lately, ad. Not long ago ; recently :
حال میں - ٹھوڑے دن ہوئے

Syn. - Recently, latterly.

Latency, n. The state of being concealed :
پوشیدگی - اخفا - پنہانی - خفتگی

Lateness, n. The state of being late ; recent time :
درنگ - دیر - جدید زمانہ

Latent, a. Hid ; concealed ; secret :
پوشیدہ - پوشیدہ - اندرونی - مستفی

Later, a. Posterior ; subsequent :
آخری - مابعد کا

Lateral, a. Proceeding from the side ; on the side :
بغلی - پہلو کا

Laterally, ad. Sidewise ; in the direction of the side :
پہلو سے - بغل کی طرف سے - ایک طرف سے -
ترجہا - آزا

Lateritious, a. Of a brick-red colour :
اینت کے سرخ - رنگ کا سا

Lath, n. A thin narrow slip of wood :
کاتھ کی پٹی
یا پتلی دھبھی - جو چھت کی کڑیوں کے اوپر لگتی ہیں -
پٹی لگانا :
To line with laths :
* بارے بند
دھبھی لگانا

Lath, n. A turner's machine :
کھراد

Lather, n. Foam made by soap moistened with water ; to become frothy :
صابن سے ڈھکنا - پھین دار
* v. i. To cover with soap-foam ; to become frothy :
صابن کا پھین

Lathy, a. Long and slender :
لنبا اور پتلا

Latin, a. Pertaining to the Latins ; Roman :
رومی زبان
* n. The language of the ancient Romans :

Latinise, v. t. To give to foreign words Latin termination :
لفظوں کو لاطینی کر لینا یا بنا لینا

Latinism, n. A Latin idiom :
لاطینی محاورہ

Latinity, n. Style of writing Latin :
لاطینی تحریر
کا طرز

Latish, a. Somewhat late :
کچھ دیر سے

Latitude, n. Breadth ; width :
چوڑائی
* Room :
* Looseness ; laxity :
* Extent :
* The distance of any place on the globe north or south of the equator :
عرض البلد

Latitudinarian, a. Unrestrained ; unconfined ; lax in religious views ; thinking or acting at large :
آزاد - بلا تید - آزاد منش - آزاد طبع - غیر
مذہب میں آزاد :
* n. One not orthodox :
خیالات کا آدمی

Latrant, a. Barking :
ہو، ٹکتا ہوا

Latria, n. The highest kind of worship :
خدا کی
اعلیٰ درجہ کی عبادت

Latrine, n. A privy :
پائخانہ - تٹی - جائے ضرور -
بیمواس

Latrociny, n. Robbery :
قذارتی - لوت مار

Latten, n. Iron tinned over :
ارھا تین کا پتھر چڑھا
ہوا

Latter, a. More recent ; mentioned the last of two ; last :
حال کا - متاخر - پچھلا - بعد کا

Latterly, ad. Lately ; of late :
حال میں - ٹھوڑے دن
ہوئے

Lattice, n. Any interlaced work of wood or iron made by crossing rods or bars :
کاٹھ یا لوہے کا
* v. t. To form into open work ; to furnish with a lattice ;
جوہنجھوپ دار بنانا - جالی بنانا

Laud, n. Praise ; eulogy :
تعریف - مدح - ستائش -
* v. t. To extol ; to celebrate :
تعریف - مدح
کرنا - مشہور کرنا - شہرت دینا - سراہنا

Laudability, n. Praiseworthiness :
خوبی - عمدگی

Laudable, a. Praiseworthy ; commendable ; healthy :
قابل تعریف - قابل تحسین - حسب دلخواہ -
صحت بخش

Laudably, ad. In a manner deserving praise :
تعریف کے لائق

Laudanum, n. Tincture of opium :
اندرن کا عرق

Laudation, n. Praise ; commendation :
تعریف - توصیف

Laudatory, a. Containing praise : تعریف آمیز -
جس میں * n. That which contains praise :
ممد و ثنا ہو

Laugh, v. i. To have the countenance changed so as to express merriment ; to be gay ; to sport :
* **To—** at, to ridicule : ہنسنا - خوش و خرم ہونا - ککڑ کرنا - کھیلنا
* **To—in the sleeve,** to laugh one's self so as not to be observed : ہنسنا * **To—on the wrong side of the mouth,** to cry : رونا - گریہ کرنا
* **To—to scorn,** to mock : ہنسنے میں اڑانا
* **v. t.** To ridicule ; to deride : ہسنی کرنا - تضحیک کرنا
* **n.** An expression of mirth peculiar to man : خندہ - ہنسی

Laughable, a. Droll ; ludicrous ; comical : خندہ آور - ہنسی کا - خندہ انگیز

Laughingly, ad. In a merry way : ہنسی میں

Laughing-stock n. An object of ridicule ; a butt of sport : مسخرہ - مضحکہ - گولے محلہ - نقار
* **To make a—of one,** مسخرہ بنانا * مجلس

Laughter, n. Convulsive expression of merriment, ridicule, etc. : خندہ - قہقہہ - ہنسی - تھکھلاہٹ

Launch, v. t. To dart ; to move or cause to move into the water ; to fly off ; to pierce : چلانا -
* پھینکنا - پانی میں چلنا یا چلانا - کوبنا - چالچلنا - چویدنا
* **To—out or forth,** to expatiate : **To—into** eternity, to kill : ملک عدم کو روانہ کرنا - مار ڈالنا

Launch, n. The act of putting a new built ship off the stocks into the sea : نئے جہاز کو سمندر میں
* **The largest beat in a ship :** جہاز کی سب سے بڑی کشتی

Lauder, n. A washerwoman : * دھوہن - گادڑ
* **v. t.** To wash : دھرنا

Laundress, n. A washerwoman : دھوہن

Laundry, n. A room where clothes are washed and done up : کپڑا دھونے اور بنانے کی جگہ

Laureate, a. Decked with laurel : لال درخت کی
* **v. t.** To confer a degree on : علم سے آراستہ
* **n.** The king's poet : بادشاہی شاعر - ملک الشعرا

Laureateship, n. Office of laureate : عہدہ ملک الشعرا

Laurel, n. A small evergreen tree : ایک قسم کا سرفروزی حاصل کرنا - فتح نصیب ہونا
* **To win the—,** چھوٹا درخت جو ہمیشہ سبز رہتا ہے

Lava, n. The melted rock-matter which flows from a volcano : پگھلا ہوا پہاڑی مادہ جو جوالا مکھی سے پہاڑوں سے نکلتا ہے

Lavatory, a. Washing : دھونا * **n.** A place for washing ; a lotion for a diseased part : دھونے کی جگہ - گھاڑ دھونے کی دوا - جامے شست و شو

Lave, v. t. or i. To bathe ; to throw out : ٹھلانا - کرنا - دھونا - پھینکنا

Lavender, n. An aromatic plant ; scent : خوشبودار درخت - لڑینتر

Laver, n. A vessel for washing a large basin : طشت - چامچی - ٹاند - حوض - دھونے کا بڑا باس

Laverock n. The lark : چاندل - چکر

Lavish, a. Profuse ; extravagant ; immoderate ; wasteful ; wild ; superfluous : مسرف - ارزاؤ - فضول - * **v.** * خرچ - بے ضبط - خراچ - اندھا دھند - بہت فراوان
* **t.** To expend with profusion ; to squander : خرچ کرنا - اڑانا

Syn.—Squander, waste, dissipate.

Lavishly ad. Prodigally ; wastefully : بے - باسراف

Lavishment, n. Prodigality : بے خرچ

Law, n. A rule of action ; a decree ; an order ; a statute ; a settled principle : ضابطہ - شرع - قانون -
* **To take—into one's own hands,** is for oneself to administer punishment for an offence without going to a court of law : خود سزا کسی قصور کے لئے
* **To go to—,** to file a suit : آڈن و تواتق * **The—of nations,** راکہ و رسم آدمی

Law-abiding, a. Observant of the law : پابند قانون - فرمانبردار

Law-book, n. A book treating of law : کتاب قوانین

Lawful, a. Conformable to law ; legal ; constitutional : حسب قانون - قانونی - شرعی - جائز

Lawfully, *ad.* Legally : از درے شرع - شرعاً - قانوناً

Law-fulness, *n.* Legality : مطابقت شرع - جواز - واجبیبت

Law-giver, *n.* One who enacts a law ; a legislator : قانون بنانے والا - واضع قانون

Lawless, *a.* Not subject to law ; illegal : قانون کے شرع - نا جائز - بے قاعدہ

Lawlessly, *ad.* In a lawless manner : نا جائز طریق پر

Lawlessness, *n.* Disorder : ابتہری - بے آئینی

Law maker, *n.* A legislator ; a lawgiver : واضع قانون - شارع

Lawn, *n.* An open space of ground covered with grass : A sort of fine linen or cambric : چراگاہ - میدان - سبززار - مرغزار * ایک قسم کا باریک مامل یا کورخ

Lawsuit, *n.* An action ; a process in law : مقدمہ - دالش - استغاثہ

Lawyer, *n.* One skilled in law ; a practitioner of law : قانون دان - وکیل - عدالت

Lax, *a.* Loose ; slack ; vague ; not severe ; not strict ; dissolute : نرم - مجہول - اداس - نرم * A looseness ; diarrhoea : ڈھیلا - ڈھیلا - کولا - مجہول - اداس - نرم * n. A looseness ; diarrhoea : ڈھیلا - چریان شکم - اسہال

Laxation, *n.* The act of loosening : ڈھیلا پن

Laxative, *a.* Having the power of loosening ; aperient : دست لانے والی دوا * n. An opening medicine : ملین - ریچک

Laxity, *n.* Slackness ; looseness ; want of precision ; dissoluteness ; openness : کشادگی - ڈھیلا پن - آوارگی - آزادگی - بلا پانندی

Laxly, *ad.* Loosely : ڈھیلے پن سے

Lay, *v. t.* To place in a lying position ; to cause to lie : رکھنا بیٹھونا - جمانا * To put ; set or place : لگانا * To impose : لگانا * To settle : لگانا * To beat down : * To contrive : کم کرنا * To spread : * To wager : بچھانا * To produce eggs : * To provide : * To bury : * To hazard : * To prostrate : * To state : * To aside, to put off or away : * To discontinue ; to aban-

don : * To set apart : * رکھنا بیٹھونا

* To—bare, رکھنا بیٹھونا - ہلکا کر دینا - پردہ اٹھانا

To—by, to reserve for future use : پس انداز

To—down, to deposit : * To put aside : * اوتار دینا

To offer ; to propose : * To resign : * پیش کرنا

To delineate on paper : * To—by the heels, to confine : * قید کرنا

To—heads together, to strike with vigour : * مارنا

To—in, to collect and store : * متفق کرنا - صلاح کرنا

To—oneself out, to strike with violence : * جمع کرنا

To—low, to inter ; to bury : * گزنا - دفن کرنا

To—open, to uncover : * کھولنا - ظاہر کرنا

To plan or scheme out : * صرف کرنا

To dress : * To invest : * روپیہ لگانا

To—out a garden, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

To—out, to expel : * باغ لگانا

Lazaretto, n. Public building or hospital for the reception of diseased persons : - شفا خانہ - اسپتال - کوزھی گھر

Lazily, ad. Sluggishly ; idly : سے - کاہلی سے - سستی سے

Laziness, n. Indolence ; sluggishness ; idleness : مجہولی - آس

Lazy, a. Idle ; indolent ; slow : - کاہل - مجہول - سست

Lead, n. A metal : سیسہ - جست * A plummet : سیسہ کی * A slip of type metal : سادل - شا قزل سینڈور - Fed - پرزیاں جو چھپانے میں کام آتی ہیں * **White** - سفید * *v. i.* To cover with lead : سیسہ لگانا - سیسہ چڑھانا

Lead, v. t. To guide ; to direct ; to precede ; to entice : رہنمائی کرنا - ہدایت کرنا - پیشروائی کرنا * **To—astray, to—away, to mislead ; to induce to evil :** * **To—captive,** * گمراہ کرنا - بھٹکانا * **To—carry into captivity :** * گرفتار کر لینا * **To—off,—out, to begin :** * شروع کرنا * **To—one a fine dance, to cause one more exertion than necessary :** * ناچ نچانا * **To—a life,** * راہ * **To—the way,** * دن کا آنا - زندگی بسر کرنا دکھانا

Lead, n. Precedence ; guidance : - پیشروائی - رہنمائی - صدارت - اول جگہ یا درجہ - پیشرو

Leaden-hearted, a. Cruel ; merciless : - سنگدل - کٹھور

Leader, n. A guide ; a chief : سردار * **Editorial article :** اخبار نویس کا مضمون

Leading, a. Principal ; capital ; controlling ; foremost : * **To be in—ing strings, in a state of infancy or dependence :** * **—ing star,** * بچپن یا حالت بے اختیارگی میں * قبضی تارہ - اختر رہنما

Leaf, n. The thin, broad and somewhat extended part of a plant : برگ * **A part of a book :** * **A side of folding doors :** * ورق * **To turn over a new—, to amend one's ways :** * *v. i.* To shoot out leaves : پتہ نگانا یا آنا

Leafless, a. Destitute of leaves : بے برگ - بے پتہ

Leaflet, n. A little leaf : چھوٹی پتی

Leafy, a. Full of leaves : پتی دار

League, n. A combination ; alliance ; a compact : تین میل * Three miles : سازش - میل - اتفاق - اتحاد - بندش

Syn.—Confederacy, coalition, compact.

Leak, n. A hole which permits the passage of a liquid : * دراز - سوراخ یا چنید جسمیں سے پانی چوٹے * *v. i.* To let water in or out : - سوراخ کی راہ سے رستا - ظاہر ہو جانا - کھل جانا * **To—out,**

Leakage, n. A leaking : * **An allow—ance for liquid lost by leaking :** - چو جانیکی مجرانی - تپکناؤ

Lean, v. i. To incline ; to support : مایل * **To bend ; to rest upon ; to trust to :** - تکیہ لگانا - سہارا لینا - لاغر - پتلا - دہلا - *a.* Not fat ; thin : * **اعتبار کرنا کمزور**

Syn.—Slender, thin, meagre, lank.

Leanness, n. Want of flesh ; thinness : - لاغری - پتلا پن - دہلا پن

Leap, v. i. To spring ; to jump ; to vault ; to manifest joy : * **گردنا - جست مارنا - خوشی ظاہر کرنا**

Leap-year, n. Every fourth year containing 366 days : ہر چوتھا سال جسمیں ۳۶۶ دن ہوتے ہیں - سال کیبیسہ

Learn, v. t. or i. To gain knowledge ; to teach ; to receive instruction : - علم حاصل کرنا - سکھنا - سیکھنا - معلم کرنا - خبر پانا - جاننا

Learned, a. Literate ; skilful : - خواندہ - واقف کار - ہنرمند - ماہر - واقف - کامل

Learnedly, ad. With skill : عالمانہ سے - طور سے

Learner, n. One who is acquiring knowledge ; a scholar : * **مبتدی - نو آموز - طالب علم**

Learning, n. Erudition ; knowledge acquired by instruction : * **قابلیت - نصیبت - علمیت - علم**

Syn.—Literature, erudition, lore.

Lease, n. A letting of lands or houses for a term of years for a fixed rent : * **پتہ - سرخط - اجارہ**

* **Counterpart of lease,** * **قبولیت** * **Sub—lease,** * **استمراری پتہ** * **Fixed—,** * **اجارہ شکمی** * *v. t.* To let ; to demise : - کرایہ دینا - اجارہ دینا - ٹھیکہ دینا - ورثہ دینا

Leasehold, n. A tenure held by lease : پتھن داری

Lease-holder, n. A tenant by lease : اجارہ دار - پتھن دار

Leash, n. A line of leather : A line * تسمہ - پٹی
by which a dog is held in hunting : رسی جس سے کتا شکار میں بندھا رہتا ہے

Least, a. Smallest : چھوٹا * **At—, At the—,**
at the lowest degree : کم سے کم - بدرجہ غایت -

ذرا صاف فل - common multiple, - بارے

ہر * —ways,—wise, سب سے چھوٹا کن پہل

ہر * **ad.** In a degree below all

others : بہت تھوڑا کر کے

Leather, n. The prepared skins of animals : ادیم -

کھانا ہوا چمڑا

Leathern, a. Made of leather : چرمی

Leave, n. Permission ; allowance ; adieu : راجازت -

v. t. To quit ; to abandon ; to suffer to remain ; to bequeath ; to refer : دے -

چھوڑ دینا - ترک کرنا - چھوڑنا - رہنے دینا - دے -

چھوڑ دینا - ترک کرنا - چھوڑنا - مرنا - حوالہ کرنا

to remain : **To—out,** to

omit : **To** * چھوڑ دینا - فرودگذاشت کرنا - گنتی میں لانا : **To**

—over, to put off for a time : **To**

off, to discontinue : **To—one in**

the lurch, to leave a person in a difficult situation : **To**

—in the dark, to conceal information from :

رخصت ہونا - روانہ : **v. i.** To depart : **v. i.** To depart : **v. i.** To depart :

رخصت ہونا - روانہ : **v. i.** To depart : **v. i.** To depart :

To cease : بند ہو جانا

Leaven, n. Yeast ; barm : خمیر (Met.) ماہہ - خمیر

A little—leaveneth

the whole lump, ایک مچھلی سارے جال کو گندہ

to raise and make light ; to taint : **v. a.** To raise and make light ; to taint :

خمیر اٹھانا - آلودہ کرنا

Leavenous, a. Containing leaven : خمیر آمیز

Leavings, n. (pl.) Remnants : باقی ماندہ - پس

نشانی : **Relics** * خوردہ - فضلہ - اولس - چھوٹھا -

بچا کھچا

Lecture, n. A reading ; a lesson read in divine service : مطالعہ -

رہ حصہ پای کلام کا جو عام عبادت کے وقت پڑھا جاتا ہے

Lecture, n. A discourse ; a formal reproof : بیان

نصیحت : **v. t.** To instruct by discourses ; to

reprove : **v. i.** To read a formal discourse : **v. i.** To read a

formal discourse : **v. i.** To read a formal discourse : **v. i.** To read a

formal discourse : **v. i.** To read a formal discourse : **v. i.** To read a

Lecturer, n. One who instructs by lecturing ; a preacher : لکچر دینے والا - واعظ - درس دینے والا

Ledge, n. A ridge ; a prominent part ; a layer ; a shelf : پہاڑ کا سلسلہ - اونچا ہوا حصہ - پرت - تہہ - طبق

Ledger, n. The principal book of accounts ; a horizontal slab, as over a tomb : کھاتا بھئی - لیکھا

بھئی - پتھر کا چوکا - قبر پر کی سلی

Lee, n. The direction in which the wind blows ; a calm place : دہ سمت جسمیں ہوا بہے - اوت کی

جگہ - ہوا کے رخ کی طرف

Leech, n. A physician ; the edge of a sail : حکیم - **A species of aquatic blood-sucking worm :** چونک * **A species of aquatic blood-sucking worm :** چونک

Leek, n. A well-known potherb : گندہ - لہسن کے قسم کی نبات

Leer, n. An oblique view ; complexion ; appearance ; an evil side look : ترقچی ننگہ - ترقچی نظر -

v. i. To cast a sly or amorous look : ترقچی ننگہ سے دیکھنا - کن انکھیروں سے دیکھنا

Lees, n. (pl.) Sediment ; dregs : کیت

Leeward, ad. (Naut.) Towards the lee : مخالف ہوا کی طرف

Left, a. Opposed to the right : بائیں - چپ

Left-handed, a. Using the left hand with most dexterity ; awkward ; unlucky : بے ہودا - بد - کسی امیر کی بیچ عورت، **—marriage,** * قسمت - کھینچا سے شادی

Leg, n. The limb of an animal which supports the body : **To put one's best—forward,** to do one's utmost endeavour : **To put one's best—forward,** to do one's utmost endeavour :

To have not a—to stand on, to have exhausted all one's strength or resources : **To have not a—to stand on,** to have exhausted all one's strength or resources :

On one's—s, standing : **On one's—s,** standing : **On one's—s,** standing :

کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونا - اپنے independent : **On one's—s,** standing :

برتے کام کرنا

Legacy, n. A bequest : ترکہ - وصیت - حبسہ - مورت دان - وقف - **—for piousness,** * مال متبرکہ

- Legal, a.** In conformity with law ; lawful ; constitutional : قانونی - شرعاً - آئینی - جائز - مباح - ضابطہ عدالت - procedure, * حلال - شرعی
- Legalise, v. t.** To render lawful ; to authorise : جائز ٹھہرانا - مباح کرنا - تصدیق کرنا
- Legality, n.** Lawfulness ; conformity to law : شریعت - جواز
- Legate, n.** An ambassador ; a deputy : سفیر - کنیل - ایلیچی
- Legatee, n.** One to whom a legacy is bequeathed : موصی الیہ - ترکہ پانے والا
- Legation, n.** An embassy ; a deputation : سفارت - ایلیچی گری
- Legator, n.** A testator : موصی - مورث
- Legend, n.** A narrative of a romantic kind ; any remarkable story handed down from early times, a motto : افسانہ فیض معتبر - بیان - روایت - داستان : مشہور قصہ جو باپ دادا سے سنتے چلے آئے ہیں - کہارت
- Legendary, a.** Fabulous ; exaggerated : افسانہ آمیز - دروغ آمیز - ساختہ - چھوٹھا - عجیب
- Legerdemain, n.** Sleight of hand ; an artifice : ہاتھ کا کرتب - ہت پھیر - بازی گری - شعبد بازی - ڈھینگہ بندی - فن - نظرت
- Legging, n.** A gaiterlike covering for the leg : ساق پوش
- Legible, a.** Capable of being read ; shown ; manifest : جو پڑھا جاسکے - خواندنی - نمایاں - عیاں - صاف
- Legibly, ad.** In such a manner as may be read : اسطرح پڑ کہ پڑھا جاسکے - صاف
- Legion, n.** A body of soldiers : * فوج - دستہ - سپاہ - گروہ - دل - ہجوم - زمرہ
A multitude :
- Legionary, a.** Relating to a legion : گروہ کے متعلق - فوجی
- Legislate, v. t.** To enact laws : قانون بنانا - آئین بنانا - آئین واضح کرنا
- Legislation, n.** The act of enacting laws : توضیح - آئین - قانون سازی
- Legislative, a.** Enacting laws : قانون - مقرر - مقرر
- Legislator, n.** A law-giver ; one who enacts laws : واضح قانون - قانون بنانا والا مقرر
- Legislature, n.** The body that enacts laws : واضع قانون بنانے والی جماعت
- Legitimacy, n.** Lawfulness of birth ; reality ; regular sequence : صحیح النسبی - حلال زادگی - اصلیت - مطابقت - درستی - صحت
- Legitimate, a.** Lawfully born ; real ; fairly deducible ; lawful : صحیح النسب - اصلی - جائز - شرعی
- Legitimately, ad.** Lawfully ; genuinely : حسب قانون - اصلیت سے
- Legume, n.** A pod : * n. (Pl.) * پہلی - سیم و فیروہ - دال - اناج جو پہلی سے نکلے
- Leguminous, a.** Pertaining to pulse ; bearing pods : دال کا - پہلی یا چھیدی پیدا کرنے والا
- Leisure, n.** Freedom from business ; vacant time ; ease : * At—, * چھٹی میں - فرصت کے ساتھ
- Lemma, n.** A preparatory proposition : وہ شکل جسپر دوسری شکل کا ثبوت موقوف ہو - وہ دعویٰ جسپر دوسرے دعویٰ کا ثبوت موقوف ہو
- Lemon, n.** A well known acid fruit of the orange kind : اگن گھاس, * نیبو
- Lemonade, n.** A sweetened water flavoured with lemon juice : ولایتی میٹھا پانی - لیمونیک - شربت لیمر
- Lemures, n.** (Pl.) Evil spirits : بیوت - پریٹ - سایہ - سہزاد
- Lend, v. t.** To loan ; to afford ; to grant ; to let for hire : قرض دینا - عاریتاً یا ادھار دینا - کرایہ پر دینا
* To—a hand, to assist : مدد دینا
* To—or turn a deaf ear, * سننا - مضطرب ہونا
* To— one's self to a questionable scheme, کسی اپنے نام یا مانتا کو کسی امر کی حمایت or influence, * مشتبہ تجویز کی حمایت کرنا کے لئے کام میں لانا
- Length, n.** The extent of anything from end to end ; extension ; indefinite duration : * At—, at last ; in the full extent : دائرہ - پھیلاؤ - مدت - عرصہ * آخر کار - مفصل - بیرونی دار
* To go great—s, Go to all—s, to use extreme efforts : جدوجہد کرنا - بسیار تدبیریں کرنا
* To go to the—s of, یہاں تک جانا یا ثبوت کو پہنچنا کہ

Lengthen, v. t. To elongate ; to protract ; to expand : دراز کرنا - لمبا کرنا - طویل کرنا - بڑھانا - پانڈنا

Lengthening, n. Continuation ; protraction : طویلت - درازی

Lengthwise, ad. In the direction of the length : لمبائی میں

Lengthy, a. Prolix ; not brief : طویل - بہت لمبا - غیر مختصر

Leniency, n. Clemency : ملامت - نرمی

Lenient, a. Relaxing ; mitigating ; mild : ملائم - آسانی - بخشش - نرم

Lenitive, a. Assuasive ; emollient : آسانی بخشش - لادہ کر کے والا - ملین

Lenity, n. Softness ; tenderness ; clemency : ملائمت - نرمی - رحم دلی

Lens, n. A piece of glass by which rays are refracted and objects are magnified and diminished : دوربین کا شیشہ - چشمہ

Lent, n. A fast of forty days before Easter : چالیس دن کا روزہ ایسٹر کے پہلے

Lenten, a. Pertaining to Lent : چالیس کا - فطیل - کم - Spare ; plain : روز کے روز کے متعلق ادہ

Lenticular, a. Like a lentil : مسر کی طرح

Lentil, n. An annual plant of the bean kind : مسر - مرتقی

Lentous, a. Tenacious ; glutinous : لاسا - چپچپا

Leo, n. The lion : شیر * The fifth sign of the zodiac : برج اسد - ستارہ راس

Leonine, a. Belonging to or like a lion : شیر کا - شیر کے موافق

Leopard, n. A spotted beast of prey : تیندرا - چیتا - پلنگ

Leper, n. A person affected with leprosy : کڑھی - معجزوم

Lepid, a. Lively ; merry : چٹایلا - خوش

Leprosy, n. A cutaneous disease : جذام

Leprous, a. Infected with leprosy : کڑھی

Lesion, (le'zhon) n. A hurt ; an injury : زخم - چرت - تباہی

Less, a. Smaller , not so great ; کمتر - توڑا - کمتر

Lessee, n. The person who holds a lease : ٹھیکیدار - پٹیدار - کرایہ دار

Lessen, v. t. To diminish ; to weaken ; to degrade : کم کرنا - کمزور کرنا - کم قدر کرنا

Syn. Reduce, abate, decrease.

Ant. Increase, augment, multiply.

Lesser, a. Smaller ; inferior : کمتر - چھوٹا

Lesson, n. That which a pupil learns at one time ; a precept ; a doctrine ; experience ; reproof : سبق - نصیحت - پند - اصول - تجربہ - نصیحت

Lessor, n. One who grants a lease : سر خط یا پٹہ دینے والا

Lest, conj. For fear that : شاید

Let, v. t. To permit ; to allow : اجازت دینا * To suffer : برداشت کرنا

To give on hire : * ہرنے دینا - برداشت کرنا * **To hinder :** * باز رکھنا - روکنا * **To—alone, to leave untouched :** * رہنے دینا

To—blood, to open a vein : * ٹنڈر دینا * **To—down, to permit to fall ; to lower :** * اتارنا

To—fly, to discharge with violence : * زور سے اندر آنے دینا * **To—in, to admit :** * چھوڑنا یا چلانا

To—out, to disclose : * انشا کرنا - ظاہر کرنا * **To—lose, to free from restraint :** * آزاد

To—off, to release : * چھوڑ دینا * **To—charge :** * داغنا

To—by-gones be by-gones ; * گذشتہ را صراۃ - مضمی ما مضمی

To—well alone, to free from restraint : * I cannot afford five pice—alone five rupees, * ہذا پانچ روپیہ تو درکنار پانچ پیسے تو میں ہی نہیں

Hinderance ; obstacle ; delay : * رکاوٹ - روک - بلا روک * **Without--or hindrance,** * اٹکاو - دیر

Lethal, a. Deadly ; mortal : مہلک - نازل

Lethargic, a. Drowsy ; dull : خواب آلودہ - سست - کھل

Lethargy, n. Dulness ; inaction ; a morbid drowsiness : مستی - کھلی - معجزلی - خواب غفلت

Syn. Stupor, torpor, morbid, drowsiness.

Letter, n. A character in the alphabet : حرف * A written or printed message ; an epistle : سنجیدہ * A * لفظ بہ لفظ بیان : Literal statement : نامہ - خط

printing type : علم : *(pl.) Learning* : چھاپنے کا حرف
To the—, word for word ; verbatim : لفظ
 —of advice, اصلاح * —of attorney,
 * سفارشی چٹھی - ہتھی * —of credit, * مختار نامہ
 —of marque, * دشمن کا جہاز لڑنے کے لئے پوزیشن
 —s patent, سند - فرمان - پوزیشن

Lettered, a. Educated ; literate : تعلیم یافتہ - لکھا
 پڑھا - خواندہ - عالم - تربیت یافتہ

Letter-press, n. Print ; printed matter from
 type : چھاپنے - چھپی ہوئی چیز

Letters, a. (pl.) Learning ; erudition : علمیت
 عالم - ناضل * **A man of—**, a learned man :
 * **The republican of—**, صاحبان قلم

Levant, a. Eastern : شرقی - پورٹو * **n.** The
 eastern part of the Mediterranean sea : بحر
 روم کا * **v. i.** To run away without paying
 debts : قرض چھوڑ کر بھاگ جانا - کافر ہونا - لے دے کے
 پار ہونا - چھوٹ ہونا

Levee, n. An assembly of visitors received by a
 great personage on stated public occasion :
 دربار - سبھا

Level, a. Even ; smooth ; flat ; horizontal : چورس
 * **n.** A plain : میدان * برابر - چکنا - مسطح - چپٹا - ہموار
 State of equality : * **Standard ;** * برابر - ہمواری
 rule : * **To do one's—best**, to do all
 that lies in one's power : * حتی المقدور کوشش کرنا
 * **v. i.** To accord ; to aim ; to guess :
 * **نشانہ لینا - شست یا تک باندھنا - قیاس درجنا - سمجھنا**
 * **v. t.** To make even ; to flatten ; to equalize ;
 to adapt ; to aim ; to direct : * **گراٹا یا ڈھا -**
 * **کر برابر کر دینا - مرافق یا مناسب حال کر دینا - چلانا**
 خاک میں **To—**with the dust or ground,
 ملانا - مٹی یا مینت کرنا

Leveller, n. One who makes even ; برابر کرنے والا
 ہموار کرنے والا

Levelness, n. An equality of surface : ہمواری
 برابر

Lever, n. A strong bar of iron or wood turning
 on a prop for raising weights : بیلن - ڈنڈا - بوجھ
 اٹھانے کی کل - ڈھیکلی - اٹھانگ

Leveret, n. A young hare in the first year :
 خرگوش کا ایک سال کا بچہ

Leviab, a. Capable of being assessed and
 collected : قابل وصول محصور - لگانے کے لائق

Leviathan, n. A huge aquatic animal mentioned
 in the book of Job : بڑا دریائی جانور جسکا بایبل میں
 ذکر آیا ہے

Levigate, v. t. To polish ; to make fine : صاف کرنا
 گھولنا

Levity, n. Lightness ; ease ; frivolity ; incon-
 stancy ; thoughtlessness ; want of seriousness :
 ہلکاپن - سبکی - بے استقامتی - بے نگرہی - گون مزاجی -
 بیکردگی - چھوٹو زلمن

Syn. Lightness, vanity, frivolity, fickleness.

Levy, v. t. To raise ; to collect ; to make or begin
 war to exact : جمع کرنا - تحصیل کرنا - فراہم کرنا - اٹھانا
 لڑائی شروع کرنا - حکماً وصول کرنا - اگھانا

Lewd, a. Dissolute ; licentious ; vicious ; impure :
 بدکار - زنا کار - نفس پرست - ناپاک - شہدہ - گنڈا

Lexicographer, n. The compiler of a dictionary ;
 a dictionarian : لغت نویس - ذہنک نویس مراف لغت

Lexicography, n. The art of composing dic-
 tionaries : لغت نویسی - فرہنگ نویسی

Lexicon, n. A dictionary : لغت - فرہنگ

Liability, n. Responsibility ; tendency : ذمہ داری
 جوابدہی - سزاواری - میلان - مجبوری

Liab, a. Responsible ; accountable ; exposed ;
 جوابدہ - مراخذہ دار - ذمہ دار - مستوجب -
 لایق سزا

Liaison, (le-u-zon) n. Connection ; an illicit in-
 timacy between a man and a woman : تعلق مرد
 اور عورت میں - ناچیز اور تعلق - آشنائی

Liar, n. A person who knowingly utters false-
 hood : جھوٹا - دروغ گو - کذاب

Libation, n. A drink offering ; the act of pour-
 ing out wine in honor of a deity : دیوتا کو شراب
 چھوٹانا - شراب کا چھوٹا

Libel, n. A defamatory writing ; a satire : ہجو
 * **Malicious—**, ازالتہ حیثیت عرفی - اہانت
 * **v. t.** To lampoon ; to defame by
 writing : * **بھتان عذرتی**
 مذمت کرنا - بدنام کرنا - ہجو کرنا

Libellous, a. Abusive ; defamatory : قہمت آمیز
 پردہ ناش کرنے والا - باعث بدنامی

Liberal, a. Refined ; generous ; open-hearted ; catholic : **صاف - فیاض - صاف دل-کشادہ دل-دریا دل**
Ample : **مفصل** * **Licentious :** **عیاش** * **Independent in opinion :** **کہوتل - صاف دل - بے باک -**
آزاد * **The most liberal has always most plenty with esteem and commendation to boot :** ادسی جتنا فیاض ہوتا اتنا ہی مالدار ہوتا ہے اور عزت اور نام ہنر جسمیں دماغی قوت زیادہ صرف **arts** * **مفت میں تعلیم عازم** **education** * **ہوتی ہے - فن اُستادہی و زبان دانہی**

Syn. - Generous, bountiful, beneficent.

Liberal, n. One who advocates the extension of popular rights and influence : **رعایا کے حقوق کے آزادی خواہ فرقہ کا**

Liberality, a. Generosity ; impartiality ; candour : **فیاضی - سخاوت - بے طرفداری - صفائی - عالی ہمتی - کشادہ دلی**

Liberally, ad. Freely : **دل کہول کے - کشادہ دلی سے**

Liberate, v. i. To free ; to release from restraint : **آزاد کرنا - رہا کرنا - چھوڑ دینا**

Liberation, n. The act of delivering from restraint : **آزادی - رہائی - متناہی**

Libertine, n. One who leads a licentious life : **a. Unrestrained licentious :** **آزارہ - عیاش طبع - بد چار**

Libertinism, n. Licentiousness : **عیاشی - ارباشی**

Liberty, n. Freedom from restraint ; privilege leave : **آزادی - اختیار - اجازت - چھٹی**

Libra, n. The balance ; the seventh sign in the zodiac : **میزان - برج میزان - تارا س**

Librarian, n. One who has the care of a library : **مکلف کتب خانہ - کتب خانہ کا داروغہ**

Library, n. A collection of books arranged in order ; a building for keeping a collection of books : **مجموعہ کتب - کتب خانہ**

Librate, v. t. To poise ; to balance : **ہم وزن کرنا - تولنا - برابر کرنا - چنچنا**

Libration, n. The state of equipose : *** ہم رزنی - چاند کے ارتار چڑھار کی تالی چال**

Libratory, a. Oscillating ; acting like a balance : **جوہولتا ہوا - ترازو کی طرح ہلتا ہوا**

License, n. Leave ; authority ; permission to sell excisable articles ; excess of freedom : **اجازت - اختیار - مجاز - لیسنس - حکمنامہ فروخت مسکرات - زیادتی - بدپرہیزی**

Syn. - Leave, liberty, permission.

License, v. t. To permit by authority ; to tolerate : **سند دینا - اجازت دینا - جائز رکھنا**

Licensee, n. The person to whom a license is given : **لیسنس دار**

Licentiate, n. One who holds a license to exercise a profession : **وہ شخص جسے کسی پیشہ کی سند ملی ہو**

Licentious, a. Profligate ; immoral : **آزارہ - بدکار**

Licentiousness, n. Dissoluteness ; excess of liberty : **آزارگی - مطلق الامتاع**

Lichen, n. Rock-moss : **پتھر کی کائی**

Licit, a. Lawful : **قانونی - شرعی**

Lick, v. t. To pass the tongue over ; to lap : **To * مارنا - پیٹنا * To flog : چاٹنا - لپ لپانا لڑائی میں کام آنا یا the dust, to fall in battle : مارے جانا * To—into shape, to give form and method to : penny, * شکل و ہیئت دینا۔ قول پر لانا * spittle, an abject flatterer or parasite : کنجوس * خردماندی قنو**

Lick, n. A stroke : **تھاری * A salt spring : ضربہ چشمہ**

Lickerish, a. Eager to taste or enjoy ; nice : **چٹورا - لہوڑ - نازک ذائقہ**

Lid, n. A movable cover : **The * ڈھکنا - سرپوش - پلک cover of the eye :**

Lie, n. A falsehood : **Father * دروغ - کذب - جوہوت of lies, The Satan * جوہوتوںکا بادشاہ - شیطان * To give the—to, * جوہوت کا الزام لگانا - جھٹلانا**

White—, a well-meant falsehood : **دروغ مصالحت جوہوت بولنا * v. t. To tell a falsehood : جوہوت بولنا**

To—in one's throat, * پے حیاٹی سے کہنا آرام کرنا - * v. i. To rest ; to remain : جوہوت بولنا

*** لینا : To sleep : * علاقہ رکھنا * To belong : رہنا**

To be sustainable : * منحصر رہنا To be found : واقع * To—on hand, * بار آنا * To—by, * ہونا - پڑنا - پایا جانا * To—at the mercy of, to be in the power of : ناگوار یا قنبر

- To—in**, to be in childbed : زچہ خانہ * میں ہونا
To—in the way, to be an obstacle : * میں ہونا
To—in wait, to wait in ambush : * سدراہ ہونا
To—over, to be deferred : * گھات میں رہنا
 ملتاری رہنا
Lief, (*poet.*) *ad.* Gladly ; willingly : خوشی سے -
 پرصامندی
Liege, *a.* Subject ; faithful : رعایا - نمک
 بادشاہ - * *n.* A vassal : رعایا * *A sovereign* : ولے نعمت
Lien, *n.* A legal claim : دعویٰ یا حق قانونی
Lieu, *n.* Room ; stead : * جگہ - عرض
 بغرض - بجائے
Lieutenant, *n.* A deputy ; a commissioned officer
 in the army next below a captain : نائب - لفتناٹ
 حام صوبہ * **Governor** : قایم مقام
Life, *n.* Vitality ; animation : * زندگی - جان
 of existence : * *Manner of living* : ہستی - عمر
 * دنیا کے کار و بار : * *Human affairs* : طریق گذران
 * چال و چلن - طرز زندگی - گذران - معیشت :
 داستان - * *Narrative* : * *A person* : کوفی شخص
 * *Eternal happiness in heaven* : * *زندگانی*
 زندہ : * *Vivacity* : * *Biography* : * *سوانح عمری*
 * *Blood* : * *For—*, for the whole
 * *Term of one's existence* : * *درامی*
 * *To the—*, closely resembling ; exact : ہر
 * *The* * *Flower of—*, puberty : * *شباب*
 * *ups and downs of—*, * *زندگی کے نشیب و فراز*
 * *To* * *Confined for—*, * *دایم العبس* - عمر قید
 * *seek one's—*, * *خون کا پیاسہ ہونا* - کسی کی جان
 * *While—remain*, * *عمر بھر* - تا * *کے پیچھے پڑنا*
 * *O' life*, * *—On my life*, * *اوپنی جان کی قسم*
 * *خون جگر*
Life-blood, *n.* Vital blood : * *خون جگر*
Life-guard, *n.* The guard of a king's person :
 شاہی محافظ
Life-insurance, *n.* A contract for the payment
 of a certain sum of money on a person's death :
 جان بیمہ
Lifeless, *a.* Without vigour ; dull ; spiritless ;
 dead : * *پے دم* - بے جان - سست - مردہ
Lifelike, *a.* Like a living person : جاندار سا
Lifelong, *a.* Lasting through life : عمر بھر کا
Lifetime, *n.* The duration of life : تمام عمر - حیات - جہم بھر

- Lift**, *v. t.* To elevate ; to exalt ; to elate : بلند
 * کرنا - اڑھانا - ترقی دینا - سرفراز کرنا - دل بڑھانا
To—a door off its hinges, - چول اگسانا
To—up the hand, * *دروازہ اورتارنا*
To—up the horn, * *اےتوبہ* * *کرنا* - قسم کھانا
To—up the heel * *کر یا مغرور ہر کر چلنا*
against, to treat with insolence or unkindness :
 * *n.* * *In-* * *تقری-اضافہ* - مدد - سہارا -
 * *crement* ; * *promotion* ; * *assistance* ; * *a hoisting*
 * *machine* ; * *advancement* : * *اٹھانے کی کل*
Ligament, *n.* A bandage ; a bond : پٹی - بند -
 نس
Ligation, *n.* The act of binding ; bond : بندش -
 عقد
Ligature, *n.* A bandage : بند - پٹی - بندش
Light, *n.* The medium by which objects are rendered
 visible to the eye : * *نور* - روشنی * *دن* : * *Day*
 * *Expla-* * *nation* : * *علم* * *Knowledge* : * *تبی* - چراغ
 * *Existence* : * *شکل* * *Aspect* : * *توضیح*
 * *Joy* : * *To bring to—*, to dis-
 * *cover* ; * *to expose* : * *دریانت* * *ظاہر کرنا*
 * *Bright* ; * *The—of the coun-* * *ظاہر* - صاف
 * *tenance*, * *To bear the—of* * *روشن*
 * *day*, * *To stand* * *in one's own—*, * *نظر عنایت*
 * *Light is* * *sown for the righteous*, * *ہر*
 * *Kindle* ; * *to illuminate* : * *روشن کرنا* -
 * *To fall* ; * *to alight* ; * *to settle* : * *گرتا*
 * *Easy* : * *آسان* : * *a. Not heavy* : * *ہلکا*
 * *Swift* ; * *Not oppressive* : * *سہل* * *خفیف*
 * *Unsteady* : * *nimble* ; * *Clear* : * *تیز* * *Not copious*
 * *Trifling* : * *ہریدہ* - صاف - * *چھٹکا* * *چمکلا*
 * *Easy* * *to be digested* : * *Not heavily armed* :
 * *Whitish* : * *ہلکا* - پھیکا * *To make—of*, to
 * *slight* ; * *to disregard* : * *حقیقہ جانا* - ناچیز سمجھنا
Light-bearer, *n.* A torch-bearer : مشعلچی
Lighten, *v. i.* To flash ; to clear : * *چمکنا* -
 * *To* * *make less heavy* ; * *to alleviate* ; * *to cheer* :
 * *کرنا* - روشن کرنا : * *v. t.* * *To enlighten* :
 * *کرنا* - ہلکا : * *to make less heavy* ; * *to alleviate* ; * *to cheer* :
 * *کرنا* - تکلیف کم کرنا - خوش کرنا

Lighter, n. One who lights : روشن کرنے والا * A large open barge : کھلی ہوئی بڑی کشتی

Light-fingered, a. Thievish ; dishonest : - چور اور چمکا - بے ایمان

Light-headed, a. Dizzy ; heedless ; weak : بے مغز - بے خبر - غافل - کمزور

Light-house, n. A house with a light to direct seaman : مینار جسپر جہازوں کی رہنمائی کے لئے روشنی کی جاتی ہے

Lightless, a. Without light ; dark : - بے روشنی - اندھیرا

Lightly, ad. Easily ; wantonly ; nimbly ; gaily : آسانی سے - بے حیائی سے - آراستگی سے - چالاکی سے - تیزی سے - خوشی سے

Light-minded, a. Unsteady ; volatile : غیر مستقل - بے ثبات - بے قرار

Lightness, n. Unsteadiness ; lewdness ; agility : بے استقامتی - متلون مزاجی - نزاکت - بے عمدگی - چالاکی - تیزی

Lightning, n. The electric flash which precedes thunder : بجلی - برق

Lightning-conductor, n. A metallic rod to protect buildings : عمارت کی حفاظت کے لئے بجلی لیجانے والی کل

Lights, n. The lungs of an animal or bird : چرپائے یا پرندے کے پھیپھے

Lightsome, a. Luminous ; gay ; cheering : منور - روشن - خوش - راحت بخش

Ligneous, a. Resembling wood ; made of wood : لکڑی کا سا - چوبی

Ligniform, a. Having the form of wood : لکڑی کی شکل کا

Lignify, v. t. or i. To convert into or become wood : لکڑی بنانا یا بننا

Like, a. Similar ; resembling ; probable ; equal : مثل - مشابہ - مطابق - اقلب - مساوی - برابر - نظیر -

* دل چاہتا ہے - جی میں ہوتا ہے ، Feel * مانند * Had - قریب تھا - کچھہ کرنے ہی یا ہونے ہی ، * n. A copy ; the counter-part : نظر - مثنی - نقل * Like pro- Fancy : ترجیح - چاہ - رغبت - پسند

duces like, جیسے کا تیسا * Likes and dislikes, * v. t. To approve ; to enjoy : پسند کرنا - چاہنا - حط اٹھانا - قبول کرنا - خواہش رکھنا

Likelihood, n. Probability : امکان - احتمال

Likeliness, n. Probability : امکان - احتمال

Likely, ad. Probably ; such as may be liked : غالباً - شاید - قیاساً - قریب العقول - پسندیدہ - خوش آئندہ - سہوارنا

Liken, v. t. To compare : تشبیہ دینا - برابر کرنا

Likeness, n. Resemblance ; portrait ; representation : مشابہت - تصویر - شکل - صورت

Syn. - Similarity, similitude.

Likewise, ad. Also ; moreover ; in like manner : نیز - بھی - اوسیطور سے - علیٰ هذا القیاس - ایسے ہی

Liking, n. Inclination ; approval ; delight ; appearance ; condition : میلان - پسند - منظور - خواہش - خوشی - ظاہرہ صورت - جسمانی حالت

Lilac, n. A flowering shrub : بکابین

Lilliputian, a. Diminutive ; dwarfish : چھوٹے قد کا شخص - ننھا

Lilt, v. t. To sing cheerfully and merrily : خوشی سے گانا - چھچھانا - زندہ دلی سے لہکنا

Lily, n. A beautiful flowering plant : کنول - سرس - کنول (دوبی ہاتھ والا - نازک - handed * - من

Limb, n. A member of the human body : ممبر - شاخ - گدا - ٹہنا - معاون - * A branch ; assistant : * انگ

Lims, n. A weariness in the—s, * مددگار * The lower—s, * ہز پھوٹن

Limber, a. Flexible ; yielding ; pliant : لچلا - نرم - ملائم - لچلچا

Limberness, n. Flexibility ; pliancy : ملائیمیت - نرمی

Limbo, n. (Collog) A region bordering on hell ; a place of restraint : درجہ کے قریب ایک مقام - قید خانہ

Lime, n. A viscous substance : لیمی * Calcareous earth : ایک قسم * A species of lemon : چرونا * v. t. To smear with a viscous substance ; to entangle : لاسا لگانا - پھنسانا - کسی چیز پر چرونا یا سفیدی لگانا

Lime-kiln, n. A furnace for burning limestone :

Limestone, n. A calcareous stone : چرنے کا پتھر
کنکڑ جسکا چرنا بنتا ہے

Limit, n. A bound ; a border ; restriction : حد -
سرحد - گذارہ - سیما - مینق - قید

Syn.—Boundary, border, edge.

Limitary, a. Placed at the boundaries : - سرحدی -
گذارہ کا

Limitation, n. Restriction ; confinement ; term :
The Act of Limitation, قازرن حد سوعات

Limit, v. t. To restrain ; to fix within limits :
ad. Within bounds ; restricted ; narrow : محدود - محدود کرنا - احاطہ کرنا
محدود - محصور - محدود - محدود کرنا - محدود کرنا - محدود کرنا
* service, خدمت معینہ * —service, کوتاہ - تنگ
—professions, مقید پیشے

Limitless, a. Boundless : بے حد - غیر محدود

Limn, v. t. To draw or paint ; to illumine : تصویر
کھینچنا - کتاب وغیرہ پر ملاکاری یا نقاشی کرنا

Limner, n. A painter ; a portrait painter : مصور -
تصویر رنگنے والا - ملا کار

Limp, v. i. To halt ; to walk lamely : لنگ کرنا -
لنگڑانا

Limpid, a. Clear ; lucid ; pure : صاف - چمکیلا -
خالص - پاک - شفاف

Limy, a. Viscous ; containing lime : چونا -
ملا ہوا

Lincture, n. A medicine to be licked up : دراجو -
چات کر کھائی جائے

Line, n. A slender cord : A thread-like mark :
* Length without breadth : نشان - خط - لکیر - نشان

* Outline : نقشہ * A boundary :
* Lineament : صف - قطار : خط و خال * حد

A verse : طریق * Course ; business : بیت *
* A series : سلسلہ * Lineage : The twelfth part of an inch :
* Method : انچ کا بارہواں حصہ

* To give a person— کسی کو ڈھیل دینا
یا مچھلی کی طرح کولانا یعنی کچھ عرصہ تک اُسے

نہ بختی - Hard—s * اپنا رنگ ڈھنگ دکھانے دینا

* To cover on the inside ; مزینا - استر لگانا -
to mark out ; to place along : نشان لگانا - برابر رکھنا -

تظار لگانا - خطوط کھینچنا

Lineage, n. Progeny ; race : نسل - خاندان - سلسلہ

Lineal, a. Composed of lines : خطوط سے بنا ہوا
Hereditary ; in a direct line from an ancestor :
موروثی - خاندانی - آبائی

Lineally, ad. In a direct line : خاص نسل سے -
صابی

Lineament, n. Feature ; form ; outline : شہادت -
خط و خال - شکل - صورت - چہرہ - نقشہ

Syn.—Outline, feature, trait.

Linear, a. Pertaining to a line ; straight ; slender :
خط سے متعلق - سیدھا - مستقیم - سیدھے خط میں -
کمزور - نازک

Linen, n. Cloth made of flax or hemp : سن کا
کتان کا بنا : * a. Made of linen ; white :
ہوا - سفید

Linendraper, n. A person who deals in linen :
بزاز - کتان فروش

Ling, n. A fish of the cod kind : ایک قسم کی
مچھلی

Linger, v. i. To delay ; to loiter ; to hesitate ;
to remain long in any state : ٹھہرنا - دیر لگانا -
کاٹلی کرنا - پس و پیش کرنا - تامل کرنا - دیکھ میں
رہنا - پاؤں پیٹنا - جھولنا - گھلنا

Lingering, a. Protracted ; slow : طویل -
سست - دیر پا

Lingual, a. Formed by the tongue : جو زبان سے نکلے

Linguist, n. A person skilled in languages : زبان
دان

Linguistic, a. Relating to languages : متعلق بہ
زبان

Liniment, n. Ointment : مرہم - طلا - تیل

Link, n. A single ring of a chain : چریب یا زنجیر
* Anything doubled and closed like
a link : * مشعل - لوکا * A torch : * پھندا - قلابہ

* To complicate ; to unite : * ملانا -
وصل کرنا - منسلک کرنا

Linnet, n. A British singing bird : انگلستان کی
ایک خوش آواز چڑیا

Linoleum, n. A kind of floor-cloth : ایک قسم کا
روغنی فرش

Linseed, n. Flax seed : لسی - تیسلی

Linsey-woolsey, n. Cloth made of linen and wool :
کتان اور ارن ملا کر بنا ہوا کپڑا

Linstock, n. A cannonier's staff to hold a lighted match for firing cannon :
گواہ اندازی کی لکڑی
توپ کا ذیبتہ لگانے کے لئے

Lint, n. Flax : سن - کتان * A soft woollen fabric of linen used for dressing wounds or sores :
ردی :
کا پھایا - کتان کا پھایا

Lintel, n. The upper part of a door frame :
دروازہ کے اوپر کی چوکھٹ

Lion, n. A very strong and fierce beast of prey :
شیر ببر - شیر - سنگھ

Lioness, n. The female lion :
شیرنی

Lion-like, a. Fierce and bold :
خرفناکی اور دلیر

Lip, n. The border of the mouth : لب *
ہونٹہ - لب
The edge of anything : کسی شے کا کنارہ *
comfort, زبانی خدمت ر * service, محض زبانی تسلی
خیر خواہی

Lip, v. t. To kiss :
بوسہ لینا - چومنا

Lippen, v. i. To confide in ; to trust :
بھروسا کرنا -
اعتیار کرنا

Liquation, n. The act of melting :
گلتا - پانی
ہونا - گلاؤ - پگولاہٹ

Liquefiable, a. That may be melted :
گلتنے کے قابل

Liquefy, v. t. To melt ; to dissolve :
گلاتا - پگولانا

Liqueur, n. A cordial :
مفرح - میٹھی خوشبودار
شراب

Liquescent, a. Melting :
گلتی ہوئی

Liquid, a. Fluid ; soft ; smooth :
رفیق -
n. Any substance flowing ; liquor :
ہونے والی شے - عرق

Liquidate, v. t. To clear away ; to adjust ; to settle :
حساب صاف کرنا - قرض ادا کرنا - جمع خرچ
To dissolve :
کرنا - حساب طے کرنا - بیباق کرنا
کم کرنا * To diminish :

Liquidation, n. The act of adjusting and settling debts :
تصفیہ حساب و کتاب

Liquor, n. Any fluid substance ; strong drink :
عرق - شراب

Lisp, v. t. or i. To utter with a lisp ; to speak imperfectly :
تتلا - لکنت کرنا - بچرنکی طرح تلفظ
تتلاہٹ - لکنت * n. A defective articulation :
کرنا

Lispingly, ad. Pronouncing imperfectly :
تتلا کر
ہرلنا

Lissome, a. Flexible ; lithe ; nimble ; light :
لچیل - نرم - سبک

List, n. A catalogue : * A strip of cloth :
* Ground enclosed for race or combat ; an arena :
دنگل - میدان - کشتی گاہ - میداں - دنکل
Desire ; pleasure : چاہ - میلان

List, v. t. To sew together : * ملا کر سینا
for combat : * لڑائی کے واسطے گھیرنا
To enrol ; to engage in the public service :
درج فہرست کرنا - دفتر *
To listen : * سننا *
v. i. To enlist ; to incline ; to desire ; to please :
میں داخل
کرنا - مایک ہونا - خواہش کرنا - خوش کرنا

Listen, v. i. To attend ; to hearken ; to yield to advice ; to obey :
متوجہ ہونا - کان لگانا - سننا -
نصیحت ماننا - حکم ماننا

Listless, a. Careless ; inattentive ; vacant :
بے پرواہ - کم توجہ - خالی - معطل - بے شغل

Listlessness, n. Heedlessness ; inattention :
بے خبری - غفلت

Litany, n. A solemn form of supplication in public worship :
عیسائیوں میں عام عبادت کا ایک طریقہ

Literal, a. According to the letter ; not metaphorical :
لفظی - لغوی

Literary, a. Pertaining to literature ; engaged in literary pursuits :
Versed
in literature :
فاضل

Literate, a. Learned ; educated :
-
تعلیم یافتہ -
عاما - پانڈت لوگ

Literati, n. pl. Learned men :
عاما - فضلا

Literature, n. Learning ; literary productions on a given subject ; the class of writings :
علم - علم
انشا - علم ادب - انشا پردازی - انشاگری

Syn. - Learning, erudition.

Litharge, n. The semi-vitrified oxide of lead :
مردہ سڈک

Lithe, a. Easily bent ; pliant ; flexible :
نرم - ملائم -
لچیل - لچکیلا

Lithic, a. Pertaining to or made of stone :
پتھر
کا - سنگین

Lithograph, n. A print from a drawing on stone : پتھر کا چھاپہ

Lithographic, a. Produced by lithography : پتھر کے چھاپے کا

Lithography, n. The art of taking impressions from stone : پتھر کا چھاپہ - لیتھو

Lithology, n. The science of stones : علم پتھورنگیا

Lithomancy, n. Prediction by stones : پتھوروں کے ذریعہ سے نال گروٹی

Lithophagous, a. Eating stones : پتھر کھانڈی والا

Lithotomy, n. The art of cutting for the stone in the bladder : مثانہ کے اندر کا پتھر کاٹنے کا فن

Litigant, a. Contending in law : عدالت میں لڑنے والا - مقدمہ باز - اہل مقدمہ

Litigate, v. t. To engage in a lawsuit : مقدمہ لڑنا - نالائش کرنا

Litigation, n. A suit at law ; carrying on a suit in a court of law : مقدمہ - نزاع عدالت

Litter, n. A coarse bed of straw for animals to rest upon : گھاس کا بستہ جانوروں کے سونے کے لئے - بچھال

* Rubbish : کڑوا کرکت

* A brood of young pig : سور کے بچے - جھول

اٹھری - انتشار - بے ترتیبی سے کھینچی ہوئی چیزیں

Little, a. Small ; brief ; not much ; insignificant : چھوٹا - مختصر - کم - حقیر - کمزور - - - - -

weak : narrow : ذرا سا - قدرے - کچھ * A little, کم

Littleness, n. Smallness ; insignificance : کمگی - قلت - سبکی - خفت

Littoral, a. On the sea-shore : کنارہ پر - سمندر کے کنارہ پر

Liturgy, n. A formulary of prayers ; the established ritual of a Church : عیسائیت کی عبادت کی کتاب - کسی گرجا کی مقدرہ عبادت

Live, v. i. To have life ; to last ; to enjoy life ; to feed ; to dwell ; to reside ; to subsist ; to pass one's time : چلنا - ٹھہرنا - زندہ رہنا - کھانا - گذران کرنا

* To live like a prince, جشن

* To—well, امر داندہ گذران کرنا

کرنا - مزے اڑانا

Live, a. Living ; burning ; vivid ; active : زندہ - - - - -

* جیتا - دھکتا - لال - چمکیلا - تیز - چپل - نریلا

Livestock, n. ڈھور ڈانگر کا دھن

Livelihood, n. Means of support ; maintenance : وجہ معاش - روزی - معیشت

Liveliness, n. Animation ; activity ; sprightliness : زندہ دلی - چستی - چالاکی - خوشدلی

Livelong, a. Tedious ; whole ; all : بہاری - طویل - سخت سارا - تمام - گل

Lively, a. Living ; brisk ; gay ; spirited ; life-like ; vivid ; strong : زندہ - چالاک - خوش دل - تازہ دم - جاندار - شوخ - مضبوط - منہ سے برلتا ہوا

Liver, n. One who lives ; a dweller : جاندار - فی

The organ of the body which secretes bile : * روح - رھنے والا نیچھ - جگر - کبد

Livery, n. Delivery of possession ; deliverance : * دھائی - رھائی

To sue * وردی - نوکروں کی پروشاک - دخل دھائی کی نالاش کرنا

Livestock, n. Cattle, horses, etc. : مویشی و گھوڑے وغیرہ

Livid, a. Black and blue ; of a lead colour ; discoloured : کالا نیلا - سیسے کے رنگ کا - بد رنگ

Living, n. Livelihood ; maintenance ; creatures : روزی - معاش - وجہ معاش - گذران - اوقالت بری

جاندار - جانور

Lizard, n. A reptile : چھپکالی - بستورہا

Lo, int. Look ! behold : دیکھو

Load, n. A burden , a weight ; a cargo ; pressure ; بوجہ - وزن - بار - بار - توپ کا : the charge of a gun

* of sorrow, * of guilt, * - پاپ کی گھڑی - لقمہ

* v. t. To burden ; to bestow in great abundance ; to freight : بوجہ لارنا - کثرت سے دینا - بار کرنا

Loadstar, n. The pole star ; the guiding star : ستارہ قطب

Loadstone, n. The magnet : سنگ مقناطیس - چمبک پتھر - آہن کش

Loaf, n. A lump of baked bread : * پائر روٹی - صاف کیا ہوا

روزہ گدی کرتے * v. t. To loiter about : روزہ گدی کرتے

Loafer, n. A lazy fellow who picks up a living any how : ہول جرد - آرا رہ - نیبو ڈھور - رت کھوا - بد معاش - نکھو - روپی والا - بھگمنا

Loam, n. A rich earth ; marl ; پختلور - مٹی - چکنی مٹی *
v. t. To cover with loam : چکنی مٹی یا پختلور سے پورنا

Loan, n. A lending ; that which is lent ; a permission to use :
 دین - قرض - عاریت

Loath, ad. Unwilling ; backward ; averse :
 ناراض - بیدل - کشیدہ - روگرداں

Loathe, v. t. To hate ; to abhor ; to feel disgust at :
 نفرت کرنا - کراہیت کرنا - گھانا

Syn. — Detest, scorn.

Ant. — Approve, love, like, esteem.

Loathsome, a. Disgusting ; odious :
 نفرت انگیز - مکروہ - گھوننا - ناگوار

Lob, v. t. To let fall lazily :
n. A dull person : گرا دینا * سست آدمی

Lobby, n. An ante-chamber ; an opening before a room :
 ڈیزہ - پیدش دالان - جلوخانہ

Lobe, n. A part of the lungs :
 پہیپڑے کا ایک حصہ - بنا گوش *
 The lower part of the ear :
 بنا گوش - کان *
 کی لو - کڑچیا - لوکی

Loblolly, n. Gruel :
 آش - مائدہ - اوگرا

Lobster, n. A crustaceous fish :
 جھینگا مچھلی

Local, a. Of a particular place ; part ; province or region ; not general :
 کسی خاص جگہ کا - مقامی - مختص المقام - صریح یا مرزوم کا

Localise, v. t. To fix in a definite place :
 المقام کرنا - کسی جگہ پر مضمصر کرنا

Localism, n. Affection for a place :
 * انس مقامی *
 A local idiom :
 کسی جگہ کا خاص متعارفہ

Locality, n. Situation ; position ; existence in a place :
 جگہ - مقام - کسی جگہ رہنا

Locally, adv. With respect to place :
 از درے مرقع - مرقع میں

Locate, v. t. To place ; to settle in a place :
 رکھنا - کسی جگہ رہنا - بیٹھانا - موقع ٹھہرانا - جگہ قرار دینا

Location, n. Act of locating ; place :
 موقع - مقام - جگہ

Loch, n. A lake ; an arm of the sea :
 جھیل - کھاری - شاخ - بصر

Lock, n. A fastening ; a device to fasten doors &c. :
 بندوق کا گھوڑا *
 Part of a gun :
 تالا - قفل :
 An enclosure to confine water :
 پانی جمع کرنے کا

Lock, n. A tuft of hair :
 * لٹ - زلف - کاکل - کیسو *
 A tuft of hair :
 * لٹ - زلف - کاکل - کیسو *

Lock, n. To place in a—up,
v. i. To fasten with a lock and key ; to confine ; to encircle ; to embrace closely :
 قفل لگانا - بند کرنا - احاطہ کرنا

Lock, n. To place in a—up,
v. i. To fasten with a lock and key ; to confine ; to encircle ; to embrace closely :
 قفل لگانا - بند کرنا - احاطہ کرنا

Locket, n. A small lock :
 * چھوٹا قفل *
 A catch :
 * کمانی *
 A little gold case worn as an ornament :
 قاعدے سے پہننے کی چیز - ڈھولنا

Locksmith, n. One who makes or mends locks :
 * Love laughs at—s,
 عشق سات تالی تروڑ ڈالتا ہے

Lock-up, n. A temporary prison ; a custody :
 حوالات

Locomotion, n. The act or power of moving from place to place :
 نقل مکان - حرکت - چال - قوت رفتار

Locomotive, n. A steam-engine on wheels :
 * دکانی پھیادار کل - ریل کا انجن - دودکش چلنے والا - متحرک

Locum-tenens, n. One who temporarily acts for another ; a substitute :
 قائم مقام - عیوضی

Locust, n. A migratory winged insect :
 * —fly,
 ٹیڈی - ملخ

Locution, n. Discourse ; speech :
 وعظ - اسپیچ - کلام

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Lodge, n. A small country residence :
 چھوٹا دیہاتی مکان - کٹھی چھوٹا سا بنگلا یا مکان جو باغ یا سیرگاہ میں مسکن :
 * A temporary habitation ; a hut *
 * The place in which Freemasons assemble :
 جادو - جادو

Loft, n. An elevation ; a floor :
 * کھارے - چھت - کھارے - اٹاری - بالاخانہ - منزل - ڈام

Lofty, a. High ; dignified ; majestic ; proud :
اونچھا - مرتفع - بلند - بارتیہ - عالی - رعبدالدار -

* اعلیٰ درجہ کی عبارت، style، * مغرور - منکر
The—looks of man shall be humbled, سر
انہا کے جر چلیکا - رنگوں ہوجائیکا

Log, n. A bulky piece of timber : برتا * An
apparatus for measuring the velocity of a ship :
جہاز کے رفتار کے انداز کرنے کا آلہ

Logarithm, n. A mathematical term : لوگارتم -
لوکارسم

Log-book, n. A book for memoranda kept by
the captain of a ship or a public teacher :
یادداشت کی کتاب

Logger-head, n. A blockhead ; a dunce : گارڈی -
* To be at—s, * خر دماغ - بے وقوف - کندہ ناتراش
to be engaged in a fight : جھگڑا رگڑا رہنا -
* To fall to—s, * ناچاقی ہونا - مخاصمت رہنا
گھوسم گھاسا کرنا - ساتھا پائی کرنا

Logic, n. The art of reasoning correctly :
منطق - علم مناظرہ - نیاط

Logical, a. Used in logic ; according to the rules
of logic ; discriminating : منطق میں مستعمل - یا
قاعدہ منطق - تمیز کرنے والا - منطقی

Logically, ad. In a logical manner : لڑدے
منطق - یہ دلائل

Logician, n. A person skilled in logic : منطقی -
نیاطیک - منطقدان

Logomachy, n. A contention about words ; a
war of words : الفاظ پر تکرار - مباحثہ الفاظ - نزاع
لفظی - جنگ لفظی

Logwood, n. A red heavy wood employed in
dyeing : ایک قسم کی سرخ بھاری لکڑی جو رنگنے کے
کام میں آتی ہے - پتنگ - بقم

Loin, n. The hinder half of the trunk of an
animal : کرلا - پٹھا - جانور کے جسم کا پچھلا حصہ

Loiter, v. i. To linger ; to delay ; to saunter ; to
spend time idly : دیر کرنا - سستی کرنا - بیہردہ
پھرتا - ہرزہ گردی کرنا - درنگ کرنا - مہمیاں مارنا

Loll, v. i. To thrust out the tongue : زبان نکال دینا -
* v. i. To act lazily ; to recline ;
to put out the tongue : سستی سے کام کرنا - پڑا
رہنا - لیٹے رہنا - ایندنا - ماچا توڑنا

Lonely, ad. Solitary ; unfrequented : تنہا -
کا - مجرد - اجاز - سن سان

Loneliness, n. Solitude ; love of retirement :
تنہائی - ایکانت - خلوت گزینی - گوشہ نشینی - تجرد
پسندي

Lonesome, a. Solitary ; dismal ; secluded from
society : تنہا - اکیلا - اوداس - سوسان

Long, a. Extended ; distant ; tedious : دراز - دور -
طول - لمبا - دیر لگانیرلا - طول طریق - بڑا - اوکتانے
فراخ، views، * والا - تکلیف دہ - نشادہ - وسیع - فراخ

home، the grave : * dozen، * خیات
In the—run، in the ultimate result :
* cloth، a kind of fine cotton fabric :
The—and the short، the sum and
substance : * To draw the

—bow، to exaggerate : میبالغہ کرنا - بڑھا کر کہنا
* To have a—head، عالی دماغ *
ad. To a great extent in space or time ;
through the whole ; all along : فاصلہ تک - عرصہ

* تک - مدت تک بہت پہلے - برابر - متواتر - سرتا پا
* ago، * بڑی دیر بعد
—before، * v. i. To desire eagerly :

مشاقق ہرنا - ترسنا - جی چاہنا

Longeval, a. Long-lived : عمر دراز - بڑی عمر کا

Longevity, n. Duration of life : درازی عمر

Long-headed, a. Shrewd ; farsighted : پیدش
بیون - دور اندیش

Longing, n. An eager desire ; an earnest wish :
خراہش - تمنا - آرزو - رغبت

Longitude, n. Length : * درازی - انبائی
The distance east or west of any place from cer-
tain fixed point : مارل الہاد

Long-sighted, a. Able to see things at a great
distance ; far-seeing : دور کی چیز دیکھنے والا -
(نزدیک کی کم) - دور اندیش - عاقبت اندیش

Long-winded, a. Long-breathed : بڑے دم کا -
دم دار

Loo, n. A game at cards : تاش کا ایک کھیل

Looby, n. An awkward fellow ; a lubber : ہودا
دھصص - اتاری - بے سلیقہ - گنوار - کام چور

Look, v. i. To direct the eye toward an object ; to
gaze : * آکھہ اٹھا کر دیکھنا - نظر ڈالنا - دیکھنا
* To mind : * امید کرنا - انتظار کرنا

* ڈھونڈنا - تلاش کرنا : To search out * خیال کرنا
 To observe * چوکسی یا خبرداری کرنا : To watch
 نظر آنا - معلوم : To seem * لگتا کرنا : To seem
 سامنے ہونا - مقابل : To front * ہونا - دیکھ پڑنا
 * مقابلہ کرنا - سامنے ہونا : To face, to front * ہونا
 To appear : * معلوم ہونا - نظر پڑنا : To appear
 To—black, * نگہبانی کرنا : To take care of
 To—blank, to be confounded : * تیرپی یا ناک بھڑی چڑھانا
 To—down upon, to treat with contempt : * نظر حقارت
 To—down upon, to treat with contempt : * تلاش کرنا : To
 expect : * تلاش کرنا : To—down upon, to treat with contempt
 * To—out, to be on the watch : * ہوشیار یا خبردار رہنا
 To—through, to see or understand perfectly : * اچھی
 د۔ نظر : * To—to, to take care of : * طرح دیکھنا
 To—up, to look upwards : * توقع رکھنا : To expect from
 * To—up to, n. Aspect : * نظر اٹھانا : To expect from
 * To—daggers, to look angrily : * عزت کی نظر سے دیکھنا
 * Aspect : * n. Aspect : * غصہ کی نظر سے دیکھنا
 * Cast of countenance : * حال - ظاہر - چہرہ : * شکل
 دیکھنا - نظر - نگاہ : The act of looking view :
 آئینہ : Looking-glass, n. A mirror :
 Lookout, n. A view ; a watch ; a place of obser-
 vation ; a watch man : * نگاہ - نگہبانی - چوکسی -
 دیکھنے کی جگہ - نگہبان
 Loom, n. A weaver's frame ; a tool ; the handle
 of an oar : * چلائے کا راچہ - ایک اوزار - چپر کا حصہ
 جو کشتی کے اندر ہوتا ہے
 Loom, v. i. To appear large and indistinct at a
 distance : * دور سے بڑا دکھائی دینا
 Looming, n. A mirage : * سراب - تشرنا
 Loon, n. A rogue ; a rascal : * شہدا - پاجھی -
 بد معاش - بد ذات
 Loop, n. A noose ; a double in a rope : * کمنڈ - پھندا
 Loop-hole, n. An aperture ; secret means of es-
 cape : * درشدان - بھاگنے کا چوراہا - حیلہ
 Loose, v. t. To unbind ; to set free ; to remit ;
 to relax : * کھولنا - آزاد کرنا - معاف کرنا - ڈھیلا کرنا
 * To break—, to escape from control : * نکل
 * a. Un- * بھاگنا - تیز کر بھاگ جانا - چھوڑنا - کھلنا
 bound ; not tight ; not close ; free ; dissolute ;
 vague ; not crowded ; not rigid : * کھلا ہوا - ڈھیلا -

چھٹا ہوا - آزاد - بد چان - مبہم - ابتر - بکھرا -
 پھیسپا - بھولا ہوا - بے روک
 Loosen, v. t. To reflex ; to separate ; to free from
 restraint : * ڈھیلا کرنا - الگ کرنا - آزاد کرنا
 Looseness, n. State of being loose ; a flux : * ڈھیلا
 * To have a—, * ہن - کشادگی - جریان شکم - اسہال
 پیت چلنا
 Loot, n. Plunder : * لوت - غنیمت
 Lop, v. t. To cut off ; to separate ; to prune : * کاٹ
 ڈالنا - جدا کرنا - کترنا - قلم کرنا
 Loquacious, a. Talkative ; noisy : * باتوئی - بکھی -
 بکھراوی - گچی - کلمے دراز - فضول گو
 Loquacity, n. Garrulity : * فضول گوئی - بکھراں
 Lord, n. A superior ; a rule ; a baron ; a hus-
 band ; the Supreme Being : * سردار - حاکم - لارڈ -
 شہرہ - خاوند - خدا - مولا - اللہ
 Lord, v. i. To domineer ; to rule arbitrarily :
 * تعسک کرنا - حکومت کرنا - خاوندی کرنا
 Lordliness, n. High station ; haughtiness :
 * امیری - صاحبی - تکبر
 Lordling, n. A little lord : * چھوٹا لارڈ - نواب
 Lordly, a. Like a lord ; grand ; haughty :
 * حاکمانہ - عظیم الشان - متکبر - مغرور - اتر باز
 Lord's-day, n. Sunday : * اتوار - یکشنبہ
 Lordship, n. Domain : * بادشاہت - صاحبی - سرداری
 * A title of address to a nobleman : * اختیار * Power * خاوندی
 حضور - خداوند نعمت - جلالی
 Lore, n. Knowledge ; erndition ; wisdom : * علم -
 فضل و ہنر - عقل - نصیحت - تعلیم
 Loricat, v. t. To cover over ; to encrust ; to cover
 with a coating : * مڑھنا - ڈھکنا - لیوا چڑھانا -
 گل حکمت کرنا
 Loricat, n. A protective covering : * خلاف - لپ
 Lorn, a. Lost ; lonely ; forsaken : * گیا گذرا - تنہا -
 متروک - بے کس
 Lose, v. i. To cease to possess ; to be deprived
 of ; to forfeit ; to waste ; to miss ; to ruin ; to
 cease to view ; to fail to obtain : * کھونا - گذرانا -
 معرور ہونا - نہ پانا - ضایع کرنا - معرور کیا جانا - تلف
 * کرنا - گم کرنا - بھولنا - چوڑنا - ہارنا - برباد کرنا - کھونا
 To—heart, to become despirited or discour-

- aged : *To—one's self*, to lose
one's way : *To—become bewildered* :
 گمراہ ہو جانا * *To—become*
 angry : *To—sight of*, to
 overlook ; to omit : *To—*
 overlook ; to omit : *To—*
one's way, to go astray :
 راستہ بیول * *To—*
 ground, ہرنا * *To—*
 ground, ہرنا * *To—*
 no time, مرقع ہانپہ سے نہ دینا
- Loss**, *n.* Privation ; waste ; injury : -
 زیان - نقصان -
To—be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا * *To—*
 be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا
- Syn.—Detriment, privation, damage, injury.
- Lost**, *a.* Not to be found ; forfeited ;
 wasted ; remained ; put ; assembly not visible :
 ؟ کردہ - کھو گیا ہوا - ہارا ہوا - ضائع کیا ہوا
 * *To—*
 be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا * *To—*
 be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا
- Lost to all shame**,
 حیا کا برفہ اُتار دیا - بے شرمی
Lost to all sense of honour,
 حیا کا برفہ اُتار دیا
Lost time is never found again,
 گزرا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں
- Lot**, *n.* Chance ; fortune ; distinct parcel ; state ;
 share ; die ; a quantity ; fate : -
 ہواگ - قسمت - حالت -
 حالت - حصہ - پاسا - قرعہ - انبرہ - گروہ - ہوتے ہوتے
 * *Prior to the lots being*
 knocked down, *To—*
 draw
 —s, *To—*
 fall to one's—, *To—*
 pay scot and—, *To—*
 cast in one's—with,
- گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
 جھیل
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lotion**, *n.* A medicinal wash :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lottery**, *n.* A distribution of prizes by lot :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lotus**, *n.* The water lily :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Loud**, *a.* Noisy ; boisterous ; emphatical :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lough**, *n.* A lake :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lounge**, *v. t.* To spend time indolently ; to loll ;
 to stroll :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Louse**, *n.* A small insect :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lousy**, *a.* Infested with lice ; low ; contemptible :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lout**, *n.* A mean fellow ; a bumpkin :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lovable**, *a.* Worthy of love ; amiable :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Love**, *v. t.* To like ; to regard with affection :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Love**, *n.* Affection ; courtship ; fondness ; person
 loved ; nothing in some games (*tennis*, &c.) :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- To—**
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا * *To—*
 be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا
- Reciprocal**,
 محبت کا متبادل
To—
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا * *To—*
 be at a—, *To—*
 bear a—, *To—*
 make up a—,
 قربانی ہرنا
- Love-apple**, *n.* The tomato :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Love-letter**, *n.* A letter of courtship :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Loveliness**, *n.* Beauty ; amiableness :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lovely**, *a.* Amiable ; pleasing ; charming ; en-
 chanting :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Lover**, *n.* One who loves ; friend :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Love-song**, *n.* A song expressing love :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Loving-kindness**, *n.* Tender regard :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Low**, *a.* Not elevated :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Subdued** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Dejected** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- In** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- poor** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- circumstance** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- degraded** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- condition** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- rude** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- dejected** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- depressed** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- low** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- estimate** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- land**, *n.*
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- Land which is low** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید
- To bellow as an ox** :
 گہاڑ وغیرہ دھرنے کی
 دوا
 چھوٹی -
 قرعہ اندازی
 کنول
 پر شر -
 غوغائی - تند - تیز - مرگد - پوزر - تاکید

Lower, v. t. or i. To let down ; to humble ; to reduce in value ; to fall ; to decrease : - نیچا کرنا - گھٹانا - پست کرنا - دبانا - خفیف کرنا - کم قیمت کرنا - گراندا - کم ہونا

Lowermost, a. Lowest : سب سے نیچا

Lowliness, n. Humility ; meanness : عاجز - فروتنی - کمینہ بن - انکساری - پست حالی - خفت

Lowly, a. Not high ; mean ; humble meek ; unpretending : پست - کمینہ - غریب - عاجز - حلیم - فروتن - احقر

Lowminded, a. Vulgar : سفاهت - فرمایہ - مزاج

Lowness, n. Depression ; low birth ; humility : افسردگی - زوال - کمینگی - انکساری

Loyal, a. Faithful to a prince of superior ; true ; devoted : ایماندار - نمک حلال - صادق - وفادار

Loyalist, n. One who is faithful to his sovereign or country : بادشاہی یا ملکی خیر خواہ

Loyalty, n. Allegiance ; fidelity : وفاداری - ایمانداري - نمک حلالی - خیر خواہی

Lozenge, n. A rhomb ; a small cake of flavoured sugar : معین - قرص شکر - میٹھو - گھیا

Lubber, n. A heavy clumsy fellow ; a clown : بھدا شخص گنوار - پھرہز

Lubberly, ad. Clumsily ; awkwardly : بھدے پن سے - بھرتکے پن سے

Lubricate, v. t. To make smooth ; to apply oil or greasy substance to : چمکنا کرنا - اونگھنا

Lubrlicity, n. Slipperiness ; smoothness ; instability : پوسلاہت - چمکنا پن - ڈپٹیڈاری

Lucent, a. Bright ; resplendent : چمکیلا - تاباں - روشن - درخشاش

Lucernal, a. Pertaining to a lamp or candle : چراغ یا بتی کے متعلق

Lucid, a. Bright ; clean ; transparent ; easily understood : چمکیلا - صاف - روشن - آسان - واضع - (مثلاً) ہوش - رتہ - رقت - interval - صریح - سلیس - جب مریض اپنے حوش میں ہے - افاقہ

Syn. - Luminous, clear, transparent.

Lucidity, n. Brightness ; clearness : صافگی - چمکیلا پن - تہذیبگی - شفافی

Lucifer, n. The planet venus : شکر - زہرہ * Satan : دیا سلائی * A friction match : شیطان

Luck, n. Chance ; fate ; good fortune : اتفاق * I wish your—, To be in—, بھری بھری چاہتا ہوں - بھری انداز رکھے - بھری بھری نصیب جاگنا - بھرا بھرا نصیب

Luckless, a. Unfortunate : - نصیب - ام بھخت - اہباگا

Lucky, a. Successful ; fortunate ; prosperous : بھری - مند - خوش نصیب - اقبال مند - طالع مند - مبارک

Lucrative, a. Gainful ; profitable ; paying ; remunerative : نفع کا - مفید - سود مند - لابیہ دایک - اپنی آمدنی کا - گنجائشی - نافع

Lucre, n. Gain in money ; profit : منافع - فائدہ - لابیہ - دولت

Lucubrate, v. i. To study by candle light : چراغ کے سامنے پڑھنا

Lucubration, n. Nocturnal study ; anything composed by night : رات کے وقت کا پڑھنا - رات کی تحریر

Luculent, a. Lucid ; clear ; luminous : روشن - صاف - شفاف - تاباں - چمکتا ہوا

Ludicrous, a. Laughable ; sportive ; comic : ہنسانیرالا - خندہ ادر مستخراہ

Ludicrously, ad. Sportively ; in a laughable ; comic or droll manner ; family : مستخراہ پن سے - اس طرح سے کہ لوگ دیکھنے کے ہنسیں - خندہ ادری سے

Luff, n. The side of a ship toward the wind : چہاز کا وہ حصہ جو ہوا کے سامنے ہو

Lug, v. t. To haul ; to drag : پٹانہ - کوبینچنا - گھیننا * To—in, to introduce without any apparent connection : * وزن : * n. A weight : * Handle of a vessel : * کانکھی لو - بنا گوش : دستہ

Luggage, n. Baggage : گھوڑی مٹی - سفری اسباب - بچھہ

Lugubrious, a. Mournful : غمگین - اداس - زنجیرہ - محزون

Lukewarm, a. Tepid : * Cool : * شیر گرم - نیم گرم - سرد - پے پھرا - عدم توجہ - indifference :

Lull, n. A temporary quiet or calm : عارضی خاموشی سکون - راحت یا اسایش

Lull, v. t. or i. To compose ; to quiet ; to subside : تسکین دینا - تھپکی دیکر یا اوربے گا کر چپ کرنا - خاموش کرنا

Syn.—Compose, quiet, calm, soothe.

—, **n.** A season of quiet ; cessation : خاموشی کا سماں - تسکین - ٹھہراؤ

Lullaby, n. A song to quiet babies : بچوں کے سنانے کے لئے گیت - اوربے

Lumbago, n. A rheumatic affection of the muscles about the lion's back : درد کمر - ہاٹی کا درد - چک

Lumber, n. Anything useless and cumbrous ; timber : بے کام کی چیز - کبڑا - کوزا - اگزم بگزم - کڑی
* **Lumber house or room,** کھانہ بننا
L. t. * کبڑا خانہ - وہ گام جہاں کئی چیزیں بڑی ہوں
To heap together in disorder : کوزا
انبار لگانا
To move heavily ; to rumble : بھاری
v. i. * کوزا
قدم رکھنا - گڑگڑانا - زور سے چلنا

Luminary, n. Any body that gives light ; specially one of the heavenly bodies ; one who illustrates any subject : روشنی دینے والی چیز - سورج چاند : یا ستارے وغیرہ - علم اور دانش کی روشنی پھیلاتے والا

Luminous, a. Shining ; clear ; bright : چمکیلا - صاف - روشن - درخشاں - واضح

Lump, n. A small mass of matter of no definite shape ; the gross : اکٹھا - **In the—,** انبار : **To throw into a mass ; to take in gross :** ڈھیر لگانا - تھوک خریدنا

Lumpish, a. Bulky ; dull ; stupid : جسمیم - بڑا - سست - بے وقوف

Lumpy, a. Full of lumps :

Lunacy, n. Insanity ; derangement : پاگل پن - جنون - خبط

Lunar, a. Pertaining to the moon ; resembling the moon : متعلق بہ ماہ - چاند کا - قمری - چاند کی : مانند

Lunatic, a. Insane ; mad : پاگل - دیوانہ * **asylum,** پاگل خانہ

Lunch, n. A slight repast between breakfast and dinner : ناشتہ

Lune, n. Anything in the shape of a crescent or half moon : ہلالی شکل کی کوئی شے

Lung, n. The organ or respiration : پھیپزا

Lunge, n. A sudden thrust : ٹوہنچا

Lunt, n. A quick match for firing cannon : توپ داغنے کا ڈایتہ یا توڑا

Lunular, a. Shaped like a new moon : بہ شکل ہلال

Lupine, n. A plant : * **a.** Wolfish * باقلہ مصری
ravenous : بھینٹنے کے ایسا - گری سیرت - بھانڈ بھانڈا - درندہ

Lurch, n. A sudden roll of a ship to one side : * **A forlorn position :** * جہاز کا یکایک ٹوٹ ہرجانا
To leave in the—, to leave in a difficult position : * پریشانی کی حالت میں چھوڑنا
To lie, at—, to lie in wait : * گھات میں لگنا
v. i. * گھات لگانے والا - پینڈر
To play tricks : دھوکا دینا - بھلا دینا

Lurcher, n. A poacher ; a dog that lies in wait for game : شکاری جانور چورانی والا - ایک قسم کا شکاری کتا - گھات لگانے والا - پینڈر

Lure, n. An enticement : لالچ - صلح - پوسلاہٹ

Lure, v. t. To entice : لالچنا - بھلانا - ورغلانا - بھکانا
جھانسا دینا - لپھانا

Lurid, a. Ghastly pale ; gloomy : پیدلا - زرد - خرفناک - دھندلا

Lurk, v. t. To lie hid ; to be in wait ; to keep out of sight ; to remain concealed : چھپا رہنا - گھات میں رہنا - پوشیدہ ہونا - دیکنا

Lurking-place, n. A hiding place ; a den : کھین گاہ - گھات دی جگہ

Syn. Ambush, ambuscade retreat.

Luscious, a. Sweet ; delicious : میٹھ - خوش ذائقہ - شیریں - لذت - مزہ دار

Lust, n. Longing desire ; carnal appetite : شہرت - مستی - چل

Lustful, a. Sensual ; inordinate ; lewd : پر شہرت - مست

Syn.—Cearna, impure.

Lustily, ad. Vigorously ; stoutly : زور سے - مضبوطی سے

Lustral, a. Used in purification : پاک کرنے والا - صاف کرنے والا

Lustrate, v. t. To purify : پاک کرنا - صاف کرنا - سدھ - کرنا

Lustration, n. Purification by water : پاکیزگی - صفائی

Lustre, n. Brightness : روشنی * Renown ; fame : شمع دان * A candlestick : شہرت - نام آوری

Syn.—Gleam, radiance, brilliancy.

Lustring, n. A stout glossy kind of silk cloth : ایک قسم کا چمکیلا ریشمی کپڑا

Lustrous, a. Bright ; luminous ; shining : چمکیلا - روشن - تابان - منور - درخشندہ

Lustrum, n. A space of five years : پانچ برس کا زمانہ - نو لرز پانچ سالہ

Lusty, a. Vigorous ; healthful ; stout ; bulky : طاقتور - تندرست - مضبوط - ذیل قبول کا - مرٹا تازہ - ہٹا ہٹا - ترانا

Lute, n. A musical instrument with strings : ڈبدر - لوتن

Luxate, v. t. To put out of joint ; to dislocate : جوڑا اور لڑنا یا لگانا

Luxation, n. A putting out of joint ; to dislocate. جوڑیا گاتھو کا اوتار جانا - بے جگہ ہرنا - لگانا

Luxuriance, n. Rank growth ; exuberance : افراط - کثرت - زیادتی

Luxuriant, a. Abundant ; exuberant in growth : کثرت سے - بے افراط

Luxuriate, v. i. To grow to superfluous abundance ; to indulge to excess ; to live luxuriously : بہت زیادہ ہونا - کثرت سے ہرنا - چن کرنا - عیش و عشرت سے رہنا

Luxurious, a. Voluptuous ; given to luxury ; furnished with luxuries ; enslaved to pleasure : عیاش - نفس پرست - جشن باز - پر تکلیف - آراستہ - عشرت کا غلام

Luxury, n. A free indulgence in rich food, dress or furniture ; a delicacy ; voluptuousness ;

effiminacy : عیش و عشرت - اچھا کھا پینا اور اچھی طرح رہنا - مزدار شے - نفس پرستی - نزاکت

Syn.—Sensuality, voluptuousness, delicacy.

Lycanthropy, n. A kind of insanity in which the patient imagines himself to be a wolf : ایک قسم کی دیوانگی جس میں مریض اپنے کو بوجڑا سمجھتا ہے

Lyceum, n. A house appropriated to instruction by lectures ; a literary institute : وہ مکان جس میں لیکچر کے ذریعہ سے تعلیم دیا جاتا ہے علم ترقی کا جاسہ

Lychnobite, n. One who works by night and sleeps by day : وہ جو رات کو کام کرے اور دن کو سوئے

Lydian, a. Pertaining to ancient Lydia ; soft ; effeminate : نرم - کمزور - متعلق کرمینا کا پتھر، stone—

Lye, n. Water impregnated with alkaline salt : سبب دار پانی

Lying, a. Addicted to telling lies : دروغگر - جھوٹا - زچہ - in woman, لینا بڑا - بڑا ہوا

Lymph, n. A colourless fluid in animal bodies : لہف - پنچھوا

Lymphatic, a. Phlegmatic ; sluggish : لہف - متعلق

Lynch, v. t. To inflict punishment without the forms of law ; as a mob : بے قاعدہ سزا دینا

Lynx, n. A wild animal of the cat kind ; noted for its keen sight : تیز نگاہ - * بن باز - eyed

Lyre, n. A stringed instrument of music ; a kind of harp much used by the ancients : سرود - بین - * n. A lyric poem, * n. A lyric poem, سرود - نغمہ - روایت

Lyric, a. Pertaining to a harp, or to odes or poetry sung to a harp : بین کا بربصا کا - گانے کے - کیت نغمہ - سرود - * n. A lyric poem, * n. A lyric poem, سرود - نغمہ - روایت

Lyrist, n. One who plays on the harp or lyre : بربصا نواز - بین کار

M

Mab, n. In northern mythology the queen of fairies : پریوں کی ملکہ

Mac, n. Son : بیٹا

Macadamise, v. t. To cover a road or path with small broken stones : رڑی جمانا - رڑی پھینکا

Macaroni, n. A kind of edible paste ; a fop : ایک قسم کے سیر - البیلا - چھیلا - دونا

Mace, n. A club ; a cue ; an insignia of authority : موٹا - لاثہ - اٹھا کھیلنے کی چھڑی - عصا - چارٹری - جاقل کا پوست

Macerate, v. t. To mortify ; to make lean : دبلا
To steep almost to solution : بھگ کر کلاؤ - تھیل کرنا

Maceration, n. The act of reducing to leanness ; mortification : تھیل - لاؤ - نفس کشی - ریضت

Machinate, v. t. To form a scheme ; to plot : بندش کرنا تدبیر کرنا - سازش کرنا

Machination, n. A contrivance ; an artful design : سازش - بندش

Machine, n. A complex instrument contrived to lessen human labour : an engine ; supernatural agency in a poem ; a person who acts only as other tells him . - آہ - کل - انجن - الہ جز سقیل - صنعت - ہارت - انتظام - وہ شخص جو دوسرے کی مرضی پر چلے

Machinery, n. The working of a parts of a machine ; machines collectively ; complicated routine : کل کی ترکیب - کل کے سب بجزے - کل پیچدار - دستور اہول

Machinist, n. A constructor of machines ; one skilled in machines : آلہ ساز - کل بنانے والا - فن جز - سقیل - اصول کا ماعو - مائو اصول کل و آلات

Mackintosh, n. A water proof overcoat so-called from the inventor : پز ساقی جامہ

Macrocephalous, a. Having a large head : بڑے سزوالا

Macrocosm, n. The whole world or visible system : دنیا - عالم - ستسار

Macrology, n. A tedious multiplicity of words : کلمہ درازی - فقیر گوئی - کلام لایانی

Maculate, v. t. To stain ; to sully : داغ لگانا - دھبہ ڈالنا

Maculation, n. A spotting ; a stain : داغ

Mad, a. Insane : Furious * پاگل - دیرانہ - بڑھم ; disordered in the mind ; infatuated : آگ بھولا - غضبناک - جنونی - مقرون - فریفتہ - سردہا - شیدا

Syn. - Insanity, distraction, derangement, craziness.

Madam, n. A term of address for lady : - مقرون بی بی - بیگم - خانم صاحبہ - میم صاحبہ

Madcap, n. A wild thoughtless rash person : شریدہ - وحشی طبع - معجرائہ

Madden, v. t. or i. To make or become mad : پاگل ہونا یا پاگل کرنا

Made, pa. p. of make - جزوا ہوا - لایق ٹھیک : Suited ; fit ; fortunate * جزو دار دورہ دوسرے طور ، A—dish * مناسب - خزش نصیب پر بنایا گوشت - ڈلس

Madeira, n. A highly-esteemed wine made in Maderia : مڈرا شراب

Mademoiselle, (mad mwazel) n. Miss ; girl : ٹاکتخدا لڑکی - کنواہی - کنیا

Madly, ad. Furiously ; foolishly : - وشیانہ طور سے - بیوقوفی سے

Madman, n. A lunatic : پاگل - دیرانہ - معجرائہ

Madness, n. Insanity ; extreme folly ; distraction : سوانا - دہو نہ بن - حد درجہ کی بیوقوفی - شریدہ - جزوی - خبط - اضطراب

Syn. - Insanity, derangement, craziness, lunacy.

Madonna, n. A term of address : * بی بی صابہ - مریم یا انکی تصویر

Madrigal, n. A pastoral song : گواراز گیت - کجڑی - رس گیت

Magazine, n. A building in which to store provision ; arms, etc. ; an arsenal : گدام - میگ زین
A periodical publication : اخبار - رسالہ - ماہ خانہ گنجینہ

Maggot, n. A worm ; grub : ایک قسم کا کیڑا - خیال - مچ - لہر * Whim ; fancy : کیم

Maggoty, a. Full of maggots : * کیڑوں سے بھرا ہوا - خیالی - من مرجی - لہری

Magi, n. pl. Eastern philosophers : معجرس

Magic, n. The art of producing effects by super-human means ; sorcery ; enchantment : علم - مستیز - جدر - انسورن - جادو گری - سحر - ٹونا

Magical, a. Pertaining to magic ; performed by spirits ; necromantic ; done by sorcery : سحری - جادوانہ - ازاج کے ذریعہ سے کیا گیا - طلسماتی - پر انسورن

Magically, ad. According to magic : - جادو سے - جادو سے

Magician, n. One professedly skilled in magic : ساحر - جادو گر - طلسم ساز - اوجہا

Magisterial, a. Authoritative ; lofty ; despotic ; proud : مغرور - متکبر - خود مختار - حاکمانہ - عالی

Magisterially, ad. Proudly : مغرور سے - متکبرانہ

Magistracy, v. The dignity of a magistrate ; body of magistrates : عہدہ مجسٹریٹ - زورہ - مجسٹریٹوں - رصرتہ حاکمانہ کچھری نو-داری

Magistrate, n. A public civil officer invested with executive or judicial authority : مجسٹریٹ - حاکم

Magna charta, n. (L) The great charter obtained from king John 1215 A. D. : حاکم جو : انگلستان کے لڑکوں کو بادشاہ جان سے ملے

Magnanimity, n. Greatness of mind ; generosity : عالی دماغی - بلند دماغی - دریا دل - فیاضی

Syn. Nobility, dignity, high courage.

Magnanimous, a. Great of mind ; elevated in soul ; brave : عالی حرصتہ - بلند دماغی - الراجز - دلیر - شجاع

Syn. - Noble, generous, chivalrous, liberal.

Magnanimously, ad. Nobly ; bravely : فیاضی سے - دلیرانہ - بلند دماغی سے

Magnate, n. A noble ; a man of rank and wealth : شریف - امیر - درلہند

Magnate, n. A man of rank, a grandee ; a distinguished person : امیر - بابر - بڑا ادبی - نامی گرامی - شخص

Magnesia, n. A white alkaline earth used medicinally : ایک قسم کی سفید مٹی جو دوا میں استعمال کی جاتی ہے

Magnet, n. The loadstone : سنگ مقناطیس - آهن ربہ - چمک پتھر

Magnetic, a. Possessing the property of attracting iron ; attractive : آهن ربائی کی خاصیت رکھنے والا - جذب

Magnetise, v. t. or i. To render magnetic : مقناطیسی قوت دینا - جذب کرنا - کو بیچ لینا

Magnetism, n. The science which treats of the properties of the magnet ; attraction : علم قوت مقناطیسی - قوت جذبہ

Magnific, a Great, noble : عظیم - عالی شان - شریف - نامور

Magnificence, n. Splendour : جاہ و جلال - شان و شوکت - عظمت - رونق

Magnificent, a. Pompous ; grand ; fond of splendour : عظیم الشان - بزرگوں - رونق دار - عمدہ - عالی شان - باشکرہ

Magnificently, ad. Splendidly ; grandly : شان سے - جاہ و جلال سے

Magnify, v. t. To praise highly ; to exaggerate ; to make great : مدح کرنا - بڑھانے کرنا - بڑھانا - سراہنا

To—one's self, to show great pride : * **To—against, to oppose with pride** : * **Magnifying glass** : بڑھانے والا شیشہ

Syn. - Enlarge, augment, amplify, extol ; glorify.

Magniloquent, a. Pompous in words ; speaking pompously : بڑے بڑے لفظ استعمال کرنے والا - بڑی شان سے بولنے والا - لفظ - مدائغہ گر

Magnitude, n. Dimension ; bulk ; size ; greatness ; importance : عرض طویل و عمق - مصالحت - مقدار - قدر و قامت - عظمت - بزرگی

Syn. - Largeness, grandeur.

Magpie, n. A well known chattering bird : غوغائی - مینا

Mahogany, n. A hard wood of a reddish colour : میٹھاگنی - ایک قسم کی سخت - سرخ رنگ کی ایک لکڑی

Maid, n. An unmarried woman ; a virgin ; a female servant : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maid, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maiden, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maiden, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maiden, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maiden, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maiden, n. An unmarried woman ; a virgin : کراچی - دلشیرہ - نقرانی - ان بندہ - مرتبی - رنڈمفتہ - مزدوری - کنیر - خراس - لڑکی

Maidenhood, n } Virginitv ; freshness ;
Maidenhead, } uncontaminated state : بکارت - دلشیرگی - تازگی - اچھوتا پن - کراچی

Maidenly, a. Gently ; modest : حلیما دار - حیا دار *
ad. In a maidenlike manner : نذواروں کی طرح

Maid-servant, n. A female servant : نونکری -
 چا کرنی - تہلی

Mail, n. A bag for the conveyance of letters : ڈاک
 جوشن - زراہ بکتر * Armour : کا تویلا

Mail, v. t. To post ; to prepare for transmission by
 mail : روانہ کرنا - ڈاک میں بھیجنے کے لیے تیار کرنا
 To arm with mail : زراہ پوش - بکتر پہننا * clad,
 بکتر پوش

Mail-coach, n. A coach that carries the mail :
 ڈاک کی گاڑی

Maim, v. t. To cripple ; to mutilate ; to injure :
 لنگرا کرنا - عضو بیکار کرنا - زخمی کرنا - مغلوب العضو
n. A crippling ; mutilation ; lameness :
 لنگ کرنا - قحاح عضو - لنگڑا پن

Main, a. Principal ; leading ; important : -
 اصل - خاص - اہم - مقدم - ضروری - بڑا - عظیم - فراخ - لاہر - اہم
n. The whole : - سب - کل * All one's strength :
 A chief drain : بحر اعظم : The ocean * پروری طاقت
 With might and—, with full strength : بڑا ڈالا :
 The continent : خوب زور : By—strength, * سے - دل تڑ کے
 In the—, اکثر بازوں میں - زیادہ * The—chance,
 شہزادی سے

Mainland, n. The continent : بڑا عظم

Mainly, ad. Principally ; chiefly : - خصوصاً -
 بیشتر - اکثر

Mainmast, n. The principal or middle mast in
 a ship : جہاز کا اصلی یا بیچ کا مستول

Major, n. Act or fact esp. of theft : چور ڈھور -
 مال معہ مجرم

Mainprize, n. Bail : ضمانت - کفالت - حاضر ضمانتی
 پر رہائی

Mainspring, n. The principal spring of a
 mechanism ; fig ; the main cause of any action :
 کسی گل کا خاص پرزہ - مجازاً کسی کام کا خاص سبب -
 سب سے قوی وجہ تھریک

Mainstay, n. Chief support : - اصلی سہارا - تکیہ -
 بھروسا - آسرا

Maintain, v. t. To preserve in some particular
 condition ; to vindicate ; to justify : قائم رکھنا - ثابت کرنا -

To continue : جاری یا ثابت کرنا - جاری رکھنا
 خراج اٹھانا - To bear the expense of : روای رکھنا
 کھانے کی خبر : To support with food : سر بڑھی کرنا
 بیان : To assert : لینا - ڈن و نقتہ دینا - پرورش کرنا

Maintenance, n. Means of support : چھہ
 Defence ; continuance ; sustenance : قیام - پانڈاری -
 (law) بلاغرض : مقدمہ کی پروری (رہے سے)

Maize, n. Indian corn : مکیا

Majestic, a. Stately ; sublime : - شاہانہ - پرشکوہ -
 عظیم الشان - شاہی - خسروی

Majestically, ad. With dignity ; with grandeur :
 دہرے سے - شان و شوکت سے - ڈر ڈر سے - جلال و حشمت سے

Majesty, n. Dignity ; grandeur : - شکرہ -
 Sovereignty : بزرگی - عظمت - رعب - دبدبہ - والا - رتبہ
 The title of an emperor, king or queen : بادشاہت :
 خطاب سلطان یا بادشاہ یا شہزادی کا - حضرت :
 قبلہ عالم - جہاں پتہ

Major, a. Greater ; elder ; more important : بڑا
n. An officer in rank above a captain :
 میجر - فوجی حاکم جو کپتان سے اوپر : A person of full age :
 افسر - بالغ - جوان * ہرنا ہے

Major-domo, n. The manager of a large household ;
 داروغہ - خاندانوں - گھر کا کرتا : دھرنا - کل کلاں

Majority, n. Full age : باورغٹ * The greater
 number : اکثریت * The military rank of a major :
 میجر کا عہدہ

Make, v. t. To form ; to mould : - ساخت کرنا -
 ہستی میں لانا - مطاق : To create : ڈھالنا - گڑھنا
 نقی بنانا - To produce something false : کرنا
 عمل : To execute : ساخت کرنا - ایجاں کرنا - نکالنا
 To compel to do ; to perform ; to commit :
 مجبور کرنا - کرانا - انجام دینا - ارتکاب : کرنا
 To bring into any state ; to gain ; to reach ;
 to operate : حاصل کرنا - پہنچانا : To gain :
 کماتا - پیدا کرنا * مرثر ہرنا
 To in— : سہنا - اٹھانا - بھرنے : To suffer :
 قح اٹھانا : To—amends for, to make
 reparation for : بھرنے : To—away,
 To—believe, to مار ڈالنا - قتل کرنا - بولنا

pretend : کرنا یا بنا کر بہانہ * To—good, to indemnify : پورا کرنا * To fulfil : پورا کرنا * To—little of, to treat as insignificant : حقیر سمجھنا * To—much of, to consider of great value : قدر کرنا * To—neither head nor tail of a thing, to understand nothing at all : بالکل نہ سمجھ سکتا * To—after, to pursue : پیچھا کرنا * To—nice, To—strange, To—nothing of, to be unable to understand : نہ سمجھ سکتا * To—off, to depart hastily : بھاگ جانا * To—over to, to deliver : حوالہ کر دینا * To—shift, to contrive with such means as are available : کام چلانا * To—short work with, to make an end of ; to kill : خاتمہ کر لینا۔ مار ڈالنا * To—the best of a bad bargain, to submit to what one cannot help and turn it to the best possible account : کلمے پڑی کر نبھانا * To—faces, to mimic : ہرانا * To—water, to leak : چرنا * To void urine : پینتھ کرنا * To—way, to make progress : آگے بڑھنا * To open a passage : راستہ نکالنا * To—account of, قدر * To—a hole in one's pocket : حجب میں چھید کرنا۔ خرچ خرچانا۔ کچھ نہ بچانا * To—a reference, رجوع کرنا۔ دیکھنا * To—free with, بلا تکلف پیش آنا * To—good a claim, حق ثابت کرنا * To—headway, ہلکا جانا۔ حقیر * To—light or little of, حقیر * To—merry, ضیافت دینا۔ تواضع کرنا * To—merry * To—much of, بڑا سمجھنا * What to—of, کیا * To—words, باتیں بنانا۔ کرنا چاہئے

جو کھنا۔ راغب ہونا۔
Make, n. i. To tend : دینا۔ پھرنے پھرنے۔
To contribute : آگے بڑھنا
To appear : دکھائی دینا۔ معام ہونا۔
To—at, کسی * To—as if, دکھانا کہ گویا *
To—from, کسی سے بچنا یا بھاگنا *
To—up with, کسی *
To—a cat's paw of one, سے صلح یا میل کر لینا
To—a clean breast * کسی سے اپنا کام نکالنا لینا
To—a new departure, نیا طریقہ اختیار کرنا
To—a virtue of necessity, اس مجبوری کام کو ظاہر طور سے اس
To—ducks and drakes of, طرح طرح کرنا کہ گویا دل کی خوشی بے

* کہایت شعاری سے آمیزگی کے
To—neither head no tail * اندر اندر کرنا
To—one's mark, * ناپوری حاصل کرنا
To—up for, * معارضہ کرنا۔ بدل لینا

Make, n. Workmanship ; form : کاریگری۔ ساخت۔ بنا کر۔ شکل۔ قول۔ اقدام۔ جہت

Makebate, n. One who excites contentions : لڑائی لڑانے والا۔ فتنہ انگیز۔ بس کی گائتھ

Maker, n. One who makes ; the Creator : بنانے والا۔ کاریگر۔ پیدا کرنے والا۔ آفرینندہ۔ خالق

Makeshift, n. A temporary expedient : حکمت۔ مصلحت۔ تدبیر۔ عذر

Maladministration, n. Bad management of public affairs : بد انتظامی۔ بد عملی

Malady, n. Sickness ; depravity : بیماری۔ مرض۔ عارضہ۔ نقص طبع۔ فساد رنگ

Mala fide, ad. بد نیتی سے۔ بے ایمانی سے

Malapert, a. Bold ; forward ; impudent ; saucy : بے احتیاط۔ بے ادب۔ شرم۔ گستاخ

Malapropos, a. Out of place : بے موقع۔ بے جا

Malaria, n. Noxious exhalation ; poisonous air : ایشیات۔ فاسد ہوا جو بخار کا باعث ہو

Malarious, a. Affected by malaria ; unhealthy : مہرابی۔ مضر۔ صحت

Malacontent, n. One who is discontented or dissatisfied : بیزار۔ ناراض۔ ناخوش

Male, a. Relating to the sex that begets young : مرد۔ نر

Male, n. One of the sex that begets young : مرد۔ نر

Malediction, n. Evil speaking ; a curse ; execration ; imprecation : بدعا۔ لعنت۔ سزا۔ بدکاری۔ گناہ۔ جرم

Malfeasance, n. A crime : بدکاری۔ گناہ۔ جرم
 Syn.—Culprit, convict, criminal, out-law.

Malefactor, n. An evil-doer : بدکار۔ گنہگار۔ مجرم

Malevolence, n. Evil disposition towards another ; ill-will : بداندیشی۔ بدخواہی۔ بغض۔ کینہ۔ حسد۔ تداوت

Malevolent, a. Ill disposed ; wishing evil : بداندیش۔ کینہ۔ بدخواہ

Malice, n. Spite ; deliberate mischief ; ill-will :
بغض - عداوت - کینہ - بد اندیشی - لاگ - آقا

Syn.— Malevolence, grudge.

Malicious, a. Harbours ill-will ; ill-disposed ;
envious : بدخواہ - بداندیش - حاسد - کینہ ور

Maliciously, ad. With evil intentions : بدخواہی
سے - بد اندیشی سے

Malign, v. i. To regard with envy ; to defame ;
to vilify ; to speak evil of ; to harm : حسد سے
دیکھنا - بدنام کرنا - ذلیل کرنا - نقصان پہنچانا

Malignancy, n. Bitter enmity ; malice ; un-
favourableness ; virulence : عداوت - بدخواہی -
کینہ - اختلاف - نا مراقت - خیانت - خصومت -
سختی

Malignant, a. Malicious ; virulent ; dangerous
to life : بد اندیش - بد باطن - سخت - زہر آلودہ -
مہلک

Malignity, n. Bitter enmity towards another ;
deep-rooted spite ; virulence : عداوت - کینہ - بغض -
سختی - خناس تہمتی

Malingering, v. t. To feign illness : بیماری کا
کرنے والا

Malingeringer, n. One who shirks his duty by
pretending illness : کام نہ کرنے کے لئے بیماری کا
کرنے والا

Malison, n. A curse ; malediction : لعنت -
شراب - بدعا

Mall, n. A kind of hammer ; a wooden beetle :
مطر : A public walk : میض - چرب - موگرا - موگل
* *v. t.* To beat with something heavy ; to
bruise : بھاری چیز سے ٹوکنا - کھلنا

Mallard, n. The wild duck : جنگلی بطخ

Malleable, a. Capable of being shaped with the
hammer : پیٹنے سے بڑھنے کے قابل - کونٹنی - ملائم

Mallet, n. A kind of wooden hammer : موگرا -
موگری

Malpractice, n. Evil practice ; immoral conduct :
بد معاشری - بد چلنی - خلاف ضابطگی - بد رویہ

Malt, n. Barley or other grain steeped in water
and fermented and dried in a kiln : بوزہ - جر کپ
شرابی - worn, a tippler : شراب

Maltster, n. One whose occupation is to make
malt : بوزہ ساز

Maltreat, v. t. To abuse ; to treat roughly : بد
ساروی کرنا - بری طرح سے پیش آنا

Maltreatment, n. Ill-usage ; abuse : بدساروی
کا

Malversation, n. Evil conduct ; improper be-
haviour ; fraudulent tricks ; corruption or ex-
tortion in office : برا چال چلن - بد کرداری - فریب -
دغا بازی - بودیانتی - خیانت - رشوت ستانی

Syn.— Misconduct, fraud, embezzlement.

Mamma, n. A fond word for mother : اما -
مادر - میا

Mammal, n. An animal that suckles its young :
دودھ پلانے والا جانور - پستان دار جانور

Mammalia, n. pl. The great class of animals
which suckle their young by teats : پستان دار
جانور

Mammary, a. Of the breast : پستان کا

Mammon, n. Riches ; wealth : مال -
The god of riches : دے دیوتا

Mammonist, n. A wordling ; one devoted to
gain : سر پرست - بندہ زر

Mammoth, a. Very large : بہت بڑا
An extinct species of elephants : ایک
آجکل مفقود ہے

Man, n. A human being ; the male sex : انسان

Mankind : * نرکر * آدمی - مرد

A husband : * بنی انسان - آدم زاد

One of manly strength or virtue : * ختم

Individual : * نفس - شخص - فرد

of letters, a learned man : * عالم - مرابی

of straw, an insignificant person : * نا چیز آدمی

**of war, a government vessel employed for the pur-
poses of war :** * جنگی جہاز

A—of mark, نامی

**To be one's own—, to have command
of one's self :** * اپنے آپ میں رکھنا - آپ سے

**To furnish with men to
fortify :** * آدمی بھرنا - مضبوط کرنا - مستحکم کرنا

Manacle, v. t. To shackle ; to handcuff :
ڈالنا - سہاڑے پہنانا

Manacles, n. pl. Handcuffs : ھنگڙي

Manage, n. t. or i. To conduct ; to administer ; to direct ; to contrive ; to husband : چلانا - انتظام : ڪرنا - بس يا قابو ۾ رکھڻا - رهنمائي ڪرنا - بندوبست ڪرنا - اھتمام ڪرنا - انصرام ڪرنا - ڪفايت ڪرنا

Manageable, a. Governable ; tractable : فرمانبر - دلور - قابليت ڀرڻ - مطيع - قابو ڪا - سده جانے کے لائق

Management, n. Manner of conducting ; administration ; practice ; body of directors : بندوبست - انتظام - حڪمت عملي - جماعت منظمين - مديران

Manager, n. A director ; a good economist ; an intriguer ; a superintendent : مستظم - ڪفايت شمار - سر بزاز ڪار - ڪارڪن - سازش ڪوٺي والا

Manciple, n. A purveyor : بهتارو

Mandate, n. A command ; an order ; judicial precept : فرمان - حڪم - حڪومت - منشور

Mandatory, a. Preceptive ; directory : حڪمي - هدايتي

Mandible, n. An animal's jaw : جانورو کا ڇيڙا

Mandolin, n. A musical instrument : ٻرپت - ستار

Manducate, v. t. To chew ; to eat : چبانا - کائڻا

Mane, n. The long hair on the upper part of the neck of a horse or other animal : ايال - گھوڙے یا ٻيا ادر جانوروں کے گردن پر کے بال

Manege, n. A school for teaching horsemanship and training horses ; the art of horsemanship or of training horses : مدرسه چابڪ سراري - چابڪ سراري يا گھوڙوں کے نڪالنے کا هنر

Manes, n. pl. Departed souls ; the ghosts : مردوں کی روح - پتھر - بھوت - پڙپت

Manful, a. Courageous ; brave ; noble : ھمت والا - بہادر - دلير - جرآنمرد - شريف

Manfully, ad. Courageously ; noble : دنيرانه - مردانه - شريفانه

Mange, n. The scab or itch in dogs and cattle : کٽي ادر مريشيوں کی کھجھي يا خارش

Manger, n. A fixed feeding trough for horses and cattle : ھودہ - گھوڙے ادر مريشيوں کے کھانے کي گڙي ھڙي ناند

Mangle, n. t. To cut in a bungling manner ; to lacerate ; to butcher : بھورده طور سے کاٽڻا - چيڙنا - پھاڙنا - گھڙي گھڙي ڪرنا - پاش پاش ڪرنا - ڏيڻ ڪيڙا
n. A machine for smoothing linen : گھوڙي کي کل

Mango, n. A fruit : آم - آبهه - blossoms, مرل
preserve, آم — **bird, پٻيڪ چڙيا** — **pickle, آم کا اچار - گھنڊهي** — **The inspissated juice of—, امرس - امارت**

Mangy, a. Scabby : خارنگي

Manhater, n. One who hates mankind ; a misanthrope : انسان کا دشمن - آدمي سے متنفر

Manhood, n. Full age ; manly quality ; courage : رجوليت - شباب - بلوغ - آدميت - انسانيت - مردانگي

Mania, n. Unreasonable desire ; insanity : خيٽ - جنون - ماليٽرليا

Syn. - Insanity, derangement, madness.

Maniac, a. Raging with disordered intellect ; mad : n. - سردائي - ديوانه - سڙي - مڃئون - خيٽي
A madman : ديوانه آدمي - يانگل آدمي

Manical, a. Affected with madness : جانوري - ديوانه

Manifest, a. Clear ; evident ; plaint : صاف - عيان - ظھر
v. t. To show plainly ; to display ; to declare : صاف صاف ڏيکارڻا - عيان ڪرڻا - ظاهر ڪرڻ - واضح
n. An invoice of a ship's cargo : جهاڙ کے مال کا بيٺڪ

Syn. - Distinct, clear, evident, obvious, plain.

Ant. - Hidden, invisible, obscure, secret.

Manifestation, n. Exhibition ; revelation : ظھر - اعلان - انشا - انڪشاف

Manifestly, ad. Clearly, plainly : -لائيہ - صاف - صاف - بزملا - ظاهرا

Manifesto, n. A public declaration of a sovereign or state : منادي عام - کسي بادشاہ یا رياست کے منش کا اعلان

Manifold, a. Of various kinds ; multiplied ; ڪرڻا گھڻ - طرح طرح کا - نوع به نوع - چند - complicate
در چند - بيٺڪ در بيٺڪ

Manifoldly, ad. In a manifold manner : طرح طرح سے

Manikin, n. A little man ; a pygmy : - چھوٹا آدمی - مردک - بونا

Maniple, n. A handful ; a band of soldiers ; a scarf : - مٹھی - سپاہیوں کا ایک چھوٹا دستہ - رومال

Manipular, a. Pertaining to the hand : - ہاتھ کے متعلق - دستی

Manipulate, v. t. or i. To work by means of the hand ; to handle ; to do hand-work : - ہاتھ میں پکڑنا - دستکاری کرنا - کار سازی سے عمل کرنا

Manipulation, n. Work by hand ; artful management : - دست کاری - ہاتھ کا کام - معقول انتظام

Mankind, n. The race of human beings : - بنی انسان - آدم زاد - نوع انسان - خلائق

Manlike, a. Becoming a man ; manly : - انسانیت کا - مردانہ

Manliness, n. Bravery ; dignity : - بہادری - بزرگی - عزت

Manly, a. Brave ; dignified ; becoming a man : - دلیر - معتاز - مردانہ - آدمیت کا

Manna, n. Food supplied to the Israelites in the wilderness of Arabia ; delicious food for body or mind : - عرب کے جنگل میں اسرائیلیوں کو جو خوراک دی گئی - من سلوا - قوت روحانی - شیر خشت

Manner, n. Form ; method ; kind ; deportment ; politeness ; habit : - شکل - طریقہ - چال - قسم - وضع - اخلاق - عادت - رسم - شہادت - قدرل - ذہب - ادب

Manners, pl. Carriage ; behaviour : - چال - وضع - اطوار
By no manner or means, under no circumstances whatever :
In a—, in a certain degree : * To make one's—s, * To the—born, * With the—, in the fact :

Mannerism, n. Sameness of manner : - ہم اطواری - ہم اساری - راقہ رسم کی پابندی - ایک ڈھنگا پن

Mannerly, a. Well-behaved ; civil ; polite ; respectful : - شایستہ - خلیق - مہذب - مردب

Manœuvre, n. Adroit proceeding ; stratagem ; a dexterous movement : - حکمت عملی - داڑن چوکت - چال - فن و فریب - چورز توڑ

Manœuvre, v. t. or i. To change the position of troops or ship ; to manage with art : - چھوڑنا یا سچا کرنا - حکمت عملی سے انتظام کرنا - داڑن گھات کرنا

Manor, n. The land belonging to a lord : - کسی لارڈ کی آراضی - تعلقہ - جاگیر

Manorial, a. Belonging to a manor : - زمینداری کے متعلق

Manse, n. The dwelling house of a clergyman ; farm : - پارے کا مسکن - چرچاں

Mansion, n. Any place of residence ; a manor house ; a large house : - مسکن - رہنے کی جگہ - مکان - حویلی - محل - گڑھی - محل سرا

Manslaughter, n. The slaying of a human being : - مردم کشی - مناش گھات - قتل انسان

Manslayer, n. One that has killed another : - مردم کش - قاتل انسان

Mantel, n. Work before a chimney ; the ornamental shelf over a fire-place called also mantel piece ; mantelshelf : - چھوڑنے کے آگے کا کام - جو آتش دان کے سامنے کے حصہ میں رہتا ہے - انگیٹھی کے اوپر کی ٹکس یا ٹکر

Mantelet, n. A small cloak worn by women : - عورتوں کا چھوٹا لبادا - فرغول

Mantilla, n. A kind of veil ; a light cloak ; a cape : - اورڑھنی - ہلکی فرغول

Mantle, n. A cloak ; a cover : - لبادا - فرغل - بالہ
v. t. or i. To cover ; to disguise ; to be expanded ; to froth : - ڈھیس - پھینا - پھینا - پھینا - پھینا - پھینا

Mantua, n. A lady's cloak or gown : - زنانہ لبادہ - پشراز

Manual, a. Performed or made by the hand : - دستی
n. A compendium ; a hand book : - ہدف - صحیفہ - رسالہ

Manufactory, n. The place where goods are made for use : - کارخانہ

Manufacture, n. Anything made by the hand ; anything made by art : - صنعت - گڑھت
v. t. To make by art or labour ; to be occupied in manufactures : - دست کاری کرنا - صنعت کاری کرنا - دست کاری میں مصروف رہنا

Manufacturer, n. One who works raw materials into article of use .
دستکار - صنایع - کاریگر

Manumission, n. The act of liberating a slave from bondage :
غلاموں کو آزاد کرنا - خلاصی

Syn.—Emancipation, liberation.

Manumit, v. t. To release from bondage ; to emancipate :
غلامی سے آزاد کرنا - خلاص کرنا - رہا کرنا

Manure, n. Any matter added to the soil to fertilise it :
کھاد ڈالنا - ریخیز کرنا - مزوع کرنا
n. l. To apply any fertilising matter to land ; to fertilise ; to cultivate :
کھاد پانسن - کھاد

Manuscript, n. Any writing done by the hand :
* قلمی نوشتہ - ہاتھ سے لکھا ہوا کافز وغیرہ - قلمی کتاب
a. Written ; not printed :
دستی - قلمی

Many, a. Numerous ; not few ; a great number of :
بہت سا - کم نہیں بہت - کثیر - جتنے - جس سے

Many persons ; a great number :
* بہت آدمی - جمعیت - جم عزیز

The—, the crowd : جھنڈ * **Twice as —, n.** A picture of the earth or a part of it on a flat surface outline :
نقشہ - خاکہ

Map, v. t. To draw , to sketch :
نقشہ کھینچنا - خاکہ اُتارنا

Maple, n. A kind of tree :
ایک قسم کا درخت جس سے چینی بنتی ہے

Mar, v. t To injure ; to blot ; to disfigure :
* n. An injury ; a disfigurement ; a blemish :
ضرر - نقصان - بد شکلی - بگاڑ - داغ - دھبہ

Marasmus, n. A consumption ; atrophy :
چھٹی - روک - تحلیل بدن

Maraud, n. t. To rove in quest of plunder ; to make a plundering excursion :
لوٹ مار کی تلاش میں پھرنا - لوٹنا - غارتگری کرنا - لوٹ پٹ کا دھاوا کرنا

Marauder, n. A freebooter ; a plunderer :
لٹیرا - غارتگر - رھزن - پھتاوا - لڑاکا

Marble, n. A massive, compact limestone :
* A little ball of marble, or other stone, or of baked clay, used by children in play :
* گولی - ٹنگ مرسی - * Black - لہری کا کاغذ - paper

March, n. The third month of the year :
مہینہ فروری * The movement of soldiers in order :
* کوچ کا ہال : Signal * بانٹا روائگی - کوچ - مقام

The distance passed over in marching : منزل
* n. l. To cause to move :
* حرکت دینا - کوچ کرنا - روانہ کرنا

To walk in a stately manner :
خوام کرنا - تمکنت :
یا شان سے چلنا

March-mad, a. Foolhardy ; hare-brained :
بہادر - ارچور - دماغ - بے قاع

Marchioness, n. The wife of a marquis :
مارکزیس کی بیوی امیر کی بیگم

Marcid, a. Lean . withered :
دبلا - لاغر - اسردہ - مرجھایا ہوا

Mare, n. The female of the horse :
گھوڑی - مادیاں

Margin, n. An edge ; brink :
کنارہ - حاشیہ - لب - کور

Syn —Border, brim, verge

Marginal, a. Placed in the margin ; written in the margin :
مذرجہ حاشیہ - حاشیہ پر لکھا ہوا

Margrave, n. A German title of the sovereignty :
جرمنی کا شاہی خطاب

Marigold, n. A plant bearing a showy yellow flower :
درخت گیندے کے پھول کا درخت - صد - برگ - گل سریم

Marine, a. Of the sea ; naval :
* دریائی - بحری :
A soldier who serves on board a ship ; naval affairs ; the navy :
جہاز پر کا سپاہی - امرر - بحری - جہاز بحری فوج

Mariner, n. A seaman ; a sailor :
جہازران - جہاز چلانے والا - ملاح

Marionettes, n. p. l. Puppets worked in string representing person, etc. :
تھیہ پتلی

Marital, a. Pertaining to a husband :
عورہی - خاوند کا - زوجی

Maritime, a. Pertaining to the sea ; situated near the sea :
دریائی - بحری - سمندر کے قریب - اوق :

Mark, n. A token ; sign :
* نشان - علامت - آثار

A print : * چاپ - * A stamp :
* نقاش - مہر - * An object, but: or point, aimed at :
* نشانہ - هدف

A German coin equal to a shilling : جرمنی کا ایک سکہ توبہ میں آہے آنے کے :
* Pie-eminuace ; respect :
* بڑا بڑا

A number : * آہیز :
* A man :
* جملہ - حشم - منزلت

of—, a wellknown man : مشہور یا زہی رتبہ آدمی
 Beside the —, * Up to the —, good enough : قواعد جنگی میں * برابر - اچھا سا
 * v. t. or i. To impress ; to note ; to observe : نشان کرنا -
 * To—out, to point out : * اشارہ کرنا - نظر کرنا - دہین دینا
 * To designate : * بتلانا
 * To—off, to tick off : * نشہ بنانا
 * To—down, to set down in writing : یادداشت کرنا
 Market, n. A place for purchase and sale : ہاٹ -
 باغ میں سبزی و تر * gardening, بازار - مندی
 * v. i. To buy or sell : * کاری فروخت کے واسطے پیدا کرنا
 خرید و فروخت کرنا
 Marketable, n. Fit for the market ; saleable ; current : قابل بازار - مندی کے لائق - قابل فروخت : ذرختمی - چلتا
 Marksman, n. One who shoots well : نشانہ باز - نشانہ لگانے والا
 Marl, n. A sort of rich clay or manure : پتھریل مٹی - کھیتیائی مٹی
 Marmalade, n. A jam of quinces : نارنگی و بھی وغیرہ کا مربا
 Marque, n. License of reprisal ; a license to pass the marches or limits of a country for the purpose of making reprisals : حکمنامہ - پاداش - معاوضہ - وصول کرنیکا حکم - دشمن کے مال کو اذتفام کی راہ سے لے لینے کا فرمان یا اختیار
 Marquee, n. An officer's field tent : عہدہ دار کا : بڑا خیمہ
 Marquetry, n. Inlaid work : جڑاؤ کام
 Marquis, n. A title of nobility : ولایت میں امرا کا ایک خطاب - اراکریس
 Marriage, n. The contract by which a man and woman become husband and wife ; matrimony : * con- * deed, * portion, * Relationship of—, * Temporary—, * Marriageable, a. Of an age suitable for marriage :

Marrow, n. The soft fatty substance in bones ; the essence : ہڈیوں کے بھیتر کا گودا - مغز - جھرہ
 Marrow-bone, n. A bone, containing marrow : گھٹنا - زانو * pl. n. The knees : * مغزدار ہڈی
 Marrowy, a. Full of marrow ; pithy : مغزدار - پور مغز - گودا بھرا ہوا
 Marry, v. To enter into the connubial state : * v. t. To unite in matrimoney : نکاح پڑھنا
 Mars, n. The god of war and husbandry ; a planet : کدنی اور زراعتی کا دیوتا - منگل - مریخ
 Marsh, n. A tract of soft wet land ; a swamp ; a fen : * a. Wet ; fenny : کھانچا - کھانچا - تر - دلدل دار
 Marshal, n. An officer of the highest military rank ; a pursuivant : سب سے اونچے درجہ کا فوجی آراستہ کرنی - ترتیب - دینا - صف آرائی کرنا
 Marsupial, a. Carrying young in a pouch : تھیلی میں بچے لے جانے والا
 Marshy, a. Wet ; fenny : تر - دلدل دار - کیچڑدار
 Mart, n. A place of public sale : ہاٹ - بازار - مندی - گنج - گدڑی
 Marten, n. A kind of weasel : ایک قسم کا نیولا جسکے سرور کی ٹوپیاں بنتی ہیں
 Martial, a. Pertaining to war ; warlike ; brave : لڑائی کے متعلق - جنگجو - دلیر - بہادر - جرار - جنگی - جنگی قانون * law
 Martialism, n. Bravery : بہادری - دلیری - جراندردی
 Martin, n. One of the several species of swallow : ایک قسم کا اباویل
 Martinet, n. A strict disciplinarian : ضابطہ کا سخت پابند
 Martingale, n. A strap fastened to a horse's girth : زیر بند - پیش بند
 Martyr, n. One who by his death bears witness to the truth : * v. i. To persecute ; to torment : شہید کرنا - درجے ہونا - تک - کرنا - تکلیف دینا - ستانا
 Martyrdom, n. The death of a martyr : شہادت

Martyrology, n. An account of martyrs ; a history of martyrs : - تذکرہ شہیدان - شہیدوں کی تواریخ - شہادت نامہ

Marvel, v. t. To wonder ; to be struck with surprise : - تعجب کرنا - حیرت میں ہونا
Wonder : تعجب * A prodigy ; a miracle : معجزہ

Syn. - Wonder, admiration, astonishment.

Marvellous, a. Wonderful ; astonishing : - عجیب طرفہ - نادر - خارج از قیاس

Marvellously, ad. Wonderfully ; strangely : متعجبانہ - متعجبانہ

Masculine, a. Having the qualities of a man ; strong ; not effeminate : - مذکر - نر - مردانہ

Mash, n. A mixture of ingredients blended together ; a mixture of bran and water for cattle : - دلتا - ٹھکانا - پیسنا - پورتا پٹانا - مسال دالتا
v. t. To crush into a mass ; to bruise : - چر چکنے سے نکلے

Mashy, a. Produced by bruising : - نقاب - برقع - پہانہ
Mask, n. A cover for the face : - نقاب - برقع - پہانہ
A pretence : مقنع

Syn. - Veil, visor, cloak, screen, disguise.

Mask, v. t. To cover the face with a mask ; to conceal : - چھپا لگانا - چھپاتا - چھپاتا - نقاب ڈالنا

Masker, n. One who puts on a mask : - لگانا والا - نقاب پوش - چھپا پر برقع ڈالنے والا

Mason, n. A builder in stone : - راج - معمار - مستزی
A member of the fraternity of Freemasons : فری - مین

Masonic, a. Relating to Freemasonry : فری مین کے متعلق

Masonry, n. The craft of a mason : - راج کا کام - راز فری
The mysteries of Freemasons : معاری مین

Masquerade, n. A diversion in which the company is masked : - ناچ یا تماشاہ جسمیں سب لڑک برقع
v. t. To go in disguise ; to assemble in masks : - جوہیں بدلنا - چھپا لگا کر جمع ہونا

Mass, n. A lump ; a heap ; an assemblage : - انبار
pl. lower classes of

the people : - عوام الناس * A Roman Catholic service : - رومن کیتھولک فرقہ کی نماز
v. t. To form into a mass ; to assemble : - انبار کرنا - جمع کرنا

Massacre, n. The indiscriminate slaughter of human beings ; carnage : - قتل عام - کشت و خون
v. t. To slaughter indiscriminately : - خرنریزی کرنا

Masseter, n. A muscle of the lower jaw : - نیچے کے چبڑے کا پٹھا

Massiness, n. Great weight ; ponderousness : - بڑا دن - بیاریے پن

Massive, a. Weighty ; ponderous : - باریے - وزنی - گراں - جہیم - مرقا

Mast, n. A pole set upright in a boat or vessel to sustain the sails, yards, etc. : - مستوا - ٹکن رکھا

Master, n. A ruler ; a chief : - حاکم - اسز - عامل - سردار خاندان

The head of a household : * ناظم
Proprietor ; owner ; employer : * ارسنار - معلم - صاحب خانہ - مکھیا

A title of dignity in the universities : * شریف زادہ

Adopt : * فضاہت کا خطاب

To be—of one's self, to have command over one's passions : - اپنی خراہشوں کو قابو میں رکھنا

—of languages, Master—Absolute—* خود مختار ہونا - آپے میں ہونا

Master—Absolute—* خود مختار ہونا - آپے میں ہونا

to bring under control ; to make oneself master : - قابو کرنا - زیر - کم کرنا - کامل یا استمان ہونا - دخل کامل پیدا کرنا - ہادی ہونا

Master-key, n. A key which opens many locks : - زانی جس سے بہت قف - کھلتے ہوں

Masterly, a. Done with the skill of a master ; excellent ; imperious : - استادانہ - ہوت عمدہ - شاد نہ - عالی

Masterpiece, n. A capital performance : - چوبیا
کام - بہترین کام - استاد کی کام - جمال خردی

Mastery, n. Superiority ; triumph ; attainment of skills : - بزرگی - ذوق - صنعت کاری - استاد کی

فرمانبرداری - حکومت - خارقہی - فرقیہت - بزرگی - سبقت - بزرگی

Masticate, v. t. To chew : - چبانا

Mastication, n. The act of chewing solid food : - چاب - چکاپ - پاگر

Mastiff, n. A variety of dog, large and stoutly built : ایک قسم کا بڑا کتا

Mat, n. Texture of rushes, straw, etc. : چٹائی - بورتی -
* v. t. To twist together ; to entangle ; to interweave ; to cover with mat : چٹائی بنانا -
* v. i. To grow thick together : ملا کر مورتا ہونا

Match, n. A lucifer * A contest : مقابلہ
* An equal : ٹانگی * An agree-
ment : اتفاق * To be gained in marriage : شرط
* v. t. To equal : برابر کرنا
* To marry : شادی کرنا * To fit together ; to suit :
تھیک یا موافق کرنا

Matchless, a. Unequal : لامتناہی -
جواب - لائق

Syn. - Unrivalled, peerless, exquisite, inimitable.

Matchlock, n. A musket fired by means of a match : تورتے دار بندھن

Mate, n. An associate ; a match : رفیق - شریک -
* Second officer in a merchant vessel : دوسرا جہاز کا
* A term at chess : بازی - مات
* To marry : شادی کرنا * To compete with :
مبارزت کرنا

Material, a. Consisting of matter ; corporeal ; of consequence ; important ; of weighty character :
مادی - جسمانی - ضروری - اہم - ذہنی - اہم
Syn. - Bodily, essential

Material, n. That of which anything is made :
بہ شے جس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے - اسباب - سامان

Materialism, n. The doctrine of materialists : وہ
عقیدہ ہے جس میں روح کو جسم سے علیحدہ نہیں سمجھتے اور کہ
روح کوئی چیز نہیں ہے جو کچھ ہے وہ مادہ ہے

Materialist, n. One who denies the existence of spiritual substance :
وہ شخص جو روح کے وجود کا ناکل نہ ہو - منکر روح
قیام مادی -

Materiality, n. Material existence :
* Importance : ضرورت

Materially, ad. In a material manner ; substantially :
بجائے مادی - دراصل -
مادی یا جسمانی

Maternal, a. Of a mother ; befitting a mother ;
motherly : مادری - مادرانہ - ماں کا

Maternity, n. The state, character, relation of a mother :
مادری رشتہ حالت چاہن یا سلسلہ ماں کا

Math, n. A mowing : کاٹنا - درو

Mathematical, a. Of mathematics ; accurate :
علم ریاضی کا - درست - صحیح

Mathematically, ad. By mathematics ; with mathematical certainty :
ازدروے علم ریاضی

Mathematician, n. One versed in mathematics :
ریاضی دان - مہندس

Mathematics, n. pl. The science which treats of whatever can be measured or numbered :
علم ریاضی - سندسہ

Matinee, n. An entertainment held in the morning :
صبح کے وقت کی تفریح

Matins, n. (pl.) Morning worship or service :
صبح کی عبادت یا نماز - سرود سہز (of birds) گل
چانگ - پہلی شرعی گھڑی

Matrice, Matrix, n. A mould : سانچہ - قالب

Matricide, n. The murder of a mother ; the killer of a mother :
مادر کشی - مادر کش - ماں کا مارنے والا

Matricidal, a. Pertaining to matricide :
مادر کشی کے متعلق

Matriculate, v. t. To enrol ; to admit to membership in a college by enrolling the name in a register :
داخل نامہ کرنا - کالج کے رجسٹر میں نام لکھ کر
ممبر بنانا - مدرسہ میں بورتی کرنا

Matriculation, n. The act of matriculating :
داخل نامہ کرنا طلبہ کا یہاب شدہ

Matrimonial, a. Conjugal : شادی کا ازدواجی -
تکاحی

Matrimony, n. The union of man and woman as husband and wife ; marriage :
شادی بیاہ - نکاح - ازدواج

Matrix, n. The womb ; a mould : رحم - بچہ دان -
سانچہ - قالب

Matron, n. A wife ; a house keeper ; an elderly woman ; a female superintendent in a school :
بیوی - چورس - مالکن - ماما - بڑی بورتی -
ایسا یا بورتی کی نگران یا منتظمہ

Matronly, a. Elderly ; grave ; becoming a matron : **بڑی بڑھی کے طور پر - منجیدہ - بڑی بڑھی کے لائق**

Matter, n. Body ; substance : **مادہ - شے - جسم - تعاملہ - معاملہ -** Affair ; concern : **اصل - جرہر**

* Amount : **مقدار** * Importance : **اہمیت** * Matter of consequence : **اہمیت** * Pus : **مضایقہ** * It does not—, **No**—**which, of fact,** **حقیقی** * **Dead**—**of fact,** **حقیقی** * **Live**—**of fact,** **حقیقی** * **Upon the whole**—**of fact,** **حقیقی** * **To form** : **پکنا - پیپ بھرنا**

Matterless, a. Void of matter : **بے مواد - پیپ سے خالی**

Mattery, a. Purulent : **مادی - پیپ بھرا ہوا - بڑھتی ہوئی**

Matting, n. A kind of carpeting made of rushes, straw, etc. : **چٹائی - پوری**

Mattock, n. A pick-axe : **کدال - پھارڑا - پھرسا**

Mattress, n. A quilted bed : **توشک - سرزئی - گدا**

Maturant, n. An application promoting suppuration : **پکاتنے والی دوا**

Maturate, v. t. or i. To ripen : **پکنا - پختہ ہونا - بھرنا**

Maturation, n. The formation of matter ; the state of growing ripe : **پکاؤ - پختگی**

Maturative, a. Conducting to suppuration ; ripening : **پکاتنے والی**

Mature, a. Ripe ; fully prepared ; perfected ; full-grown ; become payable : **رسیدہ - پختہ - قیام - کامل - پکاؤ -** To ripen ; to perfect : **بالغ - واجب النضج ہونا**

Mature, v. t. To advance towards perfection ; to become due : **تowards perfection ; to become due : واجب الادا ہونا - متی پکنا**

Maturity, n. Ripeness ; full development ; expiry of the time that a note has to run ; the time for becoming due : **پختگی - بالغ - اقصائے میعاد - متی پوج - بڑی میعاد**

Matutinal, n. Pertaining to the morning ; early : **صبح کا - صبح کے**

Maudlin, a. Half-drunk ; too sentimental ; fuddled : **مدرش - بہت رقت انگیز - نیم مست - خمار - آردہ - زود حس**

Maul, n. A heavy wooden hammer : **مرگرا -** v. t. To beat and bruise ; to injure greatly ; to maltreat severely : **زد و کوب کرنا - زخمی کرنا - بڑی گت کرنا**

Maulstick, n. A stick used by artists as a rest of the hand while painting : **مصوری کی بیساکھی**

Maunder, n. A hand basket ; a weight : **چنگیز - کلیا - توکھی - من**

Maunder, v. i. To mutter ; to talk indistinctly : **بھڑکانا - گنگنانا - اُھڑے اُھڑے طرز سے کہنا**

Mausoleum, n. A stately tomb or sepulchral monument : **مقبرہ - روضہ**

Mauve, (mau) n. A violet colour : **بنفشہ رنگ - ارغوانی**

Maw, n. A stomach : **معدہ - پوٹا - چہرچہ - شکم**

Mawkish, a. Disgusting ; insipid : **مکروہ - کریدہ - بھیکا - ناگوار**

Maxillary, a. Pertaining to the jaw-bone : **جہڑے کا - ٹپہڑے کا**

Maxim, n. An established proposition ; an adage ; a proverb : **اصول - مقولہ - مسالہ - کہاوت**

Maximum, n. The greatest quantity, number, etc. : **بڑی سے بڑی مقدار**

May, n. The fifth month of the year : **انگریزی سال** * **v. aux.** To be able ; to be possible ; to be allowed : **ممکن - سکنا - لائق ہونا - اجازت دیا جانا**

May-day, n. The first day of May : **مئی کا پہلا دن**

May-hap, adv. It may happen ; perhaps : **شاید - غالباً**

May-pole, n. A tall pole decorated with flowers ; &c., around which dancing took place in the after part of May day : **ایک لمبا بانس جس کے چاروں طرف پھلی مٹی کے پتھیل حصہ میں انگلستان میں ناچتے تھے**

Mayor, n. The chief magistrate of a city or town : **شہر کا بڑا حاکم**

Mayorality, n. The office of a mayor : میئر کا عہدہ

Mazarine, n. A deep blue colour : گہرا نیلا رنگ

Maze, n. A labyrinth ; perplexity ; bewilderment : پوربہ رلیاں - پیچ پانچ - اُجھن - سرگردانی - حیرانی - گزرگتھ دغندا - بھنر جال

Maze, v. t. To bewilder ; to perplex : پریشان ہونا - حیران کرنا

Mazy, a. Winding ; perplexing ; intricate : پیچ در پیچ - الجھاؤ کا - پریشان کرنے والا

Me, pron. The objective case of I : مجھ - مجھ کو

Mead, n. A fermented drink made of water and honey : چرا گالا - A meadow : شہد آبہ - ماعلسل : چمن زار - مرغزار

Meadow, n. Flat grassy land : چراگالا - سبزہ زار - مرغزار

Meagre, a. Lean ; scanty ; barren : لافز - دہلا - پتلا - تھوڑا - قلیل - بنبھر - اوسر

Syn.—Thin, languid, lean, emaciated.

Meagreness, n. Leanness ; want of flesh ; scantiness : لافزی - دہلا پن - نقاہت - قلت

Meal, n. The food taken at one time ; a repast : مرٹا - Coarse flower : خوراک - غذا - ناشتہ - حصہ آٹا - پسان

Mealy-mouthed, a. Bashful of speech ; smooth-tongued : چرب زبان - چکنی چیز باتیں کرنے والا

Mean, n. Low ; base ; poor : حقیر - ذلیل - کمینہ - اوسلا - Intermediate : قلیل * Moderate : غریب درمیانی - متوسطہ

Syn.—Base, ignoble, poor, beggarly.

Mean, n. The middle point ; instrument : اواسط - لوازمہ آمدنی - (pl.) * اوسط - اعتدال - ذریعہ - واسطہ * ہر طرح سے - جس طرح سے ہو سکے * By all—s : * By my—s : کسی طرح * By no—s : ایسا نہ داری * By fair—s or fowl : * To make—s : یا ہے ایسا ہی سے جس طرح بن بڑے ارادہ کرنا - مقصد رکھنا - معنی رکھنا : to signify :

Meander, n. A winding course : گھماؤ کا راستہ - چکر - مڑ - پیچ

Meandering, a. Winding ; circuitous : پیچدار

Meaning, n. Intention ; aim ; import : ارادہ - مقصد - مطلب - معنی - مدعا - غرض

Meaningless, a. Devoid of meaning : بے معنی - بے مطلب

Meanness, n. Low state ; baseness : تنہتر - کمینہ - پن - رذالت

Means, n. pl. Medium resources ; income : ذریعہ - وسیلہ - تدبیر - یافت - آمدنی

Meantime, ad. During the interval : اثناء میں - اُس درمیان

Measles, n. An eruptive disease : چھینک - خسرہ - مازا

Measurable, a. Capable of being measured : ناپنے کے قابل - قابل پیمود

Measure, n. That by which anything is measured : حد - درجہ - Liimit ; degree : ناپ - پیمانہ : Allotment : * اعتدال : Moderation : * مقدار : Time in music : کسی کا ناپ * To take ones— کسی کی لیاقت وغیرہ کا اندازہ لینا * To tread : تدبیر - ذریعہ - n. pl. Means to an end : ناپنا * a— * v. t. * تیاری - تجریر یا تدبیر کرنا * To take—s, To estimate ; to allot ; to adjust ; to compute the extent or quantity : اندازہ کرنا - تقسیم کرنا - * درست کرنا - گننا - قیام کرنا - ڈیپا - منڈلیں طے کرنا * To—swords, —for, tit for tat : جیسے کر تیسا - تلوار سے لڑنا - کسی سے تلوار کے دو ہاتھ لڑنا

Measurement, n. The act of measuring ; dimension : ناپ - پیمائش - اندازہ

Meat, n. Food in general ; flesh : طعام - خوراک - خورش - گوشت

Mechanic, n. An artificer ; an artisan : کاریگر - * a. Pertaining to machines ; done by

a machine ; done by a force of habit ; vulgar : کاروں یا علم چار سکیل کے متعلق - کل سے بنا ہوا - عادی - ذلیل - نیچ

Mechanical, a. Pertaining to machines : کاروں کے Done by a machine : * جسمانی * متعلق : * Pertaining to artisans : بے خبری * Unconscious : کل سے کیا ہوا دستی art— * کاریگروں سے متعلق : *—verse, ٹک بانہی - قافیہ بندی * ہنر

- Mechanics, n.** The science which treats of the action of forces on bodies : علم جو تھیل - بل بدیا
- Mechanism, n.** Construction of a machine : ساخت - ترکیب - بناوٹ
- Mechanist, n.** One skilled in the construction of machines : کل بنانے والا - کل ساز - ک , آلات کے ہنر میں ماہر
- Medal, n.** A coin with a device ; ancient coin : تمغہ - پرائے سکہ
- Medallion, n.** An antique stamp or medal : قدیمی سکہ یا تمغہ - کوئی چکتی جسطہ اور پوری تصویر ہو
- Medallist, n.** One skilled in medals ; one who has gained a medal as the reward of merit : تمغہ یا سکہ پہنچانے والا - تمغہ دان
- Meddle, v. t.** To touch ; to interpose : چارنا - تانیہ لگانا - دخل دینا - دست اندازی کرنا - بلا اجازت تانیہ لگانا
Syn. Interpose, interfere.
- Meddlesome, a.** Officious ; given to meddling : ناحق مداخلت کرنے والا - دخل در معاملات کرنے والا
- Mediate, v. t. or i.** To interpose between parties as a friend of both ; to intercede : بیچ میں بڑنا -
a. Intermediate ; intervening : متوسطہ - درمیانی
- Mediation, n.** Interposition ; intercession : بیچ میں بڑنا - رسامات - شفاعت - سفارش
Syn. Interposition, intercession.
- Mediator, n.** One who interposes ; an intercessor : بیچ میں بڑنے والا - شفیع - ثالث - درمیانی
- Mediatorial, a.** Pertaining to a mediator : درمیانی کا
- Mediatrice, n.** A woman who mediates : ثالثہ
- Medicable, a.** Curable : نابل علاج
- Medical, a.** Of the art of healing ; medicinal : طبی
- Medicament, n.** A medicine ; a healing application : دوا - علاج - مرہم - لپ
- Medicate, v. t.** To drug ; to heal : دوا دینا - علاج کرنا - چٹکا کرنا
- Medicinal, a.** Healing ; used in medicine : صحت بخش - دوا میں مستعمل
- Medicine, n.** Anything that cures ; physic : علاج - دوا - ارکوہد
- Mediæval, a.** Of middle ages : درمیانی زمانہ سے منسوب یعنی چھٹی صدی سے پندرہویں صدی تک - وسطی
- Mediocre, a.** Of moderate degree : اوسط درجہ کا - درمیانی
- Mediocrity, n.** A middle degree ; middle rate : اوسط درجہ - انداز یا خوبی کا - اعتدال
- Meditate, v. t. or i.** To think ; to plan in the mind ; to contemplate : خیال کرنا - سرچنا - تدبیر کرنا - دھیان کرنا - کسی بات پر غور یا فکر کرنا
Syn.—Contemplate, muse, intend, contrive, design.
- Meditation, n.** Serious contemplation ; deep thought : غور - دھیان - مراقبہ - استغراق
- Meditative, a.** Given to thinking : متفکر - مستغرق - سرچنے والا
- Medium, a.** Medial ; middling ; average : درمیانی
n. Means ; instrument ; middle position or degree : ذریعہ - وسیلہ - واسطہ - میانہ حالت یا حیثیت - متوسط - درجہ اعتدال
- Medley, n.** A mixture ; a miscellany : خلطہ - آمیزش - گڈ بٹ - کھجڑی - گھال میل - آمیزش
- Medular, } a. Pertaining to marrow : ہڈی کے**
Medullary, } گودے کا
- Meed, n.** Reward ; recompense : اعطام - عرض - اجر
- Meek, a.** Gentle ; forbearing ; submissive : متحمل - مطیع - نرم انبرداری
- Meekly, ad.** Mildly ; submissively : ملائمت سے - نرمی سے - نرم انبرداری سے
- Meekness, n.** Gentleness ; mildness : ملائمت - نرمی - تحمل
- Meet, v. t. or i.** To come face to face : ملنا - در چار ہونا - ملاپ ہونا - آمنے سامنے ہونا - درشن ہونا - روبرو جمع ہونا - :
To come together with hostile purposes : * ہونا
To assemble : * مت بھینے ہونا - مقابلہ ہونا
To harmonize ; to receive ; to answer : * پانا
To find or experience : * پانا
To satisfy, * یا تجربہ کرنا
To make both ends—, * آمد خرچ برابر ہونا
way, کسی کے ملنے یا استقبال کو ادھا راستہ جانا

Meet, a. Suitable; proper; convenient: - موافق
درست - مناسب - آولم کا

Meeting, n. An interview; a junction; an assembly: ملاقات - میل - محفل - مجلس

Syn.—Interview, conference, company.

Melancholy, a. Gloomy; dismal; afflictive: غمگین - اوداس - غم آلودہ - افسردہ

Melancholy, n. Dejection of spirits; gloominess: دلگیری - اداسی - ملال - رنج

Melée, (mêlée) n. An affray; a confused debate: جنگا نسا - جھگڑا

Meliorate, v. t. To improve: بہتر کرنا - عمدہ کرنا
بناانا - سدھارنا

Melioration, n. Improvement: - بہتری - ترقی -
اصلاح

Meliferous, a. Producing honey: شہد پیدا کرنے
والا - شہد آگیاں

Mellifluous, a. Sweetly flowing; smooth: شیریں
زبان - شکر آب - مدھر

Mellow, a. Mature; not hard; soft; jovial; drunk: پختہ - رسیدا - نرم - ملائم - خوش - مسرور -
پکا - پختہ ہونا - نرم ہونا - ملائم ہونا
* v. t. or i. To ripen; to become soft:

Mellowness, n. Softness; maturity; ripeness: ملائمت - نرمی - پختگی - رسیدگی

Melodious, a. Musical; sounding sweetly: خوش
آہنگ - خوش آہنگان - مدھر

Syn.—Tuneful, sweet, dulcet.

Melody, n. An agreeable succession of sounds; a tune: خوش آہنگ - نغمہ - تونانہ

Syn.—Harmony, unison.

Melon, n. A plant and its well-known fruit: خربوزہ - تربوز

Melrose, n. Honey of roses: گلاب کے پودوں کا شہد

Melt, v. t. To liquefy; to relax; to soften: گھلانا
گھلانا - ڈھلا کرنا - ملائم کرنا - نرم کرنا - گزار کرنا

Syn.—Liquefy, dissolve, fuse.

—, v. i. To dissolve; to be softened; to blend; to faint: گھلنا - نرم ہونا - ملنا - بیتاب ہونا - غش
میں آنا

Member, n. A limb: انگ * A part or one
of a society: رکن - شریک - اہل - ممبر - اہل
انجمن

Membership, n. The state of being a member;
union: شریک

Membrane, n. A thin layer formed by fibres
interwoven: جھلی - کھلڑی - پردہ

Membranous, a. Consisting of membranes: جھلی
دار

Memento, n. That which reminds: یادگار - نشانی -
چٹا رنی - ایسہ

Memoir, n. A written account by personal re-
collections; a biography; an essay: سرگذشت -
سوانح عمری - تذکرہ - مضمون - گزشتہ انجمن

Memorable, a. Worthy to be remembered; re-
markable: قابل یادگار - مشہور معروف

Syn.—Distinguished, celebrated, remarkable,
famous.

Memorandum, n. A note to help the memory:
یادداشت - روز نامچہ

Memorial, a. Commemorative: یاد دہانہ
* n. A written representation: یادگار
عرض داشت - درخواست واجب العرض

Memorialise, v. t. To petition by a memorial:
درخواست پیش کرنا - امور قابل گذارش پیش کرنا

Memorialist, n. One who presents a memorial:
عرض پرداز - سایل

Memorize, v. t. To record; to commit to memo-
ry: یاد رکھنا حفظ کرنا

Memory, n. The faculty of the mind by which it
retains the knowledge of things past; remem-
brance: حافظہ - یاد داشت - یاد - سدہ

Menace, v. t. To threaten: دہمکانا - قرائنا - قہ
* n. A threat; prospect; apprehension:
دہمکی - چشمانہائی - خوف - کھٹکا - بد آگاہ - اندیشہ

Menacingly, ad. In a threatening way: دہمکی
کے طور پر

Menagerie, n. A collection of wild animals; a
place where wild animals are kept: مجمع جانوروں -
جانور خانہ - حرش خانہ

Mend, v. t. or i. To grow better: بہتر کرنا
اصلاح: To repair; to rectify; to hasten:
کرتا - مرمت کرتا - درست کرتا - بلدی کرتا

Syn. Improve, better, amend, rectify.

Mendacious, a. Lying; false; counterfeit :
جوہرنا - کاذب - باطل - بناوٹی

Mendacity, n. Deceit; a lie : - جوہرنا - دروغ - بطلان

Mendicant, n. A beggar : - بھکاری -
Begging. بھوکھ منگا

Mendicity, n. The practice of begging; the life of a beggar :
گداہی - بھکاری پن - دروہزہ گری

Menial, a. Servile; low : نیچا -
n. A servant; a mean-spirited person : -
خدمتگار - شاگرد پیشہ - کمینہ شخص

Menses, n. pl. The monthly discharge of woman :
حیض - ایام

Menstrual, a. Monthly; lasting a month :
ماہوار - ماہانہ - مہینے پور رهنے والا

Mensurable, a. That can be measured :
پیمائش پذیر - ممکن الپیمائش

Mensuration, n. The art of measuring : -
مساحت پیمائش

Mental, a. Of the mind; intellectual : -
دلہی - قلبی - باطنی - ذہنی - عقلمندی

Mentally, ad. In meditation; intellectually :
خیال میں - من میں - عقلاً

Mention, n. A suggestion; notice : -
ذکر - اشارہ -
v. i. To express in words; to name;
to speak of : - ظاہر کرنا - ذکر کرنا -
چرچا کرنا - نام لینا

Mentor, n. A wise counsellor or monitor : -
نصیح معلم - دانو وفادار مشیر

Menu, n. A bill of fare; a card showing the dishes to be served at an entertainment :
فہرست طعام - تفصیل خاصہ

Mercantile, a. Relating to commerce; trading :
—marine. جملہ سوداگری - ہماز

Mercenary, a. Venal; greedy of gain; selfish;
hired : - زر آشنا - لالچی - خود غرض - کرایہ کار - زر دوست -
n. A hireling; a soldier hired for
foreign service : اجرہ دار - فوج کے سپاہی جو غیر
ملک میں لڑائی کے لئے رکھے جا رہے ہیں

Mercer, n. One who deals in silks : -
حریر فروش - ریشمی پارچہ فروش

Merchand, v. t. To traffic : سوداگری - تجارت کرنا

Merchandise, n. Wares; commerce : مال - اسباب -
تجارت - سوداگری - لین دین

Merchant, n. A trader; a wholesale dealer :
a. Pertaining to trade : متعلق تجارت

Merchantman, n. A trading vessel : تجارتی جہاز

Merciful, a. Compassionate; tender; humane :
رحیم - رحم دل - کریم - غفار - مہربان - دیاوان

Merciless, a. Cruel; pitiless; savage :
بی درد - بے رحم - سبکدل

Mercurial, a. Of quicksilver; active; fickle;
crafty : پارہ کاسیعی - چالاک - چپقل - متلون مزاج -
سکار

Mercury, n. Quicksilver : A planet :
عطارد - بدہ

Mercy, n. Pity; clemency; pardon; discretion;
act of kindness : رحم - نرمی - ترس آمیزش -
To be at the قابر میں ہونا -
—of, to be under the power of : کسی کی مرضی کے تابع ہونا
To cry for—, to صافنی چاہنا - دھائی دینا - مغفرت چاہنا
beg pardon : صرف - خالص فقط - مجرد - ترا
absolute : صرف - محض - فقط

Merely, ad. Singly; absolutely : فقط

Meretricious, a. Pertaining to harlots; lewd;
tempting by false show : - زناکار - جوہرنا -
نمائشی - ظاہر داری کا

Merge, v. t. or i. To sink; to be swallowed up :
قربنا - غرق ہونا - گم ہونا - غائب ہوجانا -
مک جانا

Meridian, n. Noon; culmination : دوپہر - نیم
A great circle which the sun crosses
at noon : نصف النہار - خط نصف النهار یا سمت الراح

Meridional, a. Pertaining to the meridian;
southerly : نصف النہاری - جنوبی - دکھنی

Merino, n. A kind of soft woollen cloth : ایک قسم
کا اونٹنی کپڑا مرینا

Merit, n. Excellence; desert; reward : جوہر - عمدگی -
حسن و (Lao) (pl.) * ایقت - قدر - صلہ - اجر -
v. t. To have * قباحت - رداد - مقدمہ - حقیقت حال
a just title to; to earn by services : مستحق ہونا -
مکتب سے پیدا کرنا

Meritorious, a. Valuable ; praiseworthy ; deserving reward : - قابل صلہ - قابل تعریف - قابل صلہ - قابل انعام - واجب الاجر - مستوجب

Merle, n. A black bird : کول - بھونگا

Merlin, n. A sort of hawk : ایک قسم کا باز

Mermaid, n. The fabled sea-woman : - بنت البھر - ایک خیالی دریائی جانور نصف عورت اور نصف مچھلی کی شکل کا

Merriment, n. Mirth ; noisy spirit ; cheerfulness : خروش طبعی - بشاشی - خرمی - چہل

Merry, a. Gay ; causing laughter ; delightful : **make,** mirth, festival : بزم - **go-round,** چرخ عقدرلا

Syn.—Cheerful, blithe, gleeful.

Merry-andrew, n. A clown ; a zany : خروش مسخڑا - مسخڑا - نقل بھانڈا - جعفر وٹائی

Mesh, n. The space between the threads of a net ; net work : چال کی جھانچڑی - چالی کا چھید - چال پھنسانا

Meshy, a. Netted ; formed like net work : چالدار - چالی کا سا

Mesmeric, a. Relating to mesmerism : متعلق بہ مسمریزم

Mesmerise, v. t. To bring the patient into a state of trance or sleep : مسمریزم کے عمل سے خراب طاری کرنا - بے ہوش کرنا

Mesne, (mén) a. Middle : **process,** زرد اصالت **profits,** * کارروائی درمیانی

Mess, n. A dish ; a medley : - کھانا - طعام - خوراک - **A number of persons who eat together :** * بہت سے شخص جو ایک ساتھ کھائیں **To get into a—** * بہت سے میں بھنسانا **of,** **v. i.** To eat together : ایک ساتھ کھانا - ہم طبق ہونا - ہم نوالہ ہرنا

Message, n. Any communication sent from one person to another ; an errand : پیغام - پیغام - خیر - سفیدی

Messenger, n. The bearer of a message ; a harbinger : ناصد - پیغام بر - ہرکارہ - پیغمبر - پیشوا - نامہ بر - پیغام رساں - مخبر - ایلیچی

Syn.—Carrier, intelligencer, courier, har-
binger.

Messiah, n. The Saviour ; Christ : - نجات دینبرالا - مسیح

Mess-mate, n. One eating at the same table : ہم نوالہ - ہم طبق

Messieurs, n. pl. Sirs ; gentlemen : - صاحبان - حضرات - چندشویک تجبرات

Message, n. A dwelling house and the adjacent land : دریائی اور اوسکے متعلق زمین

Metal, n. A simple, fixed opaque body fusible by heat : بہادری - **Courage, spirit :** * دھات - **Broken stone for roads :** کلکڑ - پتھر کا دروازہ

Metallic, a. Consisting of metal : فلزاتی - دھات کا

Metallist, n. A worker in metals : دھات کا کام کرنے والا

Metallurgy, n. The art of working metals : دھات کے صاف کرنے کا فن

Metamorphose, v. t. To transform : متبدل کرنا - شکل بدلنا - کاریا پات کرنا

Syn.—Transmute, transfigure, change.

Metamorphosis, n. A transformation : تبدیل - ضرورت - کاریا پات - تانسج

Metaphor, n. A compressed simile : استعارہ - تشبیہ مجازی - کنایہ

Metaphorical, a. Figurative ; not literal : مجازی - مستعار - لفظی نہیں

Metaphrase, n. A literal translation : تحصیف لفظی - ترجمہ لفظی - برجستہ جواب

Metaphysical, a. Pertaining to metaphysics ; علم طبعی کے متعلق - فلسفہ کا - متعلق علم : قوی ذہنی

Metaphysician, n. One versed in metaphysics : علم موجودات کا جاننے والا

Metaphysics, n. pl. The science of the mind ; علم قوی ذہنی - فلسفہ - انسان کی روح کا علم - علم طبعی موجودات

Mete, v. t. To measure : **n.** Measure ; **limit :** پیمانہ - ناپ - حد

Metempsychosis, n. Transmigration of souls from one body to another at death : آراگمن - تانسج

Meteor, n. A luminous body in the sky : شہاب
ثاقب - ثورثا ستارہ

Meteorological, a. Pertaining to meteorology :
متعلق علم حوادث سماوی

Meteorology, n. The science of the atmosphere
and its phenomena : علم حوادث سماوی - علم
کائنات البحر

Meter, n. An instrument for measuring : -
پیمانہ - ناپ

Methinks, v. imp. It seems to me ; it appears to
me : میرے خیال میں آتا ہے - مجھے ایسا ہمارا ہوتا ہے : me

Method, n. Orderly arrangement ; order ; system ;
manner : ترتیب - سلیقہ - قاعدہ - وضع - طریق - اسلوب :
Syn.—Mode, manner.

Methodical, a. Orderly ; systematic ; formal :
بالسلیقہ - باقاعدہ - باضابطہ - بالاسلوب - ترتیب وار

Methodism, n. Observance of method ; the doc-
trines and worship of the methodists : - عمل طریق -
میتھورڈسٹ کی پر - تمش وغیرہ کے دستور

Methodize, v. t. To regulate ; to dispose in due
order : باقاعدہ کرنا - ترتیب دینا

Metonymy, n. A rhetorical figure by which one
word is put for another : ایک صنعت جسمیں ایک
لفظ کو دوسرے کے عیوض استعمال کرتے ہیں

Metre, n. Verse ; rhyme ; measure : - شعر -
قافیہ - بحر - وزن

Metrical, a. Consisting of verses : بارزن - مقفا

Metropolitan, n. The chief city ; capital :
دارالسلطنت - پایا تخت - خالص شہر

Metropolis, a. Pertaining to the chief city :
جزا پادری * n. An archbishop ; the
bishop of the mother church : جزا پادری -
بڑے گرجے کا پادری

Mettle, n. Courage ; spirit ; sprightliness ; dis-
position ; substance : - ہمت - دلیری - جرات - فرقی - مزاج -
مادہ

Syn.—Spirit, nerve, vigour, ardour, pluck,
courage.

Mettle some, a. High-spirited ; ardent : جان دار
دلیر - تیز - چست

Mew, n. A sea bird : جزا * The cry
of a cat : بلی کی آواز * A cage ; an inclosure :
v. * اصطبل : n. pl. Stable : * نفس - پنجرہ - احاطہ
t. or i. To cry as a cat ; to confine ; to moult :
میانہ - نفس میں کرنا - نید کرنا - بند کرنا - پر
جھاننا - کرین کرنا

Miasma, n. Noxious effluvia ; injurious exhal-
ations arising from putrefying bodies : مضر -
بشرے جو اجسام سے نکلیں - مضر بخارات یا ذرے جو سڑی
ہوئی چیزوں سے نکلتے ہیں

Mica, n. A glittering mineral : - برق - بورتک -
چاندل

Michaelmas, n. The feast of St. Michael cele-
brated on the 26th of September : عیسائوں کا تیرہار
جو ۲۶ ستمبر کو ہوتا ہے

Mickle, a. Much ; great : بہت بڑا * Man a little
makes a mickle, پھوٹی پھوٹی کر کے غالب ہوتا ہے

Microscope, n. An optical instrument or view-
ing minnte object : خورد ذن

Microscopic, a. Very small : بھت چھوٹا جو حرف
خردبین سے دکھائی دے

Mid, a. Middle ; intervening : درمیانی - مترحفا

Mid-day, n. Noon : دروز

Midden, v. A dung hill : گھور

Middle, n. Equally distant from the extremes ;
mean ; intervening : * درمیانی - متروسط - بچلا
man, one who acts as an agent between two
parties : آتھویں : * ages : بچلویا یا بچریا - دلال
n. * صبی سے پنڈھریں صبی تک کا نرصد درمیانی زمانہ
درمیانی حصہ - بیچ : Central portion ; the midst

Middling, a. Of middle rank or size ; mediocre :
اوسط درجہ یا تد کا - مترسط - میانہ

Midland, n. The interior region of a country re-
mote from the sea : کسی ملک کا اندرونی حصہ جو
سدر سے دور ہو - وسط ملک کا

Midnight, n. Twelve o'clock at night : - نصف شب -
آدھی رات

Midriff, n. The diaphragm : پردہ شکم جو چھاتی اور
پنڈھ کے بیچ ہے

Midshipman, n. A junior naval officer : افسر
درجہ کا جہازی انس

Midst, n. The middle : درمیان - بیچ * *ad.* In the middle : بیچ میں - درمیان میں

Midway, n. The middle of the way : * آدھی راہ
a. Being in the middle of the way : * آدھی راہ کا
ad. In the middle of the way : آدھی راہ میں

Midwife, n. A female who assists women in childbirth : قابلہ - دائمی چٹائی

Midwifery, n. The profession of a midwife ; assistance in childbirth : دائمی پن - قابلہ گری - چٹائی - کا کام

Mien, n. Aspect ; look ; air ; manner ; demeanour : صورت - وضع - شان - طرز - چال

Miff, n. A slight feeling of resentment : ناراضگی

Might, n. Strength ; force ; ability : طاقت - زور -
with utmost strength : تمام زور سے - قوت بازر * **With—and main,** with
utmost strength : چسکی تیغ * **Might overcomes right,**
زبردست کا جرتا * **Might, is right,** اسکی دیغ
سر پر

Mighty, n. Powerful ; great ; valiant ; extraordinary ; violent : طاقتور - بڑا - نشیور - کلاس - دلیر - بہادر - ضروری - عظیم - عجیب - شدید - پرشور

Migrate, v. i. To remove from one place to another ; to remove : ایک جگہ سے دوسری جگہ کو جانا - چلا جانا - نقل مکان یا وطن کرنا

Migration, n. The act of migrating : انتقال - وطن - کوچ روانگی - ایک جگہ سے دوسری جگہ کو چلا جانا

Migratory, a. Changing residence ; roving : نقل سکونت کرنے والا - چلتا پھرتا - بے قیام - بدرش - بے خان و ماں

Milch, n. Giving milk : دودھ دینے والی - دودھار

Mild, a. Soft ; not rough ; not acrid ; mellow ; merciful ; moderate : ملائم - ہموار - خرشکرار - شیریں - تلکا - نرم دل - مدہم - حلیم الطبع

Mildew, n. Blight ; rust : گرہی - مورچہ * *v. t. or i.* To taint with mildew : گرہی لگنا - چھلنا

Mildness, n. Gentleness ; clemency : حلم - اعتدال * **Mildness governs more than anger,** غصہ کے نسبت نرمی زیادہ کام دیتی ہے

Mile, n. A linear measure of 1,760 yards : میل - ۱۷۶۰ گز طارل

Mileage, n. An allowance for travelling by the mile in a conveyance : بہتہ فی میل

Miliary, a. Small, like millet seeds : چوہرٹا کنگنی یا : کورس کے دانہ کے موافق

Militant, a. Engaged in warfare ; fighting : لڑائی میں مصروف - لڑاکا - جنگجو

Military, a. Martial ; suiting a soldier : فوجی * *n.* The soldiery ; the army : سپاہ - فوج - لشکر

Militia, n. The whole military force of a nation ; a body of men enrolled and drilled as soldiers : کل قومی سپاہ - وہ پیشہ ور لوگ جو لڑائی کے وقت فوج کا کام دیں

Milk, n. The white fluid drawn from the female of certain animals for the nourishment of their young ; the white juice of plants : شیر - دودھ * *v.* To draw milk : دودھ نکالنا - تھن یا چڑچپی پینا

Milkmaid, n. A woman employed in a dairy : گزائن - اغیرن - دودھ والی

Milkman, n. A man who sells milk : دودھ والا - اغیر - گزالا

Milkpail, n. A vessel into which cows are milked : دھانڈی یا دھنڈی

Milkpan, n. A vessel in which milk is kept : دودھ کی ہانڈی

Milksop, n. Bread sopped in milk : نامرد - *An effeminate person :* * بھگڑی ہوئی روٹی زانہ - بزدل

Milky, a. Made of milk ; yielding milk ; spiritless : دودھ کا بنا ہوا - دودھار - بزدل - کچھا

Milky-way, n. The galaxy : کہکشاں - اکاس گنگا - اکاس جلیور

Mill, n. A machine for grinding, etc. ; a manufactory : آسیا - چکی - کرلوہ - جانتا - کارخانہ * **To go through the—, tooth,** آزرودہ * *v. t.* To grind ; to stamp ; to coin ; to fill, as cloth : مہر لگانا - سکھ مارنا - ضرب کرنا - کپڑے کو گڑھا کرنا

Mill-board, n. A stout kind of paste-board used by book-binders for covers of books : مرتبہ دقتی

Millennium, n. A thousand years ; the thousand year mentioned in the twelfth chapter of the Revelation : ہزار سال - ہزار سال کی مدت جسکا ذکر الہام کے بارہویں باب میں آیا ہے

Miller, n. One who attends a mill : پسنہار - پسنے والا
* **Every miller draws water to his own mill,** اپنا پہلا سب چاہتے ہیں

Millet, n. A grain bearing plant : بھجرا جوڑا وغیرہ

Milliner, n. One who makes and sells ladies' head-dresses, etc. : عزتوں کی ٹرپی وغیرہ بنا کر بیچنے والا

Millinery, n. The business of, or the articles sold by a milliner : ٹرپی وغیرہ بنانے کا پیشہ

Million, n. The hundred thousand : دس لاکھ

Millionaire, n. A person worth a million of money ; a very rich person : دولت مند

Mill-stone, n. A stone grinding corn : سنک آسیا - چکی کا پلٹ

Mill-wright, n. A mechanic who constructs and repairs mills : چکی بنانے والا

Milt, n. The spleen : سہرز
* **The soft whitish substance found in male fish :** ملائم سفید مادہ جو نر مچھلیوں میں پایا جاتا ہے

Milt, n. The male of fishes : نر مچھلی

Mimic, n. One who imitates ; a buffoon : نقال
نقل کرنا - * **v. t. To ape ; to mock :** منہ چڑھانا - ٹپٹھا کرنا - خاکا اڑانا

Mimicry, n. Ludicrous imitation : سرائگ - نقل

Minaret, n. A small spire : مینار - لاقہ

Mince, v. t. To cut into small pieces ; to extenuate ; to clip : چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا - قیصہ کرنا - کٹنا - کترنا
* **To—matters,** to palliate : بات بنانا

Mince, v. i. To walk with short steps ; to speak imperfectly : آہستہ چلنا - ناز سے قدم رکھنا - اٹھکھیلوں سے چلنا - ممتکے چلنا - بات کو چبانے - چبانے بات کہنا

Mincingly, ad. Not fully ; affectedly : کم سے کم - بناوٹ سے

Mind, n. The rational faculty in man ; the understanding : * **In-** - دل - دماغ - ذہن - فہم - ادراک - ارادہ ; choice ; opinion ; recollection :

Time out of— * خواہش - پسند - رائے - یاد دہشت
* **To call to—** * یاد کرنا
* **To bear in—** * پیش نہاد رکھنا
* **To know one's—** * ٹھاننا - پکا
* **To make up one's—** * مرضی پانا
* **To put in—** * یاد دلانا
* **Unsoundness of—** * ذہن غلط
* **To have a—** * ابرسان
* **Presence of—** * چاہنا
* **v. t. To attend to ; to obey ; to mark :** رغب ہونا - مخاطب ہونا - حکم ماننا - قبول کرنا - لحاظ کرنا - غور کرنا

Minded, a. Disposed ; inclined : رغب - مائل - رجوع

Mindful, a. Attentive ; heedful ; observant : متوجہ - خبردار - ہوشیار - فکر مند

Mine, pron. Belonging to me : میرا
* **n. A pit from which ores are dug ; an excavation :** * **v. t. or i. To dig ; to sap :** کان - معدن - سرنگ - نقب - کھودنا - سونگ لگانا

Miner, n. One who works in a mine : کان میں کام کرنے والا - کان کھودنے والا

Mineral, n. A metal ; a substance not organic ; existing in the earth : * **d. Of** کانی - معدنی - دھات - دھات بھرا ہوا
* **v. t. To dig ; to sap :** کانی - معدنی - دھات بھرا ہوا

Mineralise, v. t. To impregnate with mineral matter ; to transform into a mineral : دھات سے بھرنے - دھات بنانا

Mineralogist, n. One versed in minerals : علم معدنیات - دھا تو دیا

Minerva, n. The goddess of wisdom, war and liberal arts : سرستی - بدیا دھری - دیوی

Mingle, v. t. To mix ; to confound ; to intermarry ; to contaminate : ملانا - مطاوعہ کرنا - آپس
* **—mangle, a medley** * **jumble :** جملہ مادہ - گڈمڈ

Miniature, n. A small picture on a reduced scale : * **a. On a small scale :** چھوٹے پیمانہ پر - چھوٹی
* **Syn. - Little, small, diminutive.**

Minify, v. t. To diminish ; to undervalue : کم قدر کرنا - اوروں کی نگاہ سے اتارنا - ہیٹھا کرنا

Minim, n. The smallest liquid measure : قطرہ - بوند

Minimise, v. t. To reduce to smallest degree :
چھوٹا کرنا

Minimum, n. The least quantity : سب سے قلیل مقدار

Minion, n. A favourite : پیارا - عزیز - دلارا - چشم
A low flatterer : * چاراغ
A saucy person : * چاہارس خورشامہ
A small kind of type : * چھوٹے حروف

Minister, n. A servant : * نوکر
A delegate ; a pastor : * گھنٹہ - ایچی - سفیر - پادری -
One to whom a sovereign intrusts the direction of the affairs of state : * وزیر - منتری -
To give aid ; to perform ; to supply ; to serve : * v. t. or i. مدد دینا - مددگار
بہم پہنچانا - ضرورت پوری کرنا - حاجت روائی کرنا - خدمت کرنا

Ministerial, a. Attendant ; acting under authority ; official ; executive ; contributive :
خادم - کار کن - زبردست - عملہ - تعمیل کنندہ - عامل - مدد

Ministration, n. Agency ; the office of a minister ; service :
کار کنی - عہدہ وزارت - خدمت

Ministry, n. Office ; service : * عہدہ - خدمت
Ecclesiastical function : * پادری کا عہدہ
The body of ministers of a state : * وزرا - جمہ اراکان دولت
Agency : * کالت

Minnow, n. A very small fish inhabiting fresh-water streams :
ایک بہت چھوٹی مچھلی جو ندیوں میں رہتی ہے

Minor, a. Less ; petty ; unimportant ; smaller :
* n. A person under age : * کم - چھوٹا - بے قدر - کمتر - خفیف
* نابالغ - کم عمر - نارسیدہ - سقرہ

Minority, n. The smaller number : * کم - نکتہ -
* The state of being a minor : * قلیل التعداد لوگ
نابالغی

Minotaur, n. A fabled monster half man half bull :
ایک خیالی جانور آدھا آدمی اور آدھا بیل

Minster, n. A cathedral church : خانقاہ کے متعلق گرجا

Minstrel, n. A singer and harper ; a musician :
بربط نواز - مطرب - کلرنت - گویا - سرور گر

Minstrelsy, n. The occupation of a minstrel ; a band of musicians :
مطرب کا پیشہ - گانپورونکا
طائفہ

Mint, n. A place where money is coined : دارالانصر
* A well-known aromatic plant : * پودینہ

Breach of—laws, دارالانصر
Mint, v. t. To coin ; to fabricate ; to invent : سکہ
تعلانا - قلب کرنا - گھنٹا - ایجاد کرنا

Mintage, n. Duty paid for coining : سکہ کی
تھلوائی

Mint-master, n. One who presides in coinage :
سکال کا داروغہ

Minuend, n. The number from which another is to be subtracted :
مفرق - وہ عدد جسمیں سے کوئی عدد کم کیا جا رہے

Minus, a. Less ; negative : * کم - منفی
* sign, (Math.) (—) منفی کی علامت

Minute, n. The sixtieth part of an hour : * منٹ
* A memorandum ; a short sketch : * گھنٹہ کا ساڈھران حصہ
* glass, * یادداشت - تحریر خلاصہ : رے
* گھنٹا بجانے والا پتلا زمانہ ساز * jack * گھڑی
* To jot down ; to make a brief summary of :
* a. Slender ; diminutive ; slight ; trifling ; exact in details ; critical :
باریک - چھوٹا - ڈرا سا - حقیر - مفصل - دقیق - بہت
مفصل - باریک بین

Minute-hand, n. The hand that points to the minute of a clock :
گھڑی کی منٹ بتانے والی سرئی

Minutely, ad. Exactly ; to a small point :
تھیک - باریکی سے - بال بال - جز رسی

Minuteness, n. Extreme smallness : باریکی

Minutiae, n. pl. The smallest particulars : جزئیات

Minx, n. A pert girl : شرخ چشم عورت

Miracle, n. A supernatural event ; a wonder :
معجزہ - کرامات

Miraculous, a. Supernatural ; wonderful ;
معجزہ کا - کراماتی - عجیب - حیرت انگیز
* marvellous
فوق العادت

Mirage, n. An optical illusion, presenting an image of water in sandy deserts or elevating objects in the air :
سراب - مرگ ترشنا - دھوکا

Mire, n. Deep mud ; earth very wet and soft :
گھرا کیچڑ - چھلا - گیلی اور ملائم زمین

Mirk, a. Obscure : اندھیرا - تاریک

Mirror, n. A looking-glass ; a pattern : - مرآت
 * *v. i.* To show
 forth : دکھانا - ظاہر کرنا
 شیشہ - آئینہ - آرسی - آئینہ - نمونہ

Mirth, n. Social merriment ; glee ; gaiety ;
 laughter : ہنسی
 خنسا - خنسی - خورشعالی - خرمی - ہشاش

Syn. - Cheerfulness, festivity, glee, fun.

Miry, a. Muddy : کیچڑ سے بھرا ہوا - گندلا - مکدر

Misadventure, n. A mishap ; a misfortune :
 آفت - بلا - مصیبت - بدبختی - کمبختی

Syn. - Mischance, misfortune.

Misadvised, a. Ill-advised ; ill-counselled : - گمراہ
 خلاف ہدایت

Misallege, v. t. To cite falsely as a proof : غلط
 بیان کرنا

Misalliance, n. Improper association or marriage :
 نکاح ناجائز - اتحاد نامناسب - خراب صحبت - اپنے سے
 چھوٹے درجہ کے ساتھ شادی کرنا

Misanthropist, n. A hater of mankind : انسان
 سے نفرت کرنے والا

Misanthropy, n. Dislike to mankind : ذم
 سے نفرت

Misapply, v. t. To apply to a wrong purpose :
 بیجا استعمال کرنا - بے موقع صرف کرنا

Syn. - Abuse, pervert.

Misapprehend, v. t. To misunderstand : غلط
 سمجھنا - غلط فہمی کرنا - خلاف سمجھنا

Misapprehension, n. A mistake ; misunder-
 standing : غلطی - غلط فہمی - خطا

Misappropriate, v. t. To use for a wrong pur-
 pose : غلط کام میں استعمال کرنا - تصرف بیجا کرنا -
 خورد و برد کرنا - غبن کرنا

Misappropriation, n. Wrong application or
 use : تصرف بیجا

Misarrange, v. t. To place in a wrong order :
 بے ترتیب کرنا

Misbegotten, a. Unlawfully begotten ; perni-
 cious : حرام زادہ - حرامی - ولد الزنا - مکروہ

Misbehave, v. i. To behave ill : بد چلن
 بد چلنی - بد سلوکی کرنا

Misbehaviour, n. Ill-conduct ; rude behaviour :
 بد اطرازی - ناشایستگی - بد چلنی

Miscalculate, v. t. To calculate wrongly ; to
 misjudge : غلط اندازہ کرنا - غلط شمار کرنا - غلط فہمی کرنا

Miscall, v. t. To call by a wrong name ; impro-
 perly : غلط نام سے پکارنا - غلط نام لینا

Miscarriage, n. Failure : ناکامیابی * Prema-
 ture birth : Misbehaviour :
 بد روی - بد چلنی - بد سلوکی

Miscarry, v. i. To suffer defeat : شکست کھانا :
 اسقاط حمل کرنا - ہیمٹ کرنا

Miscellaneous, a. Mingled ; consisting of
 several kinds : منفرط - لا جلا - مختلف قسم کا -
 متنفرق

Miscellany, n. A mixture : آمیزش - پینچ میل
 A collection of composition on various subject :
 مجموعہ مختلف مضامین

Mischance, n. Ill fortune ; ill-luck ; mishap : بد
 بختی - بد قسمتی - بد نصیبی - مصیبت
 Syn. - Calamity, misfortune.

Mischarge, v. t. To mistake in changing : داخلہ
 میں غلطی کرنا - حساب میں غلطی کرنا

Mischief, n. Harm ; injury ; evil ; damage :
 نقصان - ضرر - زیان - ہدی - حسارہ

Syn. - Damage, harm.

Mischievous, a. Injurious ; hurtful ; spiteful ;
 wicked : مضر - نقصان رساں - کینہ ور - شریر

Mischoose, v. t. To make a wrong choice : غلط
 پسند کرنا

Miscible, a. Mixable : ملنے کے لائق

Miscite, v. t. To quote wrongly : غلط حوالہ دینا

Miscognizant, a. Ignorant : جاہل

Miscompute, v. t. To reckon wrongly : غلط حساب
 لگانا

Misconceive, v. t. To have a wrong notion of ;
 misjudge : خلاف سمجھنا - غلط فہمی کرنا

Misconception, n. Wrong notion ; false
 opinion : غلط خیال - باطل - غلط فہمی

Misconduct, n. Ill-behaviour ; bad management :
 بد وضعی - بد چلنی - بد انتظامی

Misconjecture, n. A wrong conjecture :
 باطل - غلط قیاس

Misconstruction, n. Wrong interpretation :
خلاف تعبیر - غلط معنی

Misconstrue, v. t. To interpret wrongly; to misunderstand :
غلط معنی لگانا - غلط فہمی کرنا

Miscount, v. t. or i. To make a wrong reckoning :
شمار میں غلطی کرنا

Miscreant, n. An unscrupulous villain; a vile wretch; a misbeliever :
غلط اعتقاد - آوارہ مردود - پاجبی - رند - کانر

Misdate, v. t. To date wrongly :
غلط تاریخ لکھنا

Misdeed, n. An evil deed; misconduct; a guilty action :
فعل بد - برا کام - بد اطراوی - جھیل - جرم

Misdeem, v. t. To misjudge :
غلط تدبیر کرنا

Misdemeanour, n. Evil conduct; a petty crime :
خراب چال چلن - جرم صغیر - قصور

Misdirect, v. t. To give a wrong direction to :
غلط ہدایت کرنا - غلط پتہ لکھنا

Misdirection, n. Wrong address :
غلطی پتہ

Misdoer, n. A wrong doer :
مجرم - بدکردار - قصوروار

Misemploy, v. t. To use amiss; to misapply :
بیدجا استعمال کرنا - بیدجا صرف کرنا

Misemployment, n. Wrong application :
بیدجا استعمال

Misentry, n. A wrong entry in an account or book :
حساب کے کتاب میں غلط اندراج

Miser, n. A covetous person; a niggard :
ممسک - کنبورس - مہکی چورس - نگرزا - چنڈال

Miserable, a. Wretched; despicable; barren; worthless; unhappy; very poor :
کم بخت - خراب - حسدہ - تباہ - دلیل - نکما - غمزدا - ناکارہ - تابن دوس

Miserableness, n. The state or quality of being :
مiserable :
بدبختی - تباہی - کمبختی - مفلسی

Miserly, a. Stingy :
بخیلانہ

Misery, n. Wretchedness; poverty; calamity; woe :
کمبختی - مفلسی - غربت - آنت - مصیبت - رنج

Syn. - Anguish, distress, calamity.

Misfortune, n. Ill-fortune; adversity; mishap; harm :
بد قسمتی - بد نصیبی - آنتان - کمبختی - نقصان - حادثہ - ناکاہ - سیلہ بختی

Misgive, v. t. or i. To fill with doubt :
شک پیدا کرنا - شبہ ڈالنا

Misgiving, n. Doubt; mistrust :
شبہ - شک - دھوکا

Misgovern, v. t. To govern ill :
بد انتظامی کرنا - جبر کرنا

Misgovernment, n. Bad administration; disorder; irregularity :
بد انتظامی - بدعظمی - بد نظمی - ایتری - بے قاعدگی - اندھیر

Misguidance, n. Wrong direction; the act of leading into error :
غلط ہدایت - گمراہی - دھوکادہی - غلطی میں ڈالنا

Misguide, v. t. To direct ill; to guide into error :
گمراہ کرنا - غلطی کرنا - بہکانا - بڑی راہ پر چلانا

Mishap, n. Ill-chance; misfortune :
بد اتفاقی - بد - نصیبی - ناگہانی آنت - حادثہ

Syn. - Calamity, misfortune, accident.

Mishmash, n. A hotch-potch :
کھچڑی - ستجا - کھال میل

Misimprove, v. t. To abuse; to use to no purpose :
بگاڑنا - خراب کرنا - کسی کام میں نہ لانا

Misinform, v. t. To give wrong information :
غلط خبر دینا

Misinterpret, v. t. To interpret erroneously; to misconstrue :
غلط تعبیر کرنا - غلط معنی لگانا

Misinterpretation, n. Wrong explanation :
غلط معنی - خلاف بیان

Misjoin, v. t. To join improperly or unfitly :
غلط طور پر ملانا یا جوڑنا

Misjudge, v. t. To judge amiss :
غلط تدبیر کرنا - بے انصافی کرنا - غلط رائے لگانا

Mislay, v. t. To lose; to lay in a place not remembered :
گھونا - گھنکر بھولجانا - غلط مصوب کرنا

Misle, (mizl) v. i. To rain in very fine drops :
ترشح ہونا - جھومجھومانا - پدوئید کرنا

Mislead, v. t. To lead astray; to deceive :
گمراہ کرنا - دھوکا دینا - بھکانا

Syn. - Delude, misguide.

Mismanage, v. t. or i. To conduct ill; to manage improperly :
بڑی طرز سے اہتمام کرنا - بد انتظامی کرنا

Mismanagement, n. Illmanagement : بدانتظامی

Misname, v. t. To call by the wrong name : غلط نام سے پکارنا

Misnomer, n. A wrong name : غلط نام - نام کی غلطی - لڑر کا نام

Misogamist, n. A hater of marriage : شادی سے نفرت کرنے والا

Misogamy, n. Hatred of marriage : شادی سے نفرت

Misogyny, (mis-og'i-ni) n. Hatred of women : عورتوں سے نفرت

Misplace, v. t. To put in a wrong place : بے موقع رکھنا - غلط جگہ پر رکھنا

Misprint, v. t. To print wrong : غلط چھاپنا

Misproportion, v. t. To distribute without due proportion : غلط اندازہ کرنا - غیر مناسب اندازہ سے بانٹنا

Misquote, v. t. To cite incorrectly : بیجا حوالہ دینا - غلط اقتباس کرنا

Misrecital, n. Wrong repetition : غلط پڑھائی

Misrecite, v. t. To recite erroneously : غلط پڑھنا

Misreckon, v. t. To miscalculate : غلط شمار کرنا

Misrelate, v. t. To relate erroneously ; غلط بیان کرنا - کچھ کا کچھ بیان کرنا

Misreport, v. t. To give an incorrect account of : غلط بیان کرنا - غلط خبر دینا

Misrepresent, v. t. To represent falsely : جھوٹا بیان کرنا

Misrepresentation, n. A false account : غلط بیانی - دروغ بیانی

Misrule, n. Unjust rule ; confusion ; tumult : بے بنیاد رستی - بد عملی - ایتری - فساد - تڑ - اندھیر

Miss, n. A young unmarried girl ; lass : درشیزہ

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Mistake, v. t. To mistake ; to fail in aim ; to omit : غلطی - Mistake * لڑکی - جوان - بے بیاہی لڑکی

Missile, n. A weapon to be thrown : پھینک کر مارنے کا ہتھیار

Missing, a. Lost ; wanting ; absent : گم شدہ - فائب - کم - ناپیدا - غیر حاضر - جہاں چاہئے وہاں موجود نہ کرنا

Mission, n. The act of sending ; a commission ; an embassy ; missionary body or organization ; a station of or association of missionaries ; the purpose of life : رسالت - کمیشن - سفارت - جماعت - مرساں دین - پادریوں کا محکمہ یا مقام عیسائیوں کی بستی - مقصد زدگی

Syn. — Delegation, embassy.

Missionary, n. One sent to propagate religion : پادری - مرسل - حراری

Missionary, a. Of missions : متعلق بہ مشن

Missive, a. That may be sent ; missile * Ink is the great missive weapon in all battles of the learned : * * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Mis-spell, v. t. To spell wrongly : غلط لکھ کرنا

Mis-spend, v. t. To squander ; to spend ill : برباد کرنا - ضایع کرنا - بیجا صرف کرنا - گزرا کرنا

Mis-state, v. t. To represent falsely : غلط بیان کرنا

Mistatement, n. An erroneous statement : غلط بیانی - اظہار دروغ

Mist, n. A thick vapour ; anything that dims or darkens : دھندلا
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Mistake, n. A misconception ; an error : غلطی
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Mistaken, a. Misunderstood ; wrong ; judging wrongly : غلط سمجھا گیا - غلط تہریر کرتے ہوئے

Mister, n. (Contr. Mr.) a. A title of courtesy prefixed to the name of any adult male : صاحب جناب

Misterr, v. t. To name wrongly : غلط نام لینا - جھوٹا نام رکھنا

Mistful, a. Clouded as with a mist : کھمرے سے پھرا ہوا

- Misthink, v. t.** To think erroneously : غلط خیال کرنا
- Mistil, ad.** Obscurely ; darkly : تیرگی سے - تاریکی سے
- Mistime, v. t.** Not to adapt to the time ; not to time aright : بے وقت کرنا - بے وقت کرنا - بے موقع کرنا
- Mistiness, n.** Obscurity : دھند - تیرگی - تاریکی
- Mistletoe, n.** A plant which grows on trees : پودا جو درختوں پر اڑکتا ہے - اگس بیل - امر بیل
- Mistranslate, v. t.** To translate erroneously : غلط ترجمہ کرنا
- Mistranslation, n.** An incorrect translation : غلط ترجمہ
- Mistress, n.** A woman who governs a school ; a female teacher ; the head of a family : - اوستانی - A concubine : * ملائی - گزرواین - کد بانو بی بی قحبہ - رنڈی
- Mis-trial, n.** A false trial : غلط تجربہ
- Mistrust, n.** Suspicion ; distrust : شک - شبہ - To v. t. or i. To suspect ; to doubt : * اعتبار - بے اعتمادی - بد گمانی - دسراس شک کرنا - شبہ کرنا
- Mistrustful, a.** Doubtful ; suspicious : مشکوک - شکي - بد ظن
- Mistune, v. t.** To tune wrongly ; to put out of tune : غلط راگ بجانا - بے سزا کرنا
- Misty, a.** Overspread with mist ; dim : کھرا چھایا - ہوا - تاریک - اندھیرا
- Syn.**— Cloudy, hazy, foggy.
- Misunderstand, v. t.** To miscomprehended : غلط سمجھنا - غلط فہمی کرنا - الجھنا
- Misunderstanding, n.** Misconception ; dissension ; disagreement : - غلط فہمی - کھینچہمی - رنجش - ناموافقیت - انہن - کھت پت
- Misusage, n.** Bad treatment ; abuse : بدسلوکی - بڑا استعمال - خروا
- Misuse, v. t.** To treat ill ; to misapply : بڑی طرح رکھنا - بدسلوکی کرنا - بڑی طرح پیش آنا - بڑی طرح بدسلوکی - بڑا استعمال کرنا * n. Misapplication ; abuse : بڑا استعمال
- Mite, n.** A small insect : * گگی - ذہی سی جان
A small coin : * ایک چھوٹا سکہ
A very little thing : * کچھ - ذرہ - ریزہ
- Mithridate, n.** an antidote to poison : زہر مہرہ - طردیق - فاروق
- Mitigable, a.** Mitigating : قابل تخفیف
- Mitigant, a.** Lenient ; lenitive : ملائم - نرم - تسلی - بخشش - آرام دہ
- Mitigate, v. t.** To alleviate ; to soften ; to soothe ; to allay : کم کرنا - تسکین دینا - بچھانا - فرو کرنا
- Mitigation, n.** Alleviation ; relief ; the lessening of anything harsh or painful : تسکین - دھارس - دھیرج - آرام - تخفیف - کمی - تسکین - اناقہ
- Syn.**— Abatement, relief.
- Mitre, n.** A bishop's cap : بپش کی قوری
- Mitten, n.** A cover for the hand ; gloves without fingers : * دستانہ - بغیر انگلیوں کا دستانہ : گنوار پنے سے ہاتھ لگانا
- Mittimus, n.** A warrant by which a justice of peace sends an offender to prison : وہ حکم نہ - جس کے ذریعہ سے صاحب عدالت مجرم کو جیلخانہ بھیجتا ہے
- Mix, v. t. or i.** To mingle ; to blend ; to associate : ملنا - ملانا - مظرط ہونا - مظرط کرنا - شریک ہونا یا کرنا
- Mixable, a.** Capable of being mixed : قابل آمیزش - قابل شرکت
- Mixed, a.** Promiscuous ; not pure ; confused : * آمیختہ - ملا ہوا - مرکب - غیر صاف - اتر - کذب - کسر مرکب - number, * دونسلی ذات - breed
- Mixture, n.** A compound ; the estate of being mixed ; a mingled mass : * مرکب - آمیزش - ملاؤ - عرق (Med.).
- Mizzenmast, n.** The mast that stands nearest the stern : جہاز کا پچھلا مستول
- Mnemonics, n. pl.** The art of memory : حافظہ بڑھانے کا هنر
- Moan, n.** A low cry of sorrow : آہ - سسکی - گریہ
v. t. or i. To lament ; to bewail ; to grieve : رنج کرنا - آہ بھرنا - سسکنا
مازم انگیز
- Moanful, a.** Lamentable :
- Moat, n.** A deep trench round a castle : خندق - خندق یا
v. t. To surround with a ditch : * کھائی کھانی سے گھیرنا

Mob, n. A disorderly crowd ; the populace : - ہجوم
 ہجوم کرنا * *v. t.* To harass by tumult : - ہجوم کرنا
 ہنگامہ برپا کرنا

Mobile, a. Excitable ; fickle ; fluid : قابل
 برانگیختگی - متلون - کمزور - ناپائدار - رقیق

Mobility, n. Activity ; fickleness ; the fluidity ;
 the mob : تیزی - ناپائدارگی - رقت - ہجوم

Mobilize, v. t. To put in readiness for service
 in war : لڑائی کے واسطے تیار کرنا

Mock, v. t. To imitate ; to deride ; to treat with
 contempt ; to deceive : تقل کرنا - ذلیل کرنا - تہمتا
 کرنا - ہنسی اڑانا - منہ چڑھانا - ہنسنا - دھوکا دینا

Mock, n. A jeer ; insult : * تصحیک - طنز - ہنسی
a. Assumed ; false : نقی - جوڑا - بناوٹی

Mockery, n. Derision ; a counterfeit appearance ;
 imitation : تصحیک - ہنسی - تقل - تقاید

Mocking, a. Derisive ; imitative : مسخرہ - تقابلی
 *—bird, An American bird famous for its faculty
 of imitating sounds : امریکہ کی ایک چڑیا - مینا

Mode, n. Form ; custom ; style ; gradation :
 صورت - شکل - رواج - طرز - طریقہ - وضع - درجہ - رتبہ

Syn. Way, method, manner, style.

Model, n. A copy for imitation ; a plan ; a
 pattern ; a standard : * نمونہ - نقشہ - پیمانہ - ڈپ
v. t. To shape ; to mould : صورت بنانا - نقشہ بنانا
 سانچہ بنانا - خاکہ بنانا

Moderate, a. Temperate ; not excessive ; no extreme ;
 calm ; limited : معتدل - قلیل - میاندہ -

language, متوسطا - پرمیزی - شایستہ - محدود
Sound sleep cometh of—
 eating, * تو روزا ہانا کھانے سے اچھی نیند آتی ہے
t. To restrain ; to regulate ; to pacify ; to pre-
 side over : روکنا - ضبط کرنا - اعتدال پر لانا - ملائم
v. i. To become less violent : میر مجلس بنانا
 گھٹنا - کم ہونا

Moderation, n. Calmness ; frugality ; restraint in
 indulgence : بردباری - سنجیدگی - میاندہ روی -
 کفایت شعاری - ضبط - بردباری

Moderator, n. A president : صدر
 * Regulator : معتدل کرنے والا

Modern, a. Late ; of recent period ; not ancient :
 متاخرہ - حال کا - جدید - نیا

Syn.—Recent, new, fresh, novel, late.

Modernise, v. t. To give a modern form to : طرز
 کے موافق کرنا - نئے زمانہ کے مطابق بنانا

Modernism, n. Modern practice : رواج جدید

Modest, a. Not arrogant ; unobtrusive ; bashful ;
 chaste : حلیم - باشعور - حیا دار - پاکدامن

Syn.—Reserved, shy, coy, decent.

Modesty, n. Decency ; chastity ; absence of
 arrogance : شرم - حیا - پاکدامنی - عصمت - خائساری

Modericum, n. A little ; a measured quantity :
 مقدار قلیل - محدود یا بڑی ہرٹی صورت

Modification, n. The act of modifying ; a
 change : اصلاح - تبدیلی - تراش خراش - ترمیم صورت

Syn.—Alteration, variation, change.

Modify, v. t. To reshape ; to lower ; to qualify :
 صورت بدلنا - کم کرنا - تصغیف کرنا - اصلاح دینا -
 ترمیم کرنا

Modish, a. Fashionable ; stylish : باوضع - زعدادار

Modiste, n. A woman who deals in articles of
 fashion : زعدادار کپڑے بیچنے والی

Modulate, v. t. To vary sound ; to inflect :
 سر ملانا - گردانا - آواز کا گونانا : ہلانا

Modulation, n. Musical inflection ; melodious
 sound : دہن - الپ - نغمہ - آواز کا اوتار چڑھار

Module, n. A model ; a measure : نمونہ - پیمانہ

Mogul, n. A class of Mohammedans at one time
 sovereigns of India : مغل

Mohair, n. The hair of a kind of goat : ایک قسم
 کی بکری کا بال

Mohammedans, a. Of Mohamed : * مسلمان
 اہل اسلام : A follower of Mohammed :

Moiety, n. ; a small share : نصف - تھوڑا حصہ

Moil, v. t. To daub ; to soil : لگانا - لیسنا - دھج لگانا
 * *v. i.* To labour ; to work with
 painful effort : محنت کرنا - مشقت کرنا

Moist, a. Damp ; wet in a small degree : گھلا -
 مرطوب - سیلا - تر

Moisten, v. t. To wet in a small degree ; to make
 damp : نم کرنا - گھلا کرنا - تر کرنا

Moistness, n. Dampness : رطوبت

Moisture, n. Slight wetness ; humidity : - تری
نمی - رطوبت - سیل - گیلپن

Molar, a. Grinding : والا *—n. A grinder :
دازہ

Molasses, n. Syrup which drains from raw
sugar ; treacle : راب - گرز - شیرہ

Mole, n. A spot on the skin : تک - خال *
A mound ; a pile : * بانڈہ - پشتہ
animal : چھپوہندہ - موشک کر

Molecule, n. An ultimate particle ; an atom :
ذرہ - کتا

Mole-hill, n. A hillock thrown up by moles :
* To make a mountain of a—, To give great impor-
tance to trifles : تھوڑی بات کو بہت سمجھنا

Molest, v. t. To trouble ; to annoy : - تکلیف دینا -
ستانا - دق کرنا

Molestation, n. Annoyance ; vexation : - تکلیف
ایذا

Mollient, a. Assuaging ; soothing : - نرم کرنے والا -
تسکین دہ

Mollification, n. Act of mollifying : - نرمی -
ملائیت

Mollify, v. t. To soften ; to assuage ; to appease :
ملائم کرنا - نرم کرنا - تسکین دینا - ٹھنڈا کرنا

Mollusca, n. The species of soft-bodied animals
having a shell : ملائم گوشت والے جانور جنکے - لاوہ :
کوڑھڑپ کی ہدی نہیں ہوتی . ملا گھونگا وغیرہ

Molten, c. Melted ; made of melted metal : پگھلا
ہوا - گلی ہوئی دھات کا بنا ہوا - دھلا ہوا

Moment, n. An instant ; importance ; force ;
consequence : لمحہ - لفظہ - ضرورت - قوت - مضائقہ
* It is a matter of great—, * اور اہم
کوئی مضائقہ کی بات نہیں -
ایسا کچھ قابل لحاظ معاملہ نہیں

Syn.—Instant, consequence, weight, force,

Momentarily, ad. Every moment : - ہر ساعۃ -
ہر لمحہ

Momentary, a. Lasting a very short time : ایک
دم کا - ٹاپا پدار

Momently, ad. For a moment : دم بھر کے لئے

Momentous, a. Important ; weighty : ضروری -
عظیم - بہاری

Syn.—Important, weighty, significant, grave.

Momentum, n. Impetus ; the force of a moving
body : اشتعالک - متحرک چیز کا زور یا صدمہ - قوت رفتار

Monachism, n. Monastic life : قندری - خانقاہی
زندگی

Monad, n. An indivisible thing ; an atom :
جز لایۃ ذرہ - ذرہ - بہت ہی چھوٹا چیز

Monarch, n. The ruler of a country ; a sovereign ;
the chief of his kind : حاکم ملک - بادشاہ -
اپنی فرتہ کا سردار

Syn.—King, emperor, sovereign, potentate.

Monarchical, a. Of a monarch : جمہوری -
بادشاہی - خضروانہ

Monarchist, n. An advocate of monarchy :
شاہی حکومت کا مرید

Monarchy, n. A kingdom ; an empire : بادشاہت -
راج - سلطنت

Monastery, n. A house of religious retirement ;
a convent : خانقاہ - مٹھ - صومۃ - اکھاڑہ

Monastic, a. Pertaining to a monastery ;
recluse : صومعہ کے متعلق - خانقاہی - گوشہ نشین
*—n. A monk : گوشہ نشین - فقیر - سادھو

Monday, n. The second day of the week :
- سوار - دوشنبہ - پیر

Monetary, a. Of money ; pecuniary : سکہ کا -
روپیہ کا - نقدی کا

Money, n. Coin for current use in commerce :
دولت - دھن - Wealth ; affluence : * سکہ - روپیہ
راز چھپانے * Hush—, a bribe to secure silence
* Paper—, bank or currency
notes : * Ready—, cash : * نقدی قوت
* To make—, to earn money : * روپیہ پیدا کرنا
* Earnest—, سائی - بیانا
* In—, نقد
* Ready—transaction, نقد
* begets money, * لین دین
کہاتا ہے

Money-broker, n. A broker who deals in money :
صراف - دلال

Moneyed, a. Rich in money ; wealthy : - روپیہ والا - مالدار - دولت مند - زردار

Money-lender, n. One who advances money on interest : - روپیہ قرض دینے والا - سود پر روپیہ چلانے والا

Moneyless, a. Penniless : - بے زر - مفلس

Money-market, n. The exchange : - بازار - صرافہ

Monger, n. A dealer ; a trader : - بیچنے والا - فروشندہ - سوداگر

Mongrel, a. Not of a pure breed ; hybrid :
* n. Animal of a mixed breed :
در نسل جانور

Monition, n. Warning ; information : - آگاہی - اطلاع - خبر

Monitive, a. Admonitory : - آگاہی بخش - نصیحت بخش

Monitor, n. One who warns : - آگاہ کرنے والا
* A subordinate teacher : - استاد
* An ironclad war vessel :
لوحے سے مزین ہوا جنگی جہاز

Monitory, a. Giving warning : - آگاہی بخش
* n. Admonition :
صلاح - نصیحت

Monitress, n. An instructress : - استادنی - سکھانے والی عورت

Monk, n. A recluse ; one who lives in a monastery :
زاهد - قنبر - درویش - خانقاہ میں رہنے والا
* All hoods make no monks,
گیروا کپڑوں سے جوگی نہیں ہوتا

Monkey, n. A well-known animal : - بندر - لنگر -
* A term of contempt :
تہقیر کا لفظ - بوزنہ

Monkish, a. Like a monk ; monastic : - زاهدانہ - خانقاہی

Monk's-hood, n. A poisonous herb ; aconite :
ایک قسم کی زہریلی بوٹی

Monocular, a. One-eyed : - یک چشمی

Monody, n. A mournful song sung by one person :
مرثیہ - نوحہ

Monogamy, n. The marriage of one wife only :
نکاح - وحدت مناکحت

Monogram, n. A character formed by the intermixture of two or more letters :
خط طعرا

Monograph, n. A written account of a single thing :
کسی ایک چیز کا تحریری بیان

Monolith, n. A pillar consisting of a single stone :
ایک پتھر کا ستون

Monologue, n. A soliloquy :
خون کلامی

Monomania, n. That form of mania in which the mind is absorbed in one idea only ; an exclusive and irrational interest in a subject :
ایک قسم کا خبط جس میں دماغ ایک ہی خیال میں پڑیساں ہو - کسی بات کا حد سے زیادہ شوق

Monopolise, v. t. To obtain the whole ; to assume exclusive possession :
کل لیلیا - اپنے ہی اختیار میں کر لینا -
اختیار میں کر لینا - اجارہ لینا -
خود تجارت کرنا اور کسی دوسرے کو نہ کرنے دینا - بیچنے کے اختیار حاصل کرنا

Monopolist, n. One who monopolises :
اجارہ لینے والا

Monopoly, n. The exclusive right of selling a commodity :
حق فروخت - اجارہ

Monosyllabic, a. Of one syllable only :
ایک حرکت کا (لفظ)

Monosyllable, n. A word of one syllable :
ایک حرکت کا لفظ - ایک جز کا لفظ

Monotheism, n. The belief in the existence of only one God :
ایک خدا کے ماننے کا عقیدہ - وحدانیت

Monotone, n. Uniformity of sound :
ایک سی آواز - ہم آوازی - ہم آہنگی

Monotonous, a. In the same tone ; wearisome :
ایک سی آواز میں - اُچات کرنے والا

Monotony, n. Uniformity of sound ; irksomeness :
ایک آوازی - ڈاپسنڈی - اُچات

Monsieur, n. Sir ; Mr. :
صاحب - جناب

Monsoon, n. A periodical wind :
موسمی ہوا - باد موسمی یا تجارتی

Monster, n. A prodigy ; a marvel :
عقربت - دیر - * Wicked :
ظالم * A tyrant :
عجیب المظاہرات

* a. Of inordinate size or number :
بہت بڑا - عظیم

Monstrous, a. Enormous ; shocking ; horrible :
بہت بڑا - وحشت انگیز - تعجب ناک

Month, n. The twelfth part of the year :
* Lunar—، * ماہ قمری، * Calendar—، * ماہ شمسی، * Solar—،

- Monthly, a.** Lasting a month ; happening once a month : ماہوار - مہینہ وار
n. A periodical published once a month : ماہوار رسالہ
a. In every month : ماہانہ
- Monument, n.** A memorial ; a tomb : یادگار - نشانہ - مقبرہ - روضہ
- Monumental, a.** Memorial : یادگاری
- Mood, n.** Temper of mind ; humour : طبیعت
 طرز - Mode or manner : ناراضی * Anger * مزاج
 Variation in the inflection of a verb : (Gram.) طریقہ صیغہ
- Moodiness, n.** Sullenness : تنگ مزاجی - بیزاری
- Moody, a.** Thoughtful : فکر مند * Peevish ; angry ; capricious : برہم - تنگ مزاج - ناراض - دھپی
 Syn. - Gloomy, pensive, sad, fretful.
- Moon, n.** The heavenly orb which revolves round the earth : سیارہ * A satellite : چاند * A month : مہینہ - ماہ
- Moonbeam, n.** A ray of light from the moon : چاند کی چوت - چاند کی کرن
- Moonblink, n.** A temporary evening blindness : رترندھی
- Moonlight, n.** The light of the moon : چاندنی - چاند کی روشنی
- Moon-struck, a.** Lunatic : پاگل
- Moor, n.** A black man : حبشی * A fen ; a heath : لنگر * v. t. To fix firmly : دھانسا - دھانک * To confine a vessel by cables and anchors : بندھنا * لنگر لگانا
- Moorage, n.** A place for mooring : گھاٹ
- Moorings, n. pl.** Anchors, chains, etc., for holding a ship : لنگر زنجیر وغیرہ جس سے جہاز تھہرا رہے
- Moorish, a.** Fenny : دلدل دار
- Moorland, n.** Marshy land : دلدل
- Moory, a.** Marshy : دلدل دار
- Moot, v. t. or i.** To discuss ; to argue on a supposed case : بحث کرنا - تقریر کرنا - فرضی معاملہ میں بحث کرنا
- Moot, a.** Debatable ; unsettled : قابل بحث - چے ملے شدہ - زیر بحث
- Moot-case, n.** A case, admitting of debate : امر متنازعہ - امر زیر مباحثہ
- Mop, n.** An implement for washing floors : جھڑی
v. t. To clean with a mop : دھونا - جھڑنا
 * v. t. To clean with a mop : جھڑنا - جھڑی دینا
- Mope, v. i.** To be spiritless ; to be drowsy : سست
n. A dull person ; a stupid person : سست - کھل - احمق
- Mopish, a.** Spiritless ; dejected : بے دل - پژمردہ - افسردہ
- Moppet, n.** A rag baby ; a puppet : گڑیا - کڈا - کٹھنہ - پتلی
- Moral, a.** Relating to right or wrong in a man's manners and conduct ; virtuous ; right ; just ; probable ; conformed to law : منسرب بند - اخلاق - نیک - درست - واجبی - انجاب - عقلمندی - یقین - غلبہ - certainty * مہذب - شایستہ - خور نیک ہونے - precepts * قوت مدرکہ - faculty, فیکر و sense * کے سبب جائز سمجھا جائے - نصیحت
 The doctrine of the duties of life : * علم اخلاق
 The lesson taught by a fable : * نصیحت - نکتہ
- Morale, n.** Mental condition ; as regards courage ; zeal, &c. : عادت بتدلیقہ سے سرگرمی - غیرت
- Moralise, v. t.** To discourse on subjects relating to right and wrong : اخلاقی مضمون بیان کرنا - پند
v. i. To make moral reflection : * دینا یا نصیحت کرنا - خردش خلق کرنا
 اخلاق کی طرف غور کرنا
- Moralist, n.** One who teaches the duties of life : معلم اخلاق
- Morality, n.** Ethics ; the doctrine of man's duties ; external virtue : علم اخلاق - شرافت - علم - ادب - اصول فرائض انسانی - سارک - نیکی - پارسی - حسن
- Morally, ad.** In a moral sense or manner ; virtuously : اخلاق کی رو سے - پارسی سے - نیکی سے - خوش وضعی سے - دینداری سے
- Morals, n. pl.** The doctrine of the duties of life : اصول فرائض زندگی

Morass, n. Penny ground ; a marsh : دلدلی زمین -
دللی - پھنس

Morbid, a. Diseased ; not sound and healthful :
روگیلا - مریض - ضعیف - بیمار

Morbidness, n. A diseased state : روگی -
مرض کی حالت

Morbific, a. Casting disease : مرض پیدا کرنے والا -
ناسد

Mordacious, a. Biting ; severe ; scathing : کاٹنے
والا - سخت - مضر - نقصان رسا

Mordacity, n. Readiness to bite : درندگی - نیش
زنی - حدت

Mordant, a. Biting ; sarcastic ; keen : کاٹنے والا -
کپڑے پر رنگ چڑھانے کی چیز

More, a. Great in quantity or number ; addi-
tional : اور بھی - اور - زیادہ - اور -
a greater degree : اور بھی - اور -
beside : اور - اور -
and—, with continued increase : اور
جتنا - اور بھی - اور بھی -
The—, All the—, زیادتی سے

Moreen, n. A thick woollen stuff used for cur-
tains : ایک قسم کا کپڑا جو پردہ بنانے کے کام آتا ہے

Moreover, ad. Besides ; in addition ; also :
سوا اسکے - اور بھی

Moribund, a. Dying ; at the point of death : جان
بہ لب - مرے کے کنارے

Morion, n. A helmet : ایک طرح کا خرد

Morn, morning, n. The first part of the day :
— صبح - فجر - سحر - پہلے - نوک - طالع اقبال
— صبح کا تارا - شکر -

Morocco, n. A fine kind of leather prepared
from goat or sheep skin : ایک قسم کا چمڑا - زری

Morose, a. Gloomy ; sour ; ill-humoured : بد مزاج
- ترش - چڑچڑا - بھٹ - ٹنڈ

-Syn.- Sullen, gruff, severe.

Ant.—Gentle, complaisant, indulgent, good-
natured.

Moroseness, n. Sourness ; sullenness : ترش
رومی - بد مزاجی - بد خوی - شیطانی

Morpheus, n. Sleep : نیند

Morphew, n. A scurf on the face : منہ پر نمی
روسی - پیڑی

Morphia, n. A powerful anodyne : انہوں کا ست -
خواب آور دوا

Morris, n. A Moorish dance : حبشیوں کا ناچ

Morrow, n. The next following day : کل - فردا -
آج کے بعد - دوسرا دن

Morse, n. The sea horse : دریائی گھوڑا

Morsel, a. A bite ; a small piece : ٹٹا - ٹٹا

Mortal, a. Subject to death : * Deadly :
تند - * Violent : * انسانی - بشری * Human :
قتال
* n. A * چابی دشمن * foe or enemy * شدید
انسان - آدم زاد - بشر

Mortality, n. Subjection to death : فنا پذیری
* موت کی نثر - مری *
* Humanity : * تعداد اموات :
Bill of—, an abstract show-
ing the number of deaths during a certain
period : قوتی ذمہ

Mortar, n. A strong vessel in which substances
are pounded : * گولہ دانے - * گولہ دانے
* Cement for building : گچ * کا غبارہ

Mortgage, n. A pledge of real estate : رہن
* v. t. To pledge ; to convey for secur-
ing debt : رہن رکھنا - گھر رکھنا

Mortgagee, n. The person to whom an estate is
mortgaged : مرہن

Mortgager, n. One who mortgages : رہن رکھنے
والا - راہن

Mortification, n. Humiliation ; vexation ;
subjection of the passions ; self-denial :
مانس کا سزا جانا * Gangrene : * کلفت - نفس کشی

Mortify, v. t. To humble ; to depress ; to vex ; to
destroy the vital functions of ; to deaden by
religious discipline : زیر کرنا - فرو کرنا - روکنا - مارنا -
نفس کشی کرنا - ریاضت کرنا - اندر یوں بس میں کرنا -
دق کرنا - سنا - عضو کا مردہ یا بیکار کرنا

Mortise, n. A cut to receive a tenon : خانہ -
سوراخ - چھید - سال - چول - ٹھوکنا

Mortmain, n. An inalienable estate : ناقابل
انتقال جائیداد

Mortuary, n. A burial place ; a dead-house :
قبرستان - گورستان * *a.* Pertaining to death and
burial : متعلق بہ موت و تدفین

Mosaic, n. Work variegated by the coloured
glass, shells and stones : پتھری کاری کا اور جواڑو کام

Moslem, n. A Mussulman : مسلمان

Mosque, n. A Mahommedan place of worship :
مسجد

Mosquito, n. A stinging gnat : مچھڑ - مسا

Moss, n. A plant ; a bog ; a morass : سوار -
کائی - دلیل - پھنساڑ

Mossy, a. Abounding with moss : کائی سے بھرا ہوا

Most, a. (Sup. of much) Greatest in any way :

* **At—, At the—,** بہت سے بہت * **At—, At the—** سب سے زیادہ
بہت بڑا گننا یا سمجھنا - **To make the—of it,**
* **انٹر - عمرماً** * **For the—part,** غنیمت سمجھنا
—*ad.* In the greatest degree ; chiefly :
بیشترت - خصوصاً

Mostly, ad. For the most part ; chiefly : اکثر
اوقات - زیادہ تر - خاص کر - عمرماً

Mote, n. A small particle : ذرہ - تگمہ - داغ

Moth, n. A winged insect : پروانہ - پتنگا - پنکھی

Mother, n. A female parent ; that which has
nurtured anything : ماں - والدہ - مادر - پرورش
—*in-law,* wife's or husband's mother :
—*of pearl,* a hard, silvery
brilliant kind of shell : صدف * **سینیٹی** - صدف
one's native language : مادری زبان * **Idleness**
is the mother of many vices, سب
کامی سب

ارس بیٹھانا - **To adopt** : * *v. t.* براہین کی جڑ سے
گود لینا - متبندی کرنا

Motherhood, n. The state of being a mother :
مادریت

Motherly, a. Maternal ; tender : مادرانہ -
مہربان - شفیق

Motherwit, n. Native wit ; common sense :
ذاتی عقل

Motion, n. Change of place : * حرکت نقل
ارادہ - **A proposal made** : * **زینت** :
Evacuation of the intestines : * **خراش** -
درخراست
* **Mechanical—,** حرکت مادی

Motion, v. i. To beckon ; to hint : اشارہ کرنا

Motionless, a. Being at rest : - ساکن -
ہے حرکت
ہے جنبش

Motive, a. Causing motion : * حرکت دینے والا
n. Inducement ; cause : * **باعث** - **وجہ** -
تنگہ کرنے کا ارادہ * **Vexatious—,** ترکیب

Syn. - Incentive, impulse, incitement, stimulus,
reason, ground.

Motivity, n. The power of producing motion :
حرکت دینے کی طاقت

Motley, a. Speckled ; particoloured ; variegated ;
heterogeneous : رنگا رنگ - ہرقلمون - گونا گون -
مختلف - پتھرنگا

Motor, n. A mover : محرک - حرکت دینے والا

Mottled, a. Spotted : داندار - کبرا

Motto, n. A maxim ; a sentence added to a
device or prefixed to a discourse : مقولہ - کہاوت

Mould, n. Earth ; the matrix ; fustiness ; matter
cast : گل - نرم مٹی - کالبد - قالب - ساچھہ - کاپی -
v. t. To model ; to
fashion : * **پتھر بندی** - مصالح - سامان
تعمیرات - شکل بنانا

Moulder, v. i. To turn to dust : ریزہ ریزہ ہونا -
تھلنے والا * *n.* One who moulds : خاک ہر

Mouldwarp, n. The animal otherwise called the
mole : چھچھوند - مورچہ وندر - مورچک کور

Mouldy, a. Mildewed ; rusty : پتھر بندی سے بھرا ہوا

Moult, v. i. To shed hair, feathers, etc. : پر
چھڑانا -
کریز کرنا

Mound, n. An artificial elevation of earth ; a
bulwark : مینق - ٹھپا - مورچہ بندی - شمشہ

Mount, n. A hill ; mountain : پہاڑ *
v. i. To climb ; to bestride ; to embellish :
چڑھنا - سرار ہرنا - ارادہ کرنا - زینت
To— * **دینا** - جمع ہرنا - ایک مقدار پر پھرنچھا
بھرنے پر ہرنا - پھرا دینا، **guard**

Mountain, n. A very high hill : - کوا - جبل -
پہاڑ - **in labour,** much endeavour after
trifles : * **To make** * **تھری چیز کے لئے زیادہ کوشش**
سڑھی کا پہاڑ بنانا - **رسی** کا
پہاڑی - **ad.** Of mountain ; vast : * **سائپ** بناؤ
کڑھ - وسیع - کشادہ

Mountaineer, n. An inhabitant of a mountain :

پہاڑی آدمی - نوہستانی

Mountainous, a. Full of mountains ; huge :

کوهسار - پہاڑی - وسیع - عظیم

Mountebank, n. A quack ; a false pretender :

ندیم حکیم - چوڑھا طیبیب - شیفٹی باز

Mounted, a. Raised ; seated on horseback ;

embellished : بلند - سوار - آراستہ - مزین

Mourn, v. t. or i. To lament ; to bewail ; to

wear mourning : رنج کرنا - غم کرنا - ماتم کرنا -

نالہ کرنا - ماتمی لباس پہننا

Mourner, n. One who bewails :

ماتم کرنے والا -

Mournful, a. Sorrowful ; sad ; doleful ;

calamitous : غمگین - ملول - اوداس - رنجیدہ - ماتم

دلسرور آراز * A—tune, زدہ - غمزہ

Mournfulness, n. The act of expressing grief :

مارلیت - اوداسینٹا - نوحہ - نالا - آہ و زاری

Mourning, n. Lamentation : * ماتم - رنج - الم -

The dress of sorrow : ماتمی لباس

Mouse, n. A well-known small animal : چوہا -

چوہے پکڑنا * v. t. To watch and catch mice : موش

Mouse-trap, n. A contrivance for catching mice :

موش دان

Moustache, n. See Mustache.

Mouth, n. The opening in the head of an animal for

eating and speaking ; the instrument of speech ;

an entrance ; speech : * منہ - دہن - دروازہ - کلام

Down in the—, dejected : * انسردہ دل - اُداس

To make—s, to grimace : * منہ ہرانا

To pass from—to—, to go abroad : * پھیلنا - مشہور ہوجانا

To stop the—, to make grimaces ; to

n. t. or i. To voiferate ; to make grimaces ; to

chew : to insult : چلانا - پکارنا - منہ بڈانا یا

چڑھانا - چبانا - چبیرنا - طعنہ دینا

Mouthful, n. As much as the mouth can hold ; a

small quantity : کور - نوالہ - لقمہ - مقدار قلیل

Mouthpiece, n. Part of an instrument for the

mouth : باجے کا وہ حصہ جس میں منہ لگایا جاوے -

وہ شخص جو درمدر کی طرف * A spokesman

* A curb : قزلی - دھانہ

Movable, a. That may be moved ; changing from

one time to another : قابل حرکت - متحرک - چلتا

پھرتا - متحرک

Movables, n. pl. Goods ; furniture : اسباب - مال -

اثاث الیبت - مال منقولہ

Move, v. t. To set in motion : چلانا

To stir : * سرکانا

To excite into action . : * اثر ڈالنا

To influence : * طبیعت کر جوش دینا

To propose : * عرض کرنا - پیش کرنا - تجویز کرنا

To—the court by petition, v. i. To change place :

* کوچ کرنا : * چلنا

To march : * کام شروع کرنا

To begin to act : * برانگیختہ ہونا - بہونکا - راغب ہونا

To—about, to go from place to place :

ایک * To—along, to keep

in motion : * جگہ سے دوسری جگہ جانا

To—away, to get

out of the way : * حرکت کرنا چلنا

To depart, to go

for : * درخاست کرنا

To—forward, to advance :

To—forward, to advance :

On the—, in motion ; on the march :

* حرکت میں - سفر میں - دوڑ دوپ میں لگے

To—pity, دل میں کرم پیدا کرنا

Mover, n. A proposer :

پیش کرنے والا - بات چیت کرنے والا

Movement, n. The act of moving ; any change

of position ; emotion ; excitement : حرکت - نقل -

مقام - جوش دل - شوق - جرش

Movingly, ad. Pathetically : مرثرانہ - بہ عرز دلکش

Mow, n. A heap of hay or corn in a barn :

پورسہ یا * v. t. To heap up in a

barn ; to cut down ; to cut the grass :

جمع : * کرتا - کٹ ڈالنا - گھاس کٹنا

As you sow, so

you mow, جیسا بوسے ویسا پائے

Mower, n. One who mows ; a mowing machine :

گھاس یا ناچ کاٹنے والا - گھاس کاٹنے کی کل

Much, a. Great quantity ; long in duration :

n. A great deal ; a heavy

burden ; a thing uncommon : ثبوت -

تثرت - اثرات - *—about the

same, nearly equal : * قریب قریب برابر

To make—of, to treat with fondness :

* *—at one, برابر - کرنا - دھتیم و نکرم کرنا

- ad.* Greatly ; by far ; often ; nearly : - بکثرت -
Think much, * بہت - زیادہ - اکثر-بسا - قریب قریب
speak little, بہت سوجھ توڑا بولو
- Mucid**, *a.* Musty ; mouldy : سزا ہوا - پھپھوندا ہوا
- Mucilage**, *n.* A gelatinous substance ; a solution of gum : چپچپی چیز - لعاب - گھلا ہوا گزند
- Muck**, *n.* Dung in a moist state ; filth : نم پائس -
 کھاد : *v. t.* To manure with dung : * تڑ کھاد - میں ڈالنا - پائس دینا
- Muckworm**, *n.* A worm bred in muck : گزبڑ کا
 بخیل - کنجوس
- Mucky**, *a.* Filthy : ناپیٹ - گندہ
- Mucous**, *a.* Viscous ; slimy : چپچپیا - لعاب دار -
 ریشہ دار
- Mucronated**, *a.* Narrowed to a point : نوکدار
- Mucus**, *n.* A slimy fluid : باغم - نزلہ - رینٹ
- Mud**, *n.* Wet earth ; mire : گیلی مٹی - گل - نیچ
- Muddiness**, *n.* The state of being muddy ; dulness : گندلا پن - کدورت
- Muddle**, *v. t.* To make foul ; to stupefy with drink ; to confuse : میلا کرنا - گندلا کرنا - مترا لا کرنا - اہتر
n. Confused state ; mess : * کرنا - پریشان کرنا
 گھبراہٹ - گپڑ چرت - گندلا - گھنگھولا ہوا
- Muddy**, *a.* Dirty ; impure ; stupid : گندہ - ناصف -
 مکدر - غیبي - کند ذہن
- Muddybrained**, } *a.* Of a dull understanding ;
Muddyheaded, } stupid : کورن - غیبي - مٹھور - کند ذہن
- Muff**, *n.* A warm cover for the hands : گرم دستانہ
- Muffin**, *n.* A light cake : ہلکی روٹی - پھلکا - چپاٹی
- Muffineer**, *n.* A dish for keeping toasted muffins hot : ٹکیوں کے گرم رکھنے کی رکابی
- Muffle**, *v. t.* To cover ; to conceal : ڈھانکا - پوشیدہ
 کرنا - چھپانا
- Mug**, *n.* A cup ; a vessel to drink from : پیالہ -
 آبخوره - گڑا - لڑنا
- Muggy**, *a.* Warm ; moist : گرم - تر
- Mulberry**, *n.* A well-known tree and its fruit : شہتوت - تڑت
- Mulatto**, *n.* An offspring of a white and a negro :
 درغلا
- Mulch**, *n.* Half-rotten straw : آدھی سڑی گھاس
- Mulct**, *n.* A fine ; pecuniary penalty : جرمانہ -
 جرمانہ : *v. t.* To punish with fine : * ناران - دنت کرنا - دنت لینا
- Mule**, *n.* The offspring of an ass and a mare ; a hybrid animal ; an instrument for cotton spinning ; an obstinate person : خبیث -
 درغلا جانور - روٹی کا تے کی کل - چرخا - ضدی
- Muleteer**, *n.* A mule-driver : خبیث والا
- Muliebrity**, *n.* Tenderness ; womanhood : زانہ پن
- Mulish**, *a.* Like a mule ; sullen ; obstinate : خبیث -
 کی طرح کا - ازبیل - ہٹی
- Mull**, *v. t.* To heat and sweeten with spices, etc. : مصالح دینا
- Muller**, *n.* A glass pestle for mixing paints : لڑوہا - ہٹی - ساروٹا
- Mullion**, *n.* An upright division between the lights of windows, &c. : کھڑکی کا کھڑا ڈنڈا - گز
- Multangular**, *n.* Having many angles : کثیر الزاویہ
- Multifarious**, *a.* Of many and various kinds : * انواع اقسام کا - طرح طرح کا - رنگ رنگ کا
 - مقدمہ گونا گون وجہ کا - suit
- Multiform**, *a.* Having many shapes : بہانت بہانت
 کا - مختلف شکلوں کا - گونا گوں - کثیر الاشکال
- Multiformity**, *n.* Diversity of forms : کثرت
 اشکال - رنگا رنگی - بوزلموں
- Multilateral**, *a.* Having many sides ; many-sided : کثیر الاطراف
- Multilineal**, *a.* Having many lines : کثیر الافلاع
- Multicocular**, *a.* Having many cells : ہسیار خانہ دار
- Multiparous**, *a.* Producing many at a birth :
 کئی بچے جننے والی
- Multipede**, *n.* An insect that has many feet :
 ہزار پا - کھنگھجورا
- Multiple**, *n.* A number exactly divisible by another :
 فواضعاف - گنا - ایسا عدد جو دوسرے سے پورا
 پورا تقسیم ہو جاے
- Multiplex**, *a.* Having many folds : کئی تہ کا -
 بہت پرت کا

Multipliable, a. That may be multiplied : ضرب کے لائق

Multiplicand, n. The number to be multiplied by another : مضروب

Multiplication, n. The act of multiplying : ضرب - ازدیاد

Multiplicity, n. A large number ; the state of being various : کثرت - افراط - بہتایت

Multiplier, n. One or that which multiplies : مضروب فیہ - زیادہ کرنے والا

Multiply, v. t. or i. To increase in number ; to add a number to itself any given number of times : شیشہ * زیادہ کرنا - ضرب دینا : * میں ایک چیز کی کئی چیزیں دہرائی دیں

Multipresence, n. Power of being present in many places at the same time : ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہونے کی قوت

Multitude, n. A great number ; a throng ; the populace : کثرت - مجمع - اژدھام - عوام الناس
Syn. - Crowd, assembly, swarm.

Multitudinous, a. Pertaining to a multitude : کثیر - بسیار - بہت

Multure, n. A grinding : پستائی

Mum, n. A kind of ale : خاموش - چپ

Mumble, v. t. or i. To mutter ; to chew بولنا - بڑبڑانا - چبنا - بات کرنا - چپانا

Mummery, n. A masquerading ; foolery : براق پوشی - بہو پینا پن - کھیل

Mummify, v. t. To preserve a human body by embalming : لاش کو مصالح لگا کر رکھنا

Mummy, n. A dead body embalmed : حفاظت کے لئے * To beat to a —, to beat till senseless : مارتے مارتے بیہوش کر دینا

Mumpish, a. Sullen ; sour : بڑھم - ناخوش - ترش رو

Mump, v. t. To nimble ; to chatter unintelligibly ; to deceive : ٹھونکنا - کھٹنا - چرنچ مارنا - چبکے چبکے ارادہ جلا جلا بولنا - چھلنا - دغا کرنا - فریب دینا

Mumps, n. pl. A disease of the neck : گلے کا ایک مرض - کٹھنہ کالا - کن پھنڈر

Munch, v. t. or i. To chew eagerly : بڑبڑا کرنا - بڑے بڑے بونکے لگانا

Mundane, a. Earthly ; terrestrial : دنیائی - گروہی - آراضی

Municipal, a. Pertaining to a city : شہر کے متعلق - شہر کے انتظام - صفائی کی کمیٹی کے متعلق

Municipality, n. The corporation of a city ; a township : شہر کے انتظام کا محکمہ - میونسپلٹی

Munificence, n. Generosity ; liberality : فیاضی - سخاوت - بخشش - خیرات

Munificent, a. Generous ; very liberal : فیاض - سخاوتی - داتا - خیر

Muniment, n. A fortification : قلعہ - حصار - کاغذ یا سند - A deed ; a charter : امرداد دعویٰ - دستہ ریز

Munition, n. Materials for war : لڑائی کا ساز و سامان - گولہ بارود - جنگی گروہ

Mural, a. Of a wall : دیوار کا

Murder, n. The act of killing a person intentionally and unlawfully : * قتل عمد - خون - ہتیا - خون سز چڑھنے بولتا ہے - خون چھوٹا - قتل رسوا

Syn. - Homicide, slaughter, massacre, assassination, butchery, manslaughter.

v. t. To kill deliberately ; to put an end to : مار ڈالنا - قتل کرنا - ماری کرنا - خاتمہ کرنا

Murderer, n. One who is guilty of murder : قتل - مار ڈالنے والا

Murderess, n. A female who commits murder : وہ عورت جو خون کرتی ہے - ہتھیاری

Murderous, a. Bloody ; involving murder : قاتل - خونین - خون ریز - خون کا پتالا - خونخوار

Muriatic, a. Having the nature of brine : آب شور کے خاصیت کا

Murine, a. Pertaining to mice : چوہوں کے متعلق

Murk, n. Darkness ; gloom : اندھیرا - تاریکی

Murky, a. Obscure ; gloomy : تاریک - اندھیرا

Murmur, v. i. To complain ; to mutter : شکایت * n. A purling sound ; a complaint half-suppressed : بڑبڑاہٹ - دبئی زبان سے شکایت

Murrain, n. An infectious and fatal disease among cattle : جانورنکی مری - مری - مری - مری شیروں کی وبا :

Muscatel, n. A rich kind of wine : شراب انگوری

Muscle, n. A fleshy-fibre : پٹھیا - نس - پٹھنکا زور

Muscular, a. Pertaining to a muscle ; strong ; vigorous : پٹھوں سے متعلق - مضبوط - طاقتور

Muse, n. Meditation ; a brown-study : خیال - غور - خیال کرنا - خیرصفت
* v. t. or i. To think closely ; to be absent of mind ; to wander : خیرصفت - خیرصفت
کرنا - مہر ہونا - تعجب کرنا - خیال میں قوی بنا

Syn.—Ponder, consider, meditate.

Muse, n. One of the nine goddesses of music called the " Nine Muses " : گانے کے عام کی دیوی

Museful, a. Meditative ; thinking closely : خیالی - خیرصفت کرتے ہوئے

Museum, n. A repository of curiosities in nature or art : عجایب خانہ

Mushroom, n. An edible fungus ; an upstart ; ephemeral : کلاہ باران - کبڑ موتا - سانپ کی ٹوپی - گنگن دھول - کومبی - تھے نواب - دودوں کے امیر - فر چند رزوا : * a. Short lived : چاندروزہ

Music, n. The science of harmonical sounds ; melody : علم موسیقی - راگ - سرود - نغمہ - ترانہ

Musical, a. Harmonious : سریل - سرزوں - خوش آواز

Musician, n. One skilled in music : علم موسیقی کا ماہر - مطرب - گویا - سازندہ - ڈرامٹ

Musk, n. A strong scented substance procured from a species of deer : * deer, مشک - کستوری
* A bag of —, مشک والا ہرن - مشک اہر
* melon, خربوزہ - سردا - جمالی - مشک

Musket, n. A species of firearms : بندوق - تپک

Musketeer, n. A soldier armed with a musket : بندوقچی

Musketry, n. The art of firing small arms : فن بندوق
* Muskets collectively : بندوقچی

Musky, a. Having the odour of musk : مشک کی خیرصفت رکھنے والا

Muslin, n. A fine thin cotton cloth : ململ - تن - زیب - آبرواں

Muslinet, n. A coarser kind of muslin : مرگا ململ

Muss, n. A scramble ; confusion : لڑنا پائی - چھینا - چھنی - گدہ

Mussulman, n. A follower of Mohammed : مسلمان

Must, v. i. To be obliged ; to be morally required :

* v. t. To grow mouldy : ضروری ہونا - لازمی ہونا - چاہئے
* n. New wine : سڑنا - پھپھوندنا - اریسنا : تازہ شراب

Mustache, (mus-ta-sh) n. The hair on the upper lip : مونچھہ - برت

Mustard, n. A plant and its seed : سرسوں - رائی - خردل - سرشفت

Muster, v. t. To assemble ; to summon together ; to collect for review : جمع کرنا - اکٹھا کرنا - فراہم کرنا - شمار یا جائزہ کے لئے جمع کرنا - حاضرین لینا - To—troops into service, فرج بھرتی کرنا - فرج کی اسم نویسی کرنا - اکٹھا کرنا - بہم - To—up, سپاہیوں کا نام اکٹھا پھرنچانا

Muster, n. A review of troops ; a roll ; any gathering : فرج کا ملاحظہ - فرج کا جائزہ - مجمع - پسند ہونا - To pass—, فراہمی - شمار - اجتماع منظر ہونا

Muster-roll, n. A register of troops : فرج اسموار رجسٹر

Mustiness, n. Mouldiness : پھپھوندی - بوسیدگی

Musty, a. Mouldy ; spoiled by age ; spiritless : پھپھوندنا ہوا - بے مزہ - ارترا ہوا - کھل - سست

Mutability, n. Instability ; variation : بے استقامتی - ٹاپانگاری - تاروں - بھول

Mutable, a. Changeable ; unsettled ; variable : متاثر - بے ثبات - متبدل - بے استقلال

Mutation, n. Change ; alteration : تبدیل - تبدیلی - داخلہ - اتتال

Mute, a. Silent ; uttering no sound ; dumb :

* n. One who is speechless : خاموشی - خاموش - چپ - بے زبان - گونگا
(Gram.) * بے زبان شخص - چپا - گونگا : * بیت - بیتال : The dung of birds : * متغی صرف
* v. t. or i. To direct the contents of the bowels as birds : بیت کرنا - بیتال کرنا

Muteness, n. Speechlessness ; aversion to speak : خاموشی - سکوت - برکت سے نفرت

Mutilate, v. t. To maim ; to render imperfect : عضو کاٹنا - ناقص کرنا - انگ بھنگ کرنا

Syn.—Disfigure, maim, cripple.

Mutilation, n. The act of depriving of an essential part :
قطع عضو - اصلي حصہ کا ڈالنا

Mutineer, n. One who joints in a mutiny :
بلوائی - بغاوتی - مفسد

Mutinous, a. Seditious ; insubordinate :
غدار - بغاوت انگیز - نافرمان

Mutiny, n. An insurrection of soldiers or sailors :
غدر - بلوہ - بغاوت - مفسد - سرکشی - یورش - ہنگامہ - فساد

Syn. -- Insurrection, uprising, revolt, rebellion.
Ant. -- Submission, subjection, loyalty.

Mutiny, v. i. To rise against lawful authority :
غدر کرنا - بلوہ کرنا - بغاوت کرنا - سرکشی کرنا

Mutter, v. i. or t. To utter with a low voice ; to murmur ; to growl :
* آہستہ بولنا - بڑبڑانا - غرانا :
n. An imperfect utterance ; a murmur :
منہ نہات - بڑبڑاہٹ

Muttering, n. A grumblin ; a murmur :
غرابت - بڑبڑاہٹ

Mutton, n. The flesh of sheep :
بویڑ کا گوشت - گوشت :
امر * To return to one's muttons, امر
مٹلانے پر واپس آنا

Mutton-chop, . A broiled rib-piece of mutton :
بھیڑ کی پسلی کا قہی دار بھیا ہرا ٹکڑا - چاپ

Mutual, a. Interchanged ; reciprocal ; common :
آپس کا - باہمی - جائید کا - مشترکہ

Mutuality, n. The state of being mutual ;
reciprocity :
بادلہ - تقابل - ارتھاطا باہمی - عیرض :
معارضہ - اختلاف - بے تکلفی

Mutually, ad. Reciprocally :
طرفین سے - باہم دگر -
فی مابین - آپس میں - طرفین سے

Muzzle, v. t. To bind the mouth of an animal :
کسی جانور کا منہ بند کرنا - چھینکا لگانا

Muzzle, n. A mouth ; a fastening for the mouth :
* تھوڑھوڑی - منہ باندھنے کی جالی - چھینکا دھانہ
ایک قسم کی بندوق چر مہاری کی طرف سے، loader -
بھری جاتی ہے

Muzzy, a. Bewildered ; stupid ; tipsy :
حیران - بے وقوف - متخبطوالعقاس بنا نا - سرگرداں -
مڑا میں - سرشار
میرا

My, a. Belonging to me :

Myography, n. A description of the muscles :
پٹھورنکا تذکرہ

Myopy, n. Shortsightedness :
نزدیکی - نظر کی

Myriad, n. A countless number :
بے شمار -
Ten thousand :
دس ہزار

Myrmidon, n. A rough soldier ; a ruffian :
بگڑے
s of
the law, policemen, bailiffs, &c. :
دل سپاہی - بدعاش - بے دھڑ - بے ڈک
عدالت کے
کتے

Myrobolan, n. ہڑ - بھیڑا - انرلا

Myrtle, n. A fragrant evergreen plant :
ایک خوشبودار پودا - حنا - رلاتی خوشبودار مہندی

Myself, pron. I ; my own person :
میں ہی -
میں خود

Mystagogue, n. One who interprets mysteries ;
an imitator into religious mysteries :
پوشیدہ
معاملات کا تعبیر کنندہ - تیرکات دکھانے والا - تعبیر کنندہ

Mysterious, a. Full of mystery ; awfully obscure :
Incomprehensible :
بہت تاریک - پنہاں -
بعیدالفہم

Syn. -- Secret, occult, dark, mystic.

Mystery, n. A profound secret ; an enigma ; a truth not revealed ; a handicraft ; a miracle ;
وہ چیز پنہاں - معما - بھید - سر مخفی - نظر
play :
جنمی - شہدہ

Mystic, n. One professing to have direct intercourse with God :
مجنوب - عارف - صوفی

Mystical, a. Hidden ; emblematical ; involving a
پوشیدہ - مخفی - بعیدالفہم معنی رکھنے والا - پنہاں -
رمزآمیز - عام بشر کے ادرات سے مخفی

Mysticism, n. The doctrine of the mystics ;
تصرف - پوشیدہ اصول یا عقیدہ :
obscurity of doctrine :
طریق معرفت

Mystify, v. t. To render obscure ; to render
difficult to be understood ; to puzzle ; to purposely
تاریکی کرنا - متعلق کرنا -
play on the credulity of :
اندھا کرنا - پیچیدہ کرنا - پریشان کرنا - سریع الاعتقاد
سمجھ کر دھوکا دینا

Myth, n. A fable ; a creation of the imagination :
افسانہ - قصہ - داستان - خیال - محض خیالی چیز یا وجود

Mythic, a. Fanciful ; fabulous :
خیالی - پرانسانہ -
قصہ کا - چھوٹا

Mythological, a. Of mythology : علم الخرافات کے متعلق
Mythologist, n. One versed in mythology : پرائیک - دیوتوں کے حال سے واقف - علم الخرافات کا جاننے والا - پرائیک

Mythology, n. A system of myths ; a treatise on myths ; the myths or stories of a country : دیوتوں کا قصہ - دیوتوں کے قصہ کی کتاب - علم الخرافات - کسی ملک یا قوم کی بناوٹی کہانیاں

N

Nab, v. t. To seize suddenly ; to snatch : یکا یک پکڑ لینا - پکڑنا - دبوچنا - آگھیرنا
Nabob, n. A man of great wealth in India : نواب
Nadir, n. That point of the heavens directly opposite the zenith ; the lowest point : نقطہ - سمت القدم - نظیر السموات - کرۂ سماویہ کی وہ سمت جو ہمارے عین نیچے ہے

Nag, n. A pony : یاہر : **v. t.** To scold habitually ; to crap at : ہر وقت - عیب جوئی کرنا - عیب گیری کرتے یا جھڑکتے رہنا - کھچھڑکنا
Naiad, n. A water nymph : دریاؤں کی بیٹی - جلاویہ

Nail, n. A claw ; a horny substance on the ends of human finger and toes : **A pointed piece of iron ; a stud ; a measure of length :** * **To hit the—on the head,** to hit or touch the exact point : ٹھیک بات معلوم کر لینا - ٹھیک نشانہ
Tooth and —, by force : * **On the—,** فوراً ، بلا * **On the—,** * **To—one's colours to the mast,** کسی کی بات کا بیڑا اٹھانا - مہم طرز سے ایک طرف ہوجانا
v. t. To fasten with nails : کیل جڑنا - گاڑنا

Nailer, n. A nail maker : کیل بنانے والا
Nailery, n. A nail manufactory : کارخانہ کیل و کھونٹی

Nave, a. Artless ; simple ; un-ingenuous : سادہ لوح - سادہ - بے ریا - بھولا

Naivete, n. Native simplicity ; ingenuousness : سادگی - بھولا پن - صاف باطنی

Naked, a. Uncovered ; bare ; defenceless ; simple ; manifest : **رکوعا - ننگا - برہنہ - بے برگ و** بر - عریاں - غیر مسلح - سادہ - عیاں - ظاہر

Nakedly, ad. Openly ; plainly ; simply : کھلے خزانہ - علانیہ - صاف - برہنہ ہو کر - صرف

Nakedness, n. Barrenness ; openness : برہنگی - عریانی - کشادگی - قحط - آرزوگی - تکھالی

Name, n. That by which a person or thing is designated ; a title : نام - اسم - Reputation ; نام کر - **In—,** * **In the—of,** - اس کی خاطر - نامہ زری : fame : اس کی خاطر - **In the—of,** * **To call—s,** - دہنام دینا * **To call—s,** * اس کے نام سے برا بھلا کہنا

Namby-pamby, n. An affectedly pretty talk ; silly sentimentality : بے ہردہ - مصنوعی خوش گلامی - **v. t.** To denominate ; to mention ; to nominate : نام رکھنا - مرسوم کرنا - نام لینا - مقرر : **To—a child,** نام رکھنا یا دھرنا * **To—a child,** نامزد کرنا
Syn. — Designate, style, term, call.

Nameless, a. Having no name ; anonymous ; indescribable : بغیر نام کا گم نام - نام قابل بیان - ناممکن البیان - بیان سے باہر

Namely, ad. That is to say ; to wit : یعنی - چنانچہ

Namesake, n. A person of the same name : ہم نام - نام راسی

Nankeen, n. A buff-coloured cotton cloth : ایک قسم کا سوتی کپڑا

Nap, n. A short sleep : **The smooth hairy substance on the surface of cloth :** اورنگھنا - **v. t.** To have a short sleep : چھپکے نینا

Nape, n. The back of the neck : کئی - تقا

Napery, n. Table cloths, napkins, &c. : پانچ - رومال وغیرہ

Naphtha, n. Rock oil : روغن نطفہ - مٹی کا تیل

Napkin, n. A cloth used for wiping the hands, etc. ; a handkerchief : پورچھنے کا کپڑا

Napless, a. Without nap ; threadbare : بغیر روئیں کا - بزرگ - گھسا ہوا

Nappy, a. Downy ; Drowsy ; heady : خراب آلودہ - سست - نشیلی

Narcissus, n. A flower : نرگس * *a.* Soporific :
خراب آور - منوم

Narcotic, n. A drug which produces sleep :
خراب آور دوا

Nard, n. An aromatic plant : ایک قسم کا خوشبودار :
درخت - مالتی - سنبل الطیب - بالچہتر

Narghile, n. An oriental tobacco pipe, in which
the smoke is passed through water : حقہ

Narrate, v. t. To recite ; to relate : بیان
کرنا - تذکرہ کرنا - نقل کرنا

Narration, n. An account ; a story ; rehearsal :
احوال - بیان - کہانی - قصہ - نقل - روایت

Narrative, n. A story ; an account : کہانی -
قصہ - بیان - تذکرہ - حال - روایت

Narrator, n. One who narrates : راوی - کہنے والا -
تذکرہ گو - حاکم

Narrow, a. Not broad or wide : تنگ * Near :
* Covetous : * Illiberal : * لالچی * نزدیک - متصل

Bigoted : متعصب * **To be in—circum-**
stances, تنگ دست ہونا - مفاسد ہونا - خالی ہاتھ

محدود کرنا - *v. t.* To limit ; to contract :
کم چورزا * *v. i.* **To become less broad :** کم
ہونا - عرض کم کرنا

Narrowly, ad. Contractedly ; closely ; barely ;
sparingly : سکوڑے سے - تنگی سے - بال بال - جز رسی
سے

Narrow-minded, a. Mean-spirited ; avaricious :
تنگدل - ارچھپی طبیعت کا - لالچی

Narrowness, n. The condition of being narrow ;
poverty ; meanness ; تنگی - مفلسی - تہیدستی - تنگ
دلی - بخل

Nasal, a. Of the nose ; formed by the nose : ناک
n. An elementary sound which is uttered
through the nose : آواز جو ناک کے ذریعہ سے نکلتے

Nascent, a. Growing ; increasing ; incipient : پیدا
ہونے والا - بڑھنے والا - ظہور پکڑتا ہوا - ابتدائی

Nasty, a. Dirty ; obscene ; nauseous ; disgusting :
بیلہ - زھنس - مکروہ - نفرت انگیز - ناگوار

**Syn.—Filthy, foul, dirty, unclean, impure,
polluted, defiled.**

Natal, a. Native : جنم کا - پیدائشی

Natant, a. Swimming : تیرتے ہوئے

Natation, n. The act of swimming or floating :
تیرائی - شیناوری

Nation, n. A body of people living under one
government : A stock ; * قوم - ذات - گروہ -
great deal : ذخیرہ - بہت سا - کثیر

National, a. Pertaining to a nation ; general :
قومی - عام

Nationalise, v. t. To make national : قومی کرنا -
قوم میں داخل کرنا

Nationality, n. Patriotism ; national character ;
پاس مالک - دیس کی پچھتہ - حرارت قومی -
قومیت - خصوصیت قومی - انس قومی

Native, a. Not acquired ; not foreign ; original ;
inherent ; natal : ذاتی - اصالی - ذاتی -
n. One born * پیدائشی - قدرتی - اصالی - خالق
in a place : باشندہ - متوطن - دیسوال - دیسی

Nativity, n. Birth ; the time or place : جنم -
* ولادت - وقت یا مقام ولادت - جنم یوم - جالے تولد

To cast one's —, کسی کا ذائقہ طالع نامہ یا جنم
پتھر بنانا - جنم نکالنے کا رہنا

Natty, a. Smart ; neat ; tidy : تیز - صاف -
سنبھرا - بنا ٹھنا

Natural, a. Not acquired ; true to life ; inherent ;
regular ; not forced ; tender ; illegitimate : غیر
مکسورہ - ذاتی - طبعی - جبڑی - ذناعتہ - غیر مصنوعی -

* **A—son,** حرامی پلا * اصالی - نرم - مقتصدی - حرامی
* **philosophy,** * **—death,** نام طبعی مرت

To die a—death, اپنی مرت مرنا - قضا الہی سے
—religion, * **—theology,** * مذہب عقلمی * مرنا
عم الہی پر بنا ثبوت عقلمی بجائے الہامی

Naturalisation, n. The art of admitting to
native privileges : دیسی استحقاق دینا - قومی حقوق
بخشنا

Naturalise, v. t. To confer the rights of citizen-
ship ; to habituate ; to adapt : قومی حقوق -
بخشنا - عادی کرنا - خورداننا - مرانق کرنا - مرزوب کرنا -

ملک کی آب و ہوا سے مرافقت پیدا کرنا
Naturalism, n. A mere state of nature ; the
doctrine of those who deny interference of any
supernatural power in the universe : حالت طبعی -

وہ علم طبعیات جسکے پیور الہام کے قابل نہیں

Naturalist, n. One versed in natural history :
علم طبعیات کا ماہر - عقلمی مذہب کا پیرو

Naturally, *ad.* According to nature; spontaneously: طبعیاً - از خود - خوردبختن - حسب قاعدہ - خلقی

Nature, *n.* The universe: Native * خلت - دنیا
character; constitution; regular course; natural reverence; species: خصت - خاصیت - چال - اصل حال - طبیعت - سرشت - مزاج - قدرت - ترقیر -
Debt of—, death: * مرگ
To ease or relieve—, * Human—, پایمانہ جانا
To obey the call of—, حاجت ضروری رفع کرنا

Naught, *n.* Nothing: ناچیز - ہیچ - کچھ نہیں
To set at—, to slight, disregard or despise: کچھ نہ
To come to naught, * To set at—, ناکامیاب ہونا
گننا - حقیر جاننا

Naughtiness, *n.* Slight misbehaviour; wickedness: نت کھٹی - شرارت

Naughty, *a.* Mishievous; forward; corrupt: شیر - نازمان

Nausea, *n.* Loathing; sea-sickness: بد نفرت - متلی - اڑبکائی - قے

Nauseate, *v. t. or i.* To loathe; to feel disgust: کوا نیت کرنا - جی مٹلانا - نفرت کرنا

Nauseous, *a.* Loathsome; disgusting: گویا پینا - قے آر نفرت دلانے والا - مکررہ

Nautical, *a.* Naval: جہازی - بھری

Naval, *a.* Maritime: درونی - بھری

Nave, *n.* The middle part of a wheel: پہیئے کی گرجے کا وسط
The body of a church: * ناول

Navel, *n.* A depression in the middle of the abdomen; the umbilicus: ناف - ناہی
The— string, the umbilical cord: آئر نال

Navigable, *a.* Passable for ships: قابل جہاز
رہی - جو بندریہ جہاز طئی ہوسکے

Navigate, *v. t. or i.* To journey by water; to sail: دریائی سفر کرنا - کھینا - جہاز رانی کرنا

Navigation, *n.* The act or art of navigating: جہاز رانی - مانجھی گری - ناخدا

Navigator, *n.* A sailor: جہازی - ملاح - مانجھ - ناخدا

Navy, *n.* A labourer employed in cutting canals, etc.: * مزرور جو نہر وغیرہ کھرتے ہوں
A fleet of ships: جہازوں کا بیڑا - کسی قوم کے کل جنگی جہاز

Nay, *ad.* No; not only so: * نہیں - بلکہ
denial; a refusal: انکار - نفی

Nazarite, *n.* A Jew who professes extraordinary purity of life: * جو نہایت پاکیزگی کا دعویٰ کرتا ہے

Neal, *v. t.* To temper by heat: تپانا - تار دینا

Neap, *n.* The tongue of a cart: * ا. Low; scanty; used only of the tide: نیچا - ٹھٹھا - تھوڑا

Neap-tide, *n.* A low tide: * سمندر کا کم بڑھنا

Near, *a.* Not far distant; nigh; closely related; dear; narrow: * نزدیک - قریب - قریب - قریب
To approach; to come nearer: * عزیز - تنگ
ad. Nigh; nearly; intimately: * نزدیک آنا - قریب آنا

Nearly, *ad.* Closely; almost: * قریب قریب - قریب قریب

Nearness, *n.* Closeness; intimacy; avarice: * قریب - نزدیکی - اتصال - قربت - لالچ - جزر سی

Neat, *a.* Tasteful; clean; chaste; unadulterated; finished; net: * خوش گوار - صاف - پاکیزہ - ستورا - خالص
n. Oxen; cows: * بے میل - چرکھا - مکمل - خالص
herd, cowherd: * بیل - گائے - مویشی گھوسہ

Neatly, *ad.* Tidily; nicely: * بد صفائی - بد نفاست - بد عمدگی

Neatness, *n.* Cleanness; niceness; purity: پاکیزگی - صفائی - لطافت

Neb, *n.* The beak; the nose; sharp point: * چرنج - ناف - منہ - قلم کی زبان یا ذب

Nebula, *n.* A cluster of stars forming a misty cloud: * ستاروں کا دھندلا جھلکا
A white spot on the cornea: آنکھ کی پتھری

Necessaries, *n. pl.* Things needful; a requisite: * ضروریات - اسباب سامان - ارزے
The—of life, حرا بچ زندگی

Necessarily, *ad.* By necessity; unavoidably: ضرورتاً - ضرور - خراہ مقررہ

Necessary, a. Inevitable ; essential ; involuntary :

لازمی - ناگزیر
* A—inference, لازمی - ضروری - لازمی - ناگزیر
نتیجہ

Syn.—Indispensable, unavoidable.

Necessitate, v. t. To compel ; to make

مجبور کرنا - لازمی کرنا - کسی امر کو
ضروری یا لازم کرنا

Necessitous, a. Destitute ; very needy :

محتاج
مفلس - تنگ حال - تہی دست

Necessity, n. That which cannot be otherwise ;

مجبوری - لاچارگی -
indigence ; a requisite ; fate : -
تنگی - احتیاج - انقلاص - ضرورت - قسمت - نص و قدر

Neck, n. The part between the head and the

گردن -
trunk ; a long narrow tract of land : -
* and گردن - گرن زمین - عنق الارض - خاکدانے

crop, altogether : -
* or nothing, at
اُچھٹے ہادا ہد - چائے جو ہر خرابہ کچھہ ہی

every risk : -
* To break the—of
تخت یا تختہ

anything, to accomplish the most difficult

part of it : -
* —and—,
کسی کام کا مشکل حصہ تمام کرنا - زور :
* —of a gun, * تروڑ دینا
* غرور - نفرت - * A stiff, * شانہ بد شادہ - برابر

To tread on the—of, ظلم کرنا

Neckcloth, n. A cloth for men's necks :

گلوبند
* Neckkerchief, n. A kerchief for the neck :

گلوبند
* Necklace, n. A string of beads, etc., worn
مالا - ہار - گلوبند
round the neck :

Necrology, n. A register of deaths :

موت کا
رجسٹر
* Necromancer, n. A sorcerer : -
جادو گر - ساحر -
سیانا

Necromancy, n. Enchantment :

جادو - سحر -
* Necropolis, n. A public cemetery : -
قبرستان -
گورستان

Nectar, n. The drink of the gods ; any pleasant

beverage ; the sweet secretions of flowers :
آب
حیات - آب کوثر - امرت - شرب لیزہ - سداہ -
میٹھا رس - عرق خوشگوار - مکروند

Nectarine, n. A fruit of the peach kind :

شفتالو
کئی طرح کا ایک پھول

Nectarous, a. Sweet as nectar :

آب حیات سا
میٹھا - خوش ذائقہ

Nectary, n. That part of the flower which se-

cretes a honey like substance :
پھول کا وہ حصہ
* n. جسمین شہد سا عرق رہتا ہے - پھول کا شہدان

احتیاج شد یا ناگہانی
Urgent want ; indigence : -
ضرورت - احتیاج - انقلاص

Syn.—Necessity, want, emergency.

Need, v. t. To be in want of :

محتاج ہونا - حاجت
* v. i. To be in necessity :
دوکار ہونا - ضرورت
* رکھنا
ہونا

Needful, a. Necessary ; requisite :

ضروری - لازمی -
مطالب - حاجتمند - ضروری - اہم

Neediness, n. Want ; poverty :

محتاجگی - انقلاص

Needle, n. A small pointed instrument of steel

for sewing :
* سرئی
The artificial magnet of the
تطب نہ کی سرئی یا کانٹا
compass :

Needless, a. Unnecessary ; groundless :

ضروری - بے سبب - بھول

Needs, ad. Necessarily :

ضرورتاً

Needy, a. Indigent ; necessitous :

مفلس حاجتمند

Nefarious, a. Wicked in the extreme ; villainous ;

نہایت شریہ - فاسد - بد - زہن - بڑا
impious :

Syn.—Iniquitous, detestable, horrible, heinous,
dreadful.

Nefariously, ad. Wickedly ; impiously :

بے بدکاری سے

Nefariousness, n. Villainy ; شرارت - بد
ذاتی

انکار - نفی

Negation, n. Denial :

Negative, a. Denying ; private ; prohibitory :

* A—quantity,
منفی - انکاری - مانع -
* A—particle,
غیر مثبتی - غیر مثبتی - غیر اقبالی
* n. A word or proposition that denies ;
* حرف نفی

* v. t. To dis-
* حرف نفی - نامنظری - انکار :
prove ; to reject by vote ; to counteract :

ٹھہرانا - ٹکڑے رائے سے خارج کرنا - تروڑنا - باطل کرنا -
اثر یا زور کو مارتا

Neglect, v. t. To omit by design ; to disregard ;

فہمت کرنا - بھول
not to heed ; to leave undone :
جانا - بے التفاتی کرنا - بے پروائی کرنا - نہ کرنا

* n. Omission ;
* یا فروگذاشت کرنا - بغیر کئے چھوڑ رکھنا
خطا - بھول - بے اعتدالی -
slight ; inattention :

فہمت - بے توجہی

- Neglectful**, *a.* Careless ; inattentive ; indifferent : بے پرواہ - کم توجہ - بے التفات - غافل
- Neglige**, *n.* A loose gown : ڈھیلی جامہ - گھر کے کپڑے
- Negligence**, *n.* Carelessness ; omission of duty : بے پرواہی - غفلت - بے التفاتی - خطا
- Negligent**, *a.* Careless ; indifferent : بے پروا - عدم توجہ - ڈھیلے
- Negligently**, *ad.* Carelessly : بے پرواہی سے - غفلت سے
- Negotiable**, *a.* Capable of being negotiated : قابل ائصال - قابل خرید و فروخت
- Negotiate**, *v. t. or i.* To transact business ; to bargain ; to sell ; to pass : کار و بار کرنا - بات چیت کرنا - لین دین کرنا - معاملہ کرنا - خرید و فروخت کرنا - بیچنا - ائصال کرنا - عہد پیمانہ کرنا - خط و کتابت کرنا
- Negotiation**, *n.* The process of negotiating ; a treaty of business : معاملہ - سردار - معاہدہ - عہد و پیمانہ - قومن یا سامانتوں کی باہمی معاملہ سازی - خط و کتابت در بارہ صلح
- Negotiator**, *n.* One who negotiates : عہد و پیمانہ کرنے والا - معاہدہ کرنے والا
- Negress**, *n.* A female negro : جیشن
- Negro**, *n.* A black-man ; an African by birth or a descendant of one : رنگی - حبشی - سیڈی
- Negus**, *n.* A mixture of wine, water, sugar and lemon juice : شراب چینی اور نیوز کا شربت
- Neigh**, *v. t.* To whinny : ہنہاننا : *n.* The cry of a horse : ہنہانہٹ - گھوڑے کی آواز
- Neighbour**, *n.* One who lives near : ہمسایہ - ہم جنس : *v. t. or i.* To be near to ; to adjoin : قریب ہونا * A fellow-being : سایہ
- Neighbourhood**, *n.* Proximity ; adjoining district and the inhabitants who live in it : قربت - قریب کے ضلع - قریب و جوار - حوالی - باشندہ قرب و جوار - ہم سایہ - نواح - محلتہ
- Neighbouring**, *a.* Adjacent : قریب - پاس - متصل
- Neighbourly**, *a.* Friendly ; civil : دوستانہ - خلیق - ملنسار
- Neither**, *a.* Not the one or the other : نہ یہہہ - کوئی بھی نہیں - دونوں : *conj.* Not either : نہ وہہہ نہیں
- Neogamist**, *n.* A person recently married : جسکا بیواہ حال ہی میں ہوا ہو
- Neologist**, *n.* A coiner of new words or of new meanings : نیا لفظ بنانے والا یا نئے معنی پیدا کرنے والا
- Neology**, *n.* A system of new words and doctrines : نئے الفاظ و عقاید کا قاعدہ
- Neophyte**, *n.* A proselyte ; a novice : نیا مریز - نیا مرنوز - مبتدی
- Nephew**, *n.* Son of a brother or sister : پوتہ - بھتیجا - برادر زادہ - ہمشیر زادہ
- Nephritic**, *a.* Pertaining to the kidneys ; renal : متعلق گردہ
- Nephritis**, *n.* Inflammation of the kidneys : گردہ کی سوجن
- Nepotism**, *n.* Fondness for nephews ; favouritism shown to relations : پوتہ پر مبنی اہمیت - رشتہ داروں کی محبت یا طرفداری
- Neptune**, *n.* An ancient Roman deity : اہل روم کا ایک سیارہ : A planet : ایک قریب زمین
- Nereid**, *n.* A sea-nymph : ساگر دیوی
- Nerve**, *n.* An organ of sensation and motion in animals : طاقت - زور - ہمت - دلیری
- Nerver**, *v. t.* To supply with force : قوت دینا - کمک کرنا
- Nerveless**, *a.* Without strength ; weak : کمزور - ناتواں
- Nervine**, *a.* Good for the nerves : قسوں کے لئے مفید
- Nervous**, *a.* Strong ; forcible : زور آور - ذرا کمزور : *n.* Weak in the nerves ; excitable ; timid : کمزور - جوش میں آنے والا - جاد مضطرب ہونے والا - نازک مزاج - کچھ دل کا - بزدل
- Nervously**, *ad.* With strength ; with agitation : طاقت سے - گھبراہٹ سے
- Nervousness**, *n.* Strength ; force ; weakness of the nerves : طاقت - زور - نرسونگی کمزوری
- Nescience**, *n.* The state of not knowing : لاعلمی - جہالت
- Ness**, *n.* A promontory ; a cape : نوک زمین - راس

Nest, n. A bed for birds or small animals : گھر

A warm close place of abode : * **To harry a—**, گھونسلہ - تنگ مکان :
* **v. t.** To build and occupy a nest :
گھونسلہ بنانا - گھونسلے میں رہنا - آشیانہ بنانا

Nestle, v. i. To lie close and snug : آرام سے لیٹنا
رہنا - پاس کرنا - گھر کرنا - آؤک کرنا

Nestling, a. A bird just hatched : پرنڈ کا بچہ جو
گھونسلے میں ہو - ایذا - گیدا

Net, n. A texture of twine or thread with meshes for catching fish and fowls : **An inextricable difficulty :** * **جال - دام**
سخت - مشکل - الجھن

Net, v. t. To make net-work ; to take in a net :
* **a.** Unadulterated ; clear of all charges and deductions :
جے میل - خالص * **profit** - صاف - خالص - بعد وضع اخراجات
v. t. To produce as clear profit :
خالص نفع پیدا کرنا

Nether, a. Lying beneath ; lower ; infernal :
پائیں - زیریں - نیچے کا - نشیبی - درختی - ذاری

Nethermost, a. Lowest : سب سے نیچا -
اسفل السافلین

Netting n. Net-work : جالی

Nettle, n. A well-known stinging plant : بچھو کا
v. t. To sting ; to vex :
* **درخت - گزنا - بچھورا - گھجرت**
ذکی مارنا - دق کرنا - ستانا

Net work, n. Work in the form of a net : جالی
کا کام - جالی

Neural, a. Pertaining to the nerves : نسونکے متعلق

Neuralgia, n. A pain in the nerves : نسونکا درد -
درد شقیقہ - درد عصابہ

Neuralgic, a. Affected with neuralgia : نسونکے
درد میں مبتلا

Neurology, n. A description of the nerves : نسونکا بیان

Neuter, a. Indifferent : **Of neither sex :** * **نیٹرا - الگ**
مستغف - وہ جانور جسکے نور مادہ کی علامت نہ ہو

Neutral, a. Not engaged on either side ; indifferent ; middling :
جو کسی کا طرفدار نہ ہو - بے غرضی -
بے اورش - تاحدہ - متوسط

Neutral, n. A person that takes no part in a contest :
جو شخص کسی آزمائش میں کسی کا طرفدار نہ ہو

Neutralise, v. t. To render inert : بے تاثیر کرنا
بے عمل کرنا

Neutrality, n. The state of being neutral ; indifference :
بے طرفداری - بے سروکاپی - بے غرضی -
غیر طرفدار سلطنتوں کا جنگاوروں کا
* **Armed** - ہتھی
کو ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے روکنے پر تیار رہنا

Never, ad. At no time ; in no degree : کبھی
نہیں - ہرگز نہیں - زینہار

Nevertheless, ad. Notwithstanding : تاہم -
بھی - تر بھی - اما - اس پر بھی

New, a. Fresh ; modern : نازہ - نیا - جدید - حال کا
Syn. - Novel, recent, fresh, modern.

Ant. - Old, ancient, antique, immemorial.

Newfangled, a. Newly formed ; desirous of novelty ; disposed to change :
نیا بنا ہوا - نو ساختہ -
نو ایجاد - نئی چیز کا شائق - تبدیل پسند

Newly, ad. Lately ; حال میں - از سر نو - تہوڑے
دن سے - تازہ

Newness, n. Freshness ; novelty : تازگی -
رسیدگی - نئی طرز - نیاپن

News, n. Fresh tidings : خبر - واقعہ -
حادثہ - اخبار

Syn. - Intelligence, tidings, information.

News-monger, n. One who devotes much time to hearing and telling news :
خبروں کا شایق

Newspaper, n. A periodical paper which circulates news :
اخبار - خبر کا کھنڈ

New-trothed, a. Newly betrothed : جسکی
ہاں منگنی ہوئی ہو - نو منسوب

Next, a. Nearest in time, place or rank : مابعد -
ad. Immediately * **متصل - قریب - دوسرے درجہ کا**
نیچے والا - آؤر والا - بعد کا

Nib, n. The point of a pen : **The beak of a bird :** * **نپ - زبان - قلم**
v. t. To point :
توک دار کرنا - بنانا - قمار کھنا :
to mend the point of : چرنج - چرنج

Nibble, n. A little bite : **v. t. or i.** To bite by little at a time :
تکڑا * **کترنا** :
حرف گیری کرنا - آٹھ چینی کرنا :
to mend the point of : نکھنا

Nice, a. Exact ; accurate : *** Fine** - ٹھیک
*** Discriminating** :
* **Delicate** * **عمدہ** :
* **Delicious** : خوش ذائقہ -
* **نازک - ہارمک** :
* **دانا - ہارمک** :

* خوش نما - خوبصورت : Handsome * لذیذ - لطیف
 Agreeable : * خوش گوار - دل پسند
 of, to be scrupulous about : کسی بات میں پس و پیش کرنا - دسراسر کرنا

Syn.—Dainty, delicate, fine, exact.

Nicely, ad. Exactly ; delicately : ٹھیک - بغور پی - باریکی سے - نراکت سے - نازکی خیالی سے

Nicety, n. Exactness ; minuteness of observation ; delicacy : درستگی - مرشدگانی - نراکت - نفاست - لطافت
 To * لطافت - نازکی دمانی - باریکی بینی - ازباز چہرہ خوب ٹھیک طور سے - بڑی صحت کے ساتھ

Niche, n. (nich) A recess in a wall : طاق - آگہ

Nick, n. A cut ; the exact point of time ; a score : دندنہ - شکاف ٹھیک وقت - موقع - شمار وقت
 At the—of time, at the critical moment : بے شمار - بے حساب - Out of all * عین وقت پر بے گنتی

Nick, v. t. To notch ; to deface ; to hit ; to defeat ; to catch in the act : دنانے ڈالنا - ہرشک - کرنا - بگاڑنا - مارنا - شکست دینا - ہرانا - کرتے ہوئے پکڑنا

Nickel, n. A kind of white metal : ایک قسم کی
 silver, n. an alloy composed of copper, zinc and nickel : ایک قسم کی خراب چاندی

Nick-nacks, n. pl. Small wares ; trifles : چھوٹی چھوٹی چیزیں - ناچیز شے

Nickname, n. A by-name : * پکارنے کا یا بگاڑا ہوا نام
 v. t. To name in contempt : حقارت سے نام رکھنا

Nictation n. The act of winking : آنکھ کا اشارہ - آنکھ کی چھپک یا کھول موند

Nidorous, a. Having the smell of roast fat : بوڑنے کا بوڑھے گوشت کی بو کا

Niece, n. A daughter of a brother or sister : بہتیجھی - بہتیجھی

Niggard, n. A miser : تنگ دل - کنجوس - بخیل
 a. Miserly ; stingy : بخیل - مومک

Niggardly, a. Covetous ; parsimonious : لالچی - جز رس - مہکھی چرس - خسیس - بخیل

Nigger, n. A negro : کالا - حبشی - رنگی - سیڈی آدمی

Nigh, a. Near ; closely allied : نزدیک - قریب
 ad. Almost ; near : * متصل - پاس - قریبی - قراہتی
 prep. Near to : * عقرب - قریب - نزدیک

Nighness, n. Proximity : قربت - نزدیکی

Night, n. The time from sunset to sunrise : لیل
 * Ignorance ; adversity : * تاریکی * Obscurity : رات - شب
 * A dark—, * جهالت - افلاس : شب دیکرر
 A moonlight night, لیلت البدر - رات

Night-cap, n. A head-covering worn in bed : رات کی ٹوپی

Nightfall, n. The close of the day : شام - سانجھ

Nightingale, n. A wellknown bird that sings at night : بلبل - عذریب - بلبل ہزار داستان

Nightly, a. Done every night : * رات کا - شبینہ
 ad. Every night : رات رات - شب

Nightmare, n. Sensation of weight about the breast in sleep ; any overwhelming influence : بگاڑو خواب

Nightshade, n. A poisonous plant : ایک زہریلا درخت

Night-ward, a. Approaching toward night : قریب شب - شام بے وقت

Night-watch, n. Guard at night : رات کا پہرا

Nigrescent, a. Growing dark : تاریک ہوتا ہوا

Nihilism, n. Nothingness ; revolutionary communism : * ناستک کامت - فتنہ انگیز میل جول : خالی - ندارد - کچھ نہیں

Nil, a. n. Nothing : خالی - ندارد - کچھ نہیں

Nil, v. t. Not to will ; to refuse ; to reject : راضی نہ ہونا - نہ چاہنا - انکار کرنا - خارج کرنا

Nimble, a. Light and quick in motion ; agile : تیز پا - سبکرو - تیز رفتار - چست

Syn.—Active, brisk.

Ant.—Inactive, slow, inert, dilatory.

Nimbleness, n. Briskness : چستی - تیز رفتاری

Nimblely, ad. With agility : چستی سے - تیزی سے

Nimbus, n. The rain-cloud ; a halo : برسنے والا بادل - ہالہ - حلقہ

Nincompoop, n. A blockhead ; a fool : احمق - ہاڑلا - بے وقوف

Nine, *a.* Eight and one added : **The** — * نو - نہ **—**
of worthies, نورتین

Nine-fold, *a.* Nine times repeated . نورتینا

Nineteen, *a.* Nine and ten : اُنیس

Ninety, *a.* Nine times ten : نورتے

Ninny, *n.* A fool : بیوقوف - احمق

Nip, *v. t.* To pinch ; to bite off ; to blast ; to vex :

نورشنا - چٹکی لینا - کٹنا - کٹونا - جھانسا - پالا مارنا -

* To—in the bud, to destroy in the

ابتدا ہی میں مار ڈالنا -

* To be

nipped with frost, پالا مارنا

Nip, *n.* A pinch ; a small cut ; blast ; a taunt :

چٹکی - کات - ٹھنڈن - تعذہ - آراہ

Nippers, *n. pl.* Small pincers : چمٹی - سرچھنا

Nipple, *n.* A teat : سرپستان - بھتی - ڈھپنی

Nit, *n.* The egg of small insects : چھوٹے کیڑوں کا

انڈا - لیکھ

Nitid, *a.* Bright ; shining ; spruce :

روشن - چمکیلا - آراستہ

Nitre, *a.* Saltpetre : شورہ

Nitric, *a.* Of nitre : شورہ کا

Nitrify, *v. t. or i.* To convert into or become

nitre : شورہ بنانا یا بننا

Nitrogen, *n.* A kind of gas : ہوا کا ایک جز

Nitty, *a.* Full of nits : لیکھوں سے بھرا ہوا

No, *adv.* A word of denial or refusal : نہیں - حرف

* a Not one ; not any : کوئی نہیں

Nob, *n.* The head : سردار - * A nobleman :

شریف - امیر

Nobility, *n.* The peerage ; antiquity of family ;

eminence ; dignity : شرافت - نجابت - خاندان کی

قدامت - بزرگی - عظمت

Noble, *a.* High in worth ; great ; illustrious ;

splendid ; high-born ; liberal : - عالی منش - بزرگ -

شریف - عمدہ - عظیم الشان - امیر زادہ - فیاض - کشاہ

دل

Syn.- Exalted, elevated, illustrious, honor-

able.

Noble, *n.* A peer : رکن - امیر

Nobleman, *n.* A man of rank ; a peer : - شریف
امیر - رکن

Nobleness, *n.* Greatness ; magnanimity ; worth ;
splendour : عظمت - عالی ہمتی - قدر - شان

Noblesse, *n.* The body of nobility ; dignity :
اُصرا - شرافت - نجابت - نجیبا

Nobly, *adv.* With greatness of soul ; magnani-
mously ; eminently : - عالی ہمتی سے - جرأت دہی سے -
امیرانہ - بہ شان و شوکت

Nobody, *n.* No one ; a person of no importance :
کوئی نہیں - ناچیز - ناکس - ادنیٰ

Noctent, *a.* Noxious ; injurious : مضر -
رساں - زیان کار

Noctambulist, *n.* One who walks in sleep : وہ
شخص جو خواب میں گھومتا پھرتا ہے

Noctilucous, *a.* Shining in the night : رات میں
چمکنے والا

Noctivagant, *a.* Wandering in the night : رات
میں گھومنے والا

Nocturnal, *a.* Nightly : رات کا - شبینہ

Noxious, *a.* Noxious ; hurtful : مضر -
زیان کار

Nod, *v. t. or i.* To bend the head with a quick
motion ; to be drowsy ; to signify by a nod :

* *n.* - ہٹانا - اڑھٹنا - سر ہلا کر بتلانا - جھپکی لینا

Quick inclination of the head ; command : سر کی

جھٹیش - منظری - حکم

Noddle, *n.* The head : سر - موٹے - کپار - کھوپڑی

Noddy, *n.* A simpleton : * بیوقوف - احمق - بھرتدر
A kind of sea-fowl : سمندر کا ایک پرند

Node, *n.* A knot ; a protuberance : گودہ - گانٹھہ -
گانٹھوی

Nodose, *a.* Knotty : گودہ دار - گنڈیلا

Nodule, *n.* A small knot or lump : چھوٹے گانٹھہ
چھوٹے گانٹھے

Noetic, *a.* Pertaining to the mind : فہم یا سمجھ کے
متعلق

Noggin, *n.* A small wooden cup : چھوٹے گانٹھہ کی
پیدالی - نیلی

Noise, *n.* Sound of any kind ; clamour ; rumour :
اداز - غوغا - شور و غل - درھائی تھائی - چلاہٹ -
شہرت - افواہ

Syn.- Cry, clamour, din, tumult.

—, *v. t. or i.* To sound ; to spread by rumour :
چلانا - شور و غل کرنا - افواہ پھیلانا - مشہور کرنا

Noiseless, *a.* Silent : آواز : بے شور وغل - بے شور وغل - خاموش - بے شور وغل - بے آواز :
 Noisily, *ad.* In a noisy manner : شور و فل کے ساتھ - بکراؤ کے طور سے
 Noisome, *a.* Unwholesome ; offensive : ناکرار - مضر صحت - بودار - متان
 Noisy, *a.* Clamorous ; boisterous : غوغائی - شور و غل کرنے والا - پرشور - کئے دراز - غل سے بھرا ہوا
 Nolition, *n.* Unwillingness ; reluctance : نا رضامندی - انکار
 Nomad, *n.* One who leads a wandering and pastoral life : چرواہا - گلہ بان - خانہ بدوش
 Nomadic, *a.* Pastoral ; rude ; wandering : گله بانہ کا - گنولو - خانہ بدوش - بنبجارہ
 Nome, *n.* A province : صوبہ - حلقہ - کینٹ
 Nomenclature, *n.* A vocabulary of terms ; the names appropriated to any art or science : لغت - نرنگ - اصطلاح - مہرہ اسماء
 Nominal, *a.* Existing in name only : برائے نام - نام کو
 Nominate, *v. t.* To propose for office ; to name ; to appoint : نامزد کرنا - نام بتانا - مقرر کرنا
 Nomination, *n.* The act of nominating : نامزد کرنا
 Nominative, *n.* First case in grammar : فاعل
 Nominator, *n.* One who nominates : نامزد کرنے والا
 Nominee, *n.* One who is nominated : نامزد کیا گیا
 Nonage, *n.* Minority : نابالگی - کم سنی - خرد سالی - کم عمری - بال اوستہا
 Nonagenarian, *n.* A person between ninety and a hundred years old : نوے اور ایک سو برس کے بیچ کا آدمی - پندرہ سو سالہ
 Nonagon, *n.* A figure with nine sides : شکل نو پہار
 Nonce, *n.* Present occasion : * For the—, for the present occasion : اس بار - صرف - اس دفعہ - ایک گہنی کے لئے - لمحہ کے لئے
 Nonchalance, *n.* Coolness ; carelessness : سرد مہری - بے برداھی
 Nonchalant, *a.* Cool ; careless : خاطر جمع - بے پروا

Non-commissioned, *a.* Not having a commission : بیڑ سند یا تہہ - بے اختیار
 Non-compliance, *n.* Refusal to comply with any request : عدم تعمیل - نامنظری
 Non-conformist, *n.* One who refuses to conform to the established church : منضبطا کلیسیہ سے - منصرف
 Non-conformity, *n.* Want of conformity : انحراف - اختلاف - نامطابقت - برگشتگی
 Nondescript, *a.* Indescribable : ناقابل بیان
 None, *a.* Not any : کوئی نہیں
 Nonentity, *n.* A thing not existing : عدم - نابود - منقرض الوجود - ناپید
 Nones, *n. pl.* In Rome, the 7th day of March, May, July, and October, and the 5th of the other months : رومیوں میں مارچ مئی جولائی اور اکتوبر کی ساتویں اور دوسرے مہینوں کی پانچویں تاریخ
 Non-existence, *n.* Absence of existence : عدم وجود - نیستی
 Nonjuror, *n.* One who refuses to swear allegiance : شاہی اطاعت کی قسم کہانے سے انکار کرنے والا
 Non-observance, *n.* Failure to observe : عدم لحاظ - بغیر تعمیل
 Nonpareil, *n.* A printing type ; a person or thing without equal ; a fine apple : ایک قسم کے چھاپے کے حروف - لائنی یا بے نظیر شخص یا چیز - ایک قسم کا یکتا - بے مثل - بے نظیر
 Non-payment, *n.* Neglect of payment : ادانہ کرنے سے غفلت
 Nonplus, *n.* A puzzle ; an insuperable difficulty : * *v. t.* To puzzle ; to bring to a stand : گھبراٹا - لاجزب کرنا
 Non-residence, *n.* Absence from an estate or charge : عدم قیام
 Non-resident, *a.* Not residing in particular place : * استقامت نہ رکھنے والا - غیر ساکن - خوش باش :
n. One who does not reside on his estate : باہمی کاشتکار
 Nonsense, *n.* Words without meaning ; trifles : بے معنی باتیں - بیوردہ بات - لغو - بوج

Nonsensical, a. Unmeaning ; absurd ; foolish :
بے معنی - بیہرہ - بے وقوفانہ

Nonsuit, n. The stoppage of a suit at law :
عدم پیروی - نین ست - نامسموعہ دعویٰ - بے باعث کسی
نقص یا قصور کے دعوے کو خارج کرنا

Noodle, n. A blockhead ; a simpleton :
بیوقوف - احمق

Nook, n. A corner ; a small recess :
نوشہ - کونہ

Noon, n. Mid-day ; twelve o'clock :
دوپہر - ۱۲ بجے

Noonday, n. Mid-day :
a. Meridinal :
نصف النہار - متعلق بے نصف النہار

Noontide, n. The time of noon ; mid-day :
دوپہر کا وقت

Noose, n. A running knot :
v. t. To ensnare :
* کندہ - پھندا - پھنسی
پھندا لگانا - پھنسانا

Nor, conj. A word that denies :
نہ - نا

Norm, n. A model ; a rule ; a pattern :
نمونہ - قاعدہ - قواں - وضع

Normal, a. According to rule ; natural ; perpendicular :
school, an institution for training for village schools :
* باقاعدہ - طبعی - اصالی - مستقیم
دیہاتی مدرسوں کے تعلیم کا مدرسہ - مدرسۃ المعلمین

Syn.—Analogical, ordinary.

Normally, ad. In a normal manner :
باقاعدے طور سے

Norman, a. Pertaining to Normandy :
متعلق بہ
* n. A native of Normandy :
باشندہ نار مندی

North, n. The direction opposite to the south :
شمالی - اتر
* a. Being in the north :
شمال

North-east, n. The direction between the north and the east :
اتر اور پررب کے بیچ کی سمت - شمال و مشرق - ایشان کرن

Northerly, ad. From the north or towards it :
اتر سے - شمالی

Northern, a. Of the north ; coming from the north :
اتر کا - شمالی

Northerner, n. A native of the north :
باشندہ شمال

Northward, a. Being towards the north :
اوپر کی طرف
* ad. In a northern direction :
شمال

North-west, n. The direction between the north and west :
* اتر پیچہم - شمال و مغرب - دائرہ کوس
a. Pertaining to the point between the north and the west ; proceeding from the north-west :
سمت شمال و مغرب - اتر سے

Nose, n. The prominent part of the face :
نوک
* To lead by the—, to lead blindly :
* Scent :
* To thrust one's—into the affairs of others, to meddle in other peoples' matters :
* To turn up the—, to show contempt :
* Under one's—, under one's eyes :
* Follow your—, * To bleed at the—, * To blow the—, * To cock the—, * To have a high—, * To lead by the—, * v. t. To smell ; to trace out ; to treat insolently :
* ناک
* تھمنا
* ناک پکڑ کے
* توت شامہ
* دوسروں کے کام میں دخل دینا
* حقارت ظاہر کرنا
* نظر
* ناک کی سیدھا چلے جا
* نسیور پھونکنا
* ناک چھنکنا
* گھونٹنی ہونا
* ناک ہاتھ میں ہونا
* بلان - نکیل
* پتہ
* گستاخانہ پیش آنا

Nosegay, n. A bouquet :
گلدستہ - پھولوں کا گچھا

Noseless, a. Without a nose :
نوکٹا

Nostril, n. One of the two apertures of the nose :
سوراخ بینی - منقہ - نٹھنا

Nostrum, n. A medicine, the ingredients of which are kept secret ; a quack medicine :
اجزا پوشیدہ رکھے جاویں - فریبی دوا - جھوٹا ٹکٹا - چمکلا

Not, ad. A word which expresses denial :
* at all, not in the least :
* in the least, not in the least :
نہیں - نا - نہ - مت - نہ صرف
مطلق نہیں - مطلق نہیں

Notable, a. Worthy of notice ; remarkable ; distinguished :
قابل یادگار - مشہور - معروف - نامور

Notable, n. A person or thing of distinction :
شخص - مشہور چیز

Notary, n. A public officer who attests writings :
ہندی وغیرہ نوشتہ جات کی تصدیق کرنیوالا افسر

Notation, n. The act of recording by marks, figures, or characters :
اعداد وغیرہ کا ترتیب سے لکھنا

Notch, n. A cut ; a nick : شگاف - دندانه * of an arrow. سرفار * v. t. To cut in small hollows : دندانه بنانا - چھوٹا سوراخ کرنا

Note, n. A distinctive mark : نشان * علامت * A brief remark : مختصر * یاد داشت * A short letter : رسید * An acknowledgment of debt : خطا * پرزور * A character in music : دستاریز * A tune : سُر * Observation : کیفیت : راک - تان * Voice : نوا * Fame : شہرت * A bank note : ٹیپینا * حاشیہ شرح : آرت یا نرت * A marginal note : لکھنا * make-of,

Note, v. t. To mark ; to notice with care ; to set down in writing ; to denote : نشان کرنا - دیکھنا : کرنا - سرچنا - لکیرہ لینا - ظاہر کرنا

Note book, n. A book for notes : یاد داشت کی کتاب

Noted, a. Remarkable ; eminent : مشہور - نامور : معترف - نامی

Syn. Distinguished, celebrated, famous.

Notedly, ad. With notice ; exactly : ملاحظہ - ٹھیک ٹھیک

Note paper, n. Paper for writing letters on : چٹھی کا کاغذ

Note worthy, a. Deserving of notice : قابل غور - قابل اہم

Nothing, n. Not anything ; non-existence ; a trifle ; a cipher : کچھ نہی - عدم - ہیچ - ناہیز : * To make of—, to treat as a trifle : حقیر جاننا * Good for—, useless : صفر * To come to—, to leave no result ; to turn out a failure : نکلنے سے نہ نکلنا - ناکامیاب ہونا

Nothingness, n. Non-existence ; worthlessness ; a thing of no value : نیستی - فنا - معدومیت - بے قدر شے

Notice, n. Remark ; announcement ; warning ; respectful treatment : اہم - آگاہی - اطلاع - خبر : * v. t. To observe ; to remark ; to pay attention : غور کرنا - دھیان کرنا - خیال کرنا - التفات کرنا - بیان کرنا

Syn. — Remark, observe, perceive, see.

Noticeable, a. Worthy of observation : قابل غور - قابل لحاظ

Notification, n. The act of notifying ; notice given ; the paper containing a notice : اطلاع - ایشہار - اطلاعنامہ

Notify, v. t. To make known ; to give notice to : اعان کرنا - مشہور کرنا - جتاننا - اطلاع دینا

Notion, a. Idea ; sentiment ; an opinion : خیال - قیاس - رائے

Notional, a. Existing in idea only ; imaginary ; visionary : خیالی - وہمی - گمانی

Notoriety, n. Public knowledge or exposure : شہرت - انکشت نامی - بدنامی

Notorious, a. Publicly known ; openly : مشہور - انکشت نما - بدنام - فاش

Notoriously, ad. Publicly ; openly : علانیہ - ظاہرہ : کھام کولا

Notus, n. The south wind : جنوبی ہوا

Notwithstanding, prep. In spite of : باوجودیکہ : * conj. Nevertheless ; however : تاہم - تسیر ہوئی

Nought, n. Nothing : کچھ نہیں - ناچیز : نقشہ - سفر

Noun, n. The name of a person, place or thing : اسم - نام - سنگیا

Nourish, v. t. To supply with food ; to encourage ; to cherish ; to nurture : پرورش کرنا - پالنا - تقویت دینا - دلمیں رکھنا - پیدار کرنا - غذادینا - قوت پہ نچانا

Nourisher, n. One that nourishes : پرورش کرنے والا - پالناہار

Nourishment, n. Anything that nourishes ; food ; sustenance : غذا - کھانا - خوراک - آہار - پرداخت

Novel, a. New ; strange : نیا - انوکھا - نادر : Sny.—Recent, modern, fresh.

Novel, n. A fictitious tale : کہانی کی کہانہ - داستان - کتاب

Novelle, n. A short novel : چھوٹی کہانی

Novelist, n. A writer of novels ; an innovator : ناول گو - قصہ بنانے والا - ہنسانہ نویس - نئی بات کا موجد

Novelty, n. Newness ; a new or strange thing : نیا پن - ندرت - جدید یا عجیب شے - نو طرز

November, n. The eleventh month of the year : نومبر - انگریزی سال کا گیارہواں مہینہ

Novercal, a. Pertaining to a step-mother : سوتیلی ماں سے متعلق

Novice, n. One who is new to any business ; a beginner ; a proselyte : نو آموز - شاگرد - مبتدی - نو مرید

Novitiate, n. That state or time of being a novice : نو آموزی - امیدواری - شاگردی

Now, ad. At the present time ; not long ago : ابھی - حال میں
and then, occasionally : کبھی کبھی

Now-a-days, ad. In this age : آجکل - اندرں - زمانہ حال - n. The present time : آجکل

Nowhere, ad. Not any where : کہیں نہیں

Nowise, ad. In no way or degree : کسی طرح سے نہیں

Noxious, a. Baneful ; injurious ; unwholesome : مہلک - مضر - ناکرار - فاسد - زہریلا - زہانکار

Nozzle, n. The nose ; the projecting part of anything : ناک - سدا - نکلا ہوا حصہ - تھوڑھنی

Nubile, a. Marriageable : قابل نکاح - بیاضنے کے لائق - بزرگ

Nucleus, n. A kernel ; the head of a comet : گری - مغز - اصل - چرہر - دمدار ستارہ کا سر

Nudation, n. The act of making naked or bare : برہنگی - عریانی

Nude, a. Bare ; unclothed ; void : برہنہ - نکلا - عریاں - رد باطل

Nudge, v. t. To touch gently with the elbow : * کہنی پھرنا - کہنیانا - ٹھنیانا - کہنی سے اشارہ کرنا
n. A gentle push : خفیف دھکا

Nudity, n. Nakedness : برہنگی - عریانی - نکلا پن

Nugacity, n. Trifling talk : لا حاصل گفتگو

Nugatory, a. Useless ; trifling ; ineffectual : نکما - بے کار - بچ - حقیر - بے سرد - لا حاصل

Nugget, n. A lump of a precious metal : قیمتی دھات کا ٹکڑا

Nuisance, n. That which gives trouble ; any thing offensive or injurious : تکلیف دہ چیز - مضر شے - ناکرار - چیز

Null, a. Void ; useless ; of no account : - ناچار - رہ - باطل - بے کار - نکما - ہیچ - بضرل - بے صرف

Nullify, v. t. To render void ; to deprive of legal force : رد کرنا - باطل کرنا - ناجائز کرنا - منسوخ کرنا

Syn. - Annul, cancel, abrogate.

Nullity, n. Nothingness ; non-existence : معدومیت - کالہ می مفقود الوجود - ناجوازی

Numb, a. Torpid ; deprived of the power of sensation and motion : سست - سن - ٹپٹھرا ہوا - بے ٹپٹھراؤنا - ن - v. t. To chill ; to deaden : کرنا

Number, n. A unit ; an aggregate of units : عدد - مجموع - گزہ - A multitude * رقم - اعداد - ہندسہ
v. t. A grammatical inflection : * کئی جمع
v. t. * An odd - شعر - نظم : Pl. (Poetry) * Dual * شمار کرنا - To count ; to calculate ; to consist : گنتا - شامل کرنا

Numberless, a. Countless : بے شمار

Numberable, a. Capable of being counted : قابل شمار - گنتی کے لائق

Numeral, a. Of number ; expressing number : n. A symbol used to express a number : ہندسہ - عدد

Numerate, v. t. To calculate ; to mention by number : شمار کرنا

Numeration, n. The act or art of numbering : شمار - کنتی - عام حساب - قرات اعداد

Numerator, n. One who numbers : گنتی کوئیوالا
The term in a fraction which shows how many parts are taken : شمار کنندہ

Numerical, a. Denoting number : عددی - رقمی

Numerically, ad. With respect to number : عدد سے زیادہ

Numerous, a. Being many : کثیر - زیادہ

Numismatics, n. pl. The science of coins and medals : علم سکہ جات و عملات

Nun, n. A woman devoted to a religious life and who lives secluded in a cloister : گوشہ نشین عورت - زانیہ - بھگت - بونی - بیزاگن - سادھنی - زن

Nuncio, n. A courier ; an ambassador from the pope :
قاصد - پوپ کا قاصد

Nuncupative, a. (*Law*) Verbal ; not written :
عزوتونکی خاقاۃ - زبانی - لفظی - غیر تحریری
(as, A nuncupative will).

Nunnery, n. A house for nuns ; a cloister :
عزوتونکی خاقاۃ - زاهد عزوتوں کی خانقاہ

Nuptials, n. pl. Marriage : عقد - رسم شادی

Nuptial, a. Of marriage : نکاحی - نکاحی *
عقد نکاح - گتھہ - knot * - سرھاگ - سیج - bed -
سرھاگ - جلاہ شادیانہ - song * - بندھن

Nurse, n. A woman who tends a child or sick person :
دایہ - رۃ عزرت جو لڑکے یا بیمار کی رکھوالی :
دایہ - To put to— * دائی پلانے * A wet— * کرے
v. t. To * کھلائی دائی - ٹھیلے - A dry— * کرے -
پوروش کرنا - پالنا - : bring up a child ; to suckle :
نیماہ : To take care of sick person * دودھ پلانا
To cherish ; to manage with care * داری کرنا
and economy : پیار کرنا - رکھنا - نکلیت سے انتظام کرنا

Nursery, n. A room for young children : دایہ
پودگھر - : Ground for the rearing of plants * خانہ
پودوں کا ذخیرہ

Nursling, n. An infants : شیر خوار بچہ

Nurture, n. Food ; nourishment : خوراک - کھانا -
Education : تربیت : * To feed ;
to educate ; to bring up : پوروش کرنا - کھانا
کرنا - پالنا

Nut, n. A fruit consisting of a kernel and a shell :
سخت پوست کا گری دار میوہ - سپاری - اخروت

Nut-brown, a. Brown like a nut long kept :
پوررا - سانرلا

Nutcrackers, n. An instrument for breaking nuts :
سورتا

Nutgall, n. The nut of the oak :
میرن پھل

Nutmeg, n. A kind of aromatic nut :
جزر - جلیفل

Nutrimment, n. That which nourishes ; food :
غذا - خوراک - کھانا

Syn.—Aliment, diet, nourishment, food.

Nutritional, a. Nutritious :
مقوی - غذائی

Nutrition, n. The act or process of promoting growth ; food :
قوت بالیدگی - غذا - پوروش

Nutritious, a. Nourishing ; alimantal :
پوروشدہ -
مقوی - پشت

Nut-shell, n. The hard shell of a nut ; a thing of little value :
To * اخروت کا سخت پوست - کقدر ہے
be or lie in a—, to be in a small compass :
مختصر میں

Nux-vomica, n. Strychnine :
کچھ - ظارص ماہی

Nuzzle, v. t. To put a ring into the nose of :
میں ڈک پینا - ڈک چھیدنا

Nyctalopy, n. A disease of the eye, in which a person sees better by night than by day ; sometimes night blindness :
رتروندی - تیز روشنی میں
تھ دیکھ سکتا

Nymph, n. A goddess ; a lovely young girl :
دیدی - حور - پوی - نازنین

Nymphean, a. Relating to a nymph :
پوی بیکر -
حورسا



O, int. An exclamation used in addressing a person or personified objects :
حرف ندا - ار - اے

Oaf, n. A changeling ; foolish child ; a simpleton :
مجان - احمق لڑکا - سادہ لوح - اوت

Oafish, a. Stupid ; simple :
احمق - سادہ لوح - گاڑدی

Oak, n. A well-known tree and its wood :
بارط

Oaken, a. Made of oak :
بارط کا بنا ہوا

Oakling, n. A young oak :
جوان بارط

Oakum, n. Old rope untwisted and reduced to hemp :
پرانے رسی کا سن

Oaky, a. Firm ; strong :
سخت - مضبوط

Oar, n. An instrument for rowing ; a rower :
ڈانڈ - ڈانڈ - کھینے والا

Oarsman, n. One who pulls at the oar ; a rower :
ڈانڈ کھینے والا - کھیریا - چپر چلانے والا

Oasis, n. (*Pl. Oases.*) A fertile spot in a sandy desert :
ریگستان میں سبز مقام - نطاستان

Oat, n. A well-known plant and its seeds :
اوت -

To feel one's—s, to be conceited :
اوردشی * جہی
To sow one's wild—s, * خرد بین ہرنا
میں پڑنا

Oat-cake, n. A cake made of the meal of oats :
جٹی کی روٹی

Oath, n. A solemn affirmation made with a reverent appeal to God for its truth :
قسم - سرگند

Oatmeal, n. Meal made of oats :
جٹی کا آٹا

Obduracy, n. Invincible hardness of heart ; stubbornness :
سنگدلی - سرکشی - ہمت - بے رحمی

Obdurate, a. Stubborn ; hard-hearted ; harsh :
ہٹی - مگرا - سخت دل - سخت

Syn.—Caitious, hardened.

Obdurately, ad. Stubbornly :
سرکشی سے - سنگ دلی سے

Obedience, n. Compliance with what is required ; dutifulness :
فرمانبرداری - حکم بجا آرپی - تابعداری - اطاعت - مطابقت

Obedient, a. Subject to authority ; respectful :
فرمانبردار - مردب

Obeisance, n. An act of reverence ; a bow ; a homage :
سلام - ادب - بندگی - قنوت - رنام - ادب بجا لانا - تسلیم کرنا * To make—* کرنا

Obelisk, n. A quadrangular pyramid :
چوکوٹھا مینار

Obese, a. Corpulent ; fleshy :
فربہ - پور گوشت - مرقا - نارہ - توندل

Obeseness, n. Morbid fatness :
فربہ - مرقاپا - توندیل پن

Obesity, n. Corpulence ; fatness :
فربہ - مرقاپا

Obey, v. t. To comply with commands, etc. ; to yield to :
حکم ماننا - فرمانبرداری کرنا - بجالانا - اطاعت کرنا

Obfuscate, v. t. To obscure ; to darken :
اندھیرا کرنا

Obit, n. A funeral obsequies :
فریا کرم - برسی - تجہیز و تکفین

Obituary, n. A register of deaths ; an account of a deceased person :
فرتی نامہ - شخص مرحوم کا حال - اطلاع امرات

Object, n. Anything set before one :
شے - چیز - غرض - مقصد

End ; motive ; ultimate purpose :
مضمون * Subject of thought :
مراہ - علت غائی

(Gram.) * External—, معروضات فالقارج

Object of suit, * An—of ridicule,

* مطامح محبت یا تمسق * —of love, * —of displeasure, * مررد مطالب

—of lessons, * نظری تعلیم - نصیحت جو ماجرا دیدہ سے حاصل ہو

Syn.— Aim, end.

Ant—Idea, notion.

Object, v. t. or i. To oppose in words or arguments ; to offer in opposition :
اعتراض کرنا - روکنا

Objection, n. Adverse argument ; obstacle ; doubt :
محبت - اعتراض - روک - شک - شبہہ * عذر بے ضابطگی - عذر خلاف سرشتگی

Technical—,

Objectionable, a. Open to blame :
قابل اعتراض - قابل فحاشی - ذریعہ - بیجا

Objective, a. External :
بیرونی بھہی - مادی - حالت معروضی

(Gram.) The accusative case :
حالت معروضی

Objectiveness, n. The state of being objective :
بیرونی حالت - معروضیت

Objector, n. One who offers objection :
معتراض - عذر کرنے والا

Objurgate, v. t. To chide ; to reprove :
ملاست کرنا - قنوتنا - گھڑکنا

Objurgation, n. The act of chiding ; reprehension :
گھڑتی - زجر - ملاست - قنوت

Oblate, a. Flattened and depressed at the poles :
جان نثار * Devoted :
قطبین پر چھٹی نارنگی کی شکل کی

Oblation, n. Anything presented in divine worship ; a sacrifice :
قذر - نیاز - صدقہ - تپرنا - قربانی

Obligate, v. t. To compel ; to bind over by contract :
مجبور کرنا - اقرار یا شرط کا پابند کرنا

Obligation, n. The binding power of a vow, law or contract ; bond of duty ; debt of gratitude :
عہد و پیمانہ - شرط - فرض - مجبوری - احسان :
bail :
A written—, * عنایت - (Lose) ضمانت مچانکہ

تمسک - اقرار نامہ - عہد نامہ

Obligatory, a. Binding :
فرضی - لازمی - واجب

Oblige, v. t. To bind ; to do a favour ; to please :
مجبور کرنا - پابند کرنا - احسان کرنا - خوش کرنا - ممانون کرنا - مرحوم کرنا

Syn.—Compel, favour.

Ant.—Aequit, disoblige.

Obliging, a. Civil ; courteous ; kind ; ready to do a good turn : - مہربان - مہربان - مہربان - صاحب ساری

Obligingly, ad. Complaisantly : - مرتباً - مہربانی سے

Oblique, a. Deviating from a right line ; slanting ; indirect ; collateral : - ترقیبہا - ترقیبہا - غیر متوازی - خم - کج - پیچدار - ناراست - ایک جہتی - مقررہ غیر خالص speech - * قرابتی - ہم پہلو

Obliquely, ad. Indirectly : - ترقیبہا - مڑ کر - طرز پر

Obliquity, n. Deviation from a right line ; irregularity : - گھراہی - کجروی - انحراف - ناراستی - بے قاعدگی - تجاوز

Obliterate, v. t. To erase ; to wear out ; to destroy : - مٹا کرنا - مٹا کرنا - چھیل کرنا - گھسنا - اٹھانا - منسوخ کرنا - کاٹنا - پرہمال کرنا - نیست و نابود کرنا

Syn. Efface, expunge, cancel.

Obliteration, n. The act of wearing out ; extinction : - مٹاؤ - چھیل چھال - پائمالی - حک - ازالہ

Oblivion, n. Forgetfulness ; remission of punishment : - عفو - معافی - * Amnesty - فرا رشی - نسیان - خاک ڈال - دل سے بولانا - To bury in—

Oblivious, a. Causing forgetfulness ; forgetful : - بھولایا - فراموش گذارہ

Oblong, a. Having greater length than breadth : - شکل مستطیل
n. A figure longer than broad :

Obloquy, n. Defamatory language ; reproach ; calumny : - دشنام آمیز کلام - ملامت - الزام - بدگوتی - لعنت ملامت - بہتان - نندا

Syn. Infamy, abuse.

Obnoxious, a. Reprehensible ; hateful ; offensive ; liable to punishment ; blameworthy : قابل الزام - مکررہ - برا - زہون - سزارار - قصوروار

Obscene, a. Indecent ; offensive to chastity and delicacy ; disgusting ; lewd : - نغش - بے حیائی کا - بے شرمی کا - مکررہ - بد

Obscenity, n. Impurity in act or language ; lewdness : - گندگی - نغش - زناکاری - مغلزات

Obscuration, n. The act of darkening : - اندھیرا کرنا - تاریک سازی - ظلمت - پوشیدگی

Obscure, a. Dim ; gloomy : تاریک
Hidden : - پوشیدہ - منطفی
Not easily understood ; imperfect : - مشکل - مغلط - دھندلا - ادھرؤا
Unenlightened : - جاہل * Little known : - کم نام - بے نام و نشان

Obscurely, ad. Not clearly : - اندھیرے میں

Obscurity, n. Darkness ; gloom ; privacy ; humble condition ; incelebrity ; darkness of meaning : - اندھیرا - تاریکی - تیرگی - پوشیدگی - فہمگی - گمنامی - غیر معروفی - معنی کی ناصفاہی - انہم
Syn. — Darkness, gloominess.

Ant. — Plainness, brightness.

Obsecration, n. The act of imploring ; supplication : - منت - درخواست - استدعا - عرض

Obsequies, n. pl. Funeral rites : - تہیز و تکفین - کرنا و کرم - نقن دفن

Obsequious, a. Cringing ; servile ; condescending : - خروشندی - چاہاوس - پیچہلگر - کمینہ - حقیر

Obsequiousness, n. Servile submission : - قابعداری - اطاعت - خروشاند - چاہاوسی

Obsequy, n. Obedience ; compliance : - فرمانبرداری - اطاعت

Observable, a. Discernible ; remarkable : قابل غور - قابل امتیاز - قابل لحاظ - غور طلب

Observance, n. The act of observing ; performance ; a rite ; rule of practice : - ملاحظہ - غور - بیجا آوری - رسم - ریت - دستور - دین یا تیبوہار کا رکھنا - مندرک جاننا

Observant, a. Attentive ; taking notice of things ; mindful ; obedient : متوجہ - ہر چیز کو ہر حالت کو غور سے دیکھنے والا - خبردار - پابند - فرسائیدار - تابعدار :
n. An obsequious or sycophantic servant : غلام مزاج - چاہاوس نوکر

Observation, n. The act of seeing ; view ; judgment ; remark : - مشاہدہ - دیکھ بھال - توجہ - دیکھنا - ملاحظہ - بھار - قول مقررہ - (Ast.) - بھارہ بینی - رویت

Observatory, n. A place for making astronomical observation : - رصد گاہ - آکاس اوچن - معاینہ گاہ

Observe, v. t. or i. To note; to mark; to treat with obsequious attention; to comply with; to discover; to remark; to keep religiously: فرور کرنا - دیکھنا - لکھنا - کرنا - حکم بجالانا - ناز برداری کرنا - رشا جوئی کرنا - معلم کرنا - کہنا - فرمنا - رکھنا - وعدہ دینا کرنا - بچھن پورا کرنا * To one's—word, کرنا

Syn.—Behold, watch, mark.

Observer, n. One who observes; one who keeps any custom or rite; one who fulfils: دیکھنے والا - اہل نظر - رکھنے والا - مانتے والا

Observingly, ad. Attentively: فرور سے - توجہ سے

Obsession, n. The act of besieging: مداخلت

Obsolete, a. Disused; grown out of use; old fashioned: مٹا ہوا - استعمال - پرانی چال کا - غیر مزوج - غیر مستعمل

Syn.—Archaic, past.

Ant.—Modern, extant.

Obstacle, n. An impediment; a hindrance; difficulty: روک - آڑ - انگاز - سدراہ - مزاحمت - قیاحت

Syn.—Obstruction, interruption.

Ant.—Freedom, acceleration, advancement, facility, promotion.

Obstetrics, n. pl. The science and act of midwifery: چنانچی کا کام - علم تولید یا بیچہ جنینی - علم دائمی گویا

Obstinacy, n. Stubbornness; persistency: سرکشی - تمرد - سٹواری - ہٹ - حد

Obstinate, a. Stubborn; unyielding; immovable: بقی - ضدی - گردن کش - کپڑا - اکل - اچل - (مرض) تہمت - پورا

Obstinately, ad. Stubbornly; inflexibly: ہٹ سے - ضداً - پورا سے

Obstipation, n. Extreme costiveness: سخت قبض

Obstreperous, a. Very noisy; clamorous; turbulent: شور و غل - چپانے والا - چلانے والا - دانگنی -

Ant.—Quiet, calm, tranquil, subdued.

Obstruct, v. t. To retard; to interrupt; to bar: روکنا - بند کرنا - مسدود کرنا

Obstruction, n. The act of obstructing; an impediment; barrier: روک - آڑ - سدراہ - مزاحمت - تعرض

Syn.—Obstacle, hindrance.

Obstructionist, n. One who hinders progress in legislation: مزاحمت کرنے والا

Obstructive, a. Causing impediment: مزاحم - حائل - مانع

Obstruent, a. Hindering: سدراہ - مانع * n. Anything that closes a natural passage of the body: جسم کے قدرتی رستوں کو بند کرنے والی شے

Obtain, v. t. or i. To gain; to procure; to prevail; to continue in use: حاصل کرنا - مہیا کرنا - قبضہ لینا - جاری ہونا - پہنچنا - مزوج ہونا

Obtainable, a. Capable of being obtained: لائق حصول - میسر - ممکن الحصول - ملنے والا - یکتائی

Obtest, v. t. or i. Supplicate; to beseech; to protest: منت کرنا - التماس کرنا - عرض کرنا

Obtestation, n. Supplication; entreaty; protestation: منت - التماس - عرض

Obtrude, v. t. To thrust; to urge unduly; to urge upon against the will: گویا - داخل کرنا - * v. i. رضی کے خلاف کرنا - مغل ہونا - سر ہرنا بلا ہٹے داخل ہونا

Obtrusion, n. An entering without invitation: داخل بیجا - بغیر ہٹے داخل ہونا

Obtrusive, a. Disposed to obtrude; forward: داخل دینے والا - شرج - دستدلفز - شوخی سے گوس پڑنے والا - خرامتورہ اپنے خیالات رانے پیش کرنے والا

Obtund, v. t. To blunt; to quell; to deaden: کند کرنا - سست کرنا

Obtuse, a. Dull; not acute: کند - گونہل - زاویہ - angle: * - گردن - بیرقرف - Stupid: منفرجہ

Obtuseness, n. Bluntness; dulness: گونہل پن - کند زہنی

Obtusion, n. The act of dulling: بھدائیں

Obverse, n. The face of a coin which has the principal symbol upon it: سکے کا چہرے والا رخ

Obvert, v. t. To turn downwards: اورت دینا - اورتھا کرنا

Obviate, v. t. To remove; to withstand: دور کرنا - دفع کرنا - رفع کرنا - بچانا - ہٹانا

Obvious, a. Easily understood ; plain ; evident :
 صریح - صاف - ظاہر - عیان - کھلے

Obviously, ad. Plainly ; evidently :
 صاف صاف - کھلے کھلے - ظاہر - برصاف - صریحاً

Occasion, n. An incident ; favourable time ; a chance ; need ; exigency ; a motive :
 واقعہ - موقع - ضرورت - حاجت - حادثہ - فرض - مطلب -

On — * r. t. To cause ;
 باعث ہونا - موجب ہونا - اتفاق سے پیدا
 to induce :
 کرنا - اعاب کرنا - رجوع کرنا

Occasional, a. Casual :
 اتفاقیہ - عارضی - کبھی کبھی - کا - موقع کا

Occasionally, ad. At times ; not regularly :
 کبھی کبھی - گاہ گاہ - اسی گاہ

Occident, n. The west :
 ریب - مغرب

Occidental, a. Western :
 مغربی - پچھلی

Occiput, n. The hinder part of the head :
 گال - تھپ

Occult, a. Secret ; hidden from the eye or understanding unknown ; invisible :
 پوشیدہ - مخفی - نامعلوم - مخفی - ڈھانپنا - الپ - گیت
 sciences,
 - در تہمید اور نجوم

Occultation, n. A hiding :
 ادھا - پوشیدگی

Occupancy, n. Possession ; tenure :
 قبضہ - تحت - صرف - دخل - سکونت

Occupant, n. One who has possession :
 قابض - دخیل - متصرف - ساکن

Syn. — Owner, resident, proprietor, tenant.

Ant.—Foreigner, stranger, visitor.

Occupation, n. The act of holding ; possession ; employment ; business ; vocation :
 قبضہ - دخل - کام - حرفہ - پیشہ

Occupier, n. One who occupies :
 قابض - دخیل

Occupy, v. t. To possess ; to keep ; to use :
 قبضہ کرنا
 * To follow a business :
 ہون - رکھنا - استعمل کرنا
 * To inhabit :
 پیشہ کرنا - مشغول کرنا - کار کرنا
 * To employ :
 جگہ گھیرنا - بھرتا : * رہنا
 محضرت ہونا - دھندھے میں لگنا

Occur, v. i. To appear ; to be found here and there :
 نظر آنا - واقع ہونا - حادث ہونا - سوزد ہونا -
 پان آنا - اداہر اداہر ملنا

Syn.— Befall, happen.

Ant.—Impend. pass.

Occurrence, n. An incident :
 واقعہ - حادثہ - واقعہ - ماجرا

Ocean, n. The sea ; any very great expanse :
 سمندر - بحر عظیم - اٹھہ یا اگم جگہ - بحر ڈھیلداختار

Oceanic, a. Pertaining to the ocean :
 بحری - بحری

Ocellated, a. Resembling an eye ; marked with eye like spots :
 آنکھ - آنکھ جیسا دیکھنے دار

Ochlocracy, n. A mob government :
 رعیت - حکومت جمہوری

Ochre, n. A kind of fine clay :
 گھٹیا - پتھر - پٹی

Ochreous, a. Of ochre :
 پتھر مشابہ کا

Octagon, n. A figure of eight sides and eight angles :
 آٹھ پہلو - آٹھ کونے

Octagonal, a. Having eight angles and sides :
 آٹھ پہلو کا - آٹھ کونہ

Octahedron, n. A solid figure of eight equal sides :
 آٹھ متساوی الاضلاع

Octangular, a. Having eight angles :
 آٹھ کونہ

Octave, a. Consisting of eight :
 آٹھ - آٹھ

Octave, n. An interval of eight sounds in music :
 آٹھ - آٹھ کے بعد آوازوں کا

Octavo, n. Having eight leaves to a sheet :
 آٹھ ورق
 * n. A book in which a sheet is folded into eight leaves :
 آٹھ ورق کا کتاب

Octennial, a. Coming once in eight years :
 آٹھ سالہ

October, n. The tenth month of the year :
 دسواں ماہ - اکتوبر

Octogenarian, n. One who is eighty years old :
 آٹھ - آٹھ کی عمر کا شخص

Octonocular, a. Having eight eyes :
 آٹھ آنکھ والا

Octroi, n. A duty levied at the gates of cities on goods brought in :
 محضرت - چنگی

Octuple, a. Eight-fold :
 آٹھ گنا

Ocular, a. Pertaining to the eye ; perceived by the eye :
 متعلق آنکھ - چشم دید - آنکھوں سے دیکھنا

Ocular, n. demonstration, * بسری - ثبوت
 عینی
 Syn.—Palpable, visible.
 Ant.—Deductive

Oculist, *n.* One skilled in diseases of the eye : آنکھوں کا علاج کرنے والا - ستیا - کرمال

Odd *n.* Uneven in number : * طاق - فرد - پہنکال
Unmatched ; extra : * Peculiar ;
Uncommon : * بے میل - راجد
بے مش - خاص - عجیب - نادر

Oddity *n.* Peculiarity ; singularity : - خصوصیت -
نراپن - طرہ - نادر شخص

Oddly, *ad* Strangely ; peculiarly : عجیب طرح
* An-odd number : * سے - نرالے ڈھنگ سے - خاص طرح سے
وہ عدد جو چار پر بٹنے سے تین باقی چھوڑتے ہیں

Oddness, *n.* Singularity ; uncouthness :
بدرالعجبی - ندرت - خبط - اثر ہانا پن - بھدا پن

Odds, *n. pl.* Inequality ; advantage ; probability ;
تفاوت - فرق - جیت - غلبہ - احتمال - جھگڑا :
dispute : * and ends, miscellaneous articles :
* At—, at variance : برخلاف * فساد
مضمرات یا پھینک
* It is odds, it is probable :
اغلب ہے - بیس برسے

Ode, *n.* A lyric poem : غزل - ٹیٹ - قصیدہ - اعلیٰ
خیالات کا اسرار

Odious, *a.* Hateful ; detestable ; invidious :
متفر - نفرت انگیز - ناگوار - گھناور - حاسد - کیناور

Odiously, *ad.* Invidiously : - بغض سے -
کراہیت سے

Odiousness, *n.* Hatredfulness : کراہیت - ٹیڈری

Odium, *n.* Hatred ; offensiveness : نفرت - کراہیت :
*—theologian, خصومت بھات دینی -
مذہبی مضامین پر بحث کرنے والوں کا بغض

Odontology, *n.* The science which treats of
teeth : علم دندان

Odoriferous, *a.* Sweet-scented : خوشبودار - معتبر

Odorous, *a.* Fragrant : خوشبودار

Odour, *n.* Any smell ; perfume : بو - باس - خوشبو :
* Of, *prep.* From ; about ; out of ; belonging to :
* سے - واسطے - حق میں - کا - کے - کی

Off, *a.* Most distant : * بہت دور - علیحدہ - جدا - دور :
ad. From ; away ; separately : * سے - دور - جدا -
کبھی کبھی - کبھی پاس : * and on, at intervals :
* To be—, * ٹیڈی دور - کبھی سرگرم کبھی سست - اونچا نیچا
* ٹیکل جانا - چھپت ہرنا - زفر چکر ہرنا

come—, To get—, * ٹیکل ہونا
* *int* Be- gone : * چاڑ رہنا - چھوڑنا - دعوا - چلنا
*—hand, with- out preparation ; unstudied :
بے ساختہ - ذرا - بے زامل

Offal, *n.* Refuse ; a dead body ; rubbish : غلیظ
نفاذ - ازجبری - چھپترے - مردہ جسم - لاش - اجڑور -
ضلا - پس خردہ

Offence, *n.* Displeasure ; affront ; a sin ; injury ;
ڈخرشی - ذھکی ناراضی - تمقربی - نقصان :
* assault : * To take, to take umbrage :
* Weapons of—, لڑائی کے ہتھیار - مہارت آلات

Offenceful, *a.* Giving displeasure ; injurious :
کرنے والا - مضر

Offenceless, *a.* Innocent : بے گناہ - بے تعصیر -
بھولا - معصوم

Offend, *v. t. or i.* To make angry ; to displease ;
to annoy ; to transgress ; to sin : ڈاخرش کرنا - خفا :
کرنا - ناراض کرنا - تکلیف دینا - تجاؤز کرنا - خلاف
کرنا - گناہ دینا - چھوڑنا - دق کرنا - جرم کرنا - گنہگار
آنکھ میں * To—the eye, * ہرنا - مجرم ہرنا
کھینکا

Offender, *n.* One who offends ; a wrong doer :
گنہگار - خطاوار - مجرم

Offensive, *a.* Insulting ; disagreeable ; aggres-
sive : ڈاڑبیا - ناپسندیدہ - ناگوار - مضر - ضرر رساں :
جنگجو - حماہ آور

Syn.—Displeasing, distasteful.

Ant.—Pleasing, agreeable, defensive.

Offensively, *ad.* Injuriously : ضرر رسائی سے -
مضرت

Offer, *v. t. or i.* To present ; to suggest ; to pro-
pose ; to bid ; to threaten ; to exhibit : پیش کرنا -
نذر کرنا - کرنا - بتلانا ظہار کرنا - قیمت لگانا - دام
* To —a present, * دینا - بولی بولنا - دھمکانا - نامیوش کرنا - دکھانا
* o— * لڑائی مارکنا - لڑائی چاہنا
* To—battle, * ہاتھ چلانا - حماہ کرنا - دست درازی
* A proposal for marriage : * نذر کرنا
* bid : * شاد کی درخواست
* *n.* A proposal : * لڑائی - قیمت

- Offering, n.** A sacrifice ; that which is offered :
قربانی - بھینت - بل - بلدان - چڑھارا
- Offertory, n.** Verses or anthem sung while the offerings of the congregation are being made ; the offerings: کتاب مجید کی آیتیں جو گرجہ میں پوت چنڈہ لئے جانے کے پڑھی جاتی ہیں - چاند ندر
- Office, n.** Employment ; an act of kindness ; a function ; a place of business : - کار - مہر - نئی - سرکاری, Public * عہدہ - منصب - حکمہ - دفتر - charges, * - آچھڑی بدسلوکی - An evil, * - لورک - نیک کام - بھلائی جاتے ضرور - پایضافہ - House of, * بدامی - برائی یانت کی نوکری - آمدنی کی, * Lucrative * تھی اسامی
- Officer, n.** One who holds an office : - عہدہ دار - انسپ - اہلکار
- Official, a.** Pertaining to an office derived from the proper authority : - عہدہ یا خدمت کے متعلق - n. A subordinate public officer : عہدہ - اہلکار - عہدہ دار
- Officialism, n.** Rigid adherence to official forms ; official state : - سرکاری ضابطہ
- Officially, ad.** By authority : - سرکاری طرز سے - ارورے : منصب - باضابطہ
- Officiate, v. i.** To perform an office : - قائم مقامی کرنا - کام کرنا - عیوضی کرنا - خدمت کو انجام دینا
- Officious, a.** Forward ; meddling : - شوع - ہر کام میں پڑنے والا - دخل دینے والا
- Officiously, ad.** Kindly : - Forwardly * مہربانی سے : شوخی سے
- Officiousness, n.** Undue forwardness : - نفرتی - خواہ مضراہ نی مداخلت
- Offing, n.** That part of the sea at a distance from the shore : - سمندر کا وہ حصہ جو کنارے سے دور ہے
- Offscouring, n.** Rejected matter ; the refuse : - فضلہ - میل - اخور
- Offset, n.** A shoot of a plant : - An equivalent * : ڈالی - کل - برائے رقم - بھراؤنی
- Off-shoot, n.** A branch from a main stem : - شاخ - پتہ - انکھورا
- Offspring, n.** A child or children ; descendants : لڑکا یا لڑکی - لڑکے بالے - اولاد - نسل - ذالیات - سکھا ست
- Of, ad.** Frequently ; many times : - اکثر - بسا اوقات - بارہا
- Often, ad.** Frequently ; repeatedly : - بسا اوقات - جئے بار, * So—as - بارہا - بار بار
- Ogle, v. t. or i.** To view with side glances : کن - توجہی نظر - n. A side glance : - آٹھ گھمراں جھانڑی - آنکھ گھمراں
- Ogre, n.** An imaginary giant of fairy tales : - دیڑھ - عقربت
- Ogress, n.** A female ogre : - دیڑھی - ذالین
- Oh, int.** Denoting pain, sorrow or surprise : - ہاے - ولے - اف - واہ
- Oil, n.** An unctuous liquid : - عطر - پھیل : Essential—, * گندھک کا تیل, —of vitriol, * Scented—, * Oil, and truth will get uppermost : عطر تیل او - سچ اور بڑے پر تیل لگانا - تیل * v. t. To rub over with oil : اور بڑے To pour—on troubled waters, to pacify matters : گرم معاملہ کو ٹپھتا کرنا
- Oil-cake, n.** A mass of compressed linseed or other seed from which oil has been extracted : کھلی
- Oil-cloth, n.** A cloth oiled for covering floors, etc. : روغنی کپڑا - صوم جامہ
- Oiliness, n.** Greasiness : چکنائت - تیلیاؤں
- Oilman, n.** A manufacturer of or dealer in oils : تیلی - روغن فروش
- Oily, a.** Resembling oil ; unctuous ; supple : - تیلیا - چکنائت - ملائم
- Oint, v. t.** To rub with oil : تیل لگانا
- Ointment, n.** Any soft unctuous matter ; an unguent : دوا کا تیل - مرجم - زماہ
- Old, a.** Aged ; antiquated : - پرانا - قدیم - مسن - Ancient ; experienced : * سالنوردہ - بوزھا - کینہ Worn out ; customary : * سابقہ - تجربہ کا بوسیدہ - معمولی
- Olden, n.** Ancient ; old : - قدیم - سابقہ - بھریندہ - پرانا - بوزھا

Oldish, a. Somewhat old : کچھ پرانا
Oleaginous, a. Oily ; unctuous : تیلیا - چکنیا
Oleograph, n. A print in oil colours : روغنی تصویر
Olfactory, a. Of the sense of smelling : سونگھنے کے متعلق - مسعودی
Oligarchy, n. Government in the hands of a few : وہ سلطنت جس میں چند امرا حکومت کا انتظام کرتیں
Olive, n. A well-known tree : **The emblem of peace :** * **The emblem of peace :** صلح کی علامت
Omega, n. The last letter of the Greek alphabet : * **The end :** آخر * **The alpha and—of, the beginning and end of :** ابتدا اور انتہا
Omelet, n. A fritter of beaten eggs : انڈوں کا پکوان - خاکینہ
Omen, n. A message ; a sign ; a foreboding : شگون - نال - علامت
Ominous, a. Inauspicious : بدشگون - منکوس - نقص
Omissible, a. That may be omitted ; negligible : قابلِ فروگذاشت
Omission, n. Neglect ; failure : چرک - غفلت - سہر - بھول - فروگذاشت - ترک - چہرٹ - غفلت
Omissive, a. Leaving out : جس میں کچھ فروگذاشت ہو گیا ہو
Omit, v. t. To leave out ; to neglect ; to drop : چھوڑ جانا - بھول جانا - فروگذاشت کرنا - ترک کرنا - قلم اُتار کرنا
Omnibus, n. A four-wheeled vehicle for carrying passengers : ایک قسم کی چار پہیے کی گاڑی - بڑا شگرم
Omnifarious, a. Of all sorts : ہر قسم کا - بھانت - بھانت کا - انواع و اقسام کا
Omnific, a. All creating : سب کا خالق - کرتار
Omnipotence, n. Almighty power : قدرتِ نلی - سربِ شکتی - سہہ قادی
Omnipotent, a. All powerful ; almighty : قادر - قادرِ مطلق : **n.** The Almighty : سربِ شکست مان
Omnipresence, n. Universal presence ; ubiquity : سب جگہ موجودگی - سربِ بیاب - سہہ جا حاضر ناظر
Omnipresent, a. Present in every place : سب جگہ موجود - سربِ بیاب - حاضر ناظر
Omniscience, n. Universal knowledge ; infinite wisdom : علمِ کل - عقلِ کل - سربِ گیان - سہہ دانہ : wisdom

Omniscient, a. All-knowing ; infinitely wise : **خبیر - عالم الغیب - سربِ نیانی - عالمِ مطلق**
Omnivorous, a. All-devouring : **سب چیز کھانے والا - سربِ ہیکشی - اٹھری**
On, prep. Upon ; at ; near ; in addition to : * **Towards the surface of :** * **By means of, :** * **Near, :** * **Besides, :** * **At the times of, :** * **the contrary, on the other hand : —a sudden, unexpectedly :** * **In a passion :** * **Undisposed of of :** * **the alert, watchful :** * **the way, keep-** * **the wing, in flight :** * **آرنے کی حالت میں - ہیرا**
On, ad. Forward ; in continuance ; not off ; proceeding : آگے - لگا تار - ہوا پر - نزدیک - بڑھتی
Attached to the body : * **Go** * **one's own hook,** * **one's last legs,** * **Hence—thy life,** * **and—** * **Sleep—** * **int. Go on :** * **جنگلی گدھا**
Onager, n. The wild ass : **جنگلی گدھا**
Once, ad. One time ; formerly : ایک مرتبہ - بیشتر
At— * **and—** * **for all, finally :** * **on rare occasion :** * **کبھی کبھی**
One, a. Single : **An individual :** * **Some :** * **All—** * **United :** * **At—, in union :** * **of these days, shortly :** * **and the same, :** * **Many a—,** * **To be—** * **by—** * **متفق یا ایک ہونا**

The first of the simple units : * اہم - واحد
 One's own master : - کسی کا بندہ نہیں -
 معلق الاءمان
Oneness, n. Singleness ; unity : وحدت
Onerous, a. Burdensome ; heavy : بھاری - وزنی
 گران
Onerously, ad. In an onerous manner : بھاری
 طور سے
Onesided, a. Partial : طرفدار - بے اذعانہی کا
Ongoing, n. Procedure ; event : جاری - کارروائی
 ساجرا
Onion, n. A plant : پیاز - بسل
Onlooker, n. A spectator : تماشا بین - دیکھنے والا
Only, a. Single ; pre-eminent : صرف - تنہا - اکیلا
 ad. Singly : * یکتا - ایکلوتا - خاص - سب سے عمدہ
 فقط - سرا - conj. Save : * تنہا - اکیلے - صرف
Onomatopœia, n. The expressing by sound of
 the thing signified : ام اسواط کی یا حرکت کا
 تاوارز لفظ مثلاً - hiss - پیپیکار - buzz - ہونہندانٹ - creek
 کرکرائنا - چوں چوں کرنا
Onomatopœtic, a. Pertaining to or formed by
 onomatopœia : ام اسواط کے متعلق
Onset, n. An attack , a storming : - حملہ - یورش -
 چڑھاؤ
 Syn.—Attack, assault, charge.
 Ant. Defence, protection.
Onslaught, n. A murderous assault : مار تبار -
 حملہ - دھاوا - یورش - تھکامہ خونریزی
Ontology, n. The science of being ; a study of
 the nature and essence : علم موجودات - مسئلہ وجود
 مطلق مانیت موجودات کی تحقیق
Onus, n. A burden ; an obligation : بار - برجہ -
 احسان - فرض
Onward, ad. Forward ; progressively : آگے بڑھنے -
 بڑھتے ہوئے - a. Progressing ; advancing : * اود
 ترقی کرتے ہوئے
Onyx, n. A gem : سنگ سالیہانی
Ooze, n. Soft mud : چھلا زمین : Soft flow :
 * v. i. To flow gently from pores ; to perco-
 late : بہرنا - چرنا - پسینچنا دھیرے دھیرے دھنا
 Syn.—Filter, distil, drip.
 Ant. Rush, pour.
Opacity, n. Want of transparency ; obscurity :
 غیر شفافہی - غلاطت - کھلمت - تاریکی - داندلہا

Opal, n. A precious stone : قیمتی پتھر - دودھیا
 پتھر
Opaque, a. Dark ; not transparent : - شفاف
 عیر شفاف
Ope, v. t. To unclose : کھولنا
Open, v. t. or i. To unclose ; to disclose ; to
 begin : * کھولنا - چک کرنا - ظاہر کرنا - شروع کرنا
To—an account, حساب کھولنا
To—a vein, * تمہید اٹھانا یا دانہ
 چوبند نہ ہو - جاری - کھلا : * a. Not closed :
 بے ہنر - Artless ; sincere : * صاف : * Clear :
Public : * بے مکر و فریب - سینہ صاف - راحت باز
In—, * کھلا کھلا ، عام - ظہر آشرا - بلا خجالت
Truth * دن دو بھرے - کھلے خزانے
loves open dealings : راستہ پر صاف معاملہ
 پسند ہے
Opening, n. A hole ; beginning ; an opportunity :
 سوراخ - شروع - ابتدا - مرتع
Openly, ad. Publicly ; evidently : ظاہر -
 ظہر - صریحاً - علانیہ
Openness, n. Plainness : سادگی - صفاہی
Opera, n. A dramatic composition set to music ;
 بلجے کے ساتھ ناٹک - سرنگ کھور - ناچ
 گھز - تماشا گھر
Operate, v. i. To act ; to perform a work ; to
 produce as an affect : کام کرنا - عمل کرنا - اثر
 تاثیر یا نقش کرنا
Operation, n. Agency ; influence ; effect : رسالہ
 جراحی - چیز : Surgical performance : * اثر - تاثیر
 * چری ہو جانا : * To come into—, تشریح
 جراحی عمل - چہر پہاڑ - Surgical—
Operative, a. Acting ; effective : * کارگر - موثر
 کاہنہ - اہل حرفہ
Operator, n. One who operates : عامل - کام کرنے
 والا کارکن - جراح
Operose, a. Full of trouble ; lab rious : مصائب
 غائب - دشوار
Ophidian, a. Belonging to serpents : سانپوں سے
 متعلق
Ophiology, n. تذبذب - ٹیپا
Ophiophagous, a. Feeding on serpents : سانپ
 کھا پیرالا
Ophthalmic, a. Ocular : آنکھ کا

Ophthalmia, n. A disease of the eyes : آنہہ کی بیماری - آنرپ چشم

Opiate, n. A medicine that contains opium for inducing sleep : * اشیون آپیون نید لانے والی یا مٹوم دوا :
a. Narcotic ; causing sleep : مٹوم - نیند لانے والی

Opine, v. t. To judge ; to think : فور کرنا - معازم
کرنا - سوچنا - بچارنا - گمان کرنا

Opinion, n. Sentiment ; judgment ; estimation :
* To hold - خیال رائے - تھوریز - بچار - حسن ظن -
مستحق الزامے ہونا - آپس میں رائے ملنا
with,

Opinionated, a. Egotistical ; inflexible : خود رائے -
جبکی - خود پسند - ہتھیلا

Opinionative, a. Unduly fond of one's own
opinion : خود پسند - خود رائے - دماغی

Opium, n. The juice of the poppy : اشیون - اشیون
پوست کا ست یا رس

Opponent, a. Adverse : مخالف - مقابل - برعکس -
مدعی - حریف - * n. An adversary : مخالف - معترض - طرف ثانی - عدو

Opportune, a. Timely ; convenient : بہ وقت -
موقع - موائق - آسان - ٹھیک

Opportunely, ad. Seasonably ; conveniently :
وقت پر - موقع پر - آسانی سے - بہ وقت - بہرلیت - بہر محل

Opportunist, n. One who seeks favourable oppor-
tunities : موقع ڈھونڈنے والا

Opportunity, n. Convenient time ; chance : موقع -
ٹھیک وقت - اتفاق - داڑ بھات - قابو

Opposable, a. Capable of being opposed : قابل
مخالفت

Oppose, v. t. or i. To resist ; to object ; to com-
bat : روکنا - منع کرنا - اعتراض کرنا - مانع ہونا -
مخالفت کرنا

Syn.—Check, defy, resist, withstand.

Ant.—Abet, aid, back.

Opposer, n. An adversary : مخالف - مدعی - حریف

Opposite, a. Facing ; adverse ; contrary : رو برو -
سامنے - مقابل - دوسرا - ٹانہ - مخالف - برعکس

Ant. Agreeing.

Opposition, n. Resistance ; hostility ; contradic-
tion ; obstruction : روکی - ٹھہرس - عداوت - دشمنی -
مخالفت - آڑ

Oppositionist, n. One of the opposite party :
مخالف جماعت کا ایک شخص

Oppress, v. t. To treat with cruelty ; to over-
power : بھروسے سے پیش آنا - ہم کرنا - زبردستی :
کرنا - مغلوب کرنا

Oppression, n. Severity ; tyranny ; depression :
تھدی - سختی - درستی ظلم - زبردستی - جور و ستم -
* Oppression causeth re-
bellion : ظلم سے بغاوت ہوتی ہے

Oppressive, a. Unjustly severe ; tyrannical ;
نہایت سخت - سنگدل - ظالم - سامگر - دشوار -
گراں - بہاری

Oppressor, n. A tyrant : ستائیرالا -
مردم آزار

Opprobrious, a. Reproachful ; infamous : مذمت
آیز - ملامت آمیز - برا - بدنام - رسوا - زبون

Opprobriously, ad. Reproachfully : مذمت
آیزی سے

Opprobrium, n. Disgrace ; reproach mingled
with disdain : بے عزتی - رسوائی - حقارت آمیز ملامت :
Syn.—Reproach, disgrace, infamy.

Ant. Approval, praise, glory, honour.

Oppugn, v. t. To attack ; to oppose : حملہ کرنا -
مقابلہ کرنا

Oppugnancy, n. Contention ; resistance :
مخالفت - مقابلہ

Optative, a. Expressing desire or wish : خواہش
ظاہر کرنے والا - صیغہ منافی

Optic, n. An organ of vision : آنہہ :
آلہ بصارت

Optical, a. Pertaining to vision or optics ; ocu-
lar : آنہہ کا - نظر کے متعلق - چشمی - بصری

Optician, n. One who deals in spectacles, etc. ;
چشمہ فروش - عینک فروش -
صاهر علم بصارت

Optics, n. The science which treats of the laws
of light and vision : علم منظر و مزایا

Optimism, n. The doctrine that everything is
ordered for the best ; a disposition to take the
most hopeful views of things . یہ عقیدہ ہے کہ ہر شے
بولائی کے لئے ہے - سب باتوں میں اچھی امید رکھنے کا
مزاج

Optimist, n. A follower of optimism : یہ عقیدہ
رکھنے والا : تمام حالات بھلائی کے لئے ہیں

Option, n. Power of choosing ; election : اختیار ;
پسند - مرتبی - خرائش - خوشی - چالا

- Optional, *a.* Left to choice : اختیار - مرضی پر
 Opulence, *n.* Wealth ; affluence : دولت مندی - مالدار - مالداری - طالع وری - توکری
 Opulent, *a.* Wealthy ; affluent : دولت مند - طالع وری - مالدار - توکری
 Opulently, *ad.* Richly : دولت مندی سے - توکری سے
 Opus, *n.* A work ; a musical composition : نکیات - گیت - راگ
 Opuscle, *n.* A small work : ایک چھوٹی کتاب - رسالہ
 Or, *conj.* Uniting alternatives : یا - خواہ - یعنی
 Or else, نہیں تو - ورنہ
 Oracle, *n.* A prophetic declaration ; revelations ; a wise sentence : پیشگوئی - کلام غیب - اکاس بانی - فقرہ یا کلام عالمانہ - رہی - کشف - الہام
 Oracles, *n. pl.* The revelations of God : کلام غیب - دیوبانی - اکاس بانی
 Oracular, *a.* Authoritative ; obscure ; ambiguous ; مستند - مغلق - مبہم - بعید الفہم - سنجیدہ - گہرا
 Oral, *a.* Verbal ; of the mouth ; transmitted or promulgated in words : زبانی - تقریری
 Orally, *ad.* Verbally : تقریراً - زبانی - موندہ کا - موندہ ذرا
 Orange, *n.* A well-known fruit : نارنگی - سنگترا - رنگترا
 Orangery, *n.* A plantation of orange trees : نارنگی یا سنگترے کا باغ
 Orang-outang, *n.* The great ape : بڑا بندر - بن مانس
 Oration, *n.* A public speech : تقریر - وعظ - گفتار - کلام - بیان
 Orator, *n.* (*Fem.* Oratrix. Oratress), A public speaker ; a petitioner : واعظ - نصیح گو - سلیق - سخن آور - خوش تقریر
 Oratorical, *a.* Becoming an orator ; rhetorical : بلیغ - نصیح
 Syn.—Rhetorical, eloquent, flowery.
 Oratorio, *n.* A sacred musical drama ; a place of worship : ناک کا بھجن - عبادت گاہ - پوجا ستھن
 Oratory, *n.* The art of public speaking : فصاحت - خوش کلامی

- Orb, *n.* A sphere ; circle ; globe ; the eye ; planet or star ; period ; wheel : گولہ - گولا - دائرہ - حلقہ - چرخ - چکر - چشم - آنکھ - ستارہ - اختر - زمانہ دور - پہلیا - چاک
 Orbed, *a.* Round ; circular : گول - مدور
 Orbicular, *a.* Spherical : مستدیر - گول
 Orbit, *n.* The path described by a revolving planet : حدنہ - Cavity of the eye : * گردش کا راستہ - چشم
 Orchard, *n.* A garden of fruit trees : درختوں کا باغ - ثمرستان
 Orchestra, *n.* A place for the musicians ; the musicians : گانے بجانے والوں کے لئے جگہ - مطرب - خانہ - گانے بجانے والے - طایفہ سازندگان - روشن چوکی
 Orchestral, *a.* Pertaining to an orchestra : روشن چوکی کے متعلق
 Orchis, *n.* ثعلب مصری کا درخت
 Ordain, *v. t.* To regulate ; to constitute ; to appoint ; to invest with ministerial functions or priestly power : انتظام کرنا - باقاعدہ کرنا - معین کرنا - مقرر کرنا - مقرر کرنا - مذہبی عہدہ پر مقرر کرنا
 Ordeal, *n.* A trial by fire or water ; any severe test : آگ یا پانی سے صداقت کا امتحان - کوئی سخت آزمائش - دشوار تجربہ - مصیبت
 Order, *n.* Method : طریقہ - اصول - تنظیم
 Rule : * یکسانی - باقاعدگی - ضابطہ - Regularity : * حکم - ارشاد - امر - * Command : * قاعدہ - سرشتہ درجہ - * Rank : * فرمائش : Direction for purchase : * Tranquility : * دستور - طریقہ : Usage : * مرتبہ - منزلت * ترکیب - تدبیر : Measure : * امن - چین : * Fraternity : * قماش - وضع - * بھانت : Class : * حکم تائیدی - * Authoritative : * طایفہ - صورت روز of the day, * تاہ - اس واسطے - * In : * تاہ میں لینا - * To take : * مقررہ کا خاص کام باقاعدہ کرنا - * v. t. or i. To regulate ; to command ; to ordain : * انتظام کرنا - تدبیر کرنا حکم دینا - فرمانا - قائم کرنا
 Orderly, *n.* Regular ; obedient ; being on duty : باقاعدہ - بافریضہ - فرمانبردار - پابند فرض
 Orderly, *ad.* Methodically : باترتیب
 n. A soldier who attends on an officer : سردار - ہمراہی
 Ordinal, *a.* Denoting order : ترتیب ظاہر کرنے والا - * n. A book of rites : رسم و دستور - * numbers) اعداد توصیفی کی کتاب

Ordinance, n. A rule ; a law ; a rite : - قواعد
آئین - شرع - رسم - دستور (pl.) فرامین - فرایض - احکام

Ordinarily, ad. Usually : - عموماً - طور پر - معمولی اکثر

Ordinary, a. Regular ; usual ; common-place ; that which is in common use : - معمولی
عام - راجحی - جو سب کے کلم آوے - ایسا ویسا - ادنیٰ
Syn.—Common, usual, customary, habitual, settled, established.

Ant.—Uncommon, unusual, extraordinary, superior.

—, n. A thing in common use ; an eating house where a fixed price is charged for a meal : روز
مرے کے استعمال کی چیز - خورش گاہ جہاں ایک وقت کے کھانے کا دام بندھا ہوا ہے

Ordinate, a. Orderly ; methodical : - باقاعدہ
بترتیب

Ordination, n. The act of ordaining : - تعین - تقرر

Ordnance, n. Artillery ; great guns : - توپ خانہ - بڑی توپیں

Ordure, n. Dung ; filth : - ہواد - پانس - گوہر

Ore, n. A metal in its fossil state : - کچی دھات - فلز خام

Organ, n. An instrument of action : - آلہ حرکت
ارغوان باجا * A musical instrument : - نضر

Organic, a. Produced by organs : - عضوی

Organisation, n. The act of organising ; structure ; form : - ترتیب - ساخت - بناوت - ڈیل ڈول - شکل

Organise, v. t. To prepare : - تیار کرنا - بنانا
To arrange : - ترتیب دینا
To construct regularly : - قاعدہ سے بنانا
To arrange and put into operation : - انتظام کرنا - ترتیب دیکر قائم کرنا یا کھڑا کرنا

Organism, n. Organic structure : - ساخت - بناوت
زندہ مخلوق * Any living being : - ترتیب اعضا

Organist, n. One who plays on the organ : - ارغوان نواز - باجا بجانے والا

Orgasm, n. Eager action ; immoderate exoitement : - حرکت - جنبش - جوش - گرمی - فلبہ - جذبہ

Orgillous, a. Proud ; haughty : - مفرور - گھمنڈی

Orgy, n. Drunk revelry : - شراب خواری - بدہستی

Oriel, n. A projecting bay window : - دیرار سے نکلا ہوا دریچہ - بارجا - طاق - الا

Orient, a. Rising as the sun : - مشرق
روشن : - Lustrous * شرقی : - n. Eastern *
شرق - پورب : - n. The east : * تابان - ابدار - شعلہ رو

Oriental, a. Eastern : - شرقی - پوربی : - n. A native of the east : - باشندہ شرق - پورییا

Orientalism, n. An eastern mode of thought or speech : - مشرقی مہاورات

Orientalist, n. One versed in eastern language, etc. : - شرقی زبان وغیرہ سے واقف شخص

Oriente, v. i. To point eastward : - مشرق کی طرف رخ رکھنا

Orifice, n. An opening : - سوراخ - منغذ - دھن - چھید - منوہ

Origin, n. A beginning ; the spring ; source ; آغاز - شروع - ابتدا - منبع - نکاس - مخرج - جزر - اصل - بنیاد - بیخ - مبدا - سبب

Original, a. Primary ; fresh ; inventive : - اصلی - ذاتی - جگہی - ابتدائی - پہلا - قدم - تازہ - مستخرج - طبع زاد

Syn.—Primordial, pristine.

Ant.—Terminal.

—, n. Source ; first copy ; one who has new and striking idea : - منبع - آغاز - اصل - مسودہ - پہلی - کاپی - پیدا کرنے والا - ایجاد کنندہ

Originality, n. The quality of being original : - اصلیت - مادہ - نیا پن - نو ایجاد - طبع ذاتی

Originally, ad. Primarily ; at first : - ابتدا - شروع
میں - اولاً - پہلے - اصل میں - اصل و نسل سے

Originate, v. t. To bring into existence ; to produce : - ایجاد کرنا - نکالنا - اختراع کرنا - پیدا کرنا
شروع کرنا - نکالنا - وجود رکھنا : - v. i. To begin : - صادر ہونا

Origination, n. The act or mode of bringing into existence : - ابتدا - پیدائش - ایجاد

Originator, n. One who originates : - موجد - یازی - مخترع

Oriole, n. - پدلی چڑیا

Orion, n. A constellation : - ستاروں کا ایک مجمع

Orison, n. A prayer : - دعا - نماز

- Ormolu, n. (Fr.)** A composition of brass, zinc, and copper made to represent gold : اور - جستا اور - پینٹل کی مرکب دھات جو سونے کی نقل ہوتی ہے
- Ornament, n.** Jewellery ; decoration ; embellishment : - زینت - آریش - آریش - شوہا - بناؤ - منکار
- Ornamental, a.** Beautifying ; tending to adorn : - زیبائشی - خوشنما - آریشی - زینت بعض - زیبہ
- Ornamentation, n.** Decoration ; embellishment : - زینت - زیبائش
- Ornate, a.** Adorned ; beautiful : مزین - آراستہ کیا - عوا - خوبصورت - خوب مکاف
- Ornithology, n.** The science that treats of birds : علم طیور - علم پرند - پرندنامہ
- Orphan, n.** A child bereaved of parents : یتیم - لاوارث لڑکا - بے ماں باپ کا - مرہا
- Orphanage, n.** The state of an orphan : یتیمی *
An institution for orphans : یتیم خانہ
- Orpiment, n.** A yellow arsenic : ہرقال - زرنیخ
- Ort, n.** A fragment ; refuse : ٹکڑا - چھائیں - فضلہ
- Orthodox, a.** Sound in doctrine ; approved ; conventional : - راسخ الاعتقاد - سچا پسندیدہ - مستحسن - راست - صادق - درست - شرعی - رواجی
Ant.—Heretical.
- Orthodoxy, n.** Soundness of faith : - راسخ الاعتقادی - سچائی - مطابقت بہ شرع
- Orthoepist, n.** One who is well-skilled in pronunciation : علم قرات کا جاننے والا - تلفظ سے ماہر
- Orthoepy, n.** A correct pronunciation of words : علم قرات - ٹیڈیک تلفظ کرنا - صحت تلفظ - شدتہ اچارن
- Orthogon, n.** A rectangular figure : شکل - قائم الزاویہ
- Orthogonal, a.** Rectangular : قائم الزاویہ
- Orthographer, n.** One versed in orthography : صحیح املا لکھنے والا
- Orthographically, adv.** According to the rules of spelling : قاعدہ - رسم خط - املا یا تہجے کے قاعدوں کے مطابق
- Orthography, n.** The part of grammar which treats of letters and the right way of spelling words : قواعد کا وہ حصہ جس میں حروف اور تہجے یا املا کے صحیح قاعدے بیان کئے جاویں
- Ortive, a.** Rising ; eastern : - طالع ہوتے ہوئے - مشرقی
- Orotolan, n.** A European bird of the hunting family, esteemed as food : ایک قسم کی چھوٹی انگریزی چڑیا
- Oscillate, v. i.** To move backward and forward ; to swing ; to vibrate : آگے پیچھے حرکت کرتے رہنا (لنگن کی طرح) لہرانا - چھلنا - تھرتھرانا - ہلنا - پس و پیش کرنا - بدلتے رہنا - بے قیام ہونا
- Oscillation, n.** A swinging backward and forward ; vibration : چھلنے کی حرکت - لہر - تھر - تھراہٹ - حرکت ثاقولی
- Oscillatory, a.** Vibrating ; swinging : تھرتھراتے ہوئے - لہراتے ہوئے
- Oscitancy, n.** The act of gaping ; dulness ; yawning ; drowsiness : - جھانپنا - غوردگی - اونگھائی - سستی
- Osculant, a.** Kissing ; embracing : بوسہ لیتے ہوئے - چھلتے ہوئے
- Osculate, v. t.** To kiss ; to touch : بوسہ لینا - چومنا - ٹھوننا
- Osier, n.** A kind of willow used in basket making : ایک قسم کا بید جسکی ٹوکری بنی جاتی ہیں
- Osseous, a.** Bone ; like bone : ہڈی کا - استخوانی
- Ossicle, n.** A little bone : چھوٹی ہڈی
- Ossific, a.** Having power to ossify : ہڈی بنانے والا
- Ossify, v. t. or i.** To change to bone : ہڈی بن جانا
- Ossifrage, n.** The sea-eagle : سمندری عقاب
- Ossivorous, a.** Eating bones : ہڈی کھانے والا - استخوان خور
- Ostensible, a.** Apparent ; manifest ; pretended : کیلا - ظاہر - نمایشی - دکھائے جانے قابل
- Ostensive, a.** Tending to show ; exhibiting : ظاہر - نمایشی
- Ostentation, n.** Show ; pageantry ; parade ; pretentious parade : - ظاہر داری - دھوم دھام - تماشا - شان و شوکت - ٹیم - نام - ظاہری نمائش - خود ستائی
- Ostentatious, a.** Boastful ; fond of vain display : - بیخ باز - مغرور - منکبر - نمایشی - تمکنت آمیز - خود ستاؤ - فاقہ مست - کزی بانگا

Osteology, n. A description of the bones : یکان استخوان - تشریح عظام

Ostracise, v. t. To expel by a popular vote : خارج کرنا - شہر بدر کرنا

Ostracism, n. Banishment by popular votes on shells ; expulsion : جلاوطنی - اخراج - دیس نکالا - شہر بداری

Ostrich, n. A well-known large bird : شتر مرغ

Otalgia, n. Earache : درد گوش - کان کا درد

Other, a. Not the same ; opposite : دوسرا کوئی - حال میں - **The other day** * اور - غیر - برعکس
Somebody or— * کسی نہ کسی، **Something or—** * کچھ نہ کچھ، **The Somewhere or—** * کہیں نہ کہیں، **The others—** ، باقی

Otherwise, ad. In a different manner ; in other respects : دوسری طرح - اور طرح - بہ صورت غیر - اور معنی میں - ورنہ

Otiose, a. Being at rest ; idle : آرام میں - سست - بیمار - مجبور

Otter, n. An amphibious quadruped : اردبلاؤ - سنک آبی

Otto, n. A perfume : عطر

Ottoman, n. A Turk : ترکی - عثمان

Ouch, n. Socket of a precious stone ; a carcanet of gold : قیمتی کا گہر - سرنہری عاتق یا رنجیر

Ought, v. i. To be morally necessary ; to be bound in duty : ضروری ہرنا - فرض ہرنا - واجب شاید و **As it—** * ہرنا - چاہئے کہ - واجب - مناسب - باید - جیسا چاہئے

Ounce, n. A weight : آونس - ایک وزن قریب ڈھائی تولہ کے - آدھی چھٹائی

Ouphe, n. A goblin ; a fairy : بورت - زری

Our, a. Belonging to us : ہمارا - اپنا - ہم سبوں کا

Ourselves, pron. pl. We : ہم خود - ہم آپ - ہم

Oust, v. i. To eject ; to remove : بیدخل کرنا - کاشت یا **To—** * نکالنا قبضہ سے بے دخل کرنا

Ouster, n. Ejection : بے دخلی - اخراج

Out, ad. Away ; not at home ; completely ; in error ; at a loss ; not in employment ; discover-

ed ; not in concealment ; extinction ; not in office ; to the end (as : to sleep out the whole morning) without restraint (as : laught out) ; uncovered ; away (as : out with the dogs) ; motive (as : a thing is done out of envy) ; beyond ; باہر دور - بچر پر نہیں - بالکل - غلطی میں - حیران - معطل - بیکار - ظاہر - افشان - ناش - بے پردہ - ہرچکنا - اختتام - ہر طرف - معزول - نکالنا - اٹھنا - آخر تک - سارے - تمام - بلا مزاحمت - نکالا - بڑھنا - ناصاف

—and * پر - دور - غرض یا باعث سے پرے - بوت ہی —, completely : بالکل * —at elbows. —at heels, in very poor circumstances : نہایت اتر * —of, in consequence of : * Taken from : منجمدہ * بوجہ - بہ سبب * —of hand, immediately * فوراً * باہر * —of print, not available : * جو دستیاب نہ ہو سکے * —of sorts, unwell : * علیل * —of tune, discordant : * To be witty—of season, بے سزا - بے میل * —of question, * غیر مروج * —of date, * چھوڑنا * —of the common run, * جیسا ذکر تفصیل ہے * غیر معمول - طرفہ

Out, v. t. To expel : خارج کرنا * *int.* Be-gone ; off : ہجرت - باہر ہو - دور ہو

Outbalance, v. t. To outweigh : وزن میں زیادہ ہونا - بڑھانا

Outbid, v. t. To bid more : بڑھانا - زیادہ بولی بولنا - دوسرے سے زیادہ قیمت دینا

Outbreak, n. An eruption ; a disturbance : غصہ - متکلامہ - بارو

Outcast, n. One expelled : ذات باہر - برداری سے خارج - دیس سے خارج

Outcome, n. Consequence ; result : نتیجہ - حاصل

Outcry, n. A vehement cry ; clamour : دھڑائی - غل - غل - غل - شور - غل

Outdo, v. t. To surpass ; to excel : سبقت لینا - بڑھنا - کان کاٹنا - چمکے چھڑانا

Outdoor, a. Without the house ; exterior ; the open air : باہری - بیرونی - کھلے میں

Outdoors, ad. Abroad ; out of the house : باہر - گھر کے باہر

Outer, a. Exterior : باہری - بیرونی

Outermost, a. Farthest ; outward : سب سے باہر - سب سے دور

Outface, v. t. To resist by effrontery ; to brave :
مقابلہ کرنا - ہم چشمی کرنا - شرح چشمی سے دبا لینا -
شرمانا - منہ مار دینا

Outfit, n. Equipment for a voyage : سفر وغیرہ کا سامان - اسباب سفربراہی

Outgo, v. t. To outdo : آگے نکل جانا - بڑھجانا - سبقت لیجانا

Outgrow, v. t. To surpass in growing : زیادہ بڑھجانا - روکدنی میں سبقت لیجانا

Outgrowth, n. An excrescence : To * اُبھار - نکاس : نتیجہ result :

Out-house, n. An outbuilding : گھر سے باہر چورٹا مکان - شاگرد پیشہ کا مکان

Outing, n. Excursion : سیر - ہرا خوری

Outlandish, a. Foreign ; uncouth : بیگانہ - باہری - اجنبی - عجیب - افرکھا - گنرار

Outlast, v. t. To survive : زیادہ ٹھہرنا - زیادہ چلنا - بچ رہنا

Outlaw, n. A person excluded from the benefit of the law : وہ شخص جو حفاظت قانونی سے خارج ہو - باقی واجب القتل

Outlaw, v. t. To deprive of the protection of law : حفاظت قانونی سے خارج کرنا - قانون کی پناہ کا مستحق نہ رکھنا

Outlawry n. Act of depriving of the benefit of the law : اخراج از پناہ نائزون

Outlay, n. Expenditure : خرچ - صرفہ

Outlet, n. An exit : نکاس - مہرے - بدر - راہ - ستارج

Outline, n. A sketch ; contour : خانہ - نقشہ - باہر کا خط - حدود - گھیرا - چوکھٹا

Outlive, v. t. To survive : زیادہ جینا - زیادہ ٹھہرنا - بچنا

Outlook, n. Vigilance ; prospect : ہوشیاری - نگہبانی - خبرداری - دور اندیشی - امید

Outlying, a. Exterior ; detached on the frontier : بیرونی - دور بڑا ہوا - الگ - باہر - سرحدی - سرحد پر

Outmost, a. Furthest in the extremity : انتہا پر - سب سے دور

Outnumber, v. t. To exceed in number : شمار میں بڑھجانا آگے نکلنا

Outpace, v. t. To outgo : آگے نکلنا

Outpatient, n. A patient not residing in a hospital, but receiving medical advice, &c. from the institution : مریض جو شفاخانہ میں نہ رہے لیکن اسکا علاج شفاخانہ سے ہو

Outpost, n. A station at a distance from an army : لشکر سے دور یا بڑاڑ سے باہر - چوکی

Outpour, v. t. To pour out : اُندیلنا - تڑپا دینا کسی چیز کا

Outrage, v. t. or i. To treat with excessive abuse ; to violate : سخت سست کہنا - ازالہ بیکارت کرنا - بگاڑنا - پردہ دری کرنا - خراب کرنا - حرمت لینا - ستم

Outrage, n. Affront ; gross injury : بدعت - ظلم - ستم - جور - زیادتی - زنا بالجبر - سخت خلاف ورزی - حجاب - زیادتی - تشدد

Outrageous, a. Violent ; exorbitant ; wanton : سخت - شدید - تند - ظالمانہ

Outre, a. Strikingly odd : عجیب - نرالہ - افرکھا

Outreach, v. t. To reach beyond : آگے نکل جانا - بڑھجانا

Outride, v. t. To ride faster than : سواری میں آگے نکل جانا

Outright, ad. At once ; completely : فوراً - تووقف - بالکل - تمام - پورے طور سے

Outrival, v. t. To surpass in anything : سبقت لیجانا - نصیبت رکھنا

Outrun, v. t. To surpass in running ; to outstrip : تڑپنے میں آگے نکالجانا - بڑھجانا

Outset, n. Beginning ; opening : ابتدا - آغاز - شروع

Outshine, v. t. To excel in splendour : چارہ یا چارہ آؤ * v. i. To shine forth : روشن میں بڑھجانا ہونا

Outside, n. The exterior ; the utmost : باہر - حد - باہری

Outskirt, a. Border ; suburb : کنارہ - حد - واحد - سراج

Outspeak, v. t. To speak boldly : دلبراندہ بات کہنا

Outspread, v. t. To extend ; to expand : پھیلانا - کھولنا - پھیلانا

Outstand, v. i. To stand out ; to remain unpaid : * باہر نکلا ہوا ہونا - باقی رہنا - کھڑا ہونا

Outstand, v. t. To resist ; to stand beyond the proper time : روکنا - دتھا - زیادہ ٹھہرنا

Outstanding, a. Undischarged ; unpaid : غیر مردی - باقی - غیر وصولی

Outstretch, v. t. To spread out ; to extend : پھیلاتا - پھانتا

Outstrip, v. t. To outgo ; to leave behind : بڑھاتا - بڑھاتا

Outvalue, v. t. To transcend in value : قیمت میں بڑھاتا

Outvie, v. t. To excel ; to surpass ; to exceed : افضل ہونا - سبقت لینا - بڑھانا

Outvote, v. t. To conquer by plurality of votes : اکثریت رائے سے فتح پانا - زیادہ رائیں حاصل کرنا

Outward, a. Exterior ; public : *ad.* باہری - عام
Beyond ; away : باہر کی طرف - دور

Outwardly, ad. Externally : باہر - دیکھنے میں

Outwear, v. t. To wear out ; ; to outlast : گہرا - ڈالنا - زیادہ ٹہرنا

Outweigh, v. t. To exceed in weight or value : وزن یا قیمت میں زیادہ ہونا

Outwit, v. t. To defeat by superior craft : مات کرنا - مغارب کرنا - ہرا دینا

Outwork, v. t. To surpass in labour : زیادہ کام کرنا

Oval, a. Oblong : گول * *n.* A figure in the shape of an egg : شکل بیضوی

Ovarious, a. Consisting of eggs : اندونکا

Ovary, n. The part of the female animal in which eggs are lodged : اندے کا کونگا

Ovation, n. A lesser kind of triumph : ادنیٰ آس * An expression of popular applause : کلمہ عام تعریف - تہنیتیں - آفریں

Oven, n. An arched cell for baking, etc. : چولہا - تندر بھٹی

Over, prep. Across ; above ; beyond ; in spite of ; *ad.* * وار پار - اتر - بڑھکر - باوجود - اوپر
Crosswise ; throughout ; superfluously ; finished : آریار - ایک سرے سے دوسرے سرے تک - زیادہ * *a.* Upper ; past : گذشتہ * *and* - , repeatedly : بار بار - مکرر مکرر - دہرائی * *and* again, once more : پھر * *and* above, besides : علاوہ - ما-وائے * *head and ears*, completely : *head and ears* * *To give* - , to consider as

in a hopeless state : *To run* - , to overflow : بہہ نکالنا - ابل پڑنا * *All* - , in every part ; completely : ہر جگہ - ہر پر طرف سے

To throw - , to desert ; to betray : - کرنا * *It is all over with a person or thing*, means that the person or thing is ruined or undone : کام یا شخص یا چیز کا کام : * *or under*, * *To go* - , *To run* - ,

Overact, v. t. To act to excess : حد سے زیادہ کام کرنا

Overarch, v. t. To cover with an arch : مستجاب سے ڈھانکا * *v. i.* To hang over : لٹکا رہنا

Overawe, v. t. To awe exceedingly ; to terrify : بہت ڈرانا - خوف دلانا - دھشت دلانا

Overbalance, v. t. To weigh down ; to preponderate : بوجھان ہونا - وزن میں زیادہ ہونا - وزن کرنا

Overbear, v. t. To subdue ; to overcome ; to domineer over : مغلوب کرنا - زیر کرنا - دبانا

Overbearing, a. Haughty ; insolent ; subduing : متکبر - گھمنڈی - سرکش - زبر دست - دبانے والا - مدغم

Overboard, ad. Out of a vessel : جہاز یا کشتی کے جہاز سے گر پڑنا * *To fall* - , باہر

Overburden, v. t. To load to excess : بہت سا لاد دینا

Overcast, v. t. To darken ; to compute too high : چھپانا - اندھیرا کرنا - بہت زیادہ آنکنا

Overcharge, v. t. To load or charge to excess ; to exaggerate : زیادہ لادنا - زیادہ بوجھ دینا - مبالغہ * *n.* An excessive load ; an excessive charge : زیادہ بوجھ - زیادہ قیمت - زیادہ طالبی

Overcoat, n. A great coat : بڑا ٹوٹ جو سب کے اوپر پہنتے ہیں

Overcome, v. t. To surmount ; to conquer : شکست دینا - مغلوب کرنا - فتح کرنا - جیتنا - سر کرنا * *He that overcomes his passions overcomes his greatest enemies* : جیتنے والے اپنے سب سے بڑے دشمنوں کو جیت لیتا

Overdo, v. t. To do too much : زیادہ کرنا

- Overdose, n.** An excessive dose : زیادہ سے زیادہ اندازہ
معتاد
- Overdraw, v. t.** To draw orders beyond the credit ; to exaggerate : جس قدر روپیہ جمع ہو اوس سے زیادہ کی ہفتی کرنا یا نکالنا - جمع سے زیادہ وصول کرنا - مبالغہ کرنا - بڑھانا
- Overdue, a.** Past the time of payment : مقررہ وقت سے گزر چکا ہوا - جس کی ادائیگی کی ميعاد گزر گئی
- Over-eat, v. t.** To eat too much : بہت کچھ کھانا
- Overfill, v. t.** To fill to excess : خوب بھرنا یہاں تک کہ بہہ نکلے
- Overflow, v. t. or i.** To flow over ; to flood ; to overwhelm ; to abound : بہہ نکالنا - اماندا - چڑھنا - * n. An inundation ; a superabundance : طغیانی - مافوق - سیلاب - زیادتی - کثرت - افزونی - افراط - ریل پیل
- Overflowing, a.** Abundant ; copious : بہ کثرت - طغیانی - * n. An overflow ; exuberance : باز آمد - لبریزی
- Overgrow, v. i.** To cover with growth ; to grow beyond the natural size : چھانا - پھول جانا - بڑھ جانا
- Overhang, v. t. or i.** To hang over ; to jut over : لٹک پڑنا - نکل آنا
- Overhaul, v. t.** To inspect ; to overtake : ملاحظہ کرنا - جاچکنا - پہنچ جانا
- Overhead, a.** Above ; aloft : سر پر - اونچے پر
- Overhear, v. t.** To hear by accident : اتفاقی سن لینا - کان پر جانا - سن پانا
- Overjoy, v. t.** To transport with gladness : خوشی سے باغ باغ کرنا
- Overland, a.** Journeying by land ; راہ
- Overlay, v. t.** To lay too much upon ; to smother ; بہت لاد دینا - ڈھکنا - ڈھکنا - دبا مارنا
- Overleap, v. t.** To leap over ; to omit : قانک یا بھاند جانا - چھوڑ جانا
- Overload, v. t.** To load to excess : بہت زیادہ لادنا
- Overlook, v. t.** To supervise ; to examine : نگرانی * To view from a higher

- place : To neglect ; to excuse : چشم پوشی کرنا - معاف کرنا - طرح دینا - پھلوتہ کرنا - ہر گزر کرنا - اغماز کرنا * To pass by : زور غماض کرنا
- Overmatch, v. t.** To vanquish ; to subdue : مغلوب زبردست - * n. One superior in power : غالب
- Overlord, n.** A superior lord : آقا - مہیب
- Overmuch, a.** Too much : حد سے زیادہ
- Overnice, a.** Fastidious : تکی مزاج - باریک بین - نازک پسند
- Overnight, ad.** Last night : کل شام - رات بھر
- Over-officious, a.** Too ready to intermeddle : زیادہ دست انداز
- Overpay, v. t.** To pay too much : زیادہ دام دیدینا - معصت سے زیادہ دینا
- Overplus, n.** Surplus : بیشی - فاضل
- Overpower, v. t.** To vanquish ; to subdue : مغلوب کرنا - دباننا - زیر کرنا
- Overrate, v. t.** To value too highly : زیادہ دام لگانا بڑھانا
- Overreach, v. t.** To reach beyond ; to cheat : چڑھ جانا - فریب دینا
- Override, v. t.** To ride over ; to trample down : بہت سواری لینا - کچل ڈالنا
- Overrule, v. t.** To control by superior authority ; to abrogate ; to reject : تعسک کرنا - اپنے تعسک میں رکھنا - رد کرنا - باطل کرنا - نامعلوم کرنا - خارج کرنا
- Overruling, a.** Controlling : * An overruling providence : زلق - قادر - رب العلمین
- Overrun, v. t.** To run over ; to ravage ; to invade ; to go beyond ; to abuse : دوڑ جانا - پھیل جانا - اورتنا - تاخت و تاراج کرنا - کسی ملک پر چڑھائی * v. i. * کرے قبضہ کر لینا - آگے جانا - بیجا استعمال کرنا لبریز ہونا - زیادہ - زیادہ
- To overflow ; to be in excess : بہنا
- Oversee v. t.** To superintend : * نگرانی کرنا چھوڑ جانا - بے اتفاقی کرنا
- Overseer, n.** A supervisor : نگران - نگہبان - منتظم - داروغہ - اورسیر
- Overset, v. t. or i.** To upset ; to subvert ; to turn over : اولت دینا - زور و زجر کرنا - اونڈھانا - تہہ و بالا کرنا

Overshade, v. t. To render dark : - اندھیرا کرنا
ڈھانک لینا

Overshadow, v. t. To darken ; to shelter : اندھیرا
کرنا - حفاظت کرنا - سایہ کرنا - رعب اثر یا سایہ کے نیچے
لانا

Overshoot, v. t. To go beyond the mark ; to pass
swiftly over : نشانہ سے آگے نکل جانا - جلدی سے نکل
جانا

Oversight, n. Superintendence : * نگرانی - نگرانی
An omission : غلطی - سہر - چوک - بھول - غلطی
Syn. - Slip, error.
Ant. - Mark, notice.

Overskip, v. t. To skip over ; to neglect : بھاند
جانا - نورگذاشت کرنا - نظرانداز کرنا

Oversleep, v. t. To sleep too long : بہت زیادہ
سوجانا

Overspent, a. Wearied to excess : بہت تھکا ہوا

Overspread, v. t. To cover ; to scatter over :
ڈھانکنا - پھیل جانا - چھا جانا - مامور ہونا

Overstate, v. t. To exaggerate : مبالغہ کرنا - بڑھا کر
کہنا

Overstay, v. t. To stay beyond the limits of : حد
سے زیادہ ٹہرنا - غیر حاضر ہونا

Overstep, v. t. To exceed : حد سے آگے جانا - حد سے
باہر قدم رکھنا

Overstock, v. t. To fill too full : بہت زیادہ بھرنا -
ریز پیل کرنا - پائنا

Overstrain, v. t. To strain too much ; to exert
too excess : زیادہ کھینچنا - تاننا - کسی چیز پر زور دینا
یا کسی عضو سے کام لینا

Overtax, v. t. To tax too heavily : زیادہ مصروف لینا -
زیادہ کام لینا

Overt, a. Open ; public ; manifest : کھلا
ہوا - عام - ظاہر - عیاں - صریح - آشکارا

Ant. - Covert, secret, hidden.

Overtake, v. t. To come up with ; to discover ;
- to capture : پہنچ جانا - معلوم کرنا - جا گھیرنا - پکڑ لینا

Overtask, v. t. To impose too much work on :
بہت زیادہ کام لینا

Overthrow, v. t. To upset ; to defeat ; to de-
molish : اولت دینا - چت کرنا - ہٹک دینا - اوندھانا
n. * مغلوب کرنا - شکست دینا - برباد کرنا - غارت کرنا
Ruin ; downfall : بربادی - تباہی

Overtime, n. Time during which one works
beyond the regular hours : معمولی گھنٹوں سے زائد
وقت

Overtop, v. t. To rise above ; to tower above ; to
surpass ; to transgress ; to obscure : بلند ہونا - بڑھ
جانا - The soul overtops,
the body : روح بدن سے افضل ہے

Overture, n. An aperture : * سورج * An offer :
ابتدائی * An introductory piece of music : پیشہ
تجویز * A proposal ; a disclosure : درخواست - اعلان

Overturn, v. t. To subvert ; to conquer ; to de-
molish : اولت دینا - فتح کرنا - برباد کرنا

Overturn, n. Overthrow : شکست

Overvalue, v. t. To value excessively : بہت زیادہ
دام لگانا - حد سے زیادہ آنکنا

Overweening, a. Arrogant ; conceited : مغرور -
متکبر - گھمنٹی

Syn —Conceited, haughty, proud, arrogant,
vain, egotistical.

Overweigh, v. t. To overbalance : وزن میں زیادہ
ہونا

Overweight, n. Preponderance : زیادتی وزن

Overwhelm, v. t. To immerse ; to crush ; to
subdue : فرق کرنا - دبا دینا - مغلوب کرنا

Overwork, v. t. To tire excessively ; to decorate
all over : حد سے زیادہ محنت لینا - تھکا مارنا - سب
طرف سے سجانا

Overworn, a. Worn out ; spoiled by use : گھسا
ہوا - فرسودہ - سال خوردہ

Oviform, a. Egg-shaped : بیضی

Oviparous, a. Producing eggs : انڈا دینے والا

Owe, v. t. or i. To possess : قبض ہونا -
To be indebted to : قرض دار ہونا - دھرنا
ممنون ہونا - مشکور ہونا - احسانمند
ہونا

Owing, a. Due : * Ascribable ;
consequential : بہ وجہ - بہ سبب - بہ طفیل

Owl, n. A bird : بوم - اُلو - چغد

Owlet, n. A little owl : چھوٹا اُلو

Own, a. Belonging to ; peculiar : اپنا - ذاتی - خاص -
قبول کرنا - اقرار کرنا - To avow : * متصرص

To have a legal title to : مستحق ہونا - حق * ماننا
To—a fault, تصور کا اقرار کرنا * دار ہونا
 Syn.—Hold, possess, have.
 Ant.—Forfeit, lose, miss.
Owner, n. A rightful proprietor : مالک - حقدار
Ownership, n. Proprietorship : حق مالکانہ - حقیقت
Ox, n. A male of bovine quadrupeds : بیل - گاو
Oxygen, n. That elementary gaseous body which supports life and combustion : ایک عنصر ہوائی جو زندگی اور جلنے کا مددھی

Oxygon, n. A triangle, having three angles : مثلث سزازیہ
Oxymel, n. شکنجبین
Oyez, v. imperative. Hear ; attend : سنو - متوجہ ہو
Oyster, n. A shell-fish : سیپ - صدف - گوہرنگیا - کستورا مسچھلی
Ozæna, n. A fetid ulcer in the nostril : ناکڑا - پینس - ناک کی بیماری

P

Pabulum n. Aliment ; food ; support ; fuel : کھانا - خوراک - غذا - ایندھن
Pace, n. A step ; walk : قدم - روش - رفتار - رھوار
 Measure of five feet : **To** پانچ فٹ کا پیمانہ
keep—with, to go as fast as : برابر چلنا - ہمقدم ہونا
Pace, v. t. or i. To walk slowly ; to move by paces ; to go : آہستہ آہستہ چلنا - خرام کرنا - ٹپٹنا - چلنا
Pacha, Pashaw, n. A Turkish viceroy or governor : پاشا - ترکی حاکم
Pacific, a. Conciliatory ; mild ; calm : صلح کن -
Ocean, * ملائی - حلیم - ساکن - استبر - ٹھہرا ہوا بحر الکاہل
Pacification, n. The act of making peace ; reconciliation : صلح - مصالحت - میل - ملاپ
Pacificatory, a. Tending to make peace : صلح آمیز - میل ملاپکا
Pacify, v. t. To appease ; to tranquillize ; to quiet : تسکین دینا - ٹھنڈا کرنا - دھیرج دینا - آسائش کرنا
 دیٹا - فرو کرنا - روکنا
Pack, n. A bundle ; a bale : بقیچہ - ٹھیری - بستہ -
 A set of playing cards : * تاش - گنجیفہ
 Confederation : * جماعت
 A number of hounds : شکاری
To— bind up ; to crowd into ; to plot ; to load ; to depart in haste : ٹھہری یا بقیچہ باندھنا - جکڑنا - کسنا - باندھا - مجتمع کرنا -
To— cards, سازش کرنا - لادنا - روانہ کرنا - چادینا
 نکال دینا - بے عزتی
To send—ing, * گنجیفہ ملانا
 بندھنا پوریا سپہاند
To—off, * سے نکالنا

Package, n. A bale ; a parcel : بقیچہ - ٹھیری - پلندہ - پارسل
Packer, n. One who packs goods : مال کو ڈانڈھنے والا
Packet, n. A small bundle : * ٹھیری - خریماہ - قاک کا جہاز
Packhorse, n. A house of burden : لدو ڈورڈا
Packman, n. A peddler : بساطی
Packthread, n. Twine for binding packs : ستلی - تورپی - بندھن - تواین
Fact, n. A covenant ; a league : عہد و پیمانہ - قول و قرار - بندش
Pad, n. A robber that infests the road on foot : ڈبی یا چار
 * A soft cushion or saddle : رھزن - ہمار
 * A block of blotting paper : چاند کاغذ کی جامہ
To— stuff : * v. t. To stuff : پور دینا
Paddle, v. i. To play in water ; to dabble in water with the hands or the feet ; to touch with the fingers ; to row ; to move in the water as a duck does : * پانی میں کھیلنا - ہاتھ پانر مارنا -
To— one's own cause, to mind one's own business : * چورنا - چپور چلانا - بطن سا پانی میں سرکنا
 قانڑ - پتوار
n. An oar : * اپنا دم دیکھنا
Paddock, n. A small inclosure for pasture : مینڈھہ
 * A toad or frog : دھان
Paddy, n. Rice in the husk : قفل
Padlock, n. A lock for a staple : قتم کی گیت - خروشی
Pæan, n. A song of triumph : کراک

Pagan, n. A heathen : کانز - بت پرست
Paganism, n. Heathenism ; idolatory : نفر - شری - بت پرستی
Page, n. A boy attending a person of high degree : * One side of a leaf : * خلس بردار - خدمت کار - نلام : صفحہ
Page, v. t. To mark the pages of : صفحہ لگانا
Pageant, n. (Pronounced *Paɪ'ent*) A splendid show ; a spectacle : نمائش - تماشا
Pageantry, n. Show ; pomp : نمائش - دھوم دھام - ہشمت
Pagoda, n. A Buddhist idol and temple : بردھہ مذہب والونکی مورت و مندر
Pail, n. A vessel for carrying liquids : سپو - گھوڑا : سارچہ قبول
Pain, n. An uneasy sensation ; bodily distress ; disquietude ; penalty : درد - دکھ - جسمانی تکلیف - **v. t.** To torture ; to distress : تکلیف دینا - اذیت دینا - دکھ دینا - رنجیدہ کرنا
Painful, a. Full of pain ; difficult : پر درد - غم آردہ - مشکل - دشوار
Syn.—Tormenting, torturing, agonizing, excruciating.
Painstaking, a. Industrious ; diligent : معنتی - جفاکش - تن دہ
Paint, v. t. To cover with colours ; to delineate : * رنگنا - رنگ آمیزی کرنا - تصویر اوتارنا : نقشہ بنانا
v. i. To practise painting : رنگ سازی کرنا - تصویر : رنگ - روغن
n. A pigment : * کھینچنا
Painter, n. One who paints : رنگ ساز - مصور - نقاش - چتر کار
Painting, n. To act of laying on colours ; a picture : رنگ آمیزی - نقاشی - تصویر
Pair, n. Two of a sort ; a set ; a couple : ایک طرح : **v. t.** or **i.** To couple ; to fit to form a pair of : جفت کرنا - تھیک ہرنا - جوڑا ملانا
Palace, n. A royal residence ; a splendid building ; a stately mansion : محل شاہی - کاخ - قصر - اندر - عالی شان عمارت - دولت سرا
Paladin, n. A knight-errant ; an eminent hero : نامی بہادر - مرد شجاع

Palanquin, n. A kind of covered carriage borne on the shoulders : پالکی - ٹالکی
Palatable, a. Agreeable to the taste ; savoury : لذیذ - مزہ دار - خوش ذائقہ - سواد کا
Palatal, a. Of palate : **n.** A letter uttered by the aid of the palate : وہ حرف جو تالو سے بولا جاوے
Palate, n. The roof of the mouth : **Liking ;** پسند - شوق - فطرت
intellectual taste : * **Palatial, a.** Pertaining to a palace : متعلق
Holding office in the king's palace : شاہی
Royal ; magnificent : * **Royal ; magnificent :** شاہی - عالی شان
Palatinate, n. The province of a palatine : صاحب عدالت کا علاقہ
Palatine, n. A person invested with royal privileges : شاہی اختیار رکھنے والا شخص
Palaver, n. Idle talk ; flattery : بیوردہ گوئی - فضول گوئی - بکراہ - خواہش - چاہاوسی
Pale, a. Pallid ; not ruddy ; wan ; dim : زرد - ہواشیاں
To grow— * **To grow—** بڑھنا - بڑھنا
n. A picket ; a fence ; an inclosure ; a district : **v. t.** To inclose with pales ; to encompass : کھینچنا لگانا
Pale, v. i. To turn pale : زرد ہونا - پیلا ہونا - مدہم پڑنا
Paleness, n. Warmness ; lack of lustre : زردی - پیلا پن - مودنی - دھندلاہٹ - بے رونگی - بھیکا پن
Paleology, n. A treatise on antiquities : کتاب جسمیں قدیم باتوں کا ذکر ہو
Palindrome, n. A word, verse or sentence that reads the same either backward or forward : لفظ یا بیت یا جملہ جو الٹا سیدھا یکساں پڑے جاوے - جیسے Madam
Palfrey, n. A saddle horse ; a small lady's horse : سواری کا گھوڑا - عورتوں کا چھوٹا گھوڑا - تندر - ٹانگن
Paling, n. An inclosure : احاطہ - گھیرا - گھرا
Palisade, n. A fortification of pales : کھینچنا ہندی
v. t. To surround with palisades : * **v. t.** To surround with palisades : نوکرار لکڑیوں کی سرچہ بندی
Pall, n. A cloak : سیاہ کپڑا * **A black cloth** thrown over a coffin at a funeral : **v. t.** or **i.** To weaken ; to become tasteless : ضعیف کرنا - کمزور کرنا - بیدار ہونا

- Palladium, n.** A statue of Pallas ; a safeguard :
 حفاظت - پناہ - مررت - کی پیلاس * A kind of metal :
 ایک قسم کی دھات
- Pallet, n.** A small poor bed :
 چھوٹی غریبانہ
 گھٹیا یا بھالی و ہرال کا بستر
- Palliasse, n.** An under mattress of straw :
 بوسا
 ہوا ہوا بستر - بوس بھری توشک
- Palliate, v. t.** To cover ; to extenuate ; to abate :
 ڈھکنا - گھٹانا - تخفیف کرنا - کم کرنا - ہلکا کرنا
 Syn.—Cover, cloak, hide, extenuate.
- Palliation, n.** Excuse ; mitigation :
 معذرت - پردہ
 پوشی - تخفیف
- Palliative, a.** Mitigating ; extenuating :
 تسکین
 n. That which
 تخفیف کرنے والا - گھٹانے والا - معصف :
 مسکن
- Pallid, a.** Not bright ; wan :
 دھندلا - زرد -
 بد رنگ - پژمردہ
 Syn. - Wan, ashy, colorless, pale.
- Pallidity, n.** Paleness ; wanness :
 پھلا پن - زردی -
 پھیلا پن
- Palm, n.** The inner part of the hand :
 کف دست -
 درخت خرما - تاز کا درخت - بھجور کا :
 فتح - حکومت - غلبہ :
 * A tree :
 * Victory ; supremacy :
 * درخت
- Palm, v. t.** To strike ; to juggle ; to handle ; to
 لگانا - مارنا - مٹھی میں چھپانا -
 impose by fraud :
 چھوڑنا - فریب دینا - دھوکے سے گئے مڑھنا
- Palmated, a.** Having the shape of the hand ;
 ہتھیلی کی طرح کا - چھلی دار
 entirely webbed :
- Palmer, n.** A crusader :
 چھادی
- Palmister, n.** A fortune-teller :
 ہاتھ دیکھنے کا نوشتہ
 تقدیر بتلانے والا - سامانہ کی - رسال
- Palmistry, n.** Fortune-telling by the palm :
 سامانہ کی - ہاتھ کی لکیروں سے نوشتہ تقدیر بتلانا علم
- Palmy, a.** Bearing palms :
 بھجور کے درختوں سے
 فیروزمنہ - سر - یز - تر و
 * Prosperous :
 * بھرا ہوا
 تازہ
- Palpable, a.** Perceptible by the touch ; plain ;
 قابل لمس - جو چھونے سے معلوم ہو سکے - صاف -
 صریح - ظاہر - سخت - شدید
- Palpitant, a.** Throbbing :
 دھڑکتا ہوا - تڑپتا ہوا
- Palpitate, v. i.** To throb ; to flutter ; to pulsate
 violently :
 دھڑکتا - تڑپتا - پھونکتا - تپکتا
- Palpitation, n.** A throbbing :
 دھڑھڑاہٹ - دلکی
 حوکت - دھکدھکی
- Palsied, a.** Paralytic :
- Palsy, n.** Paralysis :
 رعشہ - فالج -
 v. t. To
 paralyse :
 لغو مارا جانا - ذلج کرنا
- Palter, v. i.** To shift ; to tamper with ; to equi-
 vocate :
 بدانا - دست انداز ہونا - ہاتھ ڈالنا - فرمینی
 پرانا
- Paltriness, n.** Meanness :
 کمینہ پن - حقارت
- Paltry, a.** Mean ; contemptible ; worthless ;
 کمینہ - حقیر - ناچیز - بے قدر - لایعنی
 insignificant :
 Syn.—Little, insignificant, petty, trivial, trif-
 ling.
 Ant.—Noble, worthy, magnificent.
- Pam, n.** The knave of clubs :
 تالش میں پان کا غلام
- Pamper, v. t.** To feed luxuriously :
 خوب کھلانا -
 ناز و
 * To indulge to excess :
 چھکا دینا
 نعمت سے پرانا
- Pampered, a.** Overfed ; luxuriant :
 اٹھایا ہوا -
 سیر - شہر مس - کثرت سے - بہت زیادہ - بہ افراط - ہرا
 بھرا - خوب لڑ و تازہ
- Pamphlet, n.** A small printed book consisting of
 sheets merely stitched together ; a brochure :
 رسالہ - کم حجم کی کتاب - چوہتی
- Pamphleteer, n.** A writer of pamphlets :
 رسالہ نویس
- Pan, n.** A broad shallow vessel :
 * کڑھی :
 The part
 of a flintlock :
 * بندوق کا پیالہ :
 the cranium :
 کامہ سر - کھریزی
- Panacea, (Pronounced Pan-a-sia) ; n.** A cure-
 all ; a universal medicine :
 اکسیر اعظم - کف بیماریوں
 کو اچھا کرنے والی دوا
- Pancake, n.** A thin cake of flour, etc., fried in
 پوری - ٹکیا - مال پورا - لوچھی
 pan :
- Pancreatic, a.** Athletic :
 کشتی کے فن کا - ارستادی
 کا - پہلوانی کا
- Pancreas, (Pronounced Pan-kre-as) n.** The
 sweet-bread ; a fleshy gland of the body :
 روٹی - لہلہا - غدود

Pandemonium, n. The great hall of demons :

بھوت خانہ - شیطان کا گھر

Pander, n. A procurer : - ہتھوڑا - ساق -

قالتیان - قزم ساق - ہتھوڑا : * *v. t. or i.* To minister to the evil desires of others :

قالتیانی کرنا - قزم ساقی کرنا

Pane, n. A sheet of glass ; square in a pattern :

شیشہ کی تختی - شیشہ مربع

Panegyric, n. A laudatory discourse ; an eulogy :

مدح آمیز کلام - تعبیہ

Panegyriser, v. t. To eulogise :

تعریف کرنا - مدح کرنا - توصیف کرنا

Panel, n. A compartment of a wainscot :

کوزا کا * *v. t.* A roll of jurors : اہل جوری

To form with panels : کوزا میں دلہا لگانا

Pang, n. Agony ; a throe : - درد - دکھ -

تکلیف - درد - سہکرات الموت - جائگندنی - نزع

Syn. - Agony, anguish, distress.

Ant. - Delight, pleasure, enjoyment.

Panic, n. A sudden fright without cause :

بے سبب ناگہانی - خوف - ہرل - ہیبت - دھل

Panicle, n. The soft woolly beard of plants :

بیل - لٹر

Pannier, n. A wicker basket to be carried on a horse's back :

توکرا - کھانچا

Panoply, n. Complete armour :

پورے جسم کی زبردہ - ہتھیار

Panorama, n. A complete view ; painting of extensive scenes unrolled before the spectators :

پورا منظر - بہت سے مناظر کی بڑی مدور تصویر

Pansy, n. A kind of violet ; heart's-ease :

ایک قسم کا پنبوشہ - ایک قسم کا سرس - گل دل آرام

Pant, v. i. To gasp ; to desire earnestly :

ہانپنا - تڑپنا - تڑپنا - تڑپنا

n. A gasp ; palpitation :

دھڑک - دل کی حرکت

Pantaloon, n. A buffoon :

* بھانڈو - نوال - مسخرا : *pl.* Trousers :

پانچھامہ - پتلون

Pantheism, n. The doctrine that the universe is God :

عقیدہ جسیبن دنیا کو خدا مانتے ہیں - وہہ اوست

یا وحدت وجود

Pantheist, n. One who holds pantheism :

اس عقیدہ کا معتقد کہ تمام دنیا خدا ہے

Pantheon, n. A temple in Rome dedicated to all the gods :

سب مسالہکا گھر - جہ میں بنا تھا

Panther, n. A spotted wild beast : - تیندرا - ہرز - پلنگ

Pantler, n. A servant in charge of the pantry :

بھنڈاری

Pantograph, n. An instrument to copy maps, etc. :

نقشہ جات کی نقل کرنے والا

Pantomime, n. A scene in dumb show ; one who acts his part by gesticulations only :

بلا گفتار کا سوانک - نقل میں جز اشاروں سے مطالب ظاہر

کرے - گولگولگی نقل - گولگولگی نقل کرنے والا

Pantry, n. An apartment for provisions :

بھنڈار - مردی خانہ - نعمت خانہ

Pap, n. A teat : * *A soft food for infants :*

پھونکا مالیم کھانا - لپسی - دودھی

Papa, n. Father :

پاپا - ابا - والد

Papacy, n. The office and dignity of the Pope :

پوپ یعنی روم کے سردار پاپائی کا عہدہ

Papal, a. Relating to the Pope :

پوپ کے متعلق

Paper, n. A thin substance for writing on or for printing on ; a document ; a newspaper ; bills for exchange, etc. :

کاغذ - فرطاس - دستاویز - * اخبار - ہتھی وغیرہ

— * ٹھپ - تھسک — **credit** - * اخبار - ہتھی وغیرہ

کاغذ *v. t.* To cover with paper : * *v. t.* To cover with paper :

weight, * *v. t.* To cover with paper : * *v. t.* To cover with paper :

سے مرھنا - کاغذ چڑھانا

Papist, n. An adherent of the Church of Rome :

روم کے گرجے کا پیرو

Papulous, a. Full of pimples : - پھنسی سے بھرا ہوا

مہاے سے بھرا ہوا

Par, n. State of equality ; equal value :

برابری - * بڑھا - * **Above** - * مساوات قیمت

— **Below** - * برابر, * **On a** - * کتھی - کھاتے سے

To be at - برابر ہونا

Parable, n. An allegory ; a similitude ; a thing darkly or figuratively expressed ; proverb :

مثال - نظیر - تشابہ - معہہ - کہاوٹ - مثل

Parabola, n. A conic section :

شکل قریب البصوری

Paracentric, a. Deviating from circularity :

داغہ سے متجاوز - جو گول نہر

Parachute, n. A thing like a large umbrella which enables a person, by its resistance to the air, to drop down safely from a balloon :

خبارے سے اترنے کی چھتر

Paraclete, n. An advocate ; a comforter ; the Holy Spirit : حامی - تسلی بخش - روح القدس

Parade, n. Display ; military order ; a place for military display : - نمائش - دھرم دھام - تماشاہ - * چارس - صف آرائی - قواعد - قواعد کا میدان - پریڈہ v. t. or i. To show off ; a marshal in military order ; to walk as if for show : شان و شوکت دکھاتے - پھرنا - صف آرائی کرنا - نمائش سے یا نزاکت سے چلنا - قواعد کرنا

Paradigm, n. A pattern ; an example : - نمونہ - مثال - نظیر - تمثیل

Paradise, n. The garden of Eden ; a place of bliss : باغ عدن - بہشت - فردوس - جنت - خلد - سرگ

Paradox, n. A proposition seemingly absurd, yet true in fact : وہ بات جو دیکھنے میں باطل معلوم ہو مگر حقیقت میں حق ہو - بظاہر الٹی یا خلاف قیاس بات (لیکن در اصل صحیح)

Paradoxical, a. Having the nature of a paradox : جو دیکھنے میں باطل اور اصل میں حق ہو - خلاف قیاس - بعیدالاعتدال

Paragoge, n. The addition of a letter to the end of a word : لفظ کے اخیر میں کسی حرف کا وصل

Paragon, n. A perfect model of excellence : عمدگی کا نمونہ - بے نظیری کی مثال - نظیر کامل (حسن) v. t. To rival ; to serve as a model for ; to surpass ; to compare : کسی کے ہمسر یا ہم چٹم ہونا - کسی کے لئے نمونہ ہونا - کسی پر سبقت لے جانا یا فوق رکھنا

Paragraph, n. A mark of reference ; a short passage : نشان دفعہ - تقوہ

Parallel, a. Side by side ; equally extended and distant ; like ; similar : پہلو بہ پہلو - برابر فاصلہ پر - n. A line which at all points is equidistant from another line : خطا متوازی - عرض بلد کا نشان - سماںاتر * Likeness ; a comparison made ; counterpart : v. t. To correspond to ; to make equal to : برابر کرنا - مساوی کرنا

Parallelism, n. Compassion : - ہمدردی - مساوات - طابقت

Parallelogram, n. A right-angled quadrilateral

figure having its opposite sides equal and parallel : متوازی الاضلاع

Paralogism, n. A reasoning which is contrary to logical rules : باطل - حجت بے اصل

Paralogy, n. An act of false reasoning : دلیل جعلی

Paralyse, v. t. To affect with palsy ; to weaken action : لہو مار جانا - فالج کرنا - سست کرنا

Paralysis, n. The loss of voluntary motion or feeling ; palsy : حس و حرکت کا زوال - لہو - فالج - رعشہ

Paralytic, a. Affected with palsy : معوج - لہو * n. One affected with paralysis : مفارج شخص

Paramatta, n. A cloth of wool and cotton : سورت اور ازن ملا ہوا کپڑا - پرمٹا

Paramount, a. Superior to all others : مقدم - Lord—, * بلند مرتبہ - شان والا * اعلیٰ مہاراجہ انہیراج * The—power, * پادشاہہ Syn.—Principal, chief, supreme, pre-eminent. Ant.—Inferior, minor, subordinate.

Paramour, n. A lover ; a mistress : عاشق - معشوق - یار - آشنا

Parapet, n. A wall breast high : سینہ تک اونچی دیوار - مورچہ - فصیل - کمر گرتہ - سینا پناہ

Paraphernalia, n. pl. Apparel and ornaments ; that which bride brings over and above her dowry : زیور و اسباب - ساز و سامان - چھینزی مال - دستری - دھن

Paraphrase, n. A copious explanation ; a free interpretation : دوسری عبارت میں تفصیل یا شرح تفصیلی بیان - متصل ترجمہ - نظم کو ٹیپ ٹر بنانا

Paraphrase, v. t. or i. To interpret or translate freely and amply : تفصیل سے ترجمہ کرنا یا بیان کرنا - نظم کو ٹیپ ٹر بنانا

Parasite, n. A hanger-on ; a sycophant : بچھلگو - خوش آمدی - چاہارس - خوشامدی ٹر - تکر * A climbing plant growing on another : ایک قسم کی بیل یا لتا

Parasitic, a. Fawning : Growing on another * دوسرے پتے پر پیدا ہونے والا پودا

Parasol, n. A small umbrella used by ladies :

میںم لوگوں کی چھتری چھتری

Parboil, v. t. To boil in part : ادہ - نیم جوش کرنا - ادہ

کچرا پکانا

Parcel, n. A portion : حصہ * A lot : ڈھیر - حصہ

Any mass : ٹودہ * A bundle ; a packet :

v. t. To divide into

حصہ کرنا - بانٹنا - تقسیم کرنا

Parcenary, n. Co-heirship : شرکت از روے وراثت

Parcener, n. A co-heir : ہم ورثہ - ہم میراث

پتی دار

Parch, v. t. or i. To burn the surface of ; to

scorch ; to dry up : جھلسنا - بھون جانا - خشک کرنا

بریاں کرنا

Parchment, n. The skin of sheep or goats dress-

ed for writing on : اٹھنے کے لئے کمایا ہوا چمڑا -

جھالی کا کاغذ

Pardon, n. Remission of punishment ; forgive-

ness : معافہ معافی * I beg your—

* کیجئے میں سمجھا نہیں - میں نے اچھی طرح سنا نہیں

مجھے معاف کیجئے - بے ادبی معاف - میں آپ

—me, گستاخی, this freedom * سے اتفاق نہیں کر سکتا

v. t. To remit ; to

forgive : بخشنا - معاف کرنا - در گذر کرنا

Syn.—Absolve, excuse, acquit.

Pardonable, a. Excusable : قابل معافی - معاف

ہونیکے لائق

Pardoner, n. One who pardons : خطا بخش

معاف کرنے والا - آمرگذار - غفار - بخشندہ

Pare, v. t. To cut off little by little ; to trim :

کاٹنا - To—the nails,

ناخنوں کاٹنا یا تراشنا

Parent, n. A father or mother : ماں یا باپ

ذاتی - مرجد - Course ; source : والدین - ماں باپ

چشمہ - مندرج

Parentage, n. Extraction ; birth : اصل - نصب

نسل - تزاہ - ولادت

Parental, a. Pertaining to or becoming parents ;

affectionate : متعلق بہ والدین - شفیق

Parenthesis, n. A sentence or part of a sentence

inserted in the midst of another sentence ; (pl.

Parentheses) marks () used to mark off a

جملہ معترضہ - جملہ معترضہ کی () parenthesis

بہ علامت

Parer, n. An instrument for paring :- تروانے کا آلہ

تروانے والا

Parget, n. Plaster : استر - پلستر - استر کاری - قلعہ

Pariah, n. One belonging to lowest caste in

India ; an outcaste : ہندوستان میں نیچے قوم کا

شخص - برادری سے خارج

Paring, n. A piece clipped off : کٹرن - چھلکا

ترواش - چھلک

Parish, n. An ecclesiastical division of a town or

country under a Christian minister : پارادری کا

پارادری کے : a. Belonging to a parish * علاقہ - پستی

علاقہ کے متعلق

Parishioner, n. One who belongs to a parish :

پارادری کے علاقہ کا شخص

Parity, n. Equality ; analogy : برادری - یکسانی

مشابہت - مشابہت

Park, n. A piece of inclosed ground : احاطہ

بھاری * The train of heavy artillery : رگما - گھبرا

توپ خانہ

Parlance, n. Conversation ; idiom : گفتگو - بات

چیت - مکالمہ - معاورہ

Parley, n. Mutual conversation ; a conference :

v. t. * مکالمہ باہمی : بات چیت کرنا - مشورہ - مصالحت

To speak with another ; to discuss orally :

گفتگو : کرنا - بات چیت کرنا - مشورہ کرنا - ذہنی بحث کرنا

سوال و جواب کرنا

Parliament, n. The grand legislative council of

the United Kingdom of Great Britain and

Ireland : پارلیمنٹ گریٹ برٹن - اور آئر لینڈ کے امور

ملکی اور توضیح قوانین کی اعلیٰ مجلس - امرا و اراکین

ملک و دگلدایہ کی سب سے اعلیٰ مجلس

Parlour, n. The ordinary sitting room in a family

house ; a room for receiving guests in . بیٹھک

نشست گاہ - گول کمرہ - لائنات کا کمرہ

Parody, n. A writing in which the words and

thoughts of an author are copied and burlesqued :

اسطرح کی تضمین جس میں مصنف کے معنی دوسری طرف

تضمین و نقل کرنا * v. t. To copy and burlesque :

پور جاوں

Parole, n. A word ; oral declaration ; a verbal

promise ; a promise or word of honor (to return

to custody) : کلام - لفظ - ذہنی بات چیت - رہائی اقرار

* A military

pass word : (حراست میں پور اہانیکا)

لفظ جس سے فوج والے اپنے آہیونکو جانے

ذہانی

**Paronomasia, } n. A pun or play upon words
Paronomasy, }**
of similar sound but different meaning : **فو معنی**
الفاظ

**Parexysm, n. A violent fit of pain ; any sudden
and violent action :** درد کا غلبہ - دورہ - جوش -
زور - تشنج - مزور

Parrakeet, n. A small species of parrot : گونیاں

Parricide, n. The murder of a parent : ماں یا باپ
کا قتل - پدر کشی

Parrot, n. A well-known bird : طاوٹا - سرا - سگا

**Parry, v. t. To prevent ; to shift of ; to evade ; to
turn aside :** روکنا - بچانا - دور کرنا - ڈال دینا -
کٹرانا

**Parse, v. t. To name the parts of speech and show
their relations in a sentence :** ترکیب لکھنے کے
کرنا

**Parsee, n. One of the adherents of the ancient
Persians living in various parts of India ; a
fire-shipper :** پارسی - آتش پرست

Parsimonious, a. Frugal ; saving ; miserly :
کفایت شعار - جز رس - کم خرچ - بخیل - کنجوس

Syn.—Avaricious, covetous, niggardly.

Ant.—Profuse, self-sacrificing, liberal.

Parsimony, n. Economy ; frugality : جز رسی -
کفایت شعاری

Parsley, n. A common potherb : کرنس - اجود

Parsnip, n. A plant and its edible root : گاجر -
چتندر

Parson, n. A clergyman : پادری

**Parsonage, n. The house of the minister of a
parish :** پادری کا مکان

**Part, n. A fragment ; share ; interest ; party ;
business :** جز - ٹکڑا - حصہ - رقم - تعلق - رکن

For the most—, commonly : * **In—, in some degree ; partly :**
* کچھ * **and parcel, an essential portion :**
* **of speech, (Gram.) the class ; of a word**

with regard to its meaning and connection in the
sentence : **To play one's—well,** * **To take in good—**
* **For my** مستحسن, * **To take in**
* **To take in** احسن یا بہلا سمجھنا - اچھا سمجھنا

**ill—, برا ماننا * To take—, کرنا * In
good—, اچھ یا دوستانہ طور سے, pl. Quali-
ties : اقالیم - ممالک**

**Part, v. t. or i. To divide ; to distribute : تقسیم
* To disunite ; to
separate : جدا کرنا * To take leave :
چھوڑنا - تیاگنا * To—with, جدا کرنا**

**Partake, v. t. To take share with ; to participate:
حصہ دار ہونا - شریک ہونا - شامل ہونا**

Parterre, n. Beds of flowers ; the pit of theatre :
پھول بچھتہ - بغیچہ - چمن - سبزخوار - پہاڑی -
چرک

Partial, a. Affecting a part only ; not universal :
* **راغب - مائل - طرفدار * Biassed** * **جزوی - کہیں کہیں**

Partiality, n. Undue bias : - **جانب داری - طرفداری -**
میلن

Partially, ad. In part ; with undue bias : - **جزویاً -**
تھوڑا - جانب داری سے

Partable, a. Divisible : قابل جدا ہونے کے

Participant, a. Sharing : شریک - حصہ دار
حصہ دار - شریک - **n. A sharer :** * **ساجھی**

Participate, v. t. To partake : - **حصہ دار ہونا -**
شریک ہونا

**Participation, n. The act of sharing ; distribu-
tion :** حصہ داری - شریکت - تقسیم - بٹوارہ

**Participle, n. A word partaking of the proper-
ties of a noun, an adjective and a verb :** لفظ
Present * **نصل اور صفت دونوں کی خاصیت رکھتا ہے**
* **ماضی مطعونہ** * **Perfect—, اسم حالانہ**

Active—, اسم مفعول * **Passive—, اسم فاعل**

Particle, n. An atom ; a very small portion : جز
لا یتجزئی - ذرہ - ریزہ - ٹک براٹر چیز

**Particular, a. Pertaining to a single person or
thing ; individual ; singular ; precise ; nice :**
خاص - منحصر - علیحدہ - مفرد - عجیب - نرالا -
علل خصوص - **In—, * ٹھیک - مقرر - عمدہ - نادر**
خصوصاً

Syn.—Minute, individual, respective.

Ant.—General, rouch.

Particular, n. A single point - امر * خاص بات
* **An individual :** **pl. Details :** * **نفر - فرد**

Particularise, v. t. or i. To enumerate in detail ; to mention distinctly : جدا - تفصیل بیان کرنا

جدا کرنا - شرح وار بیان کرنا - مفصل کیفیت دینا

Particularly, ad. Singly ; specially : جدا - مفرداً
جدا - بالخصوص - خاص کر کے - تاکیدی سے

Parting, n. The act of separating : علیحدگی -
جدائی - مفارقت

Partisan, n. An adherent to faction : طرفدار -
ساتھی - رشتی

Syn.—Follower, disciple.

— a. Pertaining to a faction : کسی فرقہ کے متعلق

Partisanship, n. The state of being a partisan : شراکت - ساچیہا - حصہ داری

Partition, n. Division ; that which divides : تقسیم - بانٹ - آڑ - اوت

Partitive, a. Distributive : بانٹنے والا

Partitive, n. A word denoting a part : وہ لفظ جس سے ایک جز ظاہر ہو

Partly, ad. In some measure : قدرے - کسی قدر - کچھ

Partner, n. An associate ; a sharer ; a husband or wife : شریک - حصہ دار - شوہر - چور

Partnership, n. Joint interest or ownership : شراکت - پٹی داری - ساچیہا

Partridge, n. A well-known bird : تیتھر - دراج

Parturition, n. The act of giving birth ; delivery : جنم - بچہ دینا - زائیدی - پیدائش

Party, n. A select company ; a faction : چیدہ
A * طرف - جانب : Side * جماعت - پنچایت - فرقہ

detachment of troops : A partaker * دستہ فوج

A litigant ; an individual : A partaker * شریک

coloured, variegated ; dappled : * شغص

Interested * بولنمرن - پچرنگا - چٹکیرا -

اهل غرض - صاحب غرض

Parvenu, n. An upstart : نر خیز - نردولت - کک کا آدمی - کمینہ جر دولت پاگر بڑہ گیا ہو

Pass, v. t. or i. To go ; to proceed : جانا - چلنا

To go past a certain person or place : نزدیکی سے

To be spent : * گذرنا - بیتنا : To elapse * چلا جانا

To surpass ; to transcend ; to excel : * بڑہ جانا

To disappear : * سبقت لیجنا - بڑہ جانا

To receive the sanction : * مرجانا : To die * مرجانا

To be current : * منظر پر ہونا : of

To happen : * واقع ہونا : To go successfully through an examination : * امتحان میں کامیاب ہونا

To live through : * بچ جانا : To transfer : * منتقل

جاری : * دینا : To circulate : * جاری

To hand over : * کرنا : To move near or go beyond : * نڈر جانا

To allow : * منظور کرنا : To pronounce : * سننا - کہنا

To pass a sentence) * to void : * نکالنا - خالی

To—along, to go forward : * آگے جانا : To—away, to vanish : * غائب ہو جانا

To—by, to vanish : * معاف کرنا : To forgive : * قریب سے گذرنا

To neglect : * چھوڑ جانا : To—for, to be received as : * سمجھا جانا

To—into, to be changed or transformed to : * تبدیل ہو جانا

To—over, to cross : * پار ہو جانا : To omit : * چھوڑ جانا

To come to—, to happen : * واقع ہونا : To let—, خوش

Well to—, * جانے دینا - درگذر کرنا : To—commodiously this life, آرام

To—off, دینا * سے زندگی گذارنا

Pass, n. A narrow entrance : تنگ راستہ

A passport : * پروانہ راہ داری : A push : * دھکا

Condition : * واقع ہونا : To bring to—, ہول چلانا

To make a—in fencing, * قابل گذر - جایز رکھنے کے قابل - منظوری کے قابل

Passage, n. The act of passing ; a way : اوتراپی -

Exit : * سر گذشت - واقعہ : An event * راہ - راستہ

جہاد - : Part of a book * جز : Currency * نکاس

A voyage ; * لڑائی - مذبذبیز : Encounter * فقرہ

جہاز کا کرایہ - : money—* سفر - کرایہ : fare

Passenger, n. A traveller : * راہ گیر -

رہر

Passible, a. Susceptible of impressions : اثر پذیر

Passing, n. The act of going by : * گذر : bell, * جلازہ کی نماز یا گھنٹا

a. Exceeding ; surpassing : * بہت - نہایت - بہ شدت

ad. Exceedingly ; surpassingly : * بہت زیادہ

Passion, n. A suffering ; vehement emotion ;

anger ; love ; extreme desire : * رنج - جوش - جذبہ - فصد - خشم - تعشق - محبت - ترقی خواہش

تکلیف - رنج - : * بہت - نہایت - بہ شدت

ad. Exceedingly ; surpassingly : * بہت سے - بہت زیادہ

Passion, n. A suffering ; vehement emotion ;

anger ; love ; extreme desire : * رنج - جوش - جذبہ - فصد - خشم - تعشق - محبت - ترقی خواہش

تکلیف - رنج - : * بہت - نہایت - بہ شدت

ad. Exceedingly ; surpassingly : * بہت سے - بہت زیادہ

Passion, n. A suffering ; vehement emotion ;

anger ; love ; extreme desire : * رنج - جوش - جذبہ - فصد - خشم - تعشق - محبت - ترقی خواہش

تکلیف - رنج - : * بہت - نہایت - بہ شدت

ad. Exceedingly ; surpassingly : * بہت سے - بہت زیادہ

Syn.—Feeling, emotion.

Passionate, a. Easily excited ; ardent ; vehement ; sorrowful ; exhibiting passion : پر جوش

مغلوب الغیض - تند مزاج - دلسوز - پر جوش - غمزہ

- Passionately, ad.** Ardently ; angrily : - شوق سے - بد دل و جان - سرگرمی سے - غصہ سے
- Passionless, a.** Not easily excited ; calm : - جزو جلدی جوش میں نہ آجاریے - متحمل - دھیمہ - مطمئن
- Passive, a.** Suffering ; not opposing ; patient : - رنج اور ٹھانے والا - متحمل - چپکلا - صابر
- Passively, ad.** In a passive manner : - صبر سے - تحمل سے - اطاعت سے - چپ چاپ
- Passivity, n.** The tendency to remain in a given state : - ایک حالت میں رہنے کی رغبت - تحمل
- Passover, n.** A feast of the Jews : - یهودیوں کا ایک تیسواں - عید نصح
- Passport, n.** A written license to pass or travel : - پروانہ راجہ داری
- Pass-word, n.** A watchword : - پورل - پہچان کا لفظ یا اشارہ
- Past, a.** Gone by ; former ; elapsed : - گزشتہ - ماضی - سابق - ختم - گیا گذرا
- pasture, n.** Land for grazing : - چراگاہ
- Pasty, a.** Like paste : - لٹنی کے ایسا
- Pat, a.** Exactly suitable ; convenient : - ٹھیک
- Pat, n.** A light quick blow : * n. A light quick blow : - مناسب
- Pat, v. t.** To tap gently with the fingers : * v. t. To tap gently with the fingers : - آہستہ انگلیوں سے مارنا - تھپ تھپانا
- Patch, n.** A piece of cloth sewed or fastened on : - پیرنہ لگانا - گوتھنا
- Patch, v. t.** To put a patch on ; to repair clumsily : * v. t. To put a patch on ; to repair clumsily : - تویگلے
- To—up a quarrel,** جهت پت جھڑا کھڑا کر لینا
- Patchwork, n.** Work composed of pieces sewed together : * n. Work composed of pieces sewed together : - ڈاڈرزی - ہزار میٹھی - قصہ جرزنا
- To—up a story,** قصہ جرزنا
- Pate, n.** The head : * n. The skin of a calf's head : - سر کا چمڑا
- Patefaction, n.** The act or state of opening : - اٹھار - انکشاف
- Patent, n.** A writ from the Crown conferring a title or an exclusive right to an invention : * n. A writ from the Crown conferring a title or an exclusive right to an invention : - وادہ پروانہ یا فرمان جسکی رو سے خاص استحقاق موجود کو اپنی ایجاد کی نسبت چند سال کے واسطے اعلا ہوتا
- Patent, v. t.** To grant by patent ; to secure by patent : * v. t. To grant by patent ; to secure by patent : - حق - ہیئت - پروانہ سند اعلا کرنا - حق محفوظ رکھنا
- Patent, a.** Public ; open ; protected by patent : * a. Public ; open ; protected by patent : - عام - کھلا ہوا - محفوظ بذریعہ ہیئت
- Patentee, n.** One to whom a patent is granted : - جسکو حق ہیئت دیا جاوے
- Paternal, a.** Fatherly ; hereditary : - پدری
- Paternal, n.** Fatherly ; hereditary : * n. Fatherly ; hereditary : - موروثی مال - موروثی - موروثی چاہداد
- Paternity, n.** Fathership : - پدری رشتہ
- Paternoster, n.** The Lord's prayer : - خداوند کی دعا
- Path, n.** A road ; an established way ; a fort-way : * n. A road ; an established way ; a fort-way : - راہ - راستہ - سڑک - پک ڈھرا - طرز عمل
- Path, v. t.** To tread into a path ; to walk abroad : * v. t. To tread into a path ; to walk abroad : - راہ چلنا - راہ نکالنا
- Pathetic, a.** Affecting or moving the feelings : - پر اثر - دلکش - جگر سوز - درد انگیز - مٹوہر - جگر دوز
- Pathless, a.** Without a road ; untrodden : - بے راہ - بے راہگاہ
- Pathless, n.** Without a road ; untrodden : * n. Without a road ; untrodden : - چراگاہ - علف زار - چارہ

Pathology, n. The science of diseases : علم تشخيص امراض - طب نظري

Pathos, n. Passion ; that which excites the tender emotions : جوش - دلسوڑي - رقت - اثر - جاں گدازي

Pathway, n. A narrow way : تنگ راہ - پگ ڏنڍي - راستہ - ڏھرا

Patience, n. The power of suffering ; perseverance : استقلال - تحمل - صبر - ثابت قدمي - برداشت - شڪيبائي - قائم مزاجي

Patient, a. Enduring ; persevering ; not hasty : متصل - غمخوار - مستقل - ثابت قدم - قائم مزاج - مريض - بیمار - روغي

Patiently, ad. Without murmuring ; calmly : صبر سے - بردباري سے - استغلاي سے

Patriarch, n. The head of a family or church : بزرگ خاندان يا گرجا - پورا پورھا - مجتهد

Patriarchal, a. Pertaining to patriarchs : بزرگ خاندان کے متعلق - مجتهدانہ

Patrician, a. Noble ; senatorial : شريف - مديروان

Patrimonial, a. Inherited from forefathers : آبائي - جلدي - موروثي

Patrimony, n. An estate possessed by inheritance : ميراث * A church estate or revenue : مال وقف - گرجے کي آراضي يا آمدني

Patriot, n. One who loves his country : خيبرخواہ - ملک - وطن دوست - حب الوطن

Patriotic, a. Full of patriotism : حب الوطني سے بھرا

Patriotism, n. Love of one's country : حب الوطني

Patrol, n. The act of going round a camp at night ; the guards who go the rounds of a camp : فوج کي پاسبائي * *v. t. or i.* To go the rounds of a camp or district : فوج کي پاسبائي کرنا - ضلع کي گشت لگانا - دورہ کرنا

Patron, n. One who countenances or protects : مرئي - حامی - سرپرست - پشت پناہ - واپي نعمت

Syn.—Advocate, benefactor.

Ant.—Oppositionist.

Patronage, n. Support ; protection ; guardianship : مدد - حمايت - سرپرستي

Patronee, n. A female patron : مرثيه

Patronise, v. t. To support ; to favour ; to protect ; to assume the air of a superior ; to give countenance or encouragement to : مدد کرنا - مہرباني کرنا - پناہ دینا - سرپرستي کرنا - دستکيري کرنا - حمايت کرنا

Syn.—Support, favour, aid.

Ant.—Oppose, depress, oppress.

Patronymic, n. A name derived from that of a father or ancestor : آبائي لقب - کنيت - آل

Patter, v. t. or i. To spatter ; to strike rapidly ; to repeat hurriedly to mutter : تترتارنا - کير کير باتين کرنا - بربزانا

Pattern, n. A model ; an example ; design ; copy : نمونہ - نقشہ - تمثيل - بانگي - کول - نقل

Paucity, n. Fewness ; scarcity : کمی - قلت - کوتاہي - کميابي

Paunch, n. The belly : پيٹ - اوجھ - ترند

Pauper, n. A poor person ; one who receives alms : مفلس - بھکاری - محتاج - حاجتمند

Pauperise, v. t. To reduce to a state of indigence : مفلس کرنا

Pauperism, n. Poverty ; penury : مفاسي - افلاس - غريبي - ناداري

Pause, n. A temporary rest ; cessation ; hesitation ; a point ; a break in writing : توقف - سکون - وقفہ - پس و پیش - تذبذب - نقطہ - ٹھراؤ

Pause, v. t. To stop ; to hesitate ; to deliberate : ٹھہرنا - پس و پیش کرنا - غور کرنا - کامل کرنا - توقف کرنا

Pave, v. t. To cover with stone or brick ; to prepare the way : پتھر کا فرش لگانا - فرش بندي کرنا - راہ درست کرنا - سہل کرنا

Pavement, n. A footpath or floor of stone or brick : راستہ کا فرش - پتھر يا اينٹ کا فرش

Pavilion, n. A tent ; a building with a dome : خيمہ - گنبد دار عمارت - شاميانہ

Paw, n. The foot of a beast : چنگل * *v. t. or i.* To scrape with the foot : پنچہ سے کھرچنا

Pawky, a. Sly ; cunning : چالاک - مکار

Pawn, n. A pledge : گرو - رهن * *v. t.* To pledge ; to wager : گرو رھنا - رهن رکھنا

Pawnbroker, n. One who lends money on pledge :
گزر رکھنے والا

Pay, v. t. or i. To discharge a debt : قرض - دینا
* To compensate ; to recompense ; to requite : اجرا دینا - معاوضہ دینا - مرنا - فوت ہونا - جس بحق تسلیم کرنا - انتقال : * To—punish : سزا دینا * To—die : * To—for, to make payment for : * To—off, to pay wages and discharge : تنخوازا دیکر * To—one out, To punish him thoroughly and adequately : * To—one back in the same coin, to give tit for tat : * To—out, to run out as a rope : ختم ہو جانا - گھٹ جانا * To—calls, تھرتھری دینے کی ملاقات و بات چیت کے لئے لوگوں * To—court to, کسی کو خدمت و * To—one back in his own coin, کسی کے ساتھ ویسا ہی * To—one's duty, کسی کی ساوی کرنا جیسا اوسنے کیا * To—one's way, کسی کو آداب بھیالانا - قدمبوسی کرنا * n. Salary ; تنخوازا - معاوضہ - بدلہ : recompense :

Payable, a. Capable of being paid ; due : ادا ہونے کے لائق - واجب الادا - واجب الدین

Payee, n. One to whom money is to be paid : وصول کنندہ - پانے والا

Paymaster, n. An officer whose duty is to make payments : دینے والا - تنخوازا ہاننے والا افسر - ہنشی - کھرا اسمی * A good—

Payment, n. The act of paying—reward : اداے قرض - چکوتا - انعام - اجر

Pea, n. A well-known plant and its fruit : مٹر کا درخت مٹر

Peace, n. Calm ; freedom from war ; tranquillity ; harmony : امن - امان - صلح - چین - آسودگی : * At—, in a peaceful state : * Breach of the—, violation of public tranquillity : عوام کے آرام میں خلل اندازی * To hold one's—, to be silent : خاموشی * To make one's—with, to reconcile : * of mind, اطمینان - رضی کرنا - میل کرنا : * The—of God, سلام اللہ - شانتی * خاطر - تسکین جو ہر ماتما سے ملتی ہے

Peaceable, a. Disposed to peace ; tranquil : صلح اندیش - آشتی پسند - امن خورہ

Peaceably, ad. Quietly : - خاموشی سے - چپ چاپ

Peaceful, a. Undisturbed ; pacific ; mild : بے فساد - امن چین کا - ملایم - مستقل

Peacefully, ad. Gently ; quietly : - بے آشتی - بے ملائمت

Peace-maker, n. One who reconciles differences : صلح کار - مالپ کرنیرالا

Peach, n. A well-known tree and its fruit : - آرزو شفتالو - آرزو بھارا

Peacock, n. A well-known beautiful fowl : - مور - طاؤس

Peahen, n. The female of the peacock : - مورنی - مادہ طاؤس

Peak, n. The top of a hill ; a point : پہاڑ کی چوٹی - نوک

Peal, n. A loud sound ; a set of bells, to be rung together : گرج - گرجا گھر - بہت سے گھنگھری ملی ہوئی * v. t. or i. To give forth loud sounds ; to assail with noise : زور سے چلانا - گرجنا - شور سے حملہ کرنا

Pear, n. A well-known tree and its fruit : ناشپاتی

Pearl, n. A gem * Something very precious : کوئی بیش بہا چیز

Pearly, a. Like pearls ; transparent : مرتبوں کے مانند - چمکیلا - شفاف

Peasant, n. A countryman ; a rustic : گنوار - دھڑائی - دھاتی - کاشتکار

Peasantry, n. Rustics : - گنوار - دھاتیان - کاشتکاران

Peat, n. A species of turf used for fuel : ایک قسم کی جڑ جلانے کے کام آتی ہے

Pebble, n. A small round stone ; transparent rock ; crystal : چمکتا ہوا پتھر کا ٹکڑا - شفاف

Pebbly, a. Full of pebbles : پتھروں سے بھرا ہوا

Peccability, n. The state of being subject to sin : گنہگار ہونے کی حالت - خطا واری

Peccable, a. Liable to sin : گنہگار - قصوروار - خطا پزیر

Peccadillo, n. A slight fault : تھوڑا قصور - تھوڑی
خطا - ادنیٰ قصور

Peccant, a. Guilty ; corrupt : گنہگار - قصور وار -
شریر - مفسد

Peck, v. t. To strike with the beak ; to pick up
food with the beak : چرنچ سے مارنا - دانہ چمکنا -
ٹھونکنے

Pectoral, a. Pertaining to the breast : سینہ کے
چار آئینہ * n. A breastplate : متعلق

Peculate, v. i. To appropriate public money to
one's own use : غبن کرنا - تغلب کرنا - تصرف بیجا
کرنا - خیانت کرنا

Peculation, n. Embezzlement of public money :
غبن - خیانت - تغلب - تصرف نا جائیز - خرد برد

Peculator, n. One who embezzles public money :
تغلب کرنے والا - خاين - پاداشی چور

Peculiar, a. Appropriate ; particular ; singular :
مخصوص - ذاتی - خاص - نادر - عجیب - انوکھا -
نرالا - انوکھا

Peculiarity, n. Speciality ; something peculiar :
خاصہ - خصوصیت

Peculiarly, ad. Especially : خصوصاً - خاصکر -
بالخصوص

Pecuniary, Relating to or consisting of money :
collections, * زر کے متعلق - زر نقد کا - روپیہ کا
پختہ تحصیل

Pedagogism, n. The nature or business of a
pedagogue : معلمی - مدرسہ

Pedagogue, n. A school-master : معلم - مدرس

Pedal, a. Pertaining to a foot : پاؤں کے متعلق -
قدم کا

Pedant, n. One who makes a vain display of his
learning : اپنی علمیت کی شہیہ کرنا - نمائش -
خرد نمائی کرنا

Pedantic, a. Making a show of knowledge : علم
کو ظاہر کرنا - علمیت کی نمونہ کرنے والا - علم

Pedantry, n. A vain and formal display of
knowledge : علم کی شہیہ - علمیت نمائی - قاعدہ
پرست

Peddle, v. t. or i. To go about and retail goods ;
to hawk : پھیرنے کے بیچنا - خردہ فروشی کرنا

Peddler or Pedlar, n. A travelling trader in
small wares ; a hawker : پھیری والا - پھیری والا -
بساطی - گشتی خردہ فروشی

Peddler, n. Wares sold by peddlers : بساط
خانہ - پھیری کا مال

Pedestal, n. The foot of a column or statue :
ستون کا پایہ - مررت کا پاؤں

Pedestrian, n. One who goes on foot : پیدل چلنے
والا - یا پیادہ

Pedicle, n. The footstalk of a plant : پودے کا
قندیل - قندیل

Pedigree, n. Genealogy ; descent : نسب نامہ -
بنیاد - نسل - حسب و نسب

Peel, v. t. or i. To strip off the skin or rind :
* چھیلنا - مقشر کرنا - کیال اوتارنا - ادھیرنا - کھینچنا
n. The rind of a fruit ; bark : چھلکا - پوست -
چھال

Peep, n. A sly look : * تاک چھانک - of day,
the dawn or daybreak : تڑکا - سیریا - صبح دم
نہر دار ہونا - نظر : * v. t. To begin to appear :
آنا - نکلنا - چھانکنا - تاکنا

Peer, n. An equal ; a companion : ہم رتبہ -
ساتھی - رفیق - ہمچرا - ہمسر - چور - ثانی - نظیر -
* v. t. * امیر - نواب - مصاحب : A nobleman * مقابل
چھانکنا
To peep :

Peerage, n. The rank of a peer : امیر ننگا رتبہ -
آمرانہ - نارائی

Peeress, n. The wife of a peer : خانم - بیگم - امیر
کی بی بی

Peerless, a. Without an equal : بے مثال - یکتا -
لاٹائی - بے نظیر - بے ہمتا

Peevish, a. Ill-tempered ; fretful ; petulant : بد
مزاج - چڑچڑا - گستاخ

Syn.—Cross, irritable, fretful.

Ant.—Easy, genial.

Peevishness, n. Ill-temper ; fretfulness petu-
lant : بد مزاجی - زودرنجی - چڑچڑاہوں - تنگ مزاجی -
تند خوئی

Peg, n. A wooden pin : * ٹھونٹی - لکڑی کا ٹھونٹا
* To fasten with a peg : ٹھونٹی سے باندھنا

Pelf, n. Money ; riches ; paltry stuff : روپیہ -
حوت - کڑی

Pelican, n. A large water bird : ایک بڑی دریائی چڑیا - ماسی خور

Pelisse, n. A robe made of fur ; a silk robe for a female : سمپور کا جامہ - عورتوں کا ریشمی جامہ - پورستین

Pell, n. A skin or hide : - چمڑا - کھال - چرسا - رقی - چرم

Pellet, n. A little ball : گولی - غارہ

Pellicle, n. A thin skin ; film : پتلا چمڑا - جھلی

Pell-mell, ad. Confusedly ; tumultuously : گھبراہٹ سے - ہڑبڑ سے - تلبے اوپر - درہم برہم

Pellucid, a. Transparent ; not opaque ; limpid ; transparent : شفاف - نرمل

Pelt, n. A raw hide : چمڑا * *v. t.* To strike with something thrown ; to throw at : پھینک کر مارنا - پھینکنا

Pelvis, n. The bony cavity which forms the lower part of the abdomen : تہی گاہ - پیڑر

Pen, n. An instrument for writing : قلم - خامہ * A small inclosure for sheep, etc. : * ڈازہ - گھیرا * *v. t.* To write ; to shut up ; to confine : لکھنا - تحریر کرنا - قلمبند کرنا - بند کرنا - قید کرنا

Penal, a. Inflicting punishment ; threatening punishment ; prohibiting certain acts and determining punishment for the commission of them ; imposed as penalty : تعزیری - واجب التعزیر بعض حرکات کی صمانت اور انکے ارتکاب کی سزا تعزیر * قانون تعزیری laws— * کرنے والا - مجبوزہ بطور سزا —servitude, عرصہ دراز تک قید یا مشقت

Penalty, n. Punishment for crime ; fine : سزا - تعزیر - جرمانہ - ہرجانا - تاراج

Penance, n. Suffering self-imposed for sin : کفارہ - توبہ - زس کشی - پراشچت - توبہ - کفارہ

Pence, n. The plural of penny. انگریزی پیسے

Pencil, n. A pointed strip of lead : پندل

Pendant, n. An ear-ring : - بالی - لٹکن - چورمکا - جھنڈا - جھنڈی - علم * A flag : کرن پورل

Pendency, n. The state of being undecided ; suspense : (التوا - دوران مقدمہ - شک - شبہہ

Pendent, a. Hanging ; jutting over : لٹکا - ہوا - نکلا ہوا

Pending, a. Undecided : غیر منقطعہ - زیر تجویز - اٹنا * *prep.* During :

Pendulous, a. Hanging ; oscillating : آویزاں - لٹکا ہوا - هلٹا ہوا

Pendulum, n. A weight suspended and vibrating : لنگر - شاقول - ساهول - لٹکن

Penetrable, a. That may be penetrated : قابل تدخول - چھیننے پرک

Penetrate, a. That may be pierced : جسمیں سوراخ * *v. t. or i.* To pierce ; to enter ; to make sensible ; to understand ; to find out ; to pass : اتر چھیننا - داخل ہونا - اثر کرنا - سمجھنا - تہہ کو پہنچنا - دریافت کرنا - نفوذ کرنا

Penetrating, a. Sharp ; quick to understand : تیز - زرد فہم - زیرک

Penetration, n. The act of piercing and entering ; discernment : دخول - ہر آمد - تیز فہمی - زیر کی - تیزی

Peninsula, n. A portion of land nearly surrounded by water : جزیرہ نما - قلعہ خشکی جو سمندر سے عنقریب گھرا ہو

Peninsular, a. Pertaining to a peninsula : جزیرہ نما کے متعلق

Penitence, n. Contrition ; remorse : توبہ - توبہ - توبہ - استغفار - ندامت - انفعال

Syn.—Repentance, remorse. Ant.—Obduracy.

Penitent, a. Sorrowful for sin ; repentant : توبہ * *n.* One who repents of sin : توبہ کن - نادم - تائب - مستغفر

Penitential, a. Expressing penitence : پشیمان - مستغفر

Penitentiary, a. Relating to penitence : توبہ سے * *n.* A penitent ; a house of correction : توبہ کرنے والا - قید خانہ

Penknife, n. A knife for mending pens : قلم تراش - چھوڑی - چانور

Penman, n. One who writes a good hand ; a calligrapher : خوش نویس

Penmanship, n. The art of writing : خوش نویسی - عمدہ تحریر

Pennant, n. A small flag : چوہنڈی - پھولیزا - دھجا

Pennate, a. Winged : پر دار

Penniless, a. Moneyless ; **poor** : بے زر - مفلس -
فریب - محتاج

Pennon, n. A small flag or streamer : چوہنڈی - علم

Penny, n. The twelfth part of a shilling ; a small
sum or coin : ولایت کا پیسہ - پیننی - فلنگ کا بارہواں

To turn on honest—, ایصاندارہی سے در
اشرفیاں لیکر

wise pound foolish, *—**and—laid**
* لٹاؤں کو باروں پر مہر - دھیلا نہ دیں دھیلا دیں

A pretty—, **and—laid**
* پھنسا پیسا کرے مہیا جڑتی ہے
*—**in pocket is a good companion**,
کاتھہ کا ہار ساٹھہ کا

Pennywise, a. Niggardly : نکایت شعار - بخیل -
نچھوس - جز رس

Pennyworth, n. As much as is bought for
a penny ; a bargain ; a small quantity : پیسے کا
مال - سودا - قلیل مقدار

Pensile, a. Suspended ; hanging : معلق - لٹکتا ہوا

Pension, n. An annual allowance for past ser-
vices : پنشن * **r. t.** To grant an annual allow-
ance : پنشن دینا

Pensioner, n. One who receives a pension : پنشن
پائیوالا

Pensive, a. Thoughtful ; sad : دکرمند - متفکر -
اندیشہ ناک - مغموم - اوداس

Pensiveness, n. Gloomy thoughtfulness : تفکر -
دکرمندی - دلگیری

Pent, a. Shut up : بند

Pentagon, n. A figure of five sides and five
angles : شکل مستطیس

Pentagonal, a. Having five angles : پنجگوشہ -
متشہس

Pentameter, n. A verse of five feet : پانچ رکن کا
شعر - متشہس

Pentangular, a. Having five angles : پنجگوشہ

Penumbra, n. A partial shade ; outside a darker
shadow, as in an eclipse ; the blending of
shade and light, as in a painting : سایہ جو رقت
نرہن سورج یا چاند کے گرد ہوتا ہے تصویر کا وہ حصہ جہاں
روشنی سایہ میں ملتی ہے

Penurious, a. Miserly ; sordid : بخیل -
تنگ دل - شرم

Syn.—Parsimonious, covetous, avaricious,
miserly, niggardly, stingy.

Ant.—Affluent, wealthy, rich.

Penury, n. Poverty ; need ; indigence : مفلسی -
تنگدستی - محتاجی

Peon, n. An office attendant : چہراچی - اردالی

People, n. The body of persons who compose a
community ; persons in general ; the populace ;
inhabitants : آدم - لوگ - عوام انھاس - رعایا - باشندے

To populate : آباد کرنا - بسانا
* **v. t.**

Pepper, n. A well-known aromatic pungent
spice : مرچ لٹاٹا
* **v. t.** To sprinkle with pepper : گول مرچ - کا
مرچ = مرچ - ٹھیل - پیپل

Peppermint, n. A well-known aromatic pun-
gent plant : ایک قسم کا پرندہ - پرمینٹ

Per, prep. By ; by means of ; through : در -
* سالانہ - سال بسال - **annum**, * بذریعہ - پر - پچھ

محتمانہ بہ حساب - **centage**, * فی صدی
* **mensem**, * فی یوم - فی روز - **diem**, * فیصدی

ماہوارہی - فی ماہ مہینہ وار

Perambulate, v. t. To walk round or over ; to
survey : سیر کرنا - گشت کرنا - دیکھنا - گرداگردی کرنا
معاینہ کرنا

Perambulation, n. A passing over ; a travelling
inspection : گشت - دورا - سیر

Perambulator, n. A wheel for measuring dis-
tances or roads : **A** * پیمہ نیش کا پہاڑیہ
low carriage for children drawn by the hand :

لڑکوں کی گاڑی جو ہاتھ سے چلائی جاتی ہے

Perceivable, a. That may be perceived ; cogniz-
able : ظاہر - مدارم ہوتا ہوا - محسوس

Perceive, v. t. To have the knowledge of through
the senses ; to discern ; to understand : محسوس
کرنا - معلوم کرنا - دریافت کرنا - سمجھنا

Syn.—See, discover, notice, observe, descry,
discern, feel.

Ant.—Overlook, miss, slight.

Percentage, n. The allowance, interest, duty, or
commission on a hundred : فی صدی منافع یا سود

Perceptible, a. Capable of being seen or under-
stood : ظاہر - محسوس

Perception, n. The act of perceiving ; conception ; discernment : - حس - ادراک خیال - نام - فہم - گیمان ہونا - خیال ہونا * To have—of, تہیز - قیاس

Perceptive, a. Having the power to perceive : متخیلہ - متصورہ - مدری

Perch, n. A long staff : * A measure of چڑبڑنکے : 5½ yards : سارے پانچ گز کا پیمانہ : بیٹھنا : * v. i. To settle on ; to roost : بیٹھنا : بیٹھنا

Perchance, ad. Perhaps : شاید

Percolate, v. t. or i. To strain through ; to filter : ٹپکنا - تھارنا - چھاننا - رگنا - نکالنا

Percolation, n. Filtration : ٹپکار - تھار - چھاننا

Percussion, n. The act of striking ; the effect of violent collision : ٹکر - صدمہ

Perdition, n. Utter ruin ; eternal death : - بربادی : فنا - غارت - ستیا ناس - ہمیشہ کی بربادی

Peremptorily, ad. Authoritatively ; positively : تحکم نامہ - قطعاً - یقیناً - ضرورتاً

Peremptory, a. Authoritative ; final ; positive ; dogmatical : - تاکید کی - آخری - قطعی - اصولی - لارڈ : * order, حکم نامہ - حکم تاکید کی * * * sale, نیلام قطعاً

Perennial, a. Lasting through the year ; perpetual : ایک سالہ - ہر سوزی - مدامی - درامی - کبھی ذایل نہ ہونے والا

Perfect, a. Complete ; thorough ; finished ; blameless ; pure ; full ; without flaw ; consummate : کامل - تمام - بے نقص - بے عیب - خالص - صاف - پورا - بے گناہ - بے خطا - پکا - مسلم

Perfect, v. t. To complete ; to instruct fully : پورا - کامل کرنا - پھرنچھانا

Perfection, n. The state of being perfect ; excellence ; full maturity : - تمامی - فضیلت - کمال - پوری پختگی

Perfectly, ad. Wholly ; exactly ; thoroughly ; fully ; totally : بالکل - ٹھیک - بدرجہ کمال

Perfidious, a. False to trust ; dishonest ; traitorous : دغا باز - بے ایمان - بیٹونا

Perfidy, n. Breach of faith ; treachery : بے ایمانی - دغا بازی

Syn.—Treachery, disloyalty, treason, defection.

Ant.—Faithfulness, loyalty, truth.

Perforate, v. t. To bore through ; to pierce ; to penetrate : سوراخ کرنا - چھیدنا - سالتا

Perforation, n. The act of boring through ; a hole passing through : سوراخ - چھید

Perforator, n. An instrument for boring : یرما - سوچا

Perforce, ad. By force ; absolutely ; of necessity : بزور - جبراً - چار ناچار - بالکل

Perform, v. t. or i. To execute thoroughly ; to discharge ; to fulfil : انجام دینا - ادا کرنا - انصرام : * To act a part ; to play musical instrument : نقش دینا - باجا بجانا

Syn.—Accomplish, do, act, achieve.

Ant.—Mar, miss, spoil.

Performable, a. That may be performed ; practicable : لائق تعجب - ممکن

Performance, n. The act of performing ; achievement ; deed ; execution : * عمل - انجام دہی - کام : An exhibition ; a feat : تمکیل - سوانگ - * of duty, بجا اوری خدمت : * of orders, بجا اوری احکام

Syn.—Completion, consummation, execution.

Performer, n. One who performs ; an actor : تعمیل کنندہ - بجا لائیرا - قوال

Perfume, v. t. To scent ; to fill with a sweet odour : * n. خوشبو دار کرنا - معطر کرنا - مہکاتا : خوشبو - سرگندہ - مہک

Perfumery, n. The act of preparing perfumes ; perfumes generally : عطاری یا گندھ پی کا پیشہ - خوشبو : یات

Perfunctorily, ad. Carelessly ; negligently : بے پروائی سے - غفلت سے - سوسری طور سے

Perfunctory, a. Negligent ; indifferent ; careless : بے احتیاط - بے پروا - عدم توجہ

Perhaps, ad. By chance ; possibly : اتفاق سے - شاید

Pericardium, n. A thin membrane round the heart : پردہ دل

Perigee, n. The point in the orbit of the moon nearest the earth : چاند کے مدار میں وہ نقطہ جو زمین سے قریب تر ہو

Perihelion, n. The point in the orbit of a planet nearest the sun : کسی سیارہ کی مدار میں وہ نقطہ جو آفتاب سے قریب تر ہو

Peril, n. Danger, hazard ; impending evil : خطر - خطرہ - جو کھرن

Syn. Jeopardy, risk, venture.

Ant.—Protection safety, security.

Peril, v. t. To hazard ; to put in danger : خطرہ میں ڈالنا - آنت میں ڈالنا

Perilous, a. Dangerous ; hazardous : خوفناکی - خطرناکی - دہشتناکی

Perilously, ad. Dangerously ; with hazard : خطرناکی سے - ڈر سے - خوف سے

Perimeter, n. The external boundary of a figure : The sum of all the sides of a figure : کسی شکل کی بیرونی حدود مجموعہ اضلاع

Period, n. A circuit ; a cycle : گردش - دوران * A stated number of years : مہلت - مدت - میعاد * An era : خاتمہ - ایشام - آخرت * End : زمانہ - عرصہ * A complete sentence : پڑھنے میں ٹھہرنے کا نشان * A full stop : پورا جملا

Periodical, a. Performed in a circuit : دوری - Happening or returning at fixed times : مقررہ - مزموسی - نظمی

Periodical, n. A publication which appears at stated times : اخبار جو میعاد مقررہ پر شائع ہوتا ہو

Periodically, ad. At stated periods : اوقات معین پر

Peripatetic, a. Pertaining to Aristotle or his system of philosophy : * ارسطو یا ارسکے فلسفہ کے متعلق * One who walks about : ارسطو کا پیرو * پیدل چلنے والا

Periphery, n. Circumference : محیطہ - گھیرا - دائرہ

Periphrase, n. Circumlocution ; a round about mode of expression : پھیندے کلام - پیچر کی بات

Peripneumony, n. Inflammation of the lungs ; consumption : پھیپڑے کا ورم - تپ دق

Perish, v. i. To decay ; to lose life ; to go to ruin : مت جانا - ضایع ہونا - مر جانا - فوت ہونا - برباد ہونا - نیست و نابود ہونا

Perishable, a. Subject to decay or destruction : ضایع یا برباد ہو نیکے لائق - ناپی

Perispheric, a. Globular : گول - مدور

Periwig, n. A small wig : چھوٹی بالونکی ٹوپی

Perjure, v. t. To swear falsely ; to forswear : چھوٹی قسم کھانا - جھوٹا حلف اٹھانا

Perjury, n. The crime of giving false evidence on oath : * دروغ حلفی - چھوٹی شہادت دینے کا جرم * **Subornation of—**, دروغ سے دروغ حلفی کرانا - ترغیب دروغ حلفی

Perk, a. Brisk ; pert ; vain : تیز - شوخ - مغرور

Permanency, n. Continuance in the same place or state ; duration : درام - قیام - قرار - اقبال

Permanent, a. Durable ; of long continuance ; without change : دائم - پائیدار - مستقل

Syn.—Lasting, durable.

Ant.—Changeable, variable, mutable.

Permanently, ad. Durably : ہمیشہ - پایدار - باقاعدہ

Permeable, a. That may be passed through : قابل نفوذ - پولا

Permeate, v. t. To pass through the pores : سوراخ میں ہرگز گزرتا - نفوذ کرنا - پینڈنا

Permeation, n. The act of passing through the pores of a body : نفوذ - پینڈہ - دخل

Permissible, a. That may be allowed : روا - قابل - منظور

Permission, n. Allowance ; leave : اجازت - رضا - پروا لگی

Syn.—License, liberty.

Permissive, a. Granting liberty : مجاز - روا - اجازت دہ

Permit, v. t. or i. To grant leave ; to allow ; to give over ; to tolerate : اجازت دینا - ماننا - چھوڑنا - روا رکھنا * **n.** A written warrant ; permission : روٹا - پروانہ داری - اجازت

Permutation, n. Mutual transference : میبادلہ - عرض معاوضہ

Pernicious, a. Tending to destroy ; injurious ; destructive : مہلک - مضر - ناسد

Syn.—Hurtful, destructive, mischievous.

Ant.—Harmless, advantageous, serviceable.

Peroration, n. The closing part of an oration or of a speech : خاتمہ کلام - اعد تقریر

Perpend, v. t. To consider attentively : غور سے خیال کرنا

Perpendicular, a. Upright ; vertical ; crossing at right angles : سیدھا - کھڑا - عمودی - زاویہ پر قطع کرتا ہوا
* **n.** A line falling on another line at right angles : عمود - لمب

Perpetrate, v. t. To commit ; to do : مرتکب ہونا - کرنا - ارتکاب کرنا

Perpetration, n. The act of committing a crime : ارتکاب جرم

Perpetrator, n. One who commits a crime : جرم کا مرتکب

Perpetual, a. Never ceasing ; endless ; everlasting : دائمی - لازوال - استمراری - بے حد - ہمیشہ کا - درامی

Syn. — Constant, endless, eternal.

Ant. — Periodical.

Perpetually, ad. Unceasingly ; continually : ہمیشہ - براہر - مدام - لگاتار - سدا

Perpetuate, v. t. To make perpetual ; to eternalise ; to continue ; to preserve from extinction : استمراری کرنا - برقرار کرنا - ہمیشہ قائم رکھنا - جاری رکھنا - معدوم ہونے سے محفوظ رکھنا

Perpetuity, n. Endless duration ; that which continues indefinitely : دوام - مداومت - استمرار - ہمیشگی - ابد - بقا

Perplex, v. t. To make intricate ; to entangle ; to puzzle ; to tease with ambiguity ; or anxiety ; to perplex : پیچیدہ کرنا - ارتکابانا - پوسانا - حیران کرنا - متعجب کرنا - ستانا - دق کرنا

Perplexity, n. Intricacy ; embarrassment ; anxiety : پیچیدگی - جھجھال - حیرانی - فکر - تشویش

Perquisite, n. A fee or allowance ; in addition to the settled wages : بالائی یافتہ - دستوری - اوپر - کی آمدنی - اوپر پیدا

Perry, n. A drink made of pears : شراب ناشپاتی - شراب ناشپاتی

Persecute, v. t. To pursue with continued malignity ; to harass : پیچھے پڑنا - ستانا - تنگ کرنا - ایذا دینا - دق کرنا

Persecution, n. The act of persecuting ; the state of being persecuted : ایذا رسانی - تصدیحہ - جرم - ستم - عقربت

Persecutor, n. One who persecutes : ایذا رساں - تصدیحہ دار - ستم گر

Perseverance, n. The act of persevering ; persistence : ثابت قدمی - استقلال - قائم مزاجی

Persevere, v. i. To continue steadily in any business or enterprise undertaken ; to proceed steadily ; to persist : قائم رہنا - مستقل رہنا - قائم رہنا

Persian, a. Of, from or like Persia : فارسی - ایرانی

Persist, v. t. To continue steadily and firmly ; to persevere : ثابت قدم رہنا - مستقل رہنا - اصرار یا ضد کرنا - ہت کرنا - اڑنا

Persistence, n. The state of being persistent ; obstinacy ; perseverance ; constancy : ثابت قدمی - ہت - اصرار - استقلال - ثبات

Person, n. A human being ; the body ; character ; represented shape : شخص - انسان - متنفس - جسم - کالہی - اندام - بویس - نقل - شکل - ہیئت

A certain — In — * نکل آدمی - کٹھی - ایک
The first — * پہلے آدمی - بننا تھی - اپنے آپ
The third — * سیدھے غائب

Personage, n. A person of distinction ; personal appearance ; figure ; stature : امیر - معزز - نامی گرامی شخص - شخصیت - شکل صورت - ہیئت

Personal, a. Pertaining to a person ; one's own exterior : شخصی - ذاتی - اپنا - نج کا - بیرونی - باہری

Personality, n. That which constitutes a person ; individuality : شخصیت - خصوصیت - تشخص

Personally, ad. In person ; individually : بہ ذات خاص - خود - آپ - اصالت

Personalty, n. Personal estate : جائیداد ذاتی - خاص جائیداد

Personate, v. t. or i. To assume the character of ; to feign ; to disguise ; to act a part : بنانا - بویس بدلنا - چہل کرنا - ہنارت کرنا - نقل کرنا

Personation, n. The act of personating or acting : تبدیل صورت یا لباس - بہرہ پدائی

Personator, n. One who assumes another's character : بویس بدلنے والا - بہرہ پدائی

Personification, n. A representation of inanimate things as living beings : بیجان چیز کا جاندار - ظاہر کرنا - فرضی شخص بنانا - شخص فرض کر لینا - استعارہ

Personify, v. t. To treat as person; to represent a character : انسان گزار دینا - استعارہ سے کہنا - بیجان

شے کا اسرار پر ذکر کرنا کہ گویا جاندار اور بے عقل ہے

Personnel, n. The body of persons in a public service : ذمہ دار ملازمان

Perspective, a. Pertaining to vision : * منہمق نظر

n. A view; the art of drawing on paper, etc., objects as they appear to the eye : منظر - نظارہ - مہرہ بے کائنات عینیت

Perspicacious, a. Quicksighted; keen; discerning : تیز نظر - تیز فہم - باریک بین - زہری

Perspicuity, n. Plainness; transparency; clearness in statement : صراحت - صافگی - وضاحت - صراحت

Perspicuous, a. Plain; clear to the understanding : صاف - واضح - صریح

Perspiration, n. The act of perspiring; sweat : پسینہ - عرق

Perspiratory, a. Causing or performing perspiration : پسینہ لانے والا

Perspire, v. t. To excrete fluid matter through the pores of the skin; to sweat : پسینا - پسینہ نکالنا - عرق آنا

Persuade, v. t. To influence by advice, argument or entreaty; to convince; to entice : راضی کرنا - مایل کرنا - یقین دلانا و دلنشین کرنا - باور کھانا - اشتعال دینا

Syn.—Induce, prevail on, win over, allure.

Ant.—Coerce, deter, dissuade, hinder, repel.

Persuasive, a. Having the power to persuade :

n. That * پھیلانے والا - ترغیب دہ - مائل کرنے والا جو شے راغب کرے - نصیحت - ترغیب - لالچ : طمع

Pert, a. Smart; forward; saucy : تیز - زندہ دل - شوخ - گستاخ

Pertain, v. t. To belong; to concern; to relate : علاقہ رکھنا - متعلق ہونا - سروکار رکھنا

Pertinacious, a. Adhering obstinately to any opinion or purpose; resolute; steady; stubborn : ہٹی - ضدی - ثابت قدم - مستقل ارادہ - سٹن : پزور - خود راے

Pertinaciously, ad. Stubbornly; resolutely : قد سے - استقلال سے

Pertinacity, n. Obstinacy; constancy : ضد - ہٹ - استقلال - ثابت قدمی

Pertinence, n. Fitness; suitability : مناسبت - درستی - مرافقت - معقولیت

Pertinent, a. Just to the purpose; fit; appropriate : موافق - مناسب - ٹھیک - معقول - درست - واجب - جوگ - پربنا - برجستہ

Syn.—Relevant, suitable, fit, proper.

Ant.—Alien, foreign, unrelated.

Pertinently, ad. To the purpose; suitably : پر محل - درست سے - پر جستہ

Pertly, ad. Smartly; petulantly : شوخی یا تیزی سے - گستاخی سے

Pertness, n. Smartness; boldness; impudence; petulance : تیزی - شوخی - دلیری - گستاخی - بے ادبی

Perturb, v. t. To disturb; to trouble; to disorder : مضطرب کرنا - بے چین کرنا - تکلیف دینا - گھبراہٹا - ابق کرنا - پریشان کرنا

Perturbation, n. Disquiet of mind; confusion : پریشانی - گھبراہٹ - اضطراب - بے تاملی مطالعہ

Perusal, n. The act of reading : مطالعہ - ملاحظہ

Peruse, v. t. To read with attention : فور سے پڑھنا - معائنہ کرنا - ملاحظہ کرنا

Pervade, v. t. To permeate; to spread through : گھس جانا - بیکھ جانا - پیرست ہونا - پھیل جانا - چھونا - محبت ہونا

Pervasion, n. The act of pervading : سرایت - پھیلاؤ - نفوذ

Pervasive, a. Tending to pervade; having power to pervade : سرایت کرنے والا - نفوذ دہ

Perverse, a. Obstinate, petulant; vexatious; untoward : ضدی - گستاخ - تکلیف دہ - سرکش - ہٹی - مگرا

Syn.—Obstinate, stubborn, wilful.

Perversion, n. The act of perverting; a diverting from the true sense or meaning; turning from truth or propriety : برگشتگی - بگاڑ - گمراہی - انحراف - اصلی مدعا سے پھیرنا

Perversity, n. Ill-disposition : بدخوئی - بدخصلتی
کجروی

Pervasive, a. Tending to corrupt : خراب کنیوالا

Pervert, v. t. To turn from the right course ; to distort : گمراہ کرنا - منحرف کرنا - بگاڑنا - برگشتہ کرنا
* n. One who has changed from truth to error : منحرف

Pervious, a. Penetrable ; admitting passage : قابل دخول - نفوذ پذیر

Pessimist, n. One who regards everything in the world as being for the worst : وہ شخص جسکا یہہ عقیدہ ہے کہ دنیا کی کل شے خرابی کے لئے ہیں

Pest, n. A fatal epidemic disease ; any thing destructive or troublesome ; plague ; ban : مہلکی بیماری - مری - وبا - مضر چیز - زہر - قہرالمی - وبال

Pester, v. t. To annoy ; to harass ; to encumber : تکلیف دینا - دق کرنا - حیران کرنا - زیر بار کرنا
Syn.—Disturb, trouble, vex, tease.
Ant.—Amuse, gratify, cheer.

Pestiferous, a. Pestilential ; malignant ; noxious ; vicious : مضر - شریز - مضر - وبائی - ذلید - مضر - زیانکار

Pestilence, n. Any contagious disease ; plague : وبا - مری - طاعون - بلا

Pestle, n. An instrument for pounding substances in a mortar : * مرسل - دستہ - ہارن - بٹہ - کوزل
* v. t. To pound with a pestle : گیوٹنا - پیسنا - بکٹی کرنا

Pet, n. A little animal fondled or indulged ; a word of endearment : چھوٹا پالز جانور - پیارا - پیار کرنا - لال کرنا
* v. t. To treat as a pet : دلارنا

Petal, n. A flower-leaf : پتھوئی - پھول کی پتی - برگ - گل

Petiole, n. A leaf-stalk : ٹہنی - ڈنڈی

Petit, a. Little ; diminutive ; mean : چھوٹا - ذرا سا - حقیر

Petition, n. A request ; a prayer ; an earnest entreaty : عرضی - درخواست - سوال - استدعا
* v. t. To supplicate ; to request : التماس کرنا - عرض کرنا - درخواست دینا

Petrescent, a. Converting into stone : پتھر بنا دینے والا

Petrifaction, n. Conversion into stone : پتھر بن جانا

Petrify, v. t. To change to stone ; to stupefy : پتھر بنانا
* v. i. To become stony ; to be hardened : پتھر ہو جانا - سخت ہو جانا

Petroleum, n. Rock oil : نفتا - مٹی کا تیل

Petticoat, n. A woman's loose under-garment : * تریا راج - government, * گھانگرا - لہنگا
* interest, اصرار بندی وسیلہ

Pettifogger, n. A petty lawyer : چھوٹے درجے کا وکیل

Pettish, a. Fretful ; peevish : ہتھیلا - چڑچڑا - گستاخ

Petty, a. Small ; trivial ; inferior : چھوٹا - حقیر - ادنیٰ
Syn.—Little, diminutive, inconsiderate, trifling, unimportant.
Ant.—Large, noble, considerate, important.

Petulance, n. Sauciness ; peevishness : تکبر - مزاجی - چڑچڑاہن

Petulant, a. Saucy ; peevish ; saucy : جھکی - چڑچڑا - گستاخ - شوع - تند مزاج

Petulantly, ad. Pertly : شری سے

Pew, n. An inclosed seat in a church : گرجے میں بیٹھنے کی جگہ

Pewet, n. A wild fowl : جنگلی مرغ

Pewter, n. A metal composed of tin and lead : چستا - کاسا

Phaeton, n. An open carriage on four wheels : کھلی ہوئی چار پھیلے کی گاڑی - ٹن

Phalanx, n. A close compact body of soldiers : غول - غت - سپاہیوں کی جت

Phantasm, n. A vision ; a spectre ; an optical illusion : خیال - بھوت - سایہ - آسیب - تصویر - صورت و ہمیتہ - خیالی بات - تصور
* v. i. To be phantasmal : دھمی - خیالی

Phantasmal, a. Illusive : دھمی - خیالی

Phantom, n. An apparition ; a ghost ; a fancied vision : نمودار - وجود - بھوت - پریٹ - خیال - تصویر

Pharmaceutic, a. Of pharmacy : دوا سازی کے متعلق

Pharmacy, n. The art or practice of compounding medicines : عملی - دوا سازی

Pharos, n. A light-house ; a watch tower : مینار
جسپر جہازوں کی رہنمائی کے واسطے روشنی کی جاتی ہے

Phase, n. Appearance ; aspect : - صورت -
چہرہ - ہیئت

Pheasant, n. A well-known bird : تیتھر - دراج

Phenix, n. A fabulous bird : - ایک خیالی چڑیا -
ففس

Phenomenon, n. (pl. Phenomena) An ap-
pearance ; anything remarkable : واقعہ - واقعہ
عجیب - نادر یا طوفانہ قدرتی منظر

Phial, n. A small glass bottle for liquids : - شیشی -
چھرتی بوتل

Philanthropic, a. Loving mankind ; benevo-
lent : خلیق دوست - پرماتیبی

Philanthropist, n. A person of general benevo-
lence : آدم دوست - عوام کو فائدہ پہنچانے والا -
خلایق دوست

Philanthropy, n. The love of mankind at large ;
general benevolence : درستی خلیق پرماتیبہ

Philologist, n. One versed in philology : زبانت
داب - مصنف

Philology, n. The critical study of languages :
زبان دانائی - علم تحقیق

Philomel, n. The nightingale : بلبل - عنقاہیپ

Philosopher, n. One versed in philosophy : فلسفہ
پارس 's stone - دانی - حکیم - ہیئت - پندارتی
پتھر

Philosophical, a. Of philosophy ; rational :
فلسفیانہ - عالمانہ

Philosophise, v. t. To reason like a philosopher :
فلسفیانہ گفتگو کرنا - حکیمانہ دلیل کرنا

**Philosophy, (Gr. Philos, a love and sophia,
wisdom) n.** The science of causes and principles ;
the love of wisdom : * علم کی محبت
of first principles ; a reasoning : علم -
حکمت - منطقی - دلیل

Philter, n. A potion to excite love : محبت کی
دوا - موہنی - داروے عشق - شہوت عشق انگیز

Phebotomist, n. One who lets blood : - رگزن -
نصاف - نصد کھولنے والا

Phebotomy, n. The act of opening a vein : رگ
زنی - نڈتہ زنی - نصد کھولنا

Phlegm, n. Cold animal fluid ; coldness ;
sluggishness : کف - بلغم - سردی - سستی - کاهلی

Phlegmatic, a. Abounding in phlegm ; cold ;
dull : بگھہی - سرد - کاهل

Phonetics, n. The science of vocal sounds ;
phonology : علم آواز - علم سماع

Phonograph, n. A type or character for ex-
pressing a sound : * آواز کی علامت : An instru-
ment by means of which sounds can be perma-
nently registered and afterwards mechanically
reproduced : ایک کل جسکے ذریعہ سے آواز بند کر دیتے
ہیں اور بعد کر بچھنڈے نکال لیتے ہیں

Phosphoric, a. Obtained from phosphorus :
فوسفورس سے نکالا ہوا

Phosphorus, n. A combustible substance :
گندھک - ایک چیز جو ہوا سے جلتی ہے

Photogenic, a. Producing light : روشنی پیدا کرنے
والا

Photograph, n. A picture or portrait obtained
by photography : عکسی تصویر - فوٹو گراف

Photography, n. The art of obtaining accurate
representations of scenes and objects by means
of light on substances treated with certain
chemicals : عکسی تصویر بچھنڈنے کا فن - فوٹو گرافی

Photology, n. The doctrine of light : روشنی کا علم

Photometer, n. An instrument for measuring
the intensity of light : روشنی کی تیزی ناپنے کا آلہ

Phrase, n. A portion of a sentence ; a short
pithy expression ; a word ; an idiom ; a mode
of speech ; style : - جملہ - فقرہ - طرز کلام - مختارہ
* v. t. or i. To express in words ; to
style ; to call : نظریں میں ظاہر کرنا - بولنا - کہنا

Phraseology, n. Style of expression ; diction ;
collection of phrases : عبارت - طرز کلام - مجموعہ
مختارہات

Phrenetic, a. Mad ; raving ; frantied ; frantic :
پاکل - دیوانہ - خبطی - مہجنوں - شروریدہ سر

Phrenology, n. The science of the mind or
supposed organs of thought : علم آواز و دماغی

Phtthisical, a. Consumptive : مدقوق - چھٹی روگی

Pnthisis, n. Consumption : حق - سل - چھٹی روگی

Physic, n. The art of healing diseases ; medicine ; a cathartic : **طباقت - علم طب - علاج - دوا - جالب** * مسهل **هینا - جالب دینا** : v. t. To purge ; to heal : **اچھا کرنا**

Physical, a. Of nature ; external ; corporeal ; conducive to health : **مادی - بیرونی - ظاہری** - جسمانی - صحکار

Physically, ad. According to nature : **طبیعتاً** - جسمانی طور پر

Physician, n. One who practises the art of healing : **معالج - طبیب - حکیم - وید**

Physics, n. pl. The science of natural objects : **موجودات - علم جوہر**

Physiognomist, n. One skilled in physiognomy : **علم قیادت ہنر - قیادت - شناس**

Physiognomy, n. The art of discerning the character of the mind from the features of the face : **علم قیادت - قیادت شناسی - سامری**

Physiologist, n. One versed in physiology : **عالم - علم ترکیب اجسام حیوانات و نباتات**

Physiology, n. The science of the properties and functions of living beings : **علم ترکیب اجسام حیوانات**

Physique, n. Bodily form or constitution : **جسمانی - بناوٹ - قیاد قول**

Phytivorous, a. That eats grass or vegetables : **گھاس یا نباتات کھانڈیالا**

Phytology, n. The science of plants ; botany : **علم نباتات**

Pianist, n. A player on the pianoforte : **پیانو بجاوا**

Pianoforte, n. A well-known musical instrument : **انگریزی بجا - پیانو**

Piazza, n. A portico or covered walk : **پیش طاق - پٹی ہوئی یا سایہ دار روش**

Pica, n. The magpie : **A large printing type** : **ایک قسم کی چڑیا** - بڑے چھاپے کا حرف - پیکا

Pick, v. t. To pluck ; to select ; to collect ; to pierce ; to open ; to pull off ; to cleanse ; to take up suddenly : **تورنا - کھولنا - چننا - پسند کرنا - جمع کرنا - چھوڑنا - کھولنا - کھولنا - نکال لینا - خلال کرنا - جلدی** * **جمع کرنا** : **To—off, to gather** : **To aim at and kill** : **جمع کرنا** * **نکال لینا** : **To take off** : **نکال لینا**

To—up, to lift : **اٹھانا** * **To gather by chance or indiscriminately** : **اڑھنا لینا** * **To learn** : **سیکھنا** * **To pick up a bargain**, **To—a pocket**, **To—a hole in one's coat, to find fault with one** : **سودا بنانا پانچا یا کھڑا** * **To—out, to select** : **چن لینا** * **To—a lock, to open a lock with a false key** : **تورنا** * **To—a quarrel, to seek cause for quarrelling** : **جھگڑ کر لڑنا** * **To eat slowly ; to do anything leisurely ; to steal** : **چھستہ آستہ کھانا** - کسی کام کو آستہ سے کرنا - کھنے * **A sharp pointed iron tool** : **Choice** : **نوکھلے گوہے کا اوزار - کدالی** پسند

Pickaxe, n. An axe that has a sharp point : **کدال**

Picked, a. Selected ; sharp : **چننا - تیز**

Pickeer, v. i. To rob ; to skirmish : **لوت مار کرنا - دھلا کرنا**

Picket, n. A sharp-pointed stake ; a pole : **A small guard or outpost** : **کوٹھڑا - کھوڑا** * **To fortify or enclose with pickets ; to post as a guard ; to fasten ; to a stake or peg** : **تورکھیا** - **تھیلوں سے مرچھ بندی یا محفوظ کرنا** - **گھیرنا** - **نواں تھیلی کرنا** - **گھیرنے سے باندھنا**

Pickle, n. A liquid for preserving food : **عرق اچار یا** * **Anything pickled** : **کھاری پانی** * **Brine** * **مرچے کے لئے سزا تیار** - **To have a rod in—** : **مضبوط رکھنا** * **To be in a—** : **مضبوط میں گرفتار ہونا**

Pickpocket, n. One who cunningly steals from another's pocket : **جیب کترا - گتھہ کتا - گڑھ کت**

Picnic, n. A pleasure party in which each person furnishes refreshment : **کھانا جسمیں ہر شخص کچھ** - **تھ کچھ لانا ہے** - **اگت - جلسہ**

Pictorial, a. Of pictures ; illustrated by pictures : **تصویری** - **تصویری** - **تصویری دار**

Picture, n. A likeness ; any vivid representation or description : **تصویر** - **نقش و نگار** - **شبیبہ** - **حالیہ** : **To paint ; to describe in a vivid manner** : **تصویر** - **نقش و نگار کرنا** - **خاکہ اٹارنا**

Picturesque, a. Like a picture ; graphic : **تصویری** - **کے مانند** - **دلکشی** - **خوشنما** - **واضح** - **رہب باندھنے والا**

Piddling, a. Trifling : **چھوٹا** - **اچھٹا**

Pie, n. An article of food consisting of baked flour with something in it or under it : - کچورپی
 * The magpie : ایک قسم کی چڑیا

Piebald, a. Of various colours : - رنگ بڑنگ کا
 بڑنگوں - گرنا گون - ابلق

Piece, n. A fragment ; a patch : - پڑے - ٹکڑا
 * A literary or artistic composition : * تھیلکی - پیوند
 * A picture : * تصویر * A gun : * ٹھیکر
 * A coin : * سکہ * Job : کام

Syn.—Part, portion, fragment, bit, scrap.
Ant.—Whole, entire, complete.

Piece, v. t. or i. To patch ; to unite : - پیوند لگانا
 ملانا - ساکتنا

Piecemeal, a. Single ; separate ; in pieces or parts ; by little and little : - الگ - علیحدہ - فرد
 * ad. in pieces ; gradually : - تھڑا تھڑا
 الگ الگ کرے - فرداً فرداً - رفتہ رفتہ

Piece-work, n. Work done or paid for by the quantity : - ٹھیکے کا کام - وہ کام جسکی اجرت کار کردگی کے حساب سے ملتی ہے

Pied, a. Spotted ; variegated : - رنگا رنگ - بڑنگوں - ٹونگاگون

Pier, n. A mole projecting into the sea ; a projecting wharf or landing place ; support of an arch : - پیل کا
 پائیا - محراب کا پایا - پانپی میں بڑھا ہوا چبوترہا جہاں کشتی یا جہاز کا مال چڑھایا اوتارا جاتا ہے - نکاسراں پکا گھاٹ

Pierce, v. t. or i. To thrust into ; to penetrate ; to move deeply : - چھیدنا - گھس جانا
 اثر یا جوش پیدا کرنا

Piercer, n. An instrument that bores : - پیرا
 چھینتی

Piercing, a. Penetrating ; keen ; cutting : - تیز - پینا - جگر دوز - نفوذ کرنے والا

Piety, n. Reverence with love of the Supreme Being ; religious duty or reverence : - خدا ترسی - خدا کی محبت اور ادب - پارسائی - تقویٰ - زہد - وفاداری

Pig, n. A young sow or boar ; a mass of metal : - سور کا بچہ - گھینٹا - دھات کا ڈبہ
 * A—in a poke, a blind bargain : - اندھا سرد! - وہ چیز جو میں دیکھے خریدی گئی ہو

Pigeon, n. A well known bird : - کورڈو
Pigeon-hearted, a. Fearful ; timid : - قوروک - بزدل

Pigeon-hole, n. A little opening in a case for papers, letters, etc. : - کاغذ وغیرہ رکھنے کے خانے

Pigment, n. A paint : - رنگ - روغنی
Pigmy, n. A dwarf : - بونا - کوتاہ قد

Pike, n. A lance ; a spear : - بھالا - نیزہ
 A fish : ایک قسم کی مچھلی

Piked, a. Ending in a point ; acuminated : - توکلا - تونکدار - تیز

Pikestaff, n. The wooden handle of a pike : - بھالے کی چوڑ - بلم

Pilaster, n. Square pillar : - چوکور - کھمبا - مربع - ستون

Pile, n. A heap ; an accumulation ; an edifice ; a large stake : - ڈھیر - تودہ - انبار - عمارت - ٹھا - ٹومب

Syn.—Heap, mass, collection.
 —, v. t. To accumulate ; to drive piles into : جمع کرنا - ڈھیر لگانا - ٹھے گاڑنا

Piles, n. pl. A disease : - برا بھڑ

Pilfer, v. t. or i. To steal in small quantities ; to filch : - چرانا - اورتا لینا - مرستا - اوتھائی گیری کرنا

Pilgrim, n. A traveller ; one who travels to a distance from his own country to visit holy places ; a wanderer : - زیار - حاجی - گھومنے والا - سیاح

Pilgrimage, n. A journey to a sacred place : - جاترا - زیارت - حج

Pill, n. A medicine in the form of a little ball : - لوتنا - غارت گری کرنا - اوتار لینا
 * v. t. or i. To plunder ; to pilage ; to strip : لوت - غنیمت

Pillage, n. Plunder : - لوت
Syn.—Booty, spoil, prey.

—, v. t. To plunder ; to spoil : - لوت مار کرنا - غارت کرنا - خراب کرنا

Pillar, n. A column ; a foundation : - ستون - لٹ - ارکان دولت * بنیاد

Pillory, n. A frame of wood with holes for the head and hands of criminals : - لکڑی کا ٹھنڈا جہاں سر اور ہاتھ ڈالکر مجرم کو سزا دیتے ہیں

Pillow, n. A cushion for the head : - بالش - ٹکیہ
 v. t. To lay for support : - ٹکیہ لگانا

- Pillowcase**, *n.* A covering for a pillow : تکیہ کا غلاف
- Pilot**, *n.* One who steers a ship ; a helmsman : کوپینا - جہاز چلانا - رہنمائی کرنا * *v. t.* To steer ; to direct : جہاز کا رہنما - رہبر - مانجھوی
- Pimp**, *n.* A procurer : دلالہ - بھڑوا - کٹنا - قلمبان
- Pimp**, *v. t.* To pander : کٹنا پن کرنا
- Pimple**, *n.* A small red pustule : - ددوڑا - پھنسی - مہاسا - چنبالا
- Pin**, *n.* A small pointed instrument for fastening articles of dress ; a peg ; a bolt ; a trifle : - آپین - کیل - پن - کھونٹھی - بلی - چھوٹی چبیز - تئہ
- Pin and web**, cataract : * *v. t.* To fasten with a pin ; to pound : چوڑنا - بند
- To— one's faith on**, * کسی پر پورا پورا رکھنا
- On—s and needles**, * خوش مزاج - مگن - بے چین - بے قرار - بے صبر
- Pincers**, *n. pl.* An instrument by which anything is drawn out : چھٹی - دست پناہ
- Pinch**, *v. t. or i.* To squeeze ; to nip : نوچنا - چٹکی * *To gripe* ; to pain : مڑوڑنا * *To be thrifty* : تنگ کرنا * *To know where the shoe pinches*, to know where the cause of trouble lies : تکلیف
- To—the belly**, * کی خاص وجہ ہے جاننا کٹنا - بھری مارنا
- Pinch**, *n.* A gripe : * *Opression* ; a difficulty : * *At a—* , وقت ضرورت - تکلیف - مشکل
- Pinchers** (*Pinshers*), *n. pl.* An instrument for drawing nails, etc. : کیل وغیرہ نکالنے کا آلہ
- Pine**, *n.* A forest tree : صنوبر * *v. i.* To languish ; to waste away : - ہونکا - ہونکا - ہونکا - غم سے گھلنا - چھوڑنا - لٹنا - کھٹنا - لاغر ہونا
- Pine-apple**, *n.* A well-known fruit : انڈس
- Pinfold**, *n.* Enclosure for cattle : جانوروں کے بند رکھنے کا احاطہ
- Pinion**, *n.* A wing ; a quill : * *A small toothed wheel* ; fetter : چھوٹا دندائے دار پہنیا - بیڑی
- Pinion**, *v. t.* To bind the wings ; to chain : بازو باندھنا - پر باندھنا - قید کرنا - بیڑی ڈالنا
- Pink**, *n.* A fragrant flower of a brilliant colour : * *A lighted colour* : * *An eye* : * *To*
- punch with small holes ; to stab ; to wink : چھوڑے سوراخ کرنا - کونچنا - پلک مارنا
- Pin-money**, *n.* A wife's pocket money : زوجه کا جیب خرچ
- Pinnacle**, *n.* A turret ; the highest point : - بوج - چوٹی - کنکورا - نوکیلی مینار
- Pint**, *n.* Half a quart : آدھہ سدر کے قریب کا ایک پیمانہ - آدھا بوتل
- Pintle**, *n.* A little pin : چھوٹی پن
- Pioneer**, *n.* One who goes before to clear the way for another : وہ شخص جو آگے جا کر دوسروں کے واسطے راستہ صاف کرے - سفر میں گائیڈ
- Pious**, *a.* Devout ; godly ; religious : - پاک - صالح - خدا پرست - دیندار
- Pip**, *v. i.* To chirp or cry as a bird : چرنچور کرنا
- Pip**, *n.* A disease of fowls : چرنچور کرنا
- Pipe**, *n.* A wind musical instrument ; a tube for smoking ; any long hollow tube ; cask : بانسری - * *v. i.* To play on a pipe ; to whistle : بانسری بجانا
- To— one's eye**, * روٹا - تیرے پہانا
- Pipeclay**, *n.* A species of white clay : ایک قسم کی سفید مٹی
- Pipkin**, *n.* A small earthen boiler : ہانڈی
- Piquancy**, *n.* Pungency ; sharpness ; tartness : چہرہ اہت - تیزی - تڑشی - شرخی
- Piquant**, *a.* Sharp ; pungent : تیز - چہرہ - تیتا - شوخ
- Pique**, *n.* Offence ; wounded pride ; spite ; keenly felt desire ; nicety : - ناراضی - آزدگی - کینہ - شوق - مزہ
- v. t.* To irritate ; to stimulate ; to pride : دق کرنا - اونہارنا - تعزیر کرنا - غصہ بھڑکانا
- Syn.**— Offend, nettle, stimulate, affront, vex.
- Ant.**— Gratify, please, satisfy, approve.
- Piracy**, *n.* Robbery in the high seas ; literary theft ; plagiarism ; breach of copyright : درہائی - تھف - کاپی رائٹ کی خلاف ورزی - عیارت کی چوری - غیب حق تصنیف
- Pirate**, *n.* A sea-robber ; a plagiarist - درہائی ڈاکو - * *v. t. or i.* To rob on the sea ; to take without leave : درہائی ڈکینی : کرنا - بغیر اجازت کے لے لینا

Pirn, n. A bobbin ; reel : - پھرنی - چرخہ - ریل -
اٹھرن

Pismire, n. The ant : چیمٹی - مور

Pistachio, n. An edible nut : پستہ

Pistil, n. The organ of a female flower which receives the pollen : گریہ کیسہ - استری کیسہ

Pistol, n. A small fire-arm : طمانچہ - پستول -
To shoot with a pistol : پستول مارنا - طمانچہ مارنا

Piston, n. A short cylinder made to fit exactly the cavity of a pump and to work up and down in it alternately : پمپ کی کات - فنی یا بوجہ کی کات

Pit, n. A deep hole in the earth ; an abyss ; any hollow excavation ; the grave ; a pock mark ; an arena where cocks fight : - گڑھا - غار - قبر -
* خندق - قبر - چیمپک کا داغ - مرغوں کے لڑنے کا میدان
v. t. To indent : * داند نے ڈالنا : To mark with pits :
لڑانا : To set against in competition : * داغ دار کرنا

Pitapat, n. A light quick step : تیز قدم - دھم
To pitapat : * دھم دھم دھڑ دھڑاعت
ہوا

Pitch, n. A black tenacious substance obtained from boiling down tar ; a resin from pine or fir-tree : رال -
v. t. A point ; a degree of elevation or slope ; rate ; a descent ; a throw ; a fall : حد - درجہ - نشیب و فراز - نرخ - اوتار -
v. t. To hurl ; to plant ; پھینک کر مارنا - گارنا -
to fix in array : نظر میں
To—and pay, اس قدر دانا کرنا - اس
کھڑے میدان - ed battle * ہاتھ لینا اس ہاتھ دینا
v. i. To settle ; to fall headlong ; to encamp :
صف آرائی کرنا - ٹکنا - مچھ بل کرنا - اڑنا
کرنا - To—into, to fall into : * خیمہ ڈالنا
To attack : * حملہ کرنا * آڑنا
a game of tossing by pitching a coin at a mark :
شیر بکری کا کھیل

Pitcher, n. An earthen vessel for holding water :
Pitchers have ears, گھڑا - سبر - گھری - مٹی
دیوار کے بھے کان ہوتے ہیں

Pitchfork, n. A fork for throwing sheaves of grain, etc. : کاتا جس سے اناج رخیڑے کی پڑی پھینکتے
ہیں

Piteous, a. Sorrowful ; wretched ; compassionate ; poor : آفت رسیدہ - قابل رحم - درد
انگیز - غریب - مفادک

Syn.—Mourful, woeful, distressing, sorrowful.

Ant.—Joyous, pleasant, gay, lively, agreeable.

Piteously, ad. In a piteous manner : درد انگیزی
- درد آمیزی سے

Pitfall, a. A hole slightly covered as a trap : چزر
قدما - غار جس پر جانوروں کے پھنسانے کے لئے کچھ بچھا
دیا جاوے

Pith, n. The soft spongy substance in plants :
Marrow : * گردا - مغز -
Strength : * طاقت - قدر
importance :

Pithy, a. Containing pith ; forcible : -
مغزدار - طاقت ور

Pitiable, a. Deserving pity ; mournful ; miserable :
واجب الرحم - رحم کے لائق - محزون - غمگین - حقیر -
مبتدل

Pitiful, a. Tender ; miserable ; despicable : -
دلایل - حقیر

Pitiless, a. Unmerciful ; hardhearted : -
پے رحم - سنگدل

Pittance, n. A small quantity : - راتب -
چھوٹا حصہ - تھوڑی چیز

Pituitous, a. Consisting of mucus : بغمی

Pity, n. Sympathy with the sufferings of another ;
A * رحم - ہمدردی - غمخواری -
compassion : دیا :
اٹھوس صد اٹھوس
thousand pities,

Syn.—Compassion, commiseration, fellow-feeling.

Ant.—Cruelty, ferocity, rigor, severity.

—, v. t. To compassionate : رحم کرنا -
فخواری کرنا
کرنا - قمرس کھانا

Pivot, n. A pin on which a body turns ; a turning point : چرنا -
پیل - سپر کوئی چیز گھومے

Placable, a. That may be appeased or pacified :
جو فرو ہو سکے - ملائم - سلیم

Placard, n. A printed paper posted in a public place :
اشتہار : v. t. To notify publicly :
اٹھار - مشہور کرنا

Place, n. A portion of space ; site : -
Grade ; calling : * درجہ - پیشہ :
Room ; residence :
Office ; employ- * بجائے :
ment : * مکان - مسکن
In the—of, instead of :
* جگہ :
واقع : * To take—, to happen : بجائے - بعین

To give —, *v. t.* To give —, *v. t.* مصلح - بیجا، **Out of** * ہونا
 خاصہ جگہ دینا - ہت چانا
To put in a particu- lar spot or position ; to fix ; to invest ; to attrib- uted : : لگانا - منسوب کرنا
Placid, a. Contented ; gentle ; quiet ; serene ; composed : صابر - فانیع - ملائم - سلیم - حلیم - مستحکم - بردبار
Placidity, n. Mildness ; unruffled state or dis- position : ملایمیت - استقلال - اطمینان - بردباری
Plagiarism, n. Literary theft : عبارت کی چوری
Plagiarist, n. A literary thief : عبارت کا چور
Plague, n. An infectious disease : * وبا - مہامری
 Anything that vexes or troubles : وبال جان
Plaguy, a. Troublesome ; annoying : تکلیف دہ - ایذا رساں
Plain, a. Smooth ; level : * چکننا - ہموار
 Uninterrupted : * Natural ; evident : * اصلی ظاہر
 Sincere ; frank : * راست باز - کھرا - بے تکلف
 Rich ; homely ; not ornamented : روکھا - خشک -
 * صاف گوئی، speaking, * صاف معاملگی
That is the very plain song of it, n. Level land ; a field of battle : * ٹویک یا سچی بات تو یہ ہے
 * ہموار سطح - میدان جنگ
v. t. To level ; to explain : * ہموار کرنا - برابر کرنا - روشن کرنا
 obscurely ; simply : صاف صاف - بے ساختہ
Plainness, n. Levelness ; clearness ; want of orna- ment ; artlessness : ہمواری - برابری - صفائی -
 بے آرائشی - سادگی - بے ساختگی
Plaint, n. Lamentation ; a complaint : فریاد - ہائے -
 توبہ - نالہ - شکایت - استغاثہ
Plaintiff, n. The person who commences a law- suit ; complainant : مدعی - فریادی
Plaintive, a. Complaining ; sad : فریادی - نالہ -
 غمگین - اندوہ گین
Plait, n. A fold ; braid : * چنت - پرت - اثر - مرنائی
v. t. To fold ; to a braid : چنتا - تہہ کرنا - جالی بنانا
Plan, n. A form ; a design ; a draught on a plane ; a plot : قول - ڈھانچا - نقشہ مسلح -
 بندش - تدبیر - سازش
Syn. -- Contrivance, device,

—, *v. t.* To form a design of ; to devise ; to
 خاکہ بنانا - نقشہ کھینچنا
 continue in thought : بندش کرنا - تدبیر کرنا - منصوبہ کرنا
Planch, v. t. To cover with boards : تختہ بندی
 کرنا - تختوں سے پھینکا
Plane, n. An even surface : * ہموار سطح
 A car- penter's tool for smoothing boards : * ہرنڈا
v. t. To make smooth : * چکننا کرنا - رونا چونا - صاف کرنا
 * ہموار - چٹا
a. Level ; flat :
Planet, n. A celestial body revolving round the sun : سیارہ - کوہ - اجسام سماوی جو آفتاب کے ارد گرد گھومتے ہیں
Planetary, a. Of or consisting of planets ; revol- ving : سیاروں کا - سیاروں کی مشق - گردش کرنے والا
Planish, v. t. To make smooth : چٹا کرنا
Planisphere, n. A globe projected on a plane : سطح منور - کوہ جو سطح کے اوپر دکھائے
Plank, n. A thick strong piece of wood : تختہ
v. t. To lay with planks : تختہ پھینکا - پھینکا
Plant, n. A vegetable ; a herb : * بوٹی - پھل
 * سامان - روز * fixtures * مرحمت - پھال - بوٹی
v. t. To set in the ground ; to establish ; to settle : * لگانا -
 بونا - * قائم کرنا - بٹانا
Plantain, n. A tree and its fruit ; banana : کیلا
Plantation, n. The place planted ; a colony ; a cultivated estate : باغ - نظستان - نو آبادی - کھیتی
Planter, n. One who plants ; one who owns a plantation : بونے یا لگانے والا - مالک - باغ - مالک
 زراعت
Plash, n. A puddle : * بھد پانی - ڈال
v. t. To splash ; to entwines branches : چھپچھاپ
 ڈالیں بھر لپیٹنا یا بانڈھنا
Plashy, a. Abounding with puddles ; watery : چھرتے چھرتے نالوں سے بھرا ہوا - آبی - پھپھیا
Plasm, n. A mould ; a formless elementary matter : سانچہ - قالب - بے قول - نیم مرکب بنیادی
 مادہ
Plaster, n. A composition of lime, sand and water used to cover walls, etc. ; an adhesive salve : پاستر - استر - ضماد - کارا - لچھی

Plaster, v. t. To cover with plaster : - پلستر کرنا -
استر کرنا - لیٹنا - پوتنا - کھل کرنا

Plastic, a. Giving form; susceptible of being moulded; pertaining to moulding : - شکل دینے والا -
بنانے یا ڈھالنے کے قابل - ڈھالنے کے متعلق - نقش بند -
شکل پزیر

Plat, v. t. To interweave : گونڈھنا - گونڈھنا : n.
A small piece of even ground : قطع زمین - ہموار -
میدان

Plate, n. A flat piece of metal : تختی - پتھر -
Wrought gold or silver articles for domestic use;
چاندی یا سونے کے ظروف -
a dish; a trencher : -
r. t. To cover
with metal; to adorn with plate : ملبہ کرنا -
چڑھانا - سونا یا چاندی چڑھانا - چار آئینہ لگانا

Plateau, n. A table-land : بلند ہموار میدان

Platform, n. A floor of timber, stone, etc., raised
above the usual level : چبوترا - تختہ - مچھان

Platinum, n. A metal : ایک سفید رنگ کی دھات

Platitude, n. Insipidity; a weak remark;
staleness of ideas and thought; triteness : پوہیکا
ہن - سیتھا ہن - بے نمکی - کمزور رائے - لچڑہن -
بے لطفی - بے معنی بات

Syn.—Plataea, dulcaea.

Platonic, a. Relating to Plato : متعلق بہ افلاطون
* روحانی - عقلی - ذہنی :
Spiritual; intellectual :
Platonic love, pure passionless love : پاک غیر
نفسانی محبت

Platter, n. A large flat dish : - ماستہ -
خوانچہ

Plaudit, n. Praise bestowed : شاباشی -
واہ - تحسین

Plausibility, n. Speciousness : - ظاہری -
دکھاوت - چرب زبانی

Plausible, a. Fitted to gain favour; specious :
چرب زبان - ظاہردار - نمائشی - دکھاوت - ظاہر میں اچھا

Play, v. t. or i. To sport; to act; to mock; to
trifle : to practise a trick; to wanton; to move;
to game : کھیلنا - راز چار کرنا - گزرائنا - کھیل سمجھنا -
جل دینا - دھوکا دینا - دلگی کرنا - کھلاڑیاں کرنا -
چلنا - کام دینا - بازی کھیلنا - نقل کرنا - سوانگ بچرنا -
To—fast and loose, to feign, to

pass off for : - بھنا - کچھ اور -
To—one false, to deceive one :
کرنا کچھ

To—on or upon,
to perform on an instrument : بھانا :
To—with, to
trifle with : بھکانا :
To gamble with :
To play on one's credulity,
To—
off, To—into a person's hand,
To—out the play,
Any exercise for diversion :
Jest :
Recreation :
Freedom of ac-
tion :
Frolic :
To hold in—,
to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

طریقہ یا مکر کرنا - بھنا - کچھ اور :
To—one false, to deceive one :
کرنا کچھ

To—on or upon,
to perform on an instrument : بھانا :
To—with, to
trifle with : بھکانا :
To gamble with :
To play on one's credulity,
To—
off, To—into a person's hand,
To—out the play,
Any exercise for diversion :
Jest :
Recreation :
Freedom of ac-
tion :
Frolic :
To hold in—,
to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

To—into a person's hand,
To—out the play,
Any exercise for diversion :
Jest :
Recreation :
Freedom of ac-
tion :
Frolic :
To hold in—,
to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

to keep occupied :
To give—to, to bring into action :
upon words, a pun :
Fair—,
Foul—,
Play-bill, n. A printed advertisement of a play :
فائل کا اشتہار - تماشہ کی چھپی ہوئی تھیٹر

Pleading, n. The act or form of pleading : - دلیل - بحث - سوال و جواب

Pleasant, a. Agreeable ; delightful ; gay ; sportive : - مرغوب - خوش آئند - خوش - شادمان - ہشامش - خوش طبع - دلچسپ

Pleasantly, ad. Happily ; gaily : - خوشی سے - ہنسپی سے

Pleasantry, n. Gaiety ; cheerfulness ; lively talk ; a jest : - خوشی - ہشامش - مسرت - طرائف - دل لگی - خوش طبعی

Please, v. t. To gratify ; to satisfy ; to content : * **v. i.** To like ; to choose ; to comply : - خوش ہونا - پسند کرنا - چاہنا - منظور کرنا

Pleasing, a. Giving pleasure ; delightful ; acceptable : - دلچسپ خوشگوار - دل پسند - فرح بخش - مقبول - پسندیدہ - سازنا سازنا - قبول صورت

Pleasure, n. Delight ; gratification ; indulgence ; will ; preference ; a choice ; a favour : - خوشی * تفریح طبع - عیش و عشرت - مرضی - پسند - مہربانی **v. t.** To gratify ; to please : - مختصر کرنا - خاطر کرنا

Plebeian, a. Common ; vulgar ; low : - عوام **n.** One of the common people : * گزار - نیچ - دھاتی - ادنی - بازاری عوام میں سے کوئی شخص

Pledge, n. Security ; pawn ; a surety : - ضمانت * **A drinking to the health of :** * کسی کی صحت کے واسطے سے نوشی **To hold in pledge,** * ضمانت میں رکھنا **To take the—** * شراب نوشی سے پرہیز کے اقرار نامہ پر **v. t.** To pawn ; to give as security ; to drink the health of : * **To pledge one's self,** اپنے اوپر کسی بات کا ذمہ لینا - زبان دینا

Pledgee, n. The person to whom anything is pledged : - مرقہن - گروی رکھنے والا

Pleiades, n. pl. A cluster of seven small stars : - سپت رشی - پروین - ثریا - کچ بچیا

Plenary, a. Full ; entire : - پورا - بھرپور - گل - کامل - تمام

Plenipotence, n. Fulness of power : - پوری طاقت - اختیار کامل

Plenipotent, a. Possessing full powers : - مک اختیار والا

Plenipotentiary, n. An ambassador invested with full powers : - سفیر یا ایلیچی جسکو غیر سلطنت سے عہد و پیمانہ وغیرہ کرنے کے مک اختیار حاصل ہوں - وکیل مطالب

Plenitude, n. Fulness ; abundance : - ثمرت - فراوانی - زیادتی - بزر پوری

Plenteous, a. Copious ; fully sufficient ; rich : - بہت زیادہ - پورے طرز پر - کافی - وافر - ٹھیکر

Plentiful, a. Copious ; fruitful ; exuberant ; extravagant : - بہت زیادہ - زر خیز - وافر - فراوان - ٹھیکر - قبول خرچ

Plentifulness, n. Abundance ; copiousness : - ثمرت - انزوا - زیادتی

Plenty, n. Exuberance ; copiousness ; fruitfulness : * **متمایات - انزوا - زیادتی - ثمرت - زر خیزی - بکثرت - بہ انزوا**

Pleonasm, n. Redundancy of expression : - بیان زائد

Plethora, n. Fulness of blood : - انزوا خون - جرش - خون

Pleurisy, n. An inflammation of the membrane that covers the inside of the thorax : - ذات الصدر - سینہ کی بیہتدی جھلی کا آماس

Pliable, n. Flexible ; yielding readily : - لچکدار - ملائم - نرم - دینے کے قابل

Pliability, n. Flexibility : - لچک - ملائمت - خم و چم - نرمی

Pliancy, n. Flexibility : - ملائمت - لچکداری

Pliant, a. Flexible ; easily influenced ; docile : - لچکلا - نرم - تربیت پذیر

Pliers, n. pl. An instrument to hold and bend small things : - سنسی - چمٹی - چھوٹی چھوڑکے پکڑنے اور جھکانے کا اوزار

Plight, v. t. To pledge ; to betroth : - رهن یا گرو * **n.** * رهن ہارنا - مائگی کرنا - منسوب کرنا

Pledge ; predicament : - رهن - گرو - گت - دسا - حالت - بیچ - پھساؤ - وعدہ - بچن

Plinth, n. The flat square member at the base of a column : - ستون کا چوگردہ پایہ - پبل پایہ کی کرسی

Plod, v. i. To toil heavily ; to travel or work slowly but steadily : مشقت کرنا - سستی سے چلنا یا کام کرنا - رتونا

Plodding, n. Slow motion or study : آہستہ چال یا بڑھائی

Plot, n. A small extent of even ground : ہموار
A secret design ; an intrigue ; a conspiracy : خسرہ
* v. t. or i. * تدبیر - بندش - سازش
To devise ; to conspire : * تدبیر کرنا - بندش کرنا
To delineate : * سازش کرنا

Plotter, n. A contriver ; a conspirator : بندش کرنا
کنیروالا - سازشی - منصوبہ باز

Plough, n. A well-known implement to turn and break the soil ; tillage : ہل - قلبہ - تردد زمین
* To put one's hand to the—, to begin an undertaking : کسی کام کو شروع کرنا
* v. t. To trench and turn up the ground with a plough ; to furrow : قلبہ رانی کرنا - ہل چلانا - چرتنا - باہنا - چہرنا - پھارتا

Ploughman, n. One who manages a plough : ہرواھا - قلبہ ران - ہل جوتا - کسان

Ploughshare, n. The iron blade of a plough which cuts the ground : ہل کا پھار

Plover, n. The name of a bird : ایک قسم کی چڑیا - ککلا

Pluck, v. t. To pull with sudden force ; to twitch ; to pull off : تڑوڑ لینا - نرچنا - کوسرنا - جھگٹنا
* To reject at an examination : امتحان سے ہمت
* To—up courage or spirit, * خارج کرنا
* n. The heart, liver and lungs of an animal ; spirit ; courage : دل و جگر و شش جانوران - دل - ہمت - حوصلہ - جگر

Plug, n. A stopple ; a piece of wood or other substance used as a stop : * ذات - ڈنٹا - کاک :
To stop with a plug : ڈنٹ لگانا - کاک لگانا

Plum, n. A well-known tree and its fruit : کنار - بیڑ - درخت بیڑ - درخت کنار

Plumage, n. The feathers of a bird : بال و پر

Plumb, n. A mass of lead attached to a line ; an instrument to show the perpendicular position : * سیسہ کا ساہل - شاہول - لنگن
* a. Perpendicular : * v. t. To adjust by a plumb line ; to sound : ساہل کرنا - پانی کی تھال لینا

Plumber, n. One who works in lead : سیسہ کا کام کنیروالا - پانی کے نل لگانیروالا

Plume, n. A feather : پر و بال * A token of honour ; a crest ; pride : تمغہ امتیاز - کلفی - نغز
* v. t. To pick and adjust feathers ; to pride ; to value : ندر کرنا - نغز کرنا
* To—one's self, نغز کرنا

Plummet, n. A piece of lead attached to a line for sounding ; plumb-line : تھال لینے کا لنگر - پینسال - ساہول معہ تور - خطا کوپینچنے کی سیسہ کی سائٹی

Plump, a. Fat ; full ; round : فربہ - موٹا - گداز - پورا ہوا - چورگر

Syn.—Stout, fat, fleshy.
Ant.—Lean, scraggy.

—, v. t. To fatten ; to dilate : فربہ کرنا - موٹا کرنا
* v. i. To fall suddenly : یک دم
* ad. With a sudden fall ; heavily : ایک دم سے

Plumpness, n. Fulness ; fatness ; distention : پھرا ہوا پن - موٹاپا - فربہ پن - جسامت - پھلاؤ

Plunder, v. t. To pillage ; to rob : لوٹنا - غارت کرنا - چرانا - مرسنا - زبردستی لینا

Plunder, n. Booty ; pillage ; spoil : تاراج - غارت - فنیمت - لوٹ

Plunderer, n. A pillager ; a robber : غارتگر - لوٹیرا - ڈاکو - چور - دھن

Plunge, v. t. or i. To force into ; to drive ; to fall into ; to distress : ڈبنا - بڑونا - ڈبکی لگانا - تکلیف
* n. The act of plunging : ڈبکی - ڈبکی میں بڑونا
فرولہ

Plunger, n. A diver : فرولہ خور - ڈبکی لگانیروالا

Pluperfect, a. & n. (Gram.) That tense of a verb which denotes that an action was finished before another past action took place : ماضی بعید

Plural, a. Expressing more than one : جمع - صیغہ جمع - بڑ بچوں - ایک سے زیادہ

Pluralist, n. One who holds more than one office at a time : ایک سے زیادہ وجہ معاش رکھنے والا

Plurality, n. Consisting of more than one ; the majority : کثرت - جمیعت - تعداد

Pluralize, v. t. To make plural : جمع بنانا

- Plus, n.** This sign + of addition : جمع کی علامت
- Plutocracy, n.** Government by the rich classes : دولت مندوں کی حکومت
- Pluvial, a.** Of rain ; rainy ; humid : برساتی
- Pluviometer, n.** A rain-gauge : برساتی پانی ناپنے کا آلہ
- Ply, v. t. or i.** To work closely ; to keep busy ; to practise diligently ; to yield ; to urge : محنت کرنا ، مشغول رکھنا ، مشقت کرنا ، چھکنا ، تاکید اجرت پر کام : **To—for**, to work for hire : * **To—with**, to keep constantly going : تہہ - **n. A fold ; a twist ; bent** : * **Bias** : * **پر ت - لڑ - موز - خم - پوشر - میل خم کھانا - مڑنا**
- Pneumatic, a.** Of air ; moved by means of air : ہوائی - بادی - ہوا سے هلتا ہوا - ہوا سے چلنے والا
- Pneumatics, n.** That branch of science which treats of air and other elastic fluids : عام باد
- Pneumonitis, v.** Inflammation of the lungs : پھیپھڑوں کا ورم - شش کی سوزش
- Poach, v. t. or i.** To stab : چھینڈنا : **To be damp** : * **To** : **boil a egg** : * **To** : **be damp** : * **To** : **intrude and steal game** : شکار کے جانور چرانے
- Poacher, n.** One who steals game : شکار کے جانور چرانے والا
- Poachy, a.** Soft ; swampy ; damp : نرم - تر - نم
- Pock, n.** A pustule on the skin in an eruptive distemper : دانہ - چھچھک - چھالا - آبلہ - پھنسی - پھوڑیا
- Pocket, n.** A small bag attached to a garment : جیب **Pocket-picking** : جیب میں رکھنا : **To put in the pocket** : * **To** : **an insult**, to submit to an insult without apparent displeasure : کسی چھوڑ چھوڑ کر بلا ناخوشی ظاہر کرنے کے ہرئے برداشت کرنا
- Pocket-book, n.** A small book to be carried in the pocket : گھما - جیبی کتاب - حمالہ - بیاض
- Pocket-money, n.** Money to meet occasional expenses : جیب خرچ
- Pocky, a.** Full of pocks : سینہ لہا - چھچھک والا - آتشکی
- Poculent, a.** Fit for drink : پینے کے لائق - نوشیدنی
- Pod, n.** Capsule ; seed-vessel : **v. t.** * **پھلنی** - پھولنا : **swell** :
- Poem, n.** A metrical composition : نظم - کبت - غزل - قصیدہ
- Poesy, n.** The art of writing poems ; poetry : فن شاعری - ہنر نظم نویسی - نظم - شعر
- Poet, n.** One who writes poetry ; author of a poem : شاعر - کب
- Poetaster, n.** A petty poet : کچھ شاعر
- Poetess, n.** A female poet : شاعرہ
- Poetical, a.** Of poetry ; figurative : شاعرانہ - رنگین - پیراز استعارہ
- Poetise, v. i.** To compose verse : نظم لکھنا - شعر بنانا
- Poetry, n.** Metrical composition ; rhyme : نظم - اشعار - تازیہ بندی
- Poignancy, n.** Keeness ; asperity ; sharpness : تیزی - حدت
- Poignant, a.** Acute ; piercing ; irritating ; pungent : تیز - پینا - تکلیف دہ - تند - تلخ : چرچرا
- Point, n.** The sharp end of any thing : نوک - **(Geom.)** That which has no magnitude : **A mark of punctuation** : نقطہ : **Direction** : * **کا نشان** : **A cage** : * **رأس** : * **طرف** : **Aim** : * **خاصیت** : **Characteristic** : * **درجہ** : **Moment** : * **وقت** : * **لحظہ** : * **مقصد** : **purpose** : **مراد** : **The end or verge** : * **خاتمہ** : **Example** : * **نمونہ** : **A mark in certain games to denote the degree of progress** : **Nicety** : * **بات** : **Cardinal—s**, the four quarters : **کھیل کا نشان** : **device**, nice to excess : **تکلف** : **On the of death**, at the last gasp : **مزاج** : **Vowel—s**, marks representing the vowels : **اصل** : **بات** : **To miss the—**, * **اعراب** : **At—**, completely : * **نہ پورنچنا** : **At a—**, prepared : * **کمر بستہ** : **At all—s**, * **عمر** : **تصنیف طلب** : **Points at issue**, * **عارض سے** : **of order**, * **دستور یا ضابطہ کی بات** : **To stand up on—s**, ذرہ ذرہ : **To—**, exactly : **ٹھیک** : **To carry one's—**, **ٹھیک** : **ٹھیک** : **ٹھیک** : **To strain a—**, **حضور معینہ** : **غرض حاصل کرنا** : **سے باہر جانا**

Point, v. t. or i. To sharpen ; to aim ; to hint ; to punctuate : تیز کرنا - پینا کرنا - نشانہ لگانا - صاف ظاہر کرنا - اشارہ کرنا - عبارت میں وقف کی علامت لکھنا

Point-blank, a. Explicit ; express ; straight : صاف - ظاہر - سیدھا

Pointer, n. An index : نشان * A variety of dog : شکاری کتے کی ایک قسم

Pointsman, n. A man who has charge of the points or switches on a railway : ریل سٹیشن کے ڈسٹریکٹ کے ریل گاڑی کا ایک راستہ سے دوسرے راستہ پر لیچمانی کا کام سپرد رکھتا ہے

Poise, n. Weight ; equilibrium : وزن - برجمہ - ہم وزن - مرزونی

Poise, v. t. To balance ; to examine ; to oppress ; to weigh down : وزن کرنا - جانچنا - تکلیف دینا - دبانا

Poison, n. Venom ; anything deadly or malignant : زہر - دیبا - زہر آلودہ کرنا - خراب کرنا - بگاڑنا

Poisonous, a. Having the qualities of poison ; deadly : زہریلا - زہر دار - مہلک

Poke, n. A sack ; a pouch ; a thrust : تھوپلا - جھولا - ہول - بھونک

Poke, v. t. or i. To thrust against ; to grope ; to feel : ٹوکنا - ہول مارنا - تھولنا - معلوم کرنا : **To —fun at a person,** کسی کی کھلی کرنا - کسی کو **To buy a pig in a—,** کسی چیز کو بہن دیکھ کر خرید لینا

Poker, n. A bar of iron for stirring fire : آگ کروڑنے کا کڑچھا

Polar, a. Of the pole ; near the pole : قطبی - قطب کے نزدیک کا

Pole, n. A long slender piece of wood : بلہ - سائے : A measure of length of 5½ yards : پانچ گز کا ٹاپ : One of the extremities of the earth's axis : ایک قطب کا : A Polander : رانے والا

Pole-axe, n. An axe fixed on a long handle : پھرسا - گنڈا سا

Polemic, n. A disputant ; a controvertist : حجت کر نیرالا - بکراہی

Pole-star, n. A star vertical to the pole of the earth ; guide : ستارہ قطب - دھرتی - رہبر - اگرائی - ہادی

Police, n. The government of city or district : * The body of civil officers for the preservation of good order, etc., in a town or country : پورلیس

Policeman, n. One of the ordinary police in a town or country : پورلیس

Police-station, n. The head-quarters of a body of police : تھانہ

Policy, n. Art or system of management : طریقہ یا حکمت عملی : A stratagem ; prudence : چورے - دور اندیشی - نصارت - عیاری - حیرت - حسن تدبیر : Wit : * A contract of insurance : معاہدہ - بیمہ

Crooked—, * تھریزی عہد و پیمانہ * **Public—,** * کوٹاہ معاملہ * **Sound—,** * درست معاملہ کی - ذمہ دارانہ

The—of the regulations, * قوانین کے تحت * **Policy goes beyond strength,** طاقت سے زیادہ

v. t. or i. To make smooth and glossy ; to refine : چمکانا کرنا - پالاش کرنا - صیقل کرنا - صاف کرنا - سدا کرنا - معذب کرنا - شستہ کرنا - آراستہ کرنا

Polish, n. A smooth glossy surface : چمکنی چمکتی * **Elegance** * شائستگی - تہذیب

Polite, a. Polished ; courteous : شائستہ - خلیق - معذب

Politely, ad. Gently ; courteously : شرات سے - خوش اخلاق سے - اعلیت سے

Politeness, n. Good breeding ; courtesy : خوش اخلاقی - تہذیب خلق

Politic, a. Well-devised ; sagacious ; political ; cunning : مصلحت آمیز - عقیل - مدبر - ملک - عیار

Political, a. Pertaining to public affairs or politics : public : ملک - عام - سرکاری - انتظام ملک : **economy—** * کے متعلق - سرکاری - شاہی مدن

Politician, n. One versed in politics : * **A man of deep contrivance :** پر نظر شخص - عیار

- Politics, n. pl.** The science of government : علم سیاست من
- Polity, n.** The constitution of civil government of a country : کسی ملک کا دستور - دستور سلطنت - انتظام مملکت - راج ڈھنگ
- Poll, n.** The head ; a person ; a register of persons ; the place of election ; an election : سر - راس - نفر - کس - فہرست اشخاص - مقام انتخاب - انتخاب
- v. t.* To lop ; to shear ; to enrol ; to bring to the polls : تراشنا - کاٹنا - داخل فہرست
- v. i.* To give votes : رالے دینا * کرنا - بھرتی کرنا
- Pollard, n.** A tree lopped ; a stag without horns : تراشا ہوا درخت - کاٹا ہوا درخت - بارہ منگھا جسکی سینک گر گئی ہو
- Pollen, n.** Fecundating dust of plants : پھولوتکی - خاک - پراک
- Poli tax, n.** A capitation tax : محصول فی کس
- Pollute, v. t.** To make foul ; to defile ; to corrupt : نجس کرنا - ناپاک کرنا - خراب کرنا
- Syn.** Defile, contaminate, disorder.
- Ant.** Clarify, refine, purify, filter.
- Pollution, n.** Unclanness ; vitiation ; violation : نجاست - ناپاکی - آلودگی - خرابی
- Politron, n.** A dastard ; a coward : ڈرہوک - بزدل
- Poltroonery, n.** Baseness ; cowardice : کم - ہمتی - نامردی
- Polyandry, n.** The plurality of husbands : ایک عورت کے کئی شوہر ہونے کا رواج یا چال
- Polygamy, n.** A plurality of wives at the same time : کثیر الزواجی - کئی عورتوں سے شادی کرنا
- Polyglot, n.** A person who understands many languages ; a book of the same text in several languages : کئی زبانوں کا جاننے والا - بسیار زبان - ہفت زبان - کئی زبان میں لکھی ہوئی کتاب
- Polygon, n.** A figure having many angles and sides : شکل کثیر الاضلاع
- Polygonal, a.** Of many angles and sides : کثیر الزاویا
- Polyhedron, n.** A figure having many sides : کثیر الاضلاع
- Polysyllable, n.** A word of many syllables : تہجی میں کئی زبان کا لفظ
- Polytheism, n.** The doctrine of a plurality of gods : بت پرستی - دیو پرچا - سڑک
- Pomander, n.** A scent-ball : خوشبو کی گولہ - عطریات کی گولہ
- Pomegranate, n.** A well known tree and its fruit : انار - دارم
- Pommel, n.** A knob * گولا - The knob on a sword-hilt ; a knob on a saddle bow : تارار کے
- v. t.* To beat roughly ; to punch : مارنا - کڑھنا - چھیدنا
- Pomp, n.** Display ; parade ; splendour : نمائش - دھرم دھام - شان و شوکت - طمطراق
- Pomposity, n.** Great show ; ostentation : نمائش - شہتی - شان - خود نمائی
- Pompous, a.** Showy ; splendid ; ostentatious : نمائشی - با شان و شوکت - با کر و فر
- Pond, n.** A body of stagnant water : ڈگی - حوض - تلیا
- Ponder, v. t.** To weigh in the mind ; to examine ; to consider : شامل کرنا - فکر کرنا - جانچنا - خیال کرنا - غور کرنا
- Ponderosity, n.** Weight ; heaviness : گراہی - وزن - ثقل - بوجھ
- Ponderous, a.** Weighty ; important ; forcible : وزنی - بھاری - ضروری - اہم - ثوی - طاقتور
- Poniard, n.** A small dagger : چھورا - خنجر - کٹار
- Pontiff, n.** A high priest ; the pope : سردار پادری - پوپ - روم کا افسر پادری
- Pony, n.** A small horse : تیز - یاہو
- Poodle, n.** A lap-dog : بہت چھوٹا کتا جسے گود میں رکھتے ہیں
- Pooh, interj.** An expression of scorn : ایک تمعیر کا کلمہ
- Pool, n.** A small body of still water : ٹنڈ - پرکھر - تلیا - ڈاہر
- Poop, n.** The hindmost part of a ship : جہاز کا سب سے پیچھے کا حصہ
- Poor, a.** Needy ; paltry ; sterile ; emaciated ; trifling ; wretched ; meek ; humble ; worthy of pity : غریب - محتاج - حقیر - اوسر - دبلا - ناچیز - پشیمان - بد بخت - حلیم - مساکین - قابل رحم - نگورزا - بد نصیب
- Poorly, ad.** Without wealth ; meanly : مفلسی سے - بیمار - کسٹھند
- a.* Indisposed : * تنگی سے

Poorness, n. Poverty ; sterility ; meanness : غریبی - افلاس - کم پیداواری - خفت

Poor-spirited, a. Cowardly ; base : - زردل
ذامرد - کمینہ

Pop, n. A small quick report : پت - تڑکا - دھڑا کا - پت
* *v. t. or i.* To enter in or go out suddenly ;
to thrust suddenly : - یرایک داخل ہونا یا باہر جانا -
گھسنا

Pope, n. The head of the Roman Catholic Church :
رومی کیتھولک گرجے کا انسر اعلیٰ

Popedom, n. The dignity or jurisdiction of the pope :
روم کے انسر پادری کا عہدہ

Popery, n. The religion of the church of Rome :
روم کا عیسائی مذہب

Poplar, n. A tree of several species : کئی ذات کا
ایک درخت - چنار

Popin, n. A cloth of silk and worsted : ایک قسم
کا ریشمی کپڑا - پاپ لین

Poppy, n. A plant : خشکش - پوسٹ - کوکنار

Populace, n. The common people ; the mob :
عوام الناس - خافت - رعایا - ہما ہما

Syn. - Commonality, mob, rabble, people, crowd, multitude.

Popular, a. Pertaining to the public ; plain ; beloved by the people ; prevailing : - عوام کے متعلق -
سادہ - عام پسند - عوام دوست - رائج

Popularise, v. t. To make suitable and common to the people generally : عام پسند کرنا - رواج دینا

Popularity, n. Public favour : شہرت - ہر دلعزیزی

Popularly, ad. In a popular manner : عام پسند طور سے

Populate, v. t. To furnish with inhabitants : آباد کرنا - بسانا

Population, n. The whole inhabitants of a place : آبادی - شمار باشندگان

Populous, a. Full of people : آباد - خوب بسا ہوا

Porcelain, n. Chinaware : چینی کے برتن - ظروف - چینی

Porch, n. An entrance to a building ; a portico :
دھلیز - ڈیرڑھی - پیش گاہ

Porcupine, n. A small quadruped with erected spines :
خار پشت - ساھی

Pore, n. A minute orifice in the skin ; a small hole : مسام - سوراخ

Pore, v. t. To look steadily and minutely : بغور
دیکھنا - دیدہ ریزی کرنا - مطالعہ میں غرق ہونا

Pork, n. The flesh of swine : سور کا گوشت

Porker, n. A hog : سور

Porous, a. Full of pores : سوراخ دار

Porphyry, n. A kind of precious stone : سنگ
- ماق

Porpoise, n. The sea-hog : ایک قسم
کی مچھلی

Porridge, n. A kind of broth : لپسی - دلیا

Porringer, n. A small metallic vessel for holding porridge :
تگورا - شرربا دان - بیلا - تسلا

Port, n. A harbour : بندر گاہ * An entrance :
A kind of wine * وضع - چال قعال * Mien * دروازہ
پرتگیزی شراب

Port, v. t. To turn to the left : ڈنیں طرف
دوڑنا

Portable, a. That may be easily carried : ہلکا -
سبک - آدیا لپچنے کے لائق

Syn.—Movable, light, handy.
Ant.—Ponderous, weighty.

Portage, n. Carriage ; the price of carriage :
پہنچائی - ارٹھائی - بار برداری - کرایہ بار برداری

Portal, n. A small gate ; the arch over a gate :
چھوٹا دروازہ - پوائنٹ پز کی معتبراب

Porte, n. The Turkish court : عدالت عثمانیہ - روم
روبار

Portend, v. t. To forebode ; to augur : - پیش
گرتی - نال کہنا - کسی امر کا شگون ہونا

Portent, n. An omen of ill : نال بد شگون -
منتحوس

Portentous, a. Ominous ; monstrous : مندرس -
بہت برا

Porter, n. A door-keeper : دربان * One who
carries load for hire : - حامل - مزدور -
قلی

Portfolio, n. A portable case for loose papers :
جزدان

Portico, n. A covered space inclosed by columns ;
a piazza : ستون سے گھری پٹی ہوئی جگہ - پیش
طاق - دھلیز

Portion, v. t. To divide ; to endow : - تقسیم
کرنا * *n.* A part ; an allotment : حصہ - قسمت - بانٹ - بکھرا

Portliness, n. Dignity of personal appearance ; corpulence : - شان - سچ دھج - رعب - جسامت - شان مٹاوا - فزہبی - تمکنت - بہاری بہرکم بن

Portly, a. Of noble appearance ; stately ; corpulent : شاندار - فزہ - باتمکین - شہیم - لہیم

Portmanteau, n. A leather bag for clothes, etc. : کپڑوں کا صندوق

Portrait, n. A picture of a living being : - شبیہ * نقشہ - Any vivid representation in words : روشن بیان - تصویر

Portray, v. t. To draw ; to describe : - شبیہ اُتارنا - بیان کرنا - درسنا - سما بانڈھنا

Pose, n. Attitude : وضع - ڈھنگ - بند کردینا - سوالوں سے گھبڑا دینا

Position, n. Site ; attitude ; state ; social condition : - مقام مرقع - وضع - حالت - درجہ - حیثیت - رتبہ

Syn.—Station, situation, spot, place, locality, post.

Positive, a. Absolute ; real ; clearly expressed ; decisive ; confident ; dogmatical : - تمام - بالکل - اصلی - صریح - صاف صاف - قطعی - یقینی - مستحق - degree, —تفصیل نفسی * ہٹی - خود رائے opinion, —To be—as to a fact, یقین چاندا

Positively, ad. Directly ; certainly ; really : فی الواقع - یقیناً - حقیقت میں - حقیقتاً

Positiveness, n. Reality ; full confidence : - اصلیت - تیقن

Possess, v. t. To have as an owner ; to seize ; to acquire ; to accomplish ; to have the mastery over : مالک ہونا - قبضہ کر لینا - حاصل کرنا - دخل * رکھنا - تمام کرنا - مالک ہونا - سوار یا غالب ہونا What possessed you that you did such thing : تم پر کیا سوار ہوا کہ تم نے ایسی حرکت کی

Possession, n. The state of owning ; the thing possessed ; property : - قبضہ - مال مقبوضہ - ملک - ملکیت * is nine points of the law, —قبض بالجبر * forcible—دلیل المملک * Warrant of—, دخل نامہ

Possessive, a. Having possession : * نابض * The genitive case in grammar : ضفاف

Possibility, n. The power of being ; a contingency : احتمال - امکان - امر ممکن - اتفاق

Possible, a. That may be ; that can be done : شدنی - ممکن

Possibly, ad. Perhaps ; perchance : شاید - غالباً

Post, n. A pillar : ستون * A station ; employment : کام * A letter carrier : The mail : ڈاک * A sort of writing paper : ایک قسم کا کاغذ * v. t. To advertise : To place : رکھنا * To put in the post office : ڈاک میں ڈالنا * To transfer to the ledger : جلد چلنا * v. i. To travel with speed : چلنا

Postage, n. The money paid for the conveyance of letters : ڈاک کا محصور

Postal, a. Relating to posts or the carrying of mails : ڈاک کے متعلق

Post-date, v. t. To date after the real time : اصل تاریخ کے بعد کی تاریخ لکھنا - متی بڑھا کر لکھنا

Poster, n. A courier ; a placard : ہرکارہ - قاصد - تختہ اشتہار - اشتہار

Posterior, a. Later ; hinder : پچھلا - موخر - پسین

Posterity, n. Descendants ; children : نسل - اولاد - نسل بعد نسل * To the latest—, لے کے بالے

Postern, a. Behind ; private : خفیہ : چھوٹا پوٹک - ڈریجہ - چور دروازہ

Postfix, n. A suffix : جو پیچھے لگایا جاوے : جوڑنا - پیچھے لگانا

Post-haste, ad. With speed : بہت جلد - شتاب سے - تیزی سے

Posthumous, a. Born or published after one's decease : بعد وفات پیدا ہوا یا بعد انتقال مصنف چھاپا : جو بچہ ماں یا باپ کے مرنے کے بعد ہو * child, —بپ تھار

Postil, n. A marginal note : حاشیہ کی شرح

Postillion, n. The rider of a coach horse : گاڑی ہانکنے والا

Postman, n. A courier ; a letter carrier : قاصد - چٹھی رساں

Postmaster, n. The officer who has charge of a post-office : ڈاکخانہ کا انسرف

Postmeridian, a. Being in the afternoon; late :
دوپہر چڑھنے کے بعد کا - دارِ نرکے - پیررت

Post-mortem, a. After death : بعد وراثت - بعد مرگ

Post-office, n. An office where mail letters are received and distributed : ڈاکخانہ

Postpone, v. t. To adjourn; to delay : ملتوی رکھنا - توقف کرنا - ہٹا دینا - قائل

Postponement, n. The act of postponing to a future time; delay : اتوارا - توقف - دیر

Postscript, n. A paragraph added to a letter or writing : جز عبارت خط یا فرشتہ میں بعد کو لکھی جاوے - تتمہ خط

Post-town, n. A town having a regular post office : قصبہ جس میں ڈاکخانہ ہو

Postulate, n. Anything taken for granted : اصل * موضوعہ - فرضی دعویٰ - امر بدیہی - امر مفروضہ
v. t. To assume; to solicit : فرض کرنا - مانگنا

Postulation, n. An assumption without proof; supplication : دعویٰ بلا دلیل - فرض - امتدعا - التماس

Posture, n. Attitude; mood; place; position : وضع - حالت - صورت - قہاقبہ - جگہ - مقام

Posy, n. A motto : کھارٹ * A bouquet : یادگاری کا چولہا * ring, گلستانہ

Pot, n. A metallic or earthen-ware vessel; a cup : دوالا نکل گیا * Gone to the—, has become bankrupt : برباد ہو گیا * **v. t.** To place in pots; to preserve in pots : برتن میں رکھنا - برتن میں مریا یا اچار ڈال کر رکھنا

Potable, a. Drinkable; fit to drink : پینے کے لائق نوشیدنی

Rotash, n. The impure alkali obtained from wood ashes : کھار - سبھی مٹی

Potation, n. A drinking; a draught; a drinking bout : جرعہ - کورنٹ - شربت - جاس - نوشی

Potato, n. A well-known plant and its excellent root : آکر کا درخت - آلو

Potency, n. Power; influence; efficacy : طاقت - اختیار - اثر

Syn. - Might, force, vigour, strength, energy, efficacy.

Ant. - Weakness, feebleness, inactivity.

Potent, a. Efficacious; mighty; influential : مؤثر - طاقت ور - ذی اختیار - بااختیار

Potentate, n. Any one possessing great power; a sovereign : بڑے اختیار والا شخص - بادشاہ - فرماؤروا - شہنشاہ

Potential, a. Existing in possibility, not in act; efficacious : موجودہ * mood : صیغہ امکانیہ

Potentiality, n. Inherent capacity for development; possibility : استعداد ذاتی - جہلی قوت - امکان - احتمال

Potently, ad. Powerfully : بزور - طاقت سے

Pother, n. Bustle; confusion : ہنگامہ - ہڑتائی - جھنجھٹ

Pot-herb, n. Any vegetable suitable for cookery : توکاری - بیاجی - سبزی - سبک

Pot-house, n. A low drinking house : بڑے خانہ

Potion, n. A draught; liquid medicine; a dose : شربت - جرعہ - عرق - دوا کی خوراک

Pot-herd, n. A bit of a broken pot : ہانڈیکا ٹکڑا - ٹوٹے ہوئے برتن کا ٹکڑا

Pottage, n. A thick soup : گاڑھا شوربا

Potter, n. A mark of earthen vessels : کھار - کوزہ گڑ

Pottery, n. The vessels of a potter; the place, where earthen-ware goods are made : کھار کے برتن - مٹی کے برتن بنانے کی جگہ

Pottle, n. A measure of two quarts; a small fruit basket : دو سیر کے قریب کا پیمانہ - چھبڑی - توکری - چنگی

Pouch, n. A small bag : کیسہ - تھیلا * **v. t.** To pocket; to swallow : جیب میں رکھنا - نگل جانا

Foult, n. A young chicken : چرڑے - مرغی کا بچہ

Poulterer, n. One who sells fowls : مرغی بیچنے والا

Poultice, n. A cataplasm; a soft soothing application for tumours, etc. : **v.** * پائس - ایپ - ضامان * **t.** To apply a poultice to : پائس لگانا - لیپ کرنا

Poultry, n. pl. Domestic fowls : مرغی - پالتوی پرند

Pounce, n. The talon of a bird of prey : - پانچہ -
پارنیک سفوف یا بکنی * A fine powder : چمک

Pounce, v. t. To sprinkle with powder ; to perforate : پانچنا * *v. i.* To fall and seize : چوہنگر پکڑنا - پانچہ میں پکڑنا

Pound, n. A standard weight : پونڈ - آدھ سیر کا * ۲۰ شلنگ یعنی ۴ روپے * Twenty shillings : رزت * A pinfold : پانچہ * *v. i.* * To beat with something heavy : کوٹنا * To impound : احاطہ میں بند کرنا - گپیرونا

Pour, v. t. To discharge in a continuous stream ; to emit ; to utter : انڈیلنا - دھار باندھکر چھڑنا - * مورسلا دھار برسنا - نکالنا - بیان کرنا - منہ سے نکالنا * *v. i.* To issue forth ; to flow : - آنا - چھڑنا - آنا - پھرتا - پھرتا

Pout, n. A sullen look : - اورداسی * *v. t.* To thrust or push out the lips : - دھک دھولنا - دھک دھولنا

Pouting, n. Childish sullenness : - اڑکوں کی ایسی ضد

Poverty, n. Indigence ; need ; defect : - مفلسی - احتیاج - کمی - تھپی دستی - تنگدلی
Syn — Penury, want, destitution, need.
Ant. — Plenty, affluence, riches, wealth.

Powder, n. A fine dust ; gunpowder : - سفوف - پھولانا - سفوف * *v. t.* To pulverize ; to sprinkle with powder ; to salt : پھولانا - سفوف - چھڑکنا - نمک چھڑکنا

Powdered, a. Sprinkled with powder ; salted : سفوف چھڑکا ہوا - نمک لگا ہوا

Powder-flask, n. A case in which gunpowder is carried by sportsmen : - باروت دانہ - باروت کی کھی

Powdery, a. Dusty ; friable : - دھول سا - ہیز ہوا - سفوف ہونے کے قابل

Power, n. Capacity ; might ; strength ; sway ; قابلیت - طاقت - زور - حکومت - قانونی - اختیار - مختار نامہ - * Exertion of executive — مختار نامہ - of attorney — نوج - لشکر * حاکم اعلیٰ - حکومت بالا - Paramount — Summary — سزوی اختیار

Powerful, a. Mighty ; efficacious ; forcible : طاقتور - موثر - زبردست

Powerless, a. Without power ; impotent ; کمزور - نامرد

Pox, n. An eruptive disease : - چھبک - گھبی - آتشک اور اسی قسم کی بیماری

Poy, n. A rope dancer's pole : - تکت کا تماشہ کرنے کا بانس

Practicable, a. That may be done ; feasible : ہونے کے قابل - شدنی - ممکن

Practical, a. Pertaining to practice or action ; that may be turned to use ; gained by practice or experience ; skilled in actual work : - مشقی - عملی - جو کار آمد ہو سکے یا عمل میں آسکے - مفید - کام کا - عمل یا تجربہ سے حاصل کیا ہوا - کام کرنے سیکھا ہوا

Practically, ad. By use ; in real fact : - - مشق سے - از روئے تجربہ - درحقیقت

Practice, n. Custom ; habit ; constant use ; action ; art ; profession : - دستور - عادت - مزاولت - Sharp practice, بد معاشری - ڈبک دینا

Practise, v. t. or i. To do frequently or habitually ; to exercise any profession ; to commit : عادت ڈالنا - عزماً یا عادتاً کچھ کرنا - مشق کرنا - عمل میں لانا - پیشہ اختیار کرنا - مرتکب ہونا

Practitioner, n. One who is engaged in any art or profession : پیشہ ور - شخص جو طبابت یا وکالت کرتا

Prairie, n. An extensive tract of grass land : ٹھاس کا بڑا میدان

Praise, n. Commendation ; approbation ; fame ; glorification : - تعریف - ترصیف - شہرت - ثنا - مدح - * *v. t.* To extol ; applaud ; to magnify : - تعریف کرنا - تعسین کرنا - سراغنا - حمد کرنا - بڑھانا

Praiseworthy, a. Deserving praise ; commendable : قابل تعسین - قابل تعریف - مستحسن

Prance, v. t. To bound ; to ride ostentatiously ; to ride pompously ; to strut about : - ارچھلنا - کردنا - تڑک سے سوار ہونا - اسپ جولان پڑ سوار ہوکر جانا - اڑتے پھرنا

Prank, v. t. To decorate : - زینت دینا * *n.* A feat ; a trick : - شوخی - کھیل - اٹھکھیلی - چرھلاری

Prate, *v. t. or i.* To talk idly ; to utter foolishly ; to chatter : بیہودہ بکنا - یاوہ گوئی کرنا - فضول گوئی : بول اٹھنا * *n.* Idle talk ; گپ - بکواد - بڑبڑ - بے معنی : بیگراس

Prætor, *n.* A Roman civil officer : زمانہ قدیم میں روم کا سول افسر

Prætorium, *n.* The judgment hall ; a palace : انصاف کا کمرہ ایوان عدالت - محل

Prattle, *n.* Childish talk : باتیں سی یاوہ : لڑکونکی سی گوئی

Prattler, *n.* An idle talker : بیہودہ بکنے والا - یاوہ گو

Prawn, *n.* A shell-fish like a shrimp : چھینکا مچھلی

Pray, *v. t. or i.* To entreat ; to beg ; to address God : منت کرنا - عاجزی کرنا - درخواست کرنا - التماس کرنا - دعا مانگنا

Prayer, *n.* A petition ; supplication ; the form of devotion : درخواست - التماس - استدعا - عرض - دعا - نماز - مناجات

Prayer-book, *n.* A book containing the forms of devotion : ورد وظیفہ کی کتاب - نماز کی کتاب

Prayerful, *a.* Devotional : عبادتی - نمازی

Prayerless, *a.* Habitually neglecting prayers : بے نماز

Prayer-meeting, *n.* A gathering for public prayer : جماعت کی نماز

Preach, *v. t. or i.* To pronounce a discourse publicly on religious subjects : وعظ کرنا - تلقین کرنا - خطبہ پڑھنا

Preacher, *n.* One who preaches : وعظ - مناد

Preachment, *n.* A sermon : وعظ - تلقین

Preamble, *n.* Preface ; the introductory part of a statute : دیباچہ - عنوان - تمہید - بزمکما

Prebend, *n.* A stipend in a collegiate church : مذہبی کالج کا وظیفہ

Prebendary, *n.* The stipendiary of a collegiate church : گرجے کے کالج کا وظیفہ دار

Precarious, *a.* Uncertain ; unsettled ; insecure : غیر معین - مشکوک - بے طور ٹھکانے غیر مستحکم - بے ثبات

Syn—Unsteady, doubtful.

Ant—Steady, firm, sure, undeniable.

Precariously, *ad.* Uncertainly ; doubtfully : بے تعین - شبہ سے

Precative, *a.* Suppliant ; beseeching : - متعجب - استدعی

Precaution, *n.* Care beforehand ; a preventive measure ; anticipatory measure of safety : پیش بندی - عادت اندیشی - احتیاط - تدبیر - تدارک

Precautionary, *a.* Containing previous caution : احتیاطی - پیشبندی کا

Precede, *v. t.* To go before in time, rank, place or importance : پہلے عرفاً - مقدم ہونا - ترجیح رکھنا - بالا نشین ہونا

Precedence, *n.* Priority of time ; superior rank ; the right to a more honourable place : تقدمت - ترجیح - حق صدارت یا بالا نشینی

Precedent, *n.* Example ; the thing that is followed or is adduced, as a rule : نمونہ - نظیر جسکی بطور قاعدہ یا نظیر پیروی ہوتی ہے

Precentor, *n.* The leader of a choir : پہلی راگ اوڈیاڈیرالا

Precept, *n.* A commandment ; an injunction ; rule of action ; maxim : فرمان - حکم - حکمنامہ - پند

Preceptor, *n.* A teacher ; an instructor : معلم - استاد - اادیب

Preceptress, *n.* A female teacher : اوستانی - گزراہن - معلمہ

Precession, *n.* The act of going before : پیش روی

Precinct, *n.* An outward limit ; a boundary ; a territorial district or division : حد - میقن - سرحد - سوائے

Precious, *a.* Valuable ; of great worth : بیش بہا - قیمتی - اتمول

Preciously, *ad.* Valuably ; in great esteem : بیش بہا سے - بڑی توقیر سے

Precipice, *n.* An abrupt descent ; a headlong steep : تھال - نشیب - کراڑا - ٹیلا

Precipient, *a.* Directing : حکم دیتے ہوئے

Precipitance, *n.* Rash haste ; headlong hurry : جلد بازی - شتابی - نہایت جلدی

Precipitant, n. Falling headlong; hasty : سر کے بل گرنے والا - جلد باز

Precipitate, v. t. or i. To throw headlong; to hurry rashly; to throw to the bottom : سر کے بل کرنا
 a. Headlong; rapid; incautious; violent : سرنگوں - سر کے بل - شتابکار - جلد باز - تیز - بے کامل - تند - ہرزہ یا

Precipitation, n. Great hurry; rapid movement : شتابانی - تیزی

Precipitately, ad. Hastily; rashly : جلد سے - باز سے

Precipitous, a. Very steep; abrupt; headlong : بہت ڈھلوانا - گہرے - ناعوامار - سر کے بل - اوندھا

Precis (Pre-si), n. A brief abstract; a summary : خلاصہ اختصار - گوشوارہ

Precise, a. Accurate : صحیح - بعینہ - ٹھیک * Definite : مقرر * Nice : مہین - مقرر * Formal : باضابطہ * Strict : باریک بین

Syn. Exact, correct, definite, explicit.

Precisely, ad. Accurately; formally : ٹھیک - جیسا کہ تیسرا - جیسے - the same - باضابطہ کا تیسوں

Preciseness, n. Accuracy; nicety : صحت - درستگی - عمدگی

Precisian, (Pre-sichan) n. One who is rigidly exact in the observance of rules or form : ضابطہ اور قواعد کا سخت پابند - مستطاب - مستطاب

Precision, n. Accuracy; nicety : صحت - عمدگی

Preclude, v. t. To shut off; to prevent from happening : بند کرنا - روکنا - باز رکھنا - منع کرنا

Syn. Hinder, prevent.

Preclusion, n. The act of shutting out : ممانعت - روک

Preclusive, a. Hindering beforehand : مزاحم - روکنے والا - مانع - خارج

Precocious, a. Ripe before the proper time; premature; mature in understanding at an early age : کم سن میں بڑی عقل یا ذہانت کو پہنچا ہوا - وقت سے پہلے پکا - پیش از وقت - بے موسم

Precocity, n. Premature growth; early development of the understanding : پیش از وقت پختہ ہونا یا پک جانا - کم سن میں عقل کی پختگی

Precognition, n. Previous knowledge or examination : جانچ یا علم سابقہ

Preconceive, v. t. To form an opinion or idea beforehand : پہلے سے رائے قائم کر لینا

Preconception, n. Opinion or idea previously formed : رائے سے پہلے سے قائم کر لی جاوے

Preconcert, v. t. To settle by previous agreement : پہلے سے اقرار کر کے تصفیہ کر لینا

Precursor, n. A forerunner : آگرا * An omen : شگون - فال

Syn. - Messenger, harbinger, herald, forerunner.

Ant. - Follower, retainer.

Precursory, a. Forerunning; preliminary : پیش رو - مقدم - ابتدائی

Predaceous, a. Living by prey or plunder : شکار - پیشہ

Predatory, a. Pillaging; ravenous : غارتگر

Predecessor, n. A person who has gone before in place, position or office : بزرگ جد - مرث - مسبق - پیشین

Predestinarian, n. A person who believes in predestination : تقدیر کا قائل - قسمت کا ماننے والا

Predestinate, v. t. To preordian; to decree beforehand : پہلے سے مقرر کر دینا - تقدیر کرنا - مقرر کرنا - سر نوشت لکھنا

Predestination, n. The immutable purpose of God : تقدیر - قسمت - مقرر - سر نوشت

Predetermination, n. Purpose formed beforehand : پہلے سے مقرر کیا ہوا کام - پہلے سے مصمم کیا ہوا ارادہ

Predial, a. Belonging to land or farms : متعلق بہ اراضی

Predicable, a. That may be affirmed : ممکن التیہان - گفتنی

Predicament, n. Category; Plight; trying situation : آفت * جنس فہرست : آفت - نازک حالت

Syn. - Class, condition, state.

Predicate, n. That which is affirmed or denied; (Gram.) that which is said of the subject : کسی اقرار کرنا - کہنا - بیان کرنا - معنی : خبر رکھنا - کہنا - مناسب کرنا

v. t. or i. To affirm; to assert; to imply : * نعل کی فقی یا اثبات - خبر رکھنا - کہنا - مناسب کرنا

Predication, n. Affirmation ; assertion or denial :
اقرار - نفي یا اثبات

Predict, v. t. To prophesy ; to forebode :
غیب کی بات کہنا - پیشین گوئی کرنا - آگم کہنا

Syn.- Foretell, foreshow, forbode.

Prediction, n. Prophesy ; augury :
غیب گوئی - آگم - پیشین گوئی

Predictive, a. Prophetic :
پیشین گو

Predictor, n. One who forebodes :
غیب گو - آگم

Predigestion, n. Digestion too soon performed :
غذا کا بہت جلد ہضم ہونا - زود ہضمی

Predilection, n. A liking beforehand ; partiality :
میل - خاطر - رغبت - طرفداری

Predispose, v. t. To incline or fit previously ; to give a tendency to :
پہلے سے مائل کرنا - پہلے سے اثر پزیر کرنا

Predisposition, n. Previous propensity or fitness :
رغبت - شوق

Predominance, n. Prevalence ; superiority :
غلبہ - فوقیت

Predominant, a. Prevalent ; superior ; ascendant :
مروج - غالب - برتر - فائق - بالاتر

Predominate, v. t. or i. To prevail ; to surpass in strength or influence :
غالب ہونا - غلبہ کرنا - فائق ہونا - زور یا اختیار میں زیادہ ہونا

Pre-eminence, n. Superiority in excellence ; priority of position or rank :
ترجیح - فوقیت - عظمت - فضیلت - رتبت

Pre-eminent, a. Highly distinguished in excellence ; surpassing others :
برتر - افضل - بڑھکر

Pre-emption, n. The act or right of buying before another :
حق خریداری - حق شفع

Pre-engagement, n. A prior attachment :
شرط - مقدمہ - معاہدہ سابق

Pre-exist, v. i. To exist beforehand :
پہلے سے موجود ہونا

Pre-existence, n. Existence before something else :
وجود مقدم

Preface, n. An introductory speech or writing ; a preamble :
v. t. To say * تمہید - عنوان - دیباچہ

or write something by way of introduction :
تمہید کہنا - دیباچہ لکھنا

Prefatory, a. Introductory :
ابتدائی - تمہیدی - عزرائفی

Prefect, n. A governor ; a commander or superintendent :
حاکم - امیر - ناظم - نگران

Prefer, v. t. To chose ; to esteem more ; to present ; to raise :
پسند کرنا - قدر کرنا - قدر کرنا - عزت کرنا - فرقت دینا - بڑھانا

Preferable, a. Worthy of preference ; more desirable :
قابل ترجیح - زیادہ پسندیدہ - اچھا

Preference, n. The choice of one thing rather than another ; choice :
ترجیح - فرقت پزیر

Preferential, a. Implying preference :
اعلیٰ - برتر - قابل ترجیح

Preferment, n. Advancement to a higher place or dignity ; promotion :
ترقی - سربلندی - بڑھتی

Prefigure, v. t. To exhibit by previous representation :
پہلے سے صورت کا اظہار کرنا

Prefix, v. t. To put before :
آگے لگانا - پیشتر

n. A letter, particle, or word prefixed :
حرف یا لفظ جو آگے لگایا جاوے

Pregnancy, n. The state of being pregnant :
Fertility of thought ; fulness of significance :
پرمٹھی ہونے کی حالت - گریہ

*** Pregnant, a.** Great with child :
بار دار - حاملہ - شہر - بارور - معنی خیز

Fruitful ; suggestive :

Pregustator, n. One who tastes before :
وہ مٹھو یا غلام جو بادشاہ کا کھانا پہلے چبھ لیا کرتا تھا - چاشنی گیر - نمک چس

Prehensible, a. Capable of being seized :
گرفت کی لائق

Prehistoric, a. Relating to a period antecedent to that described in written history :
تواریخی زمانہ سے پہلے کا

Pre-instruct, v. t. To instruct previously :
پہلے سے کھانا یا سمجھانا

Prejudge, v. t. To judge before hearing :
مقدمہ سننے سے پہلے تجزیہ کرنا - مقدمہ - معاہدہ - حکم سزا دینا

Prejudgment, n. Decision without trial or full examination :
تجزیہ قبل یا بلا سماعت

Prejudicate, v. t. or i. To prejudge ; to decide without examination : بغیر سماعت تجزیہ کرنا - بغیر سنے سمجھنے فیصلہ کرنا - کسی امر کا متعصبانہ فیصلہ کرنا

Prejudice, n. Prejudgment ; bias ; mischief ; damage : نجویز بلا غور - تعصب - طرفداری - نقصان - ضرر
v. t. To bias the mind ; to hurt ; to impair : طرفداری کرنا - بچھہ کرنا - نقصان پہنچانا - ہنگامنا

Prejudicial, a. Injurious ; detrimental : مضر - نقصان

Prelacy, n. The office of a prelate : پادری کا عہدہ

Prelate, n. An ecclesiastic of a superior order : معتمد ذہن عیسوی

Plect, v. i. To read a lecture or discourse in public : لکچر پڑھنا - وعظ کہنا

Plection, n. A public lecture ; a di-course : لکچر - وعظ - تقریر

Prelibation, n. Tasting beforehand : چکھنا - پہلے سے ذائقہ لینا

Preliminary, a. Introductory ; prefatory ; prior ; previous : مقدم - ابتدائی - تمہیدی
n. Something introductory ; a prelude : تمہید - عنوان - دیباچہ

Prelude, n. An introductory performance ; a preface : آغاز - تمہید
v. t. or i. To precede ; to preface : شروع کرنا - بانی ہونا - تمہیداً کہنا - تمہید کرنا

Preusive, a. Introductory ; previous : تمہیدی - مقدم

Premature, a. Ripe too soon ; untimely : پیش از وقت - بیروقت - موسم کے آگے

Premeditate, v. t. or i. To consider or design beforehand ; to deliberate : پہلے سے فکر یا تدبیر کرنا - پیش بندی کرنا - غور کرنا

Syn.—Preconcert.

Ant.—Extemporize.

Premeditation, n. Previous deliberation ; forethought : پیش بینی - عاقبت اندیشی - دور اندیشی

Premier, n. The prime minister : وزیر اعظم

Premier, a. First ; principal : اول - اعلیٰ - خاص - مقدم - سب سے قدیم الاصل

Premiership, n. The office of a prime minister : عہدہ وزارت

Premise, v. t. or i. To lay down first propositions ; to preface : منطق میں صغریٰ یا کبریٰ قائم کرنا - بطور مقدمہ بیان کرنا - تمہید کرنا

Premises, n. pl. Each of the two first propositions of a syllogism : * A building and its adjuncts : عمارت اور اس کے متعلق آراضی وغیرہ

Premium, n. Recompense ; a bounty ; value above the original cost : انعام - بخشش - نفع - اصل قیمت سے زیادہ قیمت - بڑھتی - سود - منہحت

Premonition, n. Previous warning or information : اطلاع - نصیحت - پیشتر سے آگاہی یا اطلاع - چتارنی : گاہی

Premonitory, a. Giving previous warning : پیشتر سے اطلاع کرنیوالا

Prenotion, n. Foreknowledge : علم غیب - پیش بینی

Preoccupancy, n. Prior occupation ; previous possession : پہلے کا قبضہ - قبضہ ماسبق

Preoccupy, v. t. To take possession of before another ; to engross beforehand : پہلے سے قبضہ کر لینا - پہلے سے بگڑتہ کر دینا - پہلے سے گھیر لینا

Preominate, v. t. To prognosticate : پیشتر سے کہنا - بد شاگونہ کرنا

Preordain, v. t. To ordain beforehand ; to predetermine : پیشتر سے قائم کرنا - پہلے سے ٹھہرا لینا

Prepaid, a. Paid beforehand : پیشگی دیا گیا

Preparation, n. The act of preparing ; readiness : * A medicinal compound : تیاری - مستعدی - آمادگی کمر بندی - نسخہ

Preparatory, a. Introductory ; preparative : ابتدائی - تمہیدی - تیاری یا درست کنیوالا

Prepare, v. t. or i. To make ready ; to adapt ; to equip ; to provide : تیار کرنا - ٹھیک کرنا - مرتب کرنا - آراستہ کرنا - ساز و سامان کرنا - * To make a beginning : شروع کرنا * To adjust : درست کرنا - ٹھیک کرنا

Prepay, v. t. To pay beforehand : پیشگی دینا - پہلے سے دینا

Prepense, a. Preconceived : آگے سے سرچا گیا - پہلے سے ٹھانا ہوا

Preponderance, n. An outweighing ; superiority of power or influence : زیادہ وزن - طاقت اور حکومت میں بڑھتی - غلبہ

Preponderate, v. t. or i. To outweigh ; to have sway superior to others : زیادہ رزنی ہونا - حکومت میں اوروں سے زیادہ ہونا

Preposition, n. A word put before another to express the relation which one thing bears to another : حرف ربط

Prepositional, a. Having the force or character of a preposition : - حرف ربط کے متعلق

Prepositive, a. Put before : مقدم

Prepossess, v. t. To preoccupy ; to prejudge ; to bias the mind in favour or against : پہلے سے - قبضہ کر لیا - پہلے سے تعریز کر رکھنا - دل پھیرنا - متعصب کرنا - بدظن کر دینا - ایک طرف مائل یا رجوع ہونا

Prepossession, n. Prior possession : قبضہ سابق
Preconceived opinion : جو بات پہلے سے دل میں گھرا
لی جا رہے - حسن یا سؤ ظن - پیچ - پاس

Preposterous, a. Absurd ; foolish ; monstrous : بے معنی - بے درودہ - لغو - عجیب - مہمل - بوج

Prerequisite, a. Previously required : ضروری
n. Something previously required : ضروری شے

Prerogative, n. An exclusive or peculiar privilege : منصب - استحقاق - ادھکار - حق

Presage, n. A prognostic ; an omen ; foreknowledge : v. t. or i. * شگون - فال - غیب دانہ
To predict ; to foreshow : پیشین گوئی کرنا - آگم - کہنا - کبھی شدنی کی علامت ہونا

Presbyter, n. An elder ; a minister ; a parson : بڑا پادری - واعظ

Presbyterian, n. One that belongs to a church governed by a presbyter : جو شخص نہ ایک خاص فرقہ مسیحی کے متعلق ہو

Presbyterian, a. Pertaining to a presbyter : ایک خاص فرقہ مسیحی کے متعلق

Prescience, n. Foreknowledge ; foresight : پیش بینی - غیب دانہ - آگم

Prescient, a. Prophetic : عالم الغیب - غیب دان - پیش بین

Prescious, a. Having foreknowledge : غیب دان

Prescribe, v. t. or i. To appoint ; to command ; to dictate ; to direct : مقرر کرنا - حکم دینا - قنون - جاری کرنا - ہدایت کرنا (Med.) نسخہ لکھنا - دوا بتانا - (Law) حق قدامت کا دعویٰ کرنا

Prescript, n. Direction ; precept : ہدایت - دستورالعمل

Prescription, n. A recipe : نسخہ * A claim from long use or possession : حق قدامت شد آمد

Presence, n. The state of being present : حاضری
The person of a prince or superior : قربت - نزدیکی * Nearness * موجودگی
Personal appearance ; air : شخصی شکل * Readiness : ارادہ - توجہ
- of mind, coolness and readiness to act in occasions of difficulty : * In the—of parties, * * * * *
Dignity of—, * * * * *
Graceful—, * * * * *
بشرفہ

Present, a. Being here ; now existing ; immediate ; attentive ; ready at hand : حاضر - موجود - حال کا - سردست - متوجہ - موجود - زمانہ حال - The present time ; a gift : قدر - تحفہ - پیش کش

Present, v. t. To set before ; to set forth ; to deliver ; to grant ; to appoint ; to lay before for consideration : پیش کرنا - ظاہر کرنا - حوالہ کرنا - بخشنا - مقرر کرنا - قدر کرنا - چڑھانا - سامنے رکھنا

Presentable, a. Capable of being presented : قابل قدر - قابل پیش کش

Presentation, n. An offering ; exhibition ; appointment : قدر - چڑھاوا - نمائش - تقریر

Presentiment, n. Previous apprehension ; a foreboding ; anticipation of evil. آنے والی آفت یا مصیبت کا اندیشہ یا آگم - دل میں فتر

Presently, ad. Shortly ; before long ; instantly : حال - ابھی - فوراً

Preservation, n. The act of keeping safe ; security : محافظت - نگہداشت - بچاؤ

Preservative, a. Having the power of keeping safe : محافظت کا اختیار رکھنے والا - بچانے والا - n. A preventive of injury or decay : محافظ - پرائیورال

Preserve, v. t. To keep safe ; to sustain ; to secure ; to season : محفوظ رکھنا - قائم رکھنا - بچاؤ * n. Fruit preserved : بچا ہوا میوہ

Preside, v. t. To sit over other ; to exercise superintendence :
صدر نشیں ہونا - میز منجاس
ہونا - نگرانی کرنا

Presidency, n. The term, office, residence or jurisdiction of a president :
زمانہ صدر نشینی - عہدہ
میز منجاس - صدر نشینی کی حکومت کا علاقہ - صوبہ

President, n. The chief officer of a state or society ; chairman :
حاکم - میز منجاس - چیرمین
صدر نشین - صدر انجمن

Presignify, v. t. To intimate beforehand :
آگے سے
جگانا - بیشتر سے ظاہر کرنا

Press, v. t. or i. To squeeze ; to crush :
نچورنا -
آغوش میں : To embrace closely :
کپٹنا
کپٹنا * To drive :
گھسیڑنا
چپڑنا * To urge ; to distress :
اڑکانا - اڑگانا - مجبور کرنا - تکلیف دینا
لپٹانا - بھیڑ کرنا - دست
To crowd ; to encroach :
To crowd ; to encroach : دست
To impress :
مجبور کرنا * To compel :
دراز کرنا
To—against, to bear strongly on :
بیکار پکڑنا
To—down, to bear down :
آگے بڑھانا
To—forward, to urge on :
دبانا * To
To—out, to squeeze :
نچورنا * To—upon, to push against :
ٹھکڑنا * To invade :
حملہ کرنا
To—for immediate payment, :
تک طالبی کرنا - دھرونا
To—on, :
آگے بڑھنا یا چلنا قدم رکھنا * To—upon, :
نچورنا * n. An instrument for squeezing :
شکنجہ * A printing machine :
چاپ پرنے
A crowd :
گھم - کسی کی کل - چھاپہ خانہ - طرح
Urgency :
ضرورت - حاجت

Press-gang, n. A detachment of seamen that impresses men into the naval service :
بھی
افسروں کی گروہ جو ملازمت کے لئے لوگوں کو زبردستی پکڑتی ہے

Pressing, n. Urgent ; importunate :
ضروری -
داغیز

Pressman, n. One who works at the press :
چاپ پرنے والا

Pressure, n. The act of pressing ; affliction ; urgency ; impression :
دباؤ - صدمہ - ضرورت -
دباؤ
کام کی * Under the—of business, :
تاکید - دباؤ
گھرت سے

Prestige, n. Fascination ; imposture ; influence :
نظر بندی - دھوکا - شعبہ
بازی - رعب داب - اقبال - نام
created by past success :
بازیا - رعب داب - اقبال - نام

Presume, v. t. or i. To take for granted ; to think ; to infer ; to venture without leave :
فرض کرنا - خیال کرنا - نتیجہ نکالنا - بغیر اجازت ارادہ
کرنا - جرات کرنا

Presumption, n. A strong probability ; opinion ; arrogant ; assurance :
امکان - احتمال - گمان -
Probable * قیاس - رائے - تکبر - گھمنہ - گستاخی - اعتبار
Strong or violent—, :
احتمال قوی
ظن غالب

Syn.—Arrogance, forwardness, audacity.

Presumptuous, a. Arrogant ; wilful ; over-confident ; daring :
مغرور - متکبر - ضدی - ہٹھی -
خود رائے - پر زعم - گھمنہ - دلیر - جاہل

Presuppose, v. t. To imagine beforehand ; to assume :
پہلے سے فرض کر لینا - قیاس کر لینا - آگے سے
مان لینا

Presupposition, n. Presumption ; previous surmise :
گمان - قیاس - قیاس پیش از وقوع

Pretence, n. False show ; a pretext ; a feigned claim :
خیلہ - بہانہ - ظاہر داری - بناوٹی دعویٰ

Pretend, v. t. To hold out falsely ; to feign ; to claim :
ظاہر دار کرنا - بھرتہ کرنا - دعویٰ باطل کرنا
v. i. To allege falsely ; to lay claim ; to aspire :
دھرونا دعویٰ کرنا - استحقاق ظاہر کرنا - حوصلہ کرنا

Pretender, n. One who pretends or lays claim :
دھرونا دعویٰ کرنا

Pretension, n. A claim, true or false ; an assumed right :
دعویٰ - فرضی حق

Pretentious, a. Full of pretension ; presuming :
ظاہر دار - بناوٹی

Syn.—Assuming, conceited, vain.

Preterite, a. Past :
گذشتہ - ماضی

Preterition, n. The act of going past :
حالت
گذشتہ

Pretermit, v. t. To pass by ; to omit :
در گذر کرنا - تری کرنا - درگذشت کرنا

Preternatural, a. Beyond what is natural ; extraordinary :
خلاف خلقت - غیر معمولی - خلاف
دستور - خلاف روضہ کا یثبات - کراماتی

Pretext, n. A pretence; assumed reason or motive : بہانہ - حیلہ - بناوٹ - مکر - فرضی وجہ

Prettily, ad. Elegantly; pleasantly : بد نفاست - بد اطاعت

Pretty, a. Neat; fine; pleasing : نفیس - عمدہ - شوقین : - Foppish * صاف * Neat * خوشنما - پرتکلف
ad. * حقیقہ - ادنیٰ - ناچیز * Contemptible * وضعدار
کسیقدر - کچھہ Tolerably; in some degree :

Prevail, v. i. To overcome; to be in force; to prevail : قابض کرنا - غالب ہونا - فرقت رکھنا - راجع
To — on, upon, to persuade : راغب کرنا - ماننا

Prevailing, a. Predominate; most common; current; efficacious : راجح - مزوج - جاری - موثر

Prevalent, a. Efficacious; powerful; most generally received : مرثر - زور آور - مستعمل - مزوج

Prevaricate, v. i. To evade from the truth; to equivocate; to shuffle : خلاف بیان کرنا - زبان بدلنا -
ٹال مٹول کرنا - سوال کے صحیح جواب سے بچنا - الغلط
مہم بولنا - حیلہ حوالہ کرنا

Prevenient, a. Going before; preventing : پیشقدم - مانع

Prevent, v. t. To obstruct; to thwart; to intercept : تعرض کرنا - روکنا - باز رکھنا - تقدیم کرنا

Prevention, n. Hindrance; obstruction : تعرض - مزاحمت - ممانعت - روک

Preventive, a. Tending to hinder; hindering : مزاحم - مانع - دافع - بیمہاری کو دور رکھنے والی

Preventive, n. That which hinders : روک - علاج - اوپاے - دوا مانع مرض

Previous, a. Foregoing; antecedent; former : اگلا - سابق - گذشتہ - پہلا - سابقہ

Previously, ad. Antecedently : سابقاً - پیشتر سے - پہلے سے

Prevision, n. Foresight : پیش بینی

Prey, n. Spoil; plunder; ravage; a victim : لوٹنا - شکار - صید : - To pillage; to seize and devour; to waste gradually : ارتقا -
(as, Grief شکار کرنا - پکڑ کر کھا جانا - گھلانا - گلانا preyed on him.)

Price, n. The equivalent paid for anything; cost; estimation; reward : معاوضہ - صرفہ - قیمت -
توقع مال - current, * مول - قدر - صلہ - اجر
توقع بازار

Priceless, a. Invaluable; without price : انمول -
بے قدر ناچیز * Worthless : بے بہا

Prick, v. t. To pierce; to erect; to goad; to sting : چبھنا - چبھونا - بیدھنا - کھڑا کرنا - ایڑ مارنا -
v. i. To become acid; To * ترش ہونا - کھٹا ہونا - ایڑ مارنا -
— up the ears, to appear attentive : کان تڑے :
n. * ہونا - ہوشیار ہونا - کڑتیاں بدلنا - چوکھٹا ہونا
ایڑ : - Goad * وجہ * Prickle : * مہمیز * Spur
نوک : - Point * درد * Pain * آنکس

Prickle, n. A small sharp point; thorn : نوک - خار - کانٹا

Prickle, v. t. To prick : چبھونا

Prickly, a. Full of sharp points : پر خار - خار دار - کٹیلا

Pride, n. Inordinate self-esteem; haughtiness; ostentation; loftiness; insolence : غرور - نشتر -
v. t. To rate اپنے کو بہت لگانا یا بڑا high; to be proud of :
محبوبنا - غرور کرنا - گھمنڈ کرنا

Priest, n. A minister; a clergyman : پادری

Priestcraft, n. Priestly stratagems and frauds :
مرد یا پادریوں کا فریب

Priestess, n. A female priest : پجھارن

Priesthood, n. The office or character of a priest : پجھاری کا عہدہ

Priestly, ad. Pertaining to a priest; sacred : پجھاری کے متعلق - مردانہ

Prig, n. A thief; a conceited, narrowminded fellow : چوری کرنا - مرستا
v. t. To file : * چور - دزد - چھپل - بانکا : fellow

Prim, a. Neat; precise; formal : صاف - ٹھیک - تکلف مزاج - سنجیدہ

Primacy, n. The dignity or office of a primate : بڑے پادری کا رتبہ یا عہدہ

Prima facie, At first sight : بدیہہ نظر - بدیہی -
ظاہر

Primal, a. First ; original : اول - اصلي - مقدم

Primary, a. Original ; first ; principal : ابتدائی -

اصلي - اول - خاص

Primate, n. An archbishop : سردار پادري - امام

Prime, a. First ; original ; principal ; capital ; early ; first in excellence ; blooming : اول - مقدم -

* اصلي - خاص - جلد - اول درجہ کی - آغاز - اٹھتا ہوا

A—number, (Arith.) A number not divisible

without remainder by any less number than

itself except unity : عدد جو دوسرے عدد سے بغير

عدد جو دوسرے عدد سے بغير نہ ہو سکے

n. The dawn ; youth ; the best portion : utmost perfection :

ترکيا - * سويريا - صبح - شہاب - بہتر حصہ - حصہ اولی - کمال

—of life, **v. t.** To put powder in the pan of a firearm :

رنگینک دینا یا : * عالم شہاب - عنوان جوانی

To cover with a first colour :

* رکھنا - شتابا لگانا

Primer, n. A small elementary book for child-

ren : پہلی کتاب - قاعدہ کی کتاب - پرائمر - ایک قسم : ren

کے چھاپے کے حروف

Primeval, a. Pristine ; original : اول - ابتدائی -

اصلي

Priming, n. The powder used to ignite the

charge : رنگینک

Primitive, a. Original ; old fashioned ; formal :

n. An original word : اصلي لفظ

Primness, n. Affected formality or niceness ;

preciseness : بناوٹی تکلف

Primogenitor, n. The forefather ; an ancestor :

پڑکھیا - جد

Primogeniture, n. Seniority by birth : بزرگی -

بزرگی - جیہٹھائی

Primordial, a. First in order ; existing from

the beginning : اصل - اصول - ابتدا

* اول - ابتدا سے موجود

اصل - اصول - ابتدا

Primrose, n. A flower : ایک تسم کا پھول - بستی

خوش - گلدار - رنگین * a. Gay ; flowery :

Prince, n. A sovereign ; a sovereign's son ; a

chief : * سلطان - پادشاہ - شہزادہ - کنور - سردار :

ملک الشعرا

The—of poets,

Princedom, n. The rank or state of a prince ;

sovereignty : بزرگی - بادشاہت - سلطنت

Princely, a. Royal ; noble ; magnificent : شاہی -

امیرانہ - عظیم الشان

Princess, n. The wife of a prince ; a king's

daughter : ملکہ - رانی - شہزادی - راج کھاری

Principal, a. Chief ; essential ; first ; most

important : * n. A head ; a governor :

* اصل - ضروری - اول - اہم

* The head of a college : کالج کا انسر - پرنسپل

* A capital sum lent on interest : اصل - اصل - جمع - راس

اصل

Principality, n. Sovereignty ; a prince's do-

main : بادشاہت - راج - مملکت - قلعرو

Principally, ad. Chiefly ; above all :

بیشتر - بہت کر کے

Principia, n. pl. First principles : ابتدائی اصول

Principle, n. A source : * جز - اصل - منبع

* An axiom : عام سچائی

* Rule of action, * مسلہ - کھات - علم متعارف

رکن - * A constituent part ; a motive : اصل عمل

سبب

Prink, v. t. or i. To dress for show ; to strut ;

to deck : بناؤ کرنا - اگڑنا - آراستہ کرنا

Print, v. t. To impress ; to stamp : نقش کرنا - طبع

v. i. To practise the art of printing ; to publish :

چھاپنے کا کام کرنا - مہر کرنا

* n. A mark made by impres-

sion : * تصویر : Engraving : نقش - ٹھپا - چھاپہ

* To appear in—, اخبار میں نکلنا

Printer, n. One who prints : چھاپنے والا

Printing, n. The art or practice of impressing

letters or figures ; typography : چھاپنے کا فن -

چھاپائی - چھاپا

Prior, a. Former ; anterior : اگلا - پہلا - اولیوں -

* n. The superior of a convent of monks :

خانقاہ کا سردار

Prioress, n. The female superior of a monastery :

خانقاہ کی سردارنی

Priority, n. Antecedence ; precedence :

سبق -

Priory, n. A convent :

خانقاہ

Prism, n. A solid whose bases or ends are similar, equal, and parallel. plane figures, and whose sides are parallelograms: منشور: منشور - منشور - منشور

Prismatic, a. Pertaining to or formed by prism: منشوری

Prison, n. t. To confine; to enchain: قید کرنا - n. A jail; جیلخانہ - بندی خانہ - قید خانہ - زندان

Prisoner, n. One who is confined in a prison; a captive: قیدی - اسیر - بندھوا

Pristine, a. Original; primitive: اصلي - اول - مقدم - سابق

Prithee, Abbreviation for 'I pray thee' اجی صاحب - سہو تو سہی

Privacy, n. Seclusion; solitude; secrecy: خارت - پوشہ نشینی - تمہائی - ایکانت - پوشیدگی

Private, a. Peculiar to one's self; solitary; not public; secret: * ذاتی - تنہا - خاص - پوشیدہ - * purse, * گڑھستی, * negotiation, * فیہ - پوشیدہ, * In - خفیہ خط و کتابت طور سے

Privateer, n. An armed private ship of war: خانگی جنگی جہاز

Privately, ad. Clandestinely; secretly: چوری سے - پوشیدگی سے - خفیہ - چھپکڑ - چھپ چاپ

Privation, n. The act of depriving; loss; need; negation: محرومی - نقصان - تنگی - محتاجی - محرومی - ادم - نہ ہونا انہوت

Privative, a. Depriving; not positive: سلب کنندہ - n. That which depends on the absence of something else: جو شے کسی غیر چیز کے سلب ہونے پر منحصر ہو

Privilege, v. t. To invest with a peculiar right; to exempt: * استحقاق بخشنا - بڑی کرنا - رہا کرنا - n. A peculiar benefit; prerogative; an immunity: * استحقاق - حق - اختیار - منصب - رعایت - بریت

Syn. - Prerogative, right, immunity.

Ant. - Exclusion, impost.

Privily, ad. Privately; secretly: چھپکے سے - پوشیدہ - خفیہ

Privity, n. Secrecy; joint knowledge: پوشیدگی - چھپکاری - رازداری

Privy, a. Private; secret; privately knowing: خانگی - خاص - پوشیدہ - خفیہ - رازدار - محرم راز * -council, the principal council of the English Sovereign: * مشیران سلطنت - مہر شاعی - جسکی ہاتھ میں مہر سلطانی ہووے * n. A latrine: بیت النظا - پائخانہ

Prize, n. A reward; something taken from an enemy in war; booty: انعام - صلہ - غنیمت - انعام یا اورت کا روپیہ - money, - فوج کی اورت گرفتار کرنا * To make-of, اورت کا مال

Prize, v. t. To rate; to esteem; to value highly: قورخ یا قیمت ٹھہرانا - قدر کرنا - آنکنا - بیش قیمت جاننا - تعظیم کرنا - بڑی قدر کرنا

Prize-fighter, n. One who fights publicly for a prize: دنگ کا پہلوان - انعام کے واسطے لڑنے والا

Prize-ring, n. An enclosed place for prize-fighting: دنگ - اہڑا

Pro, prep. For: براے - واسطے - and con, بحق دلائل یا ابا باب کسی - s and cons, * اور پر خلاف - bono publico, * امر کے حق میں اور اسکے خلاف - forma, * براے رڈا عالم - سب کے فائدے کے واسطے - re nata, * حسب شرع - rata, * حسب ضابطہ موقع موجودہ کے لئے - جیسے صورت حال ہے

Probability, n. Likelihood; appearance of truth; a likely thing. قریبہ - احتمال - قیاس - امر ممکن یا متحمل

Probable, a. Likely; credible: قریب قیاس - اغلب - شدنی - ہونہار

Probably, ad. Likely: غالباً - شاید - احتمالاً - نہیں بسوے

Probate, n. The proof of a will: وصیت نامہ کا پت - رضاجاہ

Probation, n. The act of proving; examination; trial; the period of trial: پت - امتحان - اورائش - زمانہ آزمائش

Probationer, n. One who is on trial; a novice: سہ راز - زبیر امتحان - مہندی - نو آموز

Probationary, a. Serving for trial: چھپکاری - پوشیدگی

Probe, n. A surgeon's instrument : - جراح کا نشتر
 * *v. t.* To search with a probe ; to examine thoroughly : - نشتر سے زخم کو گہرا - لچھی طرح جانچنا

Probity, n. Tried virtue ; rectitude ; uprightness ; sincerity : - راست بازی - صداقت - دیانت
 Syn.—Honesty, uprightness, integrity.
 Ant.—Dishonesty, rascality.

Problem, n. A question to be solved ; a proposition requiring some operation to be performed : - مسئلہ - سوال حل طلب - شکل عملی - امر عمل طلب

Problematical, a. Questionable ; unsettled : - لایق اعتراض - مشتبہ - مشکوک - متنازعہ - غیر طے شدہ

Proboscis, n. The snout or trunk of an elephant : - خرطوم - نوٹ

Procedure, n. The manner of proceeding ; process ; management : - کارروائی - دستور العمل - طریقہ کار - تدبیر - انتظام

Proceed, v. i. To go onward ; to advance ; to come ; to conduct : - آگے جانا - آگے بڑھنا - آنا - عمل کرنا - کاربند ہونا - جاری رہنا - وقوع میں آنا

Proceeding, n. Progress from one thing to another ; a transaction ; step ; operation : - * اجراءے کار - معاملہ - کارروائی - تدبیر - عمل رویکاری تنظیم طلب - حکم درمیانی —* Interlocutory * رویکاری ثبوت طلب

Proceeds, n. pl. Yield ; product ; sum realised from sale : - * of land, * آمدنی - یافت - زرمن - پیدوارائی * نکاسی خام —* Gross * متاصل - وصول - پیدوارائی Sale—* وصول نظام

Syn.—Product, produce, income.

Process, n. Procedure ; advance ; operation ; course of law : - کارروائی - اجراء - عمل - حکم نامہ * تدارک * of duress - * عدالت - پروانہ عدالت * —* of time, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے * —* Mesne * تدارک بالجبر —

Procession, n. The act of proceeding ; a train of persons : - نکاسی - واری - ہرات - جلو - جلوس

Proclaim, v. t. To promulgate ; to announce ; to publish ; to outlaw : - اعلان کرنا - ظاہر کرنا - شہرہ کرنا - مشہور کرنا - منادی کرنا - اشتہار دینا - خارج کرنا - نکال دینا

Proclamation, n. Publication ; an official public announcement or declaration : - منادی - اشتہار - دعوتی - دعوت ہوا

Syn.—Announcement, publication, promulgation.
 Ant.—Concealment, secrecy.

Proclivity, n. Inclination ; tendency ; readiness : - میل - میلان - رغبت - خواہش - چسکا - شوق - آمادگی

Proconsul, n. In ancient Rome an officer who discharged the duties of a consul : - زمانہ ساف میں : روم کا قائم مقام صوبہ دار

Procrastinate, v. t. or i. To put off from day to day ; to delay : - ٹالنا - حیلہ حوالہ کرنا - آج کل کرنا - لیٹ و لعل کرنا - دیر کرنا - تاخیر کرنا

Procrastination, n. Delay ; dilatoriness : - دیر - تاخیر - لیٹ و لعل - تعریق - ٹالا بالا

Procreate, v. t. To beget ; to engender : - جنم - بچہ دینا - پیدا کرنا - تولد کرنا

Procreation, n. The act of begetting ; production of young : - ولادت - پیدائش - بچہ دینا

Proctor, n. An attorney in a spiritual court ; a procurator ; an official in a university : - دینی عدالت کا وکیل - مختار - سربراہ کار - برنی ورسٹی میں ایک انسٹر

Procumbent, a. Lying down : - لیٹا ہوا - جھکا ہوا
Procurable, a. Obtainable : - جو ہم پہنچ سکے - ممکن الحصول

Procuration, n. The act of procuring : - حصول * The management of another's affairs : * تصدیق * Document conferring power : * مختاری - گواہتہ گری مختار نامہ

Procurator, n. A manager of another's affairs ; a proctor : - سربراہ کار - مختار - متولی

Procure, v. t. To acquire ; to gain ; to attract ; to obtain : - حاصل کرنا - پانا - پیدا کرنا - راغب کرنا - میل کرنا

Procurer, n. A pimp ; a pander : - ہم پرورچاندوالا - ہوزرا - کتا

Procuress, n. A female pimp : - کتھی
Prodigal, a. Profuse ; lavish ; extravagant : - * n. A waster ; a squanderer : - فضول خرچ شخص - خراج - شہہ خرچ - مصروف

Prodigality, n. Extravagance; profusion :
فقرول خر چي - اصراف - بربادي

Prodigally, ad. Lavishly; wastefully :
فقرول خر چي ۾

Prodigious, a. Extraordinary; astonishing ; huge; enormous :
غير معمولي - عجيب - انوکھا - بہت بڑا - عظيم - بے اندازہ

Prodigy, n. A portent; a wonder; a monster :
ذال - شگون - تعجب - عجيب الخلقات - عجوبہ - حيرت انگيز شئي

Syn.—Marvel, portent, wonder, miraele.

Produce, v. t. To bring forward; to bring forth; to bear; to bring about; to exhibit; to yield; to effect; to extend :
حاضر کرنا - پيدا کرنا - لانہ - بنانا - دکھلانا - دینا - ظاہر کرنا - باعث ہونا - پيداوار - آمد - حضور - نکاسي

Producer, n. One who generates :
پيدا کرنے والا

Producible, a. That may be exhibited :
جو ظاہر کیا جاسکے - جو پیش کیا جاسکے

Product, n. Yield; result :
پيدا وار - نتیجہ - ثمرہ - حاصل

Production, n. The act of producing; fruit of labour; composition; a prolongation :
نتیجہ - تصنیف - انشا - تطویل - بستار - پڑھو

Productive, a. Efficient; fertile :
پيدا کرنے والا - زر خیز - بار آور - معنی خیز - مضمون آفرین

Syn.—Fertile, generative, fruitful.

Ant.—Barren, sterile, poor.

Productiveness, n. Fertility :
پيدا واري - زرخيزي

Proem, n. An introduction; a preface :
تمہيد - ديباچہ

Profanation, n. A violation of things sacred; desecration :
ناپاکي - نجاست - پورشتنا - چہرت

Profane, a. Unconsecrated; godless; secular; impure; unholy :
ناپاکی - ملحد - دنیوی - نجس - غیر متبرکي

Profanely, ad. Impiously; blasphemously :
ناپاکي - بے ادبي ۾

Profanity, n. Irreverence of sacred things; profane language :
پاک چیزوں کی بے ادبی - کفر - ناپاک الفاظ

Profess, v. t. or i. To declare openly; to own freely; to confess; to pretend :
ظہر رکھنا - ظہر کرنا - قبول کرنا - اقبال کرنا - اقرار کرنا - بہانہ کرنا - حیلہ کرنا

Professedly, ad. With open declaration :
صریحاً - ظاہراً

Profession, n. Open declaration; an avowal; vocation; employment :
اقرار - اقبال دعویٰ - اظہار - حزنہ پیشہ - شغل - نوکري

Professional, a. Pertaining to a profession :
پیشہ کے متعلق

Professor, n. One who makes open declaration :
A public and authorized teacher :
اعلیٰ مدرس - معلم - واعظ

Professorship, n. The office of a public teacher of any art or science :
عہدہ معلمی - عہدہ مدرسہ

Proffer, v. t. To propose for acceptance; to offer; to tender; to undertake :
قدہ کرنا - پیش کرنا - دینے کو کہنا - عظم کرنا

n. An offer made :
عرضی - التماس - درخواست - گذارش - اقدام

Proficiency, n. Skillfulness; excellence :
استعداد - مہارت - فضیلت

Proficient, a. Well-skilled; well-qualified :
فاضل - کامل - ذی استعداد - ماهر شخص

Profile, n. An outline; half face :
خاکہ - یک

v. t. To draw the outline of; to draw with a side view :
یک رخى نقشہ کھینچنا

Profit, n. Gain; emolument; improvement; valuable results :
منافع - نایدہ - یافت - نفع - ترقی - نتایج

v. t. or i. To gain advantage; to benefit; to improve :
تقہ اُنہانا - مفید ہونا - نائدہ - ارتھانا - ترقی کرنا

Profitable, a. Gainful; lucrative; useful :
مفید - نفع بخش - نایدہ مند

Profitless, a. Void of gain or advantage :
بے سود - بے نایدہ

Profligacy, n. A very vicious course of life :

بدکاری - شہدائیں - ارباشی - فسق

Profligate, a. Vicious ; dissolute ; lost to

virtue : **n.** An abandoned man :

آزارہ شخص

Profound, a. Deep ; humble ; abstruse ; skilled ;

submissive ; far-reaching : گہرا - عمیق - حلیم - دقیق - عالم - فاضل - سلیم - غامض

Profound, n. The sea or ocean ; the abyss :

بہر - یا بحر اعظم - قعر

Profoundly, ad. Deeply :

گہرائی سے - باریک بینی سے

Profundity, n. Depth of place or knowledge :

عمیق - گہرائی - باریک بینی

Profuse, a. Extravagant ; liberal to excess ;

lavish ; exuberant : حد سے زیادہ فیاض - مصرت - طراوت تھریز - style, * کٹیز - فراوان - فضول خرچ بیان مزل طریق

Syn. Lavish, prodigal, extravagant.

Profusely, ad. Lavishly ; prodigally :

فضول خرچ سے - بکثرت - مصرفانہ

Profusion, n. Exuberance ; abundance ; extra-

vagance : افراط - بہتائیت - فضول خرچ

Prog, n. Mean or inferior food ; victuals :

لقمہ - **v. t.** To wander begging ; to steal : گدائی * گدائی - بویک کے گزے - خوراک - کھانا مانگنا - چوری کرنا - ناچیز چیزوں سے روزی پیدا کرنا

Progenitor, n. A forefather ; the founder of a

family : مورث * پرکھا - مورث - جد - بزرگ - مورث - مورث اعلیٰ - Remote

Progeny, n. Offspring ; race ; generation :

اولاد - نسل - خاندان

Prognosis, n. A forecast of the course of a

disease : تشخیص مرض

Prognostic, a. Foreshowing ; foreboding :

پیشبین : **n.** A prediction ; an omen ; a sign or symptom of disease : پیشبین گوی - شگون - فال - نشان یا علامت بیماری آثار - پیش نما

Prognosticate, v. t. To forebode ; to prophesy :

پیشبین گوی کرنا - آگم کہنا

Syn.—Foretell, predict, prophesy.

Prognostication, n. The act of foretelling ;

foretold * پیشبین گوی - علامت

Prognosticator, n. One who predicts :

فال گو - رسال - چوتھی

Programme, n. A brief outline of some public

performance or entertainment : کسی تمشہ یا جلسہ کا تفصیل وار اشتہار

Progress, n. Motion forward ; advance ; pro-

gression ; increase ; a circuit ; proficiency : آگے کر * حرکت - بڑھنا * نکاسی - ترقی - بڑھتی - درجہ - لیافت

—of a business, اجراء کار - کارروائی

In—, In— * اثناء دوران مقدمہ

To pass ; to advance :

ترقی کرنا - آگے بڑھنا

Progression, n. Advance ; course ; regular and

proportional advance : بڑھار - رفتار - ترقی - سلسلہ - امداد

Progressive, a. Advancing ; improving :

ترقی کرنا - بڑھتی ہوئے والا

Prohibit, v. t. To forbid ; to interdict ; to pre-

clude : منع کرنا - مزاحمت کرنا - ممانعت کرنا - باز رکھنا - خارج کرنا

Prohibition, n. The act of forbidding :

ممانعت - امتناع - روک

Prohibitive, a. That prohibits ; forbidding :

امتناعی

Project, v. t. or i. To shoot forward :

آگے کر : **To scheme ;** to delineate : آگے کو نکالنا یا ارہوارا ہرنا

n. A plan ; a design ; a contrivance : تدبیر - تجویز - نقشہ

ایجاد - منصوبہ - اختراع

Projectile, n. Impelling forward :

آگے ڈھکیلے : **n.** A body impelled forward ; a missile : آگے کو ڈھکیلی ہرٹی شے - چلا کر مارنے والی چیز

مثلاً بدوق کی گولی - تیز

Projection, n. The act of shooting forward ; a

prominence ; a plan ; a scheme ; a delineation : نکاس - اُبھار - اُنچائی - بندش - خاکہ - نقشہ

Projector, n. One who forms a scheme or

design : منصوبہ باز - موجد

Syn.—Schemer, designer, planner.

Prolate, a. Lengthened ; extended ; stretched :
 ہرا - پھیلا ہوا * v. t. To pronounce ; to utter : تلفظ کرنا - بولنا

Prolific, a. Generative ; fruitful : بچہ دینے والی
 * مضموں خیز دماغ * A-brain - ثعدادار - باردار
 A-woman, سانچے کی سہیلی

Prolificacy, n. Fruitfulness : بار آوری - ثعداداری -
 بیدائش

Prolix, a. Protracted ; long ; tedious : مطول -
 لہذا - دراز - طویل

Prolivity, n. Great length ; tediousness : طوالت -
 اوداسی

Prologue, n. The preface to a discourse or play :
 عنوان مقدمہ دیباچہ - نائک کی تمہید

Prolong, v. t. To lengthen in time ; to extend ;
 to continue : ماتوی کرنا - بڑھانا - دراز کرنا -
 رقمہ ڈال دینا

Prolongation, n. An extension ; delay :
 بڑھاؤ - دیر

Promenade, n. A walk for pleasure ; a place for
 walking : * سیر - گلگشت - روش - سیر - چہل قدمی
 v. t. To walk for amusement : سیر کرنا - ٹہلنا -
 چہل قدمی کرنا

Prominence, n. Conspicuousness ; a protuber-
 ance : نمود - امتیاز - نکاس - اربوآز - بلندی - اونچا -
 حصہ - فراز مقام

Prominent, a. Jutting ; conspicuous ; eminent ;
 نکلا ہوا - ممتاز - سربر آوردہ - مشہور - نمایاں -
 سرداری کرنا - * To take-part, نامی گرامی
 پیشروانی کرنا

Prominently, ad. Eminently ; conspicuously :
 شہرت سے - نمود سے امتیاز سے

Promiscuous, a. Mingled ; indiscriminate :
 منقارطہ ملاجلا بلا تفریق - بلا امتیاز

Promiscuously, ad. Indiscriminately : بے امتیازی
 سے - ملط ماط سے

Promise, n. A declaration more or less formal
 to another ; pledge ; hopes : وعدہ - قول - عہد و
 عہد شکنی * To break a - * To keep a - وعدہ
 وفا کرنا - قول ہارنا
 * v. t. To covenant ; to assure ; to
 اقرار کرنا - عہد و پیمانہ کرنا -
 پیمانہ دلانا - امید دینا - وعدہ کرنا - عطا کرنا

Promissory, a. Containing a promise : اقراوی
 نمسک - ٹیپ - رقمہ - دستاویز * - note, شرعی

Promontory, n. A headland ; a cape : راس -
 اقبزیب

Promote, v. t. To forward ; to advance ; to
 excite ; to elevate ; to abet : بڑھانا - ترقی دینا -
 اوبہ آڑنا - سرفراز کرنا - مدد دینا

Promoter, n. An encourager ; one who
 excites : موید - مددگار - محرک

Promotion, n. Advancement ; encouragement ;
 promotion : ترقی - تقویت - حمایت - بڑھتی -
 سرفرازی

Prompt, a. Ready ; quick ; easy : مستعد - تیار -
 * v. t. To move : بلا عذر - بلا توقف - بلا عذر
 to action ; to instigate ; to dictate ; to assist ;
 to suggest : تھریک کرنا - مستعد کرنا - حکم دینا -
 pay- * مدد کرنا - دل میں ڈالنا - سمجھانا
 ment, ادائیگی بلا توقف - زرقند

Prompter, n. One who prompts ; an admoni-
 sher : یاد دہنیوالا - ناصح

Promptly, ad. Readily ; cheerfully : مستعدی سے -
 فوراً خوش خوش - بد رغبت

Promptitude, n. Quickness ; alacrity : تیزی -
 چلائی - آمادگی - مستعدی

Promulgate, v. t. To make known by open
 declaration ; to proclaim : مشہور کرنا - شایع کرنا -
 منادی کرنا - شہرت دینا - پھیلانا

Promulgation, n. Publication ; declaration :
 اعلان - اشتہار - منادی - اظہار - پھیلاؤ

Prone, u. Bending forward ; inclined ; propense ;
 آگے جھکا ہوا - مایل - راغب - اوندھا -
 سر کے بل

Proneness, n. Declivity , disposition :
 جھکاؤ - رغبت

Prong, n. A pitchfork : کاٹا

Pronominal, a. Belonging to a pronoun :
 متعلق ضمیر

Pronoun, n. A word used instead of a noun :
 * ضمیر لفظ جو بجائے اسم کے استعمال کیا جاوے
 An demonstrative - اسم اشارہ - سنکیت
 حرف استہمام - پرسشارتھک
 An interrogative -
 سرزدام

Pronounce, v. t. To speak ; to utter formally or solemnly ; to declare : - بولنا - کہنا - تلفظ کرنا - حکم دینا - رائے ظاہر کرنا - بیان کرنا

Pronunciation, n. Act or mode of utterance : تلفظ - اُچارن

Proof, n. Evidence ; test ; trial ; demonstration ; firmness of mind ; an impression taken for correction ; impenetrability : - شہادت - آزمائش - امتحان - ثبوت - دلیل - دلکی مضبوطی - قلمی مزاجی - استحكام - چنچھا ہوا کاغذ جانچنے کے لئے - کراپن - **a.** Impenetrable : سختی * سفتی - فیض ممکن الدخولی سخت - کڑا - جسکے بہتر کوئی چیز نہ جاسکے

Prop, n. A support ; a stay : - پایہ - ٹھیک - آڑ - **v. t.** To support ; to uphold : - آڑ لگانا - * رک رکنا - سنبھالنا

Propaganda, n. [From the congregation de propaganda fide, for propagating the faith] An institution for propagating a peculiar set of doctrines : - اصول مذہبی کی ترقی کی جماعت

Propagate, v. t. To beget ; to multiply ; to diffuse ; to extend : - جنمنا - پیدا کرنا - زیادہ کرنا - بڑھانا - منتشر کرنا - پھیلانا

Propagation, n. Extension ; diffusion ; generation : - پھیلاؤ - انتشار - تولید

Propel, v. t. To drive forward ; to urge or press onward by force : - آگے بڑھانا - آگے دھکیلنا

Propend, v. i. To incline to any part or side : - ایک طرف جھکانا - لپکانا

Propensity, n. Tendency of desire : - رغبت - چھکاؤ

Propense, a. Inclined ; prone : - راغب

Propensity, n. Inclination ; tendency ; bias : - میل - رغبت - شوق - طرفداری - چسما - پات

Proper, a. Peculiar ; one's own ; fit ; correct ; real ; becoming : - خاص - اپنا ہی - ذاتی - نچ کا - ٹھیک - درست - صحیح - اصلی - شایستہ - واجب - مرزوں - شاہاں

Properly, ad. Fitly ; rightly ; strictly : - ٹھیک - طح سے - بہ - راہی - جیسا چاہئے ویسا ہی - بخوبی

Property, n. Peculiar quality : * خاصیت - خصلت - مالیت Ownership ; an estate : - حقیقت - * ترکہ - میراث - of deceased, * ملک - املاک

Forfeiture of--, مال - ضبطی مال - * جائیداد منقولہ -

Prophecy, n. A foretelling ; a prediction ; preaching : - پیشین گوئی - آگم - وعظ - کتھا - الہام - غیب گوئی

Prophecy, v. t. or i. To foretell ; to predict : - پیشین گوئی کرنا - آگم کہنا
Syn. - Foreshow.

Prophet, n. A foreteller ; an interpreter : - پیشین گوئی کرنے والا - غیب گو - رسول - پیغمبر

Prophetess, n. A female that foretells : - نبیہ - الہام گو عورت

Prophetic, a. Foretelling future events : - الہامی - غائبانہ

Prophylactic, a. Preventive : - روکنے والی - مرض سے محفوظ رکھنے والی دوا

Propinquity, n. Nearness in time ; neighbourhood kindred : - قریب - ہم سایگی - قرب - قرابت - ذاتا

Propitiate, v. t. or i. To appease ; to conciliate ; to atone : - منانا - مہربان کرنا - کفارہ کرنا

Propitiation, n. The act of appeasing ; atonement : - رضامندی - کفارہ پر ایشچت

Propitiatory, n. Seiving to render favourable : - راضی یا مہربان کرنے والا

Propitious, a. Favourable ; kind ; gracious : - مزائق - مہربان - مبارک

Proplasm, n. A mould ; a matrix : - قالب - سانچہ

Proportion, n. Comparative relation ; symmetry ; equal or just share ; the rule of three : - انداز - قریبہ - برابر یا ٹھیک حصہ - خوش اندامی - **v. t.** To adjust parts to each other ; to form symmetrically ; to apportion : - مطابق کرنا - باقربہ کرنا - سدرل بنانا - ہمتدر : یا مرہق رکھنا - مناسب حصوں پر تقسیم کرنا

Proportionate, a. Having due relation : - متناسب - باقربہ

Proportionally, ad. In a stated degree : - اور - اندول سے

Proposal, n. An overture ; a scheme or design : - تجویز - حاملہ - مقدمہ - منصوبہ - صلاح - نقشہ

Propose, v. t. To bring forward for consideration or acceptance : - عرض کرنا - تجویز کرنا - پیش کرنا

Syn.— Offer, proffer, tender, propound, present, suggest, recommend.

—, *v. i.* To intend : ارادہ کرنا * To offer one's self in marriage : شادی کی درخواست کرنا

Proposition, *n.* Offer of terms ; proposal : تجویز - قریل - درخواست

Propound, *v. t.* To offer for consideration ; to propose : پیش کرنا - عرض کرنا - تجویز کرنا

Proprietary, *n.* An owner ; a body of owners : مالک دار - زمیندار
* *a.* Pertaining to an owner : مالکانہ

Proprietor, *n.* An owner : مالک - حقیقت دار - مالک از *de facto*, حقیقی مالک * *de jure*, روئے قانون - مالک شرعی

Propriety, *n.* Fitness ; decorum ; accuracy : واجبت - شایستگی - اخلاق - درستگی

Propulsion, *n.* The act of driving forward : تھکیلنا - آگے چلانا

Prorogation, *n.* The continuance of Parliament from one session to another ; adjournment ; prolongation : ایک اجلاس کے وقت سے دوسرے اجلاس کے وقت تک پارلیمنٹ کا قیام رکھنا - التوا - قیام

Prorogue, *v. t.* To prolong ; to delay ; to postpone ; to continue from one session to another : قیام رکھنا - دیر کرنا - ملتوی کرنا - جاری رکھنا

Prosaic, *a.* Pertaining to prose ; like prose ; uninteresting ; common-place : نثر متعلق نثر کے - ایسا - بے لطف - معمولی

Proscribe, *v. t.* To banish ; to denounce ; to interdict ; to doom to destruction : جلاوطن کرنا - ملزم ٹھہرانا - منع کرنا - ملکی حقوق سے خارج کرنا - واجب القتل ٹھہرانا

Proscription, *n.* Exclusion ; a dooming to death : ممانعت - حکم قتل - جلا وطنی

Prose, *n.* Language not in verse : نثر * *a.* Plain ; dull ; not poetical : سادہ - بے رونق - نثر میں

Prosecute, *v. t.* To follow ; to continue ; to sue criminally : پیچھا کرنا - درجے ہونا - جاری رکھنا - کیئے جانے - داد خواہی کرنا - فوجداری کی نالش کرنا - مقدمہ کھڑا کرنا

Prosecution, *n.* A pursuit ; a criminal suit : * *Malicious* - شرش - فوجداری کی نالش - عدالتی نالش - نالش بغرض ایذا رسانی

Prosecutor, *n.* One who prosecutes : نالشی - مدعی - پیروکار

Proselyte, *n.* A new convert : نو مزید - نو * *v. t.* To convert : مزید کرنا - دین میں لانا

Proselytise, *v. t.* To make converts ; to convert : مزید کرنا - دین میں لانا - نو معتقد کرنا

Proselytism, *n.* Conversion : تبدیل مذہب

Prosody, *n.* That part of grammar which treats of poetry : عروض - پنکل

Prospect, *n.* View ; a landscape : منظر * *A* landscape : منظر * *A* lookout : امید - پیش اندیشی

Prospection, *n.* The act of looking forward ; the act of providing for the future : پیش بینی - عاقبت اندیشی

Prospective, *a.* Looking forward ; future : پیش - آئندہ

Prospectus, *n.* The outline of any plan submitted for the information of the public : عوام کی اطلاع کے لئے کسی تجویز کا خلاصہ - کسی تماشہ کا مفصل اعلان

Prosper, *v. i.* To be successful ; to thrive : کامیاب ہونا - پھولنا پھلنا - خوش و خرم ہونا - سرسبز ہونا - *v. t.* To favour ; to render successful : کامیاب کرنا - اقبال مند کرنا - سرسبز کرنا

Prosperity, *n.* Success ; good fortune : کامیابی - طالع روزی - اقبال مندی - برکت - سرسبزی - خوشحالی

Prosperous, *a.* Thriving ; successful ; favourable : اقبال مند - کامیاب - سرسبز - مبارک - مالا مال

Prosperously, *ad.* Successfully : کامیابی سے - اقبال مندی سے

Prostrate, *a.* Lying at length ; lying at mercy : اُتقادہ - پڑا ہوا - ذلت و کرنیوالا - اوندھا پڑا ہوا - * *v. t.* or *i.* To throw down ; to lay flat ; to ruin ; to exhaust ; to bow in humble reverence : پچھا پڑنا - برباد کرنا - صرف کردار لانا - پڑنا - بالکل ناتواں کر دینا - خالی کر دینا - پست کر دینا - ذلت و کرنی کرنا

Prostration, *n.* The act of throwing down : * *Exhaustion* - مرگ - افسردگی - بڑی آزدگی - گراؤ - سجدہ - ذلت و dejektion :

Prosy, a. Like prose; dull; tedious: - ثور کے ایسا - بے مزہ - شمع خراش

Protect, v. t. To cover from danger; to save; to guard; to patronise: - محفوظ - بچانا - خطرہ سے بچانا - رکھنا - بچانا - حفاظت کرنا - حمایت کرنا - سرپرستی کرنا

Protection, n. Defence from injury or danger; shelter; safety; passport: - حفاظت - پناہ - امن - پناہ لینا - **To take** - * محافظت - پرراندہ زلف داری پروانہ حفاظت ذات - **Writ of** - * دامن پکڑنا خاص - رکشا پتو

Protective, a. Sheltering; defensive: - پناہ بخش - بچانوالا - حمایتی

Protector, m. A defender; a guardian: - محافظ - نگہبان - مربی - والی - وارث - ولی - دستگیر

Protectorate, n. Government by a protector: - نابلغ بادشاہ کے سرپرست کی حکومت

Protectress, n. A female who protects: - ولیہ - عورت محافظ

Protege, (pro-te-zhe) n. One protected; a ward; a pupil: - جو دوسرے کی حفاظت میں ہو - آزرده - محفوظ - نابلغ جو کسی سرپرست کی نگرانی میں ہو

Proteid, n. A body containing protein, one of several bodies which go to make up the soft tissues of animals and vegetables: - بیضیہ - لحمیہ

Protein, n. The first element in any compound; formerly the supposed common radical of the group of bodies which form the most essential articles of food, albumen, fibrine etc: - بیضہ نعلوں کا فرضی اساسی عنصر

Protest, v. i. To remonstrate: * **To declare solemnly**: * **To note a bill**: - اعلان کرنا - اقرار - صانع کرنا - عدلی کے ہتت پر عبارت اٹھانا

Syn —Affirm, assert, aver, declare, testify.
Ant —Agree, endorse, assent.

Protest, v. t. To assert; to show; to make a solemn declaration: - بیان کرنا - ظہور کرنا - اسی **A formal declaration**: - * **قرار** صانع - * **قرار** صانع - اظہار از روئے ایمان

Protestant, n. One who protests against the doctrines of the Church of Rome: - عیسائیوں کے ایک فرقہ

Protestation, n. An asseveration; a vow: - اقرار - از روئے ایمان - قرار صانع

Protocol, n. The rough draft of any writing: - عہد و پیمانہ وغیرہ کا - مسودہ - اصل نوشتہ

Protomartyr, n. The first martyr; St. Stephen: - اول شہید - اسٹیون - جر پہلا عیسائی شہید ہوا

Prototype, n. A pattern: exemplar: - نمونہ - مثال - اصل

Protract, v. t. To draw out; to prolong; to delay: - کھینچنا - طول دینا - دیر کرنا

Protraction, n. The act of lengthening out: - طوالت - اتوا - درازی

Protractive, a. Delaying; dilatory: - دیر کرنے والا - تاخیر کرنے والا

Protrude, v. t. or i. To thrust or shoot forward: - آگے نکل آنا - آگے نکالنا - ڈھکیٹا

Protrusive, a. Thrusting forward: - آگے نکلا ہوا - آگے بڑھا ہوا

Protuberance, n. A swelling; prominence; a knob: - سرجن - اُبھار - گلٹی - ارتفاع

Protuberant; a. Swelling; prominent: - پھولا ہوا - اونچا

Protuberate, v. t. To swell out; to bulge out: - پھولنا - آگے کر نکلنا

Proud, a. Having inordinate self-esteem; haughty; elated; splendid; ostentatious: - پسند - متکبر - مغرور - گیمندی - مدمع - عظیم - عالی شان

Proudly, ad. Arrogantly; ostentatiously: - فخر سے - شان و شوکت سے

Prove, v. t. or i. To test; to verify; to demonstrate; to experience; to turn out to be: - آزمانا - تصدیق کرنا - ثابت کرنا - تجربہ کرنا - ہرنا - پرکھنا

Syn. —Verify, confirm, justify, show.
Ant. —Disprove, refute.

Provender, n. Dry food for beasts; provisions: - چارہ - ہوسا - راقب - رسد - غذا - کھانا

Proverb, n. A wise saying; a maxim; a byword: - مقولہ - کہارت - مسئلہ - ضرب المثال - منگ
Syn. —Maxim, aphorism, adage.

Proverbial, a. Comprised in a proverb: - بہارتی - مشہور - عام - **Widely spoken**: * زبان زد - مشہور

Provide, v. t. or i. To procure beforehand; to furnish; to afford; to take measures beforehand: - پہلے سے لا رکھنا - مہیا کرنا - دینا - پہلے سے **To—against, To take measures against**: - کسی کے مقابلہ - **To—for, To take care of beforehand**: - پہلے سے فکر کرنا - پہلے سے سوچنا - دور اندیشی کرنا - آکا سوچنا

Provided, conj. On condition; if: - اگر: - **It is—, حکم ہے**

Providence, n. Foresight ; prudence : بینش
 دور اندیشی - **Divine superintendence.**
 خدا - پر مہیشر - **God :** * خدائی نگہبانی
 رب العالمین

Provident, a. Forecasting ; prudent ; economic :
 عاقبت اندیش - پیش بین - نکالت شعار -
 کار ساز - جگتیبا - آئندہ کی ضروریات کے لئے مہیا کر
 رکھنے والا

Providential, a. Effected by Providence : - خدائی
 نارائین - ایشوری - پروردگار کا - جو خدا کے خاص
 احسان الہی کے - **escape.** * انتظام سے ہو - خدا ساز
 عامر سے بچ جانا

Providently, ad. With prudent foresight : عاقبت
 اندیشی سے

Province, n. A conquered country ; a portion
 or an empire ; a tract ; a department ; the
 proper business or calling of any one : ملک
 متروکہ - صوبہ - علاقہ - اختیار - منصف - عہدہ خاص

Provincial, a. Of a province ; local ; rude :
 صوبہ کا - دیسی - گزار - ناشایستہ - دھاتی - گزارو

Provincialism, n. A provincial peculiarity of
 speech or thought : دیسی معاورہ

Provision, n. Preparation : *** Victuals :**
 شرط - اقرار * **A condition :** * تشریح - رسد - کہنا
v. t. To supply with articles of food : توشہ یا رسد
 مہیا کرنا - خوراک بہم پہنچانا

Provisional, a. Provided for present need ;
 temporary : حال کے لئے - عارضی - چند روزہ

Proviso, n. A conditional stipulation : - شرط
 عمارت شرطی - شرطی دفع

Provisory, a. Temporary ; conditional :
 چند روزہ - شرطی

Provocation, n. The act of exciting anger ;
 incitement ; stimulus : غصہ دلانیکا کام - جوش دہی
 اشتعال - تحریک

Provocative, a. Exciting : جوش دلانیکالا - محرک

Provoke, v. t. To challenge ; to excite ; to
 arouse ; to irritate ; to enrage ; to offend :
 لاکارنا - اشتعال دینا - اڑھانا - چڑھنا - ناراض کرنا -
 غصہ دلانا - بیزار کرنا

Provost, n. The chief officer or magistrate of a
 city ; the warden of a prison : شہر کا اعلیٰ حاکم -
 کورٹوال - قاضی القضاہ - جیل داروغہ

Prow, n. The forepart of a ship : جہاز کا اگلا حصہ
Prowess, n. Bravery ; gallantry ; military
 courage : دلیری - بہادری - جہاد - جرات
 جرات

Syn. Valour, Interpidity, courage, bravery.
Ant. Timidity, weakness.

Prowl, v. t. To wander stealthily in search of
 prey : * شکار کے لئے چپہ چپہ بھرنا
n. A roving for prey : شکار کی تلاش

Proximate, a. Nearest ; immediate : قریب
 تقریب - متصل

Proximately, ad. By immediate relation ;
 immediately : قرابت سے - نزدیکی سے - تقریباً -
 آس پاس

Proximity, n. Immediate nearness : -
 قرابت - قرابت

Proximo, n. A day of the next of the coming
 month : دوسرے یا آئندہ ماہ کی تاریخ

Proxy, n. The agency of a substitute ; the person
 who acts for another ; the writing by which
 he is deputed : عرض - قائم مقام - کسی کے بجائے
 کچھ کرنے کا اختیار - عیوضی نامہ

Prude, n. A woman of affected modesty and
 reserve ; one who pretends extreme propriety.
 وہ عورت جو دھانے کے لئے بہت حجاب اختیار کرے -
 مکارہ - گورنگھٹی

Prudence, n. Practical wisdom ; carefulness :
 پیش بینی - احتیاط - ہر شیا کی عقل

Prudent, a. Sagacious ; discreet ; wary ; economic :
 دانہ - دور اندیش - ہر شیا - نکالت شعار -
 جزیس

Prudently, ad. Wisely ; frugally : -
 نکالت شعاری سے - دانائی یا عاقبت اندیشی سے

Prudery, n. Affected modesty ; affectation of
 virtue ; coyness ; excessive scrupulousness of
 conduct : دھلاوے کی - پارسائی - بناوٹ - شرم - حیا -
 چال چلن کی از حد خبرداری

Prune, n. A dried plum : * آڑ بخارہ - کنار خشک
v. t. or i. To lop ; to dress ; to trim : کاٹنا -
 سفورنا - چھاننا - تراشنا - قلم کرنا

Fry, v. i. To look closely : جھانگنا
Psalm, n. A sacred song or hymn : سہرود
 عارفانہ

Psalmist, n. A writer of sacred songs : **پسمن گائیرالا**

Psalmist, n. One who sings psalms : **پسمن گائیرالا**

Psalmody, n. The art of singing sacred songs : **پسمن گائیکا سنتر**

Psalter, n. The book of psalms : **پسمن گائیکا کتاب**

Pshaw, int. Expressing contempt : **پشہ - چہی چہی**

Psychologic, a. Pertaining to the doctrine or study of the soul : **روحانی**

Psychologist, n. One who is versed in psychology : **روحانی علم کا جاننے والا**

Psychology (si-kolo'ji) n. The science of the human soul : **علم روح انسانی - آدم و دنیا**

Puberty, n. Ripe age in the sexes ; maturity : **باروغ - جوانی - شباب**

Pubescence, n. The state of puberty : **باروغ - شباب**

Public, a. Pertaining to state or community ; open ; common ; notorious ; open to common use : **خافت یا رعایا کے متعلق - ظاہر - عالم - مشہور**

Public, n. **house, a shop for the retail of liquor :** **In—** * شراب خانہ - سرائے

Public, n. **in open view :** * کھلے نرانی - سب کے سامنے - علانیہ

Public, n. **place,** * کار - سرکاری - کار ملکی

Public, n. **resort,** * سرکاری مکان - کھلی یا بے قید جگہ

Public, n. **right,** * حق الناس - شاره عام - گذرگاہ عام

Public, n. **tranquility,** * عافیت - خلایق

Public, n. **works department,** * کپڑائی کا

Public, n. **weal,** * رفاه عام - محکمہ صیفہ تعمیرات سرکاری

Public, n. **The people at large :** خافت خلق اللہ - عوام الناس

Publican, n. An inn-keeper ; a tax collector ; one licensed to retail spirituous liquors : **سرائے کا مالک - محصور و صلر کثیرالا - شراب کا لیسنس دار**

Publication, n. The act of publishing ; proclamation ; a work printed and offered for sale : **طبع - شہرت - اشتہار - چھپی ہوئی کتاب بیچنے کے لیے**

Publication, n. **Publicity, n.** General currency ; notoriety : **شہرت - ظہور**

Publicity, n. **Publicly, ad.** Openly : **علانیہ - ظاہر**

Publicity, n. **Publish, v. t.** To make known ; to promulgate ; to print and offer for sale : **ظاہر کرنا - پھیلانا - چھاپ کر بیچنا - شایع کرنا**

Syn.— Announce, proclaim, advertise, disclose. **Ant.—** Hide, conceal, suppress, hush up.

Publisher, n. One who publishes : **شایع کثیرالا - مشہر کثیرالا**

Puce, a. Of a brownish purple colour : **ارغوانی - سیاہی مایل**

Pucker, v. t. To gather into small wrinkles ; to rumple : **چننا - کورتنا - پگورتنا**

Pudding, n. An intestine * A kind of food variously compounded : **کلا - ایک قسم کا پکوان**

Puddle, n. A small muddy pool : **v. t.** To make turbid ; to stop up with clay : **گندلا کرنا - مٹی سے بند کرنا**

Puerile, a. Childish trifling : **طفلاذہ - لڑکھانہ سا - ہلکا - حقیر**

Puerility, n. Childishness : **لڑکپن - ارچہ لپن**

Puerperal, a. Pertaining to childbirth : **چاہے کا - لڑکتی - لڑکتی**

Puff, n. A slight gust of wind ; a whiff : **ہوا کا پھوٹا - پھوٹا**

Puff, n. **An empty expression of praise :** **چھوٹا بڑھارا - خالی باتیں**

Puff, v. t. or i. To inflate with air ; to praise with exaggeration ; to pant ; to blow : **ہوا سے پھولانا - ہوا پھولنا - مبالغہ کرنا - دم پھولنا - پھولنا**

Puff, v. t. or i. **To—away, to blow away :** * پھونک سے اڑانا

Puff, v. t. or i. **To—up, to swell up :** * پھولنا

Puff, v. t. or i. **Puff, not against the wind,** * پھولنا کا تھوکا نہ پھولنا

Puffy, a. Swelled out ; bloated ; bombastic : **پھولا - ہوا پھولا - ہوا پھولا - لفظ**

Pug, n. A monkey ; a lap-dog : **بندو - چھوٹا کتا**

Pugh, int. Expressing contempt : **پشہ - چہی چہی**

Pugilist, n. A boxer : **مشت زن - گورنسا باز**

Pugnacious, a. Disposed to fight ; quarrelsome : **لڑاکا - جھگڑا**

Syn.— Contentious, fighting. **Ant.—** Pacific, considerate.

Pugnacity, n. Inclination to fight : **لڑائی کی رغبت - جھگڑا لڑائی - لڑنے کا شوق**

Pugnose, n. A short thick nose : **چھوٹا مڑی - بد مزاج شخص**

Pugnose, n. **A snub :** * ذک

Puisne, (pu' ne) a. Younger inferior : **ادنی - چھوٹا - کم تر**

Puissance, n. Strength ; might : - طاقت - زور - قوت - ترواڈائی

Puissant, a. Strong ; mighty : - قوی - مقبرط - طاقت ور - زور آور

Puke, v. i. To vomit ; to retch : - تے کرنا - رد یا تے - رد
* n. A vomit : - اولی کرنا

Pule, v. t. To whine like a child ; to whimper : - لڑنے کی طرح ٹھنکنا - بچے کی طرح رونا - رولانا

Pull, v. t. or i. To draw ; to tug ; to haul ; to pluck ; to rend ; to move by pulling : - کھینچنا - گھسیٹنا - تاننا - توڑنا - اکھاڑنا - نرچنا - پھاڑنا -

To—down, to demolish * کھینچ کر لیجانا - کھینا * بست کرنا - مزروف کرنا * To subvert : * دھانا - گرنانا

To—off, to pluck : * توڑنا * **To take off** : * اتارنا * **To—on, to draw on** : * چڑھانا

through, to help one through a difficulty : * **To—on, to draw out ; to extract** : * نکال لیجانا

To—the long bow, to exaggerate : * **To boast** : * مبالغہ کرنا * **To—through, to get through with difficulty** :

To—up, to tear up by the root : * **To—a finch, ترت** : * جز سے اکھاڑنا * **To—apart, کسی** : * کھینچنا - نکالنا

To be—ed down, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

To—up stakes, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

Pull, n. The act of pulling ; an effort ; a pluck ; کھینچ - کشمکش - کرشمش - جھٹکا - مزور - اٹینچا ڈائی

Pullet, n. A young hen or chicken : - مرغی - چرڑے - مرغی کا بچہ

Pulley, n. A small wheel for a running cord : - چوچی - گھونپی - گراری

Pulmonary, a. Pertaining to the lungs ; affecting the lungs : - پھوپھو کے متعلق - پھوپھو سے پیر اثر کرنے والی

Pulp, n. The soft, succulent part of a fruit ; نرم * **To reduce to a soft mass ; to deprive of pulp** : * گودا - مغز - ملگربنا * گودا نکال لینا

Pulpit, n. An elevated place of desk in a church for a preacher : - منبر - گرجے میں واعظ کے لئے اونچی جگہ

Pulpy, a. Soft ; fleshy : - پلپٹ - دار - کورے دار - ملامت - نرم - دھونٹا - چلنا

Pulsate, v. i. To beat or throb : - اچھلنا - پھونکنا - دھڑک - جنبش - ٹیک - حرکت - چال

Pulsation, n. A beat or throb : - دھڑک - جنبش - ٹیک - حرکت - چال

Pulse, n. The beating of arteries ; vibration : - مٹر - نبض - نبض * **Peas, beans, etc.** : - ناری - حرکت - نبض یا ناری * **To feel one's pulse, دیکھنا** : * ارھر وغیرہ

Pulverisation, n. The act of reducing to power : - چور کرنا - سفوف بنانا

Pulverise, v. t. To reduce to dust or fine powder : - سفوف کرنا - چور کرنا - پیسنا

Pumice, n. A sort of porous stony substance frequently ejected from volcanoes : - چھانڑاں

Pump, n. A machine for raising water of other fluids : * **Suction** : * پانی اٹھانے کی کل - پمپ - پچکاری

r. t. or i. To raise with a pump : * **To draw out by artful questions ; to work a pump** : * پچکاری سے کھینچنا

To—up, to tear up by the root : * **To—a finch, ترت** : * جز سے اکھاڑنا * **To—apart, کسی** : * کھینچنا - نکالنا

To be—ed down, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

To—up stakes, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

Pumpkin, n. A well-known plant and its fruit : - ارکی - کدو - گوندرا - پیٹھا

Fun, n. A word or expression with two different meanings : * **r. i.** To quibble on words : * **r. t. or i.** To raise with a pump : * **To draw out by artful questions ; to work a pump** : * پچکاری سے کھینچنا

To—up, to tear up by the root : * **To—a finch, ترت** : * جز سے اکھاڑنا * **To—apart, کسی** : * کھینچنا - نکالنا

To be—ed down, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

To—up stakes, کسی جگہ سے روانہ ہونے کی تیاری : * کھینچ کرنا

Punch, n. A tool for making apertures : - چھینی - **A well-known beverage composed of spirits, water and sugar** : * شراب اور چھینی کا شربت * **A buffoon** : * مسخرا * **An instrument for stamping holes** : * **v. t.** * **To perforate ; to strike ; to poke** : * مارنا * **To perforate ; to strike ; to poke** : * دھکا لگانا

Puncheon, n. A perforating tool ; a cask : - چھینی - برما - پیپا

Punchinello, n. A buffoon ; a puppet : - مسخرا - بھانڈ

Punctillio, n. A nice point in behaviour or ceremony : - پارکی - موٹگانی - تکلف

Punctilious, a. Very nice in behaviour ; very formal : - تکلف - مزاج - مہذب - فزک طبع

Punctual, a. Exact ; prompt : - تھیک - مستعد - وقت - کا پابند - منضبطا

Punctually, ad. Exactly ; scrupulously : **تہیک**
وقت پر - صحت سے - تہیک طور سے

Punctuate, v. t. To mark with stops : **وقت کی**
علامات لکھنا

Punctuation, n. The act or method of pointing
a writing or discourse : **عبارت میں وقف کے علامات**
لکھنے کا عمل

Punctum, n. A point ; full stop : **نقطہ - پررے**
نہر اڑ کا نشان

Puncture, n. A small hole or wound made by
a pointed instrument ; a prick : **v. t. * سوراخ - سال**
گزونا - چبھونا
To prick :

Pungency, n. Sharpness ; tartness ; causticity :
تیزی - ترشی - چر پراہٹ - جین

Pungent, a. Sharp ; biting ; acrid ; caustic ;
pricking ; severe : **تیز - چر پورا - ترش - کھار -**
جلانہ والا - چبھتا ہوا - گھستا ہوا - سخت - بھاری

Punish, v. t. To afflict with pain for a fault or
crime ; to chastise ; to correct : **سیاست**
سزا دینا - سیاست
کرنے - تعزیر کرنے - نصیحت کرنے - دھارنا - درست کرنا

Syn.—Chastise, correct, scourge,

Ant.—Recompense, reward.

Punishment, n. The infliction of pain or suffer-
ing for a crime or fault : **سزا - تعزیر - سیاست -**
سزا دینا - سزا تکل - پھانسی
* Capital—, * Corporeal—, سزا متعدن
* Cumulative—, سزا جسمانی

Punitive, n. Awarding or inflicting punishment :
سزا کا - تعزیری

Punster, n. One who plays upon words ; a
quibbler : **ذہر معنی کہنے والا - جگتہ باز**

Punt, n. A flat-bottomed boat : **چھتی ناؤ**

Punt, v. t. To propel a boat by pushing with a
pole against the bed of the water : **لگوی سے کھینا**

Puny, a. Small and weak ; petty : **چھوٹا اور کمزور -**
خورد - کوچک - تنہا - کم رقبہ

Pup, v. i. To bring forth whelps : **بیانا - بچہ دینا**
n. A puppy ; a whelp : **تکے کا بچہ - پلا - درندہ**
جانور کا بچہ

Pupa, n. A chrysalis : **کیڑے کے پیدائش کی تیسری**
حالت

Pupil, n. A scholar ; a ward ; a disciple : **شاگرد -**
آنکھ کی پتلی - **The apple of the eye** : *** نابالغ - چچا**
مردمک چشم

Pupilage, n. The state of being a pupil or
ward : **شہرہ - طلبہ - طالب علمی - ذہلانی**

Pupillary, a. Pertaining to pupil or ward : **شاگردی**
آنکھ * Of the pupil of the eye : **آنکھ**
کی پتلی کا

Puppet, n. A doll ; a small image moved by
wires in a show : **One * گڑیا - کت پتلی - لعت**
چر شخص : **meanly under the control of another**
کت پتلی کی طرح کسی کے اختیار میں ہو

Puppy, n. A whelp : **پلا * A conceited and insig-**
nificant fellow : **مغرور - حقیق شخص**

Purblind, a. Near sighted ; dim-sighted : **جس کو**
قریب سے دیکھنے دوسے - چندھا

Purblindness, n. Shortness of sight : **چندھا**
ہیں - دھند

Purchase, v. t. To acquire ; to buy ; to ob-
tain by outlay of money or labour : **حاصل کرنا -**
n. Buy- * خریدنا - محنت یا روپیہ کے عوض میں لینا
خریداری - **acquisition ; pursuit : -**
His life is not worth * مال - حصول - تعقب
*** اسکی جان بڑے خطرہ میں ہے**
a day's purchase, **خرش خرید**
Free—,

Purchaser, n. A buyer : **خریدار - گاہک - مشتری**

Pure, a. Clear ; unpolluted ; sheer ; absolute ;
genuine ; innocent ; chaste : **صاف - بے داغ - نرا -**
پاکل - خاص - کھرا - کورا - مبرا - بے گناہ - پاک
پورا جرمناہ - **A—villain, پکا * دامن - عقیقہ**
دغا باز

Syn.—Unmixed, clear, true, chaste, undefiled.

Ant.—Mixed, impure, foul.

Purely, ad. Innocently ; merely ; chastely : **بے**
گناہ سے - صرف - پاک دامنی سے - صفائی سے

Purgation, n. The act of cleansing ; purifica-
tion ; evacuation of the bowels : **صفائی -**
اسہال - بریڈت

Purgative, n. Cleansing ; cathartic : **مصفی -**
n. A cathartic : * مسهل
جلب

Purgatory, n. A place after death where souls
are supposed to be purged from impurity : **دورخ -**
صاف دیکھنا
a. Cleansing : * نرک - اعراف

Purge, n. A cathartic medicine : *** مسهل - حلال**
v. t. or i. To cleanse, to purify ; to clarify ; to
evacuate the bowels : **صاف کرنا - پاک کرنا - آلائس**
نور کرنا - مسهل لینا - جلاب لینا

Purification, n. The act of making pure; a cleansing; lustration: طہارت - صفائی - پاکی

Purifier, n. A cleanser; a refiner: صاف کرنے والا - میل درر کرنے والا

Puriform, a. Like pus: پیپ کا سا

Purify, v. t. or i. To make clear; to refine; to become pure: صاف کرنا - میل درر کرنا - شستہ کرنا - گناہ یا آلودگی سے پاک کرنا - پاک ہونا

Purist, n. One excessively nice in the choice of words: مرشدگاہ - نکتہ سنج - بہت چیدہ الفاظ استعمال کرنے والا منشی - مصنف - شستہ نویس

Purity, n. Cleanness; innocence; chastity: صفائی - معصومیت - پاک دامنی - عصمت - تقویٰ - نکرٹی - عفت - پاکیزگی

Purl, v. i. To flow with a gentle murmur; to eddy: n. A ripple; a gentle murmur: * An embroidered border; lace: * آنستہ آہستہ بہنا - بہنور پڑنا - لہرائی - لہریں - لہر - بہنے کی آواز - کناری - لیس

Purlieu, n. An enclosure; environ; district: احاطہ - گرد نواح - ضلع

Purloin, v. t. To steal; to filch: چوری کرنا - چورانا - دزدی کرنا

Purple, a Red tinged with blue: لال نیلا ملا * * * * *
 * * * * *
 n. A colour compounded by the union of blue and red: نیلا اور لال ملکر بنا ہوا رنگ - بیجنی
 ارغوئی * A purple robe or dress: * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Purport, n. Meaning; tenor; tendency: معنی - v. t. To import; to signify: معنی رکھنا - مراد رکھنا - ظاہر کرنا

Purpose, n. End; aim; design; intention: انجام - * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Purposely, ad. Intentionally on purpose: ارادتا - عمدتاً - دیدہ دانستہ

Purr, n. See Pur.

Purse, n. A small bag for money: تویلی - کیسہ - * بہت روپیہ - دولت - * A long—, * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Purse-pleasure, n. Pride of money: روپیہ کا غرور - زرہ پر پیسہ کا گھمنٹ

Purser, n. The paymaster of a ship: جہاز کا تعریف دار

Purslain, n. A succulent potherb: ایک قسم کی سبزی لوتیا - خرفہ - کانا

Pursuance, n. A following after; prosecution; consequence: * پیروی - تعبت - تعمیل - نتیجہ
 In—of, in execution of: بد تعمیل

Pursuant, a. Done in consequence; conformable: مرجب - موافق - مطابق - حسب

Pursue, v. t. To chase: * تعاقب کرنا
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Syn.—Follow, chase, seek, persist.

Pursuit, n. The act of following; course of business or occupation; prosecution: تعاقب - شغل - کار و بار - درپے ہونا - پیچھے پڑنا - نوش - تلاش - * * * * *

Pursuivant, n. A state messenger: شاہی پیغامبر - سفیر

Pursy, a. Swelled; fat and short winded: پھولا - سوزا - جسکا دم چلا ہوا اور دم چڑھا - شیز دم

Purtenance, n. Appurtenance: * لوازمہ
 * * * * *

Purulence, n. The generation of matter ; pus :
پیپ کی پیدائش - ریم - مواد

Purulent, a. Consisting of matter : سے :
پیشہا - ریم سے :
بھرا ہوا

Purvey, v. t. or i. to provide ; to buy in provisions ; to cater :
بہم پہنچانا - رسد خریدنا - کھانیکا
سر انجام کرنا

Purveyance, n. Procurement ; management ;
بہم رسائی - انتظام رسد

Purveyor, n. One who provides victuals ; a caterer :
رسد یا خوراک بہم پہنچانے والا - بھنڈاری - مودی

Purview, n. The body of a statute ; scope :
مضامین آئین - منشا یا اختیار کی حد - وسعت - حد

Pus, n. The matter of an abscess : مراد :
ریم - پیپ

Push, v. t. or i. To impel by pressure ; to butt ;
to drive ; to press ; to importune ; to make a thrust :
ڈھکیٹنا - ٹکر مارنا - گاڑنا - دباننا - تنگ
آگے :
To—on, to urge forward :
کرنا - پھیلانا

To—up, to slide up ; to raise :
بڑھانا - چڑھانی کرنا
To—down, پگم دینا *
To—out, نکال باہر کرنا *
A thrust ; emergency ; an attack ; a vigorous effort :
ہول - بھو نکا -
A pimple :
کوٹھپا - ریل - ضرورت - حملہ - جھد
پونسی

Pushing, a. Enterprising ; energetic :
الراالعزم -
صاحب ہمت - چست و چالاک - کاروبار میں اپنی ہمت سے
خوب ترقی کرنے والا

Pusillanimity n. Cowardice ; timidity :
بزدلی -
نامردی

Syn.—Cowardliness, fear, timidity.

Ant.—Bravery, fortitude.

Pusillanimous, a. Mean-spirited ; timid ; feeble :
نامرد - بے ہمت - قویوک - بزدل - کمزور

Puss, Pussy, n. A cat ; a hare :
بلی - خرگوش

Pustulate, v. i. To form into blisters :
آبہ ڈالنا -
پھپھولا پڑنا

Pustule, n. A small blister :
چھالا - پھپھولا

Put, v. t. To place ; to set ; to offer ; to apply ; to express ; to urge ; to oblige ; to propose :
رکھنا -
بیٹھانا - درخراست کرنا - لگانا - ظاہر کرنا - اُسکانا -

To—about, *
تدبیریک دینا - مجبور کرنا - پیش کرنا
to change the course of :
To—
رخ پھیرنا - گھومانا :
To—
an
cause inconvenience :
تکلیف دینا *
To—
end to, to stop :
رکنا - موقوف کرنا *

away, to renounce : ترک کرنا *
To divorce :
طلاق دینا *
To—back, to delay ; to hinder :
پس انداز :
To—by, to save :
دیر کرنا - روکنا *
To—down, to deposit :
جمع کرنا *
To suppress :
دباننا - مغلوب کرنا *
To write down :
To—forth, *
ذلیل کرنا :
To degrade :
قلمبند کرنا *
To propose :
بڑھانا *
To hold out :
پیش کرنا *
To shoot out :
خوشہ نکالنا *
To exert :
کام میں لانا

To—in, to insert :
داخل کرنا *
To—in mind, *
کام میں

To—in practice, *
یاد دلانا :
کام میں

To—the case, فرض *
لالا - استعمال کرنا

To—the hand to, مصروف ہونا *
کرنا

To—this and that together, *
تہیجہ نکالنا

To—to a stand, ٹھہرانا *
رکنا -

To—up to, *
دوست یا باتریبیت کرنا

To—off, to laid aside :
اطلاع دینا *
To defer or postpone :
ماتوی کرنا *

To—on, to wear :
لنگر اُٹھانا *
پہننا *

To encourage :
بنارت کرنا *
To assume :
بجھانا *
To—out, to extinguish :
کرا

To exert :
کام میں لانا *
To place at interest :
کام میں لانا *
To sprout :
خوشہ نکلنا *

To—together, to unite, to add together :
دینا *
To—up, to offer :
ملانا - جوڑنا *

To start from a cover :
نکل آنا *
To raise up :
ٹھہرنا -
To—up at, to take lodgings at :
گھنا *

To—up with, *
برداشت کرنا - ضبط کرنا :
To endure patiently :
بھکانا *

To—one on a false scent, to misdirect :
بھکانا *

To—one's best leg foremost, to walk quickly :
To—one's shoulder to the wheel, to help another in the doing of a work :
سہارا دینا *
To—out of countenance, to make one abashed :
شرمندہ

کرنا

Putative, a. Supposed ; reputed :
قریبی - فرضی -
مشہور

Putid, a. Mean ; worthless , vile :
حقیر - ذمہ -
کمینہ

Put-off, n. An evasion ; an excuse :
جیلہ - بھانا -
عذر - حیلہ حوالہ

Putredinous, a. Stinking ; rotten :
گندہ - سزا -
متعفن

Putrefaction, n. Rottenness :
سزائیندہ - بوسیدگی

Putrescent, a. Becoming putrid ; growing rotten :
 بوسیدہ - بدبو دار - بسا ہوا
Putrefy, v. t. or i. To render putrid ; to rot :
 سزانا - سزنا
Putrid, a. Decomposed ; rotten ; corrupt :
 اوبسا ہوا - سزا ہوا - گندہ - فاسد
Putter-on, n. Instigator :
 اسکانے والا - فطنہ انگیز
Putter-out, n. One who puts out money at interest :
 وہ جو روپیہ سود پر چلاتا ہے - مہاجن
Puttock, n. The kite :
 چیل
Putty, n. A kind of paste or cement used by glaziers :
 پٹین سے چررنا
Puzzle, n. Perplexity ; a kind of riddle ; an ingenious toy :
 حیرانی - پریشانی - معما - پوزر
headed, having confused ideas : جسکے
v. t. To confuse ; حیران کرنا - گھبرانانا
to perplex ; to entangle : چرکری بھلا دینا - سراسیمہ کرنا - اولچھانا

Pygmy, n. A dwarf :
 پورنا
Pyramid, n. A solid structure standing on a triangular square or polygonal base and ending in a point at the vertex :
 مینار - منہ و منہ منارہ
Pyre, n. A funeral pile :
 چننا - سوختنی چیز کا امبار
Pyriform, a. Having the form of a pear :
 ناشپاتی کی شکل کا
Pyrogenous, a. Igneous :
 آدشی - آتش دار
Pyrology, n. The science of heat :
 علم حرارت
Pyromancy, n. Divination by fire :
 شگون یا نال جو آگ سے لیا جاوے
Pyrometer, n. An instrument for measuring degrees of heat :
 پیمائہ حرارت
Pyrotechnics, n. The art of making fireworks :
 آتشبازی بنانے کا فن
Pyrotechnist, n. A manufacturer of fireworks :
 آتشباز
Python, n. A genus of long nonvenomous serpents :
 اجگر

Q

Quack, v. i. To cry like a duck :
 بطن کی طرح بولنا -
 * شیشی کرنا - لاف زنی کرنا * To boast :
 قال قال کرنا
n. An empty pretender ; a charlatan ; a mountebank :
 شیشی باز - لافزن - چوڑھا طبیب - نیم حکیم - بط کی اواز
Quackery, n. Ignorant pretension to skill in medicine ; imposture :
 چوڑھی طبابت - نریب - دغا بازی - پانہند - کتھہ بیڈی
Quadragesimarian, a. Consisting of 40 ; forty years' old :
 چالیسہ - چالیس سال کا
Quadrangle, n. A quadrilateral figure :
 ذواربعثہ الاضلاع - ذواربعثہ الزاویا - شکل چرگوشہ
Quadrangular, a. Having four angles :
 چرگوشہ - ذواربعثہ الزاویا
Quadrant, n. The quarter of a circle *
 ربع دائرہ * An instrument for measuring altitudes :
 چرتھائی * بلندی ناپنے کا آلہ
Quadrat, n. A block of type-metal lower than the letters :
 ایک چرپہل نمکڑا جو ٹایپ کی خالی جگہ میں کام آتا ہے

Quadrate, a. Square ; divisible by four ; suitable :
 مربع - چار برابر حصوں میں تقسیم ہونے کے لائق - مطابق - مرزوں - سبیل
Quadratic, a. Of a square :
 مربع کا
Quadrature, n. The act of squaring ; a square :
 تربیع مربع
Quadrennial, a. Comprising or occurring once in four years :
 چرسالہ - چربرکھی
Quadrilateral, a. Having four sides and four angles :
 ذواربعثہ الاضلاع و زاویا - چرگوشہ
Quadrille, n. A kind of dance :
 ایک طرح کا ناچ
Quadrupartite, a. Divided into four parts :
 چار حصوں میں تقسیم کیا گیا
Quadruped, n. An animal having four feet :
 چرپائیہ
Quadruple, a. Four-fold :
 چارگنا - چہار چند
Quadruplicate, a. Four-fold :
 چرچند - چوگنا
v. t. To double twice over : دوڑنے کر دوڑنا کرنا
Quaff, v. t. or i. To drink copiously ; to drink luxuriously :
 چرھا جانا - خوب پینا - بکثرت پینا - سرک جانا

Quaggy, *a.* Boggy ; spongy : - دلندار - دلدلا - سوراخدار
 Quagmire, *n.* A shaking marsh : دلدل - دھسان
 Quail, *n.* A bird : بٹیر * *v. t. or i.* To sink ; to lose heart ; to give way ; to shrink : - تونبنا - ہمت ہارنا - دباننا - چھچھوکننا - سمٹنا
 Quaint, *a.* Odd ; singular ; fanciful : nice neat : عجیب - انوکھا - نفیس - اچھا - ستھرا
 Quaintness, *n.* Nicety : خصوصیت - لطافت - انوکھاپن
 Quake, *v. i.* To shudder ; to shake ; to tremble : لرزنا * *n.* A shake ; a shudder : لرزہ - تھرتھراہٹ
 Qualification, *n.* Legal power or ability : - معجاز - Modification * ایمانت - خوبی - وصف - کمالیت - استدلال - ترمیم - تخفیف - کمی
 Qualify, *v. t. or i.* To fit : موافق یا قابل کرنا - To vary ; to limit ; to soften ; to diminish : تبدیل کرنا - محدود کرنا - ملائم کرنا - کھٹانا
 Quality, *n.* A distinguishing attribute : خاصیت - A trait ; a character ; rank ; accomplishment ; superior birth ; skill ; profession : خاصہ - تشنگ - رہتہ - دہیت - شراعت - ہنر - حکمت - اعلیٰ درجہ کے The quality, * - پیشہ - صیغہ - فن - لوگ - نجیباً - امرا - شرفا - صاحبان والا مرتبت
 Qualm, *n.* A throe ; nausea ; compunction ; nausea : - زور - آبائی - خدشہ - مٹالی - خلش - پیشہ آبی
 Qualmish, *a.* Sick at the stomach ; squeamish : - تھلا ہوا - تنگ مزاج
 Quandary, *n.* A state of perplexity ; doubt : حیرانی - شبہہ
 Quantitative, *a.* Relating to quantity : متعلق بہ مقدار
 Quantity, *n.* Greatness ; extent ; measure ; bulk ; amount : - عظمت - حد - اندازہ - جسامت - مقدار
 Quantum, *n.* Quantity ; amount : معتاد - تعداد - بے پیمائی ہوئی چیز کی مالیت کی فائش - valebat * - مقدار
 Quaq, *v. i.* To quiver ; to throb : ہلانا - دھڑکانا
 Quarantine, *n.* Inhibition of intercourse with the shore : - ساحل یا بندر گاہ تک آمد و رفت کی ممانعت - قرنطینہ - وبا کی مرض کے سبب کسی شخص مقام دیکھ وغیرہ کی عہدگی

Quarrel, *n.* A brawl ; a wrangle ; a dispute : *v. i.* To dispute violently ; to wrangle ; to cavil ; to antagonize : جھگڑنا - قضیہ کرنا - نقطہ چینی کرنا - To quarrel with one's bread and butter, اپنی روزی و دشمن ہرنا - اپنی روزی کو خر نقصان پہنچانا
 Quarrelsome, *a.* Apt to quarrel ; irascible ; petulant : جھگڑاؤ - غصہ ور - جھکی - نکتے باز
 Quarry, *n.* A place where stones are dug : مقام - Game ; a heap of game killed : * جہان سے پتھر کودا جائے - To dig stones ; to prey : پتھر کو دنا - شکار - صید
 Quarryman, *n.* One who works in a quarry : کان میں کام کرنے والا
 Quart, *n.* The fourth part of a gallon : چوتھائی گیلن
 Quartan, *a.* Of the fourth : * چوتھیا - Occurring every fourth day : چار روزہ چوتھیا
 Quartan, *n.* An ague which occurs every fourth day : بخار - بخار جو چوتھے دن آتا ہے
 Quarter, *n.* A fourth part : چارم - پانچ - * (ربعہ - چارم - پانچ) - The fourth part of a hundredweight, *i. e.*, 28lbs : * A measure of 8 bushels : پورند کا ایک وزن - * One of the four cardinal points : ۸ بشل کا پیمانہ - * A particular region of a town or city : * اطراف اربعہ میں سے کوئی ایک - * The fourth part of the carcass of a quadruped : کسی ذبیح کئے ہوئے جانور کا چوتھائی ٹکڑا - Merce shown by a conqueror to the enemy : قیام - pl. Residence : - شرن - قیام کسی حد کے اندر رہنا - قابز - * سکونت * دوستانہ طور پر صلح یا رفاقت سے، n - * میں رہنا - * Close - s, کسی کا وفادار رہنا - * To keep fair - قول یا * To ask - صدر مقام - * Head * روپرو - * To give or show - جان بخش کرنا - جان کی امان دینا - * Syn.—District, region, tract.
 Quarter, *v. t. or i.* To divide into four equal parts ; to cut to pieces ; to station soldiers ; to lodge : چار برابر حصے کرنا - ٹکڑے ٹکڑے کرنا - سپاہیوں کو متعین کرنا - ٹھہرانا - ٹکانا
 Quarterage, *n.* A quarterly allowance : سہ ماہیہ - تنذراہ
 Quarter-day, *n.* The day when quarterly payment of rent or interest is made : قسط سہ ماہیہ کا آخر روز

Quarterdeck, n. The short upper deck : **چارتر ڈیک**
کئی چارتر ڈیک اور پورے منزل

Quarterly, a. Recurring every three months :
a. Once in a quarter of the year :
n. A periodical published once in a quarter of a year : **سہ ماہی رسالہ**

Quartermaster, n. An officer whose duty is to provide quarters, provisions, etc., for the army :
انسر فرج جو خیمہ و رسد وغیرہ کا انتظام کرتا ہے

Quartern, n. A gill ; the fourth of a pint :
چارتر ہائی پنٹ در چارٹھ ٹک - آدھہ پاؤ

Quarters, n. pl. Military station ; residence :
To beat up the—of, * حال دینا - حرج کرنا
To come to close—, * کوہمسان کی لڑائی بڑنا
Winter quarters, موسم سرما کی چھاوئی

Quartette, n. A stanza of four lines :
چار لہجے - قطعہ - چاروں لہجے

Quarto, n. A book in which a sheet is folded into four leaves :
چار ورقہ

Quartz, n. Rock crystal :
ایک قسم کا پتھر - پتھری
بلورین پتھر

Quash, v. t. To crush ; to quell ; to extinguish ; to make void ; to annul :
توڑنا - دہنا - فوراً کرنا - باعال کرنا - منسوخ کرنا - کل عدم کرنا

Quatern, } a. Consisting of four as quatern
Quaternary, } leaves : چار لہجے - چار پتیا

Quaternion, n. A set or group of four :
چار کی صف یا قطار

Quatrain, n. A stanza of four lines rhyming alternately :
چار لہجے - سرورٹھا

Quaver, v. i. To vibrate ; to shake in vocal utterance :
n. A rapid vibration :
تیز تیز تھوڑا تھوڑا - لغزش کرنا - لڑنا

Quay, (te) n. A mole ; a wharf :
پشتہ - گھاٹ

Quayage, n. Wharfage :
ٹیقات نی اور ڈرائی - گھاٹ پر مال اترانے پر چڑھنا تک محصور

Queachy, a. Shaking ; moving :
ہلتی ہوئی - متھرتی - دھنسی کرتی ہوئی

Queasy, a. Sick ; qualmish ; fastidious :
جسکا جی متلاتا ہو - متلاتا ہو - متلاتی لائے والی - مٹی - قٹی آور - نازکی دیند - عالی دماغ

Queen, n. The consort of a king ; a female monarch :
A piece in chess :
نیرہ بادشاہ * شہ بیگم - ملکہ

Queen dowager, * شطرنج کا وزیر
—regent, * راج - ماما - mother * بیگم
—bee, * راج رانی - ملکہ حکم ران
—regnant, چھتے کی مادین مکتبی

Queer, a. Odd ; singular ; whimsical :
آدمی جسکی عجیب عادتیں * طرفہ - نادر
ہوں - عجیب آدمی - طرفہ مہجر

Queerly, ad. Oddly ; singularly :
طرفہ طور پر
عجیب طور پر

Quell, v. t. To subdue ; to crush ; to quiet ; to calm :
دباننا - فرو کرنا - مطیع یا پامال کرنا - تصنیف کرنا - تسکین دینا

Quench, v. t. To extinguish ; to slake ; to put out ; to destroy :
سرد کرنا - ٹوٹنا کرنا - بجھانا - گل کرنا - برباد کرنا - تکاف کرنا

Quenchless, a. Inextinguishable ; irrepressible :
ناقابل فرو - لازوال - امت - نہ بجھنے والا

Querimonious, a. Quarrelsome ; complaining :
جھگڑالو - شائی

Querist, n. One who asks questions :
سوال پوچھنے والا - مستفسر

Quern, n. A stone hand-mill for grinding corn :
چکی - چانٹا

Querulous, a. Habitually complaining ; peevish :
شائی - گلہ کرنا عادی - تنک مزاج

Query, n. A question :
The sign of interrogation :
Doubt * شک * علامت سوال
To make inquiry ; to ask a question ; to doubt :
استفسار کرنا - سوال پوچھنا - شک کرنا

Quest, n. The act of seeking ; search ; request ; desire ; examination :
تلاش - جستجو - التجا - درخواست - خواہش - امتحان - تحقیقات

Question, n. An interrogation :
سوال * استہمام
Disquisition :
Doubt ; controversy :
جھگڑ - تفتیش - شک - شبہ - مباحثہ
وہ سنی جسکی * Matter to be inquired into :
* Begging the—, assuming something without proof :
* In—, under discussion :
* Above mentioned :
* Out of—, undoubtedly :
* Out of the—, not worthy of consideration :

* شک کرنا : To call in—, to doubt : **لحاظ**
 —of decision, **امر تمانع** * To call in—,
 * سوال اشاری، **Leading—** * جرح کرنا - **ہجرت لانا**
Out of the—, * **خارج از مقدمہ** * To beg the
 —, * **استدلال کرنا** * دعویٰ کر فرض ماننا
 سپاہی کر لازم ہے کہ بلا چوں،
 * **v. t. or i** To ask a question ;
 to debate ; to doubt ; to challenge :
 سوال کرنا - **پوچھنا** - **بھٹ کرنا** - **جھگڑا کرنا** - **شہہہ کرنا** - **شک کرنا** -
 جرح کرنا - **حجت کرنا**

Questionable, a. Doubtful ; uncertain ; dis-
 putable ; admitting of being questioned : - **مشتبہہ** -
 مشکوک - بے قابل پرورش - **ٹھیک** - **بھٹ طلب** -
 سوال طالب

Syn.—Disputable, debatable, doubtful.

Questioner, n. An inquirer : **سوال کر نیوالا** - **مستفسر**

Questionless, a. Doubtless ; certain : **بے شک** -
شہدہہ - **یقینی** - **لاریب**

Quib, n. A sarcasm ; a gibe : - **طنز** - **طعنہ** - **تشنہ** -
 ملامت

Quibble, n. An evasion of the truth ; a preva-
 rication : **راستی سے گریز** - **حیلہ حوالہ** - **بہانہ** - **ڈال**
 * **A low conceit** : **غرور** * **A cavil** :
 * **v. i.** To evade ; to pre-
 varicate ; to pun : **بھینا** - **گریز کرنا** - **حیلہ حوالہ** -
 کرنا - **ڈال جانا** - **مغالطہ دینا** - **ذومعنی کہنا**

Quibbler, n. A punster : **لفظہ گو** - **جکت باز** -
 سخن ساز

Quick, a. Alive ; nimble ; prompt ; rapid ;
 hasty ; sensitive ; pregnant : - **زندہ** - **تیز** - **مستعد** -
جلد - **پھرتیلا** - **شتاب** - **ذی حسن** - **باحسن** - **ذی ہوش** -
 تیزی سے - **شتابی** : **ad. Nimblely** ; soon : **بار بار**
n. A living animal or plant :
 * **The living flesh** ; the sensi-
 tive part : **چیتا گوشت** - **جاندار حصہ**

Quicken, v. t. To make alive ; to cheer ; to
 accelerate ; to refresh : **زندہ کرنا** - **خوش کرنا** -
 تروتازہ کرنا - **تیز چلانا** - **تیز کرنا**

Quicklime, n. Lime unquenched : **بڑی** - **انگ** -
 کلی - **چرنا** - **سفیدی**

Quickly, ad. Speedily ; nimbly : **جلدی سے** - **تیزی سے**

Quickness, n. Speed ; celerity ; briskness ;
 keenness ; acuteness of perception ; pungency

جلدی - تیزی - شتابی - چالائی - زرد - زرد
 فہمی - تیز طبعی - چرپرہفت - - تاکھی - تیزی

Syn.—Swiftness, fleetness, rapidity, velocity.

Ant.—Slowness.

Quick-sand, n. Sand sinking under the feet :
ریک روان - **چور باز** - **دندل** - **بچھن** - **دھسان**

Quickset, n. A living plant set to grow for a
 hedge : **مہندی وغیرہ کی قسم کا درخت جو تیزی گھیرنے**
 کے لئے لگایا جاتا ہے

Quicksighted, a. Acute of perception : - **تیز نظر** -
تیز نگاہ

Quicksilver, n. Mercury : **پارہ** - **سیلاب**

Quick-witted, a. Of ready wit : **حاضر جواب** -
زیرک - **تیز فہم**

Quiddle, v. i. To waste time in trifling employ-
 ments : **لہر لعاب میں وقت ضایع کرنا** - **تصریح اوقات کرنا**

Quiescence, n. Rest ; repose ; silence : - **سکون** -
آرام - **راحت** - **چین** - **اسایش** - **حاصوشی**

Quiescent, a. Calm ; unruffled ; silent : - **مطمئن** -
ساکت - **استہر** - **غیر متحرک**

Quiet, a. Still ; free from alarm or disturbance ;
 calm ; smooth ; peaceable ; retired : **ساکت** - **بے** -
شور و نساد - **باتقرار** - **خاموش** - **ہموار** - **صلح پسند**

n. Repose ; security ; tranquillity :
 * **Repose** ; security ; tranquillity :
آرام - **آسایش** - **قرار**

v. t. To still ; to pacify ;
 to allay : **تسکین دینا** - **فر کرنا** - **دنیبر دینا**

Quietism, n. Tranquillity of mind : **اطمینان** - **دھیج**
چپکے سے : **Quietly, ad.** Peaceably ; patiently : **صبر سے**

Quietness, n. Stillness ; tranquillity ; silence :
سکوت - **آرام** - **چین** - **خاموشی** - **چپ**

Quietude, n. Rest ; tranquillity : **آرام** - **قرار** -
تسکین

Quietus, n. Rest : **موت** * **Death** : **آرام** - **آردگی**
A final settlement : **آخری تصفیہ**

Quill, n. A large strong feather ; a pen : **بڑا مضبوط**
صاحب قلم - **منشی** - **A—driver** * **پز** - **پز کا قلم**
v. i. * **خاموش خط لکھنا** * **To arry a good—**
مورنا - **پز پز لپیٹنا** : **To plait** ; to wind on a quill :

Quilt, n. A thick cover for a bed : **توشک** - **گدا** -
v. t. To stitch one cloth upon
 another : **ایک کپڑے پز دوسرا کپڑا سینا** - **توشک بنانا** -
رضائی بنانا

Quinary, a. Consisting of five; arranged by fives :
پانچ کا پھرترا

Quince, n. A tree and its fruit : ایک قسم کا درخت اور اوسکا پھل - بھی

Quinine, n. An alkaloid obtained from trees of the genus :
کونین

Quinquangular, n. Having five angles or corners :
پنچ گوشہ - متعس

Quinquennial, a. Happening every five years :
پنچ سالہ

Quinsy, n. An inflammation of the tonsils :
خناق - گلے کی گتھی کا پھولنا - گتھیہ مالا

Quintain, n. A figure or object to be tilted at :
نیزہ بازی کا نشانہ

Quintal, n. A weight of hundred pounds :
سز پورنڈ کا وزن

Quintan, n. A fever occurring every fifth day :
بضار جو ہر پانچویں روز آوے

Quintessence, n. (L. quintaessentia, the fifth essence) the highest essence; concentrated extract :
اعلیٰ جوہر - ست - پیرا - لب لباب

Quintuple, n. Fivefold : *n. t.* To multiply by five; to make fivefold :
پانچ سے ضرب دینا - پانچ گنا کرنا

Quip, n. A sarcasm; a jibe; a jeer :
طعن - *v. t. or i.* To sneer at; to scoff; to jibe :
بولی مارنا - طعن کرنا - طنز کرنا - تمسخر کرنا

Quire, n. A body of singers :
گائیڈالونکا طائفہ
• 24 sheets of paper : کاغذ کا دستہ - ۲۴ پتختے

Quirk, n. An artful subterfuge; a shift; a quip; smart taunt :
جکت - حیلہ - ڈالا بٹالا - رمز - آوازہ - طعن

Quit, v. t. To absolve; to abandon; to forsake; to repay; to perform :
چھوڑ کرنا - آزاد کرنا - چھوڑ کرنا - دینا - بھالنا

To quit cost, To * لاگت یا مول دینا
To be with, * حساب ہے باق کرنا - چکنا کرنا
برایا ہونا

Syn.—Leave, relinquish, resign, surrender.

Ant. Occupy, seek.

Quit, n. Absolved; free; clear :
برہی - آزاد - مبرا - پاک

Quitclaim, n. Relinquishment of a claim; a deed of release :
برہی دہی - دعویٰ چھوڑ دینے کی دستاویز

Quite, ad. wholly; perfectly :
بالکل - توکل - پورا - سراسر

Quit-rent, n. A small reserved rent :
مقررہ خراج

Quits, ad. Square; on equal terms :
تصدیق - چمکا - انصاف

Quittance, n. Discharge from a debt or obligation; recompense :
باز دہی - چھوٹکارا - فارغخطی عرض - معاوضہ - اجر

Quiver, n. A sheath for arrows :
* ترکش
v. t. To shake; to shiver; to be agitated :
ہلنا - کانپنا - تھرتھورانہ - تھیرا جانا

Quixotic, a. Aiming at an impossible ideal, Romantic; absurd :
ڈامسکن خیال کو پورا کرنے کے درپے - مستحاور خیالی - عجیب - بے سروپا

Quixotism, n. Romantic and absurd notions; visionary schemes :
عجیب خیالات - خیالی پلانز

Quiz, n. A riddle, a jest; an odd fellow :
* چیستان پھیلانہ - معصہ - لطیفہ - ہزل - عجیب شخص
v. t. To puzzle; to banter; to hoax; to spy or peer into :
گھبرانا - چھیننا - غصے کرنا - تھینا کرنا
کرنا چھیننا یا تاکہ

Quizzical, a. Comical :
خندہ آزر - خوش کردیوالا - دلگے باز

Quodlibet, n. A nice point; a subtlety :
باریک بات - دقیقہ - رمز

Quoif, n. A cap or hood :
برقع - ٹوپی

Quoin, n. A wedge; an external angle :
کونہ - گوشہ بیرونی

Quoit (koi), n. A circular iron ring to be pitched at a mark :
لوہکے چکر جو نشانہ مارنے کے لئے درجڑا
چکر * *v. t.* To throw or play at quoits :
میں نشانہ مارنا

Quondam, a. Former :
سابقہ - پیشینہ - آگے کا

Quorum, n. A bench of justices; a number for transacting business :
اجلاس عدالت - اتنے اشخاص جو اجراءے کار کے لئے کافی ہوں

Quota, n. A proportional share; a part assigned to each :
حصہ رسدہ - حصہ - بظورا

Quotation, n. The passage cited : عبارت جس کا
 * The price of an article named
 or specified : حوالہ - کسی خاص شے کی نرخ - مرل
Quote, v. t. To cite : حوالہ دینا : To name the
 current price of : نرخ بتانا - دام بتلانا
Quoth, v. i. Said ; spoke : کہا : ...

Quotidian, a. Daily ; occurring every day : روزمرہ
n. A fever which
 returns every day : روزانہ تب
Quotient, n. The number resulting from the
 division of one number by another : حاصل
 قسمت - خارج قسمت - لبدہ

R

Rabbit, n. Groove in the edge of a board : چول
 چھری - چول کا سوراخ - سال - چور کی چھری - درز -
 پتیا
Rabbi, n. A Jewish teacher or doctor of the law ;
 a chief : بیتر ۲۰۰ - یہودی قانون دان سردار
Rabbit, n. A well-known animal of the hare
 kind : خرگوش - کورھا
Rabble, n. A noisy crowd ; a mob : گنواروں یا
 رڈیوں کی بھینٹ - اڑھام - ہجوم - تیلی تبولی - رمدو
 پیتو - دھننے چولائے - عوام - چور کی قوم
Rabid, a. Furious ; mad : غضب ناک - دیوانہ - بارلا -
 پاگل - سودائی - غضب ناک
Rabidness, n. Furiousness ; madness : غضب
 ناکي - دیوانگی - بارلا پن
Race, n. A rapid course ; a running ; a contest
 in running ; progress : تیز رفتار - درز - شرط بدي
 * Family ; a breed ; a root ; flavour :
 خاندان - نسل - بیڑھی - جماعت - جز - اصل - بنیاد -
 بدور زندگی - اوش - رفتار : Course of life * ذائقہ - مرہ
Race, v. i. To run swiftly ; to contend in
 running : چل دوڑنا - شرط بدکر دوڑنا
Race-ginger, n. Ginger in the root : سرنگھہ
 ادک
Race-ground, n. A place set apart for racing :
 گھوڑ دوڑ کا میدان - چرگان
Race-horse, n. A horse bred for running :
 گھوڑ دوڑ کا گھوڑا
Raceme, n. A cluster ; a bunch : جوتہ - گچھا -
 خوشہ
Racer, n. A race-horse : گھوڑ دوڑ کا گھوڑا
Racial, a. Pertaining to lineage or breed : نسل
 یا خاندان کے متعلق
Raciness, n. Peculiar and piquant flavour :
 عجیب تیز مرہہ خاص طرح کی نمینگی یا لطف

Rack, n. An engine of torture : شکنچہ *
 Anguish : * سیاست : A grate : آتش دان
 جانورونکو گھاس کھلانیکا
 ارڈنا نورا ہادل : * Flying, broken clouds : کھوڑا
 * A frame work on which articles are
 arranged : رکھنے کی کھوڑی - کھوڑی
 قارت یا : * To go to—, * تھس تھس
 ستانا - دکھ دینا : * To put to rack : برباد ہونا
Rack, v. t. To stretch unduly ; to twist ; to
 torture ; to heighten : حد سے زیادہ تاننا -
 مڑورنا - تکلیف دینا : طرل دینا - برھانا
Racket, n. Noisy talk ; din ; * شور غل غپڑا
 bat used in tennis : ٹینس کھیلنے کا ڈنڈا
Rack-rent, n. An annual rent raised to the
 utmost : سالانہ کرایہ اتنا درجہ کا - سخت لگان
Racy, a. Strong ; rich ; piquant ; spirited :
 تیز * مسالدار - مزہدار - شرح - زندہ دل
Syn. Spicy, spirited, lively, smart.
Ant. Cold, dull, insipid, stupid.
Raddle, n. A hedge : * A weaver's tool :
 * v. t. To twist together ; to inter-
 weave : * جولاہیک اررار
 * * * * *
Radiance, n. Brilliancy ; brightness : چمک -
 گلاب - انعکاس - روشنی - تجلی
Syn—Lustre, brilliancy, splendour, glare.
Ant.—Dunness, dulness, opaque, obscurity,
 shade.
Radiant, a. Giving out rays ; shining ; spark-
 ling : نور انشان - چمکدار - روشن
 چمکیلا - منور - نورانی - متجلی
Radiate, v. t. or i. To emit beams ; to issue in
 a direct line from a point : نور انشان -
 ہونا - چمکنا - تابان ہونا - درخشاں ہونا - شعاع کا
 ... خط میں انعکاس کرنا

Radiation, n. Emission of rays ; beamy brightness : نور انشائی - منور تجلی - جلاہ - انعکاس - شعاع : ریزی - اخراج و افشانی

Radiator, n. A body from which rays proceed : جسم جس سے شعاع یا کرن نکلیں

Radical, a. Original ; fundamental ; thorough going : بنیادی - ذاتی - اصلی - Innate ; primitive : * heat, * جذبی - طبعی - قدیمی - ابتدائی : رطوبت * moisture, * حرارت عزیز - اصلی گرمی * n. A primitive word, * علامت جزر, sign - اصلی - تواتر اصلی * A democratic : * اصل لفظ - مادہ - دھاتو : جمہوری حکومت کا طرفدار - حامی آزادی

Radically, ad. Originally ; fundamentally ; essentially : بالاصل - بالذات - ضرورتاً - فی الحقیقت

Radication, n. The act of taking root : جز پکڑنا - مضبوطی - استحكام

Radicle, n. That part of the seed of a plant which becomes a root : بیج کا وہ حصہ جو جز ہو جاتا ہے - انگور

Radish, n. An annual plant : مرئی - ترب

Radius, n. The semi-diameter of a circle : نصف قطر - اردہ بیاس

Radix, n. A primitive word ; the root : اصل لفظ - مادہ - جز - بیج

Raff, n. A jumble : * Refuse : * خلم - مالم : * The scum of society ; the rabble : * آخوڑ * بھارتا - جھارتا : * To sweep : * لڑک - عرام : * چھین لینا - چوری کرنا

Raffle, v. t. or i. To dispose of by means of a raffle ; to engage in a raffle : * قرحہ : * A petty kind of lottery : * اندازی کرنا - پاسہ پھینکنے میں شریک ہونا : * چھٹی - لٹری - جوا - قرحہ : * اندازی

Raft, n. A float of logs : * کڑیرنکا بیڑا - ٹھہرنکا بیڑا : * To carry on or in a raft : * بیڑے پر لیجانا

Rafter, n. A roof-timber : کڑی - دھنی - ترکی

Rag, n. A torn piece of cloth ; a shred ; a fragment : * چھڑا - گودڑ - لتا - ٹکڑا

Ragamuffin, n. A paltry fellow ; a blackguard : گدڑیا - پاجی آدمی - چتھڑیا پیر

Rage, n. Furry ; vehemence ; extreme violence ; violent desire : * خشم - تیزی - شدت - تندگی -

To vent one's—on a person, بھارت نکالنا - غصہ اُتارنا

Syn.—Anger, vehemence, excitement.

Ant.—Softness, mildness, patience.

Rage, v. i. To be furious with anger : * جوہنجھلانا : * To ravage : * غارت کرنا : * To prevail with fatal effect, as an epidemic : * شدت پھیلنا - بڑھا ہونا - عالمگیر ہونا

Ragged, a. Tattered ; uneven ; jagged ; dressed in rags : * ڈانڈا - کھوڑھوڑا - دندانا : * voice, * دار - چھڑے لپٹے ہوئے - پر نشیب و فراز پٹی آواز

Raging, a. Furious ; violent : * تہ - قہر ناک - شدید

Ragout, n. A highly seasoned dish of meat and herbs ; a stew : * مسالہدار گوشت اور ترکاری - قورمہ - نیم پخت گوشت

Raid, n. A hostile incursion ; a foray : * یورش - چڑھائی - حماء - دعوا

Rail, n. A bar of wood or metal : * لکڑی یا لوہے کی : * v. t. To inclose with rails ; to send by rail : * گھرا لگنا : * To travel on a railway : * لوہے کی سڑک کے ذریعہ سے روانہ کرنا : * Mلامت کرنا : * To utter reproaches ; to scold : * گالی گلوچ کرنا : * To—at one another, * چڑکنا

Railing, n. A fence ; a series of rails : * تھام - * Insulting and reproachful language : * دشنام - طعنہ - گالی

Raillery, n. Banter ; jesting language : * تشلیح - ہزل - دل لگی - مذاق - تمسخر - بچوڑ ملیج - طرائف

Railway, n. A road on which bars of iron are laid for wheels to run on : * سڑک جیسوڑ لوہے کی : * پٹریاں بچھتی ہوں - ریل

Raiment, n. Clothing in general vestments : * کپڑا - پوشاک - جامہ - لباس

Rain, n. Water falling in drops : * برکھا - مینہ : * To—cats and dogs, * بارش - باران : * To pour or fall in drops : * برسنا - برسنا - برسی شدت سے برسنا ہونا - مینہ پڑنا - برسنا - ترشح ہونا

Rainbow, n. A many coloured bow or arch formed by the refraction and reflection of rays of light from drops of rain : * قوس قزح - دمنش

Rainfall, n. The water that falls in rains : برسات کا پانی - مینہ کا پانی - بارش

Rain-guage, n. An instrument for measuring the rain fall : برسات کا پانی ڈالنے کا آلہ - مائیکس بارش

Rainy, a. Abounding with rain ; wet : برساتی - گرتے دن * A—day, (fig.), Evil times :

Raise, v. t. To lift upward : اُڑھانا - اُڑھنا کرنا * To exalt : سرفراز کرنا * To increase : بڑھانا - بڑھانے کرنا * To excite : برانگیختہ کرنا * To recall from death : مردہ کو جلانا * To set upright ; to erect : کھڑا کرنا * To levy : پیدا کرنا - جمعنا - ارنانا - اربھنا - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

to heave - پھولنا - پھولانا * To cause to grow : اربھانا - اربھانا * To bring into being : عسپی میں لانا - وجود دینا * To give rise to : مشہور کرنا - اٹھانا * To—a blockade or a siege, to terminate operations : حملہ ختم کرنا * To—a false report, ہوا باندھنا * To—the wind, جھوٹے خبر اڑانا * To—

Rally, v. t. or i. To collect and put into order scattered forces : ہرنی فرج کو اکٹھا کرنا * To reunite ; to joke ; to banter : - مذاق کرنا - تمہانا * To renew vigour : تازگی کرنا * n. The act of reuniting troops : سپاہ کی از سر نو ترتیب * A good-humoured jest : مذاق

Ram, n. A male sheep : مینڈھا - مینڈھا * The Aries ; one of the signs of the zodiac : برج حمل - میکہ * A war-like instrument of battering walls : دیوار گرانے کی چنگی کل

Ram, v. t. To drive down ; to force in ; to batter ; to stuff ; to butt against : - کسنا - داب کر پھرنا - ٹکڑ مارنا

Ramble, n. A roving ; an irregular excursion : ہرزہ گردی * v. i. To wander ; to think or talk in an incoherent manner ; to grow without restraint : ہرزہ گردی کرنا - سیر کرنا - بھکی ہرنی باتیں کرنا - خورد رو اٹھنا

Ramification, n. The act of dividing into branches : شاخ - شعبہ - حصہ * A branch or division :

Ramify, v. t. or i. To shoot or spread out into branches : شاخ پھولنا - شاخ در شاخ کرنا - منشعب کرنا

Rammer, n. An instrument for driving down ; a ramrod : موگرا - گھن - توپ کا سپا - گز

Ramous, a. Branchy ; full of branch : شاخ دار - پر شاخ

Ramp, v. i. To jump ; to bound ; to climb : پہلانگ - کود پھاندا - زغند - ذفن - قزاق - لٹیرا

Rampant, a. Overgrowing the usual bounds ; exuberant ; rank : فراخ - کثرت - نزاروانی

Rampart, n. A bulwark ; a defence ; an elevation or mound of earth round a fortified place : پناہ - بچاؤ - شہر پناہ - نصیر - دیوار - قلعہ - دھس بندوق کا گز - توپ کا

Ramrod, n. A rammer : موگرا - گھن - توپ کا سپا - گز

Rancid, a. Having a rank smell ; musty ; strong-scented : بدبو دار - گندہ - مشعور - حزا - ہوا - تیز بو دار

Rake, n. An implement with teeth used for dressing the soil in gardens, and for gathering light substances : اوباش - شہدا - جمع کرنیکا آلہ - اوباش - شہدا - جمع کرنیکا آلہ * A loose disorderly person : - اوباش - شہدا - جمع کرنیکا آلہ * To level or gather with a rake : r. t. or i. To level or gather with a rake : جمع کرنا * To lead a dissolute life : آوارہ زندگی بسر کرنا - اوباشی کرنا * To—up, - آگ راکھ سے ڈھانکا - آگ دبانا * To—up old scores, گزے کوٹے اکھاڑنا * To scrape : کھینچنا - کھینچنا * To lead a debauched life : آوارہ زندگی بسر کرنا - اوباشی کرنا * To incline : خط عمود سے جھکنا

Rakish, a. Loose ; dissolute : - تماش بین - عیاش - آوارہ - لوند

Rake-hell, n. A profligate : رفتی باز - شہدا - تماش بین

Rancour, n. Malignity ; implacable enmity ; deep-seated hate : - عداوت - بغض - نیندہ - عناد - سخت کینہا - دلی عناد

Rancorous, a. Malignant ; spiteful : - کیندہ ور - پر عناد

Random, a. Done at hazard ; fortuitous : - اتفاقی - **At—**, without settled aim ; at hazard : **n.** Want of direction ; chance ; **range** : * لے قاعدگی - اتفاق - ٹپا - پہنچ - تیز - زد - اتفاق سے - اکیل پھیر - ایل ٹیو - بے تھرر ٹھکانے **At—**

Range, v. t. or i. To set in a row ; to arrange systematically : - قطار باندھنا - صف میں رکھنا - قسم دار رکھنا * To class : - ترتیب دینا - باقاعدہ رکھنا گذر جانا - گشت : * To pass over ; to roam : چھانٹنا - قسم - **A class** : * صف : **n.** A row : * کرنا - بھرنا **The place where shooting with firearms is practised** : * چاند ماری **An expedition** : - رمت - **Extent of excursion ; scope** : * چڑھائی **Within the—of**, liable to ; قابو میں - باعث - تابع subject to :

Ranger, n. A rover : - پھرنیوالا - میڈر شکار **Keeper of a park** :

Rank, a. Fertile ; excessive luxuriant ; strong scented ; disgusting violent : - زرخیز - بہت کثیر - صف - قطار - **n.** A row ; a range ; a division ; grade ; eminence : - صف - منزلت **and file**, all in an army who carry firelocks مع فوج کی کل سپاہ **To take—of**, to enjoy precedence over : * اول ہونا - سبقت لیجانا **To fill the—**, سبقت یا **To take—of**, * کتنی بھرنا **Woman of—**, پردہ نشین - پردہ **To place in a line ; to class** : قطار : * **v. t.** **To have a degree of dignity** : مرتبہ رکھنا

Rankle, v. t. or i. To fester : - پکنا - سوزنا - **To rage ; to irritate** : - زہش کرنا

Ransack, v. t. To search thoroughly ; to plunder : - چوں مارنا - تھونقنا لوتنا - غارت کرنا

Ransom, n. Release from captivity ; payment for freedom from restraint, penalty or forfeit : * رھائی - مصلحتی - ندیہ - زر مصلحتی - خون بہا - دقت

v. t. To redeem from captivity ; to deliver : - فدہ دینا - چھوڑنا

Syn.—Redeem, release, rescue, save.

Ant.—Fine, indict.

Rant, n. Boisterous ; empty declamation ; **boon-bast** : * ہرزہ گزنی - لمبی چوڑی بات - کھ درازی - تینک : **v. t.** To rave : - بکا - کپ ہانکنا - شیخی بگھارنا

Rap, n. A quick smart blow ; a knock : **v. t.** To strike with a blow ; to snatch away ; to transport out of one's self : - دھول مارنا - چپٹن لینا - دھول مارڈ - ہمز مارڈ - کپڑ کوزا ہٹ زبردستی لے لینا - بے خود ہونا - بے خود کرنا - وجد چھیننا چھپتی کرنا - **To—and rend**, * میں لانا نوچنا کوسرنا

Rapacious, n. Given to plunder ; avaricious : - لٹیڑا - غارت گر - خرغٹوار - طالع

Syn.—Greedy, reavenous, voracious.

Ant.—Frugal, thrifty, sparing, liberal.

Rapacity, n. Seizure by force ; excessive greediness : - گھیری - زبردستی - طمع - لالچ - لرہوہ

Rape, n. A carrying away by force : - زبردستی بھگا * **A plant** : * زنا دلچسپ : **Sexual intercourse with a woman forcibly and against her will** : * لیجانا * **یک قسم کا درخت جسکے پھول سے تیل نکالا جاتا ہے** **Fruit plucked from the cluster** : - وڈ میوہ جو خرشہ سے توڑ لیا جاتا ہے

Rapid, a. Fast ; advancing with speed ; quick in utterance : - تند تیز - تیز رو - تیز قدم - جاد بولنے والا

Rapidity, n. Swiftmess ; celebrity ; haste in utterance : - تیزی - شتابی - بولنے میں جلدی

Rapidly, ad. Swiftly ; with quick motion : - تیزی سے - شتابی سے

Rapids, n. pl. Swift current in a river where the channel is descending : - دریا کے اوتار کی جگہ جہاں دھاڑا بہت تیز ہوتی ہے

Rapier, n. A light sword used only in thrusting : - پتیلی - پیش قبض - کٹار - نیمچھہ

Rapine, n. The act of plundering ; spoliation ; violence : - غارت گری - اورت - ظلم - تھت و تاراج

Rapt, a. Transported ; in an ecstasy : - سوسٹ - آپے سے باہر - مگن - مہر مستغرق

Rapture, n. Transport ; ecstasy : - جوش - جذبہ - سرز - وحشیانہ خروشی

Syn.—Bliss, ecstasy, transport.

Ant.—Misery, distress, agony.

Rare, a. Sparse; porous; not compact: ہڈیالا
 Uncommon; very غیر معمولی - قیمتی - جو کم دیکھنے یا وقوع میں آتا ہے - نادر - بے مثل

Rarefy, v. t. or i. To make or become thin or porous: رقیق کرنا یا ہونا

Rarely, ad. Seldom: شان نادر: * Finely سے: لطافت سے

Rarity, n. Uncommonness: ندرابی - کم یابی -
 An uncommon thing: * Tenuity: لطافت - ندرابن - انوکھائی
 تحفہ - سرگت

Rascal, n. A mean fellow; a scoundrel; a trickish, dishonest person: بد ذات -
 ذغاباز شخص

Rascality, n. Villainy; base fraud: بد معاشی -
 دعا بازی - شرارت

Rascally, a. Dishonest; vile; worthless: ذغاباز
 کمینہ - حقیر - پاپی

Rase, v. t. To scratch; to raze: رگڑنا
 To level with: زمیں سے ہموار کرنا - ڈھانا - منہدم
 کرنا - خاک میں لانا

Rash, a. Hasty; precipitate; headstrong: جامد باز -
 پھسپی - n. An eruption: * n. An eruption: بے دھڑکے
 * v. t. To cut; to slice; to hurry: کاٹنا - پھانک ارتقارنا - چلنی کرنا

Rashly, ad. Precipitately: adventurously: بے
 دھڑکے - بے ڈھانسا - بے معاہدہ - بے سمجھے - بڑھے

Rasp, n. A large rough file; a grater: بڑی ریتھی -
 * v. t. To rub with a rasp; to grate: رگڑنا - ریتنا

Raspberry, n. The fruit of a kind of bramble; a rasp: رس بھری - ایک قسم کا پھل

Rasure, n. An erasure: چھل چھال - کات کورت

Rat, n. A small rodent animal: چوہا - موش -
 * To smell a —, to be suspicious that all is not right: * شک کرنا
 * To forsake one's associates: زینقرنکو چھوڑنا اپنے فائدہ کی غرض سے

Ratable, a. Capable of being rated; liable by law to taxation: نرخ کرنے کے لائق - قابل محصور -
 قابل خراج

Ratably, ad. By rate or proportion: نرخ یا اوسط
 کے حساب سے - حصہ رسدی سے

Ratan, n. A cane: بید - بیت

Rate, n. Standard or proportion of price: اندازہ -

Size: * Degree: * نرخ - بہاؤ - تہہ بازی

At any * Tax: شرح لگان - خراج - ہر حالت میں - کچھ ہی ہو -

—, in any case: نرخ and adjustments of, قطع عذر

* One in general —, بڑتا

—payers, * v. t. or i. To value; to estimate; to be set in a certain class; to

reprove: قدر کرنا - اندازہ کرنا - نرخ باندھنا - کسی

درجہ میں رکھنا - دھمکانا

Rather, ad. More readily; on the other hand; somewhat; moderately: more properly; especially: زیادہ تر - برعکس - بلکہ - بر خلاف -

کسی قدر - بخوبی - جیسا چاہئے - بہتر ہے کہ - خاصکر -

I will rather die than beg, * I will rather die than beg, * The rather, -

چاہد - بڑیاک مانگنے سے مرنا بہتر ہے

بہتر تو ہے

Ratification, n. Confirmation; authorization: استھکام - تصدیق

Ratifier, n. One who auctions: تصدیق کرنے والا -

منہاڑ کرنے والا

Ratify, v. t. To confirm; to make valid; to sanction: استھکام کرنا -

مضبوط کرنا - توثیق کرنا - جائز: قہرانا - منظور کرنا

Ratio, n. Proportion; rate: تناسب - نسبت - اندازہ -

مقدار

Ratiocination, n. The act or process of reasoning: استدلال - ملاحظہ - مباحثہ

Ration, n. A daily allowance of provisions: خوراک - سیدھا - راسن

Rational, a. Having reason; not absurd: judicious: ذی عقل - ناطق - معقول - سمجھدار - شایستہ:

A rational being, انسان - حیوان ناطق

Syn. Saue, sound, intelligent, reasonable.

Ant. Insane, silly, irrational.

Rationale, n. A statement of reasons: دلائل -

تقریر - ترجمہ

Rationality, n. The power of reasoning; reasonableness: دلیل کرنا - قوت - قوت ادراک - ناطقہ -

معقولیت - مدرکہ

Rattle, v. t. or i. To clatter; to jabber; to scold: * کھنکھرائنا - بڑبڑانا - جلدی بولنا - دھمکانا

—in the throat, * n. A کھنکھرائنا - گھرا چلنا

succession of sharp sounds : جھنکار * Loud,
 rapid talk : بڑا اہت * A child's toy : - چرخي
 جھنچھنا
Rattlesnake, n. A kind of poisonous serpent :
 امریکا میں ایک قسم کا سانپ جس سے چلتے وقت
 کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہوتی ہے
Rattling, n. Rapid succession of sharp sounds :
 جھنچھنا
Raucity, n. Hoarseness ; rough utterance : بھاری
 آواز - بیٹھھی آواز - گارگرتنگی
Ravage, v. t. To lay waste by force ; to de-
 vastate ; to pillage ; to sack : اور چارٹا -
 ورن کرنا * **n.** Violent غارت کرنا - اورٹنا -
 تاخت و تاراج کرنا
 سخت بربادی - :
 ruin ; devastation ; havoc ; decay :
 ویرانی - تاخت و تاراج - اور چارٹا - پایدالی
Rave, v. i. To talk irrationally ; to be delirious :
 بے عقلی کی باتیں کرنا - بدحواس ہونا - بے خود
 * **To—on or upon, to be mad after :**
 کسی پر دیوانہ ہونا - فریفتہ ہونا
Rave, v. t. To utter wildly and excitedly :
 بھونکا
 بک جھوک کرنا - نامعقول گرمجوشی سے لکھنا - بھکی
 بھکی باتیں کرنا
Ravel, v. t. or i. To untwist ; to unweave ; to
 salajehna - اور لچھنا - درہم
 entangle ; to perplex :
 برہم کرنا - اور دھینڈنا - کھول ڈالنا - الجھانا - پیچیدہ
 کر ڈالنا
Ravelin, n. A detached work in a fortification :
 قلعہ کا ایک حصہ
Raven, v. t. or i. To devour ; to obtain by
 کھاجانا -
 violence ; to prey on with rapacity :
 ایک * **n.** A kind of crow : شکار کرنا
Rapine ; * قسم کا کرا - پہاڑی کرا - زاغ دشتی
 غارت گری - اورٹ - شکار
Ravenous, a. Voracious ; rapacious ; furiously
 eager : گہاڑ گوب - خرنخوار - درنہ - بھوک مرا
Ravine, n. A deep hollow between hills ; a
 غار - گھاڑ - ٹالا
Raving, a. Furious ; mad : شوریدہ سر - دیرینہ
Ravish, v. t. To seize and carry away by
 زبردستی لےجانا - اچھت کرنا
Syn.—Transport, entrance, violate, deflower.

Raw, a. Not boiled or roasted ; immature ;
 unfinished ; undressed ; unripe ; untried ; not
 spun : بے پکایا ہوا - ناتمام - بے بنایا ہوا -
 خام - ڈاڑھو - بے بنا
Rawboned, a. Gaunt : جسکی ہڈیوں پر گوشت
 نہ ہو - دہلا
Rawhead, n. A spectre : بروت - ہوا
Ray, n. A line of light ; a gleam ; perception ;
 شعاع - کرن - چمک - تجلی - ادراک - ہم -
 ایک قسم کی مچھلی : * **A kind of fish :**
v. t. To radiate ; to shoot out ; to streak :
 پھیلنا - نکالنا
Rayless, a. Destitute of light ; dark : بے
 نور - بے چمک - تاریک
Raze, v. t. To efface ; to extirpate ; to overthrow :
 مٹا دینا - مسمار کرنا - اور کھارنا - پایمال کرنا - ڈھا
 دینا - منہدم کرنا
Raze, n. Root ; race (*Two razes of ginger*)
 جڑ کا ٹھوس یا جڑ (ادری کی دو کائیدہ)
Razor, n. An instrument for shaving :
 استرا - چھرا
Reach, v. t. or i. To stretch out ; to hand over ; to
 come to ; to obtain ; to penetrate ; to comprehend :
 پھارنا - پھینٹنا - دینا - حوالہ کرنا - پہنچنا - ڈالنا
 ہونا - حاصل کرنا - پانا - گھسنا - پھینٹنا - سمجھنا -
n. Power ; influence ; access ; extent :
 مقدر - قدرت - بس - رسائی - پہنچ - اختیار - مجال
 کشادگی - وسعت
Re-act, v. t. or i. To act or do anew ; to act
 پھر کرنا - خلاف
 in opposition to ; to act mutually :
 اثر دینا - ملکر کرنا
Re-action, n. Counteraction ; backward ten-
 dency ; reversion to a previous condition ;
 ہٹل - واپسی - پہلی حالت میں ہرجانا -
 repulsion :
 مذاقت
Read, v. t. or i. To utter aloud ; to peruse ; to
 understand ; to learn ; to explain ; to be stu-
 رور سے پلنا -
 dious ; observe marks of ; learn :
 پورنا - جانا - سمجھنا - توضیح کرنا - کتاب کی سیر
To -- between the lines, to understand the
 کسی کتاب کے خاص مطالب

- کسی کے بشرے : *To read it in one's face* * تو سمجھنا
سے کسی بات کو تازہ جانا یا پہچاننا
- Read, (red) a.** Perused ; learned : عالم - پڑھا ہوا
- Reader, n.** One who peruses : **A** * پڑھنے والا
reading book : پڑھنے کی کتاب
- Readily, ad.** Quickly ; easily ; cheerfully : -
تیز - فوراً - جلدی سے - آسانی سے - بخوشی - دل سے
- Readiness, n.** Aptitude ; quickness ; cheerfulness :
آمادگی - مستعدی - تیاری - جلدی - شگامی -
خوشی - دلدادگی
- Reading, a.** The act of one who reads ; perusal ;
study : پڑھائی - مطالعہ - پڑاؤ
- Ready, a.** Prepared ; prompt ; dexterous ;
willing ; at hand ; convenient : -
مستعد - آمادہ - * تیار - چالاک - راضی - قریب - نزدیک - آسان
—made, a. Prepared beforehand ; not
made to order : پہلے سے طیار - بے کہہ بنا ہوا
- Reckoner, ایک** — **reckoner,** نقد روپیہ - زر نقد
کتاب جس میں تنخواہ سرد وغیرہ کا روز آٹھ ماہانہ
—at an an- * ابر سالانہ حساب کیا کرایا ہوتا ہے
swer, تیز فہم - جگت - witted, * حاضر جواب
باز - حاضر تدبیر
- Reaffirmance, n.** A second confirmation : اقرار
ثانی
- Real, a.** Not fictitious ; true ; actual ; not as-
sumed ; immovable : -
واقعی - سچا - معتبر - اصلی -
صحیح - حقیقی - تحقیقی - غیر متزلزل
- Realisation, n.** The act of realising : وصول
تحصیل
- Realise, v. t. or i.** To bring into being or act ;
to accomplish ; to feel vividly ; to gain money :
موجود کرنا - وقوع میں لانا - کردارنا - پورا کرنا - جاننا -
یقین کرنا - روپیہ پیدا کرنا
- Realism, n.** Conceiving and representing things
as they are : انشا گوئی و مصوری میں موجودات کو
ویسی ہی پیش کرنا جیسی واقعی دیکھنے میں آتے
ہیں - حقیقت شناسی
- Reality, n.** Fact ; certainty : اصلیت - حقیقت
- Really, ad.** Actually ; truly : -
اصل میں - واقعی -
درحقیقت
- Realm, (relm) n.** A royal jurisdiction ; kingdom ;
department : اختیار شاہی - سلطنت - ملک - پادشاہت

- آسمان - The —s above, * سات - مجال - صیغہ
* عالم ازواج The pale—of shade, * بھشت
بادشاہت مچاس امر **The Estate of the Realm,**
اور مجلس وکلا و رعایا
- Realty, n.** Real property ; loyalty : -
چاہداری - نمک حلالی - خیر خواہی
- Ream, n.** A package of 20 quires of paper : -
ریم - بیس دستہ کاغذ
- Reanimate, v. t.** To revive ; to resuscitate :
پھر زندہ کرنا - قائم رکھنا
- Reap, v. t. or i.** To cut grain with a sickle ; to
gather ; to obtain ; to receive the fruit of
labour : اناج کاٹنا - جمع کرنا - حاصل کرنا - محنت کا
ثمرہ پانا
- Reaper, n.** One who cuts grain at harvest : فصل
کاٹنے والا - دروگر
- Reappear, v. t.** To appear anew : -
پھر نکل آنا -
پھر ظاہر ہونا
- Reappoint, v. t.** To appoint again : پھر مقرر کرنا
- Rear, n.** The part behind . the last class ; the
last in order : عقب - پیچھے - آخری درجہ - پیچھلا یا
سب سے پیچھے — **To bring up the—** * آخری حصہ
* **To raise ; to stir up ; to educate ;**
To * اڑھانا - اوسکانا - تعلیم دینا - پالنا
پچھلے پانوں پر کھڑا ہونا : **rise on the hind legs :**
اٹھ ہونا - چراغ پا ہونا
- Rearguard, n.** The body of an army that marches
in the rear : سپاہیوں کا دستہ جو لشکر کے پیچھے
رہتا ہے
- Rearward, n.** The last troop ; the end ; the tail :
پس لشکر - اخیر حصہ - پیچھاڑی
- Reason, n.** The faculty of distinguishing truth
from falsehood and good from evil : عقل -
* **Ratio-** * **Motive ; cause :** سبب * **cination :** قوت مدرکہ
حق - **Equity ; moderation :** -
* **In—, In all—, in justice ; with rational**
ground : * **It is** * انصافاً - بروحہ - معقول
* **v. t. or i.** * **To ratiocinate ; to debate ; to persuade**
by reasons ; to exercise one's rational faculty ;
to support with reasons : -
دلیل کرنا - حجت کرنا -
بھٹ کرنا - مناظرہ کرنا - دلائلوں سے دریافت یا ثابت کرنا -
دلائل سے سمجھانا یا مضبوطی دینا - عقل کو کام میں لانا

Re-ascend, v. t. To mount again : پور سوار
 هرتا - پور چرمتا

Reasonable, a. Rational ; just ; moderate ; tolerable :
 قزین عقل - معقول - عقل - ذبیح مناسب -
 مترسطا - اوست

Syn.—Just, honest, fair, suitable.

Ant. Unjust, dishonest, foul, unfitting.

Reasonableness, n. The quality of being reasonable :
 معقولیت - درستتی - مناسبیت

Reasoning, n. Ratiocination ; argumentation :
 دلیل - مباحثہ - مناظرہ - تقریر

Reassert, v. t. To assert again : بات تو پور قائم
 کرنا - پور دعویٰ کرنا

Reassign, v. t. To transfer back : پور دیدینا

Reassume, v. t. To take again : پور اختیار کرنا -
 پور نرض کر لینا

Reassure, v. t. To restore courage to : پور ہمت
 دلانا - پور یقین دلانا

Reave, v. t. To take away by violence : چورین لینا -
 زبردستی لینا

Rebate, v. t. To blunt ; to diminish ; to deduct :
 منہائی * n. Discount : - کند کرنا - کم کرنا - ٹھکانا
 وضع - کمیشن - کمی

Rebatement, n. Diminution ; deduction :
 کٹائی - منہائی

Rebel, n. A revolter ; an insurgent : بغاوتی -
 باغی * a. Acting in revolt : - قتلہ انگیز

Rebel, v. t. To revolt ; to shake off subjection :
 بغاوت کرنا - پور جانا

Rebellion, n. Open resistance to lawful authority :
 بغاوت - سرکشی

Rebellious, a. Mutinous ; disobedient : باغی -
 سرکش - منحرف

Rebound, v. t. To spring back ; to start back :
 پلٹنا * n. The act of springing back ; a coil :
 پلٹنا - باز گشت

Rebuff, n. A sudden check ; defeat ; refusal :
 روٹنا * n. t. To check ; to repel ; to discourage :
 روٹنا - ہٹانا - گورٹنا

Rebuild, v. t. To build again : پور تعمیر
 کرنا

Rebuke, v. t. To check with reproof ; to reprimand :
 جھوٹنا - زجر کرنا - ملامت کرنا - ڈانٹنا -
 سزائش کرنا

Syn—Reprove, chide, check, reprehend.
 —, n. Reprimand ; reproof ; check : - ملامت
 ڈانٹ - عتاب - گھڑتی - روک

Rebus, n. A kind of puzzle made up of figures :
 ایک قسم کا صحما

Rebut, v. t. or v. To repel ; to refute ; to oppose by argument :
 رفع کرنا - ہٹانا - جواب دینا - رد
 کرنا - اعتراض کرنا - صحبت کرنا

Rebutter, n. A defendant's answer to a plaintiff's rejoinder ; refutation :
 جواب الجواب منجانب
 مدعا علیہ - تردید

Recall, v. t. To call back ; to revoke ; to recant ; to recollect :
 پور بلا لینا - لوٹ لینا - پور لینا - رد کرنا -
 تردید - منسوخی * n. A revocation :
 یاد میں لانا

Recant, v. t. To retract ; to unsay : پور لینا -
 واپس لینا - رد کرنا - پور جانا

Syn. Recall, revoke, abjure, disavow.

Ant. Retain, hold, keep.

Recapitulate, v. t. or i. To repeat in a summary way ; to detail again :
 مختصر کر کے پور بیان کرنا -
 پور تفصیل کرنا

Syn—Reiterate, revoke, rehearse, repeat.

Ant.—Promulgate, profound.

Recapitulation, n. A summary of the principal points in a preceding discourse :
 خلاصہ - مختصر
 بیان - اصل کلام

Recapture, n. The act of retaking : پور گورٹاری
 v. t. To retake : پور گورٹار کرنا - پور لینا

Recast, v. t. To mould anew ; to throw again ; to compute a second time :
 پور ڈھالنا - پور ڈالنا -
 پور گنتا

Recede, v. t. or i. To retreat ; to withdraw ; to desist :
 پیچھے ہٹنا - دست بردار ہونا - باز رہنا

Receipt, n. The act of receiving ; a written acknowledgment of something received :
 وصول *
 نسخہ * A recipe : * آمد - زید - قبض الوصول

Receipts and balances, Receipts and disbursements,
 جمع خرچ *
 Gross-s, * بڑت *
 Net-s, * نکاسی خالص *
 نکاسی پکی

v. t. To give a receipt for :
 * آمدنی بعد صحما اخرا جات کے
 رسید دینا

Receive, v. t. To take ; to accept ; to embrace ; to get ; to hold ; to bear ; to welcome ; to give acceptance to : لینا - قبول کرنا - ملنا - پانا - پکڑنا - تسلیم کرنا - استقبال کرنا - یقین کرنا - روا جاننا - بھر پانا - دام دام کرے **To—in full** * جائز رکھنا کرے بھر !!

Receiver, n. One who receives : لینے والا

Recency, n. Newness ; freshness ; late origin : تجدید - تازگی - نیابتن

Recension, n. A review ; a revisal ; an edited version : نظر ثانی - ملاحظہ ثانی - اصلاح - نسخہ مطبوعہ یا مشتملہ

Recent, a. Modern ; fresh ; late : جدید - پچھلا - تازہ - حال کا

Recently, ad. Newly ; freshly ; lately : حال میں - ابھی - تھوڑا عرصہ ہوا پچھلے دنوں میں

Receptacle, n. A repository : طرف - حوض - گھر - منبع * A reservoir : مشرف

Reception, n. Receiving : * Admis- sion : * Entertainment : * استقبال مہمانداری

Recess, n. Retreat ; seclusion ; a niche : تنہائی - * Suspension of busi- ness : * Private absode : * تعطلیل part : دقیقہ - گورۃ بات

Recession, n. The act of withdrawing ; re- storation ; the act of ceding back : دست برداری - مراجعت - حوالگی - تفریض

Recheat, n. A recall to dogs in hunting : شکار کے وقت تھوڑے لڑکائی کی پھٹی

Recipe, n. A prescription for medicine : نسخہ

Recipient, n. A receiver ; a vessel to receive : گیارندہ * a. Receiving : طرف

Reciprocal, a. Mutual ; alternate : باہمی - دوطرفہ - آپس کا - لازم المآزوم - طرفین کا

Reciprocate, v. t. or i. To interchange ; to alternate : معاوضہ کرنا - تبادلہ کرنا - آپس میں بدلہ کرنا - نویت بہ نویت کرنا

Reciprocation, n. Interchange ; alternation : معاوضہ - مبادلہ

Recision, n. The act of cutting off : قطع - کٹ

Recital, n. Rehearsal ; repetition ; a story : پانہ - بیان - ذکر - تقریر - قصہ - کہانی

Recitation, n. Rehearsal ; a public reading : بیان - پانہ - ذکر - تلقین - وعظ - درس

Recite, v. t. To rehearse ; to tell over ; to relate : بیان کرنا - نقل کرنا - ذکر کرنا - سنانا

Reckless, a. Careless ; heedless : بے فکر - بے خبر - غافل

Syn. Rash, foolhardy.

Recklessly, ad. In a reckless manner ; heed- lessly : بے پرواہی سے - غفلت سے

Reckon, v. t. or i. To calculate ; to compute ; to * حساب کرنا - شمار کرنا - قدر کرنا - عزت کرنا : esteem : * جو اب دہ ہونا - قندت بھرنا - سزاوار ہونا **To—for**, * **To—with**, * بروسہ یا اعتماد رکھنا حساب بے باق کرنا یا چکانا

Syn. Number, enumerate, compute.

Ant. Misnumber, compute.

Reckoner, n. One who computes : شمار کنندہ - گنتے والا

Reckoning, n. Calculation ; adjustment of a counts ; estimation ; charge : شمار - گنتی - حساب - کتاب - لیکھا تیورھا - قدر - عزت - مرل - دام

Reclaim, v. t. To recall ; to recover ; to reform ; to tame : واپس ملنا رضول کرنا - سوارانا - راہ راست پلانا - سدھارنا - پالنا کرنا

Syn. Reform, recover, restore, amend.

Ant.—Seduce, corrupt, degrade.

Reclamation, n. A demand ; recovery : دعویٰ مطالبہ - حصول - بازیافت پرلانہ

Recline, v. t. or i. To lean back ; to rest ; to repose : چوکنا - سہرا لینا - تکیہ کرنا - رو جانا

Recluse, a. Retired from the world ; solitary ; * گوشہ نشین - خلوت نشین - تنہا ایکہ تہی * n A person who lives in retirement from the world ; a hermit : عابد - زاہد

Reclusive, a. Affording retirement from society : عزت بخش

Recognisable, a. Capable of being recognised : شناخت کے قابل

Recognizance, n. A vowal ; profession ; an obligation : اقرار - قبول - اظہار - اقرار شناخت - مچانکہ

Recognise, v. t. To know again ; to avow ; to re-examine ; to show appreciation of : شناخت کرنا - جاننا - قبول کرنا - تسلیم کرنا - جانچنا - نظر ثانی کرنا - قدر دانی ظاہر کرنا

Syn.—Acknowledge, avow, confess, own.

Ant.—Disown, overlook, ignore.

Recognisor, n. One who gives a legal bond of obligation : ضامن

Recognition, n. Formal avowal ; acknowledgment ; memorial :- اقرار - اقبال - رسید - یادداشت - یادگار

Recoil, v. i. To fall back ; to retire ; to shrink ; to draw back : پیچھے ہٹنا - پلٹنا - ہٹکنا - دب
n. A falling back ; a rebound : پس کشی - پس اندازگی

Recoinage, n. The act of coining anew ; that which is coined anew : نئی ضرب کا سکہ

Recollect, v. t. To remember ; to gather again ; to compose (one's self) : یاد کرنا - پورا جمع کرنا - پورا اکٹھا کرنا - ہرش پکڑنا - حواس پر جا کرنا - دلکو - ٹھکانے کرنا - استتلال پکڑنا

Recollection, n. Reminiscence ; memory ; remembrance : یادداشت - حافظہ - سدا - سرت

Recommence, v. t. To begin anew : پورا شروع کرنا

Recommend, v. t. To praise ; to make acceptable ; to put in a favorable light ; to commend : تعریف کرنا - قابل پسند بنانا - سراغنا - سفارش کرنا - مناظرہ نظر کرنا

Recommendation, n. The act of recommending ; that which procures favour : سفارش - تعریف
Syn.—Commendation, approval, approbation.

Recommit, v. t. To commit again ; to refer again to a committee : پورا حوالہ کرنا - پورا سپرد کرنا - کمیٹی کو واپس کرنا یا حوالہ کرنا

Recompense, v. t. To reward ; to requite ; to compensate : * اجر دینا - بدلا دینا - معاوضہ دینا
n. Compensation ; amends :- معاوضہ - بدلا - عرض - اجر - پاداش - مکانات

Recompile, v. t. To digest anew : پورا تالیف کرنا - نئے سر سے بنانا

Recompose, v. t. To form anew : پورا بنانا - تسکین دینا - پورا تھی کرنا

Reconcile, v. t. To conciliate anew ; to content ; to adjust ; to bring to quiet submission ; to make consistent ; to adjust : راضی - پورا صلح کرنا - کرنا - ماننا - ملانا - موافق کرنا - تصفیہ کرنا - چکانا - فیصلہ کرنا

Reconciliation, n. Renewal of friendship ; harmony : نئے سرے سے مزاقت - از سر نو میل - ملاپ - ہم آہنگی - صلح

Recondite, a. Hidden ; abstruse ; profound : پرہیزگار غامض - گورہہ - مدلق - پنہاں

Reconduct, v. t. To conduct again : پورا رہنمائی کرنا

Reconnaissance, n. A preliminary examination ; a preparatory ; expedition : ابتدائی جانچ یا تحقیقات - (مان کے نسیے حصہ کا خصوصاً بغرض فوج کشی یا دریافت حال نغیم) ابتدائی حملہ

Reconnoitre, v. t. To view ; to survey ; to make a preliminary survey of, especially for military purposes : دیکھنا - نگاہ کرنا - آزمانا - تجویز کرنا - ابتدائی ملاحظہ کرنا خصوصاً جنگی اغراض سے

Reconquer, v. t. To recover ; to regain : پورا کرنا - پورا حاصل کرنا

Reconsider, v. t. To review : نظر ثانی کرنا - پورا قائل کرنا

Reconstruction, n. Rebuilding : از سر نو تعمیر

Reconvey, v. t. To convey back ; to transfer back to a former owner : پورا لیجانا - پورا دینا - پہلے مالک کو پورا واپس کرنا

Record, v. t. To register ; to note ; to attest : درج کرنا - ریکارڈ کرنا - قلمبند کرنا - چڑھانا - ٹیپ لینا - تصدیق کرنا
n. A public document ; a register ; remembrance : کاغذات مسل یا دفتر - رجسٹر - یادداشت - کاغذات موجودہ - as it stood - * - فہمی - فرد - رویداد Entered * of village shares, * - مسل To make a -, * داخل دفتر - کیفیت لکھنا

Recorder, n. One who records ; a registrar : محافظ دفتر - رتایع نگار

Recount, v. t. To narrate ; to describe : بیان کرنا - مضمحل کہنا

Recoup, v. t. or i. To redivide ; to make good ; to indemnify : پورا تقسیم کرنا - پورا کرنا - پورا دینا - تارواں دینا - کفالت کرنا

Recourse, *n.* Recurrence; resort; a going for help : مراجعت - بازگشت - التماس - امداد
 * رجوع - مراجعت - بازگشت - التماس - امداد
 * رجوع کرنا - متوجہ ہونا - To have—to, ہتھیار سمیٹنا - لڑنے پر مستعد ہونا

Recover, *v. t. or i.* To regain; to cure; to heal; to retrieve; to obtain; to grow well : پھر حاصل کرنا - آرام کرنا - بحال کرنا - چمکا کرنا - صحیح البند کرنا - اچھا کرنا - سنبھالنا - اصلاح پر لانا - پھر حاصل کرنا - شفا پانا - صحت پانا - (Law) معاوضہ ماننا - حق کو پھرنے کا - پھر پانا

Recoverable, *a.* That may be regained : قابل حصول - ممکن الحصول - صحت یزیر - شفا یزیر

Recovery, *n.* The act of regaining; restoration from sickness : حصول صحت - یابی - شفا

Recreant, *a.* Craven; cowardly; mean-spirited; false; apostate : بزدل - پست ہمت - دھوٹا - بے وفا - منکر دین
n. A mean-spirited cowardly wretch : پست ہمت چیز شخص

Recreate, *v. t.* To reanimate; to form anew : از نو بنانا
 * To amuse; to gratify : سر نو زندہ کرنا - تازہ کرنا - پھر بنانا
 رجھانا - خوش کرنا

Recreation, *n.* Relief from toil; diversion; a new formation : آرایش - تفریح - دل لگی - تازگی

Recreative, *a.* Refreshing; diverting : تازہ بخش - آرام دہ - تازگی بخش

Recrement, *n.* Refuse; dross : فضلہ - میل - کٹاؤ

Recriminate, *v. t. or i.* To return one accusation for another; to accuse in return : اولٹی تہمت - اولٹا الزام لگانا

Recrimination, *n.* An accusation retorted; a counter accusation : الٹی تہمت - الٹا الزام - مدعا علیہ کا اٹھام مدعی پر

Recruit, *v. t.* To refresh; to reinvigorate; to replace : * پھر تازہ کرنا - پھر قوت دینا - پورا کرنا - To supply with new men; to enlist new soldiers : کسی شے کی نئی رسد : نئے سپاہی بھرتی کرنا : کسی شے کی نئی رسد : نئے سپاہی بھرتی : * To raise new soldiers : نئے سپاہی بھرتی : * n. A newly enlisted soldier : نیا بھرتی ہوا سپاہی - رنکورت

Rectangle, *n.* A right-angled parallelogram : قائمہ الزامیہ - مستطیل

Rectification, *n.* The act of setting right that which is wrong : تصحیح - درستی - اصلاح - سدھار - سنوار - صفائی - تقطیر

Rectify, *v. t.* To put right; to refine by repeated distillation : درست کرنا - ٹھیک کرنا - مکرر تقطیر سے صاف کرنا - درآئشہ سے آئشہ کرنا

Syn.—Correct, redress, amend.

Ant.—Corrupt, blemish, pervert.

Rectilinear, *a.* Consisting of right lines; straight : مستقیم الخطیوں - خط مستقیم سے بنا ہوا - سیدھا - راست

Rectitude, *n.* Uprightness; honesty; correctness : راست بازی - ایمانداری - صداقت - راست کرداری - ایمان - دیانت

Rector, *n.* A clergyman; a ruler; a governor : مسئلہ کا پادری - حاکم - ناظم - گورنر

Rectorship, *n.* The office or rank of a rector : حلقہ کے پادری کا عہدہ

Recumbency, *n.* The posture of lying; rest; repose : چھکی ہوئی حالت - لیٹی ہوئی وضع - آرام - استراحت - آسائش

Recumbent, *a.* Reclining; reposing; inactive : چھکے ہوئے - لیٹے ہوئے - سست - بیکار

Recuperate, *v. t.* To recover; to regain : واصل کرنا - کھڑی ہوئی چیز کا ماہجنا - پھر حاصل کرنا

Recuperative, *a.* Tending to or pertaining to recovery : قابل یا متعلق واصل

Recur, *v. i.* To return to the thoughts; to resort; to go for help : پھر خیال میں آجانا - یاد آنا - آمد - رفت رہنا - آنا جانا - رجوع کرنا - پھرنا - التفات کرنا

Recurrence, *n.* Return; resort : مراجعت - بازگشت - آمد و رفت - رجوع

Recurrent, *a.* Returning from time to time : دورہ کرنے والا - باری کا - متوالی - چلتی - مبداء کی کسور
 * Recurring decimal, متوالی - چلتی کرنا

Recusancy, *n.* Non-conformity : انحراف - قاعدہ کی پابندی سے انکار

Recusant, *a.* Refusing to conform : قاعدہ کی پابندی سے انکار کرنے والا - منحرف - منکر مرتد - منحرف - منکر

Red, a. Having a bright colour resembling blood :

* **A—letter day,** سرخ - لال - احمر - مئی کون

a fortunate or auspicious day : خوشی کا یا مبارک دن

Redbreast, n. The robin : ایک سینہ سرخ چڑیا

Red coat, n. A soldier : سپاہی - لشکری

Redden, v. t. or i. To make or become red ; to blush : سرخ کرنا یا سرخ ہونا - تمعنا

Reddish, a. Moderately red : کچھہ سرخ - کچھہ لال

Reddition, n. Restitution ; surrender ; explanation : واپسی - حوالگی - مہر دگی - بیٹن - کدیت

Reddle, n. Red chalk : سرخ کوریا مٹی - گیرو

Redeem, v. t. To buy back ; to ransom ; to rescue : to make amends for ; to deliver from mortgage : روپیہ دیکر چتر لینا - انفاک کرنا - پھر معاوضہ خرید کرنا - آزاد کرنا - رھا کرنا - خلاص کرنا - معاوضہ دینا - بدلا دینا - کفارہ دینا - ہتھی کے بدلے نقد روپیہ دینا

Syn.—Ransom, liberate, rescue, save.

Ant.—Lose, pledge.

Redeemer, n. One who ransoms : چھڑانیروالا - حضرت مسیح کا لقب - * The Saviour : نجات دینے والا شافی - حامی

Redeliver, v. t. To deliver back ; to liberate a second time : پھر حوالہ کرنا - واپس کرنا - پھر چھڑانا - پھر آزاد کرنا

Redemption, n. Ransom ; release ; repurchase : روپیہ جو رھائی کے واسطے دیا جائے - رھائی - خلاصی - دوبارہ خرید - فک رھن

Syn.—Release, liberation, deliberation, deliverance, rescue, salvation.

Ant.—Sacrifice.

Redemptory, a. Paid for ransom : خلاصی کے لئے دیا ہوا

Red hot, a. Heated to redness : سرخ - لال انگارہ - آتشگروں

Redisburse, v. t. To repay : پھر ادا کرنا - پھر دیدینا

Redispose, v. t. To dispose or adjust again : پھر ترتیب دینا

Red lead, n. Red oxide of lead ; a paint : سیندور - شکرگوف - ایک سرخ رنگ

Redness, n. The quality of being red : سرخی - لالی

Redolence, n. Sweet scent ; fragrance : مینہوی بو - خوشبود - سرگندہ

Redolent, a. Diffusing fragrance : خوشبودار - محضر - مشک بیز

Redouble, v. t. or i. To repeat often ; to multiply : مکرر کرنا - دہرانا - مضاعف کرنا

Redoubt, n. An outwork ; a fortress : مورچہ - بندی - دھش - قلعہ

Redoubtable, a. Terrible to foes ; formidable ; valiant : ہیبت ناک - دھشت انگیز - زبردست - بہادر

Redbound, v. i. To be sent back by reaction ; to conduce ; to result : پلٹا نہانا - باعث ہونا - پیدا ہونا - حاصل ہونا - نکلنا - منتج ہونا

Redress, v. t. To set right : درست کرنا * To remedy : داد خرابی کرنا * To relieve : معاوضہ * To make compensation : صلح - علاج * n. An adjusting ; a remedy : تدبیر - درستی

Red-sear, v. t. To break or crack when red-hot : سرخ تکر پھوٹنا

Reduce, v. t. To bring to another condition : گرا دینا - ذلیل : To degrade : کم کرنا * To shorten : ٹھٹانا - * To lessen : * To overcome : مغلوب کرنا - سر کرنا * To overcome : * مطیع کرنا - قواعد کے پابند کرنا - (Chem.) بھسم کرنا - پھوٹنا

Reducible, a. Possible to be reduced : قابل تفضیف - کھٹنے یوک

Reduction, n. The act of reducing ; diminution ; conquest : گھٹانا - تفضیف - تسخیر

Syn.—Diminution, decrease, abatement.

Ant.—Extension, enlargement.

Redundance, n. Superfluity ; excess : فضولی - زیادتی - کثرت - بہتات

Redundant, a. Exuberant ; superfluous in words or images : زبیر - فضول - زاید - رافر

Reduplicate, v. t. To double again ; to multiply : دوچند کرنا - مضاعف کرنا

Reduplication, n. The act of doubling : مضاعف دہراؤ

Re-echo, v. t. or i. To reverberate again ; to re-sound : * n. The echo of an echo : صدا - صدا کی صدا

Reed, n. A hollow knotted stalk ; a rustic pipe ;
an arrow : نوکت - نرکل - بانسری - تیر

Reedy, a. Abounding with reeds : نوکت : پر از کلک - نوکت سے بھرا ہوا

Reef, v. t. To reduce sail : نوکتا * n. A certain portion of a sail which can be drawn together to reduce the surface : پال کا ایک حصہ :
A mass of rocks in the ocean lying near the surface of the water : سلسلہ چٹان جو پانی کی سطح کے قریب سمندر میں واقع ہو۔ ساحل کورہ

Reefy, a. Full of rocks : چٹانوں سے بھرا ہوا

Reek, n. Vapour ; exhalation ; smoke : بخار -
v. i. To smoke : to steam ; دھواں - دھواں - درد
to exhale : دھواں دینا - بولپ چھوڑنا - بخار چھوڑنا

Reel, n. A turning frame on which yarn, threads, etc., are wound ; a lively dance : گھرنی یا چرخہ :
* جسپر سوت وغیرہ لپیٹا جائے - ریل - ایک طرح کا ناچ
v. t. or i. To wind upon a reel ; to stagger ; to whirl : اٹیرنا - چرخہ پر سوت چڑانا - لغزش کرنا -
دنگھانا - گبومنا - گوماننا - چکرانا

Re-elect, v. t. To elect again : پھر منتخب کرنا - پھر
پسند کرنا

Re election, n. Election a second time : دوبارہ
انتخاب

Re eligible, a. Capable of being elected again
to the same office : دوبارہ تقرری کے لائق

Re-embark, v. t. or i. To embark again : جہاز پھر
پھر سوار ہونا

Re-enact, v. t. To enact a second time : مکرر
قانون جاری کرنا

Re-enforce, v. t. To strengthen with new force :
کمک کرنا - مدد کرنا - نئی قوت دینا

Re-enforcement, n. Additional force : کمک -
تائید - نئی فوج

Re-engage, v. t. To engage again : پھر مامور
کرنا - پھر مقرر کرنا

Re-enter, v. t. To enter anew : پھر داخل کرنا

Re-establish, v. t. To establish again ; to confirm
again : پھر مقرر کرنا - از سر نو برقرار کرنا

Reeve, n. A steward ; a governor : ہائسامان -
* v. t. To pass the end of a rope through a hole : ایک سوراخ میں ہو کر رسی کے سرے کو نکالنا

Re-examine, v. t. To examine anew : پھر جانچنا
پھر امتحان کرنا

Re-export, v. t. To export what has been
imported : آئی ہوئی شے کو پھر باہر بھیجنا

Refection, n. Refreshment ; a spare meal :
ناشتہ - کھانا

Refectory, n. An eating room : ناشتہ کھانیکا مکان -
نعمت خانہ

Refer, v. t. or i. To impute ; to assign ; to hand
over ; to appeal ; to apply ; to consult ; to
allude : منسوب کرنا - سوچنا - سپرد کرنا - اپیل کرنا -
استغاثہ کرنا - درخواست کرنا - استصواب کرنا - پوچھنا -
حوالہ کرنا

Referee, n. One to whom a thing is referred ;
an umpire : مقرر علیہ - منحرف علیہ - منصف

Reference, n. The act of referring ; respect ;
allusion ; person who may be referred to for one's
character, abilities, &c. : حوالہ - لکھنا - انحصار - وہ *
* شخص جس سے کسی کا حال چلن دریافت ہو سکتا ہے
* منہ - نیک ڈھائی کی چٹائی -
Testimonial, certificate : دریافت یا استصواب * تعاق
* زیر ملاحظہ * Under - * ہی نسبت * In - to * کرنا
* With - to * بلحاظ * باجواب *
* With special - * بلا ملاحظہ * تادمہ نظر
بلحاظ

Referendary, n. An officer who formerly
delivered the royal answer to petitions : قدیم زمانہ
میں وہ عہدہ دار جو درخواستوں کا جواب بادشاہ کی
طرف سے دیتا تھا

Refine, v. t. or i. To free from dross ; to purify ;
to polish ; to make elegant ; to make nice distinc-
tions : تنہارنا - میل کائنا - مصفی کرنا - چلا دینا -
شستہ کرنا - مہذب کرنا - دقیق فرق کرنا

Refined, a. Made pure ; polished ; polite : مصفی
چلا کی ہوئی - صاف - مہذب

Refinement, n. The act of refining ; clarifica-
tion ; elegance ; culture ; overnicety : صفائی -
شستگی - آراستگی - تہذیب - عمدگی - لطافت

Refiner, n. One who refines ; a purifier ; one who affects too great a subtlety in reasoning :

دقیقہ سنج - صاف کرنے والا - شستہ کرنے والا - (زرعی پسند) صاف کرنے کا آلہ

Refinery, n. A place for refining sugar &c. :

شکر وغیرہ کا صاف کرنے کا مکان - بھٹی

Refit, v. t. or i. To prepare again ; to repair damages :

پھر درست کرنا - مرمت کرنا - ٹھیک کرنا

Reflect, v. t. or i. To bend back :

* To mirror : عکس ڈالنا

* To consider seriously ; to contemplate :

غور کرنا - اندیشہ کرنا - الزام لگانا - طعن

* To cast censure : دینا - حرف لانا

Reflecting, a. Throwing back light ; meditative :

عکس انداز - پور فکر - پور غور

Reflection, n. The act of throwing back :

Meditation ; censure :

خیال - خوض - قائل - تصور - ملامت - ماعتہ

Reflector, n. One who reflects :

* A polished surface that reflects :

صاف سطح چمچہ عکس پڑے - شیشہ یا دیگر مجلا شے

Reflex, a. Turned backward :

معاکس - باز عکس - پرتو -

* n. Reflection : شعاع جو روشن چیز سے اچھٹکر سایہ میں رکھی ہوئی

چیز پرتو

Reflexive, a. Having respect to something

past :

گذشتہ سے متعلق

Refflorescence, n. A blossoming anew :

از سر نو شگفتگی

Reffluence, n. A flowing back :

اوتلا بہاؤ

Reffluent, a. Running back ; ebbing :

اوتلا بہتا ہوا - ہٹا ہوا - اوتار پڑ

Refflux, n. A running back :

* The flux and—, جزر و جزر - جوار بہاؤ - اوتار چڑھاؤ

Reform, v. t. or i. To form again ; to amend ;

to correct ; to improve :

پھر بنانا - تجدید کرنا - مرمت کرنا - درست کرنا - اصلاح دینا

Reform, n. Amendment ; rectification ; change

for the better :

ترمیم - اصلاح - درستی

Reformation, n. The act of reforming ; amend-

ment ; the redress of abuses :

درستی - اصلاح - بہتر بنانے کی اصلاح - اجتمہاد

Reformatory, a. Tending to reform :

مصالح - اصلاح دینے والا

* n. An institution for the recep-

tion and reformation of juvenile offenders :

نوجوان مجرموں کے تادیب کا مدرسہ - تادیب گاہ

Reformer, n. One who reforms ;

اصلاح دینے والا - ادیب - مصالحت دینے والا - مجتہد

Refract, v. t. To break off ; to break the natural

course of the rays of light :

منتشر کرنا - متفرق کرنا

کرنا - روشنی کی شعاع دوسرے جانب چھکانا - سیدھے

سے موڑ دینا

Refraction, n. Deviation of ray of light from

a direct course :

شعاع کا جھکنا

Refractoriness, n. Obstinacy ; unmanage-

ableness :

ہٹ - گردن کشی - انحراف

Refractory, a. Perverse ; obstinate ; unmanage-

able :

گردن کش - عقبی - سرکش

Refrain, v. t. or i. To curb ; to hold back ; to

keep from action ; to restrain one's self ; to

abstain :

روکنا - اجتناب کرنا - باز رکھنا - تھامنا -

* n. Words

repeated at the end of each verse of a song :

استغاثی - راگ کا دوہراؤ

Refrangible, a. Capable of being refracted :

انحراف پذیر - منتشر ہونے کے لائق - لائق انعکاس

Refresh, v. t. To cool ; to revive ; to enliven ;

to invigorate ; to renew :

تازہ کرنا - تازہ کرنا - تازہ کرنا - تازگی بخشنا - تازہ

تازہ کرنا

Refreshment, n. Act of refreshing :

تازگی بخشنا - تازگی بخشنا

* That which adds fresh strength

or vigour, as food, drink, or rest ; in the plural

exclusively applied to food and drink :

تازگی بخشنے والے یا غذا - ناشتہ - خوراک - فرحت

Refrigerant, a. Cooling ; allaying heat :

تبرید - مسکن حرارت

* n. A cooling medicine or external

application :

تھنڈائی

Refrigerate, v. t. To refresh ; to cool :

تازہ کرنا - تازہ کرنا - تھنڈا کرنا - سرد کرنا

Refrigeration, n. State of being cooled ; act

of cooling ; abatement of heat :

تھنڈک - تسکین

تسکین حرارت

Refrigeratory, a. Mitigating heat ; cooling :

گرمی یا حرارت کم کرنے والا - تھنڈک پھونپھونیا والا

Refuge, n. Shelter or protection from danger or distress ; an asylum ; stronghold ; expedient ; device : پناہ - دامن - سرن - حمایت - قلعہ - پناہ کی - جگہ - چارہ - علاج - تدبیر - وسیلہ

Refugee, n. One who flies for shelter to a foreign power or country : پناہ گیر - زناہار خواہ

Refulgence, n. Brilliancy ; splendour ; radiance : چمک - چارہ - تجلی - تاب - روشنی - تاب

Refulgent, a. Emitting light ; bright ; splendid : تابان - روشن - چمکیلا - چمکدار - ہونکیلا

Refund, v. i. To repay what is received ; to restore : واپس کرنا - پھیر دینا

Refusal, n. Rejection ; denial of anything offered ; option : (لینے) انکار - ناپسندی - یا نہ لینے کا (پھلا حق و اختیار - حق شمع

Refuse, v. t. To deny anything solicited ; to reject : نامنظور کرنا - ناپسند کرنا - انکار کرنا - خارج کرنا

انکار کرنا - v. i. To decline ; not to comply : * کرنا
n. Worthless remains ; dregs ; sediment ; scum ; dross : فضلہ - تلچھوت - تہہ نشین -
a. Rejected ; refused ; of no value ; worthless : چھان - ناکار - بے قدر - فضول

Refutable, a. Admitting of being refuted or disproved : قابل تردید

Refutation, n. Act of refuting or disproving ; confutation ; disproof : تردید - ابطال - کنت - عدم - اثبات

Refute, v. t. To confuse ; to disprove ; to prove to be false or erroneous : باطل کرنا - کاٹنا - چھوڑنا - یا غلط ثابت کرنا - چھوڑنا - غلط ٹھہرانا

Regain, v. t. To recover ; to gain or get anew : پھر حاصل کرنا - نئے سرے سے پانا

Regal, a. Relating to a king ; royal ; kingly : بادشاہ سے متعلق - خیر و امان - مارکانہ - بادشاہی

Regale, v. i. To entertain in a royal or sumptuous manner ; to gratify ; to refresh : بادشاہی طور سے یا دھوم دھام سے دعوت کرنا - معطر کرنا - نہال سے یا دھوم دھام سے دعوت کرنا - خوش کرنا
v. t. To feast ; to fare sumptuously : دعوت کرنا - پر تکلف کھانا کھانا

Regalement, n. Entertainment ; refreshment ; gratification : دعوت - تفریح - حظ - مدارات - لطف

Regalia, n. pl. Ensigns of royalty ; regal paraphernalia ; hence insignia of office or order : لوازم شاہانہ - بادشاہی حقوق و علامات - کسی عہدہ یا فرقے کے نشانات

Regality, n. Royalty ; sovereignty ; kingly jurisdiction : شاہی - خسروی - بادشاہت - سلطنت

Regard, v. t. To respect ; to esteem ; to consider ; to look upon ; to observe ; to pay attention to ; to mind ; to care for ; to put on the same footing ; to heed ; to observe as sacred : عزت کرنا - قدر کرنا - خیال کرنا - ملاحظہ کرنا - نگاہ کرنا - دھیان کرنا - التفات کرنا - خاطر داری کرنا - برابری کرنا - متوجہ ہونا - پای جاننا - کسی دین کو ماننا -
n. Look or gaze ; attention or care ; heed ; consideration ; respect ; esteem ; relation : (مح) compliments, respects : نگاہ - نظر - پاس لگانا - توجہ - خیال - عزت - قدر - نسبت - Men of the meanest * علاقہ - تسلیمت - آداب - عزت - ترقیر یافت - دربارے - بہ As regards * بے وقور آدمی نسبت

Regarding, prep. Having regard to ; concerning : بے لحاظ - دربار - بابت - دربارہ

Regardless, a. Heedless ; negligent ; inattentive ; careless ; indifferent : لا پرواہ - غافل - کیم - توجہ - بے خبر - بے فکر - بے پروا

Regardlessness, n. Heedlessness ; negligence : لا پرواہی - تغافل - غفلت

Regather, v. t. To gather or collect again : پھر جمع کرنا

Regatta, n. A public boat-race ; a sailing match : کشتیوں کی ریس یا بازی - سفینہ بازی

Regency, n. The government of a regent : مداراہامی - ریاست - مختاری - حکومت - فرمانروائی

Regenerate, v. t. To generate or produce anew ; to reproduce ; to renew the moral nature ; to convert : پھر پیدا کرنا - پھر ظاہر کرنا - تالیب القلب - کرنا - دل پھیرنا - مرید کرنا

Regenerate, a. Reproduced ; changed from a natural to a spiritual state : مغیرا قلب - از سر نو

Regeneration, n. New birth ; reproduction : نیا جنم - نو پیدائش

Regent, n. A governor ; a ruler ; one who governs a kingdom in the minority, absence or disability of a sovereign : - عامل - حاکم - بادشاہ - بادشاہ کا قائم مقام - ناظم - فرمائروا نائب اسطانت

Regicide, n. The murder or murderer of a king ; a king-killer : قتل یا قاتل سلطان - سلطان کش

Regime, n. Form of government ; administration ; rule ; mode of living : طرز حکومت - حکم - راہی - فرمائروائی - طریق زیست نظم و نسق - اختتام

Regimen, n. Orderly government ; regulation of diet or food : باقاعدہ سلطنت - پڑھیز - تدبیر غذا - پڑھیز کھانا

Regiment, n. A body of troops under the command of a colonel : دستہ - دستہ سپاہ ایک کرنیل کے ماتحت ہوں - رجمنٹ

Regimental, a. Belonging to a regiment : متعلق رجمنٹ

Regimentals, n. pl. Articles of military dress ; the uniform worn by the troops of a regiment : فوجی پوشش کی اشیاء - پائوں یا رسالہ کی وردی

Region, n. A tract of land ; district ; country ; space : قطع - خطہ - ضلع - ملک - حصہ

Register, n. An account regularly kept ; a record ; the book in which records are kept : بھجی - باجے کی : An organ stop * حساب - دفتر - رجسٹر درج فہرست : To record ; to enrol * n. t. * کنجی کرنا - فرد یادداشت میں لکھنا

Registrar, n. An officer appointed to keep public records : محافظ دفتر - رجسٹرار

Registration, n. Act of registering ; enrolment : اندراج فہرست - ادخال بھجی

Registry, n. The act of entering in a register ; an entry ; facts recorded : رجسٹر - ادخال - اندراج - امور درج شدہ

Reglet n. A flat narrow moulding between panels, etc. : گولا - گز - کورجی - دلہے کے بیچ کی چھٹی اور تنگ لکڑیوں

Regnant, a. Reigning ; actually ruling ; prevalent : تفت نشین - حکم زان - مزوج

Regorge, v. t. To vomit ; to swallow again : تے کرنا - نگان چانا

Regrate, v. . To buy (as corn, provisions, etc.) and sell again in the same market : اجناس خرید کر پھر اسی بازار میں بیچنا

Regress, n. Passage back ; a return ; the power or liberty of returning or passing back : باز گشت - نکاس - مراجعت

Regret, v. t. To grieve : to be sorry for ; to lament ; to repent ; to bewail : رنج کرنا - افسوس - پچھتانا - یاد کر کے رنج ہونا - غم کرنا - افسوس کرنا - پچھتانا - یاد کر کے رنج رنج - غم - تاسف - پچھتارا - اپنے تئیں خرد ملامت کرنا

Syn. - Remorse, repentance.

Ant.—Self-approval, impenitence.

Regretful, a. Full of regret ; grieved, dissatisfied : دلگیر - ملول - غمگین - متاسف - ناخوش

Regular, a. Agreeable to rule ; stated ; orderly ; normal ; methodical ; steady or uniform in a course or practice : حسب معزل باقاعدہ - * مقررہ - درست - معرولی - باضابطہ - مستقل - بافرینہ

n. * مقدمہ نمبروی - نالش عالم - الش نمبروی - suit. A number of any religious order who has taken the vows of poverty, chastity, and obedience : مسیحی مذہب کے اوس فرقہ کا پیرو جسے پڑھیز گاری * مفاسی اطاعت اور تارک الدنیا ہر نیکی قسم کوئی ہے A soldier belonging to a permanent standing مستند فوج کا پھانی

Regularity, n. Agreeableness to rule, or established order ; steadiness ; uniformity : باقاعدگی - استقلال - ہمواری - برابر - یکسانی

Syn. Order, rule, method, system.

Regulars, n. pl. Troops of the line : صف کے سپاہی - لین کے سپاہی

Regulate, v. t. To put in a good order ; to rule ; to arrange ; to direct ; to order ; to adjust by rule or method ; to keep in good order. ترتیب کرنا - انتظام کرنا - ترتیب دینا - سردھارنا - درست کرنا - ٹھیک کرنا - کم و بیش یا سست یا تیز ہونے نہ دینا - بندوبست کرنا - باقاعدہ کرنا - درست رکھنا - انتظام

Regulation, n. Act of adjusting ; a prescribed rule or order : انتظام - بندوبست - ضابطہ - دستورالعمل - قاعدہ

Regulator, n. One who regulates : * منظم * A contrivance to produce uniformity of motion or regulate it as a watch-spring, fly-wheel, &c. :
کل کا وہ بڑھڑ جو حرکت کی ہمواری پیدا کرتا ہے

Rehabilitate, v. t. To restore to former rank ; to reinstate : بدستور قائم کرنا - بحال کرنا

Rehearsal, n. Act of rehearsing ; recital ; repetition : دوہرے کی تصنیف کا دوہراڑ - ذکر مکرر -
بیان مکرر - حفظ کیا ہوا بیان سنانا - ربانی سنانا

Rehearse, v. t. To repeat what has been said ; to relate ; to narrate ; to recite before a public representation ; to pronounce : - دوہرائنا - بیان کرنا -
ذکر کرنا - عام لوگوں کے سامنے پڑھنا - زبان پر لانا

Reign, n. Royal authority ; the time during which a king possesses supreme authority ; kingdom ; dominion ; prevalence ; controlling influence : - راج - عمل - عملداری
شاہی حکومت - عہد سلطنت - غلبہ سلطنت -

Reign, v. i. To be predominant ; to rule : غالب ہونا - تسلط کرنا - حکومت کرنا

Reimburse, v. t. To repay ; to refund ; to repair ; to indemnify : واپس دینا - پھیرنا - تاراج
دینا - نقصان بھرنا

Reimbursement, n. Repayment : واپسی -
اداگیگی - تاراج

Rein, n. The strap of a bridle : باگ - لٹام - عزان
* A restraint : * رکوت : * To give the —, or—s, to give license ; to leave without restraint : * ایزت لینا * بے روک رہنے دینا :
* To take the—s, to assume the government or control : * اختیار ہاتھ میں لینا :
* v. t. To guide by a bridle ; to restrain ; to control : باگ پڑ
سانہنا - تھامنا - روکنا - اختیار میں رکھنا قابو رکھنا

Re-incur, v. t. To incur a second time : پھر عاید کرنا

Reindeer, n. An animal of the deer kind : ایک قسم کا ہرن - بارہ سائیکہ

Reinforce, v. t. To strengthen with new force or support : نئی فوج سے مدد دینا - زور دینا - تائید کرنا :

Reinforcement, n. Additional troops to augment a force : کمک - مدد

Reins, n. pl. The kidneys ; the inward parts ; گردہ - اندرونی حصے - دل - جی

Reinsert, v. t. To insert again ; to reintroduce : پھر درج کرنا - پھر داخل کرنا

Reinstate, v. t. To put again in possession : پھر داخل کرنا - بیٹھانا

Reinstate, v. t. To place again in possession or in a former state : پھر مقرر کرنا - بحال کرنا -
پھر جیسے کا تیسرا کرنا

Reinstatement, n. A placing in a former state : بحالی

Reintegration, n. Renewal ; restoration : تجدید - بحالی

Reinvest, v. t. To invest anew : - پھر خالصہ - بخشنا -
پھر مقرر کرنا

Reinvigorate, v. t. To invigorate again ; to revive vigour in ; to reanimate : پھر طاقت دینا -
پھر تازہ دم کرنا - پھر زندہ کرنا

Reissue, v. t. To issue a second time : پھر جاری
اجراء * n. A second issue ; republication :
ثانی - مکرر اشاعت

Reiterate, v. t. To repeat again and again ; to say or do repeatedly : مکرر کرنا - بار بار کہنا یا
کرنا - دوہرائنا

Reiteration, n. Repetition : تکرار - دوہراڑ

Reject, v. t. To cast off ; to throw away ; to despise ; to decline ; to refuse ; to repel : بدعطف کرنا - ناپسند کرنا - نامنظور کرنا - قبول نہ
کرنا - رد کرنا

Rejection, n. The act of rejecting ; refusal to accept or grant : انکار - نامنظوری - تردید ناپسندی

Rejoice, v. t. or i. To make joyful ; to gladden ; to cheer ; to delight ; to feel joy ; to exult ; to triumph : خوش ہونا - مسرور کرنا - معظوظ ہونا -
شادمان کرنا - منبسط ہونا - خوشی ماننا - فخر کرنا

Rejoin, v. t. or i. To join again ; to meet again ; to answer to a reply : پھر ملافا - پھر ٹوکری پڑ
حاضر ہونا - پھر ملنا - رد جواب داخل کرنا - تردید کرنا

Rejoinder, n. Answer to a reply ; defendant's answer to the plaintiff's application : رد جواب -
جواب دعوی

Rejudge, v. t. To examine or try again : پھر تجویز
کرنا - پھر انصاف کرنا

Rejuvenate, v. t. To make young again : پھر جوان
کرنا - کسی پر نیا چہرہ لانا

Rejuvenescence, n. The renewal of youth : **ثَنِي**

جوانی - تجدید - عنان - دوبارہ جوانی

Rekindle, v. t. To kindle again ; to set on fire again :

پھر روشن کرنا - پھر جلانا

Relapse, v. t. To fall back from a state of recovery to sickness ; to return to a former state :

ارام ہو کر بیمار ہو جانا - پہلی حالت پر پھر آجانا - پھر ابتر پلٹنا - **n.** A falling back : - پھر مہلکا ہونا
عرد مرض

Relate, v. t. or i. To recount ; to narrate ; to recite ; to tell over : *** بیان کرنا - کہنا - پڑھنا - تذکرہ**
To stand in some relation ; to refer : *** تعلق کرنا - ذکر کرنا**
رشتہ یا قرابت رکھنا - متعلق ہونا

Related, a. Allied by kindred ; connected by blood or alliance : **قرابت دار - رشتہ دار - مذکور - متعلق**

Relation, n. Recital ; detail : *** تذکرہ - بیان**
relative birth or marriage : **قرابتی - رشتہ دار**
*** Connection ;** **تعلق**

Relationship, n. Connection by blood or otherwise :

Relative, a. Having relation ; belonging to ; connected with : **نسبتی - متعلق - مرصولہ - منسوب**
n. A person or thing related ; kinsman : **قرابتی - اسم مرصول**
*** (pronoun)** **رشتہ دار - خویش**

Relax, v. t. or i. To slacken ; to remit ; to mitigate ; to open ; to give relief to : **آہستہ کرنا - ڈھیلہ ہونا - تخفیف کرنا - ملائم کرنا - کم کرنا - کھول دینا**
To unbend ; to divert ; to become less : **چھوڑنا - پھیرنا - غافل ہونا**

Relaxation, n. Diminution of tension or firmness ; remission of attention ; recreation : **ملاہمت - تخفیف - کاہلی - عدم توجہ - تفریح - تفریحاً ہیل تماشہ**

Relaxative, a. Tending to relax ; that which relaxes ; laxative : **مزلہم کرنیوالا - جو ملائم کرے - مسہل - ملین**

Relay, n. A supply of horses at the stage of a journey : *** گھوڑوں کی آگ**
v. t. To lay again : **پھر جمع کرنا - پھر رکھ دینا**

Release, v. t. To set at liberty ; to dismiss ; to discharge ; to relinquish : **آزاد کرنا - خلاص کرنا**
n. Setting free ;

آزادی - منظمی - رہائی - **discharge ; acquittance :** *** رہائی**
— from attachment, —ed for life, *** معافی حین - حیات**
فارغ عطی

Relegate, v. t. To despatch ; to banish ; to exile ; to transfer : **روانہ کرنا - نکال دینا - جلاوطن کرنا - بدلنا - ملک سے خارج کرنا**

Relegation, n. Exile ; banishment : **جلا وطنی - دیس نکال**

Relent, v. i. To soften ; to grow tender ; to yield ; to feel compassion : **ملاہم ہونا - نرم ہونا - پیچھا - پھولنا - تڑپنا**

Relentless, a. Insensible to the distress of others : **پے رحم - منکمل - پے درد**
Syn. —Merciless, implacable, pitiless.
Ant. —Merciful, humane, kind.

Relevancy, n. State of being relevant ; applicableness : **تعلق - موقوف - مناسب**

Relevant, a. Bearing on the point or purpose ; applicable ; pertinent : **مربط - مرفوع کا - مناسب**
موقوف

Reliable, a. Suitable or fit to be relied on ; trustworthy : **معتبر - معتمد - قابل یقین**

Reliably, ad. In a reliable manner : **اعتبار سے - معتبر نہ**

Reliance, n. That which is relied on ; dependence ; trust : *** تقریر - آجرا - بھروسہ - اعتقاد**
on the divine mercies, **خدا کی بخشش کا بھروسہ**

Relic, n. Remains of a dead body ; corpse ; a memorial : **مردہ - لاش - نشان یادگار - مقبرہ**

Relict, n. A woman whose husband is dead ; a widow : **بیوہ - راند**

Relief, n. Succour ; redress ; remedy ; assistance ; aid ; support ; release from a military post ; **مدد - علاج - امداد - باری - پشتی - فوجی عہدہ**
release : *** The projection of a figure above the base :** **صحن کے اوپر اوبھڑ**

Relieve, v. t. To release ; to support ; to assist ; to alleviate ; to assuage ; to redress ; to ease ; to render conspicuous : **رہا کرنا - مدد کرنا - حمایت - کرنا - کم کرنا - تخفیف کرنا - فریاد رسی کرنا - تسکین دینا - آرام دینا - خوب نمایاں کرنا**

Syn. —Succour, aid, help.
Ant. —Oppress, overbear, burden.

Religion, n. A system of faith and worship ; pious practice ; duty to God ; piety ; devotion :
مذہب - ایمان اور پرستش کا طریق - خدا کا فرض - دھرم - ایمان

Religionist, n. One devoted to a religion ; a religious zealot :
اہل مذہب - معتقد - پکا دھار مک

Religious, a. Connected with religion ; pious ; devout :
مذہبی عابد - دیندار - ایماندار - پارسا - دھرماتما

Relinquish, v. t. To withdraw from ; to leave behind ; to abandon ; to forsake ; to give up ; to quit :
چھوڑنا - دست بردار ہونا

Relinquishment, n. Renouncement :
ترک - چھوٹکارا

Reliquary, n. A small chest for holding relics :
آثار قدیم کے رکھنے کا صندوقچہ

Relish, n. Taste ; flavour ; savour ; delight in anything ; liking ; tinge :
لذت ذائقہ - سواد - چاہت - کسی چیز کا مزہ یا شوق - لذت - چسکا - پسند - لطف - رنگ - چاشنی - پھوپھی - چٹنی - مصالح

Relish, v. t. or i. To taste or eat with pleasure ; to like the flavour of ; to have a pleasing taste ; to savour :
چکھنا - مزہ پسند کرنا - خوش ذائقہ ہونا - مزہ دینا

Reluctance, n. Unwillingness ; repugnance :
To exhibit reluctance, **n.** To exhibit reluctance, **n.** To exhibit reluctance :
پہلو تہی کرنا - اعتراض کرنا

Reluctant, a. Unwilling ; averse ; striving against :
ناراضماند - متغیر - برخاستہ خاطر - کشیدہ - کوشیدگی - نفرت
کونچنا - رکتا
To be reluctant, **n.** To be reluctant, **n.** To be reluctant :
خلاف

Relume, v. t. To rekindle ; to light again :
پھر جلانا - پھر روشن کرنا

Relumine, v. t. To rekindle :
پھر جلانا - پھر روشن کرنا

Rely, v. t. To rest or confide in ; to depend on ; to trust :
اعتبار کرنا - بھروسہ کرنا - تکیہ کرنا

Remain, v. i. To continue ; to endure ; to abide ; to last ; to stay behind :
قائم کرنا - ٹہہرنا - برقرار رہنا - باقی رہنا - بچنا - چھٹنا - ٹہرنا - ٹکنا

Remainder, n. Anything left ; remnant ; the rest ; residue :
بقیہ - باقی - فاضل - مابقی - نصاب

Remains, n. pl. Dead body ; corpse :
مردہ جسم - لاش

Remand, v. t. To call back ; to send back ; to recommit :
پہر - پھر دینا - لوٹا دینا - بھینچنا - بلا لینا

Remark, v. t. or i. To take notice of ; to note mentally to observe ; to express in words :
لحاظ کرنا - غور کرنا - دل میں ٹانگ لینا - فرمانا - کہنا -
n. Notice ; observation ; comment ; a casual expression :
غور - کیفیت - بیان - قول - رائے - حاشیہ - کیفیت - مشاہدہ

Remarkable, a. Observable ; worthy of notice :
Extraordinary ; unusual :
غیر معمولی - نادر - عجیب و غریب - مشہور
قابل ملاحظہ یا توجہ - قابل غور
Conspicuous ; well-known :

Remarkably, ad. In a remarkable manner ; singularly :
عجیب یا نادر طور سے

Remarry, v. i. To marry again :
دوبارہ بیاہ کرنا

Remediable, a. Capable of remedy ; curable :
چارہ پذیر - قابل علاج

Remedial, a. Affording remedy ; relieving :
دافع - چارہ گر - انسدادی

Remedy, n. That which cures a disease or counteracts an evil :
v. t. To cure ; to remove ; to repair ; to relieve :
آرام کرنا - تدارک کرنا - مرمت کرنا - تسکین دینا

Remember, v. t. To bear in mind ; not to forget ; to recall :
خیال کرنا - نہ بھولنا - یاد کرنا - یاد دلانا

Remembrance, n. Act of remembering ; memory ; recollection ; a memorial ; a souvenir :
یادداشت - حافظہ - یاد - عرضداشت - یادگار

Remembrance, n. An officer of the exchequer ; a recorder :
A memento :
یادگار - نشانی

Remind, v. t. To put in mind ; to cause to remember :
چاتنا - یاد دلانا - خیال دلانا

Reminder, n. One who or that which reminds :
یاد دلانبرالا - تاکید - چٹاؤنی - تاکیدی خط

Reminiscence, n. Memory ; recollection ; recovery of ideas :
یاد - حافظہ - سدھہ - رائعات یا شے یادگار

Remiss, a. Slack ; negligent ; careless :
سہول - غافل - سست - بے پروا

Remission, n. Relaxation; diminution of intensity or violence; abatement; pardon; forgiveness: **تھیلان - تخفیف شدت - کمی - معافی - مغفرت**

Remit, v. t. To send money: **روپیہ بھیجنا** To relax; to abate; to forgive; to refer; to give up; to resign: **تھیلانا کرنا - کم کرنا - معاف کرنا - حوالہ کرنا - چھوڑنا - ہاتھ دھونا - لاداعی ہونا**

Remittance, n. Money remitted; sum transmitted: **ہتھی - زر مرسلہ - ترسیل نقدی**

Remittent, a. Temporarily ceasing or abating: **چھوڑنے والے - کم ہر جاے - وقفہ**

Remnant, n. That which is left; residue; remainder; scrap; fragment: **بقیہ - ماہی - باقی - ٹکڑا - پارچہ**

Remodel, v. t. To fashion or model anew: **ازسر نو بنانا - نئے نمونہ پر مرتب کرنا**

Remonstrance, n. A strong representation against any measure; expostulation: **موجبات نالہ - گزاری - شکایت - عرض حال - حجت**

Remonstrate, v. t. To urge reasons against; to expostulate: **حجت پیش کرنا - شکایت آمیز عرضی - پیش کرنا - گلہ گزاری کرنا**

Remorse, n. The reproach of conscience; regret; compunction: **تاسف - پچھتارا - غم - ندامت - پشیمانی**

Remorseless, a. Unfeeling; cruel: **بے درد - بے رحم - سادھل**

Remote, a. Distant in place or time; far off; alien: **دور - دیر - دور دراز - الگ - غیر - بیگانہ - اجنبی**

Remoteness, n. Distance; not nearness: **دوری - فاصلہ - تفاوت**

Remount, v. t. or i. To mount again; to res-
cend: **پھر سوار ہونا - پھر چڑھنا**

Remove, v. t. or i. To go from one place to another; to change residence: **ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا - نقل مکان کرنا**
To put away: **ٹھکانا -**
To carry from one court to another: **مستقل کرنا - تبدیل کرنا**

Removal, n. Act of removing; departure change of place; the act of putting an end to: **تبدیلی - ترقی - مرقوفی - کرچ - روانگی - نقل مکان - اختتام - خاتمہ - انت**

Remunerable, a. Capable of being remunerated: **قابل معوضہ - صلہ کے لائق**

Remunerate, v. t. To repay; to recompense: **ادا کرنا - اجرت دینا - صلہ دینا - اجر دینا - مستثنانہ دینا**

Remuneration, n. A recompense for services; a reward: **معارضہ - حق العمی - انعام**

Remunerative, a. Yielding a sufficient return; compensative; profitable: **اجرت دہ - جزا بخش - معاوضہ کے طور پر - آمدنی یا نایدہ کا**

Renal, a. Relating to the kidneys or reins: **متعلق بہ گردہ**

Renard, Reynard, n. A name for the fox: **لومڑی**

Renascency, n. State of being reproduced: **نئی پیدائش**

Rencounter, n. A meeting of two persons or bodies; collision; sudden conflict; a clash; a combat: **دو شخص یا جسم کا ملنا - ٹھٹھہ - جھڑپ - جھگڑا - ٹکڑ - دھکا - ٹوٹا پٹی - جھڑپ - چوبیز**

Syn. Clash, shock, collision.

Rend, v. t. To tear with violence; to split; to lacerate: **پھانسی دالنا - چیرنا - شتر دینا**

Render, v. t. To return; to pay back; to translate; to afford; to state; to boil down and clarify; to plaster roughly: **حوالہ کرنا - واپس کرنا - ترجمہ کرنا - دینا - باہم پہنچانا - بیان کرنا - تازا - پگلائنا - لیٹنا - لیٹنا**

Rendezvous, (ren'de-vo) n. A place of meeting or resort: **اجتماع کا مقام - جمع ہو ٹیکے جگہ**

v. t. To assemble at a particular place: **کسی خاص جگہ جمع ہونا - مجمع - جمعگاہ - انبار**

Rendition, n. A surrendering: **Trans-lation:** **ترجمہ**

Renegade, n. An apostate from a religious faith; deserter: **تارک الدین - منکر دین**

Renew, v. t. To make new; to repeat; to repair; to begin again; to grant or to accept a new bill or note: **تازہ کرنا - دہرانا - مرمت کرنا - از سر نو شروع کرنا - نیا بل دینا یا قبول کرنا**

Reniform, a. Having the form or shape of the kidneys: **بہ شکل گردہ**

Rennet, n. A kind of apple; a preparation of the inner lining of a calf's stomach; used to curdle milk : ایک قسم کا سیب - جامن - دودھ چمانے کا مادہ

Renounce, v. t. To give up; to resign; to disavow; to disown; to disclaim; to cast off; to reject : چھوڑنا - دست بردار ہونا - قبول نہ کرنا - انکار کرنا - ترک کرنا - خارج کرنا - نا منظور کرنا
Syn. - Relinquish, abandon, forego, resign, adjure, forsake, leave.

Renovate, v. t. To make new; to renew : نیا کرنا - تجدید کرنا - ترمیم کرنا

Renown, n. Fame; reputation; celebrity : شہرت - نام آزدی - نام

Renowned, a. Celebrated; famous; eminent : مشہور - نامور - نامی

Rent, n. A fissure; tear; a split : شگاف - درز - * درز - شق - ٹکڑا
 Annual payment for field, house, etc.; rental revenue : کرایہ - لگان - ماڈاری - محصول - نکاسی -
 * free grant, —free, —free grant, * جاگیر معافی
Rent-free grant for religious purposes, وقف
v. t. or i. To let to a tenant; to lease; to take by lease : کرایہ یا لگان پر دینا - بیٹھ دینا - بیٹھ پڑھ لینا

Rental, n. Rent-roll; the annual amount of rents : جمعہندی - فرد لگان - سالانہ لگان

Renter, v. i. To sew finely; to fine draw : باریک سینا - رفو کرنا

Rentes, (F.) n. pl. Funds bearing interest; stocks : نقد چمکا سود ملے - امانت

Renunciation, n. Act of disowning; refusal; rejection : نامنظوری - انکار - ترک

Re-open, v. t. To open again : پھر کھولنا - شروع کرنا

Reordain, v. t. To ordain again : پھر مقرر کرنا - تقرر ثانی کرنا

Reorder, v. i. To order a second time : پھر حکم دینا

Reorganise, v. t. To organise anew : از سر نو ترتیب دینا - ترمیم کرنا

Repair, v. t. or i. To amend; to rebuild; to retrieve; to go; to resort : مرمت کرنا - درست کرنا - * از سر نو بنانا - نقصان پورا کرنا - جاننا - رجوع کرنا
 Restoration to a sound state after decay; re-

paration; mending; patching; abode; resort; درستہ - مرمت - سوار - پیوندکاری - مکان - مسکن - آمد و رفت کی جگہ

Reparation, n. Repair : درستی * Indemnification for loss or damage : ہاوان - بدلا - عرض

Repartee, n. A smart, ready and witty reply; witty retort : معقول فی البدیہہ جواب - ظریفانہ جواب - حاضر جوابی * v. t. To make a smart and witty reply : حاضر جوابی کرنا - ظریفانہ جواب دینا

Repartition, n. A division into smaller parts : چھوٹے حصوں میں تقسیم

Repast, n. A meal; victuals; food; feast : طعام - کھانا - ناشتہ - دعوت

Repay, v. t. To pay back; to reimburse; to refund; to reward; to requite; to recompense : پھردینا - پورا کرنا - واپس کرنا - انعام دینا - جزا دینا - معاوضہ دینا

Repeal, v. t. To annul; to revoke by authority; to abrogate : رد کرنا - منسوخ کرنا - نسخ کرنا - موقوف کرنا

Repeal, n. Annuling; abrogation; revocation : ترمیم - منسوخی - نسخ - ابطال

Repeat, v. t. To do or speak again; to renew; to reiterate; to relate; to recite : مکرر کرنا یا کہنا - تازہ کرنا - دہرائنا - بیان کرنا - زبانی سنانا

Repeatedly, ad. Frequently : بار بار - مکرر

Repel, v. t. To drive back; to repulse; to oppose; to resist : پیچھے ہٹانا - پس پا کرنا - روکنا - * v. t. or i. To feel sorrow for something done or left undone; to remember with sorrow; to change from past evil : ہاتھ ملنا - دانوں میں اٹکلی دینا - تاسف کرنا - توبہ کرنا - باز آنا

Repentance, n. Act of repenting; sorrow; penitence : پیچھتارنا - تاسف - پشیمانی توبہ
Syn. - Penitence, contrition, remorse.

Repentant, a. Sorrowful for sin; penitent : One who * گناہ سے متاسف - توبہ کرنے والا - پشیمان توبہ کرنے والا - مستغفر

Repercussion, n. Act of driving back; reversion : ہٹاؤ - گونج - گمک - لہر

Repertory, n. A place in which anything can be easily found; a treasury : مختار منجیدہ - خزانہ

Repetition, n. Act of repeating ; iteration ; rehearsal :
دوہراؤ - تکرار - یاد سے سنانا

Repine, v. i. To murmur ; complain ; to fret :
بہزانا - شکایت کرنا - کہنا - غم کرنا - گھلنا

Replace, v. t. To substitute ; to refund ; to pay :
عوض میں رکھنا - واپس کرنا - ادا کرنا - چمکتا کرنا

Replant, v. t. To plant again :
پھر نسیب کرنا - پھر لگانا

Replenish, v. t. To supply ; to stock ; to fill again :
دینا - پورا کرنا - بھر دینا - بھر پور کرنا - لیزیز کرنا

Replenishment, n. Supply :
بھرتی - معمری - بھرتی

Replete, a. Full ; completely ; filled ; quite full :
پورا - بھر پور - لیزیز

Repletion, n. Fulness ; surfeit :
معمری - بھر پوری
Syn. Satiety, superabundance.
Ant. - Exhaustion, emptiness, vacuity.

Replevy, v. t. To take back, by writ, things illegally seized :
نا-قانون طریق پر لٹی ہوئی چیز کو بذریعہ حکم عدالت واپس لینا - واپس لانا - ضمانت پر چھڑنا

Replice, n. A copy of a painting by the artist who executed the original :
تصویر کی نقال جو اصل مصور کرے

Replicate, a. Folded back :
تہہ کیا ہوا - دوہرایا ہوا

Replication, n. Reply ; an answer ; the reply of the plaintiff to the defendant's plea :
جواب - رد جواب - رد کلام - جواب الجواب

Reply, v. t. To answer ; to respond :
جواب دینا - جواب - اتر :
n. An answer ; a response :
جواب - اتر * n. An answer ; a response

Report, v. t. or i. To give an account of ; to relate ; to describe ; to make an official return or statement ; to charge with neglect ; to act as a reporter for the press ; to take down a speech verbatim :
کیفیت لکھنا - بیان کرنا - کہنا - خبر دینا - رپٹ کرنا - سرکاری طور پر اطلاع دینا - شکایت کرنا - اخبار کے لئے خبر نویسی کرنا - کسی تقریر کو **To—one's self,** to give information of one's arrival :
آمد کی خبر :
* حال - صورت :
n. A statement of fact * n. A statement of fact

official statement :
رپٹ سرکاری - کیفیت
Rumour ; repnte :
شہرت - افواہ * Loud noise as of a gun :
دھڑاکے کی 'واژ :
Good report,
* بدنامی - اچھس - Ill * نیک نامی - ناموری
spread a—, افواہ اڑانا - چرچا کرنا

Reporter, n. One who reports the proceedings of courts of other public bodies :
کیفیت نویس - منخبہر - اطلاع رسال

Repose, v. t. or i. To lay at rest ; to lie ; to sleep ; to rest in confidence ; to deposit :
کرنا - لیٹنا - سونا - بھروسا رکھنا - سوئیٹا سپرد کرنا - آرام :
n. Sleep ; rest ; ease ; mental tranquillity :
استراحت - آرام - آسودگی - اطمینان - دلجمعی

Reposit, v. t. To lay up ; to lodge for safety :
دھرنانا - رکھنا - حفاظت کے واسطے رکھنا

Repository, n. A place where things are laid up or deposited for safety ; store-house ; warehouse ; depot :
وہ جگہ جہاں حفاظت کے واسطے چیز رکھی جاوے - خزانہ - گنجینہ - مالخانہ - قریۂ خاندان
Syn. Depository, repertory, depot, magazine, conservatory, treasury.

Repossess, v. t. To possess again :
پھر قبض ہونا - پھر پانا

Reprehend, v. t. To accuse ; to censure ; to reprove :
الزام لگانا - ملامت کرنا - سرزنش کرنا - زجر کرنا

Reprehensible, a. Censurable ; culpable :
قابل الزام - تصدیر وار

Reprehension, n. Blame ; reproof ; censure :
الزام - ملامت - زجر - سرزنش

Reprehensive, a. Given to reproof :
ملامت آمیز - سرزنش آمیز

Represent, v. t. To exhibit ; to describe ; to show ; to personate ; to act for ; to stand for ; to delineate ; to serve as a sign of :
ظاہر کرنا - بیان - نمود کرنا - رپ کرنا - حوائج بتانا - نقال کرنا - قائم مقام ہونا - نائب ہونا - نمائندگی کرنا - علامت کسی کی طرف **To—one in a suit,** * یا نشان ہونا سے فالس کرنا

Representation, n. Act of describing ; a description :
* تصویر - شہدہ * Likeness * بیان :
memorial :
عرضداشت - عرضی

Representative, a. Exhibiting a likeness : صورت
n. * قائم مقام * Acting for others : نما - مشاہدہ
 One who or that which exhibits likeness
 to another : ہم شکل * An agent ; a deputy ; a
 substitute : منتظر - قائم مقام - کسی کے بجائے کام
 سرگنہ - سرگروہ - of a community * — کرنے والا
 ڈیپٹی - مینٹ - سردار

Repress, v. t. To subdue ; to crush down ; to
 check ; to restrain : - دباننا - فرو کرنا - کھیلنا - مسلمانا -
 روکنا - باز رہنا - منع کرنا - تھامنا

Repression, n. Act of repressing ; check ; re-
 straint : انسداد - روک دیاؤ

Repressive, a. Tending to repress : دبانیر والا -
 مانع - دافع

Reprieve, v. t. To alter a sentence of death ; to
 respite after sentence of death ; to relieve
 temporarily : سزائے قتل ملتوی رکھنا - سزائے موت کے
n. The temporary suspen-
 sion of the execution of sentence of death : سزائے
 قتل کی عارضی ملتوی

Reprimand, v. t. To chide for a fault ; to repre-
 hend : چشم نمائی کرنا - زجر کرنا - دھمکانا - گھونکنا -
n. * ڈانٹنا * A public or private re-
 proof for fault committed : قصور کے واسطے ڈانٹ -
 زجر - گھونکی - دھمکار - ڈانٹ ڈپٹ

Reprint, v. t. To print again ; to print a second
 edition : * پھر چھاپنا * A new im-
 pression or edition of a book : طبع جدید - طبع ثانی

Reprisal, n. Retaliation for injury or wrong ; a
 retaliative seizure of anything belonging to an
 enemy : بدلا - عوض - انتقام - دشمن کی چیز پر بدلے
 میں قبضہ کر لینا

Reprise, n. Act of taking by way of retaliation :
 معارضہ - بدلا

Reproach, v. t. To charge with a fault in severe
 language ; to reprimand ; to rebuke ; to revile ;
 to blame : الزام لگانا - ملامت کرنا - ڈانٹنا - نصیحت
n. * کرنا * Blame ; censure ;
 الزام - ملامت - چشم نمائی -
 rebuke ; abuse : نصیحت - سرزائی - گالی

Reproachful, a. Upbraiding ; opprobrious :
 ملامت آمیز - ناشایستہ

Reprobate, v. t. To disdain ; to reject : ناپسند
 کرنا * a. Disallowed ; abandoned ;
 lost to virtue or grace : خارج - ناپسندیدہ -
n. * از رحمت - جو کبھی نیک نہرگا - متروک - مردود
 اور باش - رند - One lost to virtue ; a profligate :
 خوار - خستہ - مردود - فاجر - خراباتی

Reproduce, v. t. To produce again ; to generate ;
 to renew the production of ; to bring to the
 memory : پھر پیدا کرنا - پیداوار کی تجدید کرنا -
 یاد دلانا

Reproduction, n. Act of reproducing : پیداوار -
 از سر نو پیدایش - نسل پیدا کرنے کا طریقہ

Reproof, n. Public rebuke ; express censure ;
 reprimand ; reproach : ملامت - ڈانٹ - زجر -
 تو بیخ - عتاب - جھوکی - پھٹکار

Reprovable, a. Worthy of reproof ; deserving
 censure ; culpable ; blamable : ڈانٹ - لائق
 کے قابل - زجر کے لائق - قابل - سرزنش - الزام کے لائق

Reprove, v. t. To chide to the face ; to censure ;
 to blame ; to rebuke ; to reprimand : چشم نمائی
 کرنا - ملامت کرنا - الزام لگانا - پھٹکارنا

Reptile, n. A creeping animal : کیڑا مکوڑا
 رینگنے والا

Republic, n. A form of government in which the
 supreme power is invested in representatives
 elected by the people ; commonwealth : سلطنت
 جمہوری - وہ سلطنت جس میں اختیارات رعایا کے منتخب کئے
 ہوئے اشخاص کو ملتے ہیں

Republican, a. Having the character of a repub-
 lic : جمہوری - جمہوریت پسند

Republicanism, n. A republican form of gov-
 ernment : جمہوری سلطنت کا اصول یا اس کی طرنداری

Republication, n. A second issue or reprint of
 something before published ; a reprint : اشتہار
 ثانی - طبع ثانی - طبع جدید - دو سرا چھاپنا

Republish, v. t. To publish anew ; to reprint :
 از سر نو مشہور کرنا - پھر چھاپنا

Repudiate, v. t. To divorce ; to cast off ; to re-
 ject ; to disavow ; to disclaim ; to disown : چھوڑ
 دینا - طاق دینا - پھینک دینا - انکار کرنا - نامنظور کرنا -
 قبول نہ کرنا - دست بردار ہونا

Repudiation, n. A divorce ; rejection : طلاق - کنارہ
 کشی - تری

Repugnance, n. Reluctance; unwillingness; aversion; dislike; inconsistency: نفرت، ناخوشی، کراہیت، ناراضی، مخالفت

Repugnant, a. Contrary; averse; unwilling: برخلاف، مخالف، ناخوش، ناگوار

Repulse, v. t. To beat back; to repel; to drive off: پس ہا کرنا، ہٹا دینا، مار مٹانا، عزیزت دینا
refusal: * n. Act of repelling; denial; عزیزت، شکست، مدافعت، انکار، نفی

Repulsion, n. Act of driving back; repugnance: عزیزت، نفرت

Repulsive, a. Forbidding: نفرت انگیز، کربیم، مانع، دافع

Reputable, a. Worthy of repute; respectable; honorable; of good repute: شہرت کے لائق، باحرمیت، عزت والا، نیک نام

Reputation, n. Good name; fame; esteem: نیک نامی، شہرت، عزت، آبرو

Repute, n. Established opinion; good character: شاکہ، نیک چلن، نامور، شہرت

Reputedly, ad. In common opinion: عزتاً، شاکہ سے

Request, n. Petition; entreaty; suit; desire; demand: عرض، التماس، مقدمہ، خواہش

v. t. To ask earnestly; to express desire for or to; to entreat; to beg; to solicit; التجا کرنا، چاہنا، التماس کرنا، مانگنا، استدعا کرنا

Requiem, n. A hymn for the dead; a funeral dirge or service: نائتہ، درود، مرحوم کی روح کے آرام کا گیت

Require, v. t. To claim as by right; to demand; to need; to stand in want of: طلب کرنا، مانگنا، چاہنا، احتیاج رکھنا

Requirement, n. Demand; requisition: مانگ، طلب، ضرورت

Requisite, n. Needful; required; indispensable; essential; necessary: ضروری، مطلوب، لایم، لازم، درکار، ناگزیر

Requisite, n. Something indispensable; that which is necessary: شے مطلوب، ضروری چیز، امر، ناگزیر

Requisition, n. Act of requiring; demand; a written invitation or call: طلب، درخواست، نوید، طلب

Requital, n. Reward; compensation; recompense; retribution: اجر، بدلہ، مکافات، عوض، جزا، انتقام

Requite, v. t. To repay; to recompense; to compensate; to punish; to retaliate: بدلہ دینا، جزا دینا، معارضہ دینا، سزا دینا، بدی کے بدلے بدی کرنا، بدی کے بدلے برائی کرنا

To—evil for good, معافظ عقب، پیچھے کے نگہبان

Rescind, v. t. To cut off; to abolish; to repeal; to annul: کٹ ڈالنا، موقوف کرنا، منسوخ کرنا

Rescission, n. Act of rescinding; a cutting off; abrogation: منسوخی، کٹ، نسخ، تہنسیخ

Rescript, n. An edict or decree; an official answer; a counterpart: فرمان، منشور، سرکاری جواب، مٹنی

Rescue, v. t. To take back; to set free from danger; to liberate: واپس لینا، خطرہ سے چھڑانا، آزاد کرنا، بچانا

Syn.—Save, redeem, release, ransom.
Ant.—Surrender, relinquish.

Rescue, n. Deliverance from imprisonment or danger; liberation: خطرہ یا قید سے رہائی، خلاصی، مخلصی، نجات، چھٹکارا

Research, n. Inquiry; careful search: تحقیق، تلاش، جستجو

Reseize, v. t. To seize again: پھر پکڑنا، گرتار کرنا

Resemblance, n. Similarity; likeness; representation; image: مشابہت، تشبیہ، تمثیل، مطابقت، صورت

Syn.—Similitude, semblance, analogy.
Ant.—Dissimilarity, original.

Resemble, v. t. To be like to; to liken; to compare: مشابہہ ہونا، ملانا، مطابق کرنا

Resent, v. t. To take ill; to be angry at: برا ماننا، ناراض ہونا، فضا ہونا، خفا ہونا

Resentment, n. Anger; displeasure; indignation: فضا، ناراضگی، ناخوشی، نصب، خشم، بغض

Reservation, n. Act of keeping back; Reserve: * اندازی، رکاوٹ

A proviso : * چہ جہ کہ وقت کے لئے بچا رکھی جاتے
 بلا قید - **Without reservation** * قید - شرط
 پورا پورا - بلا کم و کاست

Reserve, v. t. To keep in store; to retain :
 * **Reserve** ذخیرہ رکھنا - رکھ چھوڑنا - بچا رکھنا
 اُمّتادی کا نکتہ نہیں بتانا

Reserve, n. Something kept for future use :
 * **Body of troops kept for an emergency** :
 * **Modesty** : ضرورت کے لئے پس انداختہ فوج :
 coldness; sullenness; caution; closeness;
 حجاب - سرد - احتیاط - کشیدگی - نااشنا مزاجی
 * **In reserve**, ہاتھ میں یا ذخیرہ میں رکھا ہوا

Reserved, a. Not frank; cautious; cold :
 نااشنا - مزاج - سانسوچی - سرد مہر - گھبر - گھمنا

Reservedly, ad. Cautiously, coldly :
 سرد مہر سے - نااشنا مزاجی سے - حجابانہ

Reservedness, n. Want of frankness or freedom :
 روکاوٹ - روکھا پن - نااشنا مزاجی

Reservoir, n. A place for the storage of water :
 پانی کا خزانہ - تالاب - حوض

Reset, v. t. To set over again as printed matter :
 چھاپی ہوئی شے کو پھر چھاپنا

Resettle, v. t. To settle again :
 پھر ٹھہرانا - پھر قیام کرنا

Reshape, v. t. To shape anew :
 پھر گڑھنا یا بنانا

Reship, v. t. To ship what has been imported :
 پُر جہاز پُر لانا

Reside, v. i. To dwell permanently; to live; to inhabit :
 ہمیشہ کے لئے رہنا - بود بوش کرنا - سکونت کرنا - بسنا

Residence, n. A place of abode; dwelling; habitation :
 مسکن - سکونت - گھر - مکان - رہائش - بود و باش

Syn. - Habitation, dwelling; abode, mansion.

Residency, n. The official dwelling of a government officer :
 سرکاری افسر کے رہنیکہ مقام - اجٹھی

Resident, n. One who dwells in a place for some time :
 * **A public minister of a foreign court** : شاہی وکیل جو سامانت غیر میں متعین ہو

Residual, a. Remaining after a portion has been taken :
 پس ماندہ - بقیہ - باقی

Residuary, n. Entitled to the remainder :
 باقی کا مستحق

Residue, n. That which is left; the remainder :
 بقیہ - باقی - بقیہ جایداد جسکی نسبت کوئی وصیت نہ ہو

Resign, v. t. To give up; to give back; to relinquish; to submit :
 * **v. i.** To submit one's self; to give up an office :
 سپرد کرنا - تزل کرنا - استعفا دینا

Resignation, n. Act of resigning; submission; surrender :
 استعفا - توکل - متابعت - ڈبھداری - سپردگی

Resilience, n. Act of springing back; a recoil :
 پیچھے کی طرف - جست - اولٹی پھلانگ - باز گشت - پلٹنا

Resin, n. A hard inflammable gum :
 رال - دھوپ - دھونا نکلے

Resiniferous, a. Yielding resin :
 جس میں سے دھونا نکلے

Resinous, a. Containing resin :
 دھونا ملی ہوئی

Resist, v. t. To stand against; to oppose; to withstand; to strive against; to frustrate; to be distasteful to :
 مقابلہ کرنا - روکنا - اڑنا - باز رکھنا - تجویز کو باطل کرنا - کسی کو ہزا یا ناگوار معام ہونا

Resistance, n. Opposition; hindrance :
 مقابلہ - تعرض - روک - مخالفت - مخالفت

Resistibility, n. The quality of being resistible :
 مزاحمت پزیری - روکنے کی قابلیت

Resistible, a. Capable of being resisted :
 روکنے کے قابل مزاحمت پزیر

Resistless, a. Irresistible; helpless :
 بھت پز دست - غالب - بے اختیار - بے چارہ

Resolute, a. Decided; firm; steady; determined; unshaken :
 مستقل - مضبوط - ثابت قدم - مستقل ارادہ - مستعد

Resoluteness, n. Unshaken firmness :
 استقلال - استحكام - ثابت قدمی

Resolution, n. Fixed determination :
 * **Analysis** : تفریق * **A formal decision passed by a public body** :
 ارادہ - عزم - تجویز - فیصلہ

Resolvable, n. Capable of being resolved :
 حل ہونیکے لائق - قابل تشریح - قابل تجویز

Resolve, v. t. To separate the component parts

of ; to solve ; to clear ; to determine : اجزا جدا

کرنے - حل کرنا - تشریح کرنا - تجزیہ کرنا - بھارتنا

کرنا - Fixed purpose ;

determination : ارادہ - عزم - تجزیہ - رائے

Resolvedness, n. Firmness : ثابت قدمی - مضبوطی

Resolvent, a. Having a power to resolve :

محلول - پاچک

Resonance, n. Reverberation of sound : صدا

بازگشت - گونج

Resonant, n. Resounding ; echoing back : صدا

انگیز - گونجنے والا

Resort, v. i. To have recourse ; to frequent ;

to repair : * آمد و رفت رکھنا - جانا - گذرنا

Assembly ; concourse ; frequent meeting ; place fre-

quented : مجتمع - اڈھام - ملاقات - گذر گاہ -

اڈا - اکھارا

Syn. - Retreat, haunt, den.

Ant. - A avoidance.

Resound, v. t. or i. To sound back ; to echo :

صدا پیدا کرنا - گونجنا

Resource, n. Any source of aid or support ; an

expedient : * وسیلہ - چارہ - علاج

Contrivance : * تدبیر (pl) pecuniary

means : دولت - پیداوار - مایا

Respect, v. t. To honour ; to esteem ; to relate :

عزت کرنا - تعظیم کرنا - عزیز جاننا - علاقہ رکھنا

n. Honour ; estimation ; regard ;

relation : عزت - تعظیم - تکریم - ادب - خیال -

بل بنا No power no—, * ترجمہ - علاقہ

In every—, * آرزو نہیں - طاقت بغیر عزت نہیں

بہت باتوں In many—s, * بھر حال - بھر کیف

With—to, * بارے میں - بابت In—of, * میں

باعتنا - حق میں

Respectable, v. Worthy of respect ; respectable :

معزز - قابل تعظیم - مشہور - نامی

Respectful, a. Civil ; full of respect ; reverential :

باادب - صاحب امتیاز - مودب

Respectfully, ad. In a respectful manner :

مودبانہ - عزتاً

Respective, a. Several ; individual ; showing

regard or consideration ; worthy of regard ;

careful : جدا جدا - اپنا اپنا - ایک ایک کا - متفرق -

لعاظدار - ندردان - قدر کے لائق - قابل تحسین

Resperse, v. t. To sprinkle : پھینکا - بکھیرنا

Respiration, n. The act of breathing ; return

to life : دم کشی - تنفس - سانس - جی اٹھنا

Respirator, n. An instrument of fine wire for

covering the mouth to prevent cold air reaching

the lungs : پتلی تاروں کا آلہ جس سے منہ میں سرد

ہوا نہ جاسکے

Respire, v. t. or i. To breathe in and out ;

to breathe : سانس پھونکنا - سانس لینا - دم لینا -

سستانا - آرام کرنا

Respite, n. A postponement ; delay ; suspension

of punishment ; interval ; reprieve : - التوا - دیر -

* v. t. To give a respite

to ; to reprieve ; to suspend : ملتوی رکھنا - آرام

دینا - صہلت دینا - صرتوں کرنا

Resplendency, n. Brilliancy ; splendour : چمک -

چمکانے - آب و تاب - نور - تجلی

Resplendent, a. Very bright ; shining : روشن -

چمکیلا - درخشاں - منور - نورانی

Respond, v. i. To answer ; to reply ; to corres-

pond ; to suit : جواب دینا - موافق ہونا -

مطابقت ہونا

Respondent, v. Expected to respond ; answer-

ing : * v. One who answers in a suit

or law ; defendant : رسپانڈنٹ - جواب دہ -

مدعا علیہ - ایٹل دیوانی کا ذریعہ ثانی

Response, n. An answer ; an objection : جواب -

قریدید اعتراض

Responsibility, n. That for which one is

responsible : جوابدہی - ذمہ داری - کفالت

Responsible, a. Answerable ; accountable : جواب

دہ - ذمہ دار - مراخذہ دار

Rest, n. Tranquillity ; sleep ; quiet ; peace ;

* سکون - خواب - آرام - امن چین - تھراؤ ;

آپ خاتو جمع رکھیں -

To set

up one's rest, * مسمم ارادہ کرنا - ٹھیک لینا

Dust, our final and native home, خاک

* v. i. To be quiet ; to

sleep ; to repose ; to die : خاموش ہونا - سونا - آرام

To—one's self, to take rest : * کرنا - مرنا

* v. t. To lay at rest ; to place :

دم لینا

To—with, to lie * لٹانا - رکھنا - ٹکا یا لگا دینا

- in the power of ; to depend upon : - قہر میں ہونا
 اختیار حاصل * It shall rest with, منحصر ہونا
 باقی * n. Residue ; remainder ; others : - باقی
 بقیہ - اور
- Restaurant, (resto-rant), n.** A house or room for the sale of refreshments ; an eating-house : مکان یا کمرہ جہاں کھانا وغیرہ بیکنہ ہو۔ کھانا - ہوٹل
- Restiform, a.** Formed like a rope : رسی کی شکل کا
- Resting-place, n.** A place for rest : آرام گاہ
- Restitution, n.** The act of restoring : واپسی - باز دہی - پورا کرنا
 Syn. -- Amends, compensation, requital.
 Ant. Deprivation, injury.
- Restive, a.** Unwilling to go ; obstinate : جو چلنا نہ چاہے - اڑیل - ہٹی - مگرا - گردن کش
- Restless, a.** Never resting ; continually moving ; unsettled ; unquiet ; sleepless ; discontented with one's lot : بے آرام - ہمیشہ پورنیرالا - بے قرار - بے چین - بے خواب - بے صبر - غیر قانع
- Restlessness, n.** Agitation ; unquietness : بے قراری - بے چینی
- Restoration, n.** The act of restoring : * واپسی
 تجدید - بحالی : - شفا - تفرستی
 شفا بخش
- Restorative, a.** Able to restore : داری : * n. A medicine to restore strength : مہی - طاقت لائبرالی دوا
- Restore, v. t.** To give back ; to return ; to repay ; to rebuild ; to repair ; to renew ; to cure ; to recover ; to revive ; to re-establish ; to resuscitate : پھیر دینا واپس کرنا - معارضہ دینا - پور بنانا - مرمت کرنا - پور تازہ کرنا آرام کرنا - شفا دینا - پور جلا کر پور قائم کرنا - جیوں کا تپوں کرنا
- Restrain, v. t.** To check ; to hold back ; to hinder ; to repress ; to limit : روکنا - باز رکھنا - انسداد کرنا - دبانہ - محدود کرنا
- Restraint, n.** Prohibition ; restriction ; check : ممانعت - روک - پابندی - ضبط - بندھنیج - قید
- Restrict, v. t.** To limit ; to confine ; to restrain within bounds : محدود کرنا - پابند کرنا - مقید کرنا
- Restriction, n.** A restraint ; confinement ; limitation : پابندی - قید - تعین
- Restringent, a.** Astringent : قابض

- Result, v. t.** To come out or have an issue ; to issue in : * نکل آنا یا منتج ہونا - نتیجہ پیدا کرنا
 n. Effect ; consequence ; inference ; issue ; اثر - نتیجہ - حاصل - مرجحات - -
 انصاف - فیصاح
- Resultant, a.** Resulting from combination :
 * n. Effect of two or more forces :
 قہر فوٹوں کا نتیجہ
- Resumable, a.** Capable of being resumed : پور لینے کے قابل
- Resume, n.** A summing up ; an abstract, or summary : * v. t. To begin again after interruption ; to take back : پور شروع کرنا - پور لینا
 -
- Resumption, n.** The act of resuming or taking back : باز یابی - باز گیری
- Resurrection, n.** A rising again ; revival from the grave ; the future state : رست و خیز - قیامت - حشر
- Resuscitate, v. t.** To revive ; to restore to life : تازہ دم کرنا - پور جلا کر - پور زندہ کرنا
- Retail, v. t.** To sell goods in small quantities :
 * To report as news :
 * n. Small sales ; sale at second hand :
 خوردہ فروشی - پھینک کر پوری - پورانی چیز کی بکری
- Retailer, n.** One who sells goods in small quantities : خوردہ فروش
- Retain, v. t.** To keep ; to hold ; to keep in mind ; to reserve ; to hire : رکھنا - پکڑنا - یاد رکھنا - * v. i. To continue ; to remain : قائم رہنا - رہنا
- Retainer, n.** One who retains : * An attendant ; a dependant : * A fee to a counsel : وابستہ - محنتانہ وکیل
- Retaliate, v. t.** To repay ; to revenge : بدلا دینا - جیسے کو جیسا دینا - بدلہ لینا
 * v. i. To return like for like : جیسا دینا - بدلہ لینا
- Retaliation, n.** The return of like for like ; reprisal ; revenge : مکافات - معارضہ - بدلہ
- Retard, v. t.** To delay ; to hinder ; to put off ; to defer ; to prevent progress : دیر لگانا - روکنا - روکنا - مزاحم ہونا - ممانع ہونا
 Syn. - Check, obstruct, hinder.
 Ant. -- Accelerate, hurry, urge on.

Retardation, n. Act of delaying; hindrance:

مزاحمت - روک - انکار

Retch, v. t. To make an effort to vomit:

اُلٹی کرنا -
قے کی کوشش کرنا

Retention, n. Power of retaining:

کنتپایش -
Custody * یادداشت - حافظہ * Memory * سمائی

حبس البول - of urine, * حفاظت

Retentive, a. Having the power to retain;

tenacious (as memory):

چر روکنے قید رکھنے یا ضبط

کرنے کی طاقت رکھتا ہو - مہمک - قوی - تید کرنے

تیز حافظہ, * memory, * والا ثابت

Reticence, n. State of observing continual

silence; reserve:

سکوت - چپ - خاموشی

Reticent, a. Silent; reserved:

خاموش - چپ

Reticule, n. A little bag of network; a lady's

bag:

چالی دار بیٹوا - عورتوں کا بیٹوا یا بیگ

Retiform, a. Having the form of net-work:

چالی کی شکل کا

Retina, n. (pl. Retinae) An expansion of the

optic nerve, which receives the impressions

resulting in the sense of vision:

آنکھ کا وہ پردہ

جس میں بہتے بصارت کا حس ہوتا ہے

Retinue, n. A train of attendants on a king or

an illustrious personage:

جلو - سواری

Retire, v. i. To draw back or away; to with-

draw; to keep aloof:

کٹاڑے کش ہونا - الگ ہونا -

الگ رہنا

Retired, a. Secluded; private:

گوشہ نشین - خاورت

گزیں - مخفی - پوشیدہ

Retiredness, n. Solitude; a state of retire-

ment:

گوشہ نشینی - خاورت گزینی

Retirement, n. Act of retiring; seclusion;

privacy; retreat:

خاورت - عزت - پویشی - قہوٹی

Retort, v. t. or i. To return; to throw back;

to answer smartly:

لڑنا - پھیر دینا - اُلٹا جواب -

n. A quick and witty response:

رد جواب: * A chemical vessel for dis-

tillation:

عزق کھینچنے کا قوتی دار برتن - ہیکٹا

Retouch, v. t. To touch again; to improve by

new touches:

سدھارنا - درست کرنا - زینت دینا

Retrace, v. t. To trace back or over again:

پھر
نقشہ اوتارنا - پچھے ہٹنا

Retract, v. t. or i. To draw back; to take back;

to recall; to abjure; to revoke:

واپس لینا - پھیر

لینا - رائے بدلنا - انکار کرنا - باطل کرنا - منسوخ کرنا -

رد کرنا

Retraction, n. Act of drawing back; recanta-

tion; disavowal:

تروید - منسوخی -

انکار - انصراف

Syn.—Revocation, abjuration, recantation.

Ant.—Reiteration, repetition.

Retractive, a. Withdrawing:

ہٹا لینے والا

Retread, v. t. To tread again:

پھر نچلنا - پھر چلنا

Retreat, n. Act of retiring:

بارگشت

Place of privacy:

Shelter * عزت - خاورت

refuge:

Withdrawal of troops:

امن - پناہ

v. t. or i. To draw back; to

retire; to take shelter:

پس

چلا جانا -

پناہ کا ہٹا لینا

یا ہونا - پیغمہ دینا - پناہ گیر ہونا

Retrench, v. t. or i. To cut off; to lessen; to

curtail; to live at less expense; to economize:

کٹ ڈالنا - کم کرنا - گھٹانا -

بہ کھایت گھرانے کرنا -

کھایت شعاری کرنا - اخراجات میں کمی کرنا

Syn. Curtail, cut, diminish, decrease.

Ant.—Increase, multiply.

Retrenchment, n. A cutting off; reduction:

قائمہ کا

Inner work of a fort:

گھٹاڑ - تخفیف

بہتر کاری کام

Retribute, v. t. To pay back:

دینا - واپس دینا

Retribution, n. A repayment; compensation;

reward; punishment; requital:

بدلا -

واپسی -

معارضہ - انعام - سزا - مکافات

Retributive, a. Rewarding or punishing:

جوا

بخش - انعام یا سزا دینے والا

Retrievable, a. Capable of being retrieved:

اصلاح پذیر

Retrieval, n. Recovery; restoration:

شفا - حصول

واپسی

Retrieve, v. t. To gain back; to recover;

to restore; to repair:

پھر حاصل کرنا - شفا پانا - اصلاح

پہلے لانا - مرمت کرنا

Retrocede, v. t. or i. To grant back; to go

back; to retire:

پھر دینا - پھر جانا - چلے جانا -

دست بردار ہونا

Retrocession, n. A going back; recession:

پہلے - دست برداری - برگشتگی - ہٹاڑ

Retrogradation, n. Act of moving backward ; a going backward ; decline in excellence : پیچھے

کی حرکت - حرکت معکوس - عمدگی میں کمی - پیچھے
کی طرف ہٹنا - گزار معزولی

Retrograde, a. Tending backward ; declining from a better to a worse state : پیچھے کی طرف

v. i. * ماٹل - تیزی پر - خراب - باز گرد - زوال پزیر
پیچھے ہٹنا
To go or move backward :

Retrogression, n. The act of going backward : مراجعت - ہٹنا

Retrospect, v. i. To look back ; to review or contemplate on the past : پیچھے دیکھنا - گزشتہ کا

* A view of the past ; review ;
پس بینی - پس نظری - تحقیقات - ملاحظہ
survey :

Retrospection, n. A looking back : خیال زمانہ گزشتہ

Retrospective, a. Looking back ; viewing the past : گزشتہ یا پچھلے زمانہ پر نظر کرنے والا

Retrovert, v. t. To turn back : پیچھے ہٹانا

Return, v. i. To go or come again to the same place : لوٹنا - واپس آنا - پلٹنا

* To come again to the same condition :
* To begin again :
پھر سے شروع کرنا

Return, v. t. To bring or send back ; to repay ; to requite : پھر لانا - واپس کرنا - ادا کرنا - معاوضہ

* To return the lie, جوڑوٹھا دینا
معاوضہ - -
* n. A going back ; restitution :
* Profit of capital or labour :
* Official report ; relapse :
تقشہ - اعادہ

Return, v. t. To bring or send back ; to repay ; to requite : پھر لانا - واپس کرنا - ادا کرنا - معاوضہ

* To return the lie, جوڑوٹھا دینا
معاوضہ - -
* n. A going back ; restitution :
* Profit of capital or labour :
* Official report ; relapse :
تقشہ - اعادہ

Reunion, n. A second union ; union after separation ; a festive gathering (as of friends).
اتفاق جدید - جدائی کے بعد وصل - (دوستوں یا عزیزوں کی) پھر ایک دوسرے سے ایک گھر میں ملاقات

Reunite, v. t. or i. To unite again ; to join after separation ; to join and co-here again : پھر ملانا یا ملانا - جدائی کے بعد اتصال ہونا - پھر جوڑنا یا جوڑنا - سٹنا

Reveal, v. t. To disclose ; to divulge ; to unveil ; to lay open ; to make known : کھول دینا - منکشف کرنا - فاش کرنا - ظاہر کرنا - آشکارا کرنا

Syn. - Disclose, discover.

Ant. - Conceal, cover.

Revealable, a. Capable of being revealed : قابل انکشاف - تابن اظہار

Reveille, (re-vel'-ye) n. The morning beat of drum about break of day to rouse soldiers : صبح کو سپاہیوں کے جگانیکے لئے بگ یا تمبور کی صدا

Revel, v. i. To rouse ; to move playfully : عیش و عشرت کرنا - خوش پھرنا - مسرت پھرنا - رنگ ریلیاں
* A riotous feast ; a carousal :
دھوم دھام کی دعوت - عیش و عشرت

Revelation, n. Act of disclosing ; discovery ; divine communication ; the Old and New Testaments ; the Apocalypse : انشا - دریافت - وحی - عہدنامہ قدیم و جدید - عہدنامہ جدید کی آخری کتاب - مکاشفات

Revelry, n. Noisy festivity ; carousal : دھوم دھام کی دعوت - عیش و عشرت - بدمستی

Revenge, v. t. To return an injury ; to avenge :
* n. A malicious infliction of pain ; injury in return for an offence ; injustice ; passion for vengeance :
پے انصافی - پاداش - بدلہ

Revenue, n. The income of a state ; annual profits : آمد ملک - لگان مالکذاری - سالانہ محصولات - جمع
یا منافع - سالانہ آمدنی

Reverberate, v. t. or i. To rebound ; to resound ; to echo ; to reflect : پلٹنا - صدا پیدا کرنا - گونجنا - منعکس ہونا یا کرنا

Reverberation, n. Act of reflecting light and heat ; re-echoing sound : گرمی یا روشنی کا انعکاس - آواز بازگشت - گونج

Revere, v. t. To honor ; to reverence ; to regard with respect : عزت کرنا - تعظیم کرنا - ادب کرنا - بزرگی جاننا - ماتتا

Reverence, n. Veneration ; an act of respect : تعظیم - تکریم - ادب - کورنش - پابندی
* A title applied to priests or ministers :
* v. t. To regard with veneration ; to revere :
بزرگی جاننا - تعظیم کرنا - ماتتا - ادب - کرنا

Reverend, a. Worthy of reverence : بزرگ - محترم
A title of respect given to the clergymen or ecclesiastics : پادریوں کا خطاب جیسے پیر و مرشد وغیرہ

Reverential, a. Expressing reverence : - مردب -
تظیمی

Reverently, ad. In a reverent manner : - مردبانہ سے
تظیم سے

Reverie, n. A deep musing ; a wandering thought ; a walking dream : - خوض - گہرا خیال - خیال فاسد - خیالی بلاؤ - خراب بیداری

Reversal, n. A change or over-throwing ; alteration : - تبدیلی یا انقلاب - تودید - تاسینخ

Reverse, v. t. To turn end for end or upside down ; to overthrow ; to subvert ; to make void ; to annul : - اونڈھا کرنا - اولت دینا - تہہ , بلا کرنا - منسوخ کرنا - رد کرنا

Syn. - Invert, subvert, repeal.

Ant. - Place, order.

Reverse, n. A change ; a turn of affairs ; vicissitude ; misfortune : - تبدیلی - انقلاب - گردش - اولت
تبدیلی - The back side, as of a metal or coin : - پیٹھہ *
a. Turned backward : - اولتا - معکوس

Syn. - Opposite, converse.

Ant. - Front.

Reversible, a. That may be reversed : - قابل
تسینخ - اولت دینے کے لائق

Reversion, n. Act of reverting : - Right * باز گشت
of succession to an estate : - حق وراثت

Revert, v. t. or i. To turn ; to fall back : - اولت
دینا - پھر پھیر دینا - پھرنا - عود کرنا

Review, v. t. To look back on ; to re-examine ; to reconsider ; to inspect ; to revise : - پھر نگاہ یا
ملاحظہ کرنا - پھر غور کرنا - نظر ثانی کرنا - معائنہ
n. A second view ; * کرنا - اصلاح یا صحیح کرنا
* نگاہ - نظر ثانی - تقریض - باز نظری :
Inspection of troops : - معائنہ سپاہ
A periodical containing essays and critical notices ; the judicial examination of a case by a higher court of law : - رسالہ جو مقرر اوقات پر شایع ہو اور جس میں کتابوں کی حسن و قبح کا ذکر ہو - عدالت اعلیٰ سے کسی مقدمہ کی نظر ثانی

Reviewer, n. One who reviews : - نظر ثانی کرنے والا

Revigorate, v. t. To add new strength to : - نئی
طاقت دینا

Reville, v. t. To assail with opprobrious language ; to upbraid ; to vilify : - بد زبانی کرنا - گالی دینا - برا کہنا - ملامت کرنا - زجر کرنا - نصیحت کرنا - ذلیل کرنا

Revilement, n. Act of reviling ; reproach : - ملامت - مذمت - نصیحت - بد زبانی

Reviler, n. One who reviles : - نصیحت کرنے والا - ملامت کرنے والا

Revisal, n. Re-examination ; revision : - ملاحظہ
ثانی - نظر ثانی

Revise, v. t. To look at again ; to re-examine ; to review ; to amend : - پھر ملاحظہ کرنا -
n. A second proof-sheet : - نظر ثانی کرنا - تصحیح کرنا
تصحیح اغلاط کے لئے چھاپے کی دوسری فرد

Revision, n. Act of revising ; re-examination for correction ; a review : - ملاحظہ ثانی
بعض اصلاح - نظر ثانی - ترمیم

Revisit, v. t. To visit again : - پھر دیکھنا - ملاقات کرنا

Revival, n. Act of reviving ; renewal of life ; a religious awakening ; a time of remarkable fervour ; renascence ; renewal : - بحالی - از سر نو
زندگی - مذہبی آمدگی - بڑی سرگرمی کا وقت - تازگی - تجدید

Revive, v. t. or i. To bring again to life ; to reanimate ; to return to life ; to reawaken : - پھر
زندہ کرنا - جان دلانا - زندہ ہونا - پھر جگانا

Revivification, n. Renewal of life ; restoration of life : - تجدید زندگی - بحالی زندگی

Revivify, v. t. To recall to life ; to reanimate : - زندہ کرنا - حیات
تازہ دینا - کسی میں نئی جان دلانا یا نیا زور پیدا کرنا

Reviscent, a. Restoring to life or action : - دوبارہ زندگی دینے والا - تازہ دم کرنے والا - جس میں پھر جان آرہی ہو - جو پھر زندہ ہو رہا ہو

Revocable, a. Capable of being recalled or revoked : - قابل منسوخی - تودید کے لائق

Revocation, n. Act of revoking ; repeal ; reversal : - منسوخی - تاسینخ - ابطال - تودید

Revoke, v. t. or i. To annul by recalling ; to repeal : - منسوخ کرنا - رد کرنا
n. Act of neglecting to follow a suit : - عدم پیروی

Revolt, v. t. or i. To put to flight ; to overturn ; to turn away ; to renounce allegiance : بھگنا دینا - پھیر دینا - پھر جانا - منصرف ہونا - ہانپ ہونا - *n.* Act of revolting renunciation of allegiance ; rebellion ; desertion : (وگردانی - انصراف - بغاوت - برگشتگی)

Revolution, n. Act of turning round on an axis ; rotation ; circular motion : دور - گردش - چکر
Change in constitution of a government : انقلاب
سلطنت - ملک کے نظام و نسق میں تغیر شدید

Revolutionary, a. Producing great and sudden change in government : پر انقلاب - فتنہ انگیز - پر آشوب

Revolutionize, v. t. To effect a change in the form of government : انقلاب پیدا کرنا - رد و بدل کرنا

Revolve, v. t. or i. To cause to turn ; to rotate ; to move round a centre ; to turn round : گورمانا - گھومنا - چرخ مارنا - مارنا - مرکز کے گرد چکر لگانا - چکر لگانا

Revolver, n. A pistol with revolving barrels : تپتچہ یا پستول جس میں کئی تل ہوں

Revulsion, n. Act of drawing back ; marked repugnance or hostility ; diverting of a disease from one part to another : کشش - دشمنی - نفرت - انقلاب مرض ایک عضو سے دوسرے عضو میں

Reward, v. t. To requite ; to repay ; to recompense : * عرض دینا - صلہ دینا - اجر دینا - انعام دینا
n. A return for good ; recompense : انعام - صلہ - اجر

Syn. - Compensation, requital, remuneration.

Rewrite, v. t. To write again : پھر لکھنا

Reynard, n. (*Fr.* Reginhart, strong in counsel)
A fox : لومڑی - روبہا

Rhapsodical, a. Consisting of rhapsody ; unconnected : مثنوی یا شعر خروانی کا - بے جوڑ - بے ربط - بے میل

Rhapsodist, n. One who writes or sings rhapsodies : بے جوڑ یا بے ربط کلام کہنے والا - بے جوڑ گیت گانید والا

Rhapsody, n. An incoherent composition ; a wild, rambling composition or discourse : بے ربط کلام - اوکھڑی اوکھڑی بات - بے قاعدہ راک

Rhetoric, n. Science of oratory ; art of speaking with propriety, elegance and force : علم بدمہ - علم فصاحت - علم بلاغت - صنعت کلام - بلاغت - فصاحت - لٹرائٹ

Syn. Oratory, elocution, eloquence.

Rhetorician, n. One well versed in rhetoric ; a practised speaker ; an orator ; a sophist : فصیح - بلیغ - خوش تقریر - منطقی

Rheum, n. A thin serious fluid secreted by the glands : نف - نزلہ - زکام - ریم - نزلہ کا پانی

Rheumatic, a. Subject to rheumatism : پائی کا - درد

Rheumatism, n. A painful disease ; affecting the joints and muscles of the human body : گٹھیا - ہائی - وجع مفاصل

Rhinoceros, n. A large, ungainly quadruped having a very strong horn on its nose : گیندرا - کرگدن

Rhomb, n. A figure of four equal sides, but unequal angles : شکر معین

Rhomboid, n. A figure like a rhomb, having only the opposite sides equal : شبیہ بد معین

Rhubarb, n. A plant of which the stalk is used in cookery and the roots of which furnish valuable cathartic : ریزوڈ چینی

Rhyme, n. Correspondence of sounds at the end of verses ; a couplet : شعر - قافیہ - *or* reason, common sense : * سمجھ - دانستگی
پے قافیہ و بے معنی - بے تکی - بلا
خفی قافیہ - * چلی قافیہ - * Female - * مہب

Rhyme, v. i. To make verses ; to accord in sounds : * *v. t.* To put into rhyme : کلام مرزوں کرنا - مقفی کرنا

Rhythm, n. Metre ; verse ; numbers ; periodical accent : وزن - شعر - بحر

Rib, n. A curved side bone : * پسلی
A strengthening piece of timber in a ship ; a vein ; a strip, as of land : جہاز کی مضبوطی کے واسطے مضربندار لکڑی -
v. t. To shut in : * نس - دھب - چھاتے کی ٹیلی گویرنا - بند کرنا

Rebald, n. A low vulgar fellow ; a lewd fellow ; filthy : * *a.* Base ; obscene ; low : کھینہ - فحش - رزیل

Ribaldry, n. The talk of a ribald ; low, vulgar language ; obscenity : گالی گلج - بدزبانی

Riband, v. t. To adorn with ribbon : * نیتہ لگانا
A narrow slip of silk or satin : ریشمی نیتہ

Ribbon, n. See Riband.

Rice, n. A very valuable esculent grain : - شالی
دھان - برنج - چاول

Rich, a. Wealthy ; opulent ; valuable ; precious ; vivid ; bright ; productive or fertile ; sumptuous ; highly flavoured ; abounding in beauty : دولت مند - مالدار - غنی - قیمتی - فاخرہ - گراں بہا - زرق برق - چمکیلا - زرخیز - شاداب - فیاض - پر تکلف - عمدہ - معاصدار - مزہ دار - تیز - چتکار

Rich men have no faults, دولت میں داغ نہیں لگتا

Riches, n. pl. Wealth ; affluence ; opulence : دولت * Riches have wings, دولت کے پر ہوتے ہیں

Richly, ad. Plenteously ; abundantly ; amply : بکثرت - خوب - ازبس

Richness, n. The state of being rich ; wealth ; fertility ; fruitfulness ; abundance : - ترنگری - مالداري - زر خیزی - بار آوری - بہتات

Rick, n. A heap or pile of grain or hay : غلہ یا سوکھی گھاس کا ڈھیر - تودہ - انبار

Rickets, n. pl. Disease of the bones in infants : بچوں کی ہڈی کی بیماری

Rickety, a. Affected with rickets ; weak ; feeble in the joints : مریض - کمزور - ڈھیلے جڑ کا - کھڑکھڑاتا : ہوا - ہلتا ہوا

Ricochet, (rik-o-she') n. A rebounding of shot : ڈولیکا لوٹنا

Rid, v. t. To free ; to deliver ; to clear ; to destroy ; to drive away ; to disencumber : رہا - کرنا - چھڑانا - آزاد کرنا - دور کرنا - نکال دینا - رہائی پانا - دفع کرنا * Get-of, سبکدوش کرنا

Riddance, n. Deliverance ; freedom : - رہائی - بچت - چھٹکارا - بریت - آزادی - خلاصی

Riddle, n. An enigma : چہستان - پھیلے - مرئی چلنی - جھڑنا
A course or open sieve : بھوسہ جدا

Riddle, r. t. or i. To clear from chaff : * To speak in riddles : کہنا
حل کرنا - پھیلے بھلا - بچھڑانا

Ride, v. i. To be carried on horseback or in a vehicle : گھوڑے یا گاڑی پر سوار ہونا - سواری کرنا

To-down, to trample down ; to treat with extreme roughness : * آڑے بہتے
* To-out, to continue afloat : لنگڑ ڈالے کوزا رہنا
* To-at anchor, بہت
* To-hard, * خورق تار ہرڈ
* To-post, * شتاب جانا

An excursion on horseback or in a vehicle ; a road in pleasure grounds : گھوڑے یا گاڑی کی سواری - سیرگاہ کی - رک - روش

Rider, n. One who rides : راہب - سوار * An addition to a document : عبارت جر کسی دستاویز میں بیچھے سے بڑھتی کٹی ہو

Ridge, n. The back ; the rough top of anything ; any steep elevation or eminence : پشتہ - نامرزار
* v. t. To form into ridges ; to wrinkle : سکڑنا - مینق بنانا

Ridgy, a. Rising in or having ridges : جس میں پہاڑی یا ٹیلیگا سلسلہ ہو

Ridicule, n. Laughter with contempt ; derision ; mockery : ہنسی - تضحیک مذاق - تمہخر

Ridicule, v. t. To laugh at, or expose to laughter ; to mock ; to deride ; to banter : ہنسا - تضحیک کرنا - تمہخر کرنا - ٹھٹھا کرنا

Ridiculous, a. Absurd ; ludicrous : ہنسیدہ - ہنسی کے لائق

Riding, n. The act of one who rides : سواری * Road ; district : سڑک - راستہ - ضلع

Riding habit, n. Dress worn by ladies on horse back : عورتوں کی سواری کی پرشاک

Rife, n. Prevailing ; prevalent ; abounding : غالب - عالمگیر - موج - زیادہ

Rifeness, n. Quality of being rife ; prevalence ; زیادتی - غلبہ - ثبوت

Riffraff, n. Sweepings ; refuse : کورت * آوارہ لوگ - دھنکے جولاہے - چڑھے چہار

Rifle, n. t. To rob ; to plunder ; to strip : چرا لینا * n. A gun with a spirally grooved barrel ; ایک قسم کی بندوق - رفل

Rifleman, n. A man armed with a rifle : بندوقچی - رفل بردار

- Rink, n.** A course : سڑک - روش * A race : گھڑ دوڑ
- Rinse, v. t.** To cleanse by repeated application of water : دھو کر صاف کرنا - مائعنا - کھاننا - پکھاننا
- Riot, n.** Wanton or unrestrained behaviour ; noisy festivity ; tumult ; uproar : ہنگامہ - دنکا - عیش و زنجوردستی کرنا * **To run a—, to act without control :** غل غپاڑا
- Riot, v. i.** To revel ; to raise an uproar or sedition : خرمستی کرنا - عیش کرنا - غل غپاڑا کرنا - بلوہ کرنا
- Rioter, n.** One engages in a riot ; a noisy reveler : بلوہی - قتنہ انگیز - عیاش - اوباش
- Rip, v. t.** To tear up ; to cut asunder ; to take out : پھاڑنا - کاٹ ڈالنا - نکالنا * **n.** A tear ; a rent : پھیر پھاڑ - چاک - کٹ کر
- Ripe, a.** Ready for reaping ; mature ; fit for use ; perfect ; finished : کاتنے کے لائق - رسیدہ - بالیدہ - قیام - کامل - پورا
- Ripen, v. i.** To grow ripe ; to come to perfection : پھلنا * **v. t.** To make ripe ; to mature ; to prepare : پھلانا - پختہ کرنا - قیام کرنا
- Ripeness, n.** Maturity ; perfection : باروغ - رسیدگی - پختگی - کمال
- Ripple, v. t. or i.** To curl on the surface : سطح کر * **n.** A little wave or undulation : لہرانا - لہر
- Rippling, n.** Noise of water agitated : لہر کی آواز
- Rise, v. i.** To get up ; to ascend : اُٹھنا * **To get out of bed :** اُٹھنا - چڑھنا * **To arise :** اُٹھنا * **To swell :** ٹپھنا * **To spring :** نمود ہونا - طبع ہونا * **To increase :** بڑھنا * **To rebel or revolt :** باروہ کرنا * **To close a session :** جپ اُٹھنا * **To come to life :** اُٹھنا
- Rise, n.** Act of rising ; ascent ; origin ; elevation : اُٹھنا - نمود - بلندی - اصل - ابتدا - ترقی - چڑھان
- Risibility, n.** Inclination to laughter : ہنسنے کی رغبت
- Risible, a.** Laughable ; ludicrous : ہنسا - خندہ اور - خندہ انگیز

- Rising, n.** Act of getting up : اُٹھان * **Rebelling against lawful authority :** بغاوت - باروہ * **Closing of a session :** برخاستگی
- Risk, n.** Danger ; peril ; hazard : خطرہ - خوف * **To run a—, to incur hazard :** خطرہ * **v. t.** To expose to danger or possible injury or loss ; to endanger ; to hazard : نقصان سہنا - جرگھوں اوتھانا - خطرہ میں ڈالنا
- Rite, n.** Observance ; a religious ceremony ; form : رسم - طریق - دستور - رواج - ریت
- Ritual, a.** Pertaining to rites ; ceremonial : رسم کے * **n.** A book of rites : کتاب کے متعلق * **Rites of the Metaphysical Society :** کتاب رسمیت
- Rival, n.** One in pursuit of the same object as another ; competitor : * **ا. رقیب - ہم پیشہ - حریف** * **v. t.** Standing in competition : مقابلہ - مقابلہ * **To compete with ; to try to excel ; to emulate :** برا بھلا کرنا - بڑھنے کی کوشش کرنا - ہمسری کرنا - ہم چشم کرنا
- Rivalry, n.** Endeavour to equal or excel another ; competition ; strife : * **ا. لڑائی - لڑائی - رقابت - مقابلہ - جبرگرا - حریفی - برا بھلا**
- Rive, v. t. or i.** To split ; to cleave ; to be split asunder : چیرنا یا چرنا - پھاڑنا - پھٹنا - ٹرنا
- Rivel, v. t.** To contract into wrinkles : شکن ڈالنا
- River, n.** A large flowing stream of water : دریا - ندی - رود
- River-horse, n.** The hippopotamus : دریائی گھوڑا
- Rivet, n.** A pin of metal clinched at one or both ends : * **v. t.** To fasten with rivets ; to clinch : میخ سے جڑنا - گاڑنا - باندھنا - کیل ٹھونکنا
- Rivulet, n.** A small river ; a streamlet : آبجور - چشمہ
- Roach, n.** A fresh-water fish, allied to the carp : ایک قسم کی مچھلی
- Road, n.** An open way ; a public passage ; route ; a highway : * **On the—, travelling :** سفر میں * **To take the—, to set out on a journey :** روانہ ہونا * **To take to the—, to go robbing travellers on the highway :** راہ زنی کرنا

Roadstead, *n.* A safe place of anchorage for ships : لنکر باڑی - لنکر گاہ

Roadster, *n.* A horse accustomed to travelling : گھوڑا جو سفر کا عادی ہو

Roam, *v. t.* To range ; to wander over ; to ramble ; to rove : گھومنا - پھرنا - آوارہ پھرنا - گشت لگانا - بھٹکتے پھرنا

Roan, *a.* Bay ; sorrel ; or dark colour with white hairs : سبزہ رنگ - سبزہ * *n.* The colour of a roan horse ; a roan horse : سبزہ رنگ - سبزہ * A kind of leather for book-binding : کتاب کی جلد باندھنے کا چمڑا

Roar, *v. i.* To cry with a full, loud, continued sound ; to cry aloud ; to bawl : زور سے چلانا - زور سے گرجنا - چیخنا - گھوڑا گرج - غرش - چیخ - دھڑ

Roast, *v. t.* To cook ; to dress or prepare as meat before the fire : بھوننا - بھوننا - بھوننا - بھوننا * *n.* That which is roasted : بھوننا - بھوننا - بھوننا - بھوننا

Rob, *v. t.* To steal ; to plunder ; to take forcibly : چورنا - لوٹنا - مرمنا - بزور لینا - چھین لینا

Robber, *n.* A thief ; a plunderer : چور - دزد - سارق - رھزن - قزاق

Robbery, *n.* Act of robbing ; theft by violence ; pillage : چوری - دزدی - قزاقی - رعزنی - کیتنی

Robe, *n.* A dress of dignity ; a long gown : جینٹلمین آف دی لونگ - جج اور داروغہ پوشہ * Master of the robes, خلعت دینا - * *v. t.* To invest with a robe : پوشاک پہنانا

Robin, *n.* A small bird with a red breast : سرخ سینہ کی ایک قسم کی چڑیا

Robust, *a.* Strong ; muscular ; vigorous ; sinewy ; sound : مضبوط - موٹا تازہ - قوی شہزور - فرہ اندام - ہٹا کتا - وٹیں تن

Roc, *n.* A fabled monstrous bird of great strength : رخ - ہما

Rock, *n.* A large mass of stony material : چٹان - گھومنا - گھومنا * *bottom price*, the lowest possible price : نہایت ہی کم قیمت

Rock, *v. t. or i.* To move from side to side ; to lull ; to reel ; to put to sleep : ہلانا - تھپکانا - ہلانا - چھلانا - لوری دینا

Rocket, *n.* An artificial firework ; a military projectile : بان ہوائی - اگنی بان

Rock-salt, *n.* Salt in masses like rock : لاہری یا سیندھا نمک

Rocky, *a.* Full of rocks ; hard ; stony : چٹانوں سے بھرا - سخت - پتھریلا - پہاڑ سا

Rod, *a.* The shoot or long twig of any woody plant ; a perch ; a pole : چھڑی - تمچھی - * ساتھی پانچ گز کی ٹاپ : 5 yards * ستھی - بید - عصا Spare the—and spoil the child, —of iron, * بچے کو مارو نہیں تو بگڑ جائیگا To kiss the— سزا قبول کرنا

Rodent, *a.* Gnawing : کترنیوالا * *n.* An animal that gnaws : کترنیوالا جانور

Roe, *n.* A species of deer ; the female of the hart ; spawn ; the eggs of a fish : ایک قسم کا ہرن - ہرنی - مینڈکی کے اوندے - مچھلی کے اوندے

Roebuck, *n.* Male of the roe : ہرن

Rogation, *n.* Litany ; supplication : عبادت کا ایک طریقہ - مناجات

Rogue, *n.* A vagrant ; a knave ; a vagabond ; a dishonest person ; a silly fellow : آوارہ - بد معاش - بد دیانت - بیوقوف - شخص سادہ لوح

Roguary, *n.* Knavish trick ; fraud : شرارت - بدذاتی - دغا بازی

Roguish, *a.* Vagrant ; vagabond ; dishonest ; fraudulent ; knavish : آوارہ - بے ایمان - دغا باز - شریر - بدذات

Roister, *v. t.* To bluster ; to swagger : ہٹھکی کرنا - لاف زنی کرنا

Role, *n.* A character represented by a stage player : کونسی خاص کام - خود اختیار کیا ہوا کام یا منصب - بیویس

Roll, *v. t. or i.* To cause to revolve ; to turn round ; to revolve on an axis : گھومانا - گھومنا * *To—about*, to tumble

Roll, *v. t. or i.* To cause to revolve ; to turn round ; to revolve on an axis : گھومانا - گھومنا * *To—about*, to tumble

Roll, *v. t. or i.* To cause to revolve ; to turn round ; to revolve on an axis : گھومانا - گھومنا * *To—about*, to tumble

Roll, *v. t. or i.* To cause to revolve ; to turn round ; to revolve on an axis : گھومانا - گھومنا * *To—about*, to tumble

- about : لڑتے پھرنا * To—in, to move circularly :
 To—out, to tumble out : دھڑلے میں گھومنا
 n. A thing rolled ; a turn ; a cylinder of wood ;
 کرلا - a kind of bread ; twist of tobacco ; a list :
 لپیٹی ہوئی شے - لکڑیکا بیان - ایک قسم کی روٹی -
 تمباکو کی ٹکیا - فہرست - داخلے یا حاضری کی کتاب -
 حاضری Roll call * گرنجے والی بھاری آواز - گزراہٹ
 حاضری لینا - To call the—, یا حاضری لینے کا وقت
 نام دیکرنا
- Rollick, v. i.** To move in a careless manner ; to
 frolic : بے پروائی سے گھومنا - الٹ کرل یا کھلاڑ کرنا
- Rolling-pin, n.** A cylindrical piece of wood :
 لکڑی کا بیان
- Roman, a.** Pertaining to Rome : متعلق بہ شہر روم
 Ordinary printing type : معمولی چھاپنے کے حروف
- Roman, n.** A native of Rome : باشندہ شہر روم
- Romance, n.** A tale of adventure ; a fiction :
 داستان - افسانہ - جھوٹا قصہ
- Romance, v. t.** To lie ; to invent fictitious
 stories : جھوٹ بولنا - جھوٹے قصے بنانا
- Romancer, n.** A writer of romance : جھوٹے قصے
 بنانے والا - افسانہ نگار - قصہ گو
- Romanesque, a.** Relating to a fable or romance :
 متعلق بہ افسانہ
- Romanize, v. t.** To convert the Roman Catholic
 religion : رومن کیتھولک مذہب میں لانا
- Romantic, a.** Pertaining to romance ; fictitious ;
 fanciful ; wild : متعلق بہ افسانہ - عجیب و غریب -
 خلاف قیاس - خیالی - ہوائی باتوں سے بھرا ہوا -
 بے سروپا
- Romp, n.** A rude girl who indulges in boisterous
 play : شور و غل مچانے والی لڑکی
 v. t. To play boisterously : شور و غل مچانا - اڑچھلانا
- Rood, n.** The fourth part of an acre : ایکڑ کا
 صلیب * The cross : چوتھویں حصہ
- Roof, n.** The covering or upper part of building :
 * تالو * The palate : معراب * A vault : چھت - چھپر
 v. t. To cover with a roof ; to shelter : چھت
 پاننا - پاننا - چھانا - چھپر ڈالنا
- Rook, v. t. or i.** To cheat : دغا دینا - دھوکا دینا
 To squat or sit close : چار زانو بیٹھنا
- Rook, n.** A bird like a crow : کوا - کاگ - زاغ
 A cheat : شہلرنج * The castle in chess : دغا باز
 A trickish gambler : چالاک کھلاڑی
- Rookery, n.** A nursery of rooks ; a resort of
 thieves ; a pile of dilapidated buildings : جگہ
 جہاں بڑے گھونسلے بناکر اکٹھے رہتے ہیں - چوروں
 کا اڈا - قوتی پھوٹی عمارت کا ڈھیر
- Rooky, a.** Inhabited by rooks ; gloomy :
 بسا ہوا - قاری
- Room, n.** An apartment in a house ; space ;
 کمرہ - جگہ - جگہ - جگہ وسعت
 stead ; extent :
- Roomy, a.** Spacious ; extensive : کشادہ - وسیع - بڑا
 گنجائش کا
- Roost, n.** The pole on which birds rest at night ;
 a perch : آشیانہ کرنا - بسیرا
 v. i. To rest as a bird : آشیانہ کرنا - بسیرا کرنا
- Rooster, n.** Male of domestic fowl : مرغ
- Root, v. i.** To enter the earth as roots ; to sink
 deep : جز پکڑنا - بھتر جانا
 To—out, to extirpate : جز سے اُھاڑنا - بیخ کنی کرنا
 To—up, to dig up : جز سے اُھاڑنا - بیخ کنی کرنا
 v. t. To plant and fix in the earth : جز سے
 قائم کرنا - کڑنا
 To extirpate : جز سے اُھاڑنا - ناپید کرنا
 n. The part of the plant in the earth :
 * مادہ * A primitive word : جز - بیخ
 The love of money is the root of all evil,
 * سبب - باعث
 Cause or occasion : روپیہ کی
 To take—, * محبت سب برائوں کی جز ہے
 جز پکڑنا
- Rope, n.** A large cord ; a string ; a cable : رسی -
 بالر کی * Rope of sand, * ڈزری - طناب - رسا
 خروش دل - * Upon the high ropes, * بھت
 دلشان
- Rope-dancer, n.** One who walks or dances on
 a rope extended through the air : رسن باز - نت
- Ropy, a.** Stringy ; glutinous ; adhesive : لس دار -
 چپچہا - لسا
- Roral, a.** Pertaining to dew : شبم آردہ - اوس کا
- Rosary, n.** A bed of roses or place where roses
 grow : * گلاب کا تختہ - گلاب کا باغ - کاستن - گلزار
 * مالا - تسبیح - ہرا
 A string of beads ; a chaplet :
- Rose, n.** A plant and flower of many species :
 * Under the—, privately : گلاب کا پھول - گل
 * A bed of—, a place
 * خفیہ - پوشیدہ طور سے

of ease and comfort : آرام کی جگہ * **apple**،
 Under * سفید گلاب - سبیرتی **Dog** * گلاب جامن
 the—، خفیہ - پوشیدہ

Rosin, *n.* Resin in its solid state : رال - دھونا

Rossel, *n.* Light land : ہولہ دھرتی - ملائم زمین

Roster, *n.* A list of persons for duty : فہرست - فرد - نقشہ

Rostrum, *n.* A beak : منقار * A platform
 for speakers ; pulpit : اونچی جگہ جہاں وعظ کرنیوالا
 کہتا ہوتا ہے - چوترا - مہر

Rosy, *a.* Like a rose in bloom, colour or frag-
 rance ; red as a rose : گلابوں - گلاب کی شکل کا -
 گلاب کی ایسی خوشبو کا - گلابی

Rot, *v. t. or i.* To putrefy ; to decay ; to make
 putrid : سوتا - گنا

Rot, *n.* The process of rotting ; decay : سزائند - گلن

Rotary, **Rotatory**, *a.* Turning as a wheel on
 its axis ; rotatory : مہرزی گردش کرنیوالا - گھومنے
 والا

Rotate, *v. t. or i.* To revolve ; to move round a
 centre ; to cause to revolve : گھومنا - مہرزی
 گردش کرنا - گھمانا

Rotation, *n.* A turning as a wheel ; return or
 succession in series ; vicissitude : دور - چکر - گردش

Rote, *n.* A frequent repetition of words, or forms
 of speech, as to fix in the memory : حفظ - ازب -
 زبانی - ازب : **By**—, by memory * بزبان

Rotten, *a.* Putrid ; decayed ; corrupt ; faithless :
 * A rotten * متعفن - سزا ہوا-گلا ہوا - خراب - دغا باز
 ایک مچھولی **sheep infects the whole flock**,
 ایک مچھولی **Soon ripe, soon rotten**,
 جلدی پکا سو جلدی سزا

Rotund, *a.* Round ; circular : گول - مدور - مستد

Rotundity, *n.* Roundness ; sphericity : گولائی
 مدورگی

Rouble, *n.* A Russian silver coin, equal to 2s.
 10d : روسی روپیہ

Rouge, (*roozh*) *n.* A red paint for the face
 or lips ; a cosmetic : ایک قسم کا سرخ رنگ جو
 * *v. t.* To linger * چہرہ ارد لہو نیچ لگاتے ہیں - غارہ
 غارہ لگانا

Rough, *a.* Having an uneven surface ; not
 smooth ; rugged ; stony ; disordered ; stormy :
 ناہموار - کھرکھرا - کھرکھرا - بے ڈھنگا - بے ڈرل -
 * **Rude** ; uncivil : مسرودہ - کچا * **draft**،
 * **and ready**، کام چلو - مورتا چھوٹا

Rough, *v. t.* To render rough : ناہموار کرنا -
 کھرکھرا کرنا

Rough-cast, *v. t.* To cover with plaster and
 gravel : *n.* A rude * لیپنا - کنکری ملا ہوا -
 * **Plaster mixed with** model : گھانچہ
 کنکری ملا ہوا استر

Rough-draught, *n.* First drawing ; first copy
 of a speech, deed, etc. : خاکہ - مسرودہ

Roughen, *v. t. or i.* To make rough ; to grow
 or become rough : کھردرا کرنا - ناہموار ہونا یا کرنا

Rough-hew, *v. t.* To hew coarsely ; to give the
 first form or shape to a thing : کچھہٹنا
 نقشہ بنانا

Rough-rider, *n.* One who breaks horses : کھوڑا
 نکالنے والا - چابک سوار

Rouleau, *n.* (*Pr.* Ru-lo) A little roll of coins in
 paper : چھوٹا پلندہ - سکونکی گدی

Round, *a.* Cylindrical ; circular ; spherical ;
 globular : **Whole** ; * **گول** - مدور - مستدیر - کروی
 * **A** — * **کامل** - پورا - کل - چکنا
game, a game in which all players can take
 part : * **A** — * کھیل جس میں سب شریک ہوسکیں
number, a number divisible by ten without a
 remainder : کوئی عدد جو ۱۰ سے پورا پورا تقسیم
 ہوسکے

Round, *n.* A circle : دائرہ * **Circuit** ; a regular
 course : *v. t. or i.* To make
 round ; to become round : گول بنانا - گول کرنا -
 * *ad. or prep.* Circularly ; on all sides ;
 مدوراً - * **چارونطرف** - قریب - نزدیک - متعلقین میں -
 * **All**—, in every direction : ہر چہار طرف
To bring one—, to restore one to health :
 * **To cause one to alter** * چنگا کرنا -
 * **To** — * کسی کی طبیعت یا رائے پھیر دینا :
 * **To turn—, to turn oneself about** : اپنے
 ذوق ترک کر دینا

Roundabout, a. Circuitous ; indirect : پیدہ پیدہ - تیرتا

Roundly, ad. In a round form : * گول شکل میں :
Openly ; plainly : صاف صاف

Roundness, n. Circularity ; fulness ; smoothness : گولائی - پورا پن - چمکناہٹ

Rouse, v. t. To stir up ; to provoke ; to start ; to wake from sleep or repose : - جوش میں لانا -
* n. A carousal ; festival : میلویشی - ضیانت

Rout, n. A fashionable assembly : خوش وضع ارونیکا :
* The defeat of an army : شکست :
A rabble ; a noise : جبر - غل غپاڑا

Rout, v. t. To disperse ; to defeat and put to flight : تلاش کرنا - منتشر کرنا - شکست دینا

Route, n. Road ; way ; passage ; course : راستہ - سڑک - راہ - سیل

Routine, n. A regular course or practice ; custom : دستور العمل - ضابطہ - دستور

Rove, v. i. To wander ; to ramble : بھٹکتا پھرنا - ہرزہ گردی کرنا

Rover, n. One who rambles about : آوارہ گھومنے والا :
* A fickle or inconstant person : متلون مزاج :
* A pirate : ڈاکو

Row, n. A riotous noisy disturbance : ہنگامہ :
A line of persons or things ; a rank or file : لہنگا

Row, v. i. To propel a boat by oars : تھپتھپانا

Rowdy, n. A riotous, turbulent fellow : فسادی شخص

Rowel, n. A little wheel : چورتا پھیلا - چرخ

Rowlock, n. The part of a boat on which the oar rests in rowing : کشتی کا وہ حصہ جس پر ڈانٹ کھینے کے وقت رکھا جاتا ہے

Royal, a. Kingly ; regal ; noble ; illustrious ; majestic : بادشاہی - شاہی - شریف - معزز - عالی :
* n. A large kind of paper : بڑی تختی کا کاغذ - رائل کاغذ

Royalty, n. The condition of one's being a sovereign ; the sovereign majesty or presence ;

kingly attribute ; domain , pl. regalia : بادشاہت - شاہانہ منصب - خسروانہ منزلت - حضرت نل سبھانی - شاہی خاصہ - غلامت شہنشاہی - اوزامات سلطنت

Rub, v. t. to clean ; to wipe ; to scour ; to polish : صاف کرنا - چانچہ - چھڑنا - پونچھنا

To-down, to clean or curry a horse : کھڑے کر کھڑا کرنا

To-off, against, to strike against : ٹکرائنا

—along, out, to erase : کھچنا

v. i. To move along with pressure : رگڑنا * n. Friction ; difficulty ; grate : رگڑ - ماش - تنگی

Rubber, n. One who rubs : ملنے والا - رگڑنے والا

Contest of three games : کھیل کا کھیل

Rubbish, n. Waste matter ; anything worthless ; ruins of building : کھوٹا کھوٹا - ملبہ

Rubble, n. Small rough undressed stone : چھوٹا بے گڑھا ہوا کھوکھرا پتھر - جھانوا

Rubicund, a. Inclining to redness : سرخی مائل

Rubic, n. A name given to the directions printed in prayer books : نماز یا دعا کی کتابرنگی

a. Placed in red letters : سرخی سے لکھا ہوا

Ruby, n. A gem of red colour : لعل لالائی - چنی

A small printing type : چھاپے کا چھوٹا سب سے کا حرف

Ruby, n. Red : سرخ - لال

Ruck, n. A fold ; a wrinkle ; a plait : تھک - چڑی - چٹن

Rudder, n. The instrument by which a ship is steered : پتھوار - سکان

Ruddiness, n. Redness : سرخی

Ruddle, n. Red chalk : سرخ مٹی

Ruddy, a. Red ; florid : سرخ - لال

Rude, a. Rough ; uncivil ; ignorant ; savage : ناہموار - ناملائم - بد اخلاق - جاہل - ناتراشیدہ - اوجھ - گنوار - ناشایستہ - ناشستہ

Rudely, ad. Roughly ; coarsely ; uncivily : سختی سے - بے دردی سے - ناشایستگی سے

Rudeness, n. Incivility ; unevenness ; vulgarity : بد اخلاقی - بے ادبی - تواضعی - جہالت

Rudiment, *n.* First principle ; original element :
ابتداء جز - بنیاد
n. pl. First book : کتاب ابتدائی *
v. t. To instruct in first principles ; to ground :
ابتدائی اصول سکھانا - جز باندهنا

Rudimental, } *a.* Pertaining to elements ;
Rudimentary, } initial : متضمن مبادیات -
ابتدائی - اصلی

Rue, *v. t. or i.* To lament ; to regret ; to repent :
غم کرنا - انسوس کرنا - پچھتانا
Syn. - Regret, deplore, lament.

Rue, *n.* Sorrow : رنج - الم - غم - تاسف
Rueful, *a.* Sorrowful : غمگین - اندرہمگین - مائل
روئی صورت - ماتمی شکل
—countenance, * گلوبند

Ruff, *n.* A plaited cloth round the neck :
A species of pigeon * *v. t. or i.*
To ruffe : ہاڑ مچانا * To trump cards of another
suit : کسی دوسرے رنگ کے تاش کو ٹرمپ کرنا
To applaud by beating the floor with the feet : پڑوں
کی تھپ تھپاہٹ سے تعریف کرنا

Ruffian, *n.* A boisterous, brutal fellow :
خونخوار * *a.* Brutal :
خونخوار - ہلاکو - شہر - دنگی
boisterous :
خونخوار - ہلاکو - شہر - دنگی

Ruffle, *v. t. or i.* To disturb ; to agitate ; to grow
rough ; to flutter : درہم برہم کرنا - پریشان کرنا -
* *n.* A plaited article of dress : ہاڑ پھڑانا
Disturbance : * جھال - لپٹکا - چنٹ
A low vibrating beat of a drum :
دھول کی دھیمی آواز

Rug, *n.* A coarse woollen cloth or coverlet :
کامل - گلیم - نمدا

Rugged, *a.* Rough ; uneven ; shaggy ; rude :
ذہوار - ارنچا - لپٹا - کھردرا - بدمزاج

Ruggedness, *n.* Unevenness ; roughness :
ناہمواری - کھر کھراہٹ

Rugose, *a.* Wrinkled ; full of wrinkles :
جھری دار - پز شکن

Ruin, *n.* Fall ; overthrow ; destruction : زوال -
The remains of a decayed city, castle ; etc. :
کھنڈر - ویرانہ - ٹوٹی پھوٹی عمارت یا
قلعہ وغیرہ

Ruin, *v. t.* To bring to ruin ; to demolish ; to
destroy ; to impoverish : تباہ کرنا - مسمار کرنا -
* The business was—ed,
معاملہ بگر گیا

Rule, *n.* Government ; supreme command ; regulation ;
maxim ; standard : حکومت
As a—, * فرمائروائی - قاعدہ - آئین - دستور - ضابطہ
اربع متناسبہ * Rule of Three, * عموماً - اکثر اوقات
* —of thumb * *v. t.* To govern ;
حکومت کرنا - حکم میں
to control ; to manage : خطا
* To mark with lines :
رکنا * *v. z.* To enter a rule ;
تجویز کرنا
* To decide ;
* To enter a rule ;
قاعدہ باندهنا

Ruler, *n.* One who rules ; a governor : حاکم -
An instrument for drawing lines : مسطر -
چندل کش - رولر

Rum, *n.* A spirit distilled from cane-juice or molasses :
رم شراب

Rumble, *n.* A seat for servants behind a carriage :
* گاڑی کے پیچھے نوکرونگے بیٹھنے کی جگہ
* *v. z.* To make a low, heavy, continued sound :
* گورگھراہٹ
گورگھراہٹ

Ruminant, *a.* Chewing the cud :
چبانیوالا * *n.* An animal that chews the
cud : چگالی کرنیوالا

Ruminate, *v. z.* To chew the cud :
چگالی کرنا * *v. z.* To muse ;
to mediate : سوچنا - خیال کرنا - غور کرنا

Rummage, *v. z.* To search closely ; to examine
carefully : خوب تلاش کرنا - کھرچنا - چھان مارتنا -
* *n.* A close search : بڑی جستجو سے دیکھ ڈالنا
تلاش

Rummer, *n.* A drinking cup ; a large glass :
پھالہ - بڑا گلاس

Rumour, *n.* Current report ; fame : ہزاری خبر -
* *v. t.* To report ; to tell
مشہور کرنا * *v. z.* To report ; to tell
or circulate a story : اخبار اورتانا - افواہ -
غوغہ پھیلاتا

Rump, *n.* The buttocks : چوتڑ *
The fag end or remnant of any thing :
پچھلا حصہ

Rumple, *v. z.* To wrinkle ; to crease :
جھری پڑنا * *n.* An irregular fold :
شکن پڑنا
Syn. - Wrinkle, crumple, pucker.

Rumpus, *n.* A disturbance ; confusion :
فساد - ہلچل - بد انتظامی

Run, *v. z.* To move swiftly : بگڑنا *
To pass :
* To flee :
بھاگ جانا * To flow :
* To be :
* To be properly spread :
* ہونا

سیڑھی : *Rundle, n.* A step of a ladder ; a round : کا ڈنڈا - پایہ - زینہ

چھوٹی : *Runnel, n.* A rivulet ; a small brook : ندی - نالا

دوڑنیوالا - تیز رفتار - قاصد - ہرکارا : *Runner, n.* One who runs ; a racer ; a messenger :

جاری : *Running, a.* Discharging pus : *In succession :* رواں - جاری - پے در پے * *Current :* تواتر

روپیہ : *Rupee, n.* An East Indian silver coin, of the nominal value of 2s.

پھرت - ہٹاز : *Rupture, n.* A breach of concord : تڑک - پھٹن * *Fracture :* نقق - اندہ کوس - - *Hernia :* شقان

پھٹنا : *Rupture, v. t.* To break ; to burst : توڑنا - پھٹنا

دہائی - : *Rural, a.* Pertaining to the country : گاؤں کا

چال - جملہ - : *Ruse, n.* Trick ; stratagem ; fraud : فریب - دغا - دھوکھا - مغالطہ - فطرت

ناگرموتھا * *Hurrying forward with great haste ; a sharp run :* جھپٹ - : *Rush, n.* A marsh plant : درج * *Not worth a rush—same as not worth a straw.* The last mentioned expression is more modern, meaning worthless : ناچیز - حقیر * *v. t.* To pass with vehemence ; to enter into hastily : دوڑنا - توڑ پھڑنا - گوس چنا

دھیمی روشنی : *Rush-light, n.* A small feeble light

لاپی لئے ہوئے بھورے رنگ کا - سادہ - : *Russet, a.* Of a reddish brown colour ; homespun ; rustic : *n.* A kind of apple of a russet colour ; a rustic dress : ایک قسم کا - سب - : گنوار ہوشاک

دھاریکا : *Rust, n.* A reddish crust which forms on metals : *v. t. or i.* To make rusty ; to gather rust : *زنگ لگانا.* زنگ آلودہ ہونا

دھانی - : *Rustic, a.* Rural ; unpolished ; simple : ڈا تراشیدہ - سادہ

دھاریکا : *Rusticate, v. i.* To dwell in the country : *v. t.* To suspend from studies at a college and send away for a time by way of punishment : خارج کرنا

To extend : رائج ہونا * *v. t.* *To cause to run :* دوڑانا * *To pursue :* دوڑانا * *To encounter :* پیدچھا کرنا * *To carry on :* چھوڑنا * *To stab :* مقابلہ کرنا * *To smuggle :* چھپانا * *To—In the long—, eventually :* آخر میں * *after, to follow ; to pursue :* تعاقب * *To—away or off, to flee :* بھاگ جانا - * *To—To—away, to make off with ; to kidnap :* فرار ہوجانا * *To come to a hasty conclusion :* راے بلا دلیل قائم کر لینا * *down, to chase to weariness :* تھکا مارنا - رگیدنا * *To run against and sink (Nrut) :* ٹکڑ مار کر ڈبو * *To censure to deprecate :* الزام یا درش لگانا * *To reduce :* جاری * *To—on, to continue :* جھٹانا * *To—out, to come to an end :* ختم ہوجانا * *To—over, to overflow :* چھلکنا * *To recount cursorily :* سرسری طور پر بیان کر جانا * *To—through, to stab :* چھوینا * *To spend ; to waste :* ہوننا * *To—up, to swell ; to enlarge by additions :* بڑھانا * *To erect hastily :* جلدی سے کھڑا کر لینا * *To—upon, to dash against :* ٹکرانا * *To—amuck, to run wildly and madly :* دیوانا سا ادھر ادھر * *To—a mine, to spring a mine :* سرنگ * *To—counter to, to act in direct opposition to :* ٹکرانا * *To—foul of, to strike against :* ٹکرانا * *To—hard, to put in danger :* خطرہ میں ڈالنا * *To—rampant, to become exuberant ; to become widespread :* بکثرت ہونا - * *To—riot, to become riotous :* ٹکرت سے * *To—short, to become exhausted :* ختم * *To—the gauntlet of, to go through severe criticism :* سخت نکتہ چینی کھینچنا * *He that—s fastest gets the ring,* دھاریکا ہنسے اڑانا - نندا کرنا * *To—hard, سر پارینا چھوینا - سوراخ کرنا -* *To—through, ڈاچار کرنا بیندھنا*

Run, n. Course : *Flow :* بہاؤ * *Continued success :* متواتر کامیابی * *Distance travelled :* سفر * *In the long—, in the end :* انجام کو * *The common—, the generality :* عوام

Runaway, n. Fugitive ; a deserter : فراری - بھگڑا

Rusticity, *n.* Rurality : دھڑائیٹ - فائر اشدگی - گنڈراہیں

Syn.—Rudeness, awkwardness, coarseness, artlessness.

Rustle, *v. i.* To make a 'quick successive low sound by rubbing of leaves silk, etc. : - جوڑ جھڑانا - جوڑ جھڑانا * *n.* A quick succession of small sound made by rubbing ; a rustling : جوڑ جھڑاغت - جوڑ جھڑاغت - پھوڑ پھوڑاغت

Rusty, *a.* Covered with rust ; impaired by neglect : رنک آلودہ - بوسیدہ

Rut, *n.* The track made by a wheel : پھینے کی لکیر - پھینے کی لکیر پڑنا * *v. t.* To cut in ruts :

Ruth, *n.* (Poet.) Sorrow for the misery of another ; pity ; mercy ; tenderness : افسوس - درد - تڑس - دیا

Ruthful, *a.* Merciful ; pitiful : رحم دل - درد مند - دیاواں

Ruthless, *a.* Cruel ; without compassion : بے رحم - سنگدل بے درد

Rye, *n.* A kind of grain : ایک قسم کا غلہ - دیونگندم

Ryot, *n.* In India, a cultivator of the soil : رعیت

S

Sabaoth, *n.* Armies hosts : لشکر - افواج

Sabbatarian, *n.* An observer of the Sabbath : روز سبت کا مانڈیوالا - وہ جو یوم السبت کو بہت ہی متبرک جانتا ہو

Sabbath, *n.* A day set apart for divine worship and rest ; the first day of the week : عبادت اور آرام کا دن - سبت

Sabian, *n.* The worship of the heavenly bodies : آسمانی اجسام کی پرستش * *a.* Relating to the worship of the heavenly bodies : آسمانی اجسام کی پرستش کے متعلق

Sable, *n.* A carnivorous animal of the weasel kind, valued for its fur : ایک نیولا کے قسم کا گوشت سیاہ - کالا * *a.* Dark ; black : خوار - سور دار جانور

Sabot, *n.* A wooden shoe . کھڑاؤں

Sabre, *n.* A sword with a broad and heavy blade : شمشیر - تلوار

Sac, *n.* A bag or receptacle for a liquid : تھیلی - کچی

Sacchariferous, *a.* Producing sugar : شکر پیدا کرنے والی

Saccharine, *a.* Pertaining to sugar ; sweet : مثل شکر - شیریں - میٹھا - چینی کا - چینی بنانے والا

Saccharometer, *n.* An instrument for ascertaining the quantity of saccharine matter : شکر اندازہ کرنے والا آلہ

Sacerdotal, *n.* Priestly : مرشدانہ - پاک

Sachel, *n.* A small bag : چھوٹی تھیلی

Sack, *n.* A bag ; a large pouch : * ثورا - تھیلا * loose garment : The pillage or plunder of a town or city : غارت گری - تفت و تاراج - لوٹ * *v. t.* To put in a sack : * ثورا بندی کرنا * To bag ; to plunder or pillage : لوٹنا یا غارت کرنا

Sackcloth, *n.* Coarse cloth : * ٹٹ - تپڑ - دلق * garment worn in mortification or distress : ماتمی کپڑا

Sacking, *n.* Cloth of which sacks are made : لوٹ مار * The act of plundering a town : ٹٹ

Sacrament, *n.* A religious rite or ceremony : عشاء ربانی * The Lord's Supper : اصبح

Sacred, *a.* Holy ; worthy of respect : پاک - مقدس - پوتر - دینی - مذہبی - قابل تعظیم و تکریم * Pertaining to the worship or service of God ; خدا کی خدمت اور پرستش کے متعلق - Divine : خدائی - ایشوری

Sacredly, *ad.* In a sacred manner ; religiously : پاکیزگی سے - دھرم سے

Sacrifice, *v. t.* To make an offering of : * نذر کرنا * قربانی کرنا - قدا کرنا - To kill as an atonement : * نذر کرنا * To give up with loss ; to destroy : کوڑنا - نقصان اٹھانا - غایع کرنا

Sacrifice, *n.* The offering of anything to God or to a god ; anything destroyed : قربانی - بھیت - بل - زبان - چڑھاوا - ادیہ

Sacrilege, *n.* Profanation of sacred things : چھوت - زلیخا

Sacrilegious, a. Violating sacred things ; profane ; impious : - متبرک چیز کا خراب کرنا - ادا - بے دین - ادا - بے دین

Sacristy, n. An apartment in a church for keeping the sacred utensils ; vestry : - گرجے کے اسباب رکھنے کا مکان

Sad, a. Sorrowful ; affected with grief ; serious ; naughty : - اوداس - غمگین - سنجیدہ - خراب - برا - غمناک - الم ناک - مغموم - دلگیر

Syn.—Gloomy, dismal, mournful, grievous.

Sadden, v. t. or i. To make sad ; to become sad or sorrowful : - اوداس کرنا - غمگین کرنا - اوداس کرنا - غمگین کرنا

Saddle, n. A seat to be placed on a horseback for the rider to sit on : - کاتھی * To put the—on the right horse, to impute blame where it is really deserved : * جیسے کو تیسرا کہنا * زین کا خمدار سزا - bow * * کھرجی - bags * * زین کا ڈھانچہ * tree * * زین پوش - cloth * * زین دھرنا - کاتھی کسنا - لادنا * v. t. or i. To put a saddle upon ; to burden :

Saddler, n. One who makes saddles : - زین ساز - مہرچی

Saddlery, n. Materials for making saddles and harness ; the trade of a saddler : - اسباب زین سازی - سامان زینگری - پیشہ زیندوزی

Sadiron, n. An instrument for ironing clothes ; a flat iron : - استری

Sadly, ad. Sorrowfully : - ملال سے - اوداسی سے

Sadness, n. Sorrowfulness ; seriousness : - غمگینی - **Sadness and gladness** succeed each other, شادی غمی کا چرزا ہے

Safe, a. Free from harm or danger ; secure ; certain : - صحیح و سالم - بھلا چٹنا - محفوظ - ٹھیک - بامن : - **Safe and sound,** * * بھلا چٹنا * * Safe and sound, * * بے خطر پناہ کی جگہ - : - صندوق جسیہ آگ اثر نہیں کرتی - روگردان

Safe conduct, n. A convoy or guard ; a passport : - پھرانہ - راہ داری - بدرتہ

Safety, n. Freedom from danger or hazard ; security : - امن - بچاؤ - محافظت

Saffron, n. A crocus like plant : - زعفران - کیسر * a. Having the colour of saffron flowers ; deep yellow : - زعفرانی - کیسریا - پیلا

Sag, v. i. To bend ; to stagger ; to yield : - جھکنا - لادنا * r. t. To load :

Sagacious, a. Quick of thought or scent ; acute ; discern : - تیز فہم - ذہین - ہوشیار

Sagacity, n. Quickness of scent ; keenness ; acuteness ; quick discernment : - تیز فہمی - ذہانت - ہوشیاری - دانشمندی - فراست - زیرکی

Syn.—Penetration, shrewdness, judiciousness.

Ant.—Dulness, ignorance, simplicity.

Sage, n. A wiseman : - عقلمند - عقلمند * a. Wise ; عاقل - صاحب تمیز - ہوشیار - دانشمند - di-creet : - فہمیدہ - مدبر

Sagittarius, n. The archer ; one of the signs of the Zodiac : - برج قوس - دھن راس

Sago, n. A dry granulated starch imported from the East Indies : - سائو دانہ

Said, pert. and pp. Of the verb say ; beforementioned : - نام بردہ - مذکور - مستور - موصوف

Sail, n. An expanse of canvas ; a vessel ; a sailing strip : * بادبان - پال - جہاز - دریائی سفر : To set—, to begin a voyage : - لنگر اڑھانا - کچ کرنا - * v. t. or i. To navigate ; to fly through ; to set sail : - جہاز رانی کرنا - تیز ہرنا - صفائی سے نکالنا - بادبان لگانا - پال اڑھانا

Sailer, n. A sailing vessel : - جہاز

Sailor, n. A seaman ; mariner : - ملاح - جہازی

Saint, n. A holy or godly person ; one of the blessed ; one canonised : - دیندار - مجتہد - ولہ یا پیہر قرار دینا * v. t. To make a saint of ; to canonise :

Sake, n. Final cause ; purpose ; reason ; regard : - فرض - مطالب - سبب - لحاظ - خاطر - واسطہ - مراد

Salaam, n. The Eastern form of salutation : - سلام

Salad, n. Food of raw herbs : - کچے - اگ کا اچار - رایتا - کھالو

Salad-oil, n. Olive oil : - زیتون کا تیل

Salamander, n. A small amphibious reptile : - سمندر - آگ کا کیزا

Salary, n. A stated allowance for service ; pay ; wages : - تنخواہ - طلب - اجرت

Sale, n. Act of selling; market; demand; auction: نیلام - بکری - **at prime cost,** لاگت بکری - **of intermediate tenures,** نیلام پٹی داری شکمی - **Auction—** نیلام پز چڑھانا - **Brought to—** بیعنامہ من یزید چاکر بکری - **Conditional—** نیلام کرانا

Saleable, a. Fit for sale; finding ready market: قابل فروخت - بیکاز

Salesman, n. One who sells goods or merchandise: فروشنده - بیچنے والا

Salience, n. Prominence: نمود - اوجھار

Salient, a. Shooting out or up; projecting; prominent: نکلا ہوا - اوجھڑا ہوا - نمایاں - ظاہر

Salify, v. t. To form into a neutral salt: نمک بنا دینا - نمکدار کر دینا

Saline, a. Consisting of or containing salt: **n.** A salt spring: نمک ملا سورا - نمک کی کھان

Saliva, n. The alkaline liquid secreted by certain glands in the mouth; spittle: لعاب - رال - تھوک

Salivate, v. t. To purge by the salival glands: تھوکانا

Salivation, n. Excessive secretion of saliva; ptyalism: منہ بہ آنا - رال کا بہت بہنا

Sallow, n. A kind of willow: **a.** **Yellowish; sickly:** **زردی مائل - کچھوہ پھلا**

Sally, n. A leaping forth; a sudden eruption of troops; excursion; a flight of fancy, wit or the like: **جھپٹ - خروج - سپاہیوں کا - بیکریک ٹوت پڑنا - حملہ - خوش خیالی - وسعت - نمون - جودت - تزنک انداز سے نکلکر یک بھ - یک دم اٹھ کرنا**

Sally-port, n. A postern gate through which troops sally: چور دروازہ جس سے سپاہی نکلکر حملہ آور ہوں

Salmon, (sam'un) n. A fish highly valued for food: ایک قسم کی مچھلی

Saloon, n. A lofty spacious hall: **بیڈیک صدر - جہاز میں: * دالان**

Salon, n. A place of entertainment: *** مسافروں کا بڑا کمرہ - مہمان خانہ**

Salt, n. A substance used for seasoning: **نمک - مذاق - نکتہ: * لنت - ذائقہ: * ملح - لرن**

Salt, n. A substance used for seasoning: **نمک - مذاق - نکتہ: * لنت - ذائقہ: * ملح - لرن**

True to **Piquancy:** چٹکیلا پن - مذاق

one's—, faithful to one's employer: - نمک دلال - **Above the—, Salt cellar,** نمکدان * **Wandaz - خیرخراہ** **Below the—, * اعلیٰ درجہ کا - ذی رتبہ,** **v. * پز پڑنا - Lay—on the tail of, * ادنیٰ درجہ کا** **نمک ڈالنا - نمک لگانا:** - **t. To season with salt:** - نمکین کرنا

Saltation, n. A leaping or jumping palpitation: **جست - اچھل - دھڑپ - دھڑک - کلچ - چوڑکی - تڑک - پھڑک**

Saltish, a. Somewhat salt: کسب قدر نمکین - ساونا

Saltpetre, n. Nitrate of potash: شورہ - لونا

Salubrious, a. Healthy; wholesome; salutary: **صحت بخش - خوشگوار - صحت افزا - عمدہ**

Salubrity, n. Wholesomeness; healthfulness: **صحت بخشی - خورش گواری - فرح انزومی**

Salutary, a. Wholesome; healthful; beneficial: **صحت بخش - خوشگوار - مفید - فائدہ مند - شافع - ذافع - سرد مند - پز امن**

Salutation, n. Act of saluting; greeting welcome: **سلام - بندگی - کورنش - پزدام - صاحب سلامت**

Salute, v. t. To greet; to hail; to kiss; to honor: **تسلیم کرنا - مزاج پرسی کرنا - قدم پرسی کرنا - چرمنا - تعظیم کرنا**

Salute, n. Act of saluting a discharge of canon; a kiss: **تعظیم - سلامی - برسہ**

Salvable, a. Capable of being saved: **بچانے جانے کے قابل**

Salvage, n. Compensation for saving a ship or her cargo from peril: **توہتے ہونے جہاز یا مال کے بچانے کا انعام یا معاوضہ**

Salvation, n. Preservation from eternal misery, deliverance; redemption: **نجات - مکت - حفاظت - مخلصی**

Ant.—Destruction, ruin.

Salvationist, n. A member of the Salvation Army: **مکتی فرج والا**

Salve, n. An adhesive composition applied to wounds or sores; a remedy; solace: **مردم - علاج - تسکین**

Salver, n. A piece of plate to present something on: **شستری - کشتی - طباق - خزانچہ - سینی**

Salvo, n. A salute of guns: **فرجی سلامی - شاک**

Salvor, n. One who saves a ship or cargo at sea: **دریا سے توہتے ہونے جہاز یا مال کا بچانے والا**

Same, a. Identical ; of like kind, sort, or dimensions ; similar ; mentioned before ; corresponding : وہی - یکساں - ہر بہر - مذکورہ بالا - مطابق - برابر - باہم * *adv.* Together :

Sameness, n. Identity ; near resemblance : مطابقت - مشابہت

Sample, n. A specimen ; an example : نمونہ - مثال - بانگہی - نظیر

Sanability, n. Curability : شفا پائیکہی قابلیت

Sanative, a. Curative ; healing : صحت بخش - شفا بخش

Sanatory, a. Conducive to health ; healing : صحت آور - شفا بخش - شافی

Sanctification, n. Purification of the soul ; consecration : تقدیس - تخصیص - ہر تو قانی

Sanctifier, n. One who sanctifies ; the Holy Spirit : پاک کرنے والا - روح القدس - مہفی قاب

Sanctify, v. t. To purify ; to consecrate : پاک کرنا - مقدس یا مخصوص کرنا - متبرک کرنا - گناہ سے بری یا پاک کرنا

Sanctimony, n. Holiness ; saintliness : پارسائی - ظاہری : Hypocritical devoutness * تیزی - تقدیس پارسائی - بناوت کی بھگتی - مقید زائدانہ طور

Sanction, n. Confirmation ; support ; ratification ; approval : استحکام - حکم منظور - اجازت : *v. t.* or *i.* To give validity ; to confirm ; to authorise ; to countenance : اجازت - دینا - حکم دینا - منظور کرنا - جائز رکھنا - روا رکھنا

Sanctity, n. Holiness ; purity : پورتنی - تقدیس

Sanctuary, n. A sacred place ; a house of worship ; a sacred asylum ; a place of refuge ; an inviolable refuge : عبادت گاہ - عبادت گاہ - خانہ - جائے پناہ - وہ جگہ جہاں پناہ گیر کا دشمن پہنچ نہیں سکتا

Sanctum, n. A sacred place ; a private room : مقدس مکان - خاص کمرہ - جہاں ہر کسی کو داخل نہیں

Sand, n. Fine particles of stone ; a measured interval : ریت - ڈال - رنگ - وقفہ - ساعت (*pl.*) گہرے کے - *bank* * - *crack* * - *glass* * - *drift* * - *paper* * - *grouse* * - *v. t.* To sprinkle or cover with sand :

Sandal, n. A loose shoe : کھڑاؤں

Sandal-wood, n. A wood remarkable for its fragrance : چندن - صندل

Sand-glass, n. An instrument for measuring time by the running of sand : ریت گھڑی

Sandpiper, n. A bird allied to the snipe : ایک قسم کی چڑیا

Sandstone, n. A rock formed of sand more or less firmly united : ہر ہر پتھر - ہارا پتھر

Sandwich, n. Two thin slices of bread with meat, fish or the like between : دو پرتی سوسا

Sandy, a. Abounding with sand ; full of sand : ریتیلی - ہارہی

Sane, a. Sound ; healthy : صہیح المزاج - صہیح العقل

Sangford, (sanga froa) n. Coolness ; indifference ; calmness : روکھائیں - افسوگی - جے - پوراؤ - اطمان - استقلال - قرار

Sanguinary, a. Bloody ; bloodthirsty ; cruel : خونی - خونخوار - ہر کا پیاسا - بیرحم

Sanguine, a. Having the colour of blood ; red : امید - پر شوق - Hopeful ; confident * خونی - لال قوی امید - hope * - یقینی

Syn. -- Warm, ardent, lively, animated.
Ant. -- Frigid, cold, indifferent.

Sanguineous, a. Abounding with blood ; plethoric ; bloody ; crimson : پر خون - دموی - خونی - سرخ - لال

Sanitarium, n. A health resort or retreat : وہ جگہ (عموماً پہاڑ) جہاں ہرگ ایک صحت کے خاطر جاتے ہیں - صحت گاہ

Sanitary, n. Pertaining to or designed to secure health : متعلق حفظ صحت یا تندرستی قائم رکھنے والا

Sanity, n. Soundness or healthiness of body or mind : عقل یا جسم - تندرستی - صحت الحواسی

Sanskrit, n. The ancient language of Hindustan : سنسکرت

Sap, n. The vital juice of plants of any kind : *a.* Simpleton * عرق - رس subvert by digging ; to mine ; to undermine : کھود کر پامال کرنا - سرنگ لگانا - جز کھودنا

Sapid, a. Tasteful ; palatable : خوش ذائقہ - لذیذ - سوادشت - سوندھا

Sapidity, n. Taste ; savour : ذائقہ - لذت - سواد

Sapience, n. Wisdom ; knowledge : عقل - سمجھ - بدھ

Sapient, a. Having wisdom ; sage ; proceeding from a wiseacre : عقلمند - دانشمند - بدھمان - داننا
بیٹا - عقل کا پتلا

Sapless, a. Dry : بے رس - خشک

Sapling, n. A young tree : نونہال - پردھا

Saponaceous, a. Resembling soap ; soapy : صابون کے مثل - صابون کی خاصیت کا

Saponify, v. t. To convert into soap : صابون بنانا

Sapor, n. Taste ; relish ; flavour : ذائقہ - لذت - سواد

Sapper, n. Soldier employed in the building of fortification : * قلعہ بندی کرنے میں لگا سپاہی - سرنگ
سفر مینا کی پتلیں s and miners, * لگانے والا

Sapphire, n. A precious blue stone next in hardness to the diamond : نیلم

Sapphirine, a. Made of sapphire : بنا ہوا : نیلم کا

Sappiness, n. Succulence ; juiciness : رسیلا پن - لعابدار پن - عرق داری

Sappy, a. Juicy ; succulent ; young : عرق دار - رسیلا - لعابدار - نوجوان - کچھا

Saracen, n. (A-sharqi) An Arabian : مسلمانوں کا پھیلانے والا

Sarcasm, n. A keen reproach ; taunt ; a satirical remark : طعن - طنز - ہجو آمیز کلام - بولی
تھولی

Syn.—Satire, irony, ridicule, taunt, gibe.

Ant.—Eulogy, praise.

Sarcastic, a. Bitterly satirical ; taunting : ہجو آمیز - طنزیہ

Sarcophagus, a. Feeding on flesh : گوشتخوار
پتھر کا تابوت n. A stone coffin * مانس کھانے والا

Sarcophagy, n. Flesh eating : گوشتخواری - مانس اہاری

Sarcotic, a. Causing the flesh to grow : گوشت بڑھانے والی (درا)

Sardine, n. A fish of the herring family : ایک قسم کی چھوٹی مچھلی

Sardonic, a. Forced, as applied to laughter ; mocking : بذات کی یا نقلی ہنسی - مکر کا

Sardonyx, n. A precious stone ; a variety of chalcedony : جواہرات کی ایک قسم - رتن

Sarsa parilla, n. A plant used in medicine : عشبہ مغربی

Sash, n. An ornamental silken band : پتکا - سیلی - تھڑکی کا چوتھنا - دروازے * بدھئی کے شیشے کا چوتھنا

Satan, n. The great adversary of man ; the devil : ایلیس - شیطان - عزازیل

Satanic, a. Devilish : شیطانی

Satchel, n. A little sack or bag ; a school boy's bag : بستہ - جزدان

Sate, v. t. To satisfy the desire or appetite ; to glut ; to satiate : آسودہ کرنا - ناک تک بھرنا - سیر کرنا
آسودہ کرنا

Sateen, n. A glossy cotton fabric : چمکتا ہوا سوتلی کپڑا - اطلس - بافتہ

Satellite, n. A small planet revolving round another : * ایک چھوٹا سیلوا جو بڑے کے گرد گھومتا ہے
A servile follower : نوکر - خادم

Satiable, a. That may be satiated : آسودہ ہونیکے لائق

Satiate, v. t. To satisfy the desire or appetite ; * آسودہ کرنا - سیر کرنا - ناک تک بھرنا چھکانا
glut : ناک تک بھرا ہوا
a. Gluttoned :

Satiety, n. The state of being satiated ; surfeit : آسودگی - سیری

Syn.—Repletion, surfeit.

Satin, n. A thick glossy silk cloth : اطلس - بافتہ - ساتن

Satire, n. A literary composition exposition vice or folly ; a lampoon : * ہجو آمیز تصدیق - ہزل
طعن - مذمت
Sarcasm ; ridicule :

Satirical, a. Sarcastic ; abusive : مذمت آمیز - دشنام آمیز

Satirist, n. One who writes satire : ہجو گو - نندک

Satirise, v. t. To make the object of satire ; to censure : مذمت کرنا - نندا کرنا

Satisfaction, n. Gratification of desire : - آردگی - خاطر جمعی - Contentment * تسکین - آرام - خوشی
Payment * عیوض - کفارہ * Atonement * اطمینان
To—of decree, کے بے باقی - چکار - ادائیگی
اجرا میں

Syn.—Gratification, recompense, pleasure, remuneration.

Ant.—Distress, grievance, pain.

Satisfactory, a. Giving satisfaction : - خاطر خراہ
To give a—account of one's self, اپنا حال حسب اطمینان بیان کرنا

Satisfy, v. t. or i. To gratify fully the desire of ;
to make content : * آردہ کرنا۔ راضی کرنا۔ خوش کرنا
* To discharge ; to convince : * قایل کرنا
Syn.—Sate, content, please, gratify.

Ant.—Starve, displeasure, grieve.

Satrap, n. The governor of a province : - صوبہ دار - عامل - نظام

Saturate, v. t. To impregnate to fulness : - پر کرنا
لباب کرنا - تر کرنا - شاداب کرنا

Saturation, n. Act of saturating ; repletion :
سیری - پری - شادابی

Saturday, n. The last day of the week : - شنبہ - سنیچر

Saturn, n. One of the planets of the solar system :
زحل - سنیچر

Saturnalia, n. pl. The festival of Saturn among the Romans :
روم والوں کا ایک تیدھار-ہولی - دھلیبتی

Saturnine, a. Phlegmatic ; dull ; grave :
بلغم پیدا کرنے والا - سست - سنجیدہ

Satyr, n. A mythological sylvan deity, part man and part goat :
ایک فرضی دیوتا نصف آدمی اور نصف بکری

Sauce, n. A mixture or composition used with food for improving its relish ; impudence : - چٹنی
Come, let me have none of your sauce, چلو مجھے سے چٹنی چیز نہ کرو
* To serve one the same sauce, * بدلا لینا
v. t. To apply sauce to ; to speak impudently :
چٹنی لگانا - گستاخی سے بولنا

Saucer, n. A vessel for a tea or coffee cup :
طشتری - رکابی

Saucy, a. Pert ; petulant ; insolent : - شوخ - گستاخ - بے ادب

Saunter, v. i. To wander about idly ; to linger ;
to stroll : آوارہ پھرنا - دیر کرنا - گشت لگانا - بادھواری
چہل قدمی - آوارہ گردی - مٹر گشتی
n. A loitering walk : خاک چھاتے پھرنا

Sausage, n. Seasoned minced meat, inclosed in a cylindrical skin :
سوسس - لنگوچہ - کلمہ

Savage, a. Wild ; untamed ; uncivilised ; cruel ;
ferocious : جنگلی - وحشی - بے سلیقہ - بیرحم
n. An uncivilised man ; a barbarian ; a brutal man :
وحشی - بے سلیقہ آدمی - جنگلی آدمی - بے رحم آدمی

Savanna, Savannah, n. An extensive open plain or meadow :
وسیع میدان - چراگاہ - وسیع سبزہ زار

Savant, n. (Sávan), n. A man versed in literature or science :
عالم - پختہ - ماہر علم طبیعی - صاحب نصاب

Save, v. t. To make safe ; to preserve ; to spare ;
to excuse : بچانا محفوظ رکھنا - رکھ چھوڑنا - پس
To—appearances, اپنا پردہ رکھنا - اپنا پردہ رکھنا
Syn.—Preserve, rescue, deliver.
Ant.—Lose, risk, miss.

Save, v. i. To be economical : * کفایت شعاری کرنا
سرائے - بچو - prep. Except ; not including :

Saving, a. Frugal ; economical ; incurring no loss ; securing everlasting salvation :
کفایت شعار - prep. * کفایتی - بچت کا - نجات یا مکت دینے والا

With the exception of ; in favour of : سرائے - بچت
n. Exception : بچت * Money saved : کفایت سے -

Savily, ad. Sparingly ; frugally : بچت کے ساتھ

Saviour, n. One who saves ; Christ ; the Redeemer :
شفیع - نجات دینے والا - عیسیٰ مسیح

Savour, n. Taste ; relish ; odour ; flavour : سواد -
v. i. To have a particular taste or smell : سواد ہونا - ذائقہ دار
* n. i. To taste ; to like : چکھنا - ذائقہ لینا - پسند کرنا
خوش ذائقہ - لذیذ

Savoury, a. Pleasing to the taste : خوش ذائقہ - لذیذ

Saw, n. An instrument for cutting wood : آرا *
A proverb : v. t. To cut or separate
آرے سے کاٹنا یا چیرنا
with a saw :

Sawdust, n. Dust or small fragments of wood made by the attrition of a saw : لکڑی کا برادہ

Sawyer, n. One whose occupation is the sawing of timber or wood : لکڑی چیرنے والا

Saxons, n. pl. The people who came from the northern part of Germany and conquered England : سیکسنس

Say, v. t. or i. To speak ; to utter ; to recite ; to form an opinion : بولنا - کہنا - بیان کرنا -
That is to—, in other words : * راے ظاہر کرنا
 گفتگو - بول چال * n. A speech : یعنی

Saying, n. A proverbial expression ; a maxim : قول - ضرب المثل - کہاوت

Scab, n. An incrustation over a sore or wound : * بھڑن کی بیماری - * A disease in sheep : ذلیل آدمی

Scabbard, n. The sheath of a sword : تلوار کی میدان - غلاف

Scabby, a. Full of scabs ; mangy : خارشتی - کھچیرا

Scabrous, a. Rough ; rugged : کھردرا

Scaffold, n. A temporary stage for workmen while building ; a stage or elevated platform : * مچان یا پتار - تماشہ گاہ کا چبوترا یا اونچا چبوترا
 To die on the scaffold, ہونا سزا قتل ہونا

Scaffolding, n. A structure for temporary support : پتار - مچان

Scald, v. t. To burn with hot liquid : گرم پانی وغیرہ -
 * n. A burn : داغ * A scurf on the head : (دوسری)

Scale, n. Dish of a balance : ترازو - پتار * A thin lamina : سیرمی * Gamut : سرگم * To hold the—even, * v. t. or i. To climb as by a ladder ; to measure ; to weight ; to come off ; to pare off ; to disperse : سیزھی سے چڑھنا - ناپنا - تولنا - گذرنا -
 تکرنا - اونارنا - بکھیرنا - چھترانا

Scalene, a. Having three sides and angles unequal : مثلث مختلف الاضلاع - مثلث حادہ الزاویا

Scaliness, n. Roughness : ناہوارائی - کھردرائی

Scall, n. Scab ; leprosy : خارشت - کھچیا - کوزہ

Scallop, n. A marine shell-fish : ایک سیپ دار
 * A curved indentation on the edge : کنارہ

* A kind of dish for baking oysters : ایک قسم کی سیپ پکانے کی طشتی
 in : کا تیز پین

Scallop, v. t. To cut the edge or border of into segments of circle : کسی چیز کے کنارہ یا حاشیہ پر
 قلعہ دائرہ بنانا

Scalp, n. The skin on the top of the head ; skull : کھوپڑی کی کھال - کھوپڑی
 * v. t. To deprive of the scalp : کھوپڑی اڑانا

Scalpel, n. A surgeon's dissecting or operating knives : جراح کی چھری

Scaly, a. Covered with scales ; rough ; mean : چھلکے دار - کھردار - کمینہ

Scamble, v. t. To mangle : زخمی -
 * v. i. To be busy ; to be awkward ; to be turbulent ; to scramble ; to jostle : مشغول رہنا -
 اودھم اٹھانا - نساد مچانا - چوہینا چوہینے کرنا

Scammony, n. A plant of the convolvulus family used in purgative medicine : سقمونیہ - ایک
 دست آور دوا

Scamp, n. A scoundrel ; a worthless fellow ; a knave : بدعاش - گنڈا - دغا باز - ازی مار
 Syn.—Rogue, rascal, cheat, swindler.

Scamper, v. i. To run with fear and speed : * n. A run ; a hasty flight : بھاگ - گریز - پرواز

Scan, v. t. To examine critically : جانچنا * To count the poetic feet : تقایع کرنا

Scandal, n. Disgrace ; defamatory speech or report ; offence ; defamatory talk : ذلت - بدنامی -
 ہجر - بدگوئی - رنجش - مزمت - بدگوئی

Syn.—Calumny, odium, reproach.
 Ant.—Applause, credit, fame, glory.

Scandalise, v. t. To do offence to ; to disgrace ; to defame : ناراض کرنا - ناخوش کرنا - ذلیل کرنا -
 رسوا کرنا - بدنام کرنا

Scansion, n. The act of scanning a verse : تقطیع نظم

Scansorial, a. Climbing or adapted for climbing : چڑھنے والی

Scant, v. t. To limit ; to stint : محدود کرنا - کم
 * v. i. * To fall or become less : گھٹجانا یا کم

* نایب - کم * a. Scarcely sufficient : * ہوجانا
 کم خرچ - - بخیل * Parsimonious : تنگ

Scantily, *ad.* Scarcely ; not quite : تھوڑا - ذلیل

Scantling, *n.* A pattern ; a small quantity ; a small piece of timber : نمونہ - مقدار ذلیل - لکڑی کا بڑا

Scanty, *a.* Narrow ; small ; bare ; poor ; hardly sufficient ; sparing : تنگ - تھوڑا - کم - ذلیل - نفاہت شمار

Scape, *v. t.* or *i.* To escape : بچانا یا بچنا - چھوٹ جانا

Scape, *n.* Escape from danger : A stem rising from the root, and bearing fructification without leaves : بچاؤ * رہائی - پھلدار ڈالی

Scape goat, *n.* One who suffers for the misdeeds of others : بھیت کا بکرہ - اور کے بدلے تکلیف اوتھانیرالا - قربانی

Scape-grace, *n.* A graceless fellow : بے حیا - بے شرم

Scar, *n.* The mark of a wound or sore : چمکنا داغ - To mark with a scar : * *v. t.* زخم کا نشان - چمکنا - ٹھورنچ داغدار کرنا - داغنا

Scarce, *a.* Not plentiful ; uncommon ; rare : کم - تھوڑا - کمیاب - نادر - ناپید - بڑا

Scarcity, *n.* Deficiency ; rareness : قلت - کمی - کمیابی

Syn.—Deficiency, lack, want, rareness.

Ant.—Abundance, plentifulness.

Scare, *v. t.* To terrify suddenly ; to frighten ; to alarm : ڈرانا - خوف دلانا - چوکنا

Scarecrow, *n.* Anything set up to frighten birds : چڑیوں کے ڈرانیکا نشان

Scarf, *n.* A light piece of dress worn loosely over the shoulders or about the neck : درپٹہ - روسال - اورٹھی

Scarf, *v. t.* To cut in a joint timber ; to unite two pieces : لکڑی میں سوراخ یا جھڑی بنانا - لکڑیوں کے دو ٹکڑے جوڑنا

Scarf-skin, *n.* The outer thin skin ; the cuticle : جھلی - پوست

Scarify, *v. t.* To cut on the skin : کھونچنی مارنا - بچھنا دینا - پاچھنا

Scarlet, *n.* A bright colour : نہایت سرخ رنگ - نہایت سرخ * *a.* Deeply red :

Scarlet-fever, *n.* An infectious fever known by red flush on the skin : لال بخار

Scarp, *n.* A perpendicular slope : سیدھا ڈھال

Scath, *n.* Damage ; harm ; waste : نقصان - ضرر - نقصان کرنا - ضرر پہنچانا - پر یاد کرنا

Scatter, *v. t.* To throw about loosely ; to sprinkle ; to disperse : بکھیرنا - کھنڈنا - چھترانا - منتشر کرنا - بھیلانا

Syn.—Disperse, dissipate, strew, spread, sprinkle.

Scatter, *v. i.* To be dispersed or dissipated : کھنڈنا - منتشر ہونا - چھترانا - بھیلانا - تین تیرہ کرنا ایک ہاتھ سے بکھیر دوڑوں سے سمیٹنا

Scavenger, *n.* A person employed in cleaning the streets : خاکروب - گلبرنگا جھاڑنیوالا

Scene, *n.* Stage ; a dramatic representation : تماشا * Display of action or feeling ; spectacle view : سیر - بہار - ناہمب کارروائی

Scenery, *n.* A representation of a landscape : منظر

Scenical, *a.* Theatrical ; dramatic : تماشا یا ناٹک کے متعلق

Scenography, *n.* The representation of a body on a perspective plane : مینا کاری - تھیٹر کے پردے بنانا - مصوری علم مناظر و مریا کے اصول کے مطابق

Scent, *n.* Smell ; perfume ; chase followed by the scent ; track : مہک - بو - خوشبو - شکار - کھوج - سرنگھنا - خوشبودار * *v. t.* To smell ; to perfume : کرنا

Sceptic, *n.* One who doubts or disbelieves ; atheist : شکمی - منکر

Scepticism, *n.* Doubt ; infidelity : رھم - شک - فقر - بھرم

Sceptre, *n.* The emblem of royalty ; power or authority : * Sceptres and suitors hate competitors, عاشق دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے

Schedule, *n.* An official list or inventory : فرد - فرد تالیقہ * —of property, نہرست

Scheme, n. A system ; a plan ; a project ; a contrivance ; a design : - تہذیب - تدبیر - تجویز کرنا

حکمت - منصوبہ

Syn.—Plan, project, design.

Scheme, v. t. To plan ; to contrive ; to project : تدبیر کرنا - جگت کرنا - تجویز کرنا

Schism, n. Permanent division or separation in a church : اختلاف - مذہبی پھوٹ - بدعت

Schismatic, a. Tending to schism : تفرقہ انداز - بدعتی - رافضی

Syn.—Heretic, partisan.

Scholar, n. One who learns ; a pupil ; a man of letters ; a savant : طالب علم - شاگرد - عالم - فاضل - زبان دان - قابل

Scholarship, n. Learning ; literature ; maintenance for the scholar : علمیت - نصیحت - ودیہ - وظیفہ

Syn.—Learning, erudition, knowledge.

Scholastic, a. Pertaining to a scholar or schools : خردنما : Pedantic * درسی - علمی - مکتبی

Scholiast, n. A commentator ; an annotator : شرح لکھنیرالا - ٹیکا لکھنے والا - حاشیہ نویس - مفسر

Scholium, n. A marginal annotation : حاشیہ کی شرح - تفسیر - ٹیکا

School, n. A place for discipline, instruction, teaching and learning : * مدرسہ - مکتب - پاتھشالہ : Tuition ; a body of pupils ; the disciples or followers of a teacher ; a sect ; a system : * تعلیم - شاگرد - مرید - پیرو - مذہب - فرقہ - طریقہ : A multitude : * v. t. To instruct ; to train ; to tutor : تعلیم دینا - تربیت کرنا - سکھانا - تہذیب کرنا : * نمائش کرنا - پڑھانا

Schooling, n. Instruction in a school ; reproof ; price paid for instruction : تعلیم - پڑھائی - تہذیبہ - پڑھائی کی اجرت

Schooner, n. A small vessel with two masts : دو مستول کا جہاز

Science, n. Knowledge reduced to system : علم - حکمت

Syn.—Literature, art, knowledge.

Ant.—Ignorance.

Scientific, a. Agreeing with the principles of science ; well-versed in science : اصول علم کے متعلق - عالم

Scimitar, n. A short sword with a convex edge or recurved point : تیغہ

Scintillant, a. Sparkling ; emitting sparks : چمکاري چھوڑنیرالا - شعلہ انشاں

Scintillate, v. i. To emit sparks ; to sparkle : چمکاري چھوڑنا - چمکانا

Scion, n. A shoot or twig of a plant ; a descendant ; heir : شاخ شعبہ - نو نھال - ذالی - اولاد - نسل : * A—of a royal stock, فرز نھال شاہی

Syn.—Sprout, shoot, twig, graft.

Scirrhoty, n. A morbid induration of a gland : گتھی

Scission, n. Dividing or cutting by an edged instrument : قراش - کات

Scissors, n. pl. Small shears : قترنی - مقراض - قینچی

Scissure, n. A cleft ; a fissure ; a crack : درز - شگاف - شق

Scoff, v. t. or i. To treat with scorn ; to mock at : تعذیر کرنا - برا کہنا - طعنہ مارنا

Syn.—Sneer, mock, gibe, jeer.

Ant.—Honour, respect, revere.

Scoff, n. A mock ; jeer : طعنہ زنی - تہہا

Scold, v. t. or i. To find fault ; to chide ; to rebuke : * نقص نکالنا - گھڑکنا - جھڑکنا - زجر کرنا : A rude, clamorous woman : منہ زور عورت

Sconce, n. A fortification : * حصار - تلعة : * A helmet : * خرد : * A fixed candlestick : قندیل

Scoop, n. A large ladle ; a sweep ; a kind of shovel : * v. t. To make hollow ; to excavate : کرچھا - ڈریا - بیلچھا : کھوکھلا کرنا - کھودنا

Scope, n. That at which one aims ; room for the exercise of faculties ; drift : مطالب - منشا - جگہ : * --of nature, حادثہ طبیعی

Scopulous, a. Full of rocks : چٹانوں سے بھرا ہوا

Scorbutic, a. Diseased or affected with scurvy : خارشتی - کھچھیل

Scorch, v. t. or i. To burn slightly ; to parch or shrivel by heat ; to be dried up : جلانا - جھلسنا - خشک ہونا

Score, n. A notch : درار * Account : حساب * The number of twenty : بیسی * کرڑی - بیسی * A tally-mark : نشان صحف * To quit—s, to settle an account : چکانا * حساب چکانا : چہیلنا - نشان کرنا - درج : to set down ; to charge : کرنا - حساب میں لکھنا

Scoria, n. Slag ; dross : فضلاء - کیت

Scoriæ, n. pl. Volcanic ashes : کوا آتش نشان کی : راکھ

Scorify, v. t. To reduce to scoria or drossy matter : کیت بنانا

Scorn, v. t. To hold in extreme contempt ; to despise ; to scoff at ; to disdain : حقارت کرنا * ناچیز جاننا - خفیف جاننا - احانت کرنا - طعن طشنتہ کرنا * Extreme contempt ; object of extreme disdain ; derision : متبدل - معتر - حقارت : بہت حقیر مبتدل یا شرم کی بات سمجھنا

Scornful, a. Disdainful ; insolent : متدن - نندی - تصحیک کا

Scorpion, n. A venomous spider - کڑم - بچھو * The eighth sign of the zodiac : عقرب * عقرب راس - برج عقرب

Scot, n. A native of Scotland ; tax or contribution : باشندہ اسکات لینڈ - محصول - خراج

Scotch, a. Pertaining to Scotland : متعلق ہند * To support, as a wheel, to prevent its rolling : to wound slightly : کو : خفیف زخم لگانا * A slight cut : خفیف زخم

Scot-free, a. Free from payment ; untaxed ; unhurt ; safe : ہفت - بے محصول - بے داغ - بے مضرت

Scoundrel, n. A mean, worthless fellow ; a rascal : بد معاش : شہدا - بدمعاش : low : ذلیل - کمینہ

Scour, v. t. To rub hard ; to polish ; to purge violently ; to range : رگڑنا - جلا کرنا - بیت چلانا - جانورونگی بیماری : کورونا

Scourer, n. A cleanser ; a violent purgative ; a swift runner : صاف کرنے والا - مانجنے والا - صیقل گر - کڑا جلاب - درڑ جانے والا - بواک جانے والا

Scourge, n. A lash ; a whip ; a punishment ; a plague : تازیانہ - چابک - سزا - بلا - آنت - مری * چابک مارنا : سزا دینا - تازیانہ لگانا

Scout, n. A person sent out to observe the movements of an enemy ; a spy : جاسوس - بییدی * To spy ; to watch ; to sneer ; to connoitre : جاہل کرنا - نگہبانی کرنا - حقارت کرنا : To act as a scout ; to sneer at : جاہل کرنا - حقارت کرنا

Scovel, n. A mop for sweeping ovens : جاروب - چولھا صاف کرنے کی چھڑو - برہار

Scow, n. A large, flat-bottomed boat : بڑی چپٹے پینڈے کی نشتی - پیلا

Sowl, v. i. To wrinkle the brows in displeasure ; to frown : منہ * چیں بچبین ہرنا - منہ * The wrinkling of the brows in frowning ; dark or rude aspect : چیں بچبین - تیزھی ہر - تیزوی - دراونی صورت

Scrabble, v. t. To scrape or scratch with the hands ; to scribble : کھرچنا - ہاتھ سے کھرچنا - گیسیتنا - بد خط لکھنا - بے معنی نشان کرنا - چت مکرزا کرنا

Scrag, n. Anything thin or lean with roughness : پتلی ناہرار ہٹے

Scraggy, a. Lean ; rough : ناہوار - ناہر

Scramble, v. i. To catch at anything eagerly ; to climb ; to go on all fours : ہاتھ لپکانا - چڑھنا - ہاتھوں کے بل چلنا

Scrannel, a. Slender ; slight ; worthless : لاغر - پتلا - ڈچیز - حقیر

Scrap, n. A small piece ; a bit ; fragment : ٹکڑا - ٹکڑا - ٹکڑا - ٹکڑا * To go to the scrap-heap, to ruin : تباہ ہرنا

Scrap-book, n. A blank book for preserving prints, extracts ; &c., : سفینہ - سادہ کتاب - جسمیں خلاصہ وغیرہ حفاظت سے رکھتے ہیں

Scrape, v. t. To clean by rubbing the surface ; to remove by rubbing : چھیلنا - کھرچنا * To collect together ; to save : اکٹھا کرنا - بچانا * penny, a miser : جزوس - کھجوس * n. To make a harsh, grating noise : ناگوار آواز کرنا * Difficulty ; a bad situation ; an awkward

predicament : کش مکش - دقت - مشکل * **Scra per**, *v. t.* or *i.* To scrape acquaintance with, to get on terms of acquaintance : اذنی کرنا

Scratch, *v. t.* or *i.* To rub or fear the surface with the claws ; to wound slightly : کورچنا - * پنصہ یا ناخون سے کورچنا - نوچنا - ہلکا زخم لانا *n.* A slight incision : کورچنا - خراش

Scrawl, *v. t.* or *i.* To draw or write awkwardly ; to scribble ; to write unskilfully : ہوا لکھنا - * *n.* A piece of hasty bad-writing : گھسیٹ - بد خط

Scrawny, *a.* Meagre : دہلا - پتلا - کمزور

Scream, *v. i.* To cry out shrilly ; to shriek : ککھانا - * *n.* A shrill outcry : کوک - چیخ

Screech, *v. t.* To utter a harsh shrill cry ; to scream : چیخ مارنا - * *n.* A harsh, shrill cry : چلاہٹ - چنگھار - چیخ

Screech-owl, *n.* An owl that cries out shrilly : گہر گہر - اولو - بوم - خناس

Screed, *n.* A wooden rule by which the surface of plastering is levelled : زبر بند

Screen, *n.* A partition ; a curtain : آرت - * *v. t.* To shelter ; to conceal ; to sift : بھانا - چھپانا - چھاننا

Screw, *n.* A small metal cylinder grooved spirally : پیچ * **A—loose**, something defective wrong : کچھ عیب یا نقص : **To put under the—**, to coerce : دباننا * **There is a screw loose somewhere**, - کبھی پیچ ڈھیلہ ہے - اہی کچھ کسر ہے

Screw, *v. t.* To fasten or make firm with a screw ; to force ; to extort : پیچ لگانا - * **To—down**, to fasten down by means of screws ; کسنا * **To—out**, to extort : زبر دستی لینا * **To screw up**, کسنا

Screw-driver, *n.* An implement for turning screw nails : پیچکش

Scribble, *v. t.* or *i.* To write without care or elegance ; to scrawl : ہوا لکھنا * *n.* Hasty or careless writing : بد خط - گھسیٹ

Scribe, *n.* A writer ; a clerk ; a notary ; a doctor of the law : ایک - محرر - کاتب - محدث دار مقنن

Scrimmage, *n.* A close, confused struggle ; a scuffle ; a tussle : دھکا پھل - دھینگا مشتی

Scrimp, *v. t.* To make small or short ; to limit : * *a.* Short ; scanty ; چھوٹا - مختصر - کم

Scrine, *n.* A case for relics or curiosities ; a shrine : مقبرہ - خانہ - عجیب و غریب چیزوں کے رکھنے کا خانہ

Scrip, *n.* A small bag ; a satchel ; a certification of stock : تھیلی - بیگ - بیچک - کیسہ

Script, *n.* A kind of type in the form of written letters : سیسے کے حروف جو لکھے ہوئے حرف کے شکل کے ہوں

Scriptural, *a.* According to the scriptures : کتاب مقدس کے موافق

Scripture, *n.* The Old and New Testaments ; the Bible ; sacred writings : پرانا اور نیا عہدنامہ - انجیل - وید - پران - شاستر

Scrivener, *n.* One who draws contracts or other writings : عرائس نویس - محرر

Scrofula, *n.* A disease affecting the lymphatic glands, especially of the neck ; king's evil : کٹھہ مالا - خنازیر

Scrog, *n.* A stunted bush : تھوڑی ہوئی ڈالی یا جھاری

Scroll, *n.* A roll of paper or parchment ; a list ; a rough draft : لپٹا ہوا کاغذ - پاندہ - فہرست - پہلا * *v. t.* To write the first draft : سرودہ لکھنا

Scrub, *v. t.* or *i.* To rub hard with something rough ; to be diligent and penurious : رگڑنا - * *n.* One who labours hard and lives meanly : جو محنت محنت کرے اور ڈیل رہے - کمینہ - ذلیل

Scrubby, *a.* Stunted ; mean : پست قد - ڈھنگٹا - رذیل - پاچی

Scruff, *n.* The nape of the neck : گدی - قفا

Scruple, *n.* Doubt ; hesitation ; a weight of 20 grains : شک - اشتباہ - شبہہ - گریں کا وزن * **To make—**, to hesitate : آکا * *v. i.* to doubt or hesitate : شک کرنا - اشتباہ کرنا

Scrupulous, a. Doubtful; careful; cautious; conscientious; captious; punctilious: - شکی - معائنہ - ہوشیار - اہل تمیز - وحشی - مترس - عیب گیر

Scrupulously, ad. Carefully; precisely: احتیاطاً - سے - باریک بینی سے

Scrutineer, n. One who examines the votes given at an election: جانچنے والا - انتخاب کی ہوئی رایوں کا امتحان کرنے والا

Scrutinise, v. t. To examine closely; to inquire into critically: امتحان کرنا - جانچنا - تحقیقات کرنا - تفتیش کرنا - چھان بین سے تحقیق کرنا

Scrutiny, n. Critical examination; close search; minute inquiry: - امتحان - جانچ - تلاش - تجسس - تحقیقات - تفتیش - جستجو - پرچہ پانچہ

Scud, v. i. To be driven or to flee or fly with haste; to run before the wind in a gale: جلد ہرنا - پھل اڑتا ہوا بادل * **v. t.** To pass over quickly: جلد گزرتا: **n.** Act of running; loose vapoury clouds: رینا - پھل اڑتا ہوا بادل

Scuddle, v. i. To run away in haste: جلدی میں بھاگ جانا

Scuffle, n. A confused contest; a fight: - کشتی - کشتی میں لپٹ جانا - ہاتھ پائی کرنا * **v. i.** To strive or struggle with close grapple: کشمکش

Scull, n. A boat; a short oar used in rowing: کشتی - قانو

Scullery, n. A place for kitchen utensils: باورچی خانہ کے اسباب رکھنے کی جگہ - ہینڈار

Scullion, n. The lowest domestic servant: مزدور - خدمتگار - دیگ شو - مشعلچی

Sculp, v. t. To carve; to engrave: - کندہ کرنا - نقش کرنا

Sculptor, n. A carver; an engraver: - بت تراش - کندہ کار

Sculpture, n. The art of carving or cutting wood or stone into images or statues: لکڑی یا پتھر کی صورت بنانیکہ ہنر - بت تراشی - سنگتراشی - بت تراشی کرنا - کندہ کرنا - نقش کرنا * **v. t.** To engrave; to carve: بت تراش - بت تراش

Scum, n. The impurities which rise to the surface of liquids in boiling; refuse: گان - میل جو جوش - **v. t.** * To take off the scum; to skim: میل اوتارنا - جھاگ اوتارنا

Scumble, v. t. To spread or cover lightly a painting with opaque colours; to soften the effect: تصویر کو گارے رنگ سے ڈھکا یا تصویر پر دھندلا رنگ چڑھانا

Scummer, n. A skimmer: کڑھی - کف گیر

Scupper, n. A hole in a ship's side to carry off the water from the deck: جہاز پر سے پانی نکل جانے کے لئے سوراخ

Scurf, n. A dry scab on the skin of an animal; anything adhering to the surface: جانورونکی جلد کی بھرسی - پیڑی - میل

Scurrile, a. Indecent; abusive; low: - فحش - بدنام آمیز - نمینہ

Scurrilous, a. Foul; vulgar: فحش - رذیل

Scurrility, n. Vulgar or abusive language; indecency: فحش - گالی گارج - بدزبانی

Scurvy, n. A disease of the blood: عارضت - کمینہ - پاچی - فیل - **a.** Low; mean: کی بیماری

Scutage, n. A tax on feudal tenants: معصوم اُن ایسامیونپر جو بمرض معافی ملک کی خدمت کرتے ہیں

Scutiform, a. Having the form of a shield or buckler: ڈھال کی شکل کا

Scuttle, n. A metal pan for coals: دھات کی * **A hatchway:** دروازہ * **A small opening in the roof of a house; a short run; a quick pace; scudding; a broad shallow basket:** مکان کے چھت کی کھڑکی - تیز رفتاری - دوڑ - بھاگ - تڑکی - چوٹا کرزہ - پاریا - چٹھی - ڈلیا - چنگیری

v. t. To cut holes through the bottom, deck or sides of a ship; to sink a ship, by cutting holes in the bottom: جہاز کے پینڈے میں تختہ پر یا بغل میں سوراخ کرنا - ڈہرنا - پینڈے میں سوراخ کر کے جہاز کو ڈبو دینا

Scythe, n. An instrument for mowing grass: ٹھوپا - گراس کاٹنے کی ہتھیاء - دراتی

Sea, n. A large body of salt water; a lake; the ocean; a high billow; surge: سمندر - بحر - جھیل - بحر اعظم - سمندر کی لہر - مرج شک کی حالت میں: **At—**, in a vague uncertain condition: **At—**, in a state of perplexity: **Beyond the—** or **—s**, out of the country: **To go to—**, to follow

- the occupation of a sailor : پيشه جہاز راني اختيار کرنا
 مدھوش - شراب : **Half—s over, half drnk** * کرنا
 جہاز راني يا **To go to sea**, * کے نشہ میں مستور
 ملاحي کا پيشه اختيار کرنا
- Sea-board, a.** The sea-shore : - سمندر کا کنارہ - ساحل
- Sea-breach, n.** An irruption of the sea : سمندر کا چڑھاؤ
- Sea-breeze, n.** A breeze blowing from the sea toward the land : سمندر کی نسیم
- Sea elephant, n.** A large species of seal : دریائی نیل - بڑی قسم کی سیل مچھلی
- Sea-farer, n.** A mariner ; a seaman : - جہازي - ملاح
- Sea horse, n.** The walrus ; hippopotamus : دریائی گھوڑا
- Sea sickness, n.** Sickness caused by a ship's motion : گھبرائی - چکر
- Seal, n.** An aquatic mammal valued for its skin : * The impression made on wax : سیل مچھلی
 * *v. t.* To set or affix a seal to ; to fasten with a seal ; to ratify ; to confirm : مہر لگانا - مہر سے بندھنا - مستحکم کرنا - مضبوط کرنا
- Sealing-wax, n.** A substance for sealing letters : لاکھ - لاکھ کی بتی
- Seam, n.** A scar ; a thin layer or stratum : داغ - The joining of two edges of cloth ; a suture : نشان - پتلی تہہ
 * *v. t.* To join by sewing together ; to scar : سینا - داغنا
- Seamster, n.** One who sews by profession : خیاطا - درزي
- Seamstress, n.** A woman whose occupation is sewing : درزن - سینروالي
- Seance, n.** Session or sitting of a public body : سشن - منقلي - حلقہ - ارواح سے بات چیت کرنے کی مجلس
- Sea-nymph, n.** A nymph or goddess of the sea : سمندر کی پری
- Seaport, n.** A harbour for ships : بندرگاہ
- Sear, n. t.** To scorch ; to wither ; to dry up ; to make insensible : جلانا - داغ دینا - گل دینا - خشک
- a. Dry ;* پژمردہ کرنا - مرجھانا - بیہوش کرنا
 خشک پژمردہ
withered :
- Search, v. t. or i.** To look for ; to inquire after ; to try or put to the test ; to explore ; to investigate : تلاش - دیکھنا - تلاش کرنا - تحقیق کرنا - کھوجنا - سراغ لگانا
Syn.—Explore, examine, seek, pry into, inquire.
- Search, n.** Inquiry ; examination ; exploration : تلاش - تفتیش - سراغ - کھوج - جستجو
- Seared, p.p.** Hardened : سخت
- Season, n.** One of the four divisions of the year : **Flavouring** * موقع * **A suitable time** : موسم - فصل
 * **In—**, مصلحت - مزہ زیادہ کرنیوالی چیز
 * *v. t. or i.* To prepare ; to accustom ; to give relish to ; to temper : تیار کرنا - عادی ہونا - مزہ دار ہونا
- Seasonable, a.** Timely ; opportune : بڑ - فصل
Syn. — Opportune, timely, fit, convenient.
Ant. — In opportune, untimely, inconvenient.
- Seat, n.** A chair ; bench : کرسی - بینچ - بیٹیک
 * **A place of sitting** : جاے قیام - مسکن
 * *v. t.* To cause to sit down ; to establish : بیٹھلانا - مقرر کرنا
- Seaward, adv.** Toward the sea : سمندر کی طرف
- Secant, n.** A line that cuts another : خط قاطع * قاطع
a. Cutting :
- Secede, v. i.** To withdraw from fellowship, union or association : علیحدہ ہونا - نکل جانا - الگ ہونا - چھوڑنا
Syn.—Withdraw, retire.
Ant.—Unite, adhere.
- Secern, v. t.** To separate ; to distinguish ; to separate : الگ کرنا - جدا کرنا - چھوڑنا - ریزش ہونا
- Secession, n.** Act of seceding from fellowship or associating : علیحدگی - انصراف
- Seclude, v. t.** To separate from society ; to withdraw into solitude : مجھ سے الگ کرنا - کنارہ
 کرنا - باز رکھنا - خوات گڈیں کرنا - پردہ میں رکھنا
- Seclusion, n.** Act of secluding ; retirement ; privacy : عزت - کنارہ کشی - خوات نشینی

Second, n. One who follows or comes after ; one next in place, time, rank or the like : - دوسرا
 * One who supports another in a duel or fight : دار - جانب دار
 * The sixtieth part of a minute : منٹ کا ساٹھواں حصہ
 * To support ; to back : مدد کرنا - سہارا دینا -
 تائید کرنا

Secondary, a. Subordinate ; not primary :
 تابع - ماتحت - اول درجہ کا نہیں - درجہ درجہ - ثانوی

Secondhand, a. Not new ; received from another :
 استعمالی - دوسرے سے ملا ہوا یا سنا ہوا -
 دوسرے سے پایا یا سنا ہوا

Secrecy, n. Retirement ; privacy ; close silence :
 کفایت کشی - خاورت - تنہائی - راز داری - بھید

Secret, a. Hidden ; concealed ; private ; not revealed :
 پوشیدہ - مخفی - پنہان - نہان - درپردہ -
 نامعلوم - گپت - راز کا

Syn.—Hidden, unknown, mysterious, veiled.

Ant.—Evident, plain, clear, obvious, indisguised.

—, n. Something studiously concealed ; a mystery ; privacy : - سرحق - راز پنہاں - سرحق -
 راز - بھید - رمز - راز پنہاں - پوشیدگی
 خاورت - پردہ - پوشیدگی

Secretariate, n. The office of a secretary :
 میسر منشی کا دفتر

Secretary, n. A person employed to write orders, letters, etc. :
 * An officer whose duty is to superintend of a particular department of Govt. :
 افسر جسکے تعلق ایک خاص
 محکمہ ہر - سکرٹری

Secrete, v. t. To hide ; to conceal ; to separate by the process of the vital economy from the circulating fluids, as the blood, sap, etc. : -
 چھپانا - پوشیدگی رکھنا - بدن کی رطوبت جدا کرنا

Secretion, n. Act of secreting :
 * پوشیدگی - پوشیدگی
 * The matter secreted : بدن کی رطوبت کی خون سے
 تفریق - رطوبت - ریزش - اخراج

Secretary, a. Performing secretion :
 بدن کی رطوبت کو جدا کرنے والا

Sect, n. Persons united in tenets : - فرقہ -
 جماعت - پنتھ

Sectarian, a. Pertaining to sect ; bigoted : کسی
 فرقہ کے متعلق - متعصب

Syn.—Heretic, partisan.

Ant.—Tolerant, indulgent, liberal.

Sectarian, n. One of a sect : کسی فرقہ کا پیرو

Secretary, n. A follower of a sect ; a schismatic :
 کسی خاص فرقہ کا پیرو - خارجی - پنتھی

Section, n. A part cut off ; a division ; a portion ;
 a distinct part of a book or writing : - قطعہ -
 حصہ - باب - فصل - دفعہ

Sector, n. A mathematical instrument : ایک آلہ
 ہندسی - نقشہ کشی کا ایک آلہ

Secular, a. Not spiritual ; worldly :
 دنیا دار - گڑھست
 * n. A layman : گڑھستی

Secularise, v. t. To make worldly or unspiritual ;
 to convert to a secular use : دنیا دار کرنا -
 دنیوی امور کے استعمال میں لانا - دینی سے دنیوی کام میں لانا

Secularity, n. Worldliness : دنیا داری

Secundine, n. The after birth : اول نال -
 چھاپی

Secure, a. Free from care or anxiety , free from danger or fear ; easy ; confident : -
 ازاد - ماموں - محفوظ - بے خطر - آرام - معتقد

Secure, v. t. To free from danger ; to make safe ; to guarantee ; to make fast ; to get possession of :
 بے خطر کرنا - محفوظ رکھنا -
 باندھ رکھنا - مضبوط کرنا - ضبط میں لانا -
 قبضہ میں لانا

Security, n. Freedom from danger ; safety ; confidence ; insurance :
 ضمانت - حفاظت - امن - یقین - بیمہ - کفالت

Syn.—Protection, defence, guard, shelter.

Ant.—Danger, peril, risk.

Sedan, n. A portable chair or covered vehicle for carrying a single person, borne on poles by two persons :
 ڈولا - ڈالکی - ڈالکی -
 ڈولا - ڈالکی - ڈالکی - ڈالکی

Sedate, a. Unruffled ; calm ; quiet ; sober : -
 * Of a sedate temper, ساکن العصب

Syn.—Calm, composed, collected, placid, serene, tranquil.

Ant.—Indiscreet, flight.

Sedative, a. Composing ; soothing ; allaying pain or irritation :
 تسکین دہ - تسلی بخش - راحت بخش -
 * n. A remedy which allays pain :
 تسکین دہ - درد رفع کرنے والی -
 تسکین دہ - درد رفع کرنے والی

Sedentary, a. Requiring a sitting posture or long sitting accustomed to sit much ; inactive ; of sitting much : بہت بیٹھے رہنے کا عادی - کادل - سست - جس میں بہت بیٹھنا پڑتا ہو - سکونت یا نشست طلب

Sedge, n. A coarse grass in swamps : ایک قسم کی گھاس - ناگر مرتھا

Sediment, n. That which settles at the bottom ; drags : میل جو نیچے جمع ہو جاتا ہے - تلچھت - گاد

Sedition, n. The raising of commotion in a state ; an insurrection ; riot ; a fomenting of public discontent against government : فساد - آشوب - بغاوت - بارود ہنگامہ - سرکار کے خلاف رنج عام انگیزتہ کرنا

Syn.—Insurrection, tumult, uproar, riot.

Ant.—Allegiance.

Seditious, a. Turbulent ; riotous : مفسد - پرقتور - بغاوت آمیز - فسادی - فتنہ انگیز

Seduce, v. t. To lead astray ; to allure ; to corrupt ; to deceive : بہکانا - ورغلانا - پھیلانا - بگاڑنا - بھڑکانا - فریب دینا

Seduction, n. Act of seducing ; enticement to evil : اغوا - فریب - کھلافت - بوسلورا

Sedulity, n. Great diligence ; constant attention : جدوجہد - کوشش - سعی - سرگرمی

Sedulous, a. Very diligent ; laborious : سرگرم - مصنتی

Syn.—Assiduous, diligent, laborious.

Ant.—Inattentive, idle, careless.

See, n. The jurisdiction of a bishop or archbishop ; a diocese : * بشپ کی حکومت - سردار پادری کا علاقہ

v. t. To perceive by the eye ; to behold ; to discover ; to view ; to observe ; to visit : دیکھنا - نظر کرنا - معایم کرنا - دریافت کرنا - نگاہ کرنا - غور کرنا

To—about a thing, to pay some attention to it : * غور کرنا - احوال کرنا - کسی بات یا تماشہ کو آخر تک

To—a thing out, to pay some attention to it : * غور کرنا - احوال کرنا - کسی بات یا تماشہ کو آخر تک

To—the stars out, to pay some attention to it : * غور کرنا - احوال کرنا - کسی بات یا تماشہ کو آخر تک

To—about a thing, to pay some attention to it : * غور کرنا - احوال کرنا - کسی بات یا تماشہ کو آخر تک

To—to, to pay some attention to it : * غور کرنا - احوال کرنا - کسی بات یا تماشہ کو آخر تک

Seed, v. t. or i. To produce seed ; to sow ; to shed the seed : بیج لانا - بڑنا - بھینا - بھینا کرنا

Seedling, n. A plant reared from the seed : درخت جو بیج سے اڑکا ہو

Seedsman, n. One who deals in seeds ; a sower : بھینا فروش - بونیرالا - بھینا

Seedy, a. Abounding with seed : Feel- ing wretched, as after a debauch ; out of sorts ; languid ; shabby ; worn out : سست - کادل - ناساز - پھینا پڑنا - فرسودہ

Seeing, n. Vision : نظر - نگاہ

Seek, v. t. To search for ; to look for ; to solicit ; to seek for ; to hunt : تلاش کرنا - ڈھونڈنا

To—after, to make pursuit of : * مانگنا - درخواست کرنا - سراغ لگانا

To—for, to endeavour ; to find : * تعقب کرنا - تلاش کرنا - ڈھونڈنا

Sought after, * ہننا جسکی مانگ ہو - تلاش

v. i. to make inquiry ; to attempt ; to pursue : * کیا ہوا - پیدچھے جانیکی - کوشش کرنا - کھدینا

Seem, v. i. To present an appearance : نظر آنا - دکھائی نا پڑ

Seem, v. t. To befit ; to become : * لائق ہونا - ہونا

Seemingly, ad. Apparently ; ostensibly : * لائق ہونا - ہونا

Seeming, a. Appearing : * ظاہر

Seemingly, ad. Apparently ; ostensibly : * ظاہر

Seemliness, n. Comeliness ; grace ; decency ; fitness : * مناسب - مناسب - مناسب

Seemly, a. Fit ; decent ; proper : * مناسب - مناسب - مناسب

Seer, n. A person who foresees events ; a prophet : غیب دہن - آگم گیانی - اہل بصیرت

Seesaw, n. A play among children ; a vibratory or reciprocating motion : * اڑپوٹا کھیل - اڑپوٹا کھیل

Seesaw, v. i. To move up and down or to and fro : * اڑپوٹا کھیل - اڑپوٹا کھیل

Scethe, v. t. or i. To boil ; to be in a state of ebullition : * کھولنا

Segment, n. A section ; a portion ; a part cut off : * ٹکڑا - ٹکڑا

Segregate, v. t. To separate from others ; to set apart : جدا کرنا - الگ رکھنا - علیحدہ کرنا

Segregation, n. Separation from others ; a parting : علیحدگی - تفرقہ - جدائی

Seignior, (sen'your) n. A lord : آقا - مالک - تعاقبہ دار - لارڈ

Seine, (sen) n. A large net for catching fish : مہا جال

Seismic, a. Belonging to earthquakes : زلزلہ کے متعلق

Seismology, n. Science of earthquakes : علم زلزلہ

Seismometer, n. An instrument for noting earthquake shocks : زلزلہ کے صدمہ کے قلمبند کرنے کا آلہ

Seismoscope, n. An instrument for recording earthquake movements : زلزلہ کی حرکت مندرج کر ڈیکار آلہ

Seize, v. t. To take hold of : پکڑنا * To catch ; to grasp : گرفت کرنا * To take possession of by force : گرفتار کرنا * To apprehend : قبضہ کرنا * To take by force of law : قزق کرنا - ضبط کرنا

Seizing, n. Possession of an estate of free hold : قبضہ - معافی کا قبضہ

Seizure, n. Act of seizing ; violent grasp ; attack : گرفتاری - ضبطی - گرفت - حملہ

Seldom, ad. Rarely ; not often : کبھی کبھی - بعض اوقات - شاذ و نادر

Select, v. t. To choose in preference to others ; to pick out ; to call : انتخاب کرنا - چن لینا - * a. Taken from a number by preference ; selected ; choice : منتخب - چنیدہ - تھنہ

Selection, n. Act of selecting or choosing ; thing selected ; a book of select pieces : پسند - انتخاب - منتخبات

Selenography, n. A description of the surface of the moon : چاند کا بیان - بیان جرم قمر

Self, pron. or a. Same ; very same : وہی - وہی - **Self-abasement, degradation of one's self by one's own act :** **Self-abuse, abuse of one's self :** **Self-applause, approbation, خود**

بغرت - خود بینی - خود : **conceit, vanity :** * پستندی **control, control exercised over one's own self :** قابض * **defence, defence of one's own property or reputation :** اپنے **denial, forbearance :** * جان و مال کی حفاظت **evident, evident, without proof or reasoning :** * خود انکاری - نفس کشی **indulgence, sacrifice, sacrifice of one's self :** * نفس پرستی **sufficient, conceited ; overbearing :** * مغرور * **willed, obstinate :** خود رائے - ضدی

Self, n. Individual identity ; personal interest ; selfishness : شخصیت - ذاتی نایدہ - خود غرضی

Selfish, a. Devoted solely to one's own interest : خود غرض - نفس پرست - مطالبی

Selfishly, ad. In a selfish manner : خود غرضانہ

Selfishness, n. Devotion to one's own interests with carelessness of others : خود غرضی - سردار تہہ

Sell, v. t. To transfer to another for an equivalent ; to dispose of in return for something : **v. t. To be sold :** * بیچنا - فروخت کرنا - بیع کرنا **To—one's life dearly, to cause great loss to those who take one's life :** * **To—out, to dispose of all one's shares in a company :** اپنا حصہ فروخت کر ڈالنا

Selvage, } n. The edge of cloth : گوت - نثارہ - حاشیہ

Semaphore, n. An apparatus for exhibiting signals to convey information from a distance ; a telegraph : دور سے خبر بھیجنے کا ایک آلہ

Semblance, n. Appearance ; resemblance , likeness : صورت - شباہت - تمثیل - شبیہ - ہمیش

Semen, n. Seed ; sperm : بیج - تخم - نطفہ - منی - دھات

Semester, n. A period or term of six months : چھ ماہ کی مدت

Semi, n. A Latin prefix signifying half : نصف - آدھ

Semi-annual, a. Half-yearly : نصف سالہ - شش ماہی

Semicircle, n. The half of a circle : نصف دائرہ

Semicolon, n. A point marked thus : وقت ٹی ایسی (;) علامت

Semi-conspicuous, a. Partly visible : کچھ کچھ دکھلا دینے والا

Semi-cubium, n. A half bath : نصف غسل - ارداشان

Seminal, a. Pertaining to seed ; original ; rudimentary ; radical : متعلق بہ تخم - اصلي - ابتدائی - مادي - بنیادی

Seminary, n. A place of education ; a school ; a college : تعلیم گاہ - مدرسہ - مکتب - پائتھالہ

Seminate, v. t. To sow ; to propagate : بونا - پھیلانا

Semiquaver, n. A note of half the duration of the quaver : باجے کا ایک سو

Semi vowel, n. A sound intermediate between a vowel and a consonant : نیم حرف علت

Sempervirent, a. Evergreen ; fresh : ہمیشہ سبز - سدا بہار

Sempiternal, a. Everlasting : دائم - لازوال - باقی

Sempster, n. A sewer : خیابا - درزی

Sempstress, n. A woman who lives by needle-work : درزن

Senate, n. A body of councillors ; a legislative body ; the governing body of a university : مدبران ملک کی جماعت - راضعان قوانین - منتظمان یونیورسٹی - مشیر

Senator, n. A member of senate : سنیت کا ممبر

Send, v. t. To cause to go ; to despatch ; to throw ; to emit ; to cast : بھیجنا - روانہ کرنا - نکال دینا - رخصت

To-away, * پھینکنا - ڈالنا

To-out of the way, * بھیجنا - پیش کرنا

To-in, * کرنا

v. i. To dispatch a messenger : بھیجنا

To-for, to request by message to come : قاصد بھیجنا

To-ferth or out, to put or bring forth ; to emit : نکالنا -

To-word, to send a message : خبر بھیجنا

Senescence, n. The state of growing old ; decay by time : بڑھاپا - دیرینگی

Seneschal, n. A high steward ; a head-bailiff : بکارل - خانسامان

Senile, a. Pertaining to old age : بڑھاپے کا

Senior, a. More advanced in age or rank ; elder : کبیر - عمر یا عہدہ میں بڑا

Senior, n. One older than another ; one older in office, or prior in rank : وہ شخص جو دوسرے سے عمر و عہدہ میں بڑا ہو

Seniority, n. Priority or superiority in age, office or rank ; eldership : بزرگی - بڑائی

Senna, n. A leguminous plant and its leaves used as a cathartic : سنا - سنا مکی

Sennight, n. The space of seven nights and days ; a week : آٹھوڑا - ہفتہ - سہپنا

Sensation, n. The perception by means of the senses : Commotion ; excitement : اضطراب - تھیلی - جوش

Sensational, a. Producing sensation or emotion : اثر یا جوش پیدا کرنے والا - موثر

Sense, n. Faculty or power by which external objects are perceived : Feeling discernment ; understanding : حس - ادراک - معنی - مطالب

Meaning * تمیز - سمجھ - فہم - عقل

Notion : Common—, the natural understanding of mankind in general : حس

The five—s, the five organs of perception : **To be in one's—s**, to be in a sound state of mind : ہوش و ہواس

میں ہونا - ہواس ٹھکانے ہونا

Senseless, a. Destitute of sense : بے ہوش * Wanting understanding ; unwise : بے عقول

Foolish ; nonsensical : * سمجھ - بے عقول

Sensibility, n. Capacity to feel or perceive ; acuteness of sensation or perception ; quick sympathy ; delicacy : حس - ادراک - نرم دلی - نزاکت

Syn.—Susceptibility, feeling.

Sensible, a. Perceptible to mind ; easily affected ; cognisant ; wise ; intelligent : قابل حس - قابل ادراک - اثر پذیر - فی حس - عاقل - دانا - فی ہوش

Sensitive, a. Having sense or feeling ; shrinking from the touch , delicate : پاجس - چدوئے

paper, * سے سکڑیوالا (چھوٹی موٹی) - ٹاپک

عکسی تصویر کا کاغذ

Sensitive plant, n. A leguminous plant of the genus of Mimosas, the leaves of which shrink when touched : چھڑی مرئی - روٹھی - اجرتی

Sensorium, n. The seat of sense or sensation ; the brain : جاے حس - دماغ - برعماند

Sensual, a. Pleasing to the sense ; luxurious ; voluptuous : حواس کا خوش کرنیوالا - عیاش - نفس پرست

Sensualise, v. t. To make sensual ; to debase by carnal gratification : شہوت پرست کرنا - خواہش جسمانی سے خراب کرنا

Sensualist, n. One devoted to pleasure : نفس پرست

Sensuality, n. Free indulgence in sensual pleasures : شہوت پرستی - عیاشی

Sensuous, a. Full of passion ; pathetic : مرثر - درد انگیز

Sentence, n. Judgment passed down : تقری - A short saying ; a period in writing : تقرہ - نچیز - نچواہ - حکم سزا v. t. To pronounce judgment ; to doom ; to condemn : تقریز سنانا - حکم سزا دینا - تقری دینا

Sententious, a. Abounding in maxims : پر مثال Having brevity and weight of meaning ; terse : پر معنی - پر مطالب - مختصر

Sentient, a. Having the faculty of sensation or perception : ذی حس - مدرك - بالحواس

Sentiment, n. Feeling : جرش * Tenderness : * تنک حواسی - اثر * Susceptibility : دل سحرزی

Notion * رائے * Opinion : خیال * Thought : پندیری بلند خیال : High feeling : * وهم - قیاس : Syn. - Opinion, sensibility, feeling.

Sentimental, a. Abounding with sentiments or reflections : درد انگیز * پر خیال * Romantic ;

Sentimentality, n. Affection of fine feeling or extreme sensibility : نازی خیالی

Sentinel, n. A soldier on guard : پہرہ والا v. t. To guard : * سپاہی

Sentry, n. A soldier on guard ; a sentinel : سترپی - پہرہ والا سپاہی

Sentry-box, n. A box to cover a sentinel at his post and shelter him from the weather : پہرہ والے کے کپڑے ہوئیگی بڑھی

Separable, a. That may be separated : جدا کرنا

Separate, v. t. or i. To divide into parts ; to disjoin ; to withdraw ; to part ; to select : جدا کرنا - حصہ کرنا - الگ کرنا یا ہرنا - دور کرنا - ملحدہ ہونا - چٹنا

Separately, ad. Distinctly ; singly ; apart : جدا - ایک ایک - ملحدہ

Separation, n. Disjunction ; disunion ; divorce : ملحدگی - جدائی - مفارقت - مہاجرت - طلاق

Sepoy, n. A native of India employed as a soldier in the British service : سپاہی

Sept, n. A clan ; a race ; a family : ذرت - نسل - خاندان

Septangle, n. A figure with seven sides and seven angles : ہفت گوشیدہ شکل

Septangular, a. Having seven angles : ہفت گوشیدہ

September, n. The ninth month of the year : ستمبر - انگریزی سال کا نواں مہینہ

Septennial, a. Happening every seven years : ست برس - ہفت سالہ

Septic, a. Having power to promote putrefaction : گلانے یا سزانی والا

Septuagenarian, n. A person who is seventy years of age : ہفتاد سالہ - ستر برس کا بڑھا

Septuagesima, n. The third Sunday before Lent : لنت کے پہلے تیسرا اتوار

Septuagint, n. A Greek version of the Old Testament : پرانے عہدنامے کا یونانی ترجمہ

Septuple, a. Sevenfold : ست گونا

Sepulchral, a. Pertaining to burial : متعلق بہ تدفین - عمیق - گہرا - Deep ; hollow ; dismal : خالی - تاریک

Sepulchre, n. A grave ; a tomb : قبر - مقبرہ - گزنا - دفن : v. t. To bury ; to inter : مزار کرنا

Sepulture, n. Burial ; interment : تدفین

Sequacious, a. Inclined to follow ; attendant : پیرو - پیچھلکا - نوکر - خدمتگار - متعاقب

Sequel, n. That which follows ; consequence : نتیجہ - انجام

Sequence, n. A consequent ; a result ; order of succession ; series : - ترتیب - سلسلہ - نتیجہ - مسلسل

Sequester, v. t. or i. To separate ; to withdraw or retire into obscurity ; to retire : - جدا کرنا
To take possession of property till a claim is paid : کسی جائیداد کو اس وقت تک قبضہ میں رکھنا جب تک قرض ادا ہو جاوے۔ امانت کے طور پر رکھنا

Sequestrate, v. t. To sequester ; to separate : امانت کے طور پر رکھنا - الگ کرنا - جدا کرنا

Sequestration, n. Retirement ; seclusion from society : علیحدگی - گوشہ نشینی - عزت

Seraglio, (se-rel-yo) n. The palace of the Turkish Sultan ; a harem : محل سرا - حرم

Seraph, n. An angel of the highest order : ابراہیم - اعلیٰ درجے کا فرشتہ

Seraphic, a. Angelic ; sublime : - پاک - فرشتہ سا - محلا

Seraphim, n. pl. Angels of the highest rank : اعلیٰ درجے کے فرشتے

Sere, a. Dry ; withered ; sear : خشک - مرجھایا ہوا - پژمردہ

Serenade, n. A musical performance in the open air at night in compliment to a lady : رات میں میمنہاں کا ناچ - نغمہ سراوی جو عاشق شب کو معشوقہ کے درپہچہ کے نیچے کرتا ہے

Serene, Clear ; calm ; undisturbed : صاف - ساکد - بے حرکت - باقرار - حلیم

Serenity, n. Calmness ; clearness ; stillness ; peace : سکون - خاموشی - صلح - اطمینان خاطر

Serf, n. A slave employed in husbandry ; a vassal : غلام - جوتہا

Serfdom, n. The state of serf : غلامی

Serge, n. A woollen twilled stuff : سرج - ایک قسم کا اونٹنی کپڑا

Sergeant, n. A non-commissioned officer in the army : سارجنٹ

Sergeant-major, n. A non-commissioned officer who acts as assistant to the adjutant : سارجنٹ میجر - ایک فوجی عہدہ دار

Serial, a. Pertaining to or consisting of a series : **n.** A periodical publication ; a tale or book issued in a series

رسالہ - جو اخبار کی طرح وقت میں سے ہر شائع کیا جاوے - قصہ یا کتاب کا سلسلہ

Seriate, a. Arranged in a series : سلسلہ وار

Sericeous, a. Silky : ریشمی

Series, n. A connected succession ; an order : سلسلہ - ترتیب

Serious, a. Grave in manner or disposition : سنجیدہ - weighty ; solemn ; devout ; earnest : بھاری - گہمبھیر - مصروف - مشغول - متوجہ

Syn.—Grave, solemn, important, weighty. **Ant.**—Light, thoughtless, trivial, volatile.

Seriousness, n. Gravity ; earnest attention : سنجیدگی - توجہ - اہمیت

Sermon, n. A printed religious discourse : دینی نصیحت - وعظ

Sermonise, v. t. To preach ; to write sermons : وعظ کہنا - دینی نصیحت دینا

Serpent, n. A snake : مار - سانپ - افعی - ناک

Serpentine, a. Like a serpent : * سانپ سا - پیچدر - تیرھا - اہریا دار - Spinal ; crooked : واد مصرعہ جو جس لفظ سے شروع ہو اوسے پہر **verse** ختم ہو

Serpentize, v. t. The meander : سانپ کی طرح پیچ کہنا - لہرائنا

Serrated, a. Notched on the edge like a saw : دندانے دار - آڑے کی شکل کا

Serration, n. Formation in shape of a saw : آڑی کی سی بناوٹ

Scrum, n. The thin part of the blood : مٹا لعلین - خون کا پانی

Servant, n. One who serves ; a domestic : خادم - نوکر - ملازم - خدمتگار

Serve, v. t. To work for : * To obey : * To obey servilely ; to worship : فرمانبرداری کرنا - پرستش کرنا
To conduce to ; to promote ; to deal out ; to be sufficient : * * * * * **To wait ; to attend ; to be sufficient ; to answer :** * * * * *
To—out, to distribute : * * * * * **To—one out, to take revenge upon :** * * * * *
To—up, to place on table : * * * * * **To—a summons, a warrant, to read it,**

and to seize the person against whom it is issued : **To—an attachment**, مناصب ادا : **To—an office**, کاغذ دی تعمیر کرنا : **To—a process**, **To—notice**, **To—the time**, وقت کے موافق کام کرنا

Syn. Obey, minister to.

Service, n. Act of serving ; occupation of a servant ; office ; employment : - خدمت گزاری : **Worship** ; devotion : نذر کرنا - کام - ملازمت : **Naval duty** : بحری فرائض : **Benefit** : فائدہ : **Order of dishes at table** : لڑائی یا جنگ میں رکاوٹ رکھنے کی ترتیب شامل ہونا

Serviceable, a. Beneficial ; useful : کار آمد - مفید

Serviette, n. A napkin for the table : تولیا - زومال

Servile, a. Slavish ; mean ; meanly submissive ; cringing : نذر کرنا سا - سہیہ - نروماہ - چاپاوس - خرواشادی

Syn.—Slavish, mean, fawning, supple.
Ant. Independent.

Servility, n. State or quality of being servile ; mean submission : غلامانہ اطاعت

Servitor, n. A servant ; an attendant : نوکر - خدمتگار

Servitude, n. Slavery ; bondage : غلامی - بگری - تابعداری - اطاعت - حکم برداری

Sesame, n. An annual herbaceous plant with oily seeds : کنجد - تل - سوسم

Session, n. The actual sitting of court, council, legislature, etc., for the transaction of business ; time or term of sitting : سشن اجلاس - عدالت - وقت اجلاس عدالت

Sesspool, n. A cavity sunk in the earth for sediment or liquid filth : چھتہ بچھتہ

Set, v. i. To seat ; to place ; to fix ; to stop ; to predetermine ; to dispose ; to assign ; to plant ; to adjust ; to display ; to regulate : - بیٹھانا : رکھنا - جزا - قائم کرنا - روکنا - ٹھہرانا - بد ترتیب لگانا - مقرر کرنا - گاڑنا - درست کرنا - ظاہر کرنا -

برخلاف : **To—against**, to oppose : **To—aside**, to omit for the present : **To—abrogate**, to annul : منسوخ یارد کرنا : **To—at defiance**, to defy ; to dare to combat : لکارنا : **To—at ease**, to quiet ; to tranquillize : **To—at large**, to liberate : رہا : **To—at naught**, to regard as of no value ; to dispise : **To—a trap or a snare**, to play a plan to inveigle a person : کسیکو پھنسانے کے لئے دام پھیلانا : **To—at work**, to cause to begin work : کام میں لگانا : **To—down**, to place on the ground : **To discomfit** : **To—fire**, to apply fire to : آگ لگانا : **To—forth**, to display : شروع : **To explain** : **To—off**, to adorn : **To arrange** : **To apportion** : **To—on foot**, to start : **To—right**, to correct : درست : **To—sail**, to raise anchor : **To—the Thames on fire**, to distinguish oneself by doing something astonishing : **To—up**, to erect ; to establish : **To propose** : **set by the compass**,

Set, v. i. To pass below the horizon ; to go down ; to congeal ; to begin : **To—about**, to begin : **To—forth**, or **forward**, to march ; to advance : **To—in**, to begin : **To—on or upon**, to assault : **To—up in trade**, **Dead**—, **To be at a dead—**,

- Set off, n.** A decoration : آرائش * A counter-claim : رقم معبرائی
- Setose, a.** Bristly : خار دار - کٹیلا
- Settee, n.** A long seat with a back : کچھ دار : چوکی - پشت دار بیچ
- Setter, n.** A dog trained for hunting birds : منادی کرنے والا شکاری کتا * A—forth, کرنے والا * A—on, ہونے والا
- Settle, n.** A bench with a high back; a seat : اونچی اور تھپی * *v. t.* To establish ; to decide ; to compose ; to lower ; to colonize ; to liquidate : ساکن بنانا - آباد کرنا - ادا کرنا - بیٹھانا - دھیمہ کرنا - بٹھانا * *To—on or upon,* * *This being settled,* جب یہ بات قرار پا چکی * *v. i.* To become fixed or permanent ; to subside ; * *rest :* جمانا - مقیم ہونا - مستقل ہونا - تہہ نشین ہونا - آرام کرنا
- Settlement, n.** Act of settling : تمام * Adjustment ; A settled place or abode : * *بستی ; arrangement :* انتظام * A colony : حق زوجگی - مہر - استماری * *A jointure* * نو آبادی * *Abstract of—* روکار - بندوبست * *proceeding,* گوشوارہ بندوبست
- Settler, n.** One who settles ; a colonist : خورش باش بسنے والا
- Seven, n.** The number greater by one than six : سات - ہفت
- Seven-fold, a.** Repeated seven times : ست گنا
- Seventeen, a.** Seven and ten : سترہ
- Seventeenth, a.** The ordinal of seventeen : سترہواں
- Seventh, a.** The ordinal of seven : ہفتم
- Seventieth, a.** The ordinal of seventy : سترواں
- Seventy, a.** Seven times ten : ستر
- Sever, v. t.** To part or divide by violence ; to disunite ; to keep apart : جدا کرنا - پھاڑنا - چیرنا - علیحدہ کرنا - الگ رکھنا
- Several, a.** Distinct ; different ; more than two but not very many : علیحدہ علیحدہ - مختلف - کئی - متفرق
- Severally, ad.** Separately ; each by itself : جدا جدا - فرداً فرداً
- Severance, n.** Separation ; partition : علیحدگی - جدائی - تقریق
- Severe, a.** Serious ; grave ; harsh ; strict ; painful ; exact ; searching : سنجیدہ - گمبھیر - سخت - قہر - تکلیف دہ - سخت گیر
- Severity, n.** Extreme strictness ; austerity ; harshness : سختی - بے رحمی - شدت - درشتی
- Sew, v. t.** To unite or fasten together with a needle and thread : * *v. i.* To practise sewing : سلائی کرنا
- Sewer, n.** A drain or passage to convey water and filth underground : ٹالی - بدرو - مری
- Severage, n.** The system of sewers : شہر کی صفائی - انتظام بدرو
- Sex, n.** The distinction between male and female ; womankind : تذکیر و قانیث - جنس - عورت ذات
- Sexagenarian, n.** A person of the age of sixty years : ساٹھ برس کا بچھا - ساٹھا
- Sexagesima, n.** The second Sunday before Lent : لنت کے تہوار کے پہلے دوسرا یکشنبہ
- Sexdigitate, a.** Having six fingers or toes : چھ انگلی والا
- Sexennial, a.** Lasting six years or happening once in six years : چھ برس - شش سالہ
- Sextant, n.** The sixth part of a circle : دائرہ کا ایک آٹھ ہندسی جو دائرہ کے چھ حصے میں شکل کا ہوتا ہے
- Sextillion, n.** The sixth power of a million : دس لاکھ کی چھٹی قوت
- Sexton, n.** An under officer of the church ; a grave digger : کرجے کا ایک عہدہ دار - متولی - کورن
- Sextuple, a.** Sixfold : چھ گنا - شش چند
- Sexual, a.** Pertaining to sex or sexes : متعلق بہ مردوں
- Shabbily, ad.** Meanly : میلے پن سے - گندمی سے
- Shabby, a.** Clothed with ragged or soiled garments ; mean ; paltry : میلے کپڑے پہنے ہوئے - سڑیل - گڈڑا - کچھلے - رزیل - حقیر

Shackle, v. t. To fetter ; to chain ; to tie ; to impede : پا - رکنا - بند کرنا - زنجیر ڈالنا - بند کرنا - پکڑنا * n. A fetter ; a chain ; a gyve : - پکڑی - زنجیر - ہتھکڑی

Shade, n Shadow : سایہ - Obscurity : پرچھائیں * Screen : چھائیں - پٹا : Shelter * A faint representation : پردہ بھرت - ہمزاد * A glass—, v. t. To screen from light ; to obscure ; to shelter : سایہ کرنا - دھوپ سے بچانا اندھیرا کرنا - بچانا

Shades, n. pl. The region of dead ; total darkness : مردوں کا مقام - تاریکی

Shadow, n. Shade within defined limits ; a faint representation ; something unsubstantial ; a ghost ; shelter : عکس - سایہ - ظل - پرچھائیں - ہمزاد - سایہ * v. t. To cut off light from ; to cloud ; to darken ; to make cool ; to protect ; to screen ; to represent faintly : روشنی نہ آنے دینا - بادل چھانا - تاریک کرنا - تھمنا کرنا - بچانا - پردہ ڈالنا - ہلکی تصویر کھینچنا

Shaft, n. An arrow : تیر * Straight part of a column : مینار * The spire of a steeple : تنا * The stock of a feather or quill : پر کی تختی * Passage into a mine : کان کا راستہ

Shag, n. Rough woolly hair ; rough hair cloth ; a species of tobacco : چھبرے بال - ایک قسم کا ارنی * v. t. To make rough or hairy : چھبرے بال کا بنانا - کھرردرا کرنا

Shaggy, a. Rough with long hair or wool ; rugged : چھبرا - کھرردرا - ناھوار

Shagreen, n. A rough species of leather : ایک قسم کا چمڑا - کیمضت

Shah, n. The title of the king of Persia : شاہ - خطاب شاہ فارس

Shake, v. t. To agitate ; to make to tremble or shiver ; to endanger ; to frighten ; to weaken ; to throw off or down : ہلانا - لرزانا - خطرہ میں ڈالنا * To—hands, to clasp right hands together mutually : ہاتھ ملانا - مصافحہ کرنا * To ratify an agreement : ہاتھ مارنا * To—hands with, to take leave : to part : رو اندھونا

—the head, to express disapprobation or refusal : سر ہلانا - انکار کرنا - منع کرنا * v. i. To tremble ; to shiver : کانپنا - لرزنا - ڈگمگانا - تھر تھرانا

Shake, n. A wavering motion ; agitation ; shock ; tremor : * No great—s, The—s, کرٹے بڑے بات نہیں لڑے - جازے کا بھڑا

Shakedown, n. Any temporary substitute for a bed : عارضی بستر

Shako, n. A military cap : فوجی ٹوپی

Shaky, a. Full of slits or cracks ; feeble ; loosely put together : شکاف دار - پھٹی ہوئی - کمزور - ڈھیلی

Shale, n. A shell or husk : چوہکا * A crumbling variety of slate : ایک قسم کا پتھر

Shall, An auxiliary verb : استقبال کی علامت جیسے ہندی میں کا

Shallop, n. A large two-masted boat, usually rigged like a schooner ; a small boat with lug sails : کشتی - ناز - دو مسول کی ناز - ڈونگی - پندرہ ٹی

Shallot, n. A kind of onion : ایک قسم کا پیاز

Shallow, a. Having little depth ; superficial : پایاب - چھچھلا کنارا * n. A place where the water is not deep ; a shoal :

Sham, n. A false pretence ; a fraud ; imposture : جھوٹا - بناوٹ - جھوٹا حیلہ - پوکھتہ * A—fight, a pretended fight or engagement : جھوٹی لڑائی - جنگ - زرتی

Sham, v. t. or i. To deceive ; to cheat ; to make false pretences : دھوکا دینا - فریب دینا - حیلہ کرنا - جھوٹے مرث کہا کہ * Sham Abram, دھاندلی کرنا میں بھمار ہوں

Shamble, v. i. To walk awkwardly ; to shuffle : بھدے طور پر چلنا - منگ کر چلنا - بد خرامی سے چلنا

Shambles, n. pl. A slaughter-house : مذبح - تصاب خانہ - کھیل

Shame, n. Consciousness of fault : ندامت - بے عزتی - نفرت * Disgrace ; reproach : ہشیمانی * For shame, شوم - عبرت - لاج * Modesty : تعظیم * To put to—, To make ashamed ; to cover with reproach : شرمندہ کرنا - ذلیل کرنا - غیرت دلانا

Shamefaced, a. Bashful : - شرمگین - محجرب - شرمسار

Shameful, a. Bringing shame or disgrace ; scandalous ; disgraceful : - زبون - شرمنازیرالا - ناشایستہ

Shameless, a. Destitute of shame or modesty ; brazen-faced : - بے شرم - بے غیرت - بے حیا

Shammy, n. A kind of leather prepared from the skin of the chamois : - چمڑا کا چمڑا - نری

Shampoo, v. t. or i. To rub and press the limbs after warm bathing ; to cleanse the hair : - حمام میں - بدن کو کیسے سے ملنا - چھو کرنا - باں صاف کرنا

Shamrock, n. A white trefoil of clover : - تھلیا - تین پتی کی گھاس

Shank, n. The lower joint of the leg from the knee to the foot ; long part of a tool : - ٹانگ کی - ٹاپی - پنڈلی - ساق - ذنقی

Shanty, n. A mean dwelling ; a hut : - گھوٹا - جوڑنیزا - کوریا

Shape, v. t. or i. To form ; to mould ; to image : - شکل - External form or figure ; make ; cut ; pattern ; idea : - صورت - ساخت - بناوت - قطع - وضع - نمونہ - خیال - تصور

Shapeless, a. Destitute of regular form : - بدقطع - بدوضع - بے قسما بدصورت

Shapely, a. Symmetrical ; well-shaped or formed : - سرقول - خوش اندام - خوش قطع - بافرینہ

Shard, n. A piece of fragment of an earthen vessel : - ٹھیکرا - ٹھیکرا - کھپرا - اندے کا چھلکا

Share, n. A part ; allotment : - حصہ - بخرہ - ہل کا - *v. t. or i.* To part among two or more ; to divide ; to have part : - حصہ - حصہ لینا - تقسیم کرنا - شراکت رکھنا

Shareholder, n. One who holds or owns a share in a joint stock : - حصہ دار - شریک

Sharer, n. One who shares : - شریک

Shark, n. A voracious sea-fish ; sharper : - شارق - مچھلی - مکار - ٹھنک - شیر دریا - فریبی

Shark, v. t. or i. To pick up hastily or slyly ; to swindle ; to live by shifts : - مکاری سے اوتھا لینا - ٹھگنا - دزدی کرنا - فریب سے زندگی بسر کرنا

Sharp, a. Having a very thin edge or fine point ; keen ; acute : - تیز - نوکیلا - **Vigilant** : - تیز نگاہ کا - **Witty** : - تیز ذہن - **Acid** : - تیز - **at a bargain** : - تیز - **practices** : - تیز - **Look** : - تیز نگاہ - **Sharp, n.** An acute sound : - تیز آواز - **A note in music** : - تیز کرنا - **To sharpen** : - تیز کرنا - **to cheat** : - تیز کرنا - **to grow sharp** : - تیز کرنا - **Sharper, n.** A tricking fellow ; a cheat : - ٹوک - دغا باز - دھوکا دھڑی کرنا - اچھا - **Sharpness, n.** Keeness of edge : - تیز - ابداری - چالاک - **Acuteness of intellect** : - تیز - **Painfulness ; severity** : - سختی - شدت - **Sharp set, a.** Hungry : - گرسٹہ - بھوکا - **Sharpshooter, n.** A good marksman : - اچھا کاریگر - ایسا نشانہ باز - **Shatter, v. t. or i.** To break at once into pieces ; to be broken into fragments ; to split ; to disorder : - ٹکڑے ٹکڑے ہونا - ٹکڑے ٹکڑے کرنا - چیرنا - **brained, inattentive ; giddy** : - بے قرار - پریشان - مضطرب - وحشی مزاج - شوریدہ سر - **Shatters, n. pl.** Broken pieces ; fragments : - ٹکڑے - زبرہ - پارچہ - **Shave, v. t. or i.** To cut or pare the surface off ; to cut in thin slices : - تراشنا - چھیلنا - پتلے ورق اوتارنا - **—, v. i.** To use a razor for removing the beard : - پتلے دھبے - **n.** A thin slice ; a shaving ; a cutting of the beard : - حجامت - تارھی کی تراش - **Shaver, n.** A barber ; a sharp-dealer : - حجام - ٹاپی - لٹیرا - **Shawl, n.** A cloth of wool, skin, cotton, etc., to cover the neck and shoulders : - شال - دوشالہ - روسال - گارینڈ - **She, pron.** This or that female : - یہہ یا وہ (عورت) - **Sheaf, n.** A bundle of stalks : - پولا - کٹھا - آنتی - **v. t. or i.** To collect and bind ; to make sheaves : - گٹھے باندھنا - پرلے باندھنا - **Shear, v. t.** To cut or clip with shear ; to reap : - قیچی سے کاٹنا - مقررہ کرنا - کاٹنا

Shears, n. pl. A cutting instrument with two blades :
قیچی - مقراض - کٹرنی

Sheath, n. A case for a sword or other long and slender instruments ; a scabbard :
میان - نیام -
فلان - خول

Sheathe, v. t. To put into a sheath ; to cover :
بند کرنا - ڈھکنا -
To sheathe the sword, صلیح کرنا - میان کرنا

Sheave, n. The wheel of a pulley :
چرخ یا پلے کا
پھیلا

Shed, v. t. To pour out ; to give forth ; to throw off :
پھاننا - نکالنا - چھوڑنا - چھوڑنا (کھینچ کر) -
اوسارا - * n. A slight building ; a hut :
(پر - پتے)
سائبان - چھپر - چھوڑنا

Sheeling, n. A hut ; a cottage :
چھوڑپتی - ٹہی

Sheen, n. Brightness ; splendour :
تھیلی - نور -
چارو - چمک

Sheeny, a. Bright ; glittering :
چمکیلا - روشن -
چمکتا ہوا - تابناک

Sheep, n. Sing. and pl. A small ruminant animal valued for its flesh and wool :
بھینس - بھینسی - میش -
A silly fellow :
A clergyman's congregation :
A black—, a sinner.
سادہ لوح آدمی :
جماعت کی جماعت :
بدکار آدمی

Sheep-cot, n. A small inclosure or pen for sheep :
گرنڈا - بھینسونکا بازرا

Sheeps eye, n. A loving sly look ; a wishful glance ; an amorous leer :
محبت کی نظر - حجاب -
چشمی - آرزو کی نگاہ - عاشقانہ کج نگاہ

Sheepish, a. Bashful ; timorous :
شرمیلا - قریبوی

Sheer, a. Separate ; pure ; simple ; perpendicular :
الگ - بے میل - صاف - سادہ - خالص - سیدھا

Syn. — Pure, unmixed, simple, mere.

Ant. — Mixed, partial.

Sheer, ad. Clean ; at once ; right off :
صاف -
نوراً - قریب - جلد

—, n. The bend of a ship's deck :
چہاز کے تختے :
* v. t. To deviate from the line of the proper course :
* To — off, تریب
* To — up, کھسکا - سٹکنا - کٹرا جانا
آنا - آن لگنا

Sheet, n. A broad piece of cloth for a bed :
* A piece of paper :
* A rope fastened to the lower corner of a sail to extend it :
* ٹاؤ -
* کاغذ کا تختہ -
* تاز
* رسی جو پال کے نیچے کے حصے میں پھیلائے
کے لئے لپی رہتی ہے

Sheet-anchor, n. The largest anchor of a ship ; the chief support ; the last refuge :
سب سے بڑا
انکر - مدد - آخری پناہ - بھروسا

Sheik, n. A chief among the Arabs :
شیخ

Shekel, n. An ancient Jewish coin worth about 2s 6d :
یہودیوں کا ایک قدیم سکہ

Shelf, n. A plank for holding utensils, books, etc. :
* A flat projecting rock :
چھٹا نکلا ہوا چٹان

Shelfy, a. Full of rocks and shoals :
چٹانوں سے
بھرا ہوا

Shell, n. The hard covering of anything :
* A carapace :
* A slight coffin :
* To take out of the shell ; to cast the shell :
* To bombard :
چولکا -
* سنکھہ - کورتی
* کھانسی - کھانسی
* r. ۴. * A slight coffin :
* بم کا گمرا
* or i. To take out of the shell ; to cast the shell :
* چھیلنا - دانے کو بال سے نکالنا -
* چھلکا پھینکا
* بم کے گولوں سے اورا دینا

Shellace, n. The resin lac spread into thin plates :
چٹرا - لاکھ

Shell-fish, n. Fish covered with a shell as oysters, clams, etc. :
گھونٹھا - سیپ دار مچھلی

Shelter, n. A refuge ; a protection :
پناہ - آڑ -
سرن - سلامتی - امن - حفاظت

Syn. — Asylum, refuge.

Ant. — Exposure.

—, v. t. or i. To defend ; to protect ; to disguise ; to take shelter ; to betake to cover :
بچانا - حفاظت کرنا - چھپانا - پناہ لینا - دامن پکڑنا

Shelve, v. t. or i. To place on a shelf ; to postpone :
* طاق پر رکھنا -
* طاق سے علق رکھنا - ملتوی کرنا
To incline :
* جھکنا - ڈھالو ہونا

Shelvy, a. Full of rocks or sandbanks ; shallow :
چٹانوں اور ترارونے بھرا ہوا

Shepherd, n. One that tends and guards sheep ; a swain :
گدیا - چروان - شبان - گاہ بان - چرواغا

Shepherdess, n. A woman that tends sheep ; a rustic lass :
چرواغن - دھاتی عورت

Sherbet, n. A drink composed of water, lemon juice and sugar : شربت - شربت لیمو

Sheriff, n. The chief executive officer of a shire or county : شہر یا ضلع کا خاص حاکم

Sherry, n. A Spanish wine : اسپین کی شراب

Shield, n. An armour for defence ; an escutcheon ; defence ; protection : ڈھال - سپر کی تصویر : جیسپر امیڑوں کی خاندانی علامت منقش ہوتی ہے - پناہ - *r. t.* To cover as with a shield ; to protect ; to ward off : ڈھال روکنا - بچانا - روکنا

Shift, r. t. or i. To change ; to transfer : بدلنا - *To dress in fresh clothes ; to move ; to change one's occupation ; to contrive :* نئے کپڑے پہننا - تبدیل لباس کرنا - پانا نیا پیشہ اختیار کرنا - *To - about, to turn round to an opposite side :* پھرتنا - *To - off, to defer :* دیر کرنا - ملتوی رکھنا - ڈالنا

—, n. A change ; a refuge ; last resource ; fraud ; trick ; subterfuge : تبدیلی پناہ - آخری *Woman's under-garment :* چارہ - فریب - حیلہ - پھانہ *To make —, to strive :* تدبیر کرنا

Shilling, n. An English silver coin, worth 12d : شلنگ

Shilly-shally, n. Indecision ; irresolution ; trifling : شش و پنج - پس و پیش - بے استقامت

Shimmer, r. t. To gleam ; to glisten : چمکنا - روشن ہونا - جھلکانا

Shin, n. The fore-part of the leg : پیش ساق - پنڈلی کی ٹلی

Shine, r. t. To emit rays of light ; to gleam ; to be gay, splendid or conspicuous ; to be glossy : نور ایشاں ہونا - چمکنا - خوبصورت ہونا - *To cause the face to shine upon,* * *رونق دار ہونا - چمکانا ہونا* * *نظر عنایت کرنا - مہربانی کرنا* * *Fair weather ; brightness ; lustre :* دھوپ - *To take the - out of a person,* * *منہ کرنا - مات کرنا*

Shingle, n. A thin board : Loose gravel and pebbles on shores and coasts : *پتھر - ٹھٹھی* - *سہارنیزہ - کنگری*

Shingle, n. t. To cover with shingles or tiles : پتلے ڈھکنے یا کپڑے سے چھاننا

Shingles, n. pl. An eruptive disease : ایک بیماری - کھجپی - داد - خارش

Shiny, a. Bright ; luminous : چمکیلا - منور - درخشاں

Syn. - Brilliant, sparkling.

Ant. - Dull, opaque.

Ship, n. Any large sea-going vessel : جہاز * **— of desert, the camel :** اونٹ * **To take —, جہاز** * **On-board,** جہاز پر سوار ہونا

—, r. t. or i. To put on board a ship for transportation ; to engage for service on board to ship ; to embark : جہاز پر لادنا - جہاز کی نوکری کرنا - جہاز پر سوار ہونا

Shipment, n. The goods shipped : مال جو جہاز پر لادا جائے

Shipwreck, n. The destruction or loss of a ship at sea : جہاز کی تباہی

Shipshape, a. Orderly ; trim ; tidy : پائرتیب - قویک ٹھک - سچل - درست

Shire, n. A country ; a territorial division : ضلع - علاقہ - قطع ملک - کوٹی

Shirk, v. t. or i. To avoid or get off from duty : **n.** One who avoids duty : کام چور - جی چرانا - پہلو تھی کرنا

Shirt, n. A man's under-garment : کمرتہ - شرت

Shive, n. A slice ; little piece or fragment : ٹکڑا - پھانک - کھپائی

Shiver, n. A small piece or fragment ; a thin slice : **The shivers,** * *ٹکڑا - پھانک - پتلا ٹکڑا* * *ague, chills :* تپ - بخار

Shiver, v. t. or i. To break into small pieces ; to shatter ; to tremble ; to shake : ٹکڑے ٹکڑے کرنا - چور چور کرنا - کانپنا - تھرتھرانا

Shoal, n. A crowd ; a throng : *گروہ - غول* * *A sand-bank or bar :* تھل - پایاب - اٹھاپی جگہ * **v. t. To throng ; to become more shallow :** *پت جانا - چھوٹا ہونا* * *to become more shallow :* ریتی بڑ جانا - چھوٹا ہو جانا

Shoat, n. A young hog : گھینٹا - سور کا بچہ

Shock, n. A sudden shake, a collision ; a violent onset ; a sudden blow ; conflict ; offence : دھماکا - **Abhorrence :** * *صدمة - ٹکر - ضرب - مقابلہ - رنجش* * *نفرت*

Shock, v. t. To strike with surprise or disgust :
 * To strike with dread ; to terrify :
 * To offend :
 * To collide, * To modesty,

Shocking, n. Causing a shock of horror, disgust or pain ; offensive ; repugnant :

Shoddy, n. Cloth made from old woollen cloths and refuse goods :

Shoe, n. A covering for the foot ; iron under a horse's foot :
 * To stand in another's—s to occupy the place of another ; to succeed :

Shoe-maker, n. One who makes boots and shoes :

Shog, n. A shake ; jog :

Shoot, v. t. or i. To discharge ; to dart ; to let off ; to fire ; to bid ; to jut :
 * To—ahead, to outstrip :
 * To—at, to aim at ; to fire at :
 * To—forth, to sprout :
 * To—out, to project :
 * To—wide of the mark, * n. A young branch :

Shop, n. A building for work or trade :
 * v. i. To visit shops for purchasing goods :

Shop-keeper, n. A tradesman :
Shop-lifter, n. One who under pretence of buying takes occasion to steal :
Shore, n. The coast of a sea ; a prop :

Short, a. Not long ; brief ; scanty ; wanting ; not tall :
 * In—, in few words ; briefly :
 * To come—, to fall below expecta-

tions ; to fail :
 * To stop—, to stop abruptly :
 * The long and the—, a brief summing up :
 * At—notice, * To break—, * Come—, * The long and—, * The triumphing of the wicked is—,

Short, n. Summary :
 * To breathe short,

Shorten, v. t. To make shorter ; to curtail :

Short hand, n. Abbreviated writing ; stenography :

Shortly, ad. Quickly ; briefly :

Short rib, n. One of the lower or false ribs :

Shorts, n. pl. The bran and coarse part of meal :

Short-sighted, a. Unable to see far ; heedless :
 * -

Shot, n. Act of shooting :
 * A missile :
 * Ball ; bullet :
 * Distance a ball goes :
 * Sum charged ; reckoning :
 * A good—, * n. A young branch :

Should, v. i. Imp. of 'shall' denoting intention or duty :
 * Should I see him I'll inform him, * It—be a rule, * -

Shoulder, n. The joint which connects the arm to the body ; a support :
 * The cold—, a cold or cool reception of a person :
 * To put one's—to the wheel, to give effective help :

Shoulder, v. t. To jostle ; to put on the shoulder :

Shoulder-blade, n. The broad bone to shoulder :

Shout, v. t. or i. To utter a sudden outcry ; to cry : **پکارنا - چلاٹا - پکارنا** ; **A loud cry ;** **نعرہ - جے جے کار** ; **applause :**

Shove (shuv), v. t. or i. To push by direct strength without a sudden impulse ; to propel ; to press against ; to push off : **دھکیلنا - دھلنا - دھکا دینا** * **To—by,** **دھکا دینا** * **n.** A push ; a sudden impetus : **دھکا - دھکا دینا**

Shovel, n. A kind of spade with a broad blade slightly hollowed for throwing earth, grain, &c. : **پیلچہ** * **v. t.** To throw with a shovel : **پیلچہ سے ڈالنا**

Show, v. t. or i. To display ; to exhibit ; to point out ; to guide ; to prove ; to appear ; to look : **دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے** * **To—about,** **دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے** * **To—forth,** **دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے** * **To—off,** **دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے** * **To—up,** **دکھانا - دکھانے - دکھانا - دکھانے** * **To expose :**

—, n. A spectacle ; ostentatious display ; parade ; appearance ; exhibition : **تماشہ - سیر - نمائش - تکلف - نمود - ظاہر - دکھانا - دکھانا**

Shower, n. A fall of rain or hail of short duration : **پہرہار - پھوہار - پھوہار** * **v. t. or i.** To water with a shower : **پھوہار** * **To rain in showers :** **پھوہار - پھوہار**

Showery, a. Rainy : **بارانی - برسائی**

Showman, n. One who exhibits shows : **تماشہ کرنے والا**

Showy, a. Gaudy ; ostentatious : **نمائشی - زرق - برق - بھڑکے**

Shred, v. t. To cut into small pieces : **پاش پاش کرنا** * **n.** A small piece cut off ; a strip ; a fragment : **پاش پاش کرنا - پاش پاش کرنا - پاش پاش کرنا**

Shrew, n. A peevish, spiteful woman ; a scold : **چھڑچھڑی عورت - کرسا - لڑائی**

Shrewd, a. Mischievous : **Artful : حریف - نت کہت** * **Cunning :** **مکار - ہوشیار - چالاک** * **Sharp-sighted :** **تیز فہم - چاند - چالاک**

Syn.— Keen, vexatious, artful, critical.

Ant.— Undiscerning.

Shrewdness, n. Astuteness ; sagacity : **ہوشیاری - تیز فہمی - چالاک**

Shriek, v. t. or i. To utter a sharp, shrill cry : **نعرہ - جے جے کار** * **n.** A shrill outcry ; a scream : **نعرہ - جے جے کار**

Shrift, n. Confession made to a priest ; absolution : **پادری کے سامنے گناہ کا اقبال - نجات**

Shrike, n. The butcher bird : **ایک خونخوار پرند**

Shrill, a. Uttering an acute sound ; sharp ; piercing : **تیز اور مہین** * **v. t.** To sound in a sharp shrill tone : **تیز آواز دینا**

Shrimp, n. A long tailed decaped crustaceous animal, allied to the lobster : **چھینکا - چنگڑی**

Shrine, n. A sacred place : **مندر - تیرتھ** * **A tomb** * **A reliquary :** **مزار - درگاہ - درگاہ کا صندوق**

Shrink, v. t. or i. To shrivel ; to recoil ; to retire ; to cause to contract : **سکڑنا - ہچکنا - پیچھے ہٹنا** * **n.** Contraction : **سکڑنا - سمیت - چھکنا - کٹنا - چمت**

Shrive, v. t. or i. To hear the confession of ; to receive confessions : **گناہ کا اقرار سننا - گناہ کا اقبال** * **کرنا**

Shrivel, v. t. or i. To contract into wrinkles ; to shrink : **چھری پڑنا - سکڑنا - سمیتا - سکن پڑنا**

Shroud, n. The covering of a corpse ; a winding sheet : **تکھین کرنا - چھپانا** * **v. t.** To cover with a shroud ; to shelter :

Shrouds, n. pl. Large ropes in a ship to support the masts : **سہارے کی رسی**

Shrovetide, n. The days immediately before Lent : **عسائیدوں کے چلے کے قبل کے دن**

Shrub, n. A low, dwarf tree ; a woody plant : **چھوٹا درخت - چھوٹا - بوٹا**

Shrubbery, n. A collection or plantation of shrubs : **چھوٹے درخت**

Shrubby, a. Full of shrubs : **چھوٹے درخت سے بھرا ہوا**

Shrug, v. t. or i. To draw up ; to contract ; to raise or draw up the shoulders : **سکڑنا - سمیتنا** * **n.** A drawing up of the shoulders : **سکڑنا - سمیتنا** * **n.** A drawing up of the shoulders : **سکڑنا - سمیتنا**

Shudder, *v. i.* To quake ; to tremble : - لرزنا
لرزه - کپکپی - تھرتھراہٹ * *n.* A tremor : تھرتھراہٹ

Shuffle, *v. t. or i.* To change the position of cards ; to evade ; to prevaricate : * ٹالنا - حیلہ کرنا :
ٹاش کا ملانا یا اہتر کرنا - درہم برہم To confuse :

To push from one to another : دست بدست * کرنا

To—about, to move idly about : بیچارہ * پھیرنا

To—off, to get rid of : پانا * دھانی پانا * کرنا

To push off : * دبی رہنا - کھسک جانا : slink away :

To—off the mortal coil, to die : * مٹانا

To shuffle : * مرجانا - گذر جانا - چرلا چہرڑنا

چہرپ چہاپ کرنا up—

Syn.—Equivocate, prevaricate quibble.

Shuffle, *n.* A change in cards ; an artifice : تاش
کی ہینرا پھیرنی - دعوکا - چکر مکر - ٹال مٹول

Shun, *v. t. or i.* To avoid ; to try to escape ; to decline :
پڑھیز کرنا - کنارہ کرنا - بچنا - ٹالجانا - انکار کرنا - اجتناب کرنا

Shunt, *n.* A siding off the main line of railway :
ریل کا دوسرے سڑک پر جانا

—, *v. t. or i.* To move railway carriages from one line to another ; to go aside ; to turn off :
راستہ بدلانا - راستہ چہرڑنا - کنارہ ہونا - مڑنا

Shut, *v. t. or i.* To close ; to exclude ; to confine ; to prohibit ; to become closed : - بند کرنا - باہر کرنا :
* To—in, خارج کرنا - قید کرنا - منع کرنا - بند کرنا
* To—off, to exclude ; to intercept : خارج کرنا - باہر کرنا :
* To—out, to preclude from entering : روکنا
* To—up, to make fast : بند کر دینا :
* To imprison : * ٹھہرنا : To inclose :
ختم کرنا : terminate :

Shutter, *n.* A close cover for a window or other aperture : کیرازا - جھلم

Shuttle, *n.* An instrument used in weaving : تھری - ٹاری

Shuttlecock, *n.* A cork stuck with feathers : پردار گیند

Shy, *a.* Reserved ; bashful ; suspicious : کشیدہ -
* *v. i.* To start as a horse ; to sheer : * کم ہٹن - شرمالو - شکی
پھونکا - چرکنا - کترانا

Shyness, *n.* Bashfulness : ناآشنامراجی - حجاب - شرم

Sibilant, *a.* Making a hissing sound ; uttered with a hissing sound : سنسناہٹ کی آواز کرتا ہوا -
جسکے تلفظ میں سسکاری پیدا ہو

—, *n.* A letter uttered with a hissing sound of the voice as *s* and *z* : [(س) و (ز)]
آواز سے بولے جاتے ہیں مثلاً (س) و (ز)

Sibilation, *n.* The act of hissing ; a hissing sound : سنسناہٹ - سسکار

Sibyl, *n.* A woman endowed with a spirit of prophecy : پیشین گو عورت

Siccative, *a.* Drying : خشک

Siccity, *n.* Dryness : خشکی

Sick, *a.* Affected with disease of any kind ; inclined to vomit ; disgusted ; indisposed : - مریض
* بیمار جسکا جی مچلانا ہو - دق - لوداس - ناساز

The—man, a name contemptuously given to Turkey : * ترکستان - Of—, بیزار
* کسی سے عادی - بیزار
—of heart, دل کا دکھی

Sicken, *v. t. or i.* To make sick ; to grow sick ; to grow weak ; to languish : بیمار ڈالنا - بیمار
ہونا - ایل ہونا - کمزور ہونا - دریل ہونا - گھٹنا

Sickle, *n.* A reaping hook : ہنسیا - درانتی

Sickly, *a.* Not healthy ; faint ; weak : مریض
روگی - کسمند - سست - کمزور

Side, *n.* The margin : * کنارہ - حاشیہ :
* غرض- پاس - خاطر : * Interest : * فریق : * طرف
* بغل - پہار : The part of the body about the ribs :

By the—of, near to : * پاس - بغل میں :
* پہار بہ پہار - ہواہر : close together and abreast :

To take a—, to embrace the opinions of one party in opposition to the other : * مل جانا :
* —issue, * کن آنکھی - تڑپھی نگاہ
گھمانے کے بہترن رکھنے کی میز board, * تنقیح-در تنقیح

—, *a.* Lateral ; indirect ; oblique ; collateral :
* *v. i.* To lean on one side ; to join a party : * بغلی
جانب داری کرنا

Sidelong, *a.* Oblique : تڑپھا

Sidereal, *a.* Starry : ستارونکا

Side-saddle, *n.* A woman's seat on horse-back :
بیبیانہ زین - عورتوں کے بیٹھے کا زین

Siding, *n.* A short line of rails on which trains are shunted from the main line : ریل کی بغلی لائن

Sidle, v. t. To go or move side foremost : پہلے رخ چلنا

Siege, n. Act of besieging a fortified place : معاشرہ اٹھا لینا * To raise a—, معاشرہ - تابعندی

Siesta, n. A short sleep taken about the middle of the day or after dinner ; a midday nap : دوپہر کا سونا - قیلوئے

Sieve, n. A utensil for sifting : چلنی - جھرنا

Sift, v. t. To separate by a sieve : چھاننا * To scrutinise : تحقیق کرنا - جانچنا

Sigh, v. t. or i. To inhale and expire audibly ; to grieve ; to lament : آہ بھرنا - افسوس کرنا - غم * n. A deep respiration ; a long breath : گہری سانس - آہ سرد

Sight, n. Act of seeing : دید - درشن * The faculty of vision : بصارت : Spectacle ; a show : بینائی * At—, * نمایش - تماشا * After—, on presentation : عندالطلب * Out of—, beyond the range of vision : دور * To take—, to take aim : درشنی ہنٹنی * A bill at—, نشانہ لگانا

Syn.—Vision, view, show, spectacle.

Sightly, a. Pleasing to the eye ; beautiful, conspicuous : خوشنما - پسندیدہ - زیبا - دیکھنے میں اچھا - نمایاں - کھلا

Sign, n. That by which anything is made known or represented ; a token ; a symbol ; signature ; an omen ; miracle ; monument ; an evidence ; gesture : نشان - علامت - چنہ - دستخط - شگون - کرامات - معجزہ - یادگار - ثبوت - اشارہ

Syn.—Token, mark, note, symptom.

Ant.—Misindication.

Sign, v. t. To signify ; to affix a signature to : دلالت کرنا - علامت کرنا - نشان کرنا - دستخط کرنا - العبد بنانا

Signal, n. A sign to give notice of some occurrence, danger, etc. ; an indication : خبر - نشان - علامت

Signal, a. Eminent ; remarkable : مشہور - نامور - * victory, * شکست فاش - defeat * قابل یادگار فتح نمایاں یا عظیم

Signalise, v. t. To make signal or eminent ; to indicate by a signal : نامور کرنا - مشہور کرنا - اشارہ سے (کسی بات کے) خبر دینا

Signally, ad. Eminently ; remarkably : نمایاں طور سے - فاش طور سے - خوبھی

Signature, n. A name or mark signed or impressed : امہد - دستخط - نشانی - علامت

Sign-board, n. A board on which one sets a notice of his occupation or of articles for sale : تختہ جسپر پیشہ والے اپنا نام اور پیشہ وغیرہ لکھ کر لٹنگ دیتے ہیں

Signet, n. A seal ; a private seal : شہر - شہر خاص - چوہاپ

Significance, n. Meaning : مطلب * Importance : قدر - ضرورت

Significant, a. Expressive of some fact or meaning ; important : با معنی - پر مطلب - نمایاں - عظیم

Signification, n. Act of signifying or making known ; import ; meaning ; sense : اشارہ - اظہار - ارثہ - معنی - مطاب

Signify, v. t. To make known by a sign ; to denote ; to intimate ; to mean : بتانا - ظاہر کرنا - بیان کرنا - مراد رکھنا - معنی رکھنا

Syn.—Express, manifest, declare.

Ant.—Conceal, hide, misindicate.

Silence, n. Stillness ; taciturnity ; muteness ; secrecy ; oblivion : سکوت - خاموشی - چپ - پوشیدگی - * Silence is consent, التزاموشی نیم رضا

Silence, v. t. To put to silence ; to quiet ; to confute : * خاموش کرنا - چپ کرنا - منہ بند کرنا - interj. Be silent : چپ - خاموش

Silent, a. Indisposed to talk ; mute ; still ; calm : * partner, * خاموش - دم بستہ - چپ - ساکت - سنسان شریک شکھی

Silently, ad. Quietly : چپکے سے - خاموشی سے - آہستہ سے

Silex, n. Flint and its metallic base : ایک قسم کا سنگ چقماق

Silicious, a. Containing silica ; flinty : تیزابی - چقماقی

Silk, n. The thread spun by the silk-worm and cloth made of it : ریشم یا ریشمی کپڑا

Silken, } a. Made of silk ; soft ; smooth : ریشمی
Silky, } ملائم - کومل - چمکتا

Silk-worm, n. A worm which produces silk : ریشم کا کپڑا

Sill, n. Foundation timber of a house or window :

دھلیز - داسا

Silliness, n. Foolishness : نادانی * **Simplicity :** سادگی لوحی

Silly, a. Simple ; foolish ; weak : - سادگی لوح - بیوقوف - نادان

Silt, n. Mud or fine earth deposited from running or standing water :

مٹی - ریگ

Silvan, a. Woody :

جنگلی - صحرائی

Silver, n. A soft white metal : - سیم - چاندی - روپا

—, a. Made of silver : * **To be born**

with a—spoon in one's mouth, to be born

to wealth : —wedding, * امیر کے گھر پیدا ہونا

the celebration of the 25th anniversary of a

wedding : * شادی کے بعد پچیسویں سالگرہ

slumber, میٹھی آواز * —voice, * میٹھی نیند

Silver, v. t. To cover with silver : - چاندی چڑھانا -

قنعی کرنا

Silvery, a. Made of or like silver : - سیمی - تقرنی -

چاندی سا

Similar, a. Resembling ; like : - ہمیشکل - مطابق -

مثل - یکساں

Similarity, n. Likeness ; resemblance : - مطابقت -

مشابہت

Similarly, ad. In like manner : - اسی طرز سے -

ایسے ہی

Simile, n. A similitude ; a comparison : - تشبیہ -

مشابہت

Similitude, n. Resemblance ; likeness ; com-

parison : مطابقت - تشبیہ - مشابہت

Simmer, v. i. To boil gently : آہستہ کھولنا - سنسانا

Simnel, n. A sweet cake : میٹھی پوری - مال پورا

Simony, n. The crime of buying or selling

ecclesiastical preferment : گرجا کے منصب کے خریدنے

یا فروخت کرنے کا گناہ

Simmon, n. A hot, dry wind that blows in

Arabia : باد سموم

Smile, v. i. To smile in a silly, affected and

conceited manner : * بناوٹ سے مسکروانا - تبسم کرنا

n. An affected, foolish smile : تبسم - بناوٹی

مسکراہٹ

Simple, a. Single ; plain ; artless ; silly ; inno-

cent ; honest ; clear : مفرد - سادہ - نرا - سیدھا -

بے - لا - بیوقوف - راست - صاف

Simple, n. pl. Medical herbs : ہرئی - جزئی

Simpleton, n. Silly person ; a fool : - سادگی لوح -

احمق

Simplicity, n. Singleness : * Plainness :

پہولائیں - سادہائی -

Artlessness ; silliness : سادگی لوحی

Simplification, n. Act of making simple :

آسان کرینیکا عمل

Simplify, v. t. To make simple ; to make plain :

آسان کرنا - صاف کرنا - سادہا کرنا

Simple, ad. Plainly ; artlessly ; foolishly .

صاف - صاف دلی سے - نادانی سے

Simulate, v. t. To assume the appearance of

without the reality ; to counterfeit ; to feign :

نقل کرنا - تقلید کرنا - بھیس بدلنا - بھانڈہ کرنا

Simulation, n. Assumption of a false or unreal

character : بناوٹ - ظاہرداری - مکر

Simultaneous, a. Existing or happening at the

same time : ہم عہد - ہم عصر

Simultaneously, ad. At the same time ; in

concert : ایک ہی وقت - ایک ساتھ ملکر

Sin, n. Disobedience of the divine command ;

depravity ; iniquity : * گناہ - پاپ - خطا

The seven deadly or mortal sins—, pride

covetousness, lust, wrath, gluttony, envy, and

sloth : (گناہ کبیرہ) سات مہلک گناہ - غرور - طمع -

v. i. To depart knowingly from the path of duty ; to err :

گناہ یا پاپ کرنا - خطا کرنا

Since, ad. In the past time ; ago : ازاں - بعد -

conj. Because ; * بعد پیدچھے سے .

prep. After : * پہلے

چونکہ - حالانکہ - چنانچہ - کیونکہ

در صورت - جبکہ - یہہ دیکھکر

Sincere, a. Pure ; real ; honest ; unfeigned ;

خالص - سچا - راست باز - بے ریا - صدق دل -

صاف باطن

Ant.— Hearty, honest, true, unfeigned.

Syn.— Dishonest, untrue, insincere.

Sincerely, ad. Honestly : - راستی سے -

صادقانہ

Sincerity, n. Freedom from disguise, pretence

or hypocrisy ; honesty : راست بازی - صدق دلی -

بے ریاہی - سچائی

Sinciput, n. The forepart of the head :

پیشانی

Sine, n. A straight line from one end of an arch :

جیب - مستوی - اس خطا صرد کا طول جز قطع دائرہ کے
* A Latin prefix signifying without :
بغیر

Sinecure, n. An office which has revenue without employment :

عہدہ چسپر کچھ کام نہ کرنا پڑے

Sinew, n. A tendon ; muscle :

* pl. گٹھا - عصب
Strength : قوت * v. t. To knit as by
sinews ; to strengthen ; to harden :
جوڑنا - گانٹھنا
مضبوط کرنا - سخت کرنا

Sinewy, a. Strong ; vigorous ; muscular :

قوی - زورآور

Sinful, a. Full of sin ; unholy ; wicked :

گنہگار - ناپاک - بد

Sinfulness, n. Depravity :

گنہگاری - پاپ - بدذاتی

Sing, v. t. or i. To utter musical or melodious

sounds ; to celebrate :
گانا - حمد کرنا - تعریف کرنا

To—to sleep, گانے کے سلا دینا

Singe, v. t. To burn slightly ; to scorch :

جلانا -
n. A slight burning of the surface :
جھلسنا

Singer, n. One skilled in singing :

قرال - گویا -
مطرب - یعنی

Singing, n. Music :

راگ - رنگ - گیت

Single, a. One only ; individual ; separate ;

alone ; unmarried ; pure ; sincere :
ایکلا - واحد -
مفرد - علیحدہ - تنہا - مجرد - کنارہ - خالص - صاف -

* v. t. To select from among a number :

انتخاب کرنا - چننا

Singleness, n. Sincerity ; simplicity :

صداقت -
راست بازی - سیدھاہٹی

Sing-song, n. A drawing tone in singing :

خراب گانا - بیدا سر

Singular, a. Single ; eminent :

واحد - تنہا -
انوکھا - نرالہ - نادر - بے نظیر - عظیم - بڑا

Ant. — Eminent, extraordinary, uncommon,
rare.

Syn. — Usual, common, customary, ordinary.

Singularity, n. Peculiarity ; oddity ; particular

privilege :
خاصیت - انوکھا پن - خاص استحقاق

Singularize, v. t. To make single ; to parti-

cularize :
علحدہ کرنا - چننا

Singularly, ad. Peculiarly ; oddly ; strangely

extraordinarily ; remarkably :
بالخصوص - عجب یا

نرالی طرح سے - غیر معمول طور سے - خراب

Sinister, a. On the left hand ;

چپ - بائیں
Bad ; unlucky ; dishonest :
خراب - منحوس - نا

مبارک - دعاغابز

Sink, v. t. or i. To immerse :

غرق کرنا *
To depress :
دبنا - گرنے - گھٹنا

To diminish :
* To make by digging :
* To fall beneath

To dissipate :
* To fall beneath
or below the surface :
نیچے کر بیٹھنا

Sink, v. i. To descend ; to decline ; to enter into :

جمع
Sinking fund, غرق ہونا

* n. A drain to carry off filthy water :

نالا - پرنالا - بدرزو

Sinless, a. Exempt from sin ; innocent ; pure :

بے گناہ - معصوم - پاک

Sinlessness, n. Exemption from sin ; inno-

cence ; purity :

بے گناہی - معصومیت - پاک

Sinner, n. One who sins ; an offender :

گنہگار -
گنہگار Sinner it or saint it, پاپی - بدکار

یا اولیا جیسا فعل کرتا

Sinuate, a. Curved and indented on the margin :

بہچدار :
* v. i. To wind ; to turn :
لہر دار

کرنا - لہریا ڈالنا - گھومانا - موڑنا

Situation, n. A bending or winding in and

out :
پیچ - لہر

Sinuous, a. Bending in and out ; winding ;

undulating :
بہچدار - لہر دار - تیرھا بانکا

Sinus, n. An opening ; a hollow recess ; a bay ;

شکاف - گڑھا - سوراخ - خلیج -
a deep-seated abscess :
تنگ منہ کا گہرا گھاہ

Sip, v. t. or i. To draw into the mouth ; to draw

in small quantities ; to drink a small quantity :

سوکنا - گھونٹ لینا - چوسنا - چسکی لگانا

Sip, n. A taste ; a mouthful :

چسکی - گھونٹ

Siphon, n. A bent tube for drawing off liquids :

قرچھی ٹلی

Sir, n. A title of address to a man :

صاحب - جناب :
A knight or baronet :
* — re-

verence, گستاخی معاف - بے ادبی معاف

Sire, n. A father :

* A word of respect in
addressing a king :
بڑا - بزرگ -
* v. t. * جہاں پناہ - بڑا

To beget ; to procreate :
جننا - پیدا کرنا

- Siren, n.** A mermaid noted for singing; an enticing or alluring woman. **بنت البحر - فریقتہ**
دلربا - **a. Enticing; fascinating:** * کرنیرالی مورت موهنی
- Sirius, n.** A very bright star: **کلب العبار - ایک**
بڑے تارے کا نام
- Sirloin, n.** A loin of beef: **گائے کی پشت کی پچھلی**
طرف کا گوشت
- Sirrah, n.** Sir, used contemptuously: **کلمہ تصقیر -**
ارے - رے - اے
- Sirup, n.** A solution of sugar in water; any sweet and viscous fluid: **شریعت - رس - شیر**
- Sister, n.** A female born of the same parents as another: **in law, a**
ہن - *** ہمشیرہ -** **ہن - جی جی** **نند -**
سالی - **بھوج - دیورانی - جیہانی**
- Sisterhood, n.** A society of females of the same order: **بہنہ پنا - وہ کل عورتیں جنکا طریق مذہب ایک ہو**
- Sit, v. i.** To be placed; to perch; to rest; to abide; to incubate; to brood; to meet officially; to fit: **بیٹھنا - نشست کرنا - بسیرا لینا - آرام کرنا -**
رہنا - **سینا - بندوں پر بیٹھنا - اجلاس کرنا - کچھری کرنا**
To—down, to place oneself on a seat: **To—out, to sit till all is done:** **To—up, to rise from a recumbent posture:** **Not to go to bed:** **To sit easy,** **تنگ نہ ہونا** * جاگتے رہنا
- Sit, v. t.** To keep the seat upon; to seat: **آسن -**
چمانا - بیٹھنا
- Site, n.** Situation; local position; place: **جائے -**
—of the village, **بستی - جاگہ - مقام - ٹھکانا -**
آبادی
- Sitting, n.** Resting; incubation; session: **نشست -**
سینا - اجلاس
- Situated, a.** Having a situation; stationed: **مقیم - واقع - ٹھکانا**
- Situation, n.** Relative position; condition; employment; office: **موقع - محل - حالت - صورت -**
نورکری - درجہ - منصب
- Six, a.** Twice three: **To be at—es and sevens,** **اٹھتارے کا**
براگڈرہ ہونا - **تترتتر ہونا - گڑبڑ ہونا - اٹا پٹا ہونا -**
تین تیرہ ہونا
- Sixfold, a.** Taken six-fold: **چھ گنا**

- Sixpence, n.** An English silver coin; half a shilling: **چرنی کے برابر انگریزی سک**
- Sixteen, a.** Six and ten: **سولہ**
- Sixteenth, a.** Ordinal of sixteen: **سولہواں**
- Sixth, a.** Ordinal of six: **چھواں**
- Sixtieth, a.** Ordinal of sixty: **—ٹھہراں**
- Sixty, a.** Six times ten: **—ساٹھ**
- Size, n.** Bulk; dimension; quantity: **قد - جسامت -**
*** سریش لاسا:** **A glutinous substance:** **مقدار -**
*** مقدار باندھنا:** **v. t. To arrange according to size:** **لاسا لگانا - سریش لگانا**
To cover with size:
- Sizing, n.** A kind of weak glue: **ایک قسم کا ہلکا**
سریش
- Sizy, a.** Glutinous; viscous: **چپچپا - لسدار**
- Skate, n.** A sliding shoe: **کاتفہ کا جوتہ جسے پہن**
A seafish of the ray *** کر برف یا ناچ میں پھسلتے ہیں**
v. i. To slide or *** ایک قسم کی مچھلی**
move on skates: **برف پر چلنا**
- Skean, n.** A short sword or knife: **چوڑی تارار یا**
چاتو
- Skein, n.** A knot of thread or silk: **لچھا - پھپھک -**
انٹی - پھینٹی
- Skeleton, n.** The bony framework of the body; a general outline: **ڈھانچا - نقشہ - خاکا**
A—in every house, **something to annoy** **کرٹی خراب**
and to be concealed in every family: **A—**
key, a thin light key with nearly the whole *** اور پوشیدہ رکھنے کے قابل بات ہو کسی کے گھر**
substance of the bits filed away: **پتلی ہلکی کنجی**
جسکے اور حصے گھس ڈال گئے ہوں
- Sketch, n.** An outline; a first rough draught of plan: **نقشہ - خاکہ - مسودہ**
- , v. t.** To draw the outline or general figure of; to make a rough draught of; to give the chief points of: **نقشہ کھینچنا - خاکہ اُتارنا - مسودہ**
a. Incomplete; not finished: *** کرنا - بیان کرنا**
نامکمل - ادھورٹا
- Skew, a.** Awry; oblique: **ترچھا - خمیدہ**
- Skewer, n.** A pin to fasten meat: **کباب کا پھنڈیہ -**
v. t. To fasten with skewers: **سینغ میں پھرننا**
- Skid, n.** A piece of timber to preserve a ship's side from injury: **A drag for the** *** ہشتی بان**
wheels of a carriage: **ہوتا - بیان**
- Skiff, n.** A small, light boat; a yawl: **قونکی -**
پنسیا - پیروا

- Skilful, a.** Having skill; expert; dexterous; practised: ہنرمند - ہوشیار - چست - چالاک - تیز - آزمودہ کار - چابک دست - حکمتی
- Skill, n.** Knowledge; readiness or dexterity in any practice; expertness; contrivance: علم - ہنر - ہوشیاری - مہارت - تیز دستی - تدبیر - اویاز - ہنر کی
- Syn.** - Dexterity, adroitness, expertness.
- Skillet, n.** A small boiler with a handle: دستہ: ار - دیگیچی
- Skim, v. t. or i.** To take off scum; to glide along: چھاگ - پھینکنا یا بالائی اُارنا - کسی سطح پر سے بالائی - چھاگ - چھاگ - * n. Scum; refuse: پھینکنا - پھینکنا - فضلہ - پھاپردن
- Skimmer, n.** A shallow vessel for skimming liquors: کھنجر - کرچی - پرنی
- Skim-milk, n.** Milk from which the cream has been taken: بالائی اوتارا ہوا دودھ - پساو دودھ
- Skin, n.** The natural covering of the flesh; hide; * کھال - چمڑا - پوست - جھلی - چولکا - ٹی: The skin of an animal used as a vessel: * مشک * With the—of the teeth, * بہت ہی مشکل سے، v. t. or i. To strip off the skin or hide; to be covered with skin: کھال یا چمڑا کھینچنا - پوست اور تارنا - چمڑا منقہنا - جھلی آنا
- Skin-deep, a.** Superficial; slight: سطحی - ظاہر - خفیف - تھوڑا
- Skinflint, n.** A miser; a niggard: بخیل - کنجوس - مسک
- Skinny, a.** Consisting of skin: Wanting flesh: * پوست دار: لافز - ڈبلا - ڈانگر - پتلا
- Skip, v. t. or i.** To pass over or by; to omit; to miss; to leap; to spring: چھوڑ جانا - فروگذاشت: * n. A leap; a spring; an omission: زغند - پھلانگ - اوچھل کرد - فروگذاشت
- Skipper, n.** The master of a trading or merchant vessel: ناخدا - کشتیبان - سردارگی - جہاز کا ناخدا
- Skirmish, n.** A slight fight; a contest: جنگ: * v. i. To fight slightly or in small parties: کم آدمیوں سے لڑنا - چھوڑا چھوڑی کرنا
- Skirt, n.** A border: * کٹارہ - حاشیہ: A petticoat: loose part of a garment: * دامس: * v. t. or i. To border; to be on the border: گھیرنا - حد پر ہونا
- Skit, n.** A wanton girl: چورکزی - چنچ - شوخ لڑکی
- Skittish, a.** Shy; timid; wanton; fickle: شرم آلودہ - رمیدہ خر - چنچل - سیماب طبع
- Skittles, n. pl.** The game of nine-pins: ایک قسم کا کوبیل
- Skulk, v. i.** To hide; to lurk: چھپنا - دبک رہنا - جپی چرائنا
- Skull, n.** The bony case that encloses the brain: * and crossbones, مرگ کے نشان
- Skull cap, n.** A close fitting cap: اسی قوپی جز سر پر جم کر بیٹھ جائے
- Skurry, n.** Haste; impetuosity: جلدی - تیزی - سرگرمی - جوش
- Sky, n.** The apparent arch or vault of heaven: فلک - آسمان - آکاش
- Skyey, a.** Like the sky; ethereal: مثل آسمان - آسمانی - آکاشی
- Sky-lark, n.** A lark that mounts and sings as it flies: لہو کے قسم کی ایک چڑیا - اگن - چنقول
- Sky-larking, n.** Sportive gambols in the rigging of a ship: جہاز کے رسوں پر کھیل کود
- Sky-light, n.** A window in the roof of a building or ceiling of a room for light: تابدان - روشندان - چورکا
- Sky-rocket, n.** A species of fire work: بان-ہرائی - فن
- Sky-ward, a.** Toward the sky: آسمان کی طرف
- Slab, n.** A thin flat piece of marble or other stone; an outside piece of sawed timber: سنگ مرمر یا * a. Viscous; glutinous: چپ چپا - للسا
- Slabber, v. i.** To slaver; to emit spittle: رال - رال گرنا
- Slabby, a.** Viscous; glutinous: چپ چپا - للسا
- Slack, a.** Loose; relax; slow; remiss; weak: ڈھیلا - کمزور - سست - غافل - مجہول - ماندہ - لچر - * ad. In a loose manner: دھلڑے سے * n. The part of a rope that hangs loose: رسی کا لٹکتا ہوا حصہ
- Slacken, v. t. or i.** To loosen; to abate; to languish: ڈھیلا کرنا - مندا کرنا - کمزور ہونا - کم کرنا - سست ہونا

Slackness, n. Looseness ; slowness : ڈھیلا پن - سستی - کاٹھی

Slag, n. The dross of metal ; the scoria of volcano : دھات کا میل - کوہ آتش نشاں کے کوٹھے وغیرہ

Slaggy, a. Drossy :

Slain, pa. p. Killed ; slaughtered : قتل - ہلاک کیا ہوا - ذبح کیا ہوا

Slake, v. t. or i. To quench ; to extinguish ; to mix with water and reduce to powder : پھاس بچھالنا - بجھانا - بیگو کر چھڑ کرنا

Slam, v. t. or i. To shut with force ; to beat ; to strike violently : زور سے بند کرنا - مارنا - زور سے زور کا ضرب - ضرب - شدید - استقامی

Slander, v. t. To injure by false report ; to defame ; to calumniate : جھوٹی تبہمت لگانا - بدنام کرنا - بدگوری کرنا - عیب لگانا

Slander, n. A false or malicious report ; defamation ; calumny : تبہمت - بدنامی - عیب گزری - ہتک - عزت - افترا

Slandorous, a. Calumnious ; scandalous : تبہمت آمیز - بدگوری کا - ہتک آمیز

Slang, n. Low, vulgar language : بد معاشرتی یا بازاری گفتگو - ادنیٰ لوگوں کا محاورہ

Slant, a. Sloping ; oblique : ڈھالو - جھکا ہوا - *v. t. or i.* To turn or be turned obliquely ; to slope : توجھا کرنا - ڈھالو کرنا

Slantingly, adv. In a slanting manner : توجھے طور پر - ڈھالوں

Slap, n. A blow as with the open hand : چپٹ - *v. t.* To strike with the open hand : چپٹ جمانا - طمانچہ مارنا - دھول مارنا

Slapdash, ad. All at once : جھٹ پٹ - فوراً

Slash, v. t. or i. To cut in long strips or slits ; to strike at : لٹیر لٹیرے تراشنا - ضرب سے گرا دینا : چاک - کاٹ - تراش

Slate, n. A dark coloured stone, easily split : سلیٹ - *v. t.* To cover with slate : سلیٹ سے پالنا

Slattern, n. A woman negligent of her dress or house ; a slut : عورت جو پرشاک کی طرف سے بے خبر ہو - پھوہڑ - سڑبلی

Slaty, a. Consisting of or resembling slate : پتھر کی تختی کے مثل

Slaughter, n. Carnage ; massacre ; butchery : مبالغہ - قتل - کشت و خون - خون ریزی - ذبح خانہ

Syn.—Marder, carnage, bloodshed.

Slave, n. A person held in bondage and slavery ; a drudge : غلام - حاکمہ بکوش - چاکر - داس - بردہ - بندہ درگاہ

Syn.—Bondman captive, vassal.

—, *v. t.* To drudge : ملاسی کرنا - مزدوری کرنا

Slaver, n. A slave ship : غلاموں کا جہاز : *v. t.* To smear with saliva ; to emit spittle : تھوک سے لپیٹنا - تھوک سے خراب کرنا - رال ٹپکانا - رال ڈالنا

Slaverer, n. A driveller ; an idiot : رالہا - جسکی رال ٹپکی ہو - بیوقوف - بوزھا

Slavery, n. Bondage : غلامی - حاکمہ بکوشی

Slavish, a. Servile ; mean ; laborious : ذلیل - حقیر - محنتی

Slavishness, n. Servility : غلامی

Slay, v. t. To kill ; to put to death : مار ڈالنا - قتل کرنا - ہلاک کرنا

Sleave, v. t. To separate into threads : سوت ساچھانا

Sled, n. A carriage on runners for travelling over the snow : برف پر چلنے کی گاڑی

Sledge, n. A large heavy hammer : ہڈروڑا - گھون برف پر چلنے کی گاڑی

Sleek a. Smooth ; glossy : چمکلا - *v. t.* To make smooth, soft and glossy : چمکانا - چمکانا

Sleeky, a. Smooth and glossy : چمکلا - *v. t.* To take rest ; to repose : آرام کرنا

Sleep, n. i. To take rest ; to repose : *To—away,* to pass away in sleeping : سونے *To—off,* to get rid of or overcome by sleeping : سو کر رفع کرنا **The long last—, Death :** موت

Sleep, n. Rest ; repose ; slumber : آرام - خواب - ٹیند

Sleeper, n. One who sleeps : *A piece of timber used on rail roads to support the rails :* لکڑی کی پھانت - سلیپر

Sleepy, a. Disposed to sleep ; drowsy : خراب - آرمڈ - ٹیند سے بھرا ہوا

Sleet, n. Rain and snow or hail falling-together : *v. t.* To snow or hail with rain : کے ساتھ اولا یا برف برسنا

Sleeve, n. The part of a garment that covers the arm : آستین * To hang on the—of, to be dependent upon : کسی دامنگیر ہونا - کسی کا محتاج ہونا * To laugh in one's—, to laugh unperceived : چپکے چپکے ہنسنا

Sleeve, v. t. To furnish with sleeves : آستین لگانا

Sleight, n. A vehicle for travelling on snow ; a sled : برف پر چلنے کی گاڑی

Sleight, n. An artful trick ; dexterity ; artifice ; stratagem : شعیبہ بازی - چالاکي - مٹھہ بیچنے - جگت بازی - دانرگوات

Slender, a. Thin and long ; feeble : ڈبلا پنک - کمزور

Slenderness, n. Thinness ; slightness ; weakness : لاغري - ڈبلا پن - نازکي - کمزوري

Sley, n. A weaver's reed : جلاھے کی تکی - جلاھے کا v. t. To part threads and arrange them in a reed : دھاگہ ٹکڑ چدا کرنا

Slice, n. A thin piece cut off : ٹکڑا - ورق - کترا v. t. To cut into thin pieces : ورق کاٹنا

Slide, v. t. or i. To slip in ; to move along the surface : n. A smooth and easy passage : چمکنی اور ہموار راہ

Slight, a. Small ; slender : weak ; trifling : v. t. To disregard ; to neglect ; to chuck : بے التفاتی کرنا - غفلت n. Neglect : غفلت

Slightly, adv. In a slighting manner ; negligently : حقارت سے - خفت سے - بے پروائی سے

Slightly, ad. In a small degree ; somewhat : تھوڑا تھوڑا - قدرے - قلیل - آنچھہ - سراسری - (راوی)

Slightness, n. Smallness ; weakness ; triviality : کمي - کمزوري - خفت

Slighty, a. Small ; worthless : کم - تھوڑا - خفیف

Slily, ad. Artfully : رو بہ بازی سے - مکر سے - فریب سے

Slim, a. Slender ; weak ; slight : پنکلا - کمزور - حقیر - نازک

Slime, n. A glutinous substance ; viscous mud : چپکتی ہوئی چیز - لسی مٹی - چمکنی مٹی - کیچڑ - چھلا

Slimy, a. Abounding with slime : کیچڑ سے بھرا ہوا

Sling, n. An instrument for throwing stones : پتی چڑ زخمی * A hanging bandage : گڑبھن * A rope with hooks for hoisting : چھینکا * v. t. or i. To throw with a sling ; to hang or swing with a rope : گڑبھن مارنا - لٹکانا

Slink, v. t. or i. To miscarry : بچہ گرانا - بیت دیکھنا - سنگنا * To sneak : سگنا

Slip, v. t. or i. To slide ; to escape ; to err ; to part from the branches ; to overlook : بے نیسلنا - معوم نکل جانا - کھسکا - غلطی کرنا - قلم کرنا - چھوڑ چپکے سے یا * To—off, to take off noiselessly or hastily : چپکے سے اُتار دالنا * To—on, to put on in haste : چڑھا لینا یا پہن لینا * To—through one's fingers, to escape : ہاتھ سے نظر * To—over, جاتا رہنا - کور دینا انداز کرنا

Slip, n. A sliding ; an error ; a twig ; a narrow piece ; a sloping place on the bank for ship-building : لغزش - غلطی - تڑاپی - دھبھی - پٹی - لب * A—of the tongue, a mistake inadvertently made in speaking : knot, a knot which will not bear a strain but slip : پیندا - سرک نکل بھاگنا - دھوکا دینا * To give the—, گھینکا جوتا زیر : پائی

Slippery, a. Smooth ; unstable ; uncertain ; chaste : چمکا - ناپائدار - غیر مستقل - بے عصمت - بے اعتبار آدمی - بے پیندی کا بدھنا - توالی - میں کا بینگن

Slipshod, a. Wearing shoes down at the heels : گندہ - پھوڑے * Sloven : زیر پائی یا گھینکا جوتا پہنے ہوئے

Slit, n. A long cut ; a narrow opening : چھری - شگاف کرنا - درز * v. t. To cut lengthwise : درز کرنا - کاٹنا

Sliver, v. t. To cut or divide into long thin or small pieces : n. A long slice cut off : لپٹا ٹکڑا

Sloe, n. The fruit of the blackthorn : ایک قسم کی نوش چنگلی بیج

Sloop, n. A vessel with one mast only : - سلاف -
ایک مسٹرل کا جہاز

Slop, v. t. To soil by spilling water or other liquor : **n.** Wet-ness by negligence ; a mean liquor : غفلت کی وجہ سے تری - ٹھہرا شراب

Slope, a. Inclining ; slanting : * ڈھالو - ترچھا *
n. A declivity or acclivity : * جھکڑ - ڈھال *
or *i.* To direct obliquely ; to incline ; to be inclined : جھکانا - ڈھالو ہونا

Sloping, a. Inclining ; oblique : - ڈھالو - جھکا ہوا -
ترچھا

Sloppy, a. Wet and dirty ; muddy ; plashy :
میلا اور تر - گدلا - مکدر

Slops, n. pl. Dirty water : گندلا پانی

Slop-seller, n. One who sells ready made clothes :
میار کپڑے بیچنے والا

Slot, n. A broad flat wooden bar : لکڑی کی چوڑی
A hollow depression between two ridges :
دو اونچے کناروں کے بیچ میں کھالی نیچھی جگہ

Sloth, n. Sluggishness : * سستی - مجھڑی - کاہلی *
A South American mammal about the size of a common cat proverbial for its slowness : جنٹروپی
امریکا کا ایک جانور جو سستی کے لئے مشہور ہے

Slothful, a. Sluggish ; lazy ; indolent : -
سست - کاہل - مجھول

Slouch, n. A down-cast look ; a clownish gait :
v. t. or i. * سرنگڑی - نیچھی نظر - گڑاروں کی وضع
To depress ; to stoop or bend down : -
جھکانا - جھکنا

Slough (Pr. slow), n. A deep miry or muddy place : دھسڑ - دھسڑ -
(pr. sluf) The cast skin of a serpent : * سانپ کا کپچل *
v. t. To separate from the sound flesh : کھوٹا اوتارنا - سردار کھال
الگ کرنا

Sloven, n. A person careless of his dress or negligent of cleanliness : سلیفہ - بے سلیفہ

Slovenliness, n. Carelessness ; negligence :
پھوڑھڑپن - غفلت

Slovenly, a. Wanting neatness or tidiness : -
گندہ - پھوڑھڑ - سل بلا

Slow, a. Not swift ; not prompt ; tardy ; dilatory :
* and sure, * coach, n. An inactive person :
* کاہل - دھیمہ - سست
* سہج ہکے - روٹھیا
کاہل و جود

Slowly, ad. Not rapidly ; not readily ; tardily :
دیر سے - آہستہ - سستی سے

Slubber, v. t. To do lazily, imperfectly or coarsely ; to daub : دھبہ ڈالنا -
دھبہ لگانا

Sludge, n. Mud ; mire : کیچڑ * مٹی -
چور کیا ہوا برف

Slug, n. A drone * کاہل - سست آدمی :
ایک قسم کا گھونٹا : snail very destructive to plants

Sluggard, n. A person habitually lazy and inactive :
سست و آرام طلب شخص

Syn.—Inert, idle, lazy, indolent.

Ant.—Active, diligent, occupied.

Sluggish, a. Habitually idle and lazy ; slothful ;
inactive ; slow in motion : سست - کاہل - آرام
طلب - سست قدم

Sluice, n. A water-gate ; a flood-gate ; a channel :
پانی کی راقا کا پھاٹک - موزی - نہر - بدررو

Slum, n. A low filthy street or district :
مٹلی گلی - یا مینہ حلقہ

Slumber, v. i. To sleep slightly ; to doze : اونگھنا -
اونگھ - * n. Light sleep ; repose :
چھپکی لینا
فتو دکھی

Slumberous, a. Inviting sleep ; sleepy :
خواب آور - خرابی

Slump, v. t. or i. To throw into a mass : اکتھا
* To fall suddenly down into any wet or
dirty place : چہہ بچھ وغیرہ میں یکایک گر پڑنا

Slump, a. Lump together ; gross : تھیر - تودہ

Slur, v. t. To do slovenly ; to conceal ; to soil ;
* بتازنا - چھالنا - میل کرنا - بے عزت کرنا :
n. A stain ; slight reproach or disgrace : داغ -
دھبہ - قصیصت - رسوائی

Slush, n. Soft mud ; sludge : کیچڑ

Slut, n. An untidy woman : پھوڑھڑ

Sly, a. Artful ; cunning ; insidious ; shrewd :
میار - سیٹا - مکار

Slyly, ad. Craftily :
مکاری سے

Smack, v. t. or i. To kiss ; to make a noise with
the lips ; to taste : برسہ ایسا - لبوں سے آواز نکالنا -
* n. A kiss : * مرزہ لینا - چٹکارنا
چھٹا * مرزہ * A taste : تڑاکا
ایک قسم کا چمڑا جہاز : A coasting vessel * چھٹ

Small, a. Little in size, degree, or quantity ; petty ; short ; weak ; mean : - چھوٹا - خرد
The— * **hours,** the early hours of morning : علی الصبح
To look—, To be humiliated : ذلیل ہونا یا ذلیل ہونا
In a—way, * **slender** part of a thing : کسے چیز کا پتلا حصہ

Smallage, n. A name for celery : چرلائی کا ساک

Small-arms, n. pl. Muskets, rifles, pistols, etc. : رفل تپنچہ وغیرہ

Smallness, n. Littleness of size, quantity, or degree or value : چھوٹائی - کمی - کوتاہی - ہلکاپن

Small-pox, n. An eruptive contagious disease : چھبچھ

Small-talk, n. Unimportant conversation : معمولی گفتگو

Smart, n. A beautiful deep blue kind of glass : نیلا شیشہ

Smaragd, (smarág) The emerald : زمرد - پنا

Smart, a. Pungent ; quick ; active ; witty : **v. i.** To feel a lively, keen pain : چلک مارنا - ٹیس مارنا - ٹپکنا - بھکتنا - سزا پانا

Smartly, ad. Keenly ; painfully ; briskly ; sharply ; wittily ; sprucely : زور سے - درد سے - پھرتی سے - تیزی سے - حاضر جوابی سے - خڑپی سے

Smartness, n. Quickness ; vigour ; wittiness : تیزی - زندہ دلی - پھرتی - حاضر جوابی - چٹکلا پن

Smash, v. t. To dash to pieces : * **تکڑے تکڑے کرنا** : **n.** Utter destruction : بربادی - قلع قمع

Smatter, v. i. To talk superficially : سرسری گفتگو کرنا

Smatterer, n. A person of superficial knowledge : توہڑی لیاقت رکھنے والا - کم معلومات والا

Smear, v. t. To soil ; to besmear ; to daub : آلودہ کرنا - لیسنا - پرتنا - میلا کرنا - داغ یا دھبہ لگانا

Smell, v. t. To perceive by the nose : خوشبو لینا - **To—a rat,** to be suspicious that all is not right : * **کچھتہ دال میں کالا دیکھنا** : **n.** Scent ; odour : قوت شامہ - خوشبو - بو - داس

Smelt, v. t. To melt ore : **دھات کو گلا کر خالص کرنا** : **n.** A small fish of the salmon family : ایک قسم کی چھوٹی مچھلی

Smile, v. i. To look gay or joyous ; to favour : **n.** * **تبسم کرنا** - مسکروانا - عنایت کرنا - مہربانی کرنا

look of pleasure ; favour : تبسم - عنایت - مہربانی

Smirch, v. i. To soil ; to cloud : **میلا کرنا** - اندھیرا کرنا

Smirk, v. i. To smile affectedly : - **ناز سے ہنسنا** : **n.** An affected smile : **نخترے کی ہنسی** - بناوٹ کی ہنسی

Smite, v. t. To strike ; to kill ; to defeat ; to blast ; to punish : - **مارنا** - ہلاک کرنا - شکست دینا - تکلیف دینا - سزا دینا

Smith, n. One who works in metals : **لرہار** - **سوفار** - حداد - آہنگر - زرگر

Smithy, n. The workshop of a smith : **لوہار خانہ** - **اھنگر کا کارخانہ**

Smock, n. A shift ; a chemise : **عورتوں کی قمیض** - **توتی**

Smock-frock, n. A coarse linen frock or shirt worn by farm-labourers : **ایک قسم کا مرقا کرنا** جو کسان پہنتے ہیں

Smoke, n. A sooty exhalation from burning substance : **اکارتہ** - **To end in—** دھواں - دود

v. t. or i. To emit smoke ; to use tobacco in a pipe of cigar ; to apply smoke to : **سالگنا** - **تباکو پینا** - **دھواں دینا**

Smoky, a. Emitting smoke ; full of smoke : **دھواں دار** - **پردود** - **دھوہیں کے رنگ کا**

Smooth, a. Even on the surface ; not rough ; glossy ; soft ; mild ; easy fawning : **چمکا ہرلر** - **مصفا** - **ملاہم** - **نرم** - **آسان** - **خوشامد آمیز**

Syn.— Even, plane, level, polished.

Ant.— Blunt, coarse, rough.

—, v. t. To make smooth ; to make easy ; to allay ; to flatter : **چمکا کرنا** - **سہل کرنا** - **تسکین** - **دینا** - **خوشامد کرنا**

Smoothly, ad. Evenly : **ہمواری سے برابر** - **خوشامدانہ**

Smother, v. t. To suffocate ; to stifle : **گلا گھونٹ کر مار ڈالنا** - **سانس روکنا** - **دم روکنا**

Smoulder, v. t. To burn and smoke without flame : **اس طرح جلنا کہ شعلہ نہ نکلے** - **سالگنا**

Smudge, v. t. To smear with dirt ; to stain ; to blacken : *** مٹی لپیٹنا** - **دھبہ لگانا** - **میلا کرنا** : **n.** A stain ; a blot ; a dirty mark : **داغ** - **میلا نشان**

Smuggle, v. t. To import or export goods unlawfully : معصروں کے مال کو چھپا کر لیکھنا - چوکھی مارنا - گھات مارنا

Smuggler, n. One who imports or exports goods unlawfully : خفیہ مال لے جانے والا - چنگھی مار

Smut, n. Foul matter like soot or coal-dust : A spot made with soot ; obscenity : کاجل کا داغ - فہش زبان - خرافات : کاجل کا داغ لگانا - کالا کرنا

Smutch, v. t. To blacken with smoke : دھواں سے کالا کرنا

Smuttiness, n. Dirtiness ; obscenity : - میلا پن - خرافات

Smutty, a. Black with smoke ; obscene : دھواں دار - فہش - خرافاتی

Snack, n. A share : حصہ * A slight and hasty repast : To go-s, ناگھاٹ * چھانٹ کرنا

Snaffle, n. A bridle with a slender mouth bit without a curb and with a single rein : - قزئی - لگام سے قابو میں کرنا : v. t. To bridle : دھانک - لگام

Snag, n. A short branch ; a knot ; a tooth projecting beyond the rest : گھنی - گانگھہ - نکلا - ہرا دانٹ

Snail, n. A slimy insect : A drone : کاہل - مجبور شخص - سست آدمی

Snake, n. A kind of serpent : - سانپ - ناگ - مار : A—in the grass, a hidden enemy : چچنڈا - gourd, * چچا ہوا دشمن

Snap, v. t. or i. To bite suddenly : - کات کھانا : * چٹکانا - توڑنا - توکانا : To break open : * ہبک لینا : * چٹکانا - ڈوٹنا : To—off, * منہ لپکانا : To—at, ٹکل جانا - غت کر : To—up, to swallow quickly : * To treat with sharp words : زہر مار کرنا : To creak suddenly : ٹوٹ : ٹوٹکانا : * To—one's finger's at, to hold in contempt : n. A sudden breaking : * توڑکھٹ : A small look : چھوٹا تالا

Snappish, a. Ready or apt to bite : تھپا - تھک مزاج : Sharp in reply :

Snares, v. t. To entangle ; to entrap ; to inveigle ; * پھنسانا - دام میں لانا - پھلانا - پھنکانا : to seduce :

To lay—for, * جاں بچھانا یا پھندا لگانا : A trap ; a net ; a catch ; a wile : - پھندا - دام - جال - پھان - گرفت - بندش - مکر - دغا

Snarl, v. i. To growl ; to speak roughly : - غرانا : n. A quarrel ; an angry contest : گھڑکانا - جھگڑا

Snatch, v. t. To seize hastily : چھین لینا : جھپٹ لینا - جھپٹ

Snatch, n. A hasty catch : Sneak, v. t. To creep or steal away privately ; to behave meanly : سبک جانا - چپکے سے چلا جانا - دہیکل - : n. A mean, paltry fellow : ذلیل یا حقیر شخص

Sneaking, a. Mean ; crouching ; niggardly : دن - نورمائیہ - دہیکل - بھیل

Sneer, v. i. To scoff ; to show contempt by look, word or tone : آواز پھینکانا - ہنسنا - برہی مارنا - تعقیر کرنا - ناگ چڑھانا : حقارت کی نظر سے دیکھنا

Syn.—Scoff, gibe, jeer.

Ant.—Compliment.

—, n. A look of contempt, disdain or ridicule ; scoff : حقارت کی نظر - نفرت - تنفر - تمسخر - ٹیٹھا

Sneeze, v. i. To emit air suddenly through the nose : عطشہ کرنا : n. * To—at a thing, to think little of it : عطشہ سمجھنا - توجہ جانا : Act of sneezing ; sternutation : چھینک

Snib, v. t. To check ; to fasten ; to bolt : روکنا - پٹی - سنکنی : n. A catch or fastening of a door : آگستہ سے ہنسنا - کھی کھی کرنا

Snick, v. i. To laugh slyly : سٹسٹ سے ہنسنا - کھی کھی کرنا

Sniff, v. t. or i. To snuff ; to draw air up the nose : سونگھنا - ناک سے سونگھنا

Sniff, n. Smell ; whiff : بو - پھونک

Snig, n. A fresh-water eel : ڈام مچھلی

Sniggle, v. t. or i. To snare ; to catch : جال میں پھنسانا - پکڑنا

Snip, v. t. To nip ; to cut off : کات ڈالنا : n. A single cut ; a shred : کٹور - پیرزہ - پارچہ

Snipe, n. A small fen fowl : چانما : ایک قسم کا پرند - چانما

Snivel, n. Mucus running from the nose ; snot : ناک بہنا - رینٹ نکالنا - بچڑوں کی : To run at the nose ; to coy as a child : طرح روٹا - ٹھنکنا

Snob, n. A vulgar person who apes gentility :
A shoemaker :
چروٹا بناؤیڑالا * کمینہ شخص جو شرافت کی بناوت کرے

Snood, n. A head band ; a fillet : مربانہ - چروٹی بند

Snooze, v. i. To sleep ; to doze : اونگھنا - سونا

n. A short sleep ; a nap : چھپکنا * چھپکی - خواب - نوم

Snore, v. t. To breathe with a rough, hoarse noise in sleep : خڑائے لینا - سوتے وقت ناک سے آواز

n. A breathing with nose : ناک * نکالنا کی آواز یا کھرکھراہٹ

Snort, v. i. To force air through the nostrils : تنہرنکی راہ سے آواز نکالنا - خڑائا لینا

Snot, n. Mucus from the nose : رینت - ناک کی غلاظت

Snout, n. The long projecting nose of a beast ; the nozzle or end of a pipe : توہرتی - نتھنا - ٹوٹتی - سرتہ

Snow, n. Congealed vapour falling in white flakes : برف * برف - پلا

v. t. To fall in snow : گرنا - برف پڑنا

Snow-clad, a. Covered with snow : برف سے ڈھکا

Snow-drop, n. A bulbous plant with white flowers : گل چاندنی

Snow-flake, n. A flake of falling snow : برف کا ٹکڑا

Snow-line, n. The line above which the mountains are covered with perpetual snow : پہاڑوں کا خطا یا نشان جسکے اوپر ہمیشہ برف جما رہتا ہے

Snowy, a. Full of snow ; white : برف سے بھرا ہوا - سفید

Snub, v. t. To clip ; to check ; to reprimand : لکڑی : روکنا - روکنا - ڈانٹنا

n. A knot in wood : روک - ڈانٹ * A check or rebuke : کی گتھو

Snub-nose, n. A short or flat nose : چھوٹی چپٹی ناک

Snuff, v. t. To draw in with the breath ; to inhale ; to smell : سونگھنا - سونگھنا * دم کے ساتھ کھینچنا - سونگھنا

To crop the burning wick of a candle : گل * چالاک - باخبر : Upto—, crafty ; knowing : لینا

To be up to—, تازہ جانا

Snuff, v. i. To inhale air with nose : سانس لینا * Pulverized tobacco : سونگھنی - ناس - دلاس

Snuffers, n. pl. An instrument for cropping the snuff of a candle : گل کھنڈ - گل تراش

Snuffle, v. i. To speak through the nose : ناک سے بولنا - منہ مانا

Snug, v. t. To lie close ; to snuggle : چھٹنا * a. Close ; comfortable ; concealed : ملا ہوا - چھٹا ہوا - آرام دہ - پوشیدہ

Snuggle, v. i. To lie close : چھٹنا

So, ad. In like manner or degree ; thus ; therefore ; at this time ; very well : علی - ہذا اقلیس - اسقدر ایسے - اس لینے - اسوقت - بہت - کثیر -

—and—, an indefinite person or thing : * نال شخص - نال شے

—forth, —on, more of the same kind ; etcetera : * علی ہذا - وغیرہ

—that, in order that : بغرض کہ

—then, therefore : پس

So long as, * as long as, * often as, * جب تک

It may be—, شاید - ہو تو ہو - سو ہوگا

Soak, v. t. or i. To steep ; to drench : بھگونا - تر کرنا - جذب کرنا - سوکھنا

Soaker, n. One who soaks : * سوکھنے والا - جذب دانم العصر

Soap, n. An alkaline substance used in washing : * صابون

Soar, v. i. To fly aloft ; to mount ; to aspire : * بلند پروازی کرنا - چڑھنا - حرصہ کرنا

n. A towering flight : بلند پروازی

Sob, v. i. To sigh convulsively : سسکنا - سسکی

n. A convulsive cry : * سسکی بندھنا

Sober, a. Temperate ; not intoxicated ; serious : * پرہیزگار - متنی - باہوش - صحیح العقل - سنجیدہ

t. or i. To make or become sober : ہوش میں لانا یا ہوش میں آنا

Sobriety, n. Habitual temperance ; seriousness : * پرہیزگاری بری دولت ہے

Syn.—Abstinence, temperance. **Ant.—**Intemperance.

Sobriquet, (so-ber-ka) n. A nickname ; a fanciful appellation : * بلانے کا نام - لقب - تخلص

Sociability, n. A disposition to converse : * اجتماعی - ملنساری

Sociable, a. Familiar ; friendly ; not taciturn : * ملنسار - خلیق - سخن دولت - بولنے والے والا

n. A kind of waggonette : ایک قسم کی فیشن

Social, a. Fond of society ; friendly: آشنا - ملنسار

مزاج

Socially, ad. In a social or friendly manner :

آشنا مزاجی سے - ملنساری سے

Society, n. Fellowship: * آئس - صحبت * Community: * فرقہ * Partnership: * شرکت * Company: * گروہ - مجلس * Body for promoting general interest: * رتہ عام کی جماعت

Sociology, n. The science which investigates the laws that regulate human society in all its grades :

علم معاشرت - علم تمدن

Sock, n. A short stocking: * جراب - پایتانبہ * Shoe for actors: * نقالوں کی جوتی

Socket, n. An opening into which anything is fitted ; the cavity of the eye, tooth, &c. :

خانہ - چھید - خانہ چشم و دانت وغیرہ - پیالہ - کٹورا

Sod, n. Earth filled with roots of grass ; turf : * ڈھیلا مع گھاس کی جڑ کے - گھاس ملی ہوئی زمین

v. i. To cover with turf :

ڈھیالوں سے ڈھانکنا

Soda, n. The protoxide of the metal sodium : * کھار

ایک قسم کی سببی مٹی - سرفا

Sodden, a. Seethed ; boiled ; soaked and softened: * v. t. * اورلا ہوا - جوش دیا ہوا - نرم اور تر کیا ہوا

To soak: * v. i. To be seethed or soaked :

اوربنا - بھینکا - تر ہونا

Sodomy, n. A carnal copulation against nature ; صحبت خلاف رواج نظری - اغلام

Soever, adv. A word generally used in compounds to render the sense emphatic : * کوئی - کچھ - کیسا

Sofa, n. A long, stuffed seat: * کرسی دار نشست گاہ - کچ

Soffit, n. The under part of a lintel or ceiling : * درول یا چھت کے نیچے کا حصہ

Soft, a. Not hard ; easily yielding ; smooth ; gentle ; mild ; pleasing to the eye ; kind ; malleable: * ملائم - نرم - نازکی - چکنی - صاف - دھیمہ - نرم - خوشنما - ہلکی - میٹھی - شفیق - مہربان - گلے

* A—answer turneth away wrath,

زبان شیریں مراں گھیریں - ملائم جراب غصہ کر دھیمہ کر دیتا

* Soft spoken, speaking gently ; affable ;

شیریں زبان - خلیق

Soften, v. t or i. To make or become soft: * ملائم - کم کرنا

* To mitigate ; to palliate: * گھٹانا

Softly, ad. Gently : * ملائمت سے - آہستہ سے

Soho, int. A sportsman's hollo : * شکاری کی آواز - گندہ کرنا - ناپاک کرنا - دھبہ لگانا - کھاد یا پانس ڈالنا

Soil, v. t. To make dirty ; to defile ; to stain ; to manure :

کھاد یا پانس ڈالنا

—, n. Dirt : * Spot : * داغ * Stain : * دھبہ * Manure : * نجاست * Pollution :

The upper stratum of the earth ; mould ; land ; manure ; country : * زمین - دھرتی - مٹی - چکنی مٹی - پتھر - اوسر - Barren * کیاد - جنم بہوم - زاد بہوم

—, n. Poor * چھلا - داندل - Miry, oozy * زمین چکرت - Rich * بودی یا مازی دھرتی - کھتیا بہوم

کیچڑ میں لوٹنا * To take

Sojourn, v. i. To dwell for a time : * چند روز کے لئے

چند * n. A temporary residence : * رہنا - ڈیرا کرنا روز قیام - ڈیرہ

Solace, v. t. To comfort ; to console ; to allay : * n. * خاطر داری کرنا - تسلی یا دلالت دینا - آرام دینا

Comfort in grief : * Amusement : * تسکین - دلالت * تفریح - دلہلاؤ

Solar, a. Relating to or proceeding from the sun : * سورج گہن - سورج کا

* —eclipse * آفتابی - سورج کا * —flowers, * پھول جو دن میں مقررے گھنٹوں پر کھاتے

* —system, * نظام شمسی * اور بند ہوتے ہیں * —year, * سال شمسی

Solder, v. t. To unity with metallic cement ; to mend : * جھاننا - ٹانکا لگانا - سودھارنا - پیوند کاری یا

جھال - ٹانکا * n. A metallic cement : * مرمت کرنا

Soldier, n. One engaged in military service ; a brave warrior : * سپاہی - لشکر - بہادر

Soldierly, a. Brave : * سپاہیانہ - دلیر

Soldiery, n. A body of soldiers : * لشکر - سپاہ

Sole, n. The bottom of the foot, shoe or boot : * ایک : * A marine flat fish ; * کف پنا - قاروا - جوتے کا تلا

* v. t. To furnish with a sole ; * n. Single ; alone ; unmarried : * تنہا - اکیلا - مجرود

Solecism, n. Impropiety in language ; absurdity : * معاررہ کی غلطی - بے معاررہ - درستی

Solecist, n. One who is guilty of impropiety in language : * بے معاررہ گو

Solely, ad. Singly ; alone ; only : * اکیلے - صرف - تقفا

Solemn, a. Religiously grave; affectedly grave; sacred; formal: - مذہبی - گہمبیز - مذہبی - پاک - (رسمی)

Syn.—Grave, formal, ritual.

Ant.—Gay; merry; light.

Solemnity, n. A religious ceremony: رسم * مذہبی رسم * Seriousness: سنجدگی

Solemnization, n. Celebration: منجم کا انجام: مذہبی کام کا انجام

Solemnize, v. t. To celebrate; to make grave or serious: شہرت دینا - رسمیات - دھوم دھام کرنا - دینی کا انصرام کرنا

Solemnly, ad. Gravely: سنجدگی سے

Solfa, v. t. To pronounce the notes of the gamut: سر گم سادھنا - موسیقی سر نکالنا

Solicit, v. i. To ask with earnestness; to try to obtain; to ask: استدعا کرنا - درخواست کرنا - خواہش کرنا - مانگنا

Syn.—Entreat, supplicate, implore.

Ant.—Claim, exact, require.

Solicitation, n. Earnest request; importunity: استدعا - التماس - درخواست - عرض

Solicitor, n. A law agent or legal adviser: وکیل - مختار - سالیسیٹر

Solicitous, a. Anxious; careful: نگر مند - ہوشیار

Solicitude, n. Uneasiness of mind; anxiety; concern; carefulness: تردد - خاش - اضطراب - اندیشہ - نگر - لگاؤ - تعلق - ہوشیاری

Solid, a. Not liquid: Firm: منجمد - سخت * True: مسلم * Stable: مضبوطا * Healthy: تندرست * Grave: مجسم یا * n. A firm, compact body: ٹھوس چیز

Solidarity, n. A complete union of interest: یک جہتی - یکساں جرابدھی - برابر کی ذمہ داری کا

Solidify, v. t. To make solid: مضبوطا کرنا - کرنا - منجمد کر دینا

Solidity, n. Firmness; compactness: استراری - مضبوطی - جسمیت - سختی - پایداری

Soliloquise, v. i. To utter a soliloquy: آپ ہی آپ باتیں کرنا

Solilquy, n. A recluse: بات چیت جو اپنے آپ سے کیجاوے

Solitaire, n. A recluse: خلوت نشین - ایک گلے کا زینر * An ornament for the neck: گلے کا زینر

Solitary, a. Single; retired; gloomy: ایکلا - تنہا - خلوت گزین - تیرہ و قاریک

Solitude, n. Loneliness; remoteness from society; a desert: تنہائی - خلوت - ویرانہ

Solo, n. A musical piece for a single voice or instrument: راگ کی لہ جو ایک باجے یا آواز سے ہو

Solstice, n. The point in the ecliptic at which the sun is furthest from the equator, north or south; the time of the sun's entering the solstice: راس الجدی - راس السرطان - اُتر این سورج یا دکھن این سورج - سورج کے اُتر این یا دکھن این ہرنیکا وقت

Solubility, n. Capability of being dissolved: گل جانے کی قابلیت - گلاؤ - تحلیل

Soluble, v. Capable of being dissolved: گلنے کے قابل - دابل تحلیل

Solution, n. Act of dissolving; removal of a doubt; explanation; disintegration: تحلیل حل - رفع شک - عقدہ کشائی - توضیح - تصریح - تجربہ

Solvable, a. That may be solved: حل ہونیکے لائق

Solve, v. t. To clear; to explain; to dissipate: صاف کرنا - حل کرنا - بھولنا - تفریق کرنا

Solvency, n. Ability to pay all debts or just claims: ادائے قرضہ کی قابلیت

Solvent, a. Having the power of dissolving: مقدور والا - قابل ادائے قرضہ * Possessing enough to pay all just debts: کلائیروالا

Sombre, a. Dark; gloomy; melancholy: تاریک - دھندلا - غمگین

Some, a. More or less; certain; a little; a part: کسیقدر - بعض - تھوڑا - کچھ

Somebody, n. A person unknown or uncertain: بڑا آدمی * A person of consideration: کسی طرح سے

Somehow, ad. In one way or other: کسی صورت سے

**Somersault, } n. A leap with the heels thrown
Somerset, } over the head: قلم بازی**

Something, n. A matter indeterminate: کچھ نہ کچھ - چیزے - or other * تھوڑا

Sometime, ad. Formerly; once; at one time: پہلے - سابق میں - کسی وقت - کبھی

Sometimes, ad. Now and then : گاہ گاہ - بعض
گاہے گاہے - کبھی نہ کبھی - * or other, * اور نات
کسی نہ کسی وقت

Somewhat, ad. In some degree ; a little : کچھ قدر -
تھیل - قدرے

Somnambulism, n. Act or habit of walking in
sleep : خواب میں اُٹھ کر چلنے پھرنے کی عادت

Somnambulist, n. A sleep walker : جر خواب میں
چلتا پھرتا ہو

Somniferous, a. Causing or inducing sleep :
خواب اور - نیند لائیرالی

Son, n. A male descendant : - لڑکا - بیٹا - خانہ - ابن -
* in-law, the husband of daughter : فرزند
داماد

Sonance, n. A sound : آواز - شبد

Sonant, a. Sounding : آواز دار

Song, n. A ballad ; a poem ; a hymn : - گیت -
غزل - بوجھن

Songster, n. A singer : گویا - مطرب - قوال - گانیرالا

Songstress, n. A female singer : گانے والی

Soniferous, a. Sounding ; producing sound :
آواز دینے والا - آواز پیدا کرنے والا - بجنے والا

Sonnet, n. A short song or poem of fourteen
lines only : چودہ مصرعوں کی غزل یا نظم

Sonorous, a. Giving sound when struck : آواز
دار - بلند آواز

Soon, ad. In a short time ; early ; before long ;
* تھوڑی دیر میں - جلد - ابھی - حال - شتاب : quickly

As—as, -so—as, immediately after :- جہوں ہی :-
* Soon at night, * آج ہی رات - اسی رات کو -
* at five o'clock, پانچ بجتے ہی - ٹھیک پانچ بجتے ہی

Soot, n. A black substance disengaged from fuel
in the process of combustion : * v. t. To
cover with soot : کاجل لگانا - کاجل سے کالا کرنا

Sooth, n. Truth ; reality : حقیقت - راستی - سچ

Soothe, v. t. To please with soft words ; to flat-
ter ; to assuage : مٹھنی باتوں سے خوش کرنا - خوش
آمد کرنا - چاپلوسی کرنا - تسکین دینا

Soothsayer, v. t. To predict ; to foretell : آگم کہنا -
پیشین گوئی کرنا

Soothsayer, n. A foreteller : پیشین گو - فال گو -
آگم کہنے والا

Sooty, a. Covered with soot ; dusky ; dark : دھران
دار - کالا - سیاہ

Sop, n. Anything steeped in liquor ; anything
given to pacify : بھگروٹی ہوئی چیز - جو چیز تسکین کے
لئے دیجاتی ہے

Sophism, n. Fallacious argument or statement :
دلیل باطل

Sophist, n. A captious or fallacious reasoner :
منطقی - دلیل با

Sophisticate, v. t. To adulterate ; to corrupt :
بگاڑنا - خراب کرنا

Sophistry, n. Fallacious reasoning : - غلط
کج بحثی - دلیل باطل

Soporiferous, a. Causing sleep ; sleep-inducing ;
narcotic : منوم - خواب آور - مسکن و خواب انگیز

Soporific, a. Causing sleep ; نیند
* n. A medicine which causes sleep :
نیند لائیرالی دوا

Soprano, n. The highest female voice : صورت
کی نہایت بلند آواز

Sorcerer, n. A conjurer ; an enchanter ; a
magician : جادو گر - ساحر - افسر گر

Sorceress, n. Enchantress : جادو گرئی - ترنہی -
ساحرہ

Sorcery, n. Magic ; enchantment ; witchcraft :
جادو - سحر - افسر - ٹونا - اورجھائی

Sorcerous, a. Containing enchantments : سحر
آمینز - جادو کا

Sordid, a. Mean ; avaricious ; niggardly ; dirty :
کھینچا - بخیل - تنگ دل - غلیظ - نجس

Sordidness, n. Meanness ; baseness : کمینچاپن -
نجاست - غلاظت

Sore, n. A place where the skin and flesh are
bruised ; an ulcer ; grief : قرحہ - زخم - ناسور -
* a. Tender ; easily vexed ;
painful : * نازک - زود رنج - پردرد :
grievously : بہت نہایت - بے شدت

Sorely, ad. Grievously ; greatly ; severely :
درد سے - سختی سے - شدت سے

Sororicide, n. The murder or murderer of a
sister : قتل یا قاتل ہمشیرہ - بہن کا مار ڈالنے والا

Sorrel, a. Of a reddish brown colour : سرخی مائل

Sorrow, n. Uneasiness or pain of mind produced by a sense of loss ; grief regret : افسوس - رنج - غم - پچھتاوا

Sorrowful, a. Full of sorrow ; sad ; mournful : غمگین - لوداس - ملول - دلگیر - مغرم - رنجوار

Sorrowfully, ad. In a sorrowful manner : رنجیدگی سے - افسوس سے

Sorry, a. Grieved for the loss of some goods ; melancholy ; poor ; worthless : رنجیدہ - دلگیر - He cut a—figure, اسنے اپنی بے قدری کروائی

Sort, n. A kind or species ; manner : قسم - طور : Out of—s, out of order : * Unwell : * غم آلود - متفکر - ناچیز - بے حقیقت اسنے اپنی بے قدری کروائی

Sortable, a. Such as can be sorted ; suitable : قسم وار جدا ہونے کے لائق - مناسب

Sortie, n. A sally of troops from a besieged place : محاصرہ مقام سے دھارا یا خروج

Sortilege, n. Divination by lot : قرعہ اندازی - قرعہ اندازی کے ذریعہ سے پیشین گوئی

So-so, a. Passable ; middling ; tolerable : ایسا رسا - بہت اچھا نہیں - ذہ رازہ رازہ نہ چھی چھی - واجبی - میاندہ

Sot, n. A habitual drunkard : نشہ باز - دائم الخمر

Sottish, a. Dull ; stupid ; intemperate : بیوقوف - مدہوش - نشہ باز - احمق - سرشار

Sough (suff), n. A subterranean drain : مری - * n. To whistle (applied to the wind) : * n. سرسراٹا - سائیں سائیں کرنا

Soul, n. The immaterial, immortal spirit of man : * Heart : * دل : * Mind ; intellect : * عقلت - عیبیت

Soulless, a. Having no soul ; devoid of human feeling : بے روح - بے جان - کم ہمت - بے حوصلہ - دون ہمت

Sound, a. Whole ; healthy ; correct ; weighty ; orthodox : * n. صحیح العقل - صحیح البدن - کامل - پورا - تندرست - * n. صحیح العقل - صحیح معقول - درست - صاف

Noise : آواز * A narrow passage of water : مچھلی کا زخم کی گہرائی - ناپنے کا آلہ * The air-bladder of a fish : * A probe : آواز کرنا * To cause to sound ; to make a noise : بجانا * To measure the depth of by a plummet ; to examine : گہرائی اپنے منہ میں مٹھو نہ بنو - اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کرو

Soundly, ad. Thoroughly : * بخوبی : * Firmly : * تندرستی سے * Healthily : * مضبوطی سے

Soup, n. A decoction of flesh, vegetables, &c : شوربا - بیضی

Sour, a. Acid ; pungent ; peevish : ترش - تیز - زرد : * A—countenance : ناگوار - تلخ * v. t. or i. To make or become acid or peevish : ترش کرنا - ترش ہونا - ترش و کرنا - بد مزاج کرنا - بد مزاج ہونا

Source, n. Spring ; fountain ; original ; first cause : منبع - چشمہ - اصل - نکاس - مبدا

Sourness, n. Acidity ; ill-temper : ترشی - کٹھنی - بد مزاجی

Souse, v. t. or i. To plunge into water ; to steep in pickle ; to fall suddenly : پانی میں ڈبنا - آچار * n. Pickle * میں ڈبنا - گر پڑنا - پل پڑنا * A plunge in water : * آچار * غوطہ - ڈبکی

South, n. One of the four points of the compass : * a. Laying towards the south : جنوب * جانب * ad. Towards the south : * دہنی * جنوبی * east, the points of compass equally distant from the south and the east : * west : * گوشہ جنوب و مشرق و مغرب - نیرت کون

Southern, a. Belonging to the south : جنوبی * دہنی

Souvenir (Pr. Su-ve-nir), n. A remembrance ; a keepsake : یادگار - نشانی

Sovereign (Pr. Sov'er-en), a. Supreme in power ; chief ; predominant : اعلیٰ - عظیم مطلق - بالاتر - برترین

Sovereign, n. A supreme ruler : فرمانروا * پاونڈ - انگلیت کا سونے کا سکہ برابر ۲ شلنگ کے

Sovereignty, n. Supremacy ; dominion : **نوریت** سرورپی - بادشاہت - شہنشاہی - فرمانروائی - عمل - نامور - راج

Syn.—Kingdom, empire, dominion.

Sow, n. A female swine : **مادہ خوک** : **v. t.** or **i.** To scatter as seed for growth ; to spread : **تھم ریزی کرنا** - **بونا** - **پھیلانا** **To—dissension,** فساد کا بیج بونا

Spa, n. A spring of mineral water : **فنز آمیز پانیکیا** چشمہ

Space, n. Distance ; room ; interval : **فاصلہ** - **جگہ** - **گھاس گھي** - **گنتیابش** - **وقفہ** - **اٹناے** - **عرصہ** - **v. t.** To arrange intervals between : **برابر فاصلہ پر لگانا**

Spacious, a. Extensive ; wide : **کسادہ** - **فراخ** - **وسخ** - **چورا**

Syn.—Ample, capacious.

Ant.—Limited, restricted.

Spade, n. A shovel for digging : **بیلچہ** - **کدال** - **To call** **a—** **a—**, to call things by their proper names : **پھورزا** * **A suit of cards** : **کارتوں کا رنگ** : **v. t.** To dig with a spade : **پھورنے سے ٹھوڑنا**

S an, n Nine inches : **انچ** * **The space from** the end of the thumb to the end of the little finger when extended : **بالت** * **Spread of an** arch : **Any short duration** : **مصراب کی چورزائی** : **وقفہ** - **تھورزا** - **عرصہ**

Span, v. t. To measure with span ; to arch over : **بالت سے ناپنا** - **مصراب لگانا**

Spangle, n. Anything sparkling and shining : **ستارے** * **v. t.** To set with stars to glitter : **ستارے جڑنا** - **چمچمٹانا**

Spaniel, n. A sporting dog : **شکار کی** * **a.** Fawning : **خوشامدی شخص** : **چاپلوس** - **خوشامدی**

Spanish, n. The language of Spain : **سپین کی** - **ا-سپین کے متعلق** * **a** Relating to Spain : **زبان**

Spank, v. t. To strike with the open hand : **کھلے ہونٹے ہاتھ سے مارنا** - **طمانچہ مارنا**

Span-new, adv. Brand-new ; quite new : **بالکل نیا** - **گورا** - **تھہ درز**

Spar, n. A long piece of timber : **دھنی** * **A mast** : **مستور** * **Bar of a gate** : **بیتدا** * **v. i.** To fight with fists ; to box : **ٹھکے چلانا** - **لڑنا** - **ٹھکے چلانا**

Spare, v. t. or i. To save ; to withhold ; to give up ; to treat ; to be frugal : **بچانا** - **باز رہنا** - **چھوڑنا** - **تزرپی سے خرچ کرنا** - **بچانا** - **لذت کرنا** - **کفایت کرنا** - **دے چھڑی کر** **To—the rod,** **سکنا** * **سکنا** - **فرض دے سکنا** * **a.** Frugal ; scanty ; lean : **کلم میں نہ لانا** - **ضرورت پر سزا نہ دینا** - **خیزس** - **قلیل** - **دلا**

Spring, a. Thrifty : **کفایت شعار**

Sparingly, adv. Frugally ; not lavishly : **تھابت سے** **فصل خرچی کے ساتھ نہیں**

Spark, n. A particle of fire : **چنگاری** * **A gay** man ; a lover : **چویل** - **عاشق** - **یار** - **عاشق تہن** - **چھیل چھیل**

Sparkle, n. A little spark ; lustre : **نور** - **v. i.** To emit sparks ; to glitter : **چنگاری** * **چنگاری** - **چمکنا** - **چمکنا**

Sparkling, a. Emitting sparks ; lively ; shining : **نور افشان** - **چنگیاں چھوڑنے والا** - **شور افشان** - **خوش** - **فرح افزا** - **چمکتا ہوا** - **جھلکتا ہوا**

Sparrow, n. A small familiar bird : **گوری** - **کھچک**

Sparse, a. Thin ; scattered : **پھیلا ہوا** - **تتر بتر**

Spartan, a. Pertaining to Sparta : **اسپارٹا کے** **قوی** - **سخت** - **دلیر** * **Hardly** ; brave : **متعلق**

Spasm, n. An involuntary contraction of muscles ; a sudden fit or effort : **تشنج** - **مروڑ** - **ایٹشن**

Spasmodic, a. Conclusive : **ایٹشن کا** - **تشنجی**

Spatter, v. t. To sprinkle with water, mud, etc : **بدنام** * **To defame** ; to soil : **پانی کیپڑ وغیرہ ڈالنا** - **دونا** - **عیب لگانا**

Spavin, n. A disease in horses : **مقا** - **مہرا** - **گورونکی بیماری**

Spawn, n. The eggs of fishes or of frogs : **مچھلی** - **یا میتا کر کے اڈے**

Spawner, n. A female fish : **مادہ مچھلی**

Spay, v. t. To castrate as a female beast : **مادہ کو** - **حصہ کرنا**

Speak, v. t. or i. To talk ; to say ; to utter words ; to pronounce ; to converse : **بولنا** - **کہنا**

To—for, to argue in favour of : طرفداري : کرنا - بات چیت کرنا
To—out, to speak louder : سفارش کرنا - سفارش کرنا
To speak unreservedly : زور سے بولنا - کھٹے اُٹھنا
To—up to express one's thoughts freely : صاف صاف یا کھول کر کہنا
To—well for, to be a favourable indication of : اچھی علامت ہونا - دلیل ہونا
Speak when you are spoken to, come when you are called, پورچھیں جب بولئے بلاریں جب جائیے
To—one fair, comfort, برون, تسلی دینا, To—daggers, دلدورز ہاتھیں سنانا

Speaker, n. One who speaks : متکلم والا - بولنے والا

Spear, n. A long pointed weapon ; a lance : بھالا : بھالا : *v. t.* To kill with a spear : بڑچھپی - نیزہ مارنا - نیزہ سے مار ڈالنا

Spearman, n. One armed with spear : بلم بردار - نیزہ بردار

Special, a. Particular ; uncommon ; appropriate : خاص - عجیب - مخصوص

Speciality, n. A particular case : خصوصیت - تخصیص

Specially, ad. Particularly ; chiefly : خصوصاً - خاصاً

Speciality, n. Particularity : خصوصیت - خاصہ (Law) مراخذہ خاص

Specie, n. Coined money : زر نقد - نقد - سکہ

Species, n. Kind ; sort ; class : نوع - قسم - جنس - ذات - درجہ

Specific, a. Distinguishing one from another ; particular ; definite : ذاتی - قسمی - خاص - *n.* An efficacious medicine : *(Med.)* * خاص مرض کی * مخصوص دوا - تیز بحدف : لگنا - حکمی دوا

Specification, n. Act of specifying ; thing specified : تخصیص - تفصیل - تصریح - تشخیص

Specify, v. t. To mention particularly : خصوصیت کرنا - تصریح کرنا - بیان کرنا - تفصیل وار کہنا

Specimen, n. Sample ; pattern : نمونہ - مثال - پانگھی

Specious, a. Obvious ; showy ; pleasing ; colourable ; plausible : ظاہری - خوشنما - نہایتی - دھوکے کا - ملبوس

Speck, n. A small stain ; a spot : داغ - دھبہ : *v. t.* To spot : چتپی دار کرنا

Speckle, n. A small speck : داغ - چتپی : *v. t.* To mark with small spots : چتپی ڈالنا

Spectacle, n. A show ; a public exhibition : منظر - چشمہ : *n. pl.* An optical instrument to assist the sight : نوائش - تماشہ - سرائک

Spectator, n. A looker on ; a beholder : دیکھنے والا - تماشاچی

Spectral, a. Pertaining to a spectre ; ghostly : آسپ سے تعلق رکھنے والا - آسپ

Spectre, n. An apparition ; a ghost : سایہ - بھوت - پریٹ - آسپ

Spectrum, n. A visible form ; an image presented to the eyes after removing them from a bright or coloured object : صورت جو آنکھ کو روشنی سے پھینکنے کے بعد نظر آئے

Speculate, v. i. To meditate : پرخیاں کرنا - تصور کرنا : *To purchase in expectation of a rise in value :* امید پر سوداگری کرنا

Speculation, n. The act of speculating ; mental view : تجارت بہ امید منافع : *A mercantile transaction :* خیال - تصور - منصرفہ

Syn.—Contemplation, theory, scheme, conjecture.

Ant.—Fact, proof, truth.

Speculative, a. Contemplative ; theoretical : متفکر - خیالی - غیر مصدق - غیر متحقق

Speculum, n. A mirror or looking-glass ; a reflector of polished metal : آئینہ - درپن

Speech, n. A particular language : بولی * *A formal discourse ; oration :* بیان - وعظ : *Speech is the picture of the mind,* کلام دل کی تصویر ہے

Speechless, a. Deprived of speech ; mute : بے سخن - بے زبان - گونگا

Speed, n. Quickness ; haste ; despatch : تیزی - *v. t. or i.* To hasten ; to prosper ; *to despatch ; to aid :* جلد - سربیز کرنا - چلنی - پھرتی - چندی کرنا - سربیز کرنا - جلد - پھیندینا - مدد کرنا

Speedy, a. Quick ; swift ; nimble : - تیز - پھرتیلا -
چالاک چنبھل

Spell, n. A story or tale : قصہ * A charm :
* A brief period : عرصہ تلیل * A change
of work : بدلہ * A brief period : عرصہ تلیل * A change
of work : بدلہ * To tell
or name the letters of : کہنا * To take a
turn at work : کام کرنا * To charm : سحر
کرنا - جادو کرنا - ڈونڈا کرنا

Spell-bound, a. Bound as by a spell : جادو سے
بندھا ہوا

Spelling, n. Act of naming the letters of a
word : لکھنا

Spelt, n. A species of wheat cultivated in
Germany : ایک قسم کا جرمنی کا اناج - پمن یا ٹھنیا :
گہنوں

Spelter, n. Zinc : غیر خالص جیس

Spence, n. The place where provisions are kept :
ظا - خانہ - نعمت خانہ - بھنڈار

Spencer, n. A kind of short coat worn by
females : صدری - تیزھی

Spend, v. t. or i. To lay out ; to consume ; to
waste ; to expend : خرچ کرنا - صرف کرنا - تلف کرنا
* Spend not where you
may save, spare not where you must
spend, اتھار نہیں جہاں بچا سکو جہاں اٹھانا چاہئے
وہاں بچاؤ مت

Spendthrift, n. A prodigal : (آزاد -
مصرف

Sperm, n. Animal seed : - منہ - نطفہ - دھات :
* Spawn of fishes or frogs ; spermaceti :
مچھلی یا مینڈکوں کے انڈے - دریائی جانور کر
کا تیل

Spermaceti, n. A fatty substance obtained from
the head of whales : ہریٹ مچھلی کے سر کا تیل

Spew, v. t. To vomit ; to eject : تے کرنا - رد کرنا

Sphere, n. A globe ; an orb ; circuit ; province ;
post : کرہ - کرلا - تپہ - دائرہ - صوبہ - جگہ

Spherical, a. Globular ; round : - کروی - گول -
مردور

Sphericity, n. Roundness ; globosity : - کرلائی
کرورت

Sphereoid, n. A body nearly resembling a
sphere : شکل تقریباً مدور

Spherule, n. A little sphere or globe : -
چھوٹی کرہ

Sphinx, n. A fabulous monster with the body
of a lion and the face of a virgin : ایک خیالی
جانور جسکا بدن مگ شیر کے اور چہرہ مگ عورت کے ہے

Spice, n. An aromatic substance ; a sample :
مصالک : To season with spice : نمونہ
دار کرنا

Spicery, n. Spices collectively : کرائند -
کرم مصالح

Spicule, n. A small spike : کیل

Spicy, a. Abounding with spices ; fragrant ;
pungent ; showy : - تیز - خوشبودار -
نمیشی

Spider, n. A web-spinning insect : مکڑی -
عنکبوت

Spike, n. An ear of corn or grain : خورشہ -
میسخ - کیلا
A large nail :

Spike, v. t. To fasten with a spike : -
میسخ ٹھونکنا -
چڑنا

Spikenard, n. A highly aromatic plant : چٹا ماسی

Spiky, a. Having a sharp point or points : -
ٹوکدار

Spile, n. A small peg or wooden pin : لکڑی کی
کوہرتھی

Spill, v. t. or i. To suffer to fall or run out of
a vessel ; to shed ; to be shed ; to run over :
گرا دینا یا چھونکنا - ڈھلنا - چھونکنا - بہنا

Spin, v. t. or i. To draw out and twist into
threads ; to twirl : * کاٹنا - گورمانا یا گورمتا :
لہہ کہانی -
—a yarn, to tell a long story : کہنا - کتھا کہنا -
امبی چڑھی خانکنا

Spinage, n. A garden plant : - ایک قسم کی نبات -
پالک

Spinal, a. Belonging to the back bone : پیرہہ کا

Spindle, n. The pin used in spinning : * تکرہ -
کھڑی کا ایک پرزہ

Spine, n. The back bone ; a large thorn : -
ریڑھ - خار - سرل

Spiniferous, a. Thorny : ٹھیک - خار دار

Spinner, n. One who spins ; a spider : دانتے
- لا - مکڑی

Spinous, a. Full of thorns ; thorny : خار - تکیلا - دار

Spinster, n. A woman who spins : کاتنے والی
An unmarried woman : * عورت دوشیزہ

Spiny, a. Thorny : خار دار - تکیلا : * Perplexed : پریشان

Spiracle, n. A breathing-hole ; a small aperture : دم لینیکا سوراخ - سوراخ

Spiral, a. Winding like a screw : پیچدار - پیچان

Spire, n. A winding line like the threads of a screw ; a curl ; a twist : بیچ * A steep : گھاس کا پتا * A blade of grass : مینار

Spirit, n. Breath ; the soul : روح - جان * A ghost : آسب * Animation : جان * Vivacity : * Enthusiasm ; courage : مزاج - * Good humour : سرگرمی - دلیری

The essential part of anything ; essence : طبعیت * Real meaning : * شراب - عزق * A distilled liquor : اصل معنی * To pluck up spirits, ہمت باندھنا - * To lose - , ہمت ہارنا * ہندھنا

Syn. 1. Apparition, phantom, spectre.
2. Liveliness, warmth, glow.
3. Earnestness, ardour, enthusiasm, zeal.

—, v. t. To animate ; to excite ; to encourage : پہلانا * To kidnap : ہمت بڑھانا - جرات دینا

Spiritual, a. Not material ; incorporeal ; mental ; religious ; pertaining to the moral feelings : روحانی - غیر جسمانی - نفسانی - اندرونی - باطنی - دینی - مذہبی - پاک صاف

Spiritualism, n. Spiritual character : روحانی * The doctrine of the existence of spirit distinct from matter : یہہ اصول کہ روح کا وجود * Belief that deceased persons can be communicated with a spiritual medium : روحانی ذریعہ سے مردوں سے بات چیت کر سکنے کا عقیدہ

Spirituality, n. An ecclesiastical body : دینی جماعت

Spiritualize, v. t. To render spiritual : روحانی بنانا - لطیف کرنا

Spirit, v. t. To throw out in a stream : فوارہ نکالنا * n. Sudden ejection : پھوہار

Spiry, a. Spiral ; pyramidal : پیچدار - بشکل مینار

Spissated, a. Thickened : موٹا - گاڑھا

Spissitude, n. Thickness of soft substances : گاڑھا پن

Spit, n. A pointed iron prong or bar on which meats roasted : * Saliva : * سیخ - سینچچہ * v. t. or i. To put upon a spit : * To throw out saliva from the mouth : تھوک * سینخ میں گودنا * تھوڑنا

Spite, n. Malice ; rancour ; hatred : بغض * In—of, in defiance of ; notwithstanding : * بظاف - باوجود - تسپر : * To hate ; to treat maliciously ; to thwart ; to vex : بغض رکھنا - کینہ رکھنا - مخالفت کرنا - دق کرنا

Spiteful, a. Full of spite ; malicious : پر کینہ - کینہ ور

Spitfire, n. An irascible person : قصور آدمی

Spittle, n. Saliva ; moisture of the mouth : تھوک - رال - لعاب

Spittoon, n. A vessel to receive spittle : پیکداری - اوگال دان

Splash, v. t. or i. To spatter with water or mud ; to strike and dash about water : پانی یا کیچڑ کی چھینٹیں ڈالنا - چھینٹیں اڑانا - گھنگھولنا

Splashy, a. Wet ; dirty : کیچڑیلا - میلا

Splay, a. Spread ; turned outward : پھیلا ہوا - پا ہر کی طرف جھکا ہوا

Splay-footed, a. Having the foot turned outward : جسکے پیر باہر کی طرف پورے ہوئے ہوں

Spleen, n. The milt : * سہرز - تلی : * Anger ; ill-humour ; melancholy : * غصہ - رنج - ملال

Spleeny, a. Angry ; peevish ; melancholy : قصور - تند خو - چرچرا - ماول - رنجیدہ

Splendent, a. Shining ; bright ; illustrious : منور - روشن - تاباں

Splendid, a. Shining ; magnificent ; illustrious : منور - روشن - عالی شان - عظیم الشان - دھرم دھام کا

Splendour, n. Great brightness ; magnificence ;
روشنی - چارۂ - جلا و جلال - شان و شوکت - pomp

ردوق

Splenetic, a. Peevish ; gloomy ; angry : - تنک
n. A person affected with spleen :
ماحال کا مریض

Splice, v. t. To join together the ends of a rope :
چروڑنا - سائٹنا - دو سرسوں کو بغیر گائٹہ دیئے چروڑنے
عمل پانہی کرنا - **To - the main brace,** - کسی ترکیب
نشتہ پانہی کرنا

Splint, n. A thin piece of wood to hold a broken
bone when set :
کھپاچ باندھنا
v. t. To fasten with splints :

Splinter, n. A thin piece of wood : - کھپاچ - ٹرچ

Split, v. t. or i. To divide lengthwise ; to rend ;
to burst :
To * چیرنا - پھاڑنا - جدا کرنا پھوٹ جانا :
—hairs, to be too critical : - بال کی کھال کھینچنا :
To - upon, to divulge a secret :
راز فاش کرنا - باریک بینی کرنا
* اسیدیں اور مقاصد تلف کر بیٹھنا - مہاک غلطی کر بیٹھنا
n. * بڑا تڑاڑل یا شور مچانا
To make all -,
Pl-sure ; separation : - شق - درار - شگف - چتر - جدائی

Splutter, n. A bustle ; stir ; tumult : - رول چرل -
v. i. To speak hastily and confusedly :
جلد جلد اور بے ٹھکانے بولنا

Spoil, v. t. or i. To plunder ; to vitiate ; to ruin ;
to decay :
لہرنا - غارت کرنا - بگاڑنا - خراب کرنا -
You must -
* آدمی کچھ نہوہی کے سیکھتا ہے
n. Pillage ; robbery ; corruption : - لوٹ -
خزیمت - تاراج - ڈکیتی - بربادی - اہتوی

Spoke, n. The radius of a wheel :
* پہلیے کا آرا
* سبزہی کا قنڈا - آڑ - روک
The round of a ladder :
* پلہی گارہی میں
To put a - in one's wheel,
روزا آٹھانا - کسی کے کام میں معترض ہونا - کام چلنے
نہ دینا

Spokesman, n. One who speaks for another :
جو دوسرے کی طرف سے بولے - عرض دہی

Spoilation, n. Plunder ; pillage : - لوٹ - ڈرکا -
غارگیری

Spondee, n. A poetic foot of two long syllables :
دو رکن کا ایک وزن

Sponge, n. A soft porous marine substance :
A mean sycophant : * اسپنج یا اسفنج - مسوا - بال :
To throw * خورشامی نثر - تکر - خور - مانیلیا - لہہ جو
up the -, * ہار مان لینا
Sponge cake,
* v. t. To cleanse with a sponge :
* To live by mean arts :
* اسپنج سے صاف کرنا
* ویلونسے زندگی بسر کرنا

Spongy, a. Of an easily compressible texture :
نرم - پرلا - پلپلا

Sponsor, n. A godfather ; a surety : - دہرم باپ -
فعل ضامن - ضامن

Spontaneity, n. Voluntariness ; willingness :
خود اختیاری - رضامندی - خود متحرکی

Spontaneous, a. Of one's own free will ;
voluntary :
اختیاری - مدائی - طبع ذات - خود رو

Spool, n. A hollow cylinder used by weavers, etc. :
To wind on
* جو لاہو نکی چرخہ - آئین - پونیا
چرخہ پر چڑھانا
spools :

Spoon, n. A small ladle for taking up liquids :
A soft simple fellow : * چمچ - کھرچھا - توڑی
پتلہ کھانا - لپسی - ہریرا - meat - * سادہ لوح

Spoonful, n. The quantity which a spoon is
able to contain :
چمچہ بھر - کر - بھر

Spoony, a. Simple ; silly ; being in love :
سادہ - بیوقوف - عاشق

Sport, n. Pastime :
* Mirth : * کھیل
* Fun : * مذاق ٹہٹھا
* Mockery : * تماشا
* Hunting : * شکار
In -, * v. t. or i. To
divert ; to play ; to make merry ; to exhibit :
خوش کرنا - کاول کرنا - کھیلنا - ہنسی ٹہٹھا کرنا -
نمایش کرنا

Sportive, a. Gay ; merry ; playful : -
خوش طبع - کھلاڑی - چنچل - زندہ دل

Sportsman, n. One who pursues field sports :
شکاری

Spot, n. A stain :
* A place : - داغ - دھبہ
Upon the -,
* Disgrace : * کٹک
* v. t. To
immediately :
* وہیں - اُچھڑے - فی الفور :
دھبہ ڈالنا - نشان
* stain ; to mark ; to tarnish :
ڈالنا - داغ ڈالنا - کٹک ڈالنا

Spotless, a. Free from stain or impurity ; pure ; immaculate : پاک - صاف - داغ - بے

Spotty, a. Full of spots : - داغدار - داغدار - چتے دار

Spousal, a. Nuptial ; bridal ; conjugal : - نکاح کا - n. * شادی کا - بیواہ کا - متعلق بہ شوہر و زوجہ Marriage : شادی - بیواہ - نکاح

Spouse, n. A husband or wife : خصم یا جرور

Spout, n. A pipe ; a projecting mouth of a vessel : - پانی جو - مندر * Water spout : * نل - ٹرنٹی : نوارہ کی طرح پانی چھوڑنا - اوچھالنا * v. t. * To issue out of a narrow orifice : نوارہ کی طرح پانی چھوڑنا - اوچھالنا

Sprain, n. A violent strain of the muscles or ligaments of a joint without dislocation : - مررز - مررز - مررز * v. t. * To overstrain the ligaments of joint : مررز - مررز - مررز

Sprat, n. A small fish of the herring family ایک قسم کی چھوٹی بھری مچھلی

Sprawl, v. i. To lie with the limbs stretched out ; to spread irregularly : - تھوہ پائر پھیلا کر لیت - جانا - چت پڑنا - پھیلنا - بکھیرنا

Spray, n. A small shoot or branch : - سر - سمندر : The foam of the sea * شاخ - چھوڑنا - سنٹی کا بیج

Spread, v. t. or i. To extend in all directions ; to unfurl ; to divulge : - پھیلنا - پھیلنا - پھیلنا * To - about, to publish : * To diffuse : * منتشر کرنا * To disperse : * پراگندہ کرنا * To - like wildfire, to get abroad in no time : * آنا نانا پھیل جانا

Spread the table, and contention will cease, n. Extent ; expansion : - وسعت - پھیلاؤ

Spree, n. Frolic ; noisy merriments ; a carousal : ناچ کود - جشن - مینوشی - مندی مزاق

Sprig, n. A small branch ; a twig : - ٹہنی - شاخ

Sprightly, a. Lively ; brisk ; gay : - خوش طبع - چست - پورٹیکلا - خرم - زندہ دل - خوش

Sprightly, a. Brisk ; lively ; active : - چالاک - خوش طبع - زندہ دل - تیز - چست - چالاک

Spring, v. t. or i. To leap : * اچھلنا * To issue : * نکلنا - پھوڑنا * To start : * اٹھنا * To arise : * نکلنا - پھوڑنا

To shoot up ; to grow ; to thrive : لپکنا * To fly back : * اوگنا - نمود ہونا - سرسبز ہونا

To produce quickly : * نکالنا - پیدا کرنا * To fire as a mine ; to burst : * پھوڑنا * To split : - چھرنا

* To - a leak, to let in water suddenly : * پانی پھرت نکلنا * ٹوٹی چھوڑنا * پانی اندر آنے لگے

* To - at, to leap towards : * سرنگ آڑنا * To - at, to leap towards : * جست کرنا - چھپٹنا

To rush out : * ٹوٹی کرنا * To - on, upon, to assault : * حملہ کرنا * To - up, to grow : - اگنا

* n. A leap ; a flying back : - جست * The season of the year when plants begin to grow : * موسم بہار : چشمہ - نوارہ - سوتا

* A fountain : چشمہ - نوارہ - سوتا

Spring, n. A noose ; snare : - دام - پھندا - سرک - پھانسی

Spring-tide, n. The tide at the new and full moons : - سمندر کے پانی کا چھوڑنا جو سدی دوج اور پورنوں کے بعد ہوتا ہے - جزار

Springy, a. Elastic ; full of springs : - لچکدار - چشموں اور سرتوں سے بھرا ہوا

Sprinkle, v. t. To scatter in drops ; to besprinkle ; to wash : * تو کرنا - دھونا - چھینٹنا - چھوڑنا

Sprite, n. A spirit ; a demon : - ہریت - جن - عورت - ہریت

Sprout, v. i. To shoot ; to germinate ; to grow : * n. The shoot of a plant : * کلے نکلنا - ڈالی جمن - اوگنا - کلانا ابرجنا

Spruce, a. Neat ; trim ; foppish : - نیکو - عمدہ - صنوبر - سرو - جھاڑ * n. An evergreen tree ; a species of fir : * بنا ٹھنا - بانکا - الپنا

Spruceness, n. Neatness without elegance : صفائی - سجاوٹ - بناؤ ٹھناؤ عمدگی

Spry, a. Nimble ; active ; vigorous : - چالاک - چست - مستعد - پورٹیکلا - توی

Spud, n. An implement somewhat like a chisel used for destroying weeds : چھوٹی کھوپڑی

Spume, n. Froth ; foam : - جھاک - پھین - کف

Spumous, a. Foamy ; frothy : - جھاک - پھین - کف

Spunk, n. Touchwood ; mettle ; pluck : ایک لکڑی جو آک کو چھوڑتے ہی جل اٹھتی ہے

* Spur, n. A goad, worn at the heel : * کاتنا * Incitement : * ٹھہب * Branch of a mountain :

- On the—of the moment, at once :** فوراً - انا ناٹا
- Spur, v. t. or i.** To prick with spurs ; to incite ; to hasten ; to press forward : - اُکھانا - مہمیز مارنا - اُکھانا
- Spur not a free horses to death,** چلتے ہی لے کر مار دینا
- Spurious, a.** Counterfeit : - جعلی مصنوعی - Bastard : - درامی
- Spurn, v. t.** To kick ; to scorn ; to reject with disdain : - حقارت کرنا - n. A disdainful rejection : - بیقدری - حقارت
- Spurt, v. t. or i.** To drive or force out violently as a liquid stream from a pipe or small orifice ; to issue out in a stream : - نکالنا - ارچھالنا
- n.** A sudden violent gush ; a short, violent effort : - اخراج - نکاس
- Sputter, v. i.** To emit saliva from the mouth : - تھکانا
- To speak hastily ; to jabber :** جلد جاد بولنا - بھنا
- Sputum, n.** Matter exorated ; spittle ; saliva : - کھنکار - تھوک
- Spy, n.** One who watches another's motions ; a scout : - گونڈہ - بھیدیا
- v. t. or i.** To gain sight of ; to discover ; to detect ; to inspect secretly ; to search narrowly : - دور سے دیکھنا - جھانکنا - تکتنا - کھوجنا - دریافت کرنا - شرع لگانا - جاسوسی کرنا - تلاش کرنا - بھید لگانا
- Spy-glass, n.** A small telescope : - دوربین
- Squab, a.** Fat ; thick and stout ; unfeathered : - **a.** A young pigeon : - **a.** A stuffed sofa cushion : - مسند - گدا
- Squabble, v. i.** To quarrel ; to debate peevishly ; to wrangle : - تڑار کرنا - نصیبہ کرنا
- n.** Dispute : - جھگڑا کرنا - حجت کرنا
- Squad, n.** A division of a company in a regiment : - **Any small party :** چھوٹی جماعت
- Squadron, n.** A body of cavalry : - سرداروں کا فرل
- A detachment of ships :** بیڑا جہازوں کا

- Squalid, a.** Dirty ; foul ; filthy : - گندہ - میلہ
- Squall, n.** A sudden gust of wind : - ہوا کا جھوکا
- A loud scream :** - کڑک - چلھٹ - آندھی
- A black Squall, v. i.** To scream or cry out violently : - چیخنا - کھینا - چلھٹا
- Squally, a.** Gusty : - آندھی یا جھونکے کے ساتھ
- Syn—Gusty, blustering, stormy, tempestuous.**
- Squalor, n.** Filthiness ; nastiness : - گندگی - میلان
- Squander, v. t.** To scatter or spend lavishly : - اڑا دینا - صرف کرنا - لڑھکتا - برباد کرنا - گھرا
- Squanderer, n.** A spendthrift : - فضول خرچ
- Square, a.** Having four equal sides and right angles : - چوکور گوشہ
- Perpendicular :** - **True ; fair ; honest :** - سیدھا - عوامی
- A square man, v. i.** To scatter or spend lavishly : - برابر - برابر : - مناسب - صاف - سچا
- Square dealing, The account is—, Come off—, The product of a number or quantity multiplied by itself :** - **Level :** - سطح - مربع - معذور - بڑک
- To be at—, To break no squares, To play upon the square, To see how the—goes, To reduce to a square ; to turn :** - **To compare with :** - چوکور گوشہ کرنا - موزن کرنا
- To adjust :** - بیدار کرنا - **To multiply by itself :** - **To suit :** - مربع یا معذور کرنا
- To be on the—, to be honest :** - ایماندار ہونا
- To—off, to take an attitude of offence :** - ناراض
- To—up, to balance up :** - **To dispute :** - جھگڑنا - حساب کتاب ملے کرنا
- Squash, v. t.** To press into pulp ; to crush : - **n.** A sudden fall of a heavy soft body : - دھماکا
- A kind of gourd :** - ایک قسم کی لڑکی
- Squat, v. i.** To sit down on the hams or heels : - **n.** The posture of sitting on

the hams or beels : چار زائر * a. Cowering
ing ; short or thick : - نپورزا ہوا - جھکتا ہوا -
اُڑوں بیٹھا ہوا - نٹا - موٹا

Squatter, n. A settler on land without a legal
title : کسی زمین پر بلا استحقاق بسنے والا

Squeak, v. i. To utter a sharp shrill cry : - چیخنا
کیانا - چھیانا - کرکنا

Squeal, v. i. To cry as with pain : - چیخنا
چیخنا * n. A shrill, sharp prolonged cry of a
pig : چیخ

Squeamish, a. Delicate ; fastidious : - نازکی مزاج
تک مزاج

Syn.—Scrupulous, dainty, fastidious.

Ant.—Coarse, easy.

Squeeze, v. t. or i. To compress ; to crush ; to
press closely : کوبینچنا - دبانا - ملنا - کھلنا - پیس
* n. A pressure between bodies ; a
gripe : دبڑ - نچرڑ - کھینچ

Squib, n. A firework : ایک آتشبازی - چھپرندر
petty lampoon : ہجر * To throw a—, ہرا
ہرا * v. i. To throw squibs : مارنا - آواز پھینکنا
مارنا - آواز پھینکنا

Squill, n. Wild onion : جنگلی پیاز

Squint, v. i. To see obliquely : کن
انکھیروں سے دیکھنا

Squint-eyed, a. Having eyes that squint : اینچا
ٹان

Squire, n. A gentleman next in rank to a
knight : ایک سرداری خطاب - بھادر * A country
gentleman : زمیندار * A bean : * v. t. To
attend as a squire : ہمراہ رہنا - ہمراہ رکاب ہونا

Squirrel, n. A pretty rodent animal that lives
on the trees : گلابی

Squirt, n. An instrument with which a liquid is
ejected in a stream ; a syringe ; a small jet :
پچکاری - فوراء

Stab, v. t. or i. To pierce with a pointed weapon ;
to thrust ; to kill ; to injure : - خنجر مارنا -
* کونچنا - بھونکنا - ہلاک کرنا - زخمی کرنا - کھیل کرنا
* n. The thrust of a pointed weapon ; a secret
stroke or blow : ہونچ - ہونک - ہول - زخم گھنچ

Stability, n. Firmness ; steadiness ; constancy :
مضبوطی - پائنداری - استقلال - دھیر

Stable, a. Firmly established ; firm ; durable ;
constant : - مستحکم - مستقل - مضبوط - استوار
* n. A house or shed for
horses and other beasts : اصطبل یا طویلہ
* v. t. or i. To put or keep in a stable ; to dwell
in a stable : - اصطبل یا طویلہ میں رہنا یا باندھنا
اصطبل یا طویلہ میں رہنا

Stack, n. A pile of hay, corn ; etc. : - تودہ
تودہ کرنا یا : * v. t. To pile in a stack : انبار - ڈال
انبار لگانا

Saddle, n. Anything which serves for support :
تکیہ - بیگھی - ڈنقا

Staff, n. A stick carried in the hand for support
or defence : * سپاہی - لاقوی
* A support : سپاہی
* Officials of a department : * عصا - بلم
* The—of life, کسی سرشتہ کے ملازم
* The—of one's age, زندگی کا سپاہی - روٹی
ملازم * Staff-officer, * عصا پیدری - مزہ پانے کا سپاہی
* To put down one's—, سچا جو سچا سالار کے ساتھ نہ
سکونت اختیار کرنا

Stag, n. The male red-deer : بارہ سنگا

Stage, n. A raised platform ; a theatre ; any
place of exhibition ; a place of rest ; a halting
place ; degree of advance : چہرتر - تماشا
گاہ - قیامگاہ - مرحلہ - منزل - فرودگاہ - درجہ

Stage coach, n. A coach that runs from one
place to another at stated times : ڈانک کی گہوڑا
گاری

Stage player, n. An actor ; a theatrical per-
former : نقال - سوانگیا

Stagger, v. i. To reel ; to give way : ڈگمگانا
* To have the—s, * لڑکھڑانا - لغزش کرنا - کھپانا
* v. t. To reel ; to hesitate ; to shake :
شک میں ڈالنا - لڑانا

Stagnancy, n. The state of being without mo-
tion : استادگی - تیام

Stagnant, a. Not flowing ; motionless ; impure ;
* بند - ساکن - بے حرکت - گدلا - کالہ - سست :
* water. کھوڑا پانی

Stagnate, v. i. To cease to flow ; to be motion-
less : بہنے سے بند ہو جانا - ساکن ہونا - رکنا

Stagnation, n. Condition of being stagnant ; cessation of flowing or action : استادگی - رکاوٹ

Staid, a. Sober ; steady ; regular : مستقل - سنجیدہ - قائم مزاج

Stain, v. t. To spot ; to dye ; to tarnish : دھبہ
n. * آلودگی - داغ لگانا - رنگنا - کھنک لگانا - بدنام کرنا
 دھبہ - داغ - بدنامی - spot ; taint ; disgrace : رسوائی

Stainless, a. Spotless ; pure ; immaculate : بے داغ - صاف - بے عیب

Stair, n. A step or series of steps for ascending : سٹیڑھی - زینہ

Stair case, n. The place for stairs : سٹیڑھی - زینہ

Stake, n. A stick pointed at end : چوب - میخ
 * Post : کھمبہ * Anything pledged in a wager : بازی * **At**—, in danger : میں * **At hazard** : * **v. t.** To support or defend with stakes ; to mark the limits by stakes ; to pledge ; to wager : چوبوں یا میخوں سے * مضبوط کرنا - میخوں سے حد باندھ کرنا - اقرار کرنا - شرط کرنا - بازی لگانا

Stalactite, n. A pendent cone of carbonate of lime resembling an icicle in form : دھات کا
 ٹکڑا جو برف کے ٹکڑے کے مانند کسی غار کی چھت سے لٹکا ہوا

Stale, a. Vapid ; tasteless ; decayed ; not new : * پھپھورندا - اُپسا ہوا - بے مزہ - کھنک - باسی
n. A long handle ; a decoy : دستہ - چھلورہ - پیشاب کرنا * **v. i.** To make water : (جائز روگما)

Staleness, n. Vapidness : بوسیدگی - کھنکی

Stalk, n. The stem of a plant : ڈالی * **A high, proud walk** : اکر کی چال
v. t. or i. To walk with high and proud steps ; to approach under cover or by stealth : اکر کر * چلنا - ایٹھہ کر چلنا - چھپ کر یا چپکے چپکے جانا

Stalking-horse, a mask to conceal some design : شکار کی تکی - آڑ - اوت

Stall, n. A stand ; a stable ; a bench , a booth : چبوترہ - اصطبل - مارپتہ - گھڑسال - تھنڈ - کرسی - خوانچہ - دوکان

Stallion, n. A horse not castrated used for raising stalk : گھڑزا - سالتہ جو آختہ نہ ہو - اسپ نر

Stalwart, a. Brave ; strong : جراتورہ - قوی - مضبوط

Staminate, a. Composed of threads : سورت یا دھوکونسے جٹا ہوا

Stammer, v. t. or i. To stutter ; to falter ; to hesitate : ہلکت کرنا - تکتا - ہلکتا - پس و پیش کرنا
n. Defective utterance : لکت - تکلاہٹ

Stamp, v. t. or i. To beat with foot : پانوں سے
To impress : نقش کرنا * **To imprint** : * سکھ بنانا
To coin : * چھاپنا - تھپہ لگانا - مہر کرنا
n. An instrument for making impressions : * Impression ; a thing stamped ; cast ; چھاپ - نقشہ - سکھ - تھپا - قول - قماش - * **paper**, ریکا کاغذ - اندازہ - طریق

Stampede, n. A sudden panic amongst animals : بھگڑ

Stanch, v. t. or i. To stop flowing ; to cease to flow : خون وغیرہ بند کرنا - تھمنا یا بند ہونا

Stanchion, n. An upright prop or support : تکیہ - تھوڑی - ڈالت - سہارا

Stand, v. i. To remain erect ; to be on end : * واقع ہونا
To be situated : * کھڑا ہونا - استعادہ ہونا
To stop ; to pause ; to halt : تھمنا
To continue ; to maintain ; to last : قائم رہنا
To persist ; to insist : مستقل ہونا
To have efficacy : * اسرار کرنا
To be permanent : * ثابت قدم رہنا
To—against, to resist : * مقابلہ کرنا
To—aside, to retire to one side : ہٹ لگانا
To support, to be present : * موجود ہونا
To—fast, to be fixed : * مدد دینا - ساتھ دینا
To—for, to espouse the cause of : * حمایت کرنا
To sail in the direction of : * کسی طرف کو روانہ ہونا
To—off, to keep at a distance : * الگ یا دور رہنا
To—out, to project : * صرفہ پڑنا
To oppose persistently : * اُپسرتا - باہر نکلتا
To—over, to be put off : * ساتری ہونا
To—(Naut.) To leave land : * سمندر کے رخ چلنا
To—to, to abide by ; to adhere to : * قائم رہنا
To—up, to rise to one's feet : * کھڑا ہونا
To—up against, to place one's self in opposition to : * مقابلہ کرنا
To—up for, to rise in defence of : * کھڑا ہونا

To—upon, to set value on : قدر کرنا * **To insist on** : اسرار کرنا * **To—with**, to be consistent with : معقول ہونا - ترین مصنعت ہونا * **To—in need of**, to be in want of : حاجت یا ضرورت * **To—one in good stead**, to be of great service : کام آنا * **To—to reason** : عقل میں آنا

Stand, v. t. To place on end : کھڑا کرنا * **To endure** ; to sustain : برداشت کرنا * **To await** : انتظار کرنا * **To—bail**, to become surety for : ضامن ہونا * **To—one's ground**, to keep one's place : اڑا رکھنا * **To—fire**, to remain while being shot at by an enemy without giving away : کڑکے چلنے کے * **To—in hand**, * **To—to reason**, مفید مطلب ہونا - کام دینا * **Is at a—to think**, کہ کیوں سمجھتا ہے * **To make a—**, ہرنا، آڑے کھڑے ہونا

Stand, n. A place ; a station ; a halt ; a raised station ; something on which a thing is laid : جگہ - مقام - ٹھکانا - اقامت - پڑاؤ - چھوڑنا - مقابلہ کرنا - سامنا کرنا، * **To make a—**, تپائی - تکلیف

Standard, n. An established rule or measure : Rate * **A banner** : اندازہ - وزن - پیمانہ : **Criterion** ; an upright support : علم * **Having a fixed value** ; recognised : **Bearer**, one who bears a standard : علم بردار - جہتدا * **لیچ انڈیرال**

Standing, a. Permanent ; lasting : دائمی - جاو * **Not flowing** : قائم * **Fixed** : پائیدار * **Remaining erect** : کھڑا * **Rank** : مرتبہ * **army, permanent body of soldiers** : **colour, colour that does not wash out** : **crop**, corn not cut down : **order**, permanent regulation of a legislature : قانون * **rigging, fixed ropes** : **water, stagnant water** : **corn**, کھڑی کھیتی - ذراعت استادا * **corn** : گندا پانی

Stand point, n. A fixed station ; a point of view : موقع - اصول - مقام نگاہ دہشت - بنا

Stanza, n. A portion of poem : بیت - قطعہ - رباعی

Staple, n. A settled market ; a principal production ; the chief ingredient ; the thread of wool, &c. ; a loop of metal : **بازار - منقہ - جنس - سودا - مصالح - جزر اعظم - ریشہ - رشتہ - کتدا - مقرر - اصل - خاص** : **a. Settled ; chief** : **فروشنده - بیروپاری**

Stapler, n. A dealer in staple commodities : **فروشنده - بیروپاری**

Star, n. A luminous body in the heavens : **The figure of a star (thus)** * **ستارہ - کونک** (مثل *) **نشان ستارہ** : **A distinguished person** : **A badge of honor** : **An actor** : **ستارونکا نمغہ** : **Out of one's—**, کسی کی قسمت، **ناک کا سوانگیا** : **To set or adorn with stars** : **ستاروں سے زینت دینا - انشان چننا**

Starboard, n. The right handside of a ship or boat : **جہاز کا داہنے رخ جب کڑی شخص اس کے سرے کی طرف منہ کرے کھڑا ہو**

Starch, n. A substance used for stiffening cloth ; stiff ; formal manner : **ماتری - کف - اہار - نشاستہ** : **a. Stiff ; precise** : **To stiffen** with starch : **کاف دینا - ماتری دینا**

Starchy, a. Stiff ; rigid : **کڑا - سخت**

Stare, v. i. To look earnestly ; to gaze : **گھورنا** : **To—in the face**, to be undeniably evident : **صاف ظاہر ہونا - اظہر من الشمس ہونا** : **A fixed look with open eyes** : **تکلیف - تاک** : **نظر بازی**

Stark, a. Stiff ; strong : **Merc** ; **nonsense**, **entire** : **مطلق** : **ad. Wholly ; entirely** : **مطلقاً** : **mad, entirely mad** : **naked**, **blind** : **ننگا مادر زاد** : **ننگ دھڑنگ**

Starling, n. A well-known bird allied to the crow : **شاری - سینا - ابلقہ - بیٹی**

Starry, a. Abounding with stars : **کراگبدار** : **ستاروں سے بھرا ہوا**

Start, v. i. To make a sudden and involuntary motion of the body through surprise, pain or any other feeling ; to shrink ; to wince : **چوکننا** : **To spring up** : **اٹھو بیٹھنا** * **To**

set out : چادینا ہونا * To be dislocated :
 جاننا * To—after, to set out in pursuit of :
 پیچھا یا تعقب کرنا * To—against, to oppose :
 اٹھنا * To—up, to rise suddenly :
 بیٹھنا - پکڑنا

Start, v. t. To rouse suddenly from concealment :
 * To begin : شروع کرنا * To set agoing :
 نکالنا * To originate :
 n. A sudden motion ; a spasm ; a sally ; alarm ; a tail :
 * روانگی - جوش - آیتھن - پبلانگ - کلانچ - چرنک - دم
 آئے : To have the—of, to go in advance of :
 نکل جانا - بڑھ جانا - کسی سے پہلے شروع کر دینا -
 کسی پر فوق لے جانا

Startingly, adv. By fits or starts :
 چرنک کر -
 تعجب میں آکر

Startle, v. t. or i. To frighten ; to shock ; to
 surprise :
 ڈرنا - ڈرانا - دھمکانا - چوکنا - چرنکنا

Starvation, n. The act of starving or state of
 being starved :
 ناقہ کشی - اوپاس

Starve, v. t. or i. To kill with hunger or cold ;
 to perish with hunger or want :
 بھوکوں مارنا -
 بھوک سے مرنا

Starveling, a Hungry , lean :
 بھوکا - لاغر - ڈبلا -
 کمزور

State, n. Case : وضع طور - روداد
 Rank ;
 A * مرتبہ - درجہ - رتبہ - گرو فر - شکرہ :
 dignity :
 چاعت - فرقہ - ریاست -
 community : civil power :
 معاملات * سرکار - سلطنت - ملکی اختیار
 —affairs, * ناہی کشتی barge - * ملکی

State, v. t. To express the particulars of ; to
 narrate ; to recite : بیان
 ظاہر کرنا - عرض کرنا
 سرکاری - شاہی
 * a. Public ; royal :

Stately, a. Majestic ; grand ; splendid ; magnifi-
 cent :
 بلند - عالی شان - عظیم - شاہانہ - پر تمکنت -
 پر دیدہ

Stateliness, n. Majesty ; magnificence ; dignity :
 عظمت - کبریائی - جاہ و جلال - دیدہ - آن بان - شان و
 شوکت - تمکنت

Statement, n. A recital or arrangement of
 facts :
 بیان - اظہار - رویداد - کیفیت - فرد حساب

Statesman, n. A politician :
 مدبر امور سلطنت -
 دیران

Statesmanship, n. Political skill :
 سیاست مدین -
 مدبرانہ لیاقت یا کارروائی - نواس

Static, a. Pertaining to bodies at rest :
 متعلق بہ
 * Statical electricity, * بجلی چر رکز سے
 پیدا ہوتی ہے

Statics, n. pl. The science of bodies at rest :
 علم :
 سکون اجسام - علم میزان السقل

Station, n. Position ; office ; rank ; a railway
 stopping place :
 جگہ - مقام - منصب - درجہ -
 * v. t. To place ; to
 ریل کے ٹھہرنے کی جگہ
 نصب کرنا - قائم
 کرنا - بیٹھالنا - ٹھہرنا - متعین کرنا

Stationary, a. Motionless ; fixed ; not improv-
 ing :
 ساکن - مقیم - ٹھہرا ہوا - متعین

Syn.— Fixed, firm, stable.

Ant.— Changeable, portable.

Stationer, n. One who sells paper, pencils, pens,
 etc.
 کاغذ قلم وغیرہ بیچنے والا

Stationery, n. The articles sold by stationers,
 as paper, ink, quills, etc :
 ساڈر مش کاغذ سیاہی قلم :
 وغیرہ

Statistics, n. pl. A collection of facts and
 figures respecting in condition of the people in a
 state or respecting any particular class or inter-
 est :
 حال ملک وغیرہ اور نقشہ کیفیت رعایا - پیشہ و روٹکا :
 حساب کتاب

Statuary, n. Art of carving statues or images ;
 a group of statues ; a sculptor :
 اُت تراشی -
 مورنگی - مورترنگا مجمرعہ - اُت تراش

Statue, n. An image in marble or bronze :
 مورت :
 اُت

Statuesque, a. Resembling a stature ; well-
 proportioned ; graceful :
 مثل اُت - مانند مورت -
 خوش تراش - اُت سا تراشا ہوا - سوڈرل - طرحدار -
 سبیلہ

Stature, n. The natural height of a body :
 قد -
 قامت - ڈیل تول

Status, n. Position ; condition ; rank ; position
 of affairs ; state :
 رقبہ - درجہ - مرقبہ - پدوی -
 —in quo, * حالت - معاملات - حقیقت حال
 حالت سابقہ

Statute, n. An act of the legislature ; a law :
قاعده - آئین - قانون

Statutory, a. Enacted by statute :
آئین کی رو سے جاری کیا گیا - مجوزہ قانون

Staunch, v. t. To prevent the flow of ; to stop :
بند کرنا - روکنا

Stave, v. t. To break a hole in ; to burst ; to delay :
سوراخ کرنا - توڑنا - پھوڑنا - دیر کرنا - توقف :
کرنا

Stave, n. A thin piece of timber for casks :
پٹری - تختہ

Stay, v. t. To remain ; to dwell ; to stop ; to wait ; to trust :
رہنا - قیام کرنا - ٹھہرنا - انتظار :
دیکھنا - راہ دیکھنا - بھروسہ کرنا - اعتبار کرنا

Stay, v. t. To restrain ; to delay ; to prop :
روکنا -
To—the stomach, to satisfy hunger :
* ہوک رفع کرنا - تسکین دینا
n. Continuance in a place ; stop ; prop ; support :
قیام - سکونت - روک - آڑ - آسرا - سہارا

Stays, n. pl. A bodice ; corset :
چراغی - انگیا - سینہ - بند

Stead, n. Place ; room :
جگہ - * To stand one in good—, see under Stand. To—up,
کسی کے بچاے کچھ پورا کرنا سٹا وعدہ

Steadfast, a. Firmly fixed ; constant ; resolute :
مستحکم - مضبوط - قایم - ثابت قدم

Steadily, ad. Firmly ; with perseverance :
مضبوطی سے - استقلال سے

Steadiness, n. Firmness ; constancy :
استراری -
مضبوطی - استقلال - ثابت قدمی - استحکام - مستعدی

Steady, a. Firm ; fixed ; constant ; uniform :
* مستحکم - مستحکم - مضبوط - ثابت قدم - یکساں - ہموار
v. t. To hold or keep firm ; to support :
قائم رکھنا - مضبوط کرنا - سنبھالے رکھنا

Steak, n. A slice of beef cut and broiled :
گوشت کی بھنی ہوئی برقی

Steal, v. t. or i. To take without right or leave ; to pilfer ; to slip away :
چوری کرنا - چورانا - دزدی :
To—away, to march off quietly :
* چوری سے چل دینا :
march upon, to gain an advantage over stealthily :
خفیہ کسی پر قابو پانا یا کسی سے سہولت لیجانا

Stealth, n. Act of stealing ; secret art :
دزدی - چوری - پوشیدہ کام

Stealthy, a. Done by stealth :
چوری چھپا - گپ - چپ - پوشیدہ

Steam, n. The elastic vapour of boiling water :
v. i. To rise or pass off in vapour :
* بھاپ اڑھنا - بخارات اڑنا یا بنجانا :
To exhale ; to evaporate :
بھاپ بنا کے اڑانا - بھاپ بنانا - ابھرنے بنانا

Steam boiler, n. A strong vessel of iron in which water is converted into steam for supplying steam engines :
ایک اڑھے کا برتن جس میں پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر انجن وغیرہ کو چلائے ہے

Steamer, n. A vessel propelled by steam :
دخانہ - جہاز - دھواں کش

Seed, n. A horse, especially, a spirited horse for state or war :
جنگی گھوڑا - قرنگ

Steel, n. Iron combined ; an instrument for sharpening knives upon :
نولاد اسٹیل - چاقو تیز :
سخت کرنا - * کرٹیکا اوزار تیز کرنا

Steep, a. Greatly inclined ; precipitous :
بہت * n. A precipitous place, hill, etc. :
کھڑا * v. t. To soak ; to macerate :
* ڈھالو جگہ - پھارتی وغیرہ :
تہ کرنا - بھگوننا

Steeple, n. A tower of church ; a spite :
گنبد - مینار

Steeple chase, n. A horserace across the country :
ایک قسم کی گھوڑ دوڑ جسمیں باز دیوار لگی کو پھانڈنا پڑتا ہے

Steer, n. A young castrated male of the ox kind :
v. t. or i. To direct ; to guide ; to pursue a course of action :
جہاز چلانا - رہنمائی :
کرنا - چلنا - راہ لینا

Steerage, n. Act or practice of directing in a course :
* An apartment in the fore part of a ship for inferior passengers :
* Manage—ment :
رہنمائی

Steerer, n. A pilot :
جہاز چلانے والا

Stellar, a. Pertaining to stars :
ستاروں کے متعلق

Stellate, a. Resembling a star ; radiated :
ستاروں کے مانند - کرندار

Stelliform, a. Like a star : ستاروں کے مانند - نرندار

Stellography, n. An inscription on a pillar : ستون پر نقاشی

Stem, n. The principal body of a plant, tree, &c. : **Origin ;** * Origin ; the stock of a family : بنیاد - نسل * **The prow of a ship :** جہاز کا آگ

Stem, v. t. To oppose as a current ; to check : پانی چیرنا - دھار پر چڑھانا - روکنا

Stench, n. An ill smell ; offensive odour : - تعفن - بدبو - باس

Stenography, n. Short-hand writing : مختصر - حرف یا لفظ لکھنیکا فن - مختصر نویسی

Stentor, n. Any person having a powerful voice : بلند آواز شخص

Stentorian, a. Extremely loud ; able to utter a very loud sound : بلند آواز - دراز آواز

Step, v. i. To advance or recede by a movement of the foot or feet ; to walk slowly : قدم اٹھانا

To—aside, to walk to a little distance : * **To deviate from the right path :** * **To err :** * **To—between, to interpose :** * **To—in, to enter :** * **To—out, to increase the length of the step :** * **To take a—, to move ; to proceed :** * **v. t.** To set as the foot ; to fix the foot of as a mast : قدم رکھنا - کھڑا کرنا

Step, n. A pace ; degree ; gait ; the round of a ladder ; proceeding : قدم - درجہ - مرتبہ - رفتار

—by—, by degrees ; gradually : * **In the first—, مقدم - اول - ابتدا میں - اول - مقدم** کرنا، تدبیر کرنا،

Step-mother, n. A mother by marriage only : سوتیلی ماں

Steppes, n. The extensive plains in southern Russia : جنوبی روس کے میدان

Stereoscope, n. A binocular instrument for viewing small pictures : چھوٹی تصویروں کے دیکھنے کا آلہ

Stereotype, n. A fixed metal type or block : * **v. t.** To make stereotype plates for : سیٹے کے حرف کی تختی ڈھالنا :

Sterile, a. Barren ; unfruitful : - باریجہ - ارض - بےجور - شور

Sterility, n. Barrenness ; unproductiveness : اوسر پن - باریجہ پن - بے ثمری

Sterilize, v. t. To make barren ; to render unproductive : لوسر کرنا - بےجور بنانا

Sterling, n. English money ; standard coin : * **a. Pure ; genuine :** محال - اصلی - صاف

Stern, a. Austere ; harsh ; cruel : - سخت - درشت - کرا - بے رحم

Stern, n. The hind part of a ship or boat : کشتی کی پیچھڑی

Sternly, ad. With an austere countenance ; harshly : قہرورٹی سے - سختی سے

Sternmost, a. Furthest in the rear : سب سے یا بالکل پیچھے

Sternum, n. The breast-bone : سینے کی ہڈی

Sternutation, n. The act of sneezing : چھینک

Sternutatory, n. A substance that provokes sneezing : چھینک لانے والی چیز

Stertorous, a. Snoring ; breathing hoarsely : خراٹا لیتے ہوئے

Stethoscope, n. An instrument to distinguish sound in the chest : آواز سے پہنچنے والے کا حال دریافت کرنے کا آلہ - سینے میں آلہ

Stew, v. t. or i. To boil slowly or with a simmering heat ; to seethe : نرم - ہونا - نرم - دم پخت کرنا یا ہونا

n. Meat stewed : * **آگ سے پکایا یا پکنا - چرائنا**

Contusion : * **تورمہ**

Steward, n. A man employed to manage domestic concerns, servant, accounts ; a waiter on board a ship :- کارندہ - خانسامان - داروغہ - گماشتہ - پکاول

Stibium, n. Antimony : سرمہ

Stich, n. A line or verse : * **A row or rank :** شعر - مصرعہ - صف

Stick, n. A piece of wood ; a cane ; a stab : * **v. t. To pierce or stab :** * **To thrust in :** * **v. i. To cleave . To fit :** * **To adhere ; to cling :** * **To scruple ; to hesitate :**

To be hindered : روکنا - رکنا * To—at, to hesitate at : * To—امل کرنا - پس و پیش کرنا - ہچکنا
 —against, to glue to : گونا * To—by, to adhere to : * To be constant : - ساتھ دینا
 * To—close, fast or tight, to adhere closely : زور سے پکڑنا * To hold fast : وصل ہونا
 * To—out, to project : نکالنا * To—to, to adhere to : وصل کرنا * To persevere in : مستقل رہنا - ساتھ دینا
 put on great airs : اکرنا - بننا

Stickiness, n. Adhesiveness ; viscosity : لسلسا
 ہت - لس

Stickle, v. i. To contend or altercation : تکرار کرنا -
 حجت کرنا - جھگڑنا

Stickler, n. An obstinate contender : حجتی -
 تکراری - جھگڑاڑ

Sticky, a. Glutinous ; viscous : لسلسا - چپچپا

Stiff, a. Inflexible ; stubborn ; strong : سخت
 ناملاہم - اکتا ہوا - ضدی - سرکش - تیز - تند

Stiffness, n. Inflexibility ; obstinacy : سختی -
 ضد - گردن کشی - مجبور

Stiffen, v. t or i. To make or become stiff : سخت
 یا کڑا کرنا - سخت یا کڑا ہونا

Stifle, v. t. To choke ; to suppress ; to deaden :
 گلا گھونٹ کر مارنا - گلا گھونٹنا - دابنا - داب رکھنا - مارنا -
 گل کرنا - بچھانا

Stigma, n. A brand ; any mark of infamy :
 لوہا لال گرم کر کے داغنے کا نشان - داغ - بدنامی - کنک

Stigmatize, v. t. To mark with a brand or in-
 famy ; to characterize by some reproachful
 epithet : داغ لگانا - بدنام کرنا - رسوا کرنا - ملامت
 انگیز لقب دینا

Stile, n. The face of a dial to form the shadow :
 * A frame of bars or step :
 سحر

Stiletto, n. A small dagger : نگار - خنجر

Still, v. t. To silence ; to quiet ; to pacify : خاموش
 کرنا - چپ کرنا - تسکین دینا - تسلی دینا

Still, a. Silent ; motionless ; peaceful : چپ
 * خاموش - بے حرکت - ساکت - مطمئن - خاطر جمع
 —water runs deep, * ad. To restrain ; to limit ;
 this time ; always ; nevertheless ; after that :

ہنوز - ایک - ہمیشہ - تاہم - مزید برآں - بعد ازاں
 —and anon, at intervals and repeat-
 edly : * بار بار - پھر پھر * Possession is—
 held, n. A boiler used in distillation ; distillery :
 بھپکا - عرق کھینچنے کا : چرانا -
 v. t. To distil : بھپکا - بھپنا
 * To—to, to adhere to : وصل کرنا * To persevere in : مستقل رہنا - ساتھ دینا
 put on great airs : اکرنا - بننا

Still-born, a. Born lifeless : مرے جان
 جنما

Stilt, n. A piece of wood with a rest for the
 foot, used in walking : ایک لکڑی جسمیں پاؤں رکھنے
 ایستہ * To walk on—s, * کے چلتے ہیں - بید - کھی
 یا اکرنا کر چلنا

Stimulate, a. Inciting ; provocative : جوش پیدا
 n. A stimulating medicine : * کر ڈیوالا - متحرک
 v. t. To excite ; to instigate ; to
 animate : توغیب دینا - تحریک کرنا - اُجھڑنا - آمادہ
 کرنا - جوش پیدا کرنا

Stimulation, n. The act of exciting : توغیب -
 تحریک - جوش

Stimulus, n. A goad ; excitement : ایڑ -
 آنکس - توغیب - تحریک

Sting, v. t. To pierce with a sting ; to pain
 acutely : * ناک مارنا - کاٹنا - کسنا - دکھانا
 n. A sharp pointed weapon of a bee, wasp, &c., for
 defence ; the thrust of a sting into the flesh :
 پیدائشی - پچھتارا * Remorse * دنک - نبش - چرہن
 Syn.—Prick, wound, hurt.

Stinginess, n. Covetousness ; niggardliness :
 حرص - طمع - کنجوسی - بخیلی

Stingy, a. Covetous ; meanly ; avaricious ; nig-
 gardly : حرص - لڑبھی - بخیل - سوم

Stink, n. A strong, offensive smell : تعفن -
 بدبو - بساوند

Stink, v. t. To emit an offensive smell : بدبو
 کرنا - بسانا

Stint, n. A limit ; restraint ; a quantity assigned :
 حد - روک - قید - اندازہ

Syn.—Bound, limit, confine.
 Ant.—Extension, expansion.

—, v. t. To restrain ; to limit : روکنا - مقید کرنا -
 محدود کرنا

Stipend, n. Settled pay for services; salary; wages:
 مستندانہ - تنخواہ - درمائد - اجرت - وظیفہ -
 الرنہ

Stipendiary, a. Receiving wages or salary:
 مشاہرہ دار - وظیفہ خوار

Stipple, v. t. To engrave by means of dots:
 نقطہ تکی کندہ کاری کرنا

Stipulate, v. i. To make an agreement; to contract:
 عہدہ - پیمانہ کرنا - قول و قرار کرنا - شرط
 کرنا - شرط باندھنا

Stipulation, n. Covenant; contract:
 قول و قرار - عہدہ و پیمانہ - شرط

Stir, v. t. or i. To move; to incite; to prompt; to move about; to be active:
 ہلانا - حرکت دینا -
 * جنبش کرنا - تحریک کرنا - اُبھارنا - اُسکانا - ہلانا - چلانا
 ترقیب دینا -
 T to incite; to instigate:
 1. - 1. to incite; to instigate:
 n. Agitation; bustle; commotion:
 بیچینی - غل غپاڑہ - شور و شر - ہنگامہ - ہلچل:

Stirk, n. A young ox or heifer:
 بچھڑا

Stirrup, n. An iron ring suspended by a strap for a horseman's food:
 رکاب

Stitch, v. t. or i. To sew; to join or unite by sewing; to practise sewing:
 سینا - ڈانکنا - جڑنا -
 ملانا بخیمہ کرنا - قریبنا - (a book) شہولہ کرنا - سینا -
 n. A single pass of a needle in sewing; a sharp pain:
 دوخت - بقیہ - ٹسک - ٹیس - چاک
 وقت
 A stitch in time saves nine,
 کا ایک ٹانکا بچے وقت کے سو ڈانکوں سے بہتر ہے

Stitchery, n. Needle work:
 سوئی کا کام

Stithy, n. A smith's shop; an anvil:
 لوہار کی درکان - نہائی

Stoat, n. The ermine:
 ایک قسم کا نیرلا

Stock, n. The stem or main body of a tree or plant:
 کل - ہنس - نسل -
 Lineage: * قلمہ - قندقی
 Store: * سرمایہ - پرانجی
 A capital: * خاندان
 Cattle in general: * گاربنڈ: Cravat: * ڈھیرہ - رسد - سامان
 The wooden support to which the barrel of a firearm is attached; a block:
 *—in trade, the goods kept for sale by a shopkeeper:
 * مال
 To take—, to make an inventory of goods on hand:
 مال کا
 تجارتی راس المال کے حصوں
 *—broker, حساب لینا
 * اور سرکاری تمسکات کے خرید فروخت کا دلال

change,
 * سارکار - سوانہ - چوک
 To have something on the—,
 * مال موجودہ کی نہرست بنانا
 * ہاتھ میں کچھ کام ہونا
 Common—,
 * پنچایتی مال
 Of a good—,
 * جماعت شرکا
 To put in—s,
 * کاٹھ میں ڈھونڈنا
 n. Public funds:
 v. t. To fill; to supply with stock; to lay up:
 بھرنا - بھم پہنچانا -
 To—a gun,
 * جمع کرنا - ڈھیر لگانا
 بندوق میں
 * کندہ لگانا
 To—up,
 * کھردنا

Stockade, n. A slight fortification:
 بازار جو لکڑیوں
 تو گڑ کر بنایا جائے - لکڑی کورت

Stocking, n. A close-fitting covering for the foot and leg:
 جراب - مرزہ - پائیٹاہ

Stock-still, a. Still as a fixed post:
 شامرش -
 نقش دیوار بنانا -
 To stand—,
 * نقش دیوار
 بے حس و حرکت رہنا

Stocky, a. Stout, small and thick:
 قوی - چھوٹا - موٹا

Stoic, n. One who is free from passion:
 بیواکی -
 اُرداسی

Stoicism, n. Indifference to pleasure or pain:
 خوشی اور رنج سے بے پرواہی - بیواکی

Stoke, v. t. To supply a fire with fuel; to poke or stir up; to tend:
 بھتی چھوڑنا - آتش تیز کرنا -
 کھردنا - چھوڑنا یا کسی چیز سے آگ کو اُکسانا

Stole, n. A long vestment:
 * ایک قسم کا لمبا جامہ
 v. t. p. of Steal.

Stolid, a. Foolish; stupid:
 نادان - بیوقوف - کودن

Stolidity, n. Dulness of intellect; stupidity:
 کند ذہنی - بیوقوفی

Stomach, n. The principal organ of digestion; appetite; desire:
 شکم - پیٹ - معدہ - بھوک -
 ناراض:
 v. t. To resent; to brook:
 * رغبت - میل
 کرنا - برداشت کرنا

Stomachic, a. Strengthening to the stomach:
 دواے
 n. A medicine for the stomach:
 مہی معدہ

Stone, n. A mass of concrete earthy or mineral matter:
 * چاھر - رتن:
 A gem: * سنگ - پتھر
 A calculus in the bladder or kidney:
 سنگ مثانہ -
 The nut of a drupe; the hard seed of a fruit:
 * گٹھلی:
 A weight 14 lbs:
 سات سیر کا
 A—'s cast or throw, the

distance which a stone may be thrown by the hand : * ذاصلہ چھانٹک ایک ذعیلا پھینکا جا سکے
 —hearted, cruel ; hard hearted * سنگدل
 Philosopher's—, a stone which is supposed to convert baser metal into gold : * پتھر
 To leave no—turned, to spare no pains :
 حتی الوسع کوشش کرنا - کوئی ذقیقہ یا تدبیر نہ رو گذشت
 ذر کرنا

Stone, *v. t.* To pelt or kill with stones ; to face with stones : پتھروں سے مارنا - سنگسار کرنا - پتھر لگانا
 سنگین پتھر کا - : a. Made of stones ; hard : سخت
 یا لکل انڈھا

Stone-blind, *a.* Perfectly blind :
 Stony, *a.* Made of stones ; full of stones ; hard : سنگین - پتھر کا - سخت

Stook, *v. t.* To set up, as sheaves of grain : پورے جمع کرنا

Stool, *n.* A seat without a back : - چوکی -
 A discharge from the bowels : * پیڑھی - مرنڈھا
 دست

Stoop, *v. i.* To bend forward ; to submit ; to descend : آگے کر جھکنا - زیر فرمان - مطیع ہونا - اترنا

Stop, *v. t. or i.* To close ; to obstruct ; to suspend ; to stay ; to cease from motion : بند کرنا
 روکنا - اٹکانا - مزبورف رکھنا - باز رکھنا - ٹھہرانا -
 To—two months with one morsel, ایک پنتھہ دو کاج رکنا

Stop, *n.* Cessation of motion ; a pause ; a point in writing : * ٹھہرائز - روک - رقفہ - علامت رقف
 A full—, a point or mark in writing intended to distinguish the sentences : نقطہ رقف

Stop-cock, *n.* A faucet used to turn or regulate the supply of water, gas, &c. : پیچ

Stop gap, *n.* A temporary expedient : - آڑ - روک

Stoppage, *n.* Obstruction ; a temporary halt : اٹک - روک - ممانعت

Stopper, *n.* One who stops ; a short piece of rope for fastening anchor, cables ; etc. : روکنے والا - ڈاٹ - گٹا

Stoppie, *n.* A cork : ڈاٹ - گٹا

Storage, *n.* The safe keeping of goods in a ware-house : * بھرتھی
 The price for keeping goods in store : گودام کا محضول

Store, *n.* A great quantity or number : * ڈھیر
 A ware-house : * گودام
 Plenty : * کوٹھی
 To set—by, to value greatly : * معزوں - ذخیرہ - انفراد - ثمرت
 * نہایت قدر کرنا
 To lay up in store ; to hoard : * جمع کرنا - بھرتی کرنا

Stork, *n.* A large wading bird : سارس - لئی لقی

Storm, *n.* A violent gale ; tempest ; commotion ; a violent assault : آندھی - جھکز - طوفان - فساد
 * طوفان - حملہ - دھاوا
 To assault : * طوفان - ہنگامہ - حملہ
 To blow with violence : * حملہ کرنا
 غصہ ہونا - جوش میں آنا
 To rage : * یا جھکز چلنا

Stormy, *a.* Tempestuous ; violent : * طوفانی - تند

Story, *n.* A short narrative ; a tale : داستان
 Flight of rooms : - حکایت - کہانی
 Falsehood : * منزل - طبقہ - کرٹھا
 جھوٹ

Story-teller, *n.* A teller or writer of stories : افسانہ گو - قصہ گو - قصہ خوار

Stoup, *n.* A flagon ; a vessel of holy water : مینا - صراحی - گلابی - پاک پانی کا برتن

Stout, *a.* Strong ; brave ; large ; proud : مضبوط -
 * قوی - بہادر - دلیر - جسیم - بڑا - مغرور
 A strong kind of beer : ایک قسم کی پیڑھی شراب

Stoutness, *n.* Sturdiness ; corpulence ; bulk : قوی - مرنڈھی

Stove, *n.* A hot-house ; an iron box for heating : تنور - بھٹی - بھاز - آتش دان - انگیٹھی
 To heat in a stove : * میں گرم کرنا
 انگیٹھی

Stow, *v. t.* To place in a compact mass ; to pack : تھپ جانا - پاس رکھنا - لادنا

Strabism, } *n.* Act of looking askint ; a
 Strabismus, *n.* } squinting : تڑچھی نظر
 بھٹکان

Straddle, *v. i.* To walk with the legs far apart : ڈانگ پھیلا کر چلنا

Straggle, *v. i.* To wander from the direct course ; to rove ; to be dispersed : آوارہ پھرنا - بھٹکانا - گمراہ
 ہونا - بکھرنا - جدا ہونا

Straggler, *n.* One who walks about aimlessly ; vagabond : آوارہ گرد - گھومکر - ہرزہ گرد
 Syn.—Wanderer, rambler, rover.
 Ant.—Settler, worker, labourer.

Straight, *a.* Direct ; not crooked ; upward : * سیدھا - راست - کھڑا
 Just ; upright ; fair :

ad. Directly ; immediately : سیدھے - راہ راست - فوراً - ٹھیک

Straighten, v. t. To make straight : - سیدھا کرنا - راست کرنا

Straightforward, a. Proceeding in a straight course ; undeviating : سیدھا - راست - مستقیم
Honest ; upright : - ابراہاندار - منصف

Straightway, adv. Immediately : فوراً - بالترتیب

Strain, v. t. To stretch ; to exert to the utmost ; to sprain ; to filter : جان فشانی - تاننا - کھینچنا - جاں فشانی
کرنا - مرورتا - بل دینا - ٹپکانا - نچورتا - چھاننا -
فور : **To—one's eyes, to look intently** *
To—every nerve, to do one's best : *
To strain at a gnat and swallow a camel,
n. A violent effort ; a sprain ; a song : - مرورز - محنت - لچک - لپک - موج - لہلہ - راگ

Strainer, n. An instrument for filtering : - چھننا - صافی

Strait, a. Narrow ; tight ; close ; strict ; difficult : مشکل
n. A narrow pass : * **Distress ; difficulty :** تنگ - سگڑا - چست - سخت - مشکل
* **Distress ; difficulty :** تنگ - ناکا - تنگ راستہ - آبنائے - مصیبت - سخت - دقت - دھواڑی

Straiten, v. t. To make tight or narrow ; to distress : - کسنا - جکڑنا - تنگ کرنا - مختصر کرنا
سمیٹنا - دق کرنا - حیران کرنا

Strand, n. A shore ; a beach ; * **knārah** - ساحل
v. One of the twist of a rope : - بھانج
t. or i. To run aground ; to drift on shore : ریتی
پر چڑھ آنا - کنارہ پر چڑھنا

Strange, a. Foreign ; unusual ; wonderful ; unfamiliar : اجنبی - پرہیسی - غیر - خلاف دستور
To make—, to make one's self - اجنبی بننا - حیرت - ظاہر کرنا

Stranger, n. A foreigner ; one who is unknown ; a guest : پرہیسی - غیر ملک کا آدمی - فریب الوطن - اجنبی - نا آشنا - مہمان

Strangle, v. t. To suffocate ; to suppress ; to hinder from birth or appearance : - دم گھونٹنا - دباننا - روکنا

Strangulation, n. Act of strangling ; suffocation : روکاوٹ - حبس الم - دم بستگی

Strangury, n. A painful discharge of urine drop : حبس البول - چنک

Strap, n. A narrow, long strip of cloth, leather or other material : دھبھی - پٹی - تسمہ

Strap, v. t. To fasten or chastise with a strap : تسمے سے باندھنا یا سزا دینا

Strapping, a. Tall ; lusty ; handsome : - لہبا - قدارور - مستقام - خوبصورت

Strata, n. (pl. of Stratum). Beds ; layers : - پرت - طبق

Stratagem, n. An artifice ; a trick : - داڑن - گھات - دغا - فریب - دھوکا
Syn.— Device, trick, dodge.
Ant.— Hit, luck, miscontrivance, blunder.

Strategist, n. One skilled in military movements : فن صف آرائی جاننے والا

Strategy, n. Military science or tactics : سپہ سالاری - صف آرائی

Strath, n. A valley of considerable extent through which a river flows : تری گھاٹی یا وادی جس میں کوئی دریا بہتا ہو

Stratify, v. t. To form into layers : - تہہ جمانا - طبق پر طبق جمانا

Stratocracy, n. Military despotism : فوجی حکومت

Stratum, n. A layer of anything, as coal, earth, &c. : پرت - طبق - تہہ

Straw, n. The stalk or stem of certain species of grain, pulse, etc. ; mass of stalks : - تنکا
A man of—, a person of little or no means : ناچیز شخص

Straw, v. t. To strew : دکھیرنا - چھترا

Strawberry, n. A well-known plant and its fruit : ایک مشہور انگریزی درخت اور لوسکا پھل

Strawy, a. Like straw : پیرسا کے مانند - تنکا سا

Stray, v. i. To wander ; to ramble : گمراہ ہونا - آوارہ
a. Having gone astray ; * **Stragglng :** گمراہ - آوارہ
n. An astray ; a beast that wanders : گمراہ - آوارہ یا بگڑا جانور

Streak, n. A long narrow stripe of colour :
دھاری - خط
to stripe : دھاری ڈالنا - لکیریں کرنا

Stream, n. A running water ; a current : آب
دھارا
to send forth ; to flow : دھار باندھکر ڈالنا -
اوندیلنا - نکالنا - بہنا

Streamer, n. An ensign or flag ; a beam of light :
جھنڈا - روشنی کی شعاع

Streamlet, n. A small stream ; a rill : چھوٹی
ندی - ٹالا - سوتلا

Streamy, a. Abounding with streams flowing :
ندیوں سے معمور - ہوتا ہوا - رواں

Street, n. A paved way or road ; a city road :
کچھ گرد لڑکا
* arab, a neglected street
سڑک - راستہ - گلی

Strength, n. Effective power ; vigour ; force :
قوت - طاقت - زور - جرات - مضبوطی - توانائی -
بہروسہ کرکے - اسکے
* On or upon the—of, بل پز

Strengthen, v. t. or i. To make or grow strong ;
مضبوط کرنا یا ہونا - مستحکم کرنا -
to confirm : پکا کرنا

Strenuous, a. Eagerly pressing ; earnest : مستعد -
سرگرم - پُر شوق

Strenuously, ad. Ardently ; actively : سرگرمی سے
- طاقت سے - داسری سے

Stress, n. Pressure ; weight ; importance : دباؤ -
* To lay on, زور ڈالنا
* To lay on, تاکید - زور
—of voice, آواز کا دباؤ

Stretch, v. t. or i. To lengthen ; to spread ; to
بڑھانا -
expand ; to strain ; to exaggerate : پھیلاتا -
چروڑا کرنا - کھینچنا - تاننا - مبالغہ کرنا -
خاص کوشش کرنا -
* To—a point, to make a special effort to exceed one's duty :
* To—a jury, your legs according to your coverlet, جتنی چادر دیکھ اوتے پیر پساو

Stretch, n. The state of being stretched : پھیلاؤ -
* کوشش - جانفشانی : An effort ; a strain
* کشش
At a—, at one time : ایک دفعہ میں - ایک بار کی
* On the—, in a continuous effort :
برابر مشغول

Stretcher, n. A litter for carrying sick, wounded
or dead persons : تختہ - چارپائی - ارتھی

Strew, v. t. To scatter loosely : بکھیرنا - چھڑانا

Stricken, pp. a. Struck ; advanced : مارا ہوا -
عمر رسیدہ

Strict, a. Severe ; closed ; confined : درست -
سخت - کڑا - چست - تنگ - کسا ہوا - محدود - پابند

Strictness, n. Severity ; harshness : سختی - شدت

Stricture, n. Critical remark : نکتہ چینی - عیب
* A morbid construction of any passage
of the body : مزور - تشنج

Stride, v. i. To walk with long steps : لہیرے
قدم رکھنا

Strident, a. Harsh : درست - کڑا

Strife, n. Contention ; discord ; litigation ;
جھگڑا - نزاع - عدالت - مخالفت -
enmity : دشمنی - راز

Syn.—Contention, contest, conflict.

Ant.—Amity, affection, peace.

Strike, v. t. To hit with some force ; to give a
blow : * مارنا - پیٹنا - ٹھونکنا - گھونسا مارنا

To dash, to knock : * کھڑکنا
* To produce by a blow (to strike fire).
* نکالنا - پیندا کرنا

To stamp, to impress, to coin : * گھنسا
* دفعتاً اثر کرنا
* To effect at once : * کڑنا

To make and ratify (to strike a bargain) :
* To—a balance, to bring out the amount due :
* نیچا کرنا - اُتارنا
* To lower : * طے کرنا

* To ascertain the difference : * فرق نکالنا
* To—down, to prostrate, to fell : * گرا دینا

* To—off, to separate by a blow : * کٹ ڈالنا
* To deduct : * چھاینا
* To print : * گھٹانا

* To—out, to blot out ; to efface ;
to erase : * کٹنا - کاٹنا
* To—up, to drive up with a blow : * اُڑانا -
راگ شروع

* To—work, to begin to play : * بجانے لگنا
* To—a light or match, To cease work : * کام بند کر دینا

* To—a jury, دولت حاصل کرنے کا
* دیا سلائی وغیرہ جلالنا
* To—a lead, پنچ منتخب کرنا

ذریعہ ہانہہ آجانا

Strike, v. i. To pass with rapidity : نکل
جلدی سے نکل

* To sound an hour (as a clock) : * لگنا - کھٹکنا
* To yield : * بجانا
* To quit work : * کام بند کرنا

* To—home, to

* تاک نر مارنا - جزنا - جمانا : give an effective blow
 To aim exactly : * تویک نشانہ مارنا :
 interpose : - * دخل دینا :
 To—in with, to suit : * موافق ہونا - ملندار ہونا
 a blow : * تھپنا :
 To begin to swim : * ہاتھ چلانا :
 To—the iron while it is hot, to take
 advantage of an opportunity when it offers itself :
 * موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا
 To—a bargain, to conclude a bargain :
 سودا طے کرنا

Striking, a. Impressive ; exact ; wonderful :
 موثر - تھیک - عجب

String, n. A slender rope ; a line or cord ;
 cord of a musical instrument ; fibre : - رسی
 * To have two strings to one's bow, رکھنا
 دوہرا ناندہ

String, v. t. To furnish with strings : - تار چڑھانا
 لٹکانا * To—up, to hang : * تانت لٹکانا

Stringency, n. Severe pressure : سختی - تاکید

Stringent, a. Binding strongly ; urgent ; strict :
 تاکیدی - ضروری - سخت

Stringy, a. Fibrous ; consisting of strings : ریشہ دار - سرت دار

Strip, v. t. To make naked ; to deprive ; to
 plunder : * کپڑے اوتارنا - محروم
 n. A narrow shred ; * کرنا - چھین لینا - لٹ لینا
 a long narrow piece : تھن - دھبھی - پٹی

Striple, n. A narrow division or line ; a lash :
 v. t. To form with lines of different colours :
 دھاری یا لکیر ڈالنا

Stripling, n. A youth ; a lad : نوجوان - پٹھا - لڑکا

Strive, v. i. To make efforts ; to struggle ; to
 contend : * کوشش کرنا - محنت کرنا - خون جگر کھانا :
 چائفشانی کرنا - جھگڑنا - لڑنا

Stroke, n. A blow ; a sudden effect : - چرٹ
 * مصیبت - آنت * Affliction : * ضرب - صدمہ - اثر
 Sound of clock : * گھڑی کی آواز * The touch of
 a pen : * قلم کی زد * A caress : پیار

Stroke, v. t. To rub gently with hand ; to
 caress : * ہاتھ پھیرنا - سہلانا
 سر سہلانے بیچنا * To—with one
 hand, stab with the other, کھانے

Stroll, v. i. To wander ; to ramble : پھرنا - آوارہ
 سیر گشت - * n. Wandering ; rambling :
 کوچہ گردی

Strong, a. Having physical active power ; heal-
 thy ; energetic ; striking ; firm ; zealous ;
 vivid ; intoxicating ; forcible : - مضبوط - قوی - بلی -
 ہٹا ٹٹا - تند - زور آور - بہادر - کارگر - موثر -
 تیز - تاثیر بخش - مستحکم - مستقل - سرگرم -
 چہچہاتا - شوخ - چٹکیلا نشہ آور - تیز - چست -
 *—style, چمکا گزشت *—meat, معنی خیز
 عبارت

Syn.—Vigorous, powerful, robust, sturdy,
 athletic, brawny, sinewy, muscular,
 stalwart, herculean, able-bodied.

Ant.—Weak, frail, powerless, feeble.

Stronghold, n. A fortress : کڑ - کٹ - قلعہ
 Syn. - Fort, castle, fortification.

Strop, n. A strip of leather used for sharpening
 razors : بدھی

Struck, v. l. pp. of strike. Well— or stricken
 in years, of an advanced age : سن رسیدہ - بدھا

Structure, n. Form ; construction ; an edifice :
 ساخت - ڈول - گڑھت - بناوت - عمارت

Struggle, v. i. To labour hard ; to strive ; to
 contend : محنت کرنا - مشقت کرنا - چائفشانی
 n. A violent effort ; strife ; * کرنا - جھگڑنا - لڑنا
 مشقت - محنت - جھگڑا - جان کنڈی -
 تنازعہ - کشم کشم - ہاتھ پائی

Strumpet, n. A prostitute ; a harlot : کسبی
 رندی

Strut, v. i. To walk with affected dignity : اکر کر
 n. An affected walk : * چلنا - اترنا - اٹھلنا -
 گردن اٹھا کے چلنا
 اکر - اترت - رعوت

Stub, n. Stump of a tree : کنڈا
 v. t. To uproot : اٹھانا

Stubble, n. Stalks of corn or grain left after
 reaping : کھوڑتی - کھوڑتی - چارا

Stubborn, a. Obstinate ; inflexible : ضدی -
 سرکش - سخت - کڑا

Syn.—Head strong, unyielding, refractory,
 perverse, wilful, dogged.

Ant.—Docile, gentle, yielding, compliant.

Stubbornness, n. Obstinacy : ضد - سرکشی

Stucco, n. A kind of fine plaster : استرکاری - سنگ
 استر : * v. t. To plaster with stucco
 کاری کرنا

Stud, n. A small post : ٹھونڈی * کہمپا * A collection of breeding horses and mares : گھوڑوں کا گلتہ *

A button : بٹن * A nail with a large head : پھلی * گل * To adorn with studs : گل سے دار کیا - گل سے مزین یا پھول چڑنا

Student, n. A person engaged in study ; a scholar : طالب علم - بدیارتھی - پائھی

Student-ship, n. The state of being a student : طالب علمی

Studied, a. Premeditated : - سوچا ہوا - پیشتر سے سوچا ہوا - خوب غور کیا ہوا

Studio, n. The workshop of a sculptor or painter : مصور یا نقاش کی دکان

Studious, a. Diligent ; given to study ; careful : محنتی - سرگرم - ہوشیار - دھیان دینے والا

Syn. - Meditative, reflective, contemplative, thoughtful.

Study, n. Application of mind to books : کتاب غور - فکر - * Meditation : بینہ - مطالعہ - درس

* A room for study : کمرہ * v. t. * غور کرنا - سوچنا - * To apply the mind to : خیال کرنا

Stuff, n. Woven material ; cloth or texture of any kind : پارچہ * Worthless matter : بے قیمت چیز * v. t. To fill by crowding ; to press ; to fill with seasoning ; to obstruct : گھسیڑنا - بھر دینا - دبانا - مصالح بھرنا - روکنا

* To—out, to swell out : بھرجنا * بند کرنا - روکنا پھرنا

Stultify, v. t. To make foolish : بیوقوف بنانا - دیوانہ ظاہر کرنا

Stumble, v. t. To trip in walking ; to light on accidentally ; to err : ٹھوکر کھانا - آہٹنا - چوکنا -

* To—at a straw, and leap over a block, * لکڑ پھلانگ جاؤں تکے سے ٹھوکر کھائیں

To—on or upon, * اتفاق سے ہاتھ لگ جانا - آہٹنا - ٹھوکر * n. A trip ; a failure : ٹھوکر * مل جانا

بھول - چوک

Stumbling-block, n. A stone that causes stumbling ; cause of error : سدراہ - ٹھوکر - آڑ - باعث خطا - سہر

Stump, n. Part of any solid body after the rest is taken away : * ٹھوکتھہ - ٹھونڈی * One of the

sticks of a wicket : ٹیکٹ * To go on the—, انتخاب اہالی پارلیمنٹ کے متعلق عوام میں تقریر کرتے

* To—up, ادا کرنا * پھرنا - بیخ - بنیاد،

—, v. t. or i. To knock down as the wicket : ٹھکرا کر چلنا -

To walk noisily or clumsily : * گرانا * To strike unexpectedly, * ٹھکرانے سے چلنا

to defeat : * ٹھوکر مارنا - ٹھکرانا - ٹھیس لگنا - زینج یا لاجواب کرنا

Stumpy, a. Full of stumps : ٹھوکر سے بھرا ہوا

Stun, v. t. To make senseless or dizzy by a blow ; to surprise completely ; to overpower ; to amaze : سر کی چوٹ سے بے ہوش کرنا - حیراں کرنا - متعجب کرنا - مغارب کرنا - حراس باختم کرنا

Stunt, v. t. To hinder from growth : روکنے سے روکنا - بڑھنے نہ دینا

Stupefaction, n. Insensibility ; stupidity : بے ہوشی - بے حواسی - بیخودی - حماقت

Stupefy, v. t. To deprive of sensibility ; to make stupid or senseless ; to render torpid : بے ہوش کرنا - بیوقوف بنانا - مجبور کرنا

Stupendous, a. Astonishing ; wonderful ; to be wondered at especially for size or height : حیرت افزا - عجیب - ادبیت - بھاری

Syn. - Amazing, surprising, wonderful, marvelous.

Ant. - Unimposing.

Stupid, a. Dull ; sluggish ; insensible : غبی - کند ذہن - کھل - بیوقوف - مجبور - لغو

Stupidity, n. Dulness of intellect ; foolishness : کند ذہنی - بیوقوفی - حماقت

Stupor, n. Great diminution or suspension of sensibility ; numbness : بے ہوشی - بدحواسی - قش - بے حسی

Syn. - Lethargy, torpor.

Sturdily, ad. Stoutly ; obstinately : مضبوطی سے - سینہ زور سے

Sturdy, a. Stout ; strong ; obstinate : مضبوط - زور آور - بھونٹ - مستند - دہنگ

Syn. - Robust, muscular, brawny, athletic, stalwart.

Sturgeon, n. A large cartilaginous fish : ایک قسم کی مچھلی

Stutter, v. i. To stammer : تکتا - تکتا - تکتا

Sty, n. A pen or inclosure for swine : سر بازار *

An inflamed tumour on the edge of the eyelid :

بلی

Stygian, a. Hellish ; infernal : دوزخی - جہنمی

Style, n. Manner of writing or speaking :

وضع - طرز - Fashion ; form : طرز تحریر و تقریر

قلم - Graver : لقب * Title : طریقہ شکل - صورت

کندہ کاری کی چھینی

Syn.—Diction, phraseology.

—, v. t. To entitle ; to designate :

خطاب دینا - لقب دینا - لقب دینا - لقب دینا

Stylish, n. Fashionable ; showy ; modish :

وضع دار - بلوغ - بنائینا - مزوجہ چال کے مطابق

Styptic, a. That stops bleeding ; astringent :

خون بند کرنے والا - قابض

Suable, a. That may be sued :

قابل مواخذہ عدالت

Suasion, n. Act of persuading : تحریک - ترغیب

Suasive, a. Having power to persuade ; persuasive :

ترغیب دہ - موثر

Suavity, n. Sweetness ; gentleness :

شکرینی - نرمی - خوش اخلاقی

Syn.—Civility, politeness, courtesy, gentleness, mildness, pleasantness.

Ant.—Haughtiness.

Subaltern, a. Subordinate ; inferior :

مطلع - ماتحت - متکوم

—, n. An inferior officer :

ماتحت

Subalternate, a. Succeeding by turns :

اپنی باری سے آگے والا - متواتر

Subaqueous, a. Lying under water :

پانی کے نیچے - زیر آب

Subcutaneous, a. Situated under the skin :

چمڑے یا کھال کے نیچے کا

Subdivide, v. t. To divide the parts of into

more parts : تقسیم در تقسیم کرنا

Subdue, v. t. To conquer ; to reduce ; to tame ;

to captivate : فتح کرنا - زیر کرنا - مطیع کرنا - سر

کرنا - مغلوب کرنا - سلا - سدھان - بس میں کرنا

Subjugate, vanquish, beat, defeat, rout,

overcome.

▲ Liberate, secure.

Subject, a. Lying under or below : نیچے - زیریں - تگے

Subject, a. Subordinate ; subservient ; liable :

تابع - مطیع - زیر حکم - آدمیں - ماتحت - نائب

All human things

are subject to decay, سب چیزیں

to fine, —to liability, —to the

orders of, حسب الحکم

—, n. One owing allegiance : رعیت - پرچا -

Object or matter handed ;

مضمون - موضوع - مقصود

(Gram.) The nominative ;

the agent : فاعل

Subject, v. t. To bring under ; to expose ; to

cause to undergo : حاقہ بگوش یا زیر کرنا - مطیع

کرنا - تابع کرنا - مغلوب کرنا - سزاوار کرنا -

مجبور کرنا

Subjection, n. Subjugation ; control :

اطاعت - تسخیر - تابعداری - مغلوبیت - متکومیت

Subjective, a. Relating to the subject ; derived

from one's own consciousness : فاعلی - منشاؤ - من

کے متعلق - نفسی یا ذاتی علم کا

Subject-matter, n. Theme ; topic :

بنا دعویٰ - of suit, نزاع

Subjoin, v. t. To add at the end :

شامل کرنا - جوڑنا - ملانا

Subjudice, ad. Under judicial consideration ;

پیش عدالت - زیر تفتیشات قانونی -

حاکم عدالت کے سامنے

Subjugate, v. t. To bring under power ; to

conquer : مطیع کرنا - تابع کرنا - فتح کرنا - مغلوب کرنا

Subjugation, n. Act of subduing ; subjection :

اطاعت - تسخیر - تابعداری

Subjunction, n. The act of subjoining :

تحریر - اندراج ذیل

Subjunctive, a. Subjoined to something else :

حالت شرطیہ

n. A mood : شکمی پٹہ دینا

Sublimate, v. t. To refine ; to exalt ; to heighten :

صاف کرنا - سرفراز کرنا - بڑھانا - بلند کرنا

n. Product of sublimation : لوڑیا ہوا جوہر

Sublimation, n. The act of bringing solid substance to a state of vapour and condensing it :
تصعید - ارتقاع

Sublime, a. Lofty ; grand ; high ; eminent ;
بلند - عالی - بڑا - اونچا - عظیم - ممتاز - مسرت -
عالی * **n.** Grand or lofty style ; style
giving expression to noble thoughts : عالی
منہمرون - اعلیٰ درجہ کی شان - عبارت چر اعلیٰ خیال کے
بند کرنا - سرسراز کرنا - جوہر :
بلند کرنا ; to ennoble : جوہر کا اظہار کا ذریعہ ہو
اُڑانا - جوہر کا اُڑنا - ممتاز کرنا

Sublimity, n. Loftiness of sentiment or style ;
nobleness of nature or character ; eminence :
بلوغت - شرافت - عظمت - بلندی - بلند پروازی
Syn.—Grandeur, greatness, nobleness, loftiness, exaltation.

Ant.—Lowliness, meanness, paltriness.
Sublineation, n. A line under a word or words :
لفظ کے نیچے خط کھینچنا

Sublunar, a. Being under the moon ; terrestrial :
تحت القمر - زیر فلک - دنیوی
Syn.—Earthly, worldly, mundane.
Ant.—Spiritual, ethereal, supramundane.

Submarine, a. Living or being under the sea :
سمندر قلعے - سمندر میں پیدا ہونے والے - بحری
Submerge, v. t. or i. To plunge under water ;
غوطہ مارنا - ڈبونا - غرق ہونا :
to drown :
یا کرنا

Syn.—Immerse, inundate, plunge.
Ant.—Eliminate, raise, educe.

Submersion, n. Act of plunging under water :
غوطہ - ڈبکی - بوزکی - غرقابی

Submission, n. Obedience ; resignation ; compliance ; humiliation :
اطاعت - تابعداری - توکل - رضا جوئی - رضامندی - فروتنی - انکسار

Submissive, a. Obedient ; humble :
فرمانبرداری - تابعدار - مطیع - پست

Submit, v. t. or i. To yield or surrender to power, will or authority ; to refer ; to acquiesce :
حکم بجا لانا - تابع ہونا - مطیع ہونا - زیر حکم ہونا -
پیش کرنا - گذراننا - اشارہ کرنا - قبول کرنا - تسلیم کرنا -
مان لینا

Subnascent, a. Growing under neath :
چر نیچے سایہ میں اُگے

Subordinacy, n. The state of being subordinate :
ماتحتی - زبردستی

Subordinate, a. Inferior ; subject :
چھوٹا - ماتحت * **n.** An inferior :
ماتحت * **v. t.** To place in a lower order ; to
subject :
زیر حکم کرنا - تابع کرنا

Subordination, n. Inferiority of rank or dignity ; subjection :
کمر تہیگی - ماتحتی - اطاعت -
متابعت - فرمانبرداری

Suborn, v. t. To cause to take a false oath :
دروغ حافی * To cause to perjure :
خفیہ طور :
سے حاصل کرنا

Subornation, n. Act of suborning ; inducement to do bad action :
ارتشاعے دروغ حافی - قرعیب -
نعل بد - اغوا

Subpœna, n. A summons for witness :
گواہ - سمن طلبی گواہ - حکم طلبی

Subrogate, v. t. To put in place of another :
دوسرے کی جگہ میں رکھنا

Subscribe, v. z. To write underneath ; to sign one's name ; to attest ; to contribute ; to assent :
العبد کرنا - دستخط :
کرتا - ثبت کرنا - تصدیق کرنا - چندانہ دینا - منظور
Subscribed to mine own fortune :
اپنا احوال :
یتایا

Subscript, a. Underwritten :
تعدیر فی الذیل -
نیچے کی لکھارت

Subscription, n. Act of subscribing ; contribution ; attestatton ; contribution list :
العبد - چندانہ تصدیق - فہرست چندانہ

Subsection, n. Sub-division ; part of section :
حصہ در حصہ - ذراعہ ماتحتی

Subsequence, n. Result or order :
انجام - نتیجہ

Subsequent, a. Following in time ; succeeding :
پچھلا - مخر

Syn.—Following, succeeding, posterior.
Ant.—Prior, precedent.

Subsequently, ad. Later on ; afterward :
پچھلے

Subserve, v. t. or i. To serve instrumentally ; to help forward ; to answer the purpose :
مرداری کرنا - مدد کرنا - کام دینا

Subservient, a. Serving to promote an object or end ; acting as a tool : - ماتحت - فرماؤں پر مدار - معارف - مددگار

Subside, v. i. To sink or fall to the bottom ; to descend ; to abate ; to become calm or tranquil : - تمہے نشین ہونا - بیٹھنا - اترنا - دھیرا پڑنا - ساکن ہونا - کم یا تھپیف ہونا

Subsidiary, a. Serving to help ; auxiliary ; furnishing supplies : - معاون - تائیدی - مددگار - مددگار - * Subsidiary to the orders of : - ہدایت کے حکم

Subsidize, v. t. To purchase the assistance of by the payment of a subsidy ; to pay a subsidy : - روپیہ کے زور سے مدد ہم پہنچانا - روزانہ سے مدد کرنا

Subsidy, n. Support ; aid in money : - مدد - حفظا میں کے واسطے روپیہ کی مدد - خرچ - باج

Subsist, v. t. To feed ; to maintain : - روٹی کھانا - *v. i.* To have existence ; to continue ; to live : - ہونا - رہنا - ٹھہرنا - گذران کرنا - گزر اوقات کرنا - بسر کرنا

Subsistence, n. Real being ; means of support ; provisions : - خورد - ہستی - فروغہ معاش - وظیفہ - غذا - خوراک

Subsoil, n. An under layer of earth or soil : - طبقہ زیریں عرش - طبقہ نعلی

Substance, n. Being : - وجود - *Something* : - حقیقت - *Essential part* : - اصلیت - *Matter ; thing* : - مادہ - *Property* : - جسم - چیز - شے - دولت - اسباب

Substantial, a. Real : - اصل ذاتی - *Material* : - *Corporeal* : - *Solid* : - *Wealthy* : - دولت مند - زردار - اسودہ - کھاتا - جسمانی پختا

Syn.—Real, actual, existent, subsistent. **Ant.**—Fanciful, imaginary, non-existent.

Substantiality, n. State of being substantial ; materiality : - حقیقت - اصلیت - وجود

Substantially, ad. Really ; essentially ; strongly ; solidly : - دراصل - حقیقتاً - مضبوطی سے - پختہ طور سے

Substantiate, v. t. To establish by proof ; to make to exist : - ثابت کرنا - مستحق کرنا - قائم کرنا - وجود دینا - ثبوت سے قائم کرنا

Substantive, n. A noun ; a name : - نام - *Betokening or expressing existence ; real ; expressing or signifying existence* : - درجہ -

Substitute, v. t. To put in the place of another ; to exchange : - بجائے کرنا - *n.* One put in the place of another : - بدل - **Syn.**—Proxy, agent, lieutenant, deputy, locum tenens.

Substitution, n. Act of putting one person or thing in the place of another : - تبدیلی - بدل - ابدال - معاوضہ

Substratum, n. A layer of earth lying under another : - مابقیہ زیریں - طبقہ - تہذیب کی (مضامین کی) تہذیب

Substructure, n. An under structure ; a foundation : - تہذیب کا مکان - بنیاد - نیر

Subtend, v. t. To extend under ; to be opposite to : - نیچے پھیلنا - معافی ہونا - مقابلہ ہونا - سامنے ہونا

Subterfuge, n. A shaft ; an evasion ; artifice : - تدبیر - نطرت - حکمت - چال - حیلہ - قال قول - گریز - عذر - برائے - دہمازی - مکر - فریب **Syn.** Excuse, shift, trick, sham, pretence, pretext. **Ant.**—Frankness, sincerity, artlessness, ingenuity.

Subterranean, a. Being or lying under the surface of the earth ; under the ground : - زمر زمین - تحت الارض - زمین دوز - زمین کے نیچے

Subtle, (Pr. Subt'l) a. Thin ; rare ; nice ; acute ; crafty : - لطیف - مہین - باریک - پتلا - کڑی - تیز - شدید - زود بین - زود رس - تیز فہم - مہیا - مکار - نطرتی - چالاک - فریبی - دغا باز

Subtilise, v. t. To make thin or fine ; to refine : - باریک یا لطیف کرنا - پتلا کرنا - مہین کرنا - صاف کرنا

Subtily, n. Thinness ; fineness ; extreme acuteness ; craftiness : - نازکی - نراکت - لطافت - نکت - پتلان - تیز فہمی - زورہ رسی - زہر کی - مکاری - صلیت - دغا بازی

Subtle, (Pr. out'l) a. Sly ; cunning ; acute : - عیار - نطرتی - مکار - دغا باز - فریبی - چالاک - زود رس - تیز فہم - زہر

Subtlety, n. Slyness : نطرت - مکاری - عیاری
Subtract, v. t. To withdraw or take from the rest ; to deduct : قوتیق کرنا - کھٹانا - وضع کرنا
Subtraction, n. Act of taking a lesser sum from a greater : قوتیق - وضع - منہائی - باقی - جان
Subtrahend, n. The sum or number to be taken from another : مقررہ - عدد منقوض - مفروق : منہر
Suburb, n. An outlying part of a city or town : انواح شہر - حوالی شہر - سرحد - سروان - داسی شہر
Suburban, a. Being in the suburbs : سروان کا - حوالی کا - اطراف کا - نواح - شہر کے اس پاس کا
Subvene, v. i. To come under ; to happen ; to come to the assistance of : نیچے آنا - واقع ہونا : دستگیری کرنا - مدد کر پہنچنا
Subvention, n. Act of coming in aid ; government bounty : دستگیری - ہشتی - امداد سرکاری
Subversion, n. Entire over-throw ; utter ruin : انقلاب - پائمالی - تہس نہس - بربادی - انہدام
Subversive, a. Tending to overthrow and ruin : اولف دینے والا - پائمال کرنے والا - برباد کرنے والا
Subvert, v. t. To overthrow ; to ruin ; to pervert : تہہ و بالا کرنا - زہر و زہر کرنا - برباد کرنا - مسار کرنا - ویران کرنا - پھٹنا
Succeed, v. t. or i. To follow in order : پیچھے جانشین ہونا : * To take the place of : * To come after : * To prosper ; to obtain the object desired ; to have a good effect : ہونا - کامیاب ہونا - نصیب ہونا - موثر ہونا - کارگر ہونا
Success, n. Prosperity ; good fortune : بہرہ مندی - کامیابی - خوش نصیبی - نغز مندی
Successful, a. Resulting in success ; prosperous ; happy : کارگر - نغز مند - کامیاب - خوش نصیب - خوش و خرم - کامران - منصور
Succession, n. A series of things ; an order of descendants ; race ; right to enter upon the possession of the property of an ancestor : تسلسل - تواتر - قطار - نسل - بنس - جائے نشینی - حق وراثت
Successive, a. Following in order : متسلسل - متواتر - لگاتار

Successively, ad. Following in order : پیچھے متواتر - یکے بعد دیگرے
Successor, n. One who succeeds another : قائم مقام - وارث - جائے نشست
Succinct, a. Compressed into a narrow compass ; concise : تنگ - مختصر - خلاصہ - مومل
Syn.—Short, brief, laconic, terse, compact, curt.
Ant.—Discursive, diffuse, prolix, verbose.
Succour, n. Aid ; ship ; assist relieve : دستگیری - مدد - اعلیٰ - کمک - حمایت - چارہ ساری
To help or relieve in difficulty or distress ; to assist : مدد کرنا - مصیبت میں دستگیری کرنا - ساتھ دینا - اعانت کرنا
Succulence, a. Juiciness : رسیلاہن
Succulent, a. Full of juice ; juicy : عرق دار - پرورد : * plants : * رس ہوا - رسیم - شہرے دار - تر چکنی پتھال اور شاخیں موٹی لور رسیلی ہوتی ہیں
Succumb, v. i. To yield ; to submit ; to sink under : دینا - مطیع ہونا - زہر ہونا - سب جانا
Such, a. Of that kind ; of the like kind ; the same that : * تان - ایسا - جیسا - ویسا - اسی طرح کا : * ٹانا - ایسا - ایسا - ایسا - ایسا
—a one,—and such,—like. ایس طرح کا وغیرہ
Suck, v. t. or i. To draw with the mouth ; to imbibe ; to inhale : چوسنا - پینا - جذب کرنا - سونکھنا
To—down, to swallow down easily : * گہرے پی جانا
To—in, to imbibe : * ٹی لیکنا - جذب کرنا
To—out, to extract : * چوس کر نکالنا یا کھینچنا - نچرنا : خشک کر ڈالنا
Suck, n. Act of drawing with the mouth ; a small draught : چوس - جذب - کھینچ - ہم - چسکی
Sucker, n. One who or that which sucks : چوسنے والا : * The piston of a pump : * ایک قسم کی ٹیپی : * A kind of pipe :
Suckle, v. t. To nurse at the breast : دودھ پلانا - چوٹی پلانا
Suckling, n. A young child at the breast : شیر خوار بچہ
Suction, n. The act of sucking up : چسوا - کھینچاؤ - دھکا - * دم کشی

Sudatory, n. A sweating bath ; a bath house :
گرم غسل - حمام

Sudden, a. Happening without previous notice ; unexpected ; hasty ; abrupt :
یکایک - اچانک -
n. An unexpected occurrence :
اتفاقیه یا ناگہانی واقعہ - غیر متنب

Suddenly, an. Unexpectedly :
یکایک - ناگہان -
اتفاقاً - دناختاً

Sudorific, a. Causing sweat : معرق
n. A medicine that produces sweat : معرق دوا

Suds, n. sing. Water impregnated with soap, and soaked up into froth and bubbles :
ہاتھی جس میں -
دھڑی یا - * To be in the - s, * صابون کا جھاگ - لاہر
نشانے کے پھیر میں آنا

Sue, v. t. To follow up ; to prosecute by law :
پیچھا کرنا - تعاقب کرنا - لاش کرنا - لاش رجوع کرنا

Sue, v. i. To make legal claim ; to petition :
عدالت میں دعویٰ کرنا - درخواست یا استغاثہ گذراننا -
* ناظر یا جاری کرنا * To - out, * عرضی یا سوال دینا
To be sued, * مدعا علیہ بننا

Suet, n. Fat about the kidneys : گڑھے کی چربی

Suffer, v. t. or i. To allow ; to endure ; to undergo ; to sustain loss or inconvenience ; to undergo punishment :
اجازت یا پروانگی دینا - روا رکھنا -
برداشت کرنا - تحمل کرنا - صبر کرنا - سہنا - اوتھانا -
* Is * جھیلنا - نقصان یا تکلیف اوتھانا - سزا پانا
خال ہونے کا اندیشہ ہے

Sufferable, a. That may be endured : قابل برداشت

Sufferance, n. Pain endured ; patience ; toleration ; permission :
تکلیف - ایذا - برداشت - صبر -
تحمل - بردباری - اجازت - پروانگی

Suffering, n. Pain or injury endured :
صفت - ایذا - آزار - رنج - مصیبت

Suffice, v. t. To satisfy ; to content :
اطمینان کرنا -
کانی : * v. i. To be enough :
ہونا - کفایت کرنا - بہت ہونا

Sufficiency, n. Competence ; enough to live on ; ability :
افراط - حوصلہ - مقدور
Syn. - Adequacy, enough, plenty.

Sufficient, a. Adequate to wants ; enough for demand or supply ; competent :
کانی - وافر -
بس - بقدر لیاقت - احتیاج - لائق - قول
از بس - بقدر ضرورت

Sufficiently, ad. Adequately

Suffix, n. A letter or syllable added to the end of a word :
حرف یا نغمہ جو لفظ کے اخیر میں لگایا
حرف یا نغمہ لفظ کے اخیر میں لگانا
* v. i. To add a letter or syllable to a word :

Suffocate, n. t. To smother ; to stifle ; to extinguish :
ڈکا گھونٹنا - گلا گھونٹنا - مار ڈالنا - دم بند کرنا -
سانس روکنا - بھوانا - گل کرنا

Suffocation, n. Act of choking or stifling :
جس دم - سانس کی روکاوٹ - دم بستگی

Suffragan, n. An assistant bishop :
جڑے پادری کا نائب

Suffrage, n. A vote ; voice ; evidence :
راے - شہادت - صداقت

Suffuse, v. i. To overspread :
پھیلانا - بھرنا -
آنکھوں میں آنسو * Eyes to be suffused * چھان
پھر آنا

Suffusion, n. Act of suffusing :
پھیلانے - بھرانے

Sugar, (Pr. Sugar) n. A sweet substance obtained from the sugarcane or beet root :
شکر -
چھانی - قند

Sugar-candy, n. Sugar crystallized :
مصرب - قند

Sugarcane, n. The cane or plant from whose juice sugar is obtained :
شکر - گنا - لاکھہ - پونڈا

Suggest, v. t. To hint ; to intimate ; to propose ; to tempt ; to prompt to evil :
اشارہ یا ایما کرنا - بتانا - سمجھانا - راے دینا - تجویز
پیش کرنا - درغلانا - بدی کی طرف راغب کرنا

Suggestion, n. Hint ; intimation ; secret proposal :
اشارہ یا ایما - اطلاع - راز - مشورہ - راے -
تجیش گذاری

Suggestive, a. Containing a suggestion or hint :
سمجھانے یا اشارہ کرنے والا - ایسے دینے والا

Suicide, n. Self-murder ; one guilty of self-murder :
خودکشی - خودکش - مجرم خودکشی

Suit, n. Act of suing ; a petition ; process for the recovery of a right or claim :
نالش - لاش -
* Pursuit * درخواست - عرضی - التماس - استدعا - مقدمہ
مصائب - * A retinue * تعاقب - پیچھا
اظہار عشق یا امیدواری - * Courtship * ہمراہ
ازدواج جزا - رنگ

Syn.—Request, solicitation, petition, entreaty, prayer, supplication, appeal, invocation.

Suit, v. t. or i. To fit ; to answer ; to agree : **ٹھیک**
 کرنا - مرافق ہونا - مرزوں ہونا - راضی ہونا - حسب
 دلخواہ ہونا

Suit, n. (Pro. sweet) A train of attendants ; a
 set : **مصابح** - **ہمراہی** - **ہمراکب** - **جزا** - **قرتیب** :

Suitable, a. Fitting ; becoming ; competent :
ٹھیک - **مرزوں** - **سزاوار** - **مطابق** - **مسابح** - **لائق** -
قابل

Suitor, n. One who sues ; a petitioner ; a lover :
تعاقد کرنے والا - **درخواست دہندہ** - **مستقیم** - **عاشق** -
عاشق امیدوار ازدواج - **طالب ازدواج**

Suitress, n. A female plaintiff or complainant :
مدعیہ

Sulk, v. i. To be sullen or dull : **رنجیدہ یا سست**
 ہونا - **نمکین** ہونا

Sulky, a. Sour ; morose : **توڑو** - **کشیہ** - **ناخوش**
Syn. - Cross, sour, sullen, surly.
Ant. Kindly, merry, genial.

Sullen, a. Gloomy ; moody and silent ; gloomily
 silent ; obstinate ; morose : **غمگین** - **اودس** -
ضد - **سرنس** - **بڑھم** - **ناخوش** - **بیزار** - **خاموش** -
ملا انگیز - **غمگاہی**

Sullenly, ad. Intractably ; obstinately : **کشیہ کی**
سے - **ضد سے**

Sullenness, n. Moroseness ; gloominess :
قرش - **رؤی** - **روٹھائی** - **غمگاہی**

Sully, v. t. or i. To soil ; to tarnish ; to stain :
میلانا - **آلود کرنا** - **بھلنا** - **داغ لگانا**

Sulphur, n. A yellow, brittle, mineral substance :
گورگور - **گندھک** - **کبریت**

Sulphuric, a. Pertaining to or obtained from
 sulphur : **گندھکی** - **گندھک کا**

Sulphurous, a. Having the qualities of sulphur :
گندھکی کی - **خاصیت کا** - **کبریتی**

Sultan, n. The emperor of the Turks : **سلاطین**

Sultana, n. The wife of a Sultan : **سلاطینہ**

Sultriness, n. Close and oppressive heat : **اومس** -
گھومس

Sultry, a. Very hot ; burning and oppressive :
گرم - **بند** - **محبوس**

Sum, n. A quantity of money ; total ; compen-
 dium ; height ; a problem in arithmetic : **رقم** -
مقدار - **مجموعہ** - **میزان** - **خلاصہ** - **اصل مطالب** - **انتہا** -
کمال - **حساب کا سوال**

Sum, v. t. To bring together into one whole :
جڑ لگانا - **جزو** - **جمع کرنا**

Summarily, ad. Concisely ; in short way or
 method : **مختصراً** - **مجملاً** - **سرسری طور پر**

Summary, a. Brief ; concise ; quickly executed :
n. An abridged
ڈر ڈرا - **خلاصہ** - **لب لباب** - **اجمال**
account : **مختصر** - **سرسری**

Summation, n. Act of forming a total : **میزان**
کنا

Summer, n. One of the four seasons of the
 year, the hot season : **قائستون** - **گرمی** - **مرسم گرم**

Summit, n. The top ; the highest point or
 degree ; utmost elevation : **چوٹی** - **قلہ** - **پینگی** -
سرا - **اوج** - **بندی**

Syn. Apex, vertex, acme, pinnacle, zenith.
Ant. - Abyss, bottom, depth.

Summon, v. t. To call, cite or notify to appear ;
 to call up ; to call upon to surrender : **بلا** - **طالب** -
کرنا - **سمن جاری کرنا** - **مطالع ہونے کا پدم بیجنا**

Summons, n. sing. A writ commanding a per-
 son to appear in court : **حکمہ استدعا طلبی** - **سمن**

Sumpter, n. A horse that carries packs or bur-
 dens : **پرتل کا قتر** - **بار برداری کا قتر**

Sumptuary, a. Relating to expense : **اخراجات کے**
باب میں - **مصروف کے متعلق** - **خرچ منسوب**

Sumptuous, a. Costly ; splendid ; magnificent :
بیش قیمت - **زرق بونق** - **شاندار** - **پرچ تکلف**

Sun, n. The central body round which the earth
 and planets revolve : **آفتاب** - **سورج** - **خورشید** -
دعوپ میں : **v. t.** To expose to the sun : *** شمس**
رکھنا - **دعوپ دکھانا**

Sunbeam, n. A beam or ray of the sun : **شعاع**
آفتاب - **سورج کی کرن**

Sunday, n. The first day of the week : **یکشنبہ** -
اتراری شکر - **پہلے صاف لباس ارنہائی** , **face** * **اتوار**
دھری صورت

Sunder, v. t. To separate ; to divide ; to sever :
دو پارہ کرنا - **دو نیم کرنا** - **جدا کرنا** - **الک کرنا**

Sun-dial, n. An instrument to show the time
 of day by means of the shadow of the sun :
دعوپ گوتی - **آفتاب ساعت نما**

Sundries, n. pl. Miscellaneous things : **متفرقات**
چیزیں

Sundry, a. Several ; diverse ; more than one or two : متفرق - مختلف - چند - متعدد

Sunfish, n. A large, soft finned sea-fish : ایک قسم کی مچھلی

Sunflower, n. A plant with a large yellow flower : سورج مکھی

Sunny, a. Bright ; warm : روشن - گرم
Syn. - Shining, brilliant, clear, unclouded.

Sunrise, n. First appearance of the sun above the horizon : طلوع آفتاب

Sunset, n. The descent of the sun below the horizon : غروب آفتاب

Sunshine, n. The light of the sun : آفتاب کی روشنی

Sunstroke, n. A fatal illness caused by exposure to the sun : لڑ - صدمہ آفتاب

Sup, v. t. or i. To take into the mouth, as a liquid : سونکا - سیرکنا * To take supper : رات کا * n. A sip : a mouthful of liquor : جرعت - گھونٹ

Superable, a. Surmountable : مغلوب ہونے کے قابل - حل ہونے کے لائق

Superabound, v. i. To be very abundant or exuberant : کثرت سے ہونا - بہت ہونا

Superabundance, n. More than enough : کثرت - بہتات - زیادتی

Superadd, v. t. To add over and above : زیادہ کرنا - اوپر سے جوڑنا

Superannuate, v. t. To relieve one from office or allow to retire from service on half pay, pension, etc. ; to impair by old age : ضعیفی کے باعث پنشن دینا - دیرینہ کرنا - سالخوردہ کرنا

Superannuation, n. State of being superannuated : کهن سالیگی - پیری - پرہاپا

Superb, a. Grand ; rich ; showy : عظیم - عالی شان - رونق دار - عمدہ - فاخرہ - نمائشی

Syn. Stately, august, majestic, noble, magnificent, sumptuous, splendid.

Superbly, ad. Magnificently : جاہ و جلال سے - تمکنت سے - شان سے

Supercargo, n. One who has the care of cargo : مالِ مہمہ رکھنے والے جہاز کے فروخت کا مہتمم - چوہندار

Supercilious, a. Lofty with pride ; haughty : مغرور - خودبین - تکبر - ابرو کشیدہ - نک چڑھا

Supereminence, n. A superior distinction of celebrity : عظمت - برتری - نامورگی - فضیلت

Supereminent, a. Eminent in a superior degree : نہایت عمدہ - نائق - ناضل - برتر

Supererogation, n. Performance of more than duty or necessity requires : فرض سے زیادہ کام - فضولی

Superfetate, v. t. To conceive after a prior conception : حمل پر حمل رکھنا - دو بارہ حمل رکھنا

Superficial, a. Being on the surface ; shallow ; smattering : سطحی - بیرونی - تھوڑا - خام - کچھ

Superficies, n. The surface ; the exterior part or face of a thing : سطح - وسعت

Superfine, a. Surpassingly fine : اعلیٰ تر - افضل - فائق - نہایت عمدہ - بہت باریک - برتیا

Superfluity, n. Superabundance ; redundancy : افراط - فضولی - زیادتی

Superfluous, a. Exuberant ; redundant : ناضل - زائد - فضول - غیر ضروری

Syn. Excessive, redundant, exuberant, unnecessary, needless.

Ant. - Inadequate, scant, insufficient, sparing.

Superhuman, a. Above or beyond what is human : خارج از طاقت بشری - آسمانی - غیبی

Superintend, v. t. To have or exercise the charge and oversight of ; to oversee : نگرانی کرنا - انتظام کرنا - سربراہی کرنا - اہتمام کرنا

Superintendence, n. Care ; inspection ; management : اہتمام - خیر گیری - نگرانی - نگہبانی

Syn. سربراہی

Superintendent, n. Inspector ; manager ; a chief overseer : نگہبان - نگران - مہتمم - منتظم

Syn. سربراہ کار - سزاوار

Superior, a. Higher in rank, excellence, office, etc. : برتر - اعلیٰ - بزرگ تر - بہتر - عمدہ - بالادست

n. One advanced in age or higher in rank, excellence, dignity or qualities of any kind : عمر رسیدہ - بزرگ - بڑا - سردار - افسر

Superiority, n. Pre-eminence ; advantage : فضیلت - بزرگی - برتری فوقیت - فرق - سبقت

Superlative, a. Most eminent ; highest in degree : اعلیٰ - افضل - اتم

n. (Gram.) The highest degree of comparison : بیشدہ تفضیل

Supernal, a. Relating to things above ; heavenly ; celestial :
بالا ندر - آسمانی - نلکی

Supernatural, a. Being beyond the laws of nature :
عجیب - اعجابی

Supernumerary, a. Exceeding the necessary number : * ضروری تعداد سے زیادہ - ناضل - زائد
— per n. A person or thing above the required number : * شخص یا شے تعداد میں سے زائد

Superposition, n. A lying upon anything else :
تبعیث - اچھان

Superscribe, v. t. To write or engrave on the top, outside or surface ; to address as a letter :
اوپر لکھنا - سرنامہ لکھنا

Superscription, n. That which is written or engraved on the surface, outside, etc. ; address ; direction :
بالائی تحریر - پتہ - سرنامہ

Supersede, v. t. To take the place of ; to overrule ; to set aside : - کسی کی جگہ لینا - رد کرنا - برطرف کرنا

Supersession, n. The act of superseding :
In—of, * استرداد - قردید - برطرفی - منسوخی
بہ منسوخی

Superstition, n. Rigour in religion ; weak credulity ; false religion ; false fear :
بدعت - مذہبی - تعصب - عقیدہ باطل - جھوٹا وسواس - دہش

Superstitious, a. Full of idle fancies and scruples in regard to religion ; excessively credulous :
باطل پرست - مذہبی معاملہ میں خیالات باطل سے بھرا ہوا - وسواسی - دھمی

Superstructure, n. Anything erected on a foundation or basis :
بنیاد کے اوپر کی عمارت - عمارت کی پہلی منزل کے اوپر کا حصہ

Supervene, v. i. To come as something extraneous ; to take place ; to come to pass afterwards :
اوپری یا خارجی طور سے آنا - واقع ہونا - سرزد ہونا - پہنچنے سے وقوع میں آنا

Supervision, n. Superintendence ; overseeing ; inspection :
انتظام - نگرانی - معائنہ

Supervise, v. t. To oversee ; to superintend ; to inspect :
نگرانی کرنا - انتظام کرنا - معائنہ کرنا

Supervisor, n. Superintendent ; overseer ; inspector :
صہتم - نگران - ناظر - احتتامچی

Supine, a. Lying on the back or with the face upward ; heedless ; indolent :
چت - چاروں شانے چت - بے خبر - سست - کاہل

Supineness, n. Carelessness :
پرورائی

Supper, n. The evening meal :
بیانر - رات کا کھانا - طعام شب

Supperless, a. Having no supper :
بغیر رات کا کھانا کھائے ہوئے - بے بیانر

Supplant, v. t. To remove or displace by strata gem ; to take the place of ; to undermine :
دغا سے نکال دینا - برطرف کرنا - نکال کر جگہ لے لینا - جز سے بھر دنا

Supple, a. Flexible ; pliant ; compliant :
لچیلا - v. t. or * آسانی سے جھکنے والا - نرم - ملائم - مطیع - تابع
i. To make or become soft and pliant :
ملائم ہونا - تابع کرنا - مطیع ہونا

Supplement, n. Any addition by which something wanting is supplied :
v. t. * تمہ - ضمیمہ - بھرنا - جرزنا - شامل کرنا
To fill up ; to add to :

Supplementary, a. Additional :
زائد - ترمیمی - اضافی

Suppleness, n. Flexibility ; pliancy :
لچک - ملائمت - نرمی

Suppliance, n. Entreaty :
* Gratification ; خوشی - تقویع - کیل - دلگی - چہل - پشیمہ

Suppliant, a. Entreating :
التماس کرنے والا - عرض :
n. * An humble petitioner :
التماس - عاجز - عرض پرداز - نیاز مند

Supplicate, v. t. or i. To entreat for ; to address in prayer ; to implore :
عرض کرنا - التماس - عرض پرداز - نیاز مند
کرنا - التجا کرنا - مانگنا

Supplication, n. Humble petition ; earnest request :
عرضداشت - التماس - التجا - منت عاجزانہ - استدعا

Supplicatory, a. Petitionary ; suppliant :
نیاز مندانه - التماس آمیز - عاجزانہ

Supply, v. i. To fill up ; to furnish ; to provide :
بھرنا - پورا کرنا - دینا - صہیا کرنا - پہنچانا - ہم
* To—a defect, نقص رفع کرنا * To—a want, * Sufficiency of things for use or want ; provision ; store :
وہایت - * To furnish supplies, * کفایت - رسد - سامان
رسد پہنچانا

Support, v. t. To sustain; to prop; to maintain; to favour; to second: قائم - سنبھالنا - اوتھانا رکھنا - مہربانی کرنا - پرورش کرنا - مدد کرنا
n. Prop; maintenance; favour: کھمبہ - سہارا - وجہہ معاش - پرورش - رزق - نان نفقہ -
In—of the authority, * خبر گیری - امداد اختیار: عدالت کی تہذیب میں

Supporter, n. Sustainer: معاون - ستموں - سہارا: * دستگیر: چناب دا

Suppose, v. t. To imagine; to conceive; to think: خیال کرنا - فرض کرنا - تیس کرنا - سوچنا

Supposition, n. Conjecture; guess; hypothesis: خیال - اندازہ - اندازہ - قیاس - گمان: محض - معض گمان - امکان پھیر: * Mere — دعویٰ بلا ثبوت

Supposition, a Based on supposition; hypothetical: تہسی - فرضی - مرضی - مآروض - خیالی

Suppress, v. t. To overpower and crush; to put down; to restrain; to conceal: فرو کرنا - روکنا - پوشیدہ کرنا - چھپانا - ضبط
Syn. Repress, stop, crush, overpower, stifle, choke, smother.
Ant — Excite, raise, strengthen.

Suppression, n. Overthrow; destruction: روک - اخفا - پوشیدگی: * Concealment: دھڑ - انسداد

Suppressive, a. Concealing; subduing: پوشیدہ - نوٹیرالا - دبائے والا

Suppurate, v. t. or i. To generate pus or matter: پیپ بھرنا - پکنا

Suppuration, n. A ripening into matter: پکاؤ - پیپ

Supramundane, a. Above the world: بالائے دنیا - بالائے نظام شمسی

Supremacy, n. Highest authority; predominance: برتری - سرداری - فرقیقت - عظمت
Syn.— Domination, predominance.

Supreme, a. Highest in dignity or authority; the utmost: درجہ - فایت - صدر - اولاد - خدام تعالیٰ * The Supreme, خدام تعالیٰ

Surcharge, v. t. To overload; to overcharge: * حد سے زیادہ بوجھ رکھنا - مناسب سے زیادہ لادنا یا بھرنا
n. An excessive load; an overcharge: زیادہ بوجھ

Surd, n. A quantity which cannot be expressed by rational numbers: عدد جسکا جذر صحیح نہ نکال سکے - اصم - عدد غیر ذائقہ

Sure, a. Certain; unfailing; firm; secure: یقینی - قائم - قابل اعتبار - سچا - ثابت - مضبوط -
To be — ضرور * **To make** — بلا شبہ * **He is a sure of,** * کسی کی نسبت اطمینان کر لینا
card, * احقر پورا اعتبار ہے *
Syn. Confident, positive.

Surety, ad. Certainly: یقیناً - البتہ - بے شک
Surety, n. Certainty; security; safety: یقین - ضمنت: * Security against loss: حفاظت - سلامتی
A bail: ضمانت کاٹل

Surf, n. The swell of the sea breaking on the shore: سیلابی - موج - سمندر کا ٹھوڑا جو ساحل پر توڑتا ہے

Surface, n. Exterior; outside; superficialities: سطح - کھیت - ظاہرہ صورت - بے روئی باتیں

Surfeit, n. Excess in eating or drinking; satiety: سبزی - اجڑن
Syn.— Repletion, glut, fulness, satiety.

—, v. t. To cram over much; to satiate: زیادہ کھانا - ناگرمی بھرنا - سیر کرنا - اگمانا

Surge, n. A rising billow: لہر - موج - تونک - ہلکورا

Surgeon, n. One who practices surgery: جراح - طبیب

Surgery, n. The art of healing external injuries of the body: جراحی - فصادی

Surgical, a. Relating to surgeons: جراحی کا

Surgy, a. Fall of surges; rising in billows: موج - زلزلہ - مزاج

Surly, a. Gloomily morose; rude; tempestuous: توشور - بد خلق - بے مزوت - تند

Surliness, n. Gloomy moroseness: توش مزاجی

Surmise, v. t. To conjecture; to suspect; to infer or suppose: قیاس کرنا - خیال کرنا - شبہہ رکھنا -
n. Conjecture; thought: * شک رکھنا - گمان کرنا
خیال - گمان

Surmount, v. t. To overcome; to conquer; to surpass: غالب ہونا - حل کرنا - فتح کرنا - سبقت لیجانا
Surname, n. A name added to the baptismal name: * خطاب - تخلص - المب
v. t. To call by a family name: خاندانی نام سے پکارنا

Surpass, v. t. To go beyond ; to excel ; to exceed : پیش قدمی کرنا - سبقت لیجانا - ترجیح رکھنا - زیادہ ہونا - بڑھ جانا

Syn. Exceed, excel, outstrip.

Surpassing, n. Excellent : - فضول - عمدہ - لائق - کامل

Surplice, n. A white linen garment for clergymen : پادریوں کا ایک طور کا سفید جامہ - جبہ - ابا

Surplus, n. Excess beyond what is wanted ; balance ; residue : بیشی - زیادتی - فضل - بڑھتی - * receipt, اصلات * باقی - بچت - توفیر
of sale proceeds, زرتوفیر نیلام

Surprise, n. Wonder ; amazement ; sudden confusion : تعجب - حیرت - اچرج - حیرانی - حیرانہ
* v. t. To take unawares ; to come or fall upon suddenly and unexpectedly ; to confuse : اچانک آہرنا - یکہ بیکہ آجانا یا چاہرنا - گھبرادینا -
He was surprised into a confession, اس میں ایک ڈالائی ہوئی
* He was surprised into a discretion, اوس سے نکالا یا بے خیالی میں اقبال کرا لیا

Surprising, a. Wonderful ; amazing : حیرت انگیز - تعجب - ڈار

Surrender, v. t. or i. To give up ; to resign ; to yield : چھوڑ دینا - دست بردار ہونا - حوالہ کرنا - سپرد کرنا - مغرب ہونا - تابع ہونا

Syn.—Relinquish, cede, forego, abdicate, abandon, give up, deliver.

Ant.—Contest, dispute, wrangle.

Surrender, n. The act of surrendering : سپردگی - حوالگی - تفریض - مغربیت

Surreptitious, a. Made or introduced fraudulently : چوری کا - خفیہ - چھپی - چھوٹی

Surreptitiously, ad. Fraudulently : چھپی سے - دغا سے - فریباً

Surround, v. t. To encompass ; to environ : احاطہ کرنا - گھیرنا

Surrounding, n. An encompassing ; an environment : احاطہ - گھیرا - ٹوب و جوار

Surtout, n. A coat worn over the other dress : کوٹ جو اور کپڑوں کے اوپر پہنا جاتے

Surveillance, n. Watch : - نگرانی - نگرانی - حفاظت چر کسی

Survey, v. t. To view attentively ; to measure : نگاہ کرنا - بغور دیکھنا - ناپنا - پیمائش کرنا - کرتنا
* n. A general view ; a plan or draft : * نظر - ملاحظہ - جانچ - نقشہ - خاکہ - مصاحف - پیمائش

Trigonometrical survey, n. علم مثلث کے ذریعہ
* Ameen's Abstract of —, کھتونی * سے پیمائش شجرہ

Surveyor, n. A measurer of land ; a public officer to inspect the progress of works : ناپنے والا - پیمائش کرنے والا - سرورنار

Survival, n. State of living beyond another person or event : حیات کسی واقعہ یا کسی شخص کے بعد - پس ماندگی

Survive, v. t. To live after the death of another : کسی واقعہ یا شخص کی وفات کے بعد تک - جیتنا رہنا - بچنا

Survivor, n. One outlives another : جس کے بعد جیتتا رہے - پس ماندہ

Susceptibility, n. The quality of admitting impression ; sensibility ; emotion : قابلیت احساس - اخض - جوش دل

Susceptible, a. Impressible ; feeling ; sensitive : متحمل - سریع الحس - اثر پذیر

Suspect, v. t. To mistrust ; to imagine ; to be guilty without proof ; to doubt ; to conjecture : بے اعتباری کرنا - بدظن ہونا - شک کرنا - شبہہ کرنا - اندیشہ کرنا - احتمال کرنا

Suspend, v. t. or i. To hang ; to cause to cease for a time ; to hinder ; to debar ; to stop payment ; to make to depend on : لٹکانا - ملتوی رکھنا - معطل کرنا - روکنا - روک رکھنا - منحصر کرنا - موقوف رکھنا

Syn.—Delay, interrupt, stop.

Ant.—Begin, continue, prolong, expedite.

Suspense, n. A state of uncertainty ; doubt ; تذبذب - پس و پیش - دبدہا -
suspension ; delay : شک - شبہہ - معطلی - موقوف - دیر - التوا
Suspension, n. Act of hanging up ; temporary cessation : آویزائی معطلی - التوا - چند روزہ

Suspicion, *n.* Want of confidence; mistrust: بدگمانی - شبہہ - شک - بے اعتباری - اندیشہ مند

Suspicious, *a.* Inclined to suspect; mistrustful: شکمی - بدظن - بدگمان - وہمی

Suspiciously, *ad.* In a suspicious manner; so as to excite suspicion: شک سے - بدگمانی سے

Sustain, *v. t.* To keep from falling; to support; to endure; to suffer; to sanction; to prove: تھامنا - قائم رکھنا - اٹھانا - پرورش کرنا - برداشت کرنا - جھلنا - سہنا - منظور کرنا - ثابت کرنا - تصدیق کرنا
To--an application, درخواست منظور کرنا

Syn.—Support, uphold, assist, relieve, confirm.

Sustenance, *n.* Support; maintenance. food: پرورش - رزق - روزی - خوراک

Sustentation, *n.* Support; use of food or provision: پرورش - کھانا

Sutler, *n.* A person who follows an army, and sells to the troops, provisions, liquors, etc.: لشکر کا مردی

Suture, *n.* Seam; joint of the skull: درخت - سلانی - چرر - ٹانکا

Suzerain, *n.* A feudal lord: جاگیردار - حاکم

Swab, *n.* A mop for cleaning floors of the decks of a ship: *v. t.* * برہاری - جھڑو - کونھپی - پھارنا
To clean with a mop or swab: برہارنا - جھڑنا - پھارنا پھیرنا

Swaddle, *v. t.* To swathe; to bind on with a bandage: لپیٹنا - باندھنا - کسنا

Swaddle, *n.* Clothes bound tight round the body: *Swaddling band,* * پٹی - بندن - نرودا بچے کو لپیٹنے کا کپڑا

Swag, *v. i.* To sink down by its weight; to swing: اپنے بوجھ سے ترینا - ہلنا - پورسنا - جھولنا
* جسکی توند اپنے بوجھ سے لٹکی ہوئی ہو - bellied - تبدیل

Swagger, *v. i.* To bluster; to boast or brag noisily; to speak in pompous manner: لاف زنی
کرنا - شیخی مارنا - دینگ مارنا - جھومتے جھرتے چلنا - ٹھات یا تکبر سے چلنا

Swain, *n.* A peasant; a herdsman; a pastoral youth: کسان - چرواہا - گدیان - نوجوان

Swallow, *n.* A small migratory bird: اڈیل *
One—does not make a summer, اکیلا چلنا

v. t. To take into the stomach: نگلنا - گھونٹنا - جذب
کر لینا - پی لینا - ڈھونڈنا

Syn.—Absorb, imbibe, ingulf, engross.
Ant.—Discharge, empty.

Swamp, *n.* A marsh; a bog: دھال - دھالان
v. t. To overset, as a boat in water: پلٹ دینا - کشتی کو اولٹ دینا

Swampy, *a.* Marshy; boggy; fenny: دھال سے
بھرا - دھال

Swan, *n.* A large, handsome, web-footed water-fowl with a long neck and beak: راج بکس - بٹخ

Swap, *v. t.* To exchange; to barter: لا پلا کرنا
* *v. t.* To strike with a long stroke: پٹنا کرنا
n. An exchange; barter: لا پلا - پٹنا

Sward, *n.* The grassy surface of land; turf: گھاس دار زمین - سبزہ زار

Swarm, *n.* A cluster of bees: بھد کی جھونکا
گروہ - جماعت - *A* multitude; a crowd: جھنڈ
بھیز جھوم

Syn.—Multitude, crowd, throng.
—, *v. i.* To leave a hive in a body as bees: شہد کی مکھونکا غول میں چپتے سے نکل جانا

To crowd: جمع ہونا - جھوم کرنا

Swarthy, *a.* Of dark complexion; tawny; black: گندم رنگ - ساڑھلا - کالا

Swash, *v. i.* To dash or flow noisily; to bluster: پانی کا شور سے چھلکانا یا بہنا - لاف زنی کرنا

Swath, *n.* A line of grass, or corn as cut by the mower: کاٹی ہوئی گھاس یا اناج کی قطار - ہنسنے کا لپیٹ

Swathe, *n.* A bandage; a fillet: پٹی - بندن
v. t. To bind with a bandage: پٹی باندھنا

Sway, *v. t. or i.* To move or wield with the hand: *To influence; to govern;* دباؤ ڈالنا - حکمرانی کرنا - سرداری کرنا - *to bias:* قابو - غلبہ - *n.* Power; rule; *influence; preponderation; control:* قدرت - حکمرانی - حکومت - *Dominion:* * *Sway of a weapon:* ہتھیار کی جنبش یا تزلزل

Syn.—Rule, dominion, power, empire, control.
Sweal, *v. i.* To melt and run down: پگھلنا

دنیا سے نرم ہونے کی چرچی

Swear, v. t. To put to an oath ; to utter an oath ; to give evidence on oath : قسم دینا - سوگند کرنا - کھانا - حلف لینا یا حلف سے بیان کرنا

Sweat, n. Moisture from the skin ; labour : پسینہ : عرق By the—of one's brow * عرق * عرق - محنت
v. t. or i. To excrete or cause to excrete moisture from the skin ; to labour ; to drudge : پسینہ لانا - محنت کرنا - محنت کرنا - چوٹی کا پسینہ ایزی کرنا

Sweater, n. That which sweats ; a heavy woollen garment used by athletes : ایک - پسینہ لانیوالی اونٹنی کرتا جو کسرت کرنیوالے پہنتے ہیں

Sweaty, a. Moist with sweat ; laborious : پسینہ سے تر - محنتی

Sweep, v. t. To clean with a broom ; to drive off ; to carry off ; to drag over : جھڑنا - ہارنا - دور کر دینا * v. i. To pass with pomp : شان و شوکت سے گزرنے * Compass : جاروب کشی - جاروب - جاروبی - رسائی
 General destruction : عمومی تباہی * Sweep before your own door, تجھہ کو ہرائی کیا بڑی اپنی نمیز تو

Sweeper, n. One who sweeps : جاروب - مہتر - حلال خور

Sweepings, n. pl. Things collected by sweeping ; rubbish : ہارن - جھڑن - کوزا درخت

Sweet, a. Saccharine ; fragrant ; melodious ; beautiful ; pleasant ; fresh ; mild : شیریں - میٹھ - خوشبودار - معطر - خوش آہنگ - خوش العان - نغمہ - سنج - خوبصورت - حسین - خوش گوار - بھلا - تازہ -
Sweet words butter no parsnip, To be—upon, * عاشق ہو جانا
To have a—tooth, * شیرینی - میٹھائی
n. Anything sweet : عطر * A perfume : عزیز * A darling : عطر * سرگندہ * No sweet without some sweat, سیوا بن میڑہ نہیں

Sweet-brier, n. A fragrant shrubby plant : ایک خوشبودار درخت

Sweeten, v. t. or i. To make or become sweet ; to make or become mild : شیریں کرنا یا ہونا - ملائم کرنا یا ہونا

Sweetheart, n. A lover or mistress : پیارا - معشوق

Sweetly, ad. Agreeably ; harmoniously : شیرینی سے - نرمی سے - خوبی سے

Sweetmeat, n. A confection of sugar, etc. : شیرینی - میٹھائی

Swell, v. t. To dilate or extend ; to enlarge : بڑھانا - پھیلانا - زیادہ کرنا - دراز کرنا

Swell, v. i. To grow larger ; to increase : * بڑھنا
 To heave : موج زن ہونا * To be inflated ; * اُتھانا - اُبھرنے - پورننا - سرجننا - اکڑنا
 To be puffed up : * To expand : پھیلنا
 To be bombastic : * To expand : پھیلنا
 Syn.—Dilate, expand, intumescere.
 Ant.—Contract, narrow, reduce.

—, **n.** Increase in size or sound ; rise of ground ; پھولن - سرجن - waves ; a showy dressed man : جلندی - چڑھڑ - مزج - لہر - چھیلا - بانکا

Swelling, n. Inflammation ; morbid tumour : سوجن - ورم - آماس

Swelter, v. t. or i. To oppress with heat ; to suffer from heat : گرمی سے مرا جانا

Sswerve, v. i. To turn aside ; to deviate : گھرونی کرنا - گمراہ ہونا - انحراف کرنا - چھٹکا

Swift, a. Rapid ; prompt ; speedy : تیز - مستعد - جلد باز

Swiftly, ad. Quickly : جلدی سے - تیز سے

Swiftness, n. Rapidity ; speed ; fleetness : تیزی - عجلت - شدائی - چالائی

Swig, v. t. or i. To drink by large draughts : بڑے گونٹوں سے پینا - ڈھکوسٹا - ڈھونکا

Swill, v. t. or i. To drink greedily : حرص سے پینا - فٹ عانا

Swim, v. t. or i. To move on a fluid ; to float ; تیرنا - پھرنے - تیرنا - تیرنا - سرگرداں
 to be dizzy : * n. Act of swimming ; the air-bladder of a fish : * ہونا - چکرانا
 شکاری - تیرائی - بہاؤ - مچھالی کا : * To be in the—, * پوکنا
 مڑے سے اوقات بستی کرنا
 کسی معاملہ میں شامل یا شریک ہونا

Swimmer, n. One who swims : شاور تیراک

Swimming, n. Vertigo ; dizziness : دوران سر - گھمبڑی - چکر

Swimmingly, ad. Smoothly ; prosperously : آسانی سے - باامش - مزہ سے - حسب دلخواہ سے

Swindle, v. t. To cheat and defraud grossly or with deliberate artifice : ٹھگ لینا - دھوکا دیکر لینا - خورد برد کرنا

- Swindler, n.** One who swindles; a cheat :
دغا باز - دھوکے باز
Syn. - Sharper, rogue.
- Swine, n. sing. and pl.** A hog; a pig : -
خوک - گھینٹا - سر کا بچہ
- Swineherd, n.** A keeper of swine : کا
سزوں رکھوالا - پاسی
- Swing, v. t. or i.** To move to and fro; to vibrate;
to turn round an anchor; to be hanged : -
لٹانا - چورلٹانا - لہرانا - لنگر کے گرد گزرتا یا پھر جانا - لٹکایا
جانا - پھانسی پلانا
- Swinge, v. t.** To beat soundly; to whip : -
سزادینا - چاہ مارنا
- Swingle, v. t.** To clean flax by beating : *
دھننا
n. A wooden instrument to beat flax : -
موگرہی - بیٹل
- Swiss, n.** A native of Switzerland : سوتسز لینڈ
کا رہنیرا
- Switch, n.** A small flexible twig or rod; a contrivance to enable cars to turn from one line of rails to another : چھڑی - تمچی - ریل کے گھومانے
کی تینچھی
- Switch, v. t.** To beat with a switch; to transfer by a switch : چھڑی یا بید سے مارنا - ریل کو تینچھی سے
گھومانا
- Swivel, n.** A ring turning on a staple : -
کڈا
A small gun that may be turned : *
کڑی - زنبورک - پھنورگی
- Swoon, v. i.** To faint : غش میں آنا - بے ہوش
غش - بے ہوشی
n. A fainting fit : *
ہرجانا
- Swoop, v. t. or i.** To sweep down; to catch on the wing : *
چھپت لینا - چھپتا مارنا
Downward flight of a bird of prey : چھپتا
- Sword, n.** A cutting or thrusting weapon : تلوار -
* Emblem of war and justice : شمشیر
* The military power of a country; strife and جنگ
* فرجی اختیار - جنگ و جدل
To put to —, تہ تیغ کرنا
- Swordblade, n.** The blade or cutting part of a sword :
تلوار کی دھار
- Sword-player, n.** A gladiator; a fencer :
شمشیر چلانے والا - پٹیت
- Swordsman, n.** One who carries a sword, one skilled in the use of the sword : -
تلوار بردار -
شمشیر باز - صیانت
- Sybarite, n.** A person devoted to luxury and pleasure :
عیاش - نفس پرست
- Sycamore, n.** The oriental fig-tree : ایک قسم کا
انجیر کا درخت
- Sycophancy, n.** Obsequious flattery or servility :
چاہلوسی - خواہامد - لڑ پتو
- Sycophant, n.** A mean flatterer; an informer; a tale-bearer : -
چاہلوس - چاہلوس - جاسوس -
چوشامدی - چاہلوس - جاسوس -
چٹانفر
- Sycophantic, a.** Obsequiously flattering; tale-bearing :
چوشامدی - چاہلوس - جاسوس - چٹانفر
- Syllabic, a.** Relating to a syllable :
ارکان تہجی کے
متعلق
- Syllabication, n.** The formation of syllables :
لفظ کے ارکان - جمادہ تہجی
- Syllable, n.** A letter or combination of letters uttered by one articulation; a part of a word :
لفظ کی حرکت - تہجی کے ارکان - جز
- Syllabus, n.** A compendium; an abstract :
خلاصہ - انتصاب
- Sylogism, n.** An argument stated in a logical form :
قصیدہ - شکل منطقی
- Sylogise, v. i.** To reason by syllogisms :
منطقی سے تقریر کرنا
- Sylph, n.** An imaginary being inhabiting the air; a fairy :
پری - ایسرا
- Sylvan, a.** Relating to woods; wood : -
جنگلی -
دھرتی - صحرائی
- Symbol, n.** Sign; a type :
علامت - نشان - حروف
Syn.—Emblem, figure, type.
- Symbolical, a.** Expressing by signs :
علامتی
- Symbolise, v. t. or i.** To represent by a symbol; to have a resemblance :
مطابقت سے ظاہر کرنا - مشابہ
ہونا - مطابق ہونا
- Symmetrical, a.** Well-proportioned in its parts :
یاقرینتہ - بانڈلیتہ - سقول - خوش اسلوب
- Symmetry, n.** Proportion; harmony of parts :
تناسب اعضا - خوش اندازی - انداز - سقولی
- Sympathetic, a.** Having mutual affection; feeling what another feels :
ہمدردی - غمخوار
دردمندانہ - ہم طبعی کا

Sympathise, v. t. To feel sympathy with another :
درد شریک ہونا - ہمدردی کرنا

Sympathy, n. Fellow feeling ; compassion ; commiseration :
ہمدردی - ہمدردی - دردمندی - دلجوئی - توخم - رحم - قریب

Syn.—Pity, compassion, tenderness.
Ant. Animosity, antagonism, hostility.

Symphony, n. Accordance of sounds ; a musical composition for a full orchestra :
خوش آہنگی - ہم آہنگی - ہم ساز - ساز کا ملان - قرآنہ -

Symptom, n. An indication of disease ; a sign :
آثار مرض - علامت - نشان

Syn.— Mark, note, sign, token.

Synagogue, n. A Jewish assembly or place of worship :
یہودیوں کی مجالس یا عبادت خانہ

Synaxis, n. A meeting of persons :
مجلس - مجالس - سبھا

Synchronal, a. Happening at the same time ; simultaneous :
ہم عہد - ہم عصر - ہم زمانہ

Syncope, v. t. To contract, as a word :
لفظ میں سے ایک یا کئی حرف کا حذف کرنا

Syncope, n. An elision of one or more letters from the middle of a word :
لفظ کے درمیان سے حروف کی حذف

Syndicate, n. Office or jurisdiction of a syndie ; a council or governing body :
مجمع منتظامان

Synecdoche, n. In rhetoric a figure by which the whole is put for a part, or part for the whole :
علم بلاغت میں کل کے ذکر سے جز یا جز کے ذکر سے : کل کی مراد

Synergetic, a. Co operating :
معاون - مددگار

Synod, n. A council ; an ecclesiastical assembly :
مجلس - مجالس - سبھا - مجالس مشائخ

Synonym, n. A word having the same or similar meaning as another :
لفظ ہم معنی مترادف

Synonymous, a. Having the same meaning :
ہم معنی - مترادف

Synopsis, n. A general view ; conspectus ; abstract :
الاصہ - گوشوارہ - خاکہ

Synoptical, a. Giving a general idea of anything :
مبصر - مختصر

Syntactic, a. Pertaining to syntax or the construction of sentences :
نحوی بقاعدہ نحو

Syntax, n. The proper construction of a word in a sentence ; system :
ت ترکیب ظلم - قاعدہ

Synthesis, n. Composition or the putting of two or more things together :
آمیزش - ملاوت - ترکیب

Synthetical, a. Pertaining to synthesis :
تربیتی

Syphillis, n. A venereal disease :
آتشک - گرمی

Syphon, n. A bent tube :
جھکی ہوئی نلی - ٹوٹی

Syringe, n. A pipe for injecting liquids :
پھپھکاری دینا

Syrup, n. The sweet juice of fruit :
شرت

System, n. Regular method or order ; the whole connected scheme ; connection of parts or things :
طریقہ - قاعدہ - دستور - آئین - قول - تدبیر - بندوبست - ترتیب

Sstematic, a. Pertaining to system ; methodical :
ایک قول پر

Systematically, ad. Methodically :
بقاعدہ کے موافق

Systematize, v. t. To reduce to system ; to arrange methodically :
بقاعدہ کرنا - بادستور کرنا

T

Tabard, n. A military garment open at the sides with wide long sleeves :
پیراٹن - بارانی کرتا - نقیب کا لباس

Tabby, a. Brindled ; diversified in colour :
چمکبھرا -
n. A kind of waved silk usually watered ; a cat of a tabby colour :
ابر یا لہردار حریر - چمکبھری بلی

Tabefaction, n. A wasting away ; emaciation :
تفہت - لاغر

Tabernacle, n. A tent ; a temporary habitation ; a place of worship ; an ornamental chest for consecrated vessels :
ڈیرہ - خیمہ - چند روزہ مکان - معبد - مندر - متبرک ظروف کا مکلف صندوق انسان کا قیام کرنا یا ٹھہرنا

Tabid, a. Consumptive ; wasted by disease :
ضرر رساں - بیمہ آری سے کلا ہوا

Tablature, n. A painting on a wall or ceiling : مصوری جز دیوار یا چھت میں کیجھاے

Table, n. A slab ; a tablet ; an article of furniture with a flat surface : میز - تختہ - لوح - فرسٹ - جدول - **To turn the—s,** A schedule ; a drawing ; fare : - ضعیف - ٹوٹنا **To change** the condition of contending parties : غریبوں کو * **To serve—s,** حالت پالت دینا - بدلنا **To set the table in a roar,** * کھانا کھانا **To tabulate ; to supply with food :** * *v. t.* فرسٹ پھانچانا - ذراک جہم پہنچانا

Tableau, n. The representation of some scene by persons grouped in appropriate postures : شبیہ - تصویر

Table-bell, n. A bell rung at the table to summon servants : نوکروں کے بلانے کی گھنٹی

Table-cloth, n. Linen spread on a table : میز کی چادر

Table-land, n. Elevated and level land : اونچی و ہموار زمین

Tablet, n. A small table : تختہ - لوح - ٹکڑا - قرص

Taboo, n. A religious interdict : * مذہبی ممانعت : باز رکھنا * *v. t.* To interdict approach or use : منع کرنا

Tabour, n. A small drum : * ٹھولہ - طبلہ - ڈھولک : *v. t.* To play on the tabour : ڈھولک بجانا

Tabular, a. In the form of a table : میز کی Formed in laminae or scales : * مسطح - چپٹا * Flat : شکل کا جدول میں - نقشہ کی شکل میں - خانہ وار - نقشہ وار

Tabulate, v. t. To reduce to tables : جدول بنانا - نقشہ بنانا

Tacit, a. Implied but not express ; silent : * ضمنی - الفاظ پر مشی نیم ، consent * چپ - خاموش - سانس رخصا - منظور پ ضمنی

Taciturn, a. Habitually silent ; reserved : کم سخن - عادتاً خاموش - پختہ دہن - چپ Syn. Silent, reserved. Ant. - Noisy, loquacious.

Tack, n. A small, short nail : * کیل - کھرنٹی - میخ * A rope : * The course of a ship : * چال کی رسی * *v. t.* Fasten ; stitch : * جھڑ کا راستہ منسلک کرنا - بانڈھنا

Tackle, n. A machine for raising or lowering heavy weights : ہتھی چھروں کے چھڑانے اترانے کے آلہ * A ship's rigging : * جہاز کی رسی * *v. t.* To seize : * گرفت کرنا

Tact, n. Nicety or acuteness of discernment ; a nice perception of what is required by circumstances : شعور - زیرکی - فراست - حالت - موجودگی کی Skill in managing the feelings of persons dealt with : کام پڑے : انکے خیالات میں خاطر اور تعہدات کو مطلع رکھنے کی حکمت

Tactician, n. One versed in tactics : لڑائی کے فن کا ماہر

Tactics, n. pl. The science and art of manœuvring military and naval force : فن صف آرائی

Tactile, a. Capable of being touched : جو چھونے سے متاثر ہوتا ہے - قابل لمس

Taction, n. Touch : چھونا - لمس

Tadpole, n. A young shapeless frog or toad : میٹھی کا بچھڑا

Taffeta, n. A fine smooth stuff of silk : تافتہ - درئی

Tag, n. A metallic point at the end of a string : Any * دھات کی گھنٹی جو رسی کے سرے پر لگی ہو * slight appendage : * دمبالہ * The rabble : بیچارے * *v. t.* To fit with a point or points : to fasten : لگانا - جوڑنا - کنا

Tail, n. The hanging vertebral of animal : دم - * The back, lower, or inferior part of anything : * پچھلا یا نیچے کا حصہ : * *v. t.* To fasten : * *v. t.* To fit with a point or points : to fasten : لگانا - جوڑنا - کنا

Tailor, n. One whose occupation is to cut out and make men's garments : خیاط - درئی - سرجی

Taint, v. t. or i. To stain ; to corrupt : داغ لگانا - * *n.* Corruption ; infection : گندمی - آلودگی - داغ - کورسٹ - بlemish : تدر - دھبہ

Take, v. t. To receive what is offered : * لینا * To lay hold of : * گرفتار کرنا * To seize : * پکڑنا * To accept : * قبول کرنا * To understand : * سمجھنا * To exact : * سبب ہرنا - نتیجہ ہونا * To tend : * چھیننا * To bear : * برداشت کرنا * ضرور ہونا * To swallow : * نگلنا - کھانا - پینا * To fasten on :

To assume : * اختیار کرنا * چکرنا - باندھنا
 To suppose : * فرض کرنا - تپاس کرنا
 To—aback, * پکڑنا * To detect : * فتح کرنا
 to surprise ; to confound : * اوسان خطا کر دینا -
 To—advantage of, * گھبرانا * To—
 use of a favourable opportunity against
 another : * موقع پا کر کسی کے خلاف عمل کرنا
 To—aim, * اچانک گرفتار کرنا : *
 to direct the eye or a weapon to a
 particular object : * نشانہ لگانا * To—
 air, to be divulged or disclosed : * ظاہر
 ہو جانا * To—the air, to make an excursion
 in the open air : * ہوا اٹھانا * To—
 arms or to—up arms, * شروع کرنا
 to commence hostilities : * الٹ کرنا -
 دور کرنا - لیٹانا * To—away, to
 remove : * لے لینا - چھین لینا * To—
 deprive of : * لے لینا - چھین لینا *
 breath, to stop in order to breathe or rest
 after exertion : * دم لینا - ٹھہرنا * To—
 care, to be cautious : * دیکھنا
 رہنا * To—care about : * خبر
 گیری کرنا - پرورش کرنا * To—
 care of, to care for : * To be solicitous
 for : * پورا کرنا * To oversee ; to
 superintend : * نظر رکھنا - دیکھنا
 رکھنا * To take charge of : * قبضہ
 کرنا - اختیار میں لانا * To—
 down, to humble ; to abase : * خوار
 کرنا * To pull to pieces : * گراتا
 کرنا * To write down : * اثر
 پڑھنا ہونا - کارگر * To—effect, to
 produce the desired effect : * جھگڑنا
 لگانا * To—fire, to become excited : *
 ہرنا * To—the field, to begin a
 campaign : * میدان پکڑنا - لڑائی
 شروع کرنا * To—heart, to become
 courageous : * ہمت کرنا * To—
 to heart, to be much affected by : * دل
 میں لانا * To—heed, to be cautious :
 * جوش میں آنا * To—hold of, to seize :
 * ہوشیار ہونا * To—in, to inclose : *
 گھیرنا * To admit : * قبول
 کرنا * To—lessen : * شامل
 رکھنا * To comprise : * کرنا
 کرنا * To contract : * گھینچنا
 * To cheat : * ہاتھ میں
 ہاتھ میں * To—in hand, to undertake :
 * دینا * To—ill, to be offended : *
 لڑنا * To—notice : * برا
 ماننا - ناراض * To—leave, *
 رخصت ہونا * To—notice of, to regard
 or observe with attention : * غور
 کرنا * To—oath, to swear with
 solemnity : * حلف اٹھانا * To—
 off, to remove : * کٹ
 کرنا - ہٹانا * To cut off :

To destroy : * الٹ کرنا * To withdraw :
 * ہٹانا * To—swallow : * ہلاک
 کرنا * To—out, to remove : * دور
 کرنا * To deduct : * گھٹانا
 * To draw out : * کھینچنا * To—
 pains, to use all one's skill, care and
 the like : * کھینچنا * To—part in,
 to share : * توشش کرنا - جان
 لڑنا * To—one's part, to espouse
 one's cause : * شریک ہونا * To—
 place, to happen : * طرنداری یا
 حمایت کرنا * To—root, to become
 firmly fixed : * واقع ہونا * To—
 time, to act without haste or hurry :
 * جز پکڑنا - کڑ جانا * To—
 time by the forelock, to make the
 best of one's time : * جلدی نہ
 سرچ کر * To—time by the forelock,
 to make the best of one's time : *
 موقع کو ہاتھ سے * To—raise : *
 نہ جانے دینا * To—up, to lift : *
 اٹھانا * To begin where another
 has left off : * لے لینا * To—
 seize ; to arrest : * رہنا -
 ہٹنا * To occupy : * پکڑنا *
 To adopt : * گرفتار کرنا * To—
 wind, to become public : * مشہور
 کرنا * To—wing, to fly away : *
 ہوجانا - پھیل جانا
 اڑ جانا

Take, v. i. To catch ; to please ; to have recourse
 to : * پکڑنا - خوش کرنا - راستہ
 لینا - جانا * To—after, to imitate ;
 to follow : * تقلید کرنا * To—
 from, to resemble : * مشابہ ہونا *
 To—on, to be violently affected ; to
 grieve ; to fret : * گھٹنا - کم
 کرنا * To be—en apack, *
 زنج کرنا - گھبرانا * To—
 advantage of, * موقع پانا *
 To—head, * زرگردان ہونا * To—
 one's own course, * اپنی مرضی
 کرنا * To take one's self
 up, * اپنے کو روکنا - دانستہ
 رک جانا * To take to the road,
 * رہبری کرنا * To—up the
 gauntlet, * بیڑا اٹھانا

Talking, a. Alluring ; attracting : *
 دلنویس - مرہانی

Talc, n. A soft magnesian mineral of a
 shining lustre : * ابرن

Tale, n. A narrative ; a story ;
 information ; reckoning : * داستان
 - حکایت - قصہ - کہانی - اطلاع -
 خبر - گتھی

Talebearer, n. An officious informer : *
 نماز - چغاندور

Talent, n. Weight ; faculty ;
 ability ; capacity ; natural gift ;
 skill : * وزن - قابیلیت - لیاقت

استعداد - خاص وصف خداداد - جوہر - کن - ہوشیاری
Tale-teller, n. One who relates tales : - قصہ گو -
 راوی - کہانی کہنے والا
Talion, n. The law of retaliation : مکافات یا انتقام کا
 آئین
Talisman, n. A magical charm engraved on
 metal or stone ; an amulet : - طلسم - سحر - جامہ -
 تصویر
Talk, v. i. To converse familiarly ; to prattle ; to
 reason : - بات چیت کرنا - گفتگو کرنا - بک بک کرنا -
 * بولنا - کہنا : * **v. t.** To speak ; to utter :
 * **To—**one down, to silence one with inces-
 sant talk : * کسی کو باتوں سے خاموش کر دینا :
 * **To—**one out of, to dissuade one from : * باز رکھنا :
To—over, to gain over by persuasion :
 * **To—**over, to talk about ; to discuss : *
 * **To—**away, کان ٹھوڑنا - * ذکر کرنا - بحث کرنا -
 * **To—to,** کان ٹھوڑنا - * باتوں میں وقت گزارنا
n. * **To—at random,** * پے تکی کہنا * سمجھانا
 گفتگو - Familiar converse ; mutual discourse :
 افواہ - شہرہ : * Rumour : * بول چال - بات چیت
Tall, a. High in stature ; lofty ; eminent : دراز
 قد - آداور - لمبا - بلند - اعلیٰ
Tallow, n. The suet or fat of animals of the
 sheep and ox kind : * **Tallow** * شہم - چربی
face, a pale-faced person : مریض صورت - زرد رو
 چربی سے : * **v. t.** To grease with tallow :
 چکنا کرنا
Tallow-chandler, n. One who makes chandles :
 چربی کی بتی بنانے والا
Tallow faced, a. Having a sickly complexion :
 بیمار کی سی شکل کا - زرد رو
Tally, n. A notched stick for keeping accounts :
 * **A** * لکڑی جسپر شمار کے لئے دندائے کھدے ہوتے ہیں
 match : * **v. t. or i.** To score with notches :
 * **To make to correspond ; to** * لکیر سے نشان کرنا
 be fitted ; to suit : مطابق کرنا - ملانا - موافق ہونا
Talmud, n. A book of Hebrew traditions and
 comments : یہودیوں کے قواعد و روایات مذہبی کی
 کتاب - تالمود
Talon, n. The claw of a bird of prey : شکاری پرند
 کا پنجہ

Tamble, a. That may be tamed or subdued :
 ہجانے کے لائق انس پذیر
Tamarind, n. An Indian tree and its fruit :
 امامی - تمرہندی
Tambour, n. A small flat drum : * **A**
 kind of embroidery : * **A** * طنبور
 زردوزی کی گل کاری
Tambourine, n. A jingling instrument for
 procession : * **A** * تہا تہی - رباب
Tame, a. Not wild ; domestic ; gentle ; spiritless :
 * **A** * پولا ہوا - خانگی - گھوڑو - سیدھا - پست ہمت - بے دل
v. t. To domesticate ; to subdue : * **A** *
 * **A** * دبان - فرو کرنا - مطیع کرنا
Tamper, v. i. To meddle with ; to work or
 plot privately ; to try experiments : دست
 چھیننا - * **A** * اندازے کرنا - خفیہ کام کرنا - سازش کرنا - آزمانا
 حرف بدلنا - تعریف
To—with a document, * **A** * گواہ کو اپنے
 طرف کر لینا یا ملا لینا
To—with a person, * **A** * ناصد کرنا
Tampion, n. The stopper of a cannon : توپ کا
 سفیا یا ڈاٹ
Tan, v. t. or i. To convert into leather as skin ;
 to imbrown ; to become tanned : چمڑے کو کھانا -
n. The bark * **A** * کھال کو پکانا - بھورا کرنا - کھجانا
 of the oak or of other tree : درخت بارت یا اور :
 کسی درخت کی چھال
Tandem, n. A two-wheeled pleasure-carriage,
 drawn by two horses, one before the other :
 ٹیم گازی
Tang, n. A strong or offensive taste : خراب ذائقہ
Tangency, n. A contract or touching : لمس -
 چھوت
Tangent, n. A straight line touching a curve :
 خط مماس - چھوٹی ہوئی لکیر
Tangibility, n. The quality of being tangible :
 محسوسیت - لمس پذیر
Tangible, n. Perceptible by the touch ; palpable :
 محسوس باللمس - جو چھونے سے معلوم ہو
Tangle, v. t. To unite confusedly ; to entrap :
 * **n.** A knot of things inter-
 woven : * **A** * لٹ - الجھن - گالچھت
Tank, n. A large basin, cistern or reservoir ; a
 pond : حوض - پڑکھر - ڈالاب

Tankard, n. A large drinking vessel with a cover :
سرپوش دار آبخوره یا پیدائے

Fanner, n. One who fans hides :
دباغ - چمار - کھٹیک

Fannery, n. The house and apparatus for tanning :
چمڑا رنگنے یا کھانے کا مکان اور آلات

Tantalisation, n. The act of tantalising :
قرساز - لالچاز

Tantalise, v. t. To tease or torment with false hopes :
قرسانا - لالچانا

Tantamount, a. Equivalent in value or signification ; equal :
ہم پلے مساوی - برابر

Tantrum, n. A burst of ill-humour ; a display of temper :
بد مزاجی - چڑھن - بغاوتی - صورت نشرے بازی

Tap, v. t. To touch slightly ; to broach ; to bore :
v. i. To knock gently :
تھپتھپانا - ٹکانا - تھپتھپانا
تھپتھپانا - n. A gentle blow :
کھٹ * کھٹ کھٹانا
بیشہ سے شراب نکالنے کی ٹاپ * A pipe for drawing liquor

Tape, n. A narrow fillet or band of linen :
پٹی - نیتہ

Taper, n. A small wax candle ; light of a candle :
a. Becoming small towards the end :
نوکیلا - گاڑم

Taper, v. t. To become gradually thinner towards the end :
اوپر کی طرف پتلا ہوتا جانا - گاڑم ہونا

Tapestry, n. Cloth woven with figures :
کپڑا جو تصویروں وغیرہ سے منقش ہو - مشجر

Tapis, n. Carpeting :
On the —, under discussion :
زیر بحث زیر تجویز

Tapster, n. One who draws ale or other liquors :
شراب کھینچنے والا

Tar, n. A resinous substance of a dark colour obtained from pine and fir-tree :
دال - گندہ
قیر یا دال :
v. t. To smear with tar :
بروزہ - قیر لگانا

Tardy, a. Slow ; sluggish ; dilatory :
آہستہ - سست - کالھ - دھیمہ - ڈھاز

Tare, n. A weed :
A vetch :
An allowance from the gross weight of goods :
دھوا - کردا

Target, n. A kind of small shield of wood :
نشانیہ * A mark to be shot at :
نشانہ

Tariff, n. A list or table of duties or customs to be paid on goods imported or exported :
مال کے محصول کی فہرست

Tarnish, v. t. or i. To stain ; to soil ; to lose lustre :
آبزر میں داغ لگانا - آلودہ کرنا - میلا کرنا - بے رونق ہونا - ڈھرنڈلا ہونا

Tarpaulin, n. A piece of canvas covered with tar to render it waterproof :
تورپال

Tarriance, n. Delay ; stay :
دیر - عرصہ - قیام

Tarry, v. t. To stay ; to wait ; to lodge ; to delay :
تھپرتنا - انتظار کرنا - قیام کرنا - رھنا - دیر کرنا
Syn.—A bide, continue, lodge.

—a. Consisting of or like tar :
قیام - توقف - دیر * n. Stay ; stop ; delay :
دیر * دھرتنا سا

Tart, a. Acidulous ; keen ; severe :
تدش - کھٹا
n. A small open pie made of fruit :
ٹرننگ چڑا - میزے کا سوسہ

Tartan, n. A fine, checked, worsted cloth of various patterns :
ٹوٹی کپڑا چار خانہ دار

Tartar, n. An acid salt deposited from wine :
An incrustation on the teeth :
A native of Tartary :
تند مزاج * An irritable person :
تارتاری

To catch a —, to seize an adversary who proves too strong for his assailant :
اپنے سے زبردست پر حملہ کرنا - شیر کا منہ چومنا

Tartish, a. Somewhat tart :
تچھہ ترش یا تیز

Task, n. Business or duty imposed by another ; lesson ; labour :
مہنت - سبق - مشق
Syn. - Labour, work, drudgery, study.

—v. t. To impose a task upon ; to require :
کام کا
To—a person with anything, جو آپ طلب کرنا

Tassel, n. An ornamental bunch of silk :
چھپا

Taste, v. t. or i. To perceive by the tongue ; to partake of ; to experience :
ذائقہ لینا - سودا لینا -
Sense * ذائقہ - سروا * چکھنا - آزمانا
Discernment :
قوت ذائقہ

Experiment : * شوق - پسند : Choice * * حلیقہ
آزمایش - بانگی - نمونہ

Syn.—Savour, relish, flavour.

Tasteless, a. Having no taste ; insipid : - بے لنت
بے سردا - سیٹھا

Tasty, a. Having a good taste ; nice : - مزہ دار -
خوش ذائقہ - لذیذ

Tatter, v. t. To rend ; to tear : چیر ڈالنا - پھاڑ
* and torn, ن. A rag or a
part torn and hanging to the thing : - گودڑا -
چھوڑا - دھبی - ڈکڑا

Rattle, v. i. To prate ; to gossip : - گپ مارنا -
گپ - گپ * Idle talk ; gossip : گپ شپ کرنا

Tattoo, n. A beat of drums at night for giving
notice to soldiers to repair to their quarters :
ٹڈنا - : Figures stained on the skin * طبل - نقارہ
ٹوڈنیکا نشان

Tattoo, v. t. To puncture the skin and stain the
spots in figures : گڈنا لگانا - جسم کو گودنا

Taunt, a. Very high or tall, as the mast of a
ship : * بہت اونچا یا لٹیا مشہ مستول جہاز کے :
Bitter reproach ; insulting words ; scoff : - طعنہ -
ملامت - طنز - تشنیع - طعنہ زنی - ارازہ تراضح - برہی
* v. z. To reproach ; to upbraid ; to revile :
طعنہ زنی کرنا - ملامت کرنا - برا بھلا کہنا

Syn.—Revile, insult, upbraid.

Ant.—Compliment, precise.

Taurus, n. The bull : * سائڈ ٹور : One of the twelve
signs of the zodiac : برج ٹور - برج کھہہ راس

Taut, a. Tight ; fully stretched or extended :
چست - تنگ - خراب تنہا ہوا یا پھیلا ہوا

Tautological, a. Repeating the same thing :
ایک ہی بات کو بار بار دہرانا - تکرار کلام

Tautology, n. A repetition of the same mean-
ing in different words : ایک معنی کو مختلف لفظوں
میں بیان کرنا

Tavern, n. A public house where wines or other
liquors are sold : بے کدہ - میخانہ - شراب خانہ

Taw, n. A marble to play with ; a game at
marbles : اٹا - گولی - اٹتے کا کھیل

Tawdry, a. Tinsel ; gaudy without real beauty :
بوزکدار - نہایتی - زرقعی برقی

Tawny, a. Of a yellowish brown colour : گندم
رنگ - بیورا

Tax, n. A rate or duty levied by Government on
income or property : * v. t. * خراج - محصول - دس
To lay a tax : * محصول لگانا دس لگانا :
To charge ; to censure : * الزام رکھنا

Taxation, n. Act of levying a tax or of imposing
taxes ; sum imposed : * محصول - محصول
بندی - تعداد محصول

Taxidermy, n. The art of preparing and
preserving the skins of animals so as to retain
their natural appearance : * ٹورونکی ہول بناکر
انکو پھر اصلی شکل میں رکھنے کا ہنر

Tea, n. The leaves of a shrub : * چائے -
چائے دان

Teach, v. t. To instruct ; to educate ; to inform ;
to tell : * ہدایت کرنا - تربیت کرنا - تعلیم دینا - اطلاع
دینا - بتلانا - سمجھانا

Syn.—Instruct, tell, guide, admonish.

Ant.—Mislead, misguide.

Teachable, a. Docile : * تربیت پذیر - تعلیم پذیر

Teacher, n. An instructor ; a tutor : - مدرس -
معلم - استاد

Teak, n. An East Indian tree ; also the timber
of the tree : ساگون - ساگون کی لکڑی

Teal, n. A web-footed water-fowl : - مرغابی -
پن ککڑی

Team, n. Two or more horses or other beasts
harnessed together to the same vehicle for
drawing : دو یا کئی جانور جو ایک ساتھ چرتے
گروہ - منڈلی : * A company : چریں - چرت

Teamster, n. One who drives a team : جو
شخص کئی ایک ساتھ چرتے ہوئے گھوڑوں یا جانوروں
کو ہانکتا

Tear, n. The water which flows from the eyes :
* v. t. or i. To tend ; to lacerate ;
to separate by force ; to pull with violence ; to
rage : * پھاڑنا - چاک کرنا - پیرنا - جدا کرنا - کوسوٹنا -
* To—the hair, to pull the hair in
violent or distracted manner : * سر کے بال
ٹوڑنا :
* To—up, to remove from a fixed state by
violence : اٹھانا

Tear, n. A rent ; a fissure : دراز - شگاف - دراز *
Wear and—, deterioration by long or frequent use : خرابی جو کہتے ہوئے یا کثرت استعمال سے : واقع ہر

Tearful, a. Full of tears ; weeping : اشک آردہ - آنسو سے بھرا ہوا - آبدیدہ - اشک بار - گردیاں

Tease, v. t. To comb or cord : * کنکھی کرنا
To scratch : کورچنا : دھننا *
To annoy : ق کرنا

Teasel, n. A plant which bears large burs or heads used in dressing cloth : این تسم کا چھوٹا : درات

Teat, n. The dug of a beast ; nipple : تین - پستان : چھپی

Technical, a. Pertaining to art, science or to a particular profession : * کسی فن یا ہنر کے متعلق : اصطلاحی
Noting terms or phrase used in a limited or precise signification :

Technicals, n. pl. Technical terms : علم : یا فن کے خاص یا اصطلاحی الفاظ - اصطلاحات

Technicality, n. State or quality of being technical : اصطلاح

Technology, n. A treatise on the useful arts and science ; a collection and explanation of terms peculiar to an art or science : فنون اور ہنروں کا رسالہ - شرح اصطلاحات

Techy, a. Peevish ; fretful : تندخو - چڑچڑا - بد مزاج - زود رنج - تنک مزاج

Tedious, a. Wearisome ; slow : اروتانے والا - گراں - بھاری - سست - کھل - ڈھیل

Tediousness, n. Tiresomeness ; wearisomeness : ڈھیل پن - دشواری

Teem, v. t. or i. To produce ; to bring forth ; to be pregnant ; to be prolific : پیدا کرنا - جتنا - حاملہ ہونا - بھرا ہونا - ثمردار ہونا

Teens, n. pl. The years of one's age having the termination teen : 13 سے 19 برس تک کے عمر

Teeth, n. pl. Of tooth : دانت *
To one's—, directly to one's face : سامنے کے سامنے *
In the—of, in direct opposition to : خلاف *
To show the—, to threaten (like a dog) : دانت دکھانا -
To cast in one's—, to retort reproachfully : * دندان شکن یا منہ پر تیز جواب دینا *
To meet full in the—, ٹھوکر بھینسنا

Teeth, v. t. To breed teeth : دانت نکلنا

Teething, n. The growth of teeth in the young ; dentition : دانت چمنا - دانت نکلنا

Teetotalism, n. Principle or practice of strictest abstinence from intoxicating liquors : شراب نوشی سے بالکل پرہیز

Teetotum, n. A child's toy somewhat resembling a top : پھرتی - چکائی

Tegument, n. A cover or covering : پوشش - اسلاف

Telegram, n. A telegraphic message or despatch : تار کی خبر

Telegraph, n. An apparatus for transmitting intelligence by means of electricity : تار برقی
* v. t. To convey or announce by telegraph : تار کے ذریعہ سے خبر پہنچانا

Telegraphic, a. Relating to the telegraph : متعلق تار برقی

Telephone, n. An apparatus for transmitting sound to a distance : آواز کے دور پہنچانے کا آلہ

Telescope, n. An optical instrument employed in viewing distant object : دوربین

Tell, v. t. or i. To number ; to recite ; to give an account of ; to report ; to inform ; to make known ; to teach ; to find out : گنا - شمار کرنا - بیان کرنا - سنا - اطلاع دینا - ظاہر کرنا - مشہور کرنا -

To—against, to have effect against اثر کرنا : *
* **To—by, to judge from** : معلوم کرنا

* **To—for, to count in favour of** : کسی کے حق میں فائدہ مند ہونا

To—off, to count : تقسیم : *
* **To—off-hand, to relate without referring to memory** : فوراً بتلا دینا - بھت سے کہنا

* **—on or upon, to have effect upon** : اثر کرنا

To—well, to have a good effect : اچھا اثر

To—the clock to any business, سب بات میں سامی بھرنا - جو کہلانا وہ کہنا

Teller, n. A bank officer who receives and pays money on cheques : بینک کا افسر جو چک یا ہنقی کا روپیہ دیتا ہے

Tell-tale, n. An officious informer : چغلتزر - فغاز

Tellurik, a. Pertaining to earth : متعلق زمین

Temerarious, a. Careless ; heedless ; rash : بے پرواہ - بے باک - اوجھ

Temerity, n. Rashness ; boldness ; heedlessness :
پے باکی - پے تدبیری - جرات - نقرہ پن - پے احتیاطی

Temper, n. Constitution of the mind ; due mixture of different qualities ; moderation ; passion ; irritation :
مزاج - خصلت - طبیعت - درسط - مزاج - اعتدال - جوش - خفگی - دھیرج

Temper, v. t. To mingle in due proportion ; to modify ; to soften :
* آپ سے باہر ہونا، * To lose one's — * ملائم کرنا
* To put one out of —، * آگ بیروا کرنا
Syn — Soften, mollify, assuage.

Temperament, n. Constitution ; natural disposition :
طبیعت - طینت - مزاج - خصلت

Temperance, n. Moderation in all things ; sobriety ; abstinence :
اعتدال - پرہیزگاری - پرہیز - میانہ

Temperate, a. Moderate ; sober ; calm :
معتدل - متوسطہ درجے کا - پرہیزگار - دھیمہ - سیاروت

Temperature, n. Condition with respect to heat or cold ; degree of heat or cold :
گرمی اور - سردی کی کیفیت یا درجہ - موسم

Tempest, n. A storm of extreme violence ; any violent tumult or commotion :
طوفان - آندھی - ہنگامہ - فساد

Tempestuous, a. Stormy ; violent ; turbulent :
طوفانی - تند - تیز - ہنگامہ پرداز

Templar, n. One of a religious military order established at Jerusalem :
بیت المقدس کے زلیوہوں کی * A student of law in the temple :
قانون کا مطالعہ کرنے والا

Temple, n. An edifice in honour of some deity or for his worship ; a church :
مندر - منہ - شرالہ - * The first portion of the head between the forehead and ear :
کنپٹی

Temporal, a. Pertaining to the time, to the present life or this world :
وقت کا - فانی - دنیوی

Temporality, n. The state or quality of being temporary ; revenue of a churchman :
فنا - عارضی - ہیں - گرجا والیکہی آمدنی

Temporarily, ad. For a short time only :
چند روزہ

Temporary, a. Lasting for a time only ; transient :
عارضی - چند روزہ فانی

Temporise, v. t. To comply with the time on occasion ; to humour ; to procrastinate :
مانہ - آڑی کرنا - موقع یا وقت کے موافق عمل کرنا - دنیا - آڑی کرنا - ناز و داری کرنا - ٹال مٹول کرنا

Tempt, v. t. To entice ; to attempt ; to put to trial :
ورغلائنا - ترغیب دینا - کوشش کرنا - ارادہ کرنا - آزمائنا

Syn.—Entice, allure, attract.
Ant.—Dissuade, deter, repel.

Temptation, n. Enticement to evil ; allurements ; trial :
توغیب - لوبہ - لالچ - آزمائش

Tempter, n. One who tempts ; satan :
ورغلائنے والا - شیطان

Tempting, a. Attractive :
پرکاشنے والا - دلربا

Tempress, n. A woman who entices :
پرکاشنے والی - پھلانے والی

Ten, a. A twice five ; nine and one :
دس - دہ

Tenable, a. That may be held, maintained or defended :
مستحکم - استوار - ممکن الثبوت

Tenacious, a. Holding fast ; retentive ; adhesive ; stubborn :
مستحکم - مضبوط - استوار - قوی - لٹلا - چھچھڑ - خردہ راے - سرکش

Tenacity, n. Quality of being tenacious :
سختی - قوت حافظہ - of memory

Tenancy, n. Holding tenements belonging to another ; a tenure :
کرایہ داری - رعیتی - قبضہ - داخل

Tenant, n. One who holds property of another :
* v. t. To hold or possess as a tenant :
رعیتی قبضہ رکھنا - آسامی - ہرنا - کرایہ لینا

Tenantry, n. The body of tenants on a state :
آسامی - رعایا

Tench, n. A pond fish :
ایک قسم کی قلاب کی مچھلی

Tend, v. t. or i. To accompany ; to guard ; to attend to ; to move in a certain direction ; to be inclined ; to contribute :
ساتھ رہنا - خیرگیروی - کرنا - نگران حال رہنا - متوجہ ہونا - کسی طرف کو حرکت کرنا - جھکنا - مائل ہونا - مدد کرنا

Tendency, n. Inclination ; drift ; aim :
میل - رغبت - فرض - مائل

Tender, n. A small vessel employed to attend a large one : * چھوٹی کشتی جو بڑی کے ساتھ رہتی ہے : A car with fuel and water attached to a locomotive : * انجن کے کولے اور پانی کی گاڑی : An offer of money or of service ; the thing offered ; a written offer to execute certain work, or supply specific articles at a certain rate : - نذر - تواضع - بھیت - درخواست - نذر

Tender, a. Compassionate ; soft ; delicate ; easily excited to pity ; weak ; dear : - نرم - ملائم - نازک - پز رحم - کمزور - بیمار

Tender, v. t. To offer in words ; to present for acceptance ; to esteem : بھیت - نذر کرنا - پیش کرنا - وقعت کرنا

Tendinous, a. Sinewy : نیلا - عسبادار - پتے دار

Tendon, n. A ligature attaching muscle to a bone : پٹھا - نس - رگ

Tendril, n. A spiral shoot of a plant that winds round another body for support : بیل - لٹا

Tenebrious, a. Dark ; gloomy : اندھیرا - تاریک - تیرہ

Tenebrosity, n. Darkness ; gloom : تاریکی - اندھیرا

Tenement, n. A dwelling house ; anything that can be held by a tenant : مکان - گھر - جاہداد - مقبوضہ

Tenet, n. Any opinion, principle, dogma or doctrine, which a person holds as true : - رائے - اصول - عقیدہ - مسالہ - قول

Tenfold, a. Ten times more : دہ چند - دس گنا

Tennis, n. A play in which a ball is driven continually, or kept in motion by rackets : گیند کا ایک کھیل - ٹینس

Tenon, n. That part of timber which enters a mortise : چوڑی کی چول - چول

Tenor, n. Continuity of state : * Drift : * سلسلہ : * A * مطلب - فرض : * Purport : * طریقہ - طرز - روش مرد کا : one who sings tenor : اونچا سز - اونچے سز سے گائی والا

Tense, n. A modification of a verb : * زمانہ : * کھینچا ہوا - کڑا - تنا : * Stretched ; rigid ; tight : ہوا

Tension, n. The state of being stretched or strained ; act of stretching : کھینچاؤ - تناؤ - پھیلاؤ

Tent, n. A pavilion or portable lodge of canvas or other coarse cloth : * خیمہ - ڈیرہ : * v. t. or i. To pitch tents upon ; to dwell in a tent : خیمہ نصب کرنا - خیمہ میں رہنا

Tentative, a. Trying ; experimental : آزمائش کے طور پر

Tenter, n. A machine for stretching cloth by hooks : * کپڑے کے تاننے کا آلہ : * To be on the— تکلیف یا پے نواری کی حالت میں ہونا - امید و بیم کی حالت میں ہونا

Tenter, v. t. To stretch on hooks : آٹکڑے پر تاننا

Tenth, a. Next in order after the ninth : - دہم - دسواں

Tenth, n. One of ten equal parts ; title : دہم حصہ - دانش

Tenuity, n. Smallness ; rarity ; thinness : - کمی - پتلا پن - رقت

Tenure, n. A holding of lands or tenements ; the manner in which lands are held : - داخل قبضہ - * Life— قبضہ - مالکیت - حقیقت - نوعیت * پتہ استمراری - * in perpetuity, بیجا چارہ - * in severalty, چارہ

Tepefy, v. t. To warm in a small degree : نیم گرم کرنا - گنگنا کرنا

Tepid, a. Moderately warm ; lukewarm : نیم گرم - شیر گرم - گنگنا

Teraphim, n. pl. Household images ; tutelary or domestic divinities : گھر کی مررتیں - گھر کے دیوتا

Terebinth, n. A tree or shrub yielding a limpid balsamic resin : کھدہ دروزہ یا تاربین کا درخت

Terebrate, v. t. To bore ; to perforate : * چھیدنا

Tergiversation, n. A shifting ; subterfuge ; evasion : بھانہ - حیلہ حوالہ - قال مٹول

Term, n. A boundary or limit ; any limited time : * A condition : * شرط : * An expression : * لفظ : * To bring to—, * عہد کر لینا * Come to—, * مطیع کر لینا

To be on good - s with, دوستی رکھنا * **The expiration of a—,** ميعاد - انقضاء * *v. t.* **To name ; to call :** نام رکھنا - کہنا - نام رکھنا

Termagancy, n. Turbulence : دنگا - فساد - ہنگامہ

Termagant, a. Turbulent ; boisterous ; scolding : اردھعی - جھگڑالو

Termagant, n. A scolding, brawling woman : لڑائی عورت

Terminable, a. Limitable : - حد معین کرنے کے لائق - تمام ہونے کے قابل - انتہا پذیر

Terminate, v. t. or i. To limit ; to put an end to ; to conclude : حد باندھنا - محدود کرنا - ختم کرنا - پا ہرنا

Termination, n. Limit ; bound ; end ; conclusion : حد - چھوڑ - انتہا - انت - انجام - نتیجہ

Terminology, n. A treatise on term : رسالہ اصطلاحات

Terminus, n. A boundary ; a limit, as either end of a railway : حد - ریل کی سڑک کی انتہا

tern, n. A long-wingsd aquatic fowl : ایک آبی چڑیا

Ternary, n. Consisting of threes : گنگنا * *n.* The number three : تری - تینا

Terrace, n. A raised platform of earth ; a balcony or open gallery ; a flat roof : چبوترہ - بالاخانہ - پر آمدہ - پھلی ہوئی چھت

Terrapin, n. A species of tortoise : ایک قسم کا کھورا

Terraqueous, a. Consisting of land and water : پانی اور مٹی کا

Terrene, n. Earthy ; terrestrial : خاکی - ارضی

Terrestrial, a. Pertaining to the earth ; sub-lunary : آرضی - خاکی - فانی

Terrible, a. Horrible ; frightful ; shocking : ہولناکی - مہذب - قرارا - دہشت انگیز
Syn.—Fearful, frightful, awful.
Ant.—Fair, pleasing, attractive.

Terrier, n. A small hunting dog : ایک چھوٹا شکاری کتا

Terrify, v. t. To alarm or shock with fear ; to frighten : قرانا - دہشت دلانا - خوف دلانا

Territorial, a. Pertaining to territory or land : ملکی - ارضی

Territory, n. Land ; country ; dominion ; possession : زمین - ملک - دیس - عملداری - قبضہ

Terror, n. Great fear ; alarm ; object of fear : * **Reign of—,** خوف - دہشت - ڈر - ڈرٹی ہیبت ناک شہ
King of—, موت
Syn.—Alarm, fright, dread.
Ant. Confidence, faith.

Terrorism, n. State of terror : * حالت دہشت
Government by terror : محض حکومت

Terse, a. Smooth ; neat ; elegant : - صاف - نیس - لطیف

Terseness, n. Neatness, as of a style : عبادت کی تسکینی کلم - of expression, * شستگی یا لطافت

Tertian, a. Occurring every third day : سہ روزہ - تیسرے دن کا تجارتی

Tertiary, a. Of the third formation, order or rank : سوم - تیسرا

Tesselated, a. Formed in little squares or mosaic work ; checkered : خانہ دار - چوپڑدار

Test, n. A cupet in which metals are melted for trial and refinement : * کرتبالی - گھریا
Critical trial ; a standard ; judgment : جانچ - آزمائش - معک - معیار - تمیز

Test, v. t. To put to the proof ; to examine critically ; to examine by the application of some reagent ; to refine : **Test, n.** A will ; one of the two general divisions of the Scriptures : وصیت نامہ - انجیل کا عہدنامہ
سردھنا - آزمانا - جانچنا - وصیتی - وصیت نامہ کے متعلق
کیمیائی تجربہ سے کسی شے کی موجودگی دریافت کرنا - صاف کرنا - خالص کرنا

Testamentary, a. Pertaining to a will or testament : حیر - وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ گیا - باوصیت

Testate, a. Having made and left a will : حیر - وصیت نامہ لکھ کر چھوڑ گیا - باوصیت

Testator, n. One who makes or leaves a will at death : وصیت کنندہ - موصی

Testatrix, n. A woman who makes and leaves a will at death : وصیت کرنے والی - زن وصیت کنندہ

Tester, n. The top covering of a bed ; a flat blanket : پلنگ کی چھتری - مہرین

Testicle, n. One of the glands which secretes the seminal fluid in males : بیضہ - فرطہ - خصیہ

Testification, n. Act of testifying : گواہی - شہادت

Testificator, } n. One who gives testimony or
Testifier, } bears witness : گواہ - شاہد - مصدق

Testify, v. t. or i. To bear witness to ; to give testimony : گواہی دینا - شہادت دینا

Testimonial, n. A certificate of character : سند
(ٹیک نامی لیانٹ وغیرہ کی) * Something presented as a token of respect : پیش کش - نذر

Testimony, n. Evidence ; confirmation ; a public declaration : شہادت - تصدیق - اظہار - بیان
شہادت از روئے ایمان

Syn. - Evidence, proof.

Ant. - Refutation, disproof.

Testy, a. Prouful ; peevish : چڑچڑا - تنک مزاج

Tete-a-tete, (tai-a-tai) n. A private conference or conversation ; a familiar interview : پوشیدہ گفتگو - دو بندہ باتیں - بے تکلفی کی ملاقات

Tether, n. A rope or chain to confine a beast for feeding within certain limits : پالنگ * v. t. To confine, as a beast with a rope or chain : پگھا بانڈھنا

Tetragon, n. A plain figure having four angles : چوکور شدہ - ذر اربعہ الاضلاع

Tetrameter, n. A verse consisting of four measures : چار رکن کا شعر

Tetrarch, n. A Roman governor of the fourth part of a province : صوبہ کے چوتھے حصہ کا رومی حاکم

Tetter, n. A seale ; a scurf ; a ring-worm : خارش - کھاج - داد

Tewel, n. A pipe or funnel, as for smoke ; an iron pipe in a forge to receive the pipe of a bellows : دھنرالا - بیٹی کی ٹی جس میں دھراں نکلتے کی ٹی رکھی جاتی ہے

Text, n. The original words of an author in distinction from a paraphrase ; a verse or passage of Scripture quoted as the subject of a discourse : اصل - متن - کتاب مقدس کا کوئی قول : جس پر وعظ دیا جائے

Text-book, n. A book of general principles for students : درسی کتاب - مستند کتاب

Textile, a. Woven or capable of being woven : بافتہ - بننے کے قابل

Texture, n. Act of weaving ; that which is woven ; web ; combination of parts : بناؤت - بانٹ - پارچہ - جالا - ساخت - قماش - ترکیب

Thaler, n. A German coin, worth about 3s. : جرمن کا ایک سکہ قریب تین شلنگ کے

Than, conj. A particle expressing comparison : بہ نسبت - سے

Thane, n. A title of honour among the Anglo-Saxons ; a landed proprietor : ریاست کا ایک معزز لقب

Thank, v. t. To express gratitude for a favour : اپنے تئیں نصروار تھراو - اپنا ہی قصور
Thank me no thanks, * شکرگذاری کرنا - شکر کرنا
Thank yourself, * اپنے تئیں نصروار تھراو - اپنا ہی قصور
Thank, n. Expression of gratitude : شکرگذاری - شکر

Thankful, a. Returning thanks ; grateful : شکرگزار - احسانمند

Thankfulness, n. Gratitude : شکرگذاری - احسانمندی

Thankless, a. Ungrateful ; not likely to evoke gratitude or be appreciated : ناشکرہ - ناشکرگزار
A-task, * ایسا کام جسکی قدر ہونے کا امکان نہیں

Thanksgiving, n. Act of giving thanks for favours or mercies ; شکر گزاری - احسانمندی

Thank-worthy, a. Deserving thanks ; meritorious ; شکر کے لائق - واجب الشکر - قابل تحسین - واجب الاجر

That, a. pron. A word used as pointing to a particular person or thing : جو - اوس - وہ * **con.** Noting cause or consequence : تاکہ - اس واسطے - کیونکہ
In—, because ; for, so far ; * کیونکہ
With a view—, for the purpose of ; * تاکہ
That is, That is to say, یعنی - الغرض

Thatch, n. Straw or other substance for covering a roof : پھوس - کھریا یا اور شے جس سے چھت چھائی : چھانا - چھانوںی کرنا
v. t. To cover with straw : چھانوںی کرنا

Thaw, v. t. or i. To dissolve ; to melt ; ٹکھلنا - ٹکھلانا
 * **n.** The melting of ice or snow : گلی - پگھلاؤ

The, Def. art. Indicating a particular person or thing : وہی - یہی - خود وہی

Theatre, n. A house for the exhibition of dramatic performances ; a play-house ; arena for the display of great action, qualities, etc. : ڈراما گھر - تماشہ گاہ - میدان - دنگل - ڈھینگر

Theatrical, a. Relating to or suited to a theatre : ڈراما گھر کے متعلق یا قابل - تماشہ گاہ کے متعلق یا قابل

Thee, pron. Objective case of **Thou** : تجھکو - تجھے

Theft, n. Act of thieving or stealing ; things stolen : سرقہ - دزدی - چوری - چوری کا مال

Their, a. pron. Of them : اپنا - انکا

Theism, n. The belief of the existence of a God : الٰہیت کا اعتقاد - خدا پرستی

Theist, n. One who believes in the existence of God : خدا پرست - معتقد خدا - آستک

Theistic, a. Deistical : خدا پرستی کے متعلق

Them, pron. Objective case of **They** : انہیں - انکو

Theme, n. A subject or topic on which a person writes or speaks : شاعر - منشاء - مضمون

Then, adv. At that time ; in that case : اسوقت - اسوقت میں
 * **By**—, by the time when : تب تک
 * **Till**—, until that time : اسوقت تک

Thence, adv. From that place ; from that time : اس جگہ سے - وہاں سے - اسوقت سے - تب سے
 اس واسطے - اس سبب سے

Thenceforth, adv. From that time : بعد ازاں - اسوقت سے - اوسکے پیچھے - زان بعد

Theocracy, n. The government of a state immediately directed by God : خدا کی حکومت

Theodolite, n. An instrument for measuring heights and distances : ہندسی اور دوری ناپنے کا ایک آلہ

Theologian, n. A person well-versed in theology ; a divine : الٰہیات کا ماہر - عالم الٰہیات

Theology, n. The science of God and divine thing : علم الٰہی - علم معرفت - ایشور ودیا

Theomachy, n. Opposition to the divine will : مرضی الٰہی کی مخالفت

Theopathy, n. Religious enthusiasm : مذہبی جوش

Theorem, n. A principle or proposition ; a speculative truth ; rule (expressed by symbols) : شکل اثباتی - دعویٰ مسلم الثبوت - مسئلہ - قاعدہ جو علامتوں میں مرتب ہو

Theoretical, a. Pertaining to theory ; speculative : متعلق اصول - قیاسی - خیالی - جو تجربہ سے ثابت نہیں ہوا - غیر عملی

Theorise, v. t. To form theories ; to speculate : اصول قائم کرنا - قیاس کرنا

Theory, n. The abstract principles of any science ; a doctrine of things terminating in speculation without a view to practice : اصول - مسئلہ - قیاس غیر مصدق

Theosophy, n. Divine wisdom ; knowledge of God derived from divine illumination ; mysticism : معرفت - تصرف - ایک نوع کا عقیدہ - ایک قسم کا تصرف جسنا یہ دعویٰ ہے کہ انسان خدا کے ساتھ خاص طور کا علاقہ قائم کر کے معرفت کو پہنچ سکتا ہے

Therapeutics, n. Sing. That part of medicine which relates to the discovery and application of remedies for diseases : علم حکمت کا وہ جزو جس میں ادویات کی ایجاد اور انکے استعمال کا ذکر ہو

There, adv. In that place : وہاں
 * **Here and**—, in different places : جگہ جگہ

Thereabout, adv. Near that place or number : قریباً - لگ بھگ

Thereafter, adv. Accordingly : بعد ازاں
 * **After that** :

Thereat, adv. At that place : اس جگہ سے
 * **On that account** :

Thereby, adv. By that means : قریباً - لگ بھگ
 * **Near that number or quantity** :

Therefore, ad. and conj. For that or this reason : اسلئے - لہذا - بدین وجہ

Therefrom, ad. From this or that : اس سے - اس سے

Therein, adv. In that or this place, time or thing : اس میں - اس میں

Thereof, adv. Of that or this : اسکا - اسکا

Thereon, adv. On that or this : اس پر - اس پر

Thereout, adv. Out of that or this : اس کا - اس کا

Thereto, adv. To that or this : اُس میں - اُس کو
Theretofore, adv. Before that time : اُس وقت سے

Thereupon, adv. Upon this or that : اِس پر - فوراً
* Immediately :

Therewithal, adv. Over and above ; at the same time ; along with that : اِس کے ساتھ
اور اِس کے ساتھ

Thermal, a. Pertaining to heat ; warm : متعلق
گرمی - گرم

Thermantidote, n. A machine to drive a current of cooled air into a house during hot weather : کل کا پنکھا

Thermometer, n. An instrument to measure heat : گرمی ناپنے کا ایک آلہ - مقياس الحرارة

These, pron. Plural of This : ان - یہ سب

Thesis, n. A theme ; a proposition advanced and maintained ; an essay or dissertation : مضمون - دعویٰ جو پیش اور ثابت کیا گیا - جراب مضمون - رسالہ صحیفہ

Syn.— Proposition, position, subject.

Theurgy, n. The power of doing supernatural things by invocation of divine help : علم غیبی
بذریعہ ملائکہ

They, pron. pl. Those persons or things : وہ - اونہوں نے

Thick, a. Not thin ; dense ; close ; frequent ; not clear ; stupid ; intimate : گاڑھا - کثیف گنجان - * گھنا - متراثر - گندہ - گدلا - ٹورس - موٹا - شہر و شکر

A—utterance, Through * گھج بچ تافظ یا بولی
—and thin, آگ پانی نہ دیکھوکر - نرمی سختی
چھیل کر

Thicken, v. t or i. To make or become thick ; to crowd : گاڑھا کرنا یا ہرنا - گچ بچ ہونا

Thicket, n. A close wood : جھاڑی - گھنا جنگل

Thickness, n. Density ; closeness ; consistence : گنجانی - موٹائی - سختی - کڑائی

Thick-set, a. Closely planted : * گنجان - موٹا - فرہ
Stout :

Thief, n. One who steals : * دزد - چور
چراغ کا گل
Syn.— Pickpocket, shop-lifter, pilferer.

Thieve, v. i. To practise theft ; steal : چورانا - چوری کرنا - دزدی کرنا

Thigh, n. The lower limb between the trunk and the leg : چانگھ - ران

Thills, n. pl. Shafts of a cart or other carriage : گاڑی کا ہم یا بانس

Thimble, n. A metallic cap for the finger in sewing : انگشتانا - انگشتانی
* A thimbleful, ذرا سا - چابوہر - کڑی ہور

Thin, a. Not thick ; slender ; rare ; fine : باریک
*—skinned, irritable : پتلا - دہلا - نازکی - ملکا
* v. t. or i. To make rare or less thick ; to become less dense or crowded : پتلا کرنا - رقیق کرنا - متفرق ہونا

Thine, a. Belonging to thee : تیری - تیرا

Thing, n. Any substance ; an act ; something : چیز - شے - امر - کچھ

Think, v. i. To consider ; to judge ; to presume ; to design : خیال کرنا - غور کرنا - قیاس کرنا - گمان
* Think much, speak little, To think much of, to think well of, بہت سوچو توہو بہت ارادہ کرنا
* To better of, * عزت کرنا
* Think little of, * جاننا

Syn.—Cogitate, reflect, meditate, ponder, muse, contemplate.

—, v. t. To believe ; to esteem : یقین کرنا - عزت کرنا

Third, a. The next after the second : تیسرا - تہائی

Thirst, n. Want of drink ; vehement desire ; dryness : تشنگی - پیاس - نعال آرزو - سڑھاپن - تشنگی ہونا - پیاس لگنا - قرسنا
* v. t. To feel thirst ; to desire vehemently :

Thirsty, a. Suffering from thirst ; dry ; eagerly desiring : تشنگ - پیاسا - خشک - نہایت آرزومند

Thirteen, a. Ten and three : سیزدہ - تیرہ

Thirty, a. Thrice ten : سی - تیس

This, a. or pron. Denoting a specific person or object : یہ - اُس - موجودہ

Thistle, n. A prickly field plant : ایک خاردار پردہ - بہت کٹیا - اونٹ کٹارہ

Thither, ad. To that place or end : وہاں - اودھر - اوس طرف

Thitherward, ad. In that direction : اُس طرف
Thong, n. A strap of leather used for fastening anything : چھڑکا تسمہ - پٹی
Thorax, n. The breast ; the chest : سینہ - چھاتی
Thorn, n. A prickly shrub ; a spine ; anything troublesome : کانٹا - خار - سرل - زحمت - دکھ
Thorny, a. Full of thorns or spines ; troublesome : خاردار - گھیل - تکلیف دہ
Thorough, a. Passing through or to the end ; complete ; perfect : راستہ - تمام - کامل
Thoroughfare, n. A passage through ; a frequented street ; گزرگاہ - کوچہ خانہ - شارع
Thoroughly, adv. Completely : پورا - سراسر - بالکل
Thorp, n. A village ; a hamlet : گاؤں - بستہ - نکالہ
Thou, pron. Denoting the person addressed : تو
Though, conj. Granting ; notwithstanding ; however : بالفرض - حالانکہ - گوکہ - باوجودیکہ - اگرچہ
Thought, n. Thinking ; meditation : خیال - غور - Result of thinking : نتیجہ
Thoughtful, a. Full of thought ; attentive ; considerate ; anxious : فکرمند - پر اندیشہ - متوجہ - خبردار - ہوشیار - متبرہ
Thoughtfully, ad. Carefully : بغور - نکر سے
Thoughtless, a. Inconsiderate ; stupid : بے لکھڑے - بے پرواہ - احمق
Thousand, a. or n. Ten hundred : سہسہر
Thraldom, n. Slavery ; bondage : غلامی - بگوشی
Thral, v. t. To enslave : غلام بنانا
Thrash, v. t. To beat out grain from ; to beat soundly : پیٹ کر دانہ کو بھوسہ سے جدا کرنا - ضرب

ing floor, the ground where harvest is collected : کھلیان - خرمن گاہ
Thread, n. A small line or twist of silk, cotton, etc. ; a filament ; a line of gold or silver : تگا
To pass a thread through the eye of : پرونا - سلک کرنا
Threadbare, a. Worn out : گھسا ہوا - دھریٹہ
Threat, n. A menace ; denunciation : دھمکی - گھڑکی - تہدید
Threaten, v. t. To menace ; to denounce evil against : دھمکانا - تہدید کرنا
Three, a. Two and one : تین - سہ
Three-fold, a. Triple : تگنا
Threescore, a. Thrice twenty : تین کڑی - پینسہ
Thresh, v. t. To thrash : پینٹنا
Threshold, n. The door-sill ; entrance : چوکھٹ - دھبیز - دروازہ - داخلہ
Thrice, adv. Three times : تین بار
Thrid, v. t. To slide through by a narrow passage : تگ راز سے نکل جانا - سرک جانا
Thrift, n. Economical management ; frugality ; سوسپنزی - Prosperity ; gain : کم خرچی - جزوسی برکت - دفع
Thrifless, a. Extravagant : اوراز - شاک خرچ - مصرف
Thrifty, a. Frugal ; thriving : فاقیتی - کم خرچ - خوشحال - جزوس
Thrill, n. A quick sensation ; ارزش
v. t. or i. To pierce ; to affect ; to feel a sharp shivering sensation : چھیدنا - اثر نوٹا - سنسناتا - سرسزنا
Thrive, v. i. To prosper ; to grow rich ; to flourish : سرسبز ہونا - کامیاب ہونا - ترقی کرنا - خوش یا مرفح حال ہونا - پھولنا پھلانا
Throat, n. The fore part of the neck : حلق - گار - گلا
Throb, v. i. To beat forcibly or rapidly ; to palpitate : دھڑکانا
n. * A palpitation : ہڑکی - دھڑکی
Throe, n. Extreme pain ; agony ; anguish ; pains of child birth : جانکندی - درد زہ - چاں کندی میں ہونا
v. i. To agonise :

Throne, n. A royal seat ; sovereign power : تخت پر بیٹھالنا - بڑھانا * *v. i.* To place on a royal seat ; to exalt : تخت پر بیٹھانا - بڑھانا - فرمانروائی

Throng, n. A multitude ; a crowd of people : بھڑ بھڑ کرنا - جمع ہونا * *v. t. or i.* To crowd together :

Throstle, n. A thrush : ایک قسم کی چڑیا

Throttle, n. The wind-pipe : نرخرہا * ٹھٹھٹھٹھا * *v. t. or i.* To choke ; to suffocate :

Through, prep. From end to end : - سرسبز - بذریعہ - برسینک - * *By means of ; within :* * آرہا * **To carry—, to accomplish :** پورا کرنا * **To and—, completely through :** بالکل * **To go—, to read from beginning to end :** ناکام رہنا * **To fall—, پورا پڑھنا**

Throughout, prep. In every part ; quite through : سرتاپا - ظہم - سراسر

Throw, v. t. or i. To propel ; to toss ; to hurl ; to cast at dice ; to twist ; to put on ; to bear : چلانے - پھینک مارنا - چھڑنا - پانسے پھینکنا - اڑھالنا - پھینکنا * **To about, to toss :** ہٹنا - ڈالنا - جٹنا

To away, to reject : رد کرنا * **To lose by neglect or folly ;** غفلت یا بیوقوفی سے کھو دینا - برباد * **Without a compensation :** * **To neglect :** * **To by, to lay aside ;** * **To down, to overthrow :** * **To depress :** * **To degrade :** * **To destroy :** * **To in, —into, to merge :** * **To put in :** * **off, to expel :** * **To clear from :** * **To put off hurriedly :** * **To on or upon, to cast on :** * **To out, to expel :** * **To reject :** * **To insinuate :** * **To exert :** * **To leave behind :** * **To up, to resign :** * **To cold water upon, to discouraga :** * **To—light upon, to give one new informa-**

tion : ٹھٹھٹھا * **To—off the mask, to show one's self in his true colours :** اصل حقیقت ظاہر کرنا

Throw, n. Act of casting or throwing ; a cast of dice ; distance : - اڑھال - داڑی - ذاصلہ - پھینک * **The best—with the dice is to throw them away, پانسوں کا بھڑ پھینکنا ہے** * **To—in, کہ انکو پھینک دو** * **To—on, لانا - ڈالنا**

Thrum, n. The ends of a weaver's thread : کے تانے کا سرا

Thrush, n. A small singing bird : ایک قسم کی گانے کے چوہے * **Ulcers in the mouth :** - مارپی

Thrust, v. t. To push or drive with force ; to pierce : * **To—away, دھکا دینا** * **To—together, دھکا - ڈھیل** * **n.** A push :

Thud, n. The dull sound produced by a blow : دھماکا - گد

Thumb, n. The short, thick finger : - اناڑی * **v. t. or i.** To handle awkwardly : ہاتھ لگا کر میل کر دینا * **To soil with the thumb :** ہاتھ سے ہاتھ میں لینا

Thump, v. t. or i. To beat with dull, heavy blows : دھول دھماکا * **n.** A heavy blow, fall or sound :

Thunder, n. The sound which follows a flash or lightning : * **Denunciation :** * **v. t. or i.** To omit with noise and terror ; to sound as thunder : گرجنا - گرجنا

Thunder-bolt, n. A strong flash or shaft of lightning : بجلی - گرج - بھر

Thunder-clap, n. A burst or peal of thunder : رعد - گرج - تپ

Thunderstruck, a. Astonished : متحیر - حیرت زدہ

Thurible, n. A censer of metal for burning incense : عود سوز - دھوپ دال

Thurification, n. The act of burning incense : لوبان جلانا

Thursday, n. The fifth day of the week : جمعرات - بڑھپت - پنجشنبہ

Thus, ad. In this or that manner ; so : - اس طرح - یوں - ایسا - یہاں تک

Thwack, n. A heavy hard blow ; a thump : ٹھونکنما * *v. t.* To thump : دھماکا - ڈرنکاری

Thwart, v. t. To lie or come across ; to oppose ; to hinder : - کاٹنا - آڑا ہونا - مخالف ہونا - روکنا - *a. Transverse* : ترچھا - آڑا * باطل کرنا

Thy, a. Of thee or belonging to thee : تیرا - اپنا

Thyme, n. An aromatic plant of several species : ایک قسم کا خوشبودار پودا

Tiara, n. An ornamental turban ; a diadem : کاجی - مکت - نلہ - سر بیچ

Tibia, n. The larger bone of the leg : ٹانگ کی بڑی ہڈی

Tick, n. Trust ; credit : اعتبار * *The case of a bed* : گھڑی کی کھت * *Beat of a watch* : اردھار * *To go on—* : کھت * *Credit* : ٹانگ * *v. t.* To make a slight noise, as a clock : کھت کھت کرنا (مثل گھڑی کے)

Ticket, n. A marked slip of paper or card : ٹکٹ دینا۔ نشان کے واسطے پرچہ لگانا * *v. t.* To distinguish by a ticket ; to put a ticket on : کھت

Tickle, v. t. To excite a peculiar thrilling sensation by the touch ; to please : خوش کرنا

Ticklish, a. Easily tickled : جسکو گڈگڈی زیادہ لگتی غیر مستقل - ناپایدار * *Unfixed* : لطیف نکر

Tidbit, n. A delicate piece :

Tide, n. Time ; season : موسم * *Alternate ebb and flow of the waters of the ocean* : جزر و مد * *The turn of the—*, that which decides a matter : وہ بات جس سے کوئی * *To flow with the tide* : کسی معاملہ طے ہو جائے * *To—over a difficulty*, to be able to get over an evil turn in one's affairs : کسی مشکل سے پار ہونا

Tide waiter, n. An officer who watches the landing of goods : عہدیدار جو مال کے اوترنے کی نگرانی رکھتا ہے

Tidings, n. pl. News ; intelligence : خبر - مرڈہ - اطلاع

Tidy, a. Clean and neat : صاف ستھرا

Tie, v. t. To bind ; to knit ; to oblige ; to constrain : To— * باندھنا - کسنا - جوڑنا - کاٹھنا - مجبور کرنا

To—on, to fasten : باز رکھنا - اوپر باندھنا

To—restrain : روکنا * *To fasten to something* : باندھنا * *a knot* ; a bond ; an equality in numbers : گره - کاٹھہ - عقد - برابری

Tier, n. A row ; rank : صف - قطار - درجہ

Tiffin, n. Lunch : ناشتہ - کھیرا

Tiger, n. A fierce beast of prey : پلنگ - شیر - ٹیندرا - باگھ

Tight, a. Tied closely : بند * *Compact* : کما ہوا * *Fitting close to the body* : مضمبوا * *Somewhat intoxicated* : سرشار - تر دماغ * *Hard* : سخت * *Tight* : چست

Tighten, v. t. To draw together : تنگ کرنا - چکڑنا

Tightly, adv. Closely ; compactly : مضبوطی سے - ہوشیاری سے - چالاکی سے * *Cleverly* : کس کے - چکر کے

Tigress, n. The female of a tiger : شیرنی - باگھن

Tile, n. A piece of slate, stone or baked clay for covering buildings : کھپڑا - ٹریا * *v. t.* To cover with tiles : کھپڑیل چھانا

Tiling, n. The roof of a house covered with tiles : کھپڑیل

Till, n. A money box ; a drawer : روپیہ رکھنے کا جوتنا - زمین * *v. t.* To cultivate : گولک خانہ کا - *prop.* To the time of ; until : تک - تک

Tillage, n. Culture ; husbandry : جوت - کاشتکاری - کھیتی

Tilt, n. A tent : شامیانہ * *A thrust* : ضرب * *Inclination forward* ; *a military exercise* : نیڑہ بازی * *To raise one end of, as a cask* : ایک کنارے سے اوتھانا * *To ride and thrust as a lance* : نیڑہ بازی کرنا * *To lean* : چھکنا

Timber, n. Wood fit for building ; the trunk of a tree ; a beam : مہارت کی لکڑی - تنہ درخت - شہتیز

Timbrel, n. A kind of drum : پکھراج - مردنگ - طبلہ

Time, n. A period or part of duration : - وقت
 * An opportunity ; موقع * ایام - دن
 * Allotted period : * Age : عمر * فصل
 * Repetition : * زائدگی * Delivery : مدت - فرصت
 * Musical duration : * تال : نوبت
At —s, at distinct intervals of duration : وقتاً
At * * وقت مناسب پر : In—, in good season : * وقتاً
 * By degrees : * تہیک وقت پر : At the right moment :
 * Nick of—, the exact moment : رتتہ رتتہ
 * —out of mind or—immemorial, time beyond the memory of man :
 * The—, the present age : گذرا زمانہ جو یاد سے باہر ہو
 * To kill—, to occupy one's self so as to make time pass without much tediousness : اس طرح مشغول ہونا جو عین وقت جاتے
 * To have an easy—of it, * نیک معلوم ہو
 * Time out of joint, * انقلاب زمانہ * چین سے گذرنا
 * Time hangs heavy on his head, he has nothing to occupy his attention, - اسکو وقت گذرانا مشکل معلوم پڑتا ہے
 * To adapt to the occasion ; to mark the time of : * v. t. اسے کچھہ کرنے کو نہیں ہے
 * وقت کے مطابق : * وقت کا نشان کرنا

Timely, a. Seasonable ; early ; opportune ; welcome : بر وقت - موقع سے - سویرے - عین وقت کا -
Timely blossom, timely ripe, * بر محل - موقع کا - مقبول - خوشگوار
 * وقت پر پہلیکا تو وقت پر پکیگا

Timepiece, n. A watch or clock : گھڑی

Time-server, n. One who complies with times : زمانہ ساز - دنیا ساز

Timid, a. Wanting courage ; cowardly : - بزدل
 * قریب

Timidity, n. Want of courage ; fearfulness : بزدلی - خوف

Timorous, a. Fearful ; full of danger ; destitute of courage : خائف - بزدل - قریب

Tin, n. A white soft, non-elastic metal very malleable : * ٹین سے : * v. t. To cover with tin :
 * متھنا - رانگ کی قلعی کرنا

Tincture, n. A tingle or shade of colour : * ہلکا
 * An extract of the finer parts : * رنگ - جھلک

* Flavour : * چاشنی * r. t. To tinge ; to imbue the mind ; to impregnate : رنگ دینا - رنگنا - دلپور
 * اثر کرنا - ذہن نشین کرنا

Tinder, n. Something very inflammable used for kindling fire from spark : * شے آتش گیر - سرختہ
Tinder-box, * دیا سلائی

Tine, n. The spike of a fork : * کاٹنے کی نوک
 * tooth of a harrow : * دینگے کا داقتا

Tin foil, n. Tin reduced to a thin leaf : - پٹی
 * رانگ کا ورق

Tinge, n. A colour ; a tincture ; a stain : - رنگ
 * آلودہ کرنا - رنگت : * v. t. To dye : * ہلکا رنگ - داغ
 * دینا - رنگنا

Tingle, v. i. To feel a sharp thrilling sensation of sound or pain : سنسانا - جھنجھٹا - چھچھٹا

Tinker, v. t. To solder or mend ; to patch : * n. A mender of old metal ware : کسیرا - تھپیرا - کسگر - پنچیرا

Tinkle, v. i. To make a sharp, quick noise : * n. A small, sharp, quick sound : جھنجھٹا - جھنگار

Tinman, n. A manufacturer of tin vessels : ٹین کا برتن بنانے والا

Tinsel, n. A shining dress stuff ; a kind of ornamental lace ; anything showy and of little value : جھل مل - جھرتا گوتا یا کناری - کم قیمت اور
 * جھرتے : * v. t. To adorn with tinsel : * نمائشی چیز
 * کام سے رونق دینا - نمائش کرنا - بھڑکار کرنا

Tint, n. A faint dye ; colour : * ہلکا رنگ - رنگ
 * v. t. To tinge ; to colour : * رنگنا

Tiny, a. Very small ; little : * چھوٹا - ٹینی

Tip, n. End ; point ; extremity : - سرا - نوک
 * Gift : * انعام * v. t. To form a point upon ; cover the tip or end of : * سام لگانا - سرے پر لگانا
 * To tap : * تھپکنا * To bestow a douceur upon : * اوٹھانا - اٹھانا - ڈھالنا - off, * انعام دینا
 * ایک سرا جھکنا * To—up, * آنکھ مارنا

Tippet, n. A fur covering for the neck : گارنڈ

Tipple, v. t. or i. To drink in small quantities ; to drink habitually or to excess : * گھونٹ
 * لینا - بکثرت شراب پینا

Tipsy, a. Intoxicated ; fuddled : مست - مٹوالا

Tiptoe, n. The end of the toes : پاؤں کی اُنکلیوں کا ٹکڑا
 * To stand on—, (*Fig.*) To be interested
 or anxious : متوجہ ہونا * To walk on—, کر چلنا

Tiptop, n. The highest or utmost degree : سب سے بلند درجہ - چوٹی

Tirade, n. A strain of censure or invective : شکایت آمیز راگ - ملامت آمیز تقریر

Tire, n. A row : قطار * A head-dress :
 * Attire * پوشاک * A hoop of iron for a
 wheel : سہرا * A chaplet : پہننے کی ہال
v. t. or i. To fatigue ; to dress ; to adorn ; to be-
 come weary : تھکانا - پوشاک پہنانا - زینت دینا -
 سنگار کرانے والی، **Tirewoman** * تھکانا

Tiresome, a. Wearisome ; tedious : تھکانا بیروالا - اکتانیا بیروالا

Tissue, n. Cloth interwoven with gold or silver :
 * A connected series : سلسلہ * زربفت - بادلا
Organic substance : *v. t.* To form tissue :
 زربفتی کرنا - زرد زب کرنا

Tit, n. Anything small : چھوٹی چیز * A small
 horse : تتر * **Tit for tat** : ادلے کا، تتر * تتر
 بدلا - چور کے گھر موز

Tithe, n. A tenth ; a small part : دسواں حصہ -
 دہائی * *v. t.* To levy a tenth : تھورزا حصہ
 لینا

Titillate, v. t. To tickle : گڈگڈانا - سہرا نا

Titillation, n. Act of tickling ; any slight pleas-
 ure : گڈگڈاہٹ - گڈگڈی - سہراہٹ

Title, n. An inscription ; an appellation of
 honour ; a claim ; a right : خطاب - دعویٰ -
 نام رکھنا * *v. t.* To name ; to entitle : خطاب
 دینا

Title deed, n. Writings evidencing a person's
 title or right to property : قبالہ - دستاویز - حقیقت

Titmouse, n. A small bird : ایک قسم کی چڑیا -
 پھدکی

Titter, v. i. To laugh ; to giggle : * ہنسنا -
 کھلکھلانا * *n.* A restrained laugh : مسکراہٹ -
 دبی ہوئی ہنسی

Tittle, n. A small particle ; a jot ; an iota :
 رصق - ریزہ - ذرہ

Titte-tattle, n. Idle talk ; empty prattle : خب
 * *v. i.* To gossip ; to prate :
 گپ شپ کرنا - بکبا

Titular, a. Existing in name only ; nominal ;
 بڑے نام - نام چارکو - منہ بولا

To, prep. Toward, or moving toward ; till ;
 طرف - جانب - کر -
 opposition ; after ; regarding : تک - تک -
 سامنے - مرافق - بوجب - واسطے - درباب
 *—and fro, forward and backward ; up and
 down : یعنی - * **To wit** ; اور پیدہ - اور نیچے :
 ارفہات

Toad, n. A small reptile : چوڑا زہردار

Toad-eater, Toady, n. A mean sycophant :
 چالوس - خورش آمدی - پاچی

Toast, v. t. or i. To dry and scorch by the heat
 of the fire ; to warm thoroughly : بوڑنا -
 سیکانا * **To drink to the health**
 of : کسی کی سلامتی کا جام پینا :
 * **A drinking pledge** : سلامتی کا جام
 تہیا کر

Tobacco, n. A narcotic plant : تہیا کر

Tobacconist, n. A dealer in tobacco : تہیا کر
 فروش

Tocher, n. Dowry brought by a bride to her
 husband : جہیز

Tocsin, n. An alarm-bell : جگانیکا گھنٹا

To-day, n. The present day : آج - امروز * **One**
 to-day is worth two to-morrows :
 ایک آج دو کل سے اچھے ہے

Toddy, n. A juice drawn from various kinds
 of the palm ; a mixture of spirits and hot
 water sweetened : تازی - سیندھ - شراب شربت
 آمیز

Toe, n. One of the extremities of the foot : انکشت
 پا - پاؤں کی اُنکلی

Toga, n. The loose outer garment : چٹہ

Together, adv. In company ; in the same place
 or time ; in concert : * **To keep**
 the body and soul together : ہرگز - باہم -
 ایک ہی * **To keep** : جگہ یا وقت میں -
 متوجہ - بالاجمال
 زندگی قائم رکھنا

Toil, v. t. To work hard ; to labour : زور مارنا -
 * **Hard labour** ; a
 snare : مشقت - محنت - جال - دام - کمنڈ

Toilet, n. A dressing table : **Style** * سنگار میز : **or fashion of dress :** * پوشاک کی وضع - پہناؤ

—**glass,** درخشاں * **To make one's—,** سنگار کرنا - آراستہ کرنا - کپڑا پہننا

Token, n. A sign ; a souvenir : - نشان - علامت یادگار - نشانی

Tolerable, a. Sufferable ; passable : برداشت کرنے کے لائق - کاربرہاری کے لائق - کام چلاؤ

Syn.—Endurable, bearable, supportable.

Ant.—Unbearable, unsupportable.

Tolerance, n. Act of enduring : برداشت - تحمل

Tolerate, v. t. To suffer ; to permit : - برداشت کرنا * **Crying should not be tolerated in children,** بچوں کو رلانا نہیں چاہئے

Toleration, n. Act of tolerating ; sufferance : تحمل - برداشت - بردہاری - چشم پوشی - اغماض

Toll, n. A tax for passing : * محصل راہداری : Sound of a bell : آواز * **v. t. or i.** To cause to sound, as a bell ; to ring, as a bell : ٹھٹھا بجانا

Tomahawk, n. A West-India war hatchet : کلہاڑی - پھوسا

Tomb, n. A grave ; a monument in memory of the dead : کور - قبر - مقبرہ

Tomcat, n. A full-grown male cat : ہلاڑ - گربہ نر

Tome, n. A ponderous volume ; a book : جلد - کتاب

Tomfool, n. A great fool ; a silly trifler : - احمق - گاردھی

To-morrow, n. The next day : * **فردا - کل** : **To-morrow comes never,** کل کسٹے دیکھا ہے

Tomtit, n. A small bird ; a titmouse : پدري - پھوڈکی

Ton, n. A weight of 20 cwt. : * **آٹھائیس من کا وزن** : **The prevailing fashion :** وضع درباری

Tone, n. Sound ; note ; accented sound : صدا - طابعت : **State of body or mind :** * آواز - لہجہ - سر رنگوں کا : **Harmonious relation of colours :** * مزاج : **To utter with an affected tone ; to tune :** * اصل لہجہ کر بدل کر بولنا - سُر ملانا

Tongs, n. pl. An instrument to handle fire or heated metals : سنوس - چمٹا - دستپنہا

Tongue, n. The organ of taste and speech :

* **گفتار - بولی - گردنہی** : **A language :** * زبان - جیبہ

A point : * **نوک** * **A projection :** * **The tongue's not steel, yet it cuts,** زبان لہرا

* **One tongue is enough for a woman,** عورت کو ایک زبان بس ہے

* **To hold one's tongue,** زبان سمہالنا

Tonic, a. Relating to sounds : متعلق * **Restoring healthy functions :** **n.** A medicine that increases bodily strength : مقوی خرا - پیشگی

Tonnage, n. The duty or custom paid on goods : اسباب کا محصل

Tonsil, n. One of the two glandular bodies in the throat or faces : گلے کی گلتھی

Tonsile, a. Capable of being clipped : کاٹنے کے لائق

Tonsure, n. Act of shaving off the hair : - موندن - چار ابرو کا صفایا

Too, adv. Over and above ; more than enough ; **much of one thing is good for nothing,** زیادتی سب چیز کی خراب

Tool, n. An implement : * **اوزار - آلہ** : **A hiring :** دوسرے کا غلام

Syn.—Instrument, implement, utensil.

Tooth, n. The bony substance in the jaw used in masticating food : **لنت - دانت - دندان** * **Taste :** ذائقہ

—**and nail,** with one's utmost power : **بہ ہزار کرشش** * **A prong :** * **مڑہ**

To cast in one's teeth, کسی کو کسی بات کا سامنے - منہ پر

To one's—, * **To one's—,** * **طعنہ یا اولہنا دینا** اپنا تمام زور لگانا - ہل و جان سے

Tooth and nail, - **To furnish with teeth ; to indent :** دانت بنانا - دندانہ دار کرنا

Toothache, n. Pain in the teeth : دانت کا درد

Toothsome, a. Pleasing to the taste : خوش ذائقہ

Top, n. The highest part of anything ; summit : **A child's toy :** * **کوٹھا** * **Terrace :** * **قلمہ - چرٹی - بلندی**

* **چمٹے کے** * **At the—of one's voice,** مشہور

To proclaim from the house-tops, سرپوش کرنا - **To tip ; to rise above ; to surpass ; to crop :** * **سپکت - چوہنا - چمٹنا** * **قلم کرنا**

Topaz, n. A mineral : پگھراج
Tope, v. t. To drink hard or to excess : کثرت سے شراب پینا
Tophaceous, a. Sandy ; stony : ریتیلیا - پتھریلا
Topic, n. A subject of discourse or argument : مضمون - مدعا
Topical, a. Pertaining to a place : کسی مقام کے متعلق
Topography, n. The description of a particular place, city, town, &c. : کسی شہر وغیرہ کا بیان
Topple, v. i. To fall forward ; to tumble down : ڈھیلنا - اوندھے جانا
Topsail, n. A sail extended on the topmast : اوپر کا بادبان
Topsy turvy, adv. Upside down : تہہ و بالا - زبر و زبر - اُلٹ پلٹ
Torch, n. A large candle or flambeau : کتیلا - مشعل
Torment, n. Extreme pain ; torture ; anguish : عذاب - عقوبت - تکلیف - جانکنڈنی - صعوبت
To put to extreme pain ; to tease : اذیت دینا - عذاب دینا - دق کرنا
Tornado, n. A hurricane : طوفان - آندھی
Torpedo, n. A machine to blow up ships : ایک ایک قسم کی Cram-fish * کل جہاز کے تباہ کرنے کی مشین
Torpid, a. Numb ; stupid : بے حس و حرکت - شن - کالہل - مجبور
Syn.—Dull, sluggish, inactive, numb.
Torpidity, n. Numbness ; inactivity : بے حسی - مجبوری - مستی
Torpor, n. Numbness ; loss of motion ; laziness : بے حسی - بے حرکتی - مستی
Torrefy, v. t. To dry by fire ; to parch ; to roast : آگ سے خشک کرنا - جلانا - تپانا
Torrent, n. A violent stream ; a rapid flow : تیز دھارا - سیلاب
Torrid, a. Parched ; violently hot ; burning : zone, the broad belt between the tropics : علاقہ حارہ
Torsion, n. Act of twisting or turning : ایتھنا : یا پٹنا
Tort, n. A wrong ; injury done : حق تلفی - ضرر

Tortoise, n. An animal covered with a hard shell : سگ پشت - کچھوا
Tortuous, a. Twisted ; deviating from rectitude : پیچیدہ - بگاڑا - گمراہ
Torture, n. Extreme pain ; anguish of body & mind : عذاب - تکلیف - اذیت * **v. t.** To put to torture ; to pain extremely ; to vex : عذاب میں ڈالنا - اذیت دینا - دکھ دینا - تکلیف دینا
Tory, n. One of an old political party in England ; Conservative : محافظت انگلستان کے اراکین کا ایک فریق
Toss, v. t. or i. To throw with the hand ; to throw up with a violent motion ; to agitate ; to roll and tumble : اوجھلنا - پھینکنا - مڑج مارنا - To—about, to tumble about : گردنیں بدلتا * To be reckless : بے خبر * To—for, to gamble for : بیچھین ہونا * To—up, to throw up : اوپر پھینکنا * To throw a coin in the air and wage on which side it will fall : شیر بکری کا کھیل کھیلنا
To toss off, چت * To toss up, پت کھیلنا
Total, n. The whole ; the whole sum or amount : جمعہ - سب - کل
a. Complete ; whole : مکمل - مبرم - میزبان - کل
Totality, n. The whole sum ; whole quantity or amount : کثرت - جماعت
Totter, v. t. To shake ; to reel : ڈگمگانا
Touch, v. t. or i. To come or be in contact with ; to reach ; to affect ; to concern ; to interfere with ; to move ; to test ; to perceive : حس کرنا - چھونا - پہنچانا - اثر کرنا - تعلق رکھنا - مداخلت کرنا * کسی مقام پر بغیر تھہرے ہوئے جانا : without staying : ٹچہ * To—on, or upon, to mention slightly : Touch pitch and you will be defiled, * تو چھینٹیں آئیگی
n. Act or sense of touching ; contact ; an emotion ; hint ; a tittle ; a feature ; test : لمس - چھیڑ - چرشدلی - اشارہ - ذریعہ - خواہ - خیال - آزمائش
To keep touch, ہنر یا مہارت نہ رکھنا * To know no touch, ہنر یا مہارت نہ رکھنا
Touch-hole, n. Vent of a firearm : درراج

Touching, a. Pathetic ; affecting : - دلگداز
جگر سوز

Touch-me-not, n. A kind of sensitive plant :
ایک قسم کا درخت۔ چھوئی مرنی

Touchstone, n. A criterion ; a test : - معیار
کسوتی - میعار

Touchy, a. Peevish ; irritable : - چڑچڑا
تک مزاج

Tough, a. Flexible ; firm ; viscous ; stiff ;
لوچدار - مضبوط - لسدار - سخت

Toughen, v. t. To make tough ; سخت
کڑا کرنا - چمڑانا

Tour, n. A going round ; excursion ; a trip :
دورہ : * v. i. To make a tour - گشت - سیر
کرنا - گشت کرنا - سیر کرنا

Tourist, n. One who travels for pleasure ; -
سیاح - دورہ یا سیر کرنے والا

Tournament, n. A military sport on horseback :
تیزہ بازی - فن سپہ گری کی بازی

Touse, v. t. or i. To pull ; to tear : -
کھینچنا - پھاڑنا

Tout, v. i. To look out for ; to ply or seek for
customers : تلاش کرنا - گاہکوں کو بلانا - دلائی کرنا

Tow, n. The coarse and broken part of flax or
hemp ; * v. t. To draw through
the water by a rope : پانی میں رسی سے کھینچنا

Toward, } prep. In the direction of ; re-
Towards, } garding ; nearly : - جانب - طرف -
نسبت - قریباً

Towards, adv. Near ; in a state of preparation :
قریب - لگ بھگ

Towel, n. A cloth used for wiping the hand and
for other purpose : رومال - تویریا - انگرچھا - دستمال

Tower, n. A lofty building ; a fortress ; citadel :
گرج - مینار - قلعہ - کورت

Towering, a. Very high : بلند - اونچا

Town, n. A collection of houses larger than a
village : * The inhabitants : قصباتی

Town-talk, n. Common discourse : چرچا - افواہ

Toxic, a. Poisonous : زہریلا

Toxicology, n. The science which treats of
poisons, their affects, antidotes and test :
علم السموم

Toy, n. A bauble ; a trifle ; matter of no import-
ance : * v. t. To play ; امر خفیف - ناچیز شے -
to trifle ; to dally : لہو و لعب کرنا - چرچلے
کرنا

Trace, n. A footprint ; token ; outline ; an im-
pression ; a track : - نقش پا - کھوج - علامت -
To follow by the footsteps : * v. t. To follow by the footsteps :
To draw with
marks : * نشان کرنا - عکس کشی کرنا -
نابل سراغ : * نشان کرنا - عکس کشی کرنا

Traceable, a. That may be traced : سراغ
سازنی - جسکا پتلا لگ سکے

Tracery, n. Ornamental work : نیل برقی یا نقش
نکار - دروازہ یا درجہ کے معراب کا جائیدار کام

Track, n. Footstep ; path ; course : * v. t. To follow by traces :
نقش پا - دروازہ یا درجہ کے معراب کا جائیدار کام
اڑوں کے : * نشان کرنا - عکس کشی کرنا - راستہ
کھوج پر چلنا - نقش پا پر چلنا

Trackless, a. Having no path ; untrodden :
راستہ کا نشان نہر - بے نقش پا - جہاں کوئی
گذرا نہر

Traceless, a. Pathless ; untrodden : بے راہ

Tract, n. A region ; a district ; strength ; a
short treatise : ملک - دیس - ضلع - طول - رسالہ

Tractability, n. The quality of being manage-
able ; docility : تربیت پذیری - فرمانبرداری

Tractable, a. Easily managed ; docile : حکم
پذیر - سیدھا - تربیت پذیر

Tractile, a. That may be drawn out : کھینچکر
بڑھائے جانے کے لائق

Traction, n. The act of drawing a body along a
plane : ہموار سطح پر کسی چیز کا کھینچنا

Trade, n. Traffic ; commerce ; occupation ;
نہجارت - سوداگری - پیشہ - لین دین - رواج :
* اتفاق اہل حرفہ * Trades union ,
تجارت * Trade is the mother of money,
* Trade knows neither
friends nor kindred, * v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :
* v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :
* Trade knows neither friends nor kindred,
* v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :
* Trade knows neither friends nor kindred,
* v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :
* Trade knows neither friends nor kindred,
* v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :

Trade-mark, n. A device used by manufacturers
to identify their goods : مہر تجارت - نشان

Trader, n. One engaged in trade or commerce ;
* a dealer : * v. t. To buy and sell ; to traffic ; to barter :

Tradesman, n. A shop-keeper ; a dealer :

فوکاندار - تجار - سوداگر

Trade-wind, n. A periodical wind :

موسمی ہوا - باد تجارتی

Tradition, n. Legend ; family story :

قصہ - حدیث - روایت

Traditional, a. Communicated from ancestors

to descendants by word only :

روایتی

Traduce, v. t. To calumniate ; to defame :

الزام دینا - تہمت لگانا - بدنام کرنا

Traffic, n. Commerce ; trade ; merchandise :

سوداگری - تجارت - سوداگری کا مال - آمدرفت - خرید

to exchange ; to buy and sell ;

to trade meanly :

پہلے کرنا - لین دین کرنا - تجارت

کرنا - چھوٹا بیوپار کرنا

Tragedian, n. A writer or actor of tragedy :

نہم کا واقعہ نگار - غم کے واقعہ کا نقال

Tragedy, n. A dramatic poem representing

some action having a fatal issue ; a fatal and

mournful event :

غمناک اور خوفناک واقعہ کی نقل - غمگین واقعہ

Tragical, a. Relating to tragedy ; mournful :

غم کے واقعہ کی نقل کے متعلق - غم آلودہ

Trail, v. t. or i. To drag ; to draw along the

ground :

n. A track ; scent :

کھینچنا

Train, v. t. To draw along ; to allure ; to discip-

line ; to break ; to form by exercise :

توغیب دینا - تعلیم دینا - سدھانا - کڑھنا - نکالنا -

قول ڈالنا

Train, n. A retinue :

Series : * That part of a

dress which trails behind :

A line of combustible material :

A row : * صف - قطار - سلسلہ

Railroad ; carriage : * ریل

دہ - پونچھہ

The tail of a bird : * گاڑی

Trained, a. Educated :

تربیت یافتہ

Trait (tra), n. A stroke ; a peculiarity :

قلم - صنعت - خط و خال

Traitor, n. One who betrays his trust :

دغا باز - آدمی - کپٹی آدمی

Syn. - Betrayer, renegade, apostate, rebel.

Traitorous, a. Treacherous :

دغا باز - مکار - کپٹی

Trajectory, n. The orbit of a comet ; a curve :

دستار سیارہ کا دائرہ

Tram, n. A coal wagon ; the shaft of a cart :

کڑیلے کی گاڑی یا چھکڑا - گاڑی کا ہم

Trammel, n. A kind of long net shackles ; any-

thing that confines or impedes ; iron hook :

v. t. To confine ; to

catch ; to impede :

n. * کھلنا - روندنا

v. t. or i. To tread :

A vagrant : * پیدل کا سفر

Trample, v. t. To tread under foot :

Tramway, n. A street railway for cars :

پٹریدار سڑک

Trance, n. State of insensibility ; an ecstasy ;

a rapture :

بیہوشی - بیخودی - وجد

Tranquil, a. Quiet ; peaceful ; undisturbed :

پے حس و حرکت ساکن - آسودہ - با امن و آرام

Tranquillise, v. t. To compose ; to quiet ; to

soothe :

دھیج دینا - تسکین دینا - ساکت کرنا -

تھنڈا کرنا

Tranquillity, n. Quietness ; peace of mind :

تسکین - دھیج - اطمینان

Transact, v. t. or i. To conduct matters ; to

manage :

کاروبار کرنا - انتظام کرنا - چلانا

Transaction, n. Management ; affairs ; nego-

tiation :

* سربراہی - کاروبار - معاملہ - بیروہار

Tecuniary—, روپیہ کا معاملہ

Transcend, v. t. or i. To rise above ; to pass

over ; to surpass :

چڑھنا - بلند ہونا - حد سے گذرنا -

ترجیح رکھنا - فوقیت لیجانا

Transcendent, a. Very excellent ; surpassing

others :

نہایت خوب - فائق - بڑے چڑھکر - حواص خمسہ

سے باہر

Transcendental, a. Supereminent :

عددہ ترین - افضل

Transcribe, v. t. To write over again ; to copy :

اُتارنا - نقل کرنا

Transcript, n. A copy from an original :

نقل

Transcription, n. Act of transcribing or copy-

ing :

نقل نویسی

Transept, n. The transverse portion of a church

built in the form of a cross :

گرجے کا ترچھا یا آزا بازو

Transfer, v. t. To convey from one place or

person to another ; to make over the possession

of ; متقل کرنا - تبدیل کرنا - سپرد کرنا - داخل خارج کرنا
 * To put on a lithographic : پتھر پر اٹارنا *
 n. Removal ; act of conveying to another ; that
 which is conveyed : - داخل خارج - انتقال - تبدیلی
 تحویل

Transferable, a. That may be transferred :
 قابل انتقال

Transferee, n. The person to whom a transfer
 is made : منتقل الیہ

Transference, n. Act of transferring ; trans-
 fer : تحویل - انتقال

Transfiguration, n. A change of form or
 appearance : تبدیل ہیئیت - تبدیل صورت

Transfigure, v. t. To change the outward form
 or appearance of ; to transform : تبدیل ہیئیت
 کرنا - صورت بدلنا

Transfix, v. t. To pierce through : آر پار کرنا -
 چھیدنا

Transform, v. t. To change the form ; to
 metamorphose : بدلنا - شکل بدلنا - صورت پالنا

Transformation, n. Change of form ; meta-
 morphosis : تبدیل صورت - قلب ہیئیت - کایا پلت

Transfuge, n. A deserter ; a runaway : سپاہی
 جو میدان جنگ سے بھاگ کر دشمن سے جا ملے - بھگڑا

Transfuse, v. t. To pour into another : ایک برتن
 سے دوسرے برتن میں ڈالنا

Transgress, v. t. or i. To overpass ; to break ;
 to violate ; to sin : تجاوز کرنا - توڑنا - عدول حکمی
 کرنا - خطا کرنا

Transgression, n. Violation of a law ; an
 offence : عدول حکمی - جرم - تقصیر - خطا

Transgressor, n. Offender ; sinner : قصوروار -
 گنہگار

Syn.—Trespasser, culprit, malefactor.

Transient, a. Of short duration ; momentary ;
 hasty : جلد گذر جانے والا - ڈاپائدار - زود رو

Transiently, ad. In a transient manner :
 * In passing : * ڈاپائدار سے - تلیل ایام کے لیئے
 راہ میں

Transit, n. The act of passing : * روانگی * Passage
 across : * The passage of a smaller
 body across the disc of a larger : کسی جرم فلکی کا
 * Transit * دوسرے کے گرد سے گزرنے کی راہ
 محصور راہ داری

Transition, n. Passage from one place or state
 to another ; change : روانگی - تبادلہ - نقل - تغیر

Transitory, a. Continuing only for a short
 time : چند روزہ - ڈاپائدار - عارضی
 Syn.—Transient, fleeting, temporary.
 Ant.—Lasting, permanent, enduring, persis-
 tent.

Translate, v. t. To transfer ; to render into
 another language : بدلنا - منتقل کرنا - ترجمہ کرنا

Translation, n. Removal ; that which is trans-
 lated : انتقال - ترجمہ

Translator, n. One who translates : مترجم -
 ترجمہ کنیزوالا

Translucent, a. Transparent ; clear : شفاف - صاف

Transmarine, a. Lying beyond the sea :
 سمندر پار

Transmigrate, v. i. To pass from one country
 or body to another ; نقل مکان کرنا - دوسرے ملک
 میں چلا جانا - قاب بدلنا

Transmigration, n. A passing from one
 country or body to another - ترک وطن -
 حائل - آواگون - تناسخ

Transmission, n. Act of sending from one
 place or person to another : روانگی - ارسال

Transmit, v. t. To send from one person or
 place to another : بھیجنا - روانہ کرنا - ارسال کرنا
 Syn.—Send, remit, forward.

Transmutation, n. Change into another sub-
 stance : ایک شے کا دوسری شے ہو جانا - تغیر - تبدیلی

Transmute, v. i. To transform : تبدیل کرنا -
 بدلنا - قلب ماہیت کرنا

Transparency, n. Quality or condition of being
 transparent : شافی - شافی

Transparent, a. That may be seen through
 distinctly ; clear : براق - شفاف - صاف

Transpierce, v. t. To pierce through : چھیدنا -
 دیدہنا

Transpiration, n. Emission in vapour ; act
 of passing through pores : تبخیر - بھاپ بننے نکالنا -
 مسامات کے راہ سے نکاس

Transpire, v. t. or i. To emit through the ex-
 cretories of the skin ; to pass off in vapour :
 * To * مسامات سے بخارات نکالنا - بخارات بفرنگر نکالنا
 آشکارا ہونا - کھل جانا - * happen : * واقع ہونا - صادر ہونا

Transplant, v. t. To remove and plant in another place : ایک جگہ سے اوتھا کر دوسری جگہ لگانا یا لگانا۔ پودہ لگانا

Transplantation, n. Act of planting in another place : ایک جگہ سے دوسری جگہ پودے کا بیٹھانا

Transplendent, a. Very resplendent : نہایت نورانی - بہت چمکتا ہوا - ازبس درخشاں

Transport, n. Conveyance : - ارسال - چالان - - - - - : رشتہ : - * A vessel : * رشتہ دار : - - - - -

Transport, v. t. To convey : * لیتنا * To carry into banishment : * جلا وطن کرنا * To carry away with emotion or ecstasy : * وجد میں لانا

Transportation, n. Act of conveying ; banishment : انتقال - ارسال - جلا وطنی

Transposal, n. Substitution : بدلہ - تبادلیہ

Transpose, v. t. To change the place or order of ; to substitute one thing for another : ترتیب دینا - * جگہ بدلنا

Transposition, n. Substitution ; reciprocal change : تبادلیہ .. مبادلہ - اُلت پھیر

Transubstantiation, n. A change into another substance : قلب - ماہیت

Transude, v. i. To pass through pores : مسامات سے نکلنا - پسینا

Transverse, a. Lying across ; being crosswise : ترچھا - آڑا - پیرا

Trap, n. A contrivance for snaring animals ; ambush ; stratagem : - گھاٹ - گھونٹا - دام - پھندا : - * door, a door in a roof or floor with which when shut it is flush : * زینہ کا دروازہ * **v. t.** To catch in a trap ; to adorn : دام میں پکڑنا - آراستہ کرنا

Trapan, v. t. To ensnare : پھندے میں پھنسانا

Trape, v. i. To run about idly : بے کار گھومنا

Trapes, n. An idle sluttish woman : سست اور پھور ہر عورت

Trapezium, n. A quadrilateral having two sides parallel : شکل متساوی العمود - شکل منحرف

Trappings, n. pl. Ornamental accessories : سازو سامان - آرایش

Syn.—Dress, finery, accoutrements, equipments.

Trash, n. Any waste matter : - پتہ پتہ - کوٹھ - * **v. t.** To lop off ; to crop : - چھ تٹنا - تراشنا - پتے سوٹ ڈالنا - قلم کرنا

Trashy, v. Worthless : ذلیل - ناکارہ

Travail, v. t. To suffer the pangs of childbirth : سخت مشقت یا کوشش - بڑی * **n.** Severe trial or exertion ; parturition ; labour : جان نسانی و جدوجہد - وضع حمل - دروازہ چلنا - مسافت طے کرنا

Travel, v. t. or i. To move : - سفر کرنا * A journey ; — *pl.* Account of a journey : سفر نامہ - مسافت - سفر کا مارا ہوا - ٹھکانا مانڈا

Traveller, n. One who travels or visits foreign countries : مسافر - سیاح

Traverse, a. v. t. Lying across : * آڑا رکھنا * To lay in a cross direction : * آڑا رکھنا * To thwart : مزاحمت کرنا * To wander over : طے کرنا * To cross in travelling : پھرنے

Trawl, n. A long bag-net for fishing in the deep sea : چال - مچھلی پکڑنے کی بڑی شست یا قور

Tray, n. A small trough or wooden vessel for domestic uses ; a salver : کشتی - خزانچہ - تھال - پیرات

Treachorous, a. Betraying a trust ; perfidious : دغا باز - بے ایمان - بے وفا - نمک حرام - بے ایمان Syn.—Traitorous, perfidious, faithless, disloyal. Ant.—Faithful, trustworthy, loyal.

Treachery, n. Branch of faith or trust : - دغا بازی - بے ایمانی - بے وفائی

Treacle, n. Syrup obtained from sugar, molasses : شیرہ - راب

Tread, v. t. or i. To walk on ; to set the foot on ; to trample : * چلنا - پاؤں رکھنا - کھلنا

To copulate as fowls : * مرغ کا جفتی ہونا * To—down, to crush or destroy : * کھلنا - پامال کرنا

To—the stage or the boards, to act as a stage player : * ناک میں سوانگ بننا

To—upon the heels of, * نامک میں بیچھ بیچھ انا

n. A step or stepping with the foot ; gait : - ڈاپ - چال - وضع

Treadle, n. The part of a loom or other machine which is moved by the foot : کل کا پوزہ جسکو پاؤں سے دبا کر کل کو چلاتے ہیں

Treason, n. Rebellion ; disloyalty ; treachery :
بغاوت - سرکار کی بد خراہی - دغا

Treasure, n. Wealth accumulated ; hoarded riches ; great abundance : - زورگر - خزانہ - گنج - جمع کرنا - بٹورنا * *v. t.* To lay up ; to hoard : * نثرت

Treasurer, n. An officer who has charge of a treasure :
خزانچی - تھریلڈار

Tresure-trove, n. Money found hidden in the earth, of which the owner is unknown : - دنیائے گزا ہوا خزانہ

Treasury, n. A place or building where public revenues are deposited : - گنجینہ - خزانہ - محکمہ * *A treasury of knowledge, علم * معارف*

Treat, v. t. or i. To manage : اُپاڑا کرنا * *To use :* * استعمال کرنا - ساری کرنا * *To discourse :* * ضیانت کرنا * *To entertain :* * بیان کرنا * *n.* A rich entertainment ; a feast : دعوت - ضیانت

Treatise, n. A written composition on particular subject : رسالہ - نامہ - قصہ - داستان

Treatment, n. Management ; usage ; behaviour manner of applying remedies to cure : اعتمام - ساری - برکاز - معالجہ

Treaty, n. A compact ; an agreement between two or more independent states ; adjustment of differences : صلح - صلحنامہ - صلح - قرل و قرار - عہد ر پیمانہ - **Treaty of alliance,** * *کی تجویز یا پیغام - استدعا عہدنامہ لکھنا,* * *To conclude—* * اتحادنامہ
Syn. — Negotiation, contract.

Treble, a. Threefold : تگنا * *v. t. or i.* To make or become threefold : تگنا کرنا یا ہونا

Tree, n. A general term for perennial plants having a single woody trunk or stem : شجر - زمین کی **Tree of a saddle,** * درخت - پیڑ - روکھ لکڑی - کاٹھی

Trefoil, n. A three-leaved plant, as clover : ایک تی پتیا گھاس

Trellis, n. A frame of lattice work for windows, doors, &c. : جالی - جھنجھری - جانی

Tremble, v. i. To shake ; to quiver ; to quake : کانپنا - لرزنا - تھرتھرانا

Tremendous, a. Fearful ; formidable : ہیبت ناک - ڈراؤنا - ہر لئی

Tremor, n. An involuntary trembling : کھپکھی - رعشہ - تھرتھراہٹ

Tremulous, a. Trembling ; shivering : لرزنا - تھرتھراتا ہوا

Trench, v. t. or i. To cut or dig as a ditch ; to fortify by digging a ditch ; to encroach : کھردنا - خندق - * *A ditch :* * کھائی بنانا - مورچہ بنانا - دبانہ کھائی

Trenchant, a. Sharp ; keen ; severe : تیز - سخت - تند

Trencher, n. A large wooden dish or platter ; table ; food : - دستر خوان - کشتہ - **Trencher-friend, Trencher mate,** * اچھا کھانا پینا - دوست خواتی یار - دوست ذاتی - ہم معلم

Trend, v. i. To run in a certain direction : ایک طرف کو جھکنا

Trepan, n. A snare : جال - دام

Trepidation, n. Trembling ; alarm ; confused haste : کھپکھی - لرزہ - ڈھبڑاہٹ

Trespass, v. i. To pass unlawfully over the boundary line of another's land ; to intrude ; to transgress : - مداخلت بیجا کرنا - دست اندازی کرنا - مویشی کا **— of cattle,** * معطل ہونا - تجاوز کرنا * *n.* Act of trespassing ; injury or offence done to another : دست - اندازی - ہرج - خٹا

Tress, n. A lock or curl of hair ; a ringlet : زلف - گہر - لٹ - کاکل

Trestle, n. The frame of a table : میز کا ڈھانچا

Tret, n. An allowance by wholesale dealers to retail purchasers for waste or refuse matter : یادہ - کردا - سرخٹی - جھوت - کھارنا

Trevet, n. A three-legged frame : قکتی - تپائی - سہ پایہ

Trey, n. A three at card : تیا - تری

Trial, n. Examination : آزمائش * **Experience :** * **Judicial examination :** * تجربہ * **Suffering :** * تکلیف - مصیبت * **To commit for—** * روکھاری - پیشی * **To bring to—** * ماخوض کرنا

Triangle, n. A figure of three angles : - مثلث
Triangular, a. Having three angles : - مثلثی
 ٹکونیا - گوشہ
Tribe, n. A family ; race ; class : - قوم - ذات - درجہ
Triblet, n. A goldsmith's tool for making rings :
 زرگر کا انگشتری بنانے کا اوزار
Tribulation, n. Severe affliction ; vexation ;
 distress : - کوفت - رنج - تکلیف - مصیبت
Tribunal, n. A court of justice : - عدالت
Tribune, n. A Roman magistrate : - رومیوں کا حاکم
 A raised place, from which speeches
 are delivered : - مجمع عام میں تقریر کرنے کی جگہ یا
 پبلٹریک
Tributary, a. Paying tribute to another ; subor-
 dinate : - مطیع
n. One who
 pays tribute : - خراج گزار
A stream which flows
into a larger stream : - بچا خراج گزار یا معاون دریا
Tribute, n. A payment made for protection ; a
 personal contribution : - خراج - نذر - بھیت
Syn. - Tax, grant, contribution.
Trice, n. A very short time ; an instant ; a
 moment : - لمحہ
v. t. To haul or tie
 up by means of a rope : - رسی سے کھینچنا
Tricennial, a. Occurring once in every thirty
 years : - سی سالہ
Trick, n. Artifice ; dexterous stratagem ; clever
 contrivance to puzzle or amuse ; a peculiarity :
v. t. * صکر - فریب - دھوکا دینا - شہدہ بازی - خاصیت
 To cheat : - دھوکا دینا - فریب دینا
Trickery, n. Artifice ; fraud : - فریب - دغا بازی
Trickle, v. i. To flow on a small gentle stream ;
 to run down : - بہنا - رستا - ٹپٹپا - چھوٹا
Trickster, n. One who practises tricks : - دغا باز -
 چالیا
Tricky, a. Given to tricks : - عیار - فریبی
Tricycle, n. A velocipede with three wheels :
 تین پہلے کی گاڑی
Trident, n. A three-pronged fishpear : - ترسول
Triennial, a. Being every third year : - سے سالہ
Trifid, a. Three-cleft : - تینہ باز

Trifle, n. A thing of very little value or impor-
 tance : - ٹاپچیز
v. t. or i. To waste ; to
 act or talk with levity : - افر کام کرنا - بیوقوفانہ
Trifling, a. Being of small value or importance ;
 trivial : - ٹاپچیز - بیقدر - ہیج - حقیر
Trifoliate, a. Having three leaves : - سے برگہ -
 تہ پتیا
Trifurcate, a. Having three prongs : - سے شاخہ
Trig, v. t. To stop as a wheel : - لڑیا اوزار لگانا
Trigger, n. A catch by which a gun is fired :
 بندوق کا گھوڑا
Trigonal, a. Triangular : - سے گوشہ - ڈکونیا
Trigonometry, n. The art of measuring the
 sides and angles of triangles : - علم مثلث
Trilateral, a. Having three sides : - تین ضلعوں کا
Trilingual, a. Consisting of three languages :
 تین زبانوں کا
Triliteral, a. Consisting of three letters :
 سے حرفی
Trill, n. A shaking of the voice : - آواز کی لرزش -
 گنگری - تک - قرانا
Trill, v. t. or i. To shake ; to trickle : - تھرتھرانا -
 چھوٹا
Trillion, n. The product of a million involved to
 the third power : - ہندس - مہاسنکھ - دس لاکھ کی
 تیسری قوت
Trim, a. Nice ; dressed up ; in good order ; well-
 set : - قفیس - بنا ہینا - ٹیک - درست - مقلع - خوش
v. t. or i. To adjust ; to adorn ;
 to clip ; to chastise : - ٹیک کرنا - آراستہ کرنا - قلم
n. Dress ; condition : - لباس - آڑے ہاتھ لینا
 حالت
Trimeter, n. A poetical division ; verse consist-
 ing of three measures : - ہجر مثلث
Trimmer, n. A time-server ; one that trims :
 مرقع بین - ابن الوقت - تھالی کا بیگن - قابر پرست -
 آراستہ کرنیوالا
Trimming, n. Ornamental appendage :
 زیبائش
 کی چٹنیز
Trinal, Trine, a. Threefold : - سچند - تگنا
Trinity, n. The union of three persons in one
 Godhead : - تثلیث

Trinket, n. A small ornament ; a thing of little value : - تھکری - انگڑھی - لباس کی آرائشی چیزیں - ناچیز ہے

Trinomial, n. A quantity consisting of three terms : - تین رکن کی ایک مقدار

Trio, n. A piece of music for three performers : - تین راگن کا میل

Trip, v. i. To skip ; to travel ; to make a false step ; to err : - آہستہ آہستہ چلنا - قومکنا - گشت کرنا - **v. t.** To stumble ; to fall : - ٹھوکر کھانا - غلطی کرنا
A skip : چال * **A false step** : گشت * **An error** : غلطی - خطا - چوک

Tripartite, a. Divided into three parts : - سہ شاخہ - پنکھا

Tripe, n. The entrails ; the stomach of remaining animals prepared for food : - انتڑی - پیٹ - جھرجھہ - پیچھرنی

Tripedal, a. Having three feet : - سہ پایہ

Triphthong, n. A combination of three vowels in a single syllable : - تین حروف علت کا اجتماع

Tripple, a. Treble ; threefold : - سہ چند - **v. t.** To make threefold : - تکرنا کرنا - سہ چند کرنا

Triplet, n. Three verses rhyming together : - سہ مصرعی

Triplicate, a. Threefold : - تکرنا - سہ چند

Triplicity, n. State of being threefold : - سہ چندی - تکرنا پن

Tripod, n. A table or seat having three feet : - تپڑی - سہ پایہ

Tripper, n. He who walks nimbly : - سبک قدم چلنے والا - تیز رو

Trisect, v. t. To divide into three equal parts : - تین مساوی حصوں میں تقسیم کرنا - تثلیث کرنا

Trisyllable, n. A word composed of three syllables : - تین حرکات کا لفظ

Trite, a. Worn out ; stale ; common : - پرانا - کھنٹا - معمولی

Triturate, v. t. To rub or grind to a very fine powder : - بکنی کرنا - پیسننا - سفوف بنانا

Trituration, n. Act of reducing to a powder by grinding : - سفوف سازی - پسائی

Triumph, n. Conquest ; exultation : - ظفر - فتحیابی - خوشی
v. i. To rejoice over success ; to obtain victory ; to flourish : - فتح پانا - سرسبز ہونا - پہلنا پھولنا

Triumphal, a. Pertaining to triumph : - فیروز مندی کا - فتح کا

Triumphant, a. Celebrating victory ; victorious : - کامیابی کی خوشی کر ڈیوالا - فتوح مند

Triumvirate, n. Government by three in coalition : - حکومت ثلاثہ

Triune, a. Three in one : - تثلیث

Trivial, a. Light ; trifling ; worthless : - سبک ناچیز - خفیف - ہیچ

Triviality, n. The state or quality of being trivial ; a trifle : - ہلکاپن - خفت - ہیچ بات

Trochee, n. A foot of two syllables, the first accented and the second unaccented : - شعر کا وزن جس میں اول رکن دراز اور دوسرا کوتاه ہوتا ہے

Troll, v. t. or i. To roll ; to sing loudly or freely ; to allure ; to fish by moving the bait quickly : - گھومنا یا گھومانا - چکر دینا - زور سے آزادانہ گانا - انڈرا پکڑنا - بھولانا - مچھلی پکڑنا

Trollop, n. A slut : - پھوڑھ - جلی

Trombone, n. A deep-toned brass wind instrument : - بھیر کی قسم کا ایک باجا - تروہی

Tromp, n. A blowing apparatus used in furnaces : - ایک قسم کی دھوکھی

Troop, n. A multitude ; an army ; a company : **v. i.** To gather in crowds ; to march forward in haste : - جمع ہونا - جلدی سے آگے بڑھنا

Trooper, n. A horse-soldier : - لشکری

Trophy, n. Something gained by conquest : - فتح و اہت کی نشانی

Tropic, n. One of the two small circles of the celestial sphere, situated on each side of the equator : - خط سرطان یا خط جدی

Tropical, a. Pertaining to the tropics : - درمیانی خطوط سرطان و جدی - جازہ - گرم

Trot, v. i. To move in a trot : - ڈلکی چلنا

Trot, n. The jolting high pace of a horse : - ڈلکی - کو کر چال

Troth, n. Belief ; fidelity ; verity : - ایمان - دیانت - سچی

Trotter, n. A trotting horse : ڈاکٹی چلنے والا گھوڑا

Trouble, v. t. To agitate ; to annoy ; to distress : تکلیف دینا - دکھ دینا - ستانا
n. Perplexity ; affliction ; molestation ; that which afflicts : حیرانی - مصیبت - دکھ - ایذا - تکلیف - درد سر

Troublesome, a. Giving trouble ; annoying ; wearisome : تکلیف دہ - رنج آور - دکھ دانی

Syn.—Harrassing, annoying, wearisome.
Ant.—Soothing, comforting, pleasing.

Troublous, a. Full of civil commotions ; disordered : دہرم برہم - ابتور - بے قرار

Trough, n. A long hollow vessel for holding water or other liquids : ٹانڈ - کونڈا

Trounce, v. t. To punish or beat severely : سزا دینا - مارنا

Troupe, n. A company of performers in a play : گروہ - طیفہ - جماعت

Trousers, n. pl. Loose pantaloons for the legs : پرتھامہ

Trout, n. A fresh water fish : ایک قسم کی مچھلی

Trow, v. i. To think ; to believe : سوچنا - خیال کرنا - یقین کرنا - ماننا

Trowel, n. A tool used by masons or gardeners : کرنا - کنی

Truant, n. An idler : کالھ شخص * A boy staying away from school : کھاراز لڑکا * To play the—, **a.** Idle ; wandering : کالھ - آوارہ - کھاراز

Truce, n. A temporary cessation of hostilities ; short quiet : صلح چند روزہ - مہلت یا توقف
Syn.—Intermission, cessation, respite.
Ant.—Continuance, incessancy.

Truck, v. t. or i. To exchange commodities ; to barter : تجارت میں عیوض معاوضہ کرنا لین دین کرنا * **n.** Exchange of commodities ; barter : تجارت - پہیہ - آوارہ - سوداگری - مبادلہ

Trunkle, n. A small wheel or caster : چھوٹا پہیہ * **v. i.** To yield or bend obsequiously to the will of another : تابعدار ہونا - دینا

Truculent, a. Savage ; barbarous ; cruel : وحشی - بیرحم - سنگ دل

Trudge, v. t. To go on foot ; to travel with labour : پاؤں پاؤں چلنا - پاؤں گھسیٹنا - ریز کرنا

True, a. Not false ; exact ; faithful ; genuine ; actual : راست - سچا - ٹھیک - ایماندار - اصلی - حقیقی
 —to one's salt, loyal ; faithful : نمک حلال

Truffle, n. A kind of mushroom, esteemed in cookery : ککر مرٹا

Truism, n. An undoubted or self evident truth : سچائی - راستی

Truly, adv. In truth ; exactly ; faithfully ; in fact : سچ - سچ - ٹھیک ٹھیک - وفاداری سے - فی الحقیقت

Trump, n. A trumpet : ترہی * A winning card : v. t. or i. To take with a trump card : میر سے بازی جیتنا
 To deceive : دھوکا دینا - طرب لگانا - فریب کرنا

Trumpery, n. Empty talk ; trifles : بیہوشہ گفتگو - قاجچی - اشیا

Trumpet, n. A wind instrument of music : ترہی * **v. t.** To publish by sound of trumpet ; to proclaim : ترہی بجانا - منادی کرنا - مشہور کرنا

Trumpeter, n. One who sounds a trumpet : پکتر - کبوتر کی ایک قسم

Truncate, v. t. To cut off ; to lop : کاٹنا - چھیننا - تالم کرنا

Truncation, n. Act of lopping or cutting : کاٹ - چھیننا - تالم

Truncheon, n. A short staff ; a club : چوبیس - لاتی - سونٹا

Trundle, n. Any round rolling thing ; a low cart ; a little wheel : گول چیز - تھیلہ - چھوٹا پہیہ

Trundle, v. t. or i. To roll : لڑھکانا - لڑھکانا

Trunk, n. The main body of anything : تنہ * Proboscis of an elephant : خرطوم - آتھی * Chest for clothes : صندوق * **A long tube :** لمبی ٹی

Truss, n. A bundle of hay ; a bandage of raptures : ٹکڑے کا بندا ہوا ٹکڑا * **v. t.** To bind or pack close : ٹکڑے باندھنا - چکڑنا

Trust, n. Confidence ; credit ; given hope ; something committed to one's care for safe keeping ; a deposit : یوروسہ - اعتبار - قرض - اُمید - امانت
In—, Breach of—, a. Breach of—, **v. t.** To rely on ; to believe ; to intrust to ; to give credit to ; to hope : بھروسہ کرنا - یقین کرنا - قرض دینا - اُمید کرنا

Trustee, a. One intrusted with anything : امارت - دار - ذمہ دار

Trustful, a. Reliable ; faithful : - معتبر - وفادار - دیانت دار

Trustworthy, a. Worthy of trust or confidence : قابل اعتبار - بھروسے کا

Trusty, a. Honest ; reliable : - ریشہ انداز - دیانت دار

Truth, n. Conformity to the fact ; exactness ; constancy ; veracity ; honesty ; reality ; a verified fact : - موافقت مطابقت ثابت قدمی - صداقت - سچائی - ایمانداری - اصلیت - امر تحقیق شدہ

Truthful, a. Full of truth : راست - صادق - سچا

Truthfulness, n. Faithfulness : صداقت - سچائی

Try, v. t. or i. To test ; to experience ; to refine as metals ; to examine judiciously ; to attempt : آزمانا - جانچنا - تجربہ کرنا - صاف کرنا - سماعت کرنا - **To—on**, to put on as a garment ; to see if it fits : **To—** * پہن کر دیکھنا : **To—out**, دیدہ ریزی * **To—the eyes**, کوشش کیے جانا کرنا

Trying, a. Severe ; afflictive : سخت - شدید - دشوار

Tub, n. An open wooden vessel : کھجور - گھوڑتی - ٹانڈ

Tube, n. A pipe ; a long hollow body or cylinder : ٹیبل - چرنکا - قوتی

Tubercle, n. A small pimple : پورزا - ڈلٹی

Tuberculous, a. Full of pimples : گڑہ دار - گھبلا

Tubular, a. Resembling pipe or tube : ٹیبل سا - چھوٹی ٹیبل * **n.** A small tube :

Tuck, n. A long, narrow sword ; a fold in a dress ; a kind of net : * سیف - نیچوہ - توبہ - جال : **v. t. or i.** To thrust or press in or together ; to fold under ; to contract : دبانا - لپیٹنا - مورنا - سکڑنا

Tuesday, n. The third day of the week : سہ - شنبہ - منگل

Tuft, n. A cluster or bunch of small things : جوتھ - گچھوا - دستہ

Tuft, v. i. To separate into tufts ; to adorn with tufts : گچھا بنانا - ٹوٹے سے آراستہ کرنا

Tug, v. t. or i. To pull or draw : * کھینچنا - کھینچنا * **n.** A pull with the utmost effort : کشش - کھینچ

Tuition, n. Guardianship ; instruction : نگرانی - تعلیم - پڑھائی

Tuitionary, a. Pertaining to instruction : تعلیم کے متعلق

Tulip, n. A bulbous plant producing flowers of great beauty and of a variety of colours : شقایق - لالہ

Tumble, v. t. or i. To turn over ; to roll ; to come down suddenly : اولت پلٹ کرنا - اوندھنا - پچھڑ - ناہازی - ہٹک * **n.** Act of tumbling or rolling over a fall : ڈھلکنا

Tumbler, n. A large drinking glass : آبخوری - گڑہ باز کبوتر * A kind of pigeon : گلاس - نامارت لوتن

Tumbrel, n. A rough cart : لڑھکیا - چھکڑا

Tumefaction, n. A swelling ; a tumour : سرجن - ورم - آماس

Tumefy, v. t. or i. To swell ; to rise in a tumour : سرجنا - پھرنا - جھلانا - آماس کرنا

Tumid, a. Swelled ; protuberant ; bombastic : سوجا ہوا - اُبھرا ہوا - نمائشی - مبالغہ آمیز

Tumour, n. A morbid swelling : پھورزا - گلٹی - سرجن - آماس

Tumult, n. Noisy confusion ; a stir : ہنگامہ - بلوہ - ہل چل - ہڑبڑی

Tumultuous, n. Full of tumults ; disturbed ; violent : پر آشوب - فتنہ انگیز - تند - تیز

Tun, n. A large cask ; a measure of 252 gallons : **v.** * ایک بڑا پیپا - اٹھائیس من کا ایک پیمانہ : **t.** To put into tuns or cask : پیپروں میں رکھنا

Tunable, a. Harmonious : ہم آہنگ - سربلا

Tune, n. Sound ; a series of musical notes ; harmonious accordance ; fit temper : آواز - سر - **v. t.** To put into a proper musical state : **v.** * خوش آہنگی - راگ - صحیح مزاج سر ملانا - ہم سازی : کرنا

Tuneful, a. Harmonious ; melodious ; musical : خوش آہنگ - میٹھا - سربلا

Tunic, n. A loose garment ; a natural covering : کرتہ - کرتی - جھلی - پیرست

Tunicle, n. A natural covering : چھلی * A long robe : ابادہ

Tunnel, n. A pipe for pouring liquor into vessel : شراب کو پیپوں میں بہرنے کا ٹک : A subterranean passage cut through a hill or under a river : زمین دوز راستہ - سرنگ

Turban, n. A head-dress : - سربند - عمامہ

Turbid, a. Not clear ; muddy : مکدر - گدلا - مکر

Turbulence, n. Confusion ; tumult ; sedition ; riot : فساد - ہنگامہ - شورش - بلوہ - فدر

Turbulent, a. Disturbed ; refractory : - مدجزن - پز زور و شور - مفسد - دنگنی موجزن - سرکش

Syn.—Tumultuous, disorderly, riotous.

Turf, n. The upper stratum of earth which is filled with roots ; a sward ; sod ; race ground :

وہ زمین جس میں نبات کی جڑ ہوں - - بجزہ زار - ڈھیلے -

v. t. To cover with turf or sod :

وہ ڈھیلے جمانا جنہیں نبات کی جڑیں ہوں

Turgent, a. Swelling ; tumid : پھولتا : سوجتا ہوا - آماس آزر - اٹھرا ہوا - لفاظ

Turgescence, n. State of being swelled : - درم - آماس - سوجن

Turgid, a. Swelled ; pompous : سرجا ہوا - پھولا : ہوا - نمائشی - پوپساما

Turkey, n. A large fowl : پھرو - ٹیل مرغ

Turkois, n. A bluish gem : فیروزہ

Turmeric, n. An East Indian plant used for dying and also as a medicine : زرد چوب - ہلدی

Turmoil, n. Trouble ; disturbance : تکلیف. اہذا - : شور و فساد - ہنگامہ - شرش

Turmoil, v. t. To harass ; to weary : - حیران کرنا - پریشان کرنا - بیچین کرنا

Turn, v. t. or i. To move or go round ; to change ; to transfer ; to shape ; to divert ; to

گھومنا - گھوماننا - : to form in a lathe ; to translate :

بدلتا - حالت پلٹنا - تبدیل کرنا - بنانا - ڈول ڈالنا

To—about, to move the face to another direction : درجہ

درجہ **To—** against, to become an opponent : گھومنا * **To—**

against, to become an opponent : گھومنا * **To—**

To—away,—away from, to move away the

face : روانہ ہونا * **To** dismiss : **To** dismiss

دور : **To** dismiss : **To** dismiss

To—aside, to go one side : کرنا - ہٹا دینا

To— in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

in, to fold or double : ہٹانا * **To—**

prove treacherous : * برخلاف یا بے ایمان ہرجانا
To—one's money or goods, To—a penny, روپیہ بیزار میں لگانا - کمانا - اُلت پات کرنا
Turn, *n.* Revolution ; rotation ; deviation ; a short excursion ; change ; shape ; act ; tendency : گردش - چکر - دورہ - انقلاب - گشت - معارضہ - باہری * **By—s,** alternately : باہری * **In—,** in due order of succession : * **To a—,** exactly : ہر بہر - بعینہ : * **To a—,** of life, the period of life between the ages of 40 and 50 : ادھیڑ ہی
Turncoat, *n.* One who changes sides or principles : جو اپنے اصول سے پھر جائے
Turner, *n.* One who forms articles with a lathe : لوٹن کپوتر * **A kind of pigeon** * خراب پر اوتارنے والا
Turnip, *n.* A white esculent root : داغم
Turnkey, *n.* One who keeps the keys of a prison : جیلخانہ کی کنجیاں رکھنے والا
Turn-out, *n.* An equipage ; a strike ; a number of persons come out to see a spectacle ; produce : گاڑی گھوڑا - سوارہی - کئی آدمیوں کا مل کے قریک ملاحظت - بہت سے لوگوں کا کرنی تماشا دیکھنے کو نکلنا - پیداوار
Turnpike, *n.* A toll-gate : سڑک کے آر پار کا پھانک
Turnstile, *n.* A revolving frame in a footpath : چکر دانت سے گزرنے کی چکر دار گھڑکی
Turpentine, *n.* A resinous juice from pine trees : تارپین - گندہ بردہ
Turpitude, *n.* Baseness of principle or conduct : کمینگی - بدداتی - شرارت - رزالت
Syn. Baseness, depravity, wickedness.
Turret, *n.* A small tower : کلس - برجی - کنگورہ
Turtle, *n.* A dove ; the sea-tortoise : قمری - ناگتہ - کچھورا
Turtledove, *n.* A dove : ناگتہ - قمری
Tush, *n.* A horse's canine tooth : گھڑے کے کھرتیے (دانت)
Tush n. A long pointed tooth : * نوکدار دانت : ایک قسم کی مچھالی
Tutelage, *n.* Guardianship ; protection : اٹالیقی - محافظت - نگہبانی
Tutelary, *a.* Guarding ; protecting : محافظت - نگہبان - حامی

Tutor, *n.* A guardian ; a private or public teacher : سرپرست - ولی - استاد - معلم
Tutorage, *n.* Guardianship ; tutorship : سرپرستی - معلمی - استادہی
Tutress, *n.* A female tutor : معلمہ - استادہی
Twaddle, *v. i.* To prate : بے ہودہ بکنا - فضول گوی
n. Foolish talk : بے ہودہ گفتگو * **کرنا** - ہرزہ گزنی کرنا
Twain, *a.* Two : دو
Twang, *v. t. or i.* To sound with a quick sharp noise : * **توتھینانا** - جنھارنا
n. A sharp quick sound : توتھناہٹ
Twattle, *v. i.* To prate ; to chatter : بکوا کرنا - بچڑانا
Twinkl, *v. t.* To pinch ; to twitch ; to twinge : چٹکی * **چٹکی بھرنا** - مروڑنا - ملنا
 jerk : چٹکی - جھٹک
Tweed, *n.* A kind of woollen cloth : ایک قسم کا اونی پیرا
 Tweedie, *v. t.* To handle lightly : ہلکے ہاتھ سے سارنگی بیجانا
Tweezers, *n. pl.* A pair of delicate nippers ; small pincers : چوٹی - نکچوٹی
Twelfth, *a.* The ordinal of twelve : دراز دہم - بارہواں
Twelve, *a.* Two and ten : درازدہ - بارہ
Twentieth, *a.* The ordinal of twenty : بیستم - بیسواں
Twenty, *n.* Twice ten : بیست - بیس
Twice, *adv.* Two times ; doubly : دو مرتبہ - دوبارہ - دوگنا
Twig, *n.* A small shoot or branch : ڈالی - ٹہنی
Twiggy, *a.* Full of twigs : ٹہنیوں سے بھرا ہوا
Twilight, *n.* The faint light perceived before the rising and after the setting of the sun : شفق - نیم تاریکی - سوہام
Twin, *n.* One of two produced at a birth : ہمزاد - توام
Twine, *v. t. or i.* To twist together ; to wind : * **بل دینا** - لپیٹنا - گھومنا - ستلی - بان - رسی
Twinge, *v. t. or i.* To tweak ; to have a sudden sharp, local pain : * **مروڑنا** - درد کرنا - ٹیس مارنا
n. A pinch ; a darting local pain : چٹکی - درد - ٹیس

Twinkle, v. t. To sparkle ; to flash at intervals ; to wink : پلک مارنا - چمکانا - چمکانا - چمکانا - چمکانا
n. A quick motion of the eye ; sparkling ; instant : - چھپک
 جھولناہٹ - پل - لعلظہ

Twinkling, n. Quivering light : - ڈھولناہٹ
 پل - لعلظہ
 * An instant : جھولناہٹ

Twirl, v. t. To whirl round : - چکر دینا
 تیز گردش - * **n.** A rapid circular motion : چکر

Twist, v. t. To complicate ; to pervert ; to wreath ; to insinuate ; to twine : اور لپیٹنا - معنی
 * **n.** پیچیدگی - لپیٹنا - گھمانا - اشارہ کرنا - بٹنا - بوائنڈا
 Contortion ; form given in twisting a cord :
 سوزناش کرنا - سوز - لچھی - تورپی - ٹکا

Twit, v. t. To upbraid ; to sneer : - ملامت کرنا

Twitch, v. t. To pull with a sudden jerk ; to snatch : چھیننا
 * **n.** A sudden pull : چھینکا

Twitter, v. i. To make a small intermitted noise : چرس
 * **n.** A small intermitted noise : چرس
 دبی ہوئی ہنسی : * **n.** A half suppressed laugh : چرس

Two, a. One and one : دو

Two-edged, a. Having two edges, or edges on both sides : دردھارا

Tyke, n. A dog ; a cur : کتا - سگ

Tymbal, n. A kind of kettle drum : تنبور - نقارہ

Tympanize, v. t. or i. To stretch, as skin over a drum ; to beat the drum : ڈھول منڈھنا - ڈھول نوازی کرنا

Tympanum, n. The drum of the ear : - پردہ گوش
 کان کا پردہ

Type, n. Stamp ; impressed form ; emblem ; the model ; printing letters collectively : - ٹیپ
 نشان - نمونہ - چھاپے کے حرف

Typhoon, n. A violent tornado or hurricane : سخت طوفان

Typhus, n. An exhausting contagious fever : ایک قسم کا بخار

Typic, Typical, a. Emblematical : علامت دار

Typify, v. t. To show in emblem : علامت سے ظاہر کرنا

Typography, n. The art of printing : فلزی حرفت سے چھاپنے کا فن یا عمل

Tyrannical, a. Despotic ; arbitrary : پو جرز - ظالمانہ

Syn.—Domineering, arbitrary, despotic.

Tyrannicide, n. Act of killing a tyrant ; one who kills a tyrant : ظالم کشی - ظالم کش

Tyrannize, v. i. To act as a tyrant : - ستم کرنا
 ظالم کرنا - ستانا

Tyrannous, a. Tyrannical : ستمگر - ظالم

Tyranny, n. Oppression ; absolute power : - ستم
 ظالم - جرز - جفا

Tyrant, n. A despotic ruler ; a cruel master ; an oppressor : جاہل - ظالم - مردم آزار - ستمگر

Tyro, n. A beginner in learning ; a person imperfectly acquainted with a subject : مبدئی - نو - آموز - خام - کچھا

Syn.—Beginner, novice, learner.

U

Uberous, a. Fruitful ; abundant : - بارآور
 زرخیز - ثنیر

Uberty, n. Abundance ; fruitfulness : - افراط
 بارآوری - زرخیزی

Ubity, n. State of being in a place ; local relation : کسی جگہ میں موجودگی - نسبت مکانی

Ubiquitous, a. Present everywhere : ہر کہیں
 موجود

Ubiquity, n. Existence in all places at the same time ; omnipresence : - ہر جگہ موجود ہونے کی صفت

Udder, n. The bag or teats of a cow : - امین - بانہہ
 تھن - پستان

Ugly, a. Offensive to the sight ; ill-natured : - نرینہ منظر - بد صورت - بداخلق

Ulcer, n. A sore discharging pus : فرحہ - زور

Ulcerate, v. t. or i. To affect with an ulcer ; to become ulcerous : فاسور کرنا - فاسور ہونا

Ulceration, *n.* The act of ulcerating : **ناسرور کا**
 جز پانا

Ulcerous, *a.* Affected with an ulcer : **ناسرور دار**

Uliginous, *a.* Oozy ; maddy : **رسنے والا - مٹیلا**

Ullage, *n.* That quantity of liquor which a
 cask wants of being full : **وہ مقدار جز بھرے ہوئے**
 پیٹے میں کم ہو گئی ہو

Ulna, *n.* The large of the two bones of the
 fore-arm : **ہاتھ کی بڑی ہڈی**

Uterior, *a.* Lying beyond ; more distant ;
 further : **پہلا - دورتر - زیادہ - اور**

Ultimate, *a.* Furthest ; latest : **دورتر - آخری - پچھلا**

Ultimatum, *n.* A final proposition or condition :
آخری بات - آخری شرط یا تجویز

Ultimo, *n.* The last month preceding the present :
ماہ گذشتہ

Ultra, *a.* Extreme or extravagant : **بہت - اڑحد**

Ultramarine, *a.* Being beyond the sea : **سمندر**
n. A fine blue colour : **ایک قسم کا نیلا رنگ**

Ultramontane, *a.* Being beyond the mountain :
پہاڑ کے دوسری جانب

Ultramundane, *a.* Beyond the world : **دنیا سے باہر**

Umber, *n.* An iron ore, often used as a pigment :
ایک قسم کی مدنی ہے

Umbilical, *Of or pertaining to the navel :* **متعلق**
نال - انول نال - cord - ناف - ناف کا

Umbo, *n.* The portuberant part of a shield : **تہہ -**
تھال کا اڑبھڑا ہوا حصہ

Umbrage, *n.* Shadow ; shade : *** سایہ - چھائیں**
Resentment : **To take - * خفگی - ناراضی**
برا ماننا - رنجیدہ خاطر ہونا

Umbrageous, *a.* Shady ; obscure : **- سایہ دار -**
دھونڈلا

Umbrella, *n.* A portable screen for sheltering the
 person from the sun or rain : **چھتری - چھانا**

Umpirage, *n.* The decision of an umpire ;
 arbitrament : **نیصلہ پنچایت - ٹالٹی**

Umpire, *n.* One to whose decision a dispute is
 referred : **سورینچ - ٹالک**

Unabashed, *a.* Not ashamed ; undaunted : **بے**
شرم - بے ہاکی - نڈر

Unable, *a.* Not having sufficient strength,
 means, skill or the like : **بے مقدر - عاجز -**
نا قابل

Unabridged, *a.* Not shortened or curtailed :
بلا اختصار

Unabsolved, *a.* Not forgiven : **خاموشا - درمندا**

Unaccented, *a.* Not accented : **غیر مافوظ - جسپر**
پڑھنے میں زور نہ دیا جائے

Unacceptable, *a.* Not acceptable ; not pleasing :
نامستور - ناگوار

Unaccountable, *a.* Not to be accounted for :
بلا دلیل - لاجواب

Unaccredited, *a.* Unauthorised : **- غیر مقبولہ -**
غیر معجاز

Unaccustomed, *a.* Not accustomed : **- غیر معمول -**
غیر مانوس

Unacquainted, *a.* Not acquainted : **بے - ناواقف -**
خبر - نا آشنا

Unadvisable, *a.* Not advisable : **نامناسب**

Unaffected, *a.* Not affected or moved ; simple ;
 natural : **غیر متاثر - بے تکلف - سادہ - ذاتی**

Unaffectedly, *ad.* Really ; without disguise :
حقیقتاً - بلا بناوت

Unaided, *Not assisted ; not helped :* **- بلا مدد -**
بغیر امداد

Unalloyed, *a.* Unmixed ; pure : **بے میل خلص**

Unalterable, *a.* Unchangeable : **- ناقابل تبدیل -**
غیر متغیر

Unanimity, *n.* Agreement in opinion or deter-
 mination : **اتفاق - یکدلی - ہمدلی - اتحاد**

Unanimous, *a.* Of one mind ; agreeing in opin-
 ion or determination : **- یکدل - متفق - ہمد -**
ہمراے - ایک صلح

Unanimously, *ad.* With entire agreement of
 minds : **متفق ہو کر - یکدلی سے**

Unanswerable, *a.* Not answerable : **- لاجواب -**
منہ نہ توڑ

Unappealable, *a.* That cannot be appealed ;
 جسکی اپیل نہ ہو سکے

Unappeasable, *a.* That cannot be pacified :
بلا تسکینی - بلا تسکین

Unapprehensible, *a.* Not capable of being
 understood : **بجیدانہم**

Unapprised, *a.* Not previously informed ;
ناگوار - نا معلوم - نا واقف - بے خبر

- Unappropriated, a.** Not appropriated : غیر مخصوص - غیر مشخص - بلا تصرف
- Unarmed, a.** Not furnished with arms, or defence : بے ہتھیار - بے سلاح
- Unascertained, a.** Not certainly known : بلا تحقیق
- Unassuming, a.** Not assuming ; modest : بے زعم - حیاء دار
- Unattainable, a.** Not to be gained ; being out of reach : - غیر ممکن الحصول - پہنچ کے حد سے باہر
- Unattempted, a.** Not tried : نا آزمودہ
- Unauthorised, a.** Not warranted by authority : بلا حکم - بے اجازت - نا جائز
- Unavailing, a.** Of no avail ; useless ; ineffectual : لا حاصل - بے فائدہ - بے تاثیر
- Unavoidable, a.** Not avoidable ; necessary : لاعلاج - ناگزیر - ضروری
- Unaware, a.** Not aware : بے خبر - ناواقف - غافل
- Unawares, adv.** Unexpectedly ; suddenly : ناگہان - یکانیک - اچانک
- Unbar, v. t.** To unfasten ; to open : آڑ دور کرنا - کھول دینا
- Unbearable, a.** Intolerable : ناقابل برداشت
- Unbecoming, a.** Not becoming ; improper : نامناسب - نازیبا
- Unbelief, n.** Incredulity ; irreligion : بے اعتمادی - بے دینی
- Unbeliever, n.** One who has no religious faith ; an infidel : غیر معتقد - کافر - منکر - بے دین
- Unbelieving, a.** Not believing ; infidel : نامعتقد - منکر - کافر
- Unbend, v. t.** To free from flexure ; to relax : کھولنا - سیدھا کرنا - ڈھیلا کرنا - تازہ کرنا
- Unbias, v. t.** To free from bias or prejudice : مابعدی سے بڑی کرنا - بے لوث کرنا
- Unbidden, a.** Not invited ; spontaneous : بغیر بلائیے - خود بخود - از خود
- Unbind, v. t.** To unite ; to loose : کھولنا - ڈھیلا کرنا : کھولنا
- Unblamable, a.** Not blamable ; innocent : ناقابل الزام - بے قصور - بے گناہ
- Unblemished, a.** Not blemished ; spotless : بے عیب - بے نقص - بے داغ
- Unblest, a.** Not blest : ملامتوں - ملامتوں - نہاد - کھینچتہ
- Unblushing, a.** Not blushing ; bold-faced : بے شرم - بے حیاء - گستاخ
- Unborn, a.** Not born : نا زائیدہ - نا پیدا : Future : آئندہ - آئندہ
- Unbosom, v. t.** To disclose freely ; to reveal in confidence : راز فاش کرنا - بھیند کھینا
- Unbounded, a.** Unlimited : غیر محدود - بے حد
- Unbrace, v. t.** To unfasten ; to loose : کھولنا - ڈھیلا کرنا
- Unbred, a.** Unbegot ; untrained ; ill-bred : ذرا تربیت : Better be unborn than unbred, خاکسار سے زائید اچھا - بے ادب - بے شعور
- Unbridled, a.** Unrestrained ; Licentious : * بے لگام - بے ضبط : نفس پرست - عیاش
- Unbroken, a.** Not broken ; untamed : ناشکستہ : پورا - بغیر چوڑا ہوا
- Unbrotherly, a.** Unbecoming a brother ; unkind : غیر برادرانہ - نامہربان
- Unbuild, v. t.** To demolish : گونا - توڑنا - مسمار : کرنا - ڈھا دینا
- Unburden, v. t.** To relieve from a burden : بوجھ سے اوتار لینا - ہٹا کرنا
- Uncage, v. t.** To set free : رکھ کرنا - آزاد کرنا - چھوڑ دینا
- Uncalled, a.** Not called : جسکو بلایا یا طالب نہ کیا : **Uncalled for,** * بے بلایا - ان بلایا - بلا دعوت جسکی ضرورت نہ ہو - بے بلایے - خود بخود - آہی
- Uncase, v. t.** To disengage from a case or covering : غلاف سے نکالنا - میان سے نکالنا
- Unceasing, a.** Continual : مداہم - المکاتار
- Unceremonious, a.** Without ceremony : بے سادہ - آسان : Plain ; easy : * تکلف - گہر کا سا
- Uncertain, a.** Not certain ; doubtful : غیر معین - غیر مقرر - مشتبہ - مشکوک
- Uncertainty, n.** State of being uncertain ; doubtfulness : بے اہتباری - بے ثباتی - شک - اشتباہ
- Unchangeable, a.** Not changeable : غیر تبدیل - غیر متغیر
- Uncharitable, a.** Not charitable ; unnecessarily attributing bad motives to others ; captious : تنگ دل - بے فیض - اوروں کے کلام یا فعل سے خراب مشورہ

Unchaste, a. Not chaste ; lewd : - بے عصمت - فاحشہ - نفس پرست

Unchastity, n. Lewdness ; incontinence : شہوت پرستی - بے عصمتی

Unchecked, a. Unrestrained ; not hindered : بے ضبط - بے روک

Unchristian, a. Contrary to the laws of Christianity ; infidel : مذہب عیسوی کے خلاف - کانٹ

Uncial, n. A large round letter used in ancient manuscripts ; چلی حروف

Uncivil, a. Not civilised ; impolite : - بد اخلاق - بے مروت - گستاخی - اجتہ

Uncivilised, a. Not civilised ; barbarous, rude ; indecent : - بے سلیقہ - وحشی - ناگزشتہ - ناشایستہ

Unclaimed, a. Not claimed : لادعویٰ - لا رازگی

Uncle, n. The brother of one's father or mother : عم - چچا - ماموں

Unclean, a. Not clean ; dirty ; morally impure : ناصاف - میلا - پلید - نفس پرست

Uncleanliness, n. Want of cleanness : - میلان - گندگی - ناصافی

Uncleanness, n. Want of cleanness ; lewdness : ناپاکی - کدورت - نفس پرستی

Unclose, v. t. To open ; to disclose : کھولنا - ظاہر کرنا

Unclouded, a. Free from clouds : صاف - ابڑ - بے ابر

Uncomely, a. Not comely or graceful ; unbecoming : بدزہب - بے قول - بے سچ

Uncomfortable, a. Affording no comfort : بے آسائش - بے آرام

Uncommon, a. Not common ; strange : شان - نادر - غیر معمولی - اثر کھا

Syn.—Rare, strange, remarkable.
Ant.—Familiar, ordinary, common.

Uncommonly, ad. Unusually : غیر - نرالے طور پر - معمولی طور پر

Uncompact, a. Not compact ; not close : ڈھیللا

Uncompromising, a. Not agreeing to terms : سہیل - سخت * Unyielding : ناراضمنہ

Unconcern, a. Want of concern : بے پروائی

Syn.—Indifference, carelessness.

Unconditional, a. Not conditional ; absolute : غیر مشروط - بے قید - مناطق

Unconfirmed, a. Not fortified by resolution ; not established : غیر منظور شدہ - بے ثبات

Unconformable, a. Inconsistent : - ناموافق - برخلاف - نامصائبق

Syn. Irregular, unlike.

Unconformity, n. Incongruity : - نامطابقت - ناموافق

Unconnected, a. Not joined together ; loose : بے ربط - بے میلا - بے جوڑ

Unconquerable, a. Insurmountable ; invincible : جو مغلوب نہ ہو - جو سر نہر - اچل

Syn.—Invincible, insuperable.

Unconscious, a. Not knowing ; not perceiving : نا معلوم - ذواقت - نادان - اذہان

Unconsciously, ad. Unknowingly : - نادانی سے - نا جانے ہوئے

Uncontested, a. Not contested or disputed : غیر نزاعی - بلا حجت

Uncontrollable, a. Ungovernable ; that cannot be resisted : بے روک - بے قابو - بے ضبط

Uncouple, v. t. To loose as dogs from their couples ; to disjoin : کڑوں کو کھول دینا - جدا کرنا

Uncourteous, a. Not courteous ; impolite ; rude ; بد اخلاق - بے مروت - بے ادب

Syn. Impolite, uncivil, unmannerable, rude.

Uncouth, a. Having awkward manners ; strange ; unusual : نادر - غیر معمولی

Syn.—Rustic, awkward, rude.

Uncover, v. t. To take the cover from ; to lay open : پردہ دور کرنا - کھولنا - ظاہر کرنا

Unction, n. An ointment ; soothing unguent : مذہبی خوش مرہم * Warmth of devotion : زخم کو تھنڈا کرنے والا مرہم

Unctuous, a. Oily ; greasy : چرب - چکننا - تیلیا - چکنی چھڑی

Uncultivated, a. Untilled ; rude ; uneducated : غیر مزروعہ - بلا تروہ - ناشایستہ - نا تربیت یافتہ

Uncurl, v. t. To loose or fall from curls or ringlets : بال بکھیرنا - لٹھ چھوڑنا

Uncustomary, a. Unusual : خلاف - غیر معمولی - دستور

Uncut, a. Whole ; entire : پورا - بالکل - توام

Undamaged, a. Not damaged : بے نقصان - بے زخم

Undaunted, a. Fearless ; intrepid : بے خوف
تندر - بے دھڑک - دلیرانہ
Syn. - Bold, intrepid, brave.

Undecayed, a. Not decayed : غیر بو-سیدہ

Undeceive, v. t. To free from deception : دھوکا دور کرنا - چیتا-آنا - آنکھیں کھولنا

Undecided, a. Not decided : * Unsettled ; irresolute : ناتمام - غیر مستقل

Undecisive, a. Not conclusive : غیر قاطع - غیر متعج - ناتمام

Undeiled, n. Unpolluted : پاک - بے داغ
Syn. - Pure, spotless, unblemished, unsullied, immaculate, untarnished.

Undefined, a. Not defined : غیر معین - غیر شخص - غیر محدود

Undemonstrative, a. Not given to strong expression of feeling ; reserved : جز اپنے دل کی باتیں بجزوش ظاہر نہیں کیا کرتا - سلیم الطبع - پختہ دھن

Undeniable, a. Not deniable : جس سے انکار نہ ہو سکے

Under, prep. Beneath ; below ; less than ; inferior to : کم - تلے - نیچے - زیر * *adv.* In a lower condition or state : *a.* Lower ; subordinate : کم-تاج - **arm**, fully armed and equipped ; ready for action : تیار - **fire**, exposed to the enemy's shot : دشمن کی ساز کے **ground**, below the surface of the ground : **one's hand**, signature, nature, seal, attested by one's signature or seal : **the breath**, in a whisper : **the rose**, secretly : چپکے سے

Underbid, v. t. To bid or offer less than another, as in auction : نیلام میں کم قیمت بولنا

Undercurrent, n. A current of water below the surface flowing in a direction contrary to the wind, and to the surface water moved by it : پانی کی دھار جو سطح کے نیچے بہتی ہو

Underfoot, adv. Beneath : نیچے - تلے

Undergo, v. t. To suffer ; to endure : سہنا - برداشت کرنا
Syn. - Bear, sustain, experience, pass through,

Undergraduate, n. A student who has not taken his degree : طالب علم جسکو نصیحت کا خطاب نہ ملا ہو

Undergrowth, n. That which grows under trees : جڑوں - جھمکڑوں جو درختوں کے نیچے اترے

Underhand, a. Secret ; clandestine : خفیہ - *adv.* By secret means ; by fraud : پوشیدگی سے فریب

Underlay, v. t. To lay under ; to support : تلے رکھنا یا لگانا - سنبھالنا - سہارا لگانا

Underlet, v. t. To let below the value ; to sublet : اجارہ در اجارہ دینا - شکم پیٹہ دینا

Underlie, v. t. To be situated under ; to form the foundation of : نیچے ہونا - بنیاد ہونا

Underline, v. t. To mark with a line below, as words : لفظوں کے نیچے خط کھینچنا

Underling, n. An inferior person ; a mean fellow ; a subordinate : ماتحت - ادنیٰ کارندہ

Undermine, v. t. To excavate the earth beneath : *To injure by underhand means* : نیچے سے بچھڑکا

Underneath, adv. or prep. Beneath ; below ; under : زیر - نیچے - تلے

Under rate, v. t. To under-value : کم قیمت ٹھہرانا - کم آگنا

Under-secretary, n. A secretary subordinate to the principal secretary : نائب - میسر منشی

Undersell, v. t. To sell cheaper : دوسرے سے کم قیمت پر بیچنا

Undersigned, n. The person who signed : رازم - دستخط کنندہ

Understand, v. t. or i. To comprehend ; to know ; to suppose ; to mean ; to learn ; to be informed : سمجھنا - معلوم کرنا - جانتا - آگنا - مطلع - ہونا - خبر پانا

Understanding, n. Act or power of apprehending and comprehending ; knowledge ; intelligence ; agreement between parties : سمجھ - ادراک - بده - قوف - اتفاق - میل
Syn. - Intellect, mind, reason, judgment, sense, brains.

- Undertake, v. t. or i.** To take upon one's self ; to engage in ; to attempt ; to be bound : ذمہ لینا - قبول کرنا - تعہد کرنا - قصد کرنا - کمر بستہ ذمہ وار - * To consent to— ہونا - اپنی ذمہ لینا
- Undertaker, n.** A manager of funerals : تدفین کرنے والا
- Undertaking, n.** Any business, work, or project which a person engages in or attempts ; enterprise : کام - تدبیر - عزمیت
- Undervalue, v. t.** To esteem lightly ; to despise : کم قیمت جاننا یا لگانا - تعظیم کرنا
- Underwood, n.** Small trees that grow among large trees : چھوٹے درخت جو بڑے درختوں کے نیچے اوتکتے ہیں
- Underwriter, n.** An insurer : بیمہ دار - بیمہ والا
- Undeserved, a.** Unmerited : - ناحق - غیر واجب
- Undesirable, a.** Not to be wished or desired : ناسزاوار - نامناسب - ناروا
- Undetermined, a.** Not decided ; not defined : بلا تقرریت - غیر مستقل - غیر مقرر - بے قرار
Syn.—Unsettled, undecided, wavering, hesitating, irresolute.
- Undeviating, a.** Not deviating ; regular ; steady : بے خطا - غیر منحرف - مستقل - ثابت قدم
- Undigested, a.** Not digested ; crude : جو ہضم نہ ہوا : ہر - خام - کچھا
- Undisciplined, a.** Untaught ; untrained : ناتعلیم : یافتہ - ناآزمودہ
- Undiscernible, a.** Not to be discerned : غیر محسوس - مخفی - نامعلوم
- Undiscovered, a.** Not seen : نا دید - نامعلوم - غیر دریافت شدہ
- Undisguised, a.** Not disguised ; frank ; plain : ناساختہ - بے ریا - صاف
Syn.—Open, ingenuous, unreserved, sincere, true.
- Undisputed, a.** Not disputed or called in question : بے بحث - بے حجت
- Undisturbed, a.** Not disturbed : - باآرام - بلا مزاحمت - بے رोक
- Undivided, a.** Not separated ; whole : شاملاتی - غیر منقسم - مسلم - کل
- Undo, v. t.** To reverse as what has been done ; to unfasten ; to ruin : رد کرنا - خراب و خستہ کردینا - کھول ڈالنا - برباد کرنا
- Undoing, n.** Reversal of what has been done ; ruin : منسوخی - تباہی - بربادی
- Undone, a.** Not performed or executed : - لاتمام - برباد
* Ruined : بلا تعمیر
- Undoubted, a.** Not doubted : - غیر مشتبہ - یقینی
- Undress, v. t.** To divest of clothes : ننگا کرنا - کپڑے اوتارنا
- Undue, a.** Not due ; not right : - غیر واجب - نامناسب - ناحق
- Undulate, v. t. or i.** To move backward and forward, as a wave : ہلورنا یا ہلور لینا - لہرانا
- Undulation, n.** A waving motion or vibration : لہر - تہرج - ہلور
- Unduly, adv.** In an undue manner ; excessively : نامناسب - بیجا - حد سے زیادہ
- Undutiful, a.** Not dutiful : سرکش - نافرمان
- Undutifulness, n.** Disobedience : نافرمانی - سرکشی
- Undying, a.** Unceasing ; immortal : لازوال - غیر خالی - جاودانی - قیوم
- Unearth, v. t.** To drive or draw from the earth : کھودنا - زمین سے اڑکھیننا
- Uneasiness, n.** Want of ease ; trouble ; perplexity : بے قراری - بے چینگی - اضطراب - حیرانی
- Uneasy, a.** Restless ; disturbed : بے آرام - بے قرار - مضطرب - بیابال
- Uneducated, a.** Not educated or instructed : ناتربیت یافتہ - جاہل - لاعلم - بے پھرہ
Syn.—Illiterate, unlettered, untaught, ignorant, rude.
- Unemployed, a.** Not employed or in use ; idle : بے شغل - بیکار - سست
- Unenlightened, a.** Not enlightened : نور عقل سے خالی - بے شعور
- Unequal, a.** Not equal ; uneven ; not regular : غیر مساوی - نابرابر - ناہموار - غیر واجبی
- Unequivocal, a.** Not doubtful ; clear : غیر مشکوک - صاف - صریح
Syn.—Indubitable, incontestable, clear, plain, evident, certain, positive, unambiguous.

Unerring, a. Committing no mistake ; certain :
بے خطا - صحیح - یقینی

Unessential, a. Not essential :
غیر ضروری - فضول

Uneven, a. Not equal :
ناہموار - غیر مساوی

Unevenness, n. Quality of being uneven :
نشیب و فراز - کجی

Unexampled, a. Unprecedented :-
لاٹائی - بے نظیر - بے مثال

Unexceptionable, a. Not liable to any exception or objection :
بے عیب - ناقابلِ حجت - ناقابلِ
* An unexceptionable testimony,
شہادت معتبر

Unexpected, a. Not expected ; sudden :
غیر متوقع - ناگہاں - یکایک

Syn. Sudden, abrupt, unanticipated.

Unexpectedly, adv. Suddenly :
ناگہانی - یکایک

Unexplored, a. Not searched ; unknown :
غیر تحقیق - نامعلوم

Unexposed, a. Not exposed or laid open to view :
مخفی - پوشیدہ

Unfading, a. Not liable to wither :
جو نہ مرجھائے

Unfailing, a. Constant :
نامعلوم - لامتناہی

Unfair, a. Not fair ; not honest ; disingenuous :
بیجا - نامناسب - بے ایمان - دغا باز

Unfaithful, a. Not faithful ; treacherous ; negligent :
بے وفا - بد عہد - دغا باز - بے پروا

Unfamiliar, a. Not common ; unaccustomed :
غیر معمول - غیر مانوس - نا آشنا

Unfashionable, a. Not fashionable :
بے رواج - بے دستور

Unfasten, v. t. To unloose ; to untie :-
کھیلنا کرنا - کھولنا

Unfathomable, a. Not fathomable :
بے انتہا - عمیق

Unfavourable, a. Not favourable :
نامہربان - ناموافق - مضر

Unfeeling, a. Destitute of feeling ; cruel :
بے لمس - بے حس - سنگدل

Unfeigned, a. Not counterfeit ; real :
نا ساختہ - بے ریا - اصلی

Unfelt, a. Not felt or perceived :
غیر محسوس - نامعلوم

Unfetter, v. t. To loose from fetters ; to set at liberty :
بستی دور کرنا - آزاد کرنا

Unfilial, a. Not becoming a son or daughter :
ناخفگیوت - ناززندانه

Unfinished, a. Not finished ; incomplete :
غیر مکمل - ناتمام - ادھورا

Unfit, v. t. To disqualify :
بے نالایق کرنا - ناقابلِ کرنا
a. Not fit ; unqualified :
نامناسب - ناموافق - ناقابلِ

Unfix, v. t. To loosen ; to unsettle :-
کھیلنا کرنا - اوکھارتنا

Unfledged, a. Young :
بے پر و بال - بچہ - گیدا

Unfold, v. t. To open the folds of ; to disclose ; to display :
کھولنا - کھولنا - انشا کرنا

Syn.—Expand, open, unroll.

Unforbidden, n. Not prohibited :
غیر ممنوع - جائز

Unforeseen, a. Not foreseen ; unexpected :
نادیدہ - نامعلوم - ناگہانی

Unformed, a. Not formed into regular shape :
بے قواں - بد شکل

Unfortunate, a. Not fortunate :
بد نصیب - بد بخت - کم بخت

Unfounded, a. Having no foundation :
بے اصل - بے بنیاد - بے وجہ

Unfrequented, a. Rarely visited :
بے آمد و شد - جہاں آمد و رفت کم ہو

Unfriendly, a. Not favourable ; unkind :
نامہربان - ناموافق - روکھا

Syn.—Unkind, hostile, inimical, malevolent.

Unfruitful, a. Barren ; unproductive ; not prolific :
اوسر - بے پھل - بے نایدہ - بے نتیجہ

Unfurl, v. t. To unfold ; to expand :
کھولنا کرنا - کھولنا - پھیلانا

Unfurnished, a. Not supplied with :
سازو سامان - بے اسباب

Ungainful, a. Not gainful :
بے سود - بے نایدہ

Ungainly, n. Unconth ; awkward :
بے تہب - بد نما - بد اسباب

Ungenerous, a. Illiberal ; unkind ; dishonourable :
بے فیض - بے ہمت - نامہربان - ذلیل

Ungentlemanly, a. Not becoming a gentleman ;
شرافت سے بعید

Ungodliness, n. Quality of being ungodly :
نا خدا ترسی - بے دینی

Ungodly, a. Not fearing God; impious :
ناخدا کرس - پاپی - ادھر می

n. - Wicked, impious, sinful, unrighteous, godless.

Ungovernable, a. Not to be restrained; licentious :
منہ زور - سرکش - اوباش - بے رکر

Ungraceful, a. Not graceful : - ناپسندیدہ - بد نما

Ungracious, a. Not gracious; unpleasing; showing no favour : بے - ناپسندیدہ - مزرت

Ungrammatical, a. Not according to the established form and rules of grammar : نحو کے قاعدہ کے خلاف - بے قاعدہ

Ungrateful, a. Not grateful; unthankful; unpleasing : ناپاس - شکر گزار - ناپسندیدہ

Ungrounded, a. Having no foundation or support : بے بنیاد - بے ثبوت - باطل

Unguarded, a. Not defended; careless : غیر محفوظ - بے احتیاط - غافل - بے خبر

Unguent, n. Ointment : لپ - مرخم

Unhallowed, a. Unholy; profane : ناپاک - پلید

Unhand, v. t. To loose from the hands; to let go : ہاتھ سے جانے دینا - چھوڑنا

Unhandsome, a. Not handsome; unbecoming; uncivil : بد صورت - بے حسن - نامناسب - نازیبا - بد خلق - بے مزرت

Unhappy, a. Not happy; unlucky : ناخوش - ناشاد - بد بخت

Syn.—Wretched, miserable, distressed, afflicted.

Unhealthy, a. Not healthy : کمزور - بیمار - مریض
Syn.—Unsound, diseased, sickly.

Unheard, a. Not heard; unknown : نا شنیدہ - ان سنا - انجان

Unheeded, a. Disregarded; neglected : بے لحاظ - بے احتیاط

Unhesitating, a. Not hesitating : بے پس و پیش - بے دریغ - بے تامل - آمادہ - تیار

Unhinge, v. t. To take from the hinges; to disorder; to render wavering : چول اٹھانا - مضطرب کرنا - تزلزل میں ڈالنا

Unholy, a. Not holy; profane; impious : - ناپاک - پلید - پاپی

Unhopeful, a. Not hopeful : جس سے کچھ امید باقی نہ رہے - نا امید

Unhorse, v. t. To throw from a horse : گھوڑے سے گرا دینا

Unhurtful, a. Not hurtful : بے ضرر - بے صدمہ

Unicorn, n. A fabulous animal with one horn : گورگرن - گینتا

Uniform, n. The regimental dress of a soldier : ہم شکل - ہمیشہ ایک ہی وضع کا - ہر جگہ برابر - مطابق الاجزا

Uniformity, n. The quality of being uniform; agreement; similitude : - ہم صورتی - ہم شکلی - موافقت - میل - مشابہت - ہم رنگی
Syn.—Sameness, regularity.

Uniformly, adv. In a uniform manner : - بلا تغیر - برابر

Unify, v. t. To make into one : ملا کر ایک کرنا

Unimpassioned, a. Free from passion : بے تعاسانیت
Syn.—Calm, cool, tranquil, quiet, dispassionate.

Unimpeachable, a. Irreproachable; faultless; trustworthy : - نا ملامت پذیر - بے عیب - بے قصور - نردوش

Unimportant, a. Not important : - غیر ضروری - ادنیٰ - ہلکا

Syn.—Insignificant, trivial, trifling, slight, small.

Uninformed, a. Not instructed; untaught : ناواقف - بے تعلیم - بے ترقیب

Uninhabitable, a. Not habitable : ناقابلِ بود و باش

Uninjured, a. Unhurt; suffering no harm : بے ضرر - بے صدمہ

Uninspired, a. Not inspired : جسکو الہام نہ ہوا ہو - غیر ملہم

Unintelligible, a. That cannot be understood; unaware : - سمجھنے میں نہ آئے - ناواقف

Unintentional, a. Not intended : بلا ارادہ - بغیر خیال

Uninterested, a. Not having any interest or property in : بے غرض - بے سرکار - بے واسطہ

Uninteresting, a. Not interesting : حور دلچسپ - نہ ہو - بے حظ - جس میں دل نہ لگے - بے چہل - پھینکا
Syn.—Dull, tiresome, tedious, wearisome.

Uninterrupted, a. Not interrupted : بلا وقفہ - بے روک - متواتر

Uninvited, a. Not invited ; not solicited : بے بلانے - بے دعوت - بلا درخواست

Union, n. Junction ; concord ; a confederation : * ملپ - اتصال - یکدلی - ایکا - اتفاق - متحد جماعت

Union Jack, حاملت انگلیشیہ کا نشان

Syn.—Combination, unity, junction.

Ant.—Division, separation, severance.

Unionist, n. One who advocates or promotes union : اتفاق کا ترقی خواہ - اتحاد کو مصلحت سمجھنے والا

Uniparous, a. Producing one at a birth : ایک بار - میں ایک بچہ جننے والا جانور

Unique, a. Sole ; being without an equal : یکتا - بے نظیر - لائق - بے مثل - تاق

Syn.—Unmatched, unequalled, rare, single, unexampled, singular, uncommon.

Ant.—Common, usual, ordinary.

Unirrigated, a. Not irrigated : بے سینچا ہوا

Unison, n. Agreement ; harmony ; melody : اتفاق - ہم آواز - ایک سر

Unisonius, a. Being in unison : آہنگ - ہم ساز

Unit, n. A single thing or person ; the last whole number ; one : واحد - اکائی - ایک

Unitarian, n. One who denies the doctrine of the Trinity : منکر تثلیث - موجد

Unite, v. t. or i. To put together or joint ; to attach ; to associate ; to become one ; to grow or act together : وصل کرنا - ملنا - پیوستہ کرنا - یا کام کرنا

Unitedly, adv. With union or joint efforts : ملکر - اتفاق سے - باہم ایکا کر کے - مل جل کے

Unity, n. Oneness ; concord ; harmony : وحدت - توحید - اتفاق - یکائی - میل - ہم آہنگی

Univalve, n. Having one valve only : ایک پرت کا - ایک تہہ والا

Universal, a. Unlimited whole ; total : عالم بیکر - کس - جملہ

Syn.—All-reaching, catholic, general.

Ant.—Local, partial.

Universalist, n. One who holds the doctrine that all men will be saved : جسکا یہ عقیدہ ہے کہ سب عاقبت میں نجات پاویں گے

Universality, n. State of extending to the whole : کلیت - عمومیت - عالمگیری

Universally, adv. With extension to the whole : عموماً - ہر جگہ

Universe, n. The whole system of created things : متعارفات - جہان - عالم

University, n. An institution where all the sciences and arts are taught and where degrees are conferred : وہ مدرسہ جس میں جملہ علوم کا درس ہوتا ہو اور تعلیم کے خطاب ملتے ہوں - یونیورسٹی

Univocal, a. Having one meaning only : ایک معنی کا - ایک ارتقی - غیر مبہم

Unjust, a. Not just : نا مناسب - نا انصاف - بے انصاف

Unjustifiable, a. Not to be vindicated or defended : غیر واجب

Unkempt, a. Uncombed ; unpolished : کنگھی نہ کیا ہوا - بکھیرا ہوا - پریشان - الجھا ہوا

Unkind, a. Not kind ; cruel : نا مہربان - بے شفقت - بے درد

Unknown, a. Not known : نامعلوم - انجان

Unlaboured, a. Not produced by labour ; natural ; easy : بے محنت - طبع خیز - خداداد - آسان

Unlace, v. t. To loose the dress of : پوشاک کھولنا - کھولنا

Unlade, v. t. To unload : کشتی یا جہاز سے بوجھ اتارنا

Unlawful, a. Not lawful ; illegal : خلاف قانون - assembly, * خلاف شرع - ناجائز - نا مشروع - ناروا
وہ مجمع جس سے حفظ امن کا اندیشہ ہو - مجمع خلاف قانون

Syn.—Illegal, illicit, unlicensed.

Unlearn, v. t. To forget what has been learned ; to lose from memory : سیکھا ہوا بھول جانا - نراورش کرنا

Unlearned, a. Illiterate; ignorant : ناخواندہ - جاہل

Unless, conj. Except; if not; but : اگر - ورنہ - بجز اسکے - بدون اسکے

Unlettered, a. Unlearned; ignorant : ان پڑھے - جاہل

Unlike, a. Not like; dissimilar : غیر مشابہہ - نا موافق

Unlikelihood, n. Improbability : عدم احتمال

Unlikely, a. Improbable : خلاف تکیاس

Unlimited, a. Not limited; undefined : بے حد - بلا تہید - غیر مقرر

Unlink, v. t. To separate the links of; to disjoin; to detach : تڑی تڑی علیحدہ کرنا - جدا کرنا - کھولنا

Unload, v. t. To disburden : بوجھ اُتارنا - ہلکا کرنا

Unlock, v. t. To unfasten what is locked : تالا کھولنا - قفل کھولنا

Unlucky, a. Unfortunate; ill-omened : کم بخت - بد نصیب - بدشگون - ذال بد

Syn.-- Luckless, ill-starred, ill-fated, unsuccessful.

Ant. - Fortunate, auspicious.

Unmake, v. t. To destroy; to deprive of being : خراب کرنا - سمیت دینا

Unman, v. t. To emasculate; to dishearten : نامرد کرنا - بے ہمت کرنا - بے دل کرنا

Unmanageable, a. Not manageable; uncontrollable : بے قابو - منہ زور - بے ضبط - غیر طابع - بد لگام - سرکش

Unmanly, a. Unbecoming a man : خلاف وضع نامردا - Cowardly * Effeminate * بزدلا * زنانہ - بردا

Unmannerly, a. Not having good manners; ill-bred : گستاخ - بد اخلاق - بے ادب

Syn.-- Impolite, uncivil, uncourteous, ungracious, rude, rough, ill-bred.

Unmarried, a. Not married; single : ان بیاہا - گوارا - مجرد

Unmask, v. t. To lay open : آشکارا کرنا - افشاں کرنا

Unmatched, a. Having no equal : بے نظیر - لائق

Unmeaning, a. Having no meanings : بے معنی - مہمل

Unmeasured, a. Infinite; immense : بے انداز - بے حساب

Unmentionable, a. Not to be spoken of : نا قابل ذکر

Unmerciful, a. Not merciful; cruel : بے رحم - سنگدل

Unmerited, a. Undeserved : نالائق

Unmindful, a. Not mindful; careless : غافل - خبر - اجیت - بے فکر - لاپرواہ

Syn.-- Headless, inattentive, regardless, negligent, forgetful.

Unmolested, a. Not molested : بے مزاحمت - کھٹکے

Unmoor, v. t. To loose from anchorage : لنگر اُتھانا - جہاز کھولنا

Unmoved, a. Not moved; not affected : فیر متحرک - بے حرکت - غیر متحرک

Unmuffle, v. t. To take the covering off : غلاف دور کرنا

Unnatural, a. Not natural; artificial : ساختہ مصنوعی - مجازی - غیر طبعی - خلاف طریق فطرت

Unnecessary, a. Needless; useless : غیر ضروری - فضول

Unneeded, a. Not needed : غیر ضروری - جسکی احتیاج نہ ہو

Unneighbourly, a. Not becoming a neighbour; unkind : جو ہمسایہ کو نہ چاہے - نا مہربان

Unnerve, v. t. To deprive of nerve, force or strength : نازراں کرنا - کمزور کرنا - ناطاقت کرنا

Unnoticed, a. Not noticed; unobserved : بلا اطلاع - نا معلوم - بے توجہ

Unobjectionable, a. Not liable to objection : نا قابل اعتراض

Unobservable, a. Not to be observed : جو نظر میں نہ آئے

Unobtainable, a. Not within reach : غیر ممکن الحصول

Unobtrusive, a. Not forward; modest : خائیم - سلیم - شرمگین - صاحب حجاب - باادب

Unoccupied, a. Not engaged in business; not possessed : نامشغول - بیکار - غیر مقبوضہ

Unpack, v. t. To open things packed up : کھولنا

Unpalatable, a. Not palatable : بے سواد - مزہ - ناگوار

Syn.-- Vapid, savourless, unsavoury.

- Unparalleled, a.** Having no parallel or equal :
بے نظیر - لائق - بے مانند
- Unpardonable, a.** Not to be forgiven :-
ناقابل عفو - جو معاف کرنے کے لائق نہ ہو
- Unperceived, a.** Unobserved ; unnoticed :
نامعلوم - نادیدہ - خفیہ
- Unpleasant, a.** Not pleasant ; displeasing :
ناپسنندیدہ - ناخوش
Syn.—Displeasing, disagreeable, unwelcome, unacceptable, repulsive, obnoxious, offensive, painful.
- Unpopular, a.** Not having the public favour :
بدنام
- Unpractised, a.** Not skilled by use or experience ; unskilful ; raw :
ناآزمودہ کار - ناآزمودہ - کچا - اناری
- Unprecedented, a.** Having no precedent :
جس کی نظیر نہ ہو - غیر معمولی - بے مثل
- Unprejudiced, a.** Not prejudiced ; impartial :
غیر متعصب - بے تعصب - بے طرفدار
- Unpremeditated, a.** Not premeditated :
بے پیش بندی - پیشتر سے نہ سوچا ہوا
- Unprepared, a.** Not prepared :
ناآہیار - نامستعد
- Unpretending, a.** Not pretending ; modest :
بے زعم - حلیم
Syn.—Modest, unassuming, unostentatious, unpretentious.
- Unprincipled, a.** Not having good moral principles :
بد اطوار - بے اصول - کسی اصول پر نہ چلنے والا
- Unproductive, a.** Not productive ; barren :
بے منفعت - اوسر - بے پھل - نازرخیز
- Unprofessional, a.** Having no profession ; unbecoming one's profession :
غیر پیشہواری - اپنے پیشہ کے ناموافق
- Unprofitable, a.** Not profitable ; useless :
لا حاصل - بے حصول - بے سود - عبث
Syn.—Fruitless, bootless, worthless.
- Unpromising, a.** Giving no promise of success :
جو ہونہار نہ ہو - ناخاف
- Unpropitious, a.** Unfavourable ; inauspicious :
ناموافق - ناماز کار
- Unprosperous, a.** Not prosperous :
بد نصیب - بد بخت - ناکامیاب
- Unprotected, a.** Not supported ; undefended :
بے حمایتی - بے پناہ - بے حفاظت - بے رالی وارث
- Unproved, a.** Not established by evidence or reasoning :
بے ثبوت - غیر مثبتہ
- Unprovoked, a.** Not provoked :
بے اشتعال - بے پھیر
- Unpublished, a.** Not published :
غیر منظر عام
- Unqualified, a.** Not qualified ; not legally competent :
ناقابل - نالائق - قانوناً لائق یا مجاز نہیں
- Unquenchable, a.** That cannot be quenched :
جو بجھ نہ سکے
- Unquestionable, a.** Not questionable ; certain :
لا کلام - کامل - لایب - یقینی
Syn.—Indisputable, incontrovertible, indubitable, undeniable, incontestable, certain, evident, obvious.
- Unquiet, a.** Restless ; uneasy :
مضطرب - بے آرام - بے چین
- Unravel, v. t.** To disentangle ; to unfold :
سامجھانا - اُدھینا - کھولنا
- Unready, a.** Not ready ; not prompt ; slow :
ناطیبار - مجھڑوں - سست
- Unreal, a.** Not real ; unsubstantial :
غیر حقیقی - ظاہری - بے وجود - بے ہود
- Unreasonable, a.** Irrational ; excessive :
Unreasonable * نا معقول - بعید از عقل - اندازہ سے زیادہ بے مرتع خاموشی
Unreasonable silence is folly, بے وقوفی ہے
- Unreasonableness, n.** Quality of not being reasonable :
نامعقولیت - زیادتی - بے عقاب
- Unreclaimed, a.** Not reclaimed ; not reformed :
غیر ماورس - وحشی - غیر مہذب - نادرس
- Unrecognised, a.** Not recognised :
نامعلوم
- Unrefined, a.** Not refined or purified :
ناشایستہ - ناصاف
- Unregardful, a.** Careless :
غافل - بے پروا
- Unregistered, n.** Not recorded :
نامندرج
- Unrelenting, a.** Not relenting ; cruel :
بے رحم - سنگدل
Syn.—Inexorable, implacable, pitiless, relentless, unmerciful, uncompassionate, hard, cruel, stern, severe.
- Unreliable, a.** That is not to be relied on :
ناقابل اعتبار - بے ایمان
- Unremitting, a.** Not abating ; incessant :
بلا ناغہ - متواتر - لگاتار

Unrepealed, a. Not repealed : غیر منسوخ
Unreported, a. Not officially stated : جس کی اطلاع نہ دی گئی ہو
Unreserved, a. Not reserved ; entire ; full : بے دریغ بے کپت - کپی - پورا
Unrestrained, a. Not hindered or checked : بے روک - بے ضبط - بے قید
Unrevealed, a. Not revealed or disclosed : نا ظاہر شدہ - پوشیدہ
Unriddle, v. t. To read the riddle of ; to explain : حل کرنا - شروع کرنا - سمجھانا - تعبیر کرنا
 Syn.—Solve, explain, expound, unfold, unravel.
Unrighteous, a. Not righteous ; wicked ; unjust : سیدہ باطن - ناسق - غیر صالح
Unripe, a. Not ripe ; immature : نہ پکا ہوا - نپکا - خام
Unrivalled, a. Peerless : incomparable ; unequalled : لاثانی - بیکتا - بے نظیر
Unrobe, v. t. To disrobe : اُتارنا - لباس اُتارنا
Unroll, v. t. To open a roll ; to unfold ; to remove one's name from a register : اُدھیرنا - کھولنا - کتاب یا رجسٹر سے نام خارج کرنا
Unroof, v. t. To strip of the roof : چھت یا چھپر اُتارنا
Unruffled, a. Calm ; not agitated : ساکن - بے حرکت - باقرار
Unruly, a. Ungovernable ; turbulent : بے لگام - منہ زور - سرکش - مگرا
Unsafe, a. Not safe ; dangerous : بے امن - بے سلامتی - خطر ناک
Unsatisfactory, a. Not giving satisfaction : جس سے تسکین نہ ہو - ناپسند خاطر - ناحب دلفراہ
Unsavoury, a. Tasteless ; insipid : بے ذائقہ - بے مزہ
Unsay, v. t. To retract ; to recant : بات واپس لانا - مکر جانا - انکار کرنا
Unscrew, v. t. To draw the screws from : پیچ کھولنا
Unscrupulous, a. Unprincipled : بے بد نیت - رسواسی
Unsealed, a. Not sealed : بے مهر
Unseasonable, a. Not seasonable : untimely : بے موسم - بے وقت - بے موقع - بے جا
 Syn.—Inopportune, ill-timed.

Unseat, v. t. To throw from a seat : کرسی سے گرا دینا
Unseemly, a. Unbecoming ; indecent : ناشائستہ - نا معقول - نازیبا
 Syn.—Improper, indecorous, unbecoming, unmeet, indecent.
Unserviceable, a. Useful : نکما - ناکارہ
Unsettle, v. t. To unfix ; to disturb ; to derange : اُتارنا - اُتھول پتھول کرنا - متزلزل کر دینا - درہم برہم یا ترتیب کر دینا - مضطرب کرنا
Unsettled, a. Uncertain ; wavering : غیر مستقل
Unshackle, v. t. To loose from bands : بیزیاں کھول دینا - خلاص کرنا
Unshaken, a. Not shaken ; not removed : ثابت قدم - مستقل
Unsheathe, v. t. To draw from the sheath or scabbard as a sword : قلاف یا میخان سے تلوار نکالنا
Unship, v. t. To take out of a ship : جہاز سے اُتارنا
Unshrinking, a. Not recoiling from danger, toil, pain, &c. : بے باک - نڈر - بے چھچھک
Unightly, a. Disagreeable to the sight ; ugly : بد نما - کزبہ منظر - بد شکل
Unskilful, a. Not skilful ; awkward : بے ہنر - ناواقف - بے سلیقہ - پھوڑھوڑ
Unsociable, a. Not sociable ; solitary : انمیل - جو مانگسار نہ ہو - اکیلا - گوشہ نشین
Unsolicted, a. Not asked : بغیر مانگے
Unsophisticated, a. Not adulterated by mixture ; genuine ; simple : بے میل - بے آلائش - خالص - سادہ - پاک - مبرہ
Unsound, a. Not sound ; infirm ; sickly ; wrong ; not honest ; defective : نادرست - ضعیف - مریض - غلط - دغا باز - عیب دار
Unsparring, a. Not sparing ; liberal ; not merciful : فیاض - مصروف - فضول خرچ - بیرحم - افراط
 بے دینے والا
Unspeakable, a. That cannot be spoken : جو کہا نہ جاے - بیان سے باہر - ناگفتنی
 Syn.—Inexpressible, ineffable, indescribable.
Unspotted, a. Not spotted ; unstained ; unblemished : بے داغ - مبرہ - نردوش
Unstable, a. Not stable ; inconstant ; not secured : بے قیام - ناپائدار - بے قرار - متلون

Unstaid, a. Unsteady ; fickle : - ناپائدار - بے ثبات
بے قرار

Unstained. a. Untinged : * Spotless :
بے داغ

Unsteady, a. Not steady ; inconstant : - بے ثبات
ناپائدار - متغیر

Unstring, v. t. To deprive of strings ; to relax :
تار دور کرنا - ڈھیلا کرنا

Unstudied, a. Upremeditated ; unversed : بغیر
سوچا ہوا - بے غور

Unsubstantial, a. Not real ; not solid : - خیالی
بے وجود

Unsuccessful, a. Not successful ; unfortunate :
ناکام - نامراد - بد نصیب

Unsuitable, a. Not suitable ; unfit ; unbecoming : ناموافق - بے جور - بے میل - نامناسب

Syn.--Unfit, inappropriate, inapposite, unsuited.

Unsummed, a. Not stained or tarnished ; pure :
بے داغ - صاف - پاک - مبرہ

Unsupported, a. Not assisted : بے مدد

Unsurmountable, a. Not surmountable : لاجل

Unsurpassed, a. Not excelled : بلا سبقت - جسپر
ذوقیت نہرئی ہو

Unsuspecting, a. Unsuspecting ; credulous :
غیر محتمل - غیر شک

Unsystematic, a. Wanting system : بغیر ترتیب

Untained, a. Unlabeled : بے داغ صاف

Untamable, a. That cannot be tamed or subdued ; wild : غیر مائوس - جو پالنے یا قابو میں لانے کے
لائق نہر - وحشی

Untasted, a. Not tasted : ناچشیدہ - بغیر چکھا ہوا

Untaught, a. Not educated or instructed : غیر
تعلیم یافتہ - ناخواندہ

Untenable, a. Not to be held in possession ; that cannot be defended or maintained : جو قبضہ
میں نہ رہ سکے - نامستحکم - جو دلیلوں سے قائم
یا ثابت نہیں رہ سکتا

Untenanted, a. Having no tenant ; unoccupied :
بے کرایہ دار - خالی

Unthankful, a. Ungrateful : ناشکر گذار

Unthinking, a. Thoughtless : بے فکر - غافل

Unthrifty, a. Not thrifty ; prodigal : فضول
خرچ - مصرف

Untidy, a. Not tidy or neat ; not kept in good order : ناصاف - ہنڈا - اہتر - بے ترتیب

Syn.—Dirty, slovenly, sluttish.

Ant.—Clean ; pure ; spotless.

Untie, v. t. To loosen ; to unbind : کھولنا - بند دور
کرنا - آزاد کرنا

Until, prep. or conj. To the time, point, or degree that : تک - جب تک

Untimely, a. Happening before the time : پیش
از وقت - بے وقت

Syn.—Unseasonable, premature, ill-tuned, inopportune.

Unto, prep. To : تک

Untold, a. Not told ; not related : بغیر کہا ہوا -
ناگفتہ - بے گنتی - بلا شمار

Untouched, a. Not touched ; not affected : بے
لمس - نہ چھوا گیا - بے تاثیر

Untoward, a. Forward ; perverse : - سرکش - ضدی
ہٹھی

Untraced, a. Not marked by foot steps : بے
نقش پا - جسپر کرنی چلا نہر

Untractable, a. Ungovernable ; stubborn : بے
قابو - سرکش - مگرا - جو کسی قاعدہ سے نہیں لایا جاسکتا

Untrained, a. Not disciplined ; irregular : غیر
تعلیم یافتہ - بے ترتیب

Syn.—Undisciplined, uninstructed, inexperienced, uneducated, untutored, uninitiated, undrilled, ignorant.

Untrodden, a. Not trodden ; not passed over :
جس پر قدم نہ پڑا ہو

Syn.—Pathless, trackless.

Untrue, a. Not true ; false : جو رہا - ناراست

Untruth, n. Falsehood : جھوٹ - دروغ

Untune, v. t. To put out of tune ; disorder : بے
تال یا بے سر کرنا - اہتر کرنا

Untwine, v. t. To disentangle ; to separate things involved : پیچھے کھولنا - سلجھانا

Untwist, v. t. To separate after being twisted :
 اُدھینا - کھولنا - بیلچ کھولنا

Unused, a. Not used or accustomed :
 نامستعمل - غیر عادی

Unusual, a. Not usual ; uncommon ; rare :
 ڈسٹور - غیر معمول - شاذ و نادر

Unutterable, a. Incapable of being uttered or expressed :
 نہ کہنے کے لائق - ناگفتنی

Unvalued, a. Not valued or prized :
 جسکی قیمت کا - تعین نہرا ہو - بے قدر

Unvaried, a. Not altered or diversified :-
 نا متغیر - غیر متبدل - یکساں

Unvarnished, a. Not varnished ; plain :
 بے روغن - سادہ

Unvarying, a. Not liable to change ; constant :
 غیر متبدل - یکساں - غیر متغیر

Unveil, v. t. To uncover ; to disclose to view :
 پردہ دور کرنا - کھولنا - ظاہر کرنا

Syn.— Disclose, uncover, expose, show.

Ant.— Screen, hide, mask, veil.

Unwarily, adv. Heedlessly :
 غفلت سے - بے خبری سے

Unwarrantable, a. Not warrantable ; not justifiable :
 ناجائز - غیر واجب - خلاف انصاف

Unvariness, n. Heedlessness ; carelessness :
 غفلت - بے پرواہی

Unwary, a. Not cautious :
 غافل - بے خبر - بے احتیاط - لاپرواہ

Unwavering, a. Firm :
 ثابت - مستقل - ساکن

Unwearied, a. Not fatigued or tired :
 نہ تھکا ہوا

Unwelcome, a. Not welcome :
 نا مبارک - ناپسند - ناگوار

Unwell, a. Indiposed ; sick :
 علیل - بیمار

Unwholesome, a. Not wholesome ; insalubrious :
 مضر صحت - ناموافق - ناگوار - مضر تندرستی

Syn.— Unhealthy, noxious, deleterious, baneful, poisonous, injurious.

Ant.— Robust, sound, helpful.

Unwieldy, a. Bulky ; ponderous ; unmanageable :
 جسیم - بھاری - وزنی - بے قابو

Unwilling, a. Not willing :
 نا رضامند - بیدل - ناخوش

Syn.— Loathe, disinclined, reluctant, indisposed, opposed.

Unwillingness, n. Reluctance ; disinclination :
 نا رضامندی - ناخوشی - بیدالی

Unwind, v. t. To untwist :
 اُدھینا - لپیٹ کر کھولنا

Unwise, a. Not wise :
 بے شعور - نادان

Syn.— Foolish, injudicious, indiscreet, imprudent.

Ant.— Prudent, wise, judicious.

Unwittingly, adv. Ignorantly ; unknowingly :
 بے خبری سے - نادانستہ

Unwonted, a. Unaccustomed ; uncommon :
 معمول - غیر مانوس - شاذ - خلاف دستور

Unworthy, a. Not worthy ; undeserving ; base :
 غیر مستحق - ناقابل - نالایق - کمینہ

Unwritten, a. Not written ; oral :
 بلا تھریزی - ان لکھا - زبانی

Unyielding, a. Unpliant ; obstinate :
 تڑا - سخت - ضدی

Unyoke, v. t. To free from a yoke ; to disjoin :
 جوڑے سے کھول دینا - الگ کرنا - جدا کرنا

Up, ad. Aloft ; above ; in a higher place or position to ; wholly :
 ارنچھا - بالا - اوج پر - جانب

To come—with, * بانڈ - تک - تک - بالکل

The time is—, the allotted time is past : * وقت معینہ گذر گیا

—and down, * رتہ رتہ آدھر - تہہ و بالا

—a stream, towards the source : دریا کی چڑھائی پر

Upbraid, v. t. To reprove severely ; to chide :
 تہمت رکھنا - ملامت کرنا - دانٹنا - سرزنش کرنا - جھڑکنا

Upheave, v. t. To heave or lift up from beneath :
 اوپر اٹھانا

Uphill, a. Difficult ; laborious :
 مشکل - دشوار - محنت طلب

Uphold, v. t. To hold up ; to support ; to sustain :
 سنبھالنا - اٹھانا - قائم رکھنا - تھامنا - مدد کرنا - پشتی کرنا - جاری رکھنا

Upholsterer, n. One who furnishes houses with furniture, beds, curtains, and the like :
 اسباب و فرش و پردہ وغیرہ بیچنے والا

Upholstery, n. Furniture supplied by upholsterers :
 اسباب خانہ

Upland, n. Elevated land :
 بلند زمین - ارنچھی جگہ کا

Uplift, v. t. To raise aloft :
 ارنچھا کرنا - اٹھانا

Upmoſt, a. Highest :
 نہایت بلند - بالاتہ

Upon, prep. On ; not under ; at or near to ; in besides ; after : میں - برلب - قریب - بالا - اوپر - بدمد - فی الحقیقت - * my word, really : سچ

Upper, a. Higher in place, rank, or office : اعلیٰ درجہ کے crust, * اوپر والا - اوپر کا - بالاتر
 متہول لوگ - امینز - * ten thousand لوگ - امرا
 ہادست یا زبردست * To have the - hand, امرہا

Upper-hand, n. Ascendency : فوقیت

Uppermost, a. Highest in place or power : بالاترین - سب سے اونچا - سب سے اوپر
 Syn.—Highest, loftiest, supreme.

Upraise, v. t. To raise or exalt : اونچا - اونچا کرنا - بلند کرنا

Upright, a. Perpendicularly erect ; honest ; just : مستقیم - سیدھا - استادا - سچا - ٹھرا

Uproar, n. Great tumult ; disturbance and noise : غوغا - فساد - ہنگامہ - شور و غل

Uproarious, a. Tumultuous ; turbulent : فتنہ انگیز - ہر آشرب - ہرزور شور

Uproot, v. t. To tear up by the root : جڑ سے اُکھاڑ - ڈالنا - بیخ کنی کرنا

Upset, v. t. To overturn ; to overthrow : اونڈھانا - price, the price at which anything is exposed to sale by auction : وہ قیمت یا دام جو نیلام کرنیوالا کسی چیز پر قائم کرے
 بولہی بولتا ہے

Upshot, n. Final issue ; conclusion ; end : نتیجہ - خاتمہ - اختتام

Upstart, n. One suddenly raised to wealth, power or honour ; a parvenu : نیا - نو دولت - بڑھا ہوا - نو خیز

Upward, a. Directed to a higher place : اوپر
 * adv. Toward a higher place ; above ; yet more : اوپر کی طرف - اوپر - ارنچے - اور بھی

Uranus, n. One of the primary planets : ایک سیارہ - ہرشل

Urban, a. Belonging to a city or town : شہری - نگر کا

Urbane, a. Courteous ; civil : صاحب مروت - خلیق - خوش خلق

Urbanity, n. Civility ; politeness : محوش اخلاقی - مروت - شائستگی - مرغوب اطراپی
 Syn—Politeness, suavity, courtesy, complaisance, amenity, elegance.
 Ant.—Discourtesy, rudeness.

Urchin, n. A little fellow ; a child : لڑکا - چہر بڑا

Ureter, n. One of the excretory ducts of the kidney, conveying the urine to the bladder : پیشاب کی ٹی

Urethra, n. The canal by which the urine is conducted from the bladder and discharged : ٹی جسکی راہ سے پیشاب مثانہ سے نکلتا ہے - نالیہ - مورتی

Urge, v. t. To press ; to importune ; to incite ; to follow closely : دہانا - تقاضا کرنا - قویب دینا - پیچھے پڑنا

Urgency, n. Pressure of necessity ; importunity : ضرورت - تاکید - تقاضا

Urgent, a. Pressing with necessity ; importunate : ضروری - تاکید

Urinal, n. A bottle in which the urine of diseased persons is conveyed for medical inspection : A convenience for discharging urine : بولداں - پیشاب خانہ
 متعلق پیشاب

Urinary, a. Pertaining to urine :

Urinate, v. i. To discharge urine ; to make water : پیشاب کرنا - مورتا

Urine, n. An animal fluid secreted by the kidneys : بول - مورت - پیشاب

Urn, n. A kind of vase of a roundish form : ایک قسم کا گول بڑتن - صراحی - کوزہ

Ursa, n. A she-bear * Ursa Major, دب اصغر * Ursa Minor, دب اکبر

Ursine, a. Relating to or resembling a bear : متعلق ریحہ - مثل خرس

Us, pron. pl. The objective case of We : ہمیں - ہمکو

Usage, n. Treatment ; long continued practice ; custom ; habitual use : رواج - رسم خاندان - Family * چان - دستور - استعمال
 * Judicial—, عدالت - ضابطہ - سر رشتہ
 * Local—, مقامی چان

Usance, n. Use : استعمال * The time allowed for the payment of a bill of exchange ; interest of money : مدت - میعاد تصرف - بیاج - سود

Use, n. Application ; necessity ; utility ; custom ;
practice : استعمال - تصرف - ضرورت - فائدہ - نفع - مشق
—and wont, * رسم - دستور - معاورہ - مشق
The common practice : دستور * of—
useful : مفید - فائدہ مند * Use makes per-
fectness, * Skill from—, کرتا استاد ہے
رہتا - مہارت - دخل

Use, v. t. or i. To employ ; to treat ; to accus-
tom ; to consume ; to be wont or accustomed :
استعمال کرنا - کلم لینا - ساری کرنا - عادت ڈالنا - رہتا
* To—up, to con-
sume entirely by using : خراج کرنا - عادی ہونا
* It
had been so used, یہی دستور تھا - ایسا ہی ہوتا
تھا

Useful, a. Serviceable ; profitable : کار آمد -
فائدہ مند - مفید

Syn.—Advantageous, beneficial, helpful, avail-
able, good, salutary, convenient.

Ant.—Injurious, hurtful, prejudicial, inconve-
nient.

Useless, a. Being of no use ; worthless : بے
فائدہ - لاحاصل - نکما - بے مصرف

Uselessly, ad. Unprofitable : بے سود

Uselessness, n. Unprofitableness : لاحاصلی

Usher, n. An introducer ; an under teacher :
ملاقات کرنیوالا - * v. t. To introduce ;
to forerun : ملاقات کرانا - لگے لگے چلنا

Usquebaugh, n. A kind of whisky : ایک قسم کی
قیز شراب

Usual, a. Customary ; common : حسب دستور -
معمولی - ہمیشہ کا

Syn. Ordinary, common, familiar, regular,
general, frequent, habitual, wonted,
accustomed, prevailing.

Ant.—Extraordinary, uncommon, rare, un-
usual.

Usually, adv. Commonly ; customarily : معمولی -
بہ دستور - ہمیشہ

Usufruct, n. Temporary use of land or property
without power to alternate them : تصرف جائیداد
بہ مجاز انتقال

Usurer, n. One who receives exorbitant inter-
est : بہت زیادہ سود پر روپیہ چلانے والا - بڑا بیلاجر

Usurious, a. Practising usury : بہت سود لینے والا
Usurp, v. t. To seize and hold possession wrong-
fully : ناحق لینا - بھجبر لینا - دیا بیٹھنا

Usurpation, n. Illegal seizure or possession :
دست درازی - زبرد دستی

Syn.—Seizure, assumption.

Usury, n. Exorbitant interest for the use of
money : سود ناجائز

Utensil, n. An implement for domestic use : باور
چیشخانہ کے برتن

Uterine, a. Pertaining to the womb ; born of
same mother but by a different father : متعلق
رحم - ایک ما سے پیدا ہوئے لیکن جدے جدے باپ سے -
سہورد

Utilitarian, a. Consisting in or pertaining to
utility : فائدہ مندی کا - اُس ناسفہ کا جسکی بنا فعل کی
فائدہ مندی ہے

Utilise, v. t. To render useful ; to put to use :
فائدہ اڑھانا - کام میں لانا

Utility, n. State of quality of being useful :
سود مندی - مطلب براری

Syn.—Advantage, profit, usefulness.

Ant.—Futility, inutility, worthlessness.

Utmost, a. Furthest ; highest ; greatest : - ازحد
* n. The most that can be :
حتمی المقدور - حتی الامکان

Utopian, a. Fanciful ; ideal : قیاسی - خیالی
Syn.—Ideal, visionary, fanciful, imaginary,
chimerical, unreal.

Utter, v. t. To speak ; to pronounce ; to publish ;
to sell ; to put in circulation : کہنا - بیان کرنا -
تلفظ کرنا - ظاہر کرنا - شایع کرنا - فروخت کرنا - جاری
* a. Furthest out ; extreme ; entire ; abso-
lute : * باہر کی طرف - ازحد - قایب - بالکل - قطعی
انکار * —refusal, * ستیاناس
قطع

Utterance, n. Act of uttering ; delivery : لہجہ -
تلفظ - گفتار

Utterly, adv. Fully ; entirely : مطلق - سراسر - تمام

Uttermost, a. Extreme ; most remote ; utmost :
نہایت - قایت - تمامتر - بہت

Uveous, a. Like a grape : مثل انگور

Uvula, n. The fleshy conical body-suspended from
the middle of the soft palate : کاک

Uxoricide, n. Murder or the murderer of a wife :
قتل زوجہ - زن کشی - زن کش

Uxorious, a. Excessively or submissively fond of one's wife :
زن مزید - زن پرست - جزو کا غلام

V

Vacancy, n. Vacuity : خلا * Listlessness : بے

* فرصت * Gap شگاف * Unemployed time : خالی

A post unfilled : خالی عہدہ یا اثامی

Syn. Vacuity, emptiness.

Ant. Repletion, fullness.

Vacant, a. Empty ; unemployed ; unoccupied ;

thoughtless ; having no claimant :- خالی بے شغال

غیر مقبرہ - بے فکر - لاوارث

Vacate, v. t. To make vacant ; to annul : خالی

کرنے - منسوخ کرنا

Vacation, n. Intermision ; leisure ; holidays ;

act of making void : فرسٹ - تعطیل - تسلیف

Vaccinate, v. t. To inoculate with the cow-pox

or a virus taken from cows, called vaccine

matter : ٹیکہ لگانا

Vaccination, n. Act of vaccinating : چھپچھاپے کے

ٹیکے کا عمل

Vaccine, a. Pertaining to cows or to vaccination :

متعلق گائے یا ٹیکہ

Vacillate, v. t. To waver ; to fluctuate in mind :

چھوڑنا - لہرانا - پس و پیش کرنا - شش و پنج کرنا

Syn. Sway, reel, stagger, rock, waver.

Ant. - Adhere, abide, cohere.

Vacillation, n. Act of wavering ; fluctuation of

mind ; fickleness : پس و پیش - تاروں مزاجی - بے

قراری - تزلزل

Vacuity, n. Emptiness ; vacuum : خالی

خالی - خالی - خالی - خالی - خالی

Vacuous, a. Empty : خالی

Vacuum, n. Empty space : خلا

Vagabond, a. Wandering idly : - ہرزہ گرد -

آوارہ - ہرزہ گرد - خانہ بدوش

* n. One who wanders without the

means of honest subsistence : آوارہ گرد - ہرجائی

Syn. - Vagrant, outcast, castaway, loafer.

Ant. - Labourer ; toiler ; worker.

Vagary, n. A wild freak ; a whim : - پریشان خیالی -

ترنگ - مرج

Syn. - Whim, antic, prank.

Ant. - Decision, judgment, purpose.

Vaginal, a. Pertaining to a sheath : متعلق میان

Vagrancy, n. State of a vagrant : - کرچہ گردی -

آوارگی - خانہ بدوشی

Vagrant, a. Wandering ; unsettled : آوارہ - خانہ

آوارہ - ہرزہ : * n. A vagabond ; a beggar

گرد - گدا - بھکاری

Vague, a. Wandering ; unsettled : * کرچہ گرد

* Meaningless ; * Indefinite : بے ٹوکائے

بے معنی - مبہم - مشوک - دوپٹا : uncertain

Vagueness, n. Want of clearness ; uncertainty :

ابہام - احتمال - شک

Vail, n. A concealing screen ; cover ; disguise :

گرانا - نیچا کرنا - پوشیدہ کرنا

Vain, a. Empty ; fruitless ; ineffectual ; false ;

تہی - بے سود - بے تاثیر - نہ ایسی - خرد

پست - خفیب : توڑن ہر نازاں - خرد بین - بے حاصل -

از چٹنا - اپنے تئیں اسماں - * To be - جھوٹے - بیہرہ

بیزینچہ

Syn. - Unreal, shadowy, unsubstantial, suppositions,

dreamy, baseless, imaginary, empty,

void.

Vainglorious a. Bustful : لافن - متکبر -

Vainglory, n. Excessive vanity ; empty pride :

لاف عذاب - جھوٹا فخر - شیخی

Valance, n. Hanging drapery for a couch :

پلنگ کی جھال

Vale, n. A low ground ; a valle. : درہ - گھاٹی

Valediction, n. A bidding farewell : الوداع

رخصت

Valedictory, a. Bidding farewell : * الوداعی

A farewell address : رخصت کے وقت کا سلام

Valentine, n. A sweetheart chosen on St.

Valentine's day ; a letter containing professions

of love sent on St. Valentine's day : - معشوق

معشوقہ - عشق و محبت کے مضمون کا خط

Valet, n. A personal attendant : - نوکر -

چاکر

Valetudinary, a. Of infirm health; sickly :

دایم المریض - جنم روگی

Valetudinarian, n. One who is infirm of health:

دایم المریض - جنم روگی

Valiant, a. Stout; brave; gallant :

دلیر - بہادر - جوائمرود

Syn.—Courageous, intrepid, valorous, chivalrous, heroic, daring, dauntless, bold, fearless.

Ant.—Timid, shy, bashful, fearful.

Valid, a. Sound; conclusive; legal :

مضبوط - درست - قطعی - جائز - پکا - صحیح

Validity, n. Strength to prove or convince;

soundness; justness :

مضبوطی - درستگی - صحت - واجبیبت

Valise, n. A small sack or case for containing

the clothes, etc. of a traveller :

جامدانی - ہفتچہ

Vallation, n. A rampart; an intrenchment :

شہر پناہ - نصیل - مورچہ

Valley, n. A hollow or low tract of ground be-

tween hills; a dale :

دو پہاڑ کے بیچ کی تنگ جگہ - ڈھلوان

Valorous, a. Brave; gallant; fearless :

بہادر - جوائمرود - نڈر

Valour, n. Bravery; courage; fearlessness :

بہادری - شجاعت - مردانگی - دلیری - بے باکی

Valuable, a. Having value or worth; costly;

estimable :

قیمتی - بیش قیمتگی - قابل قدر

Valuation, n. The act of estimating the value or

worth; appraisement; estimated worth :

تعیین - of standing crops, کنکروت - کنہاپی

Value, n. Utility; import; price; worth :

وصف - *v. t.* To estimate the

worth of; to hold in respect :

مول - کرنا - قدر کرنا - عزیز جاننا

Valve, n. A folding door; a lid to an aperture

opening only one way :

دریچہ - دروازہ - سوراخ کا - کھٹکا

Vamp, n. The upper leather of a shoe or boot :

v. t. To repair; to mend :

گاتھنا - مرمت کرنا

Vampire, n. A blood-sucking spectre :

شیطان - ایک قسم کا چمگادڑ

A species of bat :

Van, n. The front of an army :

ہزاروں کا مہرا - ہزاروں

A winnowing machine :

A light covered waggon :

کراچی

Vandal, n. One who is ignorant or barbarous :

وحشی - جاہل

Vane, n. The web of a feather on the side of

the shaft :

A weathercock, placed on the top of a spire :

بادنما

Vanguard, n. The front or first line of an

army :

ہزاروں - طلایہ

Vanish, v. t. To disappear; to pass away; to

pass out of view; exhale :

ظہر سے غائب ہونا - الوب ہونا - ٹاپید ہونا - تبخیر ہونا

Vanity, n. Emptiness; ostentation; vain

pursuits :

ہلکا پن - بیہودگی - خورد نمائی - خورد

پسنندی - بیہودہ کام - خیال باطل

Syn.—Egotism, pride, emptiness.

Ant.—Considerateness, modesty, reality.

Vanquish, v. t. To conquer; to refute :

فتح کرنا - سر کرنا - قایل کرنا

Vantage, n. Superiority; advantage :

فوقیت - فائدہ - سرد

Vapid, a. Having lost its life and spirit; insi-

pid :

بے جان - بے ذائقہ - سیتھا

Vapidity, n. State of being vapid :

بے مزگی - سیتھاپن

Vaporation, n. Act of converting into vapour :

تبخیر

Vaporous, a. Full of vapours; windy; unreal :

بخارات سے بھرا ہوا - بادی - خیالی

Vapour, n. An elastic fluid rendered aeriform

by heat; unreal; fancy :

v. t. To pass off in fumes; to brag :

بخار ہو جانا - بخار بنکر اڑنا - شیخی مارنا

Vapourise, v. t. To convert into vapour :

بھاپ بنانا

Vapoury, a. Full of vapours; peevish :

بخارات سے بھرا ہوا - تنگ مزاج

Variable, a. Changeable; inconstant :

تبدیل پذیر - متغیر - ناپائیدار

Variableness, n. Inconstancy :

تبدیل پذیری - بے ثباتی - تارن

Variance, n. Dissension; want of agreement :

* ان میں * اختلاف - نا اتفاق - پھرت

* کھاشی - کوہنچا تانی

Mutually at variance,

Variation, n. Change ; deviation ; difference ; inflection ; rate of change ; musical embellishment : **تبدیل - تجاوز - فرق - گردان - کمی بیشی یا - وقت بڑھنے - اوتار چڑھاؤ**

Varicose, a. Enlarged ; dilated ; (applied only to veins) : **بڑھی ہوئی - پورلی (صرف آنت کے واسطے)**

Variedly, adv. Diversely : **مختلف طور سے**

Variegate, v. t. To diversify ; to mark with different colours : **گونگوں گونا - یوقلموں کرنا - رنگ بڑنگ کرنا**

Variegation, n. Diversity of colours : **رنگ بڑنگی - بڑنگوں بڑنگی**

Variety, n. Difference ; change ; diversity ; deviation : **فرق - تبدیلی - تغیر - اختلاف - انحراف**

Variola, n. The small-pox : **چھینک**

Variolous, a. Relating to small-pox : **چھینک کے داغ والا**

Various, a. Different ; changeable ; variegated : **مختلف - طرح طرح کا - متلون - رنگ بڑنگ**

Syn.--Diversae, different, manifold.
Ant.—Same, identical.

Varlet, n. A servant or attendant ; a rascal ; a knight's follower : **خدمتکار - نوکر - بدذات - غازی مرد کا جاویدار**

Varnish, n. A thick, viscid liquid laid on work to give it a gloss : **v. t.** * **روغن - وارنش - لک**
To lay varnish on ; to give a fair appearance to ; to give a fair colour to : *** وارنش کرنا - لک کرنا - روغن میں عیب چھپانا - بات کر زینت دینا**
Varnishing hides a crack, چھپا رہتا ہے

Vary, v. t. or i. To alter ; to diversify ; to disagree ; to differ : **تبدیل کرنا - بدل جانا - گونا گوں یا : رنگا رنگ کرنا - ناموافق ہونا - اختلاف کرنا**

Vascular, a. Full of vessels : **نسیلا - رگدار**

Vase, n. An ornamental vessel of an ancient pattern ; an ornament of sculpture representing one of the vessels of the ancients : **بڑن - طرف - گلدان - گلاس**

Vassal, n. A tenant ; a bondsman ; a servant : **رعیت - اسامی - وابستہ - غلام - ملازم - نوکر**

Vassalage, n. Dependence ; slavery : **رعیت گری - تابعدار - غلامی**

Vast, a. Very spacious ; very great in number ; mighty : **وسیع - کشادہ - بے شمار - عظیم**
Syn.—Enormous, huge, immense.
Ant.—Close, solid, narrow.

Vastly, adv. Immensely : **بہت زیادہ - غایت - نہایت**

Vastness, a. Great extent ; immensity : **کشادگی - وسعت - زیادتی - عظمت - ثبوت**

Vastation, n. A laying waste : **ویرانی - تباہی**

Vat, n. A large vessel or cistern for holding liquors ; a measure : **جام - حوض - چہ بچہ - مات - ایک پیمانہ**

Vatican, n. The residence of the Pope : **پوپ کا محل**

Vaticide, n. The killing of a prophet : **نبی کشی**

Vaticinate, v. t. or i. To prophesy ; to foretell : **پیشین گوئی کرنا - آگم کہنا**

Vault, n. An arched roof ; a cellar ; a leap : **v. t.** * **گنبد - تہہ خانہ - گریبا - غار - چھلانگ - ذنند**
or **i.** To arch ; to leap : **محراب بنانا - چھلانگ مارنا**

Vaunt, n. Boast ; vain ostentation : **لاٹرنی - لاف زنی کرنا - کٹھ درازی کرنا - ڈینگ مارنا**
v. i. * **To brag ; to boast :** *** شیخی - گونگ - ڈینگ**

Veal, n. The flesh of a calf killed for the table : **بچھڑے کا گوشت**

Vedette, n. A sentinel, usually on horse back : **- تری جزائز سوار رہتا ہے**

Veer, v. t. or i. To turn about ; to change direction : **away, چنر دینا - ڈھیل دینا**
*** مورتا - گیومنا - مڑنا - پھرتا**

Vegetable, n. A plant for the table : **نباتات - ترکاری**

Vegetable, a. Having the nature of plants : **عالم روئیدگی - قرن جاتی - نباتاتی**

Vegetarian, n. One who abstains from animal flesh and lives on vegetables, milk, &c. : **وہ شخص جو گوشت سے پرہیز کرے اور نباتات وغیرہ پر گذر کرے**

Vegetate, v. i. To grow as plants ; to germinate : **اُگنا - جینا - نکلنا**

Vegetation, n. Growth : **بالیدگی - روئیدگی - نشوونما**

Vegetative, a. Growing : **اُگنے والا**

Vehemence, n. Violence ; impetuous force ; fervour ; passionate ardour : **تندی - سختی - زور یا - غلبہ - جذبہ - سرگرمی - شدت کی سرگرمی - جوش**

Vehement, a. Forceful ; very ardent : **تیز - تند - سرگرم**

Vehicle, n. A carriage ; a conveyance : - سہارا
مركب - بار برداي - گاڑی - چوکیڑا

Veil, (val), n. A thin cover to conceal the face ;
a curtain ; disguise : پوش - پردہ - بوش :
نقاب ق لہ -
گھونگھٹ مارنا چھپانا

Vein, n. A vessel in animal bodies which returns
the blood to the heart ; a fissure ; course ;
honour : رگ - شگاف - سلسلہ - طبابت

Vellicate, v. t. To twitch ; to pluck : - جھٹکنا
چھیننا مارنا

Vellum, n. A fine kind of parchment or skin
prepared for writing : صاف کیا ہوا چرم جو لکھنے
کے کام آتا ہے

Velocipede, n. A light conveyance impelled by
the feet : پیڈر گاڑی

Velocity, n. Rapidity ; swiftness ; rate of
motion : جلدی - تیزی

Velvet, n. A rich silk stuff with a nap : * مخمل
a Male of velvet ; soft : مخملی - ملائم

Velveteen, n. Cotton velevet : سرقی یا نقالی مخمل

Venal, a. Mercenary ; held for sale : کرایہ کا
طامع زر - خریدنا ہوا

Vend, v. t. To sell : فروخت کرنا - بیچنا

Vendee, n. One to whom a thing is sold : مشتری
خریددار

Vender, Vendor, n. One who vends ; a seller :
بیچنے والا - فروشنده

Vendible, a. Saleable : قابل فروخت - بیچنے کے لائق

Veneer, v. t. To cover with thin pieces of wood
or other material : لکڑی یا دیگر چیزوں کی پتھر
* n. A thin layer of a valuable material
over an inferior one : قیمتی دھات کی پتھر جو اونچے
سے چڑھائی جارے

Venerable, a. Worthy of veneration or
reverence : معزز - واجب التعمیم - بزرگ

Venerate, v. t. To regard with respect and
reverence ; to revere : تعظیم کرنا - معزز جاننا -
بزرگ جاننا - عزت کرنا

Veneration, n. The highest degree of respect
and reverence : تعظیم - عزت - تکریم - غایت درجہ
کا ادب

Veneal, a. Relating to sexual intercourse :
متعلق بہ جماع

Venesection, n. Blood-letting by opening a
vein : نشتر زنی - نصابی - رگ زنی

Vengeance, n. The infliction of pain in return
for an injury ; revenge : انتقام - بدلا
To wreak one's—on, To take—,
زر سے - شدت سے * **With a—** * بدلا لینا

Venial, a. Excusable ; pardonable : قابل معذرت
معافی کے لائق

Venison, n. The flesh of deer shot for the table ;
ہرن کا گوشت

Venom, n. Poison ; malice : زہر - بغض - کینہ

Venomous, a. Poisonous ; malignant : زہردار -
زہر آردہ - بدخواہ

Vent, n. A small aperture ; a passage for air,
fluid, &c ; flue : سوراخ - ہوا وغیرہ نکلنے کا راستہ -
* **To give—to, to suffer to escape ;**
بہر کرنا - غبار نکال
* **To take vent,** کولنا - پھوٹنا راز وا ہونا

Vent, v. t. To let out at a vent or small aperture ;
to publish ; to sell : نکالنا - پھرنے کا - ظاہر کرنا -
بیچنا

Ventage, n. A small hole : چھوٹا سوراخ

Venter, n. The abdomen : بچکدان - رحم

Ventilate, v. t. To air ; to winnow ; to expose
to examination and discussion : ہرادر کرنا - پھینکنا -
تقیق کرنا

Ventilation, n. Act of ventilating ; state of
being ventilated : باد کشی - ہوا کی آمد

Ventilator, n. An instrument to drive off foul
air : غلیظ ہوا کے نکلانے کا آہ

Ventral, a. Belonging to the belly : متعلق پیٹ

Ventriloquism, n. The art of speaking in such
a manner that the voice appears to come from
a distance : اسدور سے بولنے کا ہنر کہ معام ہر کہ
آواز دور سے آتی ہے - ایسی آواز بنانا کہ معام نہ ہو
کہ کہاں سے آتی ہے

Venture, n. Hazard ; hap : جوہم - قسمت
قسمت پر - بے سوجے سوجہ * **At a—** * آزمائی - اتقان

Syn.—Hazard, risk, danger, jeopardy.
Ant.—Calculation, estimation, regard,

Venture, v. t. or i. To have courage to do, undertake or say; to run a risk; to risk: جرات کرنا۔ دلیری کرنا۔ جو کچھ اورتھانا۔ خطرہ میں
 بے جو کچھوں نڈدہ نہیں

Venturesome, a. Daring; bold: دلیر والا۔ دلیر

Venturous, a. Daring; risking: دلیر۔ جرات باز

Venue, n. A neighbouring place; the place where an action is laid: قرب۔ موقع واردات

Venus, n. A planet: شکر قارا۔ زہرہ۔ لڑکی فلک

Veracious, a. Observant of truth; true: راست۔ سچا۔ سچائی

Veracity, n. Agreement with fact; truthfulness: صداقت۔ راست گوئی۔ سچائی

Verandah, n. An open portico: پرآمدہ۔ غلام۔ گردش

Verb, n. A word expressing being, doing or suffering: فعل۔ کرنا

Verbal, a. Oral; literal: زبانی۔ لفظی۔ غیر تحریری

Verbalise, v. t. To convert into verb: فعل کی حالت میں لانا

Verbatim, n. Word for word; in the exact words: لفظ بلفظ۔ ارنہیں الفاظ میں۔ حرف با حرف

Verbiage, n. Superabundance of words; wordiness: مارل کلامی۔ بیہودہ گوئی

Verbose, a. Abounding in words; wordy: پر از۔ الفاظ۔ مارل کلام

Verdant, a. Green; flourishing; fresh: سبز۔ سرسبز۔ تازہ

Verdict, n. The decision of a jury in a case submitted to them; judgment: تجریر۔ پنچایت۔ جوری کا فیصلہ۔ رائے

Syn.—Decision, judgment, finding, opinion.
Ant.—Indecision, misjudgment.

Verdigris, n. The bibasic acetate of copper, used as a green pigment: رنگار۔ تانبہ کا کساؤ

Verditer, n. A light blue or green pigment: قوتیا۔ نیلا تھوڑیا

Verdure, n. Greenness; freshness of vegetation: سبزی۔ سرسبزی۔ شادابی

Verdurous, a. Green; fresh: ہوا۔ سبز۔ شاداب

Verge, n. A rod; the shaft of a column; edge: **v. i.** To tend downward; to border upon: چھکنا۔ کنارہ پر ہونا

Verification, n. Act of verifying: تصدیق۔ تحقیق

Verify, v. t. To confirm; to authenticate: تصدیق کرنا۔ ثابت کرنا

Syn. Substantiate, attest, corroborate, authenticate, confirm.

Ant. Fail, mistake, miss.

Verily, adv. Truly; certainly: فی الواقع۔ حقیقت میں۔ البتہ۔ سچ

Veritable, a. True; real: درست۔ تحقیق

Verity, n. Truth; reality; a true fact or statement: سچائی۔ حقیقت۔ امر حقیقی

Vermicelli, n. Wheat paste made into long thin tubes: سیڑھیں۔ کرم گندم

Vermicular, a. Pertaining to a worm; like a worm: کرم سے متعلق۔ کرم کے مانند

Vermiculation, n. Act of moving in the form of a worm: کیلاہت

Vermicule, n. A little worm: کرمک۔ چوڑا کیڑا

Vermifuge, n. A medicine to expel worm from animal bodies: دوا دافع کرم معدہ

Vermillion, n. Red sulphide of mercury; a red colour: شنگرف۔ تیندور۔ سرخ رنگ

Vermin, n. All noxious animals or insects: تمام قسم کے مہلک جانور یا کیڑے

Vermivorous, a. Feeding on worms: کرم خور۔ کیڑے کھانڈیوالا

Vernacular, a. Of one's own country: دیسی۔ **n.** Native language; mother tongue: دیسی زبان۔ مادری زبان

Vernal, a. Belonging to or appearing in spring: بہاری۔ بہت کی رت کا

Versant, a. Familiar; skilled: ماہر۔ واقف

Versatile, a. Capable of turning; changeable: تیز طبع۔ ہر فن مرلا
*** Readily applying one's self to various subjects:**

Versatility, n. Aptness to change; the faculty of easily turning to new tasks or subjects; تبدیل پذیری۔ میلان۔ جولاہی

Verse, n. A line; a stanza; a poetry: مصرعہ۔ غیر صفا۔ نظم
Blank verse, * بیت۔ بند۔ نظم
Heroic verse, * پنج ارکانی مصرعہ۔ بے تکا۔ چوند

Versification, n. The act of composing verses: قافیہ بندی۔ شاعری۔ تنظیم

Versify, v. t. To relate in verse ; to turn into verse : نظم میں بیان کرنا - شعر گوئی کرنا - نثر سے نظم میں کرنا

Version, n. Translation ; transformation ; a change : ترجمہ - تبدیل صورت - تبدیل
Syn. - Translation, rendering, interpretation, reading, election,

Vertebra, n. A joint in the spine of animal ; a joint of the backbone : حیوان کی ریڑھ - استخوان پشت

Vertebrate, a. Having a spine or vertebral column : ریڑھ دار

Vertex, n. The crown or top ; the head ; the zenith : قلعہ - چوٹی - سمت الراس
Syn. - Top, summit, crown, apex.

Vertical, a. Perpendicular to the horizon : عمودی - کوزا

Vertiginous, a. Turning round ; giddy : گردشی کرتا ہوا - چکر کھاتا ہوا - ہومتا ہوا

Vertigo, n. Dizziness or swimming of the head : دوران سر - چکر - گھومری

Very, a. True ; real ; actual : سچا - حقیقی
* **The veriest shrew of all**, لڑاکیوں
* **adv.** In a high degree ; exceedingly : غایت - نہایت - بہت ہی

Vesicate, v. t. To blister : پھپھولا دینا - چھال دینا

Vesicle, n. A small blister : چھال - پھپھولا - پھلکا - چھوٹا آبلہ

Vesper, a. The evening star ; Venus ; the evening : زہرہ - ناہید - شام کا تارا - شام

Vespers, n. pl. Evening service in the Roman Catholic Church : عیسائیوں کی شام کی نماز

Vessel, n. A hollow dish of any kind : برتن
* **A ship** : جہاز
* **A tube in which the blood is circulated** : رگ - نس
* **The weaker** - عورت - ناز

Vest, n. A robe ; a waistcoat : لباس - پوشاک
* **v. t. or i.** To dress ; to endow ; to descend : کپڑے پہنانا - خلعت پہنانا - نازل ہونا

Vestal, a. Chaste ; pure : پاک دامن - عفیفہ - در شیزہ - تارک الدنیا

Vestibule, n. The porch or entrance into a house : دھلیز - تیزوہی - پیش دالان

Vestige, n. A track or footstep ; trace ; small remains : کھوج - نقش پا - نشان - چنہ

Vestment, Vesture, n. A robe ; a garment ; a dress : خلعت - پوشاک - جامہ - لباس پوشش
Syn. - Apparel, dress, clothing, garment, robe, garb, raiment, outfit.

Vestry, n. A room appendant to a church for vestments : گرجے کا لباس خانہ - گرجہ کا ملبوس خانہ - مہرہ جسمیں پادری اپنا جامہ پہنتا ہے

Vetch, n. A leguminous plant of several species : اُرد - مرثیہ وغیرہ غلہ

Veteran, a. Old in practice ; experienced : پختہ
* **n.** One who has been long exercised in any service or art, particularly in war : آزمودہ کار - مرد جنگ آزمودہ

Veterinary, a. Relating to the cure of cattle diseases : پاتمہ جانوروں کے متعلق

Veto, n. Any authoritative prohibition ; the power possessed by the executive, as a king, governor, &c., to negative a bill which has passed the legislature : حاکمانہ امتناع - نامنظری
* **اختیار بادشاہ یا حاکم درباب نامنظری قانون وغیرہ**

v. t. To withhold assent to a bill for a law, and thus prevent its enactment : نفاق مسردہ قانون کی نامنظری کرنا

Vex, v. t. To torment ; to tease ; to harass ; to irritate : اذیت دینا - دق کرنا - ستانا - پریشان کرنا
Syn. - Tease, torment, plague, harass, worry, distress, annoy.

Ant. - Gratify, please, soothe.
Vexation, n. Disquiet ; trouble ; a slight grievance : بے چینی - تکلیف - ملامت
Syn. - Chagrin, agitation, mortification.

Vexatious, a. Harassing ; distressing ; troublesome : ایذا رساں - تکلیف دہ - دہہ دائی

Via, adv. By way of : از راہ - راستہ سے

Viaduct, n. A railway bridge over a valley : ریل کا پل

Vial, n. A small glass bottle ; phial : شیشی - چھوٹی بوتل

Viands, n. pl. Food ; victuals : کھانا - طعام

Viaticum, n. Provision for a journey ; a travelling allowance : توشہ - راہ کا خرچ و خوراک - زادراہ - سفر خرچہ - بہتا

Vibrate, v. t. or i. To move to and fro ; to oscillate ; to swing : - ہلنا - اُپر اُتارنا - تھرتھورانا - جھولنا - جھلانا

Vibration, n. The act of vibrating ; quick motion to and fro ; oscillation : - حرکت شاقرونی - جنبش - اُپر اُتارنا - جھلانا

Vibratory, a. Moving to and fro ; oscillating : - حرکت کرتا ہوا - جھولتا ہوا - گھڑتی کے لنگڑیا لٹکن کا سا

Vicar, n. Substitute ; parish priest : - عوض - حلقہ کا پادری

Vicarage, n. The residence of a vicar : - محلہ کے پادری کا مقام

Vicarious, a. Acting in place of another ; substituted ; deputed : - قائم مقام - جانشین - نائب

Vice, n. Defect ; wickedness ; crime ; sin : - عیب - آہنی : A small screw press * نقص - بدکاری - گناہ * قائم مقام : Acting in the place of : * شکنجہ بچانے prep. In room of :

Vicegerant, n. A deputy : - قائم مقام - جانشین - خلیفہ

Viceroy, n. The governor of a kingdom who rules as the substitute of a king : - نواب - نائب السلطنت - ناظم الملک - صوبہ دار

Vicinage, Vicinity, n. Neighbourhood ; the state of being near : - ہمسایگی - پڑوس - نزدیکی

Vicinal, a. Adjoining to ; near : - قریب - نزدیک

Vicious, a. Wicked ; corrupt ; foul ; impure ; unruly : - شریر - بدکار - میلہ - نجس - مصنوعی - سرکش

Viciousness, n. State or quality of being vicious ; corruptness : - بدکاری - شرارت - بد ذاتی - بدی

Vicissitude, n. Regular change or succession from one thing to another ; change in human affairs : - دور - گردش - انقلاب - نشیب و فراز

Victim, n. A beast slain in sacrifice : - قربانی - قربانی * One who sustains injury ; one who is caught or cheated : - آفت رسیدہ - مظلوم - شکار

Victimise, v. t. To make a victim of ; to cheat ; to sacrifice : - شکار بنانا - سرمونقنا - قربانی کرنا

Victor, n. A conqueror : - ظفریاب - غالب * فتحمند - فتھیاب

Victorious, a. Conquering ; triumphant ; successful : - کامیاب - غالب - فتحمند - فیروز مند

Victory, n. Conquest ; triumph ; success in contest : - فتح - ظفر - جیت

Victual, v. t. To supply with provision for subsistence ; to provide with food : - رسد پہنچانا - خوراک دینا

Victuals, n. pl. Food prepared for eating ; provisions : - غذا - خوراک

Vide, n. See : - دیکھو

Videlicet, adv. That is ; namely : - یعنی

Vie, v. i. To strive for superiority ; to contend : - v. t. * ہمسری کرنا - برابری کا دعویٰ کرنا - رقابت کرنا - بدنا - دائر پر لگانا - To wager ; to stake ; to lay : - مقابلہ کا : n. A challenge ; a wager * ہمپیشی کرنا دعویٰ - بداندی - شرطی

View, n. Sight : - نظر * Survey : * ملاحظہ - Reach : * جانچ - امتحان - Intellectual examination : * منظر - Scene : * رسمت - Opinion ; sketch ; design ; show : - رائے - نقشہ - مطالب - شکل

View, v. t. To see ; to behold ; to inspect ; to consider : - دیکھنا - نگاہ کرنا - ملاحظہ کرنا - سوچنا - فرور کرنا - خیال کرنا

Syn.—Survey, scan, eye, see, witness, behold, inspect ; explore, contemplate.

Vigil, n. Sleeplessness ; watching or waking for religious exercise : - بے خوابی - جاگرن - رت چگنا - شب بیداری

Vigilance, n. Watchfulness ; caution : - بیداری - چرکسی - خبرداری - ہوشیاری

Vigilant, a. Watchful : - خبردار * Wakeful : - بیدار * Cautious : - چرکس

Vignette (Pro. Vin-yet), A little picture or ornamental ; flourish : - آدھی کے شانزٹک کی تصویر - نقش و نگار - بیل بورتا

Vigorous, a. Powerful ; strong ; energetic : - قوی - زبردست - مضبوط - زور آور

Vigour, n. Physical force ; energy ; vital activity : - زور - طاقت - ہمت - تیزی

Vile, a. Base ; despicable ; impure ; worthless : - کمینہ - حقیر - نجس - نکما

Vilify, v. t. To defame ; to make vile or despicable : - بدنام کرنا - ذلیل کرنا - حقیر کرنا

Villa, n. A country residence, usually of a wealthy persons : مسکن چربڑے آدمی گاؤں میں تعریف کے لئے بناتے ہیں

Village, n. An assemblage of houses in the country less than a town or city : - گاؤں - مزرعہ دیہہ

Villager, n. An inhabitant of a village : - دیہاتی - دیہاتی - گنوار

Villain, n. A bondman : ایک ادنیٰ پٹی دار یا بدمعاش - شریر : * A deliberate scoundrel : * کاشمکار

Syn. - Rascal, knave, scoundrel, rogue, scamp, reprobate, scapegrace.

Villainous, Villanous, a. Mean ; mischievous : رذالہ - فسادی - متفنی - شریر

Villainy, n. Baseness ; wickedness - شرارت - بدمعاشی - رذیلہ - زہرئی

Villatic, a. Pertaining to a village : - گاؤں کے متعلق

Villous, a. Shaggy ; rough : - چھوڑا - پشمندار - ٹھوکرھا - روٹیں دار

Vincible, a. That may be overcome ; conquerable : مغلوب ہونے کے قابل - سر ہونے کے لائق

Vindicate, v. t. To maintain ; to justify ; to avenge : قایلہ رکھنا - حمایت کرنا - صحیح ٹھہرانا - ثابت کرنا - بدلہ لینا

Vindication, n. Defence or support of a statement, etc. ; establishment of a claim, &c. : حمایت - تائید - اثبات دعویٰ

Vindictive, a. Given to revenge ; revengeful : بدلا لینے والا - کینہ ور

Vindictiveness, n. Revengefulness : - کینہ وری - بدلہ لینے کا مزاج

Vine, n. A climbing plant that bears grapes : تاک - انگور کی پیل

Vinegar, n. An acid liquor obtained from wine, cider, or beer : سرکہ

Vineyard, n. A plantation of vines producing grapes : تاکستان - انگور کا باغ

Vintage, n. The time of gathering grapes ; the produce : انگور جمع کرنے کا وقت - انگور کی فصل

Vintner, n. One who deals in wine ; a seller of wine : انگوری شراب فروش - مے فروش

Viol, n. An old musical instrument superseded by the violin : رباب - سازنگی

Violable, a. Capable of being violated : توڑنے کے لائق - عدم ایفا کے لائق - زوال پذیر

Violate, v. t. To break open violently ; to injure ; to infringe ; to ravish : - توڑنا - نقصان دہنا - * عدول کرنا - بگاڑنا - ناپای کرنا - ازالہ بکارت کرنا - فرض خدمت کے خلاف کرنا - a duty

Syn. - Break, infringe, transgress, invade, set at nought.

Ant. Observe, preserve, mind.

Violence, n. Force ; vehemence ; outrage ; rape :

زور - زبردستی - زیادتی - سختی - ظالم - ستم - پروردہ - * Heinous - جبر شدید - * Personal - صدمہ جسمی - * To do - on, جبر کرنا - * To do - to, پھرنچانا - مار ڈالنا

Violent, a. Fierce ; forcible ; outrageous ; unnatural : سخت - تند - زور - ظالم - غیر طبیعی : اپنے تئیں مارنا یا ضایع کرنا

Syn. Boisterous, furious, impetuous, vehement.

Ant. - Calm, gentle, mild, meek, patient.

Violet, a. A sweet-scented flower of many species : * بنفشہ - * a. A bluish or light purple : بنفشہ (رنگ)

Violin, n. A four-stringed musical instrument : چکارہ - رباب - سازنگی

Violinist, n. A player on the violin : سازنگیا

Violoncello, n. A brass-violin giving sound an octave lower than the tenor violin of viola : بڑی سازنگی - بڑی بین

Viper, n. A kind of serpent : * افعی - زہریلا سانپ - * A malignant person : مریض

Virago, n. A woman of extraordinary stature, strength and courage ; a bold, impudent, turbulent woman : عورت جو بڑی قدآر قوی اور دلیر ہو - کرکا

Virgin, n. A female of unspotted purity ; a maiden : * * * * * پاکرہ - کنواری - در ناسفتہ - Chaste ; untouched : پارسا - پاندامن - اچھوتی

Syn. - Undeified, pure, maidenly.

Ant. - Corrupt, impure, polluted.

Virgo, n. The virgin; a sign in the zodiac :

کنیا - سنبلہ

Viridity, n. Greenness; verdure :

سبز - شادابی

Virile, a. Belonging to a man; procreative :

مردانہ - مرد صفت - مولد

Virility, n. Manhood; power of procreation :

رجولیت - مردی - قوت - تولید - قوت باہ

Virtu, n. A love of the fine arts; a taste for

curiosities, object of art or antiquity taken

collectively :

عبدت فنون مثل موسیقی و مصوری کا شوق - عجائبات کا ذوق - عجائبات ہنر زمانہ سلف

Virtual, a. Being in effect, though not in fact ;

potential :

حقیقی - ذاتی - موثر

Virtually, adv. In efficiency or effect only :

فرد الحقیقت۔ فی الواقع - اصل میں

Virtue, n. Moral goodness :

* نیک - پارسانی

Right principle : Excellence :

Right principle : Excellence :

Womanly chastity : * عمدگی - خردی - جودہ - وصف

* اثر : Efficacy : * زور : Energy : * عمدت - پاکدامنی

Power : Bravery : * دلیری : * Virtue is a

* عمدت بڑا بیش بہا گرہر ہے

In or by—of, by reason of, by reason of, by reason of

حسنت متبرکہ یعنی ایمان - امید اور

سظارت

Syn.—Goodness, uprightness, probity, integ-

Ant.—Wickedness, viciousness, vice, evil.

Virtuoso, n. One skilled in fine art :

اہل ہنر - صاحب فنون

Virtuous, n. Righteous; chaste :

نیک بخت - نیک خصلت - پاکدامن

Virulence, n. Malignity; acrimony :

خصومت - تیزی - سختی

Virulent, a. Poisonous; bitter; malignant;

spiteful :

زہر آلودہ - کزوا - بدخواہ - کینڈور

Virus, n. A morbid poison :

زہریلا مادہ

Visage, n. The face, countenance or look of

a person :

چہرہ - صورت - لقا - بشرہ

Viscera, n. pl. Bowels :

آنت - رودہ

Viscid, a. Glutinous; adhesive :

چپچپا - لعابدار - چپکنا ہوا

Viscidly, n. Glutinousness; stickiness :

للساہت - چپچپاہت - چسپیدگی

Viscosity, n. Viscidity :

لعابدار - چسپیدگی

Viscount (vikount), n. A title next below an

earl :

انگلستان میں ایک درجہ کے امرا کا خطاب

Viscountess, n. The wife of a viscount :

انگلستان میں ایک رتبہ کے امرا کی بی بی کا خطاب

Viscous, a. Glutinous; adhesive :

چپچپا - لعابدار

Visibility, n. State of being visible :

نموداری - دید - رویت

Visible, a. Perceivable by the eye; apparent :

آدکارہ نمودار - ظاہر - صریح

Visibly, ad. Clearly :

ظاہراً - صاف صاف

Vision, n. Actual sight; faculty of seeing; an

object of sight; a phantom; creation of fancy :

نظر - نگاہ - قوت باصرہ - بینائی - منظر - دید - سایہ

خیال - وہم - اہر - تصور

Visionary, a. Imaginary; unreal :

خیالی - وہمی - بے اصل

Syn.—Imaginative, romantic.

Ant.—Truth, palpable.

—, n. One who forms impracticable schemes :

پیشکش خیال - خبطی - من مروجی

Visit, v. t. To go or come to see; to inspect :

an. Act of going to see; inspection :

ملاقات - معائنہ - ملاحظہ

Visitant, n. One who visits another; visitor :

ملاقاتی - ملاقاتی

Visitation, n. Act of visiting :

* ملاقات - معائنہ

خدا کا غضب یا رحمت الہی

Good or evil dispensed by God :

Syn.—Dispensation, calamity, disaster, affliction, misfortune, trial, blow, stroke, trouble, hardship.

Visitor, n. One who visits :

A guest : * ملاقاتی

An inspector : * ملاحظہ کرنیوالا

Visor, n. A mask to disguise; the movable

face-guard of a helmet :

تقاب - برقعہ - خرد کے آگے کا حصہ جو ہلتا ہے

Vista, a. A view through an avenue, as of tree :

منظر درمیان دورویہ درختوں کے

Visual, a. Belonging to sight :

متعلق - باصرہ - نظر کے

Vital, a. Belonging to life; necessary of life;

living; being; the seat of life; essential :

جاننی - جان بخش - زندہ - جاے حیات - ضروری - لازمی

* نقص قاطع - defect, * ہرے جان بخش - air - نازک جگہ - part

- Syn.**—Essential, necessary, immediate, absolute.
- Ant.**—Secondary, unnecessary.
- Vitality, n.** The principle of life ; animation :
قوت حیوانی - حیات - جاندار
- Vitals, n. pl.** Parts essential to life :
رہ اعضا جنمیر : زندگی موقوف ہے - اعضاء رئیسہ
- Vitiate, v. t.** To spoil ; to corrupt ; to render defective :
بگاڑنا - باطل کرنا - بے تاثیر کرنا - ناقص کرنا
- Syn.** Impair, soil, deteriorate, debase, deprave, corrupt, pollute, adulterate, injure, contaminate, infect, defile, poison.
- Ant.**—Improve, reform, mend.
- Vitreous, a.** Of the nature of glass : - شیشہ کا
کانچ کا
- Vitrify, v. t. or i.** To convert into glass by fusion or the action of heat ; to become glass :
شیشہ بنانا یا بنجانا
- Vitriol, n.** A soluble sulphate of any of the metals ; sulphuric acid :
تیزاب - تریبا - گندھک کا تیزاب
- Vituperate, v. t.** To blame ; to abuse ; to reproach :
بدنام کرنا - ملامت کرنا - طعن کرنا : سرزنش کرنا - آڑے ہاتھوں لینا
- Syn.** Abuse, vilify, revile, reproach, defame, asperse, slander, traduce, malign, upbraid.
- Vituperation, n.** Abuse ; severe censure ; blame :
ملامت - شکایت - طعن - الزام - دشنام دہنی
- Vivacious, a.** Lively ; sprightly ; animated :
خوشدل - چست - چالاک - زندہ دل
- Syn.**—Sprightly, active, gay, sportive.
- Vivacity, n.** Liveliness ; sprightliness ; animation :
خوشدلی - تیزی - چالاکی - زندہ دلی
- Vivid, a.** Lively ; bright ; sprightly :
شگفتہ خاطر - شوق - بھڑندار - زندہ دل - دلدادہ
- Vivific, a.** Giving life : جان بخش
- Vivify, v. t.** To endue with life ; to animate :
جلا دینا - زندہ کرنا - حیات بخشنا
- Viviparous, a.** Producing young in a living state :
بچہ دینے والی
- Vivisection, n.** The dissection of an animal, while alive, for scientific purpose :
جیتے جانور کی چیر پھاڑ

- Vixen, n.** A she-fox : * لومڑی A forward passionate woman :
جھوڑا عورت - کرکسا
- Viz, n.** For videlicet ; namely : یعنی
- Vizard, n.** A mask : گھونگھٹ - برقعہ - نقاب
- Vocable, n.** A word ; a term : لفظ - کلمہ - شبد
- Vocabulary, n.** A word-book ; a dictionary :
فرہنگ - لغت
- Vocabulist, n.** A compiler of a vocabulary :
فرہنگ کا مولف
- Vocal, a.** Having a voice ; uttered by the sound ; sonant :
آوازدار - شبدی - الہانی
- Vocalise, v. t.** To form into voice ; to make vocal :
آواز بنانا - آواز دار کرنا - ناطق کرنا
- Vocation, n.** Call : * طالب - بلوا :
پیشہ - شغل
business :
Syn.—Occupation, employment, calling, business, pursuit.
- Ant.**—Leisure, freedom.
- Vociferate, v. i.** To cry out loudly ; to clamour :
چلانا - پکارنا - شور کرنا - بلند آواز سے چلانا
- Vociferous, a.** Noisy ; clamorous :
شور کرنے والا - بلند آواز
- Vogue, n.** Mode ; custom ; practice ; popular reception :
طریقہ - وضع - دستور - رواج - چال - چلن : عام استعمال
- Voice, n.** Sound ; utterance ; tone ; expression ; vote ; language ; words ; precept ; mode of inflecting verbs :
آواز - صورت - ندا - صدا - بول - *
اظہار - اظہار رائے - زبان - الفاظ - نصیحت - صیغہ - فعل
v. t. To sound ; to regulate the tone of ; to rumour ; to report ; to vote :
آواز کرنا - شور کرنا - آواز ملانا - افراہ پھیلانا - بیان کرنا - اظہار رائے کرنا
- Voiceless, a.** Having no voice or vote :
بے صدا - بے زبان - غیر مسومع
- Void, a.** Empty ; vacant ; null ; unoccupied ; destitute :
خالی - تہی - منسوع - باطل - بلا دلیل -
n. An empty space ; a vacuum :
v. t. * خالی جگہ - خلا
To quit ; to eject :
v. i. * خارج کرنا - نکالنا
To nullify :
v. t. * منسوع کرنا - باطل کرنا
evacuated :
خالی ہونا
- Voidance, n.** Ejection ; vacancy ; nullity :
اخراج - خاو - تہی

Volant, a. Flying; nimble; light and quick:

پرنڈے - اوزنڈرالا - چالاک - تیز - سیکندس

Volatile, a. Flying; evaporating quickly:

اوزنڈرالا - بھنے والا - کانور -

صفت - ابشرہ ہونڈرالا - چنچل - زندہ دل - چالاک -

دلشاد - تارن طبع - سیداب طبع

Volcanic, a. Relating to or produced by volcanoes:

کوہ آتش نشاں کے متعلق - آتش نشانی

Volcano, n. A mountain emitting fire and lava:

کوہ آتش نشاں - جوالا مکھی پہاڑ

Volitation, n. Act of flying; rapid flight:

اوزان

Volition, n. Act of willing or choosing:

اختیار - مرضی - پسند

Volitive, a. Relating to the will:

خواہش یا پسند کے متعلق

Volley, n. A flight of shot; a discharge of small arms:

شلیک - بوجھار - بار

Volubility, n. Act of rolling; Fluency of speech:

لڑکھٹا * لڑکھٹا - چرب زبانی

Syn. Fluency, glibness, readiness of speech, gift of the gab.

Voluble, a. Apt to roll; fluent:

لڑکھٹا - چرب زبان

Volume, n. A roll: A book:

کتاب - * پلندہ * Mass: * جسامت - مقدار * Bulk; compass:

آواز کی نشیب و فراز: * Compass of the voice: * ڈھیر

Voluminous, a. Consisting of many volumes or books; bulky; copious; diffused:

چند جلدوں پر مشتمل - ہجیم - منسل - مشرق

Voluntarily, adv. Of one's own free will; spontaneously:

از خود - بخوشی - خود بخود

Voluntary, a. Proceeding from the will; spontaneous; done by intention; subject to the will;

gratuitous: - برضا و رغبت - خود بخود - تصداً - اختیاری - مفتی

Syn.—Spontaneous, free, unconstrained.

Volunteer, n. One who serves by choice:

جر اپنی * v. t. To offer voluntarily: - بلم نگر - برضا و رغبت پیش کرنا

Syn.—Offer, proffer, tender, present.

Ant.—With-hold, refuse, retain.

—, v. i. To enter into any service of one's own free will:

اپنی خوشی سے نوکری اختیار کرنا

Voluptuary, n. One addicted to luxurious living; sensualist:

عباش - نفس پرست - شہرت پرست

Voluptuous, a. Luxurious; sensual:

شہرت پرست

Vomit, v. i. To puke; to spew:

تے کرنا - رد کرنا * v. t. To throw up; to disgorge:

تے آور درنا * n. An emetic: - کرنا - رد کرنا

Voracious, a. Greedy to eat; ravenous; rapacious:

خورندہ - پیٹر - بیک مرا - خورنخور

Voracity, n. Greediness of appetite; voraciousness:

بیک مرا پن - گرسنہ چشمی

Vortex, n. A whirlpool; a whirlwind:

گزداب - ورمہ - گردباد - بگرلا - چکر

Vortical, a. Whirling:

چکر کھاتا ہوا - گھومتا ہوا

Votary, n. One devoted to any service or pursuit:

a. Bound by a vow; consecrated:

* جان نثار - غلام - بندہ - پیرو - ندوی: معتقد - عابد

Vote, n. Expression of choice or opinion; decision of a majority; ballot:

اظہار رائے یا پسند - * v. t. or i. To choose by vote; to elect; to express one's choice:

تجزیر کرنا - انتخاب کرنا - اپنی پسند ظاہر کرنا - رائے دینا

Votive, a. Given or observed by vow:

مانا ہوا - منعت کیا ہوا

Vouch, v. t. or i. To call upon to witness; to attest; to declare; to support; to bear witness:

گواہی کے واسطے طالب کرنا - تصدیق کرنا - بیان کرنا - جائز رکھنا - گواہی دینا

Syn.—Declare, attest, affirm.

Ant.—Abjure, disown, demur.

Voucher, n. A document vouching a fact:

دستاریز - سند - رسید

Vouchsafe, v. t. or i. To permit to be done without danger; to condescend to grant; to condescend:

بلاخوف و خطر کے ہونے دینا - بخشنا - مہربانی کرنا - فروتنی سے پیش آنا جھکنا

Syn.—Concede, grant, accord.

Ant.—Deny, refuse, disclaim.

Vow, n. A solemn promise made to God or to some deity; a promise of fidelity; a pledge of love:

* دینی عہد - منت - وعدہ - بچن - اقرار - محبت: v. t. or i. To consecrate to God by a solemn promise; to make a vow or solemn promise:

منت ماننا - منت کرنا - عہد دینا - وعدہ کرنا

Vowel, a. A letter which can be uttered by itself :
حرف علت - سرور

Voyage, n. A passage or journey by water :
تري کا سفر - سفر بصري

Voyager, a. One who makes a voyage :
مسافر - سياح

Vulgar, a. Common ; plebian ; boorish : عام -
عام لوگ - عوام
* n. The common ;
گنوارو - گنوارو - ناخرانده - بھدا

Vulgarism, n. A vulgar phrase or expression :
گنوارو مستاوره يا مثله

Vulgarity, n. Coarseness of manners or language :
گنوارو پن - بھدا پن

Vulgate, n. A very ancient Latin version of the Scriptures :
لاطيني زبان میں انجيل و توريث کا
پراننا ترجمہ

Vulnerable, a. Capable of being wounded :
جو مجروح ہو سکے - قابل مجروحی

Vulnerary, a. Useful in healing wounds : زخم :
اچھا کرنيوالي

Vulpine, a. Pertaining to or resembling the fox ; cunning ; crafty :
رובה سيرت - مکار

Vulture, a. A large, carnivorous and rapacious bird :
کرگس - گد

Vulturine, a. Of the nature of the vulture :
گد کي طرح کا - کرگس صفت

Vulturous, a. Like a vulture ; voracious ;
گد کے موافق - خونخوار

W

Wabble, v. i. To move from side to side :
چومکر - چلنا - ڈگمگانا

Wad, n. A little mass of soft material to stop the charge of powder in a gun ; bet :
بندوق يا توپ کا
* v. t. To form into a wad ; to insert a wad :
قات بنانا - قات بھرنا

Wadding, n. A wad :
* A kind of soft stuff used for quilting garments :
کوئي شے نرم
رضائي میں بھرنے کي

Waddle, v. i. To walk like a duck :
ڈگمگاتے ہوئے
چلنا - ہلتے ہوئے چلنا - منکتے چلنا

Wade, v. t. or i. To pass through water without swimming ; to pass with difficulty :
پاياب
ارتوتا - بدقت و دشواري گذرنا

Wafer, n. A thin cake of flour :
* A thin leaf of paste used in sealing letters, &c. :
لٹانہ
* v. t. To seal or close with a wafer :
گھيا سے بند کرنا

Waft, v. t. or i. To bear through a fluid medium ; to float :
* n. * بہا لے جانا - تيرانا - تيرنا

Wave of the hand or of a flag ; a signal :
اشارہ

Waftage, n. A conveyance through a buoyant medium :
پاني يا ہوا سے گذرنے کا ذريعہ

Wag, v. t. or i. To shake or move to and fro :
ہلانا - ہلانا - چلانا - تولا نا

Wag, n. A ludicrous fellow :
تھپے باز - مسخرہ - ظريف

Wage, v. t. To hire :
* To stake :
* To undertake :
* To war,
دائرہ کزنا * کرایہ کزنا
اختيار کزنا - تھاننا * پز لگانا
لڑائي کزنا - لڑنا

Wager, n. A bet ; a stake :
* بازی - دائو - شرط
* بازی لگانا - دائو بدنا - شرط
* بازی لگانا

Syn.—Bet, stake, pledge.

Wages, n. pl. Hire ; reward of services ; salary ; recompense :
اجرت - مزدوري - تنفراہ -
طلب - بدلا

Syn.—Pay, compensation, remuneration, stipend, allowance.

Waggery, n. Sarcasm in good humour :
pleasantry :
ظرافت - مسخرگی - تھپوئي

Waggish, a. Merry ; droll :
ظريف - مسخرہ -
تھپوليا

Syn.—Jocular, jocose, humorous, sportive, facetious.

Waggle, v. t. or i. To wag ; to waddle :
*
*
تولا نا - منکتے ہوئے چلنا - بہا کي چال چلنا

Waggon, n. A four-wheeled carriage for carrying heavy goods :
چو پہیہ - چھکڑا

Waggonette, n. A light four-wheeled pleasure carriage :
ایک قسم کي ہگھی - ہگنت

Wagtail, n. A small bird of several species :

مردم-پنجه - مورلا - کھنجن

Waif, n. Goods found of which the owner is not known :

لاوارثي مال - بيزي هونمي چيز - وڌا مال جو - جوڙ ڌال ٿيڪي هون

Syn.—Deplore, bemoan, grieve for, mourn for.

Wail, v. t. or i. To lament ; to weep :

ڏانه ززاري - ڪرنا - غم ڪرنا - رونڊا

—, **n.** Loud weeping ; violent lamentation :

رونڌا - ڪريه ززاري - ڏانه

Wailing, n. Lamentation :

ڪريه ززاري - غم - انسرس - وارڊلا

Wain, n. A waggon :

چوڪڙو

Wainscot, n. The wooden lining of a room :

ٽڪٽه بندي * **v. t.** To line with boards or panel-work :

ٽڪٽه بندي ڪرنا

Waist, n. The part of the human body which is immediately below the rib :

مٿيان - ڪمر

Waistband, n. A band round the waist :

بند - پٽڪا

Waistcoat, n. A short garment fitting close to the waist :

ڦٽو هي - ڪرتي - واسڪٽ

Wait, v. t. or i. To await ; to attend ; to stay ;

to follow ; to lie in ambush :

راهه ڏيکهن - منتظر - رهنا - حاضر رهنا - ٿهراڻا - همراه هونا - گهات مٿيان

ملنا - ملاقات ڪرنا - **To—on or upon,**

گهات مٿيان **To lie in—** * خدمت مٿيان حاضر رهنا

To—upon one's

memory, **n.** Ambush :

ڪمپنگاه - گهات

Waiter, n. An attendant :

* ٺوڪر - خدمت گار - ڏسڻي - خوران

Waiting maid, n. A general servant who

waits on a lady :

اوتڻي - باندي - خدمتگاري

Waive, v. t. To relinquish ; to give up claim to :

ترڪ ڪرنا - دست بردار هونا - دعويٰ چورڙ ڏيڻا

Wake, v. t. or i. To arouse ; to put in motion

or action ; to awake :

جگانا - تعريڪ ڪرنا - جاڳڻي - رهنا - بيدار هونا - پراڻيڪه هونا - تعريڪ پانا

Wake not a sleeping lion,

سوتلي ٻڌ مت **Track of**

*** n.** Act of waking :

To

follow in one's wake, **n.** کسی کی لکیر پر چلنا - تقلید ڪرنا

Wakeful, a. Indisposed to sleep ; watchful :

بيدار - جاگتا - هوشيار - خبردار

Wakefulness, n. Indisposition to sleep ;

watchfulness :

بيداري - خبرداري - جاڳڻ

Waken, v. t. or i. To arouse from sleep ; to stir

up ; to cease to sleep :

جاڳتا - تعريڪ ڪرنا - جاڳڻا

Wale, n. The mark of a whip on animal flesh :

* A ridge or streak rising above the

surface of the cloth :

* ٺيڪي ۾ اهڙا سوراخا هوندا آهن

v. t. To mark with wales :

ڏانهڙون ڪا داغ ڪرنا

Walk, v. t. To move by steps without running :

* **n.** A short excursion on foot for pleasure or exercise :

* سِير - سِير ڪرنا

* **A**

gait ; a path .

رفتار - راهه - روش - راسته

Wall, n. The side of a building :

* ديوار - بويت

* **To**

go to the—, **To hang by the**

wall, **To take**

the wall of, **To**

inclose with a wall :

* **To**

go to the—, **to**, be unsuccessful :

هونڌا - هارجانا

Wallet, n. A traveller's bag :

چوڙلا - جامداني

Wallop, v. t. or i. To whip ; To boil with a

continued bubbling :

ڪوڙي مارنا - ڪهڊبانا - جوش

مارنا

Wallow, v. i. To roll on the earth :

ٺٽنا - نجاست مٿيان رهنا

* **To live in gross vice**

Walnut, n. A tree with an edible nut :

گردگان - اخروٽ

Walrus, n. A sea-horse :

دريائي گهوڙا

Waltz, n. A dance and a tune :

ايڪ قسم ڪا ناچ - وراڳ

Wamble, v. i. To be disturbed with nausea :

جي متنگا

Wan, n. Having a pale or sickly hue :

زردرو - پيمار سا

Syn.—Pallid, cadaverous, ashy.

Ant.—Bright, lively, fresh-coloured.

Wand, n. A small stick ; a rod :

سوتا - عصا

هونمي

Wander, v. i. To roam ; to deviate ; to be delirious : آوارہ پھرنا - هانقنا - بهنگنا - مطالب سے گزیر کرنا

Syn.—Ramble, roam, rove, stroll, straggle,

Ant.—Rest, settle, fix.

Wanderer, n. One who roams about listlessly :

آوارہ - گھومکڑ - ہرزہ گرد

Wane, v. i. To decrease ; to sink : گھٹنا - ڈھلنا -

گھٹاؤ - کمی - Decrease ; decline : اوتار پڑھنا زوال

Want, n. Need : احتیاج - مطالب - ضرورت - ادلاس : Poverty : کمی - کڑواہی - گھٹتی

Want makes strife, 'twixt man and wife, مفاسی میاں بیوی میں جرتیوں دال

Want is the mother of industry, ہیئت کی خاطر آدمی ٹوکری ڈھرتا ہے

Syn. Scarcity, insufficiency, inadequacy, scantiness, meagreness.

Ant.—Sufficiency, adequacy, supply.

Want, v. t. or i. To need ; to wish for ; to fall short :

ضرورت رکھنا - چاہنا - کم ہونا

Wanton, a. Frolicsome ; wandering ; licentious ;

چنچل - شرح - آوارہ - مست - lewd ; luxuriant : n. A lascivious man or woman : فریاد - بھرت - چھنال

to frolic ; to support in lewdness : آوارہ پھرنا - بد - مستی کرنا

Wantonly, ad. Without cause or provocation :

بلا وجہ - بیوردگی سے - شوخی سے - لہو و لعاب سے

Wantonness, n. Sportiveness ; licentiousness ;

شوخی - آوارگی - بدمستی - lewdness :

War, n. Fighting ; enmity ; the profession of

arms : جنگ * War is death's feast, رزم موت کی بزم

to fight ; to make war : جنگ کرنا - لڑنا - جھگڑنا

Warble, v. t. or i. To carol ; to sing as birds :

n. A quavering modulation ; a song : چھپھات - گیت * گانا - چھپھات

Ward, n. Watch ; custody ; guardianship :

A person under a guardian : حراست - ولایت - Court of wards, نابالغوں کی سرپرستی کا محکمہ

Ward, v. t. To watch ; to defend ; to fend off :

نگہبانی کرنا - حفاظت کرنا - دفع کرنا - روکنا

Warden, n. A guardian ; a keeper ; a jailor ;

a head officer : نگہبان - پاسبان - داروغہ جیل - ناظر

Warder, n. A keeper ; a guard : نگہبان - محافظ

Wardrobe, n. A room or closet where clothes are kept : پوشاک - کپڑے - لباس

Wearing apparel in general : * ہرشیار - چرکنا

Ware, a. Cautious ; wary : سودا - مال -

Article of merchandise ; goods : اسباب - ظروف - چیزیں

Syn.—Goods, commodities, merchandise, move-

ables.

Warehouse, n. A storehouse for goods : گودام -

To deposit in a warehouse : گودام میں رکھنا

Warfare, n. Military service ; hostilities ;

جنگ بازی - لڑائی بھڑائی - جنگ و جدل -

contest : متبادلہ - رزم

War-flame, n. A beacon ; a signal-fire : کسی

جگہ کے باشندوں کو دشمن کی آمد سے آگاہ کرنے کا

لاڑ - آکاش دینا

Warily, adv. Cautiously : ہوشیاری سے

چوکھی یا عاقبت اندیشی سے

Wariness, n. Foresight ; caution : ہوشیاری - احتیاط

جنگ جری - جنگی سپاہیانہ

Warlike, a. Disposed for war ; martial :

Zealous * گرم : Excitable * داسوز * سرگرم

Ardent * سرگرم : Irritable * سخت - تند

Warm reception, گرم ملاقات * غصہ ور

Warm, a. Moderately heated :

to heat moderately ; to excite ; گرم کرنا - تھریک کرنا - گرم

to become heated : ہونا - دکھانا - تپانای کرنا

Warmly, ad. With gentle heat : کسی قدر گرمی سے

Eagerly : خواہش سے - گرم جوشی سے

Warmth, n. Gentle heat ; earnestness ; zeal :

گرمی - حرارت - شوق - جوش

Warn, v. t. To make aware ; to caution ; to bid :

آگاہ کرنا - تمہا پیش کرنا - جتاننا - حکم دینا

Warning, n. Previous notice : تنبیہ - آگاہی

Warp, n. The thread that runs lengthwise in a

loom : رسی - گن * A rope used in towing :

v. t. or i. To twist ; to pervert ; to deviate :

موزنا - مڑنا - گمراہ کرنا - گمراہ ہونا - ایٹھنا دینا - ایٹھنا

Warrant, v. t. To guarantee; to assure; to authorise; to maintain; to justify: - ضمانت ہونا * یقین دلانا - اختیار دینا - قائم رکھنا - جائز یا روا رکھنا

n. Authority; security; a writ: - فرمان - ضمانت - وکالت

Warrant to sue and defend, * پروانہ و نیکار
Search-warrant, * اختیار اجراءے نالش و خراب دہی حکم نامہ تلاشی

Warrantable, a. That may be warranted; justifiable: مناسب - واجب

Syn. - Allowable, permissible, admissible, lawful, proper, vindicable.

Warranty, n. Authority; security; guarantee: اختیار - ضمانت - وعدہ

Warren, n. An enclosure for rabbits: خر گوشوں کے پالنے کا احاطہ

Warrior, n. A soldier; a brave military man: لشکری - سپاہی - جنگی - جودھا

War-ship, n. A man of war: جنگی جہاز

Wart, n. A hard excrescence on the skin: مس - گدڑی

Wary, a. Cautious; watchful: - خبردار - چرکنا

Syn.—Vigilant, circumspect, discreet, guarded, prudent.

Was, v. i. Past tense of *Be*: تھا

Wash, v. t. or i. To cleanse with or in water; to wet; to tint lightly; to overlay with a thin coat of metal; to perform the act of ablution: دھونا - پانی میں صاف کرنا - کھنکنا - پکھالنا -

To wash one's hands of, * ہاتھ دھونا - بڑی ہرنا

n. Ablution: غسل * A medical lotion: زخم کپڑوں کی لادی

Clothes washed at one time: * دھرتے کی دوا کا پانی

Washerwoman, n. A woman who washes clothes: دھوہن - بیٹھن

Washy, a. Watery; weak: - آبی پنیلا - کیلا - ضعیف - کمزور

Wasp, n. A stinging, winged, bee-like insect: جہاں گڑ وہاں مکھیاں

Wasps haunt the honey-pots, * زنبور - زنبور

Waspish, a. Having a slender waist: * پتلے کمر کا - زرد رنج

Peevish -

Wassail, n. An occasion of festivity at which healths are drunk; a crousal: جشن - شراب کے رت کی دعا سلام

Waste, v. t. or i. To destroy; to wear away; to squander; to be consumed: ویران کرنا - برباد کرنا - کم کرنا - صرف کرنا لگانا - ضایع کرنا یا ہونا - کھلنا

To—away, to dwindle * کھل جانا

want not, * *a.* Devastated; uncultivated; worthless; superfluous: - ویران -

To lay—, to devastate: * غیر مزروعہ - بیکار - فصول

To run to—, to become spoiled: * خراب ہونا برباد ہوجانا

n. Wanton destruction; useless expenditure; refuse: ویرانہ

Ruined country: * کوڑا کرکٹ

Wasteful, a. Destructive; prodigal: - مضر - خرج - زندانگار

Watch, v. t. or i. To give heed; to guard; to be awake; to keep guard; to wait: نگہبانی

* کرنا - چوکسی کرنا - بیدار رہنا - پہرہ دینا - تاک لگانا

To—over, to be cautiously observant of: * *n.* The act of watching: چوکسی - چوکیداری

* نگہبان - چوکیدار - پاسبان - پہرہ والا

Watch and ward, * چوکسی پہرہ

Watchful, a. Vigilant; cautious: - خبردار - بیدار - ہوشیار

Watchmaker, n. One who makes or repairs watches: گھڑی ساز

Watchman, n. A guard; the care-taker of a building by night: - نگہبان - پاسبان - چوکیدار

Watchword, n. The word given to sentinels as a token by which a friend is known from an enemy; a password: چوکیداروں کا پرول

Water, n. A transparent fluid; a body of water: * چمک - آب - Lustre * پیشاب: * *Urine* * پانی - دریا

Water-level, * کانچی - پیچ

Water-lily, * نذرل - پانی کی ہوارپ - پنسال

Water scape, * پانی کی سیر

To keep one's head above water, * *v. t. or i.* To irrigate; to supply with water; to take

The * آبپاشي ڪرنا - پاني پھنا - ڏنڊبانا : in water
منه ميں پاني بهرانا - رال ٽپڪتي mouth waters,
هے - جي لڇاتا هے

Water-course, n. A stream ; a channel for water :
ندي - نالي - بدروز

Water-fall, n. A cascade ; a cataract :
آبشار - ڇوڙنا

Waterfowl, n. An aquatic bird :
درمائي پرند

Watering, n. The act of supplying with water :
گھات ڇهاڻ لڳ ڇاڻي هين : * آبپاشي
place, a place where people resort for bathing &c.

Water-melon, n. A delicious fruit :
تربوز - هندوآڻه

Water-proof, a. Not admitting water :
جس ميں پاني اٿر نه ڪرے

Water-spout, n. A rapidly-moving column of water, caused by a whirlwind :
بشارت کا ستون جو :
کيهي سطح سمندر پر اٿها هرا نظر آتا هے

Watery, a. Resembling or abounding in water ;
thin ; insipid :
رفيق - آبي - پتلا - بے مزه
Syn.—Aqueous, wet, moist.

Wattle, n. A twig or flexible rod ; a hurdle ;
fleshy excrescence under the throat of a cock
or turkey :
شاخ - ٽهني ٽهنيور - گوشت جو مزغ ڪے ڪے لے
To bind with twigs ; to plait :
ڪاٺور سے باندهنا - گوندهنا

Wave, n. A moving swell or volume of water :
To raise into waves ; to brandish ;
to beckon ; to undulate ; to be moved :
تورج ڪرنا - گھمانا - اشاره ڪرنا - لهرانا - هلنا

Wavelet, n. A little wave :
چوٽي لهر

Waver, v. i. To wave ; to totter ; to vacillate :
لهرانا - ڌڪڻا - هلنا

Syn.—Undulate, float, flicker.

Wavy, a. Rising in waves ; undulating :
موج زن - لهرانا

Wax, n. The tenacious substance formed by
bees or secreted in the ear ; a composition used
to seal letters and by shoe-makers to rub their
thread :
* موم - کان کي ميل-لاک - سفيدہ
موم لگانا : - To rub with wax :
* موم جامه
بزهنا : - To increase ; to become :
* لکھنا
زياده ڪرنا - هونا

Waxy, a. Made of wax ; soft :
مومي - نرم - ملائم

Way, n. Passage ; path ; distance ; direction ;
progress ; means ; scheme ; manner ; plan of
conduct :
راسته - سڙڪ - ناصله - جانب - بهتري - ذريعه
* To give—, to break or fall :
* To make room for another to pass on :
* To yield ; to submit :
* To go one's—, to take one's departure :
* To go the—of all the earth, to die :
* To make one's—, to stand aside :
* To make one's—, to advance in life by self-exertion :
* By the—, in the course of journey :
* By—
* Parenthetically :
* To be in the family—, of, as being :
* To be pregnant :
* Ways and means, اسباب وسائل
* —of God, خدا کي رزاق
* By the—of, بروقت - بروقع
* In the family—, of, حامله
* To give—, پے ناعده - غير معمولي
* To go the—of all the earth, * To make one's—, * To stand in the way of,
صدره - ازنا روکنا

Wayfarer, a. A passenger ; a traveller :
راه گير - مسافر

Waylay, v. t. To lie in wait for :
گھات لگانا - راه مارنا

Wayward, a. Forward ; perverse ; wilful :
شوخ - ضدي خود راه

Syn.—Obstinate, perverse, stubborn, headstrong, unruly, refractory.

We, pron. pl. of I : هم

Weak, a. Feeble ; soft ; low ; unsteady ;
ڪمزور - نرم - دهيا - غير مستحکم
foolish ; slight :
بيوقوف - شبک

Weaken, v. t. To make weak ; to reduce in strength :
ڪمزور ڪرنا - ناتواں ڪرنا - هلڪا ڪرنا

Weakness, n. Want of strength ; feebleness ;
want of sprightliness ; defect :
ڪمزوري - ناهتقي - ضعف
انسردہ خاطرې - نقص - عيب - برائي - گھوت

Weal, n. Happiness ; prosperity :
خوشي - بهتري - ترقی

Wealth, *n.* Riches ; affluence : دولت - توفیقی

Wealth is best known by want, دولت کی قدر ناداری میں ہوتی ہے

Wealthy, *a.* Rich ; opulent : دولت مند - توفیقی

Wean, *v. t.* To take from the breast ; to detach : دودھ سے چھڑانا - جدا کرنا - الگ کرنا

Weanling, *a.* A newly weaned : بچہ جس کا حال میں دودھ چھڑایا گیا ہو

Weapon, *n.* An instrument of offence or defence : آگہ - ہتھیار - سلاح

Wear, *v. t. or i.* To carry on the body ; to have the appearance of ; to consume by use ; to waste ; to exhaust ; to endure or suffer use : پہننا - زیب - تن کرنا - ظاہر کرنا - صرف کرنا - رکھنا - ڈھسنا - تھک

To—away, to consume gradually : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

To—out, to consume by use : *To—off*, to diminish by use or slow decay : کم ہونا -

Weave, *v. t. or i.* To form, as cloth by interlacing threads ; to practise weaving ; to insert : بافتہ کرنا - کپڑا بنانا - ملانا

Weazen, *a.* Thin ; lean ; withered : دہلا - سونکا

Web, *n.* A texture ; a piece of cloth ; a cobweb ; the membrane which unites the toes of some aquatic birds : مکتزی کا جالا - آبی - دھند

Web footed, *a.* Having the toes united by a membrane : جھلی دار پاؤں والے

Wed, *v. t. or i.* To marry ; to join in marriage ; to unite : شادی کرنا - بیاہ دینا - جوڑنا - ملانا

Wedding, *n.* Nuptial ceremony ; marriage : شادی - نکاح - بیاہ

Wedge, *n.* A piece of metal or of wood sloping to an edge, used in splitting wood, rocks, &c. : *To—fasten or drive with a wedge* ; to cleave : پھینچ کر ڈھکنا - مٹیخ - پھینچ

Wedlock, *n.* Married state : - *Wedlock's a padlock* : ایک بیڑی ہے

Wednesday, *n.* The fourth day of week : چہار شنبہ - بدھ

Wee, *a.* Little ; small : چھوٹا - تھوڑا

Weed, *n.* A noxious plant ; anything useless : مرتقا - گھاس پات - سوار - آخور - فضول نبات - کجیت کا خوردرو - خس و خوار

Weeds, *n. pl.* A widow's mourning dress : بیوہ کا ماتمی لباس - سانیے کا تیاں

Weedy, *a.* Abounding with weeds : گھاس پھوس سے بھرا ہوا

Week, *n.* The space of seven days : ہفتہ - اٹوارہ

Weekly, *a.* Once a week : ہفتہ وار

Ween, *v. i.* To think ; to imagine : خیال کرنا - قیاس کرنا

Weep, *v. i.* To shed tears ; to lament ; to complain : اشکبار ہونا - رونا - غم کرنا - شکایت کرنا

No weeping for shed milk, *کیا* ہوت ہے جب چڑیا چک گئی ہو

Weevil, *n.* A destructive insect of the beetle kind : گھن

Weathercock, *n.* A turning vane : مرغ باد نما

Weft, n. The woof or cloth : کپڑے کا بنا

Weight, v. t. To raise ; to examine by the balance ; to ponder ; to regard : اوتھانا - توٹنا - اورٹھانا - وزن کرنا * **To—anchor,** to raise the anchor ; to leave the port : لنگر اوتھانا * **To—down,** to preponderate over : وزن میں : **To oppress with weight or heaviness** : دبانا

Weigh, v. i. To be heavy ; to be considered : بھاری ہرنا - بڑا ہرنا - وزن یا قوت رکھنا - ناگزیر ہرنا

Weight, n. Heaviness : **Burden** : بھاری وزن - بھاری بوجھ * **Importance** : اہمیت * **Pressure** : ضرورت * **A metal standard for weighing** : **A** * **dead —,** a heavy and oppressive burden : بھاری بوجھ - بارگراں

Weighty, a. Heavy ; important ; severe : وزنی - بھاری - ضروری - سنگین

Weir, n. A dam to stop and raise the water of a stream : دریا کا پشتہ پانی چڑھانے کے لئے

Weird, n. Spell : - سحر - جادو * **Destiny** : نصیب * جادوگر

Welcome, n. A kind of reception of a new comer : **Welcome is the best cheer,** خوش آمدید * **Received with gladness ; grateful ; pleasing** : خوش آئند - خوش گوار - دلپسند

Welcome, v. t. To salute or entertain with kindness : مرحبا کرنا - آدر سامان کرنا - خوشی سے قبول کرنا - مبارکبادی دینا

Weld, v. t. To press or beat into firm union when heated : جوڑنا - **n.** A plant used as a yellow dye : ایک قسم کا دھت : جس سے زرد رنگ نکلتا ہے

Welfare, n. Enjoyment of health and the common blessings of life ; prosperity ; happiness : خیریت - خیر و آفت - خوشحالی - کامرانی

Welkin, n. The vault of heaven ; the sky : فلک - آسمان - آکاس

Well, n. A spring ; a pit of water : چشمہ - کنواں - **a.** Good in condition or circumstances ; sound ; fortunate ; safe : صحیح و سالم - خوب - **As —,** rather right or proper : مناسب - **As —**

as, together with and also : ساتھ ہی اسکے اور

To be—off, to be in a good condition : خوشحال ہونا * **v. t.** To issue forth ; to spring up : اومٹنا - **adv.** Rightly ; suitably ; fully : considerably conveniently ; fully ; commendably : بخیر - حسب دلخواہ - تعریف کے ساتھ - باسانی - بالکل - **—enough,** چوتھا - **—let it alone,** **—then,** خیر پھر خیر جانے دو **—what then,** پھر کیا * **Well—a-day,** *int.* Alas ! lack-a-day : وائے افسوس - ہاے ہاے حیف

Well-behaved, a. Of good behaviour : نیک اطوار - نیک چلن

Well being, n. Welfare ; happiness : خیر و عافیت - خوشحالی

Well done, interj. Rightly done ; a word of praise : واہ واہ - ائیز - شاباش

Well-to-do, a. Well off : خوشحال

Well nigh, adv. Very nearly ; almost ; adjacent : نزدیک - تقریباً - لگ بھگ

Welt, n. A border or edging : سنبھال کی دری - گورت : **v. t.** To furnish with a welt : مغزی یا مغزی لگانا

Welter, v. t. To roll ; to tumble about : اوتھنا - توٹنا

Wen, n. A fleshy tumour on the neck, etc. : گلٹھی - گرمزی

Wench, n. A vicious young woman : فاحشہ - **v. i.** To frequent the company of wenches : رنڈی بازی کرنا - تماش بیٹھ کرنا

Went, v. i. pp. of **Wend** now used as p. t. of **Go** : گیا

West, n. The quarter of the heaven where the sun sets : **a.** Situated toward or relating to the west : مغرب - **adv.** More westward : مغرب کی طرف

Western, a. Being in the west : مغربی - **Westward, adv.** Toward the west : مغرب کی طرف

Wet, a. Containing water ; moist ; rainy : گلا - پانی - **n.** Water ; humidity : تر - برساتی

v. t. To moisten with water or other liquid : تر کرنا - بھگونا - گیل کرنا * **To wet one's whistle**, اپنے بانسلی تر کرنا - پینا - مٹی نوشی کرنا
Wether, *n.* A ram castrated : آختد کیا ہوا سینقما
Whale, *n.* The largest of marine animals : دردہہ
 پلانے والی - چھوٹی - ہریل
Whaler, *n.* A ship employed in whale-fishery : جہاز جیسپر ہویل کا شکار کرتے ہیں
Wharf, *n.* A mole or quay for landing goods : گھاٹ
Wharfage, *n.* The fee paid for the privilege of using a wharf : گھاٹ پر مال اترانے یا چڑھانے کا رسوم - اترائی
Wharfinger, *n.* The keeper or proprietor of a wharf : گھاٹ والا
What, *pron.* An interrogative pronoun ; that which ; how ; how great : کیا - کون - وہ - جو - کیسا - کسقدر
Whatever, Whatsoever, *pron.* Being this or that ; all that : جس قدر - جو کچھ - جتنا
What-not, *n.* A piece of furniture with shelves for ornament, etc. : الماری
Wheat, *n.* The finest kind of bread grain : گندم - گندھوں
Wheat-ear, *n.* An ear of wheat : * گندھوں کی دان : ایک قسم کی چڑیا
Wheaten, *a.* Made of wheat : گندھوں کا بنا ہوا
Wheedle, *v. t. or i.* To entice by soft words ; to coax ; to flatter : چاٹوسی کرنا - خوشامد کرنا - کرنا
Wheel, *n.* A circular frame turning on an axis : پہیا * **To put one's shoulder to the—**, to give effective help : سہارا دینا - مدد دینا
Wheels within wheels, a complication of circumstances : * پیچ در پیچ - گورکودھندا
To break a fly upon the—, * - شیت سے نہیں بھاری سزا دینا - مکھی کو توب سے آزنا
v. t. * ایک پہیے کی چھڑی توڑنا گڑب - **barrow**—
or i. To convey on wheels ; to cause to turn or revolve ; to turn on an axis : پہیوں پر لیجانا - چکر دینا - گورمنا
Wheelwright, *n.* A man who makes wheels and wheel-carriages : پہیا یا گاری بنانے والا

Wheeze, *v. i.* To breathe hard and with an audible sound . آواز سے - انس لینا - گھراؤ کرنا
Wheek, *n.* A protuberance ; a wrinkle : چھالا - ددڑوا - پھرتسی
Whelm, *v. t.* To immerse deeply ; to overburden : غرق کرنا - ڈیر دینا - دباننا
Whelp, *n.* A puppy ; a cub : بچہ * *v. i.* To bring forth young : بچہ دینا
When, *ad.* At what time ; at the time that ; while : کب - کسوقت - جسوقت - ہرگاہ
Whence, *adv.* From what place, source, premises, &c. : کہاں سے - کس باعث سے - کس جگہ سے
Whenever, *adv.* At whatever time : جب بھی - جسوقت
Whensoever, *adv.* From whatever place of source : کس جگہ سے - کس باعث سے
Where, *adv.* At or in what place : کدھر - کہاں - کس جگہ
Whereabout, *adv.* About where ; near what or which place : کس جگہ - کس جگہ کے نزدیک - جس جگہ کے قریب
Whereas, *conj.* Considering that ; since ; when in fact : اس لحاظ سے - چرنکہ - درحالیکہ - ہر گاہ - ہاں ہمہ
Whereat, *adv.* At which : جیسپر - تیسپر
Whereby, *adv.* By which ; by what : جس سے - کس سے
Wherefore, *adv.* For which reason ; for what reason : کس لئے - جس واسطے - کیوں - کس واسطے
Wherein, *adv.* In which ; in what : جہیں - کس میں
Whereof, *adv.* Of which ; of what : جسکا کسکا
Whereupon, *adv.* Upon which ; in consequence of which : تیسپر جس پر - تب - بعد ازاں
Whersoever, *adv.* In whatever place, or in any place indefinitely : کہیں بھی - جس جگہ
Wherever, *adv.* At whatever place : جہاں کہیں
Wherewith, Wherewithal, *adv.* With which ; with what : جس کے ساتھ
Wherry, *n.* A shallow, light boat : پن سرفی - ڈونگی
Whet, *v. t.* To sharpen by friction ; to excite ; to provoke : * تیز کرنا - اوجھارتا - بھڑکانا
n. The act of sharpening : * A stimulant : دہار - اشتعال

Whether, pron. Which of the two : - خورا - یا - کچھ ہی ہو - بنے نہ بنے - خورا مخرابا * — or no آیا

Whetstone, n. A stone used for sharpening edged instruments : پتھری - سلی

Whey, n. The thin part of milk : - دودھ کا پانی - قورڑ

Which, pron. A relative or interrogative pronoun : جیسا - جو - کون - کونسا

Whichever, pron. Whether one or the other : جوئسا - جوئکہ - جو

Whiff, n. A quick puff of air : * پھونک - دم : دم اڑانا - دم : پھونک دینا

Whiffle, v. t. or i. To waver ; to blow away : متزلزل ہونا - پھونک مار کر اڑنا دینا

Whig, n. One of a political party : ارکان سلطنت کا ایک قدیم فرقہ

While, n. Space of time : عرصہ - مدت

While, adv. During the time that ; as long as : * عرصہ ہوا ، ago * جب - جس وقت - جب تک - مدت مدین - بہت ، A long * * * وقت ضایع : * v. i. To spend to little use * عرصہ ، A little * * * ، a short time : * * * ، worth the time and trouble : * away, spend : صرف کرنا - خرچ کرنا

Whilst, ad. While : جب - جس وقت

Whim, n. A sudden turn or state of the mind ; a capricious motion : تڑک - خیال - خبط - وہم Syn. - Freak, faucy, vagary, humour, caprice.

Whimper, v. i. To cry with a low, whinny, broken voice : بچہ کا رونا - تھمکنا

Whimsical, a. Full of whims ; curious : - تڑکی - خبطی - وہمی - عجیب - متلون مزاج

Syn.—Capricious, freakish, fanciful. **Ant.**—Sober, staid.

Whine, v. i. To utter a plaintive cry : دھیمی آواز : * n. A nasal tone of complaint : دبی آواز سے رونا - کراہنا

Whinny, v. i. To neigh ; utter the sound of a horse : ہنہانا - گھوڑی کی طرح بولنا

Whip, n. A lash for driving ; a driver : چابک - * v. t. To lash ; to flog ; to snatch : * * * ہانکنے والا

To—off, to * چابک مارنا - تازیانہ لگانا - لپکنا

To—a cat, to practise extreme parsimony : نہایت ہی * چامپی سے شکا لپچانا : *—and spur, with utmost haste : نہایت تیزی سے

Whir, v. i. To whirl round with noise : پھرانے کے ساتھ گھومانا. پھڑ سے اڑ جانا

Whirl, v. t. To turn round rapidly ; to revolve : * n. A turning with rapidity or velocity : گھماؤ - چکر مارنا

Whirligig, n. A child's toy spun or whirled around : چمکٹی - پھوکی

Whirlpool, n. An eddy of water : گرداب - پھوڑ - ورملا

Whirlwind, n. A stormy wind moving in a circle : گرد باد - بگڑلا

Whisk, n. A quick motion ; a brush : جھکڑلا - * v. t. To brush ; to move quickly : جھارو دینا - بھارنا - جھپٹنا

Whisker, n. The part of the beard which grows upon the cheeks : گل مچھیں

Whisky, n. A spirit distilled from grain : ایک قسم کی شراب جو ناچ سے بنتی ہے

Whisper, v. t. or i. To utter in a low tone ; to speak softly or under the breath : کانٹا پھوسنی

Whist, n. A game at cards : گنجیقہ کا ایک کھیل

Whist, n. Silent ; mute : * خاموش - چپ : * interj. Be silent ! hush : خاموش - چپ

Whistle, n. A small wind instrument ; a sharp, shrill sound produced in various ways : سیٹی

To * سیٹی بجا کر بلانا - سفیر کرنا - سنسانا : * n. t. To call by a whistle ; to shrill : منہ چڑھانا - تعقیب کرنا ، at

Whit, n. Smallest part of particle imaginable ; a jot : کن - رقی - ذرہ

White, a. Of the colour of snow ; pale ; pure : سفید رنگ - سفید * n. The white colour ; anything white ; the mark : سفید رنگ - سفیدی * To show the—feather, to show symptoms of fear or cowardice : * بزدلی دکھلانا

v. t. To whiten ; to whitewash : سفید کرنا - سفید ہونا

To—off, to * چابک مارنا - تازیانہ لگانا - لپکنا

White ant, n. A termite : دیمک
Whiten, v. t. or i. To make or become white :
سفید کرنا - سفید ہو جانا
Whitewash, v. t. To cover with a white liquid composition : تعلقی کرنا - چرنا کاری کرنا
*** n.** A liquid composition for whitening something : سفیدی
Whither, adv. To what place ; to what point or degree : کہاں - کس قدر - کہاں تک
Whitlow, n. A painful swelling at the end of the fingers : چھلوی
Whittle, v. t. or i. To pare or cut with a knife :
* n. A pocket knife : چھینا کاٹنا
Whiz, v. i. To make a loud hissing sound :
* n. A humming or hissing sound : سنسناتا
Who, pron. A relative or interrogative pronoun :
جر - جسے - کون - کسے
Whoever, pron. Any person whatever : جو کوئی شخص
Whole, a. All ; entire ; uninjured ; sound :
* n. The entire thing : تمام - کلیتہ
Wholesale, n. Sale of goods by the piece or large quantities : تھوری ٹروشی
Wholesome, adv. Salubrious ; beneficial : شفا بخش - مفید
Wholly, adv. Entirely ; totally : سراسر - بالکل - مطاق
Whoop, n. A shout of pursuit or of war ; a hoot : * v. i. To hoot ; to shout : ہر ہر - ہر ہر لکار
Whore, n. A harlot ; a prostitute : کسبہ - رندی
*** v. i.** To cohabit lewdly : زنا کرنا
Whoredom, n. Lewdness ; idolatry : شہرت پرستی - زنا کاری - بت پرستی
Whose, pron. Possessive of **Who** : جسکا - کسکا
Whosoever, pron. Any one ; whoever : کوئی - جر کوئی
Why, adv. For what cause, reason or purpose ; on what account : کس سبب سے - کیوں - کسرا طے - کاہیکر
Wick, n. The cotton string of a candle or lamp : دقیلہ - چراغ کی بتی

Wicked, a. Immoral ; mischievous : برا - بدکار - شر
Wickedness, n. Sinfulness ; depravity : بدی - گناہ - شرارت
Wicker, a. Made of twigs : تالپوں سے بنا ہوا
Wicket, n. A small door in a larger one :
* The frame of rods bowled at in cricket : گیند بلیے کی لڑیاں جن پر گیند مارتے ہیں
Wide, a. Not narrow ; broad ; remote : کشادہ -
—of the mark, not appropriate : * To shoot—of the mark, (اٹل تپڑ لگانا) at a distance :
دور دور
Wide-awake, a. On the alert ; keen : آگاہ - ہوشیار - پرسکس
Widen, v. t. or i. To make or grow wider : چوڑا کرنا - چوڑا ہونا
Widow, n. A woman whose husband is dead :
* v. t. To bereave of a husband : بدعزا کرنا - بیوہ کرنا
Widower, n. A man who has lost his wife by death : رندو
Widowhood, n. The state of a widow : بیوہ پن - رنداپا
Width, n. Breadth ; the extent from side to side : چوڑائی - عرض - پنا
Wield, v. t. To handle ; to employ ; to manage :
* To—the sceptre, حکم رانی کرنا - عضو سلطانی ہتھیے میں رکھنا
Wieldy, a. Easily handled ; manageable :
جو اُٹھایا جاسکے - کام میں لانے کے قابل - تابر کا
Wife, n. A woman ; the lawful consort of a man : عورت - جوڑو - استری - بی بی
Wig, n. An artificial covering of hair for the head : بالوں کی ٹوپی
Wight, n. A being ; person : مستفس - شخص
Wild, a. Not tamed ; not cultivated ; uninhabited ; uncivilized ; licentious ; strange ; fanciful :
جنگلی - خورد رو - اوجاز - ناشایستہ - شریر - عجیب -
* To sow one's—oats, to pass through a period of wild and reckless dissipation :
* To spread like—fire, جلد پھیل جانا
to spread about quickly :

Wild, n. A forest ; a desert : **ویرانہ - صحرا - جنگل** *
 —goose, n. An undomesticated goose : **جنگلی**
 —chase, a foolish pursuit : **لا حاصل - بطنغ** *
 پیدروی یا کار روایی
Wilderness, n. A wild uncultivated region :
 بیابان - ویرانہ - بن
Wile, n. A trick ; a stratagem ; deceit ; artifice :
 فریب - دھرا - حیلہ - بہانہ
Willful, a. Governed by the will without yielding
 to reason ; obstinate :
 خود رائے - ضدی
Wilfully, adv. With purpose : - **چان پر جھکر** -
 خوردرائی سے - دیدہ و دانستہ
Wiliness, n. Cunning ; slyness ; guile : -
 مکاری - روڈہ بازی
Will, n. The faculty of choosing ; choice : -
 مرضی -
Testament : Command * **Desire** * **حکم** *
At—, at pleasure : **خوشی** *
of the wisp, the ignis fatuus : -
To have one's — , اپنی چلانا *
To wish ; to obtain ; to be-
queath : چاہنا - حکم دینا - وصیت کرنا
Willing, a. Consenting ; chosen ; spontaneous :
Nothing is im-
possible to a willing mind , شوق کے روڑوڑوئی
 چیز ناممکن نہیں
Willingly, adv. By free will ; cheerfully :
 ہرما - رغبت - رضا مندی سے خوشی سے
Willow, n. A tree with slender plant branches :
 بید کا درخت
Willy, a. Cunning ; sly : متفنی - حیلہ باز
Wimble, n. An instrument for boring holes :
 ہرما - ہرمی
Wimple, n. A veil : برقع - نقاب
Win, v. i. To gain by victory ; to obtain ; to allure
 to kindness : فتح کرنا - جیتنا - حاصل کرنا - اپنے اوپر *
To—back, to recover : **جیت لینا** *
To—the day, to gain a contest : **تصاحب ہونا** *
To—laurels, to obtain a prize : **انعام حاصل کرنا** *
Wince, v. i. To shrink ; to flinch ; to kick :
 جھپکنا - چوڑک اڑھنا - دولت پیٹھکنا
Winch, n. An instrument to turn and strain
 forcibly : گومانے یا دبانے کا دستہ
Wind, n. Air in motion ; breath : flatulence :
How the— * باد - ہوا - سانس - ریاہ - باہمی

blows, (Fig.) how matters stand : **کیا حال ہے** *
In the—'s eye, in the teeth of the—,
right against the wind : **ٹھیک ہوائے سامنے** *
To get, (take)—, to become known : **ظاہر ہوجانا** -
Something in the—, something
within the region of suspicion : **کچھ دال میں** *
What wind blew you hither , **کالا**
ہوائے * **Down the—, ہے اے** - آج کدھر چاند نکلا
To take—, کھلنا , **پھرتنا** *
To blow ; to winnow ; to sound ; to drive
hard ; to recover breath ; to twist ; to bend to ;
to meander : **پھینکنا** - **بھانکنا** - **ہنپانا** - **دم** *
To—off, to un-
wind ; to uncoil : **اُتارنا** * **To—up, to coil**
up : **لپیٹنا** *
Windfall, n. Fruit blown off : **میردہ چر ہراسے** *
Any unexpected legacy : **میراث غیر متوقعہ** *
Windiness, n. Tendency to generate wind ;
 flatulence : **ریح باڑی**
Winding, a. Meandering ; circuitous : -
چکر دار -
n. A turn ; a bend : - **چکر** - **مرز** *
گھومراؤ
Wind up, n. The final adjustment ; the close ;
 the conclusion : **اخری تصویبہ** - **چکرتا** - **خاتمہ**
Winding sheet, n. A sheet in which a corpse
 is wrapped : **نقن**
Windlass, n. A machine for raising weights :
 ہرجیہ اڑھانے کی کل
Wind-mill, n. A mill driven by the wind :
 ہوائی چکر
Window, n. An opening in the wall of a build-
 ing for the admission of light and air : -
دریچہ - **کھڑکی** - **روشن دان**
Window-frame, n. The frame of a window
 holding the sash : **چوکھٹ**
Windpipe, n. The passage for the breath to and
 from the lungs : **حاقوم** - **گلر** - **قیشترا**
Windward, a. On the side toward which the
 wind blows : **ہوا کے رخ**
Windy, a. Consisting of wind ; tempestuous ;
 flatulent ; empty : **خالی** - **بادی** - **طوفانی** *
—joy, بے معنی * **applause** , **بے ہودہ خوشی** *
زہریف

Wine, *n.* The fermented juice of the grapes ; a drinking intoxication : انگوری شراب - بنت العناب
 مدائی مت بھائی * When wine is in, wit is out,

Wine bibber, *n.* A habitual drinker of wine : شرابی

Wine-merchant, *n.* A dealer in spirituous liquor : میٹروشر

Wing, *n.* The limb of a bird by which it flies :
 Flight : پرواز * پر - بازو
 On the —, flying ; speeding : عمارت کا بازو *
 To take —, to fly away : اڑنا * اڑنا *
 Upon the wings of the wind, از حد *
 Winged haste, تیز رفتاری سے - بادرفتاری سے
 To furnish with wings ; to cut off the wings of : پر لگانا - کاٹ ڈالنا

Wink, *v. i.* To shut the eyes ; to blink ; to hint ; to connive at : آنکھ بند کرنا - آنکھ جھپکانا - پلک
 To — at, to connive at : اشارہ کرنا - اغماض کرنا
 A closing of the eyelids ; a hint by the eye : چشم پوشی کرنا
 اشارہ - چشمک - سین

Winning, *a.* Attracting ; pleasing : دلکش
 The sun gained in competition : سورج کی جیت
 اسی میں جیتتا جاے

Winnow, *v. t. or i.* To separate the chaff from :
 to sift : پھونکنا - پھونکنا - چھاننا

Winter, *n.* The cold season of the year : سرما
 To pass the winter : گزارنا *
 زمستانی - زمستانی

Wintry, *a.* Suitable to winter : زمستانی

Wipe, *v. t.* To clean by rubbing ; to rub off :
 To — away, — off : صاف کرنا - صاف کرنا - مٹانا - پونچھنا
 to cleanse ; to remove : صاف کرنا - مٹانا

Wipe, *n.* A rub ; a blow ; a jeer : چوٹ - طعن

Wire, *n.* An even thread of metal : تار *
 To bind with wire ; to telegraph : تار سے باندھنا -
 تار سے خبر دینا

Wire puller, *n.* One who pulls the wires, as of a puppet ; an intriguer : تار کھینچنے والا (جیسے)
 تار کھینچنے والا (جیسے)

Wiry, *a.* Made of or resembling wire : تار کا -
 مثل تار

Wisdom, *n.* Quality of being wise ; prudence ; sagacity : علم دانسی عقل - دانگنی - فراست
 Syn. — Enlightenment, prudence, reason, sagacity.

Ant. — Absurdity, foolishness, ignorance, nonsense.

Wise, *a.* Learned ; discerning ; judicious ; crafty : عالم - دانہ - ذہین - مدبر - ہوشیار

Wise, *n.* Manner or way : طریقہ یا طریقہ
 In no —, in no way : کسی طور سے نہیں
 On this —, in this manner : اس طرح سے

Wiseacre, *n.* A simpleton ; a fool : احمق - اوردن
 دانگنی سے - عالمانہ

Wish, *v. t. or i.* To desire ; to invoke ; to long : خواہش
 Desire ; خواہش *
 object of desire ; imprecation : آرزو -
 تمنا - مقصد - درخواست

Wishful, *a.* Desirous ; desirable : خواہشمند -
 مشتاق - دل پسند
 Syn. — Desirous, longing, eager.

Wisp, *n.* A small bunch or bundle of straw or hay ; a wisk : مٹھا - رولا - جھڑو

Wistful, *a.* Pensive ; longing : متفکر - مشتاق -
 آرزومند

Wit, *n.* Intellect ; a mental faculty ; cleverness :
 — جہہ - تمیز - طرافت
 Humourist : حاضر جواب
 To wit, یعنی : ارشاد
 To know : لطیفہ سنج

Wits, *n. pl.* Soundness of mind : ہوش و حواس
 Out of one's —, ہوش جاتے وقت
 At one's wit's end, ہوش بدھراس
 To live by one's wits, ہوش بلختہ - متحیر
 حکمت عملی سے گذران کرنا

Witch, *v. t.* To enchant ; to fascinate : جادو کرنا
 A woman practising sorcery : جادو گر
 ساحرہ - قابی

Witchcraft, *n.* Practices of witches ; sorcery :
 سحر - انسوں - جادو

Witchery, *n.* Enchantment ; fascination : سحر -
 جادو - فریقہ گری

With, *prep.* By (noting connection) ; on the side of : ساتھ - سے - مع - پر

Withal, *adv.* With the rest ; likewise :
 ساتھ ہی

Withdraw, v. t. or i. To take back ; to recall ;
to retire : لوٹنا لینا - جدا کرنا - واپس لینا - پھیر
لینا - دست بردار ہونا

Withdrawal, n. Act of withdrawing or taking
back : واپسی - دست برداری

Wither, v. t. or i. To fade ; to dry up ; to
languish ; to cause to fade and become dry :
کھلنا - مرجھانا - خشک ہو جانا - برباد ہونا - مرجھادینا -
سہا دینا

Withold, v. t. To hold back ; to keep back :
روکنا - توامنا - دبا رکھنا

Within, prep. In the inner part : - درمیان
اندر میں *adv.* Inwardly : * بیچ میں - اندر

Without, prep. Not within ; beyond ; not with ;
unless : باہر * *adv.* On the * باہر - پرے - بدون - بجز :
outside : باہر - بیرون

Withstand, v. t. To oppose ; to resist : مقابلہ کرنا -
باز رکھنا

Witness, n. Evidence ; attestation ; a deponent :
n. t. or i. To observe ; گواہی - گواہی - گواہی - گواہی
to attest ; to give evidence : دیکھنا - گواہی دینا -
شہادت دینا

Witticism, n. A witty remark ; a low kind of
wit : طرائف - مذاق - بھرتی جگت

Wittily, adv. In a witty manner : مذاقاً

Wittingly, adv. Knowingly : دیدہ و دانستہ - جان
بوجھ کے

Witty, a. Possessing wit or humour ; good at
repartee ; sarcastic : زبک - تیز فہم - حاضر جواب -
طنز آمیز

Wive, v. t. To match to a wife ; to wed : ازدواج
کرنا - شادی کرنا

Wizard, n. An enchanter ; a sorcerer : ساحر -
جادوگر

Syn.—Conjurer, enchanter, sorcerer.

Wizardry, n. Sorcery ; witchcraft : جادوگری -
ساحر سازی

Wizen, v. t. To dry up ; to wither : خشک
سوکھنا - ہونا

Woe, n. Grief ; a curse : رنج - ماتم - سراپ - بددعا :
غم میں ڈوبا ہوا - دلگیر

Woe-begone, a. Overwhelmed with grief and
sorrow : غم میں ڈوبا ہوا - دلگیر

Woeful, a. Sorrowful ; calamitous ; wretched :
غمگین - رنج آمیز - منحوس
Syn Calamitous, afflictive, miserable.

Wolf, n. A fierce wild animal allied to the dog :
* گرگ - بھینڑیا
* *To keep the—*
from the door, to keep away poverty or
starvation : * مفلسی اور محتاجی کو دور رکھنا
**Wolves may lose their teeth, but not
their nature,** چور چوری سے گیا تو ہیرا بھینڑی سے
بھی گیا

Woman, n. The female of man ; an adult female ;
a female servant : زن - استری - عورت - لرتقی

Womanhood, n. The qualities of a woman :
استری پن

Womanish, a. Feminine ; unmanly : زنانہ - نامرد

Womankind, n. Women collectively : عورت ذات

Womb, n. The place where anything is generated
or produced ; any deep cavity : رحم - کوکھ -
پچھدان - غار

Won, pp. of Wine : جیتنا

Wonder, n. Astonishment ; a prodigy ; a
miracle : * معجزہ - حیرت - تعجب - عجیب شے
* *Nine days' wonder,* چار دن کی چاندنی
v. i. To be surprised ; to doubt : تعجب کرنا -
متعجب ہونا - شک کرنا

Wonderful, Wondrous, a. Astonishing ;
strange : حیرت انگیز - عجیب - نرالا - نادر

Wont, n. Habit ; custom ; use : عادت - دستور -
عادی ہونا - بان پڑنا * *v. i.* To be accustomed :
معمول

Woo, v. t. or i. To solicit in marriage ; to make
love : شادی کی درخواست کرنا - محبت یا عشق کرنا

Wood, n. A forest ; the substance of trees ;
timber : جنگل - بیابان - لکڑی

Wood-apple, n. A fruit with a hard nut : کیتھا

Woodcock, n. A bird of the snipe species :
ایک قسم کا جنگلی مرغ

Wood cut, or Wood engraving, n. An
engraving on wood : لکڑی کا چھاپا - نقش چڑھی

Wooden, a. Made of wood : لکڑی کا

Woodland, n. Land covered with woods : جنگل

Woodman, n. A sportsman : شکاری

Woodpecker, n. A small bird of many species :
ہد ہد - ٹٹھ پھرزوا

Woody, a. Abounding with wood : جنگل سے
بھرا ہوا

Woof, n. The woft; the cloth : بانا - کپڑا
Wool, n. The fleece of sheep, etc. : رواب - اون *
 —gathering, a foolish or fruitless pursuit :
 بپھرتا یا نفعول کام
Woollen, a. Made of wool; consisting of wool :
 اون کا - اونی - پشمی
Woollea-draper, n. A dealer in woollen
 goods : پشمینہ فروش
Woolly, a. Consisting of wool : اونی - پشمینہ
Woolstapler, n. One who deals in wool :
 اون فروش
Word, n. An expression; the written charac-
 ters; discourse; tidings; saying; promise :
 In * لفظ - کامہ - حرف - گفتگو - خبر - مقولہ - وعدہ
 —for—, verbatim : *—for—, verbatim :
 حاصل کلام *
 As good as one's—, faithful to an
 obligation : *—of
 God, the Christian scriptures : *—انجیل
 honor, a promise solemnly given : امان پر
 To eat one's—, to retract what
 one has said : * بات پھرتا
 * جیسا کہنا ویسا توہا کر گنارنا
 * کہنے کی بات - بات کی بات
Words of course, *
Word-catcher, one who cavils at words :
 حرف گیر - نکتہ چیں
Word, v. t. To express in words; to phrase :
 ظاہر کرنا - بیان کرنا
Wordiness, n. Verboseness : طویل کلامی
Wording, n. The manner of expressing in
 words : طرز بیان
Wordy, a. Verbose : طویل کلام
Work, v. t. To labour upon; to effect; to
 embroider; to set in motion; to manage; to
 cause to ferment : محنت کرنا - پیدا کرنا - کار چرنی
 To * v. i. * کرنا - چلنا - انتظام کرنا - جوش میں لانا
 labour; to act; to operate; to be effective;
 to carry on business; to ferment : سعی کرنا -
 کوشش کرنا - کام کرنا - چلنا - اثر کرنا - کارر بار کرنا -
 To—against, to act in opposition
 to : *
 To—on, or upon, *
 to act on; to influence : اثر کرنا
 To—a
 passage, to give one's service as an
 equivalent for passage money : کرینے کے عوض کام
 To—in, or into, to introduce artfully; *

to insinuate : * داخل کرنا - دخل پیدا کرنا
To exhaust: خالی
 —out, to solve : * حل کرنا
 To—up, to stir up; to agitate :
 اُجھارتنا *
To—oneself into
 the favour of, * کسی کے جی میں گھر کرنا
A thing to be done,
 Effort : * مصنف - کوشش
A literary production:
 performance : * کلام - عمل
An effect:
 * کار گناری * Achievement :
 کار چرنی * Treatment : * سارک *
Workhouse, n. A house in which able-bodied
 paupers are compelled to work :
 معتادجوں کا کارخانہ
Workman, n. A labourer; skilful artificer or
 mechanic : مزدور - دستکار - کاریگر
Workmanly, a. Skilful : کاریگری کا
Workshop, n. A shop where any manufacture
 is carried on : کارخانہ - درکان
World, n. The earth; the universe; the human
 race; all which the earth contains; a great
 multitude : زمین - دنیا - نوع انسان - مظاہرات
 * For all the—, exactly; precisely;
 entirely : *
 —without
 end, eternally; unceasingly : ہمیشہ - مدام
What says the—? دنیا کیا کہتی ہے - دنیا کی
 پیدا کیا جاتا - * To go to the world,
 دنیا داری یا گروہست میں پوسنا
Worldling, n. One who is devoted to this world
 and its enjoyment : طامع دنیا - دنیا دار
Worldly, a. Of the world; secular : دنیا کا -
 سنساری - دنیاوی
Worm, n. Any small creeping animal; anything
 spiral : * v. i. * کرم - کپڑا - کڑی پیمچدار چیز
 work slowly and secretly : آہستگی اور پورہنگی
 سے کام کرنا
Worry, v. t. To harass with care and anxiety;
 to trouble; to fatigue : تنک کرنا - تنکنا
Worry, n. Trouble; anxiety : دقت - پریشانی
Worse, a. More bad; more sick : بدتر - زیادہ
 اس سے *
 None the—for, * خراب - زیادہ بیمار
 *
 adv. In a
 manner more evil or bad :
 بڑی طرح سے
Worse-half, n. A playful name for a husband :
 ہرہر - حارند

Worship, n. A title of honour : حضور - خداوند *
Adoration : تعظیم - پوجا - پرستش * *v. t.* To
respect ; to adore : عبادت کرنا - پوجا - پات کرنا

Worshipful, a. Entitled to worship, reverence or
high respect : واجب التعظیم - معظم

Worst, a. Bad in the highest degree : سب سے
v. t. To gain advantage over ; to over-
throw ; to defeat : جیتنا - غالب آنا - شکست دینا

Worsted, n. Yarn spun from combed wool :
Worsted * پٹا ہوا اون - تکی ہوئی اون
stockings, اونی مزے

Wort, n. A plant ; a herb : ایک قسم کا پودا -
ہرتی

Worth, n. Value ; excellence : قدر -
a. Equal in value to ; deserving
of : **Not—**
while, useless : بے کار
—the while, worth the time, pains or ex-
pense : عمدہ - بقدر صرف وقت وغیرہ

Worthily, adv. Deservedly ; justly : حسب شان -
براجبی

Worthy, a. Deserving ; equal in value : قابل -
n. A man of worth : صاحب لیاقت
کا

Wot, v. i. To know ; to be aware : جاننا -
واقف ہونا

Wound, n. A cut, stab, bruise, rent or the like ;
injury ; damage : زخم - گھاؤ - ریش - چیر -
ضدمہ - ضرر - نقصان

Wound, v. t. To hurt by violence ; to injure ;
to pain : گھائل کرنا - نقصان پہنچانا - دل دکھانا

Wrangle, v. i. To dispute angrily ; to brawl :
n. An angry dispute : تکرار کرنا - جھگڑنا
قضیہ - جھگڑا - تکرار

Wrangling, n. Altercation : جھگڑا - تکرار

Wrap, v. t. To wind or fold together ; to in-
volve : **To be wrap-**
ped in, * مافوف ہونا - ساتھ لگا ہونا
wrapped up in, مشغول ہونا - منحصر ہونا

Wrapper, n. That in which anything is wrap-
ped ; a covering : بھتہ - بستہ - لپٹنوں - لفافہ - چادر

Wrath, n. Violent anger ; indignation ; fury ;
rage : غضب - غضب - جذبہ - تہر

Wrathful, a. Greatly incensed ; furious : غضبور -
خشم ناک - غضب ناک

Wreak, v. t. To execute in vengeance or pas-
sion : * انتقام لینا - بدلہ لینا - پاداش یا مکافات لینا
نصہ اورتارنا، **To—**
one's vengeance upon,

Wreath, n. Something twisted or curled ; a
garland ; a chaplet : پیچ - ہار - مالا - سہرا

Wreathe, v. t. or i. To twist ; to encircle ; to be
entwined : لپیٹنا

Wreck, v. t. To destroy or seriously damage by
dashing against the shore or rocks : غارت کرنا -
n. Destruction ; ruin : بربادی - تباہ کرنا
چھوٹی چڑیا

Wren, n. A small perching bird : ایک قسم کی
چھوٹی چڑیا

Wrench, v. t. To wrist, twist or force by vio-
lence ; to sprain : کھینچ لینا - ایتھنا -
چوین لینا -
n. A twist : * **مرورنا** - ایتھنوں *
مرورنا
پیچ کھولنے کا آلہ -
سنسی

Wrest, v. t. To take away by force ; to distort :
n. Violent pulling or
twisting ; perversion : مرور - مور - پٹنا

Wrestle, v. i. To contend in grappling ; to
struggle : *n.* A
contest between two to throw each other down :
کشتی

Wrestler, n. One who wrestles ; prize fighter :
کشتی باز - پہلوان

Wrestling, n. The act of wrestling : کشتی -
زور آزمائی

Syn.—Struggle, contention.
Wretch, n. A miserable person ; a base, despice-
able person : بدبخت - کمبخت - مردود

Wretched, a. Very miserable ; worthless :
بدبخت - کمبخت - ناچیز

Wriggle, v. t. or i. To move to and fro with
short motion : کلبانا - لوتنا - تڑپنا - کپڑے کی طرح
ایتھہ ایتھہ کے چلنا

Wright, a. A workman ; an artificer : کاریگر -
دستکار

Wring, v. t. or i. To twist ; to wrench ; to
squeeze ; to distress : مرورنا - مورنا - ایتھنا -
—off, to put off with a
تکلیف دینا

twist : مروڑ تو چما کر لینا * - out, to squeeze out ; to extort : نپورڑ لینا - چھین لینا

Wrinkle, v. t. or i. To corrugate ; to contract into furrows : سکونا ڈالنا - شکن ڈالنا * **To—up the nose,** ناک چڑھانا * **n.** Crease ; roughness ; fancy : شکن - چھری - ناھواراوی - دھم

Wrist, n. The joint by which the hand is united to the arm : پہنچا - نلائی

Wristband, n. That band or part of a shirt-sleeve which covers the wrist : انگر کے کی ہانہہ کی مردھی

Writ, n. Anything written ; a precept : نوشتہ - حکیمانہ - پروانہ

Write, v. t. To set down ; to inscribe ; to compose ; to engrave ; to record : تحریر کرنا * **To—off,** to account for : حساب دینا * **To—one's self,** to style or call one's self : نامزد کرنا - کہلانا

Write, v. i. To form letters ; to act as a clerk ; to relate or relate in books : لکھنا - منشی گری * **Write with learned,** but speak with the vulgar, ماموں کی طرح لکھو عوام کی طرح بولو

Writer, n. A clerk ; an author : مہرر - منشی - مصنف

Writership, n. The office of writer : مصوری

Writhe, v. t. To twist with violence : آٹھنا - اٹھنا

Writing, n. Act of writing ; any thing written ; a legal instrument ; a book ; an inscription : نوشتہ - تحریر - تصنیف - دستاویز - سند - کتاب - کتبہ

pl. Official papers ; deeds : دستاویزات

Wrong, n. Injustice ; injury ; error : غلطی - جبر - غلطی پر ظلم نہمی میں مبتلا * **In the—,** نقصان - غلطی

a. Incorrect ; unjust ; not suitable : غلط - دروغ - نامناسب - نادرست

Wrongly, adv. Not rightly ; amiss : غلطی سے

n. t. To treat with injustice ; to injure : نقصان پہنچانا

Wrongful, a. Unjust ; injurious : ناحق - بیجا - غلطی سے ارتکاب - مضر

Wroth, a. Very angry ; indignant : عداوت - قہرناک

Wrought, a. Worked into a tough state by welding and hammering : بناؤ ہوا - ساختہ

Wry, a. Twisted ; deviating ; perverted : مروڑا

n. t. To writ : مروڑنا - اڑنا - کھرا - کھڑا - اڑنا

X

Xanthine (Pro. Zanthin), n. A name of a certain yellow colouring matter : چند اقسام کے زرد رنگ

Xanthous, a. Yellow : زرد

Xebec, n. A small, three-masted vessel, used in the Mediterranean Sea : ایک قسم کا چھوٹا تین مسٹرول کا جہاز

Xerotes, n. A dry habit of the body : بدن کی خشکی

Xiphoid, a. Resembling a sword : کھوار کی شکل کا

Xylography (Pro. Zi-log-raft), n. The art of engraving on wood : لکڑی پر کندہ گری یا قلم کاری

Xylophagous, a. Subsisting on wood : چوب خوار - کاتھ کھانڈیوالا

Xyster (Pro. Zister), n. A surgeon's instrument for scraping bones : آٹا چراحی ہتھیوں کے کھوجنے کا

Y

Yacht (yot), a. A light and elegantly furnished vessel for state pleasure, or racing purposes : امیرانہ چھوٹا جہاز - بھیرا

Yahoo, n. A savage or barbarian : بھانسی - جنگالی آدمی

Yak, n. A species of ox : ایک قسم کا بیل - سراگے

Yam, n. A large tropical esculent root : ادری - رتالو - زمیں قند

Yammer, v. i. To speak or cry out loudly ; to talk loosely : زور سے بولنا - چلان - بھروسہ گفتگو کرنا

Yankee, n. An American : امریکہ کا رہنویوالا

Yap, v. i. To bark ; to yelp : بھرتکنا

- Yard, n.** A measure of length, three feet or thirty-six inches : گز * A small enclosed ground : صحن - چوک
- Yardstick, n.** A stick three feet in length : گز
- Yarn, n.** Thread ; one of the threads of which a rope is composed : تار - تار * A story spun out : قصہ
- Yarrow, n.** A composite plant having a strong odour and pungent taste : ایک قسم کی نباتات
- Yawl, n.** A small ship's boat usually rowed by four or six oars : چہار کے ساتھ کی چھوٹی ناؤ - ڈرنکی
- Yawn, v. i.** To gape ; to be eager : انگڑائی لینا - * n. A gape ; an opening wide : گہائی کھادگی - شگاف
- Ye, pron.** Second person plural of Thou : تم آپ
- Yea, adv.** Yes : ہاں - بے * n. An affirmative vote : اقرار - ہاں
- Yean, v. i.** To bring forth, as a sheep : بچہ کا بیانا
- Year, n.** Twelve months : سال - برس - سمت * Fiscal year, Of tender years, * کہن سال - بڑھاپا : n. pl. Old age * خردسال - کمسن
- Advanced in—s, stricken in—s, grey with—s, aged :** * The vale of—, the decline of life : * پیڑی - بڑھاپا * سن تمیز - of discretion, majority ; maturity : سن * —of grace, the Christian era : * درغ
- Yearling, v.** Being a year old : ایک سال کا
- Yearly, a.** Annual : * سالانہ * adv. Annually : سالانہ - ہر سال
- Yearn, v. i.** To long ; to be eager : شوق سے چاہنا - ترسنا
- Yearning, n.** Longing desire ; tenderness : شوق - اشتیاق - شفقت
- Yeast, n.** The froth of beer or other liquor in fermentation ; barm : خمیر - جہاک
- Yeasty, a.** Frothy ; foamy : جھاگدار - جھاگلا
- Yell, v. i.** To utter a sharp outcry : چیخ مارنا - * n. A sharp loud, hideous outcry : چیخ - چلاہٹ - چچیات
- Yellow, a.** Of the colour of gold or brass : * n. A bright golden colour : زرد - بیلہ
- زرد کرنا یا ہونا** * v. t. or i. To make or grow yellow :
- Yellowish, a.** Somewhat yellow : زردی مایل
- Yellowness, n.** The quality of being yellow : زردی - پیلاہٹ
- Yelp, v. i.** To utter a sharp, quick cry ; to bark shrilly : بھونکنا - بھونسا
- Yeoman, n.** A freeholder ; a gentleman farmer : زمیندار - مالگذار - کسان
- Yeomanary, n.** The collective body of yeomen or freeholders : عالم لڑی - رعایا
- Yerk, v. t. or i.** To strike suddenly ; to kick : چھینکنا مارنا - ڈرلٹی پھینکنا
- Yes, adv.** Yea ; a word expressing affirmation or consent : ہاں - ہوں - ارے
- Yesterday, a.** The day last past : کل کا * adv. On the day last past : کل کو - کل دن
- Yesternight, n.** The night last past : دی شب - کل کی رات
- Yet, adv.** Besides ; still ; up to the present time ; after all : * ماسوا - غلارہ - اخیر بھی - ہنوز - آخر الامر : * conj. Nevertheless ; however : پارچہ دیکھ - تاہم - حالانکہ - از بسکہ - تسیر بھی
- Yew, n.** An evergreen tree : ایک قسم کا سدا بہار درخت
- Yield, v. t.** To afford ; to produce ; to give up ; to admit : دینا - پیدا کرنا - بر لانا - ترک کرنا - * سپرد کرنا - قبول کرنا - تسلیم کرنا - اطاعت کرنا
- To—the breath, v. i.** To submit ; to comply with ; to give place to : * دم چھوڑنا * مطیع ہونا - راضی ہونا - جگہ دینا
- Syn.—Submit, surrender, succumb, give in.**
- Ant.—Claim, den, refuse.**
- Yieldance, n.** Act of complying with : رضامندی - تسلیم
- Yielding, a.** Ready to submit, comply or yield : رضامند - مطیع
- Syn.—Submissive, compliant, facile.**
- Yoke, n.** An instrument to connect oxen for work : * چرنا * A pair : * غلامی * Servitude : * چرا * Link : * زنجیر * v. t. To put a yoke on ; to join ; to enslave ; to confine : * جوڑے میں جوڑنا - ناہنا - حلقہ بگوش کرنا - پابند کرنا

Yokefellow, n. An associate or companion : ساتھی - ہمچوڑی
Yolk, n. The yellow part of an egg : انڈے کی زردی
Yon, a. Being at a distance within view : پورے
Yonder, a. Being at a distance within view : پورے - وہاں - اوردھر
Yore, adv. In long time past ; long since : قدیم
You, pron. Second person, singular or plural : آپ - تم - آپکو
Young, a. Not long born ; juvenile ; inexperience : نوجوان
Youngster, n. A lad ; a young person : لڑکا - لڑکی
Your, pron. a. Belonging to you : تمہارا
Yourself, pron. Even you ; you only : آپ خود
Youth, n. The state or quality of being young ; the early part of life ; a young person ; young persons collectively : جوانی - جوان
Youthful, a. Young ; fresh ; vigorous : جوان - نو
Youthfulness, n. The state of being youthful : جوانی - نو عمری
Yule, n. The old name of Christmas : یولڈے کا قدیم نام

Zany, n. A merry andrew ; a buffoon : مسخرہ - قال - ٹھٹھورایا
Zeal, n. Passionate ardour in some pursuit ; enthusiasm : سرگرمی - حرارت - جوش - اشتیاق
Syn.—Ardour, eagerness, fervour, warmth, feeling.
Ant.—Apathy, indifference, torpor.
Zealot, n. One full of zeal ; an enthusiast : سرگرم اور مستعد شخص - پُرشوق
Syn.—Enthusiast, fanatic, bigot, visionary, dreamer.
Ant.—Apostate, deserter, renegade, traitor.
Zealous, a. Filled with zeal ; passionate ; enthusiastic : سرگرم - پُرشوق - مشتاق
Syn.—Ardent, eager, keen, earnest, fervent, fervid, warm, passionate.
Ant.—Apathetic, dispassionate, indifferent, calm, listless.
Zealously, ad. Eagerly, enthusiastically : سرگرمی سے - اشتیاق سے
Zebra, n. An African striped quadruped, allied to the horse : گورخر - زبرج
Zebu, n. An East Indian bison : نادیاسانق
Zend, n. The primitive language of the Persian : زند - اعلیٰ فارس فی قدیم زبان
Zenith, n. The vertical point or highest point in the heavens opposite to the nadir or lower pole : سمتِ اُپراس

Z

Zephyr, n. The west wind : نسیم - ہوا - بادِ صبا
Zero, n. Cipher ; nothing : صفر - بندی - ندارد
Zest, n. A piece of orange or lemon peel used to give flavour to liquor : تارنگی - لیمو کا چھلکا جو : A relish ; taste : سراد - ذائقہ
Syn.—Relish, flavour, savor.
Ant.—Disrelish, distaste.
—, v. t. To give a flavour to : وقت دینا - مزہدار کرنا
Zig-zag, a. Having short, sharp turns : پیچدار
*** n.** Something that has short turns or angles : ہول بھلیاں
Zinc, n. A metal of a brilliant white colour, with a shade of blue ; spelter : جستا
Zincography, n. An art in which the design is produced on and the printing done by a plate of zinc : ہتھ پڑا ہوا نقاشی کا ہنر - جستا پڑ کا چھاپہ
Zodiac, n. An imaginary belt in the heavens in the middle of which is the ecliptic or sun's path : منقذ البرج - راس چکر
Zodiacal, a. Pertaining to the zodiac : منقذ البرج کے متعلق

Zone, n. A girdle : کمر بند * One of the five great divisions of the earth with respect to latitude and temperature ; circuit : منطقہ چکر
Zoography, n. The description of animals ; zoology : بیان حیوانات - علم حیوانات
Zoological, a. Pertaining to zoology : علم حیوانات کے متعلق
Zoologist, n. One versed in zoology : علم حیوانات کا ماهر
Zoology, n. The natural history of animals : علم حیوانات

Zoophagan, n. An animal which feeds on others : گوشت خور جانور
Zoophagous, a. Feeding on living animals : گوشت خور
Zoophyte, n. A body supposed to partake of the nature of an animal and of a plant : ولاشے جسمیں حیوانی اور نباتی خاصیت ہو
Zymotic, n. Causing fermentation : جوش یا خمیر پیدا کرنے والا
Zymology, a. The doctrine of fermentation : جوش یا خمیر پیدا کرنے کا علم

PUBLISHER'S NOTE

THIS is the Twelfth Edition of the "Student's Practical Dictionary" of the Hindustani language which was originally prepared for the use of students. Its successive revisions and repeated editions have made the work very popular. Particular care has been taken to expunge all words and phrases that might be regarded as inappropriate or objectionable from a young student's point of view, while on the other hand numerous legal words and phrases have been added in order to facilitate the work of law students, practitioners and translators. Besides, in this Edition the different senses in which words are used in ordinary prose and poetry are exhibited and, where necessary, illustrative sentences have also been given from standard authors.

This Dictionary is mainly based on Shakespeare's Hindustani Dictionary and the Compilers have invariably consulted the works of other eminent Oriental scholars such as Platts, Forbes, Fallon and Richardson.

While thanking the public for the kind patronage accorded to the former editions, the Publisher hopes the present one will meet with an equally cordial reception and will prove of material benefit to English knowing Clerks and Civil and Military Officers who are required to pass examinations in the Hindustani language.

Under the circumstances, the Publisher has every hope that this edition of the Dictionary will receive the patronage of the educated public who are in need of its assistance.

ALPHABETICAL LIST OF ABBREVIATIONS

<i>A.</i>	for	Arabic.	<i>Gram.</i>	for	Grammar.
<i>Act.</i>	„	Active.	<i>H.</i>	„	Hindi.
<i>adj.</i>	„	Adjective.	<i>Intj.</i>	„	Interjection.
<i>adv.</i>	„	Adverb.	<i>Lit.</i>	„	Literally.
<i>Alg.</i>	„	Algebra.	<i>Log.</i>	„	Logic.
<i>Anat.</i>	„	Anatomy.	<i>Med.</i>	„	Medical.
<i>Arith.</i>	„	Arithmetic.	<i>Math.</i>	„	Mathematics.
<i>Astro.</i>	„	Astronomy.	<i>Mech.</i>	„	Mechanics.
<i>Bot.</i>	„	Botany.	<i>Myth.</i>	„	Mythology.
<i>Caus.</i>	„	Causative.	<i>N.</i>	„	Noun.
<i>Chem.</i>	„	Chemistry.	<i>Opp.</i>	„	Opposite.
<i>Colloq.</i>	„	Colloquial.	<i>P.</i>	„	Persian.
<i>Compos.</i>	„	Composition.	<i>Part.</i>	„	Participle.
<i>Comp.</i>	„	Compound.	<i>Plu. pl.</i>	„	Plural.
<i>Conj.</i>	„	Conjunction.	<i>Poet.</i>	„	Poetical.
<i>Contr.</i>	„	Contraction.	<i>Port.</i>	„	Portuguese.
<i>Corr.</i>	„	Corruption.	<i>Prep.</i>	„	Preposition.
<i>Dim.</i>	„	Diminutive.	<i>Pro.</i>	„	Pronoun.
<i>E., Eng.</i>	„	English.	<i>Prov.</i>	„	Proverb.
<i>F.</i>	„	Feminine.	<i>S.</i>	„	Sanskrit.
<i>Fig.</i>	„	Figuratively.	<i>T.</i>	„	Turkish.
<i>G.</i>	„	Greek.	<i>Theo.</i>	„	Theology.
<i>Geol.</i>	„	Goology.	<i>V.</i>	„	Verb.
<i>Geom.</i>	„	Geometry.	<i>Vulg.</i>	„	Vulgar.

THE STUDENT'S PRACTICAL DICTIONARY

OF THE
HINDUSTANI LANGUAGE

URDU-ENGLISH

آب

ا alif, A. *n. m.* The first letter of the Arabic, Persian and Urdu alphabets. It is pronounced according to the vowel points (اعراب) which accompany it, *e. g.*, ا with زabar (ا) sounds as the English *u* in *run*; ا with ز (ا) sounds as the English *i* in *sin*; ا with پیش pesh (ا) sounds as the English *u* in *full*; ا with زabar and مد mudd (ا) sounds as the English *a* in *rather*; ا with زabar followed by و (ا) sounds like *ou* in *mouse*; ا with پیش pesh followed by و (ا) sounds like *oo* in *fool* and *o* in *hole*; ا with زabar followed by ي (اي) sounds like *i* in *caprice* and *e* in French *fets*. Numerically in *abjad* ا stands for number 1.

اب *ab*, H. *adv.* Now; presently; just now. ابی *abhi*, *adv.* even now; yet; as yet; still; to the present time or moment. اب تب *tab*, *adv.* now and then; occasionally. اب تب کرنا *tab karná*, *v.* to evade; to delay; to shuffle. اب تب ہونا *tab honá*, *v.* to be at the point of death; to be about to die; to be at the last gasp. اب تک *tak*—(بتک) *talak*, *ab tak*, *adv.* till now; hitherto; yet; still. اب سے *ab se*, *adv.* henceforth; from this time; henceforward; in future. دور سے *ab-se-dur*, *int.* Far be it from us! God forbid! اباؤنت *abá*, *adj.* of the present time; the next; the following. ابھی *abhi*, *adv.* just now; instantly; already; this very moment; immediately.

اب *ab*, A. *n. m.* (*Contr. of* اب *Abú*). A father.

آب *áb*, A. *n. m.* Water; sparkle; splendour; elegance; dignity; honour; magnificence; polish; lustre or water (in gems); temper (of steel); edge or sharpness (of a sword). آب

آب ہونا *áb honá v.* to be drenched with perspiration; to blush; to be thoroughly ashamed.

نورگس مست یار کے آگے
ہوئی فیرت سے آب آب شراب. (نامسنگ)
Nargis i-mast-i-yár-ke-áge,
Hui ghairat se áb áb sharab.

آب اترنا *ab-utarná*, *v.* to lose lustre or polish; to fade; to lose honour. آب احمر *ab-ahmar*, *n. m.* the Red Sea. (Bahr-i-Qulzam). آب باران *ab-báran*, *n. m.* rain water. آب بستہ *ab-basta*, *n. m.* ice; glass. آب بازی *ab-bázi*, *n. f.* play or sport in water; swimming. آب بگڑنا *ab-bigarná*, *v.* to lose lustre; to be disgraced. آب پاشی *ab-pashi*, *n. f.* sprinkling water; irrigation. آب تاب *ab-tab*, *n. m.* lustre; splendour; dignity; glory. آب جاری *ab-jári*, *n. m.* running water; a rivulet; tears running down the cheeks. آب در *ab-dar*, *n. m.* a stream; a rivulet. آب جوش *ab-josh*, *n. m.* broth; gravy; juice of cooked meat. آب چڑھنا *ab-chárhána*, *n.* to polish; to burnish or temper (steel, etc.); to whet; to sharpen (a sword, &c.). آب چشم *ab-chashm*, *n. m.* tears. آب حرام *ab-i-harám*, *n. m.* unclean or forbidden water; wine; hypocritical tears. آب حسرت *ab-i-hasrat*, *n. m.* water of desire; longing; remorse. آب حیات *ab-i-hayát*, *—haiwán*, *n. m.* water of life; a fabulous spring containing the water of immortality. آب خانہ *ab-khána*, *n. m.* repository of water. آب خست *ab-i-khist*, *n. f.* a melon. آب خضر *ab-i-khizr*, *n. m.* the water of life. آب خورہ *ab-khóra*, *n. m.* a narrow-mouthed vessel for holding water. آب خورد *ab-khurd*, *v.* meat and drink. آب خیز *ab-khez*, *n. m.* a soil in which water rises up if dug into

but little; a swell of water; ground where water is found after digging a little way. آب دار—dār, *n. m.* butler; the person having charge of the drinking water or wine; *adj.* polished; clear (as gems); well-tempered (as steel); sharp (as sword). آب دانه—dána, *n. m.* drink and food; lot; employment; means of subsistence; destiny. آب دست—dast, *n. m.* water for washing the hands, &c., (after evacuation); washing one's self after easing nature (this is the common signification of the word in India). آب دندان—dandáp, *n. m.* sharpness and polish of the teeth; a species of pear; watering of the mouth; a kind of pomegranate; *adj.* water base. آب دهان—dahan, *n. m.* saliva; water of the mouth. آب دیده—dida, *adj.* in tears; weeping. آب دیده هونا—didi honá, *v.* to have tears; to have tears in the eyes; to shed tears. آب رُو—rú, *n. f.* honour; character; fame; grandeur. آب رُو اتارنا—rú utárná, to disgrace; to defame; to dishonour; to violate the chastity (of). آب رُو رَكهنا—rú rakhná, to preserve honour or reputation. آب رُو ریزی—rú rezí, *n. f.* slander; calumny. آب رُو میں پتلا لگنا—rú men battá lagná, *v.* to be stained in character or reputation. آب روان—i-rawán, *n. m.* running water; a kind of extremely fine muslin. آب زر—i-zar, *n. m.* golden water. آب زلال—i-zulál, *n. m.* pure, clear water. آبشار—shár, *n. m.* A water-fall; a cascade. آب شور—i-shor, *n. m.* salt-water; sea-water. آب و شراب—i-ishrat, *n. m.* wine. آب و کار—kár, *n. m.* a water-carrier; a distiller or seller of spirituous liquors. آب و کاری—kárí, *n. f.* distillery; liquor-shop; excise. آب و کوش—i-kausar, *n. m.* one who draws water. آب و کوش—i-kausar, *n. m.* nectar; the water of the river Kausar, fabled to flow in Paradise with milk and nectar. آب گذار—guzár, *n. m.* a passage of a river; a water-course. آب گرم—i-garm, *n. m.* warm water. آب گوشت—i-gosht, *n. m.* soup; gravy. آب گبر—gir, *n. m.* a pond; a weaver's brush. آب گینه—gina, *n. m.* a mirror; a drinking

glass; diamond. آب مقطر—i-muqattar, *n. m.* distilled water. آب نای—nai, *n. f.* (*Geog.*) a strait. آب نقره—i-nuqra, *n. m.* quicksilver; mercury. آب و هوا—o-hawá, *n. f.* climate. آب و یاری—yári, *n. f.* watering; a kind of thin linen cloth; a species of dove. آب یخنی—i-yakhni, *n. m.* water in which meat has been boiled down.

آب اِبَا—ibá, *n. m.* Detesting; refusing; denial.

آب اَبَا—ábá, *n. m.* (*Plu. of آب اَبُو*) Fathers; forefathers. آب اجداد—o-ajdad, *n. m. Plu.* ancestors; family; lineage.

آب اَبَا—abbá, *n. m.* (*Colloq.*) Father. آب اَبَا—ján, *n. m.* dear father; dear papa.

آب اَبَابِل—abábil, *n. m.* A swallow; a martin.

آب اَبَا حَات—ibahat, *n. f.* Permission; leave; liberty; license.

آب اَبَاد—ábád, *n. adj.* Inhabited; populated; peopled; full of buildings and inhabitants; cultivated; flourishing; prosperous; happy; (commonly used as a last member of compounds in the sense of city or town) as آب اَبَاد الله Allahabad, &c.; (*Law*) revenue-paying lands. آب اَبَادكار—kár, *n. m.* a settler on waste land. آب اَبَاد كَرنا—karná, *v. t.* to settle; to build; to cultivate; to colonise; to make a place habitable and populous.

آب اَبَادِنِي—ábádíní, *n. f.* A habitation; a cultivated or inhabited place; abundance; prosperity.

آب اَبَادِي—ábádí, *n. f.* Village site; population; the people living in a place; prosperity.

آب اَبَا رَات—ibírat, *n. f.* Fecundity, destruction; ruin; loss.

آب اَبَا رَنَا—ubarná, *n. v.* To release; to set at liberty; to liberate. [*boiling ebullition.*]

آب اَبَا ك—abák, *n. m.* (*colloq.*), *H. adj.* Struck with amazement; speechless; silent.

آب اَبَا ل—ubál, *n. m.* Swelling with rage or anger; boiling; ebullition. آب اَبَا لَنَا—ubálná, *v. t.* To boil; to make boil.

آب اَبَا ن—ábán, *n. m.* The eighth month of the Persian year. [*ing to one's ancestors.*]

آب اَبَا ئِي—ábái, *n. f.* Ancestral; paternal; belonging. آب اَبْتِدَا—ibtidá, *n. f.* Commencement; beginning;

source; origin. **ابتدا میں**—*men*, *adv.* in the beginning; at first; originally. **ابتدائی** *ibtidáí* *adj.* preliminary; primary; prefatory. **ابتدائی رسم** *ibtidáí rusúm*, initiatory rites.

ابتداع *ibtidá*, *A. n. m.* Invention; innovation; producing of something new. [contempt.

ابتدال *ibtizál*, *A. n. m.* Meanness; vileness; **ابتار** *abtar*, *A. adj.* Ruined; spoiled; defaced; vitiated; destitute; miserable; confused; disordered; poor. **ابتار کرنا**—*karná*, *v. i.* to ruin; to spoil; to vitiate; to disorder; to shuffle (playing cards). [lessness

ابتاری *abtarí*, *A. n. f.* Destruction; ruin; worth-**ابتسام** *ibtisám*, *A. n. m.* Smiling; cheerfulness; hilarity; gaiety. [tune.

ابتلا *ibtílá*. *A. n. m.* Temptation; trial; misfor-**ابتیہاج** *ibtiháj*. *A. n. m.* Gladness; cheerfulness; happiness.

ابتان *ubtan*, **उबटन**, *H. n. m.* A cosmetic; an unguent; a mixture of perfumes, oil, flour, etc., used to rub the body with. **ابتان ملنا**—*malná*, *v.* to rub the body with *ubtan*.

ابجد *abjad*, *A. n. m.* The arrangement of the Arabic alphabets; a mode of reckoning numbers by the letters of the alphabets. **ابجد خوان**—*khwán*, *v. m.* one who is beginning to learn his alphabets; a beginner.

ابیحار *abichár*, **अविचार**, *H. n. m.* Thoughtlessness; indiscretion; want of consideration.

ابخاره *abkhara*, *A. n. m.* (*Plu. of بخار Bukhar*). Vapours; steam; evaporation; fumes; delirium.

ابخل *abkhal* *P. adj.* More, most or very covetous

ابد *abad*, *A. v. m.* Eternity; time without end. **ابدالابد** *ul-ábád*, *adj.* eternity of eternities; for ever and ever.

ابدأ *abadan*, *A. adj.* For ever; eternally.

ابداع *ibda'*, *A. n. m.* The production of something new; invention of something new; invention; publication. [tution.

ابدال *ibdál*, *A. n. m.* Change; exchange; substi-

ابدال *abdál*, *A. n. m.* (*Plu. of بدیل Badil*) Devotees; religious persons.

ابدی *abudha*, **अबुध**, *H. adj.* Ignorant; deficient of understanding or sense; unwise; foolish.

ابدی *abadí*, *A. adj.* Eternal; endless; immortal. **ابدب کرنا** *ubdab karná*, **उबडव करना**, (*colloq.*), *H. v. i.* To sink and rise alternately; to breathe quickly; to be at the last gasp.

ابر *abr*, *P. n. m.* A cloud. **ابر چھانا**—*chháná*, *v. i.* to be cloudy or overcast; clouds to overshadow. **ابر دار**—*dár*, *adj.* cloudy; waterlined. **ابر ظلیظ**—*i-ḡalíz*, *n. m.* a thick cloud. **ابر عالمگیر**—*i-álangír*, *n. m.* rain clouds which cover a large extent of country. **ابر مرده**—*i-murda*, *n. m.* a sponge.

ابرا *abrá* *P. n. m.* The outer fold of a double garment (distinguished from *astar*, the lining).

ابرا *ibrá*, *A. n. m.* Remission; release; acquit-**ابرا ذمہ**—*i-zimma*, exemption from responsibility. **ابرا نامہ**—*i-n'ama*, *n.* a deed of remission of dower. [weather.

ابراد *ibrád*, *A. n. f.* Cooling; experiencing cold **ابرار** *abrár*, *A. n. m.* (*Plu. of بر Birr.*) Just, holy, pious men; saints. [press; to divulge.

ابراز *abr'z*, *A. v.* To open the secret; to ex-**ابراق** *abraq*, *A. n.* Fall of lightning; sandy grounds. [riarch.

ابراہیم *Ibráhim*, *A. n. m.* Abraham (the Pat-

ابراہم *ibrám*, *A. n. m.* Earnest request; pressing necessity; solicitation.

ابراش *abrash*, *A. adj.* Marked with spots of various colours or shades of colours; a piebald horse.

ابراس *abras*, *A. adj.* Leprous; having leprosy.

ابراق *abraq*, *A. n. m.* Talc; mica.

ابراک *abrak*, *H. n. m.* Talc; mica. **ابرنأ** *ubarná*, **उबरना**, *H. v.* To be set at liberty; to remain over; to exceed; to economise; to be kept in reserve; to be left over as a surplus.

ابرو *abrú*, *P. n. f.* The eyebrow. **ابرو بک آنا**—*par bal áná*, *v.* to knit the brow; to frown.

ابروث *abirodh* **अविरोध**, (*colloq.*), *H. n. m.* Tranquillity; quietness; peace.

ابروثی *abirodhi*, **अविरोधी**, (*colloq.*), *H. adj.* Peaceable; tranquil; *n. m.* a peaceable person.

ابری *abrí*, *P. adj.* Clouded; mottled; *n. f.* marble; a kind of thick and shining paper.

ابريشم abresham, P. *n. m.* Silk ; raw silk ; sewing silk.

ابريشمي abreshmí, P. *adj.* Made of silk.

ابريق abriq, A. *n. m.* An ewer ; a water-pot ; a water-pot with a spout and a handle.

ابس a-bas, अवस, H. *adj.* Disobedient, not under control ; unsubmitive to other's will.

ابسال absál, P. *n. m.* A vineyard ; a garden.

آبستگي abastagi, } P. *n. f.* Pregnancy.
آبستاني abastani, }

آبسته abasta, P. *adj.* Pregnant (a woman) ; a new-born (babe) ; with young (an animal).

ابسن a-basan, अवसन, H. *adj.* Naked ; without clothes.

ابسنا ubasná, H. *v.* To putrefy ; to become fetid ; to smell offensive (meat or food).

ابسراس a-biswás, अबिस्वास (colloq.), S. *n. m.* Want of confidence ; faithlessness ; suspicion.

ابسراسي a-biswási, अबिस्वासी, (colloq.), S. *adj.* Incredulous ; suspicious ; distrustful.

ابشيك abshek, अबिशिक, (colloq.), S. *n. m.* Sprinkling of water ; religious bathing ; royal unction ; inauguration.

ابصار absár, A. *n. m.* (*Plu. of* بصر *Basr*). Eyes ; understanding ; views.

ابطال abtal, A. *n. m.* Quashing ; rendering null ; refutation ; act of destroying or annihilation.

ابعاد ثلاثه ab'ád-i-salása, A. *n. m.* The three dimensions, length, breadth and depth or thickness.

ابعد ab'ad, A. *adj.* Further ; furthest ; most distant or remote.

ابقا ibqa, H. *n. m.* Confirmation ; preservation ; prolongation ; rendering permanent.

أبكا ubká, उक्का, H. *n. m.* The slipknot placed round the neck of a vessel for drawing water with it.

ابكار abkár, A. *n. f.* (*Plu. of* بكر *Bakr*). Virgins.

أبكائي ubkái, उक्काई, H. *n. f.* The act of vomiting.

أبكتا ubakná, उक्कना, H. *v.* To vomit ; to disgorge ; to expel ; to cast out.

ابل abal, अबल, S. *adj.* Weak ; feeble.

ابل ibl, A. *n. m.* Camel.

أبال abalá, अबला, S. *adj.* Powerless ; *n. f.* a woman. أبلأى ablái, *n. f.* weakness.

أبلان ablápan, *n. f.* frailty. [lustring,

أبلج ibláj, A. *n. m.* Brightening ; splendouring ;

أبلس iblás, A. *n. m.* Being hopeless and sad ; compounded ; being unreasonable.

أبلغ iblág, A. *n. m.* Causing to arrive ; sending ; conveying ; complements ; messengers.

أبلاها abhilakhá, अभिलाषा, H. *n. f.* Desire ; longing ; wish.

أبلانا ubláná, उबलाना, H. *v.* To cause to boil.

أبلق ablaq, A. *adj.* Piebald ; black and white ; mottled.

أبلاق ablaqá, A. *n. m.* A bird of the maina kind ; a starling. [diligence ; quickness.

أبلعب a-bilamba, अबिलम्ब, (colloq.), S. *n. m.* Haste ;

أبلانا ubalná, उबलना, H. *v.* To rise ; to mound ; to boil ; to swell ; to flow over. [sugar-candy.

أبلوج or أبلوح ablúj or áblúch, S. *n. m.* White

آبلة abila, P. *n. m.* A blister. آبلة پا—pá, *adj.* having blister on the feet.

أبلة ablah, A. *adj.* Simpleton ; silly ; stupid ; bashful. أبلة فريب—fareb, *n.* a sly, wily knave ; an impostor.

أبلاهي ablahí A. *n. f.* Foolishness.

أبليس iblís, A. *n. m.* The devil ; Satan.

أبليم iblím, A. *n. m.* Ambergris ; honey.

ابن ibn, A. *n. m.* A son ; child. ابن الامير—ul-amír, *adj.* high-born ; of noble blood. ابن السبيل—ul-sabil, *n. m.* a traveller. ابن الغرض—ul-garaz, *n. m.* selfish person. ابن الوقت—ul-waqt, *n. m.* a time-server.

أبناء abnái, A. *n. m.* (*Plu. of* ابن *Ibn*.) People ; tribes. أبناء جنس—i-jins, *n. m.* of the same quality or rank ; companions, equals.

أبناء دهر—i-dahar, روزگار—i-rozgar, *n. m.* sons of the age ; contemporaries.

أبناسي a-binási, अबिनासी (colloq.), S. *adj.* Imperishable ; immortal ; eternal.

أبنت ibnat, A. *n. f.* A daughter.

أبنوس abnús, P. *n. m.* Ebony. ا—أبنوسي, *adj.* made of ebony ; black.

أبـآب ab-i-naí, P. *n. m.* The perpendicular tube of *hugqa* on which the *chilam* is fixed.

أبو abú, A. *n. m.* Father, originator, author. أبو البشر—ul-bashar, *n. m.* the father of the human race ; Adam. أبو الفضل—ul-fazal, *n. m.* father of excellence ; the Secretary of Emperor Akbar. أبو بكر—Bkar, *n.* the father

of the virgin ; the father-in-law and first successor to Mohammad. **ابو تراب** - Turab, *n.* The father of clay, nick name of Ali, the son-in-law of Mohammad. **ابو جهل** - Jehal, *n.* The father of ignorance ; an uncle of Mohammad. **ابو هریره** - Huraira, The father of the cat ; the nickname of one of the companions of Muhammad who was in the habit of carrying a pet cat with him.

ابوي abawi *A. adj.* Paternal.

ابواب abwab, *A. n. m.* (*Plu. of باب Báb*). Doors ; chapters ; cesses ; imposes ; taxes. **ابواب** **بيجا** - i-bejá, *n.* illegal cesses. **ابواب ناجائز** - i-naj'iz, *n.* unauthorized cesses.

ابوجوه a-bújh, **अवूक**, *S. adj.* Void of understanding ; stupid ; deficient in sense ; dull-headed.

ابوجوه abújh, **अवूक**, *S. adj.* Incomprehensible ; not ; understood.

ابود a-bodh, **अबोध**, *S. n. m.* Stupidity ; foolishness ; stupid ; foolish ; frightened.

ابول aból, **अबोल**, *H. adj.* dumb ; silent.

ابولا abolá, **अबोला**, *H. adj.* Silent ; reserved ; *n.* an infant.

ابهاج ibháj, *A. n. m.* Gladness ; joy. [*weight.*

ابهار abhár, **अभार**, *S. n. m. adj.* Light ; of little

ابهار ubhár, **उभार**, *H. n. m.* Swelling ; plumpness ; prominence ; budding ; excitement ; persuasion ; act of stirring.

ابهارنا ubhárna, **उभारना**, ubhárna, **उभाड़ना**, *H. v. t.* To raise up ; to lift ; to unload ; to induce ; to excite ; to persuade. [*sity ; ill-luck.*

ابهاك abhág, **अभग**, *H. n. m.* Misfortune ; adversity. **ابهاك** abhág, **अभागा**, *S. n. m.* An unfortunate, destitute person ; a poor wretch ; a scapegrace ; *adj.* unlucky ; ill-starred.

ابهام ibhám, *A. n. m.* Suspicion ; confusion ; ambiguity ; the thumb *adj.* concealed ; unknown.

ابهي abhipr'e, **अभिप्राय**, *S. n. m.* Meaning ; intention ; aim ; desire ; the gist of a book.

ابهدان abhid na, **अभिधान**, *S. n. m.* A lexicon ; a vocabulary ; a dictionary.

ابهر ubhrá, **उभरा**, *H. adj.* Unladen ; excited.

ابهرانا ubhrána, *H. v. t.* To cause to overflow ; to fill a vessel till it runs over.

ابهرक abhrak, **अभरक**, *S. n. m.* (*Geot.*) Talc ; mica.

ابهارانا abharana, **आभरण**, *S. n.* Jewels ; ornaments ; decorations.

ابهارنا ubharna *H. v. i.* To rise ; to grow ; to run over ; to recover ; to rally ; to depart ; to steal ; to be unloaded.

ابيشكت abhishikt, **अभिशिक्त**, *S. adj.* Sprinkled ; baptized ; appointed to an office ; inaugurated.

ابيشيكت abhisheka, **अभिशेक**, *S. n. m.* Consecrating by sprinkling Ganges water ; inauguration of a king ; royal unction ; installation ; bathing.

ابهاك ubhak, **उभक**, *H. n. m.* A bear. [*ferent.*

ابهاكت a-bhakta, *S. अभक्त*, *adj.* Impious ; indif-

ابهاكتي a-bhakti, *adj.* Irreligiousness ; impiety ; indifference ; discharged.

ابهاكتيمان a-bhaktimán, **अभक्तिमान**, *S. adj.* Unbelieving ; ungodly ; *n. m.* an unbeliever.

ابهاكشيه abhakshya, **अभक्ष्य**, *S. n.* Unlawful or forbidden food ; part *adj.* not to be eaten ; unlawful to be eaten.

ابهاكش abhilásh, **अभिलाष**, *S. n. m.* Desire ; wish ; love ; craving ; strong inclination. [*ing ; longing for.*

ابهاكشي abhiláshí abhiláshi, *S. adj.* Desir-

ابهايمان abhimán, **अभिमान**, *S. n. m.* Pride ; arrogance ; self-conceit ; haughtiness. **ابهايمان** —karna, *v.* to behave proudly and haughtily. **ابهايمان** —mitán', *v.* to bring down one's pride ; to humiliate.

ابهايمان abhimáni, *S. adj.* Proud ; conceited ; arrogant ; *n. m.* a conceited person.

ابهاين a-bhinna, **अभिन्न**, *S. adj.* Undivided ; one. *n. m.* (*Math.*) a whole number ; an integer.

ابهاينندن abhinandan, **अभिनन्दन**, *S. n. f.* Praise ; applause ; approbation.

ابهايشان abhúshan, **आभूषण**, *S. n. m.* Jewel ; ornaments.

ابهاوك abhoga, **अभोग**, *S. n. m.* Crookedness ; extension ; surfeit ; the expanded hood of the cobra capella.

ابهاوك abhoga, **अभोग**, *S. adj.* ; Not fit for use ; unenjoyed.

ابهاون a-bhún, **अभूँ**, *adj.* Hitherto ; yet ; up to the present time.

ابهاون a-bhai, **अभय**, *S. adj.* Fearless ; intrepid ; courageous. **ابهاون** —patra, *n. m.* assurance of safety or safety of protection ; a passport.

abhyás, अभ्यास, S. *n.m.* Practice; exercise; study; the frequent repetition in order to fix it on the mind; experience. ابھياسی - abhyási, S. *adj.* Studious. *n. m.* A student.

a-bh ta, अभित, S. *adj.* Fearless; undaunted; bold; intrepid.

ábhr, अभिर, S. *n. m.* A cowherd.

ábi P. *adj.* Watery; aquatic; moist; light blue; a kind of bread made of water in place of milk and butter. ابھی گھوڑا - ghorá, *n. m.* the sea-horse; the hippopotamus.

abe, U. *interj.* (used by way of contempt.) Hollo! you rascal! sirrah! you fellow!

abyát, A. *n.* (Plu. of بیت Bait). Houses; distichs; couplets.

ábyári, P. *n. f.* A species of dove; sort of very fine cloth; irrigation.

ubiyána, H. *n.* उदियाना, H. *v.* To get sick of; to get tired of. [ness.

ubiyáshá, H. *n. f.* Irksomeness; weariness. aber, अबेर, H. *n. f.* Delay; lateness; *adj.* late; unreasonable.

abír, अबीर, H. *n. m.* Red powder used in the *Holi* festival; a powder made with rose, sandal and saffron and sprinkled on clothes.

abyaz. A. *adj.* White; snow; more or most splendid. ابھاض - i-abyaz, *n. m.* the White Sea.

áp, H. *pron.* Self; selves; yourself; you sir; your honour. آپ -áp, *pron.* each by himself; each one; *n. m.* flattery. آپ - karná, *v.* to flatter; to be selfish. آپ - bháti, *adv.* according to one's own pleasure.

biti, *adv.* that which has befallen on one's self; the story of one's own suffering. آپ -rúp, *adj.* self-made; unique; matchless; non-pareil. آپ - sawáráthi, *adj.* selfish; seeking the interest of one's self.

se áp, *adv.* voluntarily; without reason; spontaneously; himself; of his own accord. آپ - káji, *adj.* selfish; seeking one's own business. آپ - hí áp, *adv.* spontaneously; alone. آپ سے باہر ہونا - pe se b har honá, to be in a rapture; to

be beside one's self (with joy or anger); to be in ecstasy; to be in a fury. آپ میں آنا یا ہونا - men áná yá honá, to come to or be in one's proper senses.

ápá, H. *n. f.* An elder sister; *pron.* self. آپ - ápi, *n. f.* self; each for himself.

upádh, उपाध, S. *n. f.* Violence; tyranny; injustice; oppression.

upádhí, H. *adj.* Violent; unjust; oppressive; *n. m.* tyrant; mischievous.

upádhya, उपाध्याय, S. *n.m.* A spiritual preceptor; a teacher (in general); a subdivision of Brahmans.

upádhyaní, S. *n. f.* The wife of a teacher; a preceptress.

apar, अपार, S. *adj.* Boundless; excessive; unrivalled; infinite.

upárjita, S. *adj.* Acquired. [gain.

upárjana, उपार्जन, S. *n. m.* Acquisition; acquisition.

uparná, H. *v.* To root out; to extirpate; to eradicate. [Upwás) A fast; hunger.

upás, उपास, S. *n. m.* (Contr. of آپاس) upásá, उपासा, S. *adj.* Hungry; one who fasts; *n. f.* worship; religious service.

upásak, उपासक, H. *adj.* Fasting; *n. m.* worshipper; a devotee.

upásná, S. *n. f.* Worship; adoration; homage. [reverence.

upásan, S. *n. m.* Attendance; worship; attending; worshipping; serving; *n. m.* a worshipper; one who keeps a fast.

upákyána, उपाख्यान, S. *n. m.* A story; a fable; a tale.

apání, H. *pron.* Belonging to one's self.

apánga, अपांग, S. *n. m.* (Anat.) The outer corner of the eye; *adj.* maimed; crippled.

upáng, उपांग, S. *n. m.* The sectarial mark made with sandal, etc., on the forehead (tilak). [defiled; unholy.

apáwan, अपावन, S. *adj.* Impure; corrupt;

apáhaj, अपाहिज, S. *adj.* Crippled; lazy; *n. m.* an indolent person.

آپائے upāya, उपाय, S. n. m. Plan ; contrivance ; remedy ; help ; way. اپائے کرنا —karná, v. to devise ; to scheme ; to provide against.

آپائی upái, S. adj. Contriving ; remedying ; scheming.

آپیترا a-pabitra, अपवित्र, S. adj. Unclean, impure.

آپیترا tá n. f. uncleanness ; defilement ; impurity.

آپین upabana, उपवन, S. n. m. A grove ; an artificially planted wood or garden ; a tope.

آپت ápata, आपत, S. n. f. Ill-fortune ; calamity ; adversity. آپت کال —kál, a season of adversity.

آپتر a-putra, अपुत्र, S. n. m. An undutiful son. آپترک —ka, S. adj. Without offspring ; childless. [absence of a road.

آپتوہ a-path, अपथ, S. n. m. A wrong path ;

آپتویہ a-pathya, अपथ्य, S. adj. Indigestible ; unwholesome.

آپٹان upṭān, उपटन, H. n. m. A composition of perfumes, flour, etc. used to rub the body with before taking a bath ; an unguent.

آپجنا upajná, उपजना, H. v. To grow ; to spring up ; to shoot forth ; to produce ; to cultivate ; to grow.

آپجانا upjána, H. v. To cause to grow.

آپجائ upjáu, adj. Fertile ; rich, productive.

آپجیت upajita, S. adj. Produced ; propagated.

آپجتان upjatan, उपजतन, H. n. m. Preparation ; exertion.

آپجس apajas, H. n. m. Disgrace ; ignominy ; infamy ; discredit.

آپجسی apajasi, H. adj. Ignominious ; disgraceful ; unfortunate.

آپدا ápadá, आपदा, S. n. f. Misfortune ; risk ; calamity.

آپدرا upadrava, उपद्रव, S. n. f. A tumult ; commotion ; rebellion ; violence ; tyranny.

آپدراوی upadravi, S. adj. Rebellious ; violent ; tyrannical ; n. m. tyrant.

آپدیپ upa-dwipa, उपदीप, S. n. m. (Geog.) A peninsula.

آپدیش upadesha, उपदेश, S. n. m. Advice ; counsel ; admonition ; instruction. آپدیش کرنا یا دینا —karná yá dená, to advise ; to admonish ; to instruct ; to preach.

آپدیشک updeshak, } S. n. m. An adviser ;
آپدیشی updeshi, } a preacher ; a teacher.

آپر úpar उपर, S. prep. Above ; on.

آپراپتی a-práptí, अप्राप्ति, S. n. f. Non-attainment ; non-acquisition.

آپراجت a-par'jita, अपराजित, S. n. adj. Unconquered ; invincible ; not defeated.

آپرادہ aparádh, अपराध, S. n. m. Transgression ; crime ; fault ; guilt. آپرادہ کرنا —karná, to commit an offence (against) ; to sin. آپرادہ لگانا —lagáná, to charge ; to slander.

آپرادھی aparádhí, S. n. m. A criminal ; an offender ; a sinner ; a transgressor.

آپرانٹ upar'nta, उपरान्त, S. adv. Afterwards ; over and above ; besides. آپرانٹ کے اِسکے —iske—adv. thereupon.

آپراتپ a-pratápa, अपराताप, S. n. m. Want of acuteness ; want of dignity or fortune ; dullness ; meanness.

آپراتپی a-pratápi, S. adj. Undignified ; powerless ; unlucky ; mean.

آپرتشٹھا a-pratishṭhá, अप्रतिष्ठा, S. n. f. Want of respectability ; ill-fame.

آپرتشٹھت a-pratishṭhit, अप्रतिष्ठित, S. adj. Disgraced ; dishonoured ; disesteemed.

آپرتاکشا a-prataksha, अप्रत्यक्ष, S. adj. Imperceptible ; invisible ; secret ; hidden.

آپرتیتی apratíti, अप्रतीति, S. adj. Want of credit ; mistrust. [obsolete ; not customary.

آپراچلتا a-prachalita, अप्रचलित, S. adj. Not current ;

آپراچانڈا a-prachanda, अप्रचण्ड, S. n. f. Not violent ; not forcible ; without dignity.

آپراس apras, अपरस, H. n. m. A sort of eczema ; a cutaneous disease ; leprosy.

آپراسیدھا a-prasidha, अप्रसिद्ध, S. adj. Not celebrated ; obscure ; unknown.

آپراسنا a-prasana, अप्रसन्न, S. adj. Ungracious ; disagreeable ; averse ; displeased-

آپراکت a-prakat, अप्रकट, } S. adj. Not apparent ;
آپراگت a-pragaṭ, अप्रगट, } unmanifested.

اپرلا uparlá उपरला, H. *adj.* Superficial ; upper ; *n.* the surface ; the outside of a garment.

اپرپار a-paramár, अपरंपार, S. *adj.* Boundless ; infinite ; limitless.

اپرپروھت uprohít, अपरोहित, S. *n. m.* Chief priest of a Hindú temple. [experience ; unskilfulness.

اپرپروھت apravínatí, अप्रवीणता, S. *n. m.* Want of apriyá अप्रिय, S. *adj.* Disliked ; hated ; unloving ; unfriendly.

اپرپريل aprail, U. *n. m.* (Corr. to the English April. The fourth month of the English year.

اپرپارنا á-parná, आप पड़ना, H. *v.* To come to pass ; to come unexpectedly or to fall suddenly (upon).

اپرپارنا uparná, उपड़ना, H. *v.* To be rooted out ; to be pulled out. اپرپارنا upar áná, *v.* to be imposed with the mark of anything ; to come or rise up.

اپرپاس ápas, आपस, H. *pron.* Self ; one another ; a fraternity ; kin. اپرپاس داري - d rí, *n. f.* brotherhood ; relations. اپرپاس ميں - men. *adv.* mutually ; among ourselves. اپرپاس ميں رهنا - men rahn', to live together.

اپرپاس upas उपस, S. *n. f.* An offensive smell ; stink ; staleness ; putrefaction.

اپرپاسٿيت upasthita, उपस्थित, S. *adj.* Ready ; present ; arrived. اپرپاسٿيت کرنا - karná, to summon ; to present.

اپرپاسرا apsará, अप्सरा, S. *n. m.* A female dancer in the court of Indra, the king of the celestials ; a nymph.

اپرپاسرگ upasarg, अपसर्ग, S. *n. m.* A portent ; a disease ; possession by an evil spirit ; (Gram.) a prefix.

اپرپاسروارٿه apaswártha अपस्वार्थ, S. *n. m.* Selfishness ; *adj.* selfish. [quiet ; tranquillity.

اپرپاشانتی upshantí, उपशान्ती, S. *n. f.* Calmness ;

اپرپاشبڊ apashabda, अपशब्द, S. *n. m.* A disagreeable sound ; ungrammatical language ; an unmeaning word appended to another, e. g., páni wáni, roti otí.

اپرپشپت a-pushpit, अपुष्पित, S. *adj.* Not bearing flowers ; not in flowers ; (a tree or plant.) that does not flower.

اپوشٿ apushť, अपुष्ट, S. *adj.* Lean ; not strong.

اپوڪار upkár उपकार, *n. m.* Benevolence ; assistance ; protection ; favour. اپوڪار کرنا - karná, to assist ; to befriend. [a friend, a protector.

اپوڪارڪ upkáraka, उपकारक, S. *n. m.* A benefactor ;

اپوڪاري upkári, S. *adj.* Beneficent ; assisting ; serviceable ; helper ; kind ; friendly.

اپوڪاري apkári, अपकारी, S. *adj.* Injurious ; mischievous ; an enemy. [wickedness.

اپوڪارم apakaram, अपकर्म, S. *n. m.* Bad action ;

اپولا uplá, उपला, H. *n. m.* Dried cakes of cowdung used as fuel.

اپولاڪشنا upalakshana, उपलक्षणा, S. *n. m.* A figure of speech ; synechdoche ; metaphor ; elliptical expression. [omen ; a bad sign.

اپولاڪشان apalakshan, अपलक्षण, S. *n. m.* A bad upamá, उपमा S. *n. f.* A resemblance ; comparison ; (Gram.) simile. اپولاڪشنا - dená, to compare (with) ; to liken (to).

اپوامان apamán, अपमान, S. *n. m.* Disgrace ; dishonour ; contempt. اپوامان کرنا - karná, to disgrace ; to ridicule.

اپواماني apamáni, S. *adj.* Disgraced ; abased.

اپونا apná, H. *pron.* One's own ; personal ; individual ; appropriate ; exclusive. اپونا اپنا - apná, *adj.* each one his own ; respective ; personal ; individual. اپونا بيگانا - begána *m.*

اپونا سا منھه ايڪو رهجانا - sá munh lekar rah jána, to hang down or hide one's head through shame. اپونا کرنا - karná, *v.* to make a (person or thing) his own ; to attach a (person) to one's self ; to embezzle, اپونا کيا پانا يا بهرگنا - kiyá páná yá bhogná, to suffer the consequence of one's own misdeeds. اپونا کي ماننا - apne ko mánná,

to think much of one's self ; to be vain of. اپونا کي خيال ميں مست هونا - apne khayál men mast honá, to rejoice in one's own independence ; to glory or revel on one's own means. اپوني اپني اپني پونا - apni apni páná, to look out each for himself or his own interest. اپوني اپني گانا - apni gáná, to sing one's own praises ; to boast ; to brag ; to talk big. اپوني گرهه سے - apni-girah-se,

from one's own pocket. اپوني منھه ميں منھه - apne munh mián miñhú, *adj.* praising one's

اپوني منھه ميں منھه - apne munh mián miñhú, *adj.* praising one's

اپوني منھه ميں منھه - apne munh mián miñhú, *adj.* praising one's

self. اپنے ہاتھوں apne hāthoṃ, with one's own hands. اپنے ہاتھوں مارنا apne hātho kulhārī mārṇā, to be one's own assassin or antagonist.

اپنا اپnānā, H. *v.* To make a thing one's own; to appropriate to one's own use. [epithet.

اپنام upanāma, उपनाम, S. *n. m.* Surname; title; اپنایت apānīyat, अपनायत, H. *n. f.* Family; relation; kin; kindred.

اپنٹھ اپantha, अपन्थ, S. *n. m.* A bad road; a winding way; heresy.

اپنٹھی اپanṭhī, S. *n. m.* One who has lost his way; a heretic; *adj.* going out of the right way; heretical.

اپنشد upanished, उपनिषद्, S. *n. m.* The philosophical or theological portion of the Vedas.

اپنگ اپang, अपंग, H. *adj.* Infirm.

اپنندا اپanindā, अपनिन्दा, S. *n. f.* Reproach; blasphemy.

اپنیاں اپanyās, उपन्यास, S. *n. m.* Precept; law; prologue; tale.

اپنیاں اپanayana, उपनयन, S. *n. m.* Initiation; investiture with the sacred thread (*janeu*) of the first three classes of Hindus.

اپواد اپavāda, अपवाद, S. *n. m.* Complaint; calumny; accusation; censure.

اپوادی اپavādī, अपवादी, S. *n. m.* A complainer; a successor; a censorer.

اپوآس اپvāsā, उपवास, S. *n. m.* A fast; starving.

اپوت اپūta, अपूत, S. *adj.* Childless; *n.* undutiful child.

اپوترا اپavitra, अपवित्र, S. *adj.* Unclean; impure; profane. [defilement.

اپوترا اپavitrātā, अपवित्रता, S. *n. f.* Uncleanness;

اپوجیہ اپūjya अपूज्य, S. *adj.* That which is not worshipped or revered; unfit as a proper object of worship.

اپورن اپūran, अपूर्ण, S. *adj.* incomplete. अपूर्ण काल —kāl, *adj.* Premature; untimely. [(*janeu*).

اپوویت اپavita, उपवीत, S. *n. m.* The sacred thread

اپوید اپaveda, उपवेद, S. *n. m.* A class of Hindu writings deduced directly from the four Vedas.

اپھان اپhān, उफान, H. *n. m.* Ebullition; froth; foam; effervescence.

اپھرا اپhārā, अफरा, H. *adj.* Swollen; elated; satisfied.

اپھرا جان اپhār jānā, अफर जाना, *v.* To be overloaded; to be elated; to be satiated.

اپھراٹا اپhārātā, अफराना, H. *v.* To stuff; to gorge; to feed one so that his belly swells out; to give one (money, etc.) to the utmost extent of desire.

اپھراٹا اپhārātā, अफरना, H. *v.* To swell out; to gormandize; to be full; to be satisfied with food; to grow strong; to boast; to be puffed up with pride; to become very rich.

اپھراٹا اپhārātā, उफनना, H. *v.* To boil over; to froth; to foam; to effervesce; to make a wry face.

اپھکشا اپekhshā, अपेक्षा, S. *n. f.* Consideration; regard; reference; relation; comparison; waiting; expectation; hope.

اپیل اپil, E. *n. f.* An appeal. اپیل کرنا —karnā, to prefer an appeal. اپیل داخل کرنا —dākhil karnā, to file an appeal. اپیل منظور کرنا —manzur karnā, to allow an appeal. اپیل خاص —i-khās, a special appeal. اپیل سرسری —i-sarsarī, a summary appeal. اپیل عام —ām, a regular appeal. اپیل متخالف —mutakhālif, a cross-appeal.

اپیلانت اپilānt, E. *n. m.* An appellant. [tion.

اپیوگ اپyog, उपयोग, S. *n. m.* Service; application. اتی ati, अति, H. *adj.* Far; very; surpassing; exceeding; *prep.* beyond; excess; intemperance.

اتیروگ اتirog, अतिरोग, *n. m.* Consumption.

اتا atā, P. *n. m.* Father.

آتا átā آاتا, (imperf. part.) H. *n. m.* One who comes; a comer. آتا جانا —jātā, a way-farer.

آتے آتے átē jāte, *adv.* coming and going.

اتا ittā, इत्ता, H. *adj.* This much.

اتابک at-bak, P. *n. m.* A master; appellation given to kings or prime ministers; name of a family of the kings of Iran. اتابک اعظم —i-āzam, the prime minister.

اتار ntār उत्तर, H. *n. m.* Descent; slope; fall; decrease; a reduction in price; alms; ebb-tide.

اتار چڑھاؤ —chāḥāo, *n. m.* Fluctuation; ascending and descending; descent and ascent; ups

and downs ; the vicissitudes of life ; ebb and flow ; loss and gain ; plot. اتار دينا—denā, *v.* to disgrace ; to dishonour ; to pull down ; to bring down ; to take off. اتار جانا—jāna, *v.* to swallow ; to pulp down. اتار لینا—lenā, *v.* to take down ; to insert ; to copy.

اتارا utará, उत्तरा, *H. n. m.* A slope passing (over a river, etc.) ; a wharf ; a halting place ; remission ; an offering of flowers, sweetmeats, &c., moved a certain number of times from the head to the foot of a sick person under the belief that the evil spirit is thus transferred from the sick man to the utará ; an answer ; ransom ; self-devotion ; cast off clothes ; disgrace. اتار کرنا—karnā, *v.* to take down ; to dismount. اتارا اتارنا—utárnā, to transfer the evil spirit by means of the utará.

اتارن utáran, उत्तरन, *H. n. m.* A fragment ; cast off clothes.

اتارنا utárnā, उत्तरना, *H. v.* To cause to alight ; to bring down ; to land ; to disgrace ; to take down ; to tear off ; to cut off ; to unload (cargo, &c.) ; to dismount ; to lower ; to resent ; to enthrall ; to render vile ; to expel ; to make a recompense ; to shave ; to free from ; to take off ; to cast off ; to make away ; to uncock (a gun) ; to let down ; to lay (in a grave) ; to produce ; to distill. اتارنا کپڑے kaprē—, to undress.

اتارو utáru, उत्तरू, *H. adj.* Sloping ; prepared ; bent upon. اتارو ہونا—honā, to descend ; to be prepared ; to be engaged with a desperate resolution in any enterprise ; to be determined ; to be bent upon.

اتالیق atáliq, *P. n. m.* A private tutor ; an instructor ; a preceptor. اتالیقی atáliqī, *n. f.* private tuition ; education ; monitorship ; preceptorship.

اتان uttán, उत्تان, *H. adj.* Having the face upwards ; inverted, upside down ; supine.

اتاولا utáwla, उतावला *H. adj.* Quick ; rash ; precipitate, impatient.

اتاولی utáwli, उतावली, *H. n. f.* Hastē ; precipitation ; impatience.

اتباع itbā', *A. n. m.* Following ; obedience.

اتبال atibal, अतिबल, *S. adj.* Very strong.

اتپات utpát, उत्पात, *S. n. m.* Phenomenon ; violence ; mischief ; injustice. اتپات کرنا—karnā, to do wrong ; to do violence ; to dispute ; to contend to act violently. اتپاتی utpatī, *S. adj.* Mischievous ; destructive.

اتپاتک atipatak, अतिपातक, *S. n. m.* A very great sin ; a great crime.

اتپادک utpádaḥ, उत्पादक, *S. n. m.* Causing ; producing ; originator ; father. [duction ; rise.

اتپتی utpati, उत्पत्ति, *S. n. f.* Birth ; creation ; pro-

duced ; born ; sprung ; risen ; gone up ; *n. m.* birth ; creation ; extraction ; phenomenon ; proceeds ; produce ; profit. اتپن ہونا—honā, to be produced ; to be born ; to come into being ; to occur. اتپن کرنا—karnā, to bring forth ; to produce ; to create.

اتپھی atithī, अतिथि, *S. n. m.* A guest ; a person entitled to hospitality.

اتپھیہ atithya, अतिथ्य, *S. adj.* Attentive to a guest ; hospitable. [ship ; treaty.

اتحاد ittihād, *A. n. m.* Union ; amity ; friend-

ship. اتیدان atidān, अतिदान, *S. n. m.* Generosity ; liberality ; munificence.

اتیدرگت atiduragata, अतिदुर्गत, *S. n. f.* Great difficulty ; great dishonour. [wretched.

اتیدین atidīn, अतिदीन, *S. adj.* Very poor ; very

poor. اتور atur, आतुर, *S. adj.* Wounded ; distempered ; agitated ; afflicted ; grieved ; precipitate ; impatient ; restless.

اتر uttar, उत्तर, *S. n. m.* An answer ; a defence ; the north ; *adj.* posterior ; northern ; superior ; high. اترا ادھکار—ádhikār, *n. m.* Inheritance ; succession. اترائی—ayana, *S. n. m.*

(Astro.) Passing of the sun from the south to the north of the equator. اتر پھالگونی uttar phálgunī *n. f.* (Astro.) the twelfth mansion of the moon. اتر پرت prati—, *n. m.* retort.

اتر دینا atar denā, *v.* to reply ; to answer. اتر دینا—disa, *n. f.* the north ; northern side. اترکاری—kārī, *n. m.* one who gives reply. اتر کاندہ—kandā, *n. m.* the title of the last section of the

Ramāyan a. اتر آکھنڈ—á khand—, *n. m.* the

last section of the Ramāyan a.

the last section of the Ramāyan a.

the last section of the Ramāyan a.

closing book of the Padma Purāna and of the Siya Purāna ; Northern India.

अत्रा *atrá*, अतरा, H. *n. m.* Quotidian ; an intermittent fever and ague which returns after an interval of 24 hours. [تجاری *tijar* ; तिजारी, H. *n. f.* Tertian ague. [चौथिया *chauthia*, चौथिया, H. *n. f.* quartan.]

अत्रा *uttará*, उत्तरा, S. *adj.* Northern ; *n. m.* north wind.

अत्रा *utrá*, उतरा, H. *adj.* Came down ; aged ; dishonoured ; degraded ; decayed. [soldiers.]

अत्रक *atrak*, A. *n. m.* (*Plu. of* تری *Turk*). Turks ;

अत्राना *utraná*, उतराना, H. *v.* To cause to be taken off or pulled down ; to float.

अत्राना *itráná*, इतराना, H. *v.* To strut ; to give one's self airs ; to behave with boastfulness ; to act coquettishly.

अत्रायी *utrái*, उतराई, H. *f.* Coming down ; repayment ; ferriage ; gratefulness.

अत्रया *itráya*, इतरया, H. *adj.* Coquettish ; boasting ; conceited ; arrogant.

अत्रिप्त *atripta* अत्रुप्त, S. *adj.* Unsatisfied ; restless ; dissatisfied. [after tomorrow.]

अत्रसो *atarson* अतरसो, H. *adj.* The fourth day

अत्रिक *atritikt*, अतिरिक्त, S. *adj.* Surpassing ; in excess ; besides ; in addition to. [out clothes.]

अत्रन *utran*, उतरन, H. *n. m.* A fragment ; worn

अत्रन *utrin*, उतृण H. *adj.* Discharged ; paid up.

अत्रन होना *honá*, to be freed (from debt, etc.) ; to alight.

अत्रना *utarná*, उतरना, H. *v.* To alight ; to get down ; to lodge ; to halt ; to land ; to dismount ; to disembark ; to ebb ; to wane ; to cross ; to fall off ; to fade ; to be born ; to reach ; to decrease ; to abate ; to fall in value or dignity ; to be freed from debt ; to become insipid ; to flatter ; to be disgraced ; to grow old ; to become pale ; to grow thin ; to be pulled down ; to die ; to fall upon ; to change.

अत्रपना *parná*, v. to settle ; to alight ; to get down ; to lodge.

अत्रत चान्द *utarta chánd*, *n. m.* the waning moon.

अत्रंग *utrang*, उतरंग, *n. m.* The lintel of a door.

अत्रिसार *atisár*, अतिसार, S. *n. m.* Dysentery ; diarrhoea.

अति-*i-tisám*, A. *n. m.* A signature ; impression ; mark. [titide ; desire ; joy ; happiness.]

अत्सा *uts h*, उत्साह, S. *n. m.* Effort ; energy ; fort-

अत्स *utsaw*, उत्सव, S. *n. m.* A festival ; a jubilee ; public rejoicing ; delight ; pleasure.

अत्श *tash*, P. *v. f.* Fire ; anger ; rage ; passion ; a firebrand

अत्श-अफ्राजा *afraza*, a rocket. अत्श-अफ्रोझ *afroz* *adj.* kindling fire ; seditious ; *n. m.* fuel ; an incendiary ; fire-kindler ; mischief-maker.

अत्श-अफगन *afgan*, *adj.* throwing fire.

अत्श-अदर *andáz* *adj.* casting out fire.

अत्श-अङ्गिज *angaz* *adj.* kindling fire ; stirring up fire ; *n. m.* fire ; kindler ; firebrand ; a seditious person.

अत्श-अबार *bár* *adj.* raining fire ; fiery ; *n. m.* musket ; a tinder box.

अत्श-अबाज *báz*, *n. m.* a player of fireworks ; an exhibitor of fireworks.

अत्श-अबाजी *bazí*, *n. f.* fireworks ; pyrotechnics.

अत्श-अपाराह *párah*, *n. m.* a spark ; a very beautiful person ; a provoker of quarrels ; *adj.* quarrelsome.

अत्श-अपरास्त *parast*, *n. m.* a worshipper of fire ; a Guebre ; one of the Magi ; a follower of Zoroaster.

अत्श-अपरास्ती *parasti*, *n. f.* the worship of fire.

अत्श-अपाकार *paikar*, *n. m.* Sun ; creatures of fiery region.

अत्श-अपामा *paimá*, *n. m.* pyrometer.

अत्श-अचरक *i-charkh*, *n. m.* the redness of the sky between sunset and nightfall ; evening twilight.

अत्श-अखाना *khána* *n. m.* fireplace ; a fire temple ; a powder magazine.

अत्श-अखवार *khwár*, *n. m.* a fire-eater ; name of bird (called in Hindi *chakor*).

अत्श-अदान *dán*, *n. m.* any receptacle for fire ; a chafing dish ; a grace.

अत्श-अरेज *rez* *adj.* pouring out fire ; *n. m.* incendiary ; an exciter of quarrels ; a firebrand.

अत्श-अजबानी *zabani* *adj.* having the power of speaking in a fluent and provoking language.

अत्श-अजदगी *zadg*, *n. f.* arson ; combustion, the firing of house, etc., whether accidentally or intentionally.

अत्श-अज *zan*, *n. m.* striking fire ; a striker of fire ; touchwood ; flint and steel.

अत्श-अजनी *zani*, *n. f.* act of striking fire.

अत्श-अजस्तान *istán*, *n. f.* the region of fire, a hot fire of canon or musketry in a battle ; a funeral pile.

آتش طبع—*ataba'*, *adj.* hot-tempered; passionate; irascible. آتش نشانی—*fisháp*, *adj.* scattering fire; *n. m.* a volcano. آتش کا پرکالا—*ká parkálá*, *n. m.* a very astute and wicked person; a very beautiful person. آتشکده—*kada*, *n. m.* furnace; grate; chimney; a temple of worshippers. آتش گیر—*gir*, *n. m.* tongs. آتش گیر مادہ—*gir máddá*, a combustible matter. آتش مزاج—*mizáj* *adj.* Fiery-tempered or disposition; ill-tempered. آتش ناک—*nák*, *adj.* fiery.

آتشی *átashi*, *P. adj.* Fiery; hot; irascible. آتشی آئینہ یا شیشہ—*áina yá shisha*, *n. m.* Bohemian glass; a burning glass. آتشی عینک—*ainak*, *n. m.* a burning glass, round or oval, set in a ring. آتشیں آب—*iq áb*, *n. m.* red wine. آتشیں آبرو—*iq khoo*, *adj.* passionate; irascible.

آتشیت *ittisáf*, *A. n. m.* Description; praise; qualification. [attachment.

آتشیت *ittisál*, *A. n. m.* Conjunction; adjacency;

آتشیت *ittifáq*, *A. n. m.* Agreement; concord; coincidence; amity; alliance; harmony; unity; union; consent; similarity of disposition; chance; fortune; accident; adventure; event; opportunity; equality; probability. آتشیت بنتا—*banná*, to turn out well; to harmonize. آتشیت پڑنا—*pañná*, *v.* to occur; to come to pass; to happen. آتشیت حسنة—*i-hasana*, *n. m.* unexpected good fortune, good luck; favourable opportunity. آتشیت رائے—*râe*, unanimity; assent; concurrence. آتشیت رکھنا—*rakhná*, *v.* to live in harmony; to be in terms of intimacy. آتشیت سے—*se*, *adj.* together; conjointly; in conjunction with; by chance. آتشیت کرنا—*karná*, to unite; to agree; to conspire; to form a friendship. آتشیت ہونا—*honá*, to be agreed; to harmonize; to grow intimate; to happen. آتشیتاً—*an*, *adv.* accidentally; by chance; occasionally.

آتشیت *ittifáqat*, *n. m.* (Plu. of *Ittifáq*)

Accidents; occurrences; events. آتشیت حسنة—*i-hasana*, *n. m.* unexpected good fortunes; agreeable accidents. [tuitous; agreeing

آتشیت *ittifáqi*, *A. adj.* Incidental; casual; fortuitous.

آتشیت *ittiqá*, *A. n. m.* Shunning; abstaining from evil; piety.

آتشیت *ittiqáf*, *A. n. m.* Restraining one's senses; abstaining; fasting (as in the month of Ramazán).

آتشیت *atqiya*, *A. adj.* (Plu. of *Atqi*) Pious; devout; righteous; virtuous; *n. m.* religious men; devotees.

آتشیت *atka*, *T. n. m.* The husband of a nurse.

آتشیت *atul*, *S. adj.* Unweighed; incalculable; unparalleled. [loss.

آتشیت *itláf*, *A. n. m.* Destruction; ruin; decay;

آتشیت *atamm*, *A. adj.* More or most, perfect or complete.

آتشیت *uttam*, *उत्तम*, *S. adj.* Highest; most; excellent; best; first; chief; virtuous. آتشیت پوروش—*purusha*, *n. m.* an excellent man; (*Gram.*) the first person.

آتشیت *átma* आत्मा, *S. n. m.* Spirit; soul; mind;

the reasoning faculty; the understanding; appetite; belly. آتشیت پرماتما—*param*, *n. m.* the Supreme Spirit. آتشیت ہونا—*handí-*

honá v. to be gratified. آتشیت ستانا—*satána*, *v.*

to mortify the body; to vex; to torment.

آتشیت *átam pálak*, self-cherishing; self-supporting person. آتشیت *átam ghát*, *n. f.*

self-murder; suicide. آتشیت *átam gyán*, *n. m.* self-knowledge. آتشیت نامی—*átam námi*, *n. m.* self-evident. [accomplishment.

آتشیت *itmám*, *A. n. m.* Perfection; completion;

آتشیت *atmíd*, *P. n. f.* The plough-share.

آتشیت *itná*, *इतना*, *H. adj.* As much as this; so much; so many. آتشیت *itne men*, *adv.*

meanwhile; meantime; upon this.

آتشیت *utná*, *उतना*, *H. adj.* As much as that; so many. آتشیت *itnái*—*hi*; *adj.* exactly that much.

آتشیت *utne*, *adv.* as many as that; so many.

آتشیت *uttú*, *उतू*, *H. n. m.* Plaiting; puckering;

plaits of cloth; marking. آتشیت *banána*, *v.*

to streak; to mark. آتشیت *már kar*—*banána*, to beat one to a mummy. آتشیت *karná*, *v.*

to plait; to crop; to mark; to make a fool of one; to vilify; to stupefy.

آتشیت *kash*, *n. m.* one who makes ornamental folds in cloth. آتشیت *honá*, *v.* to become silly; to be disgraced.

آتشیت *atú*, *A. n. f.* A female teacher or governess; school-mistress.

اتوار itwár, इतवार, H. n. m. Sunday. [history.
 ایتھاس ithás, इतिहास, S. n. m. Story; annals;
 ایتھام ittihám, A n. m. Suspicion; imputation;
 censure; accusation. ایتھام بیجا bej, a false
 accusation. [bottomless; unfathomable.
 ایتھلا athah, अथाह, S. adj. Deep; unfordable;
 ایتھاروان atharuan, अथर्वन, S. n. m. Name of the
 fourth Veda. [fatigue.
 अथक athak, अथक, H. adj. Untired; insensible of
 अथल athal, अथल, H. adj. Unsteady. n. m. Land
 farmed or rented.
 अथला athlá, अथला, H. adj. Shallow; low; shelving;
 unable to keep a secret.
 अथलाना athláná, अथलाना, H. v. To overset; to turn
 topsyturvy; to disarrange.
 अथलपथल athal puthal, अथल पुथल, H. adj. Upset;
 overset; topsy-turvy. अथल पथल होना - honá, to
 become topsy-turvy; to be disordered.
 अथलना athalná, अथलना, H. v. To turn topsy-turvy;
 to upset; to turn over. अथलना पथलना—puthalná, v.
 to turn over; to overset. [the finis; the end.
 ایتی ití, इति, S. A partiele signifying this much;
 ایت्यादी ityádi, इत्यादि, S. n. m. Etcetera.
 अतिस atis, अतीस, H. n. m. (Med.) A root used in
 medicine; *Aconitum*.
 अत्यान्ता atyanta, अत्यन्त, S. adj. Very much; ex-
 cessive.
 अठा aṭá, अठा, H. n. m. Upper room; balcony.
 अठाई aṭá, आटा, H. n. m. Flour; meal. अठाई करना—
 karná, v. to reduce to powder. अठाई होना—
 gilá honá, flour having too much water to be
 formed into dough; to get into trouble; to
 be despondent. अठाई में नून aṭe men nún,
 not much; very little. अठाई के साथे गहूँ में बिसे
 गाय, aṭe ke sáth ghun bhí pis gayá, with
 the flour was ground up the (*ghun*) weevil;
 a man is judged of by the company he keeps.
 अठारी aṭári, अठारी, H. n. m. A thatched upper
 room; a balcony; terrace.
 अठाल aṭál, अठाल, n. f. A heap; a mass; a rock.
 अठाला aṭálá, अठाला, H. n. m. Stock; heap; com-
 modities; provisions; goods; furniture; chat-
 tels; lumber. अठाला करना—karná, to heap; to
 mass, अठाला लाना—ládná, to overload.

अठाना aṭáná, अठाना, H. v. To fill (into); to join
 (to); to fix into; to fit.
 अठपटाना aṭpaṭáná, अठपटाना, H. v. To waver; to
 linger; to talk nonsense. अठपट होना aṭpaṭ holná,
 v. to speak incoherently; to talk nonsense.
 अठपटांग aṭpaṭáng, अठपटांग, H. adj. Wicked;
 wretched; disorderly.
 अठपटांगी aṭpaṭángi, अठपटांगी, H. n. f. Wicked-
 ness; wretchedness; absurdity.
 अठक aṭak, अठक, H. n. f. Prevention; obstruction;
 obstacle; restraint; entanglement; dalliance.
 अठक मक—maṭak, n. f. coquetry; fond of
 tricks and gestures; casting love-glances.
 अठका aṭká, अठका, H. n. m. The pot in which
 victuals are dressed for the public at the
 door of the holy temple of Jagannath; *adj.*
 struck; hindered; detained.
 अठकाना aṭkáná, अठकाना, H. v. To stop; to hinder;
 to impede; to restrain.
 अठकाव aṭkáv, अठकाव, H. n. m. Stop; hindrance;
 detention; restraint.
 अठकरलैस aṭakkarlais, अठकरलैस, H. adj. precipitate;
 absurd; uncertain; vide of the mark.
 अठकल aṭkal, अठकल, H. n. f. Guess; conjecture;
 supposition; rough computation of estimate;
 opinion; quantity. अठकल बर—báz, *adj.* good
 guesser; an appraiser. अठकल पचर—pachchú,
 n. m. one who guesses at a venture; a wild
 guess; random guess; mere conjecture; *adj.*
 uncertain. अठकल से—se, *adj.* approximately; by
 conjecture.
 अठकलना aṭkálná, अठकलना, H. v. To guess; to
 judge; to value; to make rough estimate.
 अठकना aṭakní, अठकना, H. v. To be kept back; to
 be stopped; to be dependant on; to hesitate;
 to stick; to rest; to falter; to be entangled;
 to fall in love with; to be unable to read
 fluently. [hop.
 अठकना aṭakná, अठकना, H. v. To jump; to skip; to
 अठल aṭal, अठल, H. adj. Immovable; permanent;
 stationary; an epithet of the Deity; deter-
 mined.
 अठम aṭam, अठम, H. n. m. A heap; a pile.
 अठना aṭná, अठना, H. v. To be contained; to be
 full; to go into.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ utangan, उटंगन, H. *n. m.* A species of nettle or astringent plant, the seed of which is used by Indians as an aphrodisiac; the name of a river near Gwalior. [shaped.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ utangi, उटंगी, H. *n. m.* Shrivelled; badly

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ atwāt, खाटवाट, H. *n. f.*

The state of a person who takes to his bed in grief or trouble or feigning illness. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ atwāfi khatwāfi lena, to be confined to bed in great trouble or affliction.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ atūt, अटूट, H. *adj.* Not liable to be broken; indestructible.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āth, आठ, H. *adj.* Eight. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ātharah tīn terah, scattered; *adj.* dis-

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ātharah tīn terah, scattered; *adj.* dis-

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āth ānsū ronā, to shed a flood of tears; to weep bitterly.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āth ānsū rol nā, *v.* to cause to weep bitterly.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ pahar, all the twenty-four hours; day and night; constantly.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthon gānth kummait, a horse marked with a black bay upon eight places, viz., the legs up to the knees, the ears, mane, and tail; a clever fellow.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ konī, *adj.* octangular.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ khambā, *n. m.* a canopy supported by eight pillars.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āhmāsā āth wāpsā, *adj.* a child born after 8 months; *n.* lands continually ploughed for eight months for sugarcane.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ māshī, a weight of eight māshās.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthā, *n. m.* the eight of a pack of cards.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthwāra, *n.* a period of eight days; a week.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthā baithī, उठावैठी, H. *n. f.* Fre-

quently rising up and sitting down; fidgetiness; a kind of exercise among athletes; a mode of punishment in Indian schools to sit and rise alternately holding both ears the while.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthāra, अठार, H. *adj.* Eighteen.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ bahār, of different sort or kinds.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ goṭī, a game played with eighteen small pieces of stone.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthāsī, अठासी, H. *adj.* Eighty-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthālis, अठालीस, H. *adj.* Forty-

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ artālis, अड़तालीस, } eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthattar, अठहत्तर, H. *adj.* Seventy-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthtis, अठतीस, } H. *adj.* Thirty-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ artīs, अड़तीस, }

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhān, उठान, H. *n. f.* Rise; ascent; ascension; altitude; elevation; top; size; growth; high flight; sexual desire, puberty.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhānī, उठाना, H. *v.* To lift; to take up; to hoist; to erect; to take an oath on; to take away; to pack up; to produce; to invent; to awaken; to excite; to bear, to carry; to gain (profit); to suffer; to remove; to expend; to nullify; to abolish; to efface; to put aside; to steal; to eject; to breed.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhā denā, to raise up; to exterminate; to erase; abolish; to do away with.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhā rakhnā, to assume (responsibility); to take upon one's self; to spare; to put by.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhā lenā, to take up; to pick up; to clear; to undertake.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhā lejānā, to take away; to kidnap; to abduct; to walk off with.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthānwe, अठानवे, H. *adj.* Ninety-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhāu, उठाऊ, H. *adj.* Extravagant; *n. m.* a spendthrift.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthāwan, अठानव, H. *adj.* Fifty-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhāona, उठावना, H. *n. m.* Something put up to be presented to some god or goddess.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭhāonī, उठावनी, H. *n. f.* A ceremony performed among Hindus on the third or fourth day after a person's death. (Hindu tija, Moh. *phūl*).

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthāis, अठाईस, H. *adj.* Twenty-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭh i girā, उठाईगौरा, H. *n. m.* A pilferer; a petty thief.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭh baith, उठवैठ, H. *n. f.* Rising up and sitting down; restlessness; agitation; fidgetiness; a kind of exercise.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthānā, to be frequently rising and sitting down from restlessness; to exercise.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ uṭh baithnā, to get up; to wake up; to get well; to revive.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ jānī, to come to an end; to be abolished; to die; to disappear; to go away.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ chalnā, *v.* to depart.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ kharā honā, to rise up unexpectedly; to recover.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthālis, अठालीस, } H. *adj.* Forty-

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ artālis, अड़तालीस, } eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthattar, अठहत्तर, H. *adj.* Seventy-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ āthtis, अठतीस, } H. *adj.* Thirty-eight.

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ artīs, अड़तीस, }

अष्टसठ aṭhsaṭ, अठसठ, } H. *adj.* Sixty-eight.
 अष्टसठ arsaṭh, अडसठ, }

उठते बैठते uthte baiṭhte, उठते बैठते, H. *adj.*
 Easily; by degrees; leisurely; slowly;
 quickly; sitting and getting up; walking and
 resting alternately; by fits and starts; every
 moment.

उठती uṭhti उठती, H. *adj.* Ascending; budding;
 flourishing; languishing; fading. अठती ज़रानि
 —jawāni, bloom of youth.

इठलाना, अठलाना, H. *v.* To
 walk effectedly or coquettishly; to stutter; to
 lisp; to express tenderness or kindness by
 gesture; to give a pert answer; to effect
 ignorance.

उठल्लु uṭhallu, उठल्लु, H. *n. m.* One who has no
 fixed dwelling place; a person not to be
 depended upon.

उठना uṭhnā, उठना, H. To get up; to rise up; to
 stand; to grow; to recover; to work; to
 ferment (as leaven); to be abolished; to fly; to
 spring; to be closed (as a shop or business);
 to proceed; to leave; to be nullified; to be
 expended; to come on; to begin (pain or
 disease); to be ready; to be brought up; to
 let; to suffer. [N. B.—Uṭhnā is frequently
 used in composition with another verb, to
 intensify the signification of the letter or to
 denote the hastiness, impulsiveness or sud-
 denness of the act expressed by this verb, as,
 बाउ उठना, to exclaim; चिल्ला उठना, to cry
 out; काँप उठना, to fall into a tremor.]
 अठना—baiṭhnā, *n. m.* manners; etiquette; *v.*
 to be frequently getting up and sitting down;
 to visit; to associate.

उठगन uṭhagan, उठगन, } H. *n. m.* A prop; sup-
 port; the thing used
 अठगन uṭghan, उठगन, }

अठवारा aṭhwārā, अठवारा, H. *n. m.* A period of
 eight days; a week.

उठवाना uṭhwānā, उठवाना, H. *v.* To cause to be
 lifted; to cause to be removed or abolished.

अठतरसु aṭhotar sau, *adj.* One hundred and
 eight.

अटी aṭī, अटी, अटिया, अटिया, *āti*, अटी,
 H. *n. f.* A bundle of thread; a plait; a sheaf.

अठरन aṭeran, अठरन, H. *n. m.* A reel; a skein of
 thread; the circle in which a horse is trained
 अठरन कर दिना—kar denā, to reduce one to a
 skeleton.

अठरना aṭerānā, अठरना, H. *v.* To make up thread
 into skeins; to reel; to lounge a horse (*kaḍā
 denā*).

अस'स'उल'बैत as'is-ul-bait, } A *n. m.* House-
 hold furniture,
 आसा asāsa, } property, wealth, slaves, cattle goods, (*māl
 māṭā*).

आसर āsar, A. *n. m.* (*Plu. of* आसर *Asar*). The
 Arabicised form of *सर ser*; a weight of 2
 pounds; symptoms; signs; tokens; traces;
 footprints; vestiges; effects; relics; impres-
 sions; basis; the breadth of a well; the
 traditions of Mohammad. आसर शरिफ—sharīf,
 sacred relics of Mohammad.

आसम āsam, A. *n. m.* (*Plu. of* आसम *Asam*) Sins;
 crimes.

आसबāt āsbat, A. *n. m.* Recognition; proof; con-
 firmation; affirmation; ascertainment; verifica-
 tion; establishing. आसबāt ज़रम—i-jurm, convic-
 tion. आसबāt हाक़ीत—i-haqīyat, proof of right.

आसर āsar, A. *n. m.* A mark; sign; trace; token;
 impression; effect; influence; operation;
 issue; consequence; (*Chem.*) action.

आसर होना—pizir honā, to take effect; to be effica-
 cious. आसर करना karnā, to operate; to affect;
 to touch. आसर क़ानून—i-qānūn, effect of law.
 आसर होना—hona, to have effect; to be influenced

आसक़āl āsqal, A. *adj.* Heaviest; very heavy

आसमर āsmār, A. *n. m.* (*Plu. of* आसमर *Samar*) Fruits.

आसिम āsim, A. *adj.* Sinful; sinner.

आसना āsnā, A. *n. m.* The middle; interim; mean-
 time. आसना हाल—i-hāl, in the midst of a cer-
 tain state or condition.

आसना राह में—i-rah men, *adv.* on the road; whilst travelling.

आसना में—men, meanwhile; upon this; in the
 interval; in the interim.

आसर āsar, A. *adj.* Marked; chosen.

आज āj, आज, H. *adj.* To-day; this day. आज तक—
 tak, *adv.* till now; to this day. आज फ़ज्र—fajr, *adv.*

this morning. आज कल—kal, *adv.* now-a-days;
 to-day or to-morrow; soon; in a day or two;

recently ; of late. آج تک کرنا —kal karná, *v.* to procrastinate ; to evade ; to delay ; to shilly shally. آج کے دن —ke din, *adj.* to day. آج کی رات —ki rá, to night.

اجا ajá, *अजा*, *H. n. m.* A paternal grandfather.

اجبات ijabat, *A. n. f.* Answering ; consent ; compliance ; grant ; acceptance, motion ; stool.

اجات aját, *अजात*, (colloq), *H. adj.* Expelled from caste ; excommunicated. [out of caste.

اجاتی ajátí, *अजाती*, *H. n. m.* A man who is put

اجاج ajaj, *A. n.* Salt water ; water bitter in taste.

اجارة ijára, *A. n. m.* Hire ; a farm ; a lease ; a monopoly. اجارة کا پتہ —ká patta, a deed of lease or farm ; agreement ; title-deed. اجارة دار

dár, a lease-holder ; tenant ; a farmer of land ; the holder of a monopoly ; sole master.

اجارة داری d'iri, farming. اجارة دینا —dená, to farm ; to lease. اجارة کرنا —karná, to engage ; to be accountable for. اجارة نامہ —náma, a deed of lease.

اجار ujár, *उजार*, *H. adj.* Ruined ; demolished ; deserted ; waste ; depopulated ; desolate. *n. m.* desert ; devastation ; havoc ; ruin ; wilderness.

اجاز صورت —Surat, *adj.* Ugly ; deformed. اجاز منہ —munh, *adj.* Ill-omened countenance.

اجارنا ujárná, *उजारना*, *H. v.* To uproot ; to pull down ; to lay waste ; to injure ; to plunder ; to ravage ; to depopulate ; to ruin.

اجارو ujáru, *उजारू*, *H. adj.* Squandering ; plundering ; *n. m.* a waster ; a spendthrift ; prodigal.

اجازت ijázat, *A. n. f.* Permission ; leave ; sanction ; licence ; passport. اجازت تہنیت —i-tabniyat, an authority to adopt a son. اجازت چاہنا ch·hná, *v.* to ask leave. اجازت خروا —khwáh, an applicant ; a petitioner ; one asking permission. اجازت دینا —dená, *v.* to permit ; to allow ; to authorize ; to empower. اجازت ملنا —milná, *v.* to get permission. اجازت نامہ —náma, *n. m.* a deed of permission ; licence. اجازت نامہ واپس لینا —náma wapas lená, *v.* to withdraw a licence.

اجاگر *उजागर*, ujágar, *H. adj.* Bright ; luminous ; splendid ; famous ; celebrated ; conspicuous ; manifest. اجاگر جگت jagat—, *n. m.* the sun.

اجالا uj·lá, *उजाला*, *H. n. m.* Sunshine ; day-break ; light ; dawn ; pride. اجالا ہونا —honá, *v.* to dawn ; to be lighted. اجالے کا تارا —tára, *n. m.* Venus. [polish ; to light ; to brighten.

اجالنا ujálná, *उजालना*, *H. v.* To cleanse ; to wash. اجان aján, *अजान*, *adj.* Ignorant ; innocent ; careless ; simpleton.

اجانا ajáná, *अजाना*, (colloq.), *H. v.* To come suddenly ; to happen to come.

اجبار ijbar, *A. n. m.* Compulsion ; constraint ; force. [tains.

اجبال ajbál, *A. n. m.* (*Plu. of جبج Jabal*) Moun-

اجتبا ijtibá, *A. n. m.* Selecting ; choosing.

اجتماع ijtamá, *A. n. m.* Act of gathering together ; agreeing together ; assemblage ; afflux ; (*Astro.*) conjunction : combining. اجتماع کرنا —karná, *v.* to gather together ; to combine ; league.

اجتناب ijtináb, *A. n. m.* Keeping aloof ; shunning ; abstinence ; temperance ; self-mortification ; austerity ; avoiding.

اجتہاد ijtihá, *A. n. m.* (*Plu. of جہد Jihad*) Exertion ; earnest effort ; carrying on war against the infidels. [tors ; forefathers.

اجداد ajdád, *A. n. m.* (*Plu. of جد Jada*) Ance-

اجداد ujadá, *उजडू*, *H. adj.* Idiotic ; ignorant ; inconsiderate ; rude ; vulgar ; unmannerly ; clownish ; uncivilised ; *n. m.* an idiot ; an ill-mannered fellow ; an arrant blockhead ; a lout.

اجر ajr, *A. n. m.* Remuneration ; compensation ; retribution ; hire ; reward (for good or bad action) ; fare ; fee. اجر جائز —i-jáiz, *n.* a legal remuneration. اجر دینا dená, *v.* to remunerate ; to recompense

اجر ajar *अजर*, *S. adj.* Undecayable ; imperishable ; immovable ; ever young ; an epithet of God. اجر امر —amar, *अमर*, *adj.* exempt from both decrepitude and death.

اجرا ijrá, *A. n. m.* Performance ; issue ; execution ; causing to circulate ; putting in force. اجرا کرنا —karná, *v.* to issue ; to set on foot.

اجراء دگرى—i-digri, the execution of a decree.
اجراء اكميشن—i-kamishan, the issue of a commission.

اجرام ajram, A. n. m. (Plu. of اجرام Jirm). Bodies.
اجرام فلكى—falki, Heavenly bodies.

اجرت ujrat, A. n. f. Reward; wages; remuneration; fare; fee.

اجزا ujra, اجزا, H. adj. Desolate; ruined. n. f. a prodigal; ruiner.

اجزا پورا ujra puja, اجزا پورا, H. adj. In ruins; desolate.

اجزا ujarana, اجزا, H. v. To become desolate; to be demolished; to be ravaged or plundered; to be deprived of inhabitants; to be spent; to die; to be violated.

اجزا ujarwana, اجزا, H. v. To cause to be laid waste by the hands of another person.

اجزا ajza, A. n. m. (Plu. of اجزا Juzo). Parts; portions; members; ingredients; (Chem.) constituents; elements.

اجساد ajsad, A. n. m. (Plu. of اجساد Jasad). Bodies.

اجسام ajsam, A. n. m. (Plu. of اجسام Jism). Bodies اجسام و اجساد—o-ajsad, bodies and substances.

اجگر agar, اجگر, H. n. m. The boa constrictor; a dragon; a python. (P. اژدها Azhdaha) adj. bulky; unwieldy.

اجل ajal, A. n. f. The term of life; a stated time; fate; destiny; hour of death. اجل رسیده—rasida, overtaken by fate; doomed; on the point of death. اجل گرفته—girafat, seized by fate; in the jaws of death.

اجل ajall, A. adj. More or most glorious.

اجل ujjal, } H. adj. Clear; luminous; radiant; splendid; white; pure; lovely; clear. اجل آدمى—admi, n. m. a man putting on clean white clothes; a guileless man; a respectable man. اجلا پن—pan, whiteness; lustre; intelligence. اجلا کپرا—kapra, clean, white clothes; descent dress. اجلا منہمہ—munham, v. to exculpate; to clear one's reputation. اجلا منہمہ ہونا—munham hona,

to have one's reputation re-established; to be discharged. اجلا ہونا—hona, to be polished; to become clean. اجلاى طبيعت کا ujli tabi'at ka, adj. of radiant mind; clear-minded.

اجلا پن ujla-pan, H. n. m. Brightness; whiteness; clearness. اجلا گذران—guzran, one able to afford clean or white clothes; high life.

اجلاس ijlas, A. n. m. The sitting of a court of justice; a court. اجلاس فرما—farmá, presiding. اجلاس كامل—i-kamil, a full bench. اجلاس كرنا—karná, to preside; to sit in court. اجلاس ميں—men, in the court of; اجلاس برسرس bar-sar-i-ijlas, before the court. اجلاس واحد—i-wahid, a single judge; single bench.

اجلاف ajlaf, A. n. m. (Plu. of اجلاف Jalaf). The rude; the vulgar; lower orders; ignoble people; the dregs of the people.

اجلال ijlal, A. n. m. Magnificence; honour; glory; exaltation.

اجلانا ujlaná, H. v. To cause to cleanse; to polish.

اجلات ujjalit اجلات, S. adj. Bright; pure; clean; clear.

اجلا ajilla, A. n. m. (Plu. of اجلا Jalil), Great men; illustriousmen.

اجماع ijma', A. n. m. An assembly; senate; council; a crowd; amount; collection. اجماع—i-ummat, n. m. general assembly of the followers of a prophet.

اجمال ijmal, A. n. m. Reckoning up; recapitulation; an abstract; epitome; synopsis; joint occupancy or possession. اجمالى—i-ajmali, adj. brief; abridged; held in common (as an estate); joint. اجمالى مهال—i-muhál, an undivided estate. خاندان اجمالى—khándán-i-ijmáli, a joint family.

اجمال ajmal, A. adj. More or most beautiful; perfect.

اجمعون ajm'ain, A. (Plu. of اجمعون Ajma'). The whole; all together.

اجن ajin अभिन, S. n. m. The hide of an antelope or a tiger used as a seat by religious students.

اجناس ajnās, A. n. f. (Plu. of جنس Jins). Kinds; species; goods; chattles; commodities.

اجنب ajnab, } A. adj. Foreign; new; n. m. a
 اجنبی ajnabi, } foreigner; an alien; a stranger.

اجنت ajant, E. n. m. An agent.

اجنتی ajanṭi, E. n. f. Agency; the residency.

اجنما ajanmā अजन्मा, S. adj. Unborn.

اجرانā ajawānā, अजवाना, H. v. To cause one to pour water, etc., from one vessel into another.

اجراین ajwāyan, अजवाइन, H. n. f. The seed of a plant of the dill kind; a species of aniseed having the flavour of caraways. —
 اجراینی — خراسانی khurasāni अजवाइन-खुरासानी, n. f. black
 henbane seed.

اجوت ajot, अजोत, H. adj. Untilled, waste (land).
 dim; without lustre.

اجوٹہ ajúṭhā, अजूठा, H. adj. Untouched;
 untasted (food).

اجورā ajāra, A. n. m. Rent; wages; fare;
 reward; remuneration; fee. —
 اجورے دار — dār, n. m. a labourer for hire.

اجوری ajauri अजौरी, H. n. f. Advances to agri-
 cultural labourers.

اجور ajor अजोड़, H. adj. Not connected; not in
 keeping; incongruous; ill-matched; inhar-
 monious; unsymmetrical; peerless.

اجھکना ajhahnā, उभकना, H. v. To peep; to spy.

اجھل ajhal, A. adj. Very ignorant; n. m. a
 blockhead.

اجھلना ajhahnā, उभलना, H. v. To pour quickly
 from one vessel into another; flow from one
 vessel into another.

अजहल ajhul अजहल, H. adj. Of steady gait; not
 shaking or swinging.

अजी aji, अजी, H. int. (An interjection used to
 call attention or to express surprise). Hallo;
 Sir; I say; Good Sir; Madam.

अजी aji, अजी, H. n. f. A grandmother.

अजित ajit, H. adj. Unsubdued; unsurpassed;
 impregnable. —
 अजित वरुण — verna, n. m. leprosy
 of a bad kind. [Adjutant.]

अजितान ajitan, अजीटन, H. n. m. (Corr. of the Eng.)

अजिद ajyad, A. adj. Excellent; better; best.

अजिर ajir, A. n. m. A slave; hireling.

अजिरान ajiran, अजीरण, H. adj. Indigestible; injuri-
 ous; sick of; vexatious; wearisome; incur-
 able; chronic; too much; hardy; burden-
 some; oppressive; n. m. indigestion. —
 अजिराना — honā, v. to be surfeited; to grow in
 abundance.

अजिरा ajiva, अजीव, H. adj. Lifeless.

अजिविका ajvikā अजीविका, S. n. f. Means of liveli-
 hood; subsistence.

अजिउच्च uchcha उच्च, S. adj. High; lofty; superior;
 ascendant. —
 अजिउच्च की किराह — ki girah, (Astro.)
 propitious star; good luck.

अजिउचाट uchāt, उचाट, H. adj. Banished; disgusted
 with; dissatisfied; estranged; offended;
 tired; downcast; sad; dull. —
 अजिउचाट के खाना — khānā, to be estranged; to be disgusted.
 —
 अजिउचाट होना — honā, to be alienated; to grow
 weary; to be disgusted.

अजिउचानना uchānā उचानना, H. v. To separate; to
 discourage; to dissuade (from); to weary.

अजिअचार achār आचार, S. n. m. Behaviour; conduct;
 usage; practice; established law; religious
 observance; indispensable rites or ceremo-
 nies. —
 अजिअचार वरजित — varjit, आचार वरजित, adj.
 irregular; out of caste; n. an outcast.

अजिअचार achār आचार, P. H. n. m. Pickles. —
 अजिअचार दालना — dālnā v. to pickle; to preserve.

अजिअचारज achāraj आचार्य, H. n. m. A spiritual
 guide or instructor; a learned pandit; a
 priest.

अजिअचारण uchchārana उचारण, S. n. m. Pronuncia-
 tion; utterance; accent. —
 अजिअचारण करना — karnā, v. to pronounce; to utter; to speak.

अजिअचारी achāri आचारी, S. adj. Observing estab-
 lished rites and ceremonies; pious; devout;
 n. m. one who strictly follows established
 rites and practices; a pious man; a devotee.

اچاريا charyá آचार्या, } S. n. f. The
اچاريائي ch'ryáni, آचार्याڻي, } wife of a spiri-
tual guide or teacher ; a spiritual preceptress.

اچارو ach'rya آचारو, S. n. m. A spiritual guide
or teacher ; an instructor in matters of reli-
gion ; a priest ; a learned man ; a founder.

اچان uchān, اچان, H. n. f. Height.

اچانڻا achānā, اچانڻا, H. v. To rinse the mouth after
eating ; to gargle ; to drink.

اچانچڪ achānchak اچانچڪ, } H. adj. Sudden-
اچانڪ achānak, اچانڪ, } ly ; unawares ;
by chance ; unknowingly ; all of a sudden ;
all at once.

اچاڻو uchwāw, اچاڻو, H. n. m. Talking in one's
sleep ; dreaming uneasily ; nightmare.

اچت uchit اچت, H. adj. Proper ; becoming ;
fit ; suitable ; befitting ; right ; necessary.

اچتائڻا uch'tānā اچتائڻا, H. v. t. To separate ;
to divide ; to cause to rebound ; to turn one's
mind from ; to divert ; to depress ; to dis-
hearten.

اچائڻا uchānā اچائڻا, H. v. To divide ; to be
separated (as plaster from a wall) ; to leap ;
to slip away ; to rebound as a sword striking
a hard body obliquely ; to be disheartened ;
to be offended (with) ; to be displeased ; to
be sick of.

اچار achar اچار, S. adj. Immovable ; inanimate.

اچارو achrā اچارو, H. n. m. (colloq.) The border
of a woman's sheet or garment.

اچراج achraj اچراج, H. n. m. Admiration ;
marvel ; miracle ; bewilderment ; adj. astoni-
shing ; wonderful ; marvellous ; uncommon.

اچڙڙ -ānā, اچڙڙ, v. to be lost in wonder ; to
be astounded. اچڙڙ ڪرڻا - karnā, v. to work
wonders ; to be astonishing ; to perform a
miracle.

اچران écharan اچران, S. n. m. Manner of life ;
behaviour ; custom ; established law ; reli-
gious observance ; rituals.

اچرڻا uchānā اچرڻا, H. v. (colloq.) To come off
(as the skin from the flesh, etc.) ; to be spoken
or pronounced ; to be uttered ; to be read.

اچرڻا uchcharnā اچرڻا, H. v. To be pronounced
or uttered ; to be spoken ; to be expressed.

اچرنگ uchrang اچرنگ, H. n. m. A moth
(patanga).

اچڪا uchakka اچڪا, H. n. m. A thief ; pick-
pocket ; a swindle. اچڪا ڀڄڻ -pan, n. m.
thief ; pilfering ; fraud ; knavery ; swindling.

اچڪاڻا uchkānā اچڪاڻا, H. v. To lift or raise
up ; to shrug (the shoulders).

اچڪش achakshu اچڪش, S. adj. Blind ; n. m.
spectacles.

اچڪڻا jachkan اچڪڻا, H. n. m. A long coat
having buttons in front.

اچڪڻو a-chikkan اچڪڻو, S. adj. Rough ; un-
polished.

اچڪڻو uchkan اچڪڻو, A. n. m. A prop ; a support.

اچڪڻو uchaknā اچڪڻو, H. v. To stand on tip-
toe ; to pounce upon ; to rise ; to spring up ;
to slip out (of) ; to reach.

اچڪي uchakki اچڪي, H. n. f. A female thief or
pick-pocket.

اچل achal اچل, S. adj. Immovable ; motion-
less ; stagnant ; stationary ; n. m. a moun-
tain ; an aged person.

اچمبھو achambhā اچمبھو, H. n. m. Wonderful
thing ; prodigy ; marvel ; astonishment ; adj.
wonderful ; prodigious ; strange, uncommon.

اچمبھو ڪرڻا -karnā, v. to wonder. اچمبھو ٿيڻا
-honā, v. to be astounded.

اچمبھو ماڻڻا -mānā, v. to regard as marvellous. اچمبھو ڪا
-achambhe kī, adj. astonishing ; marvel-
lous.

اچمبھو مڃڻا -mēn ānā, v. to be lost in amazement ; to be perplexed ;
to be bewildered.

اچمن achman اچمن, S. n. m. The act of sip-
ping a little water from the palm of the
hand by way of purification before meals, or
religious ceremonies.

اچمن ڪرڻا -karnā, v. to rinse the mouth ; to gargle. [attentive.

اچنت achint اچنت, S. adj. Thoughtless ; in-

اچنتائڻا achintāi اچنتائڻا, H. n. f. Thoughtless-
ness ; carelessness ; negligence ; inconsider-
ateness.

اچھل achanchal अचंचल, S. *adj.* Fixed ; steady ; firm ; inactive. [of feeling.

اچھنگ uchangg उचंग, H. *n. f.* A sudden impulse
اچھوڙو achúk अचूक, H. *adj.* Unerring ; sure ; certain ; unfailing ; infallible ; *n. m.* an infallible marksman ; a good shot.

اچھھيا achchhá अच्छھا, H. *adj.* Good ; excellent ; sound ; pleasing ; agreeable ; appropriate ; serviceable ; righteous ; healthy ; pure ; correct ; genuine ; lucky ; happy ; cheap ; productive (soil) ; lovely ; delicious ; wholesome ; noble ; virtuous ; precious ; benevolent ; useful ; clever (workman) ; *adj.* well ; exactly ; very good ; no matter ; yes ; nicely ; seasonably ; granted ; admirably ; thoroughly ; very true ; *int.* very well ! bravo ! well done ! fine ! all right. اچھھيا اچھھيا achchhá-bichchhá, thorough ; perfect. اچھھيا اچھھيا achchhá bartáo, good behaviour. اچھھيا اچھھيا—karná, *v.* to cure ; to recover ; to be right ; to do good. اچھھيا اچھھيا—kahná, to say yes ; to call good ; to speak well of. اچھھيا اچھھيا—lagná, *v.* to be fit ; to be pleasing ; to be agreeable ; to appear well ; to enjoy ; to relish ; to benefit ; to afford pleasure. اچھھيا اچھھيا—honá, *v.* to recover ; to be cured ; to be in sound health. اچھھيا اچھھيا—shagún, a good omen ; اچھھيا اچھھيا—lagán, a lucky or propitious moment ; اچھھيا اچھھيا—mahúrat, a favourable conjunction of the planets.

اچھھيا اچھھيا achchhi tarah se, *adv.* carefully ; duly ; suitably ; thoroughly ; fully ; plentifully, satisfactorily ; well. اچھھيا اچھھيا achchhi kahí, *int.* well said ! what next ! اچھھيا—achehhe, *n. m. pl.* the goods ; betters ; patrons ; ancestors ; forefathers ; rich men ; men of birth, position or literary merit, etc. اچھھيا اچھھيا achchhe din, better days. اچھھيا اچھھيا achchhe se—, *adj.* the best of all.

اچھھيا ichchhá, अच्छھا, S. *n. f.* Wish ; desire ; inclination ; appetite ; aim ; ambition. اچھھيا اچھھيا—bhojan, *n. m.* desired or longed for food ; choice food. اچھھيا اچھھيا—chári, *n.* one who acts according to his own will. اچھھيا اچھھيا

يا كرنيا—rakhná ya karna *v.* to wish ; to desire ; to crave ; to ask ; to intend. اچھھيا اچھھيا—lagná, *v.* to long ; to crave. اچھھيا اچھھيا—márna, *v.* to subdue appetite, etc. ; to practise self-denial.

اچھھيا uchhál, उछाल, H. *n. f.* Throwing up ; tossing up.

اچھھيا uchhálná, H. *v.* To throw up ; to toss up ; to pitch ; to fling up (a child) ; to vomit.

اچھھيا achchhat, अचत, H. *n. m.* Unbroken grains of rice used in oblations ; *adj.* infallible ; lasting ; existing ; containing. اچھھيا اچھھيا—tilak, *n. m.* ceremony of putting a few grains of rice on the forehead of an idol or of a Brahman when invited to an entertainment.

اچھھيا اچھھيا achhtáná pachhtáná, अछताना, पछताना, H. *v.* (colloq.) To repent ; to be sorry ; to pine and repine.

اچھھيا achchhar, अचर, H. *n. m.* A letter of the alphabet.

اچھھيا ichhuras, इच्छुरस, H. *n. m.* The juice of the sugarcane.

اچھھيا achhari, अचरी, H. *n. m.* A learned person ; a person who writes an elegant hand ; *adj.* literary. [thrown up.

اچھھيا uchhaláná, उछलाना, H. *v.* To cause to be

اچھھيا uchhálná, उछलना, H. *v.* To leap ; to bound ; to issue ; to gush ; to spurt out ; to fly out ; to rejoice ; to be wild with rage.

اچھھيا uchhal párná, *v.* to spring ; to break into a passion ; to be frightened.

اچھھيا uchhal kúd, *n. f.* leaping and jumping ; hopping and skipping ; revelry.

اچھھيا uch-chhin, उच्छिन, H. *adj.* Ruined, laid waste, destroyed.

اچھھيا uchchú, उच्छु, H. *n. m.* Suffocation ; strangling. اچھھيا اچھھيا—honá, *v.* to be suffocated in the act of swallowing.

اچھھيا achhwáni, अछवानी, H. *n. f.* A gruel usually given to women after childbirth.

اچھھيا achhúta, अछुता, H. *adj.* Intangible (as food for religious persons) ; inviolable ; untouched ; not used ; new ; clean.

اچھائی *achehai*, अचय, *adj.* Imperishable ; undecayable. اچھائی لوک—*lok*, *n. m.* the imperishable world ; heaven.

اچھت *achet*, अचेत, *H. adj.* Out of mind ; heedless ; insensible ; senseless ; incautious ; unconscious ; fainting.

اچھتانیہ *achetania*, अचेतन्य, *S. adj.* Without sensation or consciousness ; irrational.

اچھلانا *uchelna*, उचेलना, *H. v.* To separate one thing from another ; to peel off (skin, scales, &c.)

احاد *ahád*, *A. n. m.* (*Plu. of* احد *Ahad*) Units ; ones ; cardinal numbers.

احادیف *ahádís*, *A. n. f.* (*Plu. of* حدیث *Hadís*). Traditions, chiefly the traditions or aphorisms of Mohámmad.

احاطہ *iháta*, *A. n. f.* An enclosure ; surrounding ; premises ; precincts ; boundary ; circuit ; compound ; area ; territory. احاطہ کرنا—*karná*, *v.* to surround ; to fence ; to enclose ; to limit ; to confine.

احاب *ahab*, *A. adj.* (*Sup. of* حبیب *Habíb*). Most lovely ; most amiable *n. m.* a friend.

احباب *ahibbá* } *A. n. m.* (*Plu. of* حبیب *Habíb*).
احباب *ahbáb* } Friends ; lovers ; relations ; dear ones.

احتباس *ihtibás*, *A. n. m.* Imprisonment ; restraint.

احتجاب *ihtijáb*, *A. n. m.* Seclusion ; retreat.

احتداد *ihtidá*, *A. n. f.* Being guided aright.

احترار *ihtiráz*, *A. n. m.* Abstinence ; forbearance ; guarding against ; abstaining from. احترار کرنا—*karná*, *v.* to abstain or protest (from) ; to avoid ; to refrain (from).

احتراق *ihtráq*, *A. n. m.* Combustion ; conflagration ; burning ; vehemence.

احترام *ihtiram*, *A. n. m.* Act of honouring ; adoration ; veneration ; treating with respect.

احتساب *ihtisáb*, *A. n. m.* Making up accounts ; reckoning ; computing ; administration of the police. [nificence ; retinue.

احتشام *ihtishám*, *A. n. m.* Parade ; pomp ; mag-

اھتکار *ihtikár*, *A. n. m.* Collecting and hoarding up grain, etc. ; in expectation of its becoming dear.

احتمال *ihtimál*, *A. n. m.* Apprehension ; conjecture ; likelihood ; doubt ; supposition ; probability ; admissibility ; uncertainty. احتمال کرنا—*karná*, *v.* to doubt ; to presume ; to suspect ; to guess. احتمال قانونی—*i-qánúni*, a legal presumption. احتمال ہونا—*honá*, *v.* to be likely ; to be probable.

احتمالی *ihtimáli*, *A. adj.* Conjectural ; probable ; likely ; suspicious ; hypothetical ; doubtful.

احتیاج *ihtiyáj*, *A. n. f.* Necessity ; indigence ; emergency ; need ; want.

احتیاجات *ihtiyaját*, *A. n. f.* (*Plu. of* احتیاج *Ihtiyáj*) Wants, requisite things ; necessities.

احتیاط *ihtiyát*, *A. n. f.* Caution ; circumspection ; care ; foresight ; scrupulousness ; heed. احتیاط سے—*se*, *adv.* carefully ; cautiously.

احتیاط رکھنا—*karná*—*rakhná*, *v.* to attend ; to take precautions ; to guard.

احتیاطاً *ihtiyátan*, *adv.* Warily ; watchfully ; prudently ; cautiously.

احید *ahid*, *A. n. m.* Unity ; one, an individual.

احد الفریق—*al-fariq*, one party (to a law suit) ;

احد الطرفین *ahadúttarfain*, one of the two parties.

احداث *ihdás*, *A. n. m.* Act of making anything new ; invention ; novelty.

احدی *ahdí*, *A. n. m.* A body of soldiers, in the reign of Akbar somewhat of the nature of pensioners ; a sluggard ; an idle person ; lazy.

احدیات *ahdíyat*, *A. n. f.* Unity ; being individual ; harmony ; alliance.

احرار *ahrár*, *A. n. m.* (*Plu. of* حر *Hur*). The ingenuous ; liberal ; free-born ; the generous.

احراق *ihráq*, *A. n. m.* Act of burning ; setting on fire.

احرام *ihrám*, *A. n. m.* Act of interdicting ; determination ; interdicting oneself all worldly enjoyments during the month of Moharram.

احرام باندھنا—*bághdná*, *v.* to make a vow of pilgrimage, preparatory to entrance into Mecca. احرام جامہ *jáma-i*—, *n.* the garment worn by pilgrims on entering Mecca.

احزان *ihzán*, *A. n. m.* (*Plu. of* حزن *Huzn*) Sorrows ; afflictions ; griefs ; melancholies.

احساس ihsás, A. n. m. Perception.

احسان ihsán, A. n. m. Beneficence; favour; good office; kindness; the conferring of obligation. إحسان جتانا—jatáná, v. to speak or boast of favours conferred. إحسان ركهنأ—rakhná, v. to do a favour to; to place (one) under an obligation. إحسان فراموش—farámosh, *adj.* forgetful of favours and benefits; unthankful; ungrateful. إحسان كا بدلأ—ká badlá, requital; return for a favour. إحسان كرنأ—karná, to benefit; to do acts of kindness; to oblige. إحسان لينأ—lená, v. to be under a debt of gratitude. إحسان مانأ—máná, v. to feel thankful; to feel obliged; to acknowledge kindness (of or from). إحسان مند—mand, *adj.* Grateful; obliged. إحسان مندني—mandí, n. f. Gratitude; thankfulness.

احسن ahsan, A. *adj.* Better; best; more or most lovely; preferable; excellent.

احسنت ahsant, A. *int.* (*Lit.* Thou hast done well). Bravo! well done!

احشا ahshá, A. n. m. (*Plu. of* حشا *Hasha*). The contents of the belly—bowels, intestines; the contents of the thorax—the heart, liver, lungs, etc.

احشام ahshám, A. n. m. (*Plu. of* حشم *Hashm*). Followers; attendants; a kind of militia or armed police; suite, retinue; retainers.

احصأ ihsá, A. n. m. Counting, enumerating; narrating; comprehension.

احصار ihsár, A. n. m. Besieging; surrounding; restraining; enclosing.

احضأ ihzár, A. n. m. Attendance; appearance; summoning; summons.

احقاق ahaqq, (*Comp. and Sup. of* حقيق *Haqiq*). A. *adj.* More or most proper or deserving; very proper; deserving.

احقأ ahqáq, A. n. m. Act of demonstrating the truth of a doctrine; manifesting or showing a truth, or right or due administration of justice.

احقر ahqar, A. *adj.* More or most contemptible or mean; lowest; n. m. your most unworthy slave (a self-humiliating expression).

احكام ahkám, A. n. m. (*Plu. of* حكم *Hukm*). Orders; commands; ordinances; summonses; decrees. [stable.

احكام ahkam, A. *adj.* Very strong; firmer; more
احمد ahmad, A. *adj.* More or most commendable. n. m. name of Muhammad.

احمدي ahmadí, A. *adj.* Belonging to Ahmad; a Mohamedan.

احمر ahmar, A. *adj.* Red.

احمق ahmaq, A. *adj.* Very foolish; stupid; n. m. fool; dunce; blockhead; idiot. احمق بنانا—banáná, v. to befool; to cheat. احمق النبي—ul-lazí, n. m. an arrant blockhead.

احمقانه ahmaqána, A. *adv.* Foolishly; idiotically.
احمق پن ahmaq pan, } A. n. m. Blockheaded-
احمق پن ahmaq pan, } ness; idiocy; folly;
احمق پن ahmaqí, } stupidity.

احوال ahwál, A. n. m. (*Plu. of* حال *Hál*); State; circumstances; condition; affairs; incidents; events; narrative; account. احوال بتانا—batáná, to state one's condition; to give an account (of); to tell the story (of) احوال پرسأ—pursán, enquiring after one's health, condition, etc. احوال پرسئ—pursi, n. f. inquiry after health, circumstances, affairs, etc. احوال پرسئ كرنأ يا پوچهنأ—pursi karná, ya púchhná, v. to enquire after one's health, state, etc.; to investigate. احوال خير مال—khair mál, n. m. prosperity; good situations. [(bhengd).

احول ahwal, A. *adj.* Squint; squint-eyed
احيا ahíyá, A. n. m. (*Plu. of* حي *Hai*). The living; living things.

احيا ihíyá, A. n. m. Reviving; giving life; preserving. احيا الموات—ul-mawát, (*Lit.*) Reviving the dead; (*Fig.*) bringing waste land into cultivation.

احياناً ahýánan, A. *adv.* Occasionally; now and then; sometimes; from time to time.

اخ akh, A. n. m. A brother.

اخ akh akh, *int.* An exclamation of joy; ah
اخبار akkhá, A. *int.* An exclamation of wonder; há l

[Tributes; imposts.
اخباري akhári, A. n. m. (*Plu. of* خراج *Khiráj*).

اخبار akhbár, A. n. m. (*Plu. of* خبر *Khubar*).
اخبار نوبس—News; a newspaper; a gazette.

navis, *n. m.* a news-writer ; an editor (of a paper) ; an intelligencer. [tion ; a news.

اخبار ikhbār, *A. n. m.* Act of giving information ; *akhbas*, *adj.* (*Com. and Sup. of Khabis*). Very impure or mean.

اخبخ akhpakh, *P. n. m.* Understanding ; wisdom ; intelligence.

اُخت ukhat, *A. n. f.* Sister ; *adj.* similar ; congenial.

اِختتام ikhtitām, *A. n. m.* Termination ; conclusion ; close ; finish ; end ; completion. اِختتام

روداد—i-rūdād ; termination of proceedings. کرنا اِختتام karnā, *v.* to close ; to terminate ; to complete ; to fulfil.

اِختدام ikhtidām, *A. n. m.* Employment as a servant.

اِختار akhtar, *A. n. m.* A star ; a constellation ; good omen ; good luck. اِختار شمار shumār, *n. m.* an astrologer. اِختار شماری shumārī, *n. f.* the calculation of one's horoscope ; watching all night.

اِختراع ikhtirā', *A. n. m.* Invention ; devising ; artifice ; discovery. کرنا اِختراع karnā, to create ; to contrive ; to discover ; to invent.

اِختاری akhtarī, *A. n. m.* (*Astro.*) Stellar.

اِختصار ikhtisār, *A. n. m.* Abbreviation ; curtailment ; brevity ; contraction ; compendium ; synopsis ; conciseness ; summary. کرنا اِختصار karnā, *v. i.* to abstract ; to epitomize ; to reduce ; to curtail ; to abridge.

اِختصاص ikhtisās, *A. n. m.* Speciality ; characteristic ; peculiarity ; appropriation.

اِختفای ikhtifā', *A. n. m.* Act of hiding ; act of secreting ; concealment. کرنا اِختفای karnā, *v.* to conceal ; to hide ; to cover.

اِختلاط ikhtilāt, *A. n. m.* Mixture ; amalgamation ; friendship ; amity ; intimacy ; concord ; unison.

اِختلاف ikhtilāf, *A. n. m.* Difference ; discord ; dissension ; misunderstanding ; opposition ; antagonism. اِختلاف رای rāi, dissent ; difference of opinion.

اِختلال ikhtilāl, *A. n. m.* Obstruction ; hindrance ; interruption ; necessity ; penury ; want.

اِختله akhta, *A. adj.* Castrated, *n. m.* a gelding. مرغ اِختله murg, *n. m.* a capon.

اِختل تهر akh thū, आखतू, *H. interj.* Tush ! pooh ! pshaw ; fie !

اِختیار ikhtiyār, *A. n. m.* Election ; choice ; option ; jurisdiction ; authority ; power ; influence ; command ; dominion ; discretion ; function ; control ; will. اِختیار آمد رنت—i-āmad-o-raft, right of way. اِختیار جایز—i-jāiz, legal authority. اِختیار حکومت—i-hukumat, jurisdiction. اِختیار رکھنا—rakhnā, *v.* to have it in (one's) power ; to be entitled to have a claim upon. اِختیار سرسری—i-sarsarī, summary power or jurisdiction. سے اِختیار

باہر ہونا—se bāhar honā, *v.* to be beyond one's power. اِختیار شہری—i-shauharī, *n.* martial authority. اِختیار کرنا—karnā, *v.* to choose ; to approve of ; to elect ; to adopt. اِختیار مطلق—i-mtlaq, absolute authority. اِختیار ملنا—milnā, *v.* to be invested with power. اِختیار میں ہونا—men honā, *v.* to be dependent on ; to be subject to the authority (of). اِختیار

اِختیار نا جائز—i-nājāiz, illegal power. اِختیاری ikhtiyārī, *A. adj.* Optional ; voluntary ; in one's power ; *n. f.* approbation ; election ; authority. اِخذ akhaz, *A. n. f.* Exaction ; seizing ; intercepting ; objection ; cavil ; enmity. کرنا اِخذ karnā, *v.* to take ; to capture ; to seize ; to assume ; to infer.

اِخیر akhir, *A. adj.* Last ; hindmost ; later ; ultimate ; final ; *n. m.* close ; termination ; conclusion ; expiration ; issue. اِخیر الامر—ul-amar, *adv.* eventually ; at last ; finally ; ultimately ; after all. اِخیر الزمان—ul-zamān, end of time. اِخیر کار—kār, *adj.* eventually ; at last ; in the end. اِخیر کرنا—karnā, *v.* to close ; to conclude ; to finish ; to put an end to. اِخیر ہونا—honā, to end ; to close ; to cease to exist.

اِخراج ikhrāj, *A. n. m.* Expulsion ; dislodgment ; evacuation ; deportation ; extradition ; rejection ; dérivation ; extraction ; discharge.

إخراجات *ikhraját*, A. n. m. (*Plu. of* إخراج *Ikhraj*). Expenses; costs; disbursements. إخراجات عدالت—i-'adálat, judicial costs.

آخر *ákhirat*, A. n. f. Futurity; after life; the world to come. آخرت سنوارنا—*sanwárná*, to do good deeds that may procure salvation.

آخرش *ákhirash*, A. adv. At last; eventually; after all; at the end of; finally.

شبه آخر *ákhir-i-shab*, A. n. f. Before morn; the close of the night.

خروث *ákhrot*, A. n. m. A walnut.

آخري *ákhri*, A. adj. Last; extreme; later. چهار شنبه آخري—*chahár shamba*, n. m. the last Wednesday that falls annually in the month of *Sufar* and observed by the Mohamedans with solemnity and rejoicing for the recovery of their prophet from severe illness.

آخرين *ákhirin*, A. n. m. Last of latest comers; posterity. دم آخري—*dam*, the last breath.

اخص *ákhass*, A. adj. Most avaricious.

اخضر *ákhzar*, A. adj. Green. بحر الاخضر *bahr-ul-*—, the green sea, under this name the Arabians comprehend all the ocean extending from the coasts of Arabia and Ethiopia to India.

إخفا *ikhfá*, A. n. m. Concealment; hiding. إخفا كرم—*karná*, v. to cover; to conceal. إخفا جرم—*i-jurm*, concealment of an offence. علم إخفا *ilm-i-*—, the art of rendering one's self invisible.

اخفش *ákhfash*, A. adj. Weaksighted; dim-sighted; having small eyes. بزاخفش *buz-i-*—, n. m. a brainless fellow.

اخر *ákhgar*, A. n. m. A spark of fire; live ashes.

اخلاص *ikhlás*, A. n. m. Sincerity; love; tenderness; attachment; intimacy; loyalty. اخلاص جورنا—*jorná*, v. to cement an intimacy (with); to contract friendship. اخلاص ركهنا يا كرمنا—*rakhná yá karná*, v. to entertain love (for);

to regard; to be friendly; to love; to be sincere.

اخلاصمندی *ikhlásmandi*, P. adj. Affectionate; intimate; sincere.

اخلاصمندی *ikhlásmandi*, P. n. f. Sincerity; love; friendliness.

اخلاص *ákhlát*, A. n. m. (*Plu. of* خلط *Khalt*) Mixtures; the four humours of the human body regarded as the constituents of its composition, viz., blood, phlegm, choler (yellow bile) and melancholy (black bile) called اخلاص ارب—*i-erb'*.

اخلاق *ákhlaq*, A. n. m. (*Plu. of* خلق *Khulq*). Manners; disposition; virtues; ethics; morality.

اخور *ákhhor*, P. n. m. Sweepings; scouring; entrails; filth. اخور كي بهرتي—*ki bharti*, a company or congregation of low, vile fellows.

إخوان *ikhwán*, A. n. m. (*Plu. of* اخ *Akh*). Brothers. اخوان زمان—*i-zamán*, n. m. people of the same time; contemporaries.

اخوت *ikhwat*, Brother hood; friendship.

آخون *ákhún*, } P. n. m. School-master; teacher; instructor; preceptor.

اخري *ákhwi*, A. adj. Brotherly.

اخيا *ákhya* A. n. m. Little brother.

اخيار *ákhya*, A. n. m. The good; excellent; the better (people).

اخيايي *ákhyaí*, A. adj. Brothers or sisters by the same mother but by a different father.

اخير *ákhir*, A. adj. Last; final; conclusive; n. m. the end; accomplishment; conclusion; completion.

آدي *ádi*, आदि, S. adj. First; pre-eminent; et cetera; and so forth; n. m. the beginning; the origin; the commencement. آديت—*ádánt*, n. m. the commencement and the close;

adj. from the first to the last; from the beginning to the end; perpetually; eternally; ever. آدي پرش—*purush*, n. m. the first Being; a name of Vishnú.

adj. half driven in (as a stake or peg). ادمنا
—maná, *adj.* a weight of forty pounds or
twenty seers. اد مزادمو مارا—mará,—muá *adj.*
half-dead; wretched.

ادا adá, *A. n. f.* Execution; accomplishment;
performance; discharge; liquidation; pay-
ment; fulfilment. ادا بدي—bandi, *n. f.* liquida-
tion of a debt by instalments fixing a period
for the performance of a contract. ادا كرنا—
karná, *v. t.* to execute; to perform; to dis-
charge; to comply; to accomplish; to defray;
to repay; to do justice to. ادا هونا—honá,
v. t. to be done or performed satisfactorily;
to be discharged; to be paid, liquidated, etc.;
to be expressed or uttered intelligibly. ادا ے
—i-khidmat, performance of service. ادا ے دین
—dain, the payments of a debt.

ادا adá, *P. n. m.* Grace; expression; handsom-
ness; embellishment; elegance; graceful
manners; blandishments; coquetry. ادا بند
—band, *n. m.* composer or describer of bland-
ishments. ادا بدي—bandi, *n. f.* description
of blandishments. ادا فهم—fahm, understand-
ing signs and gestures. ادا والی—wálá, *adj.*
handsome; fine; lovely; elegant; fair.
ادا خوش—khush adá, *adj.* well-mannered;
polished; graceful. ادا نازک—nazuk adá, *adj.*
coquet.

ادا adá, *H. n. m.* Ginger in the undried
state.

آداب adáb, *A. n. m.* (*Plu. of ادب Adub*) Cere-
monies; etiquette; politeness; forms of
address in writing and speaking; salutation;
respect; elegant manners. آداب تسلیمات—
taslímát, *n. m.* most humble compliments;
most submissive respects. آداب القاب—alqáb,
n. m. designation; appellation; title; forms
of address. آداب بجالانا—bajá láná, *v.* to pay
homage or obeisance; to salute respectfully;
to say good-bye.

ادات adát, *A. n. f.* Instrument; tool; appara-
tus; vessel; implement; (in Gram.) a par-
ticle. [charitable; generous.

ادار udár, *उदार, S. adj.* Liberal; bountiful;
ادارتا udáratá, *उदारता, S. n. f.* Liberality;
bounty; charity; munificence.

اداس udás, *उदास, H. n. m.* Retiredness; lone-
liness; dejection; *adj.* sad; melancholy;
depressed. اداس هونا—honá, *v.* to be de-
pressed; to be cheerless; to be sorrowful.

اداسی udási, *उदासी, H. n. f.* Solitude; depres-
sion; sadness; *n. m.* a hermit; a class of
fuqirs; *adj.* lonely; cheerless; sad. اداسی
چھونا—chháná, *v.* to be clouded with sorrow;
to become dull or gloomy.

اداسین udásin, *उदासीन, S. adj.* Indifferent; free
from affection; *n. m.* hermit; misanthrope;
one who is neither a friend nor foe; an order
of mendicants in Punjab. [serve him, &c.

ادام الله adám allah, *A. int.* May God pre-
adáni, *A. adj.* (*Plu. of ادنی Dani*) Mean;
vile, vulgar or obscure (people).

ادبهارانا udáharana, *उदाहरण, S. n. m.* An example;
a simile; an instance; (in Logic) one of the
five modes of reasoning.

ادای adái, *A. n. f.* Liquidation; discharge;
accomplishment. ادا ے خدمت—khidmat, per-
formance of duty; discharge of an office. ادا ے
—dain, *n. m.* payment of debt. ادا ے زر—
zar, *n. m.* payment of money. ادا ے زر دگری
—zar-i-digri, payment of the sum decreed or
the decretal amount. ادا ے شہادت کرنا—shahá-
dat karná, *v.* to depose. ادا ے لگان—lagán,
n. m. payment of rent. ادا ے مالگذارای—mál-
guzári, *n. m.* payment of revenue.

اداب adab, *A. n. m.* Elegant-manners; deco-
rum; respect; courtesy; civility; polite-
ness; etiquette; formality. ادب دینا—dená *v.* to
train; to teach good manners; to punish; to
correct. ادب سے—se, *adj.* politely; respect-
fully; reverentially. ادب کرنا—karná, *v.* to
behave politely; to regard with esteem; to
venerate; to respect. ادیب adib, *n. m.* A
teacher of etiquette or manners.

ادبار idbár, *A. n. m.* Calamity; bad luck;
mishap; affliction; turning back; falling off
from allegiance. ادبار آنا—ána, *v.* to be
ascribed by bad luck; to be oppressed by
calamity; to be possessed with a spirit of
rebellion.

ادبدانا *adbadána*, अद्बदाना, H. *v.* To be agitated ; to be perplexed ; to be active or brisk. *ادبدانر* *adbadákar*, *adv.* uneasily ; helplessly ; certainly ; positively. [miraculous ; admirable.

ادبوت *adbhut*, अद्भुत, S. *adj.* Astonishing ;

ادتيه *áditya*, आदित्य, P. *n. m.* A deity in general ; the sun.

ادتيه بار *ádityabar*, आदित्यवार, } S. *n. m.* Sunday.
 ار ادتيه وار *áditya-vár*, आदित्यवार, }

ادت *udit*, उदित, S. *adj.* Risen (as the sun) ; prominent ; celebrated ; distinguished ; notable.

ادخال *idkhál*, A. *n. m.* Introduction ; setting in ; insertion ; entry ; admission ; ingress.

ادر *ádar*, आदर, S. *n. m.* Deference ; veneration ; respect ; politeness ; reverence ; consideration ; regard ; attention ; observation. *ادر بزار* —*blázo*, *n. m.* veneration ; deference ; respect ; esteem. *ادر ملنا* —*páná—milná*, *v.* to be honoured ; to be respected ; to be esteemed ; to be appointed to any honourable office or post. *ادر سے* —*se*, *adv.* reverentially ; courteously ; with due respect. *ادر كرنا* —*karná*, *v.* to pay respect ; to esteem ; to revere. *ادر مانت* —*mán*, *n. m.* respect and honour. *ادر و نت* —*vant*, *adj.* respecting ; honoured ; respectable ; *n. m.* a pious person ; a religious person. *ادر योग* —*yogya*, *adj.* deserving respect ; esteemable ; venerable.

ادر *udar*, उदर, S. *n. m.* Belly ; stomach ; womb ; livelihood. *ادر مای* —*may*, *उदरमय*, *n. m.* dysentery ; diarrhoea. *ادر درد* —*viraddhi*, *उदरवृद्धि*, *n.* dropsy.

ادر *ádrá*, आद्रा, S. *n. f.* (Astro.) The sixth lunar mansion ; the beginning of the rainy season.

ادراج *idráj*, A. *n. m.* Act of inserting one thing in another ; surrounding ; folding together.

ادر *idrár*, A. *n. m.* Flowing of milk, etc., freely ; hard rain ; liberality ; a generous munificence. Involuntary or copious discharge of urine.

ادر *idrák*, A. *n. m.* Comprehension ; genius ; perception ; sagacity ; understanding.

ادرسا *adarasá*, अद्दरसा, H. *n. m.* A kind of sweetmeat ; a sort of very fine muslin.

ادارشن *adarshan*, अद्दर्शन, S. *n. m.* Imperceptibility ; indistinctness ; invisibility ; *adj.* imperceptible ; unbeheld ; unapparent.

ادريشت *adrishṭa*, अद्दृष्ट, S. *adj.* Unseen ; unbeheld ; unforeseen ; *n. m.* casual and sudden danger ; not good fortune.

ادرك *adrak*, अद्दरक, H. *n. f.* Ginger in the undried state ; *Amomum zinziber*.

ادركي *adrakí*, अद्दरकी, H. *n. f.* Pieces of green ginger coated over with sugar.

ادريس *idris*, A. *n. m.* The patriarch Enoch.

ادعا *iddi'á*, A. *n. m.* The act of demanding one's right or claim ; pretension. *ادعاے ملاکیت* —*imilkiyat*, an assumption of proprietorship.

ادعيه *ad'iya*, A. *n. m.* (Plu. of *ادعاء Du'á*) Prayers ; benedictions.

ادغام *idgám*, A. *n. m.* Duplication of a letter by *tashdid* ; the contraction of one letter into another.

ادق *adaqq*, A. *adj.* (Comp. & Sup. of *دقيق Daqiq*). Very abstruse ; difficult ; profound.

ادل بدل *adal badal*, } H. *n. m.* Alteration ;
 ادلا بدل *adlá badlá*, } commutation ; exchange ; reciprocation ; barter ; *adj.* *Mutatis mutandis* ; *vice versa*. *ادلا بدل كرنا* —*karná*, *v.* to interchange ; to commute ; to barter ; to transform ; to shift. [arguments.

ادلا *adilla*, A. *n. m.* (Plu. of *دليل Dalil*) Proofs ;

ادم *ádam*, A. *n. m.* Adam ; the first man ; mankind ; humanity. *ادم چشم* —*chashm* ; *n. m.* a horse, the white of whose eyes have a red margin or eyes like those of a human being. *ادم خور* —*khór*, *adj.* man-eater ; cannibal.

ادم زاد *zád*, *n. m.* born of Adam ; human race ; mankind.

ادم *uddima*, उद्दिम, S. *n. m.* Exertion ; labour ; toil ; effort ; work ; vocation ; profession ; trade ; engagement. (see *اديم*)

ادماد *udmád*, उद्दमाद्, H. *n. m.* Mania ; madness ; frenzy ; excitement ; pride ; arrogance ; vice ; depravity. (see *انماد*)

آدمبر udambar, उदम्बर, S. n. m. The glomerous fig tree or *gular* tree.

آدمي آدمي, P. n. m. f. An offspring of Adam ; a human being ; individual ; person ; the human race ; folk ; the public ; an intelligent person ; brave man ; husband ; servant ; dependant ; retainer ; follower ; *adj.* grown up ; adult. آدمي بنانا—banáná, v. to render polite ; to humanize ; to civilize ; to discipline ; to teach good manners. آدمي پيچھه—piechhe, *adj.* per head ; severally ; one by one. آدمي زاد—zād, the human race ; man. آدمي ٿونا—honá, v. to be of age ; to be out of one's teens ; to attain manhood ; to learn etiquette ; to be mannerly ; to become rational ; to recover one's senses. آدمي بن جانا—ban jáná, v. to become wealthy.

آدمي را آدميت لازم است
عود را گر بر نباشد هيزم است

Ádmi rá ádmíyat lázim ast,
Úd rá gar bú na-báshad hozam ast.

Humanity is indispensable quality for a human being, If aloes wood has no odour, it is a timber.

آدميت آدمي, P. n. f. Humanity ; beneficence ; human nature ; benignity ; fellow-feeling ; commiseration ; sympathy ; civility ; amenity ; courtesy ; good manners ; sense ; discernment ; judgment. آدميت پاكarna—pakarná, v. to be polished ; to become civilized ; to learn courtesy or civility ; to come to one's self ; to recover one's senses. - آدميت ميں لانا—men láná,—sikhláná, v. to civilize ; to render humane ; to polish ; to teach politeness or good manners ; to bring one to one's self. آدميت کarna—karná, v. to behave with humanity ; to act as a man. آدميت اٿهه جانا—uṭh jáná, v. to be bereft of one's nature ; to become bewildered ; to lose one's senses.

آدميت اور شيء ہے کچھ اور چيز
کتنا طوطي کو پڑھايو پڑو حياواں هي رها
—(ذوق)

Ádmiyat aur shai hai 'ilm hai knchh aur chíz.
Kitná túti ko parháyá par wuh haiwán hí rahá.

Humanity is one thing, and learning is quite another thing. [remain a parrot.

Teach a parrot as muchsoever still he will
ادني adná, A. *adj.* Inferior ; lowly ; small ; wretched ; petty ; mean ; faint ; scanty ; base ; low ; mediocre ; diminutive ; trifling ; secondary ; of no importance ; vulgar ; mean ; vile ; menial ; base-born ; meek ; n. m. commonalty ; a person of no consequence ; a commoner ; the humbler classes. ادني و اعلى—o-á'lá, n. m. prince and peasant ; the noble and the ignoble ; the high-born and the base-born ; the high and the low.

ادوات advát, A. n. f. (*Plu. of* ادات *Adát*) Instruments ; apparatus ; weapons ; crafts. ادوات جنگ—i-jung, n. m. instruments of warfare.

ادوار adwár, A. n. m. (*Plu. cf* دور *Daur*) Revolutions ; centuries ; periods ; ages.

ادوان adwán, अद्वान, } H. n. f. String for
ادواين adwáyan, अद्वान, } tightening the tape
of a bedstead. ادواين کھينچنا—khiñchná, v. to tighten the string of a bedstead.

ادوت udot, उदोत, H. n. f. Splendour ; brilliancy ; light ; shining ; dawning (of the sun, moon, &c.)

ادون adún, A. *adj.* Very base or vile ; more or most miserable.

ادوند adwanda, अद्वंद, S. *adj.* Quiescent ; calm ; peaceful ; still ; free from disturbance.

ادويت addwaita, अद्वैत, S. *adj.* Without a second ; unequalled ; inimitable ; singular ; unparalleled ; peerless ; nonpareil ; n. m. non-duality ; Creator ; God. ادويت مت—mat, monotheism.

ادويہ adwiya, A. n. f. (*Plu. of* دوا *Dawá*) Medicines ; drugs.

آدمه - آدهه ádh, अध, अध, H. *adj.* Half. آد آد—ána, n. m. half an anna ; two pice ; آدهبر—bar, *adv.* half way ; in the middle ; midway. آدهبنا—baná, *adj.* half-ready ; half-formed ; unfinished. آده بچ—bich, *adv.* in the middle. آده پکا—paká, *adj.* half-ripe ; immature ; half-cooked ; parboiled. آده جـ—jalá, half-burnt. آده کپاري—kapari, kapáli,

ادھکار *adhikár*, अधिकार, S. *n. m.* A government; authority; administration; ownership; power; privilege; a right; possession; kingdom; warrant. ادھکار دینا—*dená*, *v.* to confer authority; to empower; to appoint; to warrant. ادھکار رکھنا—*rakhná*, *v.* to have authority or power; to hold an office or an appointment; to have a right or claim. ادھکار کرنا—*karná*, *v.* to govern; to command; to control; to exercise authority. ادھکار ملنا—*milná*, *v.* to be conferred with authority; to be empowered.

ادھکاری *adhikári*, अधिकारी, S. *adj.* Possessing a right, claim or title to; *n. m.* one invested with power and authority; governor; ruler; proprietor.

ادھم *adham*, अधम, S. *adj.* Mean; base; inferior; contemptible; insignificant; vile. ادھم دھاران—*dháran*, अधमधारण, *n.* an epithet of the Deity (as, He who affords support to the lowest and most unworthy).

ادھن *adhan*, अद्दहन, *n. m.* Water set to boil for cooking.

ادھن *adhan*, अधन, } S. *adj.* Needy; poor; }
ادھنی *adhni*, अधनी, } indigent; distressed; }
n. m. pauper.

ادھنڑا *adhná*, अधनड़ा, H. *adj.* Half-prepared; half-dressed; incomplete; imperfect.

ادھی *adhi*, अडी, H. *n. f.* Half a *damri*; one sixteenth of a piece; half a piece of cloth; a kind of fine thin cloth.

ادھیپک *adhyápak*, अध्यापक, S. *n. m.* Spiritual preceptor; teacher; a learned man.

ادھییا *adhiya*, अधिया, H. *n. f.* Division of produce between two parties in equal shares, one furnishing the land, seed etc, and the other the labour. [share.

ادھییار *adhyár*, अधयार, H. *n. m.* Holder of half a *adhiyáná*, अधियाना, H. *v.* To divide; to bisect; to halve.

ادھییا *adhyáya*, अध्याय, S. *n. m.* A section or division of a book; a chapter; an article; a lesson.

ادھیاکش *adhyaksha*, अध्यक्ष, S. *n. m.* Supervisor; governor; director; master; lord; a deler; ruler; chieftain.

ادھی *adhira*, अधीर, S. *adj.* Hasty; rash; unsteady; irresolute; wavering; unstable.

ادھیراتا *adhiratá*, अधीरता, S. *n. m.* Unsteadiness; want of firmness; fickleness; inconstancy; rashness; haste; impatience.

ادھیراج *adhiraj*, अधीरज, S. *n. m.* Unsteadiness; perplexity; inconstancy; changeableness; *adj.* irresolute; disordered; fickle; unstable; restless.

ادھی *adher*, अवेद, *adj.* Just past the prime of life; middle-aged.

ادھی *udhe*, उवेद, H. *n. m.* Unfolding; unwearing; peeling off. ادھی—*bun*, *n. f.* meditation; reflection; embarrassment; perplexity; dilemma; deliberation; anxious thought.

ادھی *udheaná*, उवेदना, *v.* To open; to unroll; to unfold; to peel off; to untwist; to strip off (a skin)

ادھیش *adhish*, अधीश, S. *n. m.* Master, lord, chief.

ادھی *adhelá*, H. *n. m.* Half a *paisa* or piee.

ادھی *adheli*, अधेली, } H. *n. f.* Half a rupee.
ادھی *dheli*, धेली, }

ادھین *adhin*, अधीन, } S. *adj.* Obedient; meek; }
ادھین *ádhin*, अधीन, } subservient; submissive; lowly; dependent; resigned; subject.

ادھی *adhinatá* or *ádhinatá*, अधीनता या अधीनता S. *n. f.* Obedience; meekness; submission; resignation; obsequiousness; subjection; humility.

ادھی *udai*, उदय, S. *n. m.* Dawning (of the sun, moon, etc.); sunrise; advent ادھی—*huná*, *v.* to rise (the sun, moon, etc.); to dawn; to be manifest; to spring up. [gions; creeds.

ادھی *adiyán*, A. *n. m.* (Plu. of *adhi*) Religion; creeds.

ادھی *adib*, A. *n. m.* An instructor of refined manners of civility; *adj.* polite; courteous.

ادھی *udyat*, उद्यत, S. *adj.* Persevering; diligent; prepared; ready; eager.

ادھی *ádesh*, आदेश, S. *n. m.* Order; Command; injunction; instruction.

ادھی *uddesh*, उद्देश, S. *n. m.* Direction; indication; sign; trace; foreign land or Country.

ادھی *uddyama*, उद्यम, S. *n. m.* Exertion; attempt; labour; toil; business; trade.

ادیم *adím*, A. n. m. Goat's perfumed leather, surface; superficies. ادیم السما—*ul-samá*, the expense of heaven.

آدینہ *ádina*, P. n. m. Friday.

ادیگ *udyog*, उद्योग, S. n. m. Perseverance; exertion; plan; scheme.

آدا *addá*, आदा, S. n. m. House, upper room; a stand, a station or place where persons of the same profession congregate for business or pleasure.

آدل *adol*, अडोल, H. *adj.* Unshaken; immutable; constant; fast; firm; steady.

آذان *azán*, A. n. f. The summons to prayers.

آذبک *azbak*, T. n. m. Name of a Tartar tribe; clown; dolt; fool.

آزار *ázar*, P. n. m. Fire; the ninth month of the Persian Calendar, December; (prob. for A. *Ázar*) the name of Abraham's father.

آذرا *azrá*, } A. n. The sixth of the Greek or
آذرا *ázrá*, } Syrian month corresponding to
the month of March.

إذعان *iz'án*, A. n. m. Obedience; resignation; submission; trust; confidence; belief.

آذف *azfar*, A. *adj.* (*Com.* and *Sup.* of ذف *Zafar*) Of very strong odour; most fragrant.

آذکار *azkár*, A. n. m. (*Plu.* of ذی *Zakr*) Commendations; eulogy of God; recitals; rehearsal of prayers; commemoration.

آذکیا *azkiyá*, A. n. m. (*Plu.* of ذی *Zuki*) People of discernment; the intelligent; the ingenious; the wise; the prudent. [or base.

آذل *azall*, A. *adj.* Most despicable, contemptible

آذن *izn*, A. n. m. Leave; permission; discharge; consent of two contracting parties (as in marriage. آذن نامه *izn-náma*, n. m. A will.

آذهان *azhán*, A. n. (*Plu.* of ذهن *Zihan*). Geniuses; intellects; wits.

آذیات *aziyat*, A. n. f. Oppression; trouble; suffering; woe; sorrow; distress; torment; hurt; annoyance. آذیت دنا—*dená*, v. to harm; to hurt; to harass; to trouble; to torment.

آر *ár*, आर, H. n. f. A goad; sting; a spur of a cock; a kind of ladle used in sugar factories; shyness.

ار *ar*, आर, S. n. m. Spoke of a wheel.

أر *ura*, उर, S. n. m. The heart; the breast; the bosom. أرلانا—*láná*, उरलाना, v. to pet; to dally; to embrace; to fondle.

ار *ari*, अरि, S. n. m. A foe; an enemy.

ار *ar*, P. *conj.* If; granting that.

آرا *ará*, आरा, H. n. m. A saw; a cobbler's knife. آرا سر پر چل جانا—*sar par chal jáná*, v. to be tortured; to be tormented. آراکش—*kash*; n. a sawyer.

آرا *ará*, P. *part. adj.* Adorning; embellishing; gracing (*used as last member of compounds*), as

آرا جهان *jahán*—, &c. &c.

آرابه *arába*, P. n. m. A gun carriage; a wagon; a vehicle; a wheeled carriage.

آرآتا *arrátá*, आरता, H. n. m. A loud and prolonged sound as from the discharge of artillery, or the fall of building.

آرادت *irádat*, } A. n. m. Desire; mind; bent;
آرادة *irráda*, } fancy; design; purport; end;
intention; plan. آرادة کرنا—*karná*, v. to plan;
to mean; to intend; to devise; to design.

آرادتاً *irádatan*, A. *adv.* Intentionally; deliberately.

آرادھن *áráadhan*, आराधन, S. n. m. Worship; adoration; devotion; prayer; invocation.

آرادھنا *áráadhaná*, आराधना, H. v. To pray; to invoke; to supplicate; to worship; to adore.

آرارا *arará*, आरारा, (the most common form *karará*) H. n. m. The high steep bank of a river.

آراروت *arárot*, (*Corr.* of the English) Arrowroot.

آرازل *arázil*, A. n. m. (*Plu.* of آرز *Arzal*) Low, vile, vulgar people.

آراستگی *arástagi*, P. n. f. Preparation; decoration; arrangement; ornament; adornment; regularity.

آراسته *arásta*, A. *adj.* Prepared; adorned; decorated; bedecked; arranged; regular; embellished; equipped.

آراسته پیوسته *arásta pairásta*; P. *adj.* Bedecked; equipped.

آراضی *arází*, A. n. f. (*Plu.* of ارض *Arz*) Lands.

آراضی آبادی—*ábádí*, village sites. آراضی افتاده—*i-uftáda yá partí*, desolate or barren

lands. باغ آراضي—bāg, garden lands. آراضي—
 آراضي خراجي—jāngal, forest lands. آراضي دار—
 k̄hirājī, rent paying soil. دار آراضي—dār, a
 landholder. آراضي سير—arāzī-sir, sīr land.
 آراضي لاخراج معافي—lākhirāj mu'āfi rent-free
 lands. آراضي مالگذاري—mālguzārī, revenue
 paying lands. آراضي نو بار يا نو برآمد—i-nau
 barār yā nau barāmad, alluvial soil. آراضي وقف—
 waqf, endowed lands [grove.]

آرام آرام, S. n. m. A place of pleasure; garden;
 آرام آرام, P. n. m. Rest; repose; respite;
 alleviation; convenience; relief; ease;
 health; comfort; competency; sufficiency.
 آرام پانا—pānā, v. To regain health; to re-
 cover; to get all sorts of comfort. آرام ديننا—
 denā, v. to solace; to comfort; to ease; to
 relieve; to allay; to repose. آرام سے—se,
 adv. comfortably, with ease. آرام طلب—talab,
 adj. idle; lazy; indolent; inert. آرام کرسی
 arām-kursi; an easy chair. آرام کرنا—karnā,
 v. to rest; to recline; to go to bed. آرام گاه
 gāh, n. f. rest-house; bed chamber. آرام هونا—
 hona, hojana, to derive ease, com-
 fort; to become well; to recover.

آرامي آرامی, P. n. m. A lover of ease; adj. in-
 dolent; lazy. آراميده آراميدا, adj. reposing;
 at ease; at rest; quiet.

آرانا arrānā, آرانا, H. v. To produce a pro-
 longed sound; to force in.

آرانی آرامی, P. n. f. Embellishing; adorning.

آرایش آراميش, P. n. f. Ornament; adornment;
 arrangement; equipage; dressing; orna-
 mental trees, flowers, &c., of paper, &c.

آراب arab, آرَب, S. n. m. One hundred millions.
 آراب کهرب—kharab, آرَب, adj. countless; num-
 berless.

آراباب arbāb, A. n. m. (Plu. of راب Rab). Mem-
 bers; owners; lords; proprietors; officers.
 آراباب بصيرت—i-basīrat, prudent; sagacious.
 آراباب جاه—i-jāh, possessed of a rank or posi-
 tion. آراباب دانش—i-dānish, فهم—i-
 fahm, the intelligent. آراباب سخن—i-sukhan,
 orators; poets; the eloquent. آراباب شرع—
 i-shara', law officers. آراباب عدالت—i'adālat,
 officers of a court. آراباب معاني—i-ma'ānī,

spiritual persons. آراباب نشاٹا—i-nishāt, voca-
 lists; dancers; singers and musicians. آراباب
 آراباب—i-himmat, men of spirit; men of lofty
 aspirations.

آرابارانا arbaranā, آرَبَرَانَا, or آرَبَرَانَا harbaranā,
 हर्षवर्जना, H. v. To hasten; to be bewildered,
 to be embarrassed; to be agitated.

آرابار arba', A. adj. Four. آرابار عناء—arba-anāsir;
 the four elements: fire, water, earth and
 air.

آرابار اربعون arba'ūn, } A. adj. Forty.
 آرابار اربعين arba'in.

آرابال ārbal, आयुर्बल, S. n. f. Age; life.

آرابار ārpār, آرَبَرَا, H. adj. Pierced through;
 across; from one side to the other; through
 and through.

آرابان arpana, آرَبَان, S. n. m. A sacrifice; a gift;
 a charitable endowment; dedication; conse-
 cration. آرابان کرنا—karna, v. t. to present an
 offering.

آرابتا ārtā, آرَبَتَا, S. n. m. A ceremony per-
 formed in marriage among Hindūs (same as
 Arī).

آرابتابا irtibāt, A. n. m. Alliance; intercourse;
 friendship; familiarity; affinity.

آرابتجا irtijā, A. n. f. Hope.

آرابتحال irtihāl, A. n. m. Act of journeying;
 demise; expiration; death.

آرابتداد irtidād, A. n. m. Returning; rejecting;
 declining; resisting; refraction; recantation.

آرابتسام irtisām, A. n. m. Mark; design; paint-
 ing. [corruption.]

آرابتشا irtishā (rishwat), A. n. f. Bribery;
 آرابتشاش irtīāsh, } A. n. m. Quivering; shak-
 آرابتشاش irtī'āsh } ing; tremor.

آرابتفعا irtifā', A. n. m. Elevation; height;
 ascent; eminence; rise; grandeur; dignity;
 exaltation.

آرابتکاب irtikāb, A. n. m. Commission or per-
 petration (of crime); the undertaking (of an
 enterprise). آرابتکاب جرم—i-jurm, the perpetra-
 tion of an offence. آرابتکاب کرنا—karnā, v. to
 perpetrate or commit a crime; to undertake;
 to venture (on) an enterprise.

ارتوہ artha, अर्थ, S. n. m. Meaning ; significance ; interpretation ; motive ; purpose ; aim ; use ; account ; cause ; substance ; fortune ; sense ; profit ; sake. باتانہ—batáná, v. to elucidate ; to give the meaning (of) ; to interpret ; to explain. سیدہ—siddhi, n. accomplishment of one's purpose ; success.

ارتوات arthát, अर्थत्, H. adv. Namely ; to wit ; for instance ; that is to say ; *id est = i, e.*

ارتوی arthí, अर्थी, S. n. f. A bier on which a Hindu corpse is conveyed (*janáza*).

ارتویا arthiyá, अर्थिया, H. n. m. (same as aḥtiyá, आदतिया). Attendant ; dependent ; protege ; broker ; agent ; man of business.

آرتی ar̥tí, अरती, S. n. f. A religious ceremony performed by moving circularly, round the head of an image ; a five-wicked burning lamp, flour, and incense.

ارث irs, A. n. m. Succession ; inheritance.

ارج arj, P. n. f. Worth ; value ; honour. ارجمند—mand, honourable ; worthy ; learned ; unequalled ; happy ; beloved.

ارجاع irja', A. n. m. Causing to return ; bringing back ; instituting (a suit).

ارجل arjal, A. n. m. A horse having one foot white, which is regarded as a serious blemish ; a large-footed man.

ارجن arjan, अर्जन, H. n. m. Acquisition ; emolument ; earning ; profits.

ارجنا arjaná, अर्जना, H. v. To obtain ; to earn ; to get ; to acquire.

ارجهنا arjhná, अर्जना, H. v. (same as ulajhná) To be involved ; to be ravelled ; to wrangle unreasonable. [disgust ; nausea.

ارچی aruchi, अरुची, S. n. f. Aversion ; dislike ;

ارحام arhám, A. n. m. (Plu. of رحم Rihm) Wombs ; matrices ; relations by the mother's side. ارحام حقی—i-haqqi, n. m. the right of propinquity.

ارحم arham, A. adj. Most compassionate. ارحم الراحمین—ur-ráhmín, the most merciful of the merciful (attribute of God).

ارخا arkhá, A. n. m. Slackening ; loosening. ارخاء عمان—i-e'nán, n. m. letting loose the reigns ; unruliness.

آرد arád, P. n. m. Flour ; meal.

ارد بیگینی urdábegani, H. n. f. An armed female follower in a royal harem.

ارداس ardás, अरदास, H. n. f. (Corr. of عرض داشت 'Arzdushť) Representation ; petition ; request ; application ; offering (to a deity).

اردارا ardáwa, अरदावा, H. n. m. Coarsely ground grain given as food to cattle.

ارد گرد ird gird, A. adv. Around ; round about ; on all sides (*ás pas*).

اردالی ardali, अरदली, H. n. m. (Corr. of the English) An orderly ; a peon in regular attendance on an official.

أردو urdú, T. n. m. An army ; bivouac ; encampment ; market of a camp ; the Hindustáni language as spoken by the Mohamedans of India and by the Hindús who have intercourse with them. It is mixture of Hindi, Arabic and Persian—Hindi forming the base, and Arabic and Persian words and phrases the foreign importations. اردوئے معلی—i-mu'allá, n. m. the royal camp or army (generally means the city of Delhi or Sháhjahánábád). اردوئے معلی کی زبان—i-mu'allá kí zabán, n. f. the Hindustani language as spoken in Delhi ; the court language.

ارده اردة ardhá, अर्ध, S. adj. Half ; semi ; hemi. ارده چاند—chandra, half-moon, semi-circle ; ارده کبہ—kumbha, the sixth year fair.

اردهانگ ardháng, अर्धांग, S. n. m. Half the body ; hemiplegia. اردهانگ دھرنا—dharná, v. to assume a form half male and half female.

اردهانگی ardhángi, S. adj. Palsied ; paralytic ; a wife ; better half.

اردی urdi, } P. n. f. The second }
اردی بہشت urdí bihisht, } month of the Persians, corresponding to April. [despicable.

ارذل arzal, A. adj. Very base ; meanest ; most arázil, A. adj. Vile ; vulgar ; ignoble ; n. (Plu. of رذیل Rázil) The vulgar ; the ignoble.

ارز arz, P. n. m. Cost ; value ; reverence ; respect ; honour ; quantity. بازار—bázár, market value ; price current. ارز ارسال—irsál, n. m. invoice ; particulars of the despatch of treasure, &c.

ارز arž, A. n. m. Rice.

ارزام arzám, A. n. m. Murmur ; roar ; rattle ; noise ; crash ; clap ; peal (of thunder).

ارزان arzán, P. adj. Low priced ; cheap.

ارزانی arzání, P. n. f. Low price ; cheapness ; abundance of provisions. ارزانی ركهنا—rakhná, v. to present ; to give away ; to give gratuitously. ارزانی هونا—honá, v. to be conferred.

ارزاق arzaq, A. adj. Blue ; azure ; cerulean ; sky-coloured. ارزاق چشم—chashm, adj. blue-eyed ; cat's-eyed.

ارزان arzan, P. n. m. Millet ; a kind of grain.

ارزú arzú, P. n. f. Wish ; desire ; longing ; inclination ; solicitude ; yearning ; love ; presumption ; faith ; request ; entreaty ; want ; hope ; trust ; expectation. ارزú كرنá—karná, v. to incline ; to long for ; to desire. ارزú مند—mánd, adj. wishing ; desirous ; importunate ; eager ; aspiring ; intent on ; concerned. ارزú مندی—mandí, n. f. eagerness ; desire ; yearning ; wishfulness ; anxiety.

ارزیز arzíz, P. n. f. Tin ; lead.

ارزنگ arzang, P. n. m. The picture gallery of the famous Chinese painter Mání.

اراس aras, अस, S. adj. Juiceless ; insipid ; tasteless ; dull.

اراسا arusa arus, अरुसा, अरुस H. n. m. Name of a medicinal plant or tree.

ارسال irsál, A. n. m. Remittance ; act of sending cash. ارسال كرنá—karná, v. to remit ; to submit ; to send.

ارسطو arastú, for (ارسطا طالپس) Arustátális, P. n. m. The philosopher Aristotle.

ارسالان arsalán, T. n. m. Lion.

ارسی arsi, अरसी, H. n. f. A small mirror set in a ring worn by females on the thumb. ارسي مصحف—mushaf ; the marriage ceremony among Mohamedans, when the bridegroom reads a chapter in the Qur'an, and for the first time sees his wife's face in a glass.

ارشاد irshád, A. n. m. Dictum ; behest ; ordinance ; order ; command showing the right way ; will. ارشاد كرنá يا فرمانا—karná yá farmáná, v. to command ; to ordain ; to dictate ; to prescribe ; to desire ; to direct ; to bid.

ارشاد arshad, P. adj. Most honest.

ارشيد arashmíd, A. n. m. Archimedes.

ارض arz, A. n. f. The earth ; a portion of land ; country. [mundane.

ارضي arzi A. adj. Terrestrial ; earthly ;

ارگان urganún, G. n. m. An organ.

ارغوان arğawán, P. n. m. A plant whose flowers and fruits are of a purple colour ; purple colour. [crimson ; purple.

ارغوانی argawání, P. adj. Violet ; of a red colour ;

ارفاد irfáh, A. n. m. Conferring wealth ; comforting ; fostering ; enjoyment of calmness.

ارفاض arfaz, A. adj. An obdurate heretic ; a bigot.

ارفا' arfa', A. adj. Most eminent ; most elevated.

ارقام irqám, A. n. m. (Plu. of رقم Raqam). Act of writing ; figures ; numbers ; item. ارقام كرنá—karná, v. to pen ; to write. ارقام هونا—honá, v. to be penned ; to be written.

ارقان arqán, (also یرقان) A. n. m. Jaundice ; mildew or blight (in corn).

ارکاح arkáh, A. n. m. Narrow passes through mountains ; high rugged grounds.

ارکان arkán, A. n. m. (Plu. of ركن Rukn). Pillars ; stands ; props ; (Chem.) ingredients ; components. ارکان دولت—i-daulat, ministers of state ; nobles ; courtiers.

ارگانا arganá, अरगाना (अलगाना) H. v. To dispart ; to separate ; to disjoin ; to be disjoined ; to be segregated.

ارگانی argani } H. n. f. A rope extended between two pegs or upright poles and used for hanging clothes on.

إرام iram, A. n. m. A fabulous garden in Arabia ; Paradise. [breaths of dying persons.

ارماق armáq A. (Plu. of رماق Ramaq). The last

ارمان armán, P. n. m. Desire ; longing ; solicitude ; bent ; yearning ; regret ; contrition. ارمان نكلمانا—nikálná, to gratify one's ambition. ارمان ره جانا—rah jáná, v. to be disappointed of one's wish or hope.

ارمانی armání, P. adj. Aspiring ; inclined ; desirous ; hopeful.

آرامبھا arambha, आरम्भ, S. n. m. Commencement; beginning; prologue; exertion. آرَمبہ کَرنا—karná, v. to begin; to commence. [Jupiter.
 ارَمز urmaz, P. n. m. A name of the planet
 ارَمغان armagán, P. n. m. Gift; rarity; curiosity; a present. [rest; the dead.
 ارَمیدگان armídgán, P. n. m. Those who are at
 ارَمیدہ armída, adj. At ease; reposed; at rest.
 ارَن aruna, अरुण, S. n. m. The sun; the dawn of day; reddish brown colour. ارَنو دئے—oday, n. m. early dawn; daybreak.
 ارَنá } H. n. m. A wild
 ارَنابھائِسا } buffalo.
 ارَناب arnab, A. n. m. A hare; a rabbit.
 ارَنده arinda, P. n. m. Bearer; coolie; porter; carrier.
 ارَند la rand, अरंड, H. n. m. A tree from which castor oil is prepared (same as rendi); Ricinus communis. ارَنَد خَرَبُزَا—kharbúza; n. m. the Papita (Carica papaya).
 ارَنو arnava, S. n. m. Sea; main.
 ارَنی arní, अरनी, H. n. m. A female wild buffalo; a reed of which pipes are made. [boiled.
 ارَوا arwá, अरवा, H. n. m. Cleaned rice; not
 ارَوا ح arwáh, A. n. f. (Plu. of ح) Rûh. Spirits; souls.
 ارَوع aróg, P. n. m. A belching; eructation.
 ارَوك arog, अरोग, H. adj. Sound; hal; well.
 ارَوكيہ arógya, आरोग्य, S. n. m. Haleness; sanity; soundness; freedom from sickness.
 ارَوندھنا arúndhná, आरुंधना H. v. To choke; to suffocate.
 ارَوی arwí, अरवी, अरुवा, H. n. f. A kind of vegetable root used in food (ghuiyán, Beng. kachu).
 ارَآة árā H. } n. m. A saw. ارَآة سَر پَر چالانا—
 ارَآة arra, P. } sar par chalaná, v. to treat
 ارَآة كَش ará-kash, n. m. A sawyer.
 ارَهاٹ arhaṭ, अरहट, } H. n. m. A wheel for
 ارَهاٹ rahaṭ } raising water from a well.
 ارَهار arhar, H. n. f. A sort of pulse.

ارَھنا urihná, उरहना, (उलहना) H. n. m. Censure; rebuke; blame; complaint.
 ارَی arí, H. n. f. A small saw.
 ارَی arí, अरि, S. n. m. A foe; an enemy.
 ارَے are, अरे, } H. int. Ho! O! Sirrah!
 ارَی arí, अरी, }
 ارَے are, P. adv. Yes; yea.
 ارَیا ariyá, अरिया, H. n. m. A kind of gourd.
 ارَیب ureb, P. adj. Crooked; slanting; sloping; deceptive; crafty.
 ارَیت arítí, अरिति, S. n. f. Ill-manners; rudeness; discourtesy; incivility.
 ارَیہ arýa, आर्य, S. n. m. An Aryan.
 ارَآ ar, आड़, n. f. A fence; a wall; a shade; a curtain; protection; shelter; prevention; interception; impediments. ارَآ مِیسی—men, adv. behind; under cover; under the pretence of; lying in ambush. ارَآ ارَے árē ará, to come between; to protect; to shield; to interpose.
 ارَآ ar, H. n. f. Obduracy; stubbornness; obstinacy; barricade. ارَآ بَکنا—baṭ bakná, v. to talk nonsense; to rave.
 ارَآ ará, H. adj. Inclined; bent; athwart; diagonal; transverse; cross; oblique; crooked. ارَآ ارَے هاتَهه لينا árē háth lená, to chide; to scold; to upbraid; to run down.
 ارَآ arē waqt, difficulty; adversity; distress; complication.
 ارَآ urak, H. adj. Capable of flying.
 ارَآن urán, H. n. f. Act of flying; flight; spring; bound. ارَآن چَھو هُو جانا—urán chhú ho jáná, v. to disappear; to vanish; to be non est.
 ارَآن uráná, H. v. To cause to fly; to waste; to fritter away; to spend lavishly; to pilfer; to allure. ارَآن پَرانا—puráná, v. spend lavishly.
 ارَآن ليجانا—lejána, v. t. to run away with, to kidnap, to entice away.
 ارَآن aráná, H. v. To cause to stand or stop; to cause to check motion; to fasten one thing to another; to ram; to plug; to thrust.
 ارَآ uráú, उड़ाऊ, H. n. m. A spendthrift; a squanderer; a prodigal.

ازباز ar̄ baṛ, H. *n. m.* Meaningless words; *adj.*

irregular; uneven; craggy; rough. ازباز بکنا
—bakná, *v.* to speak heedlessly; to talk
wildly or idly.

ازبازگاز ar̄ baḡgá, ازبازگاز, H. *adj.* Bent; ragged;
rough; *n. m.* obstacle. ازبازگاز یا لگادینا—
lagáná ya lagádená, to place an obstacle.

ازبازج ازباز ar̄ baḡ jhaṛ, ازبازج, H. *n. m.* Fuss;
scuffle; struggle; necessity.

ازبازچالنا ur̄ chalná, H. *v.* To walk with a stately
step; to strut; to be conceited; to shog off.

ازبازچاپی ur̄tí puṛtí khabar, *n. f.* flying
report; rumour. ازبازچاپی—ur̄tí chiṛyá
pahchánná (Prov.) “To know a rook when he
is seen.”

ازباز urad, ازباز, H. *n. m.* A kind of pulse. ازباز
پاره کرم مارنا—paṛḡkar márná, *v.* to enchant; to
exorcise. ازباز کی سفیدی—kí safedí, *n.* the least
bit; the smallest particle.

ازباز uran, H. *n. m.* Flying; raging. ازباز انار—
aná, *n.* a kind of rocket. ازباز کھاٹولا—khaṭolá,
n. a flying car of fairy tales.

ازباز urná, H. *v.* To fly; to soar; to be very
fast; to be worn out or to fade; to evaporate;
to explode; to spread.

ازباز ar̄ná, H. *v.* To stop; to come to a standstill;
to oppose; to be obstinate; to gib (horse); to
meet. ازباز باہٹنا—ar̄ baiṭná, to beset importunately.
ازباز جانا—ar̄ jáná, to lay; bet; to
stake upon. ازباز اڑیل, *adj.* obstinate; perverse
headstrong; gibbing (horse) [to cover.

ازباز ar̄ná, *v.* To support; to defend; to guard.

ازبازگاز ar̄ baḡgá, ازبازگاز, H. *n. m.* A hindrance;
an obstruction; a mode of wrestling with the leg.
ازبازگاز پار چاھانا ar̄ baḡge paṛ chaḡháná, *v.* to have
an adversary in such a position (in wrestling)
that it is easy to throw him; to bring under
one's thumb. ازبازگاز لگانا ar̄ baḡgá lagáná, to cast a
hindrance; to oppose; to check. ازبازگاز پار مارنا
ar̄ baḡge paṛ márná, *v.* to throw one across the
hip.

ازباز آفرٹ, H. *n.* A peach. [vicinity; *adv.* near.

ازبازس ازبازس ar̄ baṛ saṛos, H. *n. m.* Neighbourhood;

ازبازس ur̄ḡháná, H. *v.* To cause to dress; to
cover a person with a sheet or mantle.

ازبازس ar̄ḡháí, H. *adj.* Two and a half.

ازبازس ar̄ḡhat, H. *n. f.* Agency; sale by commis-
sion; brokerage.

ازبازس ar̄ḡhatiyá, ازبازس, H. *n. m.* An agent;
a consignee; a broker; a correspondent.

ازبازس اورنا ur̄ḡháná, ازبازس اورنا, ازبازس اورنا,
اورنا, اورنا, H. *v.* To dress one's self; to
cover. *n. m.* a wrapper; a mantle; a sheet.

ازبازس ar̄ḡhaiyá H. *n. m.* A weight; a measure of
two seers and a half; table or pahárá of
2½ times.

ازباز az, P. *prep.* From; than; by; of; with. ازباز
—áḡ *adv.* thence; therefore. ازباز جاکہ—
jáki, *adv.* for as much as. ازباز آںجملہ—áḡ jumla,

of that number; out of that total or sum.
ازباز—bas, adequately; nevertheless; how-
ever; notwithstanding; although. ازباز—bar,

adv. by rote; by heart; by memory. ازباز جانب—
jánáb, *adv.* on the part of; in behalf; for;
from. ازباز احد—had, *adj.* boundless; indefinite;
infinite; surprising; beyond description. ازباز خود—
ḡhud, of one's own accord; voluntarily;
of himself; *suo moto.* ازباز خود رفتہ—ḡhud rafta-ḡhesh rafta, absent in mind;
distracted; cracked; out of one's self. ازباز راه—
rah, by the way of; *apropos.* ازباز رۈے—rúe,
by virtue of; by reason of; under. ازباز سر تا پا—
sar tá pá, from head to foot; from top to toe;
perfectly; wholly. ازباز سر نو—sar-i-nau; newly;
afresh; *de novo.*

ازباز آ; az; P. *n. f.* Avarice, greediness.

ازباز آزاد, P. *adj.* Free; at large; independent;
unchained; liberated; at ease; *n. m.* a class
of Mohammedan *faqirs*; a hermit; freeman;
a free-thinker. ازباز کرنا—karná, *v.* to liberate;
to set free; unfetter; to discharge. ازباز آراء
árádána ráe, *n. f.* free opinion; independ-
ent view.

آزادگی *ázádgi* } P. *n. f.* Freedom ; liberty ;
 آزادی *ázádi* } emancipation ; discharge ; en-
 largement.

آزار *ázár*, P. *n. m.* Illness ; ailment ; malady ;
 woe ; injury. آزارده *—dih*, *adj.* annoying ;
 irksome ; teasing. آزاردهی *—dihí*, *n. f.* bit-
 terness ; irksomeness. آزار دینا *—dená*, *v.* to
 torment ; to annoy ; to gall.

آزار *izár*, P. *n. f.* Trousers ; drawers. آزار بند *—*
 band, *n. m.* the string with which trousers
 are fastened or tied ; trouser string.

آزاری *ázári*, P. *adv.* Troubled ; afflicted ; sick ;
n. m. an ailing person.

آزای *izála*, A. *n. m.* Nullification ; revocation ;
 abolition ; removal. آزای حیثیت عرفی *—i-haisi-*
yat-'urfí, slander ; defamation. آزایه امآن *—*
amán, *n. m.* forfeiture.

آزای *azán*, P. *adv.* From that ; therefore.

آزاد *azdar*, P. *adj.* Worthy ; suitable ; fit ; proper.

آزادگی *azdará*, A. *n. m.* Matrimony ; espousal ;
 nuptials. ازدواج بهیات زوجة *—ba hayát-i-zauja*,
n. m. bigamy. [augmentation.

آزادگی *azdiyád*. A. *n. m.* Increase ; enlargement ;

آزردگی *ázurdagi*, P. *n. f.* Woe ; calamity ; dis-
 tress ; dissatisfaction ; trouble.

آزرده *ázurda*, P. *adj.* Annoyed ; dejected ; dis-
 satisfied ; troubled ; uneasy ; sorry ; gloomy.
 آزرده دل *—khátir*, *—dil*, dejected ;
 troubled in mind ; displeased ; annoyed ; gloo-
 my ; sorrowful ; desponding. آزرده خاطر *—*
khátrí, *n. f.* dejection ; annoyance ; sadness.

آزرده کربنا *—karná*, *v.* to displease ; to annoy ;
 to afflict ; to trouble. [pure, limpid water.

آزرق *azraq*, A. *adj.* Blue ; cerulean ; cat's-eyed ;

آزقة *ázqa*, } A. *n. m.* Food ; sustenance.
 آزرقة *ázúqa*, }

آزک تزک *uzak tazak*, T. *n. m.* Ostentation ; show ;
 parade ; pageantry ; the king's seal.

آزل *azal*, A. *n. f.* Beginning ; source ; origin ;
 eternity. روز آزل *roz-i—*, *n. m.* the day of one's
 birth on which one's destiny is registered.

آزلی *azalí*, A. *adj.* Perpetual ; eternal ; unending.

آزلیات *azaliyat*, A. *n. f.* Eternal existence.

آزمانا *ázmáná*, P. *v.* To test ; to scrutinise ;
 to try ; to prove.

آزمایش *ázmáish*, } P. *n. f.* Experiment ; test ;
 آزمودگی *ázmúdgí*, } assay ; examination ; trial ;
 proof.

آزمانه *azmana*, A. *n. m.* (Plu. of زمانه *Zamána*).
 Times. آزمانه ثلاثه *—i-salása*, the three times,
viz., the present, past and future.

آزموده *ázmúda*, P. *part.* Experienced ; tried ;
 scrutinised. آزموده کار *—kár*, experienced in
 business ; skilled ; practised.

آزواج *azwáj*, A. *n. f.* (Plu. of زوجة *Zauj*
yá Zauju). Spouses ; couples.

آزوقه *azúqa*, A. *n. m.* Supplies of provision ;
 food ; livelihood.

آزدهام *izdahám*, A. *n. m.* A concourse ; a rab-
 ble ; a throng ; a mob ; a collection.

آزدر *azhdar* } P. *n. m.* A dragon ; a winged
 آزداه *azhdahá*, } serpent ; a large serpent ;
 boa constrictor. [metal.

آزدهات *azhdhát*, P. *n. m.* Bell metal ; mixed

آس *is*, इष, H. *pron.* This. آس تالك *—talak*, to
 this extent ; so much. آس پار *—pár*, this side ;
 this bank (of a river). آس پر *—par*, for this
 reason ; wherefore ; hence ; on this. آس پر بهی *—*
par bhí, moreover ; notwithstanding ; even
 on this. آس حالت معین *—halat men*, under these
 circumstances ; in this case. آس قدر *—qadr* ;
 as this ; this much ; so many ; to this extent.
 آس اثناء معین *—asná men*, *adv.* meanwhile ;
 meantime.

آس *us*, P. *pron.* That ; him ; her ; it. آس پر *—*
par, *adv.* upon that ; thereafter ; upon which.

آس وقت *—waqt*, *adv.* at which time ; on that
 occasion ; at that moment. آس معین *—men*,
adv. in the interim ; in the meantime.

آس *ás*, A. *n. m.* Myrtle.

آس *ás* आस } H. *n. f.* Hope ; expecta-
 آसा *ásá* आसा (आशा) } tion ; faith ; assurance ;
 confidence, protection ; shelter ; refuge
 support ; stay ; anchor ; mainstay ;

آس تو تنا —*ás tutná*; to lose hope; to become despondent.

اساتذہ *asátizá*, A. n. m. (Plu. of استاد *Ustád*) Teachers; masters.

اسادہ *asádh*, असाध, H. *adj.* Ill-disposed; malevolent; stealing; light fingered; inactive; indolent; idle; incurable; fatal.

اسادھیہ *asádhyá*, असाध्य, S. *adj.* Feeble; nerveless; debilitated; impossible; remediless; irrecoverable.

اسار *asár*, असार, S. *adj.* Hollow; pithless; unsubstantial; silly; indiscreet.

اسارا *usára*, H. n. m. A shed; a vestibule; porch; portico; verandah.

اسارہ *asárh*, असाढ़, H. n. m. The third solar month of the Hindus; June-July.

اسارہی *asárhí*, असाढ़ी, H. n. f. The harvest of *Asárh*.

اساس *usás*, H. n. f. Respiration; breath; sigh; groan.

اساس *asás*, A. n. f. Plinth; base; foundation.

اساکشات *asákshát*, असाक्षात्, S. *adj.* and *adv.* Not manifest; invisible; not openly or manifestly; unperceived.

اساکھ *asákh*, असाख, H. *adj.* Without imputation; weightless; without credit.

اسامی *asámi*, A. n. f. (Plu. of اسماء *which is itself Plu. of اسم*). Names; appointment; post; a cultivator; a tenant; a debtor; a culprit; a defendant. —*asámi murúsí*, a hereditary tenant. —*páhi kásht*, a non-resident cultivator who has no hereditary rights in the land he cultivates; a tenant at will. —*chhaparband*, a resident cultivator. —*dakhilkár*, occupancy tenant. —*sáqit-ul-milkiyat*, exproprietary tenant. —*ba-sharah mu'ayan*, fixed-rate tenant. —*shikmi*; sub-tenant. —*khari*; a good pay-master. —*moti* —; a rich man.

آسان *ásán*, P. *adj.* Facile; light; easy. اسان *karná*—*karná*, to expedite; to ease; to smooth; to disentangle.

آسانی *ásáni* } P. n. f. Ease; facility; }
آسانیات *ásániyat* } smoothness; convenience.

آسودھانتا *asáwdhántá*, असावधानता, S. n. f. Carelessness; inattention; negligence.

آسوانت *asáwant* असावन्त, *adj.* Fearful; despicable; timid; unquiet; restless.

آسایش *ásáish*, P. n. f. Respite; quietness; calm; facility; repose; base; tranquillity.

اسباب *asbáb*, A. n. m. (Plu. of سبب *Sabab*).

Causes; reasons; motives; property; commodity; movables; goods; tools; chattels; furniture; luggage; equipage; necessaries. —*i-jangí*, warlike provisions; ammunition; military stores. —*i-khánadári*, n. m. household effects. —*i-safar*, n. m. travelling requisites. —*zaráat*, agricultural implements.

اسباق *asbaq*, A. *adj.* Super-excellent; exquisite; old times; times gone by.

اسبوع *usbú*, A. n. m. A week.

اَشْبُه *a-shubha*, अशुभ, S. *adj.* Bad; unfavourable; inauspicious; unlucky.

اسبوہیتا *asabhyatá*, असभ्यता, S. n. f. Rudeness; impoliteness; barbarity.

اسب *asp*, P. n. m. A horse; the knight at chess.

اسپات *ispát*, इस्पात, H. n. m. Steel (*faulád*).

آس پاس *ás pás*, H. n. m. Neighbourhood; vicinity; closeness; circuit; *adv.* about; on every side; right and left.

اسپرش *asparsha*, असृश्य, S. n. m. Touch; contact; the state of a Hindu after bathing previous to worship or eating during which it is unlawful for him to touch any one.

اسپر مول *isparmúl*, इसपरमूल, H. n. m. The plant of Indian birthwort; *Arstolochia Indico*. (It is said to be a valuable antidote to snake bites, used externally and internally)—also called:—*[isar-mul, isar-mel, asarvel, asarmel]*,

آسپشت *aspasht*, अस्पष्ट, S. *adj.* Indistinct ; unintelligible.

اسپغول *isapgol*, P. *n. m.* Seed of fleawort or plantain.

اسپند *ispand*, P. *n. m.* Seed of wild rue or a species of mustard seed, burnt as a charm to drive away evil spirits.

است *ast*, अस्त, H. *n. m.* Setting (of the sun or other luminary). است هونا—*honá*, *v.* to set (the sun); to sink; to go down; to vanish.

است *a-sat*, असत, (असत्य) H. *adj.* False; untrue; fictitious; not genuine; unholy; impious; spurious; delusive; unjust; wrong; evil.

استاد *istád*, P. *n. f.* The act of standing; *part.* standing; raised up; upright; rampant.

استاد *ustad*, A. *n. m.* A skilful man; a genius; a master; an instructor; a tutor; a preceptor; a professor; an expert.

استادگی *istádgí*, P. *n. f.* Standing; waiting; stop; stay; raising; erection; opposition; stand; constancy; resistance. [standing.

استادا *istáda*, P. *adj.* Raised up; rampant;

استادی *ustadí*, P. *n. f.* Instruction; training; teachership; skilfulness; tactics; ingenuity; mastery; dexterity; *finesse adj.* finished; masterly.

آستان *ástán*, } P. *n. m.* A threshold; a hermit's residence
آستانه *ástána*, }
بوسی *bosí*, kissing the threshold; paying one's respects.

استبرا *istibra*, A. *n. m.* Purifying; winding up of a business.

استبرق *istabraq*, A. *n. m.* Silk cloth; satin (particularly green, *dhup chhadon*).

استوتا *astuta*, अस्तुत, (स्तुति) H. *n. f.* Commendation; encomium; enlogium; panegyric; a prayer.

استتار *istitár*, A. *n. m.* Hiding; secrecy; concealment.

استیصال *istisqál*, A. *n. m.* Importunity; annoyance; irksomeness; heaviness; trouble.

استیسنه *istisná*, A. *n. m.* Exception; distinction; Dentronomy (the name of the 5th book of the *Tauret*).

استیجاب *istijabat*, A. *n. f.* Acceptance; hearing and accepting (prayers, requests, applications, &c.) [ging permission.

استیجازت *istijázat*, A. *n. f.* Asking leave; begging.

استیجلاب *istijláb*, A. *n. m.* Attraction.

استیهباب *istihbáb*, A. *n. m.* Making friendship; work of supererogation.

استیحصال *istahsál*, A. *n. m.* Acquisition; gain; profit. استیحصال بالجبر—*i-bil jabr*, extortion; unlawful exaction. استیحصال ناجایز—*i-nájáez*, a wrongful gain or acquisition.

استیحصان *istahsán*, A. *n. m.* Approving; praising; lenient interpretation. [ing before.

استیحصا *istihzá*, A. *n. m.* Sending for; summoning.

استیحقار *istihqár*, A. *n. m.* Scorning; disdain; despising; holding in contempt; vilifying.

استیحقاق *istihqáq*, A. *n. m.* Claim; right; title; privilege; merit. استیحقاق اعداء وراثت—*i-'adá-i-wirásat*, reversionary title. استیحقاق امتناع—*i-imtiná'*, a right of *veto*. استیحقاق انفك ك رهـ *i-infikák-i-rihan*, equity of redemption of a mortgage. استیحقاق تركه—*i-tarka*, right of inheritance or succession. استیحقاق تقديم خریداری—*i-taqdim-i-gharidari*, right of pre-emption.

استیحقاق جايز—*i-jaiz*, a valid right of title. استیحقاق خود حفاظت خود اختیاری—*i-hifázat-i-ghud-eqhtiyári*, right of private defence.

استیحقاق حین حیاتی—*hin hayáti*, a life-interest. استیحقاق دائمی—*dáimí*, permanent tenure, perpetual right. استیحقاق دعوی—*i-dawa*, preferential claim. استیحقاق ذاتی—*zátí*, personal interest or privilege. استیحقاق شفـ *i-shufá'*, a pre-emption right or title. استیحقاق غیر مادی—*gair máddí*, incorporeal right. استیحقاق قائم بالوجود—*qáim-i-bil wajúd*, an inchoate right. استیحقاق قبضه—*i-qábza*, right of ownership or possession. استیحقاق قدامت—*qadamat*, prescriptive right. استیحقاق مالکانه—*i-málkána*, proprietary title. استیحقاق مرتبہنی—*i-murtahiní*, a mortgage right or title. استیحقاق مستقل—*mustaqil*, a permanent right or interest. استیحقاق نالش—*i-nálsh*, a right to sue. استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استیحقاق وراثت—*i-wirásat*, right to inheritance.

استحلاف *istihláf* (*inf. of* حلف *Halaf*). A. n. m. Causing to swear; exacting an oath.

استخارة *istikhára*, A. n. m. Omination; divination by a book; judging from omens or augury.

استخدام *istikhdám*, A. n. m. Using; engaging; applying for employment; making use of another's labour.

استخراج *istikhráj*, A. n. m. Ejection; deportation; extradition; refusal; expulsion; taking out; removal; extraction.

استحفاف *istikhfáf*, A. n. m. Holding in slight esteem; disdain; vilifying; treating with contempt. [liberty.]

استخلاص *istikhlás*, A. n. m. Discharge; release;

استخوان *ustakhwán*, P. n. m. A bone; the stone of fruits. استخوان بند—*band*, n. m. splint or fillet for tying up a broken bone.

استدامت *istidamat*, A. n. f. Trying to be constant; firmness; steadiness; deligence; assiduity.

استدان *istidánat*, A. n. f. Borrowing; contracting a debt; limited liability of a partner in business.

استدراك *istidrak*, A. n. m. Getting to; attaining; overtaking; comprehending; obtaining.

استدعا *istidu'á*, A. n. f. Request; prayer; petition; entreaty; solicitation; supplication.

استدلال *istidlál*, A. n. m. Proof; reason; demonstration. استدلال کرنا—*karná*, to rely; to insist.

استر *astar*, अस्त्र, S. n. m. A projectile weapon; arms in general. استر دھاری—*dhári*, n. an armed person. استر وديا—*vidyá*, n. the military science. استر ھين—*hin*, *adv.* unarmed; defenceless.

استر *astar*, P. n. m. Lining; priming; mordant. استر کاری—*kári*, coating; plastering. استر کاری کرنا—*kári karná*, to plaster.

استراحت *istirahat*, A. n. f. Peace, relief; repose; quietness; sleep. [repeal; setting aside.]

استرداد *istirdád*, A. n. m. Reversal; revocation;

استرضا *istirzá*, A. n. f. Seeking to please; assent; willingness; consent (*razá mandí*).

استرا *ustará*, उस्तरा, H. } n. m. A razor.
استرة *ustura*, P. }

استری *istri*, स्त्री, S. n. f. A female in general; wife. استری دھن—*dhan*, wife's property or paraphernalia.

استری *istri*, स्तிரی, H. n. f. A smoothing iron. استری کرنا—*karná*, to smooth with an iron; to iron.

استسعاد *istis'ád*, A. n. m. Desiring happiness; being fortunate; conceiving well of anything.

استسقاء *istisqá*, A. n. m. Dropsy. استسقاء زقی—*i-ziqqá*, dropsy of the whole body; *Anisarca*. استسقاء طبلی—*i-tablí*, tympany.

استشهاد *istishhád*, A. n. m. Citing witnesses; producing evidence; sacrificing life for religion; martyrdom. [sing into service.]

استصناع *istisná'*, A. n. m. Forced labour; pressing. استصواب *istiswáb*, A. n. m. Commendation; approving; advice; counsel; reference. استصواب کرنا—*karná*, to refer; to take advice.

استطاعت *istitá'at*, A. n. f. Power; possibility; potentiality; dependence; submission; compliance with command.

استظهار *istizhár*, A. n. m. Beseeking help; calling to mind or memory; recollecting.

استعارة *isti'ára*, A. n. m. Borrowing a loan (*'ariyat*); (*Rhet.*) a metaphor; figurative expression. استعارة کرنا—*karná*, to crave; to solicit.

استعانت *isti'ánat*, A. n. f. Beseeking help; soliciting aid; succour; relief.

استعجال *ista'jal*, A. n. m. Quickening; haste; despatch.

استعداد *ista'dád*, A. n. f. Competency; means; proficiency; ability; ingenuity; talents; mental power; aptitude.

استغفا *istá'fá*, A. n. m. Resignation (of an office); asking pardon; deprecating; relinquishment; the deed of relinquishment. استغفا دینا—*dená*, to resign, to tender (one's) resignation.

استعلاء *ista'lá*, A. n. m. Supremacy; elevation; seeking promotion.

استعمال *ista'mal*, A. n. m. Use; employment; application; usage; habit; operation. استعمال کرنا—*karná*, *v.* to use; to apply.

استعمالي *ista'máli*, A. *adj.* Employed; used up; old; worn; second hand; customary; practical.

استغاثه *istigása*, A. *n. m.* Demanding justice or help; complaint: suit. استغاثه دایر کرنا—*dáer karná*, to file a suit.

استغراب *istigráb*, A. *n. m.* Marvel; bewilderment; amazement; surprise; great admiration; wonder.

استغراق *istigráq*, A. *n. m.* A lien, a mortgage, absorption; drowning; immersion; *adj.* merged; absorbed (in); immersed in; engrossed (with.)

استغفار *istigfár*, A. *n. m.* Deprecation; asking forgiveness; craving mercy; begging pardon; deliverance; riddance. استغفار کرنا—*karná*, to beg pardon of God; to implore; to ask for mercy.

استغفرالله *astagfirallah*, A. *int.* I entreat forgiveness of God. *An expression signifying 'God forbid'.*

استغنا *istigná*, A. *n. m.* Contentment; independence (in point of wealth); ability to dispense with. [attainment; gain.]

استفاده *istifáda*, A. *n. m.* Seeking profit (*fáida*);

استفتا *istiftá*, A. *n. m.* Seeking legal advice; consulting a learned man; taking an opinion.

استفراغ *istifrág*, A. *n. m.* Emitting; rejecting; vomiting.

استفسار *istifsár*, A. *n. m.* Reference; searching for information; enquiry; deposition; examination. استفسار کرنا—*karná*, to make a reference (to); to examine; to call for information; to question.

استفهام *istifhám*, A. *n. m.* Demanding an explanation; enquiry; investigation; question. حرف استفهام *harf-i—*(*Gram.*) an interrogative (particle or pronoun).

استفهامی *istifhámí*,
استفهامی *istifhámíya* } A. *adj.* Interrogative.

استقامت *istiqámat*, A. *n. f.* Standing straight; rectitude; uprightness; inflexibility; steadiness; duration; residence; stability; firmness; constancy.

استقبال *istiqbál*, A. *n. m.* Reception; the ceremony of welcoming a visitor; the future (tense). استقبال کرنا—*karná*, to advance to meet a person; to receive (a person); to welcome (a guest).

استقرار *istiqrár*, A. *n. m.* Declaration; ratification; confirmation; settlement; recognition. استقرار حقیقت—*i-haqiyat*, declaration of title.

استقلال *istiqlál*, A. *n. m.* Constancy; stability; steadiness; fortitude; resolution; firmness; energy; perseverance.

آستیک *ástik*, आस्तिक, S. *adj.* Religious; pious; devout; *n.* a believer in a (deity, future state, &c.).

استیکبار *istikbár*, A. *n. m.* Haughtiness; vain-glory; presumption; pride; conceit.

استیکراه *istikráh*, A. *n. m.* Dislike; demur; repugnance; abhorrence. [tion (of anything).]

استیکشاف *istiksháf*, A. *n. m.* Disclosure or revelation.

استیکمال *istikmál*, A. *n. m.* Accomplishment; bringing to perfection. [essentially.]

استیلازم *istilzám*, A. *n. m.* Rendering necessary;

استیماع *istimá'*, A. *n. m.* Hearing; audition; listening; news; hearsay; rumour; evidence; indirect evidence.

استیمالات *istimálat*, A. *n. f.* Relief; solace; encouragement; refreshment; caressing; consoling.

استمبها *istambha*, स्तम्भ, H. *n. m.* The stem of a shaft; pillar; pedestal; column; pole; post.

استیمتأ *istimtá'*, A. *n. m.* Enjoying; reaping the fruits (of); pleasure; celebration; the solemnities of the festival of Mecca. [help.]

استیمداد *istimdáda*, A. *n. m.* Soliciting aid; asking

استیمرار *istimrára*, A. *n. m.* Continuance; repetition; perpetuity. استیمرار دار—*dár*, the holder of a perpetual farm or lease; permanent tenure-holder.

استیمراری *istimrári*, A. *adj.* Uninterrupted; lasting; perpetual; meeting. استیمراری پتہ—*patṭa*, a perpetual lease or farm. استیمراری جمع—*jama'*, fixed or perpetual assessment of rent. استیمراری جوت—*jot*, fixed or permanent tenant. استیمراری بندوبست *bandobast*—*n. m.* permanent settlement.

استیمزاج *istimzáj*, A. *n. m.* Sounding the disposition or inclination; seeking to discover one's purpose or wish (*mizáj*). [out; extraction.]

استنباط *istinbát*, A. *n. m.* Deduction; taking

استنجبا istinjá, A. n. m. Purification after making water. استنجی کا ڈھیلہ—istinja ká dhelá, a clod of earth or clay (used for purification), hence, anything worthless.

استنكار istinkár, A. n. m. Denying; refusing to acknowledge.

استنشاق istinsháq, A. n. m. Throwing water up the nostrils when performing the *Wazú*; snuffing up odours, etc.

استوا istiwá, A. n. Parallelism; evenness; parity. خط استوا khat—, the equator; the equinoctial line.

استوار ustuwár, P. adj. Mighty; vigorous; sturdy; compact; secure; steady; strong; bold; resolute; stable; firm.

استواری ustuwári, P. n. f. Force; vigour; stadiness; boldness; constancy; solidity; determination; strength; firmness.

استھ استھي, अस्थि, S. n. m. Bone (*haqqí*). استھوہ—bhagg, fracture of the bones. استھوہ پنجر—panjar, skeleton. استھوہ رت—wat, bony; like bone.

استھاپنا H. asthápna, स्थापना S. n. m. Establishment; appointment; setting up; erecting. استھاپن کرنا—karna, to establish, to dedicate, to fix, to set.

استھان asthán, स्थान, H. n. m. Locality; quarters; place; situation; station; abode; temple; shrine. استھان دینا—dená, to locate; to lodge.

استھر isthir, स्थिर, H. adj. Settled; steadfast; steady; fast; permanent. استھر ہونا—honá, v. to be settled; to be steady.

استھرا asthira, अस्थिर, S. adj. Unsettled; unquiet; inconstant; uncertain.

استھرتا isthirtá, स्थिरता, H. n. f. Quiet; peace; constancy; fixedness.

استھزہ istahzá, A. n. m. Redicule; monkey; jeer; joke; rebuke; derision; scorn; scoff.

استھل asthal, स्थल, H. n. m. Place; dry or firm ground, land; soil; site.

استھلاک istihlák, A. n. m. Destroying; desolating; ruining (*halák*).

استہ aste, आस्ते, (आहिस्ता) (*Corr. of آہستہ Ahista*). H. adv. Gently; softly; slowly; quietly.

استیصال istisál, A. n. m. Uprooting; eradication; pulling down; demolishing; extirpating; destruction; devastation.

استیعاب isti'áb, A. n. m. Laying hold of the whole; eradicating.

استیفا istifá, A. n. m. Satisfying fully; disowning; resigning (an appointment).

استیلا istíla, A. n. m. Mastery; victory; superiority; supremacy; predominance; conquest; rule.

آستین ástin, P. n. f. A sleeve; cuff. آستین چڑھانا—chaháná, to be prepared or ready (for); to menace; to threaten. آستین کا سانپ—ká sánp, n. m. domestic enemy in the guise of a friend.

استیناس istinás, A. n. m. Intercourse; fellowship; acquaintance; familiarity; intimacy.

استیرادی asatyaw.dí, असत्यवादी, S. adj. Liar; a faithless speaker.

استامپ isámpp, H. n. m. (*Corr. of the English Stamp*). استامپ عدالتی—i-'adáltí, judicial stamp; court-fee stamp. استامپ منقش—i-munaqqash, embossed stamp, فروش استامپ ferech a stamp-vendor.

استجان asajjan, असज्जन, S. adj. Not of a respectable lineage; not virtuous; not good.

استجنا usijná, उसिजना, (उसीजना) H. v. To boil; to stew; to parboil; to simmer.

استحاق isháq, A. n. m. prop. Issac.

اسد asad, A. n. m. The lion: (*Astro.*) Leo the fifth sign of the Zodiac.

اسدم isdam, H. P. adv. Presently; forthwith; this moment; immediately.

اسدھا asidha, असिद्ध, S. adj. Unaccomplished; invalid; untrue; immature; unproved; incomplete.

unclean; unchaste; mistaken; erroneous.

اسر asur, असुर, S. a. m. A demon; fiend; evil spirit

آسرا ásrá, आसरा, (आश्रय) H. n. m. Trust; reliance; means of protection; confidence; faith; assurance; expectation; sanctuary; retreat; refuge; shelter; means of subsistence; abode. آسرا تاکنا—takná-

dhundhná, to look for help or support (from); to seek succour from. - آسرا توژنا - tuřna-tuřjana, to lose (one's) hope, to be disappointed in (one's) expectations. آسرا دینا—dená, to give hope; to raise expectations. آسرا کرنا—karná, to expect; to confide in; to depend on.

اسرار asrár, A. n. m. (*Plu. of سر Sir*). Secrets; problems; confidential concerns.

اسرار isrár, A. n. m. Hiding; mystery; concealment; secrecy; obduracy; pertinacity; influence of an evil spirit.

اسراف isráf, A. n. m. Profusion; waste; squandering; extravagance; prodigality; abuse of wealth.

اسرافیل isráfál, A. n. m. The name of an angel who will sound the last trumpet on the day of resurrection.

اسرباد ásirbád, आसीर्बाद्, (अशिर्बाद्) H. n. m. Benediction; blessing; thanks; praise.

اسرنج isrinj, P. n. m. Minium; cinnabar; vermilion (*shangraf*)

اسطرح is-tarah, } A. H. adv. So; thus;
اسطرح سے, } in this manner.

استابل istabal, A. n. m. Stable.

اسعد as'ad, A. adj. Very lucky; very happy.

اسفار asfár, A. n. m. (*Plu. of سفر Safar*). Books; volumes; rolls; registers; journeys; voyages.

اسفاناج isfanáj, P. n. m. Spinach.

اسفل asfal, A. adj. The meanest; the lowest; infernal; inferior; nethermost. اسفل السافلین—safal us-sáflin, the lowest hell.

اسفنج isfanj, Gr. n. m. Sponge.

اسفندیار isfandyár, P. n. m. prop. Name of the son of Gistasp of the great dynasty of Persian Kings.

اسقاط isqát, A. n. m. Miscarriage; abortion; taking away; causing to fall. اسقاط حمل—hamal, n. m. causing to miscarry, procuring an abortion.

استقدر isqadar, H. A. adv. To this degree; so much; thus.

أسقف usquf, A. n. m. A bishop.

اسقیل isqíl, A. n. m. A squill; a wild onion.

اسکات iskát, P. n. f. Allaying; assuaging; softening; calming.

أسکانا uskáná, उसकाना, H. v. To kindle fire; to illuminate a candle; to incite; to stir; to rouse.

اسکندر iskandar, A. n. m. Alexander.

اسکندھا iskandha, स्कंध, S. n. m. A section of a book; chapter.

اسلاف asláf, n. (*Plu. of سلاف Salaf*) Forefathers; elders; ancestors.

اسلام islám, A. n. m. The Muhammadan religion. آسلا م لانا—láná, to be converted to Mohamedanism.

اسلامی islámí, A. adj. Pertaining to Mohamedan religion.

اسلحه aslaha, A. n. m. (*Plu. of سلاح Siláh*) Arms; armour. اسلحه خانه—aslaha khána, n. m. arsenal; armoury (*silah khána*).

اسلوب uslúb, A. n. m. Way; manner; mode; method; form; shape (of); arrangement. اسلوب دار - خوش اسلوب—dár, khush—adj. methodical; elegant; well-regulated; well-arranged.

اسلیه isliye, H. conj. Hence; therefore.

اسم ism, A. n. m. Name; denomination; (*Gram.*) a noun. اسم استفهام—i-istifhám, (*Gram.*) Interrogative pronoun. اشاره—i-ishára, (*Gram.*) Demonstrative pronoun. اسم اعظم—i-á'zam, the name of the Almighty. اسم جا مسمى—i-bá musammá, name coinciding with the named. اسم تکثیر—i-tankfir, (*Gram.*) Indefinite pronoun. اسم جامد—i-jámid, (*Gram.*) a Primitive noun. اسم جلالی—jaláli, the illustrious name of God. اسم جمالی—jamáli, a name importing something good. اسم جنس—i-jins, (*Gram.*) generic noun; a noun appellative. اسم حالیه—i-háliá, (*Gram.*) the present participle. اسم صفت—i-sifat, (*Gram.*) an Adjective.

—i-zamír, (Gram.) Personal Pronoun. اسم ضمیر
—i-fá'í, (Gram.) the Subject. اسم فاعل
—i-farzí, *Nom de plume*; assumed name.
—kullí, (Gram.) Common noun. اسم کلی
—i-ma'rifa, (Gram.) Proper Nuon. اسم معرفه
—i-maf'úl, (Gram.) the Passive Participle. اسم مفعول
—i-mausúl, (Gram.) Relative Pronoun. اسم نوبسی
—i-nawisí, a roll of names; a file; a catalogue. اسم نویسی گواہان
—i-navisi-gawáhán, a petition to summon witnesses; a list of witnesses. اسم وار
according to the order of individual names.

asmá, A. (*Plu. of اسم Ism*). Names. اسماء
—i-hasná—i-'ozmá, the ninety-nine names of epithets of God.

asmár, A. *n. m.* (*Plu. of اسم Samar*). Nightly talks or conversations.

asmá', A. (*Plu. of اسم Sama'*). Ears.

asammán, असमान, S. *n. m.* Disrespect; disgrace.

ásmán, P. *n. m.* The sky; firmament; celestial order; heaven. اسمان پر چڑھانا
—par charáháná, *v.* to fawn upon; to wheedle; to praise highly; to cajole. اسمان پر دماغ ہونا
—par dimág honá, to be very vain or proud; to give oneself airs. اسمان ٹوٹ پڑنا
—tút pagná, to be overwhelmed with trouble. اسمان جاہ
—jáh, *adj.* of elevated dignity; of exalted rank or position. اسمان سے گرنا
—se gírná, *v.* to fall from the sky; to be gained suddenly and unexpectedly without labour or care. اسمان
—se báten karná, *v.* to be very high; to exceed in height or appearance. اسمان میں توہیکاری لگانا
—men theglí lagána, *v.* to be expert at anything; to accomplish the most difficult task. اسمان گیزی
—gírí, *n. f.* a cloth fastened to the ceiling of a room; a cope.

ásmání, P. *adj.* Celestial; heavenly; divine; unexpected; azure. اسمانی بلا گرنا
—balá gírná, *v.* to be overtaken by misfortunes or troubled from heaven. اسمانی پلانا
—piláná, *v.* to make (a person) intoxicated (specially with *bhang*). اسمانی نرمانی (Court) unfore-

seen disaster. اسمانی کتاب *n.* book from heaven, *v. e.*, Bible or Qurán.

assambhava, असम्भव, S. *adj.* Unusual; rare; unlikely; absurd; impossible; inconceivable.

asámarth, असामर्थ, S. *adj.* Incapable; dowerless; impotent; feeble; unable; incompetent.

ismirití, स्मृति, S. *n. f.* The Hindu law.

a-samaratha, असमर्थ, S. *adj.* Impotent; weak; feeble; powerless.

asamay, असमय, S. *adj.* Unseasonable; untimely.

ásan, S. *n. m.* A place; a seat; a cushion; a small carpet; mattress or deer-skin to sit on; stay; situation; station; posture; sitting; the inner or upper part of the thigh; the withers of an elephant; rider's or driver's seat. آسان تلے آنا
—tale áná, *v.* to come under control. آسان جوڑنا
—jorná, *v.* to have a good grip with thighs; to sit firmly. آسان جمانا
—jamáná, *v.* to sit on the hams. آسان ڈگنا
—digná, to shake the virtue (of), to shake the firm sitting of position. آسان ڈولنا
—dolná, *v.* to intercede on behalf of one in distress. آسان سے آسان جوڑنا
—se—jorná, *v.* to sit close in contact with another person. آسان لگانا
—lagáná, *v.* to establish; to stay; to sit stubbornly in a given attitude till one's object is gained. آسان مارنا
—márná, *v.* to sit on the thighs like *jogis*; to sit firmly on horseback.

ásin, S. *n. m.* The sixth Hindu month; September-October.

asan, असन, (अरान) S. *n. m.* Eating. اسن پسن
—basan, food and clothing.

usná, उसना, H. *adj.* Boiled.

asnád, A. *n. m.* (*Plu. of سند Sanad*). Grants; *firman*s; patents; *sanads*; warrants; permits; indentures; vouchers; certificates; charters.

asnát, A. Beardless (youths).

اسنان asnán, स्नान, H. n. m. Bathing.

اسنتان asantán, असन्तान, S. *adj.* Issueless; without progeny; childless.

اسانتشت asantushṭa, असन्तुष्ट, S. *adj.* Dissatisfied; discontented; mortified; disappointed.

اسانتوش asantosh, असन्तोष S. n. m. Dissatisfaction; discontent; mortification; disquietude.

اسانشئے asanshaya, असंशय, S. *adj.* Indubious; doubtless.

اسانکھیه asankhya, असंख्य, H. *adj.* Countless; innumerable.

اسانگت asangāt, असंगत, S. *adj.* Detached; loose; incoherent; inconsonant; inappropriate; inconsistent; nonsensical; absurd; bad.

آسانی asānī, आसनी, H. n. f. A small carpet, mattress or deer-skin on which Hindus sit at worship.

اسانیام asanyam, असंयम, S. n. m. Absence of self-restraint; incontinence; intemperateness.

اسانجोग asanjog, असंजोग, H. n. m. Want of occasion.

اسنه asneh, अस्नेह, S. n. m. Absence of love; cruelty; harshness; unkindness; *adj.* unfriendly; uncharitable; unkind; harsh.

اسوا asava, आसव, S. n. m. Rum, liquor, &c., distilled from molasses or raw sugar.

اسواد a-swāda, अस्वाद, S. *adj.* Tasteless; vapid; insipid; without relish.

اسوار aswār, P. n. m (*Plu. of* سوار) A horseman; equestrian; jockey; cavalry; *adj.* mounted.

اسوارثی aswārthī, अस्वार्थी, S. *adj.* Unselfish; disinterested.

اسواستے is wāste, H. *adv.* For this reason; hence; because; therefore.

اسوامی aswāmī, अस्वामी, S. *adj.* Masterless.

اسوامی بکری bikrī, H. n. f. Sale without ownership; illegal sale.

اسوانسی aswānsī, अस्वान्सी, H. n. f. A lineal land measure.

اسوبه a-sobhā, H. *adj.* Formless; misshapen; grotesque; ugly. [month *Asin* and *Kunwar*].

اسوچ asauj, असौच, H. n. m. The sixth solar.

اسوجه asūjha, असूच, H. *adj.* Indiscernible; viewless; invisible; incorporeal.

اسوچ asoch, असौच, H. *adj.* Not to be regretted; free from anxiety; unmindful; incautious; indiscreet; unconcerned.

اسود aswad, P. *adj.* Black; very black. بحر اسود bahr-i—, the Black Sea.

آسودگان ásúdagán, P. n. m. (*Plu. of* آسوده *Asúda*). Those at ease or peace—(the dead).

آسودگی ásúdgī, P. n. f. Quiet; composure; peace; prosperity; good circumstances.

آسودگی عامه خلائق i-ámma-i-khaláiq, public tranquillity or peace.

آسوده ásúda, P. *adj.* Quiescent; calm; composed; glutted; satiated; content; at ease; well off; opulent; rich. آسوده حال hál, *adj.* unruffled; cool; serene; opulent; wealthy; snug; contented. دل آسوده dil, *adj.* of composed or serene mind; calm.

اسوقت is waqt, H. *adv.* This time; soon; immediately.

اسوقت us-waqt, H. *adv.* That time; then.

اسوینی aswīnī, अस्विनी, S. n. f. The name of the first lunar mansion or *Nakshatra* having the form of a horse's head.

اسهال ishál, A. n. m. Opening; purging; flux; diarrhoea, اسهال دموی damwī, bloody flux.

اسهان ashan, असहन, S. *adj.* Unenduring; intolerant; impatient; restless; not bearing with.

اسسی assi, अस्सी, H. *adj.* Eighty.

اسی asi, असि, S. n. m. A sword; a scimitar.

آشے áshaya, आशय, S. n. m. Refuge; sanctuary; shelter; mine; design; theme; subject; meaning; aim; scope.

آسیا ásiyá, P. n. f. A mill; watermill; millstone.

آسیانہ ásiyána, P. n. m. A whetstone.

آسیب áseb, P. n. m. Mishap; disaster; catastrophe, (such as is the consequence of the shadow of a *jin* or demon having fallen on one); ill-fortune; evil spirit; wrong; mis-

chief; damage; fear. آسب اُتارنا - یا درر کرنا —
utárná—dur karna, *v.* to exercise; to conjure;
to cast off an evil spirit.

اُسبجنا usjhná, اُسیجنا, } H. *v.* To boil; to
اُسبجھنا usjhná, اُسیجھنا, }
simmer.

اسیر asir, A. *n. m.* Prisoner; captive. اسیر آب و گل
—i-áb-o-gil, bound or attached to one's
native land. اسیر سلطانی—sultání, a prisoner
of state.

اُسیر usir, اُسیر, ushir, اُسیر, H. *n. f.* The frag-
rant roots of a grass used for making tattís,
Andropoyon muricatum (*khas khas*).

اسیری asiri, P. *n. f.* Confinement; incarcera-
tion; imprisonment; captivity.

اسیس asis, اُسیس, } H. *n. f.* Blessing; bene-
اُسیس ásís, اُسیس, } diction; prayer.

اُسیر assessor, H. *n. m.* (*Corr. of the English*).
An assessor; a jury-man.

اُسیمه ásima, P. *adj.* Surprised; astounded;
bewildered, (*e. g.*, *sarásima*, astounded).

آش ásh, P. *n. m.* Meat; provision; food;
eatables; soup; broth; pottage. آش پکانا
—pakána, *v.* to make a paste or jelly (of); to
contrive something against another; to plot
against. آش جبر—i-jan, *n. m.* gruel; barley
water.

آشا áshá, آشا, S. *n. f.* Desire; longing; hope;
confidence; expectation.

اُشا ushá, اُشا, S. *n. m.* Early morn; daybreak;
dawn; peep of day; prime.

اُشارت ishárat, P. *n. f.* } Sign; token; symbol;
اُشارة ishára, P. *n. m.* } wink; gesture; hint;
suggestion; indication; gesticulation; in-
sinnation. اُشاره کرنا—karná, *v.* to make a
signal; to beckon; to nod; to wink; to
suggest; to indicate; to hint.

اُشاعت ishá'at, P. *n. f.* Dissemination; circula-
tion; advertisement; spread; publication;
diffusion; propagation. اُشاعت العلوم—ul-'ulum,
the diffusion of knowledge, &c.

اُشام áshám, P. *adj.* Drinking; quaffing;
drinker.

اُشباح ashbáh, A. *n. m.* (*Plu. of* شبع *Shabáh*)
Bodies; objects.

اُشبهه ashubha, اُشبهه, S. *adj.* Unpropitious; ill-
omened; wrong; unfavourable; displeasing;
n. m. inauspiciousness; distress; disaster;
mishap; misfortune; unpropitiousness.

اُشتباهه ishtibáh, A. *n. m.* Suspicion; uncer-
tainty; distrust; hesitation; doubt; ambi-
guity.

اُشتباهیه ishtibáhi, A. *adj.* Doubtful; scrup-
ulous; suspicious.

اُشتداد ishtidád, A. *n. m.* Strengthening; cor-
roborating; confirming; increasing in vio-
lence.

اُشتور ushtur, P. *n. m.* A camel.

اُشتورا ishtirá, A. *n. m.* Purchase; selling; trade;
commerce.

اُشتراک ishtirák, (shirkat, A. *n. m.* Partnership;
society; company.

اُشتعال ishti'ál, A. *n. m.* Burning; glowing;
lighting a fire or candle; revoking; exciting;
instigating a quarrel. اُشتعال طبع—i-taba',
provocation.

اُشتعالک ishti'alak, P. *n. f.* A small blaze;
brawl; broil; excitement. اُشتعالک دینا—dená
v. to instigate; to encourage; to stimulate;
to excite; to foment (quarrels); to incite to
bad action; to abet.

اُشتغال ishtigál, A. *n. m.* Occupation; engage-
ment; avocation; trade; study.

اُشتفا ishtifá, A. *n. f.* Recovering health.

اُشتقاق ishtiqáq, A. *n. m.* Derivation of one
word from another; etymology.

اُشتالم ushtalum, P. *n. m.* Ferocity; force;
vehemence; oppression; injustice; *adj.*
strong; firm.

اُشتمال ishtimal, A. *n. m.* Inclusion; compris-
ing; containing. اُشتمال دعوی—da'wa, joinder
of causes of action. اُشتمال بیجا—bejá, mis-

joinder. اشتغال بیجا الزامات—beja ilzámát, misjoinder of charges. [hankering; hunger.

اشتهار ishtihá, A. n. f. Appetite; desire; wish;

اشتهار ishtihár, A. n. m. Notification; advertisement; announcement; proclamation; publication; currency; manifesto; notice; placard; renown; celebrity. اشتهاار آریزای کرنا—

áwezán karná, v. to put up or affix a nomination. اشتهاار دینا—dená, v. to make known; to announce; to placard; to propagate; to promulgate. اشتهاار کرنا—karná, v. to notify; to publish; to make known. اشتهاار

نامة—náma, n. m. advertisement; handbill.

اشتهار نیلام—i-nilám, v. sale proclamation.

اشتهار قرقی—i-qurqí, n. m. notice of attachment.

اشتهار به تهدید انقصاص بندوبست—ba tahdid infisákh-i-bandobast, a notification threatening the annulment of settlement.

اشتهاری ishtihári, A. adj. Proclaimed (as an offender); one who has decamped.

اشتی áshthí, P. n. f. Accord; concert; reconciliation; convention; alliance; gallantry; intrigue.

اشتیاق ishtiyáq, A. n. m. Wish; longing; hankering; bent; yearning; desire; liking; fondness.

اشت isht, इष्ट, S. adj. desired; wished for; worshipped. اشت دیو—deva, m. one's own chosen deity.

اشتر ushtra, उष्ट्र, (H. Únt, P. शत्रु Shatur) S. n. m. Camel.

اشجار ashjár, A. n. m. (Plu. of شجر Shajar). Trees.

اشجع ashja, adj. (Comp. and Sup. of شجاع Shujá') Braver of bravest; more or most valiant.

اشچرخ ashecharj, आश्चर्य, S. n. m. Wonder; amazement; marvel; bewilderment; astonishment.

اشخاص ashkhas, A. n. m. (Plu. of شخص Shaḥṣ) Persons.

اشد ashadd, A. adj. (Comp. and Sup. of شدید Shadid) More or most vehement; extreme; severe; violent; excessive.

اشده ashudha, अशुद्ध, S. adj. Unholy; corrupt; wrong; inaccurate.

اشدهتا ashuddhtá, अशुद्धता, S. n. f. Foulness; contamination; error.

اشر ashar, A. adj. (Com. and Sup. of Sharir). More or very atrocious; vicious; flagitious. اشرف الناس—un-nás, A. n. m. the most wicked of men.

اشرابات ashrabát, A. n. m. Drinks prohibited by the Mohammadan law, such as wines, &c.

اشرار ashará, A. n. m. (Plu. of شریر Sharir). Wicked, criminal or seditious people.

اشراف ashráf, A. n. m. (Plu. of شریف Sharif). Nobles; gentlemen; magnates; men of noble birth.

اشراق ishráq, A. n. m. Dawn; daybreak; radiance; brilliancy. نماز اشراق—Namáz i-ishráq, n. f. morning prayer; prayer at sunrise.

اشراقی ishráqí, A. adj. Eastern; having the splendour of the east; oriental.

اشراقین ishráqín, A. n. plu. The Eastern people; Saracens.

اشراک ishrák, A. n. m. Sharing; co-partnership; participating.

آشرت ásríta, आश्रित, S. adj. Dependant; a protege; hanger-on.

اشرف ashraf, A. adj. Noblest; most distinguished; n. m. a peer. اشرف المصنوعات—ul-makhlúqát, the most eminent of created beings; mankind. اشرف الناس—un-nás, noblest of men.

اشرفی ashrafi, P. n. f. A gold coin; a gold mohar, worth 16 rupees.

آشرم ásrama, आश्रम, (आश्रम) H. n. m. Place; dwelling; domicile; residence; the abode of a hermit or of a religious student. There are four Asrams or periods of a Brahman life:— (1) the Brahmachári or student, (2) the Grihastha or householder, (3) the Vánprastha or

anchorite., (4) the *Bhikshu Sannyasi* or beggar.

اسرار a-saran, असरण, (असरण) *adj.* Guardless ; defence-less ; unprotected ; destitute.

اشعار ash'ar, A. *n. m.* (*Plu. of She'r*). Verses ; couplets ; distiches ; poems.

اشعة ash'a, A. *n. f.* (*Plu. of شعاع Shud'*). Beams ; rays of light.

اشغال ushgalá, A. *n. m.* Fiction ; fable ; lie ; fabrication.

اشفاق ashfáq, A. *n. m.* (*Plu. of شفقت Shafqat*) Favours ; compassion.

اشفتگی áshuftagí, P. *n. f.* Raving ; disorder ; uneasiness ; perturbation ; misery.

اشفتہ áshufta, P. *adj.* Raving ; distressed ; confused ; weary ; careworn. حال—háal, *adj.* afflicted condition ; perplexed. آشفتہ خاطر—khátir, or دل—dil, *adj.* troubled in mind ; uneasy. آشفتہ دماغی—dimági, or آشفتہ ساری—sari, *n. f.* unsoundness of the mind ; lunacy. آشفتہ طبع—taba', *adj.* distracted in mind ; afflicted in mind.

اشک ashk, P. *n. m.* A tear. اشک افشان—afshán, بار—bár, *adj.* shedding tears ; weeping ; mourning. اشک روانی—rawání, *n. f.* flowing of tears. سيل اشك—sail-i-ashk, a flood of tears.

اشكار áshkár, } P. *adj.* Visible ; evident ; dis-
اشكارا áshkára, } closed ; known ; clear ; ap-
parent.

اشكال ashkál, A. *n. f.* (*Plu. of شكل Shakl*). Forms ; shapes ; likeness ; (*Math.*) figures ; proposition.

اشكال ishkal, A. *n. m.* Ambiguity ; hesitation ; perplexity.

اشكشيت ashikshit, अशिक्षित, S. *part. adj.* Un-
taught ; illiterate ; ignorant.

اشگن ashgun, अशगुन, H. *n. m.* Portent ; ill-
omen ; a presentiment.

اشل ashál, A. *adj.* Having palsied hands.

اشلوك ashlok, श्लोक H. *n. m.* Verse ; distich ;
couplet ; stanza ; poetry.

اشلكها ashlekhá, अश्लेषा, S. *n. m.* The ninth
lunar mansion containing five stars.

اشعم ishám, A. *n. m.* Diffusing scent ; shed-
ding perfume.

اشن ushan, उष्ण, S. *adj.* Hot ; burning ; warm ;
pungent ; acrid.

اشنا áshná, P. *n. m. f.* An acquaintance ;
comrade ; compeer ; intimate friend ; familiar.
اشنا پرست—parast, *adj.* familiar ; sociable ;
social ; friendly. اشنا ہونا—honá, *v.* to become
very friendly ; to become tame or domesti-
cated (an animal) (*hil jáná*). اشنا حرف harf-
áshná, *n. m.* A beginner ; an abecedarian.
اشنا صورت súrát—, *r. m.* one known by sight
only.

اشنان ashnán, स्नान, H. *n. m.* Bathing ; a
bathing fair.

اشنائی áshnái, P. *n. f.* Acquaintance ; friend-
ship ; fellowship ; intercourse. اشنائی پیدا کرنا—
karná—paidá karná, to associate ;
to be intimate ; to unite to make acquaint-
ance (with), to form an unlawful attachment
or connection (with). اشنائی لگنا—lagná,
v. to become familiar ; to make friends
with.

اشنایانہ ashnáyána, P. *adv.* In friendly way.

اشناك áshayká, आशंका, H. *n. f.* Doubt ; uncer-
tainty ; misgiving ; hesitation ; suapance ;
fear ; apprehension ; awe ; danger.

اشو ashwa, अश्व, S. *n. m.* Horse. اشومیدہ—medha,
n. horse sacrifice (if this sacrifice is per-
formed 100 times it entitles the sacrificer
to the dominion of *Swarga* or Paradise).

اشوب áshob, P. *n. m.* Uproar ; disturbance ;
dread ; ill-luck ; a tempest ; a redness and
swelling of the eyes ; deceiver. اشوبگاه—gáh,
place of tumult.

اشوبها áshobhá, अशोभा, S. *n. f.* Ugliness.

اشوچ ashoch, अशोच, H. *n. m.* Absence of
anxiety.

اشوچہ اشاucha, अशौच्य, S. *n. m.* Foulness ;
impurity ; mourning.

اشهاد ash-hád, A. n. m. (Plu. of شاهد *Sháhid*). Witnesses ; deponents.

اشهاد ishhdád, A. n. m. Bringing forward testimony ; producing evidence.

اشهب ash-hab, A. adj. Grey ; ash-coloured ; duncoloured ; drab ; a dun-coloured horse.

اشهد ashhad, A. (1st person, sing.) I bear witness. شاهد ان لا اله الا الله—anna lá iláhá ilalláh. I bear witness that there is no God but one God.

اشياء ashiyá, A. n. f. (Plu. of شئ *Shai*). Goods ; movables ; things.

آشيان áshyán, } P. n. m. A bird's nest.
آشيانة áshyána, }

اصغر aságir, A. adj. (Plu. of اصغر *Asgar*). Diminutive ; little ; despicable ; low ; poor ; mean ; contemptible.

اصالت asálat, A. n. f. Determination ; tenacity of purpose ; integrity ; genuineness ; stability ; constancy ; nobleness.

اصالته asálatan, A. adv. Originally ; primarily ; steadily ; completely ; in person ; (*in propria persona* (opp.) *wakálatan*).

اصحاب asháb, A. n. m. (plu. of صاحب *Sáhib*). Nobles ; peers ; comrades ; friends ; preceptors ; disciples (of Mohammad). اصحاب علم—i-'ilm, n. m. learned men. اصحاب كبار—i-Kibar ; The great Companions (of Mohammad) ; the four khalifs immediately succeeding Mohammad. اصحاب كهف—i-Kahf ; the Companions of the cave ; the seven sleepers (famed in oriental romance).

اصدار isdár, A. n. m. Proceeding ; appearing ; producing ; issuing.

اصدار isdár, A. n. m. Steadfastness ; constancy ; obduracy.

اصراف israf, A. n. m. Expense ; prodigality ; lavishment ; profusion. اصراف كرنا—karná, v. to squander ; to lavish ; to spend.

اصطبغ istibág, A. n. m. Colouring ; plunging ; sinking ; baptism ; immersion.

اصطبل astabal, A. n. m. A stable.

اصطلاح istiláh, A. n. f. Expression ; idiom ; phraseology ; a technical word ; phrase ; conventional meaning.

اصطلاحات istaláhát, A. n. f. (Plu. of اصطلاح *Istiláh*) Expressions ; idioms ; technicalities.

اصطلاحى istiláhi, A. adj. Idiomatical ; technical ; phraseological. اصطلاحى معنى—ma'ne, n. m. idiomatic meaning or acceptance of secondary meaning.

اصغر asgar, A. adj. Very little ; smallest ; younger ; the minor term in a logical proposition.

اصفار asfár, A. n. m. (Plu. of صفر *Sifar*) Ciphers ; zeros.

اصفر asfar, A. adj. Yellow ; saffron-coloured.

اصل asl, A. n. f. Root ; cause ; essence ; spring ; plinth ; foundation ; progeny ; chief ; principal. adj. essential ; fundamental ; substantive ; positive ; important ; principal ; chief ; legitimate ; true ; real. اصل اصول—usul, the fundamental principle. اصل خير—khair-se, adj. with perfect safety. اصل مع—ma' sūd, principal and interest. اصل و فرع—o-fara', n. m. root and branch ; cause and effect. اصل نفع—nafa', net profit.

اصل اصلá } A. adv. Ever ; at any time ; at all ;
اصلان aslan, } in the least ; altogether. اصلان
مطلقاً—mutlaqan, adv. not at all ; not altogether ; by no means ; absolutely never.

اصلاح isláh, A. n. f. Rectification ; amendment ; revision ; correction ; mending ; lopping the beard. اصلاح بنانا—banána, v. to trim or lop the beard. اصلاح پذيرد—pizir, adj. capable of being set to right or cured. اصلاح ديننا يا كرنا—dená yá karná v. to rectify ; to mend ; to better ; to revise ; to correct ; to amend ; to reform. اصلاح ايننا—lená, to have (a thing, especially writing or composition) corrected (by).

اصل السوس asl-as-sús, A. n. m. Liquorice.

اصلي aslí, A. adj. Original ; first ; fundamental ; unmixed ; natural ; real ; right ; noble ; principal ; genuine ; intrinsic. اصلي قيمت—qimat, original value or price, real value.

اصولیت *asliyat*, A. *n. f.* Originality ; purity ; authenticity ; actuality.

اصم *asam*, A. *adj.* Deaf ; (*Math.*) surds.

اصول *usûl*, A. *n. m.* (*Plu. of اصل Asl.*) Fundamentals ; causes ; principles ; dogmas ; manners. اصل مردوعہ — *mauzu'a*, *n.* (*Ma. h.*) Postulates. اصول و ذروع — *o-furû'*, *n. f.* Causes and effects.

اصلی *asıl*, H. *adj.* High born ; genteel ; real ; of good extraction ; unmixed ; pure ; noble.

اضافت *izâfat*, A. *n. f.* Appendage ; adjunct ; reference ; annexion ; adjunct ; (*Gram.*) construction of one noun with another ; prefixing a noun to a noun so that the former governs the latter in the genitive case, as *qulam-i-Akbar*.

إضافة *izâfa*, P. *n. m.* Junction ; annexion ; addition ; enlargement ; enhancement ; excess ; surplus ; attribute. إضافة لکان — *i-lagán*, enhancement of rent.

اضطراب *iztirâb*, A. *n. m.* Stir ; disturbance ; commotion ; distraction ; anguish ; vexation ; care ; agitation ; restlessness ; anxiety.

اضطرابی *iztirâbí*, A. *n. f.* Commotion ; hurry ; uneasiness ; precipitation ; impatience.

اضطرار *iztirâr*, A. *n. m.* } Force ; coercion ; res-
اضطرابی *iztirârí*, A. *n. f.* } traint ; agitation ;
violence ; constraint.

اضاعف *az'âf*, A. *adj.* (*Plu. of ضعف Zo'f*) Double ; twofold.

اضعف *az'af*, A. *adj.* (*Comp. and Sup. of ضعیف Za'if*). Very feeble ; most impotent.

أضلاع *azlâ'* A. *n. f.* (*Plu. of ضلع Zila'*) Ribs ; sides (of a figure) ; districts ; parts ; division (of land).

اطاعت *ita'at*, A. *n. f.* Obedience ; resignation ; obeisance ; prostration ; obsequiousness ; reverence ; worship. اطاعت کرنا — *karnâ*, *v.* to obey ; to succumb ; to yield ; to pay homage to.

اطبیا *atibbâ*, A. *n. m.* (*Plu. of Tabib*) Physicians ; doctors.

اطراف *atrâf*, (*Plu. of طرف Taraf*) Extremities ; sides ; suburbs ; skirts ; outposts ; districts ;

boundaries ; environs. اطراف و اکناف — *wa-aknâf*, everywhere ; all the world over. اطراف شہر — *i-shahr*, *n. f.* environs of a city or town ; suburbs. اطرافی روٹہ — *atrâfi rawanna*, A. P. *n.* A pass for the transit of dutiable goods, beyond the limits of custom stations.

اطریفل *itriphal*, H. *n. m.* An electuary composed of three sorts of myrobalans with coriander and honey.

اطفا *itfâ*, A. *n. m.* Extinction (of fire). [issues.

اطفال *atfâl*, A. *n. m.* (*Plu. of طفل Tiftl*) Children ;

اطلاع *itilâ'*, A. *n. f.* Information ; communication ; intimation ; intelligence ; report ; investigation ; cognition. اطلاع دینا یا کرنا — *denâ yâ karnâ*, *v.* to give notice ; to communicate ; to signify ; to apprise ; to acquaint ; to report. اطلاع نامہ — *nâma*, *n.* a written notice ; a summons or citation. اطلاع عیبائی — *yâbí*, *n.* the act of receiving an intimation ; receipt of acknowledgment of a notice, etc.

اطلاعاً *ittilâ'an* A. *adv.* By way of notification.

اطلاق *itlâq*, A. *n. m.* Application ; reference ; divorcing ; setting at liberty. اطلاق رکھنا — *rakhnâ*, *v.* to be separate (from) ; to be applicable (to). اطلاق کرنا — *karnâ*, *v.* to apply (to) ; to use (a word or phrase in a certain sense).

اطلس *atlas*, A. *n. m.* Satin.

اطمینان *itminân*, A. *n. m.* Calmness ; composure ; respite ; stillness ; satisfaction ; complacency ; confidence ; pledge ; surety. اطمینان خاطر — *i-khâtir*, satisfaction of mind اطمینان کرنا — *karnâ*, *v.* to satisfy ; to confide in. اطمینان کے لائق — *ke lâiq*, trustworthy ; reliable ; sure.

اطوار *atwâr*, A. *n. m.* (*Plu. of طور Taur*) Manners ; ways ; department ; practice ; behaviour ; conduct ; custom ; breeding. اطوار خوش — *khush*, well-mannered ; courteous. اطوار پیشہ — *pesha*, professional conduct.

اطہار *ithâr*, A. *adj.* (*Plu. of طہر Tâhir*) Chaste ; unpolluted.

اظہار *izhâr*, A. *n. m.* Exhibition ; parade ; disclosure ; proclamation ; the examination or

deposition of a witness; testimony. اظہار
اظہار —tahriri, a deposition in writing. اظہار
اظہار —i-halfi, a deposition on oath. اظہار
—dená, *v.* to bear testimony; to attest; to
depose; to swear. اظہار زبانی —zabani, oral
testimony. اظہار کرنا —karná, *v.* to propose;
to unfold; to announce; to assert. اظہار لینا —
lená, *v.* to examine; to put in the witness-
box. اظہار نامہ —náma, *n.* notification; mani-
festo. اظہار نویس —navis, *n.* a deposition or
statement writer.

اظہار azhar, *A. adj.* Very clear; very plain.
اظہار من الشمس —min ash-shams, clearer than
the sun.

اعادت i'ádat, *A. n. f.* } Doubling; return;
اعادة i'áda, *A. n. m.* } performing (a thing)
second time; review; repetition; waiting on
the sick.

اعانت i'ánat, *A. n. f.* Help; assistance; abet-
ment; support. اعانت بمشورة —ba mashwara,
abetment by conspiracy.

اعتبار i'tibár, *A. n. m.* Confidence; credence;
faith; credit; assurance; esteem; attention;
relation. اعتبار رکھنا یا کرنا —rakhná yá karná,
v. to give credit to; to reckon; to credit; to
depend upon. اعتبار کھونا —khoná; *v.* to lose
credit or repute [creditable; reliable].

اعتباری i'tibári, *A. adj.* Worthy of belief;
اعتدال e'tidal, *A. n. m.* Level; temperateness;
moderateness; rectitude; frugality; temper-
ance; evenness. اعتدال پر رہنا —par rahná, *v.*
to observe temperateness. مزاج اعتدال پر رہنا
mizaj —par rahná, *v.* to be in a good or
sound state of health.

اعتذار e'tizír, *A. n. m.* Apology. اعتذار نامہ —
náma, letter of apology.

اعتراض e'tiráz, *A. n. m.* Objection; fault-
finding; criticism; protest; resistance; dis-
cussion; animadversion. اعتراض تیار کرنی —
i-qánúu, *v.* a legal objection. اعتراض کرنا یا
—karná yá pesh karná, *v.* to disap-
prove; to take exception (to), to criticise; to
urge an objection; to dispute; to protest; to
call in question. راضی اعتراض کرنا —rafa' —karná,

v. to dispose of an objection. اعتراض ذابطہ —
zábta, a technical objection. اعتراض لارڈ —
lárád, an insuperable objection.

اعتراضی e'tirází, *A. adj.* Objected. *n. m.* one
who objects.

اعتراض e'tiráf, *A. n. m.* Avowal; recognition;
admission. اعتراف کرنا —karná, *v.* to confess;
to admit; to own; to acknowledge.

اعتزاز e'tizáz, *n. m.* Eminence; predominance;
prevalence.

اعتزال e'tizál, *A. n. m.* Dissent; resignation;
abjuration; secession; withdrawing from office.

اعتصام e'tisám, *A. n. m.* Refraining from what is
unholy or illegal; abstaining from sin or what
is unlawful.

اعتقاد e'tiqád, *A. n. f.* Credence; troth; faith;
reliance. اعتقاد رکھنا —rakhná, *v.* to place
confidence in. اعتقاد لانا —láná, to evince
faith in; to believe; to become a convert (to).

اعتکاف e'tikáf, *A. n. m.* Continuing in a temple
or mosque in prayer; retirement; restraining
the passions from religious motives (as
in Lent).

اعتقاد e'timád, *A. n. m.* Credence; troth; con-
fidence; belief; dependence. اعتقاد رکھنا یا کرنا
—rakhná yá karná, *v.* to place confidence in;
to credit; to depend upon.

اعتمادی e'timádí, *A. adj.* Trusty; credible.

اعتناء e'tiná, *A. n. f.* Solicitude; uneasiness;
heed; study; exertion; labour; taking pains.

اعجاز e'jáz, *A. n. m.* Admiration; marvel;
wonder; a miracle. اعجاز مسیحائی —i-masíhái,
a wonderful cure; such a miraculous cure
as those of the Messiah.

اعداء a'dá, *A. n. m.* (*Plu. of* عدو 'Adú). Enemies.

اعداد a'dád, *A. n. m.* (*Plu. of* عدد 'Adad).
Numbers. اعداد متبادل —i-mutabáin, (*Math.*)
prime numbers. اعداد مترافق —i-mutawáfiq,
(*Math.*) composite numbers. اعداد متداخل —
i-mutadákhil, concordant numbers.

اعراب e'ráb, *A. n. m.* The vowel points or dia-
critic in Arabic.

اعراض e'ráz, A. n. m. Averseness; hatred; shunning; shrinking from; dislike. اعراض كرتا —karná, to shrink from; to eschew; to decline.

اعراف e'ráf, A. n. m. Purgatory (according to Mohamedans: a wall intervening between heaven and hell).

عرجا a'raj, A. adj. Lame by nature.

اعزاز e'záz, A. n. m. Exalting; extolling; deference; esteem; respect (izzat)

اعزاز a'izza, A. adj. (Plu. of عزيز 'Aziz) Most excellent; worthy; relations.

اعضاء a'zá, A. n. m. (Plu. of عضو 'Azo) Members; limbs. اعضاء رئيسه—i-raisa, the principal members; vital parts, i. e. heart, brain, liver, testicles.

اعضائي a'zái, A. (Chem.) Organic. اعضائي مادة —mádda, n. m. (Chem.) Organic matter.

اعظم a'zam, A. adj. Greatest.

اعلام a'lám, A. n. m. Publishing; announcing; a notification; warrant. اعلام نامه—náma, n. m. a proclamation.

اعلان e'lán, A. n. m. Proclaiming; advertising; publication; announcement; indiction.

اعلى a'la, A. adj. Superior; higher; most dignified; elevated; supreme; top-most; first-rate; principal.

آدم کو عجب خدا نے رتبہ بخشا

انہی کے لئے مقام اعلیٰ بخشا

(میر انیس)

اعمال a'mál, A. n. m. (Plu. of عمل 'Amal).

Actions; behaviour; conduct. اعمال نامہ—

náma, n. m. a character book [raut

اعما a'má, A. adj. Blind: uncultivated; igno-

اعیان a'yán, A. n. m. (Plu. of عين 'Ain) Eyes; peers; noblemen. [tain; a k'hán.

أخا a'gá, P. n. m. Leader; master; ruler; chief-

أغاز a'gáz, P. n. m. Origin; outset; commence-

ment. آغاز كرتا—karn, v. to originate; to begin [seizing; pillaging.

اقتنام iqtinám, A. n. m. Capturing as a booty;

اعراض agráz, A. n. m. (Plu. of فرض 'Garaz) Motives; aims. [sion; contemplation.

اغراق igr'q, A. n. m. Causing to drown; submer-
آغشته a'gishtha, P. adj. Wet; macerated; ming-
led; impure. [pediment.

اغلاق igl'q, A. n. m. Incomprehensibleness; im-

اغلال igl'l, A. n. m. (Plu. of غل 'Gal). Yokes;
chain; links.

اغلب aglub, A. adj. Superior; stronger; adv.
probably; belike; apparently. اغلب ہے—hai, it
is most probable that.

اغلب اقل agal-bagal, H. P. adj. On all sides; on
this direction or that; right and left

اغماز igm'z; A. n. m. Detraction; Connivance.

اغماض igm'z, A. n. m. Overlooking; connivance;
a feigning; haughtiness; ogling; prudery.

اغماض كرتا—karn, v. to wink at; to overlook;
to neglect.

اغماضي igmázi, A. P. adj. Contemptuous;
insolent; haughty; scornful; n. m. a fop.

اغنيا agniyá, A. n. m. (Plu. of غني 'Gani). The
rich; independent people.

اغوا agwá, A. n. m. Seduction; inducement;
enticement; incitement. اغوا كرتا—karná, v. to
seduce; to induce; to instigate; to entice.

اغوش agosh, P. n. f. Clasp; embrace; lap;
bosom.

اغيار agiyár, A. n. m. (Plu. of غير 'Gair).

Strangers; unfamiliar persons; rivals; un-
known persons.

أف uff, A. in'. Fy! for shame; alas! اف كرتا—

karn, v. i. to sigh; to mourn; to sneer at; to
dislike. اف نہ كرتا—na-karna; v. i. not to
breathe a syllable; to endure in silence.

أف áf, A. n. m. The sun; musk-deer.

آفات áfát, A. n. f. (Plu. of آفة 'Áfat). Disasters;
evil accidents; injuries; risks; calamities;
dangers.

إفادة ifáda, P. n. m. Emolument; benefit, mean-
ing; significance; imparting.

أفاق áf'áq, A. n. m. (Plu. of أفق 'Ufaq). Hori-
zons; quarters of the heaven or the earth;
countries.

إفاقات ifáqat, P. n. f. } Recovery from sickness;
 إفاقه ifáqa, P. n. m. } convalescence. افاقه هونا
 —ifaqa honá, to recover from sickness, etc.

آفت áfat, A. n. f. Disaster ; catastrophe ; evil ;
 misfortune ; mishap ; wretchedness ; unhappi-
 ness ; misery ; calamity ; difficulty ; hardship.
 آفت پزند آفت پزند آفت پزند
 v. misfortune to befall ; ill to happen.

آفت هانا utháná, v. to labour under afflictions ;
 to bear pain, sorrow or misery ; to have for-
 titude to face misfortunes or troubles ; to set
 up an agitation or tumult. آفت دالنا
 to interpose trouble. آفت دالنا يا مچانا
 dháná yá macháná, to raise a tumult.

آفت زده rasída—zada, adj. oppressed
 by adversity ; run down by misfortune ;
 miserable ; unlucky. آفت كا پركاله
 n. m. a mischievous person ; a sharp astute
 fellow.

آفت مين پهنستا men
 parná, áfat men phagná, v. to be oppressed
 by misfortune or misery ; to be overtaken by
 calamity or disaster ; to be embarrassed ; to
 be entangled in difficulties.

آفتاب áftáb, P. n. m. The sun. آفتاب پرست
 parast, n. m. a worshipper of the sun. آفتاب
 عالمتاب álamtáb, the sun illuminating the
 world آفتاب گير gir, a parasol ; a sun-shade ;
 an umbrella.

آفتابا áftába, } P. n. m. A basin ; a vessel
 آفتابا for holding water ; an ewer.

آفتابي áftábi, P. adj. Belonging to the sun ;
 solar ; prepared by exposure to the sun ;
 faded in the sun ; gold coloured ; n. f. a
 sunshade ; a small shield made of tortoise
 shell ; a target set with gold ; a kind of
 firework.

افتاد uftád, } P. part. adj. Fallen ; tum-
 افتاده uftáda, } bled ; fallow (land) ; miser-
 able ; powerless ; n. f. chance ; mishap ; un-
 cultivated land but capable of cultivation.

افتادگي uftádgí, P. n. f. A falling ; tumbling ;
 feebleness ; inability ; disability ; helpless-
 ness ; weakness.

افتان uftán, P. adj. Tumbling. افتان و خيزان
 o-khezán, now falling now rising ; with much
 ado (girl's part).

افتخار iftikhár, A. n. m. Credit ; honour ;
 repute ; elegance ; glory. افتخار نامه
 n. m. honouring letter ; an epistle.

افترا iftirá, A. n. f. False imputation ; mali-
 cious accusation ; scandal ; slander ; deception.

افتراق iftiráq, A. n. m. Separation.

افترا تفری afra-tafri, H. n. f. Hurley-burley ;
 hurry-scurry ; confusion ; jumble ; turmoil ;
 wild ; wild commotion ; dismay ; consterna-
 tion ; panic.

افراد afrád, A. n. m. (Plu. of فرد Fard). Persons ;
 individuals ; singular numbers ; sheets (of
 paper) ; lists.

افراد ifrád, n. m. Retiring from society.

افراز afráz, P. adj. Elevating ; lifting ; commend-
 ing ; exalting.

افراسياب afrásiyáb, P. n. m. prop. Name of an
 ancient king, who from Tartar invaded Persia
 and was slain by Rustam.

افراط ifrát, A. n. f. Superabundance ; exuber-
 ance ; surplus ; plenty ; excess.

افروخته afrokhta, P. part. adj. Ignited ; kindled ;
 lighted ; set on fire ; inflamed. بارافروخته
 bar-afrokhta ; adj. angry ; kindled.

افروز afroz, P. adj. Igniting ; enlightening ; en-
 kindling ; (used in compos.) as افروز آتش atash-
 afroz, kindling fire ; mischief-making, &c.

افريدگار afríd-gár, P. n. m. The Creator.

افريده afrída, P. adj. Begotten ; created ; n. m.
 human being ; creature.

افريش afrín, P. n. f. Commendation ; laudation ;
 acclamation ; part. adj. begetting ; n. m. the
 maker ; the Supreme Being ; in. well done !
 bravo ! (sháhárh). افريش كونا
 karná, v. to applaud ; to commend ; to complement.

افريش jabín, Creator of the world.

افريش afrínish, P. n. f. Creation.

افرينده afríninda, P. n. m. The Creator ; the
 Supreme Being.

افزا afzá } P. part. adj. Adding ; augment-
 افزا afzáe } ing ; increasing.

افزایش afz'ish, P. n. f. Augmentation; accession; increase.

افزاینده afz'inda, P. part. adj. Increasing; augmenting.

افزود afzúd, P. n. m. Enlargement; augmentation; accession; increase; greatness; plenty; adj. additional; more; excessive; redundant; superfluous.

افزودن afzúd, P. adj. Augmenting; increasing; larger; more; numerous; diverse; aggregate; manifold; much. افزون ہونا —honá, to augment; to enlarge; to increase; to become of higher price. روز افزوں roz —, increasing day to day.

افزونی afzúni, P. n. f. Increase; augmentation; plenty; rise (in price).

افسوس ifs'ús, P. n. m. The ocean.

افسانہ afsana, P. n. m. A fable; a romance; a fiction; a story. افسانہ خوان —khwán, —go, a fabulist; a romance or story-teller.

صبح دم نکلا میں اپنے گھر سے با آہ و نغاس
فرق کے مرنے کا جب مشہور افسانہ ہوا

(سور) —

Subh dam niklá main apne ghar se, ba sh-o-fug'án Zauq ké marne ká jab mashhúr afsána huá.

افسر afsar, P. n. m. An officer; one who possesses authority. افسر بالا دست —i-balá dast, n. m. superior officer. افسر پرمت —i-parmat, an excise or customs officer. افسر اعلیٰ —i-'alá, superior officer; chief authority; highest officer.

افسردگی afsurdagi, P. n. f. Frozenness; frigidity; depression; diaheartenment; lowness of spirit; fadingness; dejection.

افسردہ afsurda, P. adj. Frigid; benumbed; deprived of sensation; withered; spiritless; faded; melancholy. افسردہ خاطر —khátir, adj. disheartened; dispirited. دل افسردہ —dil, adj. down-hearted; cast down.

افسوس afsos, P. n. m. Sorrow; woe; distress; trouble; remorse; repentance. intj. O dear! alas! woe is me! افسوس کرنا —karná, v. to deplore; to mourn; to moan; to bewail; to grieve; to repent; to sorrow; to lament; to express sorrow or pity.

افسوس afsú, n. m. Charm; enchantment; verses used in charm; magic; sorcery. افسوس

چلنا —chalná, a charm to take effect upon. افسوس کرنا —karná, v. to enchant; to use spells or charms; to conjure; to exorcise. افسوس گر —gar, n. m. magician; conjurer; seer; wizard. افسوس گری —gari, enchantment; using of spells.

افشا afshá, A. n. m. Divulging; disclosure. افشائے راز —i-ráz, disclosure of a secret. افشائے راز کرنا —i-ráz karná, v. to publish; to disclose; to lay bare; to divulge.

افشانی afsh'án, P. part. adj. Dispersing; diffusing; spreading; sprinkling; pouring out. افشائی گل gul —, strewing roses. افشائی کاغذ zar —kágaz, paper sprinkled with gold.

افشانی afsh'án, P. n. f. Strips of tinsel pasted on a woman's forehead for ornamentation.

افشانی af-háni, P. adj. Dispersed; strewed; n. f. diffusing; scattering; strewing. افشائی کاغذ —kágaz, n. m. paper studded or spangled with gold leaf or dust, used in writing to persons of distinction. [filtered; strained.]

افشردہ afshurda, P. adj. Pressed; squeezed out;

افصح afsah, A. adj. (Comp. of فصیح Fasih) Very eloquent; speaking very correctly; more or most eloquent

افضال afzál, A. n. m. (Plu. of فضل Fazul) Kindness; elegancies; excellencies; favours; virtues. [to exceed; doing good.]

افضال ifzál, A. n. m. Causing to excel; causing

افضل afzal, A. adj. Most excellent; prominent. افضل المرسلین —ul-mursalín, n. m. the most distinguished of the prophets; an epithet of Mohammad.

افتار iftár, A. n. m. Breaking a fast; a light breakfast. افتار کرنا —karná, v. to break a fast in the evening after fasting all day (as Musalmans do during Rama'dán).

افتاری iftari, A. n. f. Things eaten in breaking a fast.

افعال af'ál, A. n. m. (Plu. of فعل Fe'l). Acts; deeds; deportment; demeanour; conduct.

افعی af'ai, A. n. m. A serpent; basilisk; asp; adder; viper. افعی adj. sharp; smart.

village. اِقْرَار صِدْقَة قَرْضَة—sihat-i-qarzā, an acknowledgment of debt. اِقْرَار صَالِح—silāh, a solemn affirmation or declaration. اِقْرَار نَامَة—nama-i-islā, *n. m.* an arbitration agreement. [one who assents.

اِقْرَارِي iqrārī, *A. n. m.* Confessor; acknowledger; اِقْرَاب aqrubā, *A. n. m.* (*Plu. of* اِقْرَاب *Qarīb*). Relatives; kins; allies. [instalments.

اِقْسَام aqsāt, *A. n. f.* (*Plu. of* اِقْسَام *Qist*). Parts; اِقْسَام aqsīm, *A. n. m. f.* (*Plu. of* اِقْسَام *Qism*). Kinds; sets; various kinds; every sort.

اِقْطَاع iqtā, *A. n. m.* Sundering; cutting; chopping off; transfer of a tract of land.

اِقْل aqall, *A. adj.* Least. اِقْل دَرَجَة—darja, *n. m.* at the lowest computation; at least; the least quantity; minimum. اِقْل وَاكْثَر—aksar, least and most. [try; zone; clime.

اِقْلِيم aqlīm; *A. n. m.* Tract; hemisphere; coun- اِقْوَال aqwāl, *A. n. m.* (*Plu. of* اِقْوَال *Qaul*). Pledges; troths; words; maxims; sayings; promises; agreements.

اِقْوَام aqwām, *A. n. m.* (*Plu. of* اِقْوَام *Qaum*). Clans; races; nations; persons; castes.

اِكْ اَك, *H. n. m.* Swallow wort *Calotropis gigantea (madār)*; a shoot of sugarcane.

اِك ik, *H. adj.* One. اِك حَيْث—chit, *adj.* and *adv.* unanimous; of one mind. اِك سَا—sāg *adj.* even; level; plane. اِك لَازِ—lāzā, one-stringed (necklace).

اِكْكَ ikkā, *H. adj.* Single; superfine; transcendant; none such, unequalled; unique; *n. m.* a two-wheeled cheap conveyance; one horse vehicle. اِكْكَ دَكَا—dukkā, *n. m.* one or two; a few; a small number.

اِكْبَار akābir, *A. n. m.* (*Plu. of* اِكْبَار *Akbar*). Nobles; men of distinction. اِكْبَار وَاَصَاغِر—o-asāgīr, high and low; great and small; rich and poor.

اِكْج akāj, *H. n. m.* Harm; wrong; damage; loss; prejudice; inutility.

اِكْجِي akājī, *H. adj.* Detrimental; unprofitable; hurtful; prejudicial; impending; useless; injurious; *n. m.* a retarder; a hindrance; a useless person.

اِكْر akār, *S. n. m.* Appearance; look; make; form; lineament; image; portrait; statue; figure. اِكْرَانْت—ānt, ending with *akār* (आ अ).

اِكْرَاث akārath, *H. ccj.* Gainless; worthless; unserviceable; unavailing; inefficient; fruitless; vain. اِكْرَاث جَانَا—jānā, *v.* to be useless; to be of no avail; to be wasted; to be profitless. [noble; grandees.

اِكْرَام akārim, *A. (Plu. of* اِكْرَام *Akrām*). The most

اِكْس akās, *H. n. m.* Ether; firmament; sky; the atmosphere; vacuum; the fifth element of Hindus. اِكْس اِكْنُ گَوْلَه—agan golā, meteor; star. اِكْس بَانِي—bāni, *n. f.* a voice from heaven; an inspiration; an oracle. اِكْس

اِكْس پَوَان—pawan, *n. m.* اِكْس بِيَل—bel, air plant or dodder; a parasite. اِكْس پَهَل—phal, *n. m.* issue; progeny. اِكْس چَوْتِي—choṭī, *n. f.* the vertical point in the heavens; the zenith. اِكْس دِيَا

—diyā, a lamp which the Hindus hang aloft on a pole in the month of *Katik*. اِكْس گَنْگَا—gangā, *n. m.* the galaxy; lacteal line; milky way (*kahkashān*), اِكْس گَوْلَا—golā, *n. m.* the heavenly globe; the ethereal sphere. اِكْس

اِكْس مَخِي—mukhī, *n. m.* an ascetic of the Saiva sect. اِكْس مَنْدَل—mandal, *n. m.* the celestial sphere; air. اِكْس نِيم—nim, a plant growing on the *nīm* trees; *Bignonia suberosa*. اِكْس رَدَن—varan, *adj.* skyblue; blue; azure; cerulean.

اِكْسِي ikāsī, *H. adj.* Eighty-one. اِكْاَل akāl, *S. n. m.* An improper time; inopportuneness; dearth; famine; drought; a season of scarcity. *adj.* ill-timed; out of season; untimely; inopportune. اِكْاَل مَوْت—maut, *n. f.* untimely death; unexpected or premature death. اِكْاَل وِرْشْتِي—vrishṭī, inopportune or ill-timed-rain; untimely rain.

اِكْاَل akkāl, *A. n. m.* A voracious eater; a gormandiser; a glutton.

اِكْاَل اِكْاَل akāṅkshā, *S. n. f.* Inclination; desire; intent; purport; expectation; wish; hope. اِكْاَل اِكْاَل ikānwe, *adj.* Ninety-one.

اکوان ikáwan, H. *adj.* Fifty-one.
 اکائی ikáí, इकाई, H. *n. f.* Unit.
 اکبر akbar, A. *adj.* Greater ; greatest ; *n. m.*
 name of a famous emperor of Hindustán, who
 reigned from 1555 to 1605 A. D. اکبر آباد—
 ábád, *n. m.* the city of Akbar, Agra.
 اکت ukt उत्ति, H. *n. f.* Inventive-power ; genius ;
 originality ; speech ; language ; contrivance.
 اکتالیس iktális, एकतालीस, H. *adj.* Forty-one.
 اکتانا uktáná, H. *v.* To be gloomy ; to be de-
 pressed ; to be cheerless ; to fret ; to tire ; to
 become tiresome ; to be disgusted with.
 اکتساب iktisáb, A. *n. m.* Earning ; obtainment ;
 attainment ; profit ; acquisition.
 اکتفا iktifá, A. *n. f.* Adequacy ; sufficiency ;
 satisfaction ; content. اکتفا کرنا—karná, *v.* to
 be satisfied ; to be at rest ; to be content.
 اکتوبر aktúbar, U. *n. m.* October.
 اکاثہ akath, अकथ, H. *adj.* Not to be told or
 related ; not fit to be spoken ; ineffable ; obscene.
 اکتیس iktís, इकतीस, H. *adj.* Thirty-one.
 اکت ikt, ऐक्ट, H. *n. m.* (*Corr. of the English*).
 An act ; edict ; enactment ; statute.
 اکتانہ uktáná, } H. *v.* To excavate ; to turn
 اکتنا ukatná, } and throw up ; to uncover ;
 to upset ; to invert ; to fish out a secret ; to
 pump ; to spoil ; to shake ; to demolish ; to
 damage ; to vilify ; to reproach, to turn
 topsy-turvy.
 اکتک ektak, एकटक, H. *n. f.* A starting look.
 اکتھا ikathá, ikatthá, इकट्ठा, H. *adj.* Collected
 together ; in one place ; crowded ; in a bulk
 or lump.
 اکثر aksar, A. *adj.* Most ; very much ; many ;
 frequent ; *adv.* mostly ; frequently ; often ;
 generally ; ordinarily ; as usual. اکثر اوقات—
 auqát, at most times ; commonly ; often.
 اکتھت ekhit, एकचित्त, S. *adj.* With undiverted
 attention ; with one-pointed intelligence.
 अकर akar, अकर, S. *adj.* Custom free ; exempt
 from taxes ; duty-free.
 अकरा akará, अकरा, H. *n. f.* grass or vetch which
 grows in the field under the spring crop

twining round the young corn and checking
 its growth ; *Vicia sativa*, (it is used as
 fodder).
 اکرام akrám, A. *n. m.* (*Plu. of* کرم Karam).
 Kindness ; favours ; gifts ; reverence ; es-
 teem ; obligations.
 اکرآم akrám, A. *n. m.* Respecting ; commending ;
 treating with civility and formality ; defer-
 ence ; esteem ; veneration. [hatred.
 اکرآہ ikrah, A. *n. f.* Disgust ; abomination ;
 اکرشن ákarshan (आकर्षण) S. *n. m.* Pulling ;
 drawing ; dragging ; attraction ; absorption
 (kashish).
 اکرام akram, A. *adj.* Most gracious ; most com-
 passionate ; benevolent ; very liberal ; charit-
 able ; merciful.
 اکرم akarma, अकर्म, S. *n. m.* Low deed ; crime ;
 vice ; viciousness.
 اکرام ákram, आक्रम, S. *n. m.* Entering upon ;
 superiority ; surmounting ; invading ; inva-
 sion.
 اکرمک akarmaka, अकर्मक, S. *adj.* (*Gram*). In-
 transitive.
 اکرمی akarmí, अकर्मि, S. *n. m.* Wrong-doer ;
 villain ; an offender.
 अकरणी akarní, अकरणी, H. *adj.* Not fit to be done ;
 improper ; indecorous ; obscene ; indecent ;
 unbecoming.
 अकर akar, H. *n. f.* Distortion ; contortion ; a
 flexure ; foppery ; resolvedness ; constancy ;
 tenacity of purpose ; pride ; pomp ; strut ;
 haughtiness. अकरा—akrá, *adj.* hard ; cramped ;
 unnerved. अकर बाँधी—bái, *n. f.* a spasm ; cram ;
 अकर बारा—báz, *n. m.* a coxcomb ; a bully ; a
 macaroni ; a fop ; a swaggerer. अकर बारी—bázi,
n. f. pretension ; conceit ; airs ; bullying ;
 display.
 अकरना akárná, U. *v.* To be distorted ; to be twis-
 ted ; to be convulsed ; to stiffen ; to be unnerv-
 ed ; to walk affectedly ; to give oneself airs ;
 to look defiantly at ; to be ready to pick a
 quarrel with ; to bully ; to writhe ; to be
 paralyzed.

اُکڑوں ukṛún, उकड़ूं, H. n. m. The posture of sitting on the hams and heels; squatting.

اکسار eksár, एकसार, U. adj. Alike; similar; even.

اکسانا uksáná, उकसाना, H. v. To elevate; to uplift; to raise (the wick of a lamp); to set on fire; to stir up; to quicken; to impel; to excite; to encourage; to instigate; to kindle; to fan the flame.

اکسٹھہ iksaṭh, इकसठ, H. adj. Sixty-one.

اکسمات akasmát, अकस्मात्, S. adv. Fortitiously; without a cause; incontinently; unexpectedly; without notice; suddenly; unawares; abruptly.

اکسنا ukasná, उकसना, H. v. To be lifted; to strive; to be set on; to be provoked; to be moved; to be raised.

اکسیر aksír, A. n. f. An elixir; a liquor or powder which pretends to be capable of transmuting other metals into gold; alchemy; chemistry; a panacea; a medicine to cure every disease.

اکشا aksha, अक्ष, S. n. m. The eye. اکشی تارا akshí tára, n. f. the pupil of the eye. اکشی سنکیت akshí sanket, n. m. a sign of the eye; a wink.

اکشر akshar, अक्षर, S. n. m. A letter (of the alphabet). اکشر پرکاش—parkásh, n. m. a treatise on the alphabet.

اکشہا akshaya, अक्षय, S. adj. Indestructible; imperishable; permanent; durable. اکشہی لوک—lok, अक्षयलोक, the undecaying world; heaven. اکشہ بر-اکشہ ور-اکشہ—wat,—war,—bar,—briksh, a tree famous to be undecaying, the tree in the fort of Allahabad is so termed.

اکل akl, A. n. m. Eating; swallowing; eatables; diet. اکل و شرب—o-sharb, n. m. eating and drinking; meat and drink.

اکلا iklá, इकला, (अकेला) H. adj. One; lone; only.

اکلانا akuláná, अकुलाना, H. v. To be bewildered; to be roused; to be disturbed; to be out of

order; to be restless; to feel qualmish; to be inclined to vomit.

اکلانا ukláná, उकलाना, H. v. i. To feel nausea; to feel sick.

اکلائی iklái, H. n. f. Solitariness, solitude, loneliness; singleness.

اکلائی uklái, उकलाई, H. n. f. Qualm; sea-sickness; nausea.

اکالنگ akalangk, अकलंक, S. adj. Stainless; undefiled; innocent; unblemished.

اکالین akulína, अकुलीन, S. adj. Of low birth; base born; mean.

اکلینی akulíní, S. adj. (Fem.) Not of good stock; mean; low.

اکلوتا iklautá, इकलौता, H. adj. Alone; one only. اکلوتا بیٹا—betá, n. m. An only son.

اکمال ikmál, A. n. m. Finishing; accomplishing; completing.

اکمال akmal, A. adj. More or most perfect; full.

اکمہ akmah, A. adj. Blind from birth.

اکناف iknaf, A. n. m. (Plu. of كنف Kanaf). Limits; brinks; suburbs; sides; borders; environs.

اکنوں aknún, P. adv. At this moment; now.

اکوار akwár, H. n. f. Lap; embrace; hug. اکوار اورنا لینا—lená—bharná, to take to the bosom; to clasp.

اکور akor, H. n. f. Bribe; allurement; illegal gratification.

اکول akúl, A. n. m. A voracious eater; a gourmandiser; a glutton.

اکولا akolá, H. n. m. The topshoot of the sugarcane plant.

اکھار ukhár, उखार, H. n. f. Plucking up; extirpation; eradication. اکھار پچھار—pachár, pell-mell; topsy turvy.

اکھارا akhára, अखारा, H. n. m. Apaloestra; circus; court; arena; wrestling ground; gymnasium; band; assembly; a sect of Hindu Sádhus (Nará-yani akhára). اندر کا اکھارا—Indar ká—, Indra's court.

اکھارنا ukhárná, H. v. To exterminate; to uproot; to strip; to tear asunder, to disjoint;

to pull out ; to get out ; to dispart ; to wean ; to draw over ; to nullify ; to waste ; to ravage ; to demolish ; to destroy.

اکھال ukhal, H. n. m. Act of vomiting and throwing up.

اکھات akhat, آکھات, (آکھت) H. n. m. A portion of the crop per plough paid to the artisans of the village.

اکھتار ikhattar, इकहतर, H. adj. Seventy-one.

اکھرا ikahrá, H. adj. Single, of one piece, simple (uncompound).

اکھارنا akharná, अखरना, (अखरना) H. v. To be disagreeable; to be hard ; to be burdensome.

اکھار akkhar, अक्खर, H. adj. Uncivilized ; brutish ; barbarian ; obstinate ; conceited ; haughty ; n. m. boor ; lout ; dolt (ujad).

اکھارنا ukharaná, उखरना, H. v. To be eradicated ; to be uprooted ; to be destroyed ; to be torn asunder ; to be displaced ; to slip out ; to be discouraged ; to be disheartened. پاکھارنا pakharaná, v. to be raised or plucked up.

اکھاروانا ukharwána, उखरवाना, H. v. To cause to be extirpated ; to have eradicated.

اکھلی ukhlí, उखली, H. n. f. A mortar.

اکھند akhand, अखण्ड, S. adj. Undivided ; one ; whole ; entire ; indivisible. آکھندت ank, an integer.

اکھت akhet (آکھت) S. n. m. Chase ; hunt ; sporting ; pursuing.

اکھای akhai, akhae, akhay, अखाय, H. adj. Not liable to decay; everlasting. اکھای-تج akhae-tij, akhay-tij, a festival observed on the third day of the bright half of Baisákh (April-May), which secures permanency to action then performed. On that day the cultivators settle their accounts for the expenses of the Rabi or spring crop, and the repayment of advances. تیار تیج کا bhár tij ká bháo, the rate of corn on the day of akhe-tij, at which rate the cultivator agrees to repay in kind the advances made to him together with the interest thereon.

اکھیسی ikkyási, H. adj. Eighty-one.

ایکھیوان ikkyáwan, इक्यावन H. adj. Fifty-one.

اکیرت akirti, अकीर्ति, S. n. f. Infamy ; disgrace ; defamation ; bad report.

ایکیس ikkís, H. adj. Twenty-one.

اکیلہ akelá, H. adj. Single ; individual ; lone-some. اکیلے ڈکیلے akeley dukeley, adj. Single or double, solitary. اکیلی کہانی akeli kahani, statement or representation of one alone of the two parties concerned in a case.

اکیلنا ukelná, उकेलना, H. v. To disentangle ; to unfold ; to cut open ; to tear off ; to peel.

آگ ág, H. n. f. Fire ; blaze ; glow ; flame ; heat ; (met.) wrath ; affection ; aversion ; emulation ; excessive heat of the sun ; a very hot season ; a venereal disease ; adj. close ; passionate ; smart ; nimble ; fiery ; hot-tempered. آگ اٹھانا uṭháná, to create or cause

a quarrel ; to enrage ; provoke. آگ ببول ہونا babúla honá, v. to foam or be mad with fury or rage. آگ بجھانا bujháná,—men páni dálná, v. to smother or blow out fire ; to extinguish fire ; to slake the thirst ; to satiate hunger ; to put down a disturbance ; to appease a tumult. آگ برسانا barsáná, v. to fire a volley ; to open a hot

fire of cannon ; to bombard. آگ برسنا barasná, v. to rain fire ; to be very hot ; to be parched up ; pouring in of bullets and bombs in great plenty. آگ پھانکنا phánkná, to eat fire, to tell a gross lie, exaggerate greatly.

آگ ہارکانا bharkáná, v. to fan the flame ; to provoke ; to excite.

آگ بوت - اگن bot, aginbot—, a steam-ship. آگ پڑنا parná, v. to be incensed ; to be infuriated ; to experience the burning of appetite ; sorrow, thirst, etc. آگ پھکننا phukná, v. to feel a burning sensation ; to be lashed into

fury ; to be much incensed. آگ پھڑکنا phúkná, v. to set on fire ; to stir the fire ; to provoke ; to incense.

آگ جھارنا jhárná, to brush the ashes from burning coal ; to

strike fire. آگ دینا dená, v. to burn a

corpse ; to kindle ; to flame.

آگ ساگنا آگ

دورنا—sulgáná—jorná, *v.* to set on fire; to excite to action; to create a disturbance. آگ جانا سے پانی ہو جانا—se pánti ho jáná, to lose the heat of passion; to recover from a violent fit of temper; to cool down. آگ کا باغ—ká báḡ, a goldsmith's furnace. آگ کا پتلا—ká putlá, *n. m.* a very agile and diligent man; a very astute person. آگ کا پتنگا—ká patíngá, *n. m.* a spark of fire; a particle of fire. آگ کرنا—karná, *v.* to kindle fire; to ignite; to make a thing exceedingly warm; to enrage; to inflame. آگ لگانا—lagáná, to blow the coals; to burn; to foment a quarrel; to stir up disunion; to provoke; to inflame; to lavish; to dissipate; to impoverish; to disdain. آگ لگانا—lagáú, *adj.* inflammable; *n.* mischief-maker; a rebel. آگ لگے پر کھودنا—lage par kuá khodná, (*lit.*) to dig a well after fire has broken out, hence to adapt precautionary or preventive measures after the occurrence of some misfortune. آگ لگنا—lagná, *v.* to catch fire, to burn; to be on fire; to writhe; to be inflamed; to be incensed; to be very hungry; to burn with envy or rage. آگ لگائے پانی بے دورنا—lagá ke páni le daurná, to pretend to appease a quarrel which one has purposely excited. آگ لینے آنا—lene-ána, *v.* to pay a flying visit, to come for fire. آگ میں لوٹنا—men loṭná, *v.* to be afflicted with sorrow; to be consumed with jealousy. آگ نیکالنا—nikálná, *v.* to strike fire. آگ ہونا—honá, to be set on fire; to become exceedingly hot; to be inflamed; to be incensed. آگ آگá, *H. n. m.* The fore-part; fore-rank; forehead; visage; prow; the van; advanced guard; the front of a house; the front of a turban; the future; the succeeding. آگ بھاری ہونا—bhári honá, *v.* to be big with child; to be pregnant. آگ پیچھا—pichhá, *n. m.* front and rear; demur; doubt. The private parts (of the body). آگ پیچھا دیکھنا یا سوچنا—pichhá dekhná yá sochná, *v.* to consider well the

past and future etc., to look before and behind; to consider the *pros* and *cons*; to weigh well; to be careful. آگ پیچھا کرنا—pichhá karná, *v.* to hesitate; to waver; to demur. آگ لینا—lena—sagbhálná, *v.* to advance; to take the lead. آگادھا agáḡha, अगाध, *S. adj.* Bottomless; deep; unfathomable. آگراہی igárah, *H. adj.* Eleven. آگری agári, अगरी, *H. n. f.* The front; advance; first assault; forefethers of a horse; *adv.* ahead; further on; in the van; forwards. آگری پھہڑی لگانا—pichhári lagáná, *v.* to confine a horse; to tie the fore and hind legs of a horse. آگری مارنا—márná, *v.* to surprise the vanguard; to defeat an hostile army; to attack in front. آگال ugál, उगाल, (उगार), *H. n. m.* Refuse which is spit out after chewing betel-leaf. آگدان—dán, *n. m.* a spittoon; a vessel for spitting in (*pikdán*). آگالنا ugálná, उगालना, *H. v.* To throw out; to spit out. [raise. آگانا ugána, उगाना, *H. v.* To cause to grow; to آگاہ agáh, *P. adj.* Appraised of, informed; acquainted with; intelligent; aware. آگاہ دل—dil, *adj.* mindful; conscious; shrewd; clever; sagacious. آگاہ کرنا—karná, *v.* to acquaint with; to inform; to warn. آگاہنا ugáhná, उगाहना, *H. v.* To pile up; to amass; to collect; to levy; to realize (debt). آگاہی agáhi, *P. n. f.* Information; intelligence; cognizance; insight; knowledge; vigilance. آگاہی ugáhi, उगाही, *H. n. f.* Sum of money paid or realized by instalments; collection of rent or revenue; proceeds. آگر agar, *P. conj.* If; in case; in the event of. آگر agar, अग्र, *H. n. m.* Wood of aloes. آگر agra, अग्र, *S. adj.* First; foremost; chief; best; prominent; principal; pre-eminent. آگر بھاک—bhág, *n. m.* the principal, main, prominent or first part of a thing. آگر سوچ—soch, *n. m.* forethought; foresight; forecast; vigilance. آگر سوچی—sochí, *adj.* prescient;

prudent ; provident ; cautious. अग्र-गामी—gámí, *adj.* prior ; anterior ; foremost ; *n. m.* precursor ; harbinger. अग्र-गामी सेना—gámí sená, *n. f.* the vanguard ; the guard of an army.

अग्रस aggrás, अग्रस, *H. n. m.* The first morsel.

अग्रचे agarchi, *P. conj.* Although ; though ; even ; if ; granted that.

अग्रवाल-अग्रवाल agarwál, agarwálá, अग्रवाल, *H. n. m.* A race of merchants of the Vaisnava tribe (from Agra to the west of Delhi).

अग्र बगर agar bagar, अग्रबगड़, *H. n. m.* Trifling talk ; disorder ; anomaly ; rubbish ; nonsense ; odds and ends ; confusion.

अग्रस्त agast, अग्रस्त, *H. n. m.* August ; name of a plant ; the star Canopus.

अग्रलá, *H. adj.* Foremost ; first ; main ; prime ; previous ; antecedent ; former ; preceding ; past ; ancient ; coming ; recent ; other ; next ; *n. m.* the first ; the leading ; the principal ; the best ; the anterior ; fathers ; elders ; ancestors ; progenitors ; the present race ; progeny ; offspring ; descendant ; a second person ; the Supreme Being. अग्रल-जन्म—janam, *n. m.* former life or existence ; the future.

अग्रल-पिचले अग्ले—agle-pichle, *n.* ancestors, elders ; predecessors ; descendants ; posterity ; preceding and succeeding generation.

अग्रम agam, अग्रम, *H. adj.* Inaccessible ; unobtainable ; inconceivable ; unsurmountable ; impervious ; fathomless ; unfordable ; boundless ; limitless.

अग्रम आगम, *S. n. m.* Coming, advent ; arrival ; the future ; a *Shastra*, containing spells and incantations dictated by *Mahadeva*.

अग्रम बान्धना—bándhná, *v.* to predict ; to forebode.

अग्रम बिद्या—bidyá, *n. f.* The art or science of, prediction or foretelling.

अग्रम गिनी—gyáni, *n. m.* fortune-teller, predictor ; diviner ; augur ; oracle ; seer.

अग्रमन आगमन, *S. m.* Arrival ; approach ; advent ; source.

अग्रिन agin, अग्रिन *n. f.* Fire.

अग्रिन बाउ, agin-báo ; *H. n. f.* The farcy in horses ; an eruptive disease in men and elephants.

अग्रिनबाण, अग्रिनबाण, (अग्रिनबाण) *H. n. m.*

Arrow of fire ; fire-bolt ; a rocket.

अग्रिन कुण्ड, अग्रिन कुण्ड, *n. m.* fire pit.

अग्रिन पूजा, अग्रिन पूजा, *n. m.* fire-worshipper.

अग्रिन संस्कार, अग्रिन संस्कार, *n. m.* funeral ceremonies, such as burning dead body.

अग्रन aguna, अग्रन, *S. adj.* Unskilful ; disqualified ; ineffective ; without merit ; *n. m.* defect ; fault ; vice.

अग्रन उगना, *H. v.* To germinate ; to sprout ; vegetate ; to grow ; to rise ; to set in.

अग्रन उगतेही जल जाना, *ugtehi jal jána*, to be blasted immediately on springing up ; to be destroyed prematurely. [culable ; innumerable.

अग्रनित, अग्रनित, *S. adj.* Countless ; incal-

अग्रनित अग्रनित, *H. n. m.* Guide ; one who adjusts a marriage.

अग्रनित अग्रनित, *H. n. m.* Front ; forepart ; the front of a house. अग्रनित पिकुवारे, *agwáre pichhwáre*, neighbourhood ; vicinage.

अग्रनित अग्रनित, *H. n. f.* The body of the ploughshare.

अग्रनित अग्रनित, *H. n. m.* Guide ; conductor ; precursor ; forerunner. *n. f.* guidance ; direction ; welcome ; reception (*agauni, istiqbal*).

अग्रनित अग्रनित, *v.* to go forward to meet the bridegroom ; to go forth to meet and welcome a visitor on the road.

अग्रनित अग्रनित, *H. n. f.* A great fire ; conflagration.

अग्रनित अग्रनित, *H. m.* An advance of rent paid by the cultivator to the zamindar in the months of jeth and ásárh. अग्रनित बतानी—batáni, a division of the crop in predetermined proportions between landlord and tenant.

अग्रनित अग्रनित, *S. adj.* Easy ; clear ; apparent ; easy of comprehension.

अग्रनित अग्रनित, *H. adj.* Unclothed ; denude ; bare ; undressed ; divulged ; apparent.

अग्रनित अग्रनित, *H. v.* To uncover ; to unveil ; to divulge ; to open ; to unclose ; to bare.

ال al, A. art. The الامان—aman, *intj.* for pity's sake! Mercy! God help me! (*duháí*). الان—án, *adv.* present. الان كماكان—an kamá kán, *adv.* as before; as usual. البتة—batta, *adv.* certainly; surely; decidedly; really; positively. التوكل—tawakkul, *adv.* on the supposition; hypothetically; by guess. الحاصل—hásil, *adv.* in fine; in short; to sum up; briefly; in a word. الحال—hál, *adv.* presently; at this time or moment; now; just now. الحذر—hazar, *intj.* Take care! Beware! الحافظ—háfiz, *intj.* God preserve me or us! Heaven defend us! الحق—haq, *adv.* really; in truth; certainly; in reality. الحمد لله—hamd-ollillah, *intj.* God be praised. السلام—salám, Peace be on thee! safety attend thee! العبد—'abd, *n. m.* signature; subscription. العظمة الله—'azmatulillah, *intj.* Great is God! marvellous. الغرض—garaz, *adv.* briefly; in fine; in short; on the whole. الغيات—gayás, *n. m.* demanding justice; *intj.* alas! الغيب—gaib, *n. m.* the concealed; the latent; the mystic. الغيب عند الله—gaib 'indalláh, the hidden or secret is with God; God is omniscient. القصة—qissa, *adv.* briefly; in a word. المضاعف—muzá'af, *adj.* double; twofold. المنة لله—minnatulillah, *intj.* Good God! God be eulogised. الوداع—widá', *n. m.* the last Friday of *Ramzan*; *intj.* Good-bye.

آل A. *n. f.* Children (specially of daughter). آل اولاد—aulád, offspring; progeny; descendants; house; race; family; kindreds; dynasty. آل سلاطاني—i-sultáni, royal family. آل عبا—'abá, Muhammad, Fatimá, 'Alí, Hasan and Husain.

آل alá, H. *n. m.* A small hole in a wall for holding a lamp, etc., (*ádq*); *adj.* wet; damp; moist.

إلا illá, A. *adv.* and *conj.* If; else; but; unless; except; besides; otherwise.

آل alá, (*álha* आल्हा); a song about Álhá and Udal; a ballad; a heroic poem. انبي آلا گانا—apni ala gáná, *v.* to tell one's own story; to blow one's own trumpet.

الآپ aláp, आलाप, H. *n. m.* Address; talk; communication; *n. f.* modulation; prelude to singing. الآپ چاری—chári, *n. f.* the act of modulating the voice previous to singing. الآپنا—ná, *v.* to modulate the voice; to run over the different notes before singing; to sing. [ments; tools.]

آلات alát, A. *n. m.* *Plu. of* آلت Álat) Implements. الآلایچی iláichí, इलायची, H. *n. f.* Cardamums. الآلایچی دانہ—dána, cardamums coated with sugar; a comfit.

الارنا ul'rná, उलारना, H. *v.* To cause to lie down.

الار ulár, उलार, H. *adj.* Liable to upset being too heavily laden at the back (a cart).

الاع ulág, P. *n. m.* An owl.

آلام alám, A. *n. m.* (*Plu. of* ألم Alam). Pains; afflictions; sorrows.

الاننا alláná, अल्लाना, H. *v.* To squeak; to shout; to cry; to make a noise.

الار aláo, अलार, H. *n. m.* A bonfire; a fire kindled on the ground round which the villagers sit and warm themselves.

الآل uláná, उलाना, H. *n. m.* Taunt; reprimands; charge; complaint. [cloth.]

الایچا iláichá, इलायचा, H. *n. m.* A kind of silk. الآلایش aláish, P. *n. f.* Contamination; pollution; filth; purulent matter.

البتة albatta, A. See ال al.

البیلا albelá, H. *adj.* Blithe; vivacious; sportive; wanton; wayward; guileless; plain; innocent; independent; foppish; *n. m.* a dandy; a coxcomb; a beau; a fop. البیلا پنا—paná, *n. m.* dandyism; spruceness; airs; foppishness; capriciousness; innocence. البیلا البیلا albelí, *n. f.* a belle; a silly woman.

الآپ alpa, अल्प, S. *adj.* Minute; little; small. الآپ آهار—áhar, *adj.* temperate; abstinent; *n. m.* temperance; abstemiousness. الآپ آزر—ázu, *adj.* ephemeral; shortlived; of few years; of little age.

الآپ bal, *adj.* Weak.

الآپین alpín, आलपीन, H. *n. m.* A pin.

التباس iltibás, A. n. m. Vagueness ; confusion ; obscurity ; ambiguity ; intricacy ; the circumstances of two words being similar in sound but various in meaning.

التجأ iltijá, A. n. f. Appealing to any one for refuge or succour ; entreaty ; importunity ; prayer ; begging ; application ; petition. التجأ iltijá — karná, v. to beg ; to solicit ; to pray ; to request.

التزام iltizám, A. n. m. Being necessary ; being assiduous ; expedient, taking on one's self ; to strike on one's neck.

التفات iltifát, A. n. f. Friendship ; civility ; obligation ; kindness ; courtesy ; consideration ; attention. التفات iltifát — karná, v. to have regard or respect ; to countenance ; to attend towards.

التماس iltimás, A. n. m. Beseeching ; soliciting ; prayer ; application ; request. التماس iltimás — karná, v. to solicit ; to importune ; to request ; to petition ; to beg.

التماز altamgá, T. n. m. The royal seal ; a royal grant in perpetuity descending to posterity ; a medal ; royal insignia.

الترا iltiwá, A. n. m. Adjournment ; postponement ; abeyance. الترا iltiwá — i-jang, a truce.

التها ulthá, उल्था, H. n. m. Translation.

التهاب iltiháb, A. n. m. Burning ; flaming ; heat.

التيام iltiyám, A. n. m. Healing of a wound ; being allayed or soothed.

ألت ulaṭ उल्ठ, H. n. f. Inversion ; reversion ; the opposite ; contrary ; inverse ; the wrong side ; vicissitude ; change. ألت ulyat — pher, n. m. embarrassment ; perplexity ; dilemma ; intricacy ; entanglement ; perversion ; deception.

ألت ulṭá, उल्ठा, adj. Reversed ; inverse ; topsy-turvy ; opposite ; perverse ; n. m. reverse ; contrary. adv. on the contrary ; on the other hand ; notwithstanding. ألتا ulyatna — bhágná, to run or flee back. ألتا ulyatna — pulṭá, adj. inverted ; topsy-turvy ; confused ; jumbled. ألتا

ألتا ulyatna — phirná, v. to return ; to go back ; to retrace one's steps. ألتا ulyatna — tawá, adj. jetty ; very black. ألتا ulyatna — janná, v. i. to be born feet foremost (a child). ألتا ulyatna — dhará bándhná, to counteract ; to bring a cross suit or counter action. ألتا ulyatna — jawáb, n. m. an impertinent reply ; a retort. ألتا ulyatna — samajhná, v. to misunderstand ; to misapprehend. ألتا ulyatna — phirná, v. to retrace one's steps ; to return from a place immediately after arriving. ألتا ulyatna — ulṭi paṭṭi papháná, to mistake ; to mislead ; to poison the mind. ألتا ulyatna — ulṭe chor kotwále dāṇḍe, (Prov.) the chief turns the tables on the Kotwal. ألتا ulyatna — ulṭi taqrír, n. m. inconsistent speech. ألتا ulyatna — ulṭi rít, n. f. a perverse course. ألتا ulyatna — ulṭi sáns lená, v. i. to gasp ; to breathe convulsively. ألتا ulyatna — ulṭi sidhí sunáná, to scold roundly ; to vilify ; to insult. ألتا ulyatna — saifí ; n. f. A curse which falls on the utterer. ألتا ulyatna — ulṭi taraf, the back ; the reverse. ألتا ulyatna — ulṭi karná, v. to cast up ; to vomit. ألتا ulyatna — ulṭi khopṛí, aṇḍhá gyán, (Prov.) Crooked head, crooked mind. ألتا ulyatna — ulṭi málá pherná, v. to call down a curse (upon). ألتا ulyatna — ulṭi hawá, n. f. contrary winds. ألتا ulyatna — ulṭáná, H. v. To upset ; to pervert ; to thwart ; to reverse ; to return ; to convert.

ألتا ulyatna — ulṭáná, palṭáná, H. v. To reverse ; to modify ; to interchange ; to mix together.

ألت ulyat — pulat, H. adj. Higgledy-piggledy ; upside down ; n. f. confusion ; interchange.

ألتا ulyatna — ulatná, उल्ठना, H. v. upset ; to pervert ; to thwart ; to overthrow ; to cast up ; to refute ; to empty ; to return ; to peruse a book ; to reply ; to cancel ; to be turned over ; to vomit ; to be referred or transferred (as a charm). ألت ulyat — ke kahná, to say over again ; to repeat. ألت ulyat — ṭát —, to become bankrupt or insolvent.

الجهان uljhána, उलझाना, H. *v.* To entangle; to ravel; to complicate; to involve; intertwine; to disarrange; to put on (a garment hastily or temporarily); to confuse; to entrap; to embroil.
 uljhá rakhná, v. to detain.
 uljháo, उलझाव } H. *n. m.* Entangle-
 uljhan, उलझन, } ment; intricacy;
 anxiety; confusion; embroilment; involution; complication.

الجهان ulajhná, H. *v.* To be entangled; to be involved; to quarrel; to discuss; to cavil.

الجهان ulajh pahná, उलझ पडना, H. *v.* To wrangle with; to carp at.
 pulajh jáná, v. to be delayed or detained.

الجهان ulachná, उलचना H. *v.* To draw off water from anything; to bale out; to drain.

الجهان ilháh, A. *n. f.* Importunity; entreaty; solicitation.

الجهان ilhád, A. *n. m.* Impiety; irreligion; idol-worship; heresy; disbelief; atheism; apostacy.

العاصم alhásil, A. In short; in fine; on the whole; the result. [contiguity.

العاصم ilháq, *n. m.* Annexation; addition;

العاصم alhál, A. *adv.* Now; at present; just now.

العاصم alhán, ilhán, A. *n. f.* (Plu. of العاصم Lahan). Notes; airs; tunes; modulation.

العاصم alhazar, A. *intj.* Take care! Beware!

العاصم alhafiz, A. *intj.* God be the protector or defender! God preserve me!

العاصم alhaq, A. *adv.* In truth; assuredly.

العاصم al-hamdulillah, A. God be praised.

العاصم alkháliq, P. *n. f.* A coat with sleeves; a surtout (like the qabá but having buttons instead of strings, at the neck, breast, and navel.) [thoughtless; undisciplined.

الز allar, अल्लह, H. *adj.* Boyish; childish;

الز ilzám, A. *n. m.* Accusation; charge; imputation; conviction; reproof; blame; libel.
 ilzám, Lagáná, v. to accuse; to charge, to impute.

بہ نکتہ ہمارا ہے سخن چیں کو نصیحت

الزام جو دینا نہیں ملزم نہیں ہوتا

(آتش) —

Yih nukta hamará hai sukhn chíng ko nasihat,
 Ilzám jo detá nahín mulzim nahín hotá.

آس alás, आलस, H. *n. m.* Idleness; laziness; inactivity; *adj.* lazy; indolent; inactive.
 alsáná, v. to doze; to be sleepy; to slacken.
 alsí, آلسی, *adj.* indolent; lazy; sleepy. [Tongues; languages.

السنة alsina, A. *n. f.* (Plu. of لسان Lisán).

السنة alsí, आलसी, H. *n. f.* Linseed. [slack.

السنة alsí, आलसी, H. *adj.* Idle; slothful;
 aslet, अलसेट, H. *n. f.* Deception; fraud; difference; obstruction; bar; deficiency (in an account).

الاش ulash, P. *n. m.* The leavings of food from the table of a great personage.

الطاف altáf, A. *n. m.* (Plu. of لطف). Kindnesses; grace. [of a subordinate.

العبد al-'abd, A. *n. m.* The signature or initials

العبد al 'azmatulillah, A. *intj.* Great is God!

الغارون algáron, T. P. *adj.* Great deal; too much (*syn.* دال مین الغارون نمک دال دیا dál men algáron namak dál diyá.) [flute; a pipe.

الغوزة algoza, P. *n. m.* A flageolet; a whistle; a

الف alf, A. *adj.* Thousand.

الف Al'if, A. *n. m.* The first letter of the Arabic, Persian and Urdu alphabets.

الف alif be, A. *n. f.* The alphabet.
 alaf honá, to become erect; to rear (as a horse).

الفاظ alfáz, A. *n. m.* (Plu. of لفظ Lafz). Words; terms; articulate sounds.

ألفت ulfat, P. *n. f.* Friendship; intimacy; love; attachment; society; affection; kindness.

ألفت كرتنا —karná, v. to be familiar with; to make friends with.

ألفتي ulfatí, A. *adj.* Attached; friendly.

القاب alqáb, A. *n. m.* (Plu. of لقب Laqab) Titles; honorary names; epithets; forms of address in letters; surnames; patronymic.
 القاب و آداب —o-ádáb, *n. m.* forms of address.

القصة alqissa, A. *conj.* Upon the whole; in a word; to be brief; to sum up.

alkas, आलकस, (आलस), H. *n. f.* Idleness ; indolence ; slowness ; dilatoriness ; *Prov.* 'The thief of time ; castle of indolence.' هاتجه كى
 Hāth ke ālkaṣ muḡh men mūḡch. Lazy hands moustache in mouth.
 ālkaṣānā, आलकसाना, H. *v.* To be idle ; to be indolent.
 alakh, अलख, H. *adj.* Imperceptible ; unseen ; formless. الـخـه پـرـش—purush, *n. m.* the Invisible Being. جـانـا الـخـه—jagānā, (*lit.*) to invoke the Invisible ; to ask alms in the name of God. الـخـه دـهـاري—dhārī, *n. m.* a mendicant who acknowledges no deity but Brahma.
 alag, अलग, H. *adj.* Detached ; loose ; separate ; aloof ; asunder ; isolated ; *intj.* be gone !
 alag, *adv.* Separately ; individually ; apart. الـگ رهنـا—rahnā, *v.* to live, alone ; to refrain from ; to shun. الـگ کـرنا—karnā, *v.* to divide ; to discover ; to disjoin ; to part ; to unloose ; to disband ; to get apart ; to divorce ; to dispose of ; to remove ; to unravel.
 algānā, अलगाना, H. *v.* To separate ; to disconnect ; to keep on one side ; to lift ; to raise. [clothes on.]
 alganī, अलगनी, H. *n. f.* A line for hanging
 allah, *n. m.* God. الـلـه اکبر—o-akbar, God is great. الـلـه الـلـه—allah, *intj.* Good God ! my goodness ! excellent ! الـلـه الـلـه خـير سـلـا—allah khair sallāh, thank God it is over. الـلـه آمین—āmin, *intj.* God grant it be so ! be it ! with great care. الـلـه الـلـه—re, *intj.* my God ! O God !
 kā nām lenā, to repeat the name of God. الـلـه پـير مـانـا—pir manānā ; *v.* To propitiate God and saints ; to make a religious vow.
 alam, A. *n. m.* Pang ; agony ; affliction ; pain ; torment. الـعـناک—nāk, full of grief ; afflicted. [a book-case ; a cabinet.]
 almārī, अलमारी, *n. f.* A chest of drawers ;
 almās, P. *n. m.* A diamond ; adamant. الـعـاس تـراش—tarāsh, *n. m.* diamond-cutter ; diamond dust ; *adj.* cut into facets (as glass).
 almāsī, P. *adj.* Cut into angles or facets.
 rang, *n. m.* a brilliant white colour ; diamond colour.
 allam ghallam, अल्लम गल्लम, H. *n. m.* nonsense ; *adv.* at random ; الـم غـلـم بـکـنا—baknā ;

v. to talk nonsense ; الـم غـلـم کـرنا ; karna ; *v.* to misappropriate ; to embezzle.
 alān, H. *n. m.* Straw, etc., mixed with mud for brick-making and plastering, etc.
 alankār, अलंकार, S. *n. m.* Adornment ; embellishment ; gem ; a figure of prosody ; rhetoric. [ornate ; decorated ; embellished.]
 alankrita, अलंकृत, S. *adj.* Adorned ;
 ālang, P. *n. f.* Trenches ; defensive work.
 ulangnā, (उलगन), H. *v. t.* To leap, pass, or go over ; to step over.
 ālū, H. *n. m.* Potato ; an esculent root.
 ālū, P. *n. m.* Plum. الـر بـخـارا—bukhārā, *n. m.* dried plum ; prune ; damson. الـر شـفتـالـو shaftālu, *n. m.* peach.
 ullū, उल्लु, H. *n. m.* An owl ; a fool ; an idiot. الـر بـنـانا—banānā, *v.* to befool ; to make a fool of ; to gull ; to cheat. الـر پـهـا نـسـنا—phānsnā, *v.* to beguile a green-fellow ; to rook a pigeon. الـر پـن—pan, *n. m.* foolishness ; silliness. الـر کـا پـهـا—kā paṭṭhā, *n. m.* a great idiot ; an arrant fool ; a simpleton.
 alwah, A. *n. m.* (*Plu. of* لوح Lauḥ). Tablets ; planks ; tables. [bitious.]
 ul-ul'azm, A. *adj.* Enterprising ; am-
 alwān, A. *n. m.* (*Plu. of* لون Laun). Colours ; sorts ; *adj.* of various sorts and colours. الـر انعمت—i-ni'amat, *n. m.* blessing of diverse kinds ; dishes of various kinds.
 alwān, अलवान, A. *n. m.* Shawl cloth.
 alop, अलोप, H. *adj.* Hidden ; vanished ; unbeheld ; imperceptible ; retired ; defaced. الـر مـایـا—māyā, *n. f.* the secrets of nature ; the imperceptible power in nature. الـر هـونـا honā, *v.* to be invisible ; to be out of sight ; to disappear. الـر انجن—anjan, a collyrium which applied to the eyes of any one renders him invisible.
 alūcha, P. *n. m.* A kind of plum ; *Prunus ovalifolia*. [foulness ; taint ; contamination.]
 alūdgi, P. *n. f.* Uncleanliness ; nastiness ;
 alūda, P. *adj.* Unclean ; foul ; impure ; contaminated ; smeared ; immersed.
 alol, अलोल, H. *n. f.* Gambol ; playsomeness ; frolic. الـر کـلـول کـرنا—kalol karnā, *v.* to gambol ; to caper ; to frolic. [insipid.]
 alona, H. *adj.* Saltless ; fresh ; savourless ;

الوحيات ulúhiyat, P. n. f. Deity; divinity; the divine essence; Godhead.

آلة ála, P. n. m. Tool; implement; weapon; instrument.

آلة خرفة ála-i-hirfat, n. m. Implements of trade.

آلة مهلكة —mohlik; P. n. m. A deadly weapon.

إله ilah, A. n. m. God. [word.

إلهام ilhám, A. n. m. Inspiration; revelation;

إهانة ulahná, उलहना, H. n. m. Reproach; complaint; charge. —dená, v. to reproach; to charge; to complain; to accuse.

إلهي iláhi, A. n. m. God; lord; adj. divine; celestial; of God; heavenly; intj. O God!

إلهي توبه —taubah, int. God protect us from evil; God be merciful to us. سن إلهي san—

n. m. the era instituted by the Emperor Akbar in the 24th year of his reign in A. H. 963 or 1556 A. D. غاز إلهي —gaz, n. m. the yard of 41 inches instituted by Akbar.

إلهيات iláhiyát, A. n. f. (Plu. of إلهيات). Heavenly things; metaphysics; theology.

إلهيات ilahiyat, P. n. f. Deity; godhead; divinity.

ألي alí, अलि, } S. n. m. A damsel; a female.
ألي آلي ali, आली, } friend; the bumble bee; a large black bee (bhaunra); a scorpion.

أليحنا ulichná, उलीचना, H. v. To throw out water; to bale.

إليش ilish, इलिरा, S. n. m. The hilsá fish; *Plupei alosa*.

أليم alím, A. adj. Troublesome; corroding; excruciating.

أم ám, H. n. m. Mango. رس أم ras, (amáwat); n. m. inspissated juice of the mango.

أم umm, A. n. f. Mother. أم الصبيان —ul-sibyán, mother of the children, i. e., the devil's wife, who frightens children in their sleep; a kind of epilepsy. أم الكتاب —ul-kitáb, mother of the book, i. e., the lauh-i-mahfúz or *Qurán*.

أما amá, अस्मा, n. f. Mother.

أما amá, A. conj. But; nevertheless; yet.

أماج ámaj; P. n. m. A heap of earth on which a mark is fixed to shoot arrows at; a target;

—gah; P. n. The place where the mark is fixed for shooting arrows at.

آمادگی amádgí, P. n. f. Readiness; alertness; preparedness; inclination.

آماده kárná, P. adj. Prepared; ready. آماده كرنأ —kárná, v. to prepare; to excite; to abet; آماده هونا —honá, v. to get ready; to be inclined.

إمارات imárat, A. n. f. Government; lordship; the office or dignity of a governor, etc.; grandeur; show. [wilful; imperious.

أمامة ammára, P. adj. Stubborn; refractory;

أمامة amás, P. n. m. Swelling; tumour. أماس كرنأ —kárná, v. to swell.

إمام imám, A. n. m. Spiritual leader or guide; (specially of the Mohamedan religion); a prelate; patriarch; chief; a large bead in the rosary. بازار إمام —bárá, n. m. the place to which the تعزية t'aziya, and standard علم

(*Alam*) are conveyed and kept in the Moharam. إمام ضامن —Zámin; P. n. m. The protecting Imám or guardian saint.

أمان amán, A. n. f. Safety; security; safeguard; quarter (*panáh*).

أمانات amánat, A. n. f. Deposit; charge; trust; faith; a thing or property committed to the trust and care of a person. (dharor). امانت دار —dár; n. m. depository; receiver; trustee; fiduciary; guardian. adj. trustworthy. امانت داري —dári, n. f. trustworthiness; agency;

trust; deposit; charge. امانت ركهنا —rakhná, to deposit; to leave in trust; to set or lay aside. امانت ميں خيانت —men k'hiyánat, breach of trust. امانت نامه —náma, deed of trust or deposit.

أمانتي amáni, A. n. f. Safety; deposit; trust; land held under Government supervision (in contradiction to *Ijárá* land on farm); work done under one's own supervision (as opposed to contract work).

أماوات amáwat, अमावत, H. n. m. Thickened juice of the mango.

أماواس amáwas, अमावस, H. n. f. (Astro.) The last day of the dark fortnight; the night of new moon.

امهان ambán; H. n. m. A potter's kiln.

امیاسنا ambásná, अम्बासना, H. v. t. To season a new earthen vessel by letting water remain in it for some time; to rinse.

امبر ambar, अम्बर, n. m. Clothes; the sky; a perfume; ambergris.

امبهوری ambhaurí, अम्भौरी, H. n. f. Watery pustules; prickly heat.

امبیبا ambiyá, अम्बिया, H. n. f. A small unripe mango.

امت ummat, A. n. f. People; sect; adherents; race; followers; caste; creed; nation.

امتحان imtihán, A. n. m. Examination; test; investigation; temptation. امتحان دینا—dená, v. to undergo or pass an examination. امتحان کرنا—karná, v. to examine; to assay; to test; to experiment or trial (of). امتحان لینا—lena, to examine; to test.

امتداد imtidád, A. n. m. Prolongation; protraction; (Math.) dimension; adj. protracted.

امتزاج imtizáj, A. n. m. Mixture; dilution; union; mingling.

امتلاء imtilá, A. n. m. Repletion; indigestion.

امتناع imtiná', A. n. m. Prohibition; restriction; restraint. امتناع تداخل—i-tadakhul, n. m. (in Science) impenetrability.

امتیاز imtiyáz, A. n. m. Discretion; discrimination; discernment; ceremony; supereminence. امتیاز کرنا—karná, v. to distinguish; to treat with distinction.

امیت amit, अमित, H. adj. Ineffaceable; indelible; indestructible; unalterable; fast; fixed; steady.

امثال amsál, A. n. m. (Plu. of امثال Misál). Equals; semblances; sayings; examples; adages.

امچور amchúr, अम्चुर, H. n. f. Dried mango-paring. (khatáí).

آمد ámad, P. n. m. Advent; arrival; incoming; access; coming in; revenue. آمد آمد—ámad n. f. approach; the announcement of an arrival.

آمد رفت—ámad raft, آمد رفت—ámad raft, n. f. traffic; coming and going; ingress and egress;

communication; thoroughfare. آمد و خراج—ámad wa kharaj, n. m. income and expenditure; receipts and disbursements. آمد و خراج—ámad wa kharaj, n. m. A rich man.

—o-kharch, income and expenditure; receipts and disbursements. آمد و خراج—ámad wa kharaj, n. m. A rich man.

امداد imdád, A. n. f. Assisting; help; donation; contribution. امدادی عطیة—i-a'tiya, grant-in-aid.

آمدانی ámdaní, आमदनी, P. n. f. Advent; income; revenue; profits; resources; perquisites; imports. آمدنی خالص—khális, net proceeds.

امدنا úmadná, उद्मना, H. v. n. To overflow, to abound, to swell.

امر amar, अमर, S. adj. Immortal; exempt from death; eternal; n. m. an epithet of the Deity.

امر بیل—bel, an epidendron or parasitical plant similar to the mistletoe. امر لوك—lok, n. m. paradise; heavens.

امر amar, A. n. m. Command; behest; affair; business; fact; point; (Gram.) the imperative.

امر تجویز—i-tajwiz shuda, res judicata. امر تفتیح طلب—i-tanqih talab, a point at issue.

امر مستفسرة—i-mustafsira, the point or matter referred to. امر و نهی—o-nihí, n. m. commands and prohibitions; (Gram.) positive and negative. [grandnees.

امرا umará, n. m. (Plu. of امیر Amir.) Nobles; Diseases; complaints.

امراض amráz, A. n. m. (Plu. of مرض Marz.) Diseases; complaints.

امریت amrit, अमृत, S. n. m. Ambrosia; nectar; water of life. امرتبان—bán, n. m. a glazed earthen jar; a variety of the plantain.

امرز ámurz, P. n. m. Forgiving; forgiver. امرزگار—n. m. forgiver; he who pardons; an epithet of God. [pardon of sins (by God).

امرزش ámurzish, P. n. f. Forgiveness; grace;

امرود amrúd, P. n. m. Guava.

امروز imroz, P. adv. To-day. امروز فردا—fardá, to-day or to-morrow; soon. امروز فردا کرنا—fardá karná, v. to delay; to procrastinate; to defer. [without a breath of air.

امس úmas, H. n. f. Sultriness; intense heat

امساک imsák, A. n. f. Keeping back or off. امساک باران—i-barán, want of rain.

امسال imsál, P. adj. This year.

امشب imshab, P. adj. To-night.

امكان imkán, A. n. m. Potentiality ; possibility ; contingent ; existence ; power.

امكانى imkání, A. adj. Practicable ; possible ; contingent.

امل amal, A. n. m. Expectation.

املإ imlá, A. n. m. Filling up ; writing correctly ; orthography ; dictation. املأ نوبس — nawís, n. m. one who writes correctly.

املاك amlák, A. n. f. } (Plu. of ملك Mulk).
املاك imlák, A. n. m. } Landed possessions ;
real property ; goods. املاك غير منقولة —i-gair-
manqúla, immovable property. املاك منقولة
—i-manqúla, movable property.

املتاس amaltás, अमलतास, H. n. m. A fruit used as a purgative ; *Pathartocarpus fistula*.

املى imlí, इमली, H. n. f. The tamarind tree or its fruits.

امن aman, A. n. m. Safety ; calmness ; tranquillity. امن و امان —o-amán—chain, n. m. safety and peace.

امنا samaña, आमना सामना, H. n. m. Confronting ; front. آمنه سامنه amne sámne, adv. face to face ; over against ; opposite.

امندنا umandná, H. v. To overflow ; to swell ; to fall (as tears) ; to gush out ; to be affected.

امنگ umang, उमंग, H. n. f. Ecstasy ; rapture ; triumph ; desire ; passion ; pride ; ambition.

امنگل amangal, अमंगल, S. adj. ill-omened ; inauspicious.

امنگنا umangná, उमंगना, H. v. To be transported ; to swell with joy ; to surge ; to increase.

امنيت amniyat, P. n. f. Safety ; tranquillity.

اموات amwát, A. n. f. (Plu. of موت Mau.) Deaths.

امواج amwáj, A. n. f. (Plu. of موج Mauj.) Waves ; surges ; billows.

اموال amwál, A. n. m. (Plu. of مال Mál. Riches ; goods ; chattles ; property.

آمورخته ámokhta, P. adj. Taught ; learned ; n. m. an old lesson. آمورخته پڑھنا —parhá, to read over old lesson ; to revise.

أمورات amúr, A. n. m. (Plu. of امر Amr.) umúrat (Plu. of امور Umúr.) Business ; transactions ; affairs ; matters ; questions.

امول amol, अमोल, H. adj. invaluable ; inestimable ; priceless.

أمى ammi, ; P. n. f. Mother.

أمى Ummi ; A. adj. Uneducated ; illiterate.

أمیٹھنا umethná, उमेठना, H. r. t. To twist ; to wring. کان امیٹھنا kan —, to pull the ears.

آمیکھتہ amekhta, P. adj. Mixed.

امید umed, P. n. f. Hope ; confidence ; trust ; reliance. امید رکھنا —rakhná, v. to hope ; to rely on ; to trust. امید سے ہونا (larke ki ás) hope or prospect of offspring. امید و بیم —o-bim, hope and fear.

امیدوار umedwár, P. adj. Expecting ; hopeful ; n. m. an expectant ; petitioner ; suppliant ; candidate ; cadet ; apprentice. امیدوار ہونا —honá, v. to expect ; to attend an office, as an apprentice ; to be a candidate.

امیدواری umedwári, P. n. f. Hope ; dependance ; apprenticeship ; candidateship ; expectations ; hopefulness.

امیر amír, A. n. m. Commander ; chieftain ; ruler ; governor ; gentleman ; rich man. امیرالامیرا ul-umará, n. m. chief of the nobles ; lord of lords. امیرالبحر ul-bahr, n. m. admiral. امیرالمومنین ul-mominín, n. m. commander of the faithful (a title assumed by the Caliphs). امیر زادہ —záda, adj. nobly born, n. m. a prince.

امیرانہ amíraná, A. P. adj. Princely ; lordly.

آمیزش ámezish, P. n. f. Mixture ; sociableness ; intercourse ; temperament ; adulteration.

آمین amín, A. adj. Amen ; so be it.

امین amín, A. adj. Constant ; safe ; trustworthy ; faithful ; n. m. a trustee ; a receiver ; a commissioner ; an arbitrator ; a curator ; amin ; inspector ; bailiff ; law officer. حساب —hisáb, n. m. an auditor of account.

ان an, अन्, H. A negative prefix equivalent to the English in and un.

ان anna, अन्न, S. n. m. Food ; grain ; corn. ان پانی —paní, jal, n. m. food and

drink ; victuals ; subsistence. ان پرانن —
parasan, the first feeding of a child with
grain food. ان داتا — datá, *n. m.* food giver ;
patron ; master ; employer ; supporter.

آن اُن, *pron.* That. آنجا, ánjá, in that place ;
there. آنکے اُن ki, that which ; he who.

آن ان, *H. P. n. f.* Bashfulness ; shame ;
course ; way ; manner ; mode (*andaz, qhang,*
taur) ; bearing ; natural inclination ; form ;
elegance ; a graceful attitude ; vanity ; affec-
tion ; proper spirit ; desire ; standing ; fame ;
character ; oath ; hesitation ; reputation ;
dignity ; honour. آن بان — bán, *n. f.* course ;
mode ; habit ; form ; charm ; vanity ; proper
pride ; beauty ; conceit. آن مان — mán, *n. m.*
deference ; esteem. آن مان سے — mán se, *adv.*
honourably. آن ماننا — mánná, to acknowledge
the superiority of ; to confess oneself van-
quished.

دیکھو کرتی گلے میں سبز دھانی آپکی
دھان کے بھی نہایت نے اب آن مانی آپ کی
(نظیر) —

Dekh kar kurti gale men sabz dhani apki,
Dhan ke bhí khet ne ab an maní apki.

آن ان, *H. n. f.* Time ; hour ; minute. آن کی
آن میں — kí — men, *adv.* in an instant ; im-
mediately ; in one moment.

قرض لے گئی آن کی آن میں

آرا کر وہ اسکو پرستان میں

— میر حسن

Garaz le gai an ki an men,

Urakar wuh usko parastan men.

ان in ان, *pron.* These ; them. ان دنوں — dinon,
adv. now-a-days.

ان un, *H. pron.* Them.

ان انá, *A. n. m.* Postponement ; delay, oppor-
tunity. انپرست — parast, *adj.* procrastinating ;
timeserving ; seeking opportunity ; *n. m.*
time-server.

اننا anná, *H. n. f.* A wet nurse.

آننا ana, *H. n. m.* The sixteenth part of a rupee ;
an anna.

آننا áná, *H. v.* To come ; to become ; to be
possible ; to ensure ; to result ; to be gained ;
to arrive ; to happen ; *n. m.* coming ; arrival ;
advent. آننا جانا — jáná, coming and going ;
interchange of visits. آن پڑنا — an parná, to
come down. آن ملنا — an milná, *v.* to arrive ;
to come near ; to meet (with). آن پہنچنا — an-
pahunchná, *v.* to encounter ; to unite. آگرنá
á girná, to make a rush (upon). آ لینا á lená,
to overtake. آنکالنا — ánikalná ; to chance to
come.

اننا inná, *A.* Indeed we ; truly we. اننا الیہ راجعون —
ilaihi raj'eun, truly we return to Him
(God).

انبات inábat, *A. n. f.* Conversion to God ;
repentance ; penitence.

اناث anáth, *S. adj.* Husbandless ; pro-
tectorless ; without a chief, sovereign or
master ; poor ; hopeless.

اناج anáj, *H. n. m.* Grain ; corn ; اناج کا
— ká dushman, a lazy fellow.

انادر anádar, *S. n. m.* Dishonour ; dis-
respect ; insult. انادر کرنا — karná, to dis-
honour ; to slight ; to insult.

انار anár, *P. n. m.* A pomegranate ; a kind of
fire-works. انار بی دانہ — i-bi-dána, a supericr
species of pomegranate without seeds. انار
— dána, a kind of cloth.

اناری anári, *H. adj.* Unskilful ; inapt ;
artless ; inexperienced ; simpleton ; illiterate ;
n. m. a novice ; blockhead ; idiot ; simpleton.
اناری پن کا کام — pan ká kám, act of ignorance.

اناسی unásí, *H. adj.* Seventy-nine.

آننا آننا — ánán-fánan, *A. adv.* the very moment ;
immediately ; incessantly.

آننا کانی — áná káni, *H. n. f.* Turning a deaf ear ;
purposely neglecting ; trifling with ; disre-
garding ; winking at. آننا کانی دینا — káni dená,
v. to turn a deaf ear ; to pass by ; to light ;
to trifle with ; to disregard ; to connive at ; to
shuffle ; to pay no heed. [inn ; demons.

انامل anám, *A. n. m.* Mankind ; created beings ;

انامل انامل — *Plu. of Anmala*). انامل
Fingers ; tips of the fingers.

انانیات *anāniyat*, P. n. m. Egotism; arrogance; self-conceit; self-praise.

انبار *ambár*, P. n. m. Heap; lump; collection; stock; hoard; barn; granary. انبار خانہ *khána*, storehouse; warehouse.

انباری *ambári*, انباری, (Corr. of انباری *Ambari*) H. n. f. A litter (used on an elephant); canopy; (a litter without a canopy is called *kauda*).

انباذ *ambáz*, P. n. m. A partner; an associate.

انباذی *ambázi*, P. n. f. A partnership.

انبان *ambán*, P. n. m. A very soft sort of leather sack; a bag; a wallet.

انبساط *imbisát*, A. n. f. Gladness; glee; delight; joyfulness; merriment; recreation; mirth.

انبن *an-ban*, H. n. m. Discard; disagreement.

انبول *an-bol*, अनबोल, H. adj. Speechless; mute; silent.

انبوه *amboh*, P. n. m. Multitude; rabble; mob; concourse.

انبه *amba*, P. n. m. Mango. [Prophets.

انبیا *ambiyá*, A. n. m. (Plu. of انبی *Nabi*)

انبیاء *an-biyáhá*, H. adj. Unmarried; n. m. a bachelor. [spinster.

انبیاهی *an-biyáhi*, अनब्याही, H. n. f. Maiden;

انبیق *ambíq*, A. n. m. (Chem.) Retort; alembic.

انپچ *an-pach*, अनपच, (अपच) H. n. f. Indigestion.

انپڑھا *an-parhá*, H. adj. Uneducated; illiterate; unread.

انت *ant*, अंत, S. n. f. End; close; termination; result; consequence; fruit; design; intent; object; aim; pith; spirit; life; mind; soul;

adv. after all; at last. انت کال *ant kál*, n. m. dying moment; last moment.

انت *a-nit*, अनित्य, H. adj. Not for ever; not lasting; evanescent; perishable; fleeting.

آنت *ánt*, आंत, H. n. f. Entrails; gut; intestines.

آنت کا بڑھنا *ka barh áná*, protusion of a gut; rupture; hernia.

اننات *unnati*, उन्नति, S. n. f. Elevation; advancement; promotion (*taráqqi*).

اننتالیس *untalís*, अन्तालीस, H. adj. Thirty-nine.

انتخاب *intikháb*, An. n. m. Selection; extract; choice; election. انتخاب کرنا *karná*, to select; to extract; to choose; to pick out.

انتر *antar*, अंतर, S. n. m. Interior; intermission; intermediate space; distinction; difference; heart; corner; suspension; gulf; *adj.* other; internal; intermediate.

انتر بید *—bed*, n. m. a part of the country between two rivers, called Doab. انتر جامی *—jami*, n. m. The Supreme Spirit.

انتر دھیان *—dhyán*, n. m. disappearance; profound meditation. انتر دھیان ہونا *—dhyán honi*, v. to vanish; to disappear.

انتر گتی *—gati*, n. f. the emotion of the heart.

انتری *antari*, अन्तरी, H. f. Entrails; bowels; intestines. انتری کا بل کھانا *—kí bal kholná*, v. to eat a bellyful after starving.

انتریوں میں آگ لگانا *antariyon men ág lagná*, *antariyan jalná*, v. to be very hungry. انتریوں کا دل ہوا *antariyon ká qul-hu-alláh* *parhá*, v. to be very hungry.

انتریوں میں گئے *—atriyan-gale-men-parná*, to be involved in calamity. [relation.

انتساب *intisab*, A. n. m. Connexion; lineage;

انتشار *intishar*, A. n. m. Spreading abroad; scattering; dispersion; propagation; confusion.

انتاش کرنے *antash-karan*, अन्तःकरण, H. n. m. The heart; the conscience; the inner man.

انتظار *intizár*, A. n. m. Expectation; looking out for. انتظار دیکھنا *—dekhná*, v. to be on the lookout for. انتظار کرنا *—karná*, v. to expect; to look one for; to await.

انتظار کش *—kash*, *adj.* expecting out for.

انتظاری *intizari*, P. n. f. Expectation; looking out for. انتظاری کرنا *—karná*, v. to expect; to await for.

انتظام *intizám*, A. n. m. Management; regulation; order; administration; arrangement; organization; plan. انتظام خانگی *—i-khanagi*, n. m. private arrangements. انتظام دینا *—dená*, v. to arrange; to manage; to administer.

انتظام رکھنا *—rakhná*, v. to keep order.

انتظام کرنا *—karná*, v. to arrange; to put in order; to manage.

انتعاش *inte'ash* A. *n. m.* Recovering from sickness; regaining one's legs after stumbling.

انتفاع *intifa'*, A. *n. m.* Being benefitted; deriving advantage; profit (*nafa'*).

انتقاض *intiqāz*, A. *n. m.* Violation; breach.

انتقاض شرط *i-shart*, violation of a stipulation; breach of a condition.

انتقال *intiqāl*, A. *n. m.* Transfer; conveyance; alienation; assignment; transmitting; migration; transportation; travelling; departure; decease; death.

انتقال آراضي مقبوضه *i-arāzi-maqbūza-i-mushtarika*, transfer of land held jointly.

انتقال جايداد *i-jaidād*, transfer of property.

انتقال جائز *i-jāiz*, a legal or valid transfer.

انتقال حقيقت *i-haqiyat*, a transfer of rights.

انتقال خانگي *khanagi*, a private transfer or conveyance.

انتقال دائمي *i-dāimi*, permanent alienation.

انتقال دار *dār*, *n. m.* a transferee; an alienee.

انتقال کرنا *karnā*, *v.* to transfer; to assign; to transport; to remove; to die.

انتقال کننده *kuninda*, *n. m.* alienor.

انتقال نامه *nāma*, deed of transfer or conveyance.

انتقالی *intiqālī*, A. *n. f.* Transfer of a *zamin-dārī*, or other property.

انتقالی بھي *bahī*, register of transfer of property.

انتقالی رسوم *rūsūm*, transfer fees.

انتقام *intiqām*, A. *n. m.* Revenge; vengeance.

انتقام لینا *lenā*, *v.* to take revenge; to revenge; to avenge.

انتہا *intihā*, A. *n. f.* Termination; close; finish; utmost limit; perfect; consummate.

انتیس *antis*, H. *adj.* Twenty-nine.

آنت *ānt*, *आंट*, H. *n. f.* Twist; turn; fold of the *dhoti*.

آنت پڑنا *parnā*, to become knotted or entangled.

آنت کی سنت *ant-ki-sant*, irrelevant; inapt.

آنتا *antā*, *अंटा*, H. *n. m.* A ball; a marble.

آنتا چٹ *chit*, *adj.* unfortunate; ill off; senseless; tipsy; prostrate.

آنتا چٹ ہونا *chit honā*, *v.* to fall down on the back; to be inebriated.

آنتا کُھر *ghar*, *n. m.* a billiard room.

آنتنا *antnā*, } H. *v.* To fill; to go into; to reach; to be tightened.

آنتنا *antnā*, }

آنتوانا *antwānā*, *अंटवाना*, H. *v.* To cause to be filled in; to cram into.

آنتھلانا *anthlānā*, *अंठलाना*, H. *v.* To gripe; to twinge; to trumpet; to swagger; to walk in a pompous manner; assume airs (*athlānā*).

آنتی *antī*, H. *n. f.* A handful; a skein of thread; a bundle of grass; a wisp; a small fagot; a big trick in wrestling.

انجام *anjām*, P. *n. m.* Termination; end; close; accomplishment; conclusion; performance; result; issue; taxation.

انجام پانا *panā*, to be performed; to be completed; to be brought to an end or close.

انجام دینا *denā*, *v.* to accomplish; to finish; to bring to an end; to manage; to comply with; to discharge.

انجان *anjān*, *अनजान*, } H. *adj.* Unknown; uninstructed; senseless; inattentive; inadvertent; averse; unwitting; unmeditated.

انجانا *anjāna*, *अनजाना*, } *n. m.* a stranger

انجانے *anjāne*, *adv.* unknowingly; inadvertently; ignorantly; unconsciously; unawares.

انجان ہونا *honā*—*bannā*, *v.* to feign ignorance.

انجان بننا *anjānī*, *अनजानी*, H. *n. f.* ignorance; foolishness; inadvertence; stupidity; negligence. (*Najib*). Excellent, of noble birth.

انجیب *anjāb*, A. *adj.* (*Com.* and *Sup.* of نجیب)

انجبار *anjabār*, P. *n. m.* A plant from which a drink is prepared for obstinate colds; *Polygonum bistorta*.

انجیرہ *anjira*, or *anjara*, P. *n. m.* A nettle.

انجلی *anjilī*, *अंजली*, H. *n. f.* The hollow formed by joining the hands together; the cavity produced by placing the hands together so as to form the shape of a boat.

انجلا *an-jalā*, *अनजला*, H. *adj.* Unburnt.

انجم *anjum*, A. *n. m.* (*Plu.* of نجم *Najm*). Stars.

انجماد *injmād*, A. *n. m.* Congealing; freezing; condensation; curdling.

انجمن *anjuman*, P. *n. f.* Assembly; congregation; club; society; association; banquet.

انجمن امداد *imdad bahamī*, *n.* co-operative society.

انجن *injan*, *इंजन*, H. *n. m.* Engine.

انجن *anjan*, *अंजन*, H. *n. m.* Antimony; colly-

أجیالا ujíalá, उजियाला, H. *n. m.* Light ; dawn.
 انجیر anjír, P. *n. m.* A fig ; *ficus carica*. انجیر
 آدم—i-ádam, *n. m.* the wild fig (*gular*).
 انجیل injíl, A. *n. m.* The New Testament ; the
 -Gospel.
 ان اُچت an-uchit, अनुचित, S. *adj.* Improper ;
 inapt ; unsuitable.
 آنچ anch, आंच, H. *n. f.* Fire ; glare ; blaze ;
 glow ; fervour ; splendour ; heat ; warmth ;
 trial ; difficulty. سانچ کو آنچ نہیں sanch ko—
 nahín, (Prov.) Fire toucheth not (has no
 effect upon) truth ; truth has nothing to fear.
 آنا—na áná, to suffer no injury.
 انچ inch, इंच, H. *n. m.* An inch.
 اُنچاس unchás, *adj.* Forty-nine.
 اُنچائی uncháí, उंचाई, H. *n. f.* } Height ; ele-
 اُنچان unchán, उंचान, H. *n. f.* } vation ; emi-
 nence ; sublimity ; loftiness ; exaltation.
 انچال anchal, अंचल, S. *n. m.* } The end or border
 انچال anchal, आंचल, } of a cloth, veil,
 sheet, etc. ; the breasts (of a woman).
 اُنچل دبانا—dabána, *v.* to suck the breast. اُنچل
 ڈالنا—dálná, to throw the veil over the breast.
 انچل میں باندھنا—men-bándhna, to bear in
 mind ; to keep in memory.
 انچنای anchuná, P. *adv.* Even so ; even as ;
 just as.
 انچھلا an-च्छilá, अनच्छिला, H. *adj.* Unpared ;
 unpeeled ; rude ; awkward ; unpolished ;
 unsmoothed.
 انحراف inhiráf, A. *n. m.* Deflection ; inversion ;
 turning (from) ; revolt ; swerving from allegi-
 ance ; disobedience ; apostasy ; treachery ;
 declination (in Astro.). انحراف کرنا—karná,
v. to deviate from ; to turn against ; to
 repudiate ; to recant ; to revolt.
 انحصار inhisár, A. *n. m.* Being surrounded ; en-
 circling ; restriction ; limitation ; siege ;
 blockade ; restraint ; reliance ; dependence.
 انحلال inhilál, A. *n. m.* Solution ; unbinding.
 انخفاف inkhifáf, A. *n. m.* Lightness ; brevity.
 انداختہ andákhta, P. *adj.* Thrown ; flung away ;
 discarded ; cast ; formed ; cast away.

اندار andár, P. *n. m.* Narrative ; story ; tale ;
 fiction.
 انداز andáz, P. *adj.* Caster ; thrower ; shooter.
 برق انداز : barq—, *n. m.* a matchlock man.
 گولنداز—golandaz, an artillery man.
 انداز andáz, } P. *n. m.* Measurement ; di-
 اندازہ andáza, } mension ; weight ; valuation ;
 conjecture ; guess ; tune in music ; propriety ;
 symmetry ; grace ; manner ; style ; fashion ;
 method. اندازہ کرنا—karná, *v.* to estimate ; to
 conjecture ; to judge. [approximately].
 اندازان andázan, P. *adj.* By guess ; conjecturally ;
 اندام andám, P. *n. m.* Body ; stature ; figure.
 اندر andar, P. *prep.* Within ; in the inside ;
 inward. اندر سے—se, *adv.* internally. اندر کرنا—
 karná, *v.* to drive in ; to bring in ; to put
 within.
 اندر Indra, इन्द्र, S. *n. m.* The king of the in-
 ferior divinities ; Jove ; the god of rain.
 اندر آسن—ásan, *n. m.* the seat or throne of
 Indra. اندر پرستہ—prastha, *n. m.* ancient
 Delhi. اندر دھنشا—dhanusha, *n. m.* the
 rainbow. اندر کا اکھاڑا—ká akhára, *n. m.*
 assembly room of Indra. اندر جال—jál,
 deception ; trick ; magic ; juggling ; illusion.
 اندر جڑ—jau, the seed of a certain medicinal
 plant ; *Nerium antidysentricum*.
 اندراج indráj, A. *n. m.* Being folded together ;
 insertion, entry ; extinction of a family.
 اندرائین indráin, इन्द्रायिन, S. *n. f.* Wild gourd ;
 colocynth ; a fruit of beautiful appearance
 but bitter taste.
 اندرز andarz, P. *n. m.* Last will ; last advice ;
 precepts ; admonition.
 اندرسا andarsá, H. *n. m.* A sweetmeat of rice
 flour and sugar fried in *ghi*.
 اندرون andarún, P. *adj.* Within ; internal ;
 inside ; *n. m.* inner apartment.
 اندری indrí, इन्द्रो, H. *n. f.* An organ of sense ;
 the organs of action and perception. اندری
 جلاب—juláb, *n. m.* a diuretic medicine.
 اندفاع indifa', A. *n. m.* The being repelled or
 prohibited ; repulsion ; the being warded of.

اندی *andak*, P. *adj.* Little ; small ; few. اندے — a little ; a few.

اندمال *indimál*, A. *n. m.* Healing of a wound ; getting better ; recovery ; cicatrization ; improvement.

اندوختہ *andokhta*, P. *adj.* Gained ; acquired ; annexed ; *n. m.* acquisition ; profit.

اندرد *andúd*, P. *part.* Covered ; overlaid ; incrusted ; plastered over ; washed over ; anointed ; smeared.

اندردہ *andoh*, P. *n. m.* Grief ; anxiety ; sorrow ; trouble ; care. اندردہ ناک — *nák*, — *gīn*, *adj.* full of grief ; sorrowful, mourning ; sad.

اندھا *andhá*, अंधा, H. *adj.* Blind ; stone blind ; obscure ; faint ; undiscerning ; dark ; heedless ; thoughtless ; *n. m.* a blind man. اندھاپن — *pan*, *n. m.* blindness ; obscurity ; folly. اندھا — *tára*, *n. m.* the planet Neptune. اندھا

خرچ — *kharch*, profuse expenditure ; prodigality ; extravagance. اندھا دربار — *darbár*, a corrupt court, government or office ; misgovernment. اندھا دھند — *dhund*, *adj.* blind ;

exorbitant ; excessive ; violent ; outrageous ; rash ; wild ; *n.* misgovernment ; anarchy ; *adv.* blindly ; preposterously ; wildly. اندھا ہونا — *honá*, to lose sight ; to become blind. اندھا

دھند رونا — *dhund roná*, *v.* to weep violently or bitterly. اندھا دھند لٹانا — *dhund luṭaná*, *v.* to expend extravagantly ; to squander. اندھا کرنا — *karná*, *v.* to blind ; to dupe ; to defraud.

اندھا کڑوا — *kúp*, — *kuán*, *n.* dry well filled up with rubbish, etc. اندھی — *andhi* سرکار — *sarkár* ; a corrupt government ; maladministration.

اندھکار *andhkár*, अन्धकार, S. *n. m.* Darkness ; a violent dust-storm.

اندھی *andhí*, आंधी, H. *n. f.* Dust-storm ; tempest ; hurricane ; gale ; cyclone. — اندھی چلنا — *chálná*, — *uṭhná*, — *aná*, *v.* to blow a hurricane.

اندھیر *andher*, अंधेर H. *n. m.* An arbitrary, despotic or cruel act ; tyranny ; iniquity ; violence ; tumult ; anarchy ; disorder. اندھیر کرنا — *karná*, *v.* to outrage ; to do wrong to ;

to tyrannize (over) ; to oppress. اندھیر کہاتا — *khátá*, *n. m.* unfairness in accounts or dealings.

اندھیرا *andherá*, अंधेरा, H. *adj.* Dark ; blind ; hazy ; dusky ; *n. m.* darkness ; dimness ; duskiness. اندھیرا چھوڑنا — *chhorná*, to keep out of the light of any one. اندھیرا کرنا — *karná*, *v.* to darken ; to dim ; to overcast ; to put out (a light).

اندھیری کوثری *andheri koṭhrí*, A. *n. f.* a dark room ; (*met.*) the belly ; womb. اندھیرے گھر کا اُجالا — *andhere ghar ká ujála*, *n. m.* an only son. اندھیرے منہ — *mūṅh*, when there is not sufficient light to see clearly ; at the first dawn of day.

اندھیری *andherí*, अंधेरी, H. *n. f.* Darkness ; duskiness ; blind for a horse ; a horse covering which also covers the eyes. اندھیری چھکنا — *jhukná*, *v.* to be overcast ; darkness to set in.

اندیش *andesh*, P. *adj.* (*used in comp.*) Thinking ; considering ; meditating ; reflecting. اندیشمند — *mand*, *adj.* thoughtful ; meditative ; reflective ; afflicted ; suspicious ; full of anxiety. اندیشناکی — *nák*, *adj.* thoughtful ; meditative ; sad. اندیشناکی — *náki*, *n. f.* thoughtfulness ; sadness ; anxiety. بد اندیش — *bad*, meditating harm ; evil-minded.

اندیشہ *andeshá*, P. *n. m.* Thought ; deliberation ; reflection ; suspicion ; care ; trouble ; dread ; fear ; risk. اندیشہ کرنا — *karná*, *v.* to reflect ; to feel anxious (about) ; to think ; to be apprehensive (of) ; to fear. اندیشہ ناک — *nák*, *adj.* thoughtful ; pensive ; anxious ; dangerous ; hazardous

اندیکھا *andekhá*, अनदेखा, H. *adj.* Imperceptible ; invisible ; unseen ; un-beheld ; concealed.

اندا *andá*, अण्डा, H. *n. m.* Egg. اندا دینا — *dená*, to lay an egg. اندے سینا — *andē sená*, *v.* to sit on eggs ; to hatch eggs ; to brood ; to lead a retired life. اندا کار — *andá kár*, *n. m.* An ellipse ; *adj.* oval ; elliptical.

اندی *andí*, अंडी, H. *n. f.* The fruit of the Palma Christi or *Ricinus communis* (*rognré*) — *ká tel*, castor oil.

انديلا undelna, उंदेलना H. v. To pour out; to empty; to discharge.

انوراگ anurag, अनुराग, S. n. m. Strong desire; yearning; longing; love; passion.

انرتيه anartha, अनर्थ, S. adj. Meaningless; non-sensical; useless; purposeless; fruitless; hurtful; n. m. absurdity; ill-fortune; violence; iniquity; mischief; persecution; crime; offence. कर्ना—karna, v. to do injustice; to persecute; to tyrannise; to sin.

انرتيه anarhi, अनर्थी, S. n. m. Evil-doer; persecutor; sinner; an anarchist.

انرس an-ras, अनरस, H. n. m. Want of flavour or enjoyment; disgust.

انريت anrit, अनरीत, H. adj. Contrary to custom or rule; ill-mannered; unpolished; n. f. misbehaviour; ill-breeding; unceremonious.

انزال inzal, A. n. m. Causing to go down; emission.

انزوا inziwa, A. n. m. Retirement; seclusion; concealment.

انس ans, अंश, H. n. m. Part; division; share; degree; essence; right; grade; possession.

انس uns, A. n. m. Attachment; fellowship; friendship; love; affection.

انس ins, A. n. m. Men; mankind.

انساب ansab, A. n. m. (Plu of نسب Nasab). Genealogies; lineages; families; generations; races.

انسان insan, A. n. m. Man; human being; mankind; mortal. —hi to hai, (Prov. He is but a human being; he is but a fallible man. —ko le bhagna, kidnapping; abduction.

انسانيت insaniyat, A. n. f. Human nature; human kindness; civility; affability; politeness. [worthy; very proper.

انساب ansab, A. adj. Most suitable; convenient;

انستيه unsath, H. adj. Fifty-nine. [hindrance.

انسداد insiddad, A. n. m. Prevention; check; bar

انسامجه an-samajh, अनसमज H. adj. Senseless; foolish; ignorant.

آنسره آتیه آتیه آنسره, आंसू, H. n. m. A tear. آتیه آتیه آنسره رونā, रोना āh āh—ronā, to shed a flood of tears.

آنسره پي جانا—pi jana, to gulp down or suppress one's tears. پونههنا—ponehna, to wipe away the tears (of); to console; to soothe.

انسه insha, A. n. f. Writing; composition; diction. انسه پوردي—pardazi, n. f. writing; letter-writing; composition; authorship; elegance of composition.

انسه الله insha-allah, A. adv. God willing; Deo-volente; please God. انسه الله تعالى—t'ala, adv. if God the Most High wills; please God.

انصار ansar, A. n. m. (Plu. of ناصر Nasir). Assistants; helpers; friends (specially of Mohammed); a tribe of Sheikhs supposed to have come originally from Medina.

انصاف insaf, n. m. Justice; equity; fair play; impartiality; decision. انصاف چاهنا (se)—chahna (se), to demand or seek justice from; to seek redress. انصاف طلب—talab, one who seeks justice.

انصرام insiram, A. n. m. Ending; completion; performance; accomplishment; conclusion; administration; management (of an estate).

انضباط inzibat, A. n. m. Being bound or regulated; the act of regulating; restraint; self-control; enactment; enacting. انضباط اوقات—i-auqat, a time-table; a routine.

انطباع intiba', P. n. m. The being stamped, impressed or printed; impression.

انظار anzar, A. n. f. (Plu. of نظر Nazar). Looks; glances; eyes.

انعام in'am, A. n. m. Animals; benefaction; present; gift; largess; reward; prize; gratuity. انعام اكرام—ikram, n. m. distinguishing or honourable gift; favours and honours; rewards and dignities.

انعام پتر—patra, n. m. a document conveying an assignment of rent-free land انعام سادى انعام sanadi—, a grant emanating from the Government free from all exactions. انعام نسبت انعام gon nisbat—, lands granted rent-free by the village out of its own lands.

انعام ديننا—dena, v. to distribute rewards; to reward a prize (to).

انعکاس in'ekás, A. n. m. Inversion ; reflexion (as from a mirror). [Breaths ; voices ; words.

انفاس anfas, A. n. m. (*Plu.* of نفس *Nafas*).

انفصال infisál, A. n. m. Division ; decision ; settlement. انفصال کرنا—karná, v. to decide ; to adjust ; to settle.

انفعال infial, A. n. m. An act which causes a blush (as its effect) ; shame ; bashfulness ; confusion.

انفکاف infikák, A. n. m. Redemption ; dislocation (of a bone) ; release. انفکاف رہن—i-rahn, n. m. redemption of mortgage.

انقباض inqibáz, A. n. m. Contraction ; detention ; retention ; constipation.

انقسام inqisám, A. n. m. Division ; apportionment ; assignment ; partition.

انقضاء inqizá, A. n. m. Expiration (of a term) ; lapse (of a period).

انقطاع inqitá, A. n. m. The being broken off ; amputation ; extinction ; separation ; adjustment.

انقلاب inqiláb, A. n. m. Vicissitude ; alteration ; variation ; deviation ; reversion ; transposition.

انقياد inqiyád, A. n. m. Obedience ; subjection ; submission ; docility.

انگ ank, آنگ, } H. n. m. Figure ; number ;
انگ, ank, آنگ, } mark on cloth, etc. to show
the selling price ; embrace.

انكار inkár, A. n. m. Denial ; disavowal ; abnegation ; disallowance ; contradiction ; declining ; exception. انكار دعوى—i-dává, denial of claim. انكار کرنا—karná, v. to refuse ; to disown ; to unsay ; to disavow ; to object.

انگانا ankaná, آنگانا, H. v. To cause to be appraised ; to prize ; to examine (as cloth) ; to estimate.

انکار ankar, A. adj. Most unpleasant or detestable ; very disagreeable.

انکُر ankur, آنگور, S. n. m. A sprout : shoot.

انگڑا ankrá, آنگڑا, H. n. m. Any iron with a curved or crooked end ; the barb of an arrow ; fishing hook. [shrink ; to become dry.

انگڑنا ankaná, آنگڑنا, H. v. To be contracted ; to

انگڑی ankrí, آنگڑی, } H. n. f. The barb of an
انگڑی ankrí, آنگڑی, } arrow ; a hook ; a catch ;
a crook.

انگوس a kus, آنگوس, H. n. f. A goad ; an impeller. انگوس مارنا—márná, v. to goad ; to reduce to submission.

انگسار inkisár, A. n. m. } Contrition ; humi-
انگساری inkisári, A. f. n. } lity ; lowness ; spirit-
lessness ; meekness.

انگساف inkisáf, A. n. m. Solar eclipse.

انگشاف inkisháf, A. n. m. Being disclosed ; disclosure ; exposure ; detection ; revealment.

انگنا ákná, آنگنا, H. v. To set a price ; to appraise ; to rate ; to measure, to balance ; to examine ; to stamp ; to page a book.

انگوار ankwár, آنگوار, H. n. f. Embrace ; bosom. انگوار ہونا—bharná ; To embrace.

آنکھ ánkħ, آنگھ, H. n. f. Eye ; sight ; look ; view ; observation ; discernment ; judgment ; reason. آنکھ آنا—áná—, á jáná, v. to have an inflammation in the eyes ; to have a sore eye ; to suffer from ophthalmia. آنکھ اوچھل پھار اوچھل—ojhal, pabár ojhal, (*Prov.*) to be out of sight is to be over the hills and far away.

مرگیا کوہ کن اسی غم میں

آنکھ اوچھل پھار اوچھل ہے

(—میر تقی)

Mar gayá koh-kan isí gam meg

Ánkħ ojhal pabár ojhal hei.

آنکھ انجینی anjani, n. f. A sty on the eyelids. آنکھ اتھا کر نہ دیکھنا—uṭhákār na dekhná, to treat with disdain ; to be humble ; bashful or shy. آنکھ اونچے نہ ہونا—unchi na honá, to be unable to raise the eyes (through shame, etc.) آنکھ بچانا—bacháná, v. to steal away privately and unseen ; to avoid the glance of ; to turn one's looks to one side ; to avoid noticing. آنکھ بچا کے—bacháke, secretly ; stealthily. آنکھ بدلنا—badalná, v. to withdraw one's favour or affection from any one. آنکھ برابر نہ کر سکرنا—barábar na kar sakná, v. to be ashamed. آنکھ بند کر لینا—band kar lená, v. to shut the eyes ; to sleep ; to die ;

to leave off; to relinquish; to take no account of; to treat one with neglect. آنکھ بند ہونا—band honá, to fall asleep; to die. آنکھ کے دیکھنا—bhar ke dekná, *v.* to look till one's curiosity is fully satisfied; to look intently. آنکھ لانا—bhar láná, *v.* to have the eye full of tears; to be ready to weep. آنکھ چھوڑنا—bhaun chapháná, *v.* to scowl; to frown; to look flushed with anger; to make a wry face; to treat with contempt; to despise. آنکھ پتھرانا—pathráná, to become dim (the eye) from long expectation, etc. آنکھ پھار پھار کے دیکھنا—phár phár ke dekhná, to strain one's eyes; to gaze; to look with wonder; to observe with eagerness and anxiety. آنکھ پھارنا—pharagná, to feel a pulsation in the eye, regarded as an omen (if in the right eye of a man and left of a woman as an omen of some desirable event, while the contrary is regarded as unlucky). آنکھ پھوٹنا—phútná, *v.* to lose one's sight; to be blind. آنکھ پھوٹی پھر گئی—phúťí pírgáí. (Prov.) Better the eye out than constant pain (said also of a contention which has ceased through the object of it being lost to both parties). آنکھ پھوڑنا—phorwá, tíddá, *n. m.* a midge. آنکھ پھوڑ لینا—phorná,—pour lená, *v.* to make blind; to blind; to expect in vain. آنکھ پھوڑ لینا—pher lená,—pherná, *v.* to turn away the eye (as from grief, displeasure, etc.); to refrain; to show aversion. آنکھ پھیلانا—phailáná, *v.* to open one's eyes; to stare; to be wise and prudent; to discriminate; to look astounded. آنکھ ٹھنڈی کرنا—ṭhandí karná, *v.* to have consolation; to be glad; to refresh the eye. آنکھ جھپکانا—jhapkáná, *v.* to wink; to blind; to doze; to be dazzled. آنکھ جھکنا—jhukná, eyes to be lowered through shame or modesty. آنکھ چرانا—churáná, *v.* to avert the eyes through shame, etc.; to overlook. آنکھ چڑھنا—chaháná, *v.* to be angry; to be ebriated; to be drunk. آنکھ چڑھنا—chahná, *v.* to have eyes heavy or drowsy from intoxication, headache

or want of sleep, etc.; to be dying. آنکھ چمکانا—chamkáná, *v.* to make the eyes flash; to move one's eyes in wrath or as a blandishment. آنکھ چھپانا—chhipána, *v.* to hide one's eyes; to be ashamed. آنکھ چیر چیر دیکھنا—chír chir dekhná, *v.* to look attentively and eagerly; to look with anger. آنکھ دابنا—dábna, *v.* to shut one's eyes; to prohibit by signs. آنکھ دکھانا—dikháná, *v.* to frighten; to overawe; to bully; to look angry. آنکھ دالنا—dálná, to look; to set eyes on; to turn the eyes to; to cast wanton glances. آنکھ داب دابنا—dabdabána, *v.* to have the eyes full of tears; to be ready to weep. آنکھ سرخ کرنا—surkh karná, to be angry. آنکھ سے دیکھ کے—se dekh ke, *adv.* with one's eyes open; knowingly. آنکھ روشن کرنا—roshan karná, *v.* to delight the eyes by seeing. آنکھ سے گرننا—se girná, *v.* to fall from the eyes; to be out of favour; to be dishonoured; to become contemptible. آنکھ سینکنا—seukná, *v.* to delight or refresh the eyes by seeing a pleasing object; to contemplate the beauty of. آنکھ کی پتلی—ká tará—ki putli, *n.* The pupil of the eye, the apple of (one's) eye; darling; pet; favourite. آنکھ کھاننا—khaṭagná, *v.* to feel pain in the eyes. آنکھ کھلنا—khulná, *v.* to be born; to rouse from sleep; to know; to become aware (of); to be astonished or amazed; to be alive to. آنکھ کھولنا یا آنکھ کھول دینا—kholná yá—khol dená, to open one's eyes; to acquaint; to impart knowledge. آنکھ کے رو رو کر—ke rúbarú, *adv.* before one's face; in sight of; under one's eyes. آنکھ لجانا—lájáná, to have the eyes lowered through shame or modesty. آنکھ لڑنا—larná, to exchange love-glances, to fall in love (with). آنکھ لڑانا—laráná, *v.* to gaze constantly at; to interchange glances; to wink as a hint; to caste wanton glances; to meet the eyes of; to interchange amorous glances; to take a fancy to; to set one's affections on. آنکھ لگانا—lagá, *m.* a man on whom a woman's affections are set; a paramour. آنکھ لگی—lagi, *f.*

a woman on whom a man's affections are set; a mistress. لگنا لگنا—lagná, to fall asleep; to shut the eyes; to doze; to be in love. لگانا لگانا—lagáná, v. to contract friendship or affection for any one; to fall in love. مارنا مارنا—marná, to wink; to stop any one by a sign; to make amorous signs with the eyes. مچھول مچھول—machauwal, n. m. blind man's buff; bo-sweep. میچکانا میچکانا—michkáná, v. to shut and open the eyes alternately; to hoodwink; to blind. میلانا میلانا—miláná, v. to gaze; to contract friendship. مورنا مورنا—morná, v. to turn away the eyes; to refrain. موند کے موند کے—múnd ke, adv. precipitately; inconsiderately; blindly. موندنا موندنا—múndná, v. to shut the eyes; to die; to take no account of. موندورا موندورا—mundaurá, n. m. blind man's buff; bo-peep. میں آنکھ میں آنکھ—men—miláná, to look one boldly on the face; meet glance with glance (after the manner of one who is not ashamed). میں آنکھ میں آنکھ—men síl na honá, v. to be indifferent; to be merciless; to be brazen-faced. نا نا—na ṭhaharná, to be unable to fix the gaze (on); to be dazzled (by). نا رکھنا نا رکھنا—na rakhná, v. to lack discernment; to have no hope. آنکھوں پر آنکھوں پر رکھنا آنکھوں پر رکھنا—ánkhon par biṭháná, to treat with esteem; to hold dear; to love, to regard highly. آنکھوں پر آنکھوں پر رکھنا رکھنا—ánkhen par ṭhikri rakh lená, v. to be blind to all shame; to care nothing (for). آنکھوں پر رکھنا رکھنا—ánkhon dekhá máná, kánon suná na máná, (Prov.) Seeing is believing. آنکھوں کا کاجل چھوڑنا آنکھوں کا کاجل چھوڑنا—ánkhon ka kajal churáná, to steal the lamp black of the eyes; to be a very expert thief. میں آنکھوں میں آنکھوں—men phirná, v. to be ever in one's mind. آنکھوں میں آنکھوں میں چربی چھانا آنکھوں میں چربی چھانا—ánkhon men charbí chháná, v. to be wilfully blind; to pretend from pride not to know one's old acquaintance. آنکھوں میں خار ہونا آنکھوں میں خار ہونا—ánkhon men khar hona, to prove a very unpleasant sight; to be an eye-sore. آنکھوں میں خاک ڈالنا

—ánkho; meḡ khák dálná, v. throw dust in one's eyes; to cheat; to pilfer or snatch away anything quickly and secretly. آنکھوں میں آنکھوں میں کھاٹا کھاٹا—ánkhon men khaṭakná, v. to be looked upon with jealousy and aversion. آنکھوں میں سرسوں میں سرسوں پھولنا آنکھوں میں سرسوں پھولنا—ánkhon men sarson phólná, to appear everywhere yellow to the sight; to be jolly drunk. آنکھوں میں گھر کرنا آنکھوں میں گھر کرنا—ánkhon men ghar karná, to win the affections (of); to have one's image ever before the eyes. آنکھوں میں بسنا آنکھوں میں بسنا—ánkhon men basná, to value highly; to esteem; to love. آنکھوں میں چار ہونا آنکھوں میں چار ہونا—ánkhen chár honá, to meet (four eyes); to look into one another's eyes. آنکھوں میں چھت سے لگنا آنکھوں میں چھت سے لگنا—ánkhen chhat se lagná, to have the eyes turned up in death; to be dying. آنکھوں میں نیلی پیلی کرنا آنکھوں میں نیلی پیلی کرنا—ánkhen nilí pili karná, v. to change the colour of the face from excessive anger.

انگ ang, अंग, H. v. m. The body; a member; a division; a part; a fragment. انگ بھنگ ہونا انگ بھنگ ہونا—bhang honá, v. i. to be mutilated. انگ لگانا انگ لگانا—lagáná, v. t. to embrace; to clasp; to wear; to put on; to give in marriage; to be nourished.

انگ r, S. अंगार, } n. m. Sparks remaining in ashes; embers; burning charcoal. انگ r, H. अंगार, H. } انگاروں پر لوٹنا انگاروں پر لوٹنا—aggáron par loṭná, to be agitated or troubled; to burn with rage, envy or jealousy.

انگبین angbin, P. n. m. Honey.

انگڑکوا angarkhí, अंगरखा, H. n. m. A long coat, or tunic worn by men.

انگڑ angraha, अनुग्रह, S. n. m. Grace; kindness; indulgence.

انگریزی angrezí, H. adj. English; British, n. f. the English language. انگریزی خواں انگریزی خواں—khwáñ, a student of English. انگریزی داں انگریزی داں—dán, an English scholar.

انگڑنا ang'áná, अंगड़ना, H. v. To gape; to oscillate; to stretch the limbs.

انگڑائی ang'ráí, अंगड़ाई, H. n. f. Gape; oscillation; stretching of the limbs; yawning.

انگورہ angaḥ, अनगढ़, } H. *adj.* Unwrought ;
 انگرہ ang. ha, अनगढ़ा, } uneducated ; rough ;
 unpolished ; unfinished. بات انگورہی angaḥi
 bāt, inconsistent speech.

انگشت angusht, P. *n. f.* A finger. انگشت حیرت انگشت
 انگشت—i-hairat dāntōṃ me rakhnā, *v.* to bite the finger ; to express surprise.
 انگشت شہادت—i-shahādāt, *n. m.* the forefinger.
 انگشت زر—i-nar, *n. m.* thumb ; the great toe.

انگشتانہ angusht na, P. *n. m.* A thumb-ring : a
 thimble. [(*anguthā*.)]

انگشتری angushtrī, P. *n. f.* A finger-ring
 انگشت نما aḡushtnumā, P. *n. m.* One who is
 pointed at in scorn ; notorious.

انگول angul, अंगुल, H. *n. m.* A finger's breadth ;
 an inch ; a digit.

انگلی anguli, ungli, उंगली, H. *n. f.* A finger.
 انگلی پر نچھانا—par nachānā, to harass ; to
 ridicule ; to trifle with ; to make a fool of.

انگن āngan, आंगन, H. *n. m.* A yard ; a court-
 yard.

انگنہ anginā, अनगिना, H. *adj.* Countless ; in-
 numerable ; uncounted.

انگنت anginat, अनगिनत, } H. *adj.* Countless ;
 انگنتی anginti, अनगिनती, } numberless ; in-
 numerable.

انگورہ a gūḥī, अंगूठा, H. *n. m.* Thumb, the
 great toe. انگورہ دکھانا—dikhn, *v.* to show
 the thumb (to one) in defiance or derision
 (*theṅga dikhana*) ; to defy. انگورہ پر مارنا
 anguṭhe par marna, to regard as contemptible ;
 to hold of no account (*theṅge par mārnā*).

انگورہی a gūḥī, अंगूठी, H. *n. f.* A ring worn on
 the finger.

انگورہی angochhī, अंगौछा, H. *n. m.* A towel ; a
 handkerchief.

انگور angūr, अंगूर, P. *n. m.* A grape ; granula-
 tions in a healing wound, etc., scab of a
 sore. انگور کا سرکہ—kā sirka, grape vinegar.

انگورا angūrā, अंगूरा, H. *n. m.* A midge ; a gnat ;
 mosquito.

انگوری angūrī, अंगूरी, P. *adj.* Relating to grape ;
 made of grape. انگوری باغ—baḡ, vineyard.

انگورہ angūzā, P. *n. m.* Assafoeida.

انگورہی unghāī, उंचाई, H. *n. m.* Drowsiness ;
 sleepiness ; doziness ; dulness.

انگیا angiy, अंगिया, H. *n. f.* Bodice ; corset.
 انگریھی angrīhī, अंग्रीठी, H. *n. f.* A brasier ; a
 heater ; stove ; chafing dish ; grate.

انگیز angez, P. *adj.* (*used in com.*) Exciting ;
 rousing ; causing ; fomenting ; raising ; as
filna-angez, &c.

انماد unmād, उन्माद, H. *n. m.* Mania ; madness ;
 frenzy ; excitement ; pride ; arrogance ; vice ;
 depravity.

انمان anu-mān, अनुमान, S. *m.* Inference ; suppo-
 sition, hypothesis, conjecture, notion ; con-
 sideration, analogy, theory.

انمان unmān, उन्मान, *f.* Measure (of size or
 size or quantity) length, size, dimension,
 magnitude, duration, period.

انمانہ anmauā, अनमना, H. *adj.* Out of sort ; in-
 disposed ; sad ; troubled in mind.

انमत anu-mata, अनुमत, S. *part.* Approved ; as-
 sented (to) ; agreeable.

انमत anu-mati, अनुमति, S. *f.* Assent, approba-
 tion, permission ; vote ; advice ; counsel ;
 command ; order.

انمات un-matta, उन्मत्त, S. *adj.* Insane ; mad ;
 intoxicated ; raving ; lustful. [less ; precious.

انمول anmol, अनमोल, H. *adj.* Invaluable ; price-
 less.

انمیل anmel, H. *adj.* Discordant ; heteroge-
 neous ; without alloy ; unadulterated ; un-
 seasonable. انمیل باتیں—bāteṅ incoherent
 speech ; unsuitable speech.

انانت anant, H. *adj.* Endless ; infinite ; eternal.

اناناس anannas, अननास, Port. *n. m.* A pine-apple.

اناند ānanda, आनन्द, S. *n. f.* Happiness ; plea-
 sure ; delight ; felicity. اناند کنتہ—kuntā, source
 of happiness. اناند مہلک—maṅgāl, mirth ;
 merriment ; comfort. اناند مہی—may, *adj.*
 Blessed. اناند تا—tā, happiness.

انانی annī, अनी, H. *n. f.* A nurse.

انور ānv, आव, H. *n. m.* The glutinous whitish
 matter or mucus voided in cases of tenesmus ;
 dysenteric stool or discharge. انور گرنہ—
 gurnā, *v.* to suffer from dy-
 sentery.

انوار ann-vád, अनुवाद, S. m. Reply ; repetition ; translation. انوارى anu-vadi, *adj.* answering ; opposing ; *m.* defendant ; opponent.

انوار anwár, A. n. m. (*Plu. of Núr*). Light ; splendour ; rays of light.

انوارسا anwasá, H. *adj.* Stahe ; seasoned.

انواع anwá', A. n. (*Plu. of نوع Nau'*) Varieties ; sorts ; *adj.* various ; diverse. انواع و اقسام —o-aqsám, all sorts and kinds.

انوپ anúp, अनूप, S. *adj.* Matchless ; peerless.

انورثا anúthá, अनूठा, H. *adj.* Uncommon ; singular ; unique ; extraordinary ; rare ; unprecedented ; wonderful (*anokhá*) ; untasted ; untouched.

انور anwar, A. *adj.* (*Com. and Sup. of Nur*), Shining ; more or most brilliant ; very splendid ; resplendent [*brated Persian poet.*

انوارى anwarí, A. P. n. *prop.* Name of a cele-

انورثا anokhá, अनोखा, H. *adj.* Singular ; uncommon ; unusual ; curious ; extraordinary ; rare.

انولا ánola, आवला, H. n. m. A fruit used when green for making pickles ; a myrobalan.

انولاسار گندهى ánolá sár gandhak, आवला सारगंधक, H. n. m. Purified sulphur.

انونا anoná, अनोना (अलोना), H. *adj.* Saltless. (*aloná*).

انهار anhár, A. n. f. (*Plu. of نهر Nahar*). Rivulets ; streams.

انहित an-hita, अनहित, S. *adj.* Unkind ; without affection ; inimical ; *n. m.* an enemy ; enmity ; disaffection.

انھتتر unhattar, H. *adj.* Sixty-nine.

انھدام inhidám, A. n. m. Demolition ; destruction ; extermination ; annihilation.

انھونى - انھونا anhoná, अनहोना, anhoñi, अनहोनी, H. *adj.* Impossible ; unlikely ; unpromising ; improbability.

انھونھار an-houhár, H. *adj.* Unpromising.

انى ani, H. n. f. The point of spear or arrow.

انىيائى anyái, अन्यायी, *adj.* Unjust ; lawless ; oppressive ; inequitable ; *n. m.* a wrong-doer ; an unjust person.

انىيائى anyáya, अन्याय, S. n. m. Injustice ; impropriety ; lawlessness ; oppression ; tyranny.

انيس unnis, H. *adj.* Nineteen. انيس بيس —bis, *adv.* slightly different ; nearly equal.

انىس anis, A. n. m. A companion ; a comrade ; an associate. [copious.

انيك anek, अनेक, S. *adj.* Many ; several, sundry ;

آوا awá, आवा, H. n. m. A potter's kiln ; a furnace for melting glass ; a kiln (for bricks, &c.)

آوا جائى awá-jái, आवाजाई, H. n. f. Coming and going ; intercourse ; interchange of visits.

آواخى awákhir, A. n. (*Plu. of Akhir*). Ends ; latter parts. The last ten days of a lunar month. [anny.

آوار - آوار awár, á ár, P. n. m. Injustice ; tyr-
آوارچا awárja, P. n. m. A journal ; a diary ; a ledger ; an abstract account of receipts and disbursements ; a revenue account

آوارچى awárgi, P. n. f. Wandering ; vagrancy ; profligacy.

آوارا awára, P. n. m. A wanderer ; a vagabond ; a profligate ; *adj.* separated from one's family ; without house and home ; vagrant ; abandoned ; lost ; destitute of name of character. آوارا پھرنآ —phirná, to wander astray.

آوارا هونآ —honá, v. to wander ; to rove ; to be miserable. آوارا كرنآ —karná, v. to scatter ;

to expel ; to trouble. آوارا گردي —gardí, n. f. roving ; wandering.

ايسك آوارا گردان اهل يورپ ek áwára gardán ahl-i-Yurap. The European Vagrancy Act.

آواز awáz, P. n. f. Sound ; voice ; cry ; shout ; fame ; echo ; whisper ; tone. آواز اٺهانا —

uṭháná, v. to raise the voice ; to spread a report. آواز بهاري —bhári, a hoarse voice.

آواز بهورانا —bhurráná, v. to become hoarse. آواز پٺهانا —paiṭháná,

آواز پٺهانا —paiṭháná, v. voice to be suppressed from hoarseness ; to lose the voice. آواز پٺهانا کان مٺهانا —

awáz paṭhá kán meṭhá, to overhear ; to catch a sound. آواز دينآ —

dená, to call out ; to answer a call. آواز كا —ká, hearing

distance; earshot. آواز میں آواز ملانا—men áwáz miláná, to sing in harmony or concert (with).

آوازہ áwáza, P. *n. m.* Report; rumour; fame; reputation. آوازہ توڑا—tawáza, taunts; jeers; inuendoes. آوازہ پھینکنا - کسنا - آوازہ مارنا—phenkná,—kasná—márná, to talk of; to make insinuations (about); to speak in inuendoes.

آواک avák, अवक, H. *adj.* Struck with amazement; speechless; silent.

آواگامن awágawan, आवागमन, áwágaman, आवागमन, S. *n. m.* Transmigration; coming and going; being born and dying.

آوان awán, A. *n. f.* (*Plu. of* آن *An*). Times; seasons.

آوایل awáil, A. *n. m.* (*Plu. of* اول *Auwal*). Commencement; beginning; early portion (of); outset. اوائل عمر—'umr, *n. f.* early age; childhood; *n. f.* youth. The first ten days of a lunar month.

آواش aubásh, P. *n. m.* A rake; voluptuary; gallant; libertine; vagabond; debauchee; profligate; *adj.* gallant; licentious; dissolute; rakish.

آواشی aubáshi, P. *n. m.* Depravity; libertinism; debauchery; dissipation; dissoluteness; rakishness.

آواہگت áo-bhagat, आवगत, H. *n. f.* Civil reception or salutation of a guest; courteous welcome; civility.

آواہنا ábhná, ऊभना, H. *v.* To be agitated with oppressive heat; to be angry or dissatisfied; to be faint or languid.

آواہر úpar, ऊपर, H. *adv.* Up; on; high; aloft; atop; above; upon; over after; against; in addition to. آواہر آنا—áná, *v.* to come up; to rise; to ascend; to befall. آواہر آواہر—úpar úpar, over; by; without effect; superficially; not thoroughly. آواہر آواہر سے—úpar se, skimming the surface with a light hand; gently. آواہر کا—úpar ká, *adj.* superior; excellent; best. آواہر تلے—tálé, *adj.* upon another; in succession. آواہر تلے کے بچے—tálé ke bachehe, *n. m.* two children in succession. آواہر

ki ámad, *n. m.* emoluments; perquisites; presents. آواہر ہی آواہر—hí úpar, *adv.* apart; alone; secretly. آواہر سے—se, *adv.* from above; overhead; in addition to; over and above; *gratis.* آواہر کا کام—ká kám, miscellaneous work; extra work.

آواہری úpri, ऊपरी, H. *adj.* Upper; outer; exterior; superficial; apparent; stranger; foreigner; over and above; surplus.

آواتاد antád, A. *n. m.* (*Plu. of* واتاد *Wataad*). Pegs; pins; chiefs; nobles; certain four saints (regarded as the props of the faith).

آواتار autár, अवतार, S. *n. m.* Descent (of a Deity); incarnation (more particularly of Vishnu in 10 principal forms, viz., 1. ماتسیہ Matsya, 'the fish'. 2. کچھپ Kachhapa, 'the tortoise'. 3. واراہ Varáh, 'the boar.' 4. نرسنگھ Nri-singha, 'the man-lion'. 5. وامس Vamana, 'the dwarf'. 6. پراسرام Parasu-ráma. 7. رام Ráma. 8. بالرام یا کرشن Balráma or Krishna. 9. بدهہ Buddhá. 10. کالکی Kalki, (which is yet to appear on the culmination of the Kal-yug, the iron age or age of sin.). آواتار لینا—lená; to become incarnate.

آواہر ót, ओट, H. *n. f.* Protection; defence; refuge; concealment; curtain; mask. آواہر کرنا—karná, *v.* to hide; to cover; to screen. آواہر ہونا—honá, *v.* to hide; to lurk.

آواہنا antáná, औतना, H. *v.* To cause to boil; to make hot.

آواہر پٹانگ út patáng, ऊत्पटांग, H. *n. m.* What is without meaning or foundation; absurdity; *adj.* poor; destitute; in disorder.

میں نے کیا اس نزل کو سہل کیا

تافے ہی تھے اسکے اوت پٹانگ

—(میر تقی)

Main ne kyá is gazal ko sahal kiyá,

Qáfiye hí the us ke út patáng.

آواہنا antná, औतना, H. *v.* To boil; To evaporate.

آواہر ónâ, औटना, H. *v. t.* To pick up or separate seeds from cotton.

آواہر auj, A. *n. m.* Highest point; altitude; summit; vertex; promotion; rank; zenith; height; ascendancy. آواہر نلک—i-falak, *n. m.*

the zenith. اوج کو پہنچنا—*ko pahunchná*, to be very prosperous; to obtain the highest position or dignity. [desolate.

اوجڑ *újat*, ऊजड़, H. *n. m.* Laid waste; ruined; اوجھا *ojhá*, ओझा, H. *n. m.* Diviner; sorcerer; wizard; exorcist; magician.

اوجھڑ; *aujhar*; H. *n. f.* Thrust; Push.

اوجھل *ojhal*, ओझल, H. *n. f.* Privacy; seclusion; concealment. اوجھل کرنا—*karná*, *v.* to hide; to screen. اوجھل ہونا—*honá*, *v.* to be screened; to be concealed; to become invisible.

اوجھا *ochhá*, ओझा, *adj.* Light; little; trifling; frivolous; absurd; paltry; trivial; low; mean; contemptible; foolish; empty; indigent; poor; miserable; disgraceful.

اورد *úd*, ऊद, } H. *n. m.* An otter.
اورد بلڈ *úd-biláo*, ऊदबिलाव,

اورد *awadhi*, अवधि, S. *n. f.* Extent, limit; time; period; condition, agreement, term; *adv.* as far as; as long as.

اورد *udhar*, उधर, H. *adv.* Thither; on the other side; across.

اورد *údham*, उधम, H. *n. m.* Noise; tumult; uproar; perturbation; turmoil; quarrel; brawl; revolt. اورد مچانا—*machána*, to create a disturbance; to make a noise, row, etc.

اورد *údhmí*, H. *adj.* Creating stir; mutinous; impudent; noisy; quarrelsome.

اورد *or*, ओर, *n. f.* Origin; beginning; source; way; side; direction; limit; tip; peak; partiality; bias; party; side; behalf; behoof.

اورد *us*—, *adv.* thither; that way. اورد چاروں *chárón*—, *adv.* on the four sides; on all sides. اورد نہ *na chhor*, without beginning and without end. اورد نہ ہونا—*nibáhna*, *v.* to form (one's) part; to carry out to the end; to be constant to.

اورد *aur*, और, H. *conj.* And; *adv.* more; not this; different; else. اورد ایک—*ek*, *adj.* another; different; separate; one besides. اورد بھی—*bhi*, and again, and more; still more, also. اورد تو اور—*to-aur*; others apart. اورد سنو—*suno*, one word more; just listen.

اورد *kyá*, *adj.* truly; indeed; besides this; what else. اورد نہیں تو—*nah n tau*, and if not then; and otherwise. اورد ہی—*hi*, quite different; quite changed.

اورد *aur d*, P. *n. m.* (*Plu. of* ورد *Wird*.) Daily rehearsals (of the *Qurán*); commemoration; devotional exercises; repetition.

اورد *auráq*, P. *n. m.* (*Plu. of* ورق *Waraq*.) Leaves; pages.

اورد *áwurda*, P. *n. m.* (*lit.*); That which is brought over; one who is favoured; a protege. اورد نويس—*navis*, registrar or writer of accounts as delivered.

اورد *ormá*, *n. m.* Stitching together two breadths and then hemming; side seam.

اورد *aurang*, P. *n. m.* A throne; places where goods are manufactured for sale; reason.

اورد *zeb*, an Emperor of Hindustán, اورد *zebi bat*, a tricky word; a cunning speech.

اورد *avirohdh*, अविरोध, S. *n. m.* Tranquility; quietness; peace.

اورد *avirodhi*, अविरোধी, S. *adj.* Peaceable; tranquil; *n. m.* a peaceable person.

اورد *orí*, ओरी, H. *n. f.* The eaves of a house.

اورد *aureb*; P. H. *adj.* Crooked, deformed; inverted.

اورد *oḥná*, ओढ़ना, H. *v.* To put on; *n. m.* a sheet; mantle. اورد بچھونا—*bichhauná*, *n. m.* bedding and covering. [woman's mantle.

اورد *oḥni*, H. *n. m.* A smaller sheet; a اورد *anzar*, A. *n. m.* (*Plu. of* وزر *Wazar*) Sins or crimes; instruments; tools; apparatus.

اورد *auzán*, A. *n. m.* (*Plu. of* وزن *Wazan*.) Weights; measures; metres.

اورد *os*, ओस, H. *n. f.* Dew. اورد پڑ جانا—*par jáná*, *v.* to fall in value; to be blighted; to lose bloom, lustre or splendour; to fade; to become less in demand.

جز اشکِ بلبُلِ ابِ نہیٰں گلِ شاخسَرِ پَرِ
کیا اوس پڑ گئی ہے چہن میں پہاڑ پَرِ
(حسن) —
Juz ashk-i-bulbul ab nahin gul shákhsár par,
Kyá os par gai hai chaman men paháḥ par.

اوس us, उस, H. pron. That.
 اوسارا osará, ओसार, H. n. m. Porch.
 اوسان ausán, A. n. m. Calmness; coolness;
 sense; valour; self-possession; presence of
 mind; courage. اوسان خطا khata
 honá, to be stunned or stupefied; to stand
 aghast.
 اوستھا avasthá, अवस्था, S. n. f. State; condition;
 circumstances; age; life; story (of a life).
 اوسر avasar, अवसर, S. n. m. Occasion; time;
 favourable opportunity; leisure. اوسر چوکتا
 chúkná, to lose an opportunity. (Prov. اوسر
 چوکتی ڈومنی گارے تال پے تال
 gáve tál be tál). [(land).
 اوسر úsar, ऊसर, H. adj. Barren; unproductive
 اوسط ausat, A. adj. Middle; interposing; n. m.
 the middle; medium; interval; average;
 mediocrity. اوسط جمن بندی jama'bandí, aver-
 age rental. اوسط درجہ کا darje-ka, adj. medi-
 ocre. tolerable. اوسط شرح لگان
 lagan, average rent rate. اوسط نکاسی خام
 nikasí khám, gross average assets. اوسط
 نکالنا níkalná, v. to stike an average.
 اوسطی ausatí, A. adj. Midmost; intermediate;
 middling.
 اوش avashya, अवश्य, S. adv. Certainly; truly;
 verily; precisely; necessarily; without fail.
 اوشادھی aushadhi, औषधि, S. n. f. A drug; a
 medicine; any herb. اوشادھی گھر
 á-lay, n. m. dispensary; drugshop.
 اوشواسی awishwási, अविश्वासी S. adj. and n. m.
 Wanting in trust; unbelieving; unfaithful;
 unbeliever; infidel. [inevitability.
 اوشیاکتا avashyaktá, आवश्यकता, S. f. necessity,
 اوشیا avashya, अवश्य, S. adj. necessary; adv.
 Certainly, of course, to be sure, inevitably,
 indispensably.
 اوصاف ausáf, A. n. f. (Plu. of وصف Wasf).
 Qualities; commendations; descriptions;
 qualifications. اوصاف حمیدہ
 i-hamida, adj. commendable qualities; noble
 properties; virtues.
 اوقات auqat, A. n. m. (Plu. of وقت Waqt.)
 Times; hours; circumstances; means;

resources; ability. اوقات بسی—basarí, n. f.
 Pastime; employment; livelihood; occupation;
 support; subsistence. اوقات بسی کرنہ
 basarí karná, v. to subsist; to while away one's time.
 اوقیة auqiyat, A. n. f. An ounce (weight); an
 ounce of silver; a silver coin weighing one
 ounce (value between six and seven shill-
 ings).
 اوک ok, H. n. f. Inclination to puke or to
 vomit (ubkadí); a draught of water from the
 palm of the hand (chullú).
 اوکنا okná, ओकना, H. v. To puke; to vomit.
 اوکھری úkh, ऊख, H. n. f. Sugarcane. اوکھری
 ári, n. f. a field of sugarcane.
 اوکھلی okhli, ओखली, H. n. f. A mortar.
 اوکھلی میں سر دینا men sar dená, to expose
 oneself to danger.
 اوگن augun, औगुन, (अवगुण), H. n. m. Fault;
 defect; blemish; wickedness; vice.
 اوگھٹ aughat, A. adj. Rough; unapproachable;
 unfrequented; unpassable; uneven; steep;
 lonely; rarely.
 اول awwal, A. adj. First; prior; foremost;
 best; highest; capital; principal; chief;
 excellent; n. m. the first or earlier part;
 commencement. اول درجہ کا darje ka, first
 class; first rate. اول رھنا rahná, to maintain
 first position.
 اولا olá, ओला, H. n. m. Hail; a sweetmeat.
 اولا ہونا ho jáná, v. to become cold. اول
 پاپے sar-mundate-hi-ole-pape;
 Misfortune overtook (my) first venture.
 اولا aula, A. adj. Better; best. [place.
 اولیٰ awwalan, A. adv. At first; in the first
 اولاد aulad, A. n. f. (Plu. of ولد Wald). Child-
 ren; issue; descendants; progeny; offspring.
 اولاد حلال i-unás, female issue. اولاد
 ذکور i-zakur, legitimate children.
 اولاد رشتہ مستقیمہ i-rishta-i-mus-
 taqim, lineal descendants. اولاد صحیح النسب
 i-sahihun nasab, legitimate children or issue.
 اولاد تہذیب الطرفین najib-ul-tarfain, legitimate
 issue from both sides (paternal and maternal).
 اول جملوں ul-jalúl, adj. Awkward; clumsy;
 stupid; slovenly; untidy.

اولمب a-vilamb, अविलम्ब, S. n. m. Haste ; diligence ; quickness.

اولو úlu, A. adj. Possessed of ; endowed with. اولوالباب—ul-albab, persons of understanding.

اولي الابصار—ul-absár, adj. prudent ; wise ; judicious. اولي العزم—ul-'azm, adj. enterprising ; determined ; firm ; steady ; brave. اولي العلم—ul-'ilm, learned.

الوليات ulúiat, A. n. f. Excellence ; supremacy ; pre-eminence. [Better ; best.

اولي aulá, A. adj. (Compar. of ولي Wali).

اولي úlá, A. adj. First ; best ; capital ; chief.

اوليا auliyá, A. n. m. (Plu. of ولي Wali). Saints ; holy man ; the apostles ; اولياء الله—alláh ; friends of God.

اولين awwalín, adj. The first ; the ancients. اولين و آخرين—o-'akhirín, n. m. the ancients and the moderns.

اولن ún, ऊन, H. n. m. Wool.

اولشي a-vinashi, अविनाशी, S. adj. Imperishable ; immortal ; eternal.

اولنت únť, H. n. m. Camel. اولنت كفا كاتے—charhe kuttá kaťe. (Prov.) "The dog bites one who is mounted on a cam l," i. e., misfortune has long arms for the unfortunate.

اولنت كاتارا únť kaťará, H. n. m. Name of a thistle of which camels are fond.

اولنتي unťni, ऊन्ती, H. n. f. A female camel.

اولنته on h, ओठ, H. n. m. The lip.

اولنچ únch, ऊंच, H. adj. High ; eminent ; lofty ; tall. اولنچ—nách, high and low ; rough ; n. f. inequality ; vicissitudes ; ups and downs ; unevenness ; pros and cons (of a matter) ; particulars.

اولنچا úncha, ऊंचा, H. adj. High ; elevated ; lofty ; above ; precipitous ; noisy. اولنچा بولना—bol bolná, v. to speak with pride ; to talk big ; to brag. اولنچا سننا—sunná, to be hard of hearing ; to be deaf. اولنچا हाते रकना—hath rakhná, to be always in a position to give ; to have the upper hand ; to excel. اولنचे बोल का मने निचा—únche bol ká munh nichá, the proud ones are brought low.

اولنچي دوكان اونچي پوكان unchi dúkán phiká pakván, great boast, little hoast.

اولنچائي únchái, ऊंचाई, H. n. f. Altitude ; elevation ; loftiness ; height ; tallness ; steepness.

اولند áwand, P. n. m. A vessel ; a mortar ; a pan.

اولنדה aunđhá, H. adj. With the face down ; topsy turvy ; subverted ; inverted. اولنדה ليتنا—letná, to lie on the face. اولنדה منجه—aunđe munh, head long ; head foremost.

اولندهانا aunđháná, औंधाना, H. v. To invert ; to upset ; to turn over ; to subvert ; to take topsy-turvy ; to spill. [sleepiness.

اولنگه úngh, ऊंच, H. n. f. Doziness ; drowsiness ; slumber ; drooping.

اولنگهना únghná, ऊंचना, H. v. To nod ; to droop ; to slumber ; to grease the wheels of a cart, &c.

اولنچه únph, intj. Pshaw ! no matter ! never mind ! اولنچي onhín, योंही, H. adj. So ; exactly in that fashion.

اولنچي پائنه aune paune, औने पौने, H. adv. Whatever can be got ; at a loss or profit ; more or less.

اولني úní, H. adj. Woollen.

اوله o-ho, ओहो, H. intj. Ho ! hey !

اولي úi, H. intj. Oh ! Ah ! (An exclamation used by women).

اولنچته áwekhta, P. part. adj. Suspended ; hanging ; pendulous ; pendant ; attached.

اولر awer, आवेर, H. n. f. Delay ; lateness. اولر—sawer, late and early ; at all hours ; unseasonably. اولر کرنا—karná, to delay ; to loiter ; to dally.

اولر کرنا áwez karná, } P. n. To hang
اولر کرنا áwezán karná, } (upon) ; to hook up ; to fix ; to attach ; to post.

اولر اوزه aweza, P. n. m. An earring ; a pendant.

اول آه áh, P. n. f. Sigh ; intj. alas O ! dear ; ah ! اول آه کرنا—bharná,—karná,—márná, v. to sigh ; to give a sigh ; to lament. اول آه جانا—i-jankáh, a heart-rending

sigh. آه جگر سوز—i-jigarsoz, a heart-burning sigh.
 sigh. آه سرد—i-sard; *n. f.* a deep sigh.
 آهار ahár, *S. n. m.* Starch; cement; paste; glue; gluten.
 آهار ahár, आहार, *S. n. m.* Aliment; food; eatables; victuals; sustenance.
 اهالی aháli, *A. n. m. (plu. of اهل Ahl.)* People; consorts; citizens; inhabitants; members; followers. اهالی و موالی—o-maváli, the people in general; courtiers; retainers; retinue; train.
 اهانان ihánat, *A. n. f.* Contempt; scorn; slight; affront; insult; slander; calumny; enmity. اهانان عدالت—i-'adálat, contempt of court. اهانان کرنا—karná, to contempt; to disdain; to affront.
 اهتمام ihtimám, *A. n. m.* Supervision; government; management; vigilance; diligence.
 آهت áhat, आहत, *H. n. f.* Sound of soft footsteps; noise, clack; tick. آهت لیٹے رہنا—lete rahná, to be on the alert; to be on the *qui vive* for any sound.
 آہستگی áhístagí, *P. n. f.* Slowness; tardiness; delay; softness; tenderness; gentleness; mildness.
 آہستہ áhista, *P. adv.* Slowly; softly; tenderly; leisurely; by degrees. آہستہ رو—rau, slow-paced.
 آہک ábak, *P. n. m.* Quicklime; plaster; glue; cement.
 اہل ahl, *A. n. m.* People; proprietor; citizen; inhabitant; follower; *adj.* suitable; capable; deserving. اہل اجتہاد—i-ijtihád, people capable of legal investigation; qualified jurists. اہل اسلام—i-islám, *adj.* orthodox; true believer; Muslim. اہل اللہ—alláh, *n. m.* people of God; *faqirs.* اہل بیت—i-baít, *n. m.* people of the house; family; members of the family of Mohammad consisting of Ali and Fatima and their children. اہل تفسیر—i-tafsír, commentator on holy writ. اہل اتقی—i-taqwa—e-ittiqá, *adj.* Pious, devout. اہل حرفہ—i-hirfa, i-sanát, *n. m.* artisans; workmen. اہل حقوق—i-huqúq, possessed of

rights. اہل خانہ—i-khána, people of the house; lady or master of the house (mistress); housewife. اہل خدمت—i-khidmat, *n. m.* an officer. اہل خرد—i-khírad, *n. m.* wise men; sage. اہل دل—i-díl, *adj.* liberal; free; charitable; courageous. اہل دلق—dalaq, *n. m.* *Darweshes;* beggars. اہل دولت—i-dawal, *adj.* possessed of fortune; wealthy. اہل ذوق—i-zauq, *adj.* having a taste for divine knowledge; devout; pious. اہل روزگار—i-rozgar, *adj.* skilful; *n. m.* working-men; servants. اہل ریش—i-rish, *n. m.* a grown-up man; a young man. اہل زبان—i-zabán, —i-kalám, —i-sukhan *adj.* eloquent; masters of language; orator; poet. اہل زمان—i-zamán, *n. m.* time-server; a sycophant. اہل زمین—i-zamín, *n. m.* a dweller of the earth. اہل زہد—i-zuhd, *adj.* chaste; holy; religious; pious. اہل سنت—i-sunnat, *n. m.* the *Sunnis*, observers of the law (traditional and written). اہل شرع—i-shara', *n. m.* a lawgiver; a lawyer; an observer of the laws of Muhammad. اہل صفا—i-safá, *n. m.* a súfi, pure in heart; pious. اہل اطاعت—i-tá'at, *adj.* submissive; faithful to God. اہل طبع—i-taba', *adj.* endowed with genius; wise. اہل طبقہ—i-tabqa, *n. m.* one who does not follow the precepts of Muhammad. اہل طریق—i-taríq, *n. m.* an observer of the laws of Muhammad. اہل طرف—i-zarf, *adj.* great; noble; honorable. اہل عرف—i-urf, —i-irfan, *adj. n. m.* learned man; well-informed man. اہل عقل—i-'aql, *adj.* intelligent; wise. اہل علم—ilm, *adj.* erudite; well-informed; scientific; scholar. اہل غرض—i-garaz, *n. m.* an interested party; *adj.* designing; selfish. اہل فرنگ—i-farang, *n. m.* European. اہل فضل—i-fazl, *adj.* good; righteous; erudite. اہل قلم—i-qalam, *n. m.* a writer; literary man. اہل کار—i-kár, *n. m.* an artisan; a clerk; a public servant. اہل کتاب—i-kitab, *n. m.* a learned man; a person who believes in one of the four inspired books of God. اہل کرم—i-karam, *adj.* charitable; generous. اہل کسب—i-kasb, *n. m.* traders; dealers. اہل کمال—i-kamál, *adj.* perfect, excellent. اہل کمیشن—i-kamishan,

n. m. a commissioner. اھل مجلس—i-majlis,
n. m. a member of society ; courtier. اھل
معرفت—i-m'arfat, *adj.* knowing God. اھل
مصارف—i-masárif, n. m. an owner ; one hav-
ing authority to expend. اھل مقدمہ—i-mu-
qaddama, n. m. a party to a suit. اھل منصب—
i-mensab, n. m. a minister ; an officer, اھل
نصرت—i-nasrat, n. m. co-operators ; collea-
gues. اھل نظر—i-nazar, *adj.* discerning ;
penetrating ; sharp-sighted. اھل نفاق—i-nifáq,
n. m. irreligious ; ungodly ; foes. اھل دوع—i-
wara', *adj.* holy ; godly. [havoc.
اھلک ehlák, A. n. m. Downfall ; perdition ;
اھلیت ahliyat, A. n. f. Worthiness ; capability ;
aptitude ; possession.
اھلیہ ahliya, A. n. f. Wife.
اھم aham, A. *adj.* Important ; momentous ;
pressing. اھم امر—umúr, most important
matters or things. اھم کار—kár, important
business.
اھمال ihmál, A. n. m. } Negligence ; heedless-
اھمالی ihmáli, A. n. f. } ness, remissness ; lazy-
ness ; delay.
اھن áhan, P. n. m. Iron. اھن ربا—ruba, n. m.
a loadstone ; magnet. اھنگر áhngar, n. m.
blacksmith. [conceit ; vanity ; pride.
اھنگار ahngár, اھنگار S n. m. Haughtiness ;
اھنگاری ahngári, اھنگاری, S. *adj.* Haughty ;
vain ; conceited.
اھنگ áhng, P. n. m. Design ; intention ; pur-
port ; meaning ; way ; mode ; sound ; har-
mony ; music.
اھنی áhni, P. *adj.* Made of iron ; strong ; hard.
اھو áhu, P. n. m. A deer ; antelope ; vice ;
fault ; defect. اھو برة—barra, n. m. a fawn.
اھو چشم—chashm, having eyes like a deer's ;
gazelle-eyed. اھو گیری—gírí, the catching
of a deer.
اھیر ahír, اھیر, H. n. m. A cowherd.
اھیر aher, H. n. f. Hunting game.
اھیرن ahírín, اھیرن H. n. f. A cowherd's wife ;
a milkmaid.
اھیری aheri, H. n. m. A hunter.

اھیمہ áima, A. n. m. A fief ; charity lands
(zamín lá khiráj). اھیمہ دار—dár, a foffeee.
اھین áín, P. n. m. Law ; regulation ; statute ;
rule ; custom. [lady's maid (áyah).
اھیا áyá, Port. A nurse who feeds a child ;
اھیا آقا, H. v. Came. اھیا گیا—gayá, *adj.*
came and gone ; past ; done with ; got rid of.
اھیے گئے áe gae, n. m. pl. casual visitors ; un-
expected guests.
اھیاغ ayág, P. n. m. Cup ; drinking vessel
اھیاغ ایال, H. n. f. Mane (of a horse).
اھیال iyálat, A. n. m. Sway ; domination ; com-
mand ; government ; rule.
اھیام aiyám, A. n. m. (Plu. of يوم Yaum). Days ;
times ; weather ; duration.
اھیاب íbá, A. n. m. Sign ; beckon. [Qurán.
اھیات áyat, A. n. f. A mark ; a verse of the
اھیات etá, H. *adj.* So much ; so. [so many.
اھیک etik, اھیک, H. *adj.* This much ; so much ;
اھیکیت ítlák, A. n. m. Familiarity ; association ;
friendship ; correspondence ; company.
اھیوار etwar, اھیوار, S. n. m. Sunday.
اھیجاب íjáb, A. n. m. Making necessary affirma-
tion ; proposal. اھیجاب و قبول—o-qubúl, pro-
posal and consent in a negotiation of marriage.
اھیجاد íj d, A. n. m. Creation ; invention ; con-
trivance ; production ; *adj.* invented. اھیجاد
اھیکارنا—karná, v. to design ; to plan ; to create ;
to originate.
اھیزار íj z, A. n. m. Abridgment ; epitome.
اھیذا ízi, A. n. f. Annoyance ; molestation ;
hurting ; harm ; pain ; trouble ; chagrin ;
affliction. اھیذا دینا—dená, v. to injure ; to
hurt ; to pain ; to vex ; to afflict ; to molest.
اھیذا رساں—rasáin, *adj.* vexatious ; troublesome.
اھیذا رسائی—rasáni, causing trouble or injury.
اھیڑا erápher, اھیڑا, H. n. m. } Inter-
اھیڑا اھیڑی erápheri, اھیڑی, H. n. f. } change ;
exchange ; barter ; roaming or wandering to
and fro.
اھیڑا ایرا ایرا airá gairá, H. n. m. This one and that
one ; any one and every one (without dis-
tinction ; stranger.

ایران *írán*, P. *n. m.* Persia; Iran.
 ایرانی *írání*, P. *adj.* Persian; Iranian.
 آیر بال *áyurbal*, आयुर्बल, S. *n. f.* Age.
 ایر کھا *irkhá*, ईर्खा, S. *n. f.* Envy; emulation; malice; spite.
 ایر *er*, H. *n. f.* Spurring; spur. ایر مارنا *márná*, to spur; to urge a horse on with the heel.
 ایری *erí*, एड़ी, H. *n. f.* The heel. ایریاں رگڑنا *áy ragarná yá ghisná*, to drag the heels in walking, to be in straitened circumstances; to be in distress or agony.
 ایرزد *ezid*, P. *n. m.* God.
 ایرزدی *ezidí*, P. *adj.* Divine; heavenly.
 ایسا *aisá*, ऐसा, H. *adj.* Such; this like; resembling; like. ایسا ایسا *taisá*, such and such; so and so. ایسا ایسا *waisá*, such a one; disreputable person; inferior; poor; indecent. ایسی *aisí*, taisí, disgrace; infamy; a polite term for anything unmentionable. ایسے ہی *aise hí*, so to speak; accidentally; casually.
 ایستاده *istáda*, P. *adj.* Standing.
 ایسون *aison*, H. *adj.* This year.
 ایشان *ishán*, ईशान, S. *n. m.* The north-east; splendour.
 ایشور *ishwar*, ईश्वर, S. *n. m.* Ruler; the Supreme Being; chief; master; Lord; God.
 ایشورتا *ishwarta*, ईश्वरता, S. *n. f.* Supremacy; divinity; providence; Godhead; almighty power. [same].
 ایضاً *aizan*, A. *adv.* Ditto; as above; again; the
 ایفا *ifá*, A. *n. f.* Performance; satisfaction; fulfilment; observance; paying ایفائے دگری *i-digrí*, satisfaction of decree. ایفائے کامل *i-k mil*, full payment. ایفائے وعدہ *i-wáda*; fulfilment of the promise.
 ایک *ek* एक, H. *adj.* One; only; single; sole; a certain one; single of its kind; unique; singular; *adv.* or so about; (as *pánch-ek*)
 آد *ád*, a half; a part; some; few.
 ایک کے بعد ایک *ek-ek-kar-ke*; one by one; severally. ایک ایک *ek-ke-bád-ek*; one by one; severally. ایک *arthí*, *adj. & n. m.* having one and the same meaning; a synonym. ایک بڑیاں *áik burián*

ایک بار *bár*, —biryáú, —ber, *adv.* once; upon a time; at one time ایک بارگی *bár*, —b'rgí, *adv.* once; all at once; suddenly; forthwith; totally; all ایک برن *barán*, *adj.* of one colour; identical. ایک پیت کے *peť ke*, *adj.* of the same womb; of the same mother. ایک تال *tál*, *n. m.* harmony; unison. ایک جان *zán*, *adv.* of one mind; intimate. ایک دل *dil*, *adv.* unanimous; of one accord; of one heart. ایک دم *dam*, *adv.* instantly; forthwith; immediately. ایک ساتھ *sath—sang*, together; in a body; simultaneously. ایک سان *sán*, *adv.* alike; resembling; identical. ایک سر *sar*, *adv.* all together; all at once. ایک طرفہ *tarfá*, one-sided; partial; ex-parte (decision). ایک فصلی *ek-fasli*, yielding but one crop annually. ایک کی دس سنائی *ki das sunání*, *v.* to reply ten words of one; to give one a volley of abuse. ایک قلم *qalam*, —lakht, *adj.* together; wholly; entirely; quite; at once. ایک لاثھی ہانکنا *lathi hankná*, to drive with one and the same stick; to rule all men with one rod; to use or treat indiscriminately. ایک لوتی *lautá*, *adj.* only; single. ایک ماں باپ کے ہونا *mán báp ke honá*, to be or live as brothers; to live in peace and harmony. ایک مت *mat*, *adv.* unanimous; of one accord. ایک مشت *musht*, a handful. ایک منہ ہونا *munh honí*, to be unanimous; to concur; be of the same opinion. ایک نہ ایک *na—one or other*. ایک ایک *eká eki*, *adv.* suddenly; unexpectedly; unawares. ایک ہی *hí honá*, to be unparalleled or unique. ایک ایک *eká*, एका, H. *n. m.* Unity; union; league; conspiracy.
 ایک دسی *ek dasí*, एकादसी, S. *n. f.* The eleventh day of the lunar fortnight. [lonely].
 ایک انت *ekant*, एकान्त, *adj.* Apart; isolated; single; ایک اکٹھا *ekatthá*, एकट्ठा, H. *adj.* Assembled; united; together. ایک کٹھا کرنا *karná*, *v.* to assemble; to unite; to collect; to convene.
 ایک *ikh*, ईख, S. *n. f.* Sugar-cane.
 ایگن *aigun*, ऐगुण, S. *n. m.* Fault; stupidity; foolishness; clumsiness; mischief.
 ایل *iyal*, A. *n. m.* A stag; a mountain goat.

ایلیچی elchí, T. n. m. An ambassador ; emissary ; representative ; agent ; factor. ایلیچی پنا —
pauá, n. m. ambassadorship ; agency ; agent-
ship. ایلیچی گری کرنا —garí karná, to act in an-
other's stead ; to act as an ambassador.

ایلووا elwá, एलवा, H. n. m. Aloes (*musabbar*).

ایما imá, A. n. m. Sign ; nod ; hint ; sugges-
tion ; glance ; beckon ; emblem ; symptom.

ایمان imán, A. n. m. Belief ; faith ; creed ;
trustworthiness ; credence ; conscience ; con-
fidence. ایمان بیچنا —bechná, to break one's
word, faith, &c. ایماندار —dár, *adj.* faithful ;

conscientious ; upright ; trusty ; true. ایمانداري —
dári, n. f. faithfulness ; constancy ; honesty ;

fidelity ; uprightness ; trustworthiness ;
honesty. ایمان سے —se, *adv.* fairly ; honestly ;
conscientiously. ایمان لانا —láná, to believe ;

to put faith in ; to accept the religion of.
ایمان میں خال آنا یا فرین آنا —men khal aná yá
farq aná, to have one's honesty shaken or
disturbed ; to prove faithless.

ایس in P. pron. This ; these.

اینٹ int, H. n. f. A brick. اینٹ بندی —bandí
H. n. f. brickwork. اینٹ کی چٹائی —kí chunáí,
n. f. brick-laying.

ایتھه aint, ऐठ, H. n. f. Tightening ; twist ;
contortion ; strut ; pride ; arrogance ; airs
(*akar*).

ایتھان aintan, H. n. m. Contortion ; gripe ;
colic.

ایتھنا aintná, H. v. To tighten ; to writhe ; to
—distort ; to contort ; to twist ; to strut ; to
take by force or fraud.

اینچا ainchá, H. *adj.* Pulled ; drawn. اینچا تانا —
táná ; squint-eyed. اینچا تانی —táni, tussle.

اینچنا ainchna, ऐचना, H. v. To pull ; to haul ;
to attract ; to drag ; to draw or rule (a line) ;
to write ; to scribble. اینچ لے جانا —ainch le
jáná, to wring from ; to extort ; to take away
by force.

آینده ayanda, P. *adj.* In future ; hereafter ;
next ; ensuing ; *adj.* subsequent ; future.

آینده رننده —rawinda, passing hither and thi-
ther ; n. m. comer and goer ; a passer-by.

ایندھن indhan, ईधन, H. n. m. Fuel ; firewood ;
faggot.

ایندھنا aindná, ऐदना, H. v. To walk affectedly ;
to strut ; to loll.

ایندھوا indhuá, ईदुआ, H. n. m. A roll or coil of
cloth, straw or rope on which a burden is
carried on the head (*gurári induri*).

ایندی بیدی aindi baindi, ऐदीबिदी, H. *adv.*
Crooked ; rough ; rude. ایندی بیدی سنانا —
sunaná, v. i. to abuse ; to call nanes.

اینگور ingor, ईंगुर, H. n. m. Red-lead.

آئین ain, P. n. m. A body of laws ; constitu-
tion ; code ; law ; regulation ; institute ;
statute ; enactment ; act ; edict ; ordinance ;
canon. آئین دیوانی - آئین مال - آئین فوجداری |

diváni,—mál,—faujdarí, Civil law, Revenue
law, Criminal law.

آئینہ áina, P. n. m. A mirror ; reflector ; look-
ing-glass. آئینہ بندی —band, embellished with
mirrors. آئینہ بندی —bandí, decorating with
mirrors. آئینہ دار —dár, mirror-holder. آئینہ دار —
rá, having a face shining like a mirror.

آئینہ ساز —sáz, a mirror-maker. آئینہ محل —
mahal, a mirror-chamber. آئینہ سازی —sazi,
mirror-manufacturing. آئینہ سیکندر —i-sikandar,
a mirror of polished steel (attributed to
Alexander).

آیو ayu, आयु, S. n. m. Age. ایران ایران
aiwán, P. n. m. A hall ; a gallery ; a
place. ایران عوامی —i-awámí, house of people.

(ب)

ب be, The second letter of the Urdu, or Hin-
dustani, Persian and Arabic alphabets and
the third letter of the Hindi labiale. In اجد
it stands for the number two.

با ba, P. A prefix signifying with ; by ; for ;
from ; in ; to ; on ; as ; به شوق —shauq, with
pleasure. بهر صورت —har súrát, by every
means. بجائے —jáe, in place of, بجائے —hadde
ki, to such a degree that, &c., &c.

با bá, P. *prep.* By ; with ; possessed of (opp. to
without). باآبرو —ábru, *adv.* respectably ; nobly.

با اتفاق —ittifáq, *adv.* unanimously ; with one

accord. **بَا اَثَر**—*asār*, and *adv.* effectively; remarkable; effectual. **بِالْخُلَاص**—*ikhlās*, *adj.* sincere; cordial. **بِاَدَب**—*adab*, *adj.* & *adv.* & *intj.* with good manners; polite; respectfully; by your leave! Pardon me. **بِاَنْكِه**—*á'ki*, *adv.* though; although; nevertheless. **بِاِيْمَان**—*imán*, pious; religious; believing. **بِاَبْرَكَات**—*barkat*; *adj.* blessed; fortunate; prosperous. **بِاَتَدْبِير**—*tadbír*, *adj.* prudent; with good council. **بِاَتَمِيز**—*tamíz*, *adj.* sensible; discreet; judicious. **بِاَحْيَا**—*hayá*, *adj.* modest; bashful. **بِاَخْبَر**—*khábar*, informed; intelligent. **بِاَشْعُور**—*sha'úr*, *adj.* sagacious; shrewd; wise; intelligent. **بِاَضَا بَطَا**—*zábita*, *adv.* according to rule; regular; formal. **بِاَقَاعِدَة**—*qá'eda*, *adj.* regular; formal. **بِاَقَرِيْنَة**—*qárina*, in order; methodical; well arranged. **بِاَمُرُوْر**—*murawwat*, *adj.* courteous; humane; kind; obliging. **بِاَمَزَة**—*maza*, *adj.* savoury; palatable; delicious. **بِاَوَجُوْد**—*wajúd*, *conj.* notwithstanding; in spite of; although. **بِاَوَسَف**—*wasf*, *adv.* with the attribute, or description; nevertheless. **بِاَوَاضِع**—*waza'*, *adj.* politely; civilly; respectfully; gentlemanly. **بِاَوَا**—*wafá*, *adj.* true; faithful.

بَاب *báb*, A. *n. m.* Door; gate; section; chapter; division of a book; heading; affair; point; topic; cess; tax; in the matter (of); with regard to; about. **بَابُ التَّوْبَة**—*ul-taubah*, *n. m.* the door of repentance. **بَابِ وَاوِي**—*wá'ri*, *n. f.* classification.

بَابَا *bábá*, H. *n. m.* Father; sire; grand father; old man; a *Sanyási*, *संन्यासी*; a *faqir*; *Qalandar*; *faqirs* use this word towards public and *vice versa*; children of Europeans. **بَابَا جَان**—*ján*, dear father.

بَابَات *bábat*, A. *n. f.* Account; concerning; respecting; in the matter of; head; article; affair; item; *adv.* on account (of).

بَابُل *bábul*, P. *n. m.* Babel or Babylon.

بَابُو *bábú*, H. *n. m.* A title of respect, as Sir; Mr.; Esqr.; a clerk or writer in an office; a master; a child; a prince; a *bábú*; a lord; a father. [anahemís wobilis.

بَابُوْنَا *bábúna*, P. *n. m.* Wild ivy; camomile;

بَاب *báp*, A. *n. m.* Father. **بَاب رے بَاب**—*re—intj.* an exclamation of pain, O father! a cry for help or mercy. **بَاب تَك جَان**—*tak jáná*, to go the length of abusing one's father. **بَاب وَاوَا**—*o-dádá*, *n. m.* ancestors; forefathers; pedigree. **بَاب مَارے كَا بِيْر**—*máre ká báir*, family feud. **بَاب هَتِيَا**—*hatyá*,—*हत्या*, *n. f.* parricide.

بَات *bat*, H. *n. f.* Speech; locution; word; saying; discourse; description; talk; subject; question; gossip; affair; circumstance; article; substance; matter; point; proposal; **بَات آْنَا**—*áná*, to be accused for; to be put to shame. **بَات بَات مِيْن**—*bát me'n*, *adv.* in every word; for the least thing; on every occasion.

بَات بَدَلَا—*badalná*, to depart from one's word; to deny an assertion. **بَات بَرَهَانَا**—*barháná*, *v.* to prolong a debate or contention. **بَات بِيْگَارْنَا**—*bigárná*, *v.* to mar a plot; to ruin one's credit; to bring disgrace upon.

بَات بَنَانَا—*banána*, *v.* to concoct; to make lame excuses; to make up a story; to gain honour; to amplify; to tell lies. **بَات پَكْرْنَا**—*parkárná*, *v.* convince one out of one's own mouth; to criticise.

بَات پَكِي كَرْنَا—*pakki karná*, *v.* to covenant; to bargain. **بَات پُوْچھْنَا**—*púchhná*, *v.* to make a search; to enquire after one's welfare; to receive; to welcome. **بَات پُوْچھ لَانَا**—*phailáná*, *v.* to promulgate a report or circulate rumour; to spread the news.

بَات تَالْنَا—*talná*, *v.* to put off; to evade; to excuse one's self. **بَات جَانَا**—*jáná*, *v.* to lose one's credit; to be disgraced. **بَات چَبَا جَانَا**—*chabá jáná*, to swallow one's word. **بَات چَالْنَا**—*chaláná*, *v.* to engage in conversation; to start a subject.

بَات چِيْت—*chit*, *n. f.* chit-chat; discourse; chat; talk; conversation. **بَات چِيْت كَرْنَا**—*chit karná*, *v.* to converse; to discourse; to talk; to chat; to confabulate. **بَات دَالْنَا**—*dálná*, to ask in vain; to throw away one's words; to ask for; to request.

بَات رَكھْنَا—*rakhná*, *v.* to aid; to comply; to keep one's word. **بَات رَهْنَا**—*rahná*, *v.* to keep or make good one's words; to adhere to one's declarations; to overcome; to confute; to preserve perfect. **بَات كَا بِنْتَكْر كَرْنَا**—

—ká batangaṛ karná, *v.* to multiply words; to amplify; to make much of little; to exaggerate. بات کا پکا۔ بات کا پورا۔ بات کا سچا
ká pakká,—ká púrá,—, ká sachchá, *adj.* true to one's word; faithful to one's promise; trustworthy. بات کاٹنا—káṭná, *v.* to interrupt; to cut one's speech short. بات کرنا—karná, *v.* to speak; to discourse; to talk. بات کو پی جانا—ko pi jáná, to bear in silence, have patience, suppress one's feelings. بات کھل جانا—khul jáná, to leak out, become public. بات کھونا—khoná, *v.* to mar a plan; to spoil; to defile. بات کی بات میں—ki—men, *adj.* instantly; immediately; in no time.

دل کا تیغ زبان نے کام کیا
بات کی بات میں تمام کیا

(ذہمت)۔

Dil ká teḡ-e-zabán ne kám kiyá

Bát ki bát men tamám kiyá.

بات گڑھنا—garhná, *v.* to speak to the purpose; to speak effectively; to concoct a story. بات لانا—láná, to bring a proposal for marriage. بات لگانا—bát lagná, to feel or be impressed by one's words; to be offended. بات لگانا—lagáná, *v.* to negotiate, to speak about; to make arrangements; to slander; to calumniate. بات مارنا—márná, *v.* to talk big; to evade or turn a discourse. بات ماننا یا قبول کرنا—máná—qubul karná, to admit; to accept; to agree; to concur; to assent. بات میں فی نکالنا—men fi nikalna, to pick holes in an argument; to cavil. بات ہلکی یا ہیتی ہونا—halkí yá heṭi honá, to be of little esteem. باتوں کا چھوڑنا—on ká jhaṛ bándhna, to talk without ceasing. باتوں میں اڑانا—on men uṛana, *v. t.* to turn off with a joke; to make a fool of one by talk. باتوں میں آنا—on men áná, *v. t.* to be taken in or deceived. باتوں میں بہلانا—on men bahláná, *v. t.* to delude with fair speeches; to divert one's attention. باتوں میں لگانا—on men lagáná, *v. t.* to engage a person in conversation; to occupy one's attention. باتیں سنانا—on sunáná, *v.* to revile; to abuse; to

reproof; to repeat one's story of adventure. باتیں ملانا—en miláná, to concur with; to agree with.

بات *bát*, वात (वात), *H. n.* Rheumatism; pain in the joints.

باتفاق *ba ittifaq*, *P. adv.* With one consent; in conjunction with; harmoniously; unanimously.

باتونی *bátúní*, *H. adj.* Talkative; chatty; gerrulous.

بات *bát*, वाट, *H. n. f.* Way; path; route; road; track; footpath. بات جوہنا—johná, (*rdh dekhná*); to watch or look out for; to await; to expect.

بات *b t*, *H. n. m.* A weight or measure of weight. بات اور ترازو—aur tarazó, weights and scales. بات چھپائی—chhapái, fee charged for stamping weights; stamping weights and measures. [place; a grove; a tope.

باتیکا *bátiká*, वाटिका (वाटिका), *H. n. m.* A villa; a tax collector. بات *bát*, *P. n. m.* A tax; duty; impost; cess; tribute. باتدار—dár,—gír, a tax collector. باتگذار—guzár, one who paystributes, duties, etc.; a tributary; feudatory or dependent state.

باتجا *bájá*, *H. n. m.* A musical instrument.

باتجرا *bájrá*, *H. n. m.* Maize; a kind of millet.

باتجا *bájna*, *H. n.* To sound; to resound; to play upon. باتجنتری—bájantari, वाजनतरी, *n. m.* Musician; band of musicians; *n. f.* a tax exacted in Mohammedan rule from musicians and professional singers.

باتجو *bajú*, *H. n. m.* Arm; armlet; door post; side frame of a door. باتجو بند—band, armlet.

باتجو *báchh*, *H. n. f.* Selection; assessment on a share; subscription; slit or corner of the mouth. باتجو ڈالنا—dálná, to levy a tax; raise by subscription. باتجو میں آنا—báchhen áná, to have a pain or inflammation at the corners of the lips. باتجو میں کھلنا یا کھل جانا—bá chen khilna or khil jáná, to be delighted; to laugh intensely;

باتجا *bákhá*, } *P. n. m.* A tortoise.
باتجا *bákha*, }

باد *bád*, *P. n. m.* Wind; air; gale; breeze. باد پیمہ—paimá, *adj.* swift; fast; *n. m.* a swift

horse; an idle talker. باد تند — i-tund, *n. f.* a tempestuous gale; storm. باد رفتار — raftár, *adj.* swift as wind. باد سومر — samúm, *n. f.* a hot pestilential wind; the wind *símoom*. باد صبا — sabá, *n. f.* the zephyr; a refreshing wind; morning breeze. باد کش — kash, *n. m.* fan; ventilator; bellows. باد گرد — gird, *n. m.* whirlwind. باد گولہ — gola, flatulence from indigestion. باد مخالف — muḵhálif, *n. f.* a contrary wind. باد مراد — murád, fair wind. باد مہرہ — mohra, *n. m.* antidote for snake bite. باد نما — numá, a weathercock; vane. باد ہوائی — hawai; wandering; meaningless.

باد باد, *باد* H. *n. m.* Debate; discussion; dispute; contention; a law suit; case. بادی — bádi; *آدو* plaintiff; complainant; suitor.

بادام bádám, *P. n. m.* An almond.

بادامہ bádáma, *P. n. m.* A silkworm in the chrysalis state; a sort of silk; a *faqir's* dress made of rags sewn together. [mond-shaped.]

بادامی bádámi, *P. adj.* Almond-coloured; al-

باد بان bád bán, *P. n. m.* A sail.

باد پا bád pá, *n. m.* A courser.

باد ریشہ bád-resha, *P. n. m.* A whirl.

بادشاہ bádsháh, *P. n. m.* A king; a sovereign. بادشاہانہ — ána, *adj.* imperial; kingly; royal; *adv.* royally; princely; kingly. بادشاہت — at, *n. f.* empire; kingdom; realm; government. بادشاہزادی — zádá, king's son; prince. بادشاہ کش — zádí, princess. بادشاہ کش — kush, *n. m.* king-killer; regicide.

بادشاہی bádsháhi, *adv.* Royal; kingly; *n. f.* empire; kingdom; realm; sovereignty. باد شاہی سند — sanad, *n. f.* royal grant; a written document conveying lands or titles from the ruling power. باد شاہی عدالت — 'ad. lat, *n. f.* court of chancery; His Majesty's court.

بادل badal, *H. n. m.* A cloud. [thread.

بادلہ bádálá A. *n. m.* Brocade; gold or silver

بادہ bada, *P. n. m.* Wine; spirits. بادہ پرست — parast, *adj.* addicted to wine; drunkard. بادہ کش — kash, *n. m.* wine-drawer. بادہ گوئی — goi, *n. f.* talking foolishly or largely like an intoxicated man. بادہ نوش — nosh, wine drinker.

بادھا bádhá, *बाघा*, S. *n. f.* Pain; obstruction; hindrance.

بادی bádi, *P. adj.* Flatulent; windy; rheumatic. بادی بدن — badan, *n. m.* bloated body; corpulence.

بادی bádi, A. *n. f.* Beginner; author. بادی النظر — ul-nazar, *adv.* at first sight; *Prima facie* (*dekhte hi*).

بادیہ bádiya, *P. n. m.* A cup; a bowl; a goblet.

بادیہ bádiya, A. *n. m.* A desert; a forest.

بار bár, H. *n. m.* Time; turn; occasion; بار بار — bár, *adv.* again and again; بار بٹائی — baṭái, division of the crops by sheaves before the corn is trodden out. بارदान — dána, *n. m.* supplies; provision; forage; vessels, bags, etc. in which provisions are kept. باررکائی — rukai, money exacted by the bride-groom's sister before allowing the pair to enter the bride-groom's house.

بار bár, *P. n. m.* Burden; load; pregnancy; heaviness; fruit; produce; gate; door; entrance; day of the week; time; reiteration; leave; admittance; tribunal; assembly. بار بردار — bardár, *n. m.* carrier; a beast of burden. بار برداری — bardári, *n. f.* means of conveyance; cart hire; freight; transit charges; lading cargo. بار تردید — i-tardíd, *n. m.* the onus of rebutment; the burden of disproof. بار ثبوت — i-sabút, onus; the burden of proof. بار خاطر — i-khatir, *n. m.* tiresomeness. بار خاص — i-khás, private court or hall of audience; privy council chamber. بار دار — dár, *adj.* pregnant; full of fruit. بار دینا — dená, *v.* to load; to give trouble; to give permission. بار کرم — i-ám, public audience. بار کاش — kash, *n. m.* a cart for carrying loads, etc. بار کفالت — kifálat, charge. بار ور — war, *adj.* fruitful; productive.

بارہ báraḥ, H. *adj.* Twelver. بارہ چوری — jori, force; violence; compulsion. بارہ کوتی — kharí, the twelve short vowels of the *Nágrí* alphabet.

بارات bárát, H. *n. f.* A marriage procession.

باران barán, *P. n. m.* Rain.

بارہ *bārāh*, बाराह, (बाराह), *S. n. m.* A hog; a boar; the third or boar-incarnation of Vishnu.

بارانی *bārānī*, *P. adj.* Relating to rain; *n. f.* a waterproof coat (*barsāti*). [sunshade.

بارجہ-بارجہ *bārcha*, bārja, *P. n. m.* Portico; بارد *bārid*, *A. adj.* Cold; frigid.

بارش *bārish*, *P. n. f.* Rain. [bless you.

بارک اللہ *bārak Allah*, *A.* May God prosper or بارکش *bārkash*, *n. m.* A porter; a conveyance.

بارگاہ *bāgāh*, *P. n. f.* A tribunal; mansion; place of audience. بارگاہ خاص *i-khāss*, *n. m.* privy council chamber. بارگاہ عام *i-'ām*, *n. m.* public audience.

بارگیز *bār gir*, *P. n. m.* A beast of burden.

بارندگی *bārindgi*, *P. n. f.* Raining.

بارود *bārūd*, *H.* } *n. f.* Gunpowder. باروت خانہ
باروت *bārūt*, *T.* } —*khāna*, *n. m.* powder magazine.

بارہ *bāra*, *P. n. m.* Time; turn; respect; regard. بارہ میں —*men*, in respect of; concerning. بارہ رات —*wafāt*, *n. f.* the twelve days of Mohammad's fatal illness.

بارہ *bārāh*, *H. adj.* Twelve. بارہ ہوتا —*bāṭ* honā, to become housless; to be vagabond, ruined, or harassed. بارہ پتھر —*patthar*, a space surrounded by twelve pillars which mark the boundary of a cantonment or encampment. بارہ دری —*dari*, *H. n. f.* a summer house generally in a garden. بارہ سنگھ —*singhā*, *n. m.* a stag. بارہ ماسہ —*m-sa*, *n. m.* a Hindi verse of twelve stanzas describing the characteristic changes of the season and scenery and pastimes of each month.

بارہا *bārāhā*, *P. adv.* Times out of number; often; frequently.

بارے *bāre*, *P. adv.* Once; suddenly; at last.

باری *bārī*, *A. n. m.* The deity; the Creator. باری تعالیٰ —*ta'ālā*, *n. m.* the Most High God.

باری *bārī*, *H. n. m.* A caste of Hindus who prepare platters of leaves, and who sell betel leaves and torches.

باری *bārī*, *S. n. f.* An orchard; a house.

باری *bārī*, *H. n. f.* Turn. باری دار —*dār*, *n. m.*

servant who waits in turn with others. باری تپ —*ka tap*, an intermittent fever.

بارے *bāre*, *P. adv.* Once; at last; at length; in short.

باریاب *bāryāb*, *P. adj.* Admitted at court or into company.

باریک *bārīk*, *P. adj.* Fine; thin; delicate; threadlike; minute; subtle; high (note, &c.). باریک بات —*bāt*, nice point; subtle question; fine discrimination. باریک بین —*bin*, *adj.* penetrating; quick of apprehension; *connoisseur*; shrewd; sagacious. باریک میان —*miyān*, *adj.* slender waisted. باریکی —*i*, *n. f.* fineness; delicacy; discernment; subtlety. باریکی نکالنا —*nikalna*, *v.* to make nice distinction; to criticize.

بار *bār*, *H. n. f.* Verge; edge; border; a fence; margin; edge of a weapon or tool; volley; a line of soldiers. بار اڑانا —*urānā*, *v.* to fire a volley. بار دلوانا —*dilwānā*, *v.* to sharpen; to whet; to animate. بار رکھنا —*rakhnā*, *v.* to sharpen; to put an edge (on); to give an edge (to). بار گر جانا —*gir janā*, to blunt or notch the edge of a sword, &c.

بارے *bārā*, बाड़ा, *H. n. m.* An enclosure; fence; hedge.

بارے *bār*, बाढ़, *H. n. f.* Increase; rise; growth; flood; inundation. [an enclosure.

باری *bārī*, बाड़ी, *S. n. f.* A garden; an orchard;

باز *bāz*, *P.* Playing; player (*used in comps.*), particle affixed to nouns to denote an actor, agent, or doer, as بار نشہ *nashe bāz*, a drunkard, بار پتنگ *patang bāz*, one fond of flying kites, etc.

باز *bāz*, *P. n. m.* A hawk; a female falcon; the male is called *shāhān*). باز دار —*dār*, *n. m.* a hawk; a falconer.

باز *bāz*, *P. adv.* Again; back. باز آنا —*ānā*, *v.* to decline; to refuse; to withdraw; to abstain. باز داری —*dā'arī*, withdrawal of a suit. باز رکھنا —*rakhnā*, *v.* to hold back; to disallow; to refrain; to debar; to save; to hinder; to prohibit. باز رکھنا —*rakhnā*, *v.* to abstain; to refrain; to reject;

to cease; to shun. بازار نامه—náma, a deed of relinquishment. بازار یافت—yáft, *n. m.* recovering; getting back; the act of resuming alienate lands.

بازار: bázár, *P. n. m.* A market; a bázár. بازار بافتا—baftá, *n. m.* discount. بازار بافتاک—taf bázári yá—baiták, fee or tax for holding a stall in a market. بازار گرم هونا—garm honá, the market to be brisk; to have a good sale. بازار لگانا—laganá, to make a noise and uproar like that of a market. بازار منده هونا—manda honá, the market to be dull. بازار وعده—wa'da, future market. بازار رشوت کا بازار گرم ه—garm hai, the practice of bribing right and left.

بازاری bázári, *P. adj.* Belonging to the bázár; *m. f.* market person; belonging to the market, common; vulgar; low. بازارى zan-i—, prostitute.

باز پرس báz purs, *P. n. f.* Minute examination; repeated inquiry. بازار پرس کرنا—karna, to demand an explanation.

باز خواه báz khwáh, *P. n. m.* An investigator; an enquirer. [trader.

بازرگان bázurgán, *P. n. m.* A merchant; a بازرگانی: bázurgání, *P. n. f.* Merchandise; trade باز گشت báz gasht, *P. n. f.* Returning; echoing retreat. [(loṭan kabútar)

بازنده bázinda, *P. n. m.* Player; a tumbler pigeon;

بازو bázú, *P. n. m.* The arm; the side frame of a door; the flank (of an army); wings of a bird; friend; an associate. بازو بند—band, *n. m.* an armlet. بازو دینا—dená, *v.* to lend a helping hand; to aid.

بازی bází, *P. n. f.* Sport; game; play; a wager; a bet. بازی پانا—páná, *v.* to be victorious; to defeat; to beat. بازی کھانا—kháná, *v.* to lose. بازی لگانا—laganá. بازی بدنا—badná, to wager; to bet; to stake. بازی لیجانا—lejána, *v.* to win; to excel; to carry the palm.

بازیچه bázícha, *P. n. m.* Play; diversion; frolic; wagering; a toy; a gewgaw.

بازیگاه báz(gáh), *P. n. f.* Play-ground; theatre.

بازیگر bázígar, *P. n. m.* A rope-dancer; a magician.

بازیگر bázígar, } *P. n.* An enchantress; a sorceress.
بازیگر دنی bázígar ní, }

بازیگری bázígarí, *P. n. f.* Jugglery; legerdemain.

باس bás, वास, (वास), *S. n. m.* Dwelling; habitation; residence. *H. n. f.* scent; odour; smell.

باسه باسath, *H. adj.* Sixty-two. [rice.

باسماتی bási, *H. n. m.* A fragrant kind of

باسن básan, *H. n. m.* A basin; pot.

باسنا básná, *H. v.* To perfume; to scent.

باسی básí, *H. adj.* Stale. *n.* dweller; inhabitant (as Brojbási, ban.bási). تباسی—tibási, three days' stale food. باسی منده—mugh,

unwashed face or mouth. [a falcon.

باشا básha, *P. n. m.* A hawk; a sparrow-hawk;

باش báš, *P. adj.* Being; living; staying (used in comp. as شب باش shab—) *intj.* stop | stay |

باشاد bášhad, *P. adv.* It may be; perhaps.

باشنده bášhinda, *P. n. m.* Inhabitant; resident; denizen. [faculty of seeing.

باصرة básira, *A. n. m.* Sight; the sense or

باطل bátıl, *A. adj.* Null and void; futile; false;

ineffectual; spurious; useless; unsound; fictitious. باطل السحر—us-sihr, *n. m.* counteracter or annuller of enchantment. باطل

سامجھونا—samajhná, to regard as false; to set at naught. باطل کرنا—karná, *v.* to vitiate; to nullify; to rescind; to revoke; to abolish; to refuse; to set aside. باطل هونا—honá, *v.* to be or prove vain; ineffectual; to come to naught; to become void. [the mind.

باطن bátin, *A. n. m.* The inside; the internal;

باطنی bátíní, *A. adj.* Internal; hidden; intrinsic; latent.

باعتبار ba-e'tibár, *P. A. adj.* In respect of; by reason of; according to; agreeable to.

باعث ba'is, *A. n. m.* Cause; occasion; reason; account; subject; ground; basis; origin.

باغ bág, *P. n. m.* A garden; orchard; a tope; a grove; باغ هونا—bág honá, *v.* to rejoice greatly; to be delighted. باغ دیکھانا—sabz—dikháná, to excite desire and expectation by deceitful promises.

چارہا باتوں میں باغ سبز دکھائے جنہیں
انکی خاطر کشت دل میں تخم ہم ہونا پڑا
(جرات) —

Bárhá bátón men bág-i-sabz dikhláe jinhen
Unki khátir kish-t-i-dil men tukhm-i-gam boná
pará.

باقیاتی bágatí, P. Produce of a garden ; revenue
derived from gardens.

باغبان bágban, P. n. m. A gardener.

باغبانی bágbaní, P. n. f. Gardening.

باغچہ bágcha, } P. n. m. A small grove or
باغیچہ bágícha, } orchard.

باغی bágí, A. n. m. A rebel ; a traitor ; a
mutineer ; an insurgent.

بناری báf, P. par. adj. Weaving ; woven. بناری
(دی) —kinarí, n. m. a weaver of lace. بناری
zari, —, a gold lace weaver.

بافتہ báf-ta, P. adj. Woven ; n. m. a kind of silk
cloth ; a colour in pigeons.

بافرما ba-ifrá-t, P. adv. In abundance ; plenti-
fully ; copiously.

بافندہ báfinda, P. n. m. Weaver ; twister.

باقیر bágir, A. adj. Deeply learned ; abounding
in riches and science.

باقرقحانی bágarkhání, P. n. f. A kind of crisp
bread made of butter, milk and flour.

باقلا báqlá, A. n. m. A kind of bean ; pea ;
pot-herb.

باقی bágí, A. adj. Remaining ; lasting ; exist-
ing ; perpetual ; n. m. residue ; remainder ;
balance ; arrears ; outstanding ; surplus. باقی
پڑنا —parná, to fall in arrears. باقی حساب
—hisáb, balance of an account. باقیدار —dár,
n. m. one who owes a balance ; a defaulter.
باقی رہنا —rahná, v. to remain ; to be saved ;
to have balance. باقی غیر ممکن الوصول
—gair mumkin-ul-wasúl, an irrecoverable balance.
باقی فرضی —farzí, a nominal balance. باقی
میں مالگزار کی علت میں —málguzarí ki illat men,
in default of revenue. باقی ماندہ —mánda,
remaining ; residuary ; remainder. باقی
لنا —nikálná, v. to strike, or carry forward a
balance ; to subtract.

باقیات bágíyát, A. n. m. Balances ; arrears. باقیات
دایر الوصول —dáyar-ul-wasúl, balance in train of
liquidation. باقیات سنین ماضیہ —sanin-i-mázia,
outstanding balances. باقیات مشتبه الوصول
—mushtabah-ul-wasúl, arrears the recovery of
which is doubtful.

باک bák, P. n. m. Fear ; terror.

باک —bák, vák, H. n. f. Language ; locu-
tion ; speech ; word.

باکیرا bákira, A. n. f. A virgin.

باک اٹھانا bág, H. n. f. A rein ; a bridle. باک اٹھانا
—uṭháná, to give a horse the rein ; to set a
horse at full speed. باگدور —dór, a long rein
with which horses are led. باگ دھیلی کرنا
—dhili-karná ; v. to let (a horse) out ; to leave
one to himself. باگ لینا —lená, to take the
rein ; to pull up. باگ موڑنا —moṛná, v. to
turn the reins. [of honour.

باگا bágá, H. n. m. A wedding-garment ; a robe
باگہ bág, H. n. m. A tiger.

باگھن bághin, H. n. f. A tigress. [skin.

باگھمبہر bág-hambar, बाघम्बर, H. n. m. A tiger's
باگھی bágghí, H. n. f. A bubo.

بیل bil, A prep. A prefix meaning with ; by.

بیل ایتفاق bil-itifáq, adv. unanimously ; by
chance. بیل الجمال bili-jmál, adv. collectively ;
jointly ; on the whole. بیل الإرادة bil-iráda, adv.
intentionally ; deliberately. بیل التخصیص
bil-takhsís, adv. specially ; particularly. بیل
التصريح bil-tashrīḥ, adv. in detail ; expressly ;
distinctly. بیل التفصیل bil-tafṣíl, adv. explicitly ;
in detail ; at all length. بیل الجبر bil-jabr, adv.
forcibly. بیل الجملة bil-jumla, adv. in all ; on the
whole. بیل الخیر bil-khair, a. happily ; well. بیل
الذات bil-zát, naturally ; originally. بیل الضرور
bil-zarúr, adv. necessarily ; inevitably. بیل
العكس bil 'aks, adv. on the contrary. بیل
العوم bil-'umúm, adv. universally ; commonly.
بیل الفرض bil-farṣ, adv. supposing ; let it be
granted. بیل الفعل bil-f'el, adv. now ; at present.
بیل القصد —qasd, adv. intentionally. بیل
الكل bil-kul, adv. entirely. بیل المواجهة
bilmuqabila, — بالمشاهدة — mushádaha,
— musháfahah, face to face ; in the presence of.
بیل المقطع bil-muqta', adv. according to agreement ;
stipulated ; consolidated. بیل یقین —yaqin, adv.
certainly.

بال *bál*, H. *n. m.* Hair ; a child ; (in law) a minor who is distinguished as *kumár* ; a boy under 5 years of age ; *n. f.* a girl not above sixteen ; a crack in glass. بال ارستوها — *avasthá*, infancy ; childhood. بال بچھے — *bachche* ; wife and children ; family. بال بکھارنا — *bikharná*, to be in a state of perplexity. بال بردھہ — *bodh*, instruction for the young ; a very small book (of children's capacity). بال بیکنا نہ ہونا — *biká-na-honá*, not to receive the slightest injury. بال پرنہ — *parná*, to have a crack in (glass). بال ترور — *tor*, a boil or sore caused by plucking out a hair. بال چرتہ — *charitr*, juvenile sport or frolics. بال کمانی — *kamani*, *n. f.* hair spring. بال کی بھیڑ بنانا — *kí bheṛ banáná*, to exaggerate. بال کی کھال کھینچنا — *kí khál kھیچhná*, to be hypocritical. بال گوپال — *gopál*, children ; family ; disciples ; followers. بال بال — *bál*, every hair ; altogether ; entirely ; by a hair's breadth ; narrowly (*bál bál bachná*). بال ہتیا — *hatyá*, infanticide. بال ہت — *hat*, childish obstinacy.

بال *bál*, P. *n. m.* A pinion ; wing. بال نشان — *fishán*, expanding the wings. بال پر نکالنا — *par mikálna*, to be fledged ; to betray (one's) evil disposition. بال شکستہ — *shikasta*, *adj.* distressed.

بال *bál*, H. *n. f.* An ear of corn ; a crack in a glass, etc. ; the thread on which sugar is crystallized. بال دار — *dár*, cracked (vessel).

بال *balá*, P. *prep.* Aloft ; up ; above. *adv.* lofty ; exalted ; foregoing ; *n. m.* summit ; top ; upper part. بال بال — *bálá*, *adj.* apart ; stealthily ; privately. بال باتنا — *batná*, — *butta dená*, *v.* to frustrate ; to cheat ; to deceive ; to cavil. بال دست — *dast*, *adj.* higher, superior ; having the upper hand.

بال *bálá*, *S. n. f.* A girl not arrived at the age of maturity. بال بھولا — *bholá*, *adj.* child like ; innocent ; simple. بال بلی عمر — *bali 'umr*, youth ; prime of life ; *n.* an ear-ring ; a boy. بال چاند — *chánd*, the new moon.

بالا *bálá pan*, बालापन, H. *n. m.* Infancy.

بالا پوش *bálá posh*, P. *n. m.* A quilt. [balcony.

بالا خانہ *bálá kh na*, P. *n. m.* An upper room ; a

بالا نشین *bálá nashín*, P. *n. m.* Seated aloft ; *n. a* president.

بالا و پست *bálá-o-past*, P. Above and below.

بالائی *balaí*, P. *adj.* Additional ; extraordinary ; unusual ; over and above ; *n. f.* that which is on the surface ; cream. (مالائی *málái*) بالائی مزے — *maze*, *n.* secret pleasures. بالائی یافت — *yáft*, *n. f.* requisites ; pickings ; bribes.

بالٹی *báltí*, H. *n. f.* A pail or bucket.

بالچھڑ *balchhar*, H. *n. f.* A medicinal plant of sweet odour.

بالش *bálish*, P. *n. f.* Pillow ; cushion.

بالشت *bálishṭ*, P. *n. m.* A span. [adult.

بالغ *bálig*, A. *adj.* Consummate ; of age ; *n. m.*

بالک *bálak*, S. *n. m.* An infant. بالکپن *bálakpan*, *n. m.* childhood ; infancy.

بالگیر *bálgír*, P. *n. m.* Groom ; syce.

بالم *bálam*, S. *n. m.* Beloved person ; a husband. بالم کھیرا — *khírá*, a superior kind of white cucumber.

بالنا *bálná*, H. *v.* To light ; to enkindle ; to inflame.

بالو *bálu*, H. *n. f.* Sand. بالو برد — *burd*, *n. f.* arable land covered by a deposit of sand after an inundation and so ruined. بالو شاہی — *sháhi*, *n. f.* A kind of sweetmeat. بالو کی بھیڑ — *kí bhít*, *n. f.* (lit.) a wall of sand ; anything frail or decaying. [of corn.

بالی *balí*, H. *n. f.* A girl ; an ear-ring ; a spike

بالیدگی *bálidgi*, P. *n. f.* Vegetation ; development ; expansion. [a bedstead or tomb).

بالین *balín*, P. *n. f.* A pillow ; the head-side (of

بالم *bám*, (बाम), S. *n. f.* An eel ; reverse ; a foe ; a woman. بام انگ — *ang*, *n. m.* the left side. بام انگی — *angi*, wife.

بالم *bám*, P. *n. m.* An upper storey ; a balcony.

بامداد *bámdad*, *n. f.* Morning ; dawn.

باسن *báman*, बामन, (बामन), S. *n. m.* A dwarf ; a pygmy ; the fifth dwarf incarnation of Vishnu.

بامہنی *bámhni*, बाम्ही, H. *n. f.* Wife of a Brahman; a kind of lizard; a disease which causes the eye-lashes to fall off.

بان *bán*, H. *n. f.* Disposition; nature; habit; quality; *n. m.* an arrow; a rope made of *múnj*; arrow; sky-rocket; a suffix in P. signifying keeper, (e. g. بانیاں *bághbán*, gardener. دربان *darbán*, door-keeper).

بانہ *H. n. m.* Appearance; profession; uniformity; a kind of arms; a veil; the woof; dress; garment; costume. بانا بدلنا—*badalná*; *v.* to disguise; to change dress.

بانات *bánát*, H. *n. f.* Broadcloth.

بانب *bánb*, बांब, *n. f.* An eel. [ant-hole.

بانبی *bánbi*, H. *n. f.* A snake's hole; an

بانٹ *bánt*, H. *n. m.* Portion; allotment; division; a weight. بانٹ چرنت—*chunt*, share; portion; apportionment.

بانٹنا *bántná*, S. *v.* To apportion; to divide; to allot; to partake; to dispose of.

بانٹ لے کرئی کسی کا درد یہ ممکن نہیں

بارغم دنیا میں اٹھواتے نہیں مزدور سے

—(ناسخ)

Bánt le koi kisi ka dard, yih mumkin nahin
Bár-i-gam dunyá meñ uñhwañ nahin mazdúr se.

بانجر *bánjar*, बाजर, H. *n. f.* Fallow land.

بانجھ *bánjh*, बांझ, H. *adj.* Barren (woman); unproductive; sterile.

بانچنا *bánchná*, बाचना, H. *v.* To read.

بانڈ *bandh*, बांध, H. *n. m.* An embankment; imprisonment.

بانڈھنا *bándhná*, H. *v.* To bind; to tie; to fasten; to chain; to close; to embank; to fetter; to captivate; to join together (marriage); to gather; to set; to build; to construct (bridge); to impose; to levy (tax); to devise; to design; to purpose; to compose; to form; to settle. [cloth.

بانڈھن *bandhná*; H. *n. m.* A spotted or checked

بانڈی *bándi*, A. *n. f.* A female serf; a bondmaid; a maidservant. بانڈی کا بیٹا—*kí betá*, *n. m.* a submissive person.

بانور *banar*, S. *n. m.* A monkey. [of ten feet.

بانس *bás*, बांस, H. *n. m.* A bamboo; a measure

بانسا *bápsá*, H. *n. m.* The bridge of the nose.

بانسری - *bápsri*, H. *n. f.* A flute; pipe; a fife.

بانک *bánk*, S. *n. m.* Curvature; bend; crook; bend of a river; fault; depravity; offence.

بانک *bánk*, H. *n. f.* A semi-circular ornament worn on arms; a kind of dagger; a settee.

بانگا *bánká*, बाँका, S. *n. m.* A fop; a coxcomb; a bravo; a knife to cut bamboo with; *adj.* curved; foppish; arrant; sly. بانگپن *bánkpan*, *n. m.* crookedness; foppishness; smartness; gaiety.

بانگ *báng*, *n. f.* Crying out; voice; strain; summons to prayers; the crowing of a cock. بانگ دینا یا مارنا—*dená yá marná*, *v.* to crow. بانگ نماز—*namáz*, to call to prayer, by the crier, from the minarets or towers of the mosques, which is made five times a day.

بانگر *bángar*, H. *n. m.* hilly ground; highland.

بانگر *bángrú*, H. *adj.* Stupid; idiotic; rude; rough; clownish.

بانگی *bángi*, H. *n. f.* A pattern; a sample.

بانو *bánú*, P. *n. f.* Lady; a woman of rank; a gentlewoman.

بانوے *banwe*, H. *adj.* Ninety-two.

بانہ *bánh*, S. *n. f.* The arm; guarantee; surety; defender; aid; sleeve. بانہ پکڑنا—*pakañná*, *v.* to defend. بانہ توڑنا—*túñná*, *v.* to be without friends or helpers; to lose one's prop or support. بانہ دینا—*dená*, *v.* to help; to aid. بانہ چاہنا—*bánheñ chañháñá*, to get ready (for or against).

بانپ *bání*, A. *n. m.* Founder; builder; architect; composer; inventor; source; origin. بانپ کار—*kár*, A. P. Beginner; instigator; author; architect.

بانپ *bání*, बानी, (बाणी), S. *n. f.* Speech; sound; language.

باو *ba-o*, बायु, S. *n. m.* Wind; air; atmosphere; flatulence; rheumatism. باو بانڈھنا—*bándhná*, *v.* to dominate over an enemy by sophistry;

to overcome an adversary in flattery. باز —batás, *n. f.* wind disease ; influence of an evil spirit. باز بندی —*n. f.* sophistry. باز کے گھوڑے پر —súl, *n. m.* the colic. باز سوار ہونا —ke ghoré par sawár honá, be puffed up ; to be conceited. باز گولا —golá, *n. m.* the colic ; windiness ; acute gout ; flatulency.

بازار báwar, *P. n. m.* Faith ; confidence ; belief ; trust ; *adj.* true ; credible ; trustworthy.

بازرچی báwarchí, *T. n. m.* A cook. خانہ بازرچی —khána, *n. m.* kitchen ; a cookhouse.

بازوال báwalá, or báolá, *S. adj.* Mad ; insane ; crazy.

بارلی báolí, *H. n. f.* A large masonry well into which persons descend by steps to get water ; a trick ; a mad woman.

بارون báwan, *H. adj.* Fifty-two.

بارنا báwaná, *H. adj.* Dwarfish.

بہا báhá, *H. n. m.* A water-course.

بہار báhar, *H. adv.* Out ; outside ; abroad ; externally ; beyond ; exceeding ; away ; *adj.* foreign. باہر بھرتا —bhitár, ingress and egress ; in and out ; within and without. باہر سے —se, externally ; seemingly. باہر کرنا یا نکلانا —karná yá nikálná, *v. i.* to exclude ; to eliminate ; to strike out ; to emit ; to turn out ; to dismiss ; to oust ; to eject. باہر لے جانا —le jáná, to take abroad ; to export. باہر نکلنا —nikálná, to come out of ; to go about in public ; to withdraw (from). باہر ہونا —honá, to be excluded from ; to disregard ; to be beyond the influence. باہر ہونا kahne se—honá, not to agree. کسی بات سے باہر نہ ہونا kisé bát se—na honá, to agree to everything.

بہار báhir, *A. adj.* Eminent ; excelling ; manifest.

بہاری báhari, *H. adj.* External ; foreign *n. m.* Outsider ; stranger.

بہام báham, *P. adv.* Together ; reciprocally ; mutually.

بہان báhan, बाहन, (*वाहन*), *S. n. m.* A conveyance ; a vehicle ; an animal for riding ; land prepared for cultivation.

بہانا báhná, *H. v.* To plough ; to till.

بہو báhu, बाहु, *S. n. m.* An arm.

بائی báí, *H. n. f.* Mistress ; dame ; lady ; woman ; wife ; dancing girl ; harlot.

بائی báí, *H. n. f.* Wind ; air ; windiness ; rheumatism. بائی پچھنا —pachná ; To be mortified, to be depressed.

بایاں báyañ, *S. adj.* Left ; *n. m.* the bass sound (particularly of طباقہ - and دھولک which are played on with the left hand).

بیرنگ báe birang, बायबिरंग, *H. n. m.* A medical seed, *Embelia ribes* employed to remove flatulency or rheumatism.

باید باید báyad sháyad, *P.* As it should be.

بایستا báyista, *P. adj.* Necessary ; requisite.

بایع báya', *P. n. m.* A seller ; a vendor ; a merchant.

بائیس báís, *H. adj.* Twenty-two.

بائیسی báísí, *H. n. f.* The royal army ; a command of 22,000 troops.

بیاد bibád, (बिवाद), *S. n. m.* Contest ; quarrel ; altercation ; debate ; law-suit.

بیادی bibadí, *S. n. m.* A disputant ; a debater ; a plaintiff or defendant.

بیاد bibáh, बिवाह, (बिवाह), *S. n. m.* Marriage.

ببر babar, *P. n. m.* A lion ; a tiger.

ببرا babuwá, *H. n. m.* Boy (a term of endearment ; clay effigy of a boy).

ببرل babúl, *S. n. f.* The acacia tree. ببرل کے پیر —ke per boná, to do something conducive to harm, to a bad end.

ببرل babúlá, *H. n. m.* Whirlwind (*bagúlá*).

بیبک bibek, *H. n. m.* Discretion ; judgment ; wisdom ; sense.

بپتسمہ baptisma, बपतिस्मा, *H. n. m.* The Christian rite of baptism. [distress.]

بپت bipat, *H. n. f.* Adversity ; misfortune ;

بپر bipr, ब्रिप, *H. n. m.* A Brahmin ; a priest.

بپریت biprit, बिपरीत, *H. adj.* Hostile ; antagonistic ; opposite ; informal ; *n. m.* disaffection ; hostility ; enmity.

بپاؤتی bapautí, H. *adj.* and *n. f.* Patrimonial ; hereditary ; paternal estate ; ancestral property.

بہارا baphará, H. *n. m.* Vapour ; vapour bath.

بٹ bit, (بیٹا), S. *n. m.* Wealth ; substance ; ability ; means.

بٹ but, P. *n. m.* An idol ; a statue ; a mistress ; an object of love ; *adj.* speechless ; dumb ; stupefied. بٹ بننا—banná, to turn into a statue ; to become rigid and speechless as a statue. بٹ پرست—parast, *n. m.* an idolator ; a worshipper of images. بٹ پرستی—parastí, *n. f.* idol-worship ; idolatry. - بٹ تراش—tarásh, *n. m.* a sculptor ; a carver of images. بٹ تراشی—tarashí, *n. f.* sculpture ; statuary ; iconography. بٹخانہ—khána, *a. m.* an idol-temple. بٹگدہ—kadah, P. *n. m.* a pagoda ; idol-temple. بٹ شکن—shikan, P. *n. m.* an iconoclast ; an image-breaker.

بٹا bittá, بیٹا, H. *n. m.* A span.

بٹا buttá, بٹا, H. *n. m.* Pretext ; shuffling ; fraud ; trick. بٹا دینا—dená, *v.* to overreach ; to defraud ; to evade.

بٹاس batás, H. *n. f.* Wind ; air. بٹاس پھینی—phení, a kind of sweetmeat ; sugar-cakes

بٹاسا batásá, } H. *n. m.* A kind of sweet-
بٹاشا batáshá } meat ; a bubble ; a kind
of firework (a small anár) بٹاشا سا گھلنا—sá
ghulná, to fade rapidly away ; to become a
shadow.

بٹانا bitáná, H. *v.* To pass.

بٹانا batáná, H. *v.* To point out ; to indicate ; to signify ; to explain ; to describe ; to teach ; to tell ; to appear ; to gesticulate.

بٹانا butáná, H. *v.* To extinguish ; to put out.

بٹام butám, H. *n. m.* Button.

بٹاوی نیبڑ batáwí nibú, H. *n. m.* The shaddock, or pumelo ; *Citrus decumano* (Chakotrá).

بٹادریج batadrij, P. A. *adv.* By degrees ; gradually.

بٹار batar, P. *adj.* Very bad ; worse.

بٹایانا batyaná, batráná, H. *v.* To talk ; to converse ; to speak.

بٹرایا bitráná, H. *v.* To bespatter ; to asperse ; to denounce.

بٹک batak, H. *n. f.* Duck.

بٹکی - بکھی bakki, بٹکی, batakkar, بٹکھار, H. Garrulous ; great talker.

بٹکھار bat-kaháo, } H. *n. m.* H. *n. f.* Loquacity ;
بٹکھی bat-kahí, } discourse ; dialogue.

بٹلانا batláná, H. *v.* To talk with ; to converse ; to point out ; to denote ; to express ; to instruct ; to expound ; to impart.

بٹوری bataurí, H. *n. f.* An œdematous or flutulent swelling ; a boil ; a tumour.

بٹول batúl, A. *n. f.* A virgin ; a chaste woman devoted to God (usually applied to the virgin Mary and to Fatimah).

بٹولا batolá, H. *n. m.* Duping ; overreaching.

بٹولی batolí, H. *n. f.* Buffoonery.

بٹھارنا bithárná, H. *v.* To cause to scatter ; to cause to sprinkle.

بٹی battí, بٹی, H. *n. f.* A candle ; a stick (of wax) ; a wick. بٹی چڑھانا—chaháná, to put a candle in the candlestick ; to raise the wick. بٹی دکھانا—dikháná, to show a light.

بٹیا batiyá, H. *n. f.* Green and unripe fruit or vegetable ; *adj.* unripe ; soft ; tender ; delicate.

بٹیس battís, بٹیس, H. *adj.* Thirty-two. بٹیس آبهون—ábharan, H. *n. m.* The 32 jewels worn by women. بٹیس دانت کی بھاکھا—dánt ki bhákhá, a course. بٹیس دھارا—dhará, mother's milk which is supposed to flow in 32 streams.

بٹیسá battisá, H. *n. m.* A tonic composed of 32 ingredients given to women after childbirth.

بٹیسہ battisí, H. *n. f.* A set of teeth ; any collection composing of thirty-two parts. بٹیسہ دکھانا—dikháná, *v.* to show the teeth ; to laugh ; to mock. [tree.

بٹ bat, S. *n. f.* The Indian fig tree ; a banyan

بٹ bat, S. *n. m.* Twin ; twist ; wrinkle on the belly ; stripe ; a measure of weight (as, batkhara) ; road (contr. of bát). بٹ مار batmár, highwayman ; robber.

بتا *batṭa* } *बट्टा* } H. *n. m.* Deficiency ; ex-
 بتا *batṭa* } change ; discount ; defect ;
 blemish ; a ball of wood or stone ; betel-box ;
 a casket. بتا لگنا—*lagná*, loss of reputation,
 etc. ; to accrue loss ; to be stained. بتا ڈھال—
dhál, *adj.* complete destruction. بتا لگنا—
lagáná, to defame ; to stigmatize. بتے پر
batṭe par, at a discount. بتا کھاتا—*kháta*,
 irrecoverable balance ; losing in the bargain.
 بتے بتے *batṭe báz*, *n. m.* a juggler.

بتائی *batáí*, H. *n. f.* Wages paid for twisting
 ropes, etc. ; division of the crop between the
 cultivator and the zamindar.

بت پار *bat pár*, H. *n. m.* A robber ; cut-throat.

بتاوهی *batlohi*, H. *n. f.* A brass utensil for
 dressing food.

بتا *batná*, H. *v.* To twist ; to apportion ; to
 distribute ; to make money by ; to be divided.

بتنا *butná*, H. *n. m.* Cosmetic.

بتوا *batuá*, H. *n. m.* A purse ; a monkey bag ;
 a brass utensil for dressing food.

بتوانا *bitwá*, *bitauná*, H. *n. m.* A son.

بتوار *but-wár*, H. *n. m.* A tax-collector.

بتوارا *batwára*, H. *n. m.* Partition ; division of
 an estate ; share. [to be apportioned.

بتوانا *batwána*, H. *v.* To cause to twist ; to cause

بتورنا *batorná*, H. *v.* To accumulate ; to heap
 up ; to sweep ; to bring together ; to assemble.

بتوہی *batohi*, S. *n. m.* A wayfarer ; a pas-
 senger ; a traveller.

بتھانا *biṭháná*, } H. *v.* To cause to sit down ;
 بتھلانا *biṭhláná*, } to cause to enter (a boy in

school) ; to thrust in ; to fix firmly ; to plant ;
 to cause to congeal ; to locate ; to station ; to

instal ; to set up ; to set over (a watch) ; to
 impress (on the mind) ; to strike terror (in

mind) ; to adjust ; to cause to be convened
 (a pancháyat, &c.) ; to raze ; to knock down

(with a blow). بتھا رکھنا *biṭhá rakhná*, to keep
 (a marriageable daughter) at home ; to set (a

stone in a ring, &c.) ; to settle ; to seat.
 بتی *bityá*, H. *n. f.* A daughter.

بتیر *batér*, H. *n. f.* Quail.

بجا *bajā*, P. *adj.* In place ; fit ; right ; proper ;

true ; accurate ; suitable. بجا لانا—*láná*, *v.* to
 perform ; to execute ; to comply with ; to obey.
 بجاے *bajáe*, P. *adj.* Instead of ; in place of ;
 in lieu of.

بجانا *bajāná*, H. *v.* To sound ; to play on
 musical instrument. [ferment ; to putrefy.

بجبانا *bajbajāná*, H. *v. i.* To effervesce ; to

بجبر *bajabr*, P. A. *adj.* By force or violence ;
 forcibly. [importunate.

بجد *bajid*, H. *adj.* In earnest ; persistent ;

بجر *bajr*, *बज्र*, H. *adj.* Hard ; weighty ; *n. m.* a
 thunderbolt ; a diamond. بجرنگ *bajrang* ;

A title of Hanúmán ; a robust ; a hardy man.
 بجر پترو—*batṭú*, the umbrella-bearing palm.

بجر پڑنا *painá*, to be struck by lightning.

بجر *bajrá*, H. *n. m.* A pleasure-boat.

بجر *bajra*, H. *n. m.* Millet ; kind of grain ;
holcus spicatus.

بجری *bajrí*, H. *n. f.* Gravel ; small hailstone.

بجز *bajuz*, P. *prep.* Besides ; except ; without.

بجلی *bijlí*, *बिजली*, H. *n. f.* A thunderbolt ; light-
 ning ; a sort of ear-ring ; the kernel of a

mango seed. بجلی کی کڑک *ki karak*, *n. f.*
 thunder-clap.

بجنا *bajná*, H. *v.* To sound ; to strike (as a
 clock) ; to be played upon (music) ; to be

rung (as a bell) ; to chatter (as teeth) ; to be
 called by name ; to be famous.

بجینسیہ *bajinsihí*, P. *adj.* Identical ; the very
 same. *adv.* exactly ; precisely.

بجوانا *bajwáná*, H. *v.* To cause to sound ; to
 cause to play on a musical instrument.

بجوج *bijog*, *बिजोग*, H. *n. m.* Parting ; absence
 (specially of lovers) ; separation.

بجج *bijjú*, *बिज्जू*, H. *n. m.* An animal that digs
 open graves and feeds on dead bodies ; the

Indian badger ; a hyena ; (*met.*) a small-eyed
 person.

بجھانا *bujháná*, H. *v.* To extinguish ; to satiate ;
 to slake (lime) ; to damp ; to temper the
 steel ; to disinfect water ; to smother anger ;
 to repress ; to soothe. پیاس بجنا *piyas*—
v. to quench the thirst.

بجھانا bujháná, *دومنانا*, S. *v.* To expound ; to demonstrate ; to cause to comprehend ; to persuade ; to instruct ; to teach ; to explain.

بجھول بچھوہ bujhbujhauwal, *دومبولبول*, H. *n. m.* Riddle ; enigma ; game of riddles.

بجھت bajihat, P. A. *prep.* On account of ; because of ; for the sake of.

بجھانا bijháná, *دیکھانا*, H. *v.* To waylay ; to decoy ; to entrap.

بجھکانا bijhkáná, *دیکھکانا*, H. *v.* To frighten ; to terrify ; to alarm.

بجھکانا bijhakná, H. *v.* To be frightened ; to be terrified ; slaked ; to be damped [trapped.

بجھنا bajhná, H. *v.* To be waylaid ; to be en-

بجھول bujhal, *دوبول*, H. *adj.* Laden ; charged ; *n. m.* a beast of burden.

بجھئے bijai, *دیکھئے*, S. *n. m.* Triumph ; exultation ; victory ; conquest. *دسمی*—dasmí, the tenth of *Asin Shukl paksh* ; the anniversary day of Ram's victory over Ravan.

بچا bachá, *بچا*, H. *n. m.* A child ; the young of any animal.

بچار bichár, *دیکھار*, S. *n. m.* Consideration ; will ; thought.

بچارنا bichárná, S. *v.* To reflect ; to investigate ; to comprehend ; to judge ; to think.

بچارا bichára, P. *adj.* Helpless ; forlorn ; destitute ; a poor creature ; a poor wretch.

بچالی bichalí, H. *n. f.* Straw.

بچانا bacháná, H. *v.* To save ; to protect ; to spare ; to defend ; to guard ; to avoid ; to save ; to reserve. *بچانا*—jáná, to keep clear of ; to escape ; to get off scotfree.

بچا لانا—láná, to carry off safe ; to secure. *بچا لانا* bacháo nikálná, to contrive to escape.

بچاؤ bacháo, H. *n. m.* Defence ; safety ; preservation ; salvation ; plea ; rescue ; escape ; evasion.

بچپن bach-pan, P. *n. m.* Infancy ; babyhood ; childhood. [profit ; residue ; remainder.

بچھت bachhat, H. Savings ; surplus ; gain ;

بچھتر bichitra, *دیکھتر*, H. *adj.* Variegated ; diversified ; various ; wonderful ; marvellous.

بجھکانا bichkáná, H. *v.* To alarm ; to frighten ; to balk ; to disappoint. [a dancing boy.

بجھکانا bachkaná, H. *n. m.* A pair of child shoes ;

بجھکانا bichakná, H. *v.* To be alarmed ; to be disappointed ; to sprain ; to retreat ; to withdraw a consent which has been given ; to be startled. [puerile.

بجھگانا bach-gina, P. *adj.* Suitable for children ;

بجھگی bachchagí, P. *n. f.* Infancy ; babyhood.

بجھلا bichlá ; H. *adj.* Intermediate ; middling.

بجھلنا bichalná, S. *v.* To slip ; to move out of place ; to get out of temper.

بچن bachan, S. *n. m.* Speech ; word ; conversation ; saying ; precept ; expression ; promise ; pledge ; pact. *بچن بند کرنا*—band karná, *v.* to impose an obligation ; to bind by a promise.

بچن بند ہونا—band honá, to give one's word.

بچن پالنا—pálná, *v.* to make good one's word ; to abide by a promise. *بچن پتر*—patr, *دیکھپتر*, *n.* agreement ; deeds ; bond ; covenant.

بچن تورنا—torná, *v.* to go from one's word or promise. *بچن دینا*—dená, *v.* to agree, to pledge.

بچن ڈالنا—dálná, to question ; to enquire ; to request, apply or sue. *بچن لینا*—lená, *v.* to obtain a promise ; to take a covenant (from).

بچن ماننا—mánná, *v.* to submit ; to comply.

بچن ہارنا—hárná, *v.* to agree ; to pledge one's word ; to affirm ; to promise.

بچنا bachná, H. *v.* To be saved ; to avoid ; to remain unexpended ; to recover ; to survive.

بچ نکالنا bach nikálna, to get clear away ; to escape in safety.

بچروانی bichwani, H. *n. m.* An interposer ; a mediator ; an arbitrator ; an agent.

بچریت bichwait, *دیکھریت*, H. *n. m.* One who intermeddles ; ambassador ; broker.

بچھہ bachcha, P. *n. m.* A child ; an infant ; a babe ; the young of any creature ; a young plant ; a sapling. *بچھہ* bachchon

ká sá, adj. chilike ; infantile ; puerile. *بچھہ کھیل* bachchon ka khel, *n. m.* mere child's play ; mere trifle ; easy matter. *بچھہ کشی*

bachche kashí, *n. f.* child bearing ; pregnancy.

بچھہ کشی bachche kushí, *n. f.* infanticide.

بجھانا bichháná, H. *v.* To spread ; to extend ; to strew ; to knock down ; to fell ; to lay.

بجھرا bachhrá, } H. *n. m.* A calf.
بجھرا bachhrá, }

بجھرانا bichhráná, बिछराना, H. *v.* To cause to be separated ; to part.

بجھرانا bichharná, H. *v.* To be separated or parted. [to sprain.

بجھلنا bichhálná, H. *v.* To separate ; to slide ;

بجھنا bichhná, H. *v.* To be spread.

بجھھو bichchhú, बिच्छू, H. *n. m.* A scorpion ; a kind of firework.

بجھھو bichhhuá, बिछुआ, H. *n. m.* A sort of dagger ; an iron claw or hook ; an ornament worn on the toes by women.

بجھھوانا bichhwaná, H. *v.* To cause to spread.

بجھھوانا bichhanná, बिछौना, H. *n. m.* Bedclothes ; bed ; carpet.

بجھھیا bachhiyá, H. *n. f.* A female calf ; calf.

بجھھیا bichhiyá, बिछिया, H. *n. f.* Ornament worn on the toe.

بجھھرا bachheerá, H. *n. m.* A colt.

بجھھری bachherí, H. *n. f.* A foal ; a filly.

بجھار bahár, A. *n. m.* (*Plu. of* بحر Bahr) Seas ; bays ; gulfs.

بجھال bahál, P. A. *adj.* In the usual state ; *in statu quo* ; flourishing ; refreshed ; reinstated ; restored (to health) ; blest. بجھال کرنا — karná, *v.* to re-establish ; to reinstate ; to replace ; to restore ; to refresh.

بجھالی bahálí, P. A. *n. f.* Prosperity ; reinstatement ; maintenance ; confirmation ; recovery.

بجھس bahs, A. *n. f.* Argument ; discussions ; debate ; dispute ; question. بجھس کرنا — karná, bahsná, *v.* to argue ; to discuss ; to raise a question ; to dispute.

بجھدے ba hadde, P. *adv.* To such a degree ; to such an extent.

بجھر bahr, A. *n. m.* Sea ; an ocean ; a bay ; *n. f.* metre ; verse ; a fleet.

بجھر عالم میں ہے آفت لازم اہل کمال
گرتے کا خوف ہے طمرہ جو گوہر ہو گیا
(اسیر)

Bahr-i-álam meḡ hai áfat lázím-i-ahl-i-kamal, Tútne ká khauf hai qatra jo gauhar ho gaya.

بجھر ابیض bahr-i-abyaz, The white Sea.

بجھر احمر } bahr-i-ahmar, }
بجھر قلزم } bahr-i-qulzum, } The Red Sea.

بجھر اخضر bahr-i-akhzar, The Caspian Sea.

بجھر اسود bahr-i-aswad, The Black Sea.

بجھر الکاحل bahr-i-alkahil, The Pacific Ocean.

بجھر اوقیانوس bahr-i-uqyanús, The Atlantic Ocean.

بجھر روم bahr-i-rúm, The Grecian or The Mediterranean Sea.

بجھر فارس bahr-i-fáras, The Persian Gulf.

بجھر محیط bahr-i-mohit, The sea of China.

بجھر ہند bahr-i-hind, The Indian Ocean.

بجھری bahrí, A. *adj.* Maritime ; naval ; marine.

بجھساب bahisáb, P. *adv.* With the computation ; with a proper account ; at the rate of.

بجھسب bahasb, P. *adv.* According to ; in the proportion ; in such a way that.

بجھق bahaq, P. A. *adv.* In the matter of ; *in re* ; in the case of ; on account of.

بجھکم ba hukm, P. *prep.* By command ; by authority ; under the orders of.

بجھیرہ bahíra, A. *n. m.* A small sea ; a lake.

بجھیشیت bahaisiyat, A. *adj.* In the capacity of ; as.

بجھ بخھار bukhár, A. *n. m.* Steam ; vapour ; glowing heat ; fever ; rage. بجھار آنا — áná, *v.* to get fever ; to suffer from fever. بجھار دل میں رکھنا — dil meḡ rakhná, *v.* to cherish wrath and malice in the heart. بجھار نکالنا — níkalná, *v.* to be appeased (anger) ; grief to be assuaged ; steam to be let off ; heat to find vent or to break out.

بجھت bakhht, P. *n. m.* Fortune ; fate ; lot ; success ; happiness. بجھت آزمائی — ázmái, *n. f.* trial ; fortune ; hazard ; venture.

بجھت بازی — bází, *n. f.* trying one's luck ; chance. بجھت بلی — balí, *adj.* lucky ; fortunate.

بجھت سیاہ — siyáh, *n. m.* misfortune. بجھت تیرہ — tíra, *n. m.* misfortune.

بجھت کھفتہ — khufta, one whose fortune is asleep ; unfortunate person.

بختاور *bakhtáwar*, } P. *adj.* Fortunate ; lucky.
بختیار *bakhtiyár*, }

بغرا *bakhrá*, H. *n. m.* Share ; part ; allotment ; dividend.

بخش *bakhs*, P. *adj.* Giving ; granting ; bestowing ; forgiving ; *n.* giver ; bestower , forgiver ; (used in compos.) as ثمر بخش *samar*—, fruit giving. تاج بخش *táj*—, giver of crown. بخش گناه *gunáh*—, forgiver of sins. بخش دینا *dená*, *v.* to bestow ; to grant ; to forgive.

بخشان *bakhsáná*, P. *v.* To cause to bestow ; to procure pardon for another ; to save ; to absolve ; to redeem.

بخشش *bakhsish*, P. *n. f.* Gift ; donation ; grant ; reward ; beneficence ; pardon ; generosity. بخشش دینا *dená*, *v.* to bestow ; to grant ; to reward. بخشش نامه *nama*, a deed-of-gift.

بخشنا *bakhsná*, P. *v.* To bestow ; to grant ; to excuse.

بخشنده *bakhsinda*, P. *n. m.* Giver ; bestower.

بخشی *bakhsí*, P. *n. m.* A paymaster ; a commander-in-chief. بخشی خانه *khána*, *n. m.* the pay-office ; the general's office.

بخل *bukhl*, A. *n. m.* Avarice ; stinginess ; frugality.

بخوبی *bakhubí*, P. *adv.* Well ; in good manner ; thoroughly ; completely ; in perfection.

بخود *bakhud*, P. *adv.* By self ; of self ; voluntarily. بخود آنا *áná*, to recover one's senses.

بخور *bakhúr*, A. *n. m.* Frankincense ; perfume ; odour.

بخیر *bakhair*, A. P. *adv.* With good ; well in peace and safety ; all right.

بخیل *bakhlí*, A. *n. m.* A miser ; a niggard ; a churl ; *adj.* stingy ; avaricious.

بخیلی *bakhlí*, A. *n. f.* Parsimony ; niggardliness ; avarice.

بخیه *bakhiá*, P. *n. f.* A strong quilting ; stitching very thick and strong ; basting ; tacking.

بد *bad*, P. *adj.* Bad ; wicked ; evil ; naughty ; mischievous (much used in the formation of compounds). بد اختر *akhtar*, *adj.* ill-starred ; unfortunate ; unlucky. بد اخلاق *akhláq*,

adj. of bad habits ; ill-mannered ; rude ; immoral. بد اسلوب *aslúb*, *adj.* ill-shaped ; ill-made ; inelegant. بد اصل *asl*, *adj.* low-born ; baseborn ; vulgar. بد اطوار *atwár*, *adj.* ill-mannered ; of evil ways ; following evil course. بد اعمالی *a'máli*, *n. f.* misdeeds ; immorality. بد افعالی *af'áli*, misdeeds. بد انتظامی *intizámí*, *n. f.* mismanagement ; maladministration ; misrule. بد اندیش *án-desh*, *adj.* evil-minded ; malicious ; inimical. بد آئین *áin*, *adj.* ill-mannered ; irreligious ; perverse. بد باطن *bátin*, *adj.* evil-minded ; malicious ; false-hearted. بد بخت *bakht*, *adj.* unfortunate ; wretched. بد بختی *bakhti*, *adj.* misfortune ; adversity. بد بو *bú*, *n. f.* bad smell ; stink. بد بوی *parhez*, *adj.* intemperate ; sensual. بدتر *tar*, *adj.* worse ; inferior. بد حال *chál*, *adj.* unmannerly ; impolite. بد چالنی *chalní*, misconduct ; malpractices ; misdemeanour. بدحواس *hawás*, *adj.* senseless ; stunned ; in consternation. بدخصل *khaslat*, *khisál*, *adj.* ill-natured ; bad in disposition. بد خط *khat*, *n. m.* one who writes a bad hand ; an illegible writing. بد خو *khú*, *adj.* of bad habits. بد خواد *khwáb*, *adj.* malevolent ; malicious ; wishing evil ; *n. m.* ill-wisher. بد خوراهی *khwahí*, *n. f.* ill-will ; malevolence ; enmity. بد دعا *du'á*, *n. f.* imprecation ; a curse. بد دل *dil*, evil-minded ; dubious ; doubting. بد دماغ *dimág*, *adj.* malcontent ; dissatisfied ; displeased ; evil-minded ; proud. بد دیانت *diyánat*, *adj.* faithless ; dishonest. بد ذول *ḍaul*, *adj.* awkward ; clumsy ; ill-shaped. بد ذات *zát*, *adj.* baseborn ; ill-bred ; unprincipled ; wicked ; evil-minded. بد ذاتی *zátí*, *n. f.* wickedness ; baseness ; vileness ; meanness. بد ذهن *zihan*, *adj.* slow ; stupid ; obtuse ; blunt. بد درای *ráh*, *adj.* wicked ; sinful. بد رکاب *rakáb*, *adj.* ill-paced ; difficult to ride (a horse). بد رنگ *rang*, *adj.* discoloured ; dull ; faded. بد رو *rú*, *adj.* ill-faced. بد زبان *zubán*, *adj.* indecent (speaker) ; abusive ; *n. f.* indecent or foul language ; abuse ; بد زبانی *zabaní*, *n. f.* abuse. بد زیب *zeb*, *adj.* ugly ; graceless. بد ساعت *sá'at*, *n. f.*

an unhappy moment or unfortunate occasion. بد سرشت—sirisht; *adj.* ill-disposed; ill-natured. بد سارکي—salúki, *n. f.* misbehaviour; maltreatment. بد سيرت—sirát, *adj.* ill-tempered, ill-natured. بد شكل—shakl, *adj.* ill-looking; ill-shaped. بد شگونى—shugúní, *n. f.* bad omen. بد صورت—súrat, *adj.* ill-looking. بد مينت—tínat, *adj.* malevolent; iniquitous. بد ظن—zan, *adj.* suspicious. بد عهد—'ahd, *adj.* faithless; treacherous. بد عهدى—'ahdí, *n. f.* faithlessness; treachery; breach of promise. بد افعال—af'ál, *n. m.* wicked deeds; misdeeds. بد كردار—kár, —kirdár, *n. m.* evil worker; malefactor; *adj.* sinful; wicked. بد گمان—gumán, *adj.* suspicious; disaffected; diffident. بد گمانى—gumáni, *v. f.* suspicion; diffidence; disaffection. بد گو—go, *n. m.* evil-speaker; calumniator. بد گهر—guhar, *adj.* of bad origin; unprincipled. بد لفاظ—lihaz, *adj.* disrespectful; impudent; indecent; immodest; shameless. بد لگام—lagám, *adj.* hard mouthed (a horse); wilful; uncontrollable. بد مزاج—mizáj, *adj.* ill-natured. بد مزاجى—mizáji, *n. f.* ill-temper. بد مزگي—mazagi, *n. f.* tastelessness; coolness between friends. بد مزه—maza, *adj.* unsavoury; ill-flavoured; insipid; tasteless. بد مست—must, *adj.* inebriated; dead drunk; sottish; tippled; lustful; lewd. بد معاش—m'ash, *adj.* of an infamous profession; immoral; of bad livelihood; rascal; *n. m.* a notoriously bad character. بد معامله—mu'amila, *adj.* unfair in dealing; fraudulent. بد معاملگي—mu'amalagi, *n. m.* unfair dealing. بد مهرى—mehri, *n. f.* disobligingness; unfriendliness. بد نام—nám, *adj.* notorious; ignominious; disaffected; disreputable. بد نام كرنا—nám karná, *v.* to asperse; to vilify; to defame. بد نامى—námí, *n. f.* infamy; ignominy; a scandal. بد نسل—nasl, *adj.* of a bad origin or race; *n. m.* a bastard. بد نصيب—nasib, *adj.* unlucky; luckless. بد نمود—namúd—numá, *adj.* ill-looking; ugly; ungraceful; clumsy; unbecoming. بد نصائى—numái, *n. f.* deformity; inelegance; clumsiness. بد نهاد—nihád, *adj.* ill-natured; ill intentioned. بد

نهادى—nihádi, *n. f.* ill-temper; badness of disposition. بد نيت—niyat *adj.* ill-intentioned; ill-disposed; malignant. بد نيتى—niyati, *n. f.* malignity; malafide, ill-will; malice; badness of intention or faith. بد نيتى سے—niyatí se, *adv.* in bad faith; mala fide. بد وضع—waza', *adj.* evil-disposed; ill-shaped. بد وضعى—waz'ái, *n. f.* evil disposition; ill-shapedness. بد هيات—haiat, *adj.* ill-made; inelegant. بد هضمى—hazmí, *n. m.* indigestion. بد يمن—yamn, *adj.* inauspicious; ill-omened.

بد bad, *H. n. f.* A bubo; a syphilitic or pestilential swelling of the glands.

بدا bidá, *H. n. f.* Dismissal; taking leave; adieu. بدا كرنا—karná, *v.* to bid adieu; to send away.

بدا bad, *H. adj.* Ordained; decreed; predestined. بدا بدى badi, *H. n. f.* Emulation; revelry; pledge.

بداج badáya', *A. n. m. (Plu. of بدى Badí'a)* Rarities or wonders; curiosities.

بد بد bud bud, *S. n. m.* Bubble.

بد بدانا budbudáni, बुदबुदाना, *H. v. i.* To mutter; to murmur; to grumble.

بدت bidit, बिदित, *H. adj.* Known; familiar; famous; renowned.

بدتر bad-tar, *P. adj.* Worse.

بدكشای badakhshán, *P. prop. n. m.* Name of a country, near the source of the Oxus famous for its rubies.

بدر badr, *A. n. m.* The full moon.

بدر badar, *P. adv.* Out; outside. بدر نكالتا—nikálná, *v.* to show a balance due; to debit.

بدرجه badarja, *P. A. adj.* More to a degree; ever so much; greatly.

بدر رر badar-rau, *P. n. f.* A drain; a sewer; outlet for water. بدر رر عام—i'am, *n. f.* public sewer. بدر رر نكالتا—nikálná, to make a drain. بدر كرنا badar karná, to turn out; to expel; to eject; to banish.

بدرقه badraqa, *A. n. m.* A guide; an escort; a fellow traveller.

بدستور badastúr, P. *adv.* As usual ; customarily ; according to rule or practice.

بدعت bid'at, A. *n. f.* Novelty in religion ; change ; schism ; violence ; tyranny ; oppression ; an innovation.

بدقت badiqqat, P. *adv.* With difficulty.

بدل badal, A. *n. m.* Exchange ; communication ; alteration. بدل لینا—lená, *v.* to exchange ; to take in change.

بدل badil, P. *adv.* Heartily ; in heart. بدل جان—o-ján, with heart and soul.

بدلا badlá, बदला, H. *n. m.* Exchange ; lieu ; compensation ; revenge ; retaliation ; alteration. بدلا لینا—lená, *v.* to charge ; retaliate ; to revenge. بدلا دینا—dená, to requite ; to compensate ; to indemnify.

بدلای badlá, H. *n. f.* Price of exchange ; barter ; something given in exchange.

بدلتا badalná, H. *v.* To change ; to exchange ; to alter ; to vary ; to assume another form ; to shift ; to turn round ; to be transferred ; to disguise ; to transplant ; to shuffle.

بدلی badlí, बदली, H. *n. f.* Cloudiness.

بدلی badlí, H. *n. f.* Transfer ; substitution ; change of guards.

بدن بدن, H. *n. m.* The body. بدن پهل جانا—phal jáná, *v.* to have pustules all over the body. بدن تورتنا—túrtná, to suffer racking pains in the body. [nate ; to acknowledge.

بدنا badná, H. *v.* To bet ; to wager ; to predestinate.

بدوان bidwán, دیدان, S. *adj.* Learned.

بدولت badaulat, P. *adv.* By the fortune ; by the means ; with fortune ; by the help of.

بدون bidún, A. *prep.* Except ; without ; besides.

بدھ bidhi, विधि, S. *n. f.* A holy maxim ; order ; law ; injunction ; formula ; precept.

بدھ buddhi, बुद्धि, S. *n. f.* Sense ; wisdom ; intellect ; direction. بدھ بپریت—biprít, contrary to reason. بدھ شکتی—shaktí, intellectual faculty. بدھ هین—hín, devoid of intellect.

بدھ budh, बुध, S. *n. m.* A wise or learned man ; Meroury, Wednesday.

بدھ badh, (बध), S. *n. m.* Slaughter ; butchering ; killing ; slaying. بدھ ذنڈ—đand, दरड, capital punishment. بدھ ستھان—sthán, स्थान, place of execution ; slaughter-house.

بدھاتا bidhátá, विधाता, H. *n. m.* God ; destiny ; Creator ; Providence.

بدھارا badháwá, बधावा, H. *n. m.* A congratulatory song ; gifts and presents given at the occasions of child-birth and marriage.

بدھائی badháí, H. *n. f.* Increase ; growth ; congratulations on the birth of a child.

بدھک badhik, बधिक, S. *n. m.* A fowler ; a hunter ; a slayer.

بدھمان buddhimán, बुद्धिमान, S. *adj.* Intelligent ; sagacious ; wise ; intellectual ; learned.

بدھنا badhná, H. *v.* To kill ; to slaughter.

بدھنا badhná, H. *n. m.* An ewer.

بدھना bidhná, विधना, H. *n. m.* God ; Creator ; Arranger ; Disposer.

بدھرا bidhawa, विधवा, S. *n. f.* A widow.

بدھیا badhiyá, बधिया, H. *f.* A bullock ; gelded animal ; any castrated animal.

بدی badí, बदी, H. *n. f.* The dark half of the lunar month ; the wane of the moon.

بدی badí, P. *n. f.* Evil ; ill ; misfortune. بدی پر آنا یا مائل ہونا—par áná yá máil honá, to be bent on mischief. بدی کرنا—karná, to do wrong or harm ; to speak ill of ; to backbite.

بدیا bidyá, (बिद्या), S. *n. f.* Learning ; science ; knowledge ; intellect ; skill ; art. بدیارتھی—rathí, *n. m.* a student. بدیایک—lay, *n. m.* school ; college. بدیوان—wán, *adj.* learned ; scientific ; skilled ; *n.* a scholar.

بدیس bides, बिदेस, (विदेश), H. *n. m.* Abroad ; a foreign country ; a foreign land. بدیس بدیس, H. *adj.* of another country ; foreign ; *n. m.* strange.

بدیع badi', A. *adj.* Novel ; curious ; extraordinary ; strange. بدیع الجمال—ul-jamál, of rare or wonderful beauty. [event ; an axiom.

بدیہہ badiha, A. *n. m.* An *ex tempore* ; a sudden

بدیہی badíhi, A. *adj.* Self-evident ; plain ; unpremeditated.

بدها buddhá, बुद्धा, H. *adj.* Old ; aged. *n. m.* An old man.

بدهی buddhí, H. *n. f.* An old woman.

بذاته bizátahi, A. *adv.* Of itself ; personally ; intrinsically ; independently ; essentially.

بذر bazr, A. *n. m.* Seed. بزرگ—gar, a husbandman ; a sower.

بذل bazl, A. *n. m.* Expense ; munificence ; gift.

بذله bazla, A. *n. m.* A jest ; witticism ; a railery (*latifa*). باز—báz, *adj.* and *n. m.* witty ; jester ; a man of wit and humour.

بدر barr, A. *n. m.* A dry land (*Opp. to Buhr*) ; desert. براب و بحر—ráb wa bahrán, *adv.* by land and by sea. بر اعظم—i-á'zam, *n. m.* (*Geog.*) ; a continent.

بدر bar, (ब्र), S. *n. m.* A choice ; a boon ; a blessing ; a gift ; a wooer ; a suitor ; a bridegroom ; a husband ; *adj.* precious ; excellent ; best. بزدان—dán ; *n. m.* a wedding gift to a bride from her betrothed ; a boon conferred by God or saint.

بدر bar, H. *n. f.* A wasp.

بدر bar, P. *n. f.* Breast ; chest ; bosom ; the heart ; fruit. بدر خورد بدر barkhurd, *n. f.* (*il.*) enjoying or eating the fruit ; prosperity ; success. بخروردار—khurdár, *n. m.* prosperous ; enjoying long life and prosperity ; son ; male issue.

بدر bar, P. *prep.* Up ; above ; at ; in ; with ; forth ; against. برآنا—áná, *v.* to come up ; to succeed ; to be accomplished ; to abstain. برخلاف—khaláf, 'aks, *adj.* on the contrary ; in opposition ; at variance. بر محل—máhal, mauqa'—waqt, *adj.* opportune ; seasonable ; *a propos* ; in the nick of time. برلانا—láná, *v.* to get out ; to fulfil ; to grant.

بدر bar, P. *adj.* and *n. m.* Carrying ; bearing ; taking away ; bearer ; carrier (*used in forming compounds*) as : نامه‌بر náma—, bearer of a letter ; دلبر dil—, ravisher of heart.

بدر burá, H. *adj.* Bad ; ugly, worthless ; faulty ; useless ; defective. *n. m.* bad ; evil ; ill. بر احوال—háal karná, to ill-treat. براهلا—bhalá

kahná, *v.* to abuse ; to reproach. بر اکتنا—lagná, *v.* to be disagreeable. بر اماننا—manná, *v.* to take ill ; to be affronted. بر اوقات—waqt ; evil days ; hard times.

برابر barábar, H. *adj.* Equal ; abreast ; plain ; uniform ; smooth ; alike ; over against ; on a par ; adequate ; accurate ; straight ; just ; exact. بر آنا—áná, to come up with ; to approach. بر ابر کرنا—karná, *v.* to smooth ; to level ; to adjust ; to assimilate ; to match. بر ابر کا بیٹا—ká betá, grown-up son. بر ابر کی—ki šakkar ká, of equal standing, rank, &c. ; on a par ; equal. بر ابر هوجانا—ho jáná, to be level ; to be equal to ; to fit to ; balance ; to be up to the brim (as a hole). بر ابر هونا—honá, *v.* to end ; to allow ; to equal ; to fit ; to agree. بر ابر ; بر ابر ; barábar-barábar, *adv.* in a line ; in equals.

برابر barábar, H. *adv.* Regularly ; constantly ; along with ; together ; side by side ; concurrently ; without intermission ; directly ; without delay.

برابری barábri, H. *n. f.* Equality ; level ; par ; equilibrium ; competition ; rivalry ; emulation ; exactness ; parallelism ; insolence. بر ابر کرنا—karná, *v.* to resist ; to view ; to contest ; to match ; to defy.

برات barát, H. *n. f.* A marriage procession ; a multitude.

برات bará't, A. *n. f.* Acquittal ; discharge ; a writing conferring immunity or exemption ; a commission ; decree. [dants at marriage.

براتی bará'tí, H. *n. m.* The company and attendance. بر اجمان—birájmán, (विराजमान), H. *adj.* Brilliant ; splendid ; preceding ; sitting.

بر اجمان birájmá, H. *v. i.* To grace ; to adorn ; to preside ; to sit.

برادر birádar, P. *n. m.* Brother. برادر اخیانی—akhyáni, *n. m.* step-brother. برادر اندر—andar, half-brother. برادر پرور—parwar, *adj.* kind to relation or brethren. برادر توام—itaum ; twin brothers. برادر حقیقی—haqiqí, *n. m.* own brother. برادر خورد—khurd, *n. m.*

a younger brother. برادر رضاعي—razá'í, foster-brother (*dúdh bháí*). برادر داد—záda, *n. m.* A brother's son; nephew. برادر كشي—kushí, *n. f.* Fratricide. برادر نسبتی—nisbati; *n. m.* Brother-in-law.

برادرانه birádarání, *P. adv.* Fraternally; brotherly; *adj.* fraternal; brotherly.

برادری birádari, *P. f.* Fraternity; relationship.

براده buráda, *P. n. m.* Fillings; sawdust; powder.

برآر barár, *P. n. m.* A tax in general; bringing or bearing up; performer; producer; taker; bearer.

براز baráz, *A. n. m.* Stool; motion; excrement; fighting; (often used with برول bol = پیشاب as; bol-o —, (پیشاب و پیشخانه).

برافتاد bar-uftád, *P. adj.* Fallen away.

برافروخته bar-afrokhta, *P. adj.* Excited; enkindled; enraged.

براق burráq, *A. adj.* Flashing; swift; smart.

براق buráq, *A. n. m.* The mule on which Muhammad is said to have ascended from Jerusalem to Heaven; (*met.*) a swift steed.

برآمد barámad, *P. n. f.* Coming up; export; egress; issue; source; drawings; land thrown up by a river; recovery of a stolen property.

برآمده barámda, *P. n. m.* A verandah; gallery; piazza.

برانا barráná, برآنا, *H. v.* To talk in one's sleep or in a delirium; برآهت barráhat, *n. f.* muttering in sleep.

برانا biráná, بیرانا (بیدانا), *H. v.* To jibe; to jeer; to tease; to vex; to mock.

برانگیخته bar-angekhta, *P.* Roused; awakened; excited; stirred up.

برانداز bar-andáz, *P. adj.* Overturning; ruining.

برآو baráo, *H. n. m.* Abstinence.

برآورد bar-áwurd, *P. n. f.* An estimate; a calculation; drawing. برآورد كرنا—karná, *v.* to strike out; to estimate; to reckon; to make entries in an account; to draw or to receive money.

براهمن baráhman, ब्राह्मण, *H. n. m.* A Brahman.

برائی buráí, *H. n. f.* Badness; evil; vice; dissension; harm; wickedness. برائی پر كمر برائى—par kamr bándhuá, *v.* to resolve on mischief.

برآه baráe, *P. adv.* By reason of; for the sake of; in order to. برآه خدا—Khubá, *adv.* for God's sake. برآه نام—nám, *adj.* nominal; unreal; *adv.* ostensibly; for the mere name of.

برباد bar-bád, *P. adj.* Misapplied; lost; wasted; laid waste; desolated; despoiled; unsuccessful. برباد كرنا—karná, *v.* to give to the winds; to lose; to squander; to ravage; to waste; to ruin. برباد هونا—honá, *v.* to be thrown away; misapplied or wasted.

بربادی barbadi, *P. n. f.* Destruction; ruin; loss; waste.

برباری barbarí, *H. n. f.* A large kind of goat from Barbary.

بربط barbat, *P. n. f.* A kind of harp.

برپا barpá, *P. adj.* Standing; firm. برپا رهنا—rahná, *v.* to continue firm. برپا كرنا—karná, *v.* to raise; to establish; to produce; to set on foot; to introduce; to cause to excite. برپا هونا—honá, *v.* to be raised; to be established or set on foot.

برت barat, (व्रत), *S. n. m.* A fast; a vow; a penance.

برت britt, ब्रित्ति, *S. n. f.* Livelihood; pension; endowment.

برتا birtá, *H. n. m.* Power; strength; ability; means; help; support. برتے پر اچھالنا birte par uchhalná, to rejoice or pride oneself on the support of. [out; to distribute.

برتانا bartáná, *H. v.* To cause to use; to deal with. برتانت británt (वृत्तान्त) *S. n. m.* Incident; occurrence; event; tidings; a narrative; a tale; history; topic; circumstances; account.

برتار bartáo, बर्तौ, *H. n. m.* Treatment; usage; practice; conduct; disbursement. برتار كرنا—karná, to behave (towards); to treat with.

برتر bartar, *P. adj.* Higher; excellent; eminent; superior. [rent; present; being.

برتمان bartmán (वर्तमान), *S. adj.* Existent; cur-

برتن bartan, H. *n. m.* A basin ; a vessel ; a utensil.

برتننا bartná, वरतना, H. *v.* To use.

برتهما birthá, (वृथा), H. *adj.* Abortive ; fruitless ; useless ; worthless ; needless ; in vain.

برج burj, A. *n. m.* A turret ; a minaret ; a tower ; a bastion ; a sign of the Zodiac. برج حمل—i-hamal, *n. m.* the sign of Aries.

برجسته barjasta, P. *adj.* Opportune ; *apropos* ; right ; *impromptu* prompt ; ready ; extempore.

برجنا barajná, वर्जना, H. *v. i.* To forbid.

برجي burji, A. *n. f.* A turret.

برچه birchchha, वृक्ष, S. *n. m.* A tree ; a plant.

برچه barchhá, H. *n. m.* } A spear ; a lance ; a

برچه barchhí, H. *n. f.* } javelin ; a dart. برچه

بردار—bardár, *n. m.* a spearman ; a lancer.

برچه blichhak, वृद्धक, H. *n. m.* A scorpion ; the 8th sign of the Zodiac ; Scorpion.

برحق barhaq, P. *adj.* In truth ; by right ; right-ful ; true ; justifiable ; incumbent ; inevitable

برخواست bar khást, P. *n. f.* Rising up ; recall ; dismissal करना برخواست—karná, *v. i.* to remove from office ; to dismiss. برخواست

honá, *v. i.* to rise or break up (as an assembly) ; to be dismissed.

برخلاف barkhiláf, P. *adj.* and *adv.* Contradictory ; adverse ; opposed to ; against.

برخوردار bar-khurdár, P. *adj.* Happy ; enjoying life and prosperity ; *n. m.* a male child.

برد burd, P. *n. f.* Gain ; profit.

بردار bardár, P. *n. m.* Bearer ; carrier ; taken up (used in compos.) as : بردار سونتا son-tá—, *n. m.* club-bearer.

برداري bardári, P. *n. f.* The act of carrying.

برداشت bardásh, P. *n. f.* Tolerance ; sufferance ; patience. برداشت करना—karná, to tolerate ; to endure. برداشت هونا—honá, *v.* to be tolerable ; to be endured.

برداشته bardásh, P. *adj.* Elevated ; set up ; removed. برداشته خاطر—khátir, برداشته دل dil—, *adj.* Uneasy ; disheartened.

بردبار burdbár, P. *adj.* Burden bearing ; forbearing ; patient ; mild ; tolerant ; meek.

بردباري burdbári, P. *n. f.* Forbearance ; patience ; mildness.

برده harda, P. *n. m. f.* A captive ; a slave. برده فروش—farosh, *n. m.* a slave-dealer.

برده briddha, वृद्ध, S. *adj.* Old ; aged.

برده birudh, विरुद्ध, S. *adj.* Opposed to ; contrary to ; against.

برزخ barzakh, A. *n. m.* Interval ; separation ; a screen ; the interval between the death and resurrection ; a whimsical idea.

برزن barzan, P. *n. m.* A palace ; a street ; a wilderness ; an open field ; quarter of a town.

برس baras, वरस, (वर्ष वर्षा), H. *n. m.* Rain ; year.

برس گانه gánth, *n. f.* the ceremony of tying a knot on the anniversary of one's birthday (saigirah) ; birthday.

برسات barsát, वरसात, H. *n. f.* The rainy season ; the rains.

برساتي barsáti, वरसाती, H. *n. f.* The farcy ; name of a disease of horses ; a portico ; waterproof clothing ; *adj.* rainy ; belonging to the rainy season.

برسانا barsáná, H. *v.* To cause to rain ; to shower down ; to pour down ; to scatter.

برسار barsar, P. *adv.* At the point. برسار هونا—kár honá, to be on the point of business ; to be ready when occasion demands ; to be *au fait* at ; to hold a situation ; to be employed.

برسنا barasná, H. *v.* To rain.

برسي barsí, वरसी, H. *n. f.* Annual ceremony in remembrance of deceased relatives ; anniversary.

برشا barshá, वर्षा, S. *n. f.* The rains ; rain. برشا كال—kál, *n. m.* the rainy season.

برشته brishta, P. *adj.* Parched ; fried ; broiled ; roasted.

برص bars, A. *n. m.* Leprosy.

برطرف bar taraf, P. *adj.* Aside ; separate ; discharged ; dismissed. برطرف करना—karná, *v. i.* to dismiss ; to discharge ; to send away. برطرف هونا—honá, *v. i.* to be dismissed, to be discharged ; to be cast aside. برطرفي—tarfi, *n. f.* dismissal ; discharge.

برف *barf*, P. *n. m. f.* Ice ; snow. برف پروردہ
—*parwarda*, *adj.* iced ; cooled in ice. برف پڑنا
—*parná*, to freeze ; snow-fall. برف گلنا
—*galná*, to be intensely cold.

برفانی *barfání*, P. H. *adj.* Icy ; snowy برفانی
—*pahár*, snowy mountain.

برفی *barfí*, P. *n. f.* A kind of sweetmeat made
of sugar and milk ; *adj.* icy ; snowy ; iced ;
cooled.

برق *barq*, A. *n. f.* Lightning ; electricity.
برق انداز—*andáz*, *n. m.* a musketeer ; a
sentinel. برق زدہ—*zada*, struck by lightning.

عمر برق و شرار ہے دنیا
کتنی بے اعتبار ہے دنیا

—امیر

'Umr barq o sharár hai duniya,
Kitní be-'etibár hai duniyá.

Life is transient like a flash of lightning,
and this world is as unsubstantial as a spark
of fire, hence, little reliance can be placed
upon merely wordly affairs.

برقع *burqá*, A. *n. m.* A kind of veil with eye-
holes to it, covering the whole body from
head to foot.

برکات *barkát*, A. *n. f.* (*Plu. of* برکت *Barkat*).
Auspiciousness ; blessing ; good fortune.
با برکات *bá*—, *adj.* prosperous ; lucky ; happy.

برکت *barkat*, A. *f.* Auspiciousness ; abundance ;
good fortune ; blessing. برکت دینا—*dená*, *v.*
to bless ; to prosper.

برکش *briksha*, वृक्ष, S. *n. m.* A tree.

برکنا *burakná*, H. *v.* To sprinkle ; to strew.

برگ *barg*, P. *n. m.* A leaf ; warlike apparatus ;
provisions for journey ; melody ; a musical
instrument. برگ تمبول—*i-tambol* ; Betel leaf ;
برگ سبز—*i-sabz* ; A green leaf ; (the gift of a
poor man). برگ گل—*i-gul*, petal of a rose.

برگزیدہ *barguzida*, P. *adj.* Chosen ; selected ;
elect.

برگشتگی *bargashtagi*, P. *n. f.* Retrocession ; in-
version ; adjuration ; rebellion ; apostasy.

برگشتہ *bargashta*, P. *adj.* Rebelled ; revolted ;
apostatized ; mutinied. [few ; little.

برل *birlá*, विरला, H. *adj.* Wonderful ; rare ; scarce ;

برما *barma*, बर्मा, H. *n. m.* A gimlet ; a borer.

برملا *barmalá*, P. *adj.* Public ; conspicuous ;
open.

برن *baran*, S. (वर्ण) *n. m.* Caste ; sect ; tribe ;
division ; class ; colour ; features ; a letter
of an alphabet. برن مالا—*málá*, *n. f.* the
alphabet.

برنج *birinj*, P. *n. m.* Rice ; brass. [nail.

برنجی *birinjí*, P. *adj.* Brazen ; *n. f.* a small

برن *barnan*, वर्णन, S. *n. m.* Delineation ; recital ;
elucidation ; commendation. برن کرنا—*karná*,
v. to explain ; to elucidate ; to commend ; to
delineate.

بروا *birwá*, H. *n. m.* A plant ; a tree.

بروت *barút*, P. *n. f.* Moustaches ; whiskers.

بروت *barwat*, *n. m.* Spleen.

برج *burúj*, A. *n. m.* (*Plu. of* برج). Bastions ;
towers ; turrets ; signs of the Zodiac.

برودت *burúdat*, A. *n. f.* Coolness ; coldness ;
chilliness.

برودتہ *birodh*, विरोध, S. *n. m.* Enmity ; dispute ;
opposition. برودھی—*i*, *n. m.* an opponent ;
enemy ; a quarrelsome person.

بروقت *bar-waqt*, P. *adj.* Opportunely ; season-
ably ; in time.

برومند *baromand*, P. *adj.* Lucky ; blessed ;
prosperous ; happy. [ternally.

برون *barún*, P. *adv.* Without ; outside ; ex-

بر *birah*, विरह, S. *n. m.* Parting ; absence ;
separation.

بردا *barra*, P. *n. m.* Lamb ; kid ; fawn.

برهان *burhán*, A. *n. m.* Demonstration ; proof ;
conclusiveness. [Thursday.

برہسپت *birhaspat*, बृहस्पति, S. *n. m.* Jupiter ;

برہم *brahma*, ब्रह्म, S. *n. m.* God ; the Maker ;
the Creator. برہم بوج—*bhoj*, feeding of
Brahmans. برہم چاری—*chári*, *n. m.* religious
student ; an ascetic. برہم ہتیا—*hattiyá*, *n. m.*
the murder of a Brahman ; sacrilege.

برہم *barham*, P. *adj.* Confused ; disordered ;
inflamed ; involved ; upside down ; troubled ;
sullen. برہم دہم *darham*—, *adj.* confused ;

entangled ; topsy-turvy : upside down. برہم زن —zan, *n. m.* an embroiler. برہم زنی —zaní, embroiling ; confusing ; interference.

برہما brahma, ब्रह्मा, *S. n. m.* The first Deity in the character of creator, or matter personified ; the Supreme Being regarded as a person.

برہمانڈا brahmánḍa, ब्रह्माण्ड, *S. n. m.* The globe ; the world ; the top of the head

برہمن brahman, ब्राह्मण, *S. n. m.* A Brahman.

برہمی barhamí, *P. n. f.* Convulsion ; vexation ; confusion ; anarchy ; displeasure. [ness.

برہمنگی barahnagí, *P. n. f.* Nakedness ; barrenness

برہنہ barahna, *P. adj.* Naked ; bare. برہنہ پا —pá, *adj.* bare-footed.

برہی barí, *H. n. f.* Quicklime.

برہی barí, *A. adj.* Acquitted ; released ; exonerated . clear ; free ; exempt from. برہی الذمہ —uz-zimma, free from charge or obligation ; justified ; absolved from responsibility ; unaccountable.

برہیان biryán, *P. adj.* Fried ; roasted.

برہیانی biryání, *P. n. f.* A dish of meat and rice.

برہیات bariyat, *P. n. f.* Exemption ; freedom ; liberation ; exoneration. [launderer.

برہیہا bareṭhā, बरेठा, *H. n. m.* A washerman ; a

برہیہان bareṭhan, बरेठिन, *H. n. f.* A laundress ; a washer-woman. [chopped.

برہیدہ burida, *P. adj.* Cut ; amputated ; clipped ;

برہین barín, *P. adj.* High ; lofty ; grand ; sublime.

بز bar, *H. n. m.* The fig tree ; banyan.

بز bar, *H. adj.* (In comp. contr. of bará, *q. v.*) Great ; large ; excessive. بولا بز —bolá, *n. m.* a boaster ; a braggart. بز پتہ —petṭá, *n. m.* a great eater ; a glutton.

بز bará, *H. adj.* Large ; big ; huge ; elder ; eldest ; grand ; noble ; principal ; superior ; respectable ; supreme ; old. بز بول —bol, boasting ; self-applause. بز پا —pá, *H. n. m.* grandeur ; dignity ; elevation. بز دن —din, long day ; Christmas day. بز کربا —karná, *v.* to expand ; to elevate ; to promote ; to

enlarge. بز نام کربا —nám karná, to win a great name. بزے میاں bare miyán, old man ; master of the house ; reverend ; Sir.

بز bará, *H. n. m.* Cakes made of ground pulse, and fried in *ghee* or oil.

بز barráná, बराना, *H. v.* To talk in one's sleep ; to cry out in nightmare ; to rave in delirium.

بز بارائی barái, बड़ाई, *H. n. f.* Largeness ; bigness ; vaunting ; magnifying. بز کربا یا مارنا —karná yá márná, *v.* to extol ; to boast ; to vaunt. بزائی دینا —dená, *v.* to honour ; to esteem.

بز باربارانہ barḅaráná, *H. v.* To grumble ; to murmur ; to talk nonsense ; to rave. [grumbler.

بز بارباریہا barḅariyá, *A. n. m.* A chatterer ; a

بز بڑکی buṛkí, बुड़की, *H. n. f.* Dive ; dip ; plunge.

بز ہاپا buḅhápá, बुढ़पा, *H. n. m.* Old age.

بز ہانہ baháná, बहाना, *H. v.* To expand ; to augment ; to enlarge ; to forward ; to elevate ; to exalt ; to raise ; to aggrandise ; to encourage ; to extend ; to stretch out ; to put out (lamp) ; to postpone ; to close (a shop) ; to remove the table-cloth. بز ہانہ —bahá láná, to bring forward ; to lead on (an army).

بز ہاؤ barháó, *H. n. m.* Prolongation ; increase ; expansion ; swell ; inundation ; exaggeration ; superfluity.

بز ہاوا barhawá, बढ़ावा, *H. n. m.* Incentive ; spur ; sycophancy ; inducement ; encouragement ; flattery ; incitement.

بز ہاوتی barḅtí, *H. n. f.* Augmentation ; enhancement ; prosperity ; progress ; increase ; excess ; surplus ; elevation.

بز ہانہ bahnâ, *H. v.* To increase ; to rise ; to grow ; to stretch ; to expand ; to be prolonged ; to swell ; to be elevated or raised high ; to remain over and above ; to go forward ; to advance ; to rise ; to exceed ; to prosper ; to flourish ; to thrive ; to surpass ; to be shut up (a shop) ; to be extinguished or put out (a lamp).

بز ہانی barhni, *H. n. f.* A broom.

بڑھوتر *barhotar*, H. *n. m.*
 بڑھوتری *barhotari*, H. *n. f.* बढ़ोतरी, } Interest;
 gain; advantage; increment; surplus.
 بڑھائی *barhai*, बढ़ई, H. *n. m.* A carpenter. کھت
 بڑھائی *khat*—, the wood-pecker.
 بڑھیہ *barhiyá*, बढ़िया, H. *adj.* Superior; high-
 priced; expensive; of good quality; costly.
 بڑھیہ *barhiyá*, H. *n. f.* An aged woman.
 بڑھیز *barer*, बढ़ेड़, H. *n. m.* Rafter; beam.
 بڑ *buz*, P. *n. m.* A he-goat. بڑاخش—*i-akhsash*,
 a brainless fellow; a dolt; a blockhead. بڑ دل
 —*dil*, *n. m.* a dastard; a poltroon; a coward.
 بڑ دلہی—*dilí*, *n. f.* timidity; cowardice. بڑ کوهی
 —*i-kohí*, *n. m.* mountain goat. بڑ گیری—*gírí*,
 goat-catching.
 بڑ *bazz*, A. *n. m.* Fine linen. [draper.
 بڑ *bazzáz*, A. *n. m.* A cloth merchant; a
 بازار *bazzáz*, بازار, H. *n. m.* A cloth market.
 بازار *bazzázi*, *n. f.* the business of a cloth-
 merchant; linen-drapery.
 بڑاق *buzáq*, A. *n. m.* Spit; saliva.
 بڑرچمیر *buzurchimhr*, P. *n. m.* Name of Naus-
 herwan's minister who lived in the 6th
 century.
 بڑرگ *buzurg*, P. *adj.* Great; venerable; *n. m.*
 a grandee; a noble; a saint بڑرگ (دادہ)
 —*záda*, *adj.* highborn; of noble extraction.
 بڑرگسال—*sál*; *adj.* old; Aged. بڑرگ منش—
manish, *adj.* noble-minded; magnanimous.
 بڑرگوار—*wár*, *n. m.* ancestor, elder, a saint.
 بڑرگواری—*wári*, *n. f.* greatness; exaltation.
 بڑرگی *buzurgí*, *n. f.* grandeur; eminence;
 nobleness; seniority.
 بڑرگالہ *buzgála*, P. *n. m.* Young of a goat; kid.
 بڑرگ *bazla*, A. *n. m.* A joke. [assembly; party.
 بڑرگ *bazm*, P. *n. f.* Banquet; entertainment;
 بڑرگ *bazor*, P. *adv.* Perforce; forcibly; on
 compulsion.
 بڑرگ *bazha*, P. *n. m.* A sin; guilt; an offence.
 بڑرگ کار—*kár*, *n. m.* an offender; a sinner.
 بس *bas*, P. *adj.* sufficient; enough; abundant;
 too much; *adv.* and so; in short; *intj.*
 enough! that will do! hold! stay! cease!

have done! no more! بس کرنا—*karná*, *v.* to
 stop; to cease; to have done; to close; to
 finish. بسکہ از *az baski*, *adv.* to such an extent
 that; inasmuch as; whereas.

منہ سے بس کرتے نہ ہو گئے یہ خدا کے بندے
 گر حریصونکو خدا ساری خدائی دیتا

(فوق) —

Mugh se bas karte na hargiz yeh K̄hudá
 ke bande.

Gar harison ko K̄hudá, sári K̄hudái detá.

بس *bas*, बस, H. *n. m.* Will; power; authority;
 sway; influence; control; opportunity;
 remedy. بس میں کرنا—*men karná*, *v.* to
 subdue; to subjugate; to bring under
 subjection; to bring under control; to
 fascinate; to bewitch. بس میں پڑنا
men paíná, to come or fall into the power of.
 بس چلنا—*chalná*, to avail against; to have
 power. بس کرن—*karan*, charm; spell. بس
 رکھنا—*men rakhná*, to restrain; to have
 one under control.

بس *bis*, S. *n. m.* Poison; venom. بس ہونا—
boná, to sow discord; make mischief between.
 بس کی پڑیا—*ki puriyá*, mischievous person;
 devil; demon.

بسا *basá*, P. *adj.* Much; many; more. بسا اوقات
 —*auqát*, *adj.* often; frequently; mostly.

بسا *basá*, बसा, H. *adj.* Perfumed.

بسا *basá*, H. *adj.* Putrefied; putrid; stale.

بسات *bisát*, H. *n. f.* Means; capital; estate.

بساتی *bisáti*, H. *n. m.* A pedlar; a haberdasher.

بِسار *bisár*, H. *n. f.* A loan of seed to be repaid
 with increase after harvest.

بِسارنا *bisárná*, H. *v.* To forget; to err; to miss.

بِساط *bisát*, A. *n. f.* Carpeting; bedding; a
 chess-board; a dice-board; extent; space.

بِسَانا *basáná*, बसाना, H. *v.* To people; to inhabit;
 to colonize; to cause to be scented.

بِسَاہن *bisáhan*, } H. *n. f.* Stench; bad smell;
 بِسَاہند *bisáhd*, } fetidness; stink.

بِسَاہندا *bisáhindá*, H. *adj.* Fetid.

بِسٹ *bast*, P. *adj.* Bound; frozen; shut.

bastu, वस्तु, S. n. f. Thing ; article ; substance ; goods ; effects ; luggage ; chattels ; commodity.

bist, P. adj. Twenty

bistár, (بِستار), H. n. m. Abundance ; diffusion ; extent ; spreading out ; amplification.

bustán, P. n. m. A flower garden.

bistar, P. n. m. Bedding ; carpeting. بستَر
لگانا—lagáná, to lay out the bedding ; to make ready the bed. [garment ; apparel.

bastar, वस्त्र, S. n. m. Clothes ; dress ;
bastagí, P. n. f. Fastening ; a shrinking ; costiveness ; concretion ; congelation ; binding.

bistuiyá, बिस्तुइया, H. n. f. A lizard.

basta, P. adj. Bound ; closed ; tied ; congealed. n. m. The cloth in which a bundle is tied up ; a bundle. بسته کار—k r, adj. distressed. [peopled place.

bastí, H. n. f. Dwelling ; a village ; any
bisar, H. n. m. Forgetfulness ; oversight ; omission. bisra, adj. Forgetful ; negligent.

basar, P. adv. to a head ; to an end. بَسْرَ
basar áná, v. To come to an end ; to succeed ; to vie with. بَسْرَ كَرْنَا—karná, v. to finish ; to accomplish ; to execute ; to pass ; to disburse. بَسْرَ لَ جَانَا—lej.ná, v. to bring to an end ; to execute, to outstrip. بَسْرَ وِ چَشْم—o-chashm, adv. most willingly or heartily. بَسْرَ هُونَا—honá, v. to be accomplished, to be disbursed.

bisrá, (بِشْرَام), S. n. m. Ease ; repose ; comfort ; a stop. بَسْرَامَ لِينَا—lena, v. to rest ; to repose ; to pass the night. [beguile.

bisráná, H. v. To forget ; to mislead ; to

bisarná, H. v. To be forgotten ; to forget.

bisurna, H. v. To sob.

bismilláh, In the name of God (a formula generally used by Mohamedans at the beginning of all actions and works). بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ bismilláh - ir - rahmán-ir-rahím, in the name of God the Merciful. بِسْمِ اللّٰهِ كَے گنبد میں بیٹھنا meñ baiṭhná, to retire from the world ; to

lead a life of seclusion. بِسْمِ اللّٰهِ كَرْنَا bismilláh karná, v. to commence ; to begin.

bismil, A. adj. Sacrificed ; n. m. an animal sacrifice. بِسْمَلِ كَرْنَا—karná, v. to immolate ; to sacrifice. بِسْمَلِ كَاه—gah, n. f. place of sacrifice ; an altar.

basma, P. n. m. Painting ; dying ; collyrium ; tincture.

basná, H. v. To inhabit ; to dwell ; to settle ; to reside ; to become perfumed.

basant, वसन्त, H. n. f. The spring season ; a musical mode ; a Hindu festival. آنکھوں میں
آنکھوں میں بَسَنْتَ پھولنا—phúlná, v. to be dazzled. بَسَنْتَ كَا اُنْتَ—jeṛe ka ant. the spring begins when winter season ends. بَسَنْتَ كِي خَبَر—ki khabar, n. f. knowledge or care about futurity.

basantí, वसन्ती, H. n. f. Yellow.

basní, H. n. f. A purse.

biwá, } H. n. m. A land measure ; the
biwa, } twentieth part of a *bigha*.
بارار—barár, n. m. assessment or collections of the revenue upon the *biswas*, or the share of the land. دار—dár, the holder of a share or shares in a coparcenary village.

biswás, विश्वास, H. n. m. Trust ; faith ; credence ; reliance. بَسْرَا سَكْهَات—ghát, بَاطِل, n. f. treacherous friendship ; abuse of trust ; breach of faith.

biswansi, H. n. f. the twentieth part of a biswa.

bisúrná, बिस्तरना, H. v. To put on a crying face ; to be distressed ; to sob.

basor, H. n. m. A caste of people whose occupation it is to make baskets of bamboos ; a basket-maker.

basúlá, H. n. m. Axe ; Adze.

basúli, H. n. f. A tool for cutting bricks.

bisahrí, बिसहरी, H. n. f. A boil on the hand ; a whitlow.

base, P. adv. Enough ; much ; excess.

bisyár, adj. Much ; very ; abundant.

بسیقه basíqh, H. n. m. A messenger; an agent; a go-between.

بسیرا baserá, वसेरा, H. n. m. A time before dusk when birds return to their nests; a night's dwelling; a bird's perch; a roost. **بسیرا کرنا**—karná, to roost. **بسیرے کا وقت**: basera ká waqt, n. m. roosting time.

بسیما basít, A. adj. Simple; primary; unmixed; n. m. surface; superficies.

بشارت bashárat, A. n. f. Good news; revelation; divine inspiration.

باشاش bashshásh, A. adj. Cheerful; brisk; in good spirits; delighted; gay; joyful; hilarious. [hilarity.

باشاشت bashashat, A. n. f. Gaiety; liveliness; باشدت bashiddat, P. adv. Excessively; severely; violently.

بشر bashar, A. n. m. Man; human being; a mortal. [condition that.

باشرملیک basharteke, P. adv. Provided that; on باشرة bashra, A. n. m. Physiognomy; visage; countenance; appearance. [nature.

باشریات bashariyat, A. n. f. Humanity; human باشو bishnú, (विष्णु), S. n. m. One of the Hindu triad, and the husband of Lakshmi; the Preserver.

باشی bishai, (विषय), S. n. m. An object of sense; matter; affair; concern; topic; subject; sensuality; business.

باشیر bashír, A. n. m. A messenger of good news. **بصارت** bisárat, A. n. f. Sight; vision; perceiving.

بصد basad, P. With or by a hundred, (as; **بصد محنت**—mehnat, with a hundred toils).

بصر basar, A. n. m. Vision; sight; the eye; reason; knowledge.

بصورت basúrat, P. adv. In the manner; by the way of. **بصورت خلاف رزی**—khiláf warzí, in case of breach.

بصیرت basírat, P. n. f. Sight; insight; vigilance; prudence.

بسیغہ basíga, P. A. adv. In the form or mode of; in the jurisdiction of; in the department of.

بضاعت bizá'at, A. n. f. Capital; stock in trade; merchandise.

بما bat, A. n. f. A goose; a duck.

بطالت batálat, P. n. f. Folly; vanity; falsehood.

بطخ battakh, P. n. f. (Dim. of **بما** Bat), Duckling; duck. [of; by way of.

ببطور batarz, P. adv. In the mode or manner.

ببطریق batariq, by the way; by means (of).

بطلان batlán, A. n. f. Abortion; vanity falseness.

بطان batn, A. n. m. The belly; the womb. **بطناً** batnan ba'd batnan, adv. generation after generation. (**پشت در پشت** pusht dar pusht).

ببطور bataur, P. adv. After the manner of; like. **ببطور خود**—khud, adv. in his own way; of himself. [part; heart; mind.

بطون batún, A. n. m. (Plu. of **بطن** Batn). Inner

بظاہر baz-hir, P. adv. Externally; apparently. **بعد** ba'd, A. adv. After; since; later; subsequent. **بعد ازان**—azan, after that; afterwards. **بعده**—hú, adv. after which; then; however.

بعض ba'z, } A. adj. Some; several; certain;
بعضاً ba'zā, }
بعضے ba'ze, } few.

بعون bi'aun, P. adv. By the help of.

بعید ba'id, A. adj. Far; remote; distant.

بعقل ul-'aql, absurd; improbable; far from reason. **بعید القیاس**—ul-qiyás, adj. Inconceivable. **بعید الوطن**—ul-watan, far from home.

بعینہ ba'inihí, } A. adv. Exactly; similarly.
بعینہ ba'inahú, }

بغرا bagará, P. n. m. A breach in a wall; a gash. [opposition; high treason.

بغارت bagáwat, A. n. m. Mutiny; rebellion.

بغدا buḡdá, P. n. m. A cleaver used by butchers; a chopping knife. [hatred; revenge.

بغض bugz, A. n. m. Spite; malice; grudge;

بغل bagal, बगल, H. n. f. The armpit; embrace; flank; side; aside; by the side; on one side.

بغل دلائی—biláí, n. f. a painful glandular swelling in the armpit, called *kakráli*. **بغل پرورد**—parwarda, brought up in the arms; a darling

child. بگل ہو جانا — jáná, —ho jáná, v. to go out of the way; to make way. بگل بگل گرم کرنا — súnghná, v. to repent بگل بگل گارم — karná; To embrace (a woman). بگل بگل گیر ہونا — gir honá, v. to embrace (by way of salutation); to clasp. بگل میں منہ ڈالنا — men muh dálná, to be ashamed. بگلیں بجانا — baglén bajána; to exult; to mock. بگلیں جھانکنا — baglén jhákna, to look from side to side in discomfiture; to look blank or foolish. بگل بگل میں لینا — men lená, v. embrace; to hug.

بغلانا bagláná, H. v. To get out of the way.

بغلی baglí, A. *adj.* Auxiliary; *n. f.* a purse; a sort of dress; a dumb-bell; a trick in wrestling. بگلی تکیہ — takiya, *n. m.* a long pillow for the sides. بگلی دینا — dená, to break into a house by removing a portion of the wall, and unbolting the door. بگلی گھونسہ — ghúnsá; *n. m.* secret enemy; traitor.

بغیر bagair, P. *adv.* Without; except; besides; excluding.

بغا bafá, P. *n. f.* Scurf; dandruff.

بقا baqá, A. *f.* Eternity; permanence; continuance; remaining; immortality بقاے نام — baqá-i-nám karná, v. to perpetuate one's name. [a grain merchant.

باقال baqqál, A. *n. m.* A grocer; a shop-keeper;

باقایا baqáyá, A. *n. m.* (*Plu. of* بقیہ *Baqiya*). Remainders; arrears; balance. بقایے (ر لگان — i-zar-i-lagán, arrears of rent.

بقچہ buqcha, A. *n. m.* A wrapper; a small bundle of cloth.

بقدر ba-qadr, P. *adv.* By the power of; to the extent of; by means of; according to.

بقر baqar, A. *n. m.* A bull; a cow. بقر عید — baqra'id, a festival observed by the Mahomedans on the 10th of the month *Zil-hijja*.

بقسمیہ ba-qasmia, P. *adv.* On oath.

بقیلت باقیلت, P. *adv.* With difficulty; with scarcity. [or dictum of.

بقول baqaul, P. *adv.* According to the saying

بقول باقؤل, A. *n. m.* (*Plu. of* باقؤل *Baql*.) Plants, herbs; pot-herbs.

بقیہ baqiya, A. *n. m.* Arrears; remainder; balance. بقیہ السیف — us-saif, the remainder left by the sword.

بک bak, H. *n. f.* Prattle; garrulity; idle talk.

بک بک — bak, —jhak, *n. f.* babble; idle talk; gabble. بک بک کرنا — bak karná — jhak kárná, v. to babble; to talk idle; to prattle; to prate; to gabble.

بک bukka, बुक्का, H. *n. m.* A handful; finely powdered tale.

بکار ba-kár, P. *adv.* In use; for use.

بکانا bikáná, H. v. To be sold.

بک بک bikáu, H. *adj.* Saleable.

بکاول bakáwal, P. *n. m.* A cup-bearer; a steward; a superintendent of the kitchen.

بکبکانا bakbakáná, H. v. to chatter; to gabble.

بکتار baktar, P. *n. m.* A coat of mail; a cuirass.

بکتار پوش — posh, *n. m.* a man in armour; a cuirassier.

بکتاری baktari, P. *n. m.* An armourer.

بکات bikat, S. *adj.* Difficult; terrible; perilous.

بکاسرات ba-kasrat, P. *adv.* In abundance.

بکچی bakchi, H. *n. f.* A plant the seed of which is used for curing the itch.

بکر bikr, A. *n. f.* Virginity.

بکرا bakrá, H. *n. m.* A he-goat. [generally.

بکری bakrí, H. *n. f.* A female goat, a goat

بکری بکری — bikrí, विक्री, H. *n. f.* Sale; vent. بکری کر — kar, sales tax.

بکس baks, बक्स, H. *n. m.* A box.

بکسوا baksuá, बकुआ, H. *n. m.* Buckle.

بکال bikal, (बिक्कल), S. *adv.* Troubled; disturbed; restless.

بکال bakkal, बकल, } H. *n. m.* Bark; skin; husk.

بکال baklá,

بکم bukm, A. *adj.* Dumb; mute.

بکنا bakná, H. v. To chatter; to babble; to gabble; to talk idly; to prate; to jabber.

بکنا bikná, H. v. To be disposed of; to be sold off. [dálná, to grind to powder.

بکنی bukni, H. *n. f.* Powder. بکنی کر ڈالنا — kar

بکرواد bakwád, H. *n. f.* Chatter; babble; idle talk.

بکروادی bakwádi, H. *n. m.* An idle talker; a gabbler; a crackler.

بکواس bakwás, H. *n. f.* Foolish talk ; loquacity ; garrulity. [have a thing sold.]
 بکوانا bikwáná, H. *v.* To cause to be sold ; to
 بکوتنا bakotná, بکوتنا, H. *v.* To scratch ; to
 claw.
 بکھه bikh, (بیب), S. *n. m.* Poison ; venom.
 بکھار bakhár, H. *n. m.* } A store-room ; granary.
 بکھاری bakhári, H. *n. f.* }
 بکھان bakhán, بکھان, H. *n. m.* Description ;
 definition ; commendation ; praise. بکھان ڈالنا
 —dálná, to name with opprobrium ; to vilify.
 بکھاننا bakhánná, H. *v.* To describe ; to define ;
 to commend ; to extol. [dishevelled.]
 بکھارنا bikharná, H. *v.* To be scattered ; to be
 بکھییا bakhíyá, بکھییا, H. *n. m.* Stitch ; strong
 quilting.
 بکھییانا bakhíyáná, H. *v.* To stitch.
 بکھیرنا bikherná, H. *v.* To disperse.
 بکھیرا bakherá, بکھیرا, H. *n. m.* A tumult a broil ;
 a quarrel ; imbroglio ; vexation ; business ;
 wrangling ; bustle ; uproar. بکھیرا چکانا
 —chukáná, to settle a dispute. بکھیرا مچکانا
 —macháná, to complicate ; to create a difficulty ;
 to cause contention.
 بکھیرییا bakheríyá, بکھیرییا, H. *adv.* Captious ;
 contentious ; *n. m.* a brawler ; disputant.
 بکی bakki, H. *n. m.* A prater ; a chatterer.
 بکاری bigár, بکاری, H. *n. m.* Infringement ;
 discord ; misunderstanding ; damage ; harm.
 بکاز پر آنا —par áná, to be ready to quarrel.
 بکاز کرنا —karná, *v.* to quarrel ; to forfeit
 friendship.
 بکازنا bigáná, H. *v.* To mar ; to damage ; to
 ruin ; to bungle.
 بیگانہ bagána, P. *adj.* Foreign ; alien ; unknown.
 بگداننا bagdáná, بگداننا, (H. Col.) *v.* To cause to
 return ; to misdirect ; to lead astray ; to
 corrupt.
 بگداننا bagadná, H. *v.* To return ; to come back ;
 to go astray.
 بگداننا bigárná, H. *v.* To be spoiled ; to be de-
 teriorated ; to be disfigured ; to be corrupted ;
 to get out of order ; to be squandered ; to

become vicious ; to rebel ; to be at variance ;
 to be enraged.

بگلا baglá, (بگولا), *n. m.* A crane ; a heron. بگلا
 بگھت—bhagat, *n. m.* a hypocrite ; a false
 devotee ; a cunning or artful fellow.

بگولا bagúlá, بگولا, (H. Col.) *n. m.* Whirlwind ;
 tornado.

بگھار baghár, H. *n. m.* Seasoning condiments
 (chhauk).

بگھارنا baghárná, H. *v.* To season.

بگھی baghi, bagghi, بگھی H. *n. f.* A horse-fly ;
 a kind of gnat ; a gig ; a light carriage.

بال bal, بال, H. *n. m.* A coil ; a crook ; a spiral ;
 a contortion ; side ; twist ; turn ; oblation ;
 sacrifice ; offering. بال بل جانا —bal jáná, to
 be sacrificed ; to devote oneself for (qurbán
 jáná) —دار —dár, *adj.* crooked ; coiled ; twisted ;
 curved. —دان —dán, *n. m.* Presentation of an
 offering to a deity. —دل دینا —dená, to entwine ;
 to twist. —دل کھانا —kháná, *v.* to be entwined ;
 to be twisted.

بال bal, بال, S. *n. m.* Strength ; might ; power ;
 vigour ; physical force ; dint ; support ; mili-
 tary force ; side ; way. —بیر —bír, brave ;
 heroic ; valorous. —وران —wán, powerful ;
 strong. —وردیا —vidyá, mechanics ; science of
 forces ('i'm-i-jarr-i-saqil). —ہین —hín, infirm ;
 weak.

بل bil بیل, H. *n. m.* A hole ; an opening ; a
 burrow.

بل bil, (Corr. English) *n. m.* Bill ; cheque ;
 draft. بل جاری کرنا —járí karná, to issue a
 draft ; to draw a bill or cheque. بل سرکاری
 —sarkári, treasury draft or order.

بالا ballá, باللا, H. *n. m.* A long staff ; a boat ;
 hook ; a cricket bat.

بالا balá, A. *n. f.* Trial ; distress ; accident ;
 vengeance ; evil ; ill ; evil spirit ; fiend.
 —زدا —zada, —نصیب —nasib, *adj.* overwhelmed
 with calamity ; unfortunate. —کش —kash,
n. sufferer ; *adj.* distressed. —تمہاری بل سے
 tumhári—se, it is no concern of yours ;
 never mind.

بلیا billá, بلیا, H. *n. m.* A male cat ; badge.

بلا *bilá*, A. *prep.* Without. بلا تردد—*taraddad*, *adv.* without hesitation بلا توقف—*tawaqquf*, *adv.* without delay ; speedily. بلا شرط—*shart*, *adj.* unconditional ; absolute. بلا شك—*shak*, *adv.* doubtless ; unquestionably. بلا نفاذ—*nága*, regularly ; without intermission ; constantly. بلا وجه—*wajh*, *adv.* without grounds. بلاپ *bilap*, (विलाप) S. *n. m.* Weeping ; wailing ; lamentation.

بلاد *bilád*, A. *n. m.* (*Plu. of* بلاد *Bulad*). Countries ; towns ; cities.

بلار - بلار *bilár*, *biláo*, H. *n. m.* A male cat.

بلاس *bilás*, H. *n. m.* pleasure ; enjoyment, amorous dalliance. بلاس کرنا—*karná v.* to enjoy oneself.

بالع *ball'á* H. *n. m.* Enormous eater ; glutton.

بالغات *balápat*, A. *n. f.* Eloquence ; rhetoric ; maturity. [ornament worn in the septum.

بلاق *buláq*, T. *n. m.* The septum of the nose ; an

بلانا *biláná*, H. *v.* To vanish, disappear.

بلانا *buláná*, H. *v.* To call ; to invite ; to summon ; to sound (a huqqa).

بلوا *buláwá*, H. *n. m.* Calling ; invitation.

بلاہات *buláhat*, H. *n. f.* Calling ; bidding.

بلائی *bilái*, H. *n. f.* A female cat ; a grater for scraping pumpkin, etc.

بلائی لیںا *baláen lená*, H. *v.* To pass one's hands over another's head in token of drawing of all his calamities on oneself (generally practised by women).

بلبل *bulbul*, P. *n. m.* and *n. f.* A nightingale.

سیر ہر کنج چمن کرتے ہو تم نیر کے ساتھ
بلبل دل مجھے ایچان خیر دیتا ہے
(ناسخ) —

Sair-i-har kunj-i-chaman karte ho tum
gair ke sáth.

Bulbul-i-dil mujhe ai ján, khabar detá hai.

اپنی آغاز محبت کا خیال آتا ہے
دیکھتا ہوں کوئی بلبل جو گرفتار نہی
(ناسخ) —

Apní ágáze muhabbat ká khiyál átá hai.

Dekhá hū́ koí bulbul jo giratár nai.

بلبل *bulbulá*, बुल बुला, H. *n. m.* A bubble.

بلابالنا *balbaláná*, H. *v.* To ferment ; to effervesce ; to be inflamed with passion ; to make a noise from passion (a camel).

بلابلانا *bilbiláná*, H. *v.* To be uneasy ; to complain from pain or grief ; to lament ; to blubber ; to sob or cry violently.

بالتور *baltoṛ*, बलतोड़, H. *n. m.* A pimple ; a small boil.

بلاٹنا *bilaṭná*, H. *v.* To become vicious or worse ; to be lost ; to be effaced.

بلائی *bilṭi*, H. *n. f.* A bill of lading ; a railway receipt.

بالد *balad*, } A. *n. m.* A city ; a town ;
بالدا *balda*, } region.

بالدان *baldán*, see under بل Bal. [Gilead.

بالسان *balsán*, A. *n. m.* Balsam ; balm of

بالشت *bálišht*, P. *n. m.* A span.

بالغم *balgam*, A. *n. m.* Phlegm.

بالغمی *balghamí*, A. *adj.* Phlegmatic.

بلکنا *bilakná*, (विलखना), H. *v.* To weep ; to cry violently ; to wish or desire earnestly.

بلکہ *balki*, P. *adv.* Moreover ; but ; even ; also ; may ; rather ; on the contrary. [less.

بلا *bilallá*, विलह्या, H. *adj.* Foolish ; simple ; sense-

بلم *ballam*, H. *n. m.* A lance ; a spear. بلم بردار —*bardár*, *n. m.* a lancer ; a spearman.

بل *balam*, } S. *n. m.* A lover ; a husband.
بالما *balma*, }

بلانا *bilmáná*, H. *v.* To detain ; to allure ; to tantalize.

بلاص *bilamb*, विलम्ब, H. *n. m.* Delay ; slowness ; tardiness. [stay ; to delay.

بلاصبا *bilambná*, H. *v.* To procrastinate ; to blamter (*Corr. of English*) Volunteer.

بلنا *balná*, H. *v.* To burn.

بلند *buland*, P. *adj.* Elevated ; lofty ; raised ; sublime ; tall ; loud. بلند ارادہ—*eradá*, *adj.* Ambitious. بلند پایہ—*payá* *adj.* of exalted position. بلند حرصہ—*hausla*, *adj.* ambitious ; aspiring. بلند مرتبہ - بلند رتبہ—*rutba*, —*mar-taba*, high in rank or position. بلند کرنا—

karná, *v.* to lift ; to exalt ; to raise up. بلند
 هونا—honá, *v.* to mount ; to become high ; to
 climb up. نظر بلند—nazar, *adj.* of exalted
 views ; aspiring. بلند همتی—himmatí, *v.* mag-
 nanimity ; high-mindedness.
 بلندی bulandí, *P. n. f.* Elevation ; height ; lofti-
 ness ; exaltation.
 بلنی bilní, بیلنی, *H. n. f.* A sty ; the disorder
 in the eyelids. [tion ; mutiny.
 بلوا balwá, *P. n. m.* A tumult ; riot ; insurrec-
 tion. بلوا baluá, بلووا, *H. adj.* Sandy ; gritty.
 بلوالا balwála, بلوالا, } *H. adj.* Strong ;
 بلوان balwán, بلوان, } powerful.
 بلوانا bulwáná, *H. v.* To cause to call ; to send
 for.
 بلور billaur, *P. n. m.* Rock crystal ; crystal
 glass ; beryl. بلورسا—sá, crystalline.
 بلوری billurí, } *P. adj.* Made of crystal or
 بلورین billurin, } glass. [c.æstnut-tree.
 بلوط balút, *A. n. m.* An acorn ; an oak ; a
 بلوغت bulúg, بلوغت, *A. n. m.* Puberty ;
 maturity ; full age ; attaining of the mar-
 riageable age ; adolescence.
 بلوگنا bilokná, *H. v.* To see ; to behold ; to
 look at ; to perceive ; to observe.
 بلونا biloná, *H. v.* To churn.
 بلونی biloní, *H. n. f.* A churning-pot.
 بلهار balihar, بلهار, } *H. n. m. f.* Sacrifice.
 بلهاری balihári, بلهاری, } جانا—janá, *v.*
 to be sacrificed.
 بلهرا bílahrá, *H. n. m.* A kind of basket gener-
 ally used for holding betel-leaf.
 بلهری bilahrí, *H. n. f.* A ladle for taking out
 oil ; a small basket for holding betel-leaf.
 بلی bali, بلی, *H. adj.* Powerful ; strong.
 بلای bali, بلای, *H. n. f.* A prop ; a long pole or
 bamboo to steer or move a boat. بلای مارنا—
 márná, to propel or to steer a boat.
 بلی billí, *H. n. f.* The bolt of a door ; latch ;
 door catch.
 بلی billí, بلی, *H. n. f.* A female cat. بلیگی—
 bhigi ; *a. f.* a cunning fellow.
 بلے bale, *P. adv.* Yes ; true ; well ; right ; so.

بلای balaiyá lená, (see بلایین لینا Baláen lend)
 بلایات balaiyat, *A. n. f.* (*Plu.* of بلای Balá) Evils ;
 misfortunes ; calamities.
 بلایغ balig, *A. adv.* Eloquent.
 بلیندا balendá, *H. n. m.* A whirlwind ; a ridge-
 pole (of a cottage).
 بم bam, *H. n. f.* (*Corr.* of *Brahmá*) A term of
 salutation among Hindus or as an ejaculation
 addressed to Siva with the name Mahádeo
 (*e. g.*, bombam Mahádeo).
 بم bam, *P. n. m.* The bass part in music ; a
 bass or lowest string, or a drum having the
 deepest tone ; deep sound. بم مچانا—macháná,
 to make a noise.
 بم bam, *H. n. f.* Spring of water ; fountain ;
 pump ; shaft of a carriage ; a bomb. بم پس—
 pulis, *n. m.* a public latrine.
 بمان bimán, بیمان, *S. n. m.* A car or chariot of
 the gods (sometimes serving as a seat or
 throne and at others carrying them through
 the skies self-directed and self-moving).
 بمب bimb, بيمب, *H. n. m.* The disc of the sun or
 moon ; an image ; shadow.
 بمبا bambá, *H. n. m.* The spout of a fountain ;
 water-pump.
 بمجرب bamujarrad, *P. A. adv.* Instantly ; forth-
 with. [a great degree.
 بم مرتبه bamartaba, *P. adv.* To a degree ; to or in
 بمعه bama', *P. adv.* Together with ; along
 with.
 بمقتضای bamuqtazáe, *P. A. adv.* According to
 the requirements of ; in consequence.
 بمکنا bamakná, *H. v.* To swell.
 بم منزلت bamanzila, *P. adv.* In the place of ; in
 the station or degree ; instead ; *in loco*. بم منزلت
 باب—máñ báp, *in loco parentis*.
 بموجب bamújib, *P. adv.* By reason of ; on account
 of ; in pursuance of ; in accordance with ; in
 conformity with ; as per ; by ; on. بموجب
 حساب ذیل—hisáb zail, as per account at foot.
 بموجب دمه—daf'a, under section.
 بن ban, بن, *H. n. m.* Forest ; jungle ; a wood.
 بن ماکل—bás, *n. m.* banishment ; exile. بن ماکل

—mál, *n. m.* a garland of wild flowers reaching to the feet. **بنکئی**—kañi, fee paid for cutting timber in a forest. **بنکر**—kar, revenue from wood and forests; produce of forest lands.

بن bin, *A. n. m.* (contr. of **بن** Ibn) A son.

بن bin, *H. adv.* Without; exclusive to. **بن آئی** **مرنا**—ái marná, to die a premature or sudden death. **بن مارے تو بہ کرنا**—máre tauba kerná, to fear without a cause; to cry out before being hurt. **بن جانے**—jáne, unconsciously; unknowingly.

بن bun, *A. n. m.* Coffee not roasted and ground. (When ground it is called *Qahwa*).

بن bun, *P. n. f.* Foundation; basis; root; stem; bottom. **بن دندان**—i-dandán *n.* The gums. **بن گوش**—i-gosh; *n.* The soft part of the ear.

بننا bunná, **بونا** } *H. v.* To weave; to intertwine;
بننا binná, **بیننا** } to knit; to be picked; to be cleaned.

بننا banná, **بننا**, *H. v. i.* To be made; to be created; to be done or performed to be; built or constructed; to be composed; to be cooked; to be adorned; to be improved; to be; to become; to come right; to chime; to be feigned to be hoaxed. **بن پڑنا**—ban paṛná, to turn out well; to succeed. **بننا ٹھنا**—baná ṭhaná, to be elaborately dressed and adorned.

بننا baná, **بننا**, *H. n. m.* A bridegroom.

بننا baná, *H. adj.* Made; formed; finished; artificial; mock; fictitious; forged; fabricated. **بننا بننا**—banáyá, *adj.* ready made. **بننا چنا**—chuná, arranged; set in order. **بننا یا بننا رہنا**—yá bane rahná, to remain in attendance; to last long; to thrive; to prosper.

بننا biná, *P. n. f.* Edifice; foundation; basis; motive, origin. **بننے** binee muḥá-samat, cause of action. [by reason of.

بننا banábar, or binábar, *P. prep.* On account of; **بننا** banábarín, *P. conj.* On this account; therefore.

بنات binát, *A. n. f.* (*plu. of* **بنات** Bint). Daughters.

بنات النش banát-un-na'sh, *A. n.* The constellation of the Greater or Lesser Bear, consisting of seven stars, four of which are conceived to bear the resemblance of a bier (**نش** na'sh) and the remaining three to be the (**بنات** binát) daughters preceding it.

بناتی banátí, **بناتی**, *H. adj.* Made of *banat*; woollen.

بنادیر banádir, *P. n. m.* (*Plu. of* **بنادیر** Bandar). Ports; harbours.

بناسپتی banáspatí, (**بناسپتی**), *S. n. f.* Forest leaves; grass; herbage; vegetation.

بننا گوش binágosh, *P. n. m.* The lobe of the ear; the tip of the ear.

بننا banáná, *H. v.* To make; to prepare; to form; to shape; to build; to fabricate; to compose; to perform; to adjust; to reconcile; to dress (food); to pluck (a fowl); to mend; to repair; to mock; to feign.

بننا آنا ban áná, *H. v.* To be performed or effected; to be fortunate; to prosper; to succeed.

بننا banáo, *H. n. m.* Preparation; decoration; dressing; concord; reconciliation; understanding. **بننا کرنا**—karná, *v.* to adorn; to decorate.

بننا banáwat, *H. n. f.* Make; construction; structure; figure; shape; embellishment; contrivance; formation; fiction; invention.

بننا bináwat, *A. n. f.* Weaving; knitting; texture.

بننا banbá, *See* **بننا** Bambá.

بننا ban biláo, *S. n. m.* A wild cat.

بننا banat, **بننا**, *H. n. f.* Lace; riband studded with spangles.

بننا bint, *A. n. f.* A daughter. **بننا العنب**—ul'anab, daughter of the grape; wine.

بننا bintí, *H. n. f.* An apology; petition; solicitation; prayer; entreaty. **بننا کرنا**—karná, *v.* to implore; to entreat; to beg.

بننا banṭwáná, **بننا**, *H. v.* To distribute; to cause to be shared.

بننا banij (**بننا**), *H. n. m.* Trade; commerce; traffic; merchandise; transactions; barter; exchange.

بندجارا *banjárá*, बंजारा, H. n. m. A grain merchant; a carrier of grain.

بندجاري *banjári*, H. n. The wife of a *Banjára*; a kind of tent used by *Banjára*; *adj.* half-boiled.

بندجر *banjar*, बनजर, H. n. m. Waste land; barren or unproductive land. *بندجر جديد*—*jadíd*, n. m. land recently brought under cultivation after lying some time fallow. *بندجر خارج جمع*—*khárij-i-jama'*, waste land excluded from the rental. *بندجر قديم*—*qadim*, n. m. land left fallow for some years. *بندجر كمي*—*kamí*, n. f. abatement of rent in consideration of waste land.

بند *band*, P. n. m. A fastening; a bandage; a bond; a string; a dam; an embankment; discontinuance; a slip of paper; dodge; pledge; agreement; obstacle; impediment; imprisonment; captivity; roll; inventory; list; joint; knuckle; a verse or stanza, (as an affix) binder; fastener; putter, &c. *بند نعل* *na'l*—a farrier. *بند آب*—*á-ab*, embankment. *بند باندھنا*—*bándhná*, v. to check an inundation with dykes; to apply a bandage; to fasten. *بند بتائي*—*batái*, n. f. account of each share of assessment in grain. *بند برداشت*—*bardásht*, n. f. account of the share of an instalment to be paid by each villager. *بند پھانتا*—*phántá*, account of the shares of the liabilities of a village. *بند مين آنا*—*men áná*, v. to become a captive. *بند پکرتا*—*band pakarná*, to seize all the joints (rheumatism). *بند* *band*, H. *adj.* Shut; barred; locked up; prevented; checked; bound; closed; ceased; still; silent. *بند کرنا*—*karná*, v. to shut; to close; to lock up; to stop; to prevent; to discontinue; to confine; to arrest; to choke; to wind up an account. *بند ہونا*—*honá*, v. to be shut up or closed; to be finished; to come to an end; to be over; to cease to exist; to be abolished. *بند ھيضة*—*haiza*, n. m. choleric diarrhoea.

بندا *bundá*, बुंदा, H. n. m. Ear-ring.

بندو *bandar*, बंदर, H. n. m. A monkey; an ape.

بندر *bandar*, P. n. m. A city; an anchorage, a harbour; a port; an emporium.

بندري *bandari*, } H. n. f. A female monkey.
بندرييا *bandariya*, }

بندش *bandish*, P. n. f. The act or state of tying; binding; construction; composition; invention; preparing a false story; making up a false account of transactions; contrivance; artifice; stratagem; plot; conspiracy; a false charge; elegance of style. *بندش باندھنا*—*bándhná*, v. to contrive; to conspire.

بندکي *bundki*, बुंदकी, H. n. f. A little dot; a drop; a spot; a speck. *بند کي دار*—*dár*, dotted; spotted. *بندکي کي چھينت*—*ki chhínt* n. f. spotted chintz.

بندگان *bandagán*, P. n. m. (*Plu. of بندہ Banda*) Slaves; servants.

بندگي *bandagi*, P. n. f. A mode of salutation; compliment; slavery; service; worship; devotion; humility; *intf.* good-bye; thank you!

بندن *bandan*, (बन्दा), H. n. m. Ligament; praise; adoration; homage; obeisance; salutation. *بندن وار*—*wár*, a festoon of leaves and flowers on festive occasions.

بندوا *banduá*, (बंदुआ), H. n. m. A prisoner; a captive.

بندوبست *bandobast*, P. n. m. Settlement; regulation; management; arrangement; economy. *بندوبست استمراري*—*i-istimrarí*, permanent settlement. *بندوبست چند روزہ*—*i-chandroza*, a temporary settlement.

بندوق *bandúq*, T. n. f. A musket; a firelock; a gun. *بندوق بھرنا*—*bharná*, v. to load a gun or musket. *بندوق چھوڑنا يا چلانا*—*chhorná yá chalaná*, to discharge a gun; to shoot; to fire.

بندوقچي *bandúqchi*, T. n. m. A musketeer.

بندھ *bandh*, बंध, S. n. f. m. Binding; bondage; imprisonment.

بندہ *bandah*, P. n. m. A servant; a bondsman; a slave. *بندہ پرور*—*parwar*, n. m. cherisher of servants; a term of respect used in addressing a superior. *بندہ پروري*—*parwarí*, n. f. cherishing of servants. *بندہ درگاہ*—*i-dargáh*, the slave of a threshold. *بند زادة*—*záda*, your

slave's son. بندہ فرمان—i-farman; obedient.
بنوار بندہ—nawáz, n. m. Cherisher of servants
or dependants; patron.

بندھا bandhá, بंधा, H. *adj.* Fastened; tied;
bound; continuous; usual; ordinary; shut
up. بندھا ہوا خرچ—huá kharch, n. m. regular
expenses. بندھی مٹھی bandhí muṭṭhí, *adv.*
peaceably; quietly; undisclosed intention.

زبان رکھتے غنچے سے اپنے دھن میں

بندھی مٹھی چلا جا اس چمن میں

(میار)

Zuban rakh gupche sáṅ apne dehan men,
Bandhí muṭṭhí chalá já is chaman men.

Your tongue, keep in your mouth, as bud as
yet unblown.

And silently this world go through, your
heart unshown.

بندھانی bandhání, H. n. m. One whose business
is to carry stone, timber, etc. upon his
shoulders; a cooly.

بندھائی bandháí, बन्धई, H. n. f. Binding; fas-
tening; price paid for binding.

بندھک bandhak, बन्धक, H. n. m. A pledge; a
pawn; a mortgage.

بندھن bandhan, बंधन, H. n. m. Fastening; bond-
age; imprisonment; obstacle; hindrance.

بندھو bandhuá, बंधुआ, H. n. m. A slave; a
prisoner.

بندھو bandhú, बंधु, H. n. m. A friend; a relative;
a prisoner. [or tied.

بندھوانا bandhwána, H. v. To cause to be bound

بندھج bandhej, बन्धेज, H. n. m. Stability;
steadiness; parsimony; prohibition; abste-
nence; practice; usage; custom.

بندی bindí, बिन्दी, H. n. f. An ornament worn on
the forehead; a dot; a cypher.

بندی bandí, H. n. m. Prisoner; captive; slave.
بندی گھر—ghar, n. m. Prison.

بندی bandí, P. n. f. Binding; shutting construc-
tion; a female slave or servant; prisoner;
بندیخانہ—khána, a prison; a jail.

بندییا bundiyá, बुंदिया, H. n. f. A kind of sweet-
meat.

بندآ bandá, बंदा, H. n. m. Mistletoe; a kind of
epidendron.

بندتی bandí, H. n. f. A waistcoat; a short robe.

بندیری banderí, बंदेरी, H. n. f. The ridge of a
house.

بنس bans, (वंश); H. n. m. Race; descendant;
family; lineage.

بنس والی bapsáwalí, वंशावली, S. n. f. Genealogy;
line of a family; genealogical tree (*Shajra*).

بنس لوچن banslochan, बंसलोचन, H. n. m. A
white flinty substance found in the joint of
the bamboo (*tabáshir*); bamboo-manna or
sugar. بنسوازی—wazí, bamboo plantation;
forest of bamboos.

بے نسبت be banisbat, P. *prep.* In respect of; with
relation to; in comparison with.

بانی bansi, बंसी (वंशी), H. n. f. A flute; fishing-
hook.

بنفشہ banafsha, P. n. m. The violet.

بنکر bankar, बनकर, H. p. *part.* Having become;
conj. and *adv.* as; like (as, وہ, جیسے)
دوست بنکر ملے جے (as, وہ, جیسے)
Dost bankar mile jule raho). n. m. Produce of
forest.

بن کھنڈ bankhand, बन-खण्ड, H. n. m. A forest.

بنگ bang, P. n. f. Hemp; *connabis sativa*
(*bhang*).

بنگالی bangáí, बंगाली, H. m. The Bengalee lan-
guage; a native of Bengal; *adj.* relating to
Bengal; of Bengal.

بنگلا bangla, बंगला, H. n. m. A thatched house;
a summer-house; a kind of betel-leaf; the
Bengali language.

بنگی bangí, H. n. f. A humming top; a kind of
plaything (*bhaunra, bingi chakai*).

بنمانس banmánus, (बनमानुष), S. n. m. A wild
man; an ourang-outang.

بنواس banwás, बनवास, H. n. m. Living in a wood.

بنوانا banwána, H. v. To cause to be made, pre-
pared, or built. [get a thing woven.

بنوانا bunwána, H. v. To cause to be woven; to

بنوائی banwái, H. n. m. Price paid for making
anything.

بنوائی bunwái, H. n. f. Price paid for weaving.

بندوں binaulá, H. n. m. The cotton seed. بندوں
چاہنا—ch. bna, v. say unpleasant things.
بندوں beavli; H. n. f. Small hailstone.
بندوں banwaiyá, बनवैया, H. n. m. A maker.
بندی banní, बन्नी, H. n. f. Portion of grain given
to labourers as remuneration for reaping the
harvest.
بندی baní, n. m. Sons. بندی آدم—adam, n. sons
of Adam; man. بندی اسرائیل—Isráíl, children
of Israel; Isaelites.
بندی baniyá, बनिया, H. n. m. A shop-keeper; a
grainseller; a vendor of provision, &c.
بندی buniyad, P. n. f. Foundation; basis;
origin. بندی دالنا—dálná, v. to lay a founda-
tion.
بندی banainí yá baniyáin, H. n. f.
Wife of a Baniya.
بندی banelá, बनेला, H. adj. Wild; savage.
بندوں bú, P. n. f. Smell; odour; scent.
آپ اپنے عیب سے ہوتا نہیں واقف کوئی
جیسے: ہر اپنے دھن کی آتی ہے کم ناک میں
(ناسخ)—
Ap apne 'aib se hotá nahín wáqif koi,
Jaise bú apne dahan kí, áti hai kam nák me.
One cannot realise the extent of his own
shortcomings because he is not made aware
of them, just as he is unable to perceive
the offensive odour that issues from his
mouth because it does not directly affect his
own organ of sense. [father's side.
بندوں búá, बूआ, H. n. f. Sister; an aunt by the
sister. बुलवास, A. adj. Whimsical; fickle;
n. m. a blockhead. [hemorrhoids.
بندوں bawasír, A. n. f. plu. The piles or
hemorrhoids. बुल'अजब, A. adj. Wonderful; mar-
vellous.
بندوں boáná, बोआना, H. v. To cause to sow.
بندوں biwái, बिवाई, H. n. f. A kibe; chilblain.
Prov. جسکے نہ پہتے ہوائی وہ کیا جانے پیر پرانی
jiske na phatē biwái wuh kyá jáne píř parái.
One who has not personally experienced
suffering cannot understand the sorrows of
others or sympathise with them.
بندوں boái, n. f. The act of sowing; seed time.

بندوں búbak, T. n. m. An old simpleton. (پیر
احمق Pir ahmaq). [superior rank.
بندوں búbú, H. n. f. A sister; a lady; one of
two.
بندوں búta, बुता, H. n. m. Strength; power;
ability.
بندوں butát, H. n. m. Account of household
expenses; marketing charges.
بندوں botám, E. n. m. A button.
بندوں bútah, P. n. m. A crucible; a melting
pot; a spreading bush.
بندوں bútimár, P. n. m. A heron; a miser.
بندوں bot, बोट, H. n. f. An earthen vessel; green
gram.
بندوں búta, H. n. m. A flower, particularly one
worked on the cloth or painted on paper; a
bush; a shrub. بندا کارہنا—kárhna, to work
flowers on cloth; to embroider. بندا قد—qad,
of small stature. بندا دار—bútedár, flowered;
chequered. [wood.
بندوں bová, H. n. m. A morsel of meat; a log of
wood.
بندوں búti, बुटी, H. n. f. Drugs; flowers; roots.
بندوں vidyá, n. f. Science of botany
(علم نباتات—'ilm-*nabatat*).
بندوں botí, बोटी, H. n. f. A small piece or slice
of flesh, or meat. بندا لہنا—utár lená,
to snap off a piece of flesh. بندا لہنا—
boteyan-uráná; to cut into pieces. بندا لہنا
—botí pharákná, to throb in every vein.
بندوں charhna, بندا چارہنا—charhna, to become fat. بندا
کاتنا—botiyán kátná, to make mincemeat of.
بندوں giní—napá shorbá, Prov. بندا گنی
—napá shorbá, Cut your coat according to your cloth;
limited income; small pay.
بندوں bawajah, P. adv. By reason of; for.
بندوں bojh, बोझ, H. n. m. A load; burden.
بندوں utarná, بندا اُتارنا—utarná, To set down a burden;
to relieve oneself of a responsibility. بندا
—sar par honá, to be under an obli-
gation. بندا اُٹھانا—uṭháná, to lift up a
burden.
بندوں bújh, बुझ, H. n. f. Understanding; com-
prehension; an answer to a riddle.

بہار *bihár*, H. *n. m.* Name of a province near Bengal ; diversion ; amusement ; recreation. بہار کرنا—*karná*, to divert ; to stroll, &c.

بہار *bhár*, S. *n. m.* A load ; burden ; weight ; wood.

بہارت *bhárát*, भारत, S. *n. m.* The heroic poem which contains the account of Judhishtira's war (*Mahabharat*). بہارت وارش یا بہارت کھنڈ—*warsh yá—khand*, India so called from Bharata, son of Dushyant its first Rájá.

بہارت *buharan*, बुहारन, H. *n. f.* Sweepings.

بہارت *buhárná*, बुहारना, H. *v.* To sweep ; to clean

بہاری *buhári*, H. *n. f.* A broom.

بہاری *bhári*, भारी, H. *adj.* Heavy ; weighty ; ponderous ; big ; important ; valuable ; large ; great ; fat ; thick ; grave ; steady ; firm ; patient ; strong ; loud ; burdensome ; hard ; difficult. آواز بہاری—*áwáz*, *n. f.* hoarse or deep sound. بہاری گم—*bharkam*, *adj.* grave ; solemn ; serious. بہاری لگنا—*lagná*, to feel the burden of ; to be tedious or tiresome. بہاری ہونا—*honá*, to be heavy.

بہاری *bahári*, P. *adj.* Pertaining to the spring ; vernal. [woman.

بہاریا *bharyá*, भार्या, S. *n. f.* A wife ; a married

بہار *bhár*, भाड़, H. *n. m.* A fire-place for parching grains ; a furnace ; a large oven. بہار جہ کرنا—*jhokná*, *v.* to make a fire of dry leaves, &c., for parching grains. (fig.) to take up a mean occupation. بہار میں جہ کرنا—*men jhokná*, *v.* to throw into the fire ; destroy ; to waste.

بہار *bhára*, भाड़ा, H. *n. m.* Hire ; fare ; freight ; rent. بہارے کا تتر—*ká tattú*, *n. m.* hired pony ; the slave of necessity. بہارتی *bharetí*, *n. m.* A tenant ; lessee.

بہار *bhákha*, भाषा, S. *n. f.* Speech ; language ; dialect ; the Hindi language.

بہار *bhákhná*, भाखना, (Col.) H. *v.* To speak ; to say ; to utter.

بہار *bihág*, बिहाग, H. *n. m.* Name of a musical mode.

بہار *bhág*, भाग, (भाग्य), H. *n. m.* Fortune ; destiny ; fare ; lot ; good fortune ; share ; portion ;

division. بہاگ بٹائی—*bataí*, allotment of shares. بہاروسا—*bharosá*, *n. m.* dependence on fate ; consolation. بہاری پھرتنا—*phútná*, to be unfortunate. بہار جگنا—*jagná*, to be in luck ; to be fortunate. بہار کرنا—*karná*, *v.* to divide ; to allot ; to distribute.

بہار *bhág*, भाग, H. *n. f.* Flight. بہارگا بہار *bhágá*—, H. *n. m.* Flight ; running away ; stampede ; helter-skelter. بہار جانا—*jáná*, *v.* to run away ; to abscond. [fly ; to escape.

بہار *bhagná*, H. *v.* To run away ; to flee ; to bhágnán, (भागवान), H. *adj.* Fortunate ; rich ; lucky. [spike ; spear ; lance.

بہار *bhál*, माल, H. *n. f.* The point of an arrow ;

بہار *bhálá*, माला, H. *n. m.* A spear ; a lance. بہار بردار—*bardár*, *n. m.* a spearman ; lancer.

بہار *bhálú*, मालू, H. *n. m.* A bear.

بہار *bhanu*, मानु, H. *n. m.* The beams or rays of the sun ; the sun ; brightness ; master ; sovereign.

بہار *bihán*, बिहान, (Col.) H. *n. m.* Morning ; dawn ; morrow.

بہار *bháná*, भाना, H. *v.* To be pleased ; to suit ; to fit ; to be agreeable ; to seem good or befitting.

بہار *baháná*, बहाना, H. *v.* To cause to flow ; to shed ; to set afloat or adrift ; to sell cheap ; to waste. [know ; to guess.

بہار *bhápná*, भाँपना, H. *v.* To see through ; to بہانت *bhánt*, भाँति (भाँति), H. *n. f.* Manner ; method ; mode ; kind ; way ; sort ; order ; variety بہانت بہانت *bhánt bhant*, *adj.* various ; diverse ; multifarious. بہانت بہانت *achchí yá bhali*—, *adv.* well ; thoroughly ; soundly. [brinjal (*baigan*).

بہار *bhántá*, भाँटा, H. *n. m.* The egg-plant ;

بہار *bhánj*, भाँज, H. *n. f.* Twisting ; twist.

بہار *bhánja*, भाँजा, H. *n. m.* A sister's son ; a nephew.

بہار *bhánjáná*, H. *v.* To twist ; to put into circular motion ; to turn on a lathe ; to wave ; to break.

بہار *bhánjí*, भाँजी, H. *n. f.* Sister's daughter ; niece ; hindrance ; interruption ; prevention ;

tale-bearing. مار بہانہی—már, *n. m.* an interrupter ; a marplot. مارنا بہانہی—márná, *v.* to interrupt ; to put a stop to ; to frustrate ; to tell tales.

بہاندہ: bhánd, *H. n. m.* An actor ; buffoon ; a jester ; a mimic.

بہاندہ: bhándá, भाँडा, *S. n. m.* Earthen pot or vessel ; wares ; goods ; equipage. بہاندہ پورنا: bhánda pórna, —bhútná, *v.* to be disclosed (a secret) ; to betray a secret.

بہانگہ: bhagg, भाँग, *H. n. f.* An intoxicating drug or potion made from hemp leaves.

بہانماتی: bhánmati, भानमती, *H. n. f.* A female juggler ; an actress.

بہانور: bhánwar, भाँवर, } *H. n. f.* Walking of
بہانوری: bhánwari भाँवरी, } the bride and bridegroom round the marriage pavilion.

بہانور پارتنا: bhánwar párná, } *H. v.* To walk
بہانوری پھرتنا: bhánwri phirná, } round about ; to circle.

بہانہ: baháná, *P. n. m.* Plea ; pretence ; excuse ; feint ; evasion ; feign ; cause ; means. بہانہ ساز: sáz, *n. m.* an impostor. بہانہ کرنا— to evade.

بہاؤ: bháo, भाव, *H. n. m.* Price ; value ; market price ; natural emotion ; signification ; sentiment ; will ; disposition ; idea ; blandishment ; gesticulation ; method ; love ; affection. بہاؤ بتانا: batáná, *v.* to gesticulate. بہاؤ اترنا - گرنا یا گھومتنا— utarná, girná yá ghatná, *v.* to fall in price. بہاؤ چڑھنا: chárhna, *n.* to rise in price. [current ; flux.

بہاؤ: baháo, बहाव, *H. n. m.* Flow ; flood ; effusion ; بہاؤ: bháwaj, bhábhi, bhauji, *H. n. f.* Elder brother's wife ; sister-in-law.

بہاوانہ: bháwaná, भावना, *S. n. f.* Mental perception ; contemplation ; craving ; longing ; desire ; wish ; apprehension ; fancy ; thought ; request ; application.

بہاوی: bhávi, भावी, *H. adj.* What is to come ; destiny ; the future ; that which is decreed. بہاوی پس: bas, dependent or subject to the predestiny.

بہائی: bhái, भाई, *H. n. m.* Brother ; comrade ; a companion. بہائی بند: band, *n. m.* brothers ; kindred ; relation ; kinsmen ; friends.

بہائی بندی: bhái bandi, } *H. n. f.* Brotherhood ;
بہائی چارہ: bháichará, } fraternity. بہائی چچیرا: chacherá bhái, *n. m.* cousin. بہائی دودھ: doodh—, foster brother. بہائی ساگ: sagá— own brother. بہائی سوتیل: sautelá—, step brother. بہائی گرو: guru— followers of the same spiritual guide.

بہائی: biháí, *H. n. f.* A spirit supposed to whisper alternately sad and pleasing things in the ears of infants, which is the cause of their laughing and crying while asleep, or awake.

بہاؤ: bhabbar, भबड़, *H. n. m.* Confusion ; tumult ; noise ; panic. بہاؤ مچنا: machná, to be panic-stricken ; to be alarmed.

بہاؤ: bhabak, भमक, *H. n. f.* A sudden burst of flame, a sudden emission of a smell.

بہاؤ: bhabká, भमका, *H. n. m.* A still ; an alembic ; a blast from a furnace ; a kind of drinking vessel.

بہاؤ: bhabkáná, *H. v.* To kindle ; to light ; to enrage ; to spur a horse ; to pour out ; to gush forth.

بہاؤ: bhabakná, *H. v.* To be enraged ; to become hot ; to catch fire ; to roar ; to boil.

بہاؤ: bhabkí, भक्ती, *H. n. f.* Threat ; menace. بہاؤ بندر: bandar—, a threat like that of a monkey ; a false menace to frighten one.

بہاؤ: bhabút, भभूत, *H. n. f.* Ashes of cowdung which ascetics or jogis rub over their bodies.

بہاؤ: bihbúdi, *P. n. f.* Well-being ; welfare ; health ; vigour.

بہاؤ: bhabúká, *H. n. m.* Blaze ; flame ; *adj.* flaming ; blaze ; glowing (as a live coal) ; shining ; bright ; splendid ; beautiful. بہاؤ ہونا—honá, *v.* to turn red with rage.

بہاؤ: bhabakná, भबकना, } *H. v.* To be enraged ;
بہاؤ: bhapakná, भपकना, } to become hot ; to catch fire ; to burst into flame ; to roar ; to boil. [mentation ; vapour bath.

بہاؤ: bhapará, *H. n. m.* Steam ; vapour ; for-

بہار *bihár*, H. *n. m.* Name of a province near Bengal ; diversion ; amusement ; recreation. بہار کرنا—*karná*, to divert ; to stroll, &c.

بہار *bhár*, S. *n. m.* A load ; burden ; weight ; wood.

بہارت *bhárát*, भारत, S. *n. m.* The heroic poem which contains the account of Judhishtira's war (*Mahabhárat*). بہارت وارش یا بہارت کہنتہ—*warsh yá—khand*, India so called from Bharata, son of Dushyant its first Rájá.

بہارت *buharan*, بھارتن, H. *n. f.* Sweepings.

بہارتنا *buhárná*, بھارتنا, H. *v.* To sweep ; to clean

بہاری *buhári*, H. *n. f.* A broom.

بہاری *bhári*, भारी, H. *adj.* Heavy ; weighty ; ponderous ; big ; important ; valuable ; large ; great ; fat ; thick ; grave ; steady ; firm ; patient ; strong ; loud ; burdensome ; hard ; difficult. آواز بہاری—*áwáz*, *n. f.* hoarse or deep sound. بہار کم—*bharkam*, *adj.* grave ; solemn ; serious. لگنا بہاری—*lagná*, to feel the burden of ; to be tedious or tiresome. ہونا بہاری—*honá*, to be heavy.

بہاری *bahári*, P. *adj.* Pertaining to the spring ; vernal. [woman.

بہاریا *bharyá*, भार्या, S. *n. f.* A wife ; a married

بہار *bhár*, भाड़, H. *n. m.* A fire-place for parching grains ; a furnace ; a large oven.

بہار کرنا *—jhorná*, *v.* to make a fire of dry leaves, &c., for parching grains. (fig.) to take up a mean occupation. مین جھوننا *—men jhorná*, *v.* to throw into the fire ; destroy ; to waste.

بہار *bhára*, भाड़ा, H. *n. m.* Hire ; fare ; freight ; rent. کتا تھڑے کا *—ká tathú*, *n. m.* hired pony ; the slave of necessity. بہارتی *bharetí*, *n. m.* A tenant ; lessee.

بہار *bhákha*, भाषा, S. *n. f.* Speech ; language ; dialect ; the Hindi language.

بہار *bhákhná*, भाखना, (Col.) H. *v.* To speak ; to say ; to utter.

بہار *bihág*, बिहाग, H. *n. m.* Name of a musical mode.

بہار *bhág*, भाग, (भाग्य), H. *n. m.* Fortune ; destiny ; fare ; lot ; good fortune ; share ; portion ;

division. بتائی ہاگ—*batái*, allotment of shares. ہاگ ہوسا—*bharosá*, *n. m.* dependence on fate ; consolation. بہار پھوٹنا—*phútná*, to be unfortunate. ہاگ جگنا—*jagná*, to be in luck ; to be fortunate. ہاگ کرنا—*karná*, *v.* to divide ; to allot ; to distribute.

بہار *bhág*, भाग, H. *n. f.* Flight. ہاگ ہاگ—*bhágá—*, H. *n. m.* Flight ; running away ; stampede ; helter-skelter. ہاگ جانا—*jáná*, *v.* to run away ; to abscond. [fly ; to escape.

بہار *bhágna*, H. *v.* To run away ; to flee ; to bhágwán, (भागवान), H. *adj.* Fortunate ; rich ; lucky. [spike ; spear ; lance.

بہار *bhál*, भाल, H. *n. f.* The point of an arrow ;

بہار *bhálá*, भाला, H. *n. m.* A spear ; a lance.

بہار ہاردار—*bardár*, *n. m.* a spearman ; lancer.

بہار *bhálú*, भालू, H. *n. m.* A bear.

بہار *bhanu*, भानु, H. *n. m.* The beams or rays of the sun ; the sun ; brightness ; master ; sovereign.

بہار *bihán*, बिहान, (Col.) H. *n. m.* Morning ; dawn ; morrow.

بہار *bháná*, भाना, H. *v.* To be pleased ; to suit ; to fit ; to be agreeable ; to seem good or befitting.

بہار *baháná*, बहाना, H. *v.* To cause to flow ; to shed ; to set afloat or adrift ; to sell cheap ; to waste. [know ; to guess.

بہار *bhápna*, भांपना, H. *v.* To see through ; to

بہار *bhánt*, भाँत (भाँति), H. *n. f.* Manner ; method ; mode ; kind ; way ; sort ; order ; variety بہانت بہانت *bhánt bhant*, *adj.* various ; diverse ; multifarious. اچھی یا بھلی بہانت *—achhi yá bhali—*, *adv.* well ; thoroughly ; soundly. [brinjal (*baigan*).

بہار *bhántá*, भाँटा, H. *n. m.* The egg-plant ;

بہار *bhánj*, भाँज, H. *n. f.* Twisting ; twist.

بہار *bhánja*, भाँजा, H. *n. m.* A sister's son ; a nephew.

بہار *bhánjna*, H. *v.* To twist ; to put into circular motion ; to turn on a lathe ; to wave ; to break.

بہار *bhánji*, भाँजी, H. *n. f.* Sister's daughter ; niece ; hindrance ; interruption ; prevention ;

tale-bearing. مار بھانجی—már, *n. m.* an interrupter ; a marplot. مارنا بھانجی—márná, *v.* to interrupt ; to put a stop to ; to frustrate ; to tell tales.

بھانڈ: bhánd, *H. n. m.* An actor ; buffoon ; a jester ; a mimic.

بھانڈا: bhándá, भाँडा, *S. n. m.* Earthen pot or vessel ; wares ; goods ; equipage. بھانڈا پھرتنا: bhándá phartná, *v.* to be disclosed (a secret) ; to betray a secret.

بھانگ: bhāng, भाँग, *H. n. f.* An intoxicating drug or potion made from hemp leaves.

بھانماتی: bhánmati, भानमती, *H. n. f.* A female juggler ; an actress.

بھانوار: bhánwar, भाँवर, } *H. n. f.* Walking of
بھانواری: bhánwari भाँवरी, } the bride and bridegroom round the marriage pavilion.

بھانوار پارتنا: bhánwar párná, } *H. v.* To walk
بھانواری پھرتنا: bhánwari phirtná, } round about ; to circle.

بھاننا: baháná, *P. n. m.* Plea ; pretence ; excuse ; feint ; evasion ; feign ; cause ; means. بھاننے: bahánné, *n. m.* an impostor. بھاننا کرنا: bahánná karna, *v.* to evade.

بھا: bháo, भाव, *H. n. m.* Price ; value ; market price ; natural emotion ; signification ; sentiment ; will ; disposition ; idea ; blandishment ; gesticulation ; method ; love ; affection. بھانا: bhána, *v.* to gesticulate. بھاننا: bhánná, *v.* to fall in price. بھاننا چرنا: bhánná charná, *n.* to rise in price. [current; flux.

بھاء: baháo, बहाव, *H. n. m.* Flow ; flood ; effusion ; بھاء: bháwaj, bhábhi, bhauji, *H. n. f.* Elder brother's wife ; sister-in-law.

بھاوننا: bháwaná, भावना, *S. n. f.* Mental perception ; contemplation ; craving ; longing ; desire ; wish ; apprehension ; fancy ; thought ; request ; application.

بھابی: bhávi, भावी, *H. adj.* What is to come ; destiny ; the future ; that which is decreed.

بھاس: bas, *bas*, dependent or subject to the predestiny.

بھائی: bhái, भाई, *H. n. m.* Brother ; comrade ; a companion. بھائی بند: bhái band, *n. m.* brothers ; kindred ; relation ; kinsmen ; friends.

بھائی بندی: bhái bandi, } *H. n. f.* Brotherhood ;
بھائی چارا: bháichará, } fraternity. بھائی چاچرا: bhái chacherá, *n. m.* cousin. بھائی دودھ: bhái doodh—, foster brother. بھائی ساگا: bhái sagá— own brother. بھائی سوتلیا: bhái sautelá—, step brother. بھائی گرو: bhái guru— followers of the same spiritual guide.

بھائی: bhái, *H. n. f.* A spirit supposed to whisper alternately sad and pleasing things in the ears of infants, which is the cause of their laughing and crying while asleep, or awake.

بھاب: bhabar, भबड़, *H. n. m.* Confusion ; tumult ; noise ; panic. بھاب مچنا: bhab machná, *v.* to be panic-stricken ; to be alarmed.

بھابک: bhabak, भबक, *H. n. f.* A sudden burst of flame, a sudden emission of a smell.

بھابکا: bhabká, भबका, *H. n. m.* A still ; an alembic ; a blast from a furnace ; a kind of drinking vessel.

بھابکانا: bhabkáná, *H. v.* To kindle ; to light ; to enrage ; to spur a horse ; to pour out ; to gush forth.

بھابکنا: bhabakná, *H. v.* To be enraged ; to become hot ; to catch fire ; to roar ; to boil.

بھابکی: bhabkí, भबकी, *H. n. f.* Threat ; menace. بھابکی بندر: bhabkí bandar—, a threat like that of a monkey ; a false menace to frighten one.

بھابوت: bhabút, भभूत, *H. n. f.* Ashes of cowdung which ascetics or jogis rub over their bodies.

بھابودی: bibbúdi, *P. n. f.* Well-being ; welfare ; health ; vigour.

بھابوکا: bhabúká, *H. n. m.* Blaze ; flame ; *adj.* flaming ; blaze ; glowing (as a live coal) ; shining ; bright ; splendid ; beautiful. بھابوکا ہونا: bhabúka honá, *v.* to turn red with rage.

بھابکنا: bhabakná, भबकना, } *H. v.* To be enraged ;
بھاپکنا: bhapakná, भपकना, } to become hot ; to catch fire ; to burst into flame ; to roar ; to boil. [mentation ; vapour bath.

بھاپارا: bhapára, *H. n. m.* Steam ; vapour ; for-

بہت *bahut*, H. *adj.* Much ; many ; more ; most ; excessive ; copious. *n. m.* abundance ; excess ; plenty ; sufficiency ; *adv.* very ; very much ; largely ; excessively ; enormously ; exceedingly ; intensely. بہت اچھا یا خوب *bahut achchhá yá khúb*, *adv.* very well ; very good. بہت ٹھیک — *thik*, *adv.* all right ; quite right. بہت سا — *sá*, a great deal ; rather too much. بہت کرکے — *karke*, *adv.* for the most part ; frequently.

بہتا *bahatá*, بھتا, H. *adv.* Running ; afloat ; gliding away. بہتے پانی میں ہاتھ دھونا *bahte páni meñ háth dhoná*, to attend to one's own business while the opportunity is favourable ; to make hay while the sun shines ; to swim with the tide.

بہتا *bhattá*, بھتا, H. *n. m.* Travelling allowance ; additional allowance.

بہتات *buhatát*, बहुतायत, H. *n. f.* Abundance ; excess ; plenty.

بہتر *bhatár*, भतर, H. *n. m.* A husband.

بہتان *buhatán*, A. *n. m.* Calumny ; false accusation. لگانا - جڑنا - باندھنا — *bándhna*, *jorná*, *láganá*, *v.* to calumniate ; to slander ; to charge falsely.

بہتر *bihatar*, P. *adj.* Better ; excellent ; preferable ; superior.

بہتر *bahattar*, H. *adj.* Seventy-two.

بہتری *bihitari*, P. *n. f.* Welfare ; improvement ; advantage.

بہتانا *bhutná*, भूतना, H. *n. m.* A small devil ; a demon ; ghost.

بہتہا *bhutahá*, भूतहा, H. *adj.* Frequented by a devil ; possessed by a ghost ; devilish.

بہتنی *bhutní*, H. *n. f.* A female demon ; an old hag. [nephew.

بہتیجا *bhatijá*, भतीजा, H. *n. m.* Brother's son ;

بہتیجی *bhatiji*, H. *n. f.* Brother's daughter ; niece. [much.

بہتیرا *bahutera*, बहुतेरा, H. *adj.* Many ; very

بہتا *bhitá*, H. *n. m.* A lair ; a den ; a hovel ; a hole.

بھٹا *bhuṭṭá*, भुट्टा, H. *n. m.* Indian corn ; maize. بھٹا سا اڑنا — *sá urná*, to be cut off clean with one stroke.

بھٹاچار *bhaṭṭácharj*, भट्टाचार्य, H. *n. m.* The most learned of the learned.

بھٹکا *bhaṭká*, H. *adj.* Astray ; wandering ; lost.

بھٹکانا *bhaṭkáná*, H. *v.* To mislead ; to deceive ; to lead astray. بھٹکا پھرنانا *bhaṭaktá phirná*, to go wandering about.

بھٹکائییا *bhaṭkaiyá*, भटकैया, H. *n. f.* The name of a prickly wild plant bearing yellow flowers.

بھٹکانا *bhaṭkáná*, भटकना, H. *v.* To go astray ; to wander ; to lose one's way ; to miss the right path.

بھٹھا *bhaṭṭhá*, भट्ट, H. *n. m.* An oven ; a kiln ; a furnace.

بھٹتی *bhaṭṭi*, भट्टी, H. *n. f.* A furnace ; a kiln ; a distillery ; alembic ; still ; a washerman's chuldron for boiling clothes. بھٹتی چھانا — *chaháná*, *v.* to boil clothes for cleaning.

بھٹییارا *bhaṭiyára*, भटियारा, H. *n. m.* } An innkeeper ;
 بھٹییاری *bhaṭiyári*, H. *n. f.* } a baker ; a cook.

بھجا *bhuja*, भुजा, S. *n. m. f.* The arm ; a side of a triangle.

بہجت *bahjat*, A. *n. f.* Pleasure ; joy ; beauty ; excellence.

بہجان *bhajan*, भजन, H. *n. m.* A sacred song ; a hymn ; worship. بہجان — *bháó*, kind offices ; attention to the needs of others. بہجان کرنا — *karná*, *v.* to worship ; to say prayers ; to chant a hymn.

بہجانا *bhajná*, H. *v.* To worship ; to say prayers ; to count one's beads ; to adore ; to chant a hymn.

بھجنگ *bhujang*, भुजंग, S. *n. m.* A serpent commonly the cobra de capello. بھجنگ کالا — *kálá*, very black.

بھجنگا *bhujangá*, H. *n. m.* A jet-black forktailed bird, commonly called the king crow ; a shrike. [send.

بھجوانا *bhijwáná*, भिजवाना, H. *v.* To cause to

بھجھا: bhujiá, भुजिया, (Col.) H. n. f. Fried greens or pot-herb; fried rice.

بھجھا: bhuch, भुच, (Col.) H. adj. Barbarous; rude; ignorant; uncivilised.

بھچھا: bhachak, bhuchak, bhichak, H. adj. Alarmed; startled; astonished; panic-stricken. بھچھا:—rahná, v. to be suddenly amazed or astonished.

بھچھکنا: bhuchkáná, भुचकाना, v. To astonish; to startle; to amaze; to take by surprise; to scare.

بھچھکنا: bhuchakná, v. To be astonished.

بھچھک: bhichchuk, भिचुक, H. n. m. A beggar.

بھچھنا: bhichná. To be crushed; to be squeezed.

بھد: bhad, H. n. f. The sound of anything falling on soft ground; a crash; a slap; a thud; a thump. بھد سے گرنے—se giraná, to fall with a thud.

بھدھا: bhaddá, H. adj. Awkward; clumsy; stupid; heavy; slow; sluggish.

بھدھکا: bhadáká, भदाका, H. n. m. A sound.

بھدھکا: bhad bhadáhat, H. f. Sound made by the fall of fruit.

بھر: bahar, P. pre. For; on account of.

بھر: bhar, भर, H. adj. Full; as much as; as far as; all; whole; enough; at most. بھر پانا—páná, v. i. to be paid in full; to be satisfied; to get one's deserts. بھر پائی—pái, receipt in full. بھر پور—púr, quite full; brimful; overflowing; quite enough. بھر پیٹ—peṭ, bellyful. بھر چھان—chhan—, in a moment. بھر دن din—, the whole day long. بھر مقدر—maqḍúr, to the best of one's power. بھر سک—sak, adv. as far as possible; with all one's might. بھر سیر ser—, one seer. بھر کوس kos—, fully a kos. بھر مہینہ mahina—, during a whole month. بھر عمر 'umr—, during one's all lifetime.

بھرا: bhará, H. adj. Full; replete. بھرا پورا—púrá, adj. full; filled; prosperous; fortunate; wealthy. [heedless; inattentive.

بھرا: bahrá, बहरा, H. adj. Deaf; hard of hearing;

بھرا: bharrá, भर्रा, (Col.) H. n. m. Excitement.

بھرا: machná yá parná, tumult to raise; to be panic-stricken. بھرا چڑھانا—bharre-par-charháná; v. t. to stir up; to excite. [husky.

بھرا: bharráná, H. v. To become hoarse or

بھرا: bhrátá, भ्राता, S. n. m. Brother.

بھرا: bharáná, H. v. To cause to fill.

بھرا: bharái, H. n. f. The act of filling; stuffing; the price for drawing water.

بھرا: bhurbhurá, H. adj. Dry and powdery; crispy.

بھرا: bhurbhuráná, H. To sprinkle sugar, salt, pepper, etc., upon anything.

بھرا: bhurtá, भुर्ता, H. n. m. Mash made of boiled or fried vegetable. بھرا نکالنا یا کر دینا—nikálná yá kar dená, to make a mash of; to beat to a pulp; to give a sound thrashing.

بھرا: bhartí, भरती, H. n. f. Completion; filling in or up; loading; store; admission; recruiting; enrolment; enlistment. بھرا کرنا—karná, v. to load; to fill; to store up; to recruit; to enrol; to enlist; to admit.

بھرا: bahar hál, P. adv. By all means; at any rate; anyhow; in any case.

بھرا: bhrasht, भ्रष्ट, H. adj. Fallen; debased; polluted; impure; vicious; dissolute. بھرا کرنا—karná, v. to pollute, to profane; to debauch; to defile. بھرا ہونا—honá, v. to be polluted.

بھرا: bahar taur, } P. A. adv. By all
بھرا: bahar súrát, } means; somehow or
بھرا: bahar kaif, } other; at all events.

بھرا: bhurkas, H. n. m. Splinters; chaff; husks. بھرا کرنا—nikálná, v. to beat severely.

بھرا: bharm, भ्रम, H. n. m. Suspicion; doubt; perplexity; confusion; error; misapprehension; blunder; presumption; whirlwind; whirlpool; credit; reputation; character. بھرا کرنا—karná, to suspect; to be proud. بھرا کرنا—khul-jáná; v. To be exposed; (pretensions); to be betrayed (a secret). بھرا گھروانا—gharwáná, v. to lose one's character or credit.

مانا bharmáná, *भरमाना*, H. *v.* To deceive ; to mislead ; to lead astray.

مانا bharamná, *भ्रमना*, (*भ्रमण करना*), H. *v. i.* To wander ; to go astray ; to err.

مہمی bharmí, H. *adj.* Suspicious ; incredulous ; showy ; vain.

بھارنا bharná, *भरना*, H. *v.* To fill ; to load ; to do ; to satisfy ; to perform ; to daub ; to pay ; to liquidate or discharge (a debt or fine, &c.) ; to suffer ; to undergo ; to give (evidence) ; to heal (a wound) ; to make good a loss ; to give a bribe ; to load ; to defile ; to wind (watch) ; to excite ; to paint ; to satisfy. *بھار آنا* bhar áná, to become full (as the heart.) *آئسوں بھار لانا* ánsú bhar láná, to suffuse. *بھار لینا* bhar lená, to take the full amount due.

بھارنا bharná, H. *n. m.* Act of filling (a vessel, debt, &c.) ; daily expenses. *میں تمہارا بھارنا کب main tumhárá—kab tak bharúngá*, how long shall I pay your debts or daily expenses.

بھارنا bahurná ; H. *v. i.* To return ; to come back.

بھارپ bahrúp, *बहुरूप*, H. *n. m.* Disguise ; mimicry.

بھارپیا bahrúpiyá, *बहुरूपिया*, H. *n. m.* An actor ; a dissembler ; a mimic.

بھاروسہ bharosa, *भरोसा*, H. *n. m.* Hope ; reliance ; dependence ; assurance ; confidence ; faith ; belief. *بھاروسہ دینا*—dená, to give hope ; to reassure. *بھاروسہ کرنا*—karná, *v.* to hope ; to rely ; to confide ; to believe.

بھارا bahra, P. *n. m.* Property ; share ; portion ; profit ; gain ; fortune. *بھارہ مند*—mand, *adj.* prosperous ; fortunate ; happy. *بھارہ مند کرنا*—mand karná, to gratify one with ; to put one in possession of. *بھارہ مند ہونا*—mand honá, to derive benefit from ; to accomplish an object ; to prosper.

بھاری buhurí, H. *n. f.* Parched barley.

بھاری bahrí, H. *n. f.* A female hawk ; a falcon.

بھارے bhír, A. *n. f.* A wasp ; a hornet. *بھارے کے چھتے* : *بھارے کے چھتے* ke chatte meñ háth dálná, to raise a hornet's nest round oneself ; to stir up

mischievous or evil. *بھاروں کو جگانا* bhiron ko jagáná, to rouse a sleeping foe ; to revive an old quarrel.

بھارنا bhiráná, *भिड़ाना*, H. *v.* To join ; to close (a door) ; to bring together ; to bring into collision ; to cause to fight. *بھار ہوا* bhirá huá, *adj.* joined ; close ; adjacent.

بھاراس bharás ; Resentment ; animosity ; spleen.

بھارائی bhiráí, H. *n. f.* Contract ; collision ; shock (of armies).

بھار بھار bhar bhar, *भड़भड़* H. *n. m.* Crash ; crackle ; rush ; whirl. *بھار بھار کرنا*—karná, to burn fiercely ; to roar ; to crackle.

بھار بھاری bharbharyá, *भड़भड़िया*, H. *adj.* Simple ; candid ; not able to keep a secret ; without guile.

بھار بھونچا bhar bhúnjá, *भड़भूंजा* H. *n. m.* A man who parches grain. [*parches grain.*]

بھار بھونچیا bharbhúnjí, H. *n. f.* A woman who *بھاراک* bharák, *भड़क*, H. *n. f.* Splendour ; flash ; blaze ; glare ; show ; ostentation ; rage ; fury ; agitation. *بھاراک دار* bharákdár, *adj.* splendid ; shining ; pompous ; glittering.

بھارکانا bharákaná, *भड़काना*, H. *v.* To frighten ; to kindle ; to induce ; to incite ; to startle ; to inflame.

بھارکانا bharákná, *भड़कना*, H. *v.* To burst forth into flame ; to break out ; to be very excited ; to be overheated ; to shy (a horse) ; to startle ; to be alarmed. [*showy ; shy ; wild.*]

بھارکیلہ bharákilá, H. *adj.* Glittering ; splendid ;

بھارنا bhirná, *भिड़ाना*, H. *v.* To come together ; to join ; to touch ; to come into collision ; to hang (as door) ; to close ; to clasp.

بھوس bhus, *भुस*, H. *n. m.* Chaff ; bran ; husk. *بھوس بھارنا*—bharná, *v.* to stuff ; to cram ; to fill. *بھوس بھارنا کے کھال کھینچنا* ke—bharwáná, to slay a person and fill the skin with straw (a punishment in ancient times). *بھوس بھوس* bhus bhusá, *adj.* Flabby ; loose (*phas-phasá*).

بھاسکنا bhasakná, H. *v.* To fall ; to gormandize.

دھسم: bhasm, भस्म, H. n. f. Ashes. دھسم رمانا —ramáná, to rub ashes on the body. دھسم کرنا karná, v. to reduce to ashes; to burn. دھسم ہونا —honá, v. to be reduced to ashes; to be consumed.

بہشت: bihisht, P. n. f. Paradise; heaven. بہشت بہشت کی ہوا —kí hawá, delightful climate; cool refreshing breeze.

بہشتی: bihishtí, P. adj. The dwellers in heaven; celestial. بہشتی bhishti, H. n. m. Muhammdan water-carrier.

بھکاری: bhikári, (میںخاری), H. n. m. A beggar; a mendicant.

بھکانا: bahkáná, बहकाना, H. v. To mislead; to deceive; to cheat; to seduce; to err; to allure; to tempt; to instigate; to excite. بھکا لیجانا bahká lejáná, v. to carry off; to entice or lure away with; to elope with.

بھکاوا: bahkává, H. n. m. Deception; intimidation; misleading; delusion; trick. بھکارے میں آنا bahkáwe men áná, to fall into the snare or allurement of; to be deceived or deluded by.

بھک بھک: bhak bhak, H. n. f. Puffing as of engine; roaring of a fierce fire. بھک سے اڑجانا —se ur jáná, to explode; to fly off with a fop. بھک سے اڑجانے والا —se ur jánewálá, explosive; combustible.

بھکت: bhakt, भक्त, S. n. m. A devotee; an adorer; a worshipper; adj. Pious; religious. بھکتی: bhaktí, भक्ति, S. n. f. Devotion; adoration; worship.

بھکشنا: bhikshá, भिक्षा, S. n. f. Begging; asking alms; alms; begged food. بھکشک: bhikshuk, S. n. f. A beggar; a mendicant.

بھکشان: bhakshan, भक्षण, S. n. f. Eating; feeding; gormandizing; food; meal.

بھکشو: bhikshú, भिक्षु, S. n. m. One who subsists on alms; a beggar.

بھکانا: bahkáná, बहकाना, H. v. To be deceived; to be misled; to go astray.

بھکنا: bhukná, H. v. To be pierced.

بھکوا: bhakua, H. adj. Foolish; stupid; fool; blockhead.

بھاکوسنا: bhakosná, H. v. To eat; to devour.

بھیکھاری: bhikhári, भिखारी, H. n. m. A beggar; a mendicant.

بھگانا: bhagáná, भगाना, H. v. To put to flight; to drive off; to cause to run away; to defeat. بھگا لیجانا —lejáná, to run away; to elope with.

بھگانا: bhigáná, भिगाना, H. v. To wet; to moisten; to steep.

بھگت: bhagat, भगत, (S. भक्त), H. n. m. A devotee; a pious or holy man. بھگت کھلنا —khelná, v. to act a play; to mimic; to imitate. بھگت ہونا —honá, to be affiliated to a religious order (this initiation consists in putting a necklace of beads round the neck, and marking a circle on the forehead, after which the person is bound to refrain from the use of liquors and flesh, &c.).

بھگتانا: bhugtáná, भुगताना, H. v. To dispose of; to complete; to execute; to distribute; to settle; to liquidate; to adjust.

بھگتائی: bhagtái, H. n. f. Devotion; religiousness.

بھگاتنا: bhugatná, H. v. To suffer; to pay the penalty; to settle with; to be requited.

بھگال: bhagal, H. n. m. Disguise; affectation; hypocrisy.

بھگنا: bhagna, H. n. m. Nephew.

بھگنی: bhagní, भगनी, H. n. f. A sister.

بھگو: bhaggú, भग्गू, H. n. m. A runaway; a fugitive; a coward.

بھگوان: bhagwán, भगवान, S. n. m. The Supreme Being; God; a. fortunate; glorious; adorable; divine. بھگوان کی دھائی —kí duháí, intj. God help or protect us.

بھگوت: bhagwat, भगवत, S. adj. Divine. بھگوت گیتا —gitá, n. m. Name of a philosophic poem.

بھگوتی: bhagwatí, भगवती, S. n. f. The goddess of fortune (Lakshmi); the goddess Durgá.

بھگورا: bhagorá, H. n. m. A runaway; a fugitive.

بھگوننا: bhigoná, भिगोना, H. v. To wet; to soak. بھگو بھگو کے لگانا یا مارنا yá márná, to make mock obeisance; to eulogize mockingly or in fun.

بھگوانت bhagwant, भगवन्त, H. *adj.* Divine S. *n.* m. God.

بھ bahal, H. *n. f.* A two-wheeled car; a carriage (*bahli*)

بھ bhal, H. *adj.* Good; well; *n. m.* side; direction. بھل اُجالا—bhal ujalá, broad daylight. بھل یا بھلا مانس—yá bhalá mánus, courteous. بھل منسی—mansí, *n. f.* good nature; benevolence; decorum; gentlemanliness. سر بھل بھل sar-ke—headlong.

بھال bhalá, भल, H. *adj.* Well; good; benevolent; wonderful; admirable; *n. m.* good; welfare. کرنا بھال—karná, *v.* to do good; to do well. بھال برا کہنا—burá kahná, *v.* to speak ill of; to rail at; to reproach. بھال چنگا—changá, *adj.* in good order; healthy; well. بھال لگنا—lagná, to be pleasing or agreeable; to appear or look well. بھال مانس—mánus, *n. m.* a gentleman; a respectable man; a nobleman.

بدھے وہ بات کہ انسان بھال بھلی نہ کہے

کوئی اچھا نہ کہے گر تو برا بھلی نہ کہے

(میر تقیس)

Bad hai wuh bát kí insán bhalá bhí na kahe.

Koi akehha na kahe gar to burá bhí na kahe.

بھال bahilá, H. *n. f.* barren (used for cattle).

بھالنا bhaláná, बहलाना, H. *v.* To amuse; to entertain; to divert.

بھالنا bhaláná, भुलाना, H. *v.* To cause to forget; to mislead; to deceive; to coax; to bewilder; to balk.

بھالوا bhalwá, H. *n. m.* Deception; cheating. بھالوا دینا—dená, *v.* to mislead; to deceive; to balk; to beguile.

بھالواں bhaláwán, भिलावाँ, H. *n. m.* A nut used for marking clothes, &c.; *semecarpus anacardiurn.*

بھالائی bhalái, भलाई, H. *n. f.* Goodness; welfare; benefit; benevolence; virtue; beauty. بھالائی کرنا—karná, to practise beneficence towards; to be good or kind to.

بھالاسنا bhalasná, भुलसना, H. *v.* To burn; to be scorched; to be burnt; to be singed.

بھالک bhalluk, भल्लुक S. *n. m.* A bear (*bhálú*).

بھالکا bhalká, H. *n. m.* Dawn of day; the morning star; a gold star fixed on a nose-ring.

بھالکار bhulakkar, H. *adj.* Forgetful; negligent; oblivious; thoughtless

بھالمانسی bhalmansát, bhalmansí, H. *n. f.* Gentlemanliness; benevolence; civility. [diverted; to be entertained.

بھالنا bhalná, बहलना, H. *v.* To be amused; to be

بھالول bahlol, A. *n. m.* A prince endowed with every virtue; a joker; name of a celebrated *derwesh.*

بھالہ bahla, P. *n. m.* Privy purse; skin glove worn by falconers. بھالہ بردار—bardár, bearer of the privy purse.

بھالی bahlí, बहली, H. *n. f.* A small two-wheeled vehicle without springs drawn by two oxen.

بھالیہ bahliyá, H. *n. m.* A driver of a *bahli.*

بھالیہ bahliyá, H. *n. m.* See بھالیہ Baheliyá.

بھام baham, P. *adv.* Together; one with another.

بھام پھرو بھام—pahuncháná, *v.* to convey; to provide; to acquire; to bring about; to supply.

بھام پھرنے بھام—pahunchná, *v.* to be procured; to come to hand. بھام دگر—digar, together; one with another.

بھامبیری bhambírí } H. *n. m.* A butterfly,
بھامبیری بھامبیری } سا دورنا—sá daurná,
(said of child) to run swiftly.

بھان bhan, bahin, बहिन, H. *n.* A sister; a female cousin.

بھان bihan, बेहन, H. *n. f.* A seed for sowing.

بھان bhinn, भिन्न, S. *adj.* Separate; *n.* a fraction. بھان بھان—bhinn, various; diverse; severally; one by one.

بھان bahná, बहना, H. *v.* To flow; to float; to blow; (as a breeze); to pass; to be wasted; to melt; to dissolve; to run (as a sore).

بھان behná, बिहना, H. *n. m.* A cotton comber; a cotton-carder (*dhuniyá*). [sisterly affection.

بھانپا bahnápá, बहनापा, H. *n. m.* Sisterhood;

بھانپا bhannáná, H. *v.* To have a buzzing in the ears; to sound.

بھنانا bhunana, भुनाना, H. v. To cause to be fried or parched, to change money.

بھنائی bhunai, भुनाई, H. n. f. Price paid for parching; price paid for exchange.

بھنبھینانا bhinbināna, भानभानाना, भिनभिनाना, भनभनाना, H. v. To buzz; to hum.

بھنبھیناہٹ bhinbinahat, H. n. f. Buzzing; hum.

بھنٹا bhantā, भंटा, H. n. m. The egg-plant; the brinjal.

بھنجانا bhunjana, H. v. To change money.

بھنجان bhanjan, S. n. m. Breaking; demolishing; destroying. [to separate]

بھنجانا bhanjana, भंजना, H. v. To break; to divide.

بھنڈا bhandā, भण्डा, H. n. m. A large earthen pot. بھنڈا ہوتنا —phūṭna, v. to be disclosed.

بھنڈارا bhanḍārā, भण्डार, H. n. m. A place where household goods are kept; a storehouse.

بھنڈارا bhanḍārā, H. n. m. A storehouse; a feast of fogis, anyasis, &c. [store keeper.]

بھنڈاری bhandari, H. n. m. A house steward; a

بھنڈسار bhandśar, भण्डसार, H. n. f. the provision which is previously reserved for years; a granary.

بھنڈی bhundi, भिन्डी, H. n. f. A vegetable; *Hibiscus abelmoschus*; lady's finger.

بھنسا bhinsār, भिन्सार, (Cul.) H. n. m. Dawn of day; day-break.

بھناک bhanak, भनाक, H. n. f. A low distant sound; hum; din; ring. بھناک ہونا —paṇā, catch or hear the sound of.

بھناکنا bhinaknā, भिनाकना, H. v. To buzz; to swarm; to be covered with flies; to look filthy; to sit idle.

بھنگ bhag, भंग, H. n. f. Intoxicating drug or potion made from hemp-leaves; hemp. بھنگ ہونا —ghuṭna, the stick with which hemp drug or leaves are rubbed down to make the beverage.

بھنگا bhunga, भुंगा, H. n. m. A small gnat.

بھنگڑا bhungarā, भंगड़, H. n. m. One addicted to bhang.

بھنگین bhagin, भंगिनि, H. n. f. A female sweeper.

بھنگی bhaggi, भंगी, H. n. m. A low caste who are scavengers; a sweeper (*halāl khor mehtar*).

بھنگی bāhgi, बहंगी, H. n. f. A stick or pole with slings at both ends for carrying boxes or baskets on the shoulder. بھنگی زدار —bardar, n. m. a baggage bearer.

بھننا bhunnā, H. v. To be parched, fried or boiled; to roast or burn mentally; to be in pain; to be changed (money).

بھنوانا bhunwānā, H. v. To cause to be parched, fried or boiled; to have changed.

بھوارا bharwār, भँवर, H. n. m. A whirlpool; vortex; eddy (*qirātib*) بھوار جال (met.) the world and its snares. بھوار میں پڑنا —meg paṇā, to get into a whirl.

بھوارا bhawrā, भँवरा, H. n. m. A large black bee; a climbing plant.

بھوار کالی bharwār kalī, H. n. f. A collar or halter (for horses and dogs).

بھنوی bahnōī, बहनोई, H. n. m. A sister's husband; a brother-in-law.

بھنی bahnī, भुनी, बुहनी, H. n. f. First sale; haudsel.

بھنلا bahnēlā, बहनेला, H. n. m. Friendship among women; sisterly affection.

بھنلی bahnēlī, H. n. f. A female friend; an adopted sister.

بھنی bahnī, बहू, H. n. f. A daughter-in-law; a son's wife; a bride.

بھو bhū, भू, S. n. f. Earth; ground; land. بھو دان —dan, grant of land or of the revenue thereof. بھو دان پتر —dan patr, n. m. deed of a grant of land. بھو چال - بھو کھپ —dol—kamp,—chāl, an earthquake. بھو گول —gol vidyā, the science of Geography.

بھو bhū. (بھوا), H. n. m. Father's sister; paternal aunt (*phua, bua*); worm; caterpillar.

بھو بھو bhūbhū, भौ, H. n. m. Eyebrows or eyebrow. بھو بھو تانا - بھو تانا —weṅ tānā—cha haṇā,—te,hi karnā, to frown; to raise the eyebrow; to knit the brow.

بھوانی bhawānī, भवानी, H. n. f. Hindu goddess; an epithet of the wife of Siva, or Mahādeva.

بھبھال bhúbhal, भूभल, (Col.) H. n. m. Hot ashes ; embers.

بھوت bhút, भूत, H. n. m. An evil spirit ; a demon ; a ghost ; a goblin ; the past ; one of the elements. بھوت اُتارنا—utárná, v. to exercise. بھوت بننا—banná, to be like a devil ; to be intoxicated. بھوت پریت—paret, n. m. ghosts and goblins. بھوت گرسٹ—grast, possessed by an evil spirit ; miniac. بھوت کے ہونے—hoke lipatná, to cling to one like a devil or a ghost. بھوت ہونا—hona, v. to be distracted with rage. [goblin.

بھوتنی bhutní, H. n. f. A female demon or

بھوج bhoj, भोज, H. n. m. Eating ; feast ; banquet ; name of a celebrated Hindu king.

بھوجپتار bhojpattar, भोजपत्र, H. n. m. The leaf and the bark of a tree, said to be a species of birch, used for writing on and also in making tubes and pipes for the *hugga*.

بھوجی bhoujái, भौजी, H. n. f. An elder brother's wife.

بھوجن bhojan, भोजन, S. n. m. Eating ; enjoying ; food ; victuals ; dish of food ; meal. بھوجن خرچ—kharch, table expenses. بھوجن کرنا—karná, v. to eat ; to take food.

بھوچک bhauchak, भौचक, H. adj. Aghast.

بھور bhúr, भूर, H. n. m. Charity ; alms ; a spring ; a fountain. بھور بانٹنا—bántná, v. to give alms to a crowd of poor people.

بھور bhor, भोर, H. n. f. Break of day ; dawn ; early morning. [(hair).

بھورا bhúra, भूरा, H. adj. Brown ; fair ; autumn

بھوراگی bhouraگی, बहुरंगी, H. adj. Many-coloured.

بھور bhur, H. n. f. Sandy ground ; porous soil.

بھوسی bhúsí, भूसी, H. n. f. Chaff ; bran.

بھوشن bhúshana, भूषण, S. n. m. An adorning ornament ; jewels. [what has yet to be.

بھوشیت bhavishyata भविष्यत, S. adj. The future ;

بھوک bhúk, भूक (भूख), H. n. f. Hunger ; appetite. بھوک پیاس مارنا—payás márná, to mortify oneself ; to repress one's appetite بھوک مارنا—marná, hunger or appetite to pass away.

بھوکا bhúká (भूखा), H. adj. Hungry ; needy ; poor ; n. m. hungry person. بھوکوں مرنا—bhúkon marná, to be in a famishing state ; to starve to death.

بھوکھن bhúkhan, bhúkan, S. n. m. An adorning ornament ; jewels. [to endure.

بھوگنا bhogná, भोगना, H. v. To enjoy ; to suffer ; بھوگی bhogí, भोगी, H. n. m. Men of pleasure ; voluptuary ; debauchee ; sufferer ; endurer.

بھول bhúl, भूल, H. n. f. Forgetfulness ; oversight ; negligence ; mistake ; fault ; lapse ; failure ; error ; blunder. بھول ہونا—bhúlá bhaṭká, بھولا بھولا—bhulá bisrá, adj. forgotten ; astray ; calling casually ; casual or chance visitor. بھول کے نہ کرنا—ke na karná, never by a mistake even to do a thing. بھول چوک—chuk lení dení, errors and omissions excepted.

بھولا bholá, भोला, H. adj. Simple ; innocent ; artless. بھولا پن—pan, n. m. simplicity ; innocence ; guilelessness. بھولا ناتھ—náth, n. m. an epithet of Siva.

بھول بھولایا bhúl bhulaiyá, H. n. f. Labyrinth ; maze. [astray ; to miss.

بھولنا bhúlná, भूलना, H. v. To forget ; to go

بھولی bholí, H. adj. fem. Artless ; innocent. بھولی باتیں—bholí bátén, innocent prattle. بھولی صورت—súrat, innocent face.

بھومی bhúmi भूमि, S. n. f. Land ; earth ; the world ; ground ; country ; the base of any figure. بھوم جنم—janam—, n. f. birth-place ; native land. بھوم تے—tá, tale, adj. subterranean. بھوم دار—i-dar, land-holder ; head man or chief.

بھوم bhaum, भौम, H. n. f. The planet Mars. بھوم بار—bár, S. n. m. Tuesday. [duction.

بھومیکا bhúmiká, भूमिका, S. n. f. Preface ; intro-

بھاون bhaun, H. n. f. see under بھوان.

بھوان bhawan, S. n. m. A house ; building ; shrine ; temple ; mansion.

بھوناس bhunas, A n. m. A large strong post for chaining an elephant to [ment ; a horn-

بھونچال bhonchal, भौंचल, H. n. m. A wind instru- بھونچال, see under بھونچال.

ہونچکا: bhaunchakká, भौचका, H. *adj.* Astonished ; aghast. [artless; a booby ; noodle.
ہونڈو: bhondú, भोंदू, H. *adj.* Simple ; silly ;
ہونڈا: bhondá, A. *adj.* Ugly ; ill-looking ; bad ; deformed ; unlucky.
ہونرا: bhaurá, भौरा, H. *n. m.* A cavern ; a cellar ; a vault ; a large bee ; a black beetle ; dung beetle.
ہونری: bhauri, H. *n. f.* A black bee ; curl hanging on the forehead ; name of a defect in horses ; bread cooked on embers.
ہونکنا: bhunkáná, भूकाना, H. *v.* To cause to bark.
ہونکنا: bhúpná, H. *v.* To bark ; to talk foolishly.
ہونکنا: bhonkn, भौकना, H. *v.* To thrust ; to drive in ; to pierce ; to stale : to sew badly.
ہوننا: bhúnná, भूना, H. *v.* To fry ; to parch ; to roast ; to scorch ; to burn ; to torment.
ہونن ڈول: bhún dol, see under ٤٤٠.
ہونن ہار: bhuñhár, land let at a low rent to military retainer. An agricultural tribe of Hindus.
ہون: bihi, P. *n. f.* A quince. دانه ہونی — d na, *n. m.* quince seed.
ہون: bhí, भी, H. *conj.* Also ; even ; moreover ; yet ; still ; further more. ہون کچھ —, whatsoever ; whatever. ہون کوئی —, whosoever.
ہون: bahi, बही, H. *n. f.* A book not stitched at the sides but at the end ; book of accounts ; ledger ; diary. ہون کھاتا — kháta, a ledger. ہون روکر — rokar, —, a cash book. ہون میں چڑھانا — men cháhná, to debit or credit ; to enter into the account book ; ہون یاد داشت — yád-dásht, memorandum book ; note book.
ہون: bhý, S. *n. m.* Fear ; terror. ہون کھانا — kháná, *v.* to be afraid.
ہون: bhaiyá, भैया, *n. m.* Brother. [formidable.
ہون: bhayanak, भयानक, S. *adj.* Fearful ;
ہون: bhít, भित्ति, H. *n. f.* A wall ; embankment ; vestige of an old house. *prov.* اور کچھ کی پرویت — Oohhe kí prít jaise bálú

kí bhít, the friendship of the mean is like a wall of sand.
ہون: bhítar, भीतर, H. *adv.* Within ; indoors ; inside. ہون آنا — áná, *v.* to come in ; to enter. ہون سے — se, from within ; internally. ہون والے — walé, inmate.
ہون: bhítari, H. *adj.* Inward ; internal ; hidden. ہون مار — mar, internal injury or hurt.
ہون: bhítariyá, H. *n. m.* A domestic male or female guest at a marriage feast ; one who betrays a secret ; inmates ; domestics.
ہون: bahetú, बहेतू, H. *n. m.* A vagabond ; a vagrant.
ہون: bhet, (भेट), H. *n. f.* Meeting ; visit ; interview ; present to a superior ; sacrifice ; bribe ; collision. ہون چڑھانا — cháphaná دینے — dená, *v.* to sacrifice ; to offer. ہون ہونا — honá, *v.* to meet with ; to have an interview with ; to fall a victim ; to be sacrificed.
ہون: bhítá, H. *n. m.* Old house ; a former residence (of which some vestige remains) ; a house in ruins.
ہون: bhetná, (भेटना), H. *v.* To touch ; to meet ; to visit ; to embrace.
ہون: bhej, भेज, H. *n. m.* A proportionate share ; ground rent. ہون بار — barár, *n. m.* a kind of complex tenure.
ہون: bhejá, H. *n. m.* The brain یا ہون کھانا — káná یا chátna, to annoy or tease exceedingly ; to bother one out of his patience. ہون پاک جانا — pak jáná, to bother one so as to give him headache.
ہون: bhíj, भीजा (भीजा) H. *adj.* Wet ; moistened.
ہون: bhejna, H. *v.* To send ; to remit ; to despatch ; to bestow ; to utter ; to grant.
ہون: bhích, भीच, H. *n. f.* Pressing ; squeezing ; narrowness.
ہون: bhichná, H. *v.* To press ; to crush ; to squeeze ; to force.
ہون: bhed, भेद, H. *n. m.* A secret ; mystery ; difference. ہون پانا — páná, *v.* to find out a secret ; to solve a mystery. ہون دینا — dená, *v.* to give a clue ; to divulge a secret.

رکھنا—rakhná, to keep a secret. راکھنا
 کھولنا—kholná, *v.* to betray : to expose ; to
 unmask. لینا—lená, to spy : to get at
 the secret. [adj. intelligent ; knowing
 bhedi. مہدی. H. *n. m.* A secret-keeper
 bhedyá, مہدیا, H. *n. m.* A spy ; a scout :
 a secret agent. [the morning
 bhairavi, بھیروی, S. *n. f.* A *rágini* sung in
 bhír, भीर, H. *n. f.* Crowd : a multitude
 through : pressure of work : difficulty. لگانا
 —lugáná, to crowd ; to throng ; to swarm.
 bher, بھیر, H. *n. f.* A sheep ; an ewe
 sála, سالا, *n. m.* a sheepfold ; a pen.
 ká bachcha, کچھا, *n. m.* a lamb. کاشٹ
 —ká g'sht, *n. m.* mutton.
 baheerá, بھیرا, H. *n. m.* Belerica, myrobalan
 name of a fruit.
 bherá, بھیرا, H. *n. m.* A ram.
 bhír bhár, भीर भार, } H. *n. f.*
 bhír bhárákká, भीर भरका, } Crowd ;
 bustle ; mob.
 bherná, بھیرنا, (Col.) H. *v.* To shut ; to
 close ; to lock up.
 bherí, H. *n. f.* A sheep.
 bheriyá, H. *n. m.* A wolf.
 bheiyá dhasán, بھیریا دھاسان, H. *n. m.* A multi-
 tude crowded together like sheep in a pen ;
 following the example of another. چال
 —chál, blind imitation of another.
 bhes, (मेघ) H. *n. m.* Appearance ; em-
 blance ; guise form : air ; disguise ; assumed
 likeness ; feigned appearance بھیس بدلنا
 badalná, *v.* to personate a character ; to coun-
 terfeit ; to disguise oneself.
 bhikh, भीख, H. *n. f.* Charity ; alms ;
 begging. ká thikrá, कचक क, beggar's
 cup or vessel. mangá, मङ्ग, a beggar.
 mangná, मङ्गना, *n.* to beg ; to ask alms.
 bhígná, H. *v.* To be wet. मसिन
 masen—To attain the age of puberty.
 bhíl, H. *n. m.* The name of a mountain
 tribe.
 bhell, भेली, H. *n. f.* A lump of coarse
 sugar or gur.

baheliyá, H. *n. m.* A fowler ; a hunter ;
 game keeper.
 bhím, भीम, S. *adj.* Terrible ; dreadful ;
n. m. the second brother of Yudhishthir.
 bhímraj, H. *n. m.* The mocking bird of
 India [camphor.
 bhimseni, भीमसेनी, H. *n. f.* A kind of
 bhíná, भीना, H. *adj.* Light (colour, smell).
 bahená, H. *n. f.* Sister.
 bhen, भेंट, H. *n. f.* Interview ; a present
 bhai, H. *n. f.* Buffalo (female)
 bhainá, भैंसा, H. *n. m.* Buffalo (male).
 bhainyá dá, भैंसिया दा, *n. m.* A kind of
 ringworm.
 bhayankar, भयंकर, S. *adj.* Fearful ; hor-
 rible ; terrible.
 bhengá, H. *adj.* Squint-eyed. *n. m.* one
 who squints.
 thaihá, थाहा, (Col.) H. *n. f.* Younger
 brother's wife.
 bi, H. *n. f.* A lady (Contr. of Bibi ; a
 vocative particle used in addressing females.
 be, P. A preposition denoting without ;
 when used as a prefix, it is equivalent
 to the English-in, un-, ir-, dis-, -less, &c.
 ab, آب, *adj.* without water or lustre.
 abrá, آبرو, *adj.* disgraced. آبرو
 asar, آسر, *adj.* with-
 out effect, inefficacious. آجل
 ajal, *ad.* untimely (death. آجتيا
 ihtiyát, incau-
 tious ; rash ; imprudent. آختيا
 akhtiyári, *n. f.* helplessness ; want of power.
 adab, آداب, *adj.* ill-behaved ; insolent ;
 impudent. آدابی, *n. f.* incivility ;
 rudeness ; disrespect. آرث, *adj.* use-
 less ; vain ; meaningless. آصل, *adj.* base-
 less ; groundless. آتبار, *adj.* in-
 credible ; incredulous ; faithless. آتباری,
 e'tibári, *n. f.* untrustworthiness ; discredit ;
 dishonesty. آتدالی, *adj.* unevenness ;
 inequality. آلتفاتی, *adj.* disregard in-
 considerateness. آنتظامی, *n. f.*
 mismanagement. آنتہا, *adj.* infinite ;
 endless. آندازہ, *adj.* immoderate.

اندیشہ — and-sha, thoughtlessly, fearlessly.
 انصافی — insáf, *adj.* unjust. انصافی —
 insáfi, *n.* injustice. اولاد — aulád, *adj.* child-
 less; without issue. ایمان — imán, *adj.*
 infidel; faithless; dishonest. ایمانی —
 imáni, *n. f.* irreligiousness; dishonesty;
 unfairness. ایمان کرنا — imáni karná, *v.* to
 act dishonestly; to play false; to misapprop-
 riate. بیباں — báq, *adj.* paid up in full.
 بیباں کرنا — báq karná, *v.* to pay in full; to
 liquidate; to clear up account; to settle.
 بیباں ہونا — báq honá, *v.* to be paid in full.
 بیباتی — báqi, *n. f.* full payment; liquidation;
 adjustment; acquittance. بیباکی — báki, fear-
 lessness; boldness. بال و پار — bál-o-par, *adj.*
 unfledged; powerless; helpless. بے بچارے —
 becháre, inconsiderately; thoughtlessly. بدل —
 badal, *adj.* unalterable; matchless; in-
 variable. بے بار — bar, fruitless; barren. بے
 بارگ و بربک — barg-o-bar, destitute; wanting.
 بے بس — bas, *adj.* helpless. باہا — bahá, *adj.* in-
 valuable. باہرا — bahra, without profit; un-
 fortunate. بنیاد — bunyád, groundless. بے
 پردہ — parda, *adj.* unveiled; immodest. بے
 پایاں — payán, boundless. پورا — parwá, *adj.*
 careless; thoughtless; fearless. پارہیز — par-
 hez, *adj.* incontinent. پیر — pí, *adj.* having
 no spiritual guide. merciless. تاب — táb, *adj.*
 agitated; impatient; restless. تابی — tabí, *n.*
f. agitation; restlessness. تاسیر — tasír, in-
 effectual. تال — tá, out of tune (in mu-ic).
 تامل — táammul, *adj.* inconsiderate; rash.
 تہاشا — taháshá, *adv.* recklessly; headlong.
 تعلق — talluq, without connection. تفسیر —
 taqsír, *adj.* innocent; faultless. تکلف —
 takalluf, *adj.* frank; unceremonious. بے
 تعیز — tamíz, *adj.* indiscreet; silly. توجہ —
 tawajjuh, *f.* inattentive. تواقفا — tawaqqa',
adj. hopeless. تھکانا — thikan, uncertain,
 ثابت — sabat, *adj.* inconstant; untable.
 ساماں — samai, *adj.* fruitless. ساج — saj, *adj.*
 misplaced; improper; unlawful; unreason-
 able; inaccurate; *adv.* improperly; wrongly.
 جان — ján, *adj.* lifeless; dead. جرم — jurm,
adj. faultless; innocent. جور — jor, dis-

jointed. inappropriate. جون — jín, untimely;
 out of occasion. چارہ — ch ra, *adj.* without
 remedy; helpless; poor; miserable. چالی —
 ch lí, *n. f.* illbehaviour; mi-demeanour. چراغ —
 char, *adj.* dark; desolate; childless. چمن —
 chain, restless; uneasy. چوبا — choba,
n. m. a tent without a pole. حال — h l, *adj.*
 out of condition; ruined; unemployed.
 حجاب — hijab, *adj.* shameless; immodest.
 حساب — hisab, *adj.* countless. حرکتی —
 harkati, immovability; motionless-ness. حس —
 hiss, senseless, insensible. حرمتی — hurmatí, disgrace.
 حواس — hawas, *adj.* senseless; distracted. حواسی —
 haw sí, *n. f.* insensibility; distraction. حوصلہ —
 hausila, lacking ambition; spiritless. حیا —
 hayá, *adj.* shameless; immodest; impudent.
 خبر — khabar, *adj.* careless; senseless;
 uninformed. خطا — khat, unerring; infal-
 lible; faultless. خطر — khatar, *adj.* safe;
 free from danger. خود — khud, *adj.* in
 ecstasy; senseless; enraptured transported;
 intoxicated. خودی — khudi, *n. f.* insensibili-
 ty; ecstasy. خویش — khwesh, friendless.
 بیداغ — dag, *adj.* spotless. بیدانہ — dana, *adj.*
 seedless. بدخل کرنا — dakhil karná, *v.* to
 exclude; to dispossess; to eject. بیدردی —
 dardi, *n. f.* inhumanity. بدریغ — dareg, *adv.*
 undeniable; readily; ungrudgingly. دست —
 dast-o-pá, without resources; helpless. پا
 بیدل — dil, *adj.* heartless. بیدم — dam, *adj.*
 breathless. بد زک — dhafak, *adj.* fearless. بد زک
 — daul, *adj.* shapeless; ugly. بد زک —
 zauq, *adj.* tasteless; awkward; ugly. بے ذوق —
 rah, *adj.* dissolute; trackless. بے ربط —
 rabt, irregular; contrary to rule. بے رحم —
 rahmí, *n. f.* cruelty. رود ٹوک — rok tok, without
 let or hindrance. ریشہ — resha, *adj.* without
 fibre. ریزا — z r, disgusted; displeased; sick
 of. زار — zar, without money; destitute. بے
 فرزند — zan-o farzand, without wife and
 children. زبیر و زینت — zib-o zinat, inelegant
 in dress and person. زبان — zaban, *adj.* mute.
 سر و سامان — sar-o-saman, *adv.* unprovided;
 without means. سلیقہ — saliqa, *adj.* awkward,

impolite. ہوا جانا۔ شرم ہے شرم ہو جانا۔ to be lost to all sense of honour. ہے شعر۔ sha'úr, *adj.* a blockhead; ignorant; unmannerly. ہے شک و شبہ۔ shak-o-shubh, *adv.* undoubtedly; certainly. ہے صبر۔ sabr, *adj.* impatient; restless. ہے طرہ ندار۔ tarafdár, *impartial.* ہے عزت۔ 'izzat, *adj.* without honour; disgraced. ہے عقل۔ 'aql, *adj.* unwise; stupid. ہے علت۔ 'illat, causeless. ہے عیب۔ 'aib, unblemished; faultless. ہے غرضائے۔ garzáná, disinterestedly; unselfishly. ہے غم۔ gam, *adj.* without sorrow. ہے فکر۔ gairat, shameless; wanton. ہے فکر۔ fikr, *adj.* thoughtless; contented. ہے قابو۔ qábú, out of one's reach; without restraint. ہے قواعد۔ qa'eda, *adj.* irregular; un-arranged. ہے قدری۔ qadri, worthlessness; disesteem. ہے قصور۔ qusúr, *adj.* innocent; faultless. ہے بیکار۔ kar, *adj.* unemployed; worthless. ہے کار۔ kar karná, to render unserviceable; to defeat; friendless. ہے کس۔ kas, *adj.* friendless; forlorn. ہے کل۔ kal, *adj.* restless. ہے کم و کاست۔ kam-o-kást, without omission; accurate; exact; all right. ہے کھٹکے۔ khatke, without apprehension or doubt. ہے گاری میں پکڑنا۔ gári meñ pakarná, to press into service. ہے گناہ۔ gána, stranger. ہے گناہ۔ gunáh, *adj.* innocent. ہے لحاظ۔ liház, *adj.* inattentive; impertinent. ہے لطیفی۔ lutfi, inelegance; unpleasantness. ہے لگام۔ lagám, unbridled; licentious. ہے مردت۔ murawát, *adj.* inhuman; unpolite. ہے مزہ۔ maza, *adj.* tasteless. ہے معنی۔ ma'ní, *adj.* meaningless; absurd. ہے موسم۔ mausim, *adj.* out of season. ہے نام و نشان۔ nam-o-nishán, without name or character. ہے نصیب۔ nasib, *adj.* unfortunate. ہے نظیر۔ nazir, matchless. ہے نمک۔ namak, *adj.* saltless; ugly. ہے ننگ و ناموس۔ nang-o-námús, *adj.* without name or character. ہے نوا۔ nawá, indigent; destitute. ہے نیاز۔ niyáz, *adj.* independent; free from want. ہے وطنی۔ watní, exile; banishment. ہے وفاء۔ wafá, *adj.* faithless; treacherous. ہے وفائی۔ wafái, *n. f.* faithlessness; ingratitude. ہے وقار۔ wiqár, undignified; dishonourable. ہے بیوقوفی۔ waqúf, *adj.* foolish; ignorant. ہے بھانا۔ banána, to make a fool of one. ہے بیوقوفی کا۔

کام کرنا۔ waqúfí ká kám karná, to do a foolish thing. ہے بیوقوفی کی بات۔ waqúfí kí bát, foolish talk or thing. ہے ہمت۔ himmat, *adj.* unambitious; lazy. ہے ہنر۔ hunar, *adj.* unskilful. ہے ہوش۔ hosh, *adj.* senseless. ہے ہوشی۔ hoshí, *n. f.* senselessness · stupefaction.

بیا bayá, *H. n. m.* The weaver bird; a person appointed to measure out grain; an assizer.

بیہ biyá, بیا, *H. n. m.* Seed.

بیابان biyábán, *P. n. m.* A desert; wilderness.

بیابان گرد۔ biyábán gard, *adj.* traversing deserts. بیابان گرد۔ naward, *n. m.* one who traverses the desert; a wanderer. بیابان قدس۔ i-quds, the wilderness of Jerusalem.

بیاپار bayápár, بیاپار, *H. n. m.* Business; affair; traffic (baipar). بیاپاری۔ byápári, a trader; a dealer; man of business.

بیاج پر بیاج۔ bayáj, بیا, *H. n. m.* Interest. —par—, compound interest. بیاج خور۔ khor, *n. m.* a usurer. بیاج خوری۔ khorí, *n. f.* usury. ہے بیاجو لینا۔ ú, *adv.* on interest. ہے لینا۔ lená, *v.* to borrow on interest.

بیار byár, بیا, *H. n. f.* Wind; air.

بیاسی byási, *H. adj.* Eighty-two.

بیاض bayáz, *A. n. f.* A note-book; an account book.

بیاکار byákarán, or Vyákarán بیاکار, *S. n. m.* Grammar.

بیاکول byákul بیاکول, *H. adj.* Disturbed; restless; agitated; uneasy.

بیاکھیان byákhyan, (بیاکھیان), *H. n. f.* Explanation; commentary.

بیالیس byális, بیاالیس, *H. adj.* Forty-two.

بیان bayán, *A. n. m.* Explanation; account; allegation; declaration; description. بیان بدلنا۔ badalná, prevaricate. بیان کرنا۔ karná, *v.* to relate; to depose.

بیانا byáná, بیاانا, *v.* To bring forth; to give birth to (applied to animals); to calve; to foal; to pup; to litter.

بیاہ byáh, بیاہ, *H. n. m.* Marriage; wedlock. بیاہ رچانا۔ racháná, *v.* to celebrate a marriage.

بیاہ کرنا۔ karná, *v.* to marry. بیاہ لانا۔ láná, *v.* to bring home a wife. بیاہنے جوگ۔ ne jog, *adj.* marriageable.

بہاها byahá, व्याहा, H. n. m. } *adj.* Married.
 بہاتا byáhtá, व्याहता, n. f. }

بہانا byáhná, H. v. To marry; to give in marriage.

بہبیل baibul, (*Corr. of English.*) The Bible.

بہ بی بی bíbí बीबी, H. n. f. A lady; a wife. بی بی جی —ji, n. f. husband's sister (*nanand*)
 بہیا bibiyá, n. f. the queen of cards.

بہ بیت bet, H. n. f. Read; cane; a ratan.

بہ بیت bait, A. n. f. A house; a temple; an abode; a couplet; a verse.

بہ بیتال baitál, बैताल, S. n. m. A dead body occupied and animated by an evil spirit; a demon.
 بہیتال پچھسی —pachisi, name of a Hindi work containing twenty-five tales related by *Baitál*.

بہ بیت الحرم bait-ul-haráم. بیت اللہ bait-ul-láh; A. n. m. The temple of Mecca; the holy place.

بہ بیت الخلاء bait-ul-khálá, A. n. m. A necessary or privy.

بہ بیت السقر bait-us-saqar, A. n. m. Hell.

بہ بیت الشرف bait-ul-sharaf, A. n. m. The biggest mansion of a planet, &c.

بہ بیت الصنم bait-us-sanam, A. n. m. An idol-temple.

بہ بیت الصنم کو چھوڑ کے کعبہ کو جائینگے

ہم اپنے کوڑے یار کو کعبہ بنائینگے

Bait-us-sanam ko chhor ke Ka'be ko jáenge,
 Ham apne kúe-yár ko Ka'ba banáenge.

بہ بیت المال bait-ul-mál, A. n. m. The public treasury; an escheat; property that falls to the Crown on failure of heirs.

بہ بیت المعمور bait-ul-ma'múr, A. n. m. A house in heaven over against the Ka'ba.

بہ بیت المقدس bait-ul-muqaddas, A. n. m. The temple of Jerusalem.

بہ بیترا baitrá, H. n. f. A kind of dry ginger (*sonth*).

بہ بیتن betan, वेतन, H. n. m. Hire; wages; livelihood.

بہ بیت بھسی bait bahsi, A. n. f. Competition in reciting verses. بیت بندی —bandí, n. f. Verse-making; poetry.

بہ بیترنی baitarni, S. n. f. A river (according to the Hindus to be crossed by the dead on

their way to the world of spirit); a river in Orissa

بہ بیتا bitná, बीतना, H. v. To pass; to expire; to come to pass; to happen; to endure; to suffer; to befall. بیت جانا bit jáná, to pass away; to pass over. بیتنے ہارا bitne hará, passing; transient; temporary.

بہ بیت bit, बीट, H. n. f. The dung of birds; fictitious salt containing sulphur.

بہ بیتا beśá, बेटा, H. n. m. A son; a child; a boy.
 بیتا گود لینا —god lená, v. to adopt a son. بیتا
 —beti, n. m. children. الہا بیتے beśe walá, n. m. the father of the bridegroom.

بہ بیتھا baithá, H. n. m. A paddle for rowing a boat; *part. adj.* seated; settled; fallen in (a roof). بیتھے بیتھے —báithe baitháe, in a state of ease and comfort; without any labour or exertion. بیتھے بیتھے —báithe, through inactivity. بیتھی روٹی bait hí rotí, pension.

بہ بیتھانا baitáná, बैठाना, } H. v. To cause to
 بیتھالنا baitáhná, बैठालना, } sit; to place; to seat; to apply; to plant; to station; to fix; to set.

بہ بیتھاک baithak, H. n. f. The act or state of sitting posture; a seat; a place where people meet, sit and converse; a drawing-room; a bench; a kind of exercise. بیتھک خانہ —khána, assembly room; chamber; hall where meetings are held; club house.

بہ بیتھان beṭhan, बेठन, H. n. m. A pack cloth; a wrapper; the envelope in which cloth purchased is folded up.

بہ بیتھنا baitáhná, H. v. To sit; to brood; to be idle; to perch; to subside; to pair; to sit in *dharná*; to fall in or down (a house, &c.).

بہ بیٹی beṭí, H. n. f. A daughter. بیہار beohar, n. m. matrimonial alliance; inter-marriage.

بہ بیج bíj, बीज, H. n. m. Seed; origin. بیج بونا یا دلنا —boná ya dldná, v. to sow seed; to cause; to engender. بیج جمننا —jamná, v. to germinate. بیج گنت —ritu, n. f. the sowing season. بیج گنت —ganit, n. m. Algebra. بیج کنا —nas karná, v. to destroy; to annihilate.

بیجار *bijár*, बीजार, H *adj.* Seed : full of seed a fruit) seedy (*bijáid*.)

بیجک *bijak*, S. *n. m.* Invoice ; ticket attached to bags or goods to mark the price of their contents. [dólán, to fan

بیجنا *bijná*, विजना, H *n. m.* A fan — بیجنا ڈولانا — بیجنتی *baijantí*, वैजन्ती, H. *n. f.* A flag ; the standard of Vishnú. — بیجنتی مالا — *malá*, *n. f.* a kind of garland ; a necklace worn by Vishnu in his several incarnations.

بیجھار *bejhar*, बेजहर, H *n. f.* Mixed corn generally gram and barley.

بیجی *biji*, बीजी, H *n. f.* A weasel ; a mongoose

بیچ *bich*, बीच, H. *n. m.* Middle ; centre ; difference ; interval ; average ; *adv* between ; among ; in ; into ; during. — بیچاؤ — *bicháo*, *n. m.* arbitration ; interposition ; settlement. — بیچاؤ کرنا — *bich o karná*, *v.* to interpose ; to mediate ; to settle. — بیچ میں پرنا — *bich men páná*, to negotiate in a bargain or marriage ; to be surety for. — بیچوں بیچ — *bichon bích* —, *n. m.* very middle or centre.

بیچنا *bechná*, बेचना, H. *v.* To sell ; to transfer.

بیچنے کے لائق *bechne ke liq*, *adj.* saleable.

بیچنے والا *bechne wala*, *n. m.* seller ; vendor.

بیچھی کرنا *bechi karn*, *v.* to endorse a cheque.

بیچ ڈالنا *bech d lna* *v.* to sell off.

بیچھوہ *bechoba*, P. *n. m.* A kind of tent pitched without a pole.

بیخ *bekh*, P. *n. f.* Root ; origin ; foundation ; lineage. — بیخ کن — *kan*, *n. m.* an extirpator ; a thief. — بیخ کنی — *kani*, *n. f.* extirpation ; eradication.

بید *baid*, वैद्य, H. *n. m.* A physician ; medical man.

بید *bed*, वेद, H. (S. *Veda*) *n. m.* A *Veda* or the *Vedas* in the aggregate (the Hindus believe it to be revealed by *Brahma* and compiled by *Vyas* in four parts :—*Rig-veda*, *Yajur-veda*, *Sam-veda*, and *Atharva-veda*).

بید *bed*, P. *n. f.* A cane ; a willow ; a ratan. — بید بان — *b f*, weaver of chairs with ratans. — بید مارنا — *m rná*, to beat with a cane ; to flog. — بید مجنون — *i-majnún*, a species of willow.

بید مشک *mushk*, *n. m.* musk ; willow (celebrated for its fragrance .

بیدار *bedar*, P *adj* Watchful ; wakeful ; vigilant. — بیدار بخت — *bakht*, *adj.* fortunate.

بیداری *bedári*, P. *n. f* Wakefulness ; waking.

بیدانت *bedánt*, (वेदान्त), S. *n. m.* A philosophical system of the Hindus.

بیدانتی *bedántí*, S. *n. m.* One who is conversant in the *Bedánt* system.

بیدی *baidii*, वैदी (Col.) H. *n. f.* The practices of physio.

بیداؤ *baidaq*, A. *n. m* A pawn at chess.

بیداک *baidak*, H. *n. m.* A Brahman versed in the Vedas. [science of physio.

بیدک *baidak*, वैषک, H. *n. m.* The practice or — بیڈھنا *bedhná*, (वेधना), H. *v.* To perforate ; to bore ; to pierce ; to stab.

بیدھیہ *bedhiya*, विधिया, H. *n. m.* A borer ; one who perforates gems, &c.

بیدی *bedi*, वेदी, S. *n. f.* An altar ; a place or ground for sacrifice.

بیر *bir*, (वीर), S. *n. m.* A hero ; *adj.* brave ; gallant ; mighty powerful ; brother. — بیڑ بانے — *bani*, a man's own wife (used among *Jats*).

بیر بندھنی — *bandhni*, a silver or gold chain worn by women on the forehead. — بیڑ بہارنی — *baharñi*, the red velvet insect ; the scarlet fly ; *Bucol a carmola*.

بیر *bar*, (वैर), S. *n. m.* Enmity ; hostility ; ill-will ; malice ; hatred. — بیڑ بانڈھنا — *karná*, *v.* to owe a grudge ; to bear malice, to hate.

بیر کرنے والا — *karnewalá*, a provoker of enmity. — بیڑ کے رشتے — *ke rishte*, hostile relations ; wife's natural enemies ; *riz.*, a co-wife (*sout*) ; husband's sister-mother-in-law, &c. — بیڑ پنا — *paná*, *v.* to be hostile.

بیر نکالنا یا لینا — *nik lna ya lená*, *v.* to take revenge ; to retaliate.

بیر *ber*, बेर, H. *n. m.* A plum ; jujube ; delay ; turn. — بیڑ بیڑ — *ber-ber* ; *adv.* Repeatedly ; frequently. — بیڑ بیڑ — *ber*, again and again.

بیرگ *bairg*, वैराग्य, S. *n. m.* The act of renouncing the pleasures of the world ; seclusion from the world ; penance ; austerity.

بیراگا *bairágá*, बैरागा, H. *n. m.* A horizontal or cross-shaped stick placed upon another vertical stick which a *bairági* places under his armpit to lean upon as he sits.

بیراگی *bairági*, बैरागी, (विरागी), H. *n. m.* One who has subdued his worldly desires and passions; ascetic; devotee; recluse.

بیرتی *bírti*, बीरता, H. *n. f.* Heroism; valour; prowess.

بیراج *bíraj*, बीर्य, H. *n. m.* Strength; power; seed.

بیراق *bairaq*, P. } *n. m.* Flag; standard;
بیراک *bairak*, H. } banner; ensign.
بیراکه *bairakh*, H. }

بیران *bíran*, H. *n. m.* The brother.

بیران *bairan*, बैरन, (Col). H. *n. f.* A female enemy.

بیرو *bíro*, H. *n. m.* A small tree; a sapling.

بیرون *berún*, P. *prep.* Without; out. بیرونجاہات — *ját*, *n. m.* suburbs; country. بیرون نجاتی — *tí*, *adj.* rustic; rural; *n. m.* a countryman.

بیرونی *berúni*, P. *adj.* Outer; external.

بیری *bairí*, बैरी, H. *n. m.* Enemy; foe; adversary.

بیر *ber*, वेद, (वेडा), H. *n. m.* An enclosure; fence. بیر باندی کرنا — *bandí karná*, *v.* to enclose.

بیرا *bírá*, बीड़ा, H. *n. m.* A preparation of the areca nut with spices and lime and enveloped in a betel leaf (*pan gilauri*); a quid of tobacco; cigar; cheroot; hilt of a sword بیرا اوتھانا — *uthána*, *v.* to take up the gauntlet; to undertake to accomplish a business. بیرا دالنا — *dálná*, *v.* to propose a premium for the performance of a difficult or hazardous task. (It was a custom to throw a *bírá*, in the midst of an assembly in token of the proposal to any person to undertake some hazardous enterprise and the person who took up the *bírá* was bound to perform the enterprise in question).

بیرا *berá*, वेड़ा, H. *n. m.* Enclosure; courtyard; fence; paling; railing; siege; blockade; troop; army; the raft floated by the Moham-medans in honour of *Khwaja Khizr*; raft; float; fleet. بیرا پار لگانا یا کرنا — *pár lagána yá karná*, *v.* to ferry over a raft boat; to relieve

from distress; to remove the difficulties. بیرا پار ہونا — *pár honá*, *v.* to tide over a difficulty.

بیرہا *berhá*, H. *adj.* Crooked; zigzag (*benqá*).

بیرہنا *berhána*, वेदना, H. *v.* To enclose with a fence; to surround; to drive away or carry off cattle by force; to pound.

بیرہی *berí*, बेड़ी, H. *n. f.* Iron fastened to the legs of criminals or of a quadruped; fetters; wedlock; basket used to irrigate fields with. بیرہنا یا ڈالنا — *bharná yá dálná*, *v.* to put fetters on; to put in chains. ڈالنا — *apná*, to be put in irons; to be chained; to be tied in wedlock. ڈالنا — *ap kárná*, to have the chains off; to be released.

بیرہی *bíri*, बीड़ी, H. *n. f.* Tobacco wrapped up in a leaf used for smoking. A flake of *pan* or betel for eating (*khili*).

بیزار *bezár*, P. *adj.* Displeased; angry; sick.

بیزاری *bezári*, P. *n. f.* Anger; displeasure.

بیس *bís*, बीस, H. *adj.* Twenty. بیس بسوا — *biswá*, *adj.* whole; complete; *n. m.* the whole village; full amount; full crop; *adj.* in all probability; certainly. بیس وان — *wán*, *adj.* twentieth. بیسون — *bíson*, scores; endless number in twenties.

بیس *bais*, H. S. (*Vaishya* वैश्य), *n. m.* The third of the four Hindu castes (whose occupations are agriculture and trade). *n. f.* energy; prime of life; age.

بیساکھ *báisákh*, वैसाख, H. *n. m.* The first solar month of the Hindus (April-May).

بیساکھا *baisákhá*, *báisákhí*, H. *n. m.* A club armed with iron; a crutch.

بیساکھی *baisákhí*, H. *n. f.* The crops of *Baisákh*; a large myrobalan.

بیستون *besitún*, P. *n. m.* Name of celebrated mountain in Persia which *Farhad* dug through at the command of *Shirin*.

بیسر *besar*, वेसर, H. *n. m.* A small heavy nose-ring.

بیسرا *besura*, वेसुरा, H. *adj.* Out of tune.

بیسن *besan*, H. *n. m.* The flour of gram.

بیسوا *beswá*, H. *n. f.* Prostitute; harlot; crafty or cunning woman.

- بیسی bisí, H. *n. f.* A score; twenty; a measure for grain.
- بیش besh, P. *adj.* More; better; superior; excellent; well; delightful. بیش بہا - بیش قیمت—qimat—bahá, *adj.* costly; precious. کم بیش—o-kam, *adj.* more or less; a moderate quantity. بیشتر—tar, (*Comp. of Besh*) *adj.* and *adv.* much better; mostly; for the most part; generally (*aksar*).
- بیشنا bishnava, वैष्णव, H. *adj.* Of or relating to Vishnu; *n. m.* a follower of Vishnu.
- بیشہ beshá, P. *n. m.* A forest; wilderness; desert.
- بیشی beshí, P. *n. f.* Increase; excess; surplus. بیشی اگان—lagán, *n. m.* enhancement of rent.
- بیض baiz, A. *n. m.* A mark fixed to public writings by the magistrate or any principal officer. [bright.
- بیضا baizá, A. *n. m.* The sun; *adj.* white;
- بیضی baizáwí, A. *adj.* Fashioned in the shape of an egg; oval.
- بیضہ baiza, An egg; a testicle.
- بیطار betár, A. *n. m.* A farrier; a horse doctor.
- بیع bai', A. *n. f.* Buying and selling; sale. بیع کرنا—karná, *v.* to sell; to transfer. بیع کرنا—bilwafá, conditional sale or mortgage.
- بیع پتہ—patfá, lease or sub-lease obtained by purchase. بیع دار—jáiz, valid sale. بیع دار—dár, proprietor by purchase. بیع سازشی—sázishí, collusive sale. بیع سلطانی—sultání, sale by order of Government. بیع فاسد—fásid, sale which is null and void. بیع مطلق—mutlaq, absolute sale. بیع ناقص—náqis, imperfect sale. بیع ناجایز—nájáiz, illegal sale. بیع نامہ—náma, *n. m.* a sale-deed.
- بیعانہ bai'ána, A. *n. m.* Earnest money. بیعانہ دینا—dená, to give money in advance.
- بیعت bai'at, A. *n. f.* Fealty; homage. بیعت کرنا karná, *v.* to become a disciple of some saint; to take the oath of allegiance.
- بیکنتہ baikunth, (बैकुण्ठ), H. *n. m.* Heaven; paradise. بیکنتہ ہونی—bási honá, *v.* to go to heaven; to die.
- بیک beg, (बेग), H. *n. m.* Speed; haste; *adv.* quickly; soon.
- بیک beg, P. *n. m.* A Moghal title corresponding with English lord, master, &c.
- بیکار begár, P. *n. m.* Compelling to work for nothing; compulsory labour with or without pay; a person forced to labour. بیکار پکڑنا—pakarhá, *v.* To compel into service with or without pay. بیکار تالنا—tálná, *v.* to work in a perfunctory manner or carelessly.
- بیکاری begárí, P. *n. m.* One pressed to carry burdens for individuals or the public; a forced labourer. بیکاری لینا—léná, *v.* to take labour forcibly with or without pay.
- بیکانگی begángi, P. *n. f.* Strangeness; shyness.
- بیکانہ begána, P. *adj.* Not related; strange; foreign. *n. m.* stranger; foreigner. بیکانہ خرو—khoo, of an unfriendly or savage disposition.
- بیکانہ وضع—waza', strange-mannered.
- بیکم begam, P. *n. f.* A lady; a queen; a title of Moghal ladies. [brinjal.
- بیکن baigan, बैगन, H. *n. m.* The egg-plant; the
- بیکہ bígá, बीघा, H. *n. m.* A measure of land equal to five-eighths of an acre or 120 feet square.
- بیل bel, P. *n. m.* A spade; a mattock; a shovel. بیلدار—dár, digger; pioneer.
- بیل bel, बेल, H. *n. f.* A creeping plant; a creeper; the wooden apple; generation; tape; embroidery. بیل بوٹا—búta, *n. m.* shrubs and creepers, flowers or embroidery (on cloth, &c.) بیل گری—gírí, pulp of the *bel* (medicinally) used for diarrhoea and dysentery.
- بیل bail, बैल, H. *n. m.* A bull; an ox; a block-head; a fool. بیل گاری—gárí, *n. f.* a bullock cart.
- بیل belá, बेल, H. *n. f.* Time; period; a cup; a species of jasmine; an instrument of music resembling a fiddle.
- بیل belá, P. *n. m.* Money to be distributed for charity. بیلدار—bardár, *n. m.* one of the retinue of a great man who scatters money among the people.

بہلچہ belcha, P. n. m. A small mattock.

بلاک belak, P. n. f. A small mattock or hoe ; the iron point of an arrow. [roller.

بیلان belan, بیلان, H. n. m. A rolling pin ; a

بیلنا belná, H. v. To roll the flour into a flat cake.

بیلنی belní, H. n. f. A small rolling pin ; a branch. [a creeper.

بیلنی belí, H. n. m. Protector ; preserver ; n. f.

بیم bim, P. n. m. Fear ; terror ; danger.

بیمہ bima, { बीमा } H. n. m. Insurance. بیمہ

بیمہ bímá, { बीमा } H. n. m. Insurance. بیمہ

اٹھانے والا - بیمہ بچنے والا uṭhánewalá—

bechne wálá, insurer. بیمہ کرنا—

karná, to effect an insurance or policy.

بیمہ کی سند—ki sanad, policy of insurance.

بیمہ بھری—i-bahri, a maritime policy or insurance.

بیمہ جان—i-ján, life insurance.

بیماتر بہائی baimátr bhái, H. n. m. A brother

born of a different mother by the same

father.

بیمار bímár, P. adj. Sick ; ailing ; n. m. a

sick man ; a patient ; lover. بیمار پرسی کرنا

—pursí karná, to go visiting the sick.

بیمار خانہ—khána, n. m. a hospital. بیمار داری

—dári, n. f. attendance on the sick.

بیماری bímári, P. n. f. Sickmess ; indisposition ;

illness ; disease.

بین bín, بین, H. n. f. A stringed musical instrument ; a wind instrument.

بین bín, P. part. adj. Seeing ; beholding ;

looking (used in compos.) as : خورد بین khurd

bin, a microscope. [pipe ; flute ; life.

بین bin, بین, H. S. n. f. Reed ; bamboo ; reed

بین bain, H. n. f. Sound ; lamentation ;

wailing (for the dead).

بین bain A. n. m. Distance ; interval ; (prep.)

Between ; among. بین الاقوامی—ul-aqwami,

international.

بینا bainá, H. n. m. The grass commonly called

—khas ; andropogon muricatum.

بینا biná, P. adj. Having sight ; clear-sighted.

بینا کرنا—karná, to cause to see ; to give

sight to.

جو ہمیں بینا رہا الگ رہتے ہیں خود بینوں سے

بات مت جاتی ہے مانے میں سندن چینوں سے

—میر نفیس

Jo haig biná, wuh alag rahte haig khud-bínon se.

Bát miṭ játi hai milne inen sukhan-chinon se.

بینائی binái, P. n. f. Sight ; vision.

بیرتوانا یا بیورتوانا byurtáná, yá byurtwáná, H. v

To have or get clothes cut or shaped.

بیت بنت bent, H. n. m. A handle.

بجنی bajní, بجنی, H. adj. Purple.

بیدھنا bídhná, بیدھنا, H. v. To bore ; to pierce ;

to perforate ; to string pearls, beads, &c. ;

to say piercing words.

بیدھنا bendhná, H. v. To braid ; to plait.

ببندی bándí, ببندی, (ببندی), H. n. f. An orna-

mental circlet made with a coloured earth

and unguent on the forehead between the

eye-brows ; an ornament worn by women on

the forehead. tikli ; (bándiyá).

ببندہ bándá, H. n. m. A roll of paper ; a twist

of grass or fibres of a plant used in place of

rope.

ببندہ bendá, ببندہ, H. adj. Crooked ; athwart ;

across ; unmanageable ; difficult ; hard ;

uncivilised ; n. a bolt or bar placed across a

door to fasten it. [sight.

بینش bínish, P. n. f. Seeing ; discernment ;

بینا bínná, بیننا, H. v. To pick ; to glean ; to

gather ; to select

بینی bení, (ببھی), S. n. f. The hair twisted and

allowed to fall on the back by women as a

token of mourning ; the junction of two

rivers as that of Ganges and Jumna at

Allahabad.

بینی bíní, P. n. f. The nose ; the guard of a

sword. ببندی—burída, adj. having the

nose cut ; noseclipt (a naklá).

بیوا bewá, H. f. A widow ; see ببویا bewa.

بیوان bewán, بیوان, (Col.) H. n. m. The vehicle

or self-moving car of a Hindu deity called,

(bimán विमान.)

[business.

ببوپار byopár, (ببپار), H. n. m. Traffic ; trade ;

بیوپاری beopárf, H. *n. m.* Merchant; dealer; trader.

بیوتات byutát, A. *n. f.* Household expenses.

بیورا byorá, व्योरा, H. *n. m.* Explanation; a detailed account; history; news; intelligence; a day book. بیورا دینا یا کرنا—dená yá karná, *v.* to inform; to relate; to describe; to intimate.

بیوروار byorewár, *adj.* Explicit; detailed; distinct.

بیوستھا baivasthá, व्यवस्था, H. *n. f.* Legal opinion, judgment or decree according to Hindu law.

بیورگ biyog, वियोग, H. *n. m.* Separation of lovers; unrequited love. [the pain of absence.

بیورگی biyogí, वियोगी, H. *n. m.* A lover suffering

بیونت byont, व्योत, *n. m.* The act of cutting out clothes; cut; shape; fashion; plan; agreement; economy.

بیونتنا byontná, H. *v.* To out or shape clothes.

بیونگا byongá, व्योगा, H. *n. m.* An instrument with which leather is scraped and cleaned. بیونگا پھرنا—phirná, *v.* to be curried.

بیورا bewa, P. *n. f.* A widow.

بیوہار byohár, (ब्यवहार) H. *n. m.* Calling; dealing; trading; profession; correspondence; money-lending; negotiation; practice; custom. بیوہار کرنا—karná, *v.* to negotiate; to deal with; to transact business.

بیوہاری byohárf, H. *n. m.* Merchant; money-lender; trader; *adj.* mercantile; customary.

بیوہاریا byohariyá, } H. *n. m.* A trader; a
بیوہارا byohará, } money-lender; a creditor.

بیوی bíwí, P. *n. f.* Wife.

بیہ beh, H. *n. m.* Hole; perforation.

بیہڑ bíhar, बीहड़, H. *adj.* Uncultivated; uneven; rough. *n. m.* broken ground; sterile land; forest.

بیہن behan, H. *n. f.* Nursery for rice plants; advances given for seed-grain.

بیہنا behná, H. *n. m.* A comber; a carder (of cotton.)

بیہردگی behúdagí, P. *n. f.* Absurdity; foolishness; vanity; unprofitableness; frivolity.

بیہردہ behúda, P. *adj.* Absurd; foolish; idle; vain; unprofitable; obscene; immoral. بیہردہ گو—go, *n. m.* a talker of nonsense; a foul-mouthed fellow. بیہردہ گوئی—goí, *n. f.* idle talk; absurdity.

بیہی behí, बेही, H. *n. f.* Earthen vessel presented by the potters of a village to a newly married pair.

(پ)

پ pe, the third letter of Urdu and Persian alphabets. There is no such letter in the Arabic alphabet but the letter ف fe is substituted in Persian words adopted into the Arabic language.

پا pá H. A termination affixed (*pan, pand*) to nouns to denote the abstract quality as *mutápá*, fatness from *moṭa*, fat. پا کر یا پائے pákar yá páke, having got or obtained.

پا pá, P. *part.* Lasting; continuing; standing; (*used in comps.*) as *kam-pá*, of short duration; *der-pa*, permanent.

پا pá P. *n. m.* The leg; foot. پا در رکاب—dar rikáb, Foot in the stirrup; ready; prompt; alert. پا زنجیر—ba zanjir, P. *adj.* fettered; in chains.

پا انداز pá andáz, P. *n. m.* A carpet spread at the entrance of a room for cleaning the feet on.

پابند páband, P. *n. f.* A rope with which the fore-feet of a horse are tied; a servant; *adj.* fettered; bound. پابند ہونا—honá, *v.* to be bound; to conform to; (*met.*) to be married to.

پابندی pábandí, P. *n. f.* Check; restraint; restriction.

پا بوس pábos, P. *n. m.* One who kisses the feet; worshipper. پا بوس ہونا—honá, *v.* to worship; to revere.

پا بوسی pábosí, P. *n. f.* Kissing the feet; worship; reverence. پا بوسی کرنا—karná, to worship; to revere.

پاپ páp, पाप, S. *n. m.* Sin; fault; crime; vice; evil; transgression; guilt. پاپ اڈے ہونا—

udai honá, *v.* to reap the reward of sins committed in a former birth. پاپ بیسانا یا پاپ کمنا یا پاپ مول لینا —bisáná yá—kámáná yá—mol lená, *v.* to commit sins ; to do wrong ; to bring calamity upon. پاپ کٹنا—kaṭná, *v.* sin to be blotted out ; to be absolved. پاپ لگنا—lagná, to be stained with sin. پاپ لگانا—lagáná, to impute fault ; to calumniate پاپ موکشن—mokshán پاپ موکشن, salvation ; liberation from sin.

پاپا pápá, *P. n. m.* Father ; the Pope.

پاپر pápar, پاپر, *H. n. m.* Thin crisp cake made of any pulse ; thin layer ; fertile soil. پاپر بیلنا—belná, *v.* to roll out thin crisp cakes ; to undergo great labour or pain for insufficient means.

پاپرا páprá, پاپرا, *H. n. m.* A plant (*Gardenia latifolia*) the fruit of the dhák tree.

پاپرا کھار páprá khár, *H. n. m.* Ashes of the plantain tree used instead of salt for seasoning the cakes called pápar.

پاپین pápin, *H. n. f.* A wicked woman ;
پاپینی pápiní, پاپینی *S. n. f.* a sinner ; *adj.* sinful, wicked.

پاپوش páposh, *P. n. f.* A slipper ; a shoe. پاپوش پر مارنا—par márná, to make light of ; to care for nothing. [sinful ; guilty.]

پاپی pápí, *S. n. m.* Sinner ; criminal ; *adj.*

پاپی pápí, *H. n. m.* A weevil ; an insect bred in rice.

پاپیادا pápiyáda, *P. adv.* On foot

پات páṭ, پات (پتتی), *H. n. m.* A leaf ; any thin leaf or plate of metal ; an ornament worn by women in the upper part of the ear ; bill or draft on a banker.

پاتابا pátaba, See پاتابا

پاتال pátal, پاتال, *S. n. m.* One of the seven regions under the earth and the abode of the Nagas or serpents and demons ; hell. پاتال جنتر—jantr, a sort of apparatus for calcining and subliming metals and preparing medicines.

پاتال گنگا pátalgāngá, *n. f.* The Ganges of the internal regions.

پاتک pátak, پاتک, *S. n. m.* Sin ; crime.

پاتکی pátkí, *adj.* Criminal ; sinner.

پاتلی páṭlī, پتلی, *H. n. f.* A kettle or pan (*patīlī, degchī*).

پاتجال páṭajjal, *S. n. m.* The Yog, a system of philosophy composed by Pátanjali.

پاتھار páthar, (پتھر), *H. n. m.* A stone

پاتھنا páthná, پاتھنا, *H. v.* To make up cowdung into cakes for fuel.

پاتی páṭí, پتی, *H. n. f.* A leaf ; a letter ; a note ; an epistle.

پات páṭ *H. n. m.* Breadth of a river ; the width of a cloth, of a river ; etc. ; silk ; a throne ; a seat ; a board ; a plank ; a shutter ; fold of a door ; millstone ; a tow. پات رانی—rání, principle wife of a Raja ; queen consort.

پاتامبر páṭambar, پاتمبر, *S. n. m.* Silk cloth ; silk garment.

پاتان páṭan, *H. n. m.* A shoe ; a slipper.

پاتان páṭan پاتن, *H. n. f.* Roofing ; *n. m.* a city.

پاتنا páṭná, پاتنا, *H. v.* To roof ; to cover ; to fill up ; to irrigate ; to overstock ; to pile ; to pay.

پاتھ پاتھ páṭh, پاتھ, *S. n. m.* A reading ; perusal ; study, a lesson. پاتھ سالا—sála, college ; school house ; reading room ; Hindi school.

پاتھا páṭhá, *H. n. m.* A full grown animal ; a youth ; a wrestler.

پاتھک páṭhak, پاتھک, *S. n. m.* A teacher ; a professor ; a title of Brahmans.

پاتی páṭí, پاتی, *H. n. f.* A side of a bedstead ; a smooth cool mat (*sital páṭí*) ; a board on which children learn to write ; parting of the hair in the middle of the head.

پاجاما pájama, *P. n. m.* Trousers.

پاجی pájī, *P. adj.* Mean ; low ; base ; vile ; wicked ; scoundrel ; rascal.

پاجیپنا pájipaná, پاجیپنا, } *H. n. m.* Meanness ;
پاجیپان pájīpan. } vileness ; rascality.

پاچک páchak, *P. n. m.* Cow dung dried for fuel (*upld*). پاچک دشتی—i-dashtí, dry dung of animals found in fields and jungles often used for chemical purposes.

پاچک páchak, पाचक, } H. n. m. A digestive ;
 پاچان páchan, } solvent ; an infusion of
 various drugs ; a cook ; *adj.* digestive ; aiding
 or effecting digestion.

پاچھ páchh, पाछ H. n. m. Inoculation ; the inci-
 sion made in the poppyhead for the opium to
 ooze out. پاچھنا—ná, H. v. to inoculate ; to
 make an incision in.

پاچھے páchhe, पाछे, (Col.) H. *adv.* Behind ; after ;
 in the absence, see پیچھے pichhe.

پاداش pádâsh, P. n. m. Recompense ; revenge.

پادری pádri Port. n. m. clergyman ; priest ;
 minister ; chaplain.

پاد zahar, P. n. m. The name of a
 medicine ; expeller of poison ; an antidote.

پادشاه pádshâh, P. n. m. King ; a sovereign.

پادشاهی pádshâhî, } P. *adj.* Imperial ; roy-
 پادشاهانہ pádshâhâna, } al ; *adv.* kingly.

پادشاهی pádshâhî, } P. n. f. Empire ; king-
 پادشاهت pádshâhat } dom ; monarchy ; royalty.

پادشاه زادہ pádshâh zâda, P. n. m. A prince ; a
 a king's son. [a tutor.

پادھا pádhâ, पाथा, H. n. m. A teacher ; a priest ;

پار pár, पार, S. n. m. The oppcsite bank or
 shore ; the other side ; the end ; termination ;
 bottom. *adv.* over ; across ; on or to the
 other side ; through ; beyond ; *adj.* past ; last.

پار اتارنا—utárnâ, to put or ferry over. پار
 اترنا—utárnâ, to cross ; to get through ; to
 gain one's end. پار پانا—pánâ, to get to the
 bottom of. پار وار wâr—, through and
 through ; from end to end. پار کرنا—karnâ,
 v. to cross ; to ferry over ; to finish ; to
 perforate.

پارا pára, पारा, H. n. m. Mercury ; quicksilver.

پارا کا کافور—ká kâfúr, n. m. calomel.

پارباتی párbatî, (पार्वती), S. n. f. The wife of *Shiva* ;
 the olibanum tree.

پاربتوشیک páritoshik पारितोषिक, S. *adj.* Gratifying ;
 delighting ; n. m. reward ; gratuity.

پارچہ párchâ, P. n. m. A piece of cloth ;
 fragment ; piece.

پارس páras, पारस, H. n. m. The philosopher's
 stone which immediately converts into gold
 any metal it touches (*pâras patthar.*) Touch-
 stone. [virtuous.

پارسا pársâ, P. *adj.* Chaste ; abstemious ; holy.

پارسال pársâl, P. n. or *adv.* Last year.

پارسائی pársâi, P. n. f. Abstinence ; chastity.

پارسی pársi, P. n. m. A native of Persia ; a
 Persian ; a follower of Zoroaster.

پارکھی párkhî, पारखी, H. n. m. An examiner ; an
 assayer ; a judge.

پارہ pára, P. n. m. A piece ; a bit ; a scrap ; a
 patch. پارہ پارہ—pâra-pâra ; *adv.* In pieces ;
 piecemeal. پارہ دوز—doz, n. m. a patcher ; a
 cobbler.

پاری pári, पारी, H. n. m. A turn ; time ; a large
 leathern vessel. پارے باندھنا—bândhnâ, to
 arrange to take by turns.

پارینہ párina, P. *adj.* Passed ; elapsed ; ancient.

پارینہ دفتر—dâftar, ancient record.

پاز pâr, पाज, H. n. f. A scaffold ; stage ; frame-
 work ; wooden frame over a wall.

پازا pára, पाजा, H. n. m. A quarter of a town ;
 a ward ; the boundary of field ; male buffalo
 calf.

پازنا párnâ, H. v. To cause to fall ; to let fall ;
 to knock down ; to take a lamp-black by
 holding a plate over a lamp (*kâjal párnâ*).

پازیب pázeb, P. n. f. An ornament worn on the
 feet or ankles.

پاس pás, H. n. m. A rope ; a noose.

پاس pás, H. *adj.* and *adv.* Besides ; near ;
 about ; at ; in the possession of ; at hand ;
 close by ; in the neighbourhood of. پاس پاس
 —pâs, thereabouts. پاس آنا—ânâ, v. to come
 near to ; to reach ; to come up to. پاس نہ
 پہنکنا—na phaṭknâ, not to approach ; not to
 hover around.

پاس pás, P. n. m. Watching ; respect ; custody ;
 observance ; favour ; regard. پاس خاطر
 —pâs khatir, n. m. in consideration to.

پاس خاطر—pâs khatir, n. m. in consideration to.

پاس خاطر—pâs khatir, n. m. in consideration to.

پاس خاطر—pâs khatir, n. m. in consideration to.

پاس خاطر—pâs khatir, n. m. in consideration to.

- پاسا pása, पास, H. *n. m.* A dice; a throw of dice. پاسا پونا—parná, to be lucky in throwing dice. پاسا پھینکنا—phenkná, *v.* to throw the dice. پاسا کھیلنا—khekná, to gamble with dice.
- پاسبان páshan, P. *n. m.* A watchman; a guard; a sentinel; shepherd; a pastor.
- پاسبانی pásbáni, P. *n. f.* Watch; keeping; protection; guarding.
- پاستان pástán, P. *adj.* Old; ancient; past.
- پاسداری pásdári, P. *n. f.* Watching; partiality.
- پاسنا pásná, H. *v.* To come down (the milk from the udders).
- پاسنگ pásang, पासंग, H. *n. m.* A make-weight; a balance; anything placed in one scale to balance the other.
- پاسی pási, پاسी, H. *n. f.* A nose; a rope with which the legs of a horse are bound; *n. m.* a low caste among Hindus; a fowler.
- پاش pásh, P. *part. adj.* Sprinkling; scattering (used in comps.) پاش پاش—pásh, *adj.* shivered or broken in pieces; shattered.
- پاشا páshá, T. *n. m.* Governor of a province; counsellor of state; great lord; the highest title in the civil or military hierarchy in Turkey.
- پاشویہ páshoyá, P. *n. m.* Washing of the feet.
- پاشی páshí, P. *n. f.* Sprinkling (used in comps.) as : آب پاشی ábpáshí, irrigation.
- پاک pák, पाक, S. *n. m.* An electuary composed of honey, syrup, etc.; confection.
- پاک pák, P. *adj.* Pure; holy; sacred; undefiled; innocent. پاک کرنا—karná, *v.* to purify; to clear.
- انقلاب جہاں کو دیکھتے لیا - حب دنیا سے قلب پاک ہوا
دل کلی کھل کے ہو گئی تھی بھول بھول کھولا کے آج خاک ہوا
(انجین) —
Inqiláb-i-jahán ko dekh liyá, hubb-i-duniá se qalb pák huá.
- كالي कलि के हो गयी थी फूल, फूल कुम्लिा के अज क्ख हुआ.
- پاکباز pákbáz, P. *adj.* Undefiled; honest; sincere. [sincerity.]
- پاکبازی pákbázi, P. *n. f.* Purity; candour;
- پاکدامن pákdáman, P. *adj.* Chaste; innocent; modest; pure. [innocence.]
- پاکدامنی pákdámání, P. *n. f.* Chastity; sanctity;
- پاکدرو pákrau, P. *adj.* Upright in conduct; virtuous.
- پاکدامنی pákdámání, P. *n. f.* Chastity; sanctity; unpolluted.
- پاکصاف páksáf, P. *adj.* Pure; clean; undefiled; unpolluted.
- پاک سیرت pák sírat, P. *adj.* Of spotless character.
- پاکنا pákná, H. *v.* To boil in syrup.
- پاکھندی pákhandí, पाषण्डी, H. *adj.* Deceitful; hypocritical.
- پاکی pákí, P. *n. f.* Cleanliness; purity.
- پاکیزگی pákizgi, P. *n. f.* Chasteness; neatness; cleanliness; purity.
- پاکیزہ pákiza, P. *adj.* Neat; clean; pure; chaste.
- پاکیزہ خصالت pákizá-khaslat, *adj.* of chaste habits.
- پاکیزہ گوہر pákizá-gauhar, of a pure nature or essence.
- پاک pág, पाग, H. *n. f.* A turban; syrup.
- پاگر págur, पागुर, H. *n. m.* The act of chewing the cud; rumination. [chew the cud.]
- پاگرانا págurána, पागुराना, H. *v.* To ruminate; to
- پاگل págal, पागल H. *n. m.* A mad man; fool; an idiot; *adj.* mad; foolish; insane; پاگل خانہ —khána, *n. m.* a lunatic asylum; a mad house. پاگل ہونا—honá, *v.* to become mad.
- پاگنا págná, H. *v.* To dip in or cover with syrup; to form a cake of a crystallized sugar.
- پال pál, पाल, H. *n. f.* A dam; an embankment; a sail; a small tent; layers of straw, leaves, etc., between which raw mangoes are ripened. پال چڑھانا—ká pakka, ripened in straw. پال کا پکا —chahrána, to hoist sail.
- پالا pálá, पाला, H. *n. m.* Hoarfrost; a heap of earth set up by children to separate the two parties in a game of *kabaddí*; leaves of a tree named *jarbert*; a partition line; dealing.
- پالے پالے یا پالے پالے—yá pále parná, *v.* to fall under one's power; to have to do with; to be married to; to show; to be entangled.

پالانگن *pálāngan*, पालागन, H. *n. m.* An act of prostration; obeisance by embracing the feet; reverence; respect (*esp. to Brahmins*).

پالان *pálan*, P. *n. m.* A packsaddle.

پالانی *páláni*, P. *n. m.* Maker of packsaddles; a sluggish beast of burden. اسپ پالانی *asp-i* —, a packhorse. [percolation.

پالایش *páláish*, P. *n. f.* Straining; filtration;

پالتی *páltí*, (पालती), H. *n. f.* A. Squatting posture. پالتی مار کے بیٹھنا *már ke baithná*, *v.* to sit on one's hams; to squat.

پالغز *pálagz*, P. *n. m.* Slip; stumble; error.

پالک *pálak*, पालक, H. *n. m.* A potherb; a sort of spinach; an adopted son; a bedstead; a cherisher; a keeper; a protector.

پالکی *pálkí*, H. *n. f.* A kind of litter or sedan; a palanquin. پالکی نشین *nashín*, *n. m.* one entitled to be carried in a *pálkí*; a noble.

پالان *pálan*, पालन, S. *n. m.* Bringing up; nourishing; cherishing; breeding; nursing; maintenance.

پالنا *pálná*, H. *v.* To nourish; to bring up; to support; *n. m.* a cradle.

پالی *páli*, पाली, H. *n. f.* A cock fight; cover of a pot.

پالیز *pález*, P. *n. f.* A field of melons or cucumbers.

پام *pám*, H. *n. f.* Thread running along the edges of lace to prevent its ravelling.

پامال *pámál*, P. *adj.* Trodden on; destroyed; ruined; crushed. [devastation.

پامالی *pámáli*, P. *n. f.* Ruin; destruction;

پاماردی *pámardí*, P. *n. f.* Strength; resolution.

پاماری *pámari*, पामरी, H. *n. f.* Wife of a man of low caste; a low mean woman; a kind of silken cloth; a sweet-smelling flower.

پان *pán*, पान, H. *n. m.* A betel leaf; embroidered work. پان دان *dán*, box for betels and the condiments taken with it. پان کھلائی *khilái*, *n. f.* giving *pán* to eat; a betrothal ceremony.

پان لگانا یا بانانا *laganá yá bananá*, *v. i.* to prepare betel-leaf, with betel-nut, &c.

پان *pán*, S. *n. m.* Drinking beverage; drink. پان کرنا *jal—karná*, to refresh oneself; to make a repast.

پانا *pána*, H. *v.* To get; to obtain; to find; to overtake; to suffer; to reap; to secure; to enjoy; to reach. *n. m.* getting; finding; (when annexed to an inflected infinitive or verbal base signifies 'to be allowed'; 'to get permission'; 'to do'; 'to be able', as, پانا آئے *wuh áne páyá*, he was allowed to come. نہ سن پاورے *wuh na sun páwe*, he be not able to hear, &c.

پانت *pánt*, पान्ति, H. *n. f.* A row; a line; a rank of soldiers; a series.

پانچر *pánjar*, पंचर, H. *n. m.* The ribs; the side.

پانچ *pánch*, H. *adj.* Five.

پانچواں *pánchwán*, पंचवाँ, H. *adv.* Fifth

پانچویں *pánchwin*, H. *n. f.* The fifth day of the moon or of the month. پانچویں *pánchwe* fifthly; in the fifth place. [or soil.

پاندری *pándri*, H. *n. f.* Whitish, chalky earth
پاندے *pánde*, पांडे, } H. *n. m.* A learned man;
پانڈے *pánđe*, पाण्डे, } a school-master; a title of Brahmins.

پانزدہ *pánzdah*, P. *adj.* Fifteen.

پانزدہم *pánz dahum*, P. *adj.* Fifteenth.

پانس *páns*, पॉस, H. *n. m.* Manure; a dung-hill.

پانس ہونا *dálná*, *v.* To manure. پانس ہونا

honá, *v.* to rot; to become manure.

پانسنا *pánsná*, H. *v.* To manure; to dung.

پانک *pánk*, H. *n. m.* Bog; mire; quagmire.

پانگ *pángá*, H. *n. m.* Culinary salt obtained from sea sand. [indica.

پانگرا *pangará*, H. *n. m.* The coral tree; *Erythrina*

پانو *páno*, पाँव, } H. *n. m.* Foot; leg; founda-
پانوں *pánon*, } tion; basis; foothold; steadiness; part; portion; share; responsibility; liability. پانو اترنا *utarná*, *v.* to be dislocated

(the foot). پانو اٹھانا یا چلانا *uthaná yá chalaná*,

v. to step out; walk quickly. پانو اُکھڑنا *ukharná*,

v. to lose one's footing; to take flight; to be routed. پانو بڑھنا *pánon*

barháná, *v.* to take the lead; to go ahead; to exceed bounds. پانوں بچھلنا *bichhalná*, to

lose one's balance; to go wrong or astray. ہونا بھاری پانوں bhārī honā, to be with child; to be pregnant. جانا پانوں—bhar jānā, numbness to the feet; sleeping of the feet. پانوں—pānon, *adj.* on foot. پانوں رکھنا—par-rakhnā, to intimate the conduct of another; to sit cross-legged. پانوں—pānā, *v.* to entreat submissively. پانوں پر تیشہ مار لینا یا اپنے پانوں میں آپ کلہاری مارنا—ar tesha m r lenā yā apne pānon men āp kulhārī marnā, to injure oneself; to cut one's own throat. پانوں پسانا—pasārnā, *v.* to stretch one's leg; to die. پانوں پر چمنا یا چومنا—pūjnā yā chūmnā, *v.* to worship or kiss one's feet; to do honour. پانوں پھٹنا—phaṭnā, *v.* to have chilblains. پانوں پھلنا—phūlnā, *v.* to be tired; to be embarrassed. پانوں پھولا کر سونا—phailā kar sonā, *v.* to sleep with the legs extended; to be free from care; to be perfectly contented and happy. پانوں پھوک پھوک رکھنا—phūk phūk rakhnā, *v.* to do everything carefully; to move cautiously or warily in. پانوں پسانا—pasārnā, *v.* to be insatiable; to insist; to be obstinate. پانوں پیٹنا—piṭnā, to struggle vainly against difficulties. پانوں تلے ملنا—tale malnā, *v.* to trample under foot. پانوں توڑنا—torṇā, to be marched or trotted about in vain; to be tired. پانوں جمانا—jamānā, *v.* to stand firmly; to get a footing. پانوں ڈھرنہ—dharnā, to set foot on; to step in; to enter; to begin. پانوں دھو دھو کے پینا—dho dho ke pinā, to do reverence; to place perfect confidence in. پانوں زمین پر نہ رکھنا—zamin par na rakhnā, to be unsteady on the feet through joy. پانوں زمین پر نہ رکھنا—zamin par na rakhnā, to walk on stilts; to be ostentatious. پانوں ڈگنا—dignā, *v.* to slip; to give way. پانوں سونا—sonā, *v.* to be numbed; to sleep. پانوں کانپنا یا تھر تھرانا—kappnā yā thartharānā, *v.* to fear to attempt anything. پانوں گور میں لگانا—gor men laṭkānā, to be advanced in years. پانوں گھسنہ—ghisnā, to undergo useless labour. پانوں میں مہندی لگانا—men me dhī lagānā, to be unable to set foot on the ground. پانوں نکالنا—nikalnā, *v.* to exceed one's proper limit; to withdraw

from. دے پانوں آنا—dabe—ānā, *v.* to come unperceived. پانوں پانڑا—pāṇṛā, *H. n. m.* A cloth or carpet spread for great personages to walk on. پانڑی Pāṇṛī, *H. n. f.* Sandals. پانی—pānī, *H. n. m.* Water; breed; lustre; polish; brightness; modesty; sense of shame; credit; reputation; honour; rain. پانی پانی ہونا—panī honā, to perspire with shame. پانی پھیرنا—phērnā, to impart lustre to; to polish; to gild; to dissipate; to destroy. پانی پانی—pānā, *v.* to rain. پانی پانی کے کوسنا—pī pī ke kosnā, *v.* to curse excessively. پانی دینا—denā, *v.* to offer a libation of water to the manes of the deceased; to water; to irrigate. پانی دیوا—devā, *n. m.* one entitled to offer a libation of water to the deceased; a son. پانی سا پتلہ—sā patlā, *adj.* as thin as water; watery. پانی کا بلبلہ—kā bulbulā, *n. m.* a bubble of water; anything unstable, weak, frail. پانی کا کنا—kānā, *v.* to turn off the water into another channel; to breast the waves. پانی کا رھنے والا—kā rahnewālā, an aquatic. پانی کرنا—karnā, *v.* to liquify; to melt; to abash; to make water; to dishearten; to make easy. پانی کے مول—ke mol, cheap as water. پانی لگانا—lagnā, water of a place to affect one. پانی مرنا—marnā, *v.* to dry up; to leak. پانی میں آگ لگانا—men āg lagānā, *v.* to revive a contention which had subsided; to attempt impossibilities. پانی ادرک کا—nikalnā, *v.* to ooze; to leak. پانی کھارا پانی—adrak kā—, *n. m.* gingerade. پانی کھارا—khārā—, *n. f.* saltwater. پانی نہ مانگنا—na māngnā, *v.* to be slain with the single stroke of a sword, &c., and die instantly. پاو—pāo, *H. n. m.* A quarter; a fourth part. پاو—pāo, *n. m.* one-fourth of an anna; one pice. پاو یا پار سیر—bhar yā—ser, *adj.* a quarter of seer. پار روٹی—roṭī, *n. f.* a loaf of bread made in the European way weighing about a quarter of a seer. پاوالا—pāolā, *H. n. m.* A quarter of any coin. پاھن—pāhan, *H. n. m.* Stone.

پاھن páhun, पाहुन, H. n. m. A guest ; visitor.
 پاھي páhí, H. n. m. Non-resident cultivator ; a tenant-at-will.
 پاڻي páí, पाई, H. n. f. A copper coin equal in value to the twelfth of an anna ; a pie ; vertical line in Hindi accounts ; pins used by weaver to wind off the warp from.
 پاے páe, P. n. m. The foot ; the leg ; the stand of a table, chair, &c. ; foundation.
 —takht, n. m. the royal residence ; the capital.
 پاے ركب—rikáb, n. m. retinue.
 پاے زنجير—zanjir, chained by the leg ; encumbered with a famliy, &c.
 پاے مال کرنا—mál karná v. to destroy ; to waste.
 پاے مردی—mardí, n. f. courage. [depth ; fordable.
 پایاب páyáb, P. n. m. A ford ; *adj.* within one's
 پایابی páyábí, P. n. f. Quality of being fordable.
 پایان páyán, P. n. m. } End ; extreme, com-
 پایانی páyání, P. n. f. } pletion ; termination.
 پائیتابہ páetába, P. n. m. A sock.
 پایاتھہ páyath, H. n. m. A scaffold.
 پائجامہ páejáma, P. n. m. Trousers.
 پایخانہ páekhána, P. n. m. A latrine ; privy.
 پایدار páedár, P. *adj.* Firm ; steady ; permanent ; lasting. [firmness.
 پایداری páedári, P. n. f. Stability ; durability ;
 پایک páyik, H. n. m. A messenger ; a footman ; an armed attendant.
 پایکاشت páekásh, P. n. m. Land let out to non-resident tenants.
 پایگاہ páegáh, P. n. m. Rank ; a stable.
 پایل páyal, पायल, H. n. f. An anklet of gold or silver ; a child born feet-foremost ; a bamboo ladder ; *adj.* sure-footed ; easy-paced.
 پاموز páemoz, P. n. m. A kind of pigeon.
 پائیں páín, P. n. m. The lower part ; the bottom ; *adj.* lower ; *adv.* beneath ; under.
 باغ پائیں—bag, n. m. Garden at the back (of a palace or house).
 پاینت پاینتا, páéntá, پاینتی pá-inti, S. n. f. The foot of a bed ; the side towards the feet.
 پائینچہ páenchá, P. n. m. One of the legs of trousers.
 پائینچہ بھاری کرنا—bhári karná, *Lit.*

to make one's drawers heavy ; to make a vow of rigid seclusion, or not go out any more.
 پایا páya, P. n. m. The leg of an animal, table, etc. ; foundation of a building ; base of a column ; rank ; dignity ; prop ; support ; step.
 پایتر pabitr, (पवित्र), H. *adj.* Pure ; holy ; clean ; undefiled.
 پایتر پایتر, पापदा, H. n. m. A crust.
 —ná yá papaiyáná, to form a crust.
 پایتری papri, पाप्री, H. n. f. A thin crust ; incrustation ; a scab ; a scale ; thin cakes of bread.
 پایتری جم جانا—jam janá, v. to form a crust ; to crystallize.
 پایتری کتھا papryá kathá, n. f. a kind of white-coloured *kathá* or extract of *Mimsoacatechu*.
 پایری پایری, पाप्री, H. *adj.* Scurfy.
 پایری پایری, पाप्री, H. n. f. The eyelash (*palak*).
 پایری پایری, पाप्री, H. n. m. The eyelid.
 پایری پایری, पाप्री, H. v. To masticate as an old man without teeth. [crested cuckoo.
 پایری پایری, पाप्री, H. n. m. The black and white-
 پایری پایری, पाप्री, H. n. m. A child's whistle ; name of a tree.
 پت pat, पत, H. n. f. Good name ; honour ; credit ; reputation.
 پت ارتارنا—utárná, v. to digrace.
 پت جانا—janá, v. to be disgraced or dishonoured.
 پت رکھنا—rakhná, v. to preserve one's good name, credit or honour.
 پت pat, पत, H. n. m. A leaf (*used in compos.*) as :
 پت جہڑ—jhar, fall of the leaf ; autumn.
 پت جہڑ ہونا—jhar honá, v. to lose leaves in autumn ; to decay (said of an aged person).
 پت patí, पति, S. n. Master ; lord ; governor ; husband.
 پت پتی ورتا—vartá, पतिव्रता, n. f. faithful virtuous and devoted wife.
 پت pit, पित, H. n. m. Bile ; gall.
 پتا pitá, पिता, S. n. m. A father.
 پتا pittá, H. n. m. The gall-bladder ; anger ; passion ; mental motion ; force of will.
 پتا مارنا—márná, v. to control or subdue anger.
 پتا نکالنا—nikálná, v. to chastise ; to annoy.
 پتا patá, पता, H. n. m. Sign ; symptom ; the address of a person ; address or place to

which a letter is directed ; direction ; particular mention. بیتا دینا—dená, *v. t.* to direct ; to point ; to give a clue. بیتے کی کہنا—kí kahná, *v. t.* to expose one. بیتا لگانا—lagáná, to obtain a clue ; to trace ; to discover ; to follow up a clue ; to search out.

بیتا pattá, पत्ता, *H. n. m.* A leaf ; a card ; an ornament. بیتا ہونا—honá, *v.* to run away.

بیتا patáká, S. *n. f.* A flag ; a banner ; a symbol ; an ensign.

بیتال patál, *H. n. m.* The infernal regions or a place under the earth.

بیتائی putái, putwái, *H. n. f.* The act of plastering ; price for plastering.

بیتار pittar, पितर, pitra, पितृ, *H. n. m.* The manes ; paternal ancestors. بیتار پکش—paksh,—paksha, *n. f.* the first fortnight of *Kuár or Asin*, when the Hindus celebrate the customary obsequies to the manes of their ancestors (*kanágat*). بیتار کو پانی دینا—dená, *v.* to offer a libation of water to the manes.

بیتار putra, पुत्र, *S. n. m.* A son.

بیتار patr, (पत्र), *S. n. m.* A leaf ; a letter ; a deed ; a plate of metal, chiefly copper.

بیتارا pattra, पत्रा, *H. n. m.* An almanac ; a calendar.

بیتاری putrí, पुत्री, *S. n. f.* A daughter.

بیتاری patri, पत्री, *H. n. f.* A letter ; a note. جنم بیتاری janm —, *n. f.* a horoscope.

بیتال pattal, पत्तल, *H. n. f.* A plate or trencher made of leaves ; a plate of cakes, sweetmeat, &c.

بیتال patlá, पतला, *H. adj.* Delicate ; feeble ; fine ; lean ; thin ; narrow ; sharp. بیتالی patlí chíz, a fluid body ; a subtle substance. بیتال حال—hál, *n. m.* straitened circumstances ; a bad plight. بیتال کرنا—karná, *v.* to liquefy ; to thin ; to sharpen (a pencil).

بیتا putlá, पुतला, *H. n. m.* A puppet ; an idol ; an effigy. بیتا کا عقل—aqł ká—, clever ; skilful. بیتا کا خاکی kábák ká—, *n. m.* the human body.

بیتلانی pitláná, *v.* To be stained or contaminated with verdigris (as food especially of an acid quality kept in brass vessels.)

بیتلانی patláí, پاتلاپان, *H. n. f.* Thinness ; fineness ; wateriness ; delicateness.

بیتلی putlí, पुतली, *H. n. f.* The pupil of the eye ; a puppet ; an image ; the frog of a horse's hoof ; a slim delicate woman. بیتلی کا تارا—

ká tárá, *adj.* dear as the apple of the eye. بیتلی کا تمشا—ká tamásha, *n. m.* a puppet show. بیتلیاں پھرنانا putlíyáñ phirná, the eyes to turn up in dying.

بیتنگ patang, पतंग, *H. n. m.* A moth ; a paper kite ; the sun. بیتنگ اورانا—uráná, *v.* to fly a kite.

بیتنگ patangá, *H. n. m.* A moth ; a grasshopper ; a spark. بیتنگا ہونا—honá, *v.* to go rapidly about a business.

بیتنی patní, पत्नी, *S. n. f.* A wife.

بیتوار patwár, पतवार, } *H. n. m.* A rudder ; a
بیتوال patwál, } helm.

بیتوانا putwáná, *H. v.* To cause to be smeared or plastered.

بیتورت pativrat, पतिव्रत, } See بیتری patibrata.
بیتورتا pativrata, पतिव्रता, }

بیتورہ patoh, पतोह, } *H. n. f.* Son's wife ;
بیتورہ patohu, } daughter-in-law.

بیتورہ path, पथ, *S. n. m.* Path ; way ; road ; course ; highway.

بیتورہ path, *H. n. m.* Wholesome food ; spoon diet ; syrup.

بیتورہ patthar, पत्थर, *H. n. m.* A stone ; a bail-stone ; gem ; precious stone. (نگینا nagína) *adj.* hard ; cruel ; heavy ; difficult. بیتورانا—

pathráná, *v.* to be petrified ; to become hard. بیتورار کرنا—pathráo karná, pelting stone ; stoning (as punishment). بیتور برسنا—barasná, *v.* to hail.

بیتور پانی ہو جانا—páni ho jáná, the melting of a stony heart ; a difficult task to be facilitated. بیتور ہونا—parná, to hail ; to be overwhelmed with trouble ; to be ruined.

بیتور پسیجنا—pasijná, *v.* a stony heart to be softened or melted. بیتور چھاتی پر رکھنا—chhátí par rakhná, *v.* to be patient by compulsion or

from being without remedy. پتھر سا پھونک مارنا —sā phek mārā, *v.* to reply rashly without understanding the meaning of the question. پتھر سے سر پھورنا یا مارنا —se sir-phornā yā mārā, to teach or instruct a fool. پتھر کا —kā chāpā, lithography. پتھر کا فرش —kā farsh, a pavement. پتھر کی لکیر —kī lakir, uneffaceable; unalterable. پتھر ہونا —honā, *v.* to be heavy; to stand still; to be hard-hearted. [one who breaks stones on the road. پتھر پتھر patthar phor, *H. n. m.* A woodpecker. پتھر چٹا patthar chatā, *H. n. m.* A sort of greens; a skinflint; kind of serpent. پتھر کالا patthar kalā, *H. n. m.* A firelock. پتھر رتی patthraoti, پتھر رتی, *H. n. f.* A bowl of stone. پتھر پتھر pathri, *H. n. f.* Gravel; the flint of musket; stone in the bladder; calculus; a gizzard. پتھر پتھر pathrīlā, پتھر پتھر, *H. adj.* Stony. پتھر پتھر pattī, *H. n. f.* A leaf; a thin plate of metal; a share. پتھر دار —dār, a shareholder. پتھر پتھر pittī, پتھر پتھر, *H. n. f.* An itchy eruption on the body; hives. پتھر پتھر یا نکالنا —nikalnā yā uchhalnā, hives to break out. پتھر پتھر pitiyā, *H. n. m.* A father's brother; a paternal uncle. پتھر پتھر patiyārā, *H. n. m.* Trust; confidence; dependence. [to believe; to trust. پتھر پتھر patiyānā, پتھر پتھر, (Col.) *H. v.* To confide in. پتھر پتھر patil, *H. adj.* Thin. پتھر پتھر patil, *P. n. m.* Match or wick for a lamp; a candle wick. پتھر پتھر patilsoz, *n. f.* A lampstand. پتھر پتھر patīlā, *H. n. m.* A wide-mouthed cauldron; a copper pan. پتھر پتھر patilī, پتھر پتھر, *H. n. f.* A small pot or pan. پتھر pat, *H. n. m.* The sound of falling or beating; *adj.* upside down; overturned; flat; *adv.* quickly; at once. پتھر پتھر دینا —pat denā, to give beating to a child. پتھر pat, پتھر, *H. adj.* Lying flat; overturned; up set; lying uncultivated.

پتھر pat, پتھر, *H. n. m.* A shutter; the valve of a folding door; a screen; a covering. پتھر بند کرنا —band karnā, *v.* to shut or close the door. پتھر کھولنا —kholnā, *v.* to open door; to take off a covering or veil. پتھر پتھر pat, پتھر, *S. n. m.* A cloth. پتھر پتھر pat, پتھر, *H. n. m.* A wooden scimitar or foil; a cudgel. پتھر باز —pate bāz, *n. m.* a fencer; cudgeller. پتھر پتھر patṭā, پتھر *H. n. m.* A board on which Hindus sit while eating their meals or performing religious ceremonies; a dog-collar; a horse's girth; strap and badge; a lock of hair; a deed of lease. پتھر تورا —turānā, to flee; to run away. پتھر دار —dār, a lease-holder; a lessee. پتھر پتھر —rahan, mortgage-lease. پتھر پتھر —qubūliyat, settlement paper. پتھر پتھر patṭāpat, *H. n. m.* The sound of beating or of falling of drops of rains. پتھر پتھر patākhā, *H. n. m.* A cracker; a squib; a gun cap. پتھر پتھر piṭārā, پتھر پتھر, *H. n. m.* A large basket or portmanteau. پتھر پتھر piṭārī, *H. n. f.* A small basket; a betel-box. پتھر پتھر —kā kharch, the allowance made to a wife for betel. پتھر پتھر patāk, *H. n. m.* A loud sound; a crash. پتھر پتھر patānā, *H. v.* To cause to be boarded, roofed or covered; to fill up a hole; to irrigate; to realize; to pay money; to settle; to conclude a bargain. [used in roofing a house. پتھر پتھر patāo, *H. n. m.* Irrigation; stone, wood, &c. پتھر پتھر pat-bandhak, *H. n. m.* A pledge the usufruct of which pays both the principal and interest within a certain period, and therefore ensures its own redemption. پتھر پتھر patrā, پتھر, *H. n. m.* A plank to sit on; plank on which a washerman beats clothes; a plank used as harrow. پتھر پتھر —kar denā, *v.* to deprive one of his power or strength; to lay waste; to raze; to demolish. پتھر پتھر parānī, پتھر پتھر, *H. n. f.* A queen installed or consecrated with the king.

پتھری *paṭrī*, H. *n. f.* A plank to write on; a narrow slip of wood or metal; an avenue; a sort of bracelet; right and left sides of a road; the banks of a canal; a firm seat on horse-back.

پتسان *paṭsan*, H. *n. m.* A plant.

پتکا *paṭkā*, H. *n. m.* A cloth worn round the waist; a girdle. پتکا باندھنا—*bāndhnā*, *v.* to gird up the loins; to determine or prepare for any act. پتکا پکڑنا—*pakarṇā*, to hold back; to prevent. پتکا زری—*zarī*, *n. m.* golden girdle.

پتکان *paṭkan*, H. *n. f.* A knock; a fall; a sharp blow; restlessness; uneasiness. پتکان کھانا—*khānā*, *v.* to be thrown down; to fall on the ground with force.

پتکانا *paṭkanā*, H. *v.* To dash against; to throw on the ground with violence; to crackle; to abate or go down a swelling.

پتکانی *paṭkani*, H. *n. f.* A throw or fall; a knock down. پتکانی دینا—*denā*, *v.* to dash one on the ground with violence.

پتھمبار *paṭambar*, پتھمبار, H. *n. m.* See پتھمبار *patam-*
پتھن *paṭhan* (پتھن), S. *n. m.* A city.

پتھنا *paṭhnā*, H. *v.* To be covered, roofed or thatched; to be filled up; to be paid; to be watered; to agree; to be full; to be made level.

پتھنا *piṭhnā*, پتھنا, H. *v.* To be beaten; *n. m.* a mallet; a pounder; a rammer.

پتھنی *paṭhni*, H. *n. m.* Boatman; ferryman.

پتھڑ *paṭṭū*, پتھڑ, H. *n. m.* A coarse woolen cloth.

پتھوا *paṭwā*, H. *n. m.* One who strings beads, pearls, &c.; a maker of fringes, tape or braid (*paṭhar*).

پتھوا *paṭwā*, H. *n. m.* Tow made from the plant *hibiscus connabinus* and the fruit of the same; one who strings beads, pearls, etc.

پتھواری *paṭwāri*, پتھواری, H. *n. m.* A village registrar or accountant.

پتھوانا *paṭwānā*, H. *v.* To provide money; to have irrigated; to cause to be roofed.

پتھوانا *piṭwānā*, H. *v.* To cause to be beaten.

پتھہا *paṭṭhā*, پتھہا H. *n. m.* A young full-grown animal; a youth; a young tree which has not yet borne fruit; a nerve sinew; stiff cover of a book; a lock of hair.

پتھہا *paṭṭhā*, پتھہا, H. *n. m.* The buttock; rump; hip. پتھہا نہ رکھنے دینا *paṭṭhe par*
hāth na rakhne denā, an animal to be very sensitive to the touch; to be hard to get at; to be inaccessible or beyond reach.

پتھان *paṭhān*, H. *n. m.* A people inhabiting the hilly country to the north-west of Lahore; a soldier; a warrior; a man-at-arms. The Afghan race.

پتھانا *paṭhānā*, پتھانا, (Col.) H. *v.* To send; to despatch.

پتھو *piṭṭhū*, پتھو, H. *n. m.* A follower; a comrade; a playmate.

پتھوال *paṭhwāl*, H. *n. m.* A confederate; an accomplice.

پتھوی *piṭhī*, پتھوی, H. *n. f.* Pulse steeped in water and then peeled and ground.

پتھیوا *paṭhiyā*, پتھیوا, H. *n. f.* A young full-grown animal.

پتھی *paṭṭī*, پتھی, H. *n. f.* A strip of cloth; a bandage; a division of a village; a side of a bedstead; parting of the hair in the middle; a row; a side; a board to write on; a kind of sweet-meat; a lesson. پتھی باندھنا—*bāndhnā*, *v.* to dress; to apply a bandage; to blind-fold. پتھی دینا یا پتھی پڑھانا—*denā yā paṭhānā*, *v.* to advise; to counsel; to cheat; to deceive; to give a lesson. پتھی دار—*dār*, *n. m.* a co-sharer. پتھی داری—*dāri*, *n. f.* co-partenary tenure. پتھی نامکمل—*dāri nā mukammal*, *n. f.* tenure of an estate in partial severalty. پتھییاں جمانا—*yān jamānā*, to paste the hair down on the temples.

پتھیوا *paṭhiyā*, پتھیوا, H. *n. f.* A slab of stone slate.

پتھیت *paṭait*, پتھیت, H. *n. m.* A leaseholder; a blockhead; a cudgeller; a village priest.

پتھیرا *paṭerā*, H. *n. m.* Papyrus; a species of reed.

پٹیل paṭel, पटेल, H. *n. m.* Cudgelling; the headman of a village; sovereignty.

پٹلا paṭelā, पटला H. *n. m.* A large flat-bottomed boat; a log or beam used to roll or harrow ground.

پٹیلنا paṭīlnā, पटीलना, H. *v.* To extort; to exact; to subdue; to cheat; to beat. [boat.

پٹیلی paṭeli, H. *n. f.* A small flat-bottomed

پجاری pujārī, पुजारी, H. *n. m.* A worshipper; a priest who officiates at a shrine and lives upon the offerings made to the idol.

پجانا pujaṇā, पूजाना, H. *v.* To cause to worship; to fill; to complete; to accomplish.

پجنا pujaṇā, पूजना, H. *v. i.* To be worshipped.

پجاری pajāwa, पजावा, H. *n. m.* A brick-kiln.

پچ pach, पच, H. *n. f.* Defence; prejudice; bigotry; support.

پچ pach, पच, H. *adj.* Five (used in compos. پچ

پکوانی pakwāni, —ras, *n. m.* five kinds of sweetmeats served at a feast (*viz.*, *khāḍā*, *khurma*, *imarti*, *laḍḍū*, *kachauri*). پچ کلیان

kalyān, *n. m.* a horse whose four legs are half white with some white spots on the head.

پچ گتیا gutyā, a game played with pebbles.

پچ لڑا larā, *n. m.* a necklace consisting of five rows or strings.

پچارونا pacholonā *n. m.* A medicine composed of five kinds of salts.

پچ محلہ mahlā, five, storied. پچ میل

mel, *n. m.* a mixture composed of five different ingredients hence, a mixture, mess, hodge

podge, &c. پچ وتر otra, *n. m.* five per cent. commission.

پچ ہٹا hatti, five hands high; tall. پچ pach, पच, S. *adj.* Cooking; digesting.

پچارا pachārā, पुचारा, H. *n. m.* A rag for greasing or oil plaster; a brush; a thin coating

of clay or white-wash; the sponge of a gun.

پچارا پھرنā phernā, *v.* to wipe with a wet

cloth; to whitewash; to polish; to sponge

gun. پچارا دینā denā, *v.* to whitewash a

wall; to excite; to instigate.

پچاس pachās, पचास, H. *adj.* Fifty.

پچاسا pachāsā, पचासा, H. *n. m.* A weight or

scale of fifty rupees or tolas.

پچاسواں pachāsawān, H. *adj.* Fiftieth.

پچاسی pachāsī, पचासी, H. *adj.* Eighty-five.

پچانا pachānā, पचाना, H. *v.* To digest; to rot; to assimilate.

پچانے pachānwe, पचानवे, H. *adj.* Ninety-five.

پچاڑ pachāo, H. *n. m.* Digestion; assimilation.

پچ پچ pach pach, H. *n. f.* The noise made by

walking in mire; splash; squash.

پچپچا pichpichā, or pachpachā, H. *adj.* Flabby;

clammy; watery; soft; flaccid.

پچپچانا pachpachānā, पचपचाना, H. *v.* To be damp

or moist; to sweat.

پچپن pachpan, पचपन, H. *adj.* Fifty-five.

پچر pachchar, H. *n. f.* A wedge; a slip or

wood used to fill up a crevice or opening.

پچر لگانā lagānā, —(hoknā, *v.* to

insert a slip of wood; to put in a wedge.

پچر مارنā mārṇā, *v.* to thwart; to obstruct;

to tease; to harass.

پچکارنā puchkārnā, पुचकारना H. *v.* To pat; to

caress; to stroke.

پچکاری pichkāri, पिचकारी, H. *n. f.* A syringe;

squirt; enema. پچکاری دینā denā, to give a

clyster. پچکاری کا جلاب kā jullāb, *n. m.* a

clyster. پچکاری لینā lenā, to take an enema.

پچکاری مارنā mārṇā, to discharge water from

a syringe.

پچکانā pichkānā, पिचकाना, H. *v.* To squeeze; to

press together; to shrivel; to go down; to

reduce a swelling.

پچکانā pichkānā, H. *v.* To be squeezed; to be

shrivelled.

پچنا pachnā, पचना, H. *v.* To be digested; to be

consumed; to be swallowed and enjoyed (property, &c.) without repugnance or remorse;

to be kept close (secret).

پچاں pachānī, H. *n. f.* The stomach; the

entrails; the digestive organs.

پچھا pachha, पच, S. *n. m.* A wing; side;

partiality.

پچھاڑ pachhāḍ, पछाड़, H. *n. f.* A fall on the

back; falling back in a swoon; the act of

winnowing. پچھاڑنا یا پچھاڑیسی کہانا —yá pachá-
ren khána, *v.* to writhe in agony; to throw
oneself down repeatedly in grief or pain.

پچھاڑنا pachhárná, *H. v.* To throw down on
the back; to lay prostrate; to overcome;
to subdue.

پچھاڑی pichhári, پیدھاڑی, *H. n. f.* The rear; back;
the ropes by which a horse's hind legs are
tied; *adv.* in the rear; behind. پچھاڑی مارنا
—márná, *v.* to kick; attack in the rear.

پچھتاانا pachhtána, پھتانا, *H. v.* To regret;
to repent; to grieve.

پچھتااوا pachhtáwá, پھتاوا, *H. n. m.* Repentance;
remorse; regret; sorrow.

پچھتار pachhattar, *H. adj.* Seventy-five.

پچھارنا pichárná, پھارنا, *H. v.* To remain
behind; to fail; to be backward. [be thrown.

پچھار جانا pichhar jáná, *H. v.* To be overcome; to

پچھلا pichhlá, پھلا, *H. adj.* Back; posterior;
behind; last; late; bygone; past; modern;
antecedent. پچھلے پاؤں پھرنا pichhle páw
phárná, to return from a place the instant of
reaching it; to retrace one's steps without
tarrying. [woman.

پچھال پائی pichhal pái, *H. n. f.* The ghost of a

پچھالنا pichhalná, *H. v.* To slip; to slide.

پچھام pachchham or pachchim, پھم (پھم)
H. n. m. West; the country to the west.

پچھامی pachchhamí, *H. adj.* Western.

پچھوا pachhwá, پھوا, *H. n. f.* The west wind.

پچھوارا pichhwára, پھارا, *H. n. m.* The rear;
the back part; hind quarter; back yard;
adj. hinder; in the rear. [ask.

پچھوانا pichhwána, پھوانا, *H. v.* To cause to

پچھانرا pachhanrá, *H. n. m.* A cloth or sheet
worn round the waist or thrown carelessly
over the head.

پچھوران pachhorán, پھوران, *H. n. f.* The chaff
which flows off in winnowing.

پچھورنا pachhorána, *H. v.* To winnow (See پھاکنا
phaṭakná).

پچھوایا puchhwayí, *H. n. m.* An inquirer; an
interrogator; a seeker.

پچھئی pachchhí, پھی, *H. n. m.* An ally; an
assistant; a bird.

پچھئی pachchí, *H. n. f.* A tax on cattle.

پچھیا pachhyáo, See پچھوا pachhwá.

پچھی pachchí, پھی, *H. adj.* Attached; joined;
fixed; firm; rooted. کاری پچھی—kári, *n. f.*

Mosaic work; a tessellated pavement. پچھی
—honá, *v.* to be joined; to adhere; to be
jammed or squeezed; to be wedged.

پچھی pichchí, پھی, *H. adj.* Crushed; bruised.

پچھیسی pachchyási, (پھیسی), *H. adj.* Eighty-five.

پچھیانوی pachchyánve, *H. adj.* Ninety-five.

پچھیت pichait, *H. n. m.* A wrestler.

پچھیتی pichaití, *H. n. f.* Wrestling.

پچھیس pachchis, پھیس, *H. adj.* Twenty-five.

پچھیسرااں pacheshwán, *H. adj.* Twenty-fifth.

پچھیسری pachchísí, پھیسی, *H. n. f.* A game played
with *cowries* instead of dice, and so named
from the highest throw, which is twenty-
five, now-a-days thirty.

پخ pakh, *P. intj.* Bravo! excellent! well done!

پخ pakh, *P. n. f.* Difficulty; trouble.

پخال پخال pakhál, *H. n. f.* A large leather
bag for carrying water generally on bullocks.

پختاری pukhtari, *P. n. f.* Cakes or pieces of
bread laid over dishes when carried to table
to keep the meat warm; cakes imbued with
ghee by laying over the greasy dishes of
do-piyáza, &c., these are very savoury and
soft hence such *khana* called ماما پختاریاں
mámá pukhtarián khána, to eat rich meal
cakes prepared by his mother. This phrase
is applied to those who are accustomed to
luxury.

پختگی pukhtagí, *P. n. f.* Ripeness; maturity;
firmness; strength; experience.

پختہ pukhta, *P. adj.* Cooked; ripe; matured;
expert; strong; well-built. کاری پختہ—kári,
maturity; solid workmanship; experience.
پختہ مزاجی—mizáji, firmness; constancy;
stability.

پد pad, S. *n. m.* Foot ; footstep, rank ; dignity ; a stanza ; an inflected word ; thing.

پدا piddá, H. *n. m.* The brown-backed Indian Robin.

پدارتھ padáarth, पदार्थ, S. *n. m.* A thing ; substance ; delicacies ; rich food.

پدبی padbí, पदवी, H. *n. f.* A path, a rank ; a title.

پدر pidar, P. *n. m.* Father. پدر—kushi. *n. f.* parricide.

پدرانه pidaráné, P. *adj.* Fatherlike ; paternal.

پداری pidarí, P. *adj.* Patrimonial.

پداری pidarí, H. *n. f.* Stone chats and wheat-ears ; tomtit ; a weak or feeble person.

پدم padam, पद्म, H. *n. m.* The lotus *nelumbium opeciosum* ; one thousand billions.

پدمارت padmáwat, पद्मवत, *n. f.* Name of a celebrated princess whose adventures are related in a romance entitled *padmáwati*.

پدمانی padmaní, पद्मिनी, H. *n. f.* A woman of the first or most excellent of the four classes into which women are divided. (The other three are *chitrini*, *sankhini*, and *hasini*).

پدوی padví, S. *n. f.* See پدبی padbí.

پدھارنا padhárná, पधारना, H. *v.* To go ; to depart ; to sit down.

پدھان H. *n. m.* See پدھان pardhán.

پدید padíd, P. *adj.* Open ; public ; clear ; conspicuous.

پذیر pazír, P. *part. adj.* Taking ; admitting ; liable. اصلاح—*adj.* remediable ; capable of correction or amendment.

پذیرا pazirá, P. *adj.* Acceptable ; agreeable.

پذیرائی pazirái, P. *n. f.* Acceptance.

پذیری pazírí, P. *n. f.* Taking ; acceptance.

پر par, पर, S. *pre. adj.* Distant ; remote ; beyond ; foreign ; another. پراسرت—*ásrit*, dependent ; subject. پردادا—*dadá*, *n. m.* great grandfather.

پرہس opkár, *n. m.* helping others. پرہس—*bas*, *n. m.* dependence ; subordination.

پرہیس des, *n. m.* abroad ; a foreign country.

پرسوارتھ parsváarth, *n. m.* the welfare of another ; beneficence ; benevolence. پرلوک

پرلوک *n. m.* the next world. پرلوی سوارتھ

پرلوک, sudhárná, to prepare the way by good deeds for the next world. پرلوی سوارتھ

پرلوک sidhárná, to depart for the next world.

پر par, पर, H. *prep.* Upon ; on ; at ; after ; for ; *conj.* but ; still ; however ; notwithstanding ; yet ; nevertheless ; else, otherwise ; unless.

پر par, P. *n. m.* Pinion ; feather ; wing. پرفشانی—*afsháni*, expansion or shaking of the wings.

پر بال - bál, the eyelashes. پرتنا—*túná*, to be without power or ability.

پر جانا—*jalná*, to be unable to have access (to). پر چھارنا—*jhárná*, to shed the feathers ; to moult.

پر دار—*dár*, winged. پر زانی—*zani*, flapping of the wings ; fluttering. پر شیکستا—*shikasta*, afflicted ; disabled.

پر کا قلم—*ká qalam*, *n. m.* a quill pen. پر مارنا—*márná*, *v.* to fly ; to have access to ; to approach.

پر نکالنا—*nikálná*, *v.* to display one's new feathers ; to give oneself airs.

پر pur, P. *adj.* Full ; complete ; abounding in ; quite. (used at the beginning of compounds). پر تکلف—*takalluf*, *adj.* ceremonious ; elaborate.

پر خطر—*khatar*, very hazardous or risky. پر درد—*dard*, painful ; sorrowful.

پر سوڑ—*soz*, blazing ; lighted. پر ضرور—*zarúr*, most essential. پر فریب—*fareb*, treacherous.

پر نور—*núr*, enlightened ; illustrious. پر ملال—*malál*, *adj.* sad ; sorrowful.

پر ہنر—*hunar*, *adj.* very skilful or accomplished.

پر pur, पर, S. *n. m.* A city ; a town ; a village. پر بآسی—*bási*, *n. m.* an inhabitant of a city.

پر párá, H. *n. m.* Company ; a body of troops ; rank ; file ; herd. پر باندھنا—*báandhná*, to form line ; to draw up in line of battle.

پر پراپت—*paráti*, प्राप्ति, H. *n. m.* Acquisition ; gain ; profit ; benefit ; proceeds. پر اپت—*honá*, *v.* to be obtained.

پر پرات parát, H. *n. f.* A large plate of brass.

پر پراتن purátan, पुरातन, H. *adj.* Old ; ancient ; experienced.

پر پراتھ páráthá, पराठ, H. *n. m.* A meal cake of several layers made with butter or *ghí* like pie-crust.

پراچین prāchin, प्राचीन, *adj.* Old ; ancient.
 پرارتھنا prārthanā, प्रार्थना, *S. n. f.* Supplication ; request ; petition ; prayer. پرارتھنا پتر—*patr*, written petition.
 پرارامبھ prārambh, प्रारम्भ, *S. n. m.* Beginning, commencement.
 پاراکرت parākrit, प्राकृत, *S. adj.* Common ; natural ; vulgar. *n. f.* the vulgar Aryan vernacular of the Hindus co-existent with the Sanskrit or literary language.
 پراگ prāg, प्राग, (प्रयाग) *H. n. m.* The ancient name of Allahabad. پراگوال—*wāl*, *n. m.* a Hindu priest of Prāg.
 پاراگانگی parāgandagī, *P. n. f.* Separation ; dispersion.
 پاراگاندا parāganda, *P. adj.* Scattered ; dispersed ; routed ; dissipated.
 پارال parāl, *H. n. f.* Straw (*puwāl* पुआल).
 پرالابدھا prālabdha प्रालब्ध, *H. n. f.* Fortune ; fate ; destiny.
 پوران purān, *S. n. m.* Legendary and traditionary ancient history ; a *purān* or sacred poem, supposed to have been compiled or composed by the poet Vyāsa. There are eighteen *Purāns*.
 پراں prān, (S. Prān), प्राण, *H. n. m.* Breath ; soul ; life ; inspiration ; any beloved object. (sweetheart). پراں تیاک—*tyāg*, *n. m.* death ; suicide. پراں دانڈ—*dand*, *n. m.* Capital punishment. پراں گھاتک—*ghātak*, *adj.* destructive to life ; killing. پراں ناٹھ—*nāth*, *n. m.* lord of life ; lover ; husband. پراں یاترا—*yātrā*, *n. f.* Support of life ; subsistence.
 پراں ویدیا prān vidyā, प्राणविद्या, *S. n. m.* Psychology.
 پراں پراں purānā, पुराना, *H. adj.* Old ; stale ; time-worn ; ancient ; experienced ; out of date ; obsolete. [fill].
 پراں پراں purānā, *H. v.* To fulfil ; to complete ; to
 پراں پراں pirānā, *H. v. i.* To pain ; to ache ; to have pain.
 پراں پراں prānī, प्राणी, *S. adj.* Living ; alive ; *n. m.* a living creature ; an animal ; a man ; a ghost.
 پراں پراں parāyā, पराया, *H. adj.* Of or belonging to another ; foreign ; strange ; another's.

پراں پراں prāyah, प्रायः, *adv.* For the most part ; chiefly ; generally ; usually ; most likely.
 پارب parb, (पर्व), *H. n. m.* Chapter ; section ; book ; a knot ; a joint ; a festival ; an anniversary festival ; feast or sacred day ; the moment of the sun's entering a new sign.
 پاربات parbat, पर्वत, *H. n. m.* A mountain ; a hill.
 پاربال prabal, प्रबल, *adj.* Mighty ; powerful ; predominant.
 پرابندھ prabandh, प्रबन्ध, *S. n. m.* A connection ; bond ; tie ; continuous application or action.
 پرابودھ prabodh, प्रबोध, *S. n. m.* Awakening (either from sleep or from ignorance) ; vigilance ; instruction.
 پرابھات prabhat, प्रभात, *S. n. m.* Dawn ; day-break.
 پرابھاتی prabhātī, प्रभाती, *H. adj.* Matins sung in a tune or *ragini* appropriate to the morning.
 پرابھائو prabhao, *S. n. m.* Nature ; natural ; disposition. High Spirit ; influence ; virtue ; dignity.
 پرابھو prabhū, प्रभु, *S. n. m.* Lord ; master ; principal. پرابھوتائی—*tāi*, *n. f.* Supremacy ; grace.
 پرابھیس prabes, (प्रवेश), *H. n. m.* Entrance ; access.
 پرابین prabīn, (प्रवीण), *H. adj.* Intelligent ; skilful ; handsome. [treachery ; deceit].
 پارپانچ parpanch, प्रपंच, *H. n. m.* Fraud ; cheat ;
 پاروپران paropūran, परिपूर्ण, *H. adj.* Quite full ; brimful ; fully satisfied.
 پراپھللیت praphullit प्रफुल्लित, *S. adj.* Blooming ; gay ; lively ; cheerful.
 پارت part, परत, *H. n. m.* A fold ; plait ; layer ; crust ; stratum.
 پارتاب partāb, *P. n. m.* Bow shot.
 پراتاپ pratāp, प्रताप, *S. n. m.* Splendour ; glory ; dignity ; majesty ; magnanimity ; generosity.
 پراتیبمب pratibimb, प्रतिबिम्ब, *S. n. m.* The reflection of an image or figure ; an image or picture.
 پراتیپال pratipāl, प्रतिपाल, *S. n. m.* Protection ; support ; fostering ; cherishing.
 پارتاچھا partachha, प्रत्यक्ष, *H. adj.* Perceptible ; evident ; present.
 پراتیگیا prati-gyā, प्रतिज्ञा, *S. n. m.* Admission ; assen ; solemn declaration.

پرئال partal, परताल या पङ्ताल, H. n. f. The baggage of a horseman carried on a bullock or pony. پرئال کا ٿڻو—ká řařřú, n. m. a packhorse.

پرئال partalá, H. n. m. A sword belt ; shoulder-belt. پرئال و توشدان—o toshdán, n. m. shoulder-belt and cartouche ; accoutrement.

پرئما pratimá, प्रतिमा S. n. f. Image ; statue ; picture ; resemblance. [beam ; splendour.

پرئو partau, P. n. m. Light ; rays ; reflection ;

پرئوادي prati-vád, प्रतिवाद S. n. m. Answer ; reply ; rejoinder ; altercation.

پرئوادي prati-vadhi, प्रतिवाڊي prati-vadi, S. n. m. Answering ; rejoining ; responding ; an opponent ; defendant ; respondent

پرئهم partham, प्रथम, S. adj. Foremost ; first ; before ; primary ; previous ; earliest. پرئهم پرئش—purush, (Gram.) the first person.

پرئهوي prithwí, पृथ्वी, S. n. f. The earth ; ground ; the world.

پرئهيناناه prithínáth, पृथ्वीनाथ, H. n. m. The lord of the earth ; a king ; a sovereign.

پرئتي partí, H. n. f. Waste land.

پرئتيتي partítí, प्रतीति, H. n. f. Clear insight into ; distinct conception ; faith ; confidence ; belief. پرئتيتي کرنا—karná, v. to examine ; to believe ; to confide in.

پرئجا parjá, प्रजा, H. n. f. A subject ; a tenant ; offspring ; created being.

پرئچ pirich, पिरिच, H. n. m. A saucer.

پرئچار prachár, प्रचार S. n. m. Coming or going forth ; being in actual use ; currency ; diffusion ; promulgation ; custom.

پرئچاننا parcháná, H. v. To make familiar ; to tame ; to domesticate ; to introduce ; to be intimate with ; to practise upon ; to kindle ; to light.

پرئچيت parichit, परिचित, H. part. Known ; acquainted (with) ; familiar (with).

پرئچڪ purchak, पुरचक, H. n. f. Sign ; hint ; flattery ; support ; encouragement. پرئچڪ لينا—lená, to side with ; to take one's part.

پرئچاليت pra-chalit, प्रचलित, S. part. adj. Current ; customary ; recognized.

پرئچم parcham, P. n. m. A fringed tassel of a spear or of a pair of colours ; tassel ; flag ; ensign.

پرئچنا parachná, परचना, H. v. To be acquainted with ; to become intimate ; to be tamed.

پرئچون parchún, परचून, H. n. m. Meal ; flour ; grocery.

پرئچوني parchúni, H. n. f. The act of selling flour, meal, &c.

پرئچونيا parchúniyá, H. n. m. A grocer.

پرئچا parcha, P. n. m. A bit ; a scrap ; a slip of paper ; an examination paper ; a newspaper.

پرئچا parichhá, परीचा, H. n. f. Examination ; trial ; enquiry ; asking.

پرئچها parchhá, परछा ; H. n. m. A large reel for winding thread on ; self-sown paddy.

پرئچھائين parchháin, परछाई, H. n. f. Shadow ; shade ; reflection ; shadow or influence of an evil spirit. پرئچھائين سے بهاگنا apni—se bhágná, to fly from, or be frightened at one's own shadow.

پرئچھيت parichchhit, परीचित, H. adj. Examined ; n. m. grandson of Arjun.

پرئچھتي parchhatí, H. n. f. A small thatch thrown over mud walls.

پرئچھنا parachhná, परछना, H. v. To move a candle lamp over the heads of a bride and bridegroom in order to drive away evil spirits and propitiate good ones.

پرئچھاش parkhásh, P. n. m. War ; battle ; conflict ; quarrel ; misunderstanding ; tumult ; injury ; oppression.

پرئڊ pard, P. n. m. A fold ; ply ; map of cloth.

پرئڊا prada, H. n. f. A gift.

پرئڊاڪت pardákht, P. n. f. Performance ; completion ; relinquishment ; patronizing.

پرئڊادا pardádá, परदादा, H. n. m. A great grandfather.

پرئڊاڙي pardázi, P. n. f. Completion ; performance ; elegance (chiefly used at the end of comp.) as, پرئڊاڙي انشا inshá pardazí, elegance of composition. پرئڊاڙي كار kár pardázi, accomplishing the business, etc., etc.

پردگی pardagi, P. n. f. A modest chaste woman; the state of being behind a pardah.

پردوش pradosh, प्रदोष, S. n. m. Defect; fault; offence; transgression; the first part of the night; evening twilight; two mahurta's after sunset.

पर्दा parda, P. n. m. A curtain; a screen; a veil; secrecy; modesty; musical tone; drum of the ear; surface of the earth; shelter; pretext; the frets of a guitar. اُٹھانا—*uṭhānā*, v. to lift up the curtain; to reveal. پردہ پوشی—*poshī*, n. f. keeping one's secret; concealing a blemish; conniving at a fault. چھوڑنا—*chhornā*, to drop the curtain; to come into public. دار—*dār*, a chamberlain; the eunuch who has the care of the inner apartment. *adj.* confidential. در—*dar*, v. veil-tearer; an impudent, immodest man. پردہ دل—*i-dil*, the veil of the heart; the pericardium. ڈالنا—*dālnā*, v. to draw the curtain. رکھنا—*rakhnā*, to give obscure hints. کرنا—*fāsh karnā*, v. to betray one's secret. چھپنا—*chhpnā*, v. to conceal; to hide. نشین—*nashīn*, *adj.* remaining behind the curtain; n. f. a woman who always remains behind the curtain and does not appear before strangers; modest. مگ زاردا لگانا—*meg zarda lagānā*, to indulge secretly in licentious intercourse with strange men. [president.

پاردهان pardhān, प्रधान, H. n. m. Chief; leader; a

پاردهس pardes, परदेश, H. n. m. Foreign country.

پاردهسی pardest, H. n. m. Foreigner; stranger.

پرزہ purza, P. n. m. A scrap; a piece; a bit. چالٹا—*chaltā*, a sharp or cunning fellow. پرزے کاٹنا یا کرنا—*purze uṭānā yā karnā*, to cut to pieces; to make mincemeat of; to hack.

پرس purs, P. part. *adj.* Asking; inquiring; questioning; (used at the end of comp.) as, باز پرس—*bāz purs*. مزاج پرس—*mizāj-purs*.

پرسا pursā, पुर्सा, H. n. m. The height of a man with his arms and fingers extended; a fathom.

پرساد prasāda, प्रसाद, S. n. m. Food offered to a god; leavings of a great man or spiritual guide; favour.

پرساں pursān, P. *adj.* Asking; inquisitive; inquirer (used at the end of comp.) as, احوال پرساں—*ahwāl pursān*, enquiring after one's condition, &c.

پرساں-پرساں paras-par, परस्पर, S. *adj.* & *adv.* One another; each other; mutual; reciprocal; interchanging; interchangeable; mutually; reciprocally.

پرست parast, P. n. m. Worshipper; devoted to (used as last member of compounds) as, آتش پرست—*ātash*—n. m. a worshipper of fire. خود بت پرست—*but*—n. m. an idolator. خود پرست—*khud*—, *adj.* self-conceited.

پرستار parastār, P. n. m. An adorer; a worshipper; a servant; a slave.

پرستان parastān, P. n. m. Fairy land.

پرست پرست prastut, प्रस्तुत, S. *adj.* Praised; eulogized; propounded.

پرستش parastish, P. n. f. Worship; devotion.

پرستشگاہ parastishgāh, P. n. f. A place of worship; church; temple; mosque.

پرستہان prasthān, प्रस्थान, S. n. m. Setting out the first stage of march or journey. پرستہان کرنا—*karnā*, v. to change one's residence; to send baggage, etc. on the first stage of a journey on some propitious day or moment.

پرسیدہ parsidha, प्रसिद्ध, S. *adj.* Well known; famous; obvious; accomplished; adorned.

پرسیرم parisram, परिश्रम, S. n. m. Labour; fatigue.

پرسش pursish, P. n. f. Asking; questioning; inquiry.

پرسن parsan or prasanna, प्रसन्न, S. *adj.* Rejoiced; pleased; gracious; kind.

پرسنا parsnā, परसना, H. v. To serve a meal.

پرسنسا parsansā, प्रशंसा, H. n. f. Praise; applause; eulogy; flattery.

پرسنگ prasang, प्रसंग, S. n. m. Association; discourse; mention; subject; topic.

پرسرتم parsotam, पुरुषोत्तम, H. n. m. The best of man; a name of Vishnu.

پرسوں parson, H. *adj.* The day before yesterday; the day after tomorrow,

پرسہ pursa, P. n. m. Condolence in cases of death.

پرسیا parsiyá, H. n. m. A sickle ; a reaping hook.

پرسیاوشان parsiyáwushán, P. n. m. The herb maiden heir ; *Pteris lunulata*.

پرش purusha पुरुष, S. n. m. A man ; a male ; a husband. مہاپرش mahá purush, n. m. a holy man ; a consummate knave. [predecessors.

پرشا purushá, H. n. m. The ancients ; ancestors ;

پرشنا prashna, प्रश्न, S. n. m. A question ; an enquiry.

پرشنسا prashansá, S. n. f. Praise ; reputation.

پرکار parkár, प्रकार, S. n. m. Method ; manner ; kind ; sort ; way.

پرکار parkár, P. n. m. A pair of compasses.

پرکار purkár, P. adj. Fat ; thick ; well-executed ; skilful.

پرکاش prakásh, प्रकाश, S. n. m. Sight ; daylight ; splendour ; revelation. پرکاش کرنا—karná, v. to make known ; to indicate, to advertise.

پرکالا parkálá, H. n. m. A stair ; a ladder.

پرکالا parkála, P. n. m. A spark ; a pane of glass. پرکالہ آتش کا—átash ká—, said of a person who is very wicked and astute ; one who bears tale ; incendiary. [origin ; cause.

پرکرت prakriti, प्रकृति, S. n. f. Nature ; quality ;

پرکراما parikramá, परिक्रमा, S. n. f. The act of going round to the right by way of adoration ; a covered way round a temple. پرکراما دینا یا کرنا—dená yá karná, v. to walk reverentially round a temple.

پرکام parkam, P. adj. Become useless ; out of employ ; idle. [become used to.

پرکنا parakná, H. v. To acquire a habit ; to

پرکھ parakh, परख, H. n. f. Inspection ; test ; proof ; scrutiny. [elder ; an ancestor.

پرکھا purkhá, पुरखा, H. n. m. An old man ; an

پرکھانا parkháná, H. v. To cause to inspect, examine or try. [for testing coin.

پرکھائی parkháí, H. n. f. Testing coin ; the fee

پرکھنا parakhná, H. v. To examine ; to test ; to assay.

پرکھییا parkhiyá, H. n. m. An inspector ; tester ; one who examines coins ; an assayer.

پرکینہ purkína, P. adj. Malicious ; spiteful.

پرکی pirkí, H. n. f. Boil ; sore.

پرگ parg, H. n. m. Step ; stride ; space.

پرگار pargár, P. n. f. A pair of compasses ; household furniture ; a necklace.

پرگاہ pargáh, P. n. m. Sticks and straw ; a worthless thing ; rubbish.

پرگنہ pargana, P. n. m. A sub-division of a district nearly equal to a barony ; (plu. پرگنہ جات—jât) دار پرگنہ—dár, n. m. the superior officer of pargana ; lord of the barony.

پرگور purgo, P. adj. Talkative.

پرگٹ pargaṭ, प्रगट, H. adj. Obvious ; apparent ; manifest. پرگٹ کرنا—karná, v. to make known ; to disclose. پرگٹ ہونا—honá, v. to appear ; to come into the world

پرگھٹی پڑ parghaṭí, H. n. f. An iron trough into which silver or gold is cast previous to working it. [ing pot.

پرگھنی پڑ parghaní, H. n. f. A goldsmith's mould-

پرگی پڑ pargirí, P. n. f. An ortolan ; feathering or winging an arrow.

پرلا parlá, H. adj. Of the other side ; next in

order. پرلے پار parlepár, adv. on the other side ; far beyond ; a long way off. پرلے درجے کا parle darje yá parle sire ká, of the first or highest degree ; in the extreme ; utterly.

پرلئے pralai, H. n. f. A general destruction, such as at the flood or resurrection ; doomsday. پرلئے کال—kál, the time of universal destruction.

پرپام param, परम, S. adj. Best ; first ; chief ; supreme ; very great ; excessive.

پرپاماتما paramátma, परमात्मा, S. n. m. The Supreme Being, considered as the soul of the universe.

پرمان pramán, प्रमाण, H. S. paramána, n. m. Proof ; attestation ; trial ; measure ; quantity ; example ; belief ; authority ; scriptural assertion ; adj. پرمانی—í, real ; substantial ; authentic ; approved ; credible.

پرمپرا parampará, S. *adv.* From father to son ; from time immemorial.

پرمت parmat, H. *n. f.* A custom-house; custom; port of entry.

پر مکھ pra-mukh, प्रमुख, S. *adj. n. m.* Foremost ; chief ; principal ; a distinguished person.

پر مال parmal, परमल, H. *n. f.* A parched rice.

پر میشرور parmeshwar, परमेश्वर, S. *n. m.* The Supreme God.

پرنا prana, S. *n. m.* Promise ; agreement ; vow.

پرنا لہ parnála, परनाला, H. *n. m.* } Channel for
پرنا لی parnáli, H. *n. f.* } water ; conduit ; gutter ; drain.

پرنام pranám, or parnám, प्रणाम, H. *n. m.* A bow ; respectful or reverential salutation ; obsequance.

پرنا نا parnáná, H. *n. m.* A great-grandfather by the mother's side. [however ; also.

پرانتو parantu, परन्तु, S. *conj.* But ; yet ; still ;

پرند parind, } P. *n. m.* Winged creature ;
پرندہ parinda, } a bird, *adj.* flying ; winged.

پرندہ اسی اسی jagah aisi jagah—par na már sake, a place quite inaccessible ; a place beyond the reach of man.

پرانیا puraniyá, पुरनिया, H. *n. m.* An old man ; a patron.

پر وا parwá, P. *n. f.* Care ; anxiety ; want ; desire ; concern ; affection پر وا ہے—be—, *adj.* careless.

پر وا purwá, पुरवा, H. *n. f.* An easterly wind ; an earthen cup. *n. m.* A small village.

پر وا puriwá, परिवा, (प्रतिपदा), H. *n. f.* The first day of a lunar fortnight.

پر وا pariwár, परिवार S. *n. m.* Family ; relation ; dependants.

پر وا پر وا parwáz, P. *n. f.* Flying ; flight. پر وا کرنا —karná, to fly. پر وا ای—i, *n. f.* flying. (used at the end of comp.) as, پر وا بلند buland parwází, lofty elevation. پر وا خیال khyál ki buland parwází, flight of fancy.

پر وا parwál, H. *n. m.* A disease of the eyelids in which the eyelashes fall off and new crooked, hairs come out ; a sty.

پر وا parwán, *n. m.* The yard of a sail ; *adj.* true ; just. پر وا چڑھنا—chahná, *v. i.* to grow ; to increase ; to thrive ; to prosper ; to be married.

نکلا ماں باپ کا نہ کچھہ ارمان
ہاے بیٹا نہ تم چڑھے پر وا
(شوق)

Niklá máñ báp ká na kuchh armán,
Háe beṭá na tum chahē parwán.

پر وا پر وا purwáná, पुरवाना, H. *v.* To cause to fill.

پر وا پر وا پر وا parwánaját, P. *n. m. pl.* Orders ; royal grants ; licenses. [leave ; command.

پر وا پر وا پر وا parwángí, P. *n. f.* Order ; permission ;

پر وا پر وا parwána, P. *n. m.* A moth ; a butterfly ; (Poet.) a lover. پر وا ہونا—honá, to be an ardent lover.

پر وا پر وا parwána, P. *n. m.* A written order ; a warrant ; a license ; a letters patent.

پر وا پر وا پر وا i-taláshí, a search warrant. پر وا پر وا پر وا ہیفازت ہیفازت—hifázat zat khás, a writ of protection of the person. پر وا پر وا پر وا راہ داری—ráhdári, passport ; safe conduct ; permit. پر وا پر وا پر وا گریفتاری—giriftári, warrant of arrest.

پر وا پر وا parwái, P. *adj.* Standing in need of ; *n. m.* one who stands in need of.

پر وا پر وا پر وا paropkár, S. *n. m.* The helping of others.

پر وا پر وا parvat, पर्वत, S. *n. m.* Mountain ; elevation.

پر وا پر وا parwaṭ, पुरवट, H. *n. m.* A large leathern bag or bucket for drawing water from wells.

پر وا پر وا parojan, प्रयोजन, H. *n. m.* Purpose ; object ; use ; a ceremony. [nouncement.

پر وا پر وا pravachan, प्रवचन, *n. m.* Declaring ; an-

پر وا پر وا parwar, P. *part.* A nourisher ; a protector ; a patron (used as the last member of compounds) as, پر وا پر وا غریب garib—, cherisher of the poor. پر وا پر وا بندہ banda—, cherisher of servants. پر وا پر وا سایہ sayá—, delicately nurtured, &c. پر وا پر وا parwarí, nourishing ; cherishing (used in comp.) as, پر وا پر وا غریب garíb parwarí, cherishing of the poor.

پر وا پر وا پر وا parwardigár, P. *n. m.* The cherisher ; providence ; an epithet of the Deity.

پر وا پر وا پر وا parwarda, P. *n. adj.* Fostering ; bred ; brought up ; a slave.

پرورش parwarish, P. n. f. Fostering; breeding; support; maintenance; nourishment; patronage. پرورش کرنا—karná, to support; to nourish.

پرورنده parwarinda, P. Cherishing; cherisher.

پاروسا parosá, परोसा, H. n. m. A dish of food sent to a friend or laid before a guest; a share or portion of food.

پاروس پروس paros, पड़ोस, H. n. m. Vicinity.

پروسنا prosná, H. n. To serve dinner; to distribute food to guests, &c.

پاروسی parosi, H. n. m. A neighbour.

پاروسییا parosiyá, H. n. m. One who distributes victuals; a waiter.

پیرونا pironá, पिरुना, H. v. To thread (a needle); to string (pearls); to pierce.

پروہت purohit, or prohit, H. n. m. A family priest.

پوروائیا purwaiyá, पुरवैया, n. f. Easterly wind.

پرویش pravesh, प्रवेश, S. n. m. Entry; access; a religious ceremony observed previous to inhabiting a new house.

پاروین parwín, P. n. m. The Pleiades.

پارہ para, P. n. m. A line of infantry or cavalry.

پارہیز parhez, P. n. m. Abstinence; temperance; sobriety; continence; keeping aloof. پارہیز کرنا—karná, v. to abstain from; to keep aloof; to observe a regimen.

پارہیزگار parhezgár, P. adj. Abstinent; abstemious; sober. [sobriety.

پارہیزگاری parhezgári, P. n. f. Abstinence;

پارہ pare, परे, H. adv. Yonder; further off; at distance; beyond; on the other side.

پارہ رہنا—bhágná, to get away from. پارہ رہنا—rahná, to remain at a distance from; to stand aloof; to keep away.

پاری parí, P. n. f. A fairy; beautiful woman.

بند پری—band, a kind of ornament. پری پیکر

پری چہرہ—paikar,—chehra,—adj. fairy-faced; beautiful; angelic. پری خوار—khwán, one who holds the fairies and genii in subjection.

زاد پریزاد—zád, beautiful; lovely.

پری purí, P. n. f. Fulness; repletion; (also used in comp.) as خانہ پری k'hána purí, filling up a column, &c.

پری purí, S. n. f. A city; a town.

پریا priyá, प्रिया, S. adj. Beloved; dear; liked; desired; agreeable; n. m. a husband; a lover.

پریاگ prayág, प्रयाग, S. n. m. Celebrated place of pilgrimage at the confluence of the Ganges and Jamuná with the supposed subterraneous addition of the Saraswatí; the modern Allahabad.

پریت prít, प्रीति, H. n. f. Love; affection; sympathy; amity; fondness. پتر پریت—patra, a love-letter. لگانا پریت—lagáná, to love; to make friends. [ghost.

پریت pret, प्रेत, S. n. m. A spirit of the dead; a

پریتم prítam, प्रीतम, H. adj. Dearest; most beloved; S. n. m. a lover; a husband.

پریتنی pretní, प्रेतनी, H. n. f. A female ghost.

پریکشا parikshá, परीक्षा, S. n. f. Examination; trial; proof.

پریچک parichak, परीचक, S. n. m. One who examines.

پریدا parída, P. perf. part. Flown; taking wing.

پریشان pareshán, P. adj. Confused; perplexed; disordered; distressed; deranged. پریشان حال hál, embarrassed; in a distressed condition. پریشان خاطر—khátir, distressed in mind. پریشان کرنا—karná, v. to perplex; to confuse; to trouble; to harass. [perplexity.

پریشانی pareshání, P. n. f. Confusion; distress;

آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہمیں پر دیکھئے کیا کہتے ہیں (غالب)۔

Áj ham apní, preshání-i-khátir un se Kahne játe to hain par dekhiye kyá kahte hain. پریشا پارکھا—parekhá, H. n. m. Sorrow; regret; concern; judgment; difference; test; proof.

پریم prem, प्रेम, S. n. m. Love; affection; kindness. راکھنا—rakhná, to be in love with.

ساکر—ságar, n. m. ocean of love; the name of the 10th section of the Bhágwat Purán in which the love sports of Krishna are related.

پريمی premi, प्रेमि, S. n. m. and adj. Lover ; affectionate. [leaf.

پرين پuren, H. n. f. The lotus plant ; lotus

پروا parewá, परवा, H. n. m. A pigeon ; dove.

پروچان prajojan, प्रयोजन, S. n. m. Employment ; necessity ; demand ; object ; occasion.

پرا pára, H. n. m. The boundary of a field ; a buffalo calf ; adj. lying down prostrate.

پرا pára, पदा, H. part. adj. Lying (unused) ; laid aside ; prostrate ; fallow (land). پرا پانا—páná, to find lying. پرا پھرنا—phirná, to wander about. پرا رھنا—rahná, to remain idle, or to sleep, all day long. (پرا) ہونے پر—hone (par), to depend upon.

پرا purá, H. n. m. A large parcel or packet.

پراپار párapar, पदापद, H. adj. With reiterated strokes.

پراپانا páraná, पदाना, H. v. To lay down ; to put to sleep.

پراپا pápa, पदाप, H. n. m. A halting place ; a camping ground ; a stage ; an army ; a crowd.

پراپا پراپا pápapáná, H. v. To prattle ; to throb with pain ; to tingle ; to burn (as, tongue from acid or chilly). [rate.

پراپا párat, पदत, H. n. f. Cost price ; real value ;

پراپا pártá, H. n. f. Share ; portion ; quota ; dividend ; contribution. پراپا مالگزارى—malguzárá, n. m. rateable amount of revenue.

پراپا متوسطا—mutwassit, average rate.

پراپا pártál, पदताल, H. n. f. Revision ; comparison ; remeasurement or survey ; reweighing. پراپا کربنا—karná, v. to test ; to revise ; to remeasure ; to recount ; to check or audit.

پراپا pártí, परती, H. n. f. Uncultivated or fallow land ; waste land. پراپا جديدي—jadíd, n. f. lands recently left fallow. پراپا قديم—qadím, n. f. land which has long lain uncultivated or fallow.

پراپا párná, पदना, H. v. To fall ; to drop down ; to lie down ; to be bed-ridden ; to fall to the lot of ; to happen ; to arise ; to befall ; to hanker after ; to meddle ; to come to ; to suit with ; to drop ; to be vacant ; to halt ; to

encamp ; to lie idle ; to be spared over ; to hang or depend upon ; to be bent upon ; to interfere ; to cost. پراپا پراجانا par jáná, to repose ; to be laid across ; to lull (as, wind) ; to become ; to set (as, voice). پراپا رھنا—rahná, to remain poor or destitute.

پراپا párwá, पदवा, H. n. m. A male young buffalo.

پراپا پیروانا pírwáná, (پروانا), H. (Caus. of Parná). To cause to press ; to squeeze ; to crush.

پراپا پاروايا párwáyá, H. n. m. Wooden saucers placed under the feet of a bed.

پراپا پاروس páros, (पड़ोस), H. n. m. Neighbourhood ; vicinity.

پراپا پاروسان párosan, (पड़ोसिन), H. n. f. A female neighbour.

پراپا پاروسى párosí, H. n. m. A neighbour.

پراپا پارھا párhá, पढ़ा, H. adj. Learned ; well read. پراپا گنا يا لکھا—guná yá likhá, adj. educated ; learned ; n. m. a learned man.

پراپا پارھانا párháná, H. v. To make one read or study ; to teach ; to instruct ; to teach a bird to talk. پراپا پرهنے یوک parhne yog, readable ; legible.

پراپا پارھائی párhái, H. n. f. The act of teaching ; tuition ; school fee. پراپا نقشہ—ká naqsha, time-table ; scheme of study.

پراپا پارھن párhin, H. n. f. A mullet.

پراپا پارھنا párhna, H. v. To read ; to repeat ; to learn ; to recite. پراپا پرهنے والا parhne wálá, n. m. a reader.

پراپا پارھنت párhant, H. n. f. Reading ; maxim ; charm.

پراپا پاريا páriyá, पड़िया, H. n. f. A young female buffalo.

پراپا پوريا páriyá, पुड़िया, H. n. f. Anything wrapped up in paper or leaves ; powder ; a dose of medicine. پراپا زھر کي پريا zahr kí—, (met.) a man of suspicion or dangerous character.

پراپا پاريال páryal, H. n. f. Rubbish ; sweepings.

پراپا پاز or پاز, P. Cooking ; baking (used in comp.) as پاز نان—, baker ; cook &c.

پراپا پازوا, } P. n. m. A brick-kiln.
پراپا پازواہ, }

پڙمرداگي puzhmurdagi, P. n. f. Witheredness ; fadedness ; numbness ; objection.

پڙمردا پuzhmurda, P. adj. Withered ; faded ; decayed ; sad.

پس pass, P. adv. After ; at length ; finally ; hence ; so ; therefore ; wherefore ; consequently.

پس انداز pas andáz, P. n. m. Savings ; something laid up for old age or a rainy day (it is called مایه توكل mayd-i-tawakkul). —پس پا کرنا —pá karná, v. to repulse ; to drive back. —پس پا هوننا —pá honá, v. to fall in the rear ; to decline ; to retreat. —پس خوردنه —khurda, leavings ; offal. —پس غیبت —gaibat, in one's absence. —پس ماندنه —mánda, remaining behind ; survivor ; surplus.

پسا pasá, H. n. m. As much as can be held in both hands open ; two handfuls.

پساج pisách, पिसाच, H. n. m. A demon ; a spectre.

پسارا pasará, पसारा, H. n. m. Expansion ; extension.

پسارنا pasárná, H. v. To spread ; to extend ; to display.

پساري pasári, पसारी, H. n. m. One who sells spices ; a grocer.

پسان pisan, पिसान, H. n. m. Flour ; meal.

پسانا pisaná, पिसाना, H. v. To reduce to meal ; to grind.

پسانا pasána, H. v. To pour off the water in which rice, &c., has been boiled ; to skim ; to remove the scum.

پسائي pasái, H. n. f. A kind of wild rice.

پسائي pasái, H. n. f. The price paid for grinding.

پس پوت paspút, H. n. m. Adopted son.

پست past, P. adj. Low ; humble ; mean ; vile ; lower ; below. —پست خیال —khiyál, low idea. —پست نظارت —fitrat, of inferior understanding.

پست قد —qad, low in stature ; dwarf. —پست کرنا —karná, to put down ; to defeat.

پست و بلند دیکهنا —o-buland dekhná, to consider and take precautions against the vicissitudes of

fortune. —پست همت —himmat, mean-spirited ; low-rainded. [teat ; nipple.

پستان pistán, P. n. m. Breasts ; pap or dug ;

پستک پستک pustak, पुस्तक, S. n. f. A book. —پستکالای پستکالای, पुस्तकालय, library ; book depot.

پستول pistol, n. m. A pistol.

پستئي پستا pista, P. n. m. Pistachio nut. —پستئي رنگ pistaí rang, n. pea-green ; pistachio-nut colour. —پسته لب —lab, having lips as sweet as the pistachio nut.

پسته قد pasta qad, P. adj. A dwarf [humility.

پستي پستي pastí, P. n. f. Lowness ; inferiority ;

پسر pasar, H. n. f. Grazing at night. —پسر بهار —bhar, two handfuls.

پسر pisar, P. n. m. A son ; a boy. —پسر خوانده

پسرزاده —khandah, n. m. an adopted son. —پسرزاده —záda, grandson. —پسر صلبی —sulbi, own son.

پسارنا pasarná, H. v. To be stretched out ; to be spread ; to lie prostrate.

پسارو pasrau, P. n. m. A follower ; a dependant.

پسايي پساي pasái, H. n. f. A rib ; the fræcordia. —پسايي

په زکنا —pharagná, to feel a quivering sensation over the ribs which is regarded a sign of an impending visit from an absent friend.

پسنا pisaná, H. v. To be ground ; to be reduced to powder ; to be ruined ; to be reduced to distress.

پسند pasand, P. n. f. Choice ; approval ; preference, direction (used in comp.) as حق پسند

هاق —adj. Approving what is just ; دل پسند dil —, adj. agreeable, &c.) —پسند کرنا —karná, v.

to prefer ; to like ; to approve. —پسند آنا —áná, to meet the approval of.

پسندا pasandá, P. n. m. Chopped or minced meat.

پسندیده pasandida, P. adj. Chosen ; pleasing ; desirable ; approved.

پسنگا pasangá, पसंगा, H. n. m. See پسنگ pasang.

پسنگارا pisanhára, H. n. m. Miller ; grinder of corn. [پالاک —pálak, a cowherd.

پسو pasú, पसु, H. n. m. A beast ; an animal.

پسوانا piswáná, पितवाना, H. *v.* To cause to be ground.

پس و پیش pas-o-pesh, P. *n. m.* Hesitation. و پیش کرنا—karná, *v.* to doubt; to hesitate.

پس و جانا pasújna, H. *v.* To sew with running stitch; to baste. [paration for a journey.

پاسیج pasij, P. *adj.* Ready; prepared; *n. m.* pre-

پاسیجنا pasijná, पसीजना, H. *v.* To perspire; to sweat; to melt (with pity); to soften; to be compassionate; to be touched (usually constructed with the word *dil*).

مجھ سے تیرا دل گر پاسیجا ہے

Mujhe kar zabh kharjar se terá dil gar pasija hai. [weight of five seers.

پاسری paseri, पसेरी, पसेरी, H. *n. f.* A measure of

پاسیو pasio, P. *adj.* Posterior; last; modern; hindmost.

پاسینا pasiná, पसीना, H. *n. m.* Perspiration; sweat.

پاسینا نکالنے والا—nikálne wálá, *adj.* (*in Med.*) sudorifico. پاسینے ہونے—pasine pasine honá, to be disturbed or alarmed; to break into violent perspiration through shame, &c.; to be covered with sweat through heat or toil.

پیشاچ pishách, पिराच, H. *v.* Sprite; goblin; ogre; fiend.

پشپا pushpa, पुष्प, S. *n. m.* A flower. واتیکا wátika, flower garden.

پشت pusht, P. *n. f.* The back; generation; prop. پشت در پشت—dar-pusht, from generation to generation. پشت پر رہنا—par rahná, to back; to support steadily. پشت پر لکھنا—par likhná, to endorse. پشت پناہ—panáh, *n. f.* refuge; ally. پشت خم—kham, hump-backed.

پشت دست کو کاٹنا—dast ko kátná, to suffer remorse; to regret. پشت دینا dená, *v.* to turn tail; to flee. [load; mass.

پشتارا pushtára, P. *n.* Burden; bundle; heap;

پشتک pushtak, P. *n. m.* Kicking out with the hind legs. پشتک مارنا—mirná, to kick up behind. [Afghans.

پشتی pashtú, P. *n. f.* The language of the

پشتہ pushta, P. *n. m.* Prop; bank; buttress.

پشتہ بندی—bandí, *n. f.* embankment.

پشتی pushtí, P. *n. m.* Prop; alliance; the cover of a book. پشتی بانی—bání, *n. f.* support; alliance; aid. پشتی کرنا *v.* support; to assist; to back.

پشتینا pushtainí, H. *adj.* Hereditary; ancestral.

پشت pusht, पुष्ट, S. *adj.* Nourished; strong; fat; provocative; vigorous; eminent.

پشتہ pushtá, पुष्ट, H. *n. f.* A specific for nervous disorder; an aphrodisiac.

پشکل pishkil, P. *n. m.* The orbicular dung of sheep, goats, &c.

پشم pashm, P. *n. f.* Wool; fur; hair; any worthless thing. پشم پر مارنا—par márná, *v.*

to disregard; to despise; to be perfectly independent. پشم سمجھنا—samajhná, to regard as worthless. پشم نہ اکوڑنا—na ukharná, *v.* to suffer nothing from the enmity of another.

پشمینا pashmína, P. *n. m.* Woollen cloth.

پشنگ pashang, P. *n. m.* Name of an *Irani* warrior; a wall-piercing instrument; a mason's chisel; name of Afrásyáb's father and sons; tyranny; labour.

پشہ pashu, पशु, S. *n. f.* Beast; animal; a simpleton.

پشواز pishwáz, P. *n. m.* A gown worn by dancing girls.

پششا pashsha, P. *n. m.* A gnat; a mosquito.

پشیمان pashemán, P. *adj.* Repentant; penitent; ashamed. پشیمان ہونا—honá, *v.* to repent; to be ashamed.

پشیمانہ پشیمانہ pashemáni, P. *n. f.* Repentance; regret; shame.

پک pik पिक, S. *n. m.* The Indian cuckoo.

پکا pakká, पका, H. *adj.* Ripe, mature; boiled; baked; cooked; burnt (bricks); grey or white (hair); fully developed; expert; strong; solid; firm; substantial; macadamised (road); lasting (colour); sound; valid; fast; certain; fearless; shrewd; true; resolute; authentic.

پکا سیر ser; *n. m.* A seer of full standard weight. پکا کرنا—karná, *v.* to strengthen; to make sure; to corroborate; to verify; to establish a claim, &c., beyond dispute; to take a bond. پکا پکایا—pakayá, *adj.* Ready made.

پکار pukár, P. n. f. Calling out aloud; call; shout; cry; complaint; summons; invitation.

پکارنا—ná, v. to call aloud; to cry out; to exclaim; to invoke; to complain. پکار کے—ke, adj. aloud; in public; openly. پکار دینا—ke kahná, v. to speak aloud, &c. پکار دینا—dená, to proclaim. [to dress victuals.

پکانا pakáná, پکانا, H. v. To cook; ripen;

پکاو pakáo, H. n. m. Suppuration.

پکائی pakái, H. n. f. Cooking; ripeness.

پکار pakar, پکاف, H. n. f. The act of seizing; seizure; capture; hold; grip; objection; a wrestling; evidence; proof; criticism (See giráft).

پکارنا pakráná, H. v. To cause to be caught; to make over; to get one to lay hold of. پکارنا دینا—pakrá dená, to put into one's hand or clutches.

پکارنا pakarná, H. To catch; to lay hold of; to arrest; to handle; object; to overtake; to detect; to discover; to pick holes in.

پکاروانا pakarwáná, H. v. To cause to seize.

پکش paksha, پکش, S. n. m. Wing; side; assistance; feather; the half of a lunar month; a fortnight or fifteen days. پکشپات pakshpát, پکشپات, partiality; taking the side of.

پکشی pakshí, پکشی, S. n. m. A bird; an ally.

پکنا pakná, H. v. To be cooked; to ripen; to turn grey; to suppurate.

پکوان pakwán, پکوان, H. n. m. Fried cakes; pastry (as, puri, kachawri, gulgulla, &c.).

پکوانا pakwáná, H. v. To cause to be cooked; to cause to ripen.

پکوائی pakwái, H. n. f. Price paid for cooking.

پکورا pakorá, پکوائی, n. m. } H. Pastry made of
پکورئی pakorí, پکوائی, n. m. } pease-meal.

پکھه pakh, پکش, H. n. m. The eighth nakshatra or lunar mansion.

پکھال pakhál, H. n. f. Large leathern bag for holding water, generally carried on bullocks; a water-bag.

پکھارنا pakhárná, پکھارنا, (پکھارنا), H. v. To wash; to clean; to rinse.

پکھان pakhán, (پاکھان,) H. n. m. A stone.

پکھواج pakháwáj, پکھواج, H. n. f. A kind of drum; a timbrel.

پکھواجی pakháwájí, H. n. m. One who beats or plays on the pakháwáj; drummer.

پکھراج pukhráj, پکھراج, H. n. m. A topaz.

پکھراؤٹا pakhrauṭá, H. n. m. A bit of gold or silver leaf covering birá or flake of betel.

پکھری pakhri, پکھری, پکھری H. n. f. A petal; a flower leaf.

پکھورا pakhaurá, پکھورا, (Col.) H. n. m. The shoulder-blade.

پکھرو pakheru, پکھرو (Col.) H. n. m. A bird.

پگ pag, پگ, H. n. m. The foot. پگ پگ—pag par, at every step. پگ داندی—dandí, n. f. A footpath; pathway; track.

پگ داندی لینا—dandí lená, v. to take the footpath; to trace.

پگ pagá, H. n. m. A rope fastened round the neck of a bullock.

پگار pagár, H. n. m. Wet earth or clay for building a wall or plastering enclosure round a field. [twilight.

پگاه pagáh, P. n. f. Morning; dawn of day;

پگرانا pagráná, پگرانا, H. v. To chew the cud; to ruminate.

پگری pagri, پگری, H. n. f. A turban. پگری اوتارنا—utarná, v. to dishonour; to disgrace.

پگری باندھنا—bandhná, v. to put on a turban. پگری باندھنا—bandhná, to be presented with a

turban as a token of honour. پگری پیروں پر رکھنا—pairon par rakhná, to place one's turban (pagri) at the feet of another in token of extreme submission and humility.

پگلا paglá, پگلا, adj. Foolish; mad.

پگلانا pagláná, H. v. To become mad.

پگلانا pigláná, پگلانا, H. v. To melt; to dissolve; to assuage; to soften.

پگالنا pigálná, } H. v. To melt, or be melted;
پگالنا pighálná, } to dissolve; to be softened; to yield

پگیا pagiya, H. n. f. A turban.

پل pal, پل, S. n. m. The eyelid; a second; the 60th part of a ghafí. پل بہر مین یا پل مارے—bhar men yá—márte, in a moment; in the

twinkling of an eye. پل میں—pal meṅ, *adv.* every moment. پل مارنا—márná, to wink.

پل pul, पुल, *n. m.* A bridge; a cause-way. پل باندھنا—báṅdhná, *v.* to make a bridge; to raise a dam against inundation; to form a heap; to supply in abundance; to abound in abundance. پل ٹوٹنا—ṭúṭná, to burst or come forth in abundance. پل صراط—sarát, according to Mohammedan's belief a bridge over which the righteous will pass to heaven and the wicked will fall into hell, on the day of judgment.

پل palá, *H. n. m.* A large spoon for taking out oil.

پل pallá, पल्ला, *H. n. m.* Space; distance; the scale of a balance; a weight of 3 maunds; border of cloths; side; burden carried on the head or back; one shutter or fold of a door, &c. پل باندھنا—báṅdhná, *v.* to fold up in the skirt; to make one's own; to marry. پل بھاری ہونا—bhári honá, *v.* to be encumbered with a large family. پلے پلے palle par, at the side of; far off. پل چھڑانا—chhuráná, to get rid. پلے دار palle dár, *n. m.* a porter who has bags to carry burdens. پلے دار پلے palle dári, *n. f.* carrying heavy loads. پلہ ham—, *n. m.* equal; a match.

پل palá, *H. perf. part.* (of palná) Fostered; پلایا palá-paláyá, *part. adv.* tenderly nurtured.

پل pillá, पिल्ला, *H. n. m.* A puppy; a cub; a whelp. پلہ حرامی harámí—, *n. m.* A bastard.

پلاس palás, *P. n. m.* Very coarse cloth; canvas. پلاس palás, पलारा, *S. n. m.* A tree on which the lac insects feed; *Butea frondosa* (*dhák*).

پلاس پاپڑا pilás pápṛá, *H. n. m.* The seeds of the *Butea frondosa* (*dhák*) used in medicine.

پلانا peláná yá pahnána, *H. v.* Milk to come into the udders (*adh utarána*).

پالاننا palánna, *H. v.* To place the *plán* upon; to saddle a horse or bullock.

پیلانا piláná, *H. v.* To cause to drink; to suckle; to fill.

پلہ puláo, *P. n. m.* A dish made of rice boiled in soup with flesh, spices, &c.

پلای pilái *H. adj. and n. f.* Price paid for drinking; giving to drink. دودہ پلانی دائی dúdh-dái; a wet nurse.

پلپل pilpil, *P. n. m.* Pepper.

پلپل pilpilá, or pulpulá, पिलपिला या पुलपुला, *H. adj.* Soft; flabby; flacid. [soften.

پلپلانا pilpiláná, *H. v.* To become soft; to turn about a morsel in the mouth from want of teeth or inability to chew, to fear.

پلپلہٹ pilpiláhat, *H. n. m.* The act of turning about a morsel in the mouth; fear.

پلپلہٹ pilpiláhat, *H. n. f.* Softness.

پلٹھی palthi, पालथी, *H. n. f.* A method of sitting on the hams with the legs rolled round. پلٹھی مارنا—márná, to sit on the ground resting on the buttocks.

پلٹا palṭá, पलटा, *H. n. m.* Turn; exchange; revenge; an iron pan or ladle with a long handle. پلٹا کھانا—khána, *v.* to turn over; to tilt over; to suffer a turn of fortune. پلٹا لینا—lená, *v.* to take revenge from. پلٹے میں palte meṅ, in return for; in lieu of.

پلٹانا palṭána, पलटाना, *H. v. t.* To return; to repel; to convert. پلٹا دینا—dená, to send back. پلٹا لینا—lená, to take back.

پلٹاؤ palṭáo, *H. n. m.* Reaction; contradiction.

پلٹیس pulṭis, *H. n. f.* (*Corr. of the Eng.*) Poultrice. [regiment.

پلٹان palṭan, (*Corr. of the Eng.*) Battalion;

پلٹنا palaṭná, *H. v.* To turn over; to retreat; to abound; to change; to suffer a turn of fortune; to exchange.

پلڑا palṛá, पलड़ा, *H. n. m.* One of a pair of scales.

پلساٹ palsáṭ, *H. n. f.* Yellowness.

پلک palak, *P. n. f.* The eyelashes; a moment.

پلک دریا—daryá, *n. m.* clouds. پلک لگنا—lagná, closing of the eyelids; twinkling of the eye. پلک مارنا—márná, *v.* to wink

پلکانا pulakná, पुलकना, *H. v.* To be delighted; to rejoice.

پلنا pilná, पिलना, *H. v.* To attack; to rush against; to labour or work hard; to drudge; to be

bruised or pressed. پل پل پل pil parná, to jostle violently.

پالنا palná, पालना, H. *v.* To be nourished; to thrive; *n. m.* a cradle. [parcel; a package.

پالندا pulandá, पुलंदा, H. *n. m.* A bundle; a bag.

پالنگ palang, पलंग, H. *n. m.* A bed; a bedstead; a sleeping couch. پالنگ پوش palang posh, *n. m.* a coverlet; a counterpane. تور—tor, one who is foud of his bed.

پالنگ pilang, P. *n. m.* A tiger; a panther; a leopard. پالنگ افغان—afgan, *n. m.* leopard-killer; a fierce warrior. [gender.

پالنگ pulling, पुल्लिङ्ग, H. *n. m.* The masculine

پالنگري palangri, H. *n. f.* A small bedstead.

پالو pallo, पल्ला, S. *n. m.* A shoot; a sprout; a twig; a bud; a blade.

پالو pillú, H. *n. m.* A worm.

پالو pallú, पल्लू, H. *n. m.* The hem or border of a garment. پالو انچل ánchal—*n. m.* Garment with a silver or gold lace border.

پالوا paluá, पलुआ, H. *adj.* Domesticated; tame.

پالوار palwár, H. *n. m.* A kind of boat.

پالوٿها palothá, पैलोठा, H. *adj.* First born.

پالودار pallúdár, *n. m.* A garment with a silver or gold border; a fringe-maker.

پالول palwal, H. *n. m.* A vegetable; a species of cucumber.

پالا palla, P. *n. m.* A scale for weighing in.

پالي pali, H. *n. f.* A ladle used to take out ghee, oil, &c. [culvert, a small bridge.

پالیا puliyá, पुलिया, H. *n. f.* (Dim. of Pul.) A spleen.

پالئي pilai, H. *n. f.* The spleen.

پاليت palit, H. *n. m.* A ghost.

پاليتا palitá, P. *n. m.* (Corr. of پاليتا Fatila). A thick wick; a candle; a match of a gun. پاليتا چات چا—chát jáná, to flash in the pan.

پاليتھون plethan, H. *n. m.* Dry flour laid down under and over bread when it is rolled (khushki.) نڪالنا—nikálná, (khub kundí karná), *v.* to beat severely; to thrash. پاليتھني palethni, *n. f.* bread, prepared with the dry flour laid down under and over.

پاليد palid, P. *adj.* Unclean; impure; defiled; *n. m.* an unclean thing; an evil spirit.

پالينا palená, H. *v.* To irrigate land after ploughing.

پامن paman, H. *n. f.* Wheat of a superior kind.

پون punn, पुन, पुण्य S.) H. *n. m.* Virtue; alms; charity. پون کرنا—karná, *v.* to give alms.

پن pan, पन, H. An affix denoting the abstract quality and equivalent to English termination:—ship, -hood, -ness, &c., لاراکپن larakpan, *n. m.* childhood, &c.

پن pan, H. (Contr. of پنچ Punch). Five (used in comp. as پنجه پانچيري panjirí, a medicine composed of five ingredients—sugar, flour, ghi, cumminseed, &c.) پنسيري panserí, a weight of 5 seers.

پن pan, (Contr. of پان Pán), as پنهتا—bhattá, a betel-box پنوارزي—wári, betel-garden, betel-seller. [repeatedly.

پن pun, پونی, H. *adv.* Again and again;

پن pin, H. *n. m.* A sound; whistle of a bullet.

پن pan, H. (Contr. of پاني Páni). Water. پنهتا—bhattá, *n. m.* boiled rice steeped in water. پنچکي—chakkí, *n. f.* a water mill. پنچه—chhá, *n. m.* matter from a sore. پن ٿبا—dubbá, *n.* a diver. پن ٿبي—dubbí, *n. f.* a water fowl. پن گهت—ghat, *n. m.* a well, etc., from which water is drawn. پنهارا—hári—hára, a water-bearer.

پنا paná, H. An affix, See pan. پنا paná, breadth of a cloth.

پنا panna, पना, H. *n. m.* A gold or silver leaf; an emerald; a sheet of metal; page of a book; the tamarind juice.

پنا pinná, H. *n. m.* A lump; a ball of thread; a reel; oil-cake; *v.* to be carded.

پنال panálá, पनाला, H. *n. m.* } A pipe; a drain;
پنالي panáli, *n. f.* } a conduit.

پنالنا panáná, H. *v.* To cause milk to come into the udders of animals.

پناه panáh, P. *n. f.* Shade; shelter; protection; asylum; refuge. پنهلا دينا—dená, *v.* to protect; to give shelter; to harbour. پنهلا لینا—lená, to take shelter. پنهلا مانگنا—mángná, *v.* to seek protection; to avoid. پنهلا دهي مچرمان—dihí nujrimán, harbouring of offenders.

پنبہ pumba, P. n. m. Cotton. پنبہ بگوش—bagosh, *adj.* deaf. پنبہ درز—doz, a cotton-carder. پنبہ دہی—dahan, taciturn; silent in company.

پنپانا panpáná, पनपाना, H. v. To cause to flourish; to refresh.

پنپانا panapná, H. v. To recover; to revive; to get strong; to prosper; to get fat; to thrive.

پنپینانا pinpináná, H. To twang, to whiz.

پنٹ pant, } H. n. m. A road; a path;
پنٹھ panth, पंथ, } a way; a sect; a religious order.

پنٹھی panthí, H. n. m. A traveller; a follower of any religion; sectarian.

پنج panj, P. *adj.* Five; five years old (a horse); oinque (in gaming). پنج آیت—áyat, the five chapters of the Qurán which are read during the mourning among Mohammedans. پنجتن پاک—tan-i-pák, the five holy persons, *i.e.*, Moham-

mad, Alí, Fatmah, Hasan and Husain. پنج سالہ—sála, of five years; quinquennial. پنج عیب—'alb-i-shar'af, the five sins:—robbery, adultery, gambling, drunkenness, falsehood.

پنج گانہ نماز—gána namáz, the prayers appointed for five periods of the day. پنج گوشہ—gosha, *adj.* pentangular.

پنج گانہ نماز—gána namáz, the prayers appointed for five periods of the day. پنج گوشہ—gosha, *adj.* pentangular.

پنج punj, पूज, H. n. m. A heap; a collection; quantity; the whole.

پنجابی panjábí पंजाबी, H. n. f. An inhabitant of the Punjab; a kind of shoe; the language spoken in the Punjab.

پنجادہ panjáh, pinjah, P. *adj.* Fifty.

پنجر panjar, pinjar, S. n. m. A skeleton; a rib; a cage. پنجر ہونا—honá, v. to become a skeleton; to become thin or lean. انجر پنجر—anjár—dhile honá, v. the bones and joints of the frame to become loose.

پنجرا pinjrá, पंजर, H. n. m. A cage; the human body.

پنجشامہ panjshamba, P. n. m. Thursday.

پنجم panjum, P. *adj.* Fifth

پنجاہ panjah, P. n. m. An aggregate of five; the hand with the fingers extended; a paw; the fore part of a foot or shoe; grasp; the

five of cards; a cast or turn up of five with dice; a torch having five branches. پنجہ پھیرنا—pherná, v. to twist round the hand of an adversary by interlocking fingers with him; to overcome. پنجہ کرنا یا لڑانا—karná yá laráná, v. to interlock fingers with an adversary and endeavour to twist his hand or wrist. پنجہ کش—kash, n. m. an iron instrument resembling a hand with which wrestlers exercise themselves by locking their fingers into those of the instrument; a cake bearing the marks of the five fingers.

پنجہ میں لانا—meg láná, v. to bring under subjection. پنجہ مارنا—márná, v. to claw; to pounce upon. پنجوں کے بل چلنا—panjon ke bal chalná, to walk on tip-toe; to strut.

پنجی panjí, P. n. f. A sort of link or torch with five branches.

پنجیارا pinjiyará, पिंजियारा, H. n. m. A cotton-carder.

پنجرہ panjerá, पंजेरा, H. n. m. One who joins or solders, pots, pans, etc.

پنجرہ panjerí, H. n. f. A strengthening preparation composed of five ingredients given to puerperal woman; candle.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنچ pauch, पाच, S. *adj.* Five; n. m. a council; an assembly of five men; arbitrators; jury. پنج اگنی—agní, five fires amidst which Hindu devotees perform penance. پنج امرت—amrit, n. m. milk, curd, sugar, ghi and honey. پنج ات—tat, n. m. the five elements, *viz.*, earth, air, fire, water and ether. پنج پتر—patra, n. m. a kind of vessel used by Hindus during worship. پنج راشک—ráshik, n. m. (Arith.) double rule of three. پنج رتن—ratan, a collection of five jewels, *viz.*, gold, diamond, sapphire, ruby and pearl. پنج فیصلہ—faisla, n. m. judgment by arbitrators. پنج سر—sar, n. m. a president; a chairman. پنج منجھانہ—panchmahlá, panchkháná, five-storied. پنج گنا—panchguná, five-fold. پنج لارا—lará, a necklace of five strings. پنج اندریاں—panchen-driyán, the five organs of sense:—the eye, ear, nose, tongue and skin. پنج پانچ—panch, H. n. f. A bowstring.

پنکٹی pankti, पंक्ति, S. n. f. A row; a line; range; group; multitude; company.

پنکوکڑی pankukrī. H. n. f. Waterfowl; snipe; curlew.

پنکھ pankh, पंख, H. n. m. Feather; wing; pinion.

پنکھا pankhá, पंखा, H. n. m. A fan; a ventilator.

پنکھڑی pankhṛī, पंखड़ी, H. n. f. A petal; a flower-leaf.

پنکھی pankhī, H. n. f. A small fan, a bird; a moth. [faqir who fans everybody.

پنکھیا pankhiá, H. n. f. A small fan; a kind of

پنک pinak, पिनक, H. n. f. Intoxication from eating opium; drowsiness.

پنگا pangá, H. adj. Weak; tender; delicate; crooked; deformed.

پنگت pangat, H. n. f. A row of people sitting down at a meal; a tribe; a caste; society.

پنگت سے باہر—se báhar, adv. out of caste. پنگت بیچ لکھت—bích likhat, interlineation.

پنگلا panglá, } H. adj. Lame; deformed; پنگرو pangrú, पंगु, } cripple.

پنگھٹ panghat, H. n. m. A stair or quay for drawing water. [Greek partridge (chakor).

پنوار panwar, H. n. m. Name of a plant; the

پنوارا panwára, H. n. m. A ballad; a legend; a fable; a story.

پنوارا panwára; H. n. m. A dish made of leaves to eat on. [a betel-seller.

پنوارا panwári, पनवाड़ी, H. n. f. A betel-garden;

پنوانا pinwána, H. v. To have the cotton carded.

پنھا panhá, पनहा, H. adj. Spacious; broad; wide; n. breadth.

پنھاں pinháñ, P. adj. Concealed; hidden; secret.

پنھی panahī, पनही, (Col.) H. n. f. A slipper; a shoe.

پنی panni, पनी, H. n. f. Tinfoil; a leaf of metal; tinsel. [flour and sugar.

پنی pinni, H. n. f. A sweetmeat made of rice,

پنیا panyá, H. adj. Watery; aquatic; anything living in water. پنیا کال—káal, n. m. famine caused by excess of water. [charitable.

پنیا تما punyátmá, पुण्यात्मा, S. adj. Virtuous;

پنیا پانی paníyáná, H. v. To irrigate; to yield water; to throw off water as (milk); to water (as tongue); to become thin and watery.

پنیر panír, P. n. m. Cheese. پنیر چٹانا—chatáná, to flatter. پنیر مارا—máwá, n. m. runnet.

پنیار paníar, H. n. m. (Corr. of the English). A spaniel.

پنیری panerí, H. n. f. A young flowering shrub.

پنیری panirí, P. adj. Made of cheese. پنیری جمانا—jamáná, v. (met.) not to come straight to the point; to make out a claim. [thin; watery.

پنیل panílá, पनीला, H. adj. Insipid; tasteless;

پو pau, पौ, H. n. f. The one or ace on dice; a public stand for drinking water; early dawn.

پو بارا—bárah, n. f. the ace and the twelve in dice; success. پو بارا پونا—bárah paná, to come off well or successful; to have a stroke of fortune. پو پھٹنا—phaṭná, to be break of day.

پو پوá, H. n. m. A very young serpent; a potherb.

پو panwá, (पाव), H. n. m. A weight of measure of a quarter of a seer; a quarter.

پو پوá, पुआ, H. n. m. A cake made of flour and sugar and fried in ghi or oil. [people.

پو پاواج pawáj, P. n. m. (Plu. of پاچی Páji) Mean

پو پوá, पुआल, H. n. f. Course straw used as fodder, &c.

پو پوána, H. v. To warm by the sun or the steam of water; to bask.

پو پوána, H. v. To have bread made or baked.

پو پوái, H. n. f. A chain for the leg; an odd shoe or slipper.

پو پوá, पोपला, H. adj. Toothless.

پو پوáni, पोपनी, H. n. f. A wind instrument.

پو پوt, H. n. m. The treasury or the treasure bags of Government; glass beads; turn; assessment on cultivated fields; nature. پو پو پورا کرنا—púrá karná, to make up a deficiency;

to play one's part; پو پو دار—dár, a treasurer.

پو پوt, पूत, (पुत्र), H. n. m. So; پو پو پو پو—puton-phálná; to be rich in children; to prosper; to thrive.

پوتا potá, पोता (पोत्र S.), H. n. m. Grandson ; a whitewashing brush.

پوترا pavitra, पवित्र, S. adj. Pure; sinless; sacred.

پوترا آتما—atma, n. m. The Holy Spirit.

پوترا پوترا potrá, H. n. m. Baby-clouds.

پوترا پوترا potrí, H. n. f. The after-birth.

پوترا putlá, पुतला, H. n. f. See putlá. A puppet ; an image.

پوترا putlí, पुतली, H. n. f. See putlí. A small puppet.

پوترا potná, H. To whitewash ; plaster ; to besmear.

پوترا púná, पूना, S. n. f. Name of a female demon sent by Kans to destroy the infant Krishna. She is said to cause a particular disease in children. [garlic.

پوترا pothí, पोथी, H. n. f. A book ; a clove of

پوترا potí, पोती, (पोत्री), H. n. f. A son's daughter ; a grand-daughter.

پوترا potá, H. n. m. The eyelid ; the crop or craw of a bird ; stomach ; an unfledged bird ; a young child.

پوترا potlá, पोदला, H. n. m. A large bundle.

پوترا potlí, H. n. f. A small bundle.

پوترا púth, H. n. m. The buttock ; the hip.

پوترا puthá, पुढा, H. n. m. The cover of a book ; pasteboard. [adorable ; worshipful.

پوترا púj, पूज, H. adj. Honourable ; respectable ;

پوترا pújá, पूजा, S. n. f. Worship ; devotion ; idolatry ; veneration. پوترا پاٿ—páth, devotion to idol-worship and its book.

پوترا pujárí, पुजारी, H. n. m. A worshipper ; a priest.

پوترا pújna, पूजना, H. v. To worship ; to adore ; to honour ; to be filled ; to be satisfied.

پوترا púj baiṭhná, to spend money uselessly ; to squander.

پوترا púch, P. adj. Trifling ; absurd ; useless ; insignificant ; petty ; obscene ; mere nothing ; mean ; shabby. پوترا گوئی—goi, nonsensical talk ; prating. [tion ; call ; respect.

پوترا púchh, पूछ, H. n. f. Inquiry ; investiga-

پوترا پوترا púchh páchh, H. n. f. Inquiry ; interrogation.

پوترا púchhná, H. v. To ask ; to inquire ; to question ; to account ; to invite ; to care about ; to feel concern for ; to help ; to value.

پوترا púchhí, पूँची, H. n. f. The tail of a fish.

پوترا púd, P. n. m. Wool. [progeny ; children.

پوترا paúd, पौद, H. n. f. Young plants ; offspring ;

پوترا paudá, H. n. m. A young plant ; a sapling ; a young boy or girl ; a tassel. [cash-keeper.

پوترا poddár, P. n. m. An examiner of coin ; a

پوترا podná, H. n. m. A kind of small bird which builds a domed nest in grass ; a dwarf.

پوترا pouda, پودا, H. n. m. A plant ; a nursery for plants.

پوترا podína, P. n. m. Mint ; menthol. پوترا كا سات—ká sat, n. m. peppermint.

پوترا por, पोर, H. n. f. The space interval between joints or articulations (of the body or of a bamboo, sugarcane, &c.)

پوترا púr, P. n. m. A son.

پوترا púrá, पूरा, H. adj. Full ; whole ; complete ; accomplished ; entire ; constant ; firm ; ripe ; old ; skilled in ; sufficient ; exact.

پوترا utarná, v. to come out with credit ; to succeed. پوترا پوري بات—púri bát, n. m. a petition ; a complete sentence. پوترا پورنا—parná,

to be sufficient. پوترا دینوں pure dinon, adj. gone nine months with child. پوترا کرنا—karná,

v. to fill up ; to complete ; to make up ; to carry out ; to keep a promise ; to reimburse.

پوترا púrápan, n. m. } H. Fulness ; complete-
پوترا purái, n. f. } ness ; accomplishment, maturity ; sufficiency ; perfectness.

پوترا púrab, पूरब, (पूर्व), H. n. m. The east ; countries lying to the east of the Ganges ; adj. former ; prior ; preceding.

پوترا púrbí, (S.) H. adj. Eastern ; oriental. n. m. the dialect of the eastern districts ; the name of a rāgni sung before evening.

پوترا púrbiyá, H. n. m. A native of the eastern countries extending from Cawnpore to Behár.

پورم پور *púrampúr*, H. *a.* Brimful ; full.
 پورن *púran*, (पूर्व, S.) H. *adj.* Full ; complete ; perfect ; entire. پورن کرنا—*karná*, *v.* to fulfil ; to accomplish.
 پورنا *púrná*, H. *v.* To weave ; to fulfil. چوک پورنا *chauk*—, *v.* to make squares.
 پورن ماسی *púranmási*, पूर्वमासी, H. *n. f.* The day of the full moon.
 پوروا پورا *purwá*, पुरवा, H. *n. m.* A small village, sub-division or a dependency of a village.
 پورا *porá*, H. *n. m.* A joint or phalanx of the fingers. پورا تورنا—*torná*, to crack the joints or knuckles. [cane, &c.
 پوری *porí*, H. *n. f.* A joint of bamboo, sugar-
 پوری *púrí*, पूरी (पूर्वी), H. *n. f.* A thin cake of meal fried in *ghi* or oil.
 پوری *paurí*, H. *n. f.* A gate ; a door. [strong.
 پورہا *pohá*, पोहा, H. *adj.* Mighty ; firm ; stout:
 پوز *púz*, poz, P. *n. m.* The lip ; mouth (*esp. of a horse*) پوز بند—*band*, a muzzle. مال پوز—*mál*, a farrier's twitch. پوزا *púza*, the parts round the mouth.
 پوزش *pozish*, P. *n. f.* Excuse ; apology ; pretext ; palliation.
 پوزی *púzi*, P. *n. f.* Part of the ornamental accoutrements of a horse.
 پوس *pús*, पूष, H. *n. m.* The ninth solar month (Dec.-Jan.).
 پوست *post*, P. *n. m.* Crust ; shell ; bark ; skin ; rind ; layer ; an intoxicating drug ; poppy-head or capsule. پوست کن—*kan*, *n. m.* skinner ; flayer. پوست کنده—*kanda*, *adj.* having the skin, etc., peeled off ; without reserve.
 پوستی *posti*, P. *n. m.* One who habitually intoxicates himself with an infusion of poppy-heads ; one addicted to opium.
 پوستین *postin*, P. *n. m.* A fur garment ; a blemish ; *adj.* leathern. پوستین دور—*doz*, *n. m.* a furrier ; a maker of leathern garments.
 پوسنا *posná*, पोषना, H. *v.* To nourish ; to tame, to bread ; to rear.
 پوش *posh*, P. *part.* Covering ; dressed—in (*used in comp.*) as, پوش پا—*pá*—*n. m.* shoe.

پوش کلاہ *kuláh*—, wearing a cap. —پوش wearing a veil.
 نہیں خضاب سے مطالب ہمیں یہہ مرے سفید سیاہ پوش ہوئے ماتم جوانی میں (—ذوق)
 Nahín khizáb se matlab hamen yih-mú-i-sufed. Syáh posh hue mátam-i-jawáni men.
 پوشاک *poskák*, P. *n. f.* Dress ; garment ; clothes.
 پوشش *poshish*, P. *n. f.* Dress ; garments ; covering clothes.
 پوشیدگی *poshidgi*, P. *n. f.* Concealment ; secrecy ; dubiousness.
 پوشیدہ *poshida*, P. *adj.* Concealed ; hidden ; covered. پوشیدہ مصرف—*masraf*, underhand disbursement ; secret expenditure.
 پوکار *pokhar*, पोखर, H. *n. m.* A pond ; a tank ; a lake ; a place of Hindu pilgrimage near Ajmer. [*n. m.* a pole (land measure).
 پولا *polá*, पोला, H. *n. f.* Emptiness ; hollowness ;
 پولا *polá*, H. *adj.* Soft ; hollow ; porous ; spongy ; emptied.
 پولا *pulá*, पूला, H. *n. m.* A small bundle of grass or straw. پولا تالے گھران کرنا *púle tale guzran karná*, to live in a hut ; to be miserably off.
 پولاد *polád*, P. *n. m.* The finest Damascus steel.
 پولیس *polis*, पुलिस, H. *n. m.* (*Corr. of the Eng.*) Police.
 پولی *paulí*, H. *n. f.* Threshold ; door ; entrance.
 پولی *púli*, H. *n. f.* A bundle of sheaves of corn used as fodder for cattle.
 پون *pon*, H. *n. f.* The sound of flute or pipe. پون ہول جانا—*bol jáni*, to fall ; to be defeated.
 پون *pauñ*, पौन, H. *adj.* Three-quarters ; a quarter less ; three-fourths part.
 پون *pavana*, पवन, H. *n. f.* Purification ; winnowing ; air ; wind ; charm ; the spirit. پون پانی کا اثر *paúan páni ka asar*, effects of the climate.
 پون چکی *pawan chakki*, H. *n. f.* A wind-mill.
 پونا *pona*, पोना (पिरोना), H. *v.* To string (pearls) ; to thread (a needle) ; to make bread ; to cook.
 پونا *pauná*, H. *n. m.* A perforated iron ladle used by confectioners ; strainer ; colander.

پونجی *púnjī*, पूंजी, H. *n. f.* A capital; stock; principal sum; wealth. —پونجی حصہ داران—*hissa dárán*, joint stock, capital of a company.

پونچھا *paunchhā*, H. *n. f.* The multiplication table of five and half times; wrist.

پونچھ *púunchh*, पूँछ, H. *n. f.* A tail; a parasite.

پونچھان *ponchhan*, पोंछन, H. *n. m.* Anything thrown away after wiping; refuse; rubbish.

پونچھنا *ponchhnā*, H. *v.* To wipe; to rub out; to clean; to expunge.

پونڈا *paundā*, H. *n. m.* A kind of sugarcane; *Saccharum officinarum*.

پونسلالی *punsalāi*, H. *n. f.* A thin roller on which cotton is prepared for spinning (*pūni*)

پونکنا *ponknā*, H. *v.* To be fluxed.

پونگا *pongā*, पोंगा, H. *n. m.* A joint of bamboo; a hollow tube; a kind of drum; a simpleton; *adj.* empty; hollow.

پونگی *pongi*, H. *n. f.* A flute; a kind of pipe played upon by jugglers.

پونگی پھل *pongi phal*, पुंजीफल, H. *n. f.* Areca-nut.

پونوں *púnōn*, (पूनीcol.) H. *n. f.* Day of full moon

پونی *pūni*, A. *n. f.* Rolls of cotton prepared for spinning skeins. [day-break.

پوہ *poh*, H. *n. f.* The first streak of the dawn;

پوہ *pauh*, H. *n. m.* A stand where water is kept for travellers, etc.

پوہ *pohe*, H. *n. m.* Cattle; domestic animals.

پویا - پویا *poyā*, پویا, P. *part. adj.* Going; running.

پویا *poiyā*, P. *n. m.* A canter; amble; shufflingpace. —پویوں چلنا *poiyon chalnā*, to canter; to amble.

پوس *pois*, H. *intj.* Ho! hallow! take care! (said by drivers to warn the people out of way.)

پے *pa*, P. *conj.* or *prep.* Yet; but; on; at.

پھات *phát*, फाट, H. *n. m.* Division; breadth.

پھاک *pháṭak*, H. *n. m.* A gate; a large shutter; a check; the bar of a court of justice where the plaintiff and defendant take their station; a pound. —پھاٹک بندی *bandí*, *n. f.* custody; imprisonment. —پھاٹک دار *dár*, *n. m.* a door-

keeper; a pound-keeper. —پھاٹک میں بیڑنا *men bernā*, to impound.

پھاڑ *pahár*, पहाड़, H. *n. m.* A mountain rock; hill; anything very large or huge, and strong, tedious and burdensome; any difficult task.

پھاڑ سی راتیں *si ráten*, *n. f.* mountain-like night; long and tedious night of sorrow.

پھاڑا *pahára*, पहाड़ा, H. *n. m.* The multiplication table.

پھاڑ *phár*, H. *n. m.* Rent; split; crack; fissure.

پھاڑنا *phárnā*, फाड़ना, H. *v.* To tear; to rend; to devour; to split; to cleave; to burst; to rip; to coagulate. —پھاڑ پھاڑ *pháṛkháú*, ravenous.

پھاڑی *paháři*, पहाड़ी, H. *n. f.* A small hill; a mountaineer; a hillman; *adj.* hilly; mountainous.

پھاگ *phág*, फाग, H. *n. m.* The festivities and sports of the *Holi*. —پھاگ کھیلنا *khelnā*, throw coloured powders, etc., over one another in the time of the *Holi*.

پھاگن *phāgun*, (फाल्गुन), H. *n. m.* The eleventh month of the Hindus, corresponding to February and March.

پھال *phál*, फाल, H. *n. f.* A lamp or piece of betel-nut.

پھال *phál*, H. *n. f.* A ploughshare.

پھالسا *phalsá*, फालसा, H. *n. m.* Name of a fruit (*fálsá*).

پھالی *pháli*, H. *n. f.* A ploughshare.

پھان *phán*, H. *n. m.* A plug of clay for closing the mouth of granary. [plexity.

پھاند *phánd*, H. *n. m.* A noose; a snare; per-

پھاند *phánd*, फांद, H. *n. m.* A leap; a spring; a jump.

پھاندنا *phándnā*, H. *v.* To spring; to jump; to ensnare; to noose.

پھانڈی *phándí*, फाँदी, H. *n. f.* A bundle of sugarcane, bamboos, etc.

پھانس *pháns*, फाँस, H. *n. m.* A splinter.

پھانسا *phánsá*, H. *n. m.* A noose; an impediment.

پھانسانا *phánsnā*, H. *v.* To noose; to entrap; to choke.

پھانسی *phánsi*, फाँसी, H. *n. f.* A snare; a noose; halter; execution. —پھانسی پانا *pánā*, *v.* to be

hanged or executed. چہانسی چہانسی—charhná, to mount the scaffold. دہانسی دہانسی—dená, v. to hang; to execute; to strangle. پہانسی دہانسی والا—denewálá, n. m. a hangman. پہانسی کا کوحبا—ká khambá, n. m. gibbet; gallows. پہانسی گر—gar, a strangler; a *thag*.

پہانک p.ánk, فائک, H. n. f. A flake; a slice; a piece of fruit; a mouthful of parched grain, etc.

پہانکار phánkar, } H. n. m. A fop; *adj.* smart;
پہانکارا phánkára, } robust; bold; impudent.

پہانکنا phánkná, فائکنا, H. v. To chuck into the mouth from the palm of the hand; to slice.

پہانکی phánkí, فائکی, H. n. f. A slice or piece of fruit.

پہا pháo, فاه, H. n. m. A small quantity given above the quantity purchased (*ghelua, rukán*). [spade; a hoe.

پہاورا pháora, فاهرا, H. n. m. A mattock; a

پہاوری pháorí, H. n. f. A shovel; an instrument for removing cattle's dung; a crutch on which a *jogi* leans; a piece of wood or staff with a support at each end, which is held in both hands and laid horizontally to performing the exercise of *dánd*.

پہانا phána, فانا, } H. n. m. A flake of cotton
پہانا pháyá, فانا, } used for scenting or as lint; a plaster.

پہا phab, H. n. f. Embellishment, decoration; comeliness. [suitable; *apropos*.

پہاتی phabti, فباتا, H. *adj.* Becoming; fit;

پہاتی phabti, H. n. f. Ornament; decoration; a jest. پہاتی کہنا یا اڑانا—kahná yá urána, v. to utter a jest; to say what is conjectured by one's dress. [flourish (as plants).

پہابکنا phabakná, H. v. To shoot forth; to

پہابان phaban, فبان, H. n. f. Ornament; decoration; charm. [suit; to look elegant.

پہانا phabná, H. v. To become; to befit; to

پہا pahup, پھوپ, (پھوپ S.) H. n. m. A flower.

پہا phuppá, فھفا, H. n. m. The husband of a paternal aunt.

پہادنا phapadná, فھادنا, H. v. To ferment; fester.

پہاپسا phapsá, H. *adj.* Swelled; insipid; fat; flabby; puffed.

پہاپکا phapká, فھفا, H. n. m. A blister.

پہاپکار phupkár, فھپکار, H. n. f. The hissing of a snake; gasping; bubbling; snorting.

پہاپھولا phapholá, فھولا, H. n. m. A blister. vesicle. پھولا پھولا—phútná, to be blistered; (*met*) to be afflicted in mind. دل کے لئے پھولا—dil ke phaphole phorna, to take revenge for a grudge; to appease one's wrath.

پہا پھولنا phaphólná, فھولنا, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

پہا پھولنا phaphólná, H. v. To be mildewed.

प्रेतना *phitáná*, H. *v.* To beat up into a froth, &c., (*phentná*).

प्रेतपतना *phatpatáná*, फटफटाना, H. *v.* To shake or flap the wings as birds about to fly.

प्रेतकार *phitkár*, H. *n. m.* The sound of a lash in the air or of winnowing or of beating clothes against a stone; curse.

प्रेतकारना *phatkárná*, फटकारना, H. *v.* To beat cloth against a stone in washing; to curse; to get rid of; to shake or knock off any light thing, such as bed sheet, clothes, mattress, &c.

प्रेतकर *phuṭkar*, फुटकर, H. *adj.* Dispersed; separated; retailed; miscellaneous.

प्रेतकरी *phitkari*, फिटकरी H. *n. f.* Alum.

प्रेतकल *phuṭkal*, फुटकल, H. *adj.* Odd; separated; sundry; miscellaneous. [siftings.

प्रेतकन *phaṭkan*, फटकन, H. *n. f.* Chaff or husk;

प्रेतकना *phaṭkná*, H. *v.* To winnow; to dust; to pay a flying visit. [cage; a clai per.

प्रेतकी *phaṭki*, H. *n. f.* A fowler's net; large

प्रेतकी *phuṭki*, फुटकी, H. *n. f.* A blot; a stain; a spot; the undissolved portion of any soluble matter.

प्रेतकी *phuṭki*, फुटकी, H. *n. f.* The Indian tailor-bird.

प्रेतना *phaṭná*, फटना, H. *v.* To be cracked; to be broken; to be burst; to be dispersed; to turn or become sour.

प्रेतचान *pahchán*, पहिचान, H. *n. f.* Acquaintance; knowledge; recognisance; sign; distinction

प्रेतचानना *pahchánná*, H. *v.* To know; to recognise; to distinguish; to identify; to comprehend; to understand.

प्रेतफदाना *phadphadáná*, फडफडाना, H. *v.* To ferment; to throw out shoots (as a plant); to break out or fester (as an eruption).

प्रेतकना *phudakná*, फुदकना, H. *v.* To jump; to leap; to hop; to dance about in token of delight.

प्रेतकी *phudaki*, H. *n. m.* A jump; a hop; a species of bird.

पहर *pahar*, पहर, H. *n. m.* A division of time consisting of eight gharis or 3 hours; a watch; eighth part of a day. दिन—*din*, 6 to 9 a. m. रात—*rát*, 6 to 9 p. m.

पहर *phir*, फिर, H. *adv.* Again; then; afterwards.

पहरना *áná*, *v.* to come again; to return.

पहरना *bhí*, *adv.* once more; still; notwithstanding.

पहरना *phir*, पहर—*hir phir*; *adv.* over and over again.

पहरना *parná*, to be displeased.

पहरना *phurr*, फुर्र, H. *n. m.* The noise made by a bird suddenly taking wing or by the explosion of a little gunpowder; whir; whiz; a buzzing sound.

पहरना *pahrá*, पहरा, H. *n. m.* A turn of watch; watch; a sentinel; a corporal and six; season.

पहरना *biṭháná*, to place a guard over.

पहरना *badalná*, *v.* to relieve the guard.

पहरना *dená*, *v.* to keep a watch.

पहरना *pahre wálá*, *n. m.* a sentinel.

पहरना *pahre men rakhná*, *v.* to put in custody.

पहरना *pharrátá*, फरटा, H. *n. m.* The flapping of a flag; fluttering of a bird; snorting of a horse; a piece of bamboo

पहरना *pharráte bharná*, to take flight; to flee away.

पहरना *pharrás*, H. *n. m.* Name of a tree; a species of fir.

पहरना *pharráná*, फराना, H. *v.* To cause to turn; to whirl; to make to go about; to turn round; to return; to roll; to screw; to wind.

पहरना *pharráná*, H. *v.* To flutter, (as a flag); to flap; to wave.

पहरना *pahráná*, (पहिराना), H. *v.* To cause to dress; to clothe.

पहरना *phiráo*, H. *n. m.* Return; turning; rotation; circuit.

पहरना *phiráú*, H. *adj.* A conditional or contingent purchase; periodical; moveable (as a feast day). [Dress, etc.

पहरना *pahiráo*, पहिरा, *pahiráwá*, पहिरावा H. *n. m.*

पहरना *pahráoní*, H. *n. f.* Dresses given to guests at a wedding; a tirewoman.

पहरना *pharpharáná*, फरफराना या फडफडाना, H. *v.* To tremble; to wave; to quiver; to flap.

پهري phurphuri, H. n. f. Trembling; quivering; palpitation لینا پهري—lená, v. to tremble. [deceit.

پهري pharphand, H. n. m. Trick; strategem;

پهري pharphandí, H. adj. Artful; tricky; treacherous. [hire.

پهري phirat, H. n. m. Rejected things; return

پهري phirtá, फिरता, H. Turning; returning; answer to a letter. باز پهري—bhírá, return hire, of a boat or carriage.

پهري phirtá rahná, H. v. To walk about; to wander.

پهري phirti, H. n. f. Return; returning; homeward bound.

پهري phurtí, फुटी, H. n. f. Activity; quickness; readiness; briskness; alacrity. پهري کرنا—karná, v. to make haste; to be quick.

پهري phurtila, H. adj. Quick; active; nimble; smart; expert.

پهري pharchá, پهري—pharchhá; H. n. m. Clearance of the sky; dispersion of clouds or crowd; fair weather; acquittal.

پهري pharchháná, H. v. To decide; to clear.

پهري pharsá, फरसा, H. n. f. An axe; a hatchet.

پهري phirkí, फिरकी, H. n. f. A reel for thread; a whirl gig; anything turning as on an axis.

پهري phirná, फिरना, H. v. To return; to walk about; to go round; to circulate; to wander; to turn away; to whirl; to deviate; to diverge; to revolt. پهري جانا—jáná, to pass before; to turn from; to turn against; to revolt.

پهري phirna, H. n. m. Return; exchange

پهري pahirná, H. v. To put on clothes; to wear.

پهري paharúá, H. n. m. A watchman; a sentinel. [or rake.

پهري pharuhá, पहरुआ, H. n. m. A kind of hoe

پهري pharahrá } H. adj. Half-dried; n. m. a
پهري pharairá, } flag; a vane; a pennant.

پهري phariá, H. n. f. A short bordered skirt worn by girls. [shivering; shudder.

پهري phurairí, फुरैरी, (Col.) H. n. f. Trembling;

پهري phar, H. n. f. A place where goods are exposed for sale; a gambling-house; the shafts

or pole of a carriage. باز پهري—báz, n. m. player at dice; a gambler; a prater; a talkative fellow. پهري لگا—pe lagáná, to wager; to stake.

پهري pharáná, फदानا, H. v. To cause to be torn or split.

پهري pharpharáná, H. v. To shake; to move with convulsive motion, to twinkle; to be agitated; to flutter; to struggle; to long for; to welter in blood. [gle; agitation.

پهري pharpharáhaṭ, H. n. f. Flutter; struggle

پهري pharphariyá, H. n. m. A flutterer; adj. hasty; bustling.

پهري pharak, फडक, H. n. f. Fluttering; palpitation.

پهري pharkáná, फडकानا, H. v. To cause to flutter, to cause to throb; (met.) to show off; to make a display.

پهري pharakná, فडकना, H. v. To flutter; to twitch; to vibrate with involuntary motion as eyelid; to beat; to palpitate.

پهري phuriyá, फुडिया, H. n. f. A sore; a pimple.

پهري phus, फुस, H. n. f. A hissing sound. پهري پهري—phus; n. f. whispering.

پهري phasáná, फसानا, H. v. To cause to stick (as in mud); to involve in difficulties, etc.; to entangle; to catch; to take in; to deceive.

پهري phasáo, n. m. } H. Entanglement;
پهري phasáwaṭ, n. f. } sticking; perplexity; difficulty.

پهري phusahindá, H. adj. Fetid; sticking.

پهري phasphasá, फसफसा, H. adj. Flabby; spongy; loose.

پهري phusphusáná, H. v. To whisper.

پهري phasaddí, فاسدھی, H. adj. Last in order, degree or time; adv. late; behind.

پهري phaskáná, فاسکانا, H. To burst; to slacken.

پهري phasakná, H. v. To sink or go down; to burst; to split.

پهري phaskí, H. n. f. A handful of grain, etc., taken by official personages as a tax out of each load brought to market; a small quantity

of any commodity given over the weight or measure.

پھولانا phusláná, فوسلانا, H. *v.* To coax; to amuse; to fondle; to wheedle; to flatter; to entice. پھولانا کے لجانا phuslá ke lejáná, *v.* to entice away; to kidnap.

پھولانا phisláo, } H. *n. m.* Slipping; }
 پھولانا phislahat, } sliding; slip; error.
 پھولانا phislan, فیسلان, }

پھولانا phisláo, } H. *n. m.* Coaxing; }
 پھولانا phusláwá, فوسلانا } wheedling; seduction;
 cajolery.

پھولانا phisalná, H. *v.* To slip; to slide; to err; to incline towards.

پھولانا phislahá, H. *adj.* Slippery.

پھولانا phasná, H. *v.* To stick; to be caught; to be involved.

پھولانا phakkar, H. *n. m.* Railery; low and coarse jesting; abuse. پھولانا بآز—báz; *n. m.* An indecent chatterer; a fop; a foul-mouthed fellow.

پھولانا phukná, فوکانا, H. *v.* To be blown; to be burnt; to be wasted.

پھولانا phukná, H. *n. m.* A bladder.

پھولانا فوکانی, H. *n. f.* A blowpipe; a fire-lock or pistol.

پھولانا phukait, H. *n. m.* A thrower (of spear, etc.); a club-player.

پھولانا phagvá, H. *n. m.* The *Holi* festival; the song of the *Holi* festival.

پھول pahal, پھال, H. *n. m.* A flock of cotton; a side; beginning; commencement.

پھول phal, فال, H. *n. m.* Fruit; produce; yield; harvest; children; profit; reward; result; the answer (of a problem, etc.); the area of a figure; effect; a blade; the iron head of an arrow; a ploughshare. پھول اہار—ahár, a repast of fruits. پھول آنا—áná, *v.* to bear fruit. پھول بچھول—bujhawwal, a boy's game as:—Think of a number, double it, add ten to it, take five from it, how much remains? "21", the number was "8". پھول پانا—páná, *v.* to reap one's reward. پھول پھلاری—phalári, *n. f.* fruit of various kinds. پھول دار یا پھول داریک—dár یا—

dáyak, *adj.* Fruitful; profitable. پھول کار—kar, produce of trees; revenue from fruit trees. پھول کيسر—kesar, cocoanut tree. پھول کرشن—krishn, the fruit of *karanda*.

پھول pahlá, پھلا, پھلیلا, H. *adj.* First; prior; original; primary; chief. پھول پاہلہ—pahle, *adv.* B-fore; soon; rather. پھول پاہلہ ہی سے—pahle hi se, from the very first.

پھول phalá, H. *adj.* Abounding with fruit; having a blade. پھول دو در—do—, *adj.* two-bladed.

پھول phullá, فولا, H. *n. m.* Anything swollen; cataract; *albugo*. پھول نیکالنا—nikalná, *v.* to remove a cataract.

پھول phalár, فالار, (فالاهار S.) } H. *n. m.* Vege- }
 پھول phalyár, } table food used }
 پھول phalyári, } by Hindus in a fast.

پھول phaláin, H. *n. m.* (*Corr. of the Eng.*) Flannel.

پھول phaláná, H. *v.* To fructify. [to puff.

پھول phuláná, H. *v.* To cause to swell; to fatten;

پھول phaláng, فالانگ, H. *n. f.* A bound; a spring; a leap. [to leap.

پھول phalángná, H. *v.* To spring; to jump;

پھول phuljharí, فولجھاری, H. *n. f.* A kind of firework in imitation of a fountain; a flower-pot.

پھول phalká, H. *n. m.* Soft earth or ground; a blister.

پھول phulká, فولکا, H. *n. m.* } A small puffed }
 پھول phulki, فولکی, H. *n. f.* } up cake; bread.

پھول phulkári, H. *n. f.* Flowered cloth; a tissue flower on cloth.

پھول phalná, فالنا, H. *v.* To bear fruit; to have issue; to result; to prosper; to have blisters, eruptions, etc. پھول پھلنا—phálná, to bud and blossom; to prosper; to thrive.

پھول phulang, H. *n. f.* The top; summit; head.

پھول pahlav, P. *n. m.* Ancient Persia; a city; a saint; a hero; a wrestler.

پھول pahlú, P. *n. m.* A side; flank; wing; advantage; fraudulent means; point of view.

پھول par, *adv.* laterally; on the side. پھول پار

—*tihí*, *n. f.* evasion; shrinking. پهلوتپي کرنا
tihí karná, *v.* to withdraw; to evade. هم پهلوار
ham—, *adj.* equal in rank or dignity. پهلوار نشين
 —*nashin*, sitting by the side; a companion.

پهلوار *phulvá*, *H. n. m.* A gum used as a cosmetic and also as a lotion.

پهلواړي *phulwári*, فلولباري, } *H. n. f.* A flower
 پهلواړي *phulwári*, } garden; an orchard;
 children; offspring.

پهلوران *pahlwán*, *n. m.* An athlete; a wrestler; hero. [exercise; heroism.

پهلواړي *pahlwáni*, پهلوانو، *H. n. f.* Athletic

پهلواړي *pahlauhá*, پهلواړي، *H. adj. and n. m.* First-born.

پهلواړي *phulauri*, فلولوري، *H. n. f.* A small swollen or puffed cake of fruit and pulse fried in ghee or oil.

پهلوي *phali*, فلي، *H. n. f.* A pod; the seed or pod of any leguminous plant but particularly of peas; a loop; a shield. پهلوي کش—*kash*, *n. m.* a hook for drawing the strings through the holes by which the walls of a tent are laced to the top.

پهلوي *phullí*, *H. n. f.* A small flower-shaped ornament of gold or silver worn in the nose or ear; a white speck in the eye; *albugo*.

پهلوي *pahle*, *H. adv.* At first; first; sooner; before. پهلوي پهلوي—*pahil*, *adv.* at first; first of all; in the first instance.

پهلوي *phalyána*, فلييانا، *H. v.* To bear fruit.

پهلوي *phulel*, فلولل، *H. n. m.* Oil impregnated with the smell or flowers steeped in it; scented oil.

پهلوي *phan*, فن، *H. n. m.* The hood or expanded head of a snake. پهلوي اټهانا—*uṭhána*, *v.* to spread out the hood (a snake). پهلوي مني—*mani*, a jewel supposed to be found in the hood of a snake.

پهلوي *pahan*, *H. n. m.* Breadth; width; ampleness.

پهلوي *pahanná*, پهلوانا، *H. v.* To wear; to dress; to put on.

پهلوي *pahnána*, پهلوانا، *H. v.* To cause to put on; to dress.

پهلوي *pahnáwa*, پهلوانا، *H. n. m.* Dress; clothing; garment.

پهلوي *phanphanána*, فنفنانا، *H. v.* To hiss (as a snake); to expand the hood (as a snake); to spring up suddenly or quickly as snake or a fast growing plant.

پهلوي *pahunch*, پهلوي، *H. n. f.* Arrival; access; reach; admittance; penetration; capacity; receipt.

پهلوي *pahunchá*, پهلوي، *H. n. m.* The wrist; the forearm

پهلوي *pahunchána*, پهلوي، *H. v.* To cause to arrive; to transmit; to convey; to conduct; to accompany; to carry; to bring to pass; to cause to supply; to indict (punishment, &c.) پهلوي ضرر شديد—*zarar shadid*—, *v.* to cause grievous hurt.

پهلوي *pahunchná*, *H. v.* To arrive; to reach; to attain; to come up; to accrue; to feel; to amount; to have access to. پهلوي بهر بهر *baham* —, to reach; to attain; to acquire.

پهلوي *pahunchí*, پهلوي، *H. n. f.* A kind of bracelet.

پهلوي *phandá*, فندا، *H. n. m.* A noose; a snare; perplexity; grasp; clutches; maze. پهلوي پهلوي—*paṛ jáná*, to get into knots (a string); to be noosed. پهلوي لگانا—*lagána*, to knot; to loop; to set snare. پهلوي آبهنسا—*ábehná*, to set snare. پهلوي پهلوي—*men áná*, *paṛná*, *á phansná*, to fall into snare; to be caught into a trap. [entrap.

پهلوي *phandána*, *H. v.* To cause to jump; to

پهلوي *phandna*, *H. n. m.* A tassel.

پهلوي *phansána*, فسانا، *H. v.* To ensnare; to entrap; to entangle.

پهلوي *phansáo*, *H. n. m.* Entanglement; a sticking place as a bog, fen, &c.; a narrow place

پهلوي *phansná*, فسانا، *H. v.* To be entangled; to stick; to be involved (in difficulties).

پهلوي *phanswána*, *H. v.* To cause to be entrapped.

پهلوي *phunsi*, فوسي، *H. n. f.* A pimple; a pustule.

پهلوي *phanká*, *H. n. m.* A handful (or rather, mouthful) of any grain, &c. chucked in the mouth. پهلوي مارنا—*márná*, *v.* to chuck food,

grain, &c., into the mouth. [snake)

پھونکار phuṅkār, फुंकार, H. n. f. Hissing (of a snake)

پھونکارنا phuṅkārṇá, H. v. To hiss (as a snake)

پھونکانا phinkwáná, H. v. To cause to fling or throw. [into the mouth.

پھونکوانا phanṅkwáná, H. v. To cause to be chucked

پھونکوانا phunṅkwáná, फुंकवाना, H. v. To cause to set on fire ; to have a thing set ablaze.

پھونگی phungí, फुन्गी, H. n. f. A shoot ; a sprout ; the point or tip (of a branch, ear or corn).

پھوننگ phunang, H. n. f. Top ; summit ; peak ; tip (of a bough).

پھونائی pahunái, पहुनाई (Col.) H. n. f. Hospitality ; reception of guests or visitors.

پھوار phuwár, फुआर, H. n. f. Small drops of rain ; drizzle ; fog. [a watering can.

پھواری phuárá, H. n. m. A fountain ; a jet-de'eau ;

پھواری phuár, H. n. m. A sloven ; a silly. adj. uneducated ; rude ; shameless. پھواری—pan, n. m. rudeness ; stupidity ; foolishness ; shamelessness.

پھوپھی phúphá, फुफा, H. n. m. Father's sister's husband.

پھوپھی phúphú, }
پھوپھی phuphí, } H. n. f. Father's sister.
پھوپھی phupí. }

پھوٹ phút, फूट, H. n. f. A breach ; break ; crack ; split ; opening ; gap ; dissension ; discord ; separation ; quarrel ; the musk-melon ; a ripe cucumber.

پھوٹا phúṭá, H. v. to arise (dissensione). پھوٹا—phúṭ kar roná, v. to weep bitterly.

پھوٹا phúṭá, H. v. to sow dissension between ; to set by the ears. پھوٹا—phúṭ kar nikalná, to break out as an eruption.

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭá, H. v. to be divided in opinion. پھوٹا—honá, v. to be

پھوٹا phúṭán, H. n. f. Disagreement ; wrangling ; racking pain in the bones or joints (har-phútan).

پھوٹنا phúṭná, H. v. To be broken ; to be separated ; to be impaired ; to burst ; to split ; to gush (with tears) ; to be made public ; to be diffused (as smell) ; to burst forth ; to rise ; to come into view ; to boil (as water) ; to shoot ; to germinate ; to bud.

پھوڑا phoṛá, फोड़ा, H. n. m. A boil ; a sore ; an ulcer ; an abscess ; a tumour. پھوڑا—phúnsí, n. m. eruptions.

پھوڑنا phoṛná, फोड़ना, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

پھوڑنا phoṛná, H. v. To break ; to split ; to shatter ; to disclose ; to divulge (as secret).

pherí, फेरी, H. *n. f.* Circuit ; circumambulation (*parikramá*) ; hawking ; begging ; mendicancy ; trick. کړنا پھیری—*karná*, to go round hawking ; to go round begging. والا پھیری—*walá* ; *n. m.* a hawker ; a pedlar.

phíká, फीका, H. *adj.* Tasteless ; insipid ; pale ; faint ; light (in colour) ; dull ; cheerless.

phailáná, फैलانا, H. *v.* To spread ; to stretch ; to lengthen ; to multiply ; to diffuse ; to calculate ; to publish ; to scatter ; to branch out. هاث پھیلانا *háth*—, *v.* to beg.

phailáo, फैलाव, } H. *n. m.* Spread ; expansion ; growth ; length ; diffusion ; calculation ; publication.

phailáwat, फैलावट, }
phailná, H. *v.* To be spread ; to be expanded ; to grow luxuriantly ; to become public ; to insist ; to persist ; to rise in one's demand or requirement.

paheli, P. *n. f.* An enigma ; a riddle.

phen, फेन, H. *n. m.* Foam ; froth.

phenáná, H. *v.* To foam ; to froth.

pheppná, H. *n. m.* The mucus from the nose ; *rent*.

phent, फेंट, H. *n. f.* The waist band ; a belt. باندھنا پھینٹ—*bándhná*, to gird up the loins (for) ; to resolve (on) ; to get ready for.

phenṭí, H. *n. f.* A skein (of thread, &c.) (*atti, anti*).

phínchná, फीचना, } H. *v.* To rinse ; to wash ; to squeeze.

phenus, *n. m.* Biestings ; the milk of a cow for some days after calving.

phenk, फेंक, H. *n. f.* Throw ; cast ; fling
دینا پھینک—*dená*, *v.* to throw away.

phenkná, H. *v.* To throw ; to cast ; to let fly (a hawk, &c.) ; to dart ; to disregard ; to waste ; to gallop ; to set off (a horse) at full speed ; to hurl (spears, &c.) ; to sow (seed) ; to squander ; to spill ; to pour out. پھینکنا—*phenkait* ; H. *n. m.* A fencer ; a cudgel-player.

phaní, फेनी, H. *n. f.* A kind of sweetmeat ; *adj.* foamy ; frothy.

pí, पी, (प्रिय S.), H. *n. m.* A husband ; a lover.

pí, P. *n. f.* Grease ; tallow.

پے pai, P. *n. m.* The foot ; footstep ; mark ; pursuit ; nerve ; sinew ; *adv.* in the footsteps of ; in pursuit of ; after ; behind ; on account of ; therefore. پے در پے—*darpai*, step by step ; consecutively ; incessantly. پے ہونا *darpai honá*, to be after. آنا پے—*áná*, to have a splint (a horse). پے خانہ—*khána*, a privy. پیرو—*rau*, follower ; votary. پیروی—*rawí*, pursuit ; endeavour ; imitation ; search ; quest. پیگری—*karí*, fetters ; chains. پے لے جانا—*lejáná*, to obtain a clue ; to find out.

پے paí, H. *n. f.* Fault ; defect.

piyá, पिया, (प्रिया S.), H. *n. m.* Husband ; lover ; sweetheart ; *adj.* beloved.

piyádah, P. *n. m.* A footman ; a foot soldier ; a pawn at chess. پا پیادہ—*pá*, *adv.* on foot. پیادہ محاصل—*i-mahásil*, a peon appointed to compel defaulters to pay up arrears.

pyár, प्यार, H. *n. m.* Love ; affection ; attachment. پيار کړنا—*karná*, *v.* to love ; to fondle ; to caress.

payár, H. *n. m.* A species of grass (used for thatching).

pyará, H. *adj.* Beloved ; dear ; favourite ; charming ; loveable ; pleasing. پیارا جاننا—*jánná*, to hold dear ; to esteem. پیارا گننا—*ginná*, to esteem dear or precious.

pyáz, P. *n. f.* Onion ; leek.

pyázi, P. *adj.* Of or resembling an onion. پيار رنگ—*rang*, *n. m.* onion colour ; crimson ; reddish colour.

pyás, प्यास, H. *n. f.* Thirst ; desire ; craving.

bujháná, *v.* to quench thirst.

lagná, *v.* to be thirsty. پیاس مارنا—*márná*, to stand thirst ; to endure thirst.

márná, to stand thirst ; to endure thirst.

márná, to lose the sensation of thirst.

یوں پیاس میں لاکر کوئی پانی نہ پلائے
ارز بعد فنا فاتحہ شربت پے دلائے

(میر انیس)

yún pyás meṅ lákar koí paní na piláe, Aur bá'd-i-faná, fátiba Sharbat pa diláo.

pyásá, H. *adj.* Thirsty ; thirsting for ; longing for. مرنا پیاسے *pyásé márná*, *v.* to be very thirsty ; to be dying of thirst.

پھاسی piyási, H. n. f. A species of fish.
 پھال payál, پھال, H. n. f. Straw; long grass (used for thatching).
 پھالہ pyálah, P. n. m. A cup; a firepan (of musket); a funeral rite of Mohamedan mendicants. پھالہ ہونا۔ پھالہ پورا ہونا۔ púrá honá, —bhar jáná, the cup of one's life to be full; to be puffed up with pride. پھالہ پینا۔ píná, to quaff the cup of; to become the disciple of. پھالہ ہم پھالہ ہم ham pyálah ham niwálah, a very intimate friend; a bosom friend. پھالہ ہونا۔ honá, to die (in the language of Mohamedan mendicants).
 پیالی piyálí, P. n. f. A small cup or glass.
 پیام payám, P. n. m. A message; news.
 پیامبر payámbar, P. n. m. A messenger; a prophet. [to irrigate].
 پیانا piyáná, H. v. To cause to drink; to water;
 پیپ píp, پیپ, } H. n. m. Pus; matter; purulent
 پیب píb, پیب, } discharge. پیپ پڑنا۔ paṛná, to become mattery.
 پیپا pípá, پیپا, H. n. m. A cask; a barrel; a butt; pipe.
 پیپل pípal, پیپل, H. n. m. The holy fig tree; *Ficus religiosa*.
 پیپلا píplá } H. n. m. The long pepper.
 پیپلا } H. n. m. The striking part or point of a sword.
 پیپلا مور píplá múr, } H. n. m. The root of the
 پیپلا مول píplá múl, } long pepper tree.
 پیت pí, پیت, (پیت S.) H. n. f. Love; affection.
 پیت کی پیت رھے اور میت کا میت ہاتھ لگے۔ ke-rahe aur mít ká mít háth lage, let the friendship be continued and the benefits of it will be reaped.
 پیتامبر pitámbar, S. n. m. Yellow silk cloth.
 پیترا pítrá, H. n. m. The preparatory poses or movements of a wrestler. بدلتا۔ badalna, to make certain movements before wrestling.
 یکساں رہا نہ تھا تھے کسی کا جہان میں
 کون آئے پیترے نہ یہاں پر بدل گیا
 (صبا) —
 Yaksán rahá na tháth kisi ká juhán men,
 Kaun áke paitre na yahán par badal gayá,

پیتس pítas, پیتس, H. n. f. The wife of one's father-in-law's brother.
 پیتسرا pitasra, H. n. m. Father-in-law's brother.
 پیتل pítal, پیتل, H. n. m. Brass; bronze.
 پیتلا pítlá, } H. adj. Brazen; of brass.
 پیتلی pítlí, }
 پیتام pítam, پیتام, (پیتام S.) H. n. m. Husband; lover; most beloved.
 پیٹ پیٹ, پیٹ, H. n. m. The belly; stomach; the womb; pregnancy; mystery; hunger; greediness; livelihood. کے ایک پیت ek—ke, adj. of the same or full blood; uterine. پیت آرٹھی۔ píthí, gluttonous; epicurean. پیت بانڈھنا۔ báudhná, to stint oneself of food. پیت بڑھانا۔ baṛháná, to eat voraciously; to encroach on the rights of another. پیت بولنا۔ bolná v. the rumbling noise caused by wind within the intestines. پیت بھر۔ bhar, adv. belleyful. پیت بھرنے۔ bharná, v. to fill one's belly; to be satisfied. پیت پالنا۔ pálná, v. to live from hand to mouth; to contrive to live decently. پیت پونچھنا۔ ponchhán, the last child of a woman. پیت پانی ہونا۔ pání honá, to have watery stools; to be frightened. پیت پھیننا۔ phaṭná, v. to burst; to be impatient. پیت پھولنا۔ phúlná, v. to burst with laughter; the belly to swell, to be in the family way. پیت چلنا۔ jalná, to be very hungry. پیت دکھانا۔ dikháná, to beg for food. پیت چلنا یا پیت میں۔ chalna yá—men pání honá, to have diarrhoea. پیت ڈالنا یا گرانا۔ dálná yá giráná, v. to procure abortion; to bring on a miscarriage. پیت رھنا۔ rahná, v. to be pregnant; to conceive. سے پیت۔ se, adj. pregnant. پیت سے پاؤں باہر نکالنا۔ se páon bahar nikálná, to shew one's claws; to transgress; to go beyond bounds. پیت سے ہونا۔ se honá, v. to be pregnant. پیت کا پانی نہ ہلنا۔ ká pání na hlná, v. to be carried without being shaken. پیت کا پردہ۔ peṭ ká parda, n. m. the omentum. پیت کاٹنا۔ káṭná, v. to starve one's self. آگ کی پیت۔ kí ág, n. f. maternal affection. پیت کی آگ بجھانا۔ kí ág bujháná, v. to eat something. پیت کا ہلکا۔ ká lalká, unable to keep a secret. پیت کا کپٹی۔ ká kapṭí, sly;

close knave. پیٹ کا توڑنا—ká tūtá, famine-stricken. پیٹ کا کتنا—ká kátná, to starve oneself; to deprive one of livelihood. پیٹ کا دکھیہا—ká dukhiyá, a destitute person. پیٹ کی باتیں—kí báten, bosom secrets. پیٹ لگ جانا—lag jáná, to be starving with hunger. پیٹ مارنا—márná, to mortify oneself. پیٹ گرنہا—gírná, v. to miscarry. پیٹ میں پیٹھنا—men paiṭhná, v. to worm one's self into another's secret. پیٹ میں پیٹھنا—men-paiṭhná, to have a twisting pain in the stomach from excessive laughter.

پیٹ والی—wáli, *adj.* pregnant.
پیٹا peṭá, পেটা, H. *n. m.* Belly; diameter; the middle of a page; the channel of a river; a total sum.

پیٹنا piṭná, पीटना, H. *v.* To strike; to beat; to punish; to tread; to thresh; to earn; to mourn. پیٹ ڈالنا—piṭ dálná, to thrash soundly; to give a good dusting. پیٹ لینا—lená, to scrape together, or to earn with difficulty.

پیٹو peṭú, পেটু, H. *n. m.* Gluttonous.

پیٹھ piṭh, पीठ, H. *n. f.* The back; the loins; the back part; support. پیٹھ پر کا—par ká, a younger child. پیٹھ پر ہاتھ پھیرنا—par háth pherná, v. to pat on the back; to encourage. پیٹھ پر ہونا—par honá, to support; to aid. پیٹھ پھرنہا—pherná, v. to turn back; to withdraw; to take flight. پیٹھ پیچھے—píchhe, *adv.* behind; in the absence of. پیٹھ پیچھے کھنا—píchhe kahná, v. to backbite. پیٹھ توڑنا—toṛná, to break the back; to dishearten. پیٹھ تھوکنا—ṭhokná, to encourage; to animate. پیٹھ چارپائی سے لگانا—chárpái se lagáná, to be bed-ridden. پیٹھ دینا—dená, to depart; to shrink from; to veer. پیٹھ دکھانا—dikháná, v. to turn tail. پیٹھ لگانا—lagáná, to throw down (in wrestling). پیٹھ لگانا—lagná, to have a sore back (a horse, &c.)

پیٹھ پائٹھ paith, पैठ, H. *n. m.* Ingress; entrance; admission; a duplicate bill of exchange. پیٹھ پائٹھ جانا—jáná, to rush into. پیٹھ پائٹھ دینا—paiṭhne dená, to allow to enter; to give entrance; to admit.

[(kuhra).

پیٹھا pethá, পেঠা, H. *n. m.* A kind of sweet gourd
پیٹھ پائٹھنا—paiṭhná, পেঠনা, H. *v.* To enter; to penetrate; to drive in; to break into; to intrude.

پیٹی peṭí, পেटी, H. *n. f.* A belly-band; a belt; a portmanteau; a casket; the thorax.

پی جانا pí jáná, पीजाना, H. *v.* To drink; to absorb; to stifle one's passions; to suppress anger; to bear patiently; to refrain from answering.

پیچ pích, H. *n. f.* Water in which rice has been boiled; rice-gruel.

پیچ pech, P. *n. f.* Twist; winding; involution; turn; coil; fold; plait; entanglement; perplexity; ambiguity; pitch; trouble; a screw; tactics; a machine; a trick in wrestling; stratagem; deceit. پیچ پانڈھنا—báudhná, to grapple in wrestling. پیچ پڑنا—párná, v. to become difficult or intricate; to be entangled.

پیچ چلنا—chalná, v. to prevail by stratagem; an artifice to be successful. پیچ دار—dár, *adj.* twisted; spiral; winding; intricate; ambiguous; deceitful.

پیچ در پیچ—dar—, *adj.* coil within coil; complicated. پیچ دینا—dená, v. to twist; to circumvent; to screw; to deceive. پیچ ڈالنا—dálná, v. to throw obstacles in the way; to entangle the string of an adversary's kite.

پیچ کش—kash, a corkscrew. پیچ کھانا—kháná, v. to coil; to fall into difficulties. پیچ کھولنا—kholná, to untwist; to unscrew.

پیچ و تاب—o-táb, *n. m.* twisting and twining; convolution; perplexity; agitation; indignation; vexation; distress, restlessness. پیچ و تاب کھانا—o-táb kháná, to writhe; to be vexed; to suffer distress.

پیچاں pechán, P. *adj.* Twisted.

پیچش pechish, P. *n. f.* Twisting; tenesmus; gripes; cholice; dysentery.

پیچک pechak, P. *n. f.* A ball of thread, S. *n. m.* an owl; a louse; a bed (*kiyári*).

پیچنا píchná, पीचना, H. *v.* To trample under foot; to crush.

پیچوان pechván, *adj.* Twisted; *n. m.* a huqqá, snake.

پیچھ píchh, H. *n. f.* Rice-water; rice-gruel.

پیچھا píchhá, H. *n. m.* The hinder part; the rear; absence; following; pursuit. پیچھا بہاری—bhári honá, to have an enemy in the rear; to be pursued. پیچھا پھرنہا—pherná, v.

to withdraw ; to turn away. **چھوڑنا**—
 chhuráná, *v.* to get of rid of ; to shake off ; to
 get away from. **چھوڑنا**—chhorná, to let
 alone ; to give over ; to cease. **پہچھنا**—
 karná, *v.* to follow ; to pursue ; to press ; to
 back (as a horse) (*pichhe khánd*) ; to recoil
 (as a gun) (*paltá khánd*). **پہچھنا**—
 lená, to pursue ; to be obstinately persevering.
چھوڑنا—na chhorná, to stick ; to pursue
 unremittingly.

پہچھنا píchhe, पीछे, H. *adv.* In the rear ; behind ;
 astern ; after ; in the absence of ; afterwards ;
 subsequently ; ago ; after the death of ; in
 consequence of ; for the sake of **پہچھنا**—
 áná, *v.* to follow ; to come late ; to ensue.
پہچھنا—parná, *v.* to dance attendance on ;
 to run after ; to dun ; to torment ; to make
 a point of ; to pursue doggedly or tenacious-
 ly ; to drop behind. **پہچھنا**—píchhe, one
 after another ; in succession ; in a row or
 series. **چھوڑنا**—chhorná ; to leave be-
 hind. **پہچھنا**—dálná, *v.* to surpass ; to
 lay by. **پہچھنا**—rahná, *v.* to keep back ;
 to fall or lag behind ; to survive. **پہچھنا**—
 se, from behind ; in the rear ; afterwards.
پہچھنا—lagná, *v.* to follow after. **پہچھنا**—
 ho lená, to follow after ; to go in
 the wake or train of. [contortion

پہچھنا pechídgi, P. *n. f.* Twisting ; winding ;
پہچھنا pechída, P. *adj.* Twisted ; coiled ; com-
 plicated. **پہچھنا**—mu'ámila, a difficult
 case ; an intricate question. [birds.

پہچھنا paikhál, P. *n. m.* Excrement ; dung of
پہچھنا paikhána, P. *n. m.* A privy ; filth.

پیدا paidá, P. *adj.* Born ; created ; produced ;
 procured ; invented ; gained ; acquired ; *n. f.*
 gain ; profit ; income ; earning. **پیدا**—
 karná, *v.* to bring into being ; to produce ;
 to create ; to gain ; to earn ; to invent ; to
 form ; to breed ; to hatch ; to acquire ; to
 realize. **پیدا**—honá, *v.* to be born ; to be
 created ; to arise ; to be earned ; to spring
 up.

پیداوار paidáwár, *n. m.* } P. Produce of land ;
پیداواری paidáwári, *n. f.* } out-turn ; income ;

profits of trade, &c. **پیداوار**—khudrau,
 the spontaneous produce of land.

پیدائشی paidáish, P. *n. f.* Birth ; creation ; pro-
 duce ; earnings ; profits ; in Bible the first
 book of the Old Testament, Book of Genesis.

پیدائشی paidáishí, P. *adj.* Inate ; inborn ;
 natural ; original. (خالقی - جعلی - اصلی)

پیدل paidal, पैदल, H. *adj.* On foot ; *n. m.* foot
 soldier ; infantry.

پیر pair, पैर, H. *n. m.* The foot ; footstep ; the
 threshing floor ; the track of oxen in treading
 out corn or in working round an oil press or
 in drawing water. **پیر**—uřháná, *v.* to
 raise the feet ; to direct the steps towards.
پیر—dharná, to step ; to tread. **پیر**—
 pair, on foot ; afoot. **پیر کا نشان**—ká nishán,
 foot-print.

پیر pir, पीर, H. *n. f.* Pain ; pity.

پیر pir, P. *n. m.* Monday ; a priest ; a holy man ;
 a saint ; spiritual guide. **پیر بھائی**—bhái, a
 fellow disciple. **پیر زادہ**—záda, *n. m.* the son
 of *pir* spiritual teacher ; a priest attached to a
 mosque. **پیر کرنا**—karná, to elect a spiritual
 teacher. **پیر مرد**—mard, an old man **پیر**—
 i-mugán, a tavern-keeper. [árásta o páirásta.

پیراستہ pairásta, P. *adj.* Decorated ; adorned ;

پیراک pairák, पैराक, (तैराक), H. *n. m.* A swimmer.

پیراکی pairáki, H. *n. f.* The act of swimming ; a
 female swimmer.

پیران pirán, P. *n. m.* (*Plu. of Pir*) Old men ;
 saints ; an assignment of land for the support
 of a *pir*, or for the preservation of the tomb
 of a saint. [saint.

پیرانا pirána, P. *adj.* Elderly ; old ; worthy of a

پیرا pairáo, H. *adj.* Unfordable depth ; beyond
 man's depth ; deep.

پیراھن pairáhan, P. *n. m.* A long robe ; mantle ;
 a kind of loose vest resembling the *qabá*
 having 9 buttons.

پیرال pirzál, P. *n. f.* An old woman.

پیرنا perná, पेरना, H. *v.* To press ; to crush ; to
 squeeze ; to grind.

پیرنا pairná, पैरना (तैरना), H. *v.* To swim.

پیرر perú, *n. m.* A turkey.
 پیرر pairau, *P. n. m.* Follower.
 پیری piri, *P. n. f.* Old age ; status of a saint.
 پیر per, پےڑ, *H. n. m.* A tree ; a plant ; shrub.
 لگانا پیر—lagáná, *v.* to plant trees.
 پیرا perá, پےڑا, *H. n. m.* A ball of dough or kneaded flour ; a sweetmeat made with curds
 پیرا - پیرا píř, pířá, *H. n. f.* Pain ; anguish ; sorrow ; affliction ; illness ; sympathy ; the pains of childbirth.
 پیرو perú, پےڑو, *H. n. m.* The belly below the navel.
 پیرھا پیرھا pírhá, پیڑھا, *H. n. m.* A large square stool to sit on. پیرھا ہندہ—bandh, preface or introduction to book.
 پیرھی پیرھی pířhi, پیڑھی, *H. n. f.* A small stool ; generation ; pedigree. پیرھی در پیرھی pířhi dar pířhi, *adj.* Generation after generation ; from age to age.
 پیری perí, پےڑی, *H. n. f.* The trunk of a tree ; a kind of betel-leaf ; the indigo plant after being once cut. لگانا پیری—lagán, a rate paid by cultivators to zamindars for the use of fruit trees.
 پیرار paizár, *P. n. f.* A slipper ; a shoe. پیرار پیرار کھانا—kháná, *v.* to be beaten with shoes (often used as پیرار چرتا jútá paizár). پیرارا paizará paizáři, *n. f.* mutual fighting with slippers. پیرارا خور paizará khor, deserving to receive a shoe-beating ; mean ; base. پیرار سے—se, my shoes care ! I care not (*balá se ; jute ko bhi parwa nahin*).
 پیرزنہ pezna, *P. n. m.* A sieve.
 پیس pes, *P. n.* Leprosy.
 پیسا paisá, پیسا, *H. n. m.* A copper coin ; pice ; money ; wealth. پیسا اڑانا—uráná, *v.* to spend money extravagantly ; to make away with the money of another. لگانا پیسا—lagáná, *v.* to lay out or expend money (upon). پائسیرال paisewálá, wealthy ; worth one pice.
 پیسنہ písná, پیسنہ, *H. v.* To grind ; to bruise ; to powder ; to gnash (the teeth).
 پیش pesh, *P. n. m.* Front ; forepart ; the vowel point ; *adj.* advanced ; promoted ; *adv.* before,

ازیں—azín, *adv.* before this ; formerly ; heretofore. آنا پیش—áná, *v.* to come before ; to step forward ; to happen ; to behave , to treat. پیش اندیش—andesh, looking to the future ; prudent. پیدش بند—band, *n.* a strap from a horse's head to the girth under his belly and passing between the forelegs to prevent him from rearing. پیدش بندی—bandi, *n. f.* foresight ; timely preparation. پیش بین—bin, *adj.* prudent ; circumspect. پیش جانا—jáná, *v.* to go forth ; to have effect. پیش خیمہ—khema, *n. m.* a tent or other baggage sent on before (*laindori*) ; a forerunner ; harbinger. پیش دالان—dálán, vestibule ; porch. پیش دستی—dastí, *n. f.* the being or paying beforehand ; anticipation. پیش دست—dast, excelling ; outstripping an assistant (in office). پیش دستی کرنا—dastí karná, to make haste ; to take lead. پیش رو—rau, *n. m.* forerunner ; a leader ; the advanced guard. پیش قبض—qabz, *n. m.* a dagger. پیش قدمی—qadmí, *n. f.* stepping before or forwards ; outstripping ; leadership ; invasion. پیش قدمی کرنا—qadmí karná, *v.* to go before ; to take the first step ; to go in advance ; to push forward. پیش کرنا—karná, *v.* to produce ; to present ; to submit ; to propose. پیش گاہ—gah, *n. f.* the foremost place ; the front. پیش گوئی—goi, prediction. پیش نظر—nazar, object ; prospect. پیش نماز—namáz, a leader at prayer ; an *imám*.
 پیشاب پشہاب, *H. n. m.* Urine ; piss. پیشاب کرنا—karná, to make water.
 پیشانی peshání, *P. n. f.* The forehead ; brow ; fate ; heading ; title. [to .
 پیشتر peshtar, *P. adv.* Before ; formerly ; prior
 پیشکار peshkár, *P. n. m.* Agent ; manager ; assistant ; sarishtedar.
 پیشکاری peshkári, *P. n. f.* Agency ; deputyship.
 پیشکش peshkash, *P. n. f.* A present (*salámi*) ; a tribute. [earnest-money.
 پیشگی peshgi, *P. n. f.* An advance of money ;
 پیشوا peshwá, *P. n. m.* A leader ; a priest ; a guide ; the head of a party ; the chief of a religious sect ; a title of the Marhatta minister,

پیشوا peshwā, P. n. f. A female dress ; gown of dancing girl.

پیشوائی peshwāi, H. n. f. Guidance ; leadership ; the reception of a visitor or guest. کرنا پیشوائی —karnā, to receive ; to welcome.

پیشہ pasha, P. n. m. Trade ; profession ; calling ; avocation ; office ; custom ; practice ; habit. ور پیشہ —war, n. m. An artisan ; workman ; tradesman.

پیشی peshī, P. n. f. Presence ; trial ; advance ; coming before ; being brought forward.

پیشین peshin, P. adj. Ancient ; former. پیشینگوئی —goī, foretelling ; prediction.

پیشناں paigār, P. n. m. A ditch ; furrow.

پیغام paigām, P. n. m. Embassy ; a message ; mission ; news ; advice. [prophet ; an envoy.

پیغامبر paigambar, P. n. m. A messenger ; a paik, P. n. m. A courtier ; a messenger ; a runner ; an express.

پیک pik, पीक, H. n. f. The juice of the betel-leaf chewed and spit out. پیکدان —dān, n. m. a spitting pot ; spittoon (ugaldān). پیک —n. m. The Indian cuckoo.

پیکار paikār, P. n. f. Battle ; contest ; war.

پیکان paikān, P. n. m. The head of an arrow ; any pointed missile.

پیکر paikar, P. n. f. Face ; countenance ; appearance ; portrait (used in compds.) as, پری پیکر pari—fairy-faced.

پیل pil, P. n. m. Elephant ; the bishop in chess.

پیلبان —bān, an elephant-keeper. پیلبانی —bānī, n. f. the office of an elephant driver. پیل بند —band, n. f. the mutual support of a bishop and of pawns at chess. پیل دندان —dandān, ivory. پیل مرغ —murg, turkey (peru). پیل پا —pā, elephantiasis. پیل پایا —pāyā, a pillar ; a column. پیل تن —tan, gigantic ; huge.

پیل pel, H. n. m. Shove ; push ; n. f. abundance ; plenty (reipel). پیلانا —nā, to shove ; to press ; to thrust ; to impel ; to stuff ; to crush.

پیل پیلá, पीला, H. adj. Yellow ; pale.

پیلá, H. n. m. A vessel for measuring grain ; a large (basket).

پیلاپن pilápan, पीलापन, n. m. } H. Yellowness
پیلالی piláli, पीलाई, n. f. }

پیلک pilak, H. n. m. The large black ant ; the Indian oricle (vulgarly called Mango-bird).

پیلار pílu, H. n. m. The name of a tree ; a musical tune.

پیلہ pela, pila, P. n. m. The ball or cocoon which the silk-worm forms round itself. کرم پیلہ kirm—, n. m. the silk-worm.

پیمایا paimá, P. adj. and n. m. Measuring ; measurer (used at the end of comp.) as, سخن ستن —sukhan—, a measurer of words, etc.

پیمان paimán, P. n. m. A promise ; stipulation ; pledge ; a treaty.

پیمانہ paimána, P. n. m. A goblet ; a bowl ; a measure ; a plane scale —پیمانہ بارش —i-bārish, n. m. a rain gauge. عمر کا پیمانہ بھرنا 'umr ká—bharnā, filling the allotted period of life ; to die.

پیمایش paimáyish, P. n. f. Measurement ; survey. پیمایش بندوبست —i-band-o-bast, settlement ; a khasrá survey. پیمایش کمپاس —i-kampás, trigonometrical survey. پیمایش کنندہ —kuninda, a surveyor. پیمایش مال —i-mál, revenue survey. پیمایش و آزمایش —o-ázmáish, gauge and proof (of liquor.)

پیمک paimak, H. n. f. Gold or silver lace.

پینا painá, पैना, H. adj. Sharp ; pointed ; n. m. a goad (for oxen, etc.)

پینا piná, पीना, H. v. To drink ; to imbibe ; to quaff ; to smoke ; to suck ; to absorb ; to suppress one's feelings. n. m. Dregs of linseed, etc. ; the oil-cake.

پینالا painálá, पनाला, H. n. m. A spout ; drain.

پینانا paináná, H. v. To sharpen.

پینتالیس paintális, पैंतालीस, H. adj. Forty-five.

پینتانا paintána, पैताना, H. n. m. The foot part of a bed or tomb.

پینتارا paintará, H. n. m. Flourishing about before cudgelling ; the preparatory poses or movements of wrestler.

paintís, पैतीस, H. *adj.* Thirty-five.

painṭh, पैठ, H. *n. f.* A mart; a market (*hát*).

painjan, पैजन (पायल) } H. *n. f.* An ornament with little
paujní, } bells fastened round the feet of pigeons and children.

painch, H. *n. f.* A peacock's tail.

painchná, H. *v.* To sift; to winnow (*pachhorná*). [bottom.

pendá, pendí, पैदा-पैदी, H. *n. m.* The

paingá H. *n. m.* A path. पैंग مارنا paingá márná, to stop a road; to rob on the high road. [kind of boat; pinnacle.

pinas, H. *n. f.* A palanquin; a litter; a

pinas, P. *n. m.* A nose disease; ozæna.

painsath, पैसठ, H. *adj.* Sixty-five.

pinak, पिनाक, H. *n. f.* Drowsiness or nodding from opium.

peng, पैंग, H. *n. f.* The act of swinging very high by one's own exertions. पैंग-لینا lená, *v.* to swing very high.

painí, पैनी, H. *adj.* Sharp. *n. f.* (Dim. of *paina*) a goad.

paiwast, P. *adj.* Joined.

paiwastgi, P. *n. f.* Junction; adhesion; union; closeness; attachment.

paiwasta, P. *adj.* Joined; contiguous; absorbed; inseparable; sticking close. पैوسته-اوبرú, *v.* whose eyebrows meet.

peosí, पेयोसी, H. *n. f.* Coagulated milk in the udders of newly-calved cow.

paiwand, P. *n. m.* A patch; junction.

kárf, P. *n. f.* patching; cobbling; addition; grafting. पैگاند لگانا lagáná, *v.* to patch; to graft.

paiwandí, P. *adj.* Patched; grafted; *n. m.* an engrafted tree. पैواندی گدری gudrí, a gabardine.

pih, P. *n. f.* Grease; tallow.

píhar, पीहर, H. *n. m.* The wife's father's house (*maika*).

paiham, P. *adj.* Close together; successively; thick.

pihu, H. *n. m.* A flea.

payá, H. *n. m.* An allowance of half an anna on each rupee of revenue set apart for the *patwari*. [manteau.

pei H. *n. f.* A box; chest; a small port-

(ت)

te, in Arabic called ta, is the third letter of the Arabic and the fourth of the Persian alphabet. According to abjad it stands numerically for 400.

tá, P. *adv.* To; until; as far as; whilst; as long as; since; in such a manner that; *intj.* Behold! look! beware! in order that. تا بزیست bazist yá-dam-i-zist, while life remains. تا کجا ba-kujá, whither? how far? till when? تا کجے bakai, to what extent? till what time? how much? تا چند بار chand bár, how often? تا حال hál, till now; yet; hitherto. تا به قدر ba-maqdúr, to the utmost of one's ability. تا هم hám, yet; nevertheless; still. تا هنوز hanoz, *adv.* yet; still; hitherto; till now; till.

táb, P. *n. f.* Lustre; heat; power; pain; endurance; contortion; curl; *adj.* burning; shining; folding. تاب تلی tillí, H. *f.* enlargement of the spleen. تاب دار dár, *adj.* bright; warm; curling. تاب دینا dená, to inflame; to polish; to twist. تاب نه رهننا na rahná, to be unable to bear; to be powerless. تاب لانا láná, *v.* to bear; to endure; to muster strength. تاب و طاقت o táqat, *n. f.* ability; power.

tábá, P. *n. m.* A frying-pan. [shining; hot.

tábán, P. *adj.* Splendid; glittering;

tábdán, P. *n. m.* A sky-light; lattice; window.

tábartor, تابرتور, H. *adv.* Successively; one after another; forthwith. [weather.

tábistán, P. *n. m.* Summer; hot

tábish, P. *n. f.* Heat; splendour; grief; sorrow; submission.

تابع *tábe'*, A. *adj.* Subordinate ; dependent upon ; loyal ; subject, to ; in obedience to. تابعدار—*dár*, *adj.* obedient ; loyal ; *n.* follower ; servant. تابعداری—*dári*, *n.* *f.* obedience ; submission ; dependence. کرنا—*karná*, *v.* to control ; to subject.

تابعین *tába'in*, A. *n. m.* Followers ; attendants (esp. the successors of the companions of Muhammad or their contemporaries whose sayings regarding prophet form part of the *sunnat*).

تابناک *tábnák*, P. *adj.* Bright ; hot ; passionate. تابنده *tábinda*, P. *adj.* Shining.

تابوت *tábút*, A. *n. m.* A coffin ; a bier. گار—*gar*, *n. m.* an undertaker ; a coffin-maker.

یوں ہاتھ نہ تھا میں جو گرتے بندے معبود

تابوت کو دینا ہو جو کاندھا تو ہیں موجود

(میر انیس)

Yun háth na thámen jo gire banda-i-

Ma'búd,

Tábút ko dená ho jo kándhá to haig maujúd.

تاب *táp*, ताप, H. *n. m.* Warmth ; heat ; fever. تپ—*thand*, *ague*.

تابنا *tápná*, H. *v.* To warm oneself over a fire or in the sun. [venerable.

تات *tát*, तात, S. *n. m.* Father ; darling ; revered ;

تاتپاریہ *tát-paryá*, तातपरी, H. *n. m.* Aim ; pith ; object ; purpose ; drift ; meaning ; explanation.

تاثیر *tássur*, } A. *n. m.* Impression ; effect. تاثیر *tásir*, } کرنا—*karná*, *v.* to affect ; to influence

تاج *táj*, P. *n. m.* A crown ; a cap ; a crest ; diadem ; plume ; comb (of a cock) ; a suit in cards. تاج بخش—*baksh*, an emperor. تاج خروس—*i-khrús*, the comb of a cock (*murg ká kes*) ; the cock's comb flower ; *amaranthus*. تاجدار—*dár*, *n. m.* a crowned head ; a king. سرتاج *sartáj*, *n. m.* a head ; a chief.

تاجر *tájir*, A. *n. m.* A merchant ; a trader.

تاجور *tájwar*, P. *n. m.* A king ; a prince. تاجوری—*i*, *n. f.* sovereignty ; royalty.

تاک *tákh*, P. *n. m.* A veil ; darkness ; firewood.

تاخت *tákht*, P. *n. f.* Assault ; attack ; invasion. تاخت کرنا—*karná*, *v.* to assault ; to ravage.

تاراج و تاخت—*taráj*, *n. m.* depredation ; devastation. تاراج و تاخت کرنا—*taráj karná*, *v.* to ruin ; to depopulate.

تاخیر *tákhir*, A. *n. f.* Delay ; postponement ; procrastination. تاخیر کرنا—*karná*, *v.* to delay ; to procrastinate ; to postpone.

تادیب *tádib*, A. *n. f.* Admonition ; discipline ; correction. تادیب خانہ—*khána*, *n. m.* a reformatory. تادیب کرنا—*karná*, *v.* to instruct ; to discipline ; to admonish.

تار *tár*, तार, H. and P. *n. m.* A thread ; a wire ; a string of a musical instrument ; the warp ; line ; continuation ; letter-file ; the electric telegraph ; telegram. تار باندھا—*bandhná*, *v.*

to continue or repeat an action without interruption. تار تارتار کرنا *tár tár karná v. t.* To

tear to pieces. تار توڑنا—*tútná*, *v.* to be separated ; to be interrupted

تار عنکبوت—*'ánkabút*, *n. m.* cobweb. تار کش—*kash*, *n. m.* a wire-drawer. تار کی خبر—*kí khabar*, telegraphic news. تار گھر—*ghar*, *n. m.* a telegraph

office.

تارا *tará*, तारा, H. *n. m.* A star ; planet ; the apple of the eye ; name of Rájá Bali's wife.

تارا توڑنا—*tútná*, a meteor to fall ; a star to shoot. تارا ڈوبنا—*dúbná*, *v.* to set (as a star or planet).

تارے گننا—*ginná*, *v.* to count the stars ; to get no sleep. تارا منڈل—*mandal*, *n. m.* the starry sphere. تارا ہو جانا—*tará ho jáná*, to appear as small as a star ; to attain to a great height. تارا کی آنکھوں کا تارا—*ánkhon ká*—, dear as the apple of eye ; beloved. تاروں کی رات—*tárou-bhari-rát* ; *n. f.* A starry night. تاروں کی چھان—*tároun-ki-chhán* ; *n. m.* Dawn ; day-break.

تاراج کرنا—*taráj karná*, *v.* to plunder ; to devastate.

تاراجی *tárarají*, P. *n. m.* Plunder ; ruin. تاراجی کرنا—*karná*, *v.* to plunder ; to devastate.

تاربارقی *tárbarqí*, P. *n. f.* The electric telegraph ; a telegram.

تارپین *tárpín*, तारपीन, H. *n. m.* Turpentine.

تاریک *tárik*, A. *adj.* Leaving ; abandoning ; relinquishing ; *n. m.* a deserter. تاریک دنیا—

adduniyá, *adj.* abandoning the world ; chaste ;
n. m. an anchorite ; a hermit.

táruk, *P. n. m.* A hill ; heap ; top ; the
crown of the head.

táran, तारण, *S. n. m.* Salvation ; crossing ;
passing one. تارن کرتا—kartá तारण करता, deli-
verer ; saviour.

tárná, तारना, *H. v.* To deliver from sin ; to
exempt from further transmigration.

táru, (तारू), *H. n. n.* The palate.

tári, تاری, *P. n. f.* Darkness, *A. v.* to come un-
expectedly ; to overcome.

tárikh, *A. n. f.* Date ; epoch ; era ; history ;
chronogram. تاریخ چڑھانا—chaháná, *v.* to date ;
to copy the account of any date. تاریخ آغاز
—i-ágáz, the starting point of limitation ;
terminus a quo, تاریخ الهجرة—ul-hijra, the era
of the *Hijra*. تاریخ انقضاء سے مبعود—i-inqzáe
mi'ád, *terminus ad quem* ; the last day of
limitation. تاریخ ماقبل دالنا—i-máqabl dálná,
to antedate. تاریخ مابعد دالنا—i-má ba'd dálná,
to postdate. تاریخ وار—wár, *adv.* according to
date ; daily.

tárik, *P. adj.* Dark ; obscure.

tárikí, *P. n. f.* Darkness.

tár, तार, *H. n. m.* A palm-tree.

tárná, तारना, *H. v.* To understand ; to
perceive ; to make out ; to follow ; to guess ;
to conjecture ; *n. m.* punishment ; penalty ;
reproof ; chastisement. तारना करना—karná, to
rebuke ; to admonish ; to correct.

tári, तारी, *H. n. f.* Palm juice or toddy ;
the hilt of a dagger. तारी वाला—tári walá ;
تاری کاش—tári-kash ; *n. m.* The man who climbs
palmyra trees and extracts the juice or toddy
from them.

tázagí, *P. n. f.* Freshness ; plumpness ;
tenderness ; greenness ; renewal.

táza, *P. adj.* Fresh ; new ; green ; fat ;
happy. تازه—ba—, fresh and blooming.
تازه دم ہونا—dam hcná, *v.* to be refreshed ; to
be in good spirits. تازه کرنا—karná, *v.* to
renew ; to refresh ; to revive. وارد—wárid,
n. m. a new-comer.

tázi, *P. adj. and n. m.* Arabian ; fast run-
ning ; an Arab horse or dog. تاری خانہ—khána,
n. m. a dog-kennel.

táziyána, *P. n. m.* A whip ; flogging.
تازیانہ مارنا یا لگانا—márná, yá lagáná, *v.* to
whip ; to flog.

tázik, *P. n. m.* A horse of mixed breed.

tássuf, *A. n. m.* Grief ; regret ; remorse.
تأسف کرنا—karná, *v.* to regret ; to lament ; to
sigh over. [gold foil.

tásh, تاش, *H. n. m.* Brocade ; playing cards ;

tásha, *H. n. m.* A semi-spherical drum.

tág, *P. n. m.* The poplar ; a pomegranate ;
an ensign-staff.

táfta, *P. n. m.* A kind of silk ; a glossy
cream colour in pigeons and horses.

táqí, *T. adj.* Defective horse having
eyes of two different colours.

ták, تاک, *H. n. f.* Look ; glance ; peep ; aim ;
look out ; pointing (dog). تاک لگانا—tak
lagáná, —men rahná, to be on the look
out for ; to lie in wait for.

ták, *P. n. f.* A vine ; grapes.

tákná, *H. v.* To look at ; to stare at ; to
watch ; to peep ; to lie in ambush.

táki, *P. conj.* In order that ; so that.

tákíd, *A. n. f.* An injunction ; stress ; em-
phasis ; pressure. تاکید کرنا—karná, *v.* to enjoin
strictly ; to urge ; to press ; to lay stress on.

tákídán, *A. adj.* Emphatically ; positively ;
strictly ; as a reminder.

tákídí, *A. adj.* Emphatic ; urgent ;
positive ; peremptory.

tágá, تاجا, *H. n. m.* Thread ; cord. تاجا پورنا
—pironá, *v. i.* to thread a needle. تاجا توری—tor,
lace ; fringe. تاجا دالنا—dálná, to put stitches
in a quilt, &c.

tágná, *H. v.* To thread.

tál, ताल, *H. n. m.* Beating time ; musical
time or measure ; clapping the hands together ;
a pair of cymbals ; a pond ; tank ; lake.
ताल دینا—dená, *v.* to chime. تال دھونا—
thokná, to strike the hands against the arms pre-

paratory to wrestling. تال سے بے تال ہونا—*se be tál honá*, *v.* to be out of tune.

تالا *tálá*, ताला, H. *n. m.* A lock. تالا توڑنا—*toṛná*, *v.* to break open a lock; to break into a house.

تالا لگانا—*lagáná*, *v.* to lock; to put a padlock on.

تالاب *táláb*, तालाब, P. and H. *n. m.* A tank; a pond; a pool.

تاللم *tállum*, A. *n. m.* Pain; torment; sorrow; melancholy. [herb; fruit of the lotus.

تال ماکھانا *tál-makháná*, H. *n. m.* A medicinal plant. تال تالور *tálú*, तालू, S. *n. m.* The palate; the lampreys. تالور اٹھانا—*uṭháná*, to raise the nuala of a newborn infant. تالو سے (ان نہ لگانا) —*se zubán na lagáná*, to talk endlessly.

تالی *táli*, ताली, H. *n. f.* A key; clapping of the hands together. تالی بجانا—*bajāná*, *v.* to clap the hands (in delight). تالی پیتنا—*piṭná*, to clap the hands by way of censure and ridicule. تالی ایک ہاتھ سے *ek háth se*—*nahín bajtí*, it takes two hands to clap; (*met.*) it takes two to make a quarrel.

تالیف *tálif*, A. *n. f.* Compilation; composition; reconciling. تالیف قلوب—*i-qúlúb*, art of winning hearts; uniting hearts in friendship. تالیف کرنا—*karná*, *v.* to compile; to compose.

تالیقا *táliqa*, A. *n. m.* A catalogue; an inventory.

تاما *támá*, } H. *n. m.* Copper. تامچینی *tám*
تاما *támá*, } *chini*, enamelled copper.

تامبول *támbol*, ताम्बूल, S. *n. m.* Betel-leaf. تامبولی —*í*, a betel-seller.

تام جھام *tám jhám*, ताम ज्जाम, H. *n. m.* A native conveyance with two poles fixed to both ends carried over two men's shoulders.

تامبر *támbrá*, ताम्बरा, H. *n. m.* A copper-coloured gem; a pigeon; a bald head.

تامس *támas*, तामस, S. *n. m.* Anger; darkness; irascibility.

تاملم *támmul*, A. *n. m.* Hesitation; delay; disinclination; irresolution; suspense; doubt; reflection; consideration. تامل کرنا—*karná*, *v.* to consider; to reflect. [A tumbler.

تاملمت *támleṭ*, H. *n. m.* (*Corr. from the English*)

تامسوار *támeswar*, H. *n. m.* Calx of copper.

تان *tán*, तान, S. *n. f.* A tune; the keynote; tension; knitting (the eyebrow). تان آڑنا—*uṛáná*, تان توڑنا—*toṛná*, to strike up a tune; to beat time.

تانا *tána*, ताना, H. *n. m.* The warp; the threads that are extended lengthwise up on a loom. تانا بانا—*báná*, warp and woof. [assay.

تانا *táná*, H. *v.* To heat; to melt; to test; to

تانبہ *tánbá*, तांबा, H. *n. m.* Copper.

تانت *tánt*, तंत, H. *n. f.* Catgut; sinew; the string of a bow or musical instrument. (*Prov.*) تانت باجی راک برجھا—*tánt bájí rág bújhá*, 'He understood from the first word.'

تانتا *tántá*, ताँता, H. *n. m.* A train; a row; series; line.

تانسنا *tánsná*, H. *v.* To threaten; to menace; to treat with severity.

تانگا *tángá*, ताँगा, H. *n. m.* A small two-wheeled open cart on which one person only can sit; a tonga.

تانا *tánna*, तानना, H. *v.* To stretch; to expand; to knit (the brow); to string up; to tighten; to lie in full length. تانبو تاننا—*tambú*—, *v.* to pitch tents.

تانیس *tánís*, A. *f.* The feminine gender.

تاؤ *táo*, P. *n. m.* Heat; passion; assay; sheet of paper; power; splendour; speed; twist; roll; fold. تاؤ دینا—*dená*, *v.* to twist; to heat; to melt; to fuze; to curl the moustache, etc. تاؤ کھانا—*kháná*, *v.* to be overheated; to be made red hot; to be enraged. [brother; paternal uncle.

تاؤ *táú*, ताऊ, H. *n. m.* The father's elder

تاوان *táwán*, P. *n. m.* Penalty; fine; damages; compensation. تاوان لگانا—*lagáná*, *v.* to fine; to amerce. تاوان دلانا—*diláná*, *v.* to adjudge damages. تاوان دینا—*dená*, *v.* to pay penalty; to make amends. [paraphrase; interpretation.

تاویل *táwíl*, A. *n. f.* Explanation; elucidation;

تاهری *táhrí*, ताहरी, H. *n. m.* A salted dish of rice cooked with turmeric.

تاهم *táham*, P. *Conj.* Still; yet; nevertheless; notwithstanding.

تائی *tái*, ताई, H. *n. f.* An aunt; a paternal uncle's wife; an earthen frying-pan.

تایب *táib*, A. *part.* Repentant ; penitent.
 تائید *táid*, A. *adj.* Strengthening ; corroborati-
 on ; confirmation ; aid ; help ; support.
 تائید دعویٰ — *da'wa*, *n. m.* support of claim.
 تائید کرنا — *karná*, *v.* to help ; to support ; to
 corroborate ; to second. شہادت تائیدی *shahádati-*
táidí, corroborative evidence.
 تب *tab*, तब, H. *adv.* Then ; at that time ; after-
 wards. تب تک — *tak*, *adv.* till then ; until. تب سے —
bhi, *adv.* still ; nevertheless. تب سے — *se*,
adv. since that time ; thence. تب ہی سے — *hi se*,
 thenceforth. تب ہی تو — *hi to*, whence, where-
 fore ; then indeed. تب ہی — *hi*, at the very
 moment ; then and there.
 تبار *tabár*, P. *n. m.* Nation ; family.
 تبارا *tibará*, तिबारा, } H. *adj.* Thrice, *n. m.* a
 تبارہ *tibára*, तिबारा, } hall or room with three
 doors.
 تباہی *tibási*, तिबासी, H. *adj.* Three days' stale.
 تاباشیر *tabáshir*, P. *n. f.* A medicinal sugar
 found between the joints of a bamboo
 (*banslochan*).
 تباہ *tabáh*, P. *adj.* Bad ; ruined ; wretched.
 تباہ حال — *hál*, *adj.* ruined ; miserably poor or
 low.
 تباہی *tabáhi*, P. *n. f.* Destruction ; ruin.
 تباہی زدہ — *zada*, *adj.* ruined ; distressed.
 تباہین *tabáin*, A. *n. m.* Difference.
 تبدل *tabaddul*, *n. m.* } A change ; alteration.
 تبدیل *tabdil*, *n. f.* } تبدیل کرنا — *karná*, *v.* to
 change ; to alter ; to transfer. تبدیل مکان —
makán, migration. تبدیل آب و ہوا — *áb-o-hawá*,
n. f. change of climate.
 تبار *tabar*, P. *n. m.* An axe ; a hatchet. تبار بردار —
bardár, an axe-bearer. [woodcutter.
 تبارزان *tabarzan*, P. *n. m.* A hatchet man ; a
 تبارزین *tabazín*, P. *n. m.* A horseman's battleaxe.
 تبارا *tabarrá* ; A. *n. m.* Curse ; malidiction.
 تبرع *tabarra'*, A. *n. m.* Giving gratuitously ;
 doing anything disinterestedly or voluntarily.
 تبرک *tabarruk*, A. *n. m.* Sacred relics ; benedic-
 tion (*prasad*).
 تبرید *tabrid*, A. *n. f.* Cooling ; a cooling and
 refreshing drink.

تبسم *tabassum*, P. *n. m.* A smile.
 تبصر *tabassur*, A. *n. m.* Attentive considera-
 tion ; distinct Perception.
 تبلیغ *tablig*, A. *n. m.* Propagandism. تبلیغ کرنا —
karná, *v. t.* to propagate.
 تبنچہ *tabancha*, T. *n. m.* A pistol. تبنچہ مارنا —
márná, to fire a pistol.
 تبانی *tabanni*, A. *n. f.* Adoption. تبانی نامہ —
tabniyat-námá, a deed of adoption.
 تبہی *tabhi*, तभी, H. *adj.* At that very time.
 تبہی سے — *se*, *adv.* thenceforth.
 تپ *tap*, तप, S. *n. m.* Devout austerity ; ascet-
 icism ; penance. تپ کرنا — *karná*, to do penance.
 تپ *tap*, P. *n. f.* Fever. تپ اُترنا — *utárná*, *v.* to
 go off (a fever.) تپ دق — *i-diq*, a hectic or
 chronic fever ; pulmonary consumption. تپ لرزہ —
i-larza, *n. m.* an ague. تپ کا موت جانا — *ka*
mút janá, the breaking out of an eruption on
 the lips after a fever. تپ محرق — *i-mohriq*,
 an ardent burning fever. تپ نوبت — *i-naubat*,
 intermittent fever.
 تپاک *tapák*, P. *n. m.* Apparent cordiality ;
 esteem ; regard ; zeal ; consternation ;
 palpitation. [test metals.
 تپانا *tapáná*, तपाना, H. *v.* To heat ; to warm ; to
 تپاوان *tapáwan*, H. *n. m.* A libation.
 تپائی *tipái* तिपाई, H. *n. m.* A tripod ; a teapoy ;
 a trivet. [a devotee ; a *jogi*.
 تپسی *tapassi*, तपसी, H. *n. m.* An ascetic ;
 تپسیا *tapassá*, तपस्या, S. *n. f.* Devotion ;
 religious penance.
 تپش *tapish*, P. *n. f.* Heat ; palpitation ; warmth.
 تپک *tupak*, P. *n. f.* A musket. تپکی — *tupakhi*,
n. m. a musketeer ; a rifleman ; a gunner.
 تپک *tapak*, तपक, H. *n. f.* Throb ; palpitation.
 تپکنا *tapakná*, H. *v.* To throb ; palpitate.
 تپنا *tapná*, तपना, H. *v.* To be heated ; to shine.
 تپیدن *tapidan*, P. *inf. n.* Growing hot, agita-
 tion ; tremour.
 ت *tat*, H. (S. तत्व, *tatwa*), *n. m.* An element ;
 the essence ; result. ت پر — *par*, *adj.* intent
 on ; eagerly engaged in. ت چھن — *chhan*, *adv.*
 instantly. ت کال — *kál*, *adv.* the same time ;
 forthwith.

تاتار tatar, *n. f.* Pouring of warm water on a diseased part; fomentation; embrocation. تاتارنا tatárna, *v.* to embrocate; to foment.

تاتبی tatabu', *A. n. n.* Following; imitation; pursuing; exploring. [here and there.

تاتر bitar, *H. adj.* Dispersed; scattered; scattered.

تاتلانا tutlána, तुतलाना, *H. v.* To lisp; to speak indistinctly as a child; to stammer; to stutter.

تتلی titli, तितली, *H. n. f.* Butterfly.

تتیمبا titimbá, तिटिम्बा, *H. n. m.* Obstacle; plot; impediment; stratagem. *بکھرا* (bakhera).

تتیمما tatimma, *P. n. m.* A supplement; an appendix; continuation. خط. *تتمه*—khat, postscript of a letter. وصیت نامہ. *تتمه*—wasiyatnáma, supplement to a will. [tion.

تتمیم tatmím, *A. n. f.* Completion; consummation.

تتھہ tith, तिथि, *H. n. f.* A lunar day; a date.

تتھا tathá, तथा, *S. adj. and conj.* So; thus; in that manner. *پہ*—pi, yet; even; nevertheless; still. [with a spout.

تتھئی tuthá, तुतई, *H. n. f.* A small earthen pitcher

تتھیا tataiyá, ततइया, *H. n. m.* A wasp.

تتہ tať, तट, *S. n. m.* A bank; shore.

تتھیک taslis, *A. n. f.* Trinity; dividing into three parts; a trine (the aspect of the planets).

تتھیا tasniya, *A. n. m.* (Used adjectively) The dual (number); dualizing; doubling.

تتھار tujjár, *A. n. m.* Merchants.

تتھارت tijárat, *A. n. f.* Trade; traffic. *کرنہ* تجارت karná, *v.* to trade. *گاہ*—gáh, *n. f.* place of trade or commerce. *گاہ عالی*—gáh-i-ali, emporium.

تتھارتی tijáratí, *P. adj.* Mercantile; commercial.

تتھاری tijárí, तिजारी, *H. n. f.* Remittent fever occurring every third day; tertian ague.

تتھارز tajávuz, *A. n. m.* Transgression; deviation; exceeding one's authority; departing from. *کرنہ* تتھارز karná, *v.* to deviate; to exceed; to pass beyond. *تتھارز اختیار سماعت*—i-ikhthiyár-i-samát, to exceed jurisdiction; to act ultra vires.

تتھال tajáshul, *A. n. m.* Pretended ignorance; connivance. *کرنہ* تتھال karná, to feign or affect ignorance.

تجدید tajdíd, *A. n. f.* Renewal; novelty.

تتھربہ tajarba, *A. n. m.* Trial; experiment; test. *کار*—kár, *adj.* experienced; versed in; conversant *کاری*—kárí, *n. f.* practical knowledge; experience. *کرنہ*—karná, *v.* to experience; to make trial of.

تتھاررد tajarrud, *A. n. m.* Solitude; celibacy; cutting oneself off from society.

تتھاززی tajazzi, *A. n. f.* Analysis; separating into small pieces.

تتھاسس tajassus, *A. n. m.* Search; inquiry; spying; inquisitiveness; investigation. *کرنہ*—karná, to search diligently; to explore; to pry into.

تتھالی tajallí, *A. n. f.* Brightness; lustre; clearness; splendour. *بخش*—bakhsh, rendering bright or glorious. *Plur.* تتھالیات tajalliyát, illuminations; beatific visions.

تتھامول tajammul, *A. n. m.* Pomp; dignity; magnificence; conveniences. *Plur.* تتھامولات tajammulát, articles of luxury; movables.

تتھانہ tajná, तजना (त्यागना) *H. v.* To leave; to quit; to divorce; to give up.

تتھانوب tajannub, *A. n. m.* Avoiding; shunning; desisting from.

تتھانیس tajnís, *A. n. f.* Resemblance; analogy; alliteration. *خطی*—khattí, *n. f.* a kind of equivoque in writing; writing words alike which are pronounced differently, as, *pal, pil, pul* in the following couplet:—

یہ نہو دریا کہ جس سے گذرے پل باندہ کر
مرج چشم عاشقان دے توڑ پل میں پل کے پل
(سردا) —

Yih na ho daryá ki jis se guzre pul bándh kar, Manj chashme 'áshiqán de to; pal men pil ke pul.

This is not a river that you can cross by means of bridge; the waves that arise from the eyes of lovers would demolish a bridge in a moment by their shock.

تتھاریز tajvíz, *A. n. f.* Deliberation; view; opinion; sentence; judgment; finding; plan; estimate; proposal; trial; examining. *کرنہ*—karná, *v.* to decide; to give judgment; to

choose ; to pass sentence. **sání**—تجرویز ثانی، *n. f.* revision ; fresh trial ; a review of judgment. **zer-i**—تجرویز زیر، under trial. **akhr**—تجرویز آخر، *i-amr wáqe'*, a finding of fact. **amr qánúní**—تجرویز امر قانونی، a finding on a point of law, **i-jaddid**—تجرویز جدید، *retrial ; trial de-novo.* **i-subút jurm**—تجرویز اثبوت جرم، determination of guilt. **kharcha**—تجرویز خرچہ، an award of costs. **rúedádí**—تجرویز روئدادی، a decision on merits. **talab**—تجرویز طلب، the question at issue. **i-muttafiqa**—تجرویز متفقہ، concurrent judgment. **muta'lliq zát**—تجرویز متعلق ذات، judgment *in personem.* **muta'alliq shai**—تجرویز متعلق شے، judgment *in rem.* **yaktarfa**—تجرویز یکطرفہ،

tujh، तुज्ज, *H. pron.* Thee ; thine.

tujhe، तुज्जे, *H. pron.* To thee.

tajhíz-o-takfín، تاجھیز و تکفین، *A. n. f.* Burial obsequies ; funeral rites and ceremonies.

tachná، तचना, *H. v.* To be heated ; to be parched.

tuchh، तुच्छ, *S. adj.* Good for nothing ; worthless ; despicable ; low ; vile. **jánna**—تجھہ جاننا، *to hold light of ; to consider of no account.*

taháif، تھایف، *A. n. m.* Rarities ; presents.

taht، تھت، *A. n. m.* The interior part ; possession ; charge ; control ; *prep. and adv.* beneath ; in subjection to. **us-sará**—تھت اٹرا، *n. m.* under the earth ; the nether regions' **tahte-sh-shuá**—تھت الشعاع، *n. m.* change of the moon, conjunction with the sun. **tasarruf**—تھت فرمان، *subjection ; dominion.* **hukúmat**—تھت حکومت، *jurisdiction.* **lafzi**—تھت لفظی، *literal ; verbal.* **men áná**—تھت میں آنا، *to come under the authority* **men rakhná**—تھت میں رکھنا، *v. to keep under.* **men láná**—تھت میں لانا، *to conquer ; to subjugate.* **tahtí**—تھتی، *noted below.* **da'f'a tahtí**، دفعہ تھتی، *sub-section.*

tahzir، تھزیر، *A. n. f.* A threatening ; cautioning.

tahrnk، تھرنک، *A. n. m.* Movement ; agitation.

tahrír، تھریر، *A. n. f.* A writing ; composition ; fee for writing ; document ; lines ; tracery ;

painting ; manumission. **uqlaidis**—تھریر اولیدس، *n. f.* Euclid's elements. **bainus-sutúr**—تھریر بین السطور، *writing between lines ; an interline execution of a bond.* **i-zahrí**—تھریر ظہری، *endorsement ; writing on the back.* **tahríri**—تھریری، *documentary.* **tahríran**، تھریرا، *in writing ; by writing.* **karná**، تھریر کرنا، *v. to write ; to record.* **honá**، تھریر ہونا، *v. to be written.*

tahris، تھریس، *A. n. f.* Making greedy ; inciting ; stimulation.

tahrif، تھریف، *A. n. f.* Transposition of letters or words ; an anagram ; clerical error ; deliberate alteration of a word so as to change its meaning.

tahrík، تھریک، *A. n. f.* Movement ; encouragement ; instigation ; motion. **karná**، تھریک کرنا، *v. to urge ; to instigate ; to move ; to excite ; to put in motion.*

tahríma، تھریمہ، *P. n. m.* The saying *Allah-o-Akbar*, in the beginning of the prayer ; assumption of a pilgrim's garb.

tahs nahs، तहस-नहस, *H. adj.* Ruined ; destroyed ; dispersed ; overthrown.

tuhsín، तुहसिन, *A. n. f.* Approbation ; applause ; cheers ; rendering comely. **talaffuz**—تھسین تلفظ، *euphony.* **karná**، تھسین کرنا، *v. to approve ; to praise.*

tahsil، تھسیل، *A. n. f.* Gain ; acquisition ; collection ; the revenue jurisdiction of a *tahsil* or subordinate collector. **tahsilná**—تھسیل کرنا، *to acquire ; to gain ; to collect* **malguzári**—تھسیل مالگزار، *n. m.* collection of revenue. **dár**، تھسیلدار، *n. m.* a sub-collector of revenue. **dári**، تھسیلدار، *n. f.* the office, duty, or jurisdiction of a sub-collector **kachchi yá kham tahsil**، تھسیل کچی یا خام، *collections direct from the cultivators.* **qurq-i-tahsil**، تھسیل قرق، *revenue attachment.* **tuhfagí**، تھفگی، *A. n. f.* Excellence ; commendation ; rarity.

tuhfa، تھفہ، *A. n. m.* A curiosity ; rarity ; a present ; *adj.* rare ; uncommon ; nice. **ma'jún**—تھفہ معجون، *a wag ; a wit.* [be fact.

tahaqquq، تھاقق، *A. n. m.* Certainty ; proving to fact. **tahqír**، تھقیر، *A. n. f.* Contempt ; disdain ; scorn.

تھقیق tahqīq, A. n. f. Ascertaining; verification; certainty; fact; truth; *adj.* ascertained; authentic; certain. اهل تھقیق ahil-i—Philosophers; doctors. تھقیقات tahqīqāt n. f. investigation; inquiry. ابتدائی یا ماتیل تھقیقات tahqīqat-i-ibtidāi ya māqabl, Preliminary enquiry or examination. تھقیقات کرنا tahqīqāt karnā, v. to inquire; to investigate. تھقیق کرنا —karnā, v. to ascertain; to inquire into; to investigate; to verify; to make sure.

تھکم tahakkum, A. n. f. Commanding; authority; ruling.

تھلیل tahlīl, A. n. f. Dissolving; digestion; assimilation. تھلیل ہونا —honā, v. to be dissolved; to be digested.

تھمل tahammul, A. n. m. Patience; endurance; humility. تھمل کرنا —karnā, v. to bear; to endure; to be patient; to forbear.

تھمید tahmid, A. n. f. Praising God repeatedly.

تھمیل tahmīl, A. n. f. Loading; importuning; burdening.

تھوار tahauwar, A. n. m. Haste; anger; celerity.

تھویل tahwīl, A. n. f. Charge; care; deposit; cash; capital; revenue-credit; in the charge of; passing of the sun, moon or a planet from one region to another. تھویل تھرف —tasarruf, embezzlement. تھویلدار —dār, n. m. cashier; treasurer. تھویل مجرمین —muḡrimīn, extradition. [congratulation.

تھیات tahiyat, A. n. f. Salutation; greeting;

تھایر tahaiyur, A. n. m. Astonishment; wonder; amazement.

تھارنج tahārūj, A. n. m. Partition of an estate amongst themselves by lawful heirs.

تھالوف tahāluf, A. n. m. Mutual opposition or contention

تھت takht, P. n. m. A throne; a chair of state; beds; seat; تھت —bakht, throne and fortune; wedlock and wealth. تھت پر بیٹھالنا —par baiḡhālnā, v. to enthrone. تھت پر ایٹھونا —par baiḡhnā, v. to sit on the throne; to reign. تھت چھوڑنا —chhoḡznā, v. to abdicate a throne.

تھت رول —i-rawāḡ, n. m. throne on which a king is carried. تھت سے اتارنا —se utārnā, v. to dethrone. تھت گاہ —gāh, n. f. the royal

residence; capital; metropolis. تھت نشین —nashīn, *adj.* reigning; n. m. a king. تھت نشینی —nashīnī, n. f. accession to the throne; coronation. تھت یا تھتہ —yā takhta, either a throne or bier (spoken on engaging in a desperate enterprise).

تھتہ takhta, P. n. m. A plank; a bard; a bench; a sign-board; a sheet of paper; a bed of flowers; dock of a ship; drawbridge. تھتہ تھتہ —bandī karnā, v. to board; to plank. تھتہ مسطح —i-musattah, a plane table; a surveying table.

تھتہ تھتہ takhtī, P. n. f. A small board for children to write on; a small plank; a tablet.

تھتھس تھتھس takhsīs, A. n. f. Peculiarity; particularity; speciality. تھتھس کرنا —karnā, to particularize; to reserve for oneself; to specify.

تھتھف تھتھف takhfif, A. n. f. Diminution; reduction; remission; abatement; abridgement; relief. تھتھف کرنا —karnā, v. to lessen; to reduce; to mitigate; to relax. تھتھف میں لانا —mōḡ lānā, v. to abolish; to retrench; to reduce; to do away with.

تھتھل تھتھل takballus, A. n. m. The *nom de plume* assumed by poets; poetic name.

تھتھلوف takhalluf, A. n. m. Delay; being left behind; going back. [discord.

تھتھل تھتھل taghallul, A. n. m. Dissension; disturbance; تھتھل تھتھل takhlīs, A. n. f. Release; freedom; saving.

تھتھلیا takhliya, A. n. m. Evacuation; privacy; divorce (of a wife); manumission (of a slave).

تھتھم takhm, P. n. m. Seed; an egg; origin.

تھتھم بالنگا —bālangā, n. m. a seed of cooling quality; the seed of the mountain balm. تھتھم رائیہا —i-raihāḡ, n. m. the seed of *Ocimum pilosum*. تھتھم پاشی —pāshī—rezi, n. f. sowing; scattering seed. تھتھم کاهو —i-kāhū, seed of lettuce. تھتھم کتان —i-katān, linseed.

تھتھمہ takhma, A. n. m. Indigestion; dyspepsia.

تھتھمیر takhmīr, A. n. f. Fermentation; forming into leaven.

تھتھمیناً takhminān, A. *adv.* By guess; at a guess; conjecturally; nearly; about; approximately.

takhmína, A. n. m. Valuation; estimate; surmise; conjecture; appraisalment.

takhwif, A. n. f. Putting in fear; in threat; intimidation. تخریف مجرمانہ—mujrimána, criminal intimidation. [suspicion.

takhaiyul, A. n. m. Fancying; supposing; تخایل

takhaiyum, A. n. m. Pitching a tent or tents. [insertion; intermixture

tadákhl, A. n. m. Mutual entrance or داخل

tadárúk, A. n. m. Reparation; redress; chastisement; punishment; remedy; management. تدارك كونا—karná, v. to inflict punishment; to take precautions; to provide against.

tadáwal, A. n. m. Tradition; handing from one to another. [healing medically.

tadáwí, A. n. f. Treating one's self; تادوي

tadbir, A. n. f. Management; plan; policy; opinion; device; counsel. تدبير سلطنت—i-saltanat, n. f. politics. تدبير فاسد—fásid, a vicious plan; a plot. تدبير معاون اجرا—mu'awan-i-ijrá, a step in aid of execution.

tidará, تيدارا, H. n. m. A house with three doors; three-doored.

tadarv, P. n. m. A cock pheasant. تادرو

tadrij, A. n. f. Gradation; scale. تدریج با—, adr. by degrees; gradually.

tadrís, A. n. f. Lecturing. تدریس

tadfin, A. n. f. Burial; interment. تدفین

tidhárá, تيدھارا, H. n. m. The meeting of three streams.

tazabzub, A. n. m. Commotion; agitation; wavering; ambiguity; perplexity; uncertainty; doubt. تاذذب

tazkira, A. n. m. Remembrance; a memoir; biography. تذكيرات المشاهير—tazkirát-ul-mu-shahír, n. f. memoirs of eminent men.

tazkir, A. n. f. Masculine gender; bringing to memory. [humiliation.

tazlil, A. n. f. Degrading; abasement; تاذليل

tazhib, A. n. f. The art of gilding; illumination (of manuscripts.) تاذھيب

tar, P. adj. Moist; wet; saturated; juicy; fresh; greasy; rich; refreshed. تار بتر—batar, adj. completely wet; saturated; covered (with

blood). تار كونا—karná, v. to wet; to saturate.

tor-táza, تور تازہ, fresh and moist; ripe and fresh.

turáb, A. n. m. Ground; earth; dust. تراب

taráduf, A. n. m. Consecutiveness; synonym. ترادف

tarrár, تارر, H. adj. Quick; rapid. ترار

tarázú, P. n. f. A pair of scales; a balance. ترازو

trás, त्रास, S. n. m. Alarm; fear. تراس

tirásí, तिरासी, H. adj. Eighty-three. تراسی

tarásh, P. n. f. Cut; form; fashion; make; build; shape; hewing paring; (used at the end of comp. as بیت تراش, image-carver. تراش تراش qalam—, a pen-knife.) تراش تراش—kharásh, n. f. shaping and fashioning; erasures; alteration; elegance in dress.

taráshná, v. To cut; to slice; to shave (the beard); to shape. [save. تراشنا

tirána, تيرانا, H. v. To cause to swim; to تیرانے

tiranwe, تيرنوي, H. adj. Ninety-three. تیرانوي

tarána, P. n. m. Modulation; melody; tune; a kind of song; ballad; symphony. تارانه

taráwat, तरावट, H. n. f. Moisture; humidity; dampness; greenness; juiciness; freshness. تاروات

taráwish, P. n. f. Distillation; dripping; oozing; trickling. تارواش

tráh, त्राहि, S. interj. Mercy! help! تارا تارا كونا—tráh karná, v. to cry out for mercy.

tiráhá, तिराहा, H. n. m. A junction of three roads. تیراھا

tarái, तराई, H. n. m. A strip of land at the foot of a hill; low moist land lying along the bank of a river; marsh; meadow; valley. تارای

tarb, तर्ब, H. n. f. A musical tone. تارب

tarub, P. n. m. A radish. [grave. تارب

turbat, A. n. f. A tomb; a sepulchre; a turbatí, A. adj. Sepulchral. تاربتي

turbad, P. n. m. A purgative Indian root. تاربدي

tarbúz, P. n. m. A water-melon. تاربوز

tribbuj, त्रिभुज, S. adj. and n. m. Three-sided; trilateral; triangle. त्रिभुज

tribhuan, त्रिभुवन, S. n. m. The three worlds, heaven, earth and the infernal regions; the universe. त्रिभुवन

تربیت *tarbiyat*, A. n. f. Education ; training ; instruction ; bringing up. تربیت پذیر *pizir*, docile ; tractable. تربیت کرنا *karna*, v. to educate ; to bring up ; to rear.

تربنی *tribeni*, त्रिवेणी, S. n. f. The confluence of three sacred rivers, specially of the Ganges, the Jamuna, and the mythical underground Saraswati at Allahabad. [contented.]

تربت *tript*, वृत्ति, S. adj. Satiated ; satisfied ;

تربد *tripad*, त्रिपद, S. n. m. A tripod.

تربن *tarpan*, तर्पण, S. n. m. A libation of water to the gods or manes of deceased ancestor ; satisfaction ; satiety ; fulness.

تربن *tirpan* तिरपन, H. adj. Fifty-three.

تربن *turpan*, तुरपन, H. n. f. A kind of stitch ; hemming.

تربنا *turapna*, H. v. To stitch ; to hem.

تربولیا *tripauliyá*, त्रिपौलिया, H. n. m. A building with three doors or gates.

تربھلا *triphalá*, त्रिफला, S. n. m. A medicine composed of three myrobalans *har baheerá and áonlá* (itriphal).

تورت *turat*, तुरत, H. adv. Instantly ; quickly ; hastily. تورت کا *ká*, adj. fresh ; new ; recent. تورت پھرت *phurat*, n. m. quickness ; promptness.

تورتی *turturi*, H. n. f. A kind of horn or trumpet of great length, generally used at funerals, and commonly the coleroon horn.

ترتیب *tartib*, A. n. f. Arrangement ; order ; classification. ترتیب دینا *dená*, v. to arrange ; to set in order ; to classify ; to compose. ترتیب وار *wár*, adj. methodically ; in order. ترتیبی *tartibi*, n. f. a preliminary proceeding ; *pro forma*.

ترجمان *tarjumán*, A. n. m. An interpreter.

ترجمہ *tarjuma*, A. n. m. Translation ; interpretation ; version. ترجمہ کرنا *karna*, v. to translate. ترجمہ لفظی *lafzí*, n. m. a literal translation. ترجمہ نویس *navis*, n. m. translator. ترجمہ بامحاورہ *ba moháwira*, idiomatic translation.

ترجیح *tarjih*, A. n. m. Preference ; superiority ; priority. ترجیح دینا *dená*, to give preference.

ترجیح رکھنا *rakhná*, v. to have precedence over ; to excel ; to surpass.

ترجیح *tarji* ; A. n. f. Causing to return or recur ; receiving back a repudiated wife.

ترجیح بند *tarji'band*, A. n. m. A stanza in which one line recurs at stated intervals.

ترچھا *tirchhá*, तिर्छा, H. adj. Crooked ; oblique ; crosswise ; foppish. ترچھا دیکھنا *dekhná*, v. to squint. ترچھی نگاہ سے دیکھنا *tirchhi nighah se dekhná*, to look angrily at ; to cast unkind looks. ترچھی نظر *tirchhi nazar*, ogle ; side-glance.

ترچھانا *tirchháná*, तिरछाना, H. v. To slant ; to place transversely or obliquely ; to be perverse ; to be foppish. [sediments.]

ترچھاٹ *tarchhaṭ*, तरछट, H. n. f. Dregs ; ترچھیانا *tirchhiyáná*, तिरछियाना, H. v. To go obliquely. [compassion.]

ترجم *tarahhum*, A. n. m. Mercy ; pity ; kindness ;

ترخیم *tarxím*, A. n. f. Abbreviation ; (*Gram.*) apocope ; contraction.

تردد *traddud*, A. n. m. Anxiety ; care ; wavering ; hesitation ; indecision.

ترددات *taraddudát*, A. n. m. (*Plu. of* ترددات *Taraddud*) Anxious thoughts ; waverings ; exertions. ترددات دنیوی *i-dunyawí*, worldly engagement ; attention to worldly concerns.

تردید *tardid*, A. n. f. Refutation ; rebutment ; reversal. تردید کرنا *karna*, v. to confute ; to refute ; to reverse ; to set aside. [ing.]

تردید *tardif*, A. n. f. The coming after ; follow-

توس *tars*, तरस, H. n. m. Mercy ; compassion. توس کھانا *kháná*, v. to feel pity.

توس *tars*, P. n. m. Terror ; fear.

توساں *tarsán*, P. adj. Fearful.

توسانا *tarsáná*, तरसाना, H. v. To cause to long for ; to tantalize.

توساٹ *tirsath*, तिरसठ, H. adj. Sixty-three.

توسنا *tarasná*, H. v. To long for ; to desire anxiously ; to pity.

توسناک *tarsnák*, P. adj. Terrified.

توسول *trisul*, त्रिशूल, S. n. m. A trident ; a three-pointed pike or spear. [or to come.]

توسوں *tarson*, H. तिसौ, adj. The third day past

تَرْسِيل tarsil, A. n. f. Transmitting ; sending (*irsal*).

تَرْش tursh, P. *adj.* Sour ; acid ; gruff ; ill-tempered. تَرْش رُو—rú, *adj.* stern ; cross ; peevish ; cynical ; surly ; morose. تَرْش مَزَاج—taba',—mizáj, harsh ; sour-tempered ; crabbed
تَرْشَانَا tursháná, v. To turn sour. تَرْشَانَا - تَرْشَانَا turshái, turshí, f. Sourness ; harshness.

تَرْشَا trishá, तृषा, H. n. f. Desire ; thirst

تَرْشَح tarashshuh, A. n. m. Dropping ; a drizzle ; *adj.* manifest ; apparent.

تَرْشَنَا trishná, तृष्णा, S. n. f. Thirst ; desire ; ambition ; avarice.

تَرْشَوَانَا tarashwáná, v. To cause to cut or pare.

تَرْشَه tarshá, P. n. m. A species of fruit.

تَرْسُد tarassud, A. n. m. Hope ; expectation.

تَرْسِيع tarsi', A. n. m. Setting or fixing together ; furnishing or adorning with jewels, &c. ; making the words of a rhyming prose or verse conformable and corresponding in their measure.

تَرْغِيب targhib, A. n. f. Exciting desire ; incitement ; instigation ; inducement. تَرْغِيب دِينَا—dená, v. to persuade ; to induce ; to tempt ; to incite ; to set agog.

تَرْقِيع taraqqí, A. n. f. Promotion ; improvement ; progress ; increase. تَرْقِيع پَانَا—páná, v. to be promoted ; to get promotion ; to rise. تَرْقِيع پَر هُونَا—par honá, to be improving ; to be on the increase. [thinning.

تَرْقِيق tarqíq, A. n. f. Softening ; dilution ;

تَرْقِيم tarqím, A. n. f. Marking (cloth, &c.) ; noting ; writing.

تَرْك turk, A. n. m. A Turk ; a Turkish or a Mohammadan soldier ; a beautiful-faced person ; a barbarian. تَرْك مَزَاج—mizáj, *adv.* ruthless ; cruel ; sly ; of a savage disposition ; n. soldier.

تَرْك tark, A. n. m. Leaving ; abandonment ; desertion ; relinquishment ; omission ; abdication. تَرْك اِدَب—i-adab, n. m. rudeness ; disrespect. تَرْك كَرْنَا—karná, v. to abandon ; to leave ; to omit ; to resign ; to relinquish ; to desist from. تَرْك وَطَن—watan, emigration.

تَرْك tarak, H. n. f. Rafter ; beam.

تَرْك tark, तर्क, S. n. m. A proposition ; logic ; argument ; discussion.

تَرْكَارِي tarkári, H. n. f. Esculent vegetables.

تَرْكَال trikál त्रिकाल, S. n. m. The three tenses—present, past and future ; three times—morning, noon and evening. تَرْكَال دَرْسِي—darsí, the omniscient.

تَرْكَوْشَا trikuśá, त्रिकुटा, H. n. m. A mixture of pepper, long pepper, and dry ginger.

تَرْكَش tarkash, P. n. m. A quiver.

تَرْكُل tarkul, H. n. m. The fruit of the palmyra.

تَرْكُون trikon, त्रिकोण, S. n. f. A triangle ; a trilateral figure.

تَرْكَ تَرْكَ tarka, A. n. m. The estate or property of a deceased person ; inheritance by bequest or succession ; a legacy ; bequest.

تَرْكَ بِلَا وَصِيَّة—bilá wasíyat, intestate property. تَرْكَ پَانَا وَالا—pánawála, n. m. A legatee ; a successor.

تَرْكَ مِیں آنا—men áná, to obtain as an inheritance ; to succeed to. تَرْكَ مِیں چھوڑنا—men chhorná, v. to bequeath.

تَرْكَهَنْتِي trikhunṭi, H. n. f. A trivet ; a triangular cake of salt.

تَرْكِي turkí, P. n. f. The Turkish language. تَرْكِي جَوَاب دِينَا—jawab—ba—dená, to give tit for tat. تَرْكِي تَعْمُ هُونَا—tamám honá, to be ruined ; to be all over with ; one's pride or haughtiness to come to an end. *adj.* Turkish. A horse of Turkish breed.

تَرْكِيب tarkib, A. n. f. Construction ; synthesis ; formation ; fashion ; structure ; mechanism ; method ; arrangement ; mode ; plan ; parsing.

تَرْكِيب بَتَانَا—batáná, to analyse ; to construe.

تَرْكِيب بِنْد—band, n. m. a stanza. تَرْكِيب دِينَا—dená, v. to make ; to construct ; to organise.

تَرْكِيب مِیں كِسِي كِسِي—kisi—se, by some means ; somehow ; (*Colloq.*) by hook or by crook. تَرْكِيب كَرْنَا—karná, v. to parse. [compounded ; mixed.

تَرْكِيبِي tarkibí, A. *adj.* Composed ; artificial ;

تَرْلُوك trilok, त्रिलोक, S. n. m. The three worlds—heaven, earth, and the lower regions ; the universe.

تَرْلُوكِي نَاتَهَة trilokináth, n. m. Lord of the universe.

تومرا tirmirá, तिमिरा, H. n. m. A spot of oil, &c., floating on water; an ocular, spectrum or spark appearing before the eye from the internal state of that organ.

تومرانا tirmiráná, H. v. To glisten as a grease or oil on water; to dazzle; to vibrate; to thrill.

تومری tirmiri, H. n. f. Darkness before the eyes; vertigo.

تومورتی trimúrti, त्रिमूर्ति, S. n. f. The Hindu triad comprising Brahma, Vishnu and Siva.

تومیم tarmím, A. n. f. Revision; amendment; modification; improvement. تومیم کونا—karná, v. to amend; to modify; to improve.

تارون tarun, तरुण, S. adj. Young; juvenile; adult.

تارنا tarná, तरना, H. v. To pass over; to be saved.

تارنت turant, तुरन्त, H. adv. Quickly; immediately; at once; hastily.

تارنج turanj, A. n. m. A citron; an orange; a lemon; an embroidered work.

تارنجبین turanjbin, P. n. m. Persian manna (some call it to be honey mixed with limejuice).

تارنگ tarang, तरंग, S. n. f. A wave; billow; whim; ecstasy; fancy.

تارنگ turang, तुरंग, S. n. m. A horse.

تارنم tarannum, A. n. m. A song.

تاروار tarwár, (तलवार), H. n. f. A sword; a scimitar.

تاروار taruwar, तरुवर, H. n. m. A tree; a shrub.

تاریج tarwij, A. n. f. Currency; coming a thing to be in demand. تارویج دینا—dená, to make current. [with the three Vedas.

تاریجی trivedí, त्रिवेदी, S. One who is acquainted

تاره tara, P. n. m. Garden herbs; greens. تاره تریز—tezak, garden cresses. تاره فروش—farosh, a green-grocer.

تاره turhí, तुरही, H. n. f. A trumpet.

تاری tarai, H. n. f. A star.

تاری turai, H. n. f. A vegetable; a kind of cucumber,

تاری tarí, P. n. f. Moisture; freshness; moist soil; marsh; swamp.

تاری triyá, त्रिया, H. n. f. A female; a woman. تریا چتر—charitra, n. m. woman's wiles.

تاری راج—ráj, woman's rule; Amazon country; petticoat government. تریا ت—hat, woman's persistency.

تاریاق tiryáq, A. n. m. An antidote for snake-bite or poison, &c.; bezoar stone; a sovereign remedy (zahar mohra). تاتریاق از عراق—az Iráq áwurda shawad már gazída murda shawad, (Lit.) A person stung by a venomous serpent will die before an antidote can be brought for his use from Iráq (Met.). We lose all chance of benefiting ourselves and others in times of trouble if, instead of taking prompt advantage of the means at our disposal, we delay for an indefinite time in the hope of finding a more effective method of doing so.

تاریا tretá त्रेता, S. n. f. The name of the second or silver age (yug) comprising 12,96,000 years.

تاریا tarefá, H. n. m. The falling of water from a spout or from a height.

تارین tarín, P. The Persian termination corresponding to the English termination est, or most, as, تریب خوب—khub—, fairest; most beautiful, &c.

تاریک tarák, तडाक, H. n. f. The sound of beating; crack; crash; whack. تریک پڑا—parák, adv. at once; without delay; quickly.

تاریکا taráká, तडाका, H. n. m. Snap; crack; smack; crash; rigour; violence; severity. تریکے کا—tarke ká, intense (as cold); violent (as storm).

تاریانا taráná, H. v. To have a sharp pricking pain from inflammation; to tingle; to ache.

تاریانا taráná, तुडाना, H. v. To cause to break; to change (money).

تاریاپ tarap, तड़प, H. n. f. Throb; palpitation; a jump; a flash of lightning; fury; hurry.

تاریاپانا tarapána, H. v. To put in great agitation.

تاریاپنا tarapná, H. v. To roll or toss about restlessly; to palpitate; to quiver; to spring;

to writhe ; to wriggle ; to thirst after ; to be anxiously eager for ; to be dying for.

ٽارپھراڻا tarpharānā, तड़कड़ाना, H. *v.* To flutter ; to palpitate.

ٽارپھراھٽ tarpharāhat, } H. *a. f.* Fluttering ;
ٽارپھراھٽ tarparāhat, } floundering ; palpitation ; disquietude. [fissure ; snapping.

ٽارڪ tarak, तड़क, H. *n. f.* Crack ; split ; chink ;

ٽارڪا tarkā, तड़का, H. *n. m.* Dawn ; daybreak. ٽرڪ ٽارڪه tarke, *adv.* in the early morning ; at dawn. ٽرڪاھوڻا honá, *v.* to be dawn.

ٽارڪنا taraknā, तड़कना, H. *v.* To be cracked ; to split ; to burst ; to break ; to be angry.

ٽاروانا turwānā, तुड़वाना, H. *v.* To cause to break.

ٽاري tari, तड़ी, H. *n. f.* Beating ; deceit.

ٽازيد tazāyad, A. *n. m.* Increase.

ٽزڪ tuzuk, T. *n. m.* Pomp ; dignity ; regulation ; retinue ; ordinance. [approving.

ٽزڪيه tazkiya, A. *n. m.* Purification ; sanctifying ;

ٽززل tazalzul, A. *n. m.* An earthquake ; agitation ; commotion ; discrepancy ; wavering.

ٽزريج - ٽزرج tazawwuj, tazwif, A. marrying ; taking a wife.

ٽس tis, तिस, H. *inflect. pron.* That ; which ; he ; she ; it. ٽسپر par, *adv.* besides ; moreover ; whereon ; thereupon. ٽسپر بهي par bhī, *adv.* nevertheless ; still ; yet.

ٽسار tusār, तुषार, H. *n. m.* Ice ; frost ; fog.

ٽسامھ tasāmuh, A. *n. m.* Reciprocal generosity or indulgence ; connivance ; mutual kindness or forgiveness. [likeness ; sameness.

ٽساروي tasāwī, A. *n. f.* Similarity ; equality ;

ٽسارھل tasāhul, A. *n. m.* Negligence ; slowness ; apathy ; tardiness. ٽسارھل ڪرنا karnā, *v.* to delay ; to retard.

ٽسبيھ tasbīh, A. *n. f.* The act of praising God ; a chaplet of beads ; a rosary. ٽسبيھ خوان khwān, a singer of praise to God. ٽسبيھ پڙهڻا parhṇā, to count the beads. [subduing.

ٽسڪھر tasḱhur, A. *n. m.* Ridicule ; mockery ;

ٽسڪھير tasḱhīr, A. *n. f.* Taking a stronghold ; capture ; subjugation ; sorcery ; imprisoning

of an evil spirit. ٽسڪھير ٽلوب i-qulúb, captivating of hearts. [(tasar).

ٽسار tasar, तसर, H. *n. m.* A kind of coarse silk ٽسڪر taskar, तस्कर, S. *n. m.* A thief ; robber.

ٽسڪين taskin, A. *n. f.* Consolation ; satisfaction ; ease ; rest ; soothing ; pacifying ; comfort.

ٽسڪين بخش baksh, consolatory ; assuasive ; allaying ; *n. m.* an anodyne. ٽسڪين ديندا denā, *v.* to comfort ; to soothe ; to pacify. ٽسڪين ھوڻا honá, *v.* to be satisfied ; to be appeased.

ٽسلا taslá, तसला, H. *n. m.* An iron or brass dish used as a kneading trough ; a wash-hand basin of metal.

ٽسلسل tasalsul, A. *n. m.* Connecting like a chain ; succession ; series ; continuation ; flowing. ٽسلسل به ba—, in continuation of.

ٽسلسل tasallut, A. *n. m.* Absolute rule ; sway ; domination ; encroachment.

ٽسالي tasalī, A. *n. f.* Consolation ; satisfaction ; solace ; contentment ; comfort. ٽسالي ھوڻا honá, *v.* to derive comfort ; to be comforted or satisfied.

ٽسليم taslīm, A. *n. f.* Salutation ; greeting ; homage ; compliment ; admission ; surrender ; resignation ; accepting. ٽسليم ڪرنا karnā, *v.* to salute ; to make obeisance ; to admit ; to concede ; to acknowledge ; to assent ; to surrender. ٽسليم ھوڻا honá, to be conceded ; to be accepted. ٽسليم نه ڪرنا na karnā, *v.* to object ; to reject ; to deny.

ٽسليمات taslīmāt, A. *n. f.* (Plu. of ٽسليم Taslīm). Salutations ; greetings. ٽسليمات ٻڃا لانا bajā lānā, to take leave of ; to bid adieu ; to salute.

ٽسمه tasmah, P. *n. m.* A throng ; a strap of leather ; latchet. ٽسمه ڪهينچڻا khainchnā, *v.* to strangle. ٽسمه لڳائڻ رکھڻا lagā-na-rakhnā, *v. t.* to sever completely ; to kill outright.

ٽسميه tasmiya, A. *n. m.* Naming ; giving a name to ; pronouncing the name of God saying ٽسميه بسم الله bismillāh, 'in the name of God'.

ٽسمائي tesmaī, H. *n. f.* A mass of boiled milk-sugar and rice ; a kind of rich dish of kheer.

ٽسنيم tasnīm, A. *n. f.* Name of a fountain in Paradise.

تسو *tasú*, H. *n. m.* An inch and a half; one-eighth of a foot; 24th part of a yard.

تسوانسی *tiswánsi*, तिस्वन्सी, H. *n. f.* The twentieth part of a *biswansi*.

تسويد *taswíd*, A. *n. f.* Blackening; rough draft; plan; sketch.

تسهیل *tashíl*, A. *n. f.* Facilitation; making easy.

تشابه *tashábuh*, A. *n. m.* Resemblance; similitude; likeness.

تشاكل *tashákul*, A. *n. m.* Mutual resemblance.

تشبيه *tashbíh*, A. *n. f.* Allegory; comparison; simile; metaphor. تشبيه دینا—*dená*, *v.* to compare; to liken.

تشت *tasht*, P. *n. m.* A large basin; a bowl; a cup; a platter; a salver. تشت از بام هونا—*az bám honá*, to be publicly known; to be notorious. [plate; a dish.

تشتاری *tashtarí*, H. *n. f.* A small bowl; a small vessel.
تشخیص *tashkhís*, A. *n. f.* Distinguishing perfectly; ascertainment; valuation; assessment; diagnosis. تشخیص کرنا—*karná*, *v.* to ascertain; to value; to assess; to decide; to settle.

تشدد *tashaddud*, A. *n. m.* Aggravation; severity; hardship; intensity; *adj.* robust; strong; confirmed. [indicate doubling of a letter.

تشدید *tashdíd*, A. *n. f.* The sign (س) used to explain.
تشریح *tashríh*, A. *n. f.* Explanation; anatomy; details; dissecting a body. تشریح داس—*dás*, an anatomist. تشریح کرنا—*karná*, *v.* to explain; to give details. تشریح وار—*wár*, *adv.* in detail; minutely; with full particulars.

تشریف *tashrif*, A. *n. f.* Honouring; investing with a splendid robe. تشریف ارزانی فرمانا—*arzání farmáná*, to go or to come. تشریف لانا—*láná*, *v.* to come; to honour with one's presence. تشریف لیجانا—*lejáná*, *v.* to go.

تشافی *tashaffí*, A. *n. f.* Consolation; satisfaction; calmness.

تشاک *tashakkuk*, A. *n. m.* Doubling.

تشنج *tashannuj*, A. *n. m.* Cramp; spasm; convulsion; twitching. [temptation

تشنگی *tishnági*, P. *n. f.* Thirst; desire; longing

تشنه *tishna*, P. *adj.* Thirsty; eagerly desiring; insatiable. تشنه خون—*khún*, blood-thirsty. تشنه لب—*lab*, parched-lipped. [dering.

تشنیع *tashní*, A. *n. f.* Tannt; reproach; slander.
تشویش *tashwísh*, A. *n. f.* Confusion · anxiety; perplexity.

تشیہر *tashhír*, A. *n. f.* Proclaiming; public exposure. تشہر ہونا—*honá*, *v.* to be publicly exposed.

تصانیف *tasánif*, A. *n. f.* Literary compositions.

تصحیح *tashíh*, A. *n. f.* Rectification; correction; verification. تصحیح کرنا—*karná*, *v.* to correct; to amend; to verify.

تصحیف *teshíf*, A. *n. f.* An orthographical mistake; making an error in writing.

تصدق *tasadduq*, A. *n. m.* Charity; alms; sacrifice. تصدق کرنا—*karná*, to sacrifice; to devote.

تصدیہ *tasdiá*, A. *n. m.* Vexation; toil; trouble; hardship. تصدیہ اٹھانا—*uṭháná*, to take trouble; to worry; to distress.

تصدیق *tasdíq*, A. *n. f.* Corroboration; confirmation; attestation; verification. تصدیق بلا تصور—*i-bilá tasauwar*, *n. f.* pre-supposition. تصدیق کرنا—*karná*, to attest; to verify; to confirm.

تصرف *tasarruf*, A. *n. m.* Expenditure; possession; use; embezzlement. تصرف کرنا یا تصرف کرنا—*karná yá—men láná*, to expend; to use; to occupy; to embezzle; to take possession of.

تصریح *tasríh*, A. *n. f.* Making clear; explanation; detail; narration.

تصرف *tasrif*, A. *n. f.* Conjugation; declension; inflection. تصرف کرنا—*karná*, *v.* to conjugate; to inflect.

تصغیر *tasgír*, A. *n. f.* Diminution; a diminutive.

تصفیہ *tasfia*, A. *n. m.* Purifying (especially the mind from ill-will); purity; reconciliation; adjustment; decision; disposal. تصفہ کرنا—*karná*, *v.* to reconcile; to settle; to dispose of.

تصلیب *taslíb*, A. *n. f.* Crucifixion,

- تصنع tasan'no', A. *n. m.* Wrought ; forged ; fabrication ; falsification ; alteration ; showing a spacious exterior.
- تصنيف tasnif, A. *n. m.* A literary composition ; invention ; compiling ; writing. تصنيف کرنا — karná, *v.* to compose ; to write (a book, &c.). تصنيف حق haq-i—, *n. f.* copyright.
- تصور tasauwar, A. *n. m.* Imagination ; contemplation ; reflection ; idea ; apprehension ; conception. تصور کرنا — karná, *v.* to imagine ; to think.
- تصوف tasanwuf, A. *n. m.* The theology of the *sufis* or mystics ; mysticism.
- تصویر taswír, A. *n. f.* A picture ; portrait ; image. تصویر خانہ — kháná, *n. m.* A picture gallery. تصویر کھینچنا — khinchná, *v.* to draw ; to paint. تصویری عکسی 'aksi—, a photograph.
- تضرع tazarro', A. *n. m.* Lamenting.
- تضييع tazí', A. *n. f.* Spoiling ; wasting. تضييع اوقات — i-aqát, *n. f.* wasting time.
- تطاير tatáwal, A. *n. m.* Tyranny ; usurpation ; haughtiness ; insolence.
- تطبیق tathbít, A. *n. f.* Likening ; comparing ; putting two things together face to face.
- تطویل tatwíl, A. *n. f.* Extending ; prolonging.
- تظلم tazallum, A. *n. m.* Oppression ; injustice ; tyranny.
- تعارف ta'áraf, A. *n. f.* Mutual acquaintance.
- تتابع ta'áqub, A. *n. m.* Pursuit ; following ; chase ; prosecution. [High God.
- تعالی ta'alá, A. *adj.* He is exalted ; The Most
- تعاون ta'áwun, A. *n. m.* Assistance ; mutual aid.
- تعب ta'b, A. *n. m.* Labour ; trouble ; exertion ; fatigue.
- تعبیر ta'bír, A. *n. f.* Interpretation ; explanation. تعبیر گو — go, *n. m.* an interpreter of dreams.
- تعجب ta'jjub, A. *n. m.* Astonishment ; surprise ; wonder ; admiration. تعجب کرنا — karná, *v.* to surprise ; to wonder. [tion ; agility.
- تجلیل ta'jíl, A. *n. f.* Quickness ; haste ; expedition.
- تعداد ta'dád, A. *n. f.* Number ; amount ; sum ; enumeration.
- تعدی ta'addi, A. *n. f.* Tyranny ; force ; extortion ; oppression ; violence ; causation.
- تعدر ta'azzur, A. *n. m.* Apology ; plea ; excuse.
- تعارض ta'aruz, A. *n. m.* Resisting ; opposition ; hinderance.
- تعریف ta'rif, A. *n. f.* Description ; definition ; praise. تعريف المجہول بالمجہول — ul-majhúl-bil-majhúl, explaining in terms as little understood as the things intended to be explained.
- تعریفی ta'rifí, A. *adj.* Commendable.
- تعزیت ta'ziyat, A. *n. f.* Condolence ; mourning ; lamentation. تعزیت نامہ — náma, *n. m.* a letter of condolence. [reproof ; reprimand.
- تعزیر ta'zír, A. *n. f.* Punishment ; censure ;
- تعزیه taiziya, A. *n. m.* A model of the tomb of Hasan and Husain carried in procession at the Moharram. تعزیه ٹھنڈا کرنا — ṭhandá karná, to bury or throw ta'ziya into the river at the anniversary of the Moharram. تعزیه دار — dár, one who makes a ta'ziya and observes mourning. [in love (with) ; affection.
- تأشش ta'ashshuq, A. *n. m.* Being or falling
- تعصب ta'assub, A. *n. m.* Prejudice ; bigotry ; religious persecution.
- تعطل ta'ttul, A. *n. m.* Idleness.
- تعطیل ta'tíl, A. *n. f.* A holiday ; vacation.
- تعظیم ta'zim, A. *n. f.* Respect ; honour ; reverence. تعظیم کرنا — karná, *v.* to honour ; to respect.
- تأفن ta'affun, A. *n. m.* Bad smell ; stink ; fetidness. [tracking ; tracing.
- تأقب ta'aqub, A. *n. m.* Punishment ; pursuit ;
- تألق ta'alluq, A. *n. m.* Connection ; relation ; concern ; office. تألق رکھنا — rakhná, *v.* to belong to ; to be related to ; to have concern.
- تألقا ta'alluqa, A. *n. m.* Connection ; possession ; an estate ; a division of a province.
- تألقہ دار — dár, *n. m.* possessor of an estate ; a landlord.
- تألم ta'allum, A. *n. m.* Learning ; study ; knowledge. [a schedule ; an inventory.
- تألیقہ ta'líqa, A. *n. m.* An appendix to a book ;
- تألیل ta'líl, A. *n. f.* Changing of vowels ; diverting.

تعلیم ta'lim, A. n. f. Teaching ; instruction ; tuition. تعلیم پانا —pána, v. to receive instruction. تعلیم دینا —dená, v. to teach ; to instruct.

تعمق ta'ammuq, A. n. m. Deepness ; penetrating ; profoundness.

تعمیر ta'mir, A. n. f. Building ; structure ; construction. تعمیر کرنا —karná, v. to build ; to construct. تعمیر ہونا —honá, v. to be built.

تعمیل ta'mil, A. n. f. Performance ; execution ; service. عمل حکم کرنا —hukm karná, v. to carry out an order. عمل کرنا —karná, v. to execute ; to serve.

تعمیہ ta'miya, P. n. m. Rendering blind ; making the meaning of a sentence obscure ; an enigma.

تعوذ ta'wiz, A. n. m. Having recourse to the deity ; asking protection ; an amulet ; a charm.

تعهد ta'ahhud, A. n. m. Agreement ; covenant ; contract ; lease.

تعیش ta-aiyush ; A. v. m. Labouring for a living ; living a pleasant life.

تعیین ta'aiyun, A. n. m. The act of appointing ; valuation ; appointment ; establishment. تعیین کرنا —karná, v. to appoint ; to fix.

تعیینات ta'inát, A. n. m. Appointment. تعینات کرنا —karná, v. to appoint ; to put in possession ; to depute. [tion ; duty.

تعییناتی ta'ináti, A. n. f. Appointment ; deputary. تگار tagár, T. n. m. Mason's mud or lime pit ; a tub. [tion ; unmindfulness ; inadvertence.

تغافل tagáful, A. n. m. Negligence ; inattention. تغایر tagáyur, A. n. m. Diversity ; difference ; discrepancy.

تغلب tagallub, A. n. m. Cheating ; breach of trust ; embezzlement ; forgery.

تعمہ tegma, P. n. m. A medal.

تغییر tagaiyur, A. n. m. Alteration ; change ; removal ; falsification. تغیر و تبدل —o-tabaddul, revolutionary changes ; alterations.

تفاخر tafákhur, A. n. m. Boasting ; glorying ; vaunt. [interval ; distinction.

تفاوت tafáwut, A. n. m. Distance ; difference ;

تفتگی taftagi, P. n. f. Heat ; ardour ; warmth ; fervour ; trouble.

تفتہ tafta, P. adj. Burning ; hot.

تفتیش taftish, P. n. f. Search ; investigation ; examination.

تفاخر tafákhkhr, A. n. m. Boasting ; pride ; arrogance.

تفرج tafarruj, A. n. m. Diversion ; recreation ; amusement. تفرج گاہ —gáh, place of recreation.

تفريح tafarruh, A. n. m. Refreshment ; ease ; leisure.

تفرقة tafriqa, A. n. m. Dispersion ; separation ; dissension. تفرقة ڈالنا —dálná, v. to separate ; to sow dissension.

تفریح tafrih, A. n. m. Rejoicing ; diversion ; amusement ; entertainment. تفریح طبع —i-taba', n. m. cheerfulness ; amusement. تفریح کرنا —karná, v. to refresh oneself. تفریحاً tafrihan, for the sake of recreation ; by way of amusement ; in fun ; in jest.

تفرید tafriid, A. n. f. Retirement from the world.

تفریق tafriq, A. n. f. Separation ; division ; partition ; classification ; departure ; distinction ; subtraction ; misunderstanding ; jealousy. تفریق کرنا —karná, v. to separate ; to classify ; to subtract ; to analyse ; to partition.

تفسیر tafsir, A. n. f. Explanation ; commentary (specially of the Qurán).

تفصیل tafsil, A. n. f. Details ; explanation ; particulars. تفصیل ذیل بہ —ba-i-zail, as follows. تفصیل وار —wár, adj. in detail.

تفاضل tafazzul, A. n. m. Beneficence ; kindness ; excelling.

تفضیح tafzih, A. n. f. Disgrace.

تفصیل tafzil, A. n. f. Comparison ; excellence ; pre-eminence.

تفکر tafakkur, A. n. m. Anxiety ; reflection ; meditation ; considering.

تفنگ tufang, P. n. f. Any tube through which a thing is blown ; a musket. تفنگچی tufangchi ; a musketeer ; a matchlockman.

تفنی tafannun ; A. n. m. Amusement ; pastime.

تفویض tafvîz, A. n. f. Committing to another ; entrusting ; giving a woman in marriage without a dowry. [hending.

تفہم tafahhum, A. n. m. Understanding ; apprehending.

تفہیم tafhîm, A. n. m. Teaching ; instructing ; informing. تفہیم و تفہیم —lfhâm-o—n. f. mutual understanding.

تقابل taqâbul, A. n. m. Encountering ; being drawn up in mutual opposition.

تقاضا taqâzâ A. n. m. Requisition ; demand ; claim ; importunity. i—تقاضاے سن یا عمر —i-sin yâ 'umr, the natural tendencies of childhood, youth, manhood, &c. i—شادید —i-shadîd, n. m. inexorable dunning ; great pressure.

تقاضا taqâzâ, v. to dun ; to urge ; to demand. karnâ, v. to dun ; to urge ; to demand. عندالتقاضا —indat-taqâzâ, adv. On demand. taqâzâi, adj. Importunate ; pressing ; urging.

تقاربی taqâwî, A. n. f. Assisting ; strengthening ; pecuniary advance especially to cultivators for implements, digging wells, &c. [sanctity.

تقادس taqaddus, A. n. m. Holiness ; purity ;

تقدم taqaddum, A. n. m. Priority.

تقدیر taqdîr, A. n. f. Fate ; destiny ; lot ; predestination. تقدیر کا ہجرتا —kâ hejtâ, a wretched lot ; unfortunate. تقدیر bar—, on the supposition ; in the event of.

تقدیس taqdis, A. n. f. Sanctification ; purity ; consecration. [performance.

تقدیم taqdim, A. n. f. Priority ; precedence ;

تقرب taqarrub, A. n. m. Nearness ; proximity ; approach ; access. تقرب حاصل کرنا —hâsil karnâ, to obtain access or admittance (to).

تقرب taqarrur, A. n. m. Confirmation ; appointment.

تقرر taqarrurî, A. n. f. Nomination. درانہ تقرری —parwâna-i—, n. m. a letter of appointment.

تقریب taqrib, A. n. f. Proximity ; occasion ; ceremony ; festival ; rite. [mately.

تقریباً taqribân, A. adv. Nearly ; about ; approxi-

تقریر taqrîr, A. n. f. Discourse ; speech ; argument ; reasoning. خوش تقریر —khush—adj. eloquent. [adv. orally ; verbally.

تقریری taqrîrî, A. adj. Argumentative ; talkative ;

تقریز taqrîz, A. n. f. Review.

تقسیم taqsîm, A. n. f. Division ; distribution ; division (in Arith.). تقسیم بحصہ رسدی —ba-hissa rasadî, a pro-rata distribution ; apportionment.

تقسیم چاری —bbaiyâ charî, division of land between co-sharers who are jointly bound for the payment of revenue. تقسیم خانگی —khânagi ; private partition. کرنا —karnâ v. to divide ; to distribute ; to share. تقسیم مرکب —i-murakkab. n. f. compound division.

تقصیر taqsîr, A. n. f. Fault ; error ; omission ; offence ; crime. تقصیر وار —wâr, adj. faulty ; guilty ; criminal ; culpable.

تقطیر taqtîr, A. n. f. Causing to come away drop by drop ; distilling.

تقطیع taqtî', A. n. f. Scanning. کرنا —karnâ, v. to scan ; to dissect.

تقلب taqallub, A. n. m. Conversion ; change ; turn. [counterfeited.

تقلیب taqlibî, A. n. m. Changed ; altered ;

تقلید taqlîd, A. n. f. Imitation ; copy ; counterfeiting. تقلید کرنا —karnâ, v. to imitate for ; to counterfeit. اس مقدمہ کی تقلید کی گئی is muqaddame kî—kî gai, the case was followed.

تقلیدی taqlîdî, A. adj. Imitated ; copied ; counterfeit.

تقلیل taqlîl, A. n. f. Reduction.

تقوی taqwâ, A. n. m. Abstinence ; piety ; sobriety. اہل تقوی —ahl-i—, adj. pious ; devout ; n. m. a pious man ; one who fears God.

تقویات taqwîyat, A. n. f. Strengthening ; corroboration ; support ; aid.

تقویم taqwîm, A. n. f. Fixing ; settling ; an almanac ; a calender.

تقی taqî, A. adj. Pious ; devout.

تقیید taqaiyud, A. n. f. Application ; observation ; watchfulness ; care. تقیید کرنا —karna, to look closely after ; to impress upon ; to enjoin.

تقییہ taqaiyâ ; A. n. m. Piety ; fear of God ; caution ; pious fraud or subterfuge (allowable in certain cases).

تک tuk, H. n. m. A rhyme ; one line of a poem. تک بندی —bandî, n. f. making verses.

تک میں تک ملانا —men tuk milânâ, v. to rhyme ; to concert with ; to agree with. بے تکی be tukî, adj. unconnected ; irrelevant.

تک tak, तक, H. *adv.* Till ; to ; up to ; until ; while ; *n.* a scale ; a balance ; look ; glance ; aim.

تکاسل takásul, A. *n. m.* Indolence ; carelessness.

تکالیف takálif, A. *n. f.* (*Plu. of* تکالیف *Taklif*).

Distresses ; difficulties.

تکان takán, P.

تکبان thakán, थकान, H. } *n. m.* Fatigue ; weariness. } *تکبان چڑھنا* —charhná, *v.* to be fatigued. [*indolence.*

تکاهل teká Hul, A. *m.* Negligence ; remissness ;

تکبر takabbur, A. *n. m.* Pride ; arrogance ; haughtiness ; loftiness.

تکبیر takbír, A. *n. f.* The praises of God ; repeating the Muhammadan creed.

تکثیر taksír, A. *n. f.* Increasing. [*thickness.*

تکسیف taksíf, A. *n. f.* Condensation ; density ;

تکذیب takzíb, A. *n. f.* Accusing of falsehood ; giving (one) the lie.

تکرار takrár, A. *n. f.* Repetition ; dispute ; controversy. } *تکرار کرنا*—karná, *v.* to dispute ; to quarrel ; to argue ; to repeat.

تکڑاری takrári, A. and H. *adj.* Contentious ; quarrelsome ; *n. m.* a wrangler ; a carper.

تکرر takarrur, A. *n. m.* Reiterating ; repetition.

تکریم takrím, A. *n. f.* Respect ; honour ; reverence.

تکاسل takassul, A. *n. f.* Inactivity ; sickness ; indisposition. [*accusing one of impiety.*

تکفیر takfír, A. *n. m.* Expiating a crime ;

تکفین takfín, A. *n. f.* Laying in the coffin. } *تکفین کرنا*—karná, *v.* to coffin.

تکال tukkal, H. *n. f.* A kind of paper kite.

تکلا taklá, तकला, H. *n. m.* A spindle.

تکالیف takalluf, A. *n. m.* Ceremony ; formality ; strict observance of the rules of etiquette ; trouble. } *تکالیف* be—, *adj.* plain ; familiar ; unceremonious. } *تکالیف کرنا*—karná, *v.* to be ceremonious. } *تکالیف مزاج*—mizáj, *adj.* ceremonious.

تکالیفات takallufát, A. *n. m.* (*Plu. of* تکالیف *Takalluf*). Elaboration ; formalities ; ceremonies.

تکالیفات دربار—darbár, extravagances of a court ; lavish expenditure. } *تکالیفات رسمی*—rasmí, formal compliments. } *تکالیفات مجالس*—i-majlis, etiquette ; ceremonies of society.

تکلم takallum, A. *n. f.* Conversation ; eloquence ; talking.

تکلیف taklíf, A. *n. f.* Trouble ; difficulty ; hardship ; inconvenience ; burden. } *تکلیف اٹھانا*—uṭhána, *v.* to suffer. } *تکلیف دینا*—dená, *v.* to cause trouble ; to annoy. } *تکلیف کرنا*—karná, *v.* to take trouble. } [*button ; button-hole.*

تکما tukma, P. *n. m.* A loop ; an eyeloop ;

تکمیل takmíla, P. *n. m.* Perfection ; completion.

تکمیل takmíl, A. *n. f.* Authentication ; completion ; perfection. } *تکمیل تمسک*—i-tamassuk, *n. f.* execution of a bond. } *تکمیل کرنا*—karná, *v.* to execute ; to complete ; to authenticate.

تکمیل کو پہنچانا—ko pahunchána, to bring to conclusion or termination.

تکنا takná, तकना, H. *v.* To look at ; to gaze ; to stare ; to watch ; to aim ; to wait for ; to expect ; to fix upon ; to adopt ; to have recourse (to).

تکوا takuá, तकुआ, H. *n. m.* A spindle. [*ing.*

تکواہی takwá hī, H. *n. f.* Watching ; superintend.

تکون tikon, तिकोन, } H. *adj.* Triangular ; } *تکونی* } *تکونی* } *تکونی* } three cornered.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک تیکر نہیں تو تک lagá to tír nahig to—, not a whit better than straw is the dart that fails its mark.

تک tag, P. *n. f.* Running. در تک, *o dau*, P. *n. f.* close pursuit or search after; fatigue; toil.

تگاپر tagápú, P. *n. f.* Bustle; labour.

تگانا taganá, तगाना, H. *v.* To cause to be quilted; to get stitched together.

تگائی tagái, H. *n. f.* Quilting or the charge for it.

تگاری tagarg, P. *n. m.* Hail; hail-storm.

تگرا tagrá, H. *adj.* Robust; strong; stout.

تگری tagrí, तगरी, H. *n. f.* An ornamental gold or silver chain worn round the waist (*kar-dhani*).

تگنا tiguná, तिगुना, H. *adj.* Thrice; triplicate; threefold.

تگئی taggí, H. *n. f.* A strand or thread of a twist. ति-तगै ti-taggi, *n. f.* a thread of three strands; चतु-तगै chautaggi, *n. f.* a thread of four strands; a kind of fishing-line not used with a rod.

تک tal, तल, H. *n. m.* Low grounds. तल-कर्ना karná, *v. t.* to put underneath; to hide; उपर-तल úpar, up and down; upside down; topsy-turvy.

تک til, तिल, H. *n. m.* The seed of the sesamum; a mole; a moment; the pupil of the eye; the least bit; a small particle. तिलजली tilanjli, *n. f.* a double handful of water and sesamum seed, etc., offered to the manes of the deceased. तिल-क-हिसाब til ká hisáb, *n. m.* a close account. तल-चौली cháolí, *n. f.* mixture composed of rice and sesamum-seed. तल-कट kut, *n. f.* sesamum-seed with gur or sugar pounded together. तल-चट्टा chattá, *n. m.* cockroach.

تک tul, S. *adj.* Equal; alike. तुल-अर्थक arthak, synonymous.

تالá, तला, H. *n. f.* The bottom; base; keel of a boat; the sole of a shoe; layer. तले-आना tale áná, to descend; to be crushed by; to take shelter under. तले-बन्द-बाँधी tale band báqí, a balance-sheet. तले-की-जमिन-उपर-आना tale kí zamín úpar áná, great commotion to take place; great confusion to arise.

تالá, P. *n. m.* The gold lace border of a turban; *n. m.* ointment; salve; plaster. ताल-करी kári, gilding. ताल-साज़ sáz, gilder.

तुला tulá तुला, S. *n. m.* A balance or scale; the sign Libra of the Zodiac, H. *adj.* balanced.

तलताल talátal, S. *n. m.* The 4th of the seven lower regions.

तिलादानी tiládání, तिलादानी, H. *n. f.* A woman's workbox; a small bag for holding needle, thread, scissors, etc., of a housewife.

तलाश talásh, A. *n. f.* Search; investigation; quest. तलाश-करना karná, *v.* to seek; to search; to look for.

तलाशी taláshí, A. *n. f.* Searching one's person, property or house; searcher. तलाशी-लिना lená, *v.* to institute a search. खाने-तलाशी kháná-, *n. f.* searching a house for stolen property.

तलालत talátum, A. *n. m.* Collision; buffeting; dashing of waves.

तलाली taláfi, A. *n. f.* Compensation; reparation. तलामिज़ talámiz, तलामिज़-تلامیذ talámiz, A. *n. m.* Students; scholars; pupils; disciples.

تالاء taláo, H. *n. m.* A pond; a tank.

تالاءا taláwá, तलवा, H. *n. m.* An advanced guard; a patrol.

तलawa tuláwá, H. *n. m.* The part of a Hindustáni carriage, which rests on the axle tree and supports the body of the carriage.

تالوات tiláwat, A. *n. f.* Meditation; reading (particularly the sacred books).

تالای tilai; H. *n. f.* A small frying pan.

تالبیس talbís, A. *n. f.* Counterfeiting (coin); fraud; false personation; a kuave.

تالتالانا tultuláná, H. *v.* To become soft from moisture as a mud wall in the rains; a suppurating sore or ripened fruit; to spout or gush out; to drip.

تالچھاٹ talchhaṭ, तलछट, H. *n. f.* Dregs; sediment; refuse.

تالکھ talkh, P. *adj.* Bitter; acrid; acrimonious; sorrowful. ر-تلخ rú, *adj.* surly; morose. تلخ-کرن karná, *v.* to embitter. تلخ-گو go, of bitter speech; plain-spoken. تلخ-مزاچ mizáç, *adj.* ill-tempered.

شکوه حرف تالغ کا یا شور بختی کا گلا
ہم جو کچھ کہنے کو ہیں سر بے مزہ کہنے کو ہیں
(مرمن)۔

Shikwa harf-i-talkh ká yá shor bakhtí ká gila.
Ham jo kuchh kahne ko haig so be maza kahne
ko haig.

تالغا talkhá, P. n. m. Boiled rice parched and
pounded; the gall-bladder. [gency.

تالخی talkhí, P. n. f. Bitterness; acrimony; pun-
تالڑا tilará, n. m. تیلہڑا, } A necklace of three
تالڑی tilarí, n. f. تیلہڑی, } chains or strings.

تلسی tulsí, तुलसी, H. n. f. Sweet basil; a small
shrub held in veneration by the Hindus
دل تلسی - dal, the leaf of the Tulsi plant.

تالطف talattuf, A. n. m. Favour; kindness. تالطف
کرنہ—karná, to oblige; to show favour.

تالاف talaf, A. n. m. Destruction; waste; ruin;
expense. تلف المال خلاف العمر—ul-mál khalaf
ul'umar, the loss of riches is the prolonga-
tion of life. تلف کرنہ—karná, v. to waste; to
consume. [sion; articulation.

تالافز talaffuz, A. n. m. Pronunciation; expres-

تالقین talqín, A. n. f. Religious instruction;
funeral service.

تلاک tilak तिलक, S. n. m. Sectarial mark or
marks made with coloured earth or unguents
on the forehead and between the eyebrows;
installation; consecration; dowry. تلاک چھڑھانا
—charhána, to perform the ceremony of
betrothal of a youth. تلاک دھاری—dhári, n. f.
one who wears or is invested with the *tilak*;
a newly crowned king. تلاک کرنہ—karná, to
consecrate; to crown. تلاک لگانہ—lagáná, v. to
invest with a *tilak*.

تالمالانا talmaláná, तलमलाना, H. v. To be agitated
or uneasy; to be tantalized; to toss about
(from sickness). [restlessness.

تالمالی talmalí, तलमली, H. n. f. Impatience;
تالمیز talmíz, A. n. m. A student; a pupil; a
scholar. [or ghee.

تالنا talná, तलना, H. v. To fry or be fried in oil

تالنا tulná, तुलना, H. v. To be weighed or
balanced; to be drawn up in a battle array.

تالنگا tilangá, तिलंगा, H. n. m. A native of Talang,
where Indian soldiers were first disciplined
and clothed after the English pattern, hence
a soldier.

تالنگی tilangí, तिलंगी, H. n. f. A kind of paper
kite (*tukkal*).

تالوا talwá, n. m. A kind of sweatmeat made of
ground sesamum and sugar.

تالوا talwá, H. n. m. The sole of the foot.
تالوا سہلانا—sehláná, v. to flatter; to coax.
تالو سے آگ لگنا—talwe-se-ág-lagná; to be
excessively angry.

تالوار talwár, तलवार, H. n. f. See تاروار tarwár.
تالوار چلانا—chaláná, v. to use a sword; to
strike with a sword. تالوار چلنا—chalná, to be
fighting with swords. تالوار کا گھاڑ—ká gháo,
a sword cut; a sword-wound. تالوار کی آنچ—
ki áñch, the flash of a sword. تالوار میان کرنہ—
miyán karná, to sheathe the sword. تالواروں کی
ننگی تالوار لئے—nangí liye, with a drawn sword.
تالوار کھینچنا—khínchná, v. to draw or unsheath a sword.
تالوانا tulwáná, तुलवाना, H. v. To cause to be
weighed.

تالوان talauwan, A. n. m. Changing colours (like
a chameleon); fickleness; capriciousness.
تالون مزاج—mizáj, adj. capricious; fickle-
minded.

تالہا tilhá, तिलहा, H. adj. Oily.

تلی tillí, तिल्ली, n. f. Spleen; milt, or roe of
fishes. تاپ تلی—táp, n. f. enlargement of the
spleen.

تلی talí, H. n. f. The bottom; the sole of a
boot or shoe.

تلی tale, तले, H. adj. Under; beneath; below;
down; at the foot. تلی اریر یا اریر تلی—úpar yá
úpar—, adv. upside down; one upon the
other. تلی پڑنا—parná, v. to fall under; to
sleep on the ground.

تالیا talaiyá, तलैया, H. n. f. A small pond.

تم tum, pron. You. تم آپ tum áp, you yourself.
تماچہ tamáchá, तमाचा, H. n. A slap.

تمادی tamadí, A. n. f. Duration; period; length
of time; limitation as to the time which bars

a civil action. تماشا پذیر ہونا—pazir honá, to be time-barred. تماشا ایام—i-ayám, lapse of time ; flight of time.

تماشا tamáshá, A. n. m. A show ; a spectacle ; sight ; amusement ; sport ; fun ; anything strange or curious. تماشا کرنا—karná, v. to act a play ; to make sport or fun of. تماشا کرنے والا—karnewálá, n. m. a showman ; an actor. تماشا کی بات—ki bát, a funny thing ; a pretty sight. تماشا گاہ—gáh, n. f. place of show ; a theatre. تماشا گاہی—i, n. m. f. A spectator ; looker on ; by-stander.

تماشا بین tamásh bín, A. n. m. A spectator ; a sightseer ; a libertine ; a licentious person ; a rake (*aubásh*). تماشا بینی—bíní, n. f. luxury ; libertinism.

تمام tamám, A. adj. Entire ; whole ; total ; complete. تمام تر—tar, adv. wholly ; completely ; entirely. تمام شد—shud, finished ; done. تمام کرنا—karná, v. to finish ; to complete ; to conclude. تمام ہونا—honá, v. to be finished ; completed or concluded ; to come to an end ; to die. تمام کام—kám—karná, to put an end to a business or life ; to make away with. تمام و کمال—o-kamál, whole and entire ; fully and completely ; thoroughly.

تمامی tamámí, A. n. f. Completion ; conclusion ; termination ; brocade ; cloth of gold tissue. تمامی قائمہ—qaemá ; complement (angle).

تمبا tumbá, तुम्बा, H. n. m. A hollowed gourd (in which *fugirs* carry water).

تمباکو tambákú, तम्बाकू, H. n. m. Tobacco.

تمبو tambú, तम्बू, H. n. m. A tent.

تمبی tumbí, तुम्बी, H. n. f. A small, hollow long gourd of which snake charmers and jugglers, &c. make a kind of pipe or musical instrument.

تامتاما tantamáná, तमतमाना, H. v. To glow ; to blush ; to become or grow red in the face ; to flash ; to twinkle. [flush.

تامتامت tamtamáhat, तमतमाहत, H. n. f. Glow ; تمثیل tamsíl, A. n. f. Comparison ; similitude ; allegory ; example ; parable. تمثیل لانا—láná, to adduce examples ; to allegorize.

تمثیل tamsílan, A. adj. Allegorically ; for example.

تمجید tamjíd, A. n. f. The glorification of God. تمہ تمار, A. n. m. A ripe or dry date. تمہ ہندی—i-hindí, n. f. a tamarind.

تمرد tamarrud, A. n. m. Stubbornness ; rebellion ; disobedience ; obstinacy.

تمسخر tamaskhur, A. n. m. Joking ; buffoonery.

تمسک tamassuk, A. n. m. A note of hand ; a bond ; a promissory note. تمسک حاضر ضمانتی—i-házir zámni, bond or recognizance as a security for personal appearance. تمسکی قرضہ—qarza, debt secured by a bond. تمسک مضروعی—i-masnu'í, a fabricated bond ; a forged bond.

تمغہ tamga, T. n. m. A medal ; royal grant or charter ; a diploma ; stamp on gold and silver and armorial bearings.

تمک tamak, H. n. f. Pride ; vanity ; arrogance.

تمکا tamká, H. n. m. Heat ; a sunstroke.

تمکنت tamkanat, تمکین—tamkin ; A. n. f. Majesty ; dignity ; honour ; gravity ; grandeur.

تملق tamalluq, A. n. m. Caressing ; flattery ; cajoling ; dalliance.

تملیک tamlik, A. n. f. Possessorship ; settlement of property. تملیک نامہ—náma, n. m. a deed of transfer.

تمن tuman, P. n. m. Brotherhood ; connexion ; troop ; squadron ; ten thousand. تمن باندھنا—bándhná, to collect a body of troops. تمندار—dár, the commander of a *tuman*.

تمنا tamanná, A. n. f. Wish ; desire ; longing ; prayer.

تمنچہ tamancha, T. n. m. A pistol.

تمہارا tumhárá, तुम्हारा, H. pron. Yours ; your ; of you.

تمہید tamhíd, n. f. An introduction ; preface ; preamble ; management ; adjustment. تمہید تمہیدیں—útháná, v. to open a subject. تمہیدیں باندھنا—en bándhná, to make vain suppositions. تمہیدی—i, preliminary ; introductory.

تمہیں tumhen, तुम्हें, H. pron. To you.

تمیز tamíz, A. n. f. Discretion ; distinction ; observance of the rules of etiquette. تمیز دار—dár, adj. judicious ; discreet ; mannerly.

کرنایا—karná, *v.* to distinguish; to appreciate. تعجیز be —, *adj.* indiscreet; unmannerly.

تن tan, *P. n. m.* The body; person. تن آسانی—ásání, bodily comfort; indulgence. تن آور—áwar, stout; corpulent. تن پرور—parwar, *adj.* self-indulgent; luxurious. تن پروری—parwari, *n. f.* self indulgence. تن تنها—tanhá, *adj.* alone; solitary. تندرست—durust, *adj.* healthy; vigorous. تندرستی—karná, *v.* to cure. تندرستی—durustí, *n. f.* bodily health. تندہ—dih, *n. m.* one who is diligent; *adj.* attentive to. تندہی—dihí, *n. f.* application; exertion; attention. تن زیب—zeb, a kind of thin muslin. تن من—man, body and soul. تن مارنا—mau márná, *v.* to restrain one's appetites or desires; to suppress the feelings or emotions; to concentrate one's attention or faculties on.

تن tun, تن, *S. n. m.* Name of a tree, the wood of which is used for furniture and the flower for dyeing a yellow colour.

تانا tanná, تنا, *H. v.* To stretch; to pull tight; to sit upright or straight.

تنازع tanázo', *A. n. m.* Dispute; strife; wrangling; contention.

تنازل tanázul, *A. n. m.* Descent; decline; fall (of price); loss (of rank, &c.).

تناسب tanásub, *A. n. m.* Resemblance; proportion. تناسب اعضا—i-a'zá, *n. m.* due proportion of the members of the body.

تناسخ tanásukh, *A. n. m.* Transmigration; the passing of a soul into another body after death.

تناسل tanásul, *A. n. m.* Uninterrupted descent through a series of generations; lineage.

تنافز tanáfur, *A. n. m.* Mutual aversion; flying from one another.

تناقض tanáquz, *A. n. m.* Contradiction; incompatibility; discrepancy.

تبادل tanáqul, *A. n. m.* Mutual communication.

تانا تانا tannáná, *H. v.* To be straight; to have sharp pricking pain.

تنار tanáwar, *P. adj.* Corpulent; strong.

تناول tanáwul, *A. n. m.* Eating. تناول کرنایا—karná—farmáná, *v.* to eat.

تنباکو tambáku, (America) *H. n. m.* Tobacco.

تنبان tambán, *P. n. m.* A kind of very wide drawers. [a pavilion; a canopy.

تندبو tambú, तम्बू, *H. n. m.* A large tent; a tambúr, तम्बुरा, *H. n. m.* A musical instrument like a guitar; a tambour; a drum.

تندبول tambol, ताम्बूल, *H. n. m.* The betel leaf. تندبولی tambolí, a caste of Hindús whose business is to sell betel-leaves.

تندیبه tambih, *A. n. f.* Admonition; reproof; punishment. تندیبه کرنایا karná, to admonish; to warn; to reprimand.

تنتر tantra, तन्त्र, *S. n. m.* Charm; incantation; a religious treatise, teaching peculiar mystical and magical formulæ.

تنتری tantrí, तन्त्री, *H. n. m.* A musician; one who follows a *tantra*; a practiser of enchantments.

تانتانا tantaná, *H. n. m.* Noise; cry; shout; din; up roar; pomp; dignity.

تانتاناہٹ tantanáhat, *H. n. f.* Sharp pricking pain from inflammation.

تنتونی tuntuní, तुनुतुनी, *H. n. f.* A rude kind of guitar.

تنجیم tanajjum, *A. n. f.* Astrology; science of the stars.

تنخواہ tankhwáh, *P. n. f.* Monthly pay; salary; wages. تنخواہ دار—dár, *n. m.* one who receives a salary. تنخواہ دینا—dená, *v.* to pay one's salary. تنخواہ ذاتی—záti, *n. f.* personal allowance.

تنخیر tankhír, *A. n. f.* Speech; discourse.

تند tund, *P. adj.* Active; rapid; swift; hot; severe; furious; rough; bold; violent. تند—khu, *adj.* irascible; furious. تند رفتار—raftár, fast going; fleet. تند مزاج—mizáj, *adj.* hot-headed; hot-tempered. تند ہونا—honá, *v.* to be displeased.

تندروست tandurust, *P. adj.* See under tan.

تندور tandúr, तन्दूर, *H. n. m.* An oven.

تندی tundi, P. *n. f.* Swiftmess ; fierceness ; severity ; violence ; fury.

تنزل tanazzul, A. *n. m.* Descent ; fall ; decline ; decay ; degradation تنزل ہونا—honá, *v.* to fall off ; to decline ; to be degraded.

تنزیل tanzil, A. *n. f.* Revelation ; the Qurán ; receiving one hospitably.

تنسل tanassul, A. *n. m.* Pedigree.

تسفیخ tansikh, A. *n. f.* Cancellation ; quashing ; revocation. تسفیخ کی دستاویز—ki dastáwez, an instrument of cancellation.

تسفیف tansif, A. *n. f.* Bisection.

تنظیم tanzim, A. *n. f.* Ordering ; arranging ; composing (verses).

تنافر tanaffur, A. *n. m.* Disgust ; aversion.

تنافس tanaffus, A. *n. m.* Breathing ; respiration.

تنقیح tanqih, A. *n. f.* Cleaning ; deciding disputes ; inquiry ; issue. تنقیح طلب—talab, to be determined ; requiring decision. تنقیحات قائم کرنا tanqihát qáim karná ; to frame or lay down issues. تنقیح کرنا—karná, *v.* to determine ; to settle ; to draw up issues.

تنقیہ tanqiya, A. *n. m.* Decision ; settlement ; cleaning ; purging ; winnowing.

تنک tunuk, *adj.* Weak ; brittle ; slight ; delicate. تنک حواس—havás, *adj.* sensitive. تنک ظرف—havási, *n. f.* sensitiveness. تنک زارف, *adj.* shallow ; empty ; simpleton. تنک مزاج—mizáj, *adj.* irritable ; peevish. تنکی tunkí, *n. f.* a thin cake or fritter.

تنک tanik, तनिक, H. *adj.* or *adv.* Slight ; a little ; slightly.

تنکا tinká, तिनका, H. *n. m.* A straw ; a stalk ; a mote ; a particle. تنکا دانےوں میں لینا—dánton meḡ lená, to confess inferiority or ask for quarter. تنکا نہ رہنا—na rahná, *v.* to be robbed of the last penny.

تینکار tinkár, P. *n. m.* Borax.

تینکنا tinakná, तिनकना, H. *v.* To flare up ; to fly into passion.

تنگ tag, P. *adj.* Contracted ; tight ; narrow ; straitened ; short ; scanty ; poor ; distressed ;

n. m. a horse's belt ; a girth. تنگ آنا یا ہونا—áná yá honá, *v.* to be utterly sick of ; to be distressed تنگ چشم یا تنگ دل—chashm ya—dil, *adj.* miserly ; niggard. تنگ حالی—háli, narrow circumstances ; adversity. تنگدستی—dastí, *n. f.* poverty ; want تنگ دهن—dahan, small-mouthed. تنگ کرنا—karná, *v.* to tighten ; to narrow ; to oppress تنگ ہاتھ ہونا—háth honá, to be penniless ; to be in straits. تنگ ہونا—honá, *v.* to be badly off, or without a penny.

تنگی tangí, P. *n. f.* Tightness ; narrowness ; scantiness ; poverty ; hardship. تنگی کرنا—karná, to practise parsimony ; to act the miser.

تانور tanúr, P. *n. m.* An oven.

تاقومند tanomand, P. *adj.* Robust.

تدوین tanwín, P. *n. f.* Doubling the short vowels at the end of Arabic words, e. g. مَجْمُوعاً ضمناً تضمیناً

تانا tana, P. *n. m.* A trunk ; a stem ; a stalk.

تانہا tanhá, P. *adj.* Alone ; single ; solitary ; private ; only. [solitude.

تانہائی tanháí, P. *n. f.* Loneliness ; privacy ; تنی taní, तनी, H. *n. f.* A string with which garments are tied ; a tie. تنی میں گائے دینا—meḡ gáñth dená, to betroth.

تانی taney, S. *n. m.* A son ; a male descendant.

تاو tau, तब, H. *conj.* Then ; that ; *adv.* then ; at that time ; in that case ; moreover. تاو ہی—bhí, *adv.* even then ; nevertheless, yet. تاو لگ—lag, *adv.* then ; till then ; so long as.

تو tú, तू, H. *pron.* Thou ; thee. *Thou* is used to imply contempt or familiarity, or in addressing the Deity, to imply extreme reverence. تو تڑاک کرنا—tarak karná, to address rudely or disrespectfully ; to wrangle ; to abuse ; the cry of the cuckoo.

توا tawá, तवा, H. *n. m.* An iron pan on which bread is baked ; a shard placed over the tobacco in the *chilam* ; a leaden pan let down in a well for cooling the water or to check excessive flow. توا لٹا—ulṭá, *adj.* black as a

frying pan ; very black. تاورے کا ہانسنا tawe ká hānsná, the falling of sparks from a tawa (regarded as a good omen). [sion.

تواتر tawátur, A. n. m. Continuation ; succes.

تواجد tawájud, A. n. m. Rupture.

توار tuar, तुअर, H. n. f. A kind of pulse (arhar).

تواری tiwári, तिवारी (त्रिवेदी) H. n. m. A sect of Brahmins who are entitled to read 3 Vedas.

تواریخ tawárikh, A. n. f. Dates ; histories ; annals ; chronicles.

تواضع tawázu', A. n. f. Attention ; civility ; reception ; hospitality ; entertainment ; gift. تواضع سمرقندی—samarqandí, false hospitality ; empty compliment شیراز—i-shiráz, homely diet ; simple fare. کارنا karná, v. to entertain ; to receive with politeness ; to present.

توافق tawáfuq, H. n. m. Concord ; harmony ; coincidence ; concurrence.

توالی tawálí, A. n. m. Continuation.

توام tauám, A. n. m. A twin.

توانا tawáná, P. adj. Strong ; robust ; powerful ; able. [ability.

توانائی tawánái, P. n. f. Strength ; power ; توبرا tobár, توہار, } H. n. m. The bag out of توبرا tobra, توہرا, } which horses eat their corn ; a horse's nose-bag.

توبہ tauba, P. n. f. Penitence ; repentance ; renunciation. توبہ توبہ—tauba, inj. tush ! fie ! never more ! Heaven-forbid ! توبہ توبہ—toṙná, to break one's vow. توبہ توبہ—dhár, n. f. the sound of cries under punishment توبہ کرنے کا موقع—karne ká mauqa', Loco penitencia. توبہ کرنا—karná, v. to repent of sin or crime ; to adjure ; to renounce. توبہ بلوانا—bulvána-karvána, to bring one on his knees.

توپ top, T. n. f. A gun ; a cannon ; field piece ; howitzer. توپ چلانا یا د فٹنا—chalána yí dágná, v. to fire a connonade. توپ خانہ—khána, n. m. a battery ; an artillery ; an arsenal ; a park of artillery. توپ سے اڑانا—se urána, to blow away from a gun, to condemn to be shot.

توپانا topáná, तोपाना, H. v. To have buried ; to cause to cover.

توپچی topchí, तोपची, H. n. m. An artillery man ; a gunner.

توپنا topná, तोपना, H. v. To bury ; to cover.

توت tut, A. n. m. Mulberry.

توتہ totá, तोता, H. n. m. A parrot. چشم توتہ—chashm, adj. faithless ; treacherous ; توتہ توتہ—uṙna, hathon ke tote

توتہ کی سی آنکھیں پھرنی—uṙjana, to be confounded. توتہ کی سی آنکھیں پھرنی—tote ki se ákheñ pherná, to turn away one's affections ; to become indifferent to one.

توتلا totlá, तुतला, H. adj. Speaking indistinctly, as a child ; lisping ; stammering ; stuttering.

ہے نفس سے شور یک گاشن تلک زیادہ کا
خوب طوطی ہوتا ہے اندھوں صیاد کا
(ذوق)۔

Hai qafas se shor yak gulshan talak faryád ká, Kḥúb tútí boltá hai in dinon saiyád ká.

توتلیا tótíyá, तूतिया, H. n. m. Blue vitriol ; sulphate of copper.

توجہ tawajjuh, A. n. f. The act of running towards ; inclinatio ; attention ; regard ; application ; care ; favour. توجہ مائل کرنا—máil karná, to direct ; to draw attention. توجہ خاص در کار ہے—khás darkár hai, it requires special consideration.

توجیح taujih, A. n. f. Adjustment of accounts ; an allowance made to landholders ; a statement ; descriptive roll.

توحید tauhid, A. n. f. Unity ; believing in the unity of the Deity ; unitarianism.

تودہ túda, P. n. m. A mound ; a heap of butt or mark to shoot at. تودہ بندی—bandí, n. f. marking off boundaries.

توریت tauret, A. n. f. The Old Testament ; the Pentateuch.

تور toṙ, तोर, H. n. m. Breach ; rent ; the strength of a current ; whey ; refutation. تور پور یا تور تار—phoṙ yá—tár n. m. breaking ; destruction ; winning over ; allurements تور تور—joṙ, arranging a speech ; shifts ;

combinations. ٲٲٲٲٲ—dálná, *v.* to pull down.
ٲٲٲٲٲ—lená, *v.* to pluck ; to gather.

ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ
ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ ٲٲٲٲٲ
(ٲٲٲٲٲ) —

Jorí jo us ne tujh se to torí raqib se
Inshá tú apne yár ke yih tor jor dekh.

ٲٲٲٲ torá, ٲٲٲٲ, *H. n. m.* Scarcity ; a purse containing one thousand rupees ; the match of a gun ; a ploughshare ; a gold or silver chain ; a bank ; a piece of rope. ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ, *n. f.* a matchlock.

ٲٲٲٲ torná, ٲٲٲٲٲ, *H. v.* To break ; to violate ; to tear ; to rend ; to change (money) ; to pluck or gather (fruit, &c.) ; to gain over ; to discontinue ; to stop. ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ, *v.* to eat the bread of idleness.

ٲٲٲٲ torí, ٲٲٲٲ, } *H. n. f.* Mustard seed ;
ٲٲٲٲ torya, ٲٲٲٲٲ, } rape seed ; stone brackets.

ٲٲٲٲ tauzi', *A. n. f.* A statement ; an account ; a rent-roll.

ٲٲٲٲ tosdán, *H. n. m.* } A cartridge
ٲٲٲٲ toshdán, *P. n. m.* } or cartouche box.

ٲٲٲٲ tawassut, *A. n. m.* Mediation ; introduction ; umpire ; mediator.

ٲٲٲٲ tawassul, *A. n. m.* Conjunction ; introduction.

ٲٲٲٲ tausan, *P. n. m.* A horse ; a young unbroken horse. [a quilt.

ٲٲٲٲ toshak, *P. n. f.* A mattress ; a bedding ;

ٲٲٲٲ tosha, *P. n. m.* Provision ; supplies. ٲٲٲٲ—khána, *n. m.* a wardrobe ; a storeroom.

ٲٲٲٲ 'áqibat ká—, provision for the next world ; laying up treasure in heaven ; good deeds. [dation.

ٲٲٲٲ tausif, *A. n. f.* Description ; commen-

ٲٲٲٲ tauzi', *A. n. f.* Making clear or evident ; illustration ; explaining.

ٲٲٲٲ tauzih', *A. n. f.* Legislation ; putting down ; lowering.

ٲٲٲٲ taufir, *A. n. f.* Increasing of revenue ; excess ; surplus.

ٲٲٲٲ taufiq, *A. n. f.* Divine guidance, grace, or favour ; means ; resources ; ability.

ٲٲٲٲ tawaqq', *A. n. f.* Hope ; reliance ; trust ; expectation.

ٲٲٲٲ tawaqquf, *A. n. m.* Delay ; respite ; suspension. ٲٲٲٲ—karná, to delay ; to pause ; to hesitate.

ٲٲٲٲ tauqir, *A. n. f.* Honour ; reverence ; veneration ; respect.

ٲٲٲٲ tawakkul, *A. n. m.* Trust in God ; faith ; reliance. ٲٲٲٲ ٲٲٲٲ—par baiḥná, to rest in hope ; to trust in God. ٲٲٲٲ 'alal—, *adv.* in blind confidence ; haphazardly.

ٲٲٲٲ tol or taul, ٲٲٲ, ٲٲٲ, *H. n. m.* The act of weighing ; weight.

ٲٲٲ tolá, ٲٲٲ, *H. n. m.* A weight of 12 *mashas* ; a weighman.

ٲٲٲ tauláná, ٲٲٲٲٲ, *H. v.* To cause to be weighed.

ٲٲٲ tawallud. *A. n. m.* Birth.

ٲٲٲ tolná, *H. v.* To weigh ; to put in the scales to estimate. ٲٲٲٲ nazron men—, to estimate the worth of any one.

ٲٲٲ taulyá, ٲٲٲٲٲ, *H. n. m.* Towel.

ٲٲٲ tauliyat, *P. n. f.* The superintendence of any business ; trusteeship ; appointing one as governor. ٲٲٲٲ—ma'ul-wasiyat, a deed of endowment or trusteeship, executed as bequest to take effect only after the death of the divisor. [ting ; production.

ٲٲٲ taulid, *A. n.* Birth ; generation ; begetting. ٲٲٲ ٲٲٲ, *H. n. f.* A hollowed gourd ; a firework consisting of a hollow earthen pot filled with powder.

ٲٲٲ túmna, ٲٲٲٲ, *H. v.* To card or separate wool or cotton with the fingers, preparatory to combing.

ٲٲٲ túmiyá, *H. n. m.* Thread made of out cotton first picked with the fingers and then carded.

ٲٲٲ tugbi ٲٲٲ, *H. n. f.* A small gourd ; a musical instrument played on by jugglers and snake-charmers.

ٲٲٲ toḡd, ٲٲٲ, *H. n. f.* A pot-belly ; corpulence.

ٲٲٲ toḡdal, ٲٲٲٲ, *H. adj.* Pot-bellied ; corpulent ; gor-bellied

توندی *tongdi*, टोंडी, H. *n. f.* The navel; the finger-tips.
 تونسا *taung*, तोंस, H. *n. f.* Great thirst. *تونسا*—*ná*, *v.* to be affected or overcome with heat; to be thirsty; to fade.
 توانگر *tawángar*, P. *adj.* Rich; wealthy.
 توانگری *tawángri*, P. *n. f.* Riches; wealth.
 توهی *tuhí*, *pron.* Thou; thyself.
 توهین *tauhín*, A. *n. f.* Enervating; scoffing; defamation; libel. *توهین زبانی*—*zabání*, slander. *توهین کرنا*—*karná*, to offer an insult.
 تہ *tah*, P. *n. f.* Surface; foundation; depth; layer; stratum; allusion; bottom; plait; fold; beneath; intent; meaning. *تہ آب*—*i-áb*, bottom of the river. *تہ بازار*—*bázár*, ground of a market. *تہ بازاری*—*bázári*, toll; a cess levied from vendors at markets. *تہ بہ تہ*—*bat-tah*, *adv.* plait by plait; every fold. *تہ بہ تہ کرنا*—*batah karná*, *v.* to pile one upon another.
 تہ بند *band*, *n. m.* a cloth worn round the waist like a kilt. *تہ جمانا*—*jamáná*, *v.* to plait.
 تہ خانہ *khána*, *n. m.* a room underground; a cellar; a subterranean abode; a vault.
 تہ دیگی *ah-dégi*, *n. f.* the scrapings of a pot (*khurchaní*). *تہ دینا*—*dená*, *v.* to tinge slightly. *تہ کرنا*—*karna*, *v.* to fold up. *تہ نشین ہونا*—*nashín honá*, *v.* to sink in the mind; to sink in the bottom. *تہ و بالا کرنا*—*o-bála karná*, *v.* to subvert; to overthrow.
 تہ کو پہنچنا *ko pahunchná*, *v.* to get to the bottom; to discover.
 تہی *tihí*, P. *adj.* Empty.
 تہا *thá*, था, H. *v.* Was.
 تہاپ *taáp*, थाप, H. *n. f.* A slap; a tap; a pat; an impression; the sound of a small drum (*tablá*). *تہاپ دینا*—*dená*, *v.* to strike on a drum; to thump. *تہاپ مارنا*—*márná*, *v.* to slap; to pat (*cowdung*).
 تہاپا *thápa*, थापा, H. *n. m.* A mark of the paw; mark made with the palm of the hand on the wall of a house.
 تہاپنا *thápná*, H. *v.* To tap; to pat *cowdung* into cakes for fuel (*pathaná*); *n. f.* the act of setting up an image for worship.
 تہاپی *thápi*, H. *n. f.* The noise of tapping; the instrument with which potters beat their

earth, or with which terraces are beaten; *n. bat*; a beater.
 تہال *thál*, थाल, H. *n. m.* A large flat plate or dish of brass or bell metal; a tray.
 تہالا *thála*, थाला, H. *n. m.* A trench dug round the root of a tree for holding water; the excavation in which a tree is to be planted.
 تہالی *tháli*, थाली, H. *n. f.* A small flat dish or platter.
 تہامنا *thámná*, थामना, H. *v.* To prop; to support; to maintain; to protect; to stop; to hold; to detain; to retain; to pull up a horse.
 تہان *thán*, थान, H. *n. m.* Locality; dwelling place; piece of cloth; a stall for cattle; a place; (*fig.*) breed; stock (as, *تہان کا گھوڑا*—*achchhe thán ká ghorá*).
 تہاں *tahañ*, तहाँ, H. *adv.* Thither; there. *جہاں*—*jaháñ*—*adv.* everywhere.
 تہانہ *tháná*, थाना, H. *n. m.* A subordinate police station. *تہانہ دار*—*dár*, *n. m.* a keeper of a *thana*; a petty police officer.
 تہانا *thána*, तहाना, H. *v.* To fold; to wrap.
 تہانگ *tháng*, H. *n. f.* A den of thieves; trace of stolen property; clue; trace. *تہانگ لگانا*—*lagáná*, to trace; to obtain a clue.
 تہانگی *thángi*, H. *n. m.* A receiver of stolen property; a detective; an accomplice who supplies thieves with information.
 تہا *tháh*, तह, H. *n. f.* Bottom; end
 تہائی *tihái*, तिहाई, H. *n. f.* The third part.
 تہائی تین *tin*—, three-thirds or equal parts.
 تہاپ *thappa*, थपट, H. *n. m.* A slap.
 تہاپی *thapri*, थपड़ी, (col.) H. *n. f.* The clapping of hands. *تہاپی بجانا*—*bajáná*, *v.* to clap the hands; to mock; to hoot.
 تہاپک *thapak*, H. *n. f.* A pat; tap.
 تہاپڑا *thaperá*, थपेड़ा, H. *n. m.* A slap; the dashing of the waves; gust; blast of winds.
 تہاتر *tihattar*, तिहत्तर, H. *adj.* Seventy-three.
 تہاتک *táhattak*; A. *n. m.* Disgrace; exposure; dishonour; defamation.
 تہکارنا *thutkarná*, थुत्कारना (दुस्कारना) H. *v.* To drive away scornfully.

تہجد tahajjud, A. n. m. A form of prayer said after midnight.

تہجی tabajji, A. n. f. Spelling ; orthography. تہجی حروف hurúf-i—, n. m. the letters of the alphabet.

تہذیب tahzib, A. n. f. Civilization ; politeness ; refinement. تہذیب اخلاق—i-akhlāq, civilization ; good breeding. خلاف تہذیب کے—ke khilāf, *adj.* against manners. تہذیب یافتہ—yáfta, *adj.* civilized ; educated ; polite.

تہر thir, थिर, H. *adj.* Fixed ; settled ; stable ; calm. تہر رہنا—rahná, to be durable ; to last ; to continue fixed or firm.

تہر thar, H. n. m. Any thing spread ; layer ; coating or overlay (of paint, plaster ; etc.).

تہرا téhra, तेहरा, H. *adj.* Triple ; three-fold ; triplicate.

تہرانا tharraná, थराना, H. v. To tremble ; to shudder ; to quiver.

تہرانا thiráná, थिराना, H. v. To settle (as liquor) ; to become calm or tranquil. [quivering

تہر تہر thar thar, थरथर, H. *adj.* Trembling ; تہر تہرانا thartharáná, थरथराना, H. v. To tremble ; to quiver. [sluuder.

تہر تہری tharthari, थरथरी, H. n. f. Trembling ; تہر تہرانا thirakná, H. v. To dance with expressive actions and gestures.

تہس تہس tahas nahas, *adj.* Destroyed ; ruined. تہکا thakká थका, H. n. m. Anything congealed ; lump. تہکے کے تہکے thakke ke thakke, *adj.* in the mass or heap ; in the lumps or cluster ; clot ; congealed ; thick ; faded.

تہکا thaká, थका, H. *adj.* Weary ; tired ; exhausted ; تہکاوٹ thakáwaṭ, n. f. Weariness ; exhaustion , fatigue ; lassitude.

تہکنا thakná, थकना, H. v. To be wearied ; to be fatigued ; to become weak ; to be exhausted ; to faint.

تہل thal, थल, H. n. m. Land ; place ; ford ; spot ; site ; a mound. تہلچر—char, *adj.* terrestrial animal.

تہل تہل thalthaláná, } H. v. تہل تہل کرنا thalthal karná, थलथल करना, }
To fluctuate as a thick or glutinous fluid ; to

waggle to shake as the flabby flesh of a fat man.

تہلکا tahluka, or tuhalka, A. n. m. Consternation ; panic.

تہم tham, } H. n. m. A pillar ; a post ; a column.
تہمب thamb, }
تہمبا thambá, }

تہمت tuhmat, A. n. f. False accusation ; calumny. تہمت لگانا—lagáná, v. to accuse ; to calumniate.

تہمتی tuhmatí, P. n. m. A slanderer ; calumniator ; false accuser. [to be supported.

تہمنا thamná, थामना, H. v. To stop ; to cease ; تہن than, H. n. m. Udder ; teat ; dug ; pap.

تہندار thandár, H. *adj.* An animal with a large udder or having an udder. [horses.

تہنی thaní, H. n. f. The name of a blemish in تہنیات tahniyat, A. n. f. Congratulations ; wishing one joy or prosperity. [to heap.

تہوپنا thopná, थोपना, H. v. To prop ; to plaster ; تہوترا thotrá, H. *adj.* Worn or eaten ; blunted ; hollow ; toothless.

تہوترا thúthrá, थुथड़ा, H. n. m. Mouth.

تہوترا تہنی thúthni, थुथनी, H. n. f. The mouth of a horse, camel &c.

تہورنا thúrná, थुर्ना, H. v. To hammer ; to goad.

تہورا thorá, थोड़ा, H. *adj.* A little ; scanty ; slight. تہورا بہت—bahut, *adj.* more or less.

تہورا تہورا—thorá, *adj.* a little ; by degrees.

تہورا سے تہورا thore se—, *adj.* very little.

تہورا کرنا—karná, v. to lessen ; to reduce.

تہورا دنوں سے—dinon se, of late ; since the last few days.

تہورک thok, थोक, H. n. m. Mass ; quantity ; company ; total amount ; portion ; a tenure.

تہورکار—dár, n. m. a wholesale dealer ; the holder of a principal share in a village who is responsible for the payment of the revenue.

تہورک کر چاٹنا thúk, थुक, H. n. m. Spit. تہورک کر چاٹنا—kar cháṭná, v. to break one's words.

تہورک لگانا—lagáná, v. to apply spittle ; to defeat.

تہورکنا thúkná, H. v. To spit.

تہورنی thúni, H. n. f. A post ; a pillar ; a prop.

تہورہر thúhar, थुहर, H. n. m. A species of thorny euphorbia ; a cactus.

تہی tihí, P. *adj.* Empty; void; vacant. دست تہی —dast, *adj.* poor; empty-handed. پھاروتہی کرنا pahlú—karná, to abstain; to evade. پھاروتہی دماغ pahlú—dimág, empty-headed; ignorant.

تہیر thír, تیر, (स्थिर S.) H. *adj.* Calm.

تھگی thegí, थगली, H. *n. f.* A patch.

تھالی thailá, थला, H. *n. m.* A large bag; a sack.

تھالی thailí, H. *n. f.* A small bag; a purse.

تھورا thewá, H. *n. m.* A stone set in ring.

تہایہ tahaiyá, P. *n. m.* Preparation; provision; putting in order.

تیار taiyár, P. *adj.* Ready; prepared; complete; fully developed; lump; in full vigour; ripened (fruit); fat. تیار کرنا—karná, *v.* to make ready; to prepare; to provide; to train; to put in order; to fatten.

تیاری taiyárl, P. *n. f.* Readiness; preparation; arrangement; fatness; pomp; magnificence.

تیاگ tiyág, त्याग, S. *n. m.* Relinquishment; abdication; renunciation; divorce. تیاگ پتر—patr, a writ of divorce. [resign; to divorce.

تیاگنا tiyágná, H. *v.* To leave; to abandon; to تیاگی tiyágl, S. *n. m.* A hermit; a recluse; a religious ascetic.

تپچی tepchí, H. *n. f.* A running stitch; felling; basting (a garment).

تیتا titá, तीता (तिक्त S.) *adj.* Bitter; pungent; hot.

تینتالیس tentáls, तैंतालीस, H. *adj.* Forty-three.

تیتار títar, तीतर, H. *n. m.* A partridge. تیتار و لایاتی wiláyatí—, a guinea fowl. تیتار بن ban—, the sandgrouse or rock pigeon. (Pro.) تیتار کے منہ سے لچھمی ke mugh lachhmi, good fortune springs from the mouth of the partridge; great issues wait on the words of small men.

تیتری títrí, H. *n. f.* A butterfly; a female partridge.

تیتیس tetís, तैंतीस, H. *adj.* Thirty-three.

تہج tej, तेज, *n. m.* Splendour; glory; sharpness; power; refulgence. تہج مان—mán, *adj.* glorious.

تہج tij, तीज, H. *n. m.* The third day of a lunar fortnight; the Hindú festival observed on the third day of the lunar fortnight in Sawan; the lady bird.

تہج tijá, *n. m.* The third day after death on which oblations are offered among Muham-madans. [cassica.

تہج پات tej pát, *n. m.* The leaf of the Lawas تہج و نت tejwant, तेजवंत, S. *adj.* Glorious; majestic, brilliant; refulgent.

تیر tír, P. *n. m.* An arrow. تیر انداز—ándáz, *n. m.* Bowman; an archer. تیر اندازی—ándází, *n. f.* archery. تیر ہدف—bahadaf, hitting the mark to the point تیر چلانا یا پھینکنا—chaláná yá phenkná, to shoot an arrow; to do something wonderful. تیر سا—sá, dart-like. تیر ناک—i-falak, the planet Mercury. تیر کا ٹپہ—ká tappa, the range of an arrow. تیر کش—kash, *n. m.* a loophole. [close at hand.

تیر tír, तीर, H. *n. m.* A bank; a shore; near (to); تیرا terá, तेरा, H. *pron.* Thy; thine.

تیراک tairák, तैराक, H. *n. m.* A swimmer.

تیراکی tairákl, H. *n. f.* The art of swimming.

تیرتھہ tírath, तीर्थ, H. *n. f.* A holy spot; a place of pilgrimage (especially sacred waters).

تیرتھہ راج—járá, *n. f.* pilgrimage. تیرتھہ راج—ráj, the city of Allahabad. تیرتھہ کرنا—karná, *v.* to go on a pilgrimage.

تیرس teras, तेरस, H. *n. f.* The thirteenth day of the lunar fortnight. تیرس دھن dhan—, *n. f.* the Hindú festival held on 13th Katik.

تیرگی tíragí, P. *n. f.* Darkness; obscurity; gloom.

تیرنا tairná, तैरना, H. *v.* To swim; to float.

تیرہ terah, तेरह, H. *adj.* Thirteen.

تیرہ tíra, P. *adj.* Dark; obscure. تیرہ ابر—abr, black clouds. تیرہ بخت—baqht, unfortunate.

تیرہ رولڈ—dil, black-hearted; malicious. تیرہ روزی—rozí, misfortune; adversity.

تیرہویں terhwíng, H. *n. f.* The thirteenth day after death when the last of the funeral rites is performed among Hindús.

تیز tez, P. *adj.* Sharp; pointed; acute; pungent; hot; caustic; fiery; swift; violent; dear; high-priced; clever; apt; quick. تیز آب—ab, *n. m.* an acid; aqua fortis. تیز پر—par, high flying. تیز رفتار—raftár,—rau, fast-going; swift-paced. تیز طبع—taba', quick of apprehen-

tion; of an acute genius. تیز دست—*dast*, *adj.* dexterous. تیز فہم—*fahm*, *adj.* intelligent. تیز قدم یا گام—*qadam* or *gám*, *adj.* swift; quick. تیز نگاہ—*nigáh*, *adj.* sharp-sighted. تیز ہونا—*honá*, *v.* to be sharpened; to be thrown into a passion.

تیزی *tezí*, *P. n. f.* Sharpness; pungency; swiftness; impetuosity; shrewdness; dearness.

تیس *tís*, तीस, *adj.* Thirty. تیس دن *tíson din*, regularly; every day. تیس مارخان—*nár-khán*, *n. m.* (ironic) a very brave man.

تیساً *taiśá*, तैसा, *H. adj.* Such *adv.* so; in that manner.

تیسرا *tísrá*, H. *adj.* Third. تیسرے *tísre*, *adv.* thirdly.

تیسری *tísí*, तीसी, *H. n. f.* Flax; linseed.

تیشہ *tesha*, *P. n. m.* A carpenter's axe; an adze.

تیغ *teg*, *P. n. f.* A scimitar; a dagger. تیغ بکاف—*bakaf*, sword in hand. تیغ زن—*zan*, a swordsman. تہہ کرنا—*tah-e-karná*, to put to the sword.

تہا *tegá*, *P. n. m.* A short, broad scimitar.

تہیقن *tayaqqun*, *A. n. m.* Ascertainment; certainty.

تیکھا *tíkhá*, तीखा, *H. adj.* Sharp; pungent; passionate; bright; graceful.

تیکھر *tíkhur*, *H. n. f.* A starchy substance obtained from the root of the *Curcuma anguitti folia*; Indian arrowroot.

تیل *tel*, तेल, *H. n. m.* Oil. تیل چڑھانا—*chapháná*, *v.* to anoint the head, shoulders and hands and the feet of the bride and bridegroom with oil mixed with turmeric, etc., during the marriage.

تیلی *telí*, *H. n. m.* An oilman. تیلی کا بیل—*ká bail*, an oilman's ox; a hard-working wretch.

تیلی *tíli*, *H. n. f.* A wooden or iron thin bar, or wire.

تیلیا *teliyá*, *H. adj.* Oily; dark. تیلیا سرنگ—*surang*, *adj.* light bay coloured. تیلیا کاکریزی *kákrezi*, a deep purple colour.

تیمم *tayammum*, *A. n. f.* Purifying before prayer with sand or dust, when water cannot be had.

تین *tín*, H. *adj.* Three. تین پانچ—*pánch*, *n. f.* quarrel; dispute; knavish tricks; dodges. تین پانچ کرنا—*pánch karná*, *v.* to quarrel; to practise tricks upon. تین تیرہ—*terah*, *adj.* dispersed; scattered. تین حرف بھیجنا—*harf bhejná*, *v. i. (lit.)* to send the three primary letters of (لغت *la'nat* scorn) hence to abuse or curse. تین رقمی قانون—*raqmí qánún*, rule of three. تینوں دکھہ—*tínon dukh*, the three kinds of troubles:—(1) *Daitik*, that occasioned by body, (2) *Bhavatik*, that which arises from contact with the world, (3) *Daivik*, that which comes from Providence.

تیندو *tendú*, *H. n. m.* A kind of fruit.

تیندرا *tendná*, *H. n. m.* A leopard.

تیر *tewar*, तैवर, *H. n. m.* Eyesight; look; giddiness. تیر بدلنا—*badalná*, *v.* to change colour or countenance.

تیرانا *teoráná*, *H. v.* To have a swimming in the head; to be giddy; to faint; to stagger.

تیروس *teoras*, *H. n. m.* Year before last.

تیری *teorí*, त्योरी, } *H. n. f.* A frown. تیری چڑھانا }
تیری *teorí*, } —*chapháná*, *v.* to frown; to knit the brow.

تیروں *tyún*, त्यों, *H. adv.* So; in like manner; at the same time. [holiday.

تیرہار *teohár*, त्योहार, *H. n. m.* A festival; a

تیرہاری *teoharí*, *H. n. f.* A present made at a festival.

تیرھی *teonhí*, त्योही, *H. adv.* At the very moment; at once; exactly then.

تہا *tehá*, तेहा, *H. n. m.* Anger; passion; vehemence.

تہرا *tehrá*, तेहरा, *H. adj.* Triplicate; three-fold.

تیس *teís*, तेइस, *adj.* Twenty-three.

تیہہ *tiyá*, *H. n. m.* A boundary mark. تیہہ بندی—*bandí*, *n. f.* setting a boundary.

ت

ت *te*, represents the Sanskrit or Hindí letter. It does not occur in the Arabic or Persian alphabets, and its sound or pronunciation differs from that of ت *te* in being formed by the

tip of tongue to the plate, instead of the roots of the teeth.

تاپر *tábar*, H. n. f. A small lake ; a cottage ; a family.

تاپ *táp*, टप, H. n. f. The hoof of a horse ; the tramp of a horse's hoofs. تاپ مارنا *márná*, to paw or beat the ground (a horse, etc.).

تاپا *tápá*, H. n. m. A hen-coop; bamboo frame for catching fish ; a frame-work covered with muslin placed over a cradle. تاپا توئی کرنا —*toi karná*, v. to grope; to rummage ; to find out and repair leaks in a thatched roof.

تاپنا *tápná*, टपना, H. v. To paw (as a horse) ; to be impatient ; to be kept waiting ; to look about or search in vain ; to leap or spring over a wall, etc.

تاپو *tápú*, टपू, H. n. m. An island.

تات *tát*, टट, H. n. m. Sackcloth ; canvas ; the capsular pod of green gram. تات اولنا —*ulátná*, v. to become a bankrupt.

تات باف *tát báf*, P. n. m. A weaver of canvas.

تات بافی *tát báfí*, H. n. f. Embroidery.

تال *tál*, टल, H. n. f. A stack (of wood) ; a heap (of grain, etc.); evasion; putting aside. تال کرن —*karná*, to put off; to set up a *tál*. تال مارنا —*márná*, v. to give a twist to the beam in weighing.

تالا *tálá*, टला, H. n. m. Putting off ; evasion. تالا بالابتنا —*bálá batáná*, v. to put off; to make excuses.

تال تال *tál tál*, टल-टल } H. n. m, Putting off ; evasion ; chicanery. ताल मटोल }
تال مٹول کرنا —*maṭol karná*, v. to put off ; to evade ; to practise delay.

تالنا *tálná*, टالना, H. v. To postpone ; to put off ; to remove ; to ward off.

تاپی H. n. f. A small bell.

تانت *tánt*, H. n. f. The crown of the head ; skull. تانت گنجی ہونا —*ganji honá*, a to become bald ; to be ruined.

تانتا *tántá*, H. adj. Strong ; stout.

تانتھ *tánch*, H. adj. Perverse ; troublesome.

تانتھنا *tánchná*, H. v. To fly ; to hover about like a pigeon ; to practise deceit.

تاندا *tándá*, H. n. m. The goods of a *banjára* ; household furniture ; a caravan of merchants. تاندا لادنا —*ládná*, v. to pack up bag and baggage ; to set on a journey.

تانک *tánk*, H. n. f. Share ; valuation ; a weight equal to four *māshas* ; an iron pin ; a rivet.

تانکا *tánká*, टانका, H. n. m. A stitch ; solder. تانکے لگانا —*tánke lagáná*, v. to stitch ; to sew ; to solder.

تانکنا *tánkná*, H. v. To stitch ; to cobble ; to solder ; to join to ; to enter ; to make a note or memorandum of ; to record.

تانکھ *tánkh*, H. n. m. An underground reservoir for water.

تانکی *tánki*, टانकी, H. n. f. A chisel ; a small hole ; square piece cut out of a melon to examine its quality ; a venereal ulcer.

تانگ *táng*, टाँग, H. n. f. A leg. تانگ اڑانا —*aṛáná*, v. to intermeddle. تانگ دینا —*dená*, v. to hang up ; to suspend. تانگ رہ چنا —*rah jáná*, to have gout in the legs. تانگ تیلے سے نکالنا —*tale se nikalná*, to submit ; to yield.

تانگان *tángan*, H. n. m. A kind of horse ; a hilly pony.

تانگنا *tángná*, टाँगना, H. v. To hang up ; to suspend ; to dangle.

تانگی *tángí*, H. n. f. A hatchet.

تایور *táyur*, H. n. f. A hack.

تیب *tíbbá*, H. n. m. Height ; rising ground ; a sand-drift ; a hill.

تبابر *tábbar*, H. n. f. Family ; house-hold.

تپا *tappá*, टप्पा, H. n. m. A jump ; a bound ; distance ; range ; shot ; a stage ; a mode in music ; a small tract or division of country smaller than a *pargana*, comprising one or more villages. تپا کھانا —*kháná*, to bound or *ricchet* a ball.

تپا *tapá*, H. n. m. An island in the river.

تپا تپا *tápátáp*, टपाटप, H. adv. Without ceasing ; successively.

تپال *típpál*, H. n. m. A post-station ; post office ; a relay of numbers. تپال والا —*wálá*, a letter-carrier ; a postman.

تپتپانا *ṭaptapána*, टपटपाना, H. *v.* To drop continually; to drip.

تپس *tippas*, टिप्स, H. *n. f.* Firm footing; claim; alliance. تپس جمانا يا لگانا—*jamána ya lagána*, *v.* to make or lay a foundation; to obtain a firm footing; to secure the interest of; to put in a word for oneself.

تپک *tapak*, टपक, H. *n. f.* Sound made by dropping; pain; throbbing. تپک پڑنا—*parná*, *v.* to drip; to drop.

تپکا *ṭapká*, टपका, H. *n. m.* Dropping; falling of ripened fruit (particularly mangoes); a wind-fall. تپکا لگنا—*lagná*, to become leaky; to leak. [to distil.]

تپکانا *ṭapkána*, टपकाना, H. *v.* To cause to drip;

تپکاو *ṭapkáo* H. *n. m.* Distillation; dripping.

تپکنا *ṭapakná*, H. *v.* To drip; to distil; to leak; to throb; to palpitate.

تپن *tippán*, H. *n. f.* Annotation; commentary.

تپتا *ṭaṭṭá*, टट्टा, } H. *n. m.* A matted shutter;

تپتار *ṭaṭṭar*, टट्टर, } a bamboo work frame.

تپتپا *ṭut punjiá*, टुटपुजिया, H. *adj.* Having a small capital; reduced in circumstances; a petty merchant of small means.

تپتروں *ṭutrún ṭún*, H. *n. m.* The cooling of a dove; *adv.* alone; all forlorn.

تپکا *ṭaṭká*, H. *adj.* Fresh; recent; new.

تپکارنا *ṭiṭkárna*, टिटकारना, H. *v.* To urge an animal by *ṭiṭkári*, or clacking the tongue.

تپکاری *ṭiṭkári*, टिटकारी, H. *n. f.* The sound made by drawing the tongue from the roof of the mouth to make horses, &c. proceed.

تپتو *ṭaṭṭú*, टट्टू, H. *n. m.* A pony; an undersized horse. تپتو کا بھارے—*bhāre-ká*—*adj.* Sordid; Avaricious; mecenary.

تپول *ṭaṭol*, H. *n. f.* Touch; groping; feeling.

تپولنا *ṭaṭolná*, टटोलना, H. *v.* To feel; to grope; to touch; to try.

تپتی *ṭaṭṭí*, H. *n. f.* A matted shutter; a framework of bamboos (used for illumination, as support for creepers, or to form an enclosure); a privy or latrine. تپتی جانا—*jána*, *v.* to perform a function of nature, تپتی

لگانا—*lagána*, *v.* to screen; to fence. تپتی کی اگنا—*ki oṭ meṭ shikár khelna*, *v.* to shoot from behind a screen; to do a thing secretly. تپتی کی کھس *khas kí*—, a frame covered with fragrant *andropangan* grass.

تپتی *ṭaṭiyá*, टटिया, H. *n. f.* A matted shutter.

تپتیری *ṭaṭihri*, } H. *n. f.* A sandpiper. تپتیری سے آسمان توں جاویگا *ṭaṭíri*, } *kahín*—*se ásmán tham jáwegá*, this bird is fabled to sleep with its legs upwards as if to prop the firmament, hence said of a person who undertakes an enterprise far above his strength. [; worthless.]

تپتا *ṭuchchá*, टुच्छ, H. *n. m.* A rake; *adj.* mean;

تپتھنا *ṭakhná*, H. *n. m.* The ankle-joint.

تپتدا *ṭiddá*, टिट्टा, H. *n. m.* A grasshopper.

تپتدی *ṭiddí*, H. *n. f.* Locusts. تپتدی دل—*dal*, *n. m.* a large army of locusts.

تپتار *ṭar*, टर, H. *n. m.* The croaking of a frog; shout; cry; roughness; insolence; rudeness.

Prov. عيد پيچھے تپتار برات پيچھے دھنسا *Id píchhe ṭar, barát píchhe dhonsá*, After the festival rejoicing, the after wedding music Cf. the English saying "To close the stable door after the horse has escaped". The meaning is to take some necessary action when it is too late to do so with advantage. [vicious.]

تپتارا *ṭarrá*, टर्रा, H. *adj.* Saucy; obstinate; harsh;

تپتارانا *ṭarrána*, H. *v.* To murmur; to grumble; to use insubordinate language; to be insolent.

تپتارتار *ṭartar*, टरतर, H. *n. f.* Murmur; cackle; sauciness; insolence. [off.]

تپتارکانا *ṭarkána*, टरकाना, H. *v.* To shuffle; to put

تپتار *ṭasar*, टसर, H. *n. m.* A kind of silk cloth.

تپتار مسر *ṭasar masar*, H. *n. f.* Hesitation; delay.

تپتاسک *ṭasak*, H. *n. f.* Shooting pain; stitch; throb.

تپتاسکنا *ṭasakná*, टसकना, H. *v.* To move; to stir; to feel pain. [quietly.]

تپتاسکنا *ṭusakná*, टसकना, H. *v.* To sob; to weep

تپتاسو *ṭasve*, H. *n. m.* False tears.

تپتاک *ṭak*, H. *n. f.* Sight; a look; store. تپتاک لگانا—*lagána*, *v.* to expect; to]long for. تپتاک باندهنا—*bāndhná*, *v.* to stare at; to gaze.

تک tuk, टुक, H. *adv.* For a while ; *adj.* a little.
 تکا tuka, टका, H. *n. m.* A copper coin equal to pice, now obsolete ; a rupee ; money. تکا سا بھار—bhar, as much as a *taká* ; a little. تکا سا جواب—sá jawáb dená, *v.* to give a point blank refusal ; to give a plain answer. تکا سی جان—sí ján, a sole individual. تکا پیسہ دینا—paserí laganá, to sell cheap. تکا سیر بھاجی—ser bhájí táká ser khajá, a certain Rájá of Jhúnsí, a place in the Allahabad district on the bank of Ganges, fixed the rate of vegetables and sweetmeats at half an anna per seer and thereby caused the ruination of the kingdom. The saying has been passed into this proverb.
 تیکانا tikáná, टिकाना, H. *v.* To retain ; to cause to stay ; to stop ; to lodge ; to put (one) up ; to apply ; to lay on ; to give a slap.
 تیکاوُ tikáu, टिकाऊ, H. *adj.* Lasting ; durable.
 تیکاوُ tikáo, टिकाव, H. *n. f.* Stability ; firmness ; abode.
 تیکٹ tikaṭ, H. *n. m.* (*Corr. from the English*). A ticket ; a postage stamp ; a label ; a pass ; a court-fee stamp.
 تیکتکی taktakí, टकटकी, H. *n. f.* Stare ; gaze ; fixed look. تیکتکی باندھنا یا لگانا—báñdhná yá lagáná, to gaze steadfastly at ; to remain staring or wide open (the eyes).
 ٹکڑ tukkar, टकर, H. *n. f.* Knocking against ; butting ; collision ; shock ; encounter ; match. ٹکڑ کھانا—kháná, *v.* to be dashed against anything ; to come into collision with ; to suffer loss or damage. ٹکڑ لینا—lená, *v.* to confront ; to encounter. ٹکڑ مارنا—márná, *v.* to knock against ; to oppose ; to try ; to strive. ٹکڑ کی برابر کی—barábar kí—ká, *adj.* equally good ; equal.
 ٹکڑانا tukráná, H. *v.* To knock together the heads of two people ; to dash together ; to go along stumbling ; to grope in a dark place or passage.
 ٹکڑا tukrá, टुकड़ा, H. *n. m.* A piece ; a part ; a bit ; a morsel ; fraction ; clause ; livelihood. ٹکڑے ٹکڑے کرنا—tukre tukre karná, *v.* to break

into pieces. ٹکڑے کرنا—karná, *n.* to break ; to divide. ٹکڑ گدا—tukar gadá, *n. m.* a beggar. ٹکڑا چاند کا—chánd ká—, a lovely creature.
 ٹکسال taksál, टकसाल, H. *n. f.* A mint.
 ٹکسالئی taksálí, H. *n. m.* An officer of the mint ; of true value ; genuine ; current speech ; mintmaster ; coiner. زبانِ ٹکسالئی—zabán pure language ; good idiom.
 ٹیکلی tiki lí, H. *n. f.* An ornament worn by women on the forehead.
 ٹیکنا tákna, टकना, H. *v.* To be sewn ; to be stitched.
 ٹیکنا tíkna, टिकना, H. *v.* To stop ; to stay ; to lodge ; to last ; to put up. [(kairí) ; a filip.
 ٹیکورا tikorá, H. *n. m.* A small unripe mango.
 ٹیکیا tikiyá, टिकिया, H. *n. f.* A small cake ; a wafer ; a small charcoal cake for the *huqqá*.
 تکیٹ takait, H. *adj.* and *n. m.* Possessing ready money ; a moneyed men.
 ٹیقلانا tighláná, टिघलाना, H. *v.* To melt ; to dissolve.
 ٹالانا taláná, टलाना, H. *v.* To cause to disappear or give way ; to remove ; to pass in idleness ; to beguile time.
 ٹالنا talná, टलना, H. *v.* To stir ; to move ; to be dislocated (as a bone) ; to get out of the way ; to decamp ; to pass by or away ; to withdraw (a promise, &c.). [ostentation.
 ٹیماک tímák, H. *n. m.* Show ; pomp ; vanity ; ٹیم ٹیم—tím tím, टिमटिम, H. *n. m.* A soft sound ; gentle dizzying. [to ; to twinkle.
 ٹیمٹیمانا tímṭimáná, H. *v.* To give a faint light
 ٹیمٹیمہاٹ tímṭiméhaṭ, H. *n. f.* Twinkling ; glimmer ; flicker.
 ٹیمکی tímki, टिमकी, H. *n. f.* A little drum. ٹیمکی پیٹنا—pítná, to make proclamation.
 ٹانٹا tanṭa, टंटा, H. *n. m.* Wrangling ; brawl. ٹانٹے باز—tánṭe báz, *adj.* quarrelsome.
 ٹانٹانانا tunṭunáná, टुनटुनाना, H. *v.* To sound or ring a bell ; to tune (an instrument).
 ٹانچ tanṭch, H. *adj.* Ready ; prepared.
 ٹنڈ tund, H. *n. m.* A hand or branch that has been cut off.

तडा *ṭuṇḍa*, H. *adj.* Handless ; *n. m.* person without hands or arms (whether maimed or born so).

तडी *ṭuṇḍī*, हुँडी, H. *n. f.* The navel.

तडेल *ṭaṇḍel*, टंडेल, H. *m.* The commander or head of a *ṭaṇḍā* or body of men as workmen, labourers, lascars, &c.

तनक *ṭanak*, H. *n. f.* A harsh sound ; jingle ; tinkle (of metal, china, &c.) ; shooting pain.

तक *ṭank*, टङ्क, S. *n. m.* A weight equal to four *māshās* ; a sword ; a hatchet.

तकार *ṭankār*, टंकार, A. *n. f.* The twang (of a bowstring).

तगारना *tungārnā*, H. *n. f.* To pluck (fruit) ; to nibble.

तगना *ṭangnā*, टेंगना, H. *v.* To be hung.

तनुया *tun'iyā*, टुंया, H. *adj.* Tiny. *तनुया*—*totā*, *n. m.* a kind of parrot ; a paroquet.

तोआ *ṭoā*, H. *n. f.* Act of feeling of groping.

तोबा *ṭobā*, H. *n. m.* A long stitch.

तोप *ṭop*, *ṭopā*, टोप टोपा, H. *n. m.* A hat ; a cap which covers the ears (*konṭop*) ; helmet ; a kind of hood ; bait ; a stitch.

तोपी *ṭopī*, H. *n. f.* A hat ; a cap ; a gun-cap.

तूत *ṭūt*, टूट, H. *n. f.* Breach ; breaking ; fracture ; misunderstanding ; coolness (between friends) ; loss ; an omission in the text which is afterwards supplied in the margin. *तूत*—*paṇā*, *v.* to be collected in crowds ; to break in upon.

तूत—*janā*, *v.* to be broken.

तूटा *ṭūṭā*, टूटा, H. *adj.* Broken ; damaged ; demolished. *n. m.* loss ; damage. *तूटा*—*phūṭā*, *adj.* broken to pieces. *तूटा*—*paṇā*, to incur or suffer a loss.

तोटा *ṭoṭā*, टोटा, H. *n. m.* Candle-ends ; a cart-ridge ; loss ; deficiency ; damage. *तोटा*—*uṭhānā*, to suffer loss ; to sustain injury or damage. *तोटा*—*bharnā*, to make good a loss or damage ; to indemnify ; to refund. *तोटा*—*paṇā*, to suffer or incur loss.

तोटाका *ṭoṭkā*, टोटका, H. *n. m.* A charm ; an amulet ; a spell.

तूटना *ṭūṭnā*, टूटना, H. *v.* To be broken ; to happen ; to fall upon ; to be reduced to poverty ; to fall (as a bank or as a supply) ; to burst ; to rush upon ; to feel pains in the joints ; to become weak or infirm ; to fall in torrents (as rain).

तोरा *ṭorā*, H. *n. m.* A kind of anklet with several small bells worn by children and women.

तोरी *ṭorī*, H. *n. f.* The name of a musical mode.

तोक *ṭok*, टोक, H. *n. f.* Hindrance ; interruption ; prevention ; parole ; watchword ; the influence of an evil eye *तोक*—*ṭak yā ṭokā ṭakī*, *n. f.* hindrance.

तुक *ṭūk*, टुक, } H. *n. m.* A piece ; a bit ; an }
तुका *ṭūkā*, } action.

तुकरा *ṭokra*, टुकरा, H. *n. f.* A large basket.

तुकरी *ṭokri*, H. *n. f.* A small basket.

तुकना *ṭoknā*, टुकना, H. *n.* To interrogate ; to prevent ; to hinder ; to stop ; to accost ; to call in question ; to censure ; to look at with an evil eye.

तुला *ṭolā*, टोला, H. *n. m.* A quarter or particular part of a town ; a part of a town inhabited by men of one sect ; a filip ; a large pebble ; a stroke.

तुली *ṭolī*, टोली, H. *n. f.* A society ; a group ; a company ; a quarter of a town.

तुना *ṭonā*, टोना, H. *n. m.* Charm ; enchantment ; necromancy ; magic ; *v.* to grope. *तुना*—*bāz*, *n. m.* charmer ; conjurer. *तुना*—*ṭonhāī*, *n. f.* a female conjurer ; a witch.

तुन्त *ṭont*, टोंट, H. *n. f.* A beak ; a bill.

तुन्ता *ṭontā*, H. *n. m.* A cracker ; a joint of bamboo, &c.

तुन्ती *ṭontī*, टोंटी, H. *n. m.* A spout. *तुन्ती*—*wālā ṭoṭā*, an ewer.

तुनाहा *ṭonahā*, H. *n. m.* A conjurer ; magician.

तोह *ṭoh*, टोह, H. *n. f.* Touch ; search ; spying.

तोहना *ṭohnā*, टोहना, H. *v.* To touch ; to grope for.

तहात *ṭhāt*, ठाट, H. *n. m.* A frame-work of bamboo for thatching ; splendour ; arrangement.

تہاٹھ *tháth*, ठाठ, H. n. m. Dignity ; pomp ; plenty ; decoration ; equipage. *تہاٹھ بدالنا*—

badalná, v. to change one's posture or attitude. *تہاٹھ کے ساتھ* *bat ke sáth*, with great pomp and show.

تہاکر *thákur*, ठाकुर, H. n. m. A lord ; a master ; a chief among Rajputs ; the head of a village ; a title of honour (in Bengal written *Tagore*) ; a title of respect as Sir, Master, &c. ; a landholder ; an idol ; a god ; a person of rank or authority. *تہاکر درارا* - *تہاکر بازی*—*bárfi*,—*dwárá*, n. m temple.

تھال *thál*, थाल, H. n. f. The state of being out of employment ; leisure ; holiday.

تھالا *thála*, थाला, H. adj. Unemployed ; at leisure. *تھالا ہونا*—*honá*, v. to be unemployed. *تھالا پھرنا*—*phirná*, to saunter about.

تھان *thán*, H. n. f. The sound of a gun ; a hang ; a ring ; an echo.

تھانسنہ *thánsná*, ठानना, H. v. To make firm ; to stuff ; to cram ; to drive in ; to thrust.

تھاننا *thánná*, ठानना, H. v. To make up one's mind ; to resolve ; to determine ; to set the heart upon.

تھانوں *tháon*, ठाँ, H. n. f. Place ; locality ; residence.

تھاپا *thappá*, ठपा, H. n. m. A stamp ; an impression ; printing-type ; a fount ; a die ; a mould ; broad silver lace. *تھاپا ثبت کرنا*—*sab karná*, to stamp ; to impress.

تھاتھا *tháthhá*, ठठा, H. n. m. Fun ; a joke ; a jest. *تھاتھے بازی* *tháthhe bázi*, n. f. joking ; jesting. *تھاتھے باز*—*báz*, a jocular ; a jester ; a funny fellow. *تھاتھے میں اڑانا*—*men uráná*, to turn off in a jest. *تھاتھا کرنا یا مارنا*—*karná yá márná*, v. to joke ; to jest ; to deride.

تھاتھانا *thátháná*, H. v. t. To strike, beat ; to harass (oneself).

تھاتھار *tháthar*, ठठार, H. n. m. A frame for thatching.

تھتھورا *thithurá*, ठठुरा, H. adj. Benumbed ; torpid ; chilled.

تھتھارانا *thitharána*, H. v. To chill ; to benumb.

تھتھارنا *thitharná*, H. v. To be chilled with cold ; to be benumbed ; to shiver.

تھتھاری *tháthri*, ठठरी, H. n. f. A bier ; a skeleton ; a very thin person.

تھتھاکنا *thithakná*, ठठकना, H. v. To stop suddenly ; to stand amazed ; to hesitate ; to draw back in surprise.

تھتھول *tháthol*, ठठोल, H. n. m. A jester ; a humorist ; a wag ; a banterer.

تھتھولی *thátholí*, H. n. f. Joking ; jesting ; humour ; fun ; derision.

تھتھ *tháth*, H. n. m. A throng ; a crowd ; multitude.

تھتھیرا *tháthérá*, ठठेरा, H. n. m. A maker of a hard-ware or metal pots ; brazier ; a tinker ; the stalk of *jwár*, etc. *تھتھیرے کی بدلائی* *tháthere tháthere ki badláí*, n. f. a bargain between two people equally acute or knowing 'diamond cuts diamond'.

تھتھڈا *tháddá*, ठठडा, H. n. m. The back stick of a paperkite ; backbone.

تھتھڈی *thuddí*, ठठड़ी (ठोड़ी), H. n. f. The chin ; unlist parched grain. *تھتھڈی پکڑنا*—*pakarná*, to flatter ; to carry favour with ; to appease. *تھتھڈی کا گدھا*—*ká gaddhí*, the dimple in a chin.

تھتھیر *thir* ; H. n. f. Frost ; coldness.

تھتھارا *tharra*, ठठा, H. n. f. An inferior kind of country wine.

تھتھاس *thas*, adj. Crammed ; solid ; not hollow.

تھتھاسا *thasá thus*, adj. Stuffed ; full ; filled ; crammed ; crowded.

تھتھاسانا *thusáná*, ठठसाना, H. v. To cause to stuff.

تھتھاسکا *thaská*, ठठसका, H. n. f. The hacking sound of a cough ; pride ; affected gait ; foppishness.

تھتھاسکنا *thasakná*, ठठसकना, H. v. To break a piece off any vessel of earthenware from collision.

تھتھاسکنا *thusakná*, H. v. To sob ; to weep silently.

تھتھاسنا *thusná*, ठठसना, H. v. To be stuffed ; to be crammed.

تھتھکانا *thikána*, ठठकाना, H. n. m. Whereabouts ; place ; residence ; address ; direction ; limit ;

end ; reliance ; trust ; harmony ; origin.
 دھنڈھن ۽ دھنڈھن — dhnūdhna, *v.* to look out for a residence or employment.
 دھنڈھن رانہ — dhnūdhna rahná, to remain stationary ; to abide in one course, etc.
 دھنڈھن کرنا — karná, *v.* to make room for ; to find a place for ; to arrange ; to account for ; to search or trace an affair to its source ; to find a husband or wife for.
 دھنڈھن لگانا — lagáná, *v.* to find out one's residence ; to trace.
 دھنڈھن لگانا لگانا — dhnūdhna lagáná, to dispose of ; to settle ; to make away with ; to consume ; to despatch. In *Hundi's* the phrase *dhikáná lagáe* is a direction to ascertain the residence of the payee before making payment ; *v.* to spend ; to kill.
 دھنڈھن ۽ بے دھنڈھن be dhnūdhna, out of place ; inconsistent ; indeterminate ; uncertain.

تھک تھک *thak thak*, ठकठक, *H. n. f.* A sound of knocking ; troublesome business.

تھک تھک کرنا *thakthakáná*, *H. v.* To tap ; to pat ; to knock.

تھکرا *thikrá*, ठिकरा, *H. n. m.* Fragment of an earthen vessel. *Prov.*

جو نہ مانے بڑے کی سیکھ

تھکرا لیکے مانگے تھکھکھ

Jo na máne baré kí sikh

Thikrá leke mánge bhikh.

Whosoever does not follow the advice of elders, shall have to go a-begging.

تھکرا کرنا *thukráná*, ठुकराना, *H. v.* To kick or strike with the toes.

تھکرائی *thakurái*, ठकुराई, *H. n. f.* Mastership ; lordship ; godship.

تھکرا سہاٹی *thakur suháti*, *S. n. f.* Compliment ; flattery.

تھکنا *thukná*, ठुकना, *H. v.* To be beaten or hammered ; to be defeated.

تھگ *thug*, ठग, *H. n. m.* One of a gang who strangle travellers ; a robber ; an impostor ; a cut-throat ; a swindler.
 بیدیا تھگ — bidyá, *n. f.* the art of tricking or cheating ; fraudulent arts.
 تھگ لانا — láná, *v.* to cheat.

تھگانا *thagáná*, ठगाना, *H. v.* To be cheated ; to cause to be cheated.

تھگائی *thagái*, ठगाई, *H. n. f.* Cheating ; robbery ; swindling. [beguile ; to rob.]

تھگنا *thagná*, *H. v.* To cheat ; to deceive ; to

تھگنی *thagní*, *H. n. f.* A female robber or cheat.

تھگی *thági*, *H. n. f.* The practice of a *thag* ; cheating ; imposture.

تھل *thal*, टहल, *H. n. f.* Service ; servitude ; attendance ; business ; housewifery.
 تھل کرنا *karná*, *v.* to serve ; to attend upon.

تھلانا *thhláná*, टहलाना, *H. v.* To lead about (a child or a horse) ; to cause to walk up and down ; to dismiss ; to turn aside ; to remove.

تھالنا *thahlná*, *H. v.* To walk to and fro ; to take a walk ; to ramble ; to be off ; to move away.

تھالنی *thahlní*, *H. n. f.* A maid servant ; a woman servant.

تھالوا *thalwá*, ठलवा, (Col.) *H. adj.* Out of employment ; idle.

تھمری *thumrí*, ठुमरी, *H. n. f.* A species of metre ; a kind of verse.

تھمک *thumak*, ठुमक, *H. n. f.* The act of walking with a graceful easy air ; jerky gait.

تھمک چال — chál, *n. f.* mincing gait or air ; stately or dignified gait.

تھمکی *thumkí* - تھمکی *thumkí*, *H. adj.* Of low stature ; stunted ; small ; short.

تھمکنا *thumakná*, *H. v.* To walk with grace and stateliness ; to strut ; to walk affectedly.

تھمکی *thumkí*, ठुमकी, *H. n. f.* The play or jerking of a paper-kite to keep it up when the wind is light.

تھنا *thhná*, *n. m.*, } *H.* A branch or large }
 تھنی *thhni*, टहनी, *n. f.*, } bough of a tree.

تھنا *thhanná*, *H. v.* To be fixed ; to be resolved.

تھناک - تھناک *thhanák*, थनाक, ठनका, *H. n. m.* A tinkle ; jingle ; clink.

تھنٹھ *thhunth*, ठूठ, *H. n. m.* A broken leafless branch of a tree ; stump ; a an amputated hand.

تھن تھن *than than*, ठनठन, *H. n. f.* Tinkle ; jingle.
 تھن تھن گوپال — gopál, a fool ; a blockhead ; nothing ; nought.

شانٹھانا *ṭhanṭhanána*, ठनठनाना, H. *v.* To jingle ; to tinkle.

شانڈ *ṭhand*, ठंढ, H. *n. f.* Cold ; chilliness. *شانڈا*—*paṛná*, to be cold.

شانڈی *ṭhandí*, ठंढी, H. *adj.* Cold ; chill ; refreshed ; calm ; cold-blooded ; cold-hearted ; dull ; inactive (market) ; extinguished ; allayed ; pacified ; dead ; mild. *شانڈا پانا*—*paṛná*, to come cold ; to abate (as anger, &c.) *شانڈا کرنا*—*karná*, *v.* to cool ; extinguish ; to comfort ; to quench ; to assuage. *شانڈا ہونا*—*honá*, *v.* to become cold ; to be extinguished ; to rest *شانڈا ہونا* *kalejá*—*honá*, *v.* to satisfy one's longing or revenge, &c. ; to be pleased or happy (by seeing a son, friend, &c.) ; to gratify one's revenge. *شانڈے شانڈے* *ṭhande ṭhande*, in the cool of the day ; in the morning or evening. *شانڈی سانس بہونا* *ṭhandí sāns bharná*, to sigh in despair ; to heave a deep sigh.

شانڈائی *ṭhandái*, ठंढई, H. *n. f.* Refrigerant medicines ; a draught of *bhāng* ; cooling things.

شانڈاک *ṭhandak*, ठंढक, H. *n. f.* Coldness ; coolness ; pacification ; solace.

شانکانا *ṭhankána*, ठनकाना, H. *v.* To sound ; to ring a coin, metal, &c. ; to chink ; to produce a sound.

شانکنا *ṭhinakná*, ठिनकना, H. *v.* To sob ; to whimper ; to whine ; to jingle.

شانگنا *ṭhingná*, ठिगना, } H. *adj.* Of small stature ; dwarfish.
شانگنی *ṭhingní*, }

شان *ṭhaur*, ठौर, H. *n. f.* Place ; residence ; room. *شان بے شان*—*be*, *adv.* in any place ; indiscriminately ; in a vital part. *شان کو* *ku*—, a tender spot or part (of the body). *شان رانا* *rahná*, *v.* to be knocked down dead on the spot.

شان *ṭhorí*, ठोड़ी H. *n. f.* The chin. *شان دینا*—*men háth dená*,—*pakarná*, *v.* To appease ; to soften ; to assuage ; to supplicate ; to flatter.

شان *ṭhos*, ठोस, H. *adj.* Solid ; compact ; dull.

شان *ṭhokar*, ठोकर, H. *n. f.* Tripping by striking the foot against anything ; a stumble ; a kick. *شان کھانا*—*khána*, *v.* to stumble ; to suffer a loss. *شان مارنا*—*márná*, *v.* to strike ; to kick.

شان *ṭhokná*, ठोकना, H. *v.* To drive in ; to beat ; to hammer ; to thump ; to pat ; to file a suit. *شان بجا کے* *ṭhok bajá ke*, *adv.* after close examination. *شان لانا*—*tála*—, *v.* to put a lock.

شان *ṭhúṣná*, ठूसना, H. *v. t.* To press down (or in) firm or hard ; to beat (or drive or force) in ; to stuff, cram, thrust in ; to eat greedily ; to devour.

شان *ṭhong*, H. *n. f.* The act of striking with the beak ; pecking. [to peck.

شان *ṭhungná*, H. *v.* To strike with the beak ; *شان رانا* *ṭhahrána*, ठहराना, H. *v.* To stop ; to settle ; to fix on ; to prove ; to settle ; to conclude.

شان *ṭhahráo*, H. *n. m.* Settlement ; halt ; rest ; stop ; permanence ; proof.

شان *ṭhiyá*, ठिया, H. *n. m.* A seat ; a boundary mark ; a mound. [plug ; a stopple.

شان *ṭhepí*, ठेपी, H. *n. f.* A stopper ; a cork ; a

شان *ṭheth*, ठेठ, H. *adj.* Real ; genuine ; idiomatic ; pure.

شان *ṭhairná*, ठहरना, H. *v.* To stop ; to stand ; to remain, to stay ; to wait ; to halt ; to last.

شان *ṭhes*, ठेस, H. *n. f.* A knock ; a blow ; a push.

شان *ṭhek*, ठेक, H. *n. f.* Prop ; support ; a large sack of grain.

شان *ṭhík* ठीक, H. *adj.* Exact ; accurate ; right ; true ; proper ; fit ; complete ; in due form ; in order ; straight ; regular ; *adv.* exactly ; completely ; fairly ; in truth. *شان آنا*—*áná*, *v.* to fit ; to suit ; to be adequate ; to be right. *شان کرنا*—*karná*, *v.* to correct ; to adjust ; to ascertain ; to fit ; to beat ; to punish ; to put one to rights ; to bring one to one's senses. *شان کیا* *uská kyá*—*hai*, what certainty is there of him. *شان ہاں* *tumhárá bhi kahín*—*hai*, have you a fixed

abode anywhere? **ٿهڪ** **ٿهڪ**—**ٿهڪ**, *adv.* alright.

ٿهڪرا **ٿهڪرا**, *H. n. m.* A broken piece of earthenware; an earthen pot for holding fire. **روزي کا ٿهڪرا** **rozí ká**—, the instruments or means by which one lives.

ٿهڪا **ٿهڪا**, *H. n. m.* Contract; work done by contract or by the job; piece work; hire; lease; *andante* (in music); plug. **ٿهڪيدار** **ٿهڪيدار**, *n. m.* contractor; a lease-holder. **ٿهڪا ٿهڪا** **ٿهڪا**—**ٿهڪا**, to play an accompaniment on the *qholak*, &c. **ٿهڪا**—**ٿهڪا**, a settlement by the farm or contract; a farm held on lease; license-holder for the spirituous liquors, &c. **ٿهڪا ٿهڪا** **ٿهڪا**—**ٿهڪا**, *v.* to give out in piece work or by the job; to give a contract to; to lease; to let in farm. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا**, *v.* to contract; to monopolise. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا**, a lease for the term of one's life. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا**, *n. m.* lessor; grantor.

ٿهڪا **ٿهڪا**, *H. n. m.* A push; a trolley. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا**, *n. f.* A truck.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* Shoving and shouldering.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. v.* To Shove; to push; to elbow; to jostle; to propel.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* A ball of ear-wax.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. m.* A small club; thumb.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. adj.* Dwarfish; short; stumpy.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. m.* The place for a stone in a ring.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. m.* A mud pillar; a boundary mark. [shell.

ٿهڪا ٿهڪا, or **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. m.* A small *kauri* or

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. m.* A rising ground.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* A high or shrill note; a bond; cheque; a note of hand; drawing a card; the act of pressing. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, splendour; ostentation; pomp; show.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. v.* To press; to compress; to write down; to sing *soprano*; to pocket (money).

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, (Col.) *H. v.* To call; call to.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. adj.* Crooked; bent; awry; contrary; offended; angry.

ٿهڪا ٿهڪا—**ٿهڪا ٿهڪا**, *adj.* altogether crooked; zig-zag. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, *n. m.* crookedness.

ٿهڪا ٿهڪا—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to misapprehend. **ٿهڪا ٿهڪا** **ٿهڪا ٿهڪا**, to give cross or rough answers.

ٿهڪا ٿهڪا—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to bend; to crook. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to be crooked; to be displeased.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *n. f.* A difficult matter. **ٿهڪا ٿهڪا** **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* Pain; throb; stitching.

ٿهڪا ٿهڪا—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to throb; to shoot with pain.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. m.* The blossoms of the *palás* tree; kind of play; an effigy of the head of *Tesu* (a mythical hero) carried about in the month *Asin*.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. m.* A tear.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* A prop; support; promise; vow; resolve. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, to be bent on; to be resolved.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. m.* **ٿهڪا**, A mark made with coloured earths or unguents upon the forehead and between the eyebrows, either as an ornament or sectarian distinction; the nuptial gift; inoculation. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to inoculate. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, *n. m.* a vaccinator. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, the blot of infamy.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. f.* A commentary; annotation.

ٿهڪا ٿهڪا—**ٿهڪا ٿهڪا**, *n. m.* commentator, annotator.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. m.* A rising ground; a mound; a hillock.

ٿهڪا ٿهڪا, (Col.) *H. n. m.* A prop; a support; a pillar.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. v.* To prop; to support.

ٿهڪا ٿهڪا, *H. n. f.* The snuff or flame of a candle.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. m.* Dress; ostentation; show.

ٿهڪا ٿهڪا **ٿهڪا ٿهڪا**, *H. n. f.* An imitative inarticulate sound; prating. **ٿهڪا ٿهڪا**—**ٿهڪا ٿهڪا**, *v.* to murmur; to prate; to screech.

تنت *tept*, تَعْت, H. *n. m.* The fruit of *karil* (*tenti*); a cataract.

تنتورا *teptura*, تَعْتُورَا, A. *n. m.* The windpipe; the throat. تَبَانَا دَبَانَا—*dabána*, *v.* to throttle.

تيني *teni*, H. *n. m.* A breed of small fowls; *adj.* tiny; small.

(ث)

ث *se*, The fourth letter of the Arabic, the fifth of the Persian, and the sixth of the Urdú alphabets; according to *abjad* it represents the numerical value of 500.

ثابت *sábit*, A. *adj.* Firm; stable; stationary; durable; established; confirmed; real; ascertained; manifest; proved. رَهْنَا ثَابِت—*rahná*, to continue firm in; to adhere or stick. ثَابِت قَدَم—*qadam*, *adj.* firm; steady; resolute; persevering; constant. ثَابِت كَرْنَا—*karná*, to prove; to verify; to confirm. ثَابِت هَوْنَا—*honá*, *v.* to be proved; to be established.

ثالث *sális*, A. *n. m.* A third person; an arbitrator; an umpire; a mediator. ثَالِثَة—*tháitha*, *sális salása*, *n. m.* trinity. ثَالِث بِالْخَيْرِ—*bilkhair*, an impartial arbitrator. ثَالِث نَامَة—*náma*, *n. m.* an award by a jury or arbitration; a deed of award; an agreement to refer; a reference. ثَالِثِي فَيْصَلَة ثَالِثِي—*faisla sálisi*, an award.

ثاليسا *sálisa*, A. *n. f.* An arbitress.

ثالثا *sálasan*, A. Thirdly; in the third place.

ثاليسي *salisi*, A. *n. f.* Arbitration.

ثالوث *sálús*, A. *n. m.* The Trinity. ثَالُوث مُتَقَدِّس—*i-muqaddas*, the Most Holy Trinity.

ثامن *sámin*, A. *adj.* Eighth.

ثاني *sáni*, A. *adj.* Second; *n. m.* equal; match. ثَانِي الْعَال—*ul-hál*, *adv.* a second or another time; secondly. [firmness.

ثبات *sabát*, A. *n. m.* Stability; permanency;

ثبت *sabt*, A. *n. f.* An impression; a seal; writing; permanence; firmness; fixedness. ثَبَت كَرْنَا—*karná*, *v.* to inscribe; to impress upon; to write; to put down.

ثبوت *sabút*, A. *n. m.* Proof; testimony; demonstration; evidence; conviction; firmness. ثَبُوت بَادِي النَّظَرِ—*bádi-ul-nazr*, *prima facie* proof.

ثبوت تائيدي—*táidí*, corroborative evidence.

ثبوت ترديدي—*i-tardidí*, rebutting evidence.

ثبوت صريح—*i-sarih*, direct proof. ثَبُوت ضَرْبِ

ثبوت قرائني—*i-zimní*, collateral evidence. ثَبُوت قَرَائِنِي—*i-qarání*, circumstantial evidence.

ثبوت موجودة—*maujúda misl*, the evidence on the record. ثَبُوت تَحْرِيرِي—*tahrirí*, documentary evidence.

ثبوت قطعي—*i-qata'í*, conclusive proof. ثَبُوت وَصِيَّة نَامَة—*i-wasiyatnáma*, probate of a will.

ثبوت مثبتة—*i-musbeta*, direct demonstration. ثَبُوت مَانِيَّة يَا بَه خَالِف—*i-mun-faiya ya ba khaláf*; indirect demonstration.

ثروت *sarwat*, A. *n. f.* Wealth; power; influence; affluence.

ثريا *suraiyá*, A. *n. m.* The Pleiades.

ثعلب *sa'lab*, A. *n. m.* A fox. ثَعْلَاب مِصْرِي—*misrí*, *n. m.* salep (the root of species of *orchis* considered to be strong restorative.)

ثقال *saqálat* A. *n. f.* Heaviness; weight; indigestion. [tion.

ثقل *siql*, A. *n. m.* Gravity; weight; indigestion.

ثقيل *saqil*, A. *adj.* Heavy; indigestible; torpid; phlegmatic. [triple; triangular.

ثلاثي *salási*, A. *adj.* Three-sided; trilateral;

ثالث *enls*, A. *n. m.* A third part; one-third.

ثمانية *samánya*, A. *n. m.* Eight; (in *Arith.*) double rule of three.

ثمر *samar*, A. *n. m.* Fruit; produce; profit; offspring. ثَمَر بَخْش—*baqshsh*, fruit-yielding; productive of fruit. ثَمَر دَار—*dár*, *adj.* fruit-bearing.

ثمرة *samra*, H. *n. m.* Fruit; reward; result.

ثمن *saman*, A. *n. m.* Summons. زَرْعِي—*zar-i*, Price; value.

ثنا *saná*, A. *n. f.* Praise; eulogy; applause.

ثنا خورا—*khwán*, *n. m.* praiser. ثَنَا غُسْتَر—*gustar*, scattering praise.

ثواب *sawáb*, A. *n. m.* The future reward of virtue; virtuous or religious act; recompense; reward.

ثوابت *sawábit*, A. *n. m.* The fixed stars.

ثوب *saub*, A. *n. m.* A robe; a vestment.

ثور *saur*, A. *n. m.* A bull; the constellation Taurus, one of the signs of Zodiac; twilight; the name of a mountain near Mecca.

(ج)

ج *jīm*, The fifth letter of the Arabic, the sixth of the Persian, and the seventh of the Urdū alphabet. In abjad it has the numerical value of 3.

جا *já*, P. *n. f.* A place ; locality. *جا بجا*—*bajá*; *adv.* everywhere ; hither and thither. *جا بیجا*—*beja*, *adj.* right or wrong. *جانشین*—*nashín*, *n. m.* a *locum tenens* ; a successor. *جانشینئی*—*nashíni*, *n. f.* succession. *جانم*—*namáz*, *n. f.* a cloth on which prayers are said. *جائے ضرورت*—*zarúr*, privy ; a necessary office.

جا ب *jáb*, } H. *n. m.* Muzzle for cattle ; a
جا بی *jábi* } sort of grass ; a net for fruit.

جا ب *jábir*, A. *adj.* Despotic ; *n.* despot ; tyrant.

جا پ *jáp*, *जाप*, H. *n. m.* Muttering of prayers or counting beads.

جا پک *jápak*, *जापक*, H. *n. m.* One who counts his beads.

جا پا *jápá*, *जापा*, H. *n. m.* Delivery ; *accouchement* ; childbirth.

جا ت *ját*, *जात*, S. Born ; brought into existence ; engendered ; *n. m.* male issue ; a son. *کرم*—*karm*, a ceremony performed at child's birth, when the navel string is divided.

جا ت *játi*, *जाति*, H. *n. f.* Caste ; race ; tribe ; class ; a votive offering ; nature ; sort ; species. *جات باچک*—*báchak*, *n. m.* (in *Gram.*) a common noun. *جات برادری*—*birádrí*, race and kinsfolk. *جات بھائی*—*bháí*, caste-fellow. *جات پانٹ*—*bharisht*, an outcast. *جات پانت*—*pánt*, tribe ; family ; race ; lineage. *جات والا*—*wálá*, a person of high caste. *جات ہین*—*hin*, an outcast.

جا ترا *játrá*, *यात्रा* H. *n. f.* Pilgrimage ; departure ; festival ; procession of idols.

جا تری *játrí*, *यात्री*, H. *n. m.* A pilgrim.

جا ت *ját*, *जाट*, H. *n. m.* The name of a tribe among *Rájput*s.

جا تھ *játh*, H. *n. m.* The axis or pole of an oil or sugar mill which presses the grain or the canes (*láh*, *kolhú*).

جام *jájam*, A. *n. f.* A chequered linen cloth spread over a carpet.

جا چک *jáchak*, *(याचक S.)*, H. *n. m.* Beggar ; mendicant ; solicitor ; petitioner.

جا در *jádú*, P. *n. m.* Enchantment ; incantation ; charm. *جا در ٹونا*—*toná*, charms ; spells. *جا در کرنا یا چلانا*—*karná yá chalaná*, *v.* to charm ; to practise incantations. *جا در گر*—*gar*, *n. m.* a magician ; a sorcerer. *جا در گری*—*garí*, *n. f.* magic ; necromancy.

جا ذب *jázib*, A. *adj.* Absorbent ; attractive ; drawing. *جا ذب کاغذ*—*kágaz*, *n. m.* blotting paper. *قوت جا ذب* *qawat-i-jáziba*, the power of attraction.

جا ر *jár*, A. *n. m.* Who or what draws or attracts ; (in *Gram.*) a preposition. *جا ر و مجرور*—*o-majrúr*, the attracting and the attracted

جا ر ب *járob* P. *n. m.* A broom. *جا ر ب کش*—*kash*, sweeper.

جا ری *járí*, A. *adj.* Running ; current ; continuing ; in force ; proceeding ; prevalent. *جا ری رکھنا*—*rakhná*, *v.* to carry on ; to continue ; to maintain. *جا ری رھنا*—*rahná*, *v.* to continue. *جا ری کرنا*—*karná*, *v.* to begin ; to issue ; to circulate ; to introduce (a custom) ; to make current ; to institute. *جا ری ہونا*—*honá*, *v.* to issue ; to be in force ; to proceed ; to be current.

جا را *jára*, *जाड़ा*, H. *n. m.* Winter ; coldness. *جا را چڑھنا*—*chárhna*, to have ague ; to be attacked with a cold or shivering fever. *جا را لگنا*—*lagná*, *v.* to feel cold.

جا رس *jásús*, A. *n. m.* A spy ; an emissary.

جا رسئی *jásúsi*, A. *n. f.* The office of a spy ; espionage. *جا رسئی کرنا*—*karná*, *v.* to act the spy.

جا رک *jákar*, *जाकर*, H. *n. m.* A conditional purchase ; a deposit. *جا رک بھئی*—*bahí*, suspense account-book. *جا رک بیچنا*—*bechná*, *v.* to sell on condition, or subject to approval. *جا رک لیجنا*—*lejáná*, *v.* to take goods on conditional sale.

جا کھن *jákhan*, H. *n. m.* The wooden foundation of the brick work of a well.

جاگتا jagta, jagtí, H. *adj.* Awake ; vigilant ; being in the full exercise of its powers. جوت جاگتی —jot, H. *adj.* possessed of or exerting miraculous power.

جاگن jágaran, जागरण, H. *n.* Waking ; wakefulness ; vigil.

جاگنا jágna, H. *v.* To awake ; to be awake ; to be vigilant ; to be refreshed جاگ پڑنا —jag parná, *v.* to awake suddenly ; to be roused.

جاگیر jágir, P. *n. f.* A free-hold ; rent-free grant ; land given by government as a reward for services, or as a fee. جاگیر احتشام —i-ihtishám, lands granted for the maintenance of troops. جاگیر دوام —dawám, a rent-free estate obtained as a grant in perpetuity. جاگی دار —dár, *n. m.* the holder of a fee or jagir ; a fief. جاگیر سیر —sír, an assignment for the support of an establishment. جاگیر سیرغال —sírghál, an assignment exempt from any condition, or for charitable purposes.

جاگیر تن یا ذات —tan yá zát, an assignment for personal support. جاگیر منصب —mansab, a grant of land, etc. attached to an office or dignity.

جال jal, जाल, H. *n. m.* A net ; a snare ; a grating ; a magic ; a loop-hole ; a lattice ; an illusion. جالدار —dár, *adj.* reticulated ; network. جال ڈالنا —dálná, *v.* to cast a net to lay a snare ; to set a trap. جال کڑچ —kirch, *n. f.* a sword and sash. جال لکڑی —lakri, *n. f.* valerian. جال میں ڈالنا —men dálná, *v.* to entrap ; to ensnare.

جالا jalá, जाला, H. *n. m.* A net ; a cobweb ; a large jar ; a cataract ; a kind of water weed, used in refining sugar (siwár) ; an earthen vessel.

جالی jalí, जाली, H. *n. f.* Network ; lattice ; telliswork ; the pellicle, or coating of a fruit-seed (as that of a mango) ; lace ; bobbinet. جالینوس jalínoos, A. (from the Greek), *n. m.* The physician Galen.

جام jam, P. *n. m.* A bowl ; a drinking vessel ; goblet ; cup ; a mirror. جام جمشید —jam-jamshíd, the mirror of Jamshíd in which he saw whatever he wished.

جام جہاں نما jam-i-jahán numá, a pharos ; a minaret containing a light for the guidance of ships ; a lighthouse. جام خانہ —khána, a room with mirrors all round. جام لیبریز —i-labrez ; a bumper ; a cup filled to the brim.

جامد jámid, A. *adj.* Not derived. اسم جامد —ism-i-jámid, *n. m.* a primitive or concrete noun, not derived from any root, and from which no word is derived.

جامدانی jámdání, P. *n. f.* Woven flowered cloth (generally muslin) ; a portmanteau.

جامع jáma', A. *adj.* All ; whole ; collective. جامع الکمالات —ul-kamálát, most learned ; skilled in all sciences. جامع المتفرقین —ul-mut-farriqín, collector of the dispersed and scattered. جامع مسجد —masjid, *n. f.* the principal mosque where the people assemble for prayers, especially on Fridays.

جامن jáman, जामन, H. *n. m.* Sour milk used to curdle fresh milk ; rennet ; coagulator ; a ferment.

جامن jáman ; H. *n. m.* A kind of fruit and its tree.

جاموس jámús, A. *n. m.* A buffalo.

جامہ jáma, P. *n. m.* A garment ; a robe. جامہ سے باہر —khána, *n. m.* a wardrobe. جامہ سے ہونا —se báhar honá, to be unable to restrain or control oneself ; to be in an ungovernable rage. جامہ زیب —zéb, *adj.* becoming (one's) dress. جامہ وار —wár, *n. m.* A flowered sheet or shawl.

جان ján, P. *n. f.* Life ; soul ; spirit ; energy ; vigour ; animation ; the essence of a thing ; darling ; sweetheart. جان آفرین —áfrín, Creator ; animator. جان باز —báz, risking life ; venturesome ; spirited. جان بچانا —bachání, *v.* to save one's life. جان بحق —bahaq taslim honá, to die. جان بخشہ —bakshí, pardon for a capital crime ; forgiveness. جان باب —balab, *adj.* dying. جان بہاری ہونا —bhári honá, to be weary of life. جان بیمہ —bimá, *n. m.* a life insurance policy. جان پر آنا —par aná, to be exposed to imminent danger. جان پر کھیلنا —par khelna, *v.* to risk one's life. جان پڑنا —parná,

v. to revive ; to be refreshed. جان چرکھوں —
jokhon, n. f. risk of life. جان چرانا —churána,
to shirk one's duty ; to skulk. جان چھڑانا —
chhuráná, v. to get rid of ; to escape. جاندار —
dár, adj. having life ; active. جان دربھر یا
جان دہری ہونا —dúbhar yá bhári honá, to be sick or
weary of life. جان دینا —dená, v. to die for.
جان سے مارنا —se márná, v. to kill. جان سے
دھونا —se háth dhoná, to despair of life.
جان ستاں —sitán, destroying life (as snake
poison). جان سوز —soz, soul-tormenting ;
heart-inflaming. جانفشانی —fishání, n. f. ex-
treme diligence ; devotion. جان کا لاگو ہونا —
ká lágú honá, to pursue one to death. جان کا
جان کسی پر —ká levá, n. m. a deadly foe. جان
دینا —kísí par dená, v. to love excessively ;
to fall a sacrifice. جان کندنی —kandní, n. f.
the agonies of death. جان کھانا —khaná, v.
to annoy. جان کی امان —ki amán, life's safety ;
pardon ; quarter. جان کے برابر رکھنا —ke barábar
rakhná, to hold one as dear as life. جان میں
جانا —men —áná, v. to be revived ; to be
comforted. جان نثار —nisár, adj. devoted ;
sacrificing one's life. جان ہے تو جہاں ہے
hai to jahán hai, while life is yours the
world is yours.

ہے جان کے ساتھ کام انساں کے لئے

بنتی نہیں (ندگی میں بے کام کیے)

(حالی)

Hai ján ke sáth kám insán ke liye,
Bantí nahín zindagí men be kám kiye.

جان ján, جان, H. n. f. Knowledge ; apprehen-
sion. جان پہچان —pahchán, an acquaintance ;
a familiar friend. جان کے انجان ہونا —ke anjan
hona, to feign or pretend ignorance.

جانا jáná, جانا, H. v. To go ; to set out ; to
depart ; to pass ; to reach ; to be stolen ; to
fall off ; to wither. جان پڑنا —párná, to fall on-
جانا —lená, to overtake. جانے دینا —jáne
dená, to let go ; to pass over ; to overlook ;
to let pass. جانے جا بیٹھو —já baiṭho, be off about
your business.

جانان jánán, P. n. m. Lives ; souls ; a beloved
one ; a sweetheart.

جانب jánib, P. n. f. Side ; direction. adv.
toward. جانب دار —dár, adj. partial ; n. m. a
supporter. جانب داری —dári, n. f. partiality ;
supporting. این جانب —in —, n. m. the writer ;
the speaker ; this person

جان بوجھ کر ján bújh kar, H. adv. Advertently ;
intentionally ; purposely.

جانباین jánibain, A. n. m. Both sides of parties.
جانباین سے —se, mutually ; reciprocally ; from
both sides.

جانت jánt, جانت, } H. n. f. A stone landmill
جانتا jántá, جانتا, } for grinding corn ; a weight
put on the lower arm of a lever for raising
water.

جانچ jánch, جانت, H. n. m. Trial ; examination ;
test ; proof ; essay.

جانچنا jánchná, H. v. To examine ; to test ; to
try ; to prove ; to inquire into ; to assay.

جانچویا jánchwayá, جانتویا, H. n. m. An auditor
of accounts ; an examiner ; an assayer ; a
testor.

جانگر jángar, جانت, H. n. m. The thighs and
legs ; the limbs ; strength. جانگر تورا
torná, to labour or toil hard ; to drudge.

جانگوار jángrá, جانت, (Col.) H. adj. Savage ; wild.

جانگھ jángh, جانت, H. n. f. The thigh.

جانگھال jánghal, H. n. m. A kind of heron.

جانگھییا jánghiyá, جانتویا, H. n. m. A kind of
short breeches reaching half-way down the
thighs.

جاننا jánná, جاننا, H. v. To know ; to recog-
nise ; to understand ; to apprehend ; to become
aware of ; to perceive ; to judge ; to hold ;
to deem ; to think ; to esteem ; to account.

جان پڑنا ján párná, to appear ; to seem. جان
رکھنا ján rakhná, to remember ; to bear in
mind. جان لینا ján lená, to apprehend ; to
perceive.

جانور jánwar, P. n. m. An animal ; a bird ;
a fool.

جانہار jánhár, H. adj. Going ; passing away.

جانی jání, P. adj. Beloved ; dear. جانی دشمن
—dushman, n. m. mortal enemy.

جوازتری *jāwātrī* or *jawitri*, *वज्रिणी*, *H. n. f.* Mace (a spice); the bark of the nutmeg.

جوادان *jāwādān*, *Pl. n. f.* Eternal; everlasting; perpetual.

جوادانی *jāwādānī*, *n. f.* eternity.

جہ *jāh*, *P. n. f.* Rank; dignity.

جہاں *jāhāl*, rank and grandeur; dignity; pomp.

جہاں *jāhāl*, *A. adj.* Ignorant; illiterate; rude; uncivilised.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

جگہ *jāg*, *P. n. f.* Place; room.

charge; to undergo examination, لینا *lenā*, to check an account.

جب *jab*, *जब*, *adv.* When; at the time when; as soon as.

جب تک *tab*, *now and then.* تک *tak*, *یا* *talak*, *adj.* till when; until; as long as; whilst; while.

جب *jab*, whensoever; at whatever time.

جب سے *se*, *adv.* since.

جب کبھی *kabhi*, *adv.* whenever.

جبکہ *ki*, *adv.* while; at the time.

جب ہی *hi* to, *adv.* at the very time.

جب ہی تو *hi* to, hence; on account; therefore.

جبار *jabbār*, *A. adj.* Omnipotent; a conqueror; a revenger.

جبال *jābāl*, *P. n. m.* Mountains.

جبر *jabr*, *A. n. m.* Force; extortion; constraint; violence; outrage; coercion; oppression.

جبر کرنا *ujhānā*, *v.* to take trouble.

جبر کرنا *karnā*, *v.* to oppress; to compel; to use or employ force.

جبر و مقابلہ *o-muqāblā*, *n. m.* algebra.

جبرا *jabran*, *A. adv.* Forceibly; compulsively; violently.

جبراً و قہراً *o-qahran*, by force and violence; willingly or unwillingly; *volens volens*.

جبرائیل *jibrāil*, *A. n. m.* The archangel Gabriel.

جبرہ *jabrah*, *A. n. m.* The jaw or the portion of the face from the corners of the mouth to the jaws.

جبل *jabal*, *A. n. m.* A mountain; a hill.

جبلت *jibillat*, *P. n. f.* Nature; natural constitution; disposition or temper.

جیبلی *jibilli*, *A. adj.* Natural; inherited; innate; constitutional.

جبہ *jubba*, *A. n. m.* A kind of long robe like a Roman toga; a coat of mail; a coat of defence.

جبین *jabin*, *A. n. f.* The forehead.

چپ *jap*, *जाप*, *H. n. m.* Muttering of prayers; counting silently the beads of a rosary.

چپ تپ *tap*, *n. m.* Devotion.

چپنا *japnā*, *जपना*, *H. v.* To count one's beads; to repeat the name of God inaudibly.

چٹانا *jatānā*, *जटाना*, *H. v.* To inform; to make known; to warn; to remind; to caution; to point out; to show.

جتانا *jitáná*, जिताना, H. *v.* To cause to win or conquer.

جتائی *jutái*, जुताई, H. *n. f.* Ploughing; tillage.

جتان *jatan*, (यत्न S.), H. *n. m.* Striving; exertion; diligence; perseverance; carefulness; remedy; effort.

جتانا *jitná*, जितना, *m.* } H. *adj.* So much; how
 جتنی *jitní*, जितनी, *f.* } much; as much as;
 as many. میں جتنے *jitne men*, inasmuch as;
 on which.

جتانا *jutná*, जुतना, H. *v.* To be yoked; to be ploughed; to labour; to toil.

جتوانا *jutwáná*, जुतवाना, H. *v.* To cause to yoke; to cause to plough; to have a field ploughed or tilled.

جتھا *jathá*, (जथा), H. *n. m.* A company; a gang; a mass; multitude; flock; stock; strength. جتھا باندھنا *bádnhá*, *v.* to form a party.

جتھا *jathá*, H. *adv.* As; according to; like; in which way. جتھا یوگ *yog*, in a proper manner. جتھا شکت *shaktí*, यथारक्ति, according to one's power or means.

جتھارتھ *jatháarth*, यथार्थ, H. *adv.* Truly; exactly; in fact; *adv.* exact; actual; right; true; fit. جتھارتھ بدیا *biddiyá*, *n. f.* philosophy.

جتھی *jatí*, यती, H. *n. m.* One who has subdued his passion; a religious mendicant; an ascetic.

جتیانا *jutiyáná*, H. *v.* To beat with a shoe.

جتا *jatá*, जटा, H. *n. f.* Matted hair; a fibrous root. جتا دھاری *dhári*, *n. m.* one who has matted hair; any mendicant wearing the *jatá*; an epithet of Shiva; *n. f.* the cockscomb flower. جتا ماسی *mási*, *n. f.* spikenard.

جتایو *jatáyu*, जटायु, S. *n. m.* Name of a fabulous bird, according to *Ramayán* the son of *Garur*.

جتنا *jutná*, H. *v.* To unite closely together; to combine; to congeal; to join.

جتنا *jatná*, जटना, H. *v.* To snatch away; to carry off by force; to defraud.

جتھانی *jithání*, जिठानी, H. *n. f.* Husband's elder brother's wife.

جٹھا *jussa*, A. *n. m.* The figure of the human body.

ججمان *jajmán*, (यजमान), H. *n. m.* A person to whose custom Brahmans, barbers, washermen and some others have a prescriptive clami.

ججھ *jújh*, जुझ, H. *n. m.* An engagement; a fight; a battle; a war.

جچا *jachá*, or *jachchá*, U. *n. f.* A lying-in-woman. جچھا خانہ *khána*, *n. m.* the room in which a woman is delivered; a lying-in-chamber.

جچارٹ *jacháwatt*, जचारट, H. *n. f.* Trial; test; examination; proof.

جچنا *jachná*, H. *v.* To be estimated; to be valued.

جد *jadd*, A. *n. f.* An effort; exertion; endeavour; toil. جد و جھد کرنا *o-jehad karná*, to strive; to labour; to endeavour.

جد *jad*, A. *n. m.* (*Plur.* اجداد *Ajdad*.) A grandfather; an ancestor. جددی *jaddí*, ancestral.

جدا *judá*, P. *adj.* Separate; distinct; different; apart; asunder; peculiar. جدا جدا *judá*, *adv.* separately; one by one. جدا کرنا *karná*, *v.* to separate; to disjoin; to disengage. جدا گانہ *gána*, *adv.* separately. جدا ہونا *honá*, *v.* to be separated.

جدال *jidál*, A. *n. m.* Contest. جنگ و جدال *jang-o*, *n. m.* fighting; contention.

جدائی *judái*, P. *n. f.* Separation.

جدل *jadal*, A. *n. m.* Contention; fighting; battle; encounter. جنگ و جدل *jang-o*, fighting; contest; battle; an affray.

جدول *jadwál*, A. *n. f.* (*Plu.* جداول *Jaddwal*), Marginal lines; a table (of a book); an astronomical table.

جھ *judh*, (युद्ध S.) H. *n. m.* Battle; war.

جھہر *jidhar*, जिहर, H. *adv.* Where; whenever; whither; there. جھہر تھہر *tidhar*, *adj.* here and there; everywhere. *Prov.* جھہر انورال

جھہر پانی *jidhar niwán udhar pání dhalá hai*, (*Lit.*) Where there is a declivity thither flows the water; misfortune never comes singly; evil unites with evil.

جدی *jadí*, A. *n. m.* A sign of the zodiac; the polar star. *خط جدی* *khatt-i-*, the Tropic of Capricorn.

جدید *jadíd*, A. *adj.* New; modern.

جزام *juzám*, A. *n. m.* Leprosy. *خانہ جزام* — *khána*, *n. m.* a lazaretto.

جذامی *jazámí*, A. *n. m.* A leper.

جذب *jaab*, A. *n. m.* Absorption; drawing (as of a plaster). *جذب مقناطیسی* — *i-maqrátísí*, magnetic attraction. *جذب کرنا* — *karná*, *v.* to absorb; to imbibe. *جذب ہونا* — *honá*, *v.* to be absorbed.

جذبه *jazba*, A. *n. m.* Passion; desire; feeling; rage; fury.

جذر *jazr*, A. *n. m.* The square root; the ebb-tide. *جذر کسور اعشاریہ* — *i-kusúr-i-a'sháriya*, the square root of a decimal fraction. *جذرالعمال* — *ul-mál*, the fourth root. *جزر و مد* — *o-niád*, *n. m.* the ebb and flow of the tide.

جر *jar*, A. *n. m.* Drawing; attracting; the vowel *kasrah*, at the end of words. *جر حرف* *harf-i-jarr*, a preposition.

جرا *jurra*, P. *n. m.* A male falcon. [beggings.

جراب *jurráb*, T. *n. m.* A sock; stocking;

جرات *jurát*, A. *n. f.* Courage; boldness; daringness; valour. *جرات کرنا* — *karná*, *v.* to dare; to have the courage; to presume.

جراح *jarráh*, A. *n. m.* A surgeon.

جراحت *jaráhat*, A. *n. f.* A wound; a sore.

جراحی *jarráhi*, A. *n. f.* Surgery. *جراحی کا عمل* — *ká'amal*, surgical operation.

جزار *jarrár*, A. *adj.* Warlike; brave; numerous; multitudinous (as army).

جرائم *jaráim*, A. *n. m.* (*Plu. of Jurm*) Crimes, offences. *جرائم خفیفہ* — *i-kháfíya*, petty offences. *جرائم خلاف ورزی* — *khiláf warzí* *bé sarkár*, offences against the State. *جرائم سنگین* — *i-sangín*, serious crime; felony.

جرح *jarah*, A. *n. m.* Wounding; confuting; convicting of falsehood (a witness); rebutting evidence; objection; plea. *جرح کرنا* — *karná*, *v.* to cross-question (a witness). *جرح کے سوال* — *ke sawál*, cross-examination.

جرس *jaras*, A. *n. m.* A bell.

جرعه *jura*, A. *n. m.* A draught; a drop; gulp; sip. *جرعه کش* — *kash*, drinker.

جرحہ *jarga*, P. *n. m.* Forming a circle; ring of (men or beasts); a flock of animals.

جرم *jirm*, A. *n. m.* The body of anything inanimate. *جرم قمر* — *i-qamar*, the body of the moon.

جرم *jurm*, A. *n. m.* A criminal act; a crime; fault; sin; offence; transgression. *جرم اقبال* *iqbál-i-*, a confession of guilt. *جرم ثبوت* *qubútna* — submit — proof of guilt. *جرم سنگین* — *sangín*, a serious or capital crime. *جرم شدید* — *shadíđ*, a great offence. *جرم عظیم یا کبیر* — *i-azim* or *kabir*, a capital crime. *جرم سے منکر ہونا* — *se munkir honá*, to plead not guilty. *جرم قبولنا* — *qubúlna*, to plead guilty. *جرم کا مرتکب ہونا* — *ká murtakib honá*, to perpetrate a crime.

جرمانہ *jurmána*, A. *n. m.* A fine; penalty. *جرمانہ کرنا* — *dená*, *v.* to pay a fine. *جرمانہ کرنا* — *karná*, *v.* to fine. *جرمانہ معاف کرنا* — *mu'áf karná*, *v.* to remit a fine.

جرمانہ *jurmána*, A. *n. m.* A fine; penalty. *جرمانہ کرنا* — *dená*, *v.* to pay a fine. *جرمانہ کرنا* — *karná*, *v.* to fine. *جرمانہ معاف کرنا* — *mu'áf karná*, *v.* to remit a fine.

جرمانہ *jurmána*, A. *n. m.* A fine; penalty. *جرمانہ کرنا* — *dená*, *v.* to pay a fine. *جرمانہ کرنا* — *karná*, *v.* to fine. *جرمانہ معاف کرنا* — *mu'áf karná*, *v.* to remit a fine.

جرہ *jurra*, P. *n. m.* A male falcon.

جری *jarí*, A. *adj.* Valiant; brave.

جریب *jaríb*, A. *n. f.* A land measuring chain (of 20 *gaṭṭhás* or 55 Government or 60 Native yards); a corn measure; a chain. *جریب کرنا* — *karná*, *v.* to make a survey (of land). *جریب کش* — *kash*, *n. m.* land surveyor. *جریب کشی* — *kashí*, *n. f.* measurement of land.

جریدہ *jarída*, A. *adj.* Alone; solitary; unattended. *n. m.* Volume; book; register.

جر *jar*, *ज*, H. *n. f.* Root; origin; foundation; basis. *جر اکھاڑنا* — *ukháṛná*, *v.* to root out; to extirpate. *جر جمانا* — *jamáná*, *v.* to lay a foundation; to institute; to establish. *جر کاٹنا* — *kaṭná*, to destroy utterly; to undermine; to destroy root and branch.

جرانا *jarána*, *जुवाना*, H. *v.* To cause to join; to get a thing mended.

جرانا *jarána*, *जवाना*, H. *v.* To be cold; to cause to set jewels studded; to have jewels studded.

جزار *jaráo*, *जवाज*, H. *n. m.* Setting of jewels.

جزائی jaráí, जड़ाई, H. n. f. Price paid for setting jewels.

جزائی juráí, जुड़ाई, P. n. f. Mending ; the price for mending.

जना jarná, जड़ना, H. v. To fix ; to join ; to stick on ; to set jewels ; to lay on (a blow) ; to make a complaint (against) ; to speak ill (of).

जना jurná, जुड़ना, H. v. To join ; to unite ; to come to hand ; to be had ; to be obtained.

जाना jarwáná, जड़वाना, H. v. To cause to be set with jewels.

जहन jarhan, जड़हन, H. n. m. Rice cropped at the end of the rainy season.

जरी jarí, जड़ी, H. n. f. The root of a medicinal herb (as of the mirchi kand) which is used as an antidote to snake bites — *बुत्ती* búttí, n. f. medicinal herbs.

जरीया jariyá, जड़िया, H. n. m. One who sets jewels ; a jeweller.

जु juz, P. adv. Besides ; except. *बाजु* bajuz, with the exception of ; excepting.

जु - जु juz, juzw, A. n. m. A part ; portion ; ingredient ; a part of a book consisting of eight leaves. *जु-कعب* ul-ka'ab, n. m. the cube root. *जु-बन्दी* bandí, n. f. binding of a book.

जुदान dan, n. m. a portfolio ; a satchel. *जु-रसी* rasí, frugality ; economy. *जु-कुल* kul, adv. totally ; n. m. the whole.

जुजा jazá, A. n. f. Retaliation ; compensation ; requital ; return ; consequence.

जुजाक الله jazák alláh, A. intj. May God reward thee ! God bless you.

जुजुजु jizbiz, P. adj. Displeased ; offended.

जुजु jazr, A. n. m. The ebb-tide, (in Arith.) duplication. *जु-जु-मद* o-madd, the ebb and flow of the tide.

जुजु jazm, A. n. m. The orthographical character *fazm* (ا) placed over a letter to show that it is quiescent or has no vowel following it. *जुजु-जु-म* azm-bil—, firm resolve ; settled purpose, &c.

जुजु जुजु juzwí, P. adj. Petty ; trivial ; in part ; a little. *जु-जु-कुल* kull-o—, in whole and in part ; wholly ; entirely.

जुजुयيات juzwiyát, A. n. m. Particulars ; parts.

जुजु जजيرة jazira, A. n. m. Island ; an isle. *जु-जु-नुमा* numá, n. m. peninsula.

जुजु जजिया jaziya, A. n. m. A capitation-tax levied on individuals ; poll-tax levied on individuals ; poll-tax ; a tribute.

जुजु जजु jas, (यश S.) H. n. m. Reputation ; fame ; renown. *जु-जु-अपजु* apjas, n. m. good and evil.

जुजु जजु jis, जिस्त, H. pron. Whom ; what ; that ; which ; who. *जु-जु-पर* par, whereupon. *जु-जु-पर-भी* par bhí, notwithstanding. *जु-जु-तिस* tis, whatever ; whoever ; some or other. *जु-जु-जिस* jis, whichever.

जु-जु-जगह jagah, adv. where, wherever. *जु-जु-दम* dam, adv. while ; when ; whilst. *जु-जु-तरह* tarah, adv. according to ; as. *जु-जु-तरफ* taraf, adv. wherever. *जु-जु-क़दर* qadar, adj. as much as ; to what degree. *जु-जु-का* ká, whose. *जु-जु-किसी का* kisi ká, of whomsoever. *जु-जु-किसी को* kisi ko, to whomsoever.

जुजु जजसरत jasárat, P. n. f. Boldness ; courage ; presumption ; intrepidity. [bodied]

जुजु जजसम jisám, A. adj. Corpulent ; bulky ; big. *जु-जु-जसमत* jisámat, A. n. f. Dimension ; corpulency ; bulkiness.

जुजु जजस्त jast, P. n. f. A leap ; bound.

जुजु जजस्ता jastá, जस्ता, H. n. m. Zinc ; pewter.

जुजु जजुजु justju, P. n. f. Search ; investigation ; quest ; inquiry.

जुजु जजुद jasad A. n. m. The body.

जुजु जजुम jism, A. n. m. Body. solid ; *जु-जु-जामदी* i-jamádí, a metallic body. *जु-जु-जौहरी* i-jauhari, constitutional part. *जु-जु-जौवानी* haiwání, animal body. *जु-जु-नबती* nabátí, vegetable body.

जुजु जजुमानी jismání, A. adj. Corporeal ; material ; carnal.

जुजु जजुसुदा jasodá, यशोदा, H. n. f. Name of the wife of the cowherd Nanda and foster mother of Krishna.

जुजु जजुसुवत jiswaqt, P. adv. When ; whenever.

जुजु जजुसुम jasúm, A. adj. Corpulent.

जुजु जजुशुन jashn, P. n. m. A jubilee ; a festival ; royal celebrations of festivals.

جمد ja'd, A. n. f. A curly lock of hair; a ringlet.

جفر ja'far, A. A proper name; a large river; a little stream.

جفیری ja'fari, A. n. f. A yellow flower (*gul-i-asharfi*); the purest kind of gold; a lattice work; bamboo frame.

جعل ja'l, A. n. f. Forgery; counterfeit. جعل بنانا —banáná, to fabricate; to forge. جعل سازی —sázi, n. f. forgery.

جعلی ja'li, A. adj. Forged; counterfeit; not genuine. جعلی دستاویز —dastáwez, a forged document.

جغرافیہ jngra'fiya, A. n. m. Geography.

جفا jafá, P. n. f. Oppression; violence. جفاکش —kash, adj. hardworking; energetic. جفا کفا —kafá, hardship; calamity. [match; mate.

جفت juft, P. n. m. Evenness; pair; a couple;

جفتہ jufta, P. n. m. Running together (the threads in cloth); a crease; a wrinkle.

جفتی jufti, P. n. f. Pairing (of birds).

جفر jafar, P. n. m. The art of making amulets and charms.

جکڑنا jakar'ná, جکڑنا, H. v. To draw tight; to fasten; to become rigid. جکڑ بند —band, adv. tight; fast bound; well strung. جکڑ جانا —jáná, to become stiff or rigid; to be tightly bound; to be closely joined together.

جگ jag, जग, H. n. m. The world; the earth; the universe.

جگ یاج jag یاج, H. n. m. A feast; a sacrifice or religious ceremony in which oblations are presented. جگ پرت —o-pavit, the sacrificial thread worn by *Brahman*, *Kshatri* and *Vaysh* as distinctive of their castes.

جگ jug जुग (युग S.) H. n. m. An age; an epoch; according to Hindu (*Myth.*) a long mundane period of years is called a *yug* and there are four *yugs* of ages; Satyug, Treta, Dwapar and Kaliyug; two pieces coming together in the same square (*chausar*). جگ جگ —jüg, adv. for ever; eternally. [to ruminare.

جگانا jugáná, जुगलना, H. v. To chew the cud;

جگانا jugáli, जुगाली, H. n. f. Chewing the cud.

جگانا jagáná, जगाना, H. v. To awake; to rouse from sleep; to light; to kindle.

جگانا jugáná, जुगाना, H. v. To keep with care; to assist another in his work in expectation of the return of a favour.

جگت jagat, जगत, S. n. m. The world; the rim of a well. جگت اُجاگر —ujágar, enlightening the

world. جگت سیٹھ —seth, n. m. a great seth or banker. جگت گرو —gurú, n. m. the teacher of

the world; an epithet of Brahmá, Vishnú and Shiv. جگت ناتھ یا جگناتھ کا بہات —náth

yá Jagannáth ká bhát, the rice eaten at Jagannath by pilgrims of all castes out of

the same pot; something that may be eaten by all without loss of caste. جگناتھ کے بہات تر

جگناتھ یا جگناتھ کا بہات —Jagannáth ke bhát ko jagat pasáre háth, true faith and devotion pay no regard to the prejudices of caste.

جگت jugat, (युक्ति S.) H. n. f. Dexterity; contrivance; punning; counsel. جگت باز —báz,

n. m. punster; adj. skilful; dexterous.

جگتی jagati, S. n. f. The earth.

جگتی jagati, S. adj. Artful; clever; economical, facetious. [light.

جگجگانا jagjagáná, H. v. To give a dazzling

جگدمبا jagadambá, जगदम्बा, S. n. f. A Hindu goddess, *Durga* or *Parwati*.

جگر jigar, P. n. m. The liver; heart; soul. جگر لخت lakht-i—, a piece of the liver;

(*Met.*) a son. جگر بند —band, n. m. a son. جگر خراش —kharásh; adj. heart-rending.

جگر سوز —soz, heart-inflaming. جگرپی —i, adj. belonging to the liver; intimate; hearty.

(*Prov.*) جگر دگر دگر —jigar digar digar, mine is mine and yours is yours; every one knows where his shoe pinches. جگر گوشہ —goshá

n. m. A lobe of the liver; (*Met.*) one dear or beloved.

ممنون! ہمارے آہ مسیحا کے رو پر

گردوں پتے لے کے تعفہ لخت جگر گئی

(ممنون) —

Mamnún ! hamári áh Masfhá ke rú-ba-rú,

Gardún pa le ke tuhfa-i-lakht-i-jigar gai.

جگم jugal, (युगल S.) H. *adj.* A pair; couple; brace. جگم جرتي —jori, *n. f.* two brothers of the same age; a pair. [splendid: جگمگم jagmagá, जगमगा, H. *adj.* Glittering; جگمگمگم jagmagáná, H. *v.* To shine; to glitter. جگمگمگمگم jagmagahat, H. *n. f.* Glitter; splendour. جگمگمگمگم jagná, H. *v.* To awake; to rise; to be enraged.

جگمگمگم jugnán, जुगनु, H. *n. m.* A glow-worm; a firefly; an ornament worn about the neck also called (*Jugni*).

جگمگم jagah, जगह, H. *n. f.* Place; quarter; room; vacancy; post; stead. جگمگمگم—jagah, *adv.* everywhere. جگمگمگم—chhorná, *v.* to leave any place; to leave a blank. جگمگمگم—dená, *v.* to make room for.

جگم jul, जुल, H. *n. m.* Deceit; cheating. جگم باز báž, *n. m.* a knave. جگمگم—dená, *v.* to cheat. جگمگمگم—khelná, to circumvent; practise deceit or trickery. جگمگمگم میں آنا men áná, to be circumvented by; to fall into the coils of.

جگم jal, जल, H. *n. m.* Water. جگم پان—pán, *n. m.* any slight repast; a luncheon. جگم پرانی pralai, the destruction of the world by water. جگم پنچھي—panchhi, *n. f.* waterfowl. جگم ترنگ—tarang, *n. m.* musical glasses or harmonicon; a brass vessel in which water is put and the edges beaten with sticks. جگم تری—turi, *n. f.* a fish. جگم تھل—thal, marshy ground. جگم جاترا—jatra, a voyage. جگم چار—char, *adj.* aquatic; moving in water. جگم کار—kar, *n. m.* Revenue assessed on fisheries or on water. جگم مانس—mánus, mermaid. جگم میٹے—mai, deluge; inundation, *n. m.* جگم اندھر—andhar, dropsy.

جگم jalla, A. *adj.* Glorious; great; eminent. جگم شانہ جگم—shánahú.—jalálahú, eminent is God's glory.

جگم jalá, जला, } H. Burnt. جگم—bhuná, }
جگم jale, } scorched; enraged; irascible;
جگم jalí, } wounded جگم چھڑکنا }
par non chhirakná, to exult over one in trouble; to insult. جگم پھا—pha-

phole phorná, to vent one's rage on. جگم کٹی—kati, bitter and stinging sayings.

جگم jilá, A. *n. f.* Splendour; polishing; brightness. جگم دینا—dená, *v.* to polish. جگم کار—kár, *n. m.* a polisher.

جگم julláb, A. *n. m.* A purgative; purge; a sherbet of sugar and rosewater.

جگم jallád, A. *n. m.* An executioner; *adj.* cruel. جگم فلك—i-falak, *n. m.* the planet Mars (مریخ Mirrikh). جگم [glory.

جگم jalál, A. *n. m.* State; dignity; grandeur;

جگم jaláli, A. *adj.* Glorious; majestic; illustrious; divine. جگم اسم جلالی ism-i—an epithet of the Deity; texts from the Quran used as a charm.

جگم jaláliya, A. *n. m.* A person who worships the more terrible attributes of the Deity.

جگم jaláná, जलाना, H. *v.* To burn; to light; to kindle; to fire; to provoke; to excite envy or jealousy.

جگم jiláná, जिलाना, H. *v.* To bring back to life; to animate; to revive.

جگم jaláwatan, A. *adj.* Banished; exiled. جگم جلال وطنی jaláwataní, *n. f.* banishment; exile; emigration.

جگم julahá, जुलाहा, H. *n. m.* A weaver; a fool; a blockhead

جگم jald, P. *adj.* Expeditious; quick; swift; fast; hasty. جگم باز—báz, *adj.* hasty; precipitate.

جگم jild, A. *n. f.* The skin; leather; the binding of book; a volume. جگم باندھنا bandhná, *v.* to bind a book جگم باند یا ساز—band yá saz, *n. m.* a bookbinder. جگم باندی—bandí, *n. f.* bookbinding.

جگم jaldí, P. *n. f.* Quickness; hurry; haste; جگم جلدی—karná, *v.* to make haste; to hasten.

جگم jalsa, A. *n. m.* Meeting; assembly; committee; party; entertainment; a social gathering; dance. جگم اجلاسہ امرا—i-umrá, Senate; House of Lords. جگم اجلاسہ کرنا—karná, to hold or convene a meeting.

جگم jalaf, A. *n. m.* (Plur. اجلاف Ajlaf) A miser; *adj.* base; despicable.

جان jalán, जलन, H. n. f. Burning; inflammation; heat; passion; jealousy.

جانا jalná, जलना, H. v. To burn; to be burnt; to burn with jealousy. اُتھنا — uṭhná, v. to break out (a fire). بھجنا — bujhná, v. to burn to ashes. جل مرنا — marná, to burn oneself to death.

جار jilo, A. n. f. Splendour; retinue; suit; court; horse bridle. دار — dár, attendant. خانہ — khána, an area; porch; vestibule; ante-chamber.

جانا jalwána, जलवाना, H. v. To cause to burn; to cause some one to set fire to.

جارس julús, A. n. m. Pomp; accession to a throne.

چاره jalwa, A. n. m. Lustre; splendour; manifestation; effulgence; the nuptial bed; the bridal ornaments. گاہ — gáh, nuptial throne; place of display. گار — gar, manifest; conspicuous. من — men, publicly; openly (opp. to *khilwat men*).

جالی jali, A. adj. Plain; apparent. خط جالی — khatt-i—n. m. large plain handwriting.

جالی fasl-i—, n. f. a season before the commencement of the rains in which a crop of rice is cut. [meat.

جالیبی jalebi, जलेबी, H. n. f. A kind of sweet.

جالیس jalis, A. n. f. A companion; chum; comrade.

جالیل jalil, A. adj. Great; glorious; illustrious.

جلال القدر — ulqadr, adj. glorious; illustrious; august; high in dignity.

جم jam, (यम S.) H. n. m. The regent of the nether worlds and the judge of departed souls; the angel of death. دتیا — dutiá, n. m. the second day in the light half of the month of Kártik when brothers and sisters

dress up and exchange gifts and compliments in allusion to the attachment of Jam and Jamuna. دوت — dút, the messenger of Jam or Death. ملك الموت — Malak-ul-maut)

جم دیوا — diyá, n. m. a lamp sacred to Jam, lighted on the 13th of Kártik Krishna-paksh (dark half) three days before Diwali.

جم jamm, A. n. m. A multitude. —i-gafir, a great multitude.

جماد jamád, A. n. m. Whatever is incapable of growth; a stone; a fossil; mineral. جمادات — jamádát, n. m. pl. Minerals.

جمادی jamádí, A. n. m. The name of one of the Arabian months. جمادی الاول — ul-auwal, n. m. the 5th Arabian month. جمادی الآخر — ul-ákhir, n. m. the 6th Arabian month.

جماعت jama'at, A. n. f. A crowd; an assembly; a meeting; class; a body; congregation; gathering. جماعت سند یافتہ — i-sanad-yáfta, an incorporated company. جماعت متفقہ — muttafiqa, an association. ہم جماعت — ham—, class-fellow.

جمال jamál, A. n. m. Beauty; elegance; comeliness; prettiness.

جمال گرتہ — j. mál goṭa, H. n. m. A purgative nut.

جمالی jam li, A. n. m. A kind of musk-melon. adj. Pertaining to beauty.

جمانا jamáná, जमाना, H. v. To collect, to congeal; to implant; to cause (one's words) to impress (a person); to fix; to lay down.

جمانا jimáná, जिमाना, H. v. To feed; to entertain.

جمانہ jamáo, जमानो, } H. n. m. Cohesion; }
جمارت jamáwat, जमावट, } adhesion; accumula- }
tion; crowd; multitude; cogulation; consoli- }
dation; freezing.

جماہی jamáhi; H. n. f. see جمہائی (jamháí).

جمائی jamái, जमाई, H. n. m. A son-in-law.

جمبو jambu, H. n. m. A metal waterpot with a narrow neck; a jackal; the rose-apple.

جمبو دریپ — dwip, name of one of the seven continents or large islands surrounding the mountain Meru.

جمع jama', A. n. f. A collection; total; whole; sum; addition; capital; the Government demand; (in Gram.) the plural number (in Arith.) addition; stock; assets; collections; receipts. جمع بندی — bandí n. f. accounts of the revenues; rent-roll; assessment. جمع

خرچ — kharch, debit and credit; receipts and

disbursements; cash account; current account. جمع خرچ نویس — *kharch navis*, a book-keeper; an accountant. جمع مصالح میز بستر — *máhal meer bahar*, an account of the port duties. جمع واصل باقی — *wásil baqí*, payments and arrears; demands. جمع مدار — *dár*, *n. m.* the chief or leader of any number of persons. جمع کرنا — *karná*, *v.* to collect; to gather; to lay by; to add up; to deposit جمع ہونا — *honá*, *v.* to be collected; to assemble. جمع ہونے کی جگہ — *hone kí jagah*, place of resort; *rendez vous*; *neclous*.

جمعرات *juma'rát*, *A. n. f.* Thursday.

جمعہ *jum'*, *A. n. m.* Friday. [of mind.

جمعیت *jama'iyat*, *A. n. f.* A collection; peace

جمگھٹ *jamghat*, *जमघट*, *H. n. m.* A crowd; a multitude.

جمل *jummál*, *A. n. m.* A cable. حساب جمل *hisab-i—*, the reckoning of the alphabet by *abjad*.

جملاگی *jumlagí*, *P. n. f.* Totality.

جملا *jumla*, *A. n. m.* The whole; the total amount; a sentence; a clause. فی الجملة *fil—*, on the whole; in substance. من جملة *min—*, from or out of the whole.

جمنا *jamná*, *P. v.* To germinate; to grow; to take root; to become fixed; to be congealed or frozen; to be collected; to adhere; to be settled; to insist on; to fit; to be firmly established; to have a firm hold; to have effect. [a well.

جموت *jamot*, *जमोट*, *H. n. m.* The foundation of

جموگ *jamog*, *S. n. m.* Transfer of liabilities by mutual consent (as in the case of a loan contracted by a landholder for which he transfers to the lender the rents of his tenants).

جموگنا *jamogná*, *H. v.* To ascertain; to verify; to adjust.

جمہانا *jambhána*, *जम्हाना*, *H. v.* To yawn; to gape.

جمہائی *jambháí*, *जम्हाई*, *H. n. f.* Yawning. جمہائی لینا *lená*, *v.* to yawn.

جمہوری *jambúri*, *A. n. m.* Community; republic.

جمہوری سلطنت *jambúri saltanat*, *n. f.* republic; democracy.

جمع *jami'*, *A. adj.* In a state of collection; all; the whole. جمعاً — *an*, altogether; *in toto*; universally.

جمیل *jamil*, *A. adj.* Beautiful.

جن *jan*, *जन*, *H. n. m.* Man (individually or collectively); living being; person; mankind (used as first or last member of a compound) as جن استری *stri—*, womankind. جن بچہ — *bachha*, offspring.

جن *jin*, *जिन*, *H. pron.* Whom; what; which; (*Neg.*) don't; not.

جن *jin*, *A. n. m.* One of the genii; a spirit; an elf; a demon.

جنا *janná*, *A. v.* To bring forth; to produce a young; to beget; to breed; to be born.

جناب *janáb*, *A. n. f.* Side; margin; brink; majesty; highness; excellency; your honour. جناب من — *i-man*, dear sir. عالی جناب *—i-áli*, exalted sir; your or his excellency.

جنات *jinnát*, *A. n. m. (Pl. of جن)* Genii.

جنازة *janáza*, *A. n. m.* A bier; a funeral; a corpse.

جانانا *janáná*, *जानाना*, *H. v.* To deliver; to bring to bed; to inform; to warn (*jatana*).

جانی صدقہ *janáí*, *जनाई*, *H. n. f.* A midwife. جانی صدقہ — *sadqa*, alms given at the birth of child.

جنبان *jumbán*, *P. adj.* Moving; vibrating; trembling.

جنبش *jumbish*, *P. n. f.* Motion; movement; shake. جنبش دینا *—dená*, *v.* to move; to shake.

جنت *jannat*, *A. n. f.* A garden; paradise. جنت نصیب — *nasib*, whose abode or lot is Paradise.

جنتا *jantá*, *जन्ता*, *H. n. m.* An instrument for drawing wire.

جنتا *janata*, *S. n. f.* The public at large.

جنتر *jantar*, (वंत्र S.) *H. n. m.* A machine; an instrument; a magic square; an amulet; a musical instrument; a dial; an observatory.

جنتر منتر — *mantar*, *n. m.* juggling; conjuring.

جنتری *jantri*, *H. n. m.* An instrument for drawing wire; a calendar; an almanac.

چترو jantú, जन्तु, S. n. m. Living creature ; animals ; reptiles ; worms ; insects.

چنتري jannatí, A. adj. Of paradise ; heavenly.

چنجال janjal, जंजाल, H. n. m. Embarrassment ; entanglements ; worldly concerns or engagements ; bother ; fuss ; trouble ; difficulty ; perplexity. چنجال ميں پھسنا—men phansná, v. to get into or be surrounded by difficulties, etc.

زندگي هي يا کوئي چنجال هي

هم تو اس جينے کے ہاتھوں مرچے

Zindgi hai yá koi janjal hai,

Ham to is jine ke háthon mar chale.

چندرا jandrá, H. n. m. A pitch-fork, a kind of rake.

چنس jins, A. n. f. Articles ; ware ; merchandise ; grain ; corn ; moveables ; ornaments ; kind ; sort ; species ; class ; division ; sex ; crop ; products. چنس ابنائے جنس—, mankind. چنس ادنیٰ - i-adná, an inferior article ; inferior grain. چنس اعلیٰ—á'lá, a first class article ; a first-rate crop. چنسرار—wár, adj. according to species. چنس با ba jinsahú, in every particular ; as it is ; in its entirety.

چنگ jang, P. n. f. Battle ; war ; fight. چنگ آزموده—azmúdah yá ázmá, tried or experienced in war. چنگ جو—jú, quarrelsome ; contentious. چنگ زگري—i-zargari, A collusive dispute between two parties to defraud a third.

چنگا jang.h, P. n. f. Field of battle.

چنگال jengál, P. n. m. Verdigris.

چنگل jangal, जंगल, H. n. m. A wood ; a forest ; a jungle. چنگل جانا—jáná, v. to ease oneself.

چنگلا janglá, जंगला, H. n. m. A coppice ; a fence ; a railing. چنگلا لگانا—lagáná, v. to fence or rail.

چنگلي janglí, जंगली, H. adj. Wild ; savage ; clownish. چنگلي بلي—billí, n. f. Wild cat.

چنگلي پياز—pyáz, n. f. squills. چنگلي سرو—saro, wild cypress. چنگلي کرا—kauwá, n. m. raven.

چنگلي چنگلي—jahná, n. m. man-of-war. چنگلي لاء

laít, the commander-in-chief of an army.

چنم janam, (जन्म), H. n. m. Birth ; life ; existence. چنم اشتمی—ashámí, the birth-day of Krishná, چنم بگاڑنا—bigárná, v. to lead a life of sin. چنم بھوم—bhum, n. m. birth-place ; fatherland. چنم پتري—patrí, n. f. horoscope. چنم اچنم janam ájanam, adv. one life after another ; in successive transmigrations. چنم چلا—jalá,—jali, adj. unfortunate. چنم دن din, n. m. birth-day. چنم لینا—lená, v. to be born.

چنمی janmí, जनमी, H. adj. Inherited ; inborn ; natural.

چنراسا janwásá, H. n. m. The house where the bridegroom and his party are received.

چنروب janúb, A. n. m. The south.

چنروبي janúbí, A. adj. Southern.

چنرون janún, A. n. m. Madness ; lunacy ; insanity. چنرون هونا honá, v. to become mad. چنرون کے غلبه ميں—ke galbe men, in a fit of frenzy or passion ; under the influence of madness.

چنروني janúní, A. adj. Mad ; insane.

چنھائي junháí, چنھائي, H. n. f. The moonlight (junhaiya, chāndní.) [soever.

چنھي jinhen, जिन्हें, H. pron. Whom ; Whom-

چنهي janí, H. n. f. A woman ; a daughter.

چنير jane'ú, H. n. m. The Brahminical thread.

چو joo, P. n. f. A river ; stream.

چو jo, जो, H. pron. Who ; what ; which ; that ;

conj. if. چو—jo, whoever ; whatever.

چو چيز—chiz, whatever. چو کچھه—kuch,

whatever. چو کوئي—koí, whoever ; any. چو

هو سو هو—ho so ho, come or happen what

may. چو ہو سکتا هي—ho saktá hai, what is

practicable or possible. چو هيں—hin, adv.

as soon as ; no sooner.

چو jau, जौ, H. n. m. Barley ; the lines on the

finger joints ; a jot ; title. چو حساب لینا—

jau hisáb lená, v. to take a strict account.

(Prov) چو جو جو کا in'ám sau

sau ká hisáb jau jau ká, although rewards

or gifts may be distributed lavishly, the

minutest details should be considered in the making up of the accounts.

جوا javá, जवा, H. n. m. Barley ; a clove of garlic ; a kind of stitch in needle work. جوا دار (زنجیر)—dár zanjír a chain made with golden bits of the size and form of barley. جوا کھار—khár, impure saltpetre ; nitrate of potash. جواہر—har, a small species of myrobalan.

جوا juá, जुआ, H. n. m. Gambling ; gaming ; a yoke. جوا کھیلنا—khelná, v. to gamble. جوا دی جوازی, a gambler. جوا خانہ—khána, a gaming house.

جواب jawáb, A. n. m. Answer ; reply ; defence ; pair ; dismissal. جواب با ثواب—bá sawáb, n. m. a proper answer. جواب دعویٰ—dawá, n. m. answer to a plaint. جواب دہ—deh, adj. answerable ; responsible. جواب دہی—dehí, n. f. liability ; responsibility. جواب دہی کرنا—dehí karná, v. to contest a claim جواب دہی سے—dehí se barí karná, to exonerate. جواب دینا—dená, v. to answer ; to reply ; to account for ; to dismiss. جواب سوال—sawál, n. m. question and answer. جواب طلب کرنا—talab karná, to call to account. جواب قطعی—qata'í, n. m. a definite answer. جواب ماننا—milná, v. to be dismissed or discharged.

جوابی jawábí, A. n. m. A respondent ; counter-part.

جوار jawár, A. n. m. Vicinity ; neighbourhood.

جوار juár, जुआर, H. n. f. Indian millet.

جوارا juára, जुआ, H. n. m. Yoke of bullocks working a well ; as much land as can be ploughed by a pair of bullocks.

جوار بھاتا juár bhaṭá, H. n. m. Ebb and flow of the tide. [a digestive drug.

جوارش jawárish, P. n. f. A stomachic medicine ;

جواز jawáz, A. n. m. Propriety ; lawfulness.

جواسا jawásá, H. n. m. A prickly bush of which tatties are made.

جوالا juálá, ज्वाला, H. n. f. Flame ; heat. جوالا مکھی—mukhí, n. f. a volcano.

جوان jawán, P. adj. Young ; n. m. youth ; adult. جوان بخت—bakht, adj. fortunate.

جوان صالح—i-sálih, n. m. a fine youth. جوان صحت—maut, n. f. untimely death ; death in

the flower of youth. جوان نوخیز—i-naukhez, one who has just attained to manhood or womanhood.

جوانب jawánib, A. n. f. (Plu. of جانب Jánib). Parts ; sides ; environs ; quarters.

جوانمرد jawánmard, P. adj. Brave ; manly ; hold ; a spirited and brave fellow. جوانمردی jawánmardi, n. f. manliness ; courage ; generosity.

جوانی jawání, P. n. f. Youth ; full age ; adolescence ; age of discretion. جوانی چڑھنا—charhná, to attain to the vigour of manhood. جوانی کا—ká álam, the season or time of youth.

جواہر نگار jawahir, A. n. m. Jewels ; gems. جواہر نگار—nigár, adj. studded with jewels.

جوبان joban, (यौवन S.) H. n. m. Puberty ; youth ; bloom ; beauty ; a fine figure. جوبان پر آنا—par áná, to bloom ; to reach the age of puberty.

جوت jot, (ज्योति, S.) H. n. f. Brilliancy ; light ; sunbeam ; the flame of a candle or lamp ; vision ; a glance of the eye. جوت سرورپ—sarúp, adj. luminous ; radiant ; an epithet of God.

جوت jot, जोत H. n. f. Cultivation ; ploughing ; rent paid by a cultivator ; cultivated land ; the strap or cord that fastens the yoke of a plough, &c., to the neck of the ox.

جوتا júta, जूता, H. n. m. A shoe ; a slipper. جوتا مارنا—márna, v. to give one a shoe-beating. جوتا یا زر کا جوتا—cháñdí ya zar ká—, A money bribe.

جوتیش jotish, (ज्योतिष), H. n. m. Astrology ; astronomy.

جوتیشی jotishí, (ज्योतिषी), H. n. m. An astrologer ; an astronomer.

جوتنا jotná, जोतना, H. To plough ; to till ; to yoke ; to force one to do a thing.

جوتی پر جوتی جوتی júti, जूती, H. n. f. A shoe. جوتی پر جوتی—par júti charh jáná, one shoe to come on top of the other (superstitiously regarded as a sign of an impending journey).

جوتی پر مارنا—par márná, to contemn ; to despise ; to disdain. جوتی ہزار—paizár, a fight with shoes ; a general scuffle. جوتیاں جوتیاں jutiyán uṭháná, to do menial service.

چونتا jutyán chatkháte phirná, to loaf round ; to walk about doing nothing.
 چونا jutyán sídhi karná, to cringe to ; to perform menial service
 چوتیوں jutyon men dál bāntná, to have a domestic quarrel.

چون jojan, (योजन), H. n. m. Four kos or eight miles.

چونا jújhná, जूझना, H. v. To fight.
 چونا jújh marná, to die fighting.

چودت jaúdat, P. n. f. Quickness of apprehension ; ingenuity ; excellence.

چودھا jodhá, योद्धा, H. n. m. A warrior ; a combatant ; a hero.

چور jaur, A. n. m. Oppression ; tyranny ; violence ; wrong-doing.

چور jwar, ज्वर, S. n. m. Fever.

چور jorú, जोरू, H. n. f. A wife ; consort.
 چورر کا غلام —ká gulám, a henpecked husband.

چور jor, जोड़, H. n. m. A joint ; a patch ; match ; total ; junction ; union ; addition ; plus ; combination ; society ; concoction ; a plot.
 چورر بیٹھانا —biṭháná, to fit in a joint.
 چورر گھٹاؤ کی اُلٹی لاگ —ghaṭáo ki ulṭi lág. (Math.) harmonical progress.
 چورر لگانا —lagáná, v. to sum up ; to add.
 چورر توری —tor, n. m. arrangement ; contrivance.

چورج jorá, H. n. m. Joining ; connection ; counterpart ; match ; pair ; consort (wife or husband) ; a suit (of clothes) ; alchemy ; alloy.

چورج jurá, H. n. m. A top-knot.

چوررتی jortí, H. n. f. Calculation ; reckoning ; computation.

چورنا jorná, जोड़ना, H. v. To join ; to connect ; to patch ; to add up ; to lay by ; to calculate ; to collect ; to cement ; to harness ; to set a bone ; to pair ; to kindle ; to form a friendship.

چورپی jorí, जोड़ी, H. n. f. A pair ; couple ; partner ; mate ; match ; equal ; a carriage ; pair.
 چورپی ہانکنا —hánkná, to drive a pair.

چورپی júfí, जड़ी, H. n. f. Ague.

چورج jauz, A. n. m. Nutmeg.

چورج jauzá, A. n. m. Gemini.

چورش josh, P. n. m. Boiling ; ebullition ; emotion ; zeal.
 چورش جوانی —jawání, the ardour or fire of the youth.
 چورش خون —i-khún, plethora ; maternal or fraternal affection.
 چورش خروش —kharosh, n. m. roar ; passion ; anger.
 چورش دینا —dená, v. to boil.
 چورش مارنا —márná, v. to boil up.
 چورش میں آنا —men áná, to swell ; overflow.
 چورش میں لانا —men láná, to excite.

چوشاں joshán, P. adj. Boiling.

چوشاندہ joshándah. P. n. m. A decoction.

چوشن janshan, P. n. m. A cuirass ; armour ; armet.

چوع الجاں jau', A. n. f. Appetite ; hunger.
 چوع الجاں —ul-kalb, adj. voracious.

چوہ jauf, A. n. m. Cavity ; hollow.

چوق jauq, A. n. m. A troop or body of men.
 چوق چوق —jauq, adv. in troops. [ment.]

چوکھہ jokh, जोख, H. n. f. Weight ; measurement.
 چوکھائی jokháí, जोखाई, H. n. f. The weighman's fee.

چوکھنا jokhná, जोखना, H. v. To weigh.

چوکھوں jokhon, H. n. f. Risk ; danger.
 چوکھوں اُٹھانا —uṭháná, v. to risk ; to hazard.
 چوکھوں میں ڈالنا —men dálná, v. to endanger.

چوگ jog, H. n. m. Junction ; a fortunate moment ; occasion ; union of the individual soul with the divine soul by means of abstract meditation ; a division of a great circle measured on the ecliptic ; adj. fit ; capable ; opportune ; n. the person on whom a *hundí* or a bill of exchange is drawn.
 چوگ لینا —lená, to retire from the world.

چوگن jogin, (योगिन) H. n. f. Female of *jogi*

چوگنی jogni, H. n. f. A female fiend or sprite attendant on Durga.

چوگی jogí, (योगی) H. n. m. One who performs *jog* ; a Hindu *faqír* ; a devotee ; magician ; a conjurer.

چوگیا jogyá, जोगिया, H. n. m. Name of a colour (reddish yellow ochre ; گنیرا) ; a musical mode.

چولان jaulán, P. n. m. Moving about ; springing from side to side ; moving round ; coursing. چولانگاہ—gáh, a place of exercise for troops or for horses ; a *champ de-mare* گری چولان—gari, galloping fast. چولان پابند پابا—, with the feet in irons ; fettered.

چولانی jaulání, P. n. f. Strength of mind ; acumen ; fleetness.

چون jaun, जौन, Col. जाँ, H. pron. Who ; which ; what.

چون jon, H. adj. In some way or other ; anyhow. چون چون—jon, adv. as long as. چون کا—ká ton, adv. as it was ; as in fact ; *in statu quo*. چون تیروں کرے—tyon karke, adv. By some means or other ; anyhow ; with much difficulty.

چون júñ, जूँ, H. n. f. A louse. چون پڑنا—parná, to become lousy. چال کی چال—kí chál, very slow or creeping motion.

چون júñ, जून, Col. H. n. m. Time ; period ; age.

چون júñ, जून, H. n. f. Birth ; transmigrati-on ; time.

چونا júna, जुना, Col. H. n. m. A rope of grass for cleaning vessels, or tying a bundle.

چونار jivnár, जेवनार, Col. H. f. A feast ; a banquet.

چونک jonk, जोक, or jok, H. n. f. Leech. چونک لگانا—lagáná, v. to apply leeches.

چونہیں jonhín, (ज्योंहीं), H. adv. As soon as.

چوہر jauhar, A. n. m. A jewel ; gem ; skill ; bright ; spirit ; secrets ; merit ; virtue ; essence. چوہر دکھلانا—dikhláná, to show to advantage. چوہر فرد—i-fard, an indivisible atom ; (*met.*) an unrivalled or unequalled person. چوہر کھلنا—khulná, one's defects or faults to expose. چوہر اہل—ahl-i—, men of merit.

اہل چوہر کو وطن میں رہنے دیتا گو فلک

لعل کیوں اس رنگ سے آتا بدخشاں چھوڑ کر

(ذوق)

Ahl-i-jauhar ko vatan men rahne detá gar falak.

Lal kyon is rang se átá Badakhshag chhor kar.

Did Heaven permit good men in their own native land to stay,

Say would the ruby from Badakhshan e'er have come away ?

چوہری jauharí, A. n. m. A jeweller ; a dealer in gems, etc. ; a tester or appraiser of precious stones.

قدر گوہر شاہ داند یا بدانند چوہری

قدر گل بابل بدانند قدر دلدل را عالی

Qadr gauhar sháh dánád yá bidánád jauharí, Qadr gul bulbul bidánád qadr duldul rá, 'Ali, (*Lit.*) It is only a dealer in gems or a king who can realize the true value of precious stones just as it is the *Bulbul* (nightingale) alone that can appreciate the nicety of the fragrance given out by flowers or 'Alí who can estimate correctly the use and value of his favourite horse "the *Duldul*". Devoid of metaphor the meaning is, everybody appreciates the utility and worth of the object with which he is most familiar.

چوہنا johná, जोहना, H. v. To expect ; to look out for ; to look eagerly at.

چوہی júhí, जूही, H. n. f. Jasmine.

چویندا joyán, } P. n. m. A seeker. چویندا
چویندا joyanda, } چویندا joyanda yábinda, he finds who searches ; seek and you shall find.

چون دھرتی تن پائییاں گھرے پانی پیٹھے

بکلا بچھارا کیا کرے چوہے کنارے پیٹھے

Jin dhúrdhá, tin páiyán gahre pání paiṭh,

Bagulá bechárá kyá kare jo rahe kináre baiṭh.

چاہبا jhába, चाबा, H. n. m. A leathern vessel for holding anything.

چاہبار jhábar, H. n. f. Marshy land ; fen ; swamp.

چاہا jhájhá, H. n. m. A light intoxicating draught of *bhang* or hemp. [war ; a crusade.

چاہاد jihád, A. n. m. A Muhammadan religious

چاہاری jhárí, चारी, H. n. f. A pitcher with a long neck and a spout to it ; an ewer.

چاہار jhár, चार, H. n. m. A shrub ; bramble ; a lustre or chandelier ; a kind of firework.

چاہانہ bándhná, v. to rain without

ceasing. چہاز پھرنک—phúnk, *n. f.* exorcising.
چہاز کھند—khand, *n. m.* a forest. چہاز جھٹاک—
jhaṭak, sweepings.

چہاز جھڑا—jh ṛá, झाड़ा H. *n. m.* A stool ; a purge ;
an incantation ; a search. چہاز پھرننا—phirná,
v. to ease oneself ; to go to the rear. چہاز
دینا—dená, *v.* to submit to a search ; to
exorcise. چہاز لہنا—lená, *v.* to search a
person minutely.

چہاز جھارن—jháran, H. *n. m.* Sweeping ; rubbish ; a
dish clout. A coarse cloth for wiping
furniture.

چہاز جھاننا—jháná, झानना, H. *v.* To sweep ; to clean ;
to beat corn, etc. ; to comb ; to exorcise ; to
shake off ; to cast feathers ; to strike fire
with a flint. چہاز پچھو کر دیکھنا—pachhor
kar dekhná, to examine minutely ; to scruti-
nize. چہاز پھرننا—phúnkná, to exorcise.

چہاز جھارو—jháru, झारु, H. *n. f.* A broom ; a whisk ;
a comet. چہاز جھارو جانا—phir jáná, to have
the clean sweep of all in a house ; to spare
nothing. چہاز دینا—dená, *v.* to sweep. چہاز
کش—kash, *n. m.* a sweeper.

چہاز جھاری—jhárá, झारी, H. *n. f.* A bush ; a shrub ;
a wood ; a thicket.

چہاز جہاز—jaház, A. *n. m.* A ship. چہاز پر—par, *adv.*
on board a ship ; aboard. چہاز سے اسباب اوتارنا—
—se asbáb utárná, *n.* to unload a ship ; to
discharge cargo. چہاز شکنی—shikaní, *n. f.*
ship-wreck. چہاز کو راستہ بتانا—
batáná, to pilot a ship. چہاز کے مال کی بیلٹی—
ke mál ki bilti, bill of lading.

چہاز جہازی—jaházi, A. *n. m.* A sailor ; *adj.* naval.
چہاز ڈاکو—dákú, *n. m.* a privateer ; a pirate.

چہاز جھگ—jhág, झाग, H. *n. m.* Foam ; froth ; scum.
چہاز لانا—láná, *v.* to froth and fume.

چہاز جھال—jhál, झाल, H. *n. f.* A hot taste as of a
cayenne pepper ; pungency ; joining or solder-
ing of metals ; a large basket.

چہاز جھالا—jhála, झाला, H. *n. m.* Rain which falls on
one spot and not on another close to it.

چہاز جہالت—jihalat, A. *n. f.* Ignorance.

چہاز جھالار—jhálar, झालर, H. *n. f.* Frill ; fringe.

چہاز جھالنا—jhálná, झालना, H. *v.* To solder ; to make
hot or pungent ; to season pickles.

چہاز جھام—jhám, झाम, H. *n. m.* A large kind of hoe
for excavating earth.

چہاز جھاما—jhámá, झामा, H. *n. m.* A pumic stone ; a
vitrified brick (used to clean hands and feet
with).

چہاز جہان—jahán, P. *n. m.* The world. چہاز آرا—ará,
world adorning. چہاز آفرین—áfrín, Creator of
the world. چہاز پناہ—panah, protector of
the world ; his majesty. چہاز تاب—tab,
heating or warming the world ; the sun.
چہاز دیدا—dida, experienced ; a great traveller.
چہاز سوز—soz, an incendiary ; a fire-brand.
چہاز گہر—gír, world subduing ; a great con-
queror ; name of the son of Emperor Akbar.

چہاز جہاں—jahán, जहाँ, H. *adj.* Where ; which place.
چہاز تاک—tak, *adv.* as far as. چہاز تہاں—
táhan, *adv.* here and there. چہاز جہاں جہاں—
jahán, *adv.* wherever. چہاز سے—se, *adv.*
whence. چہاز کہیں—kahín, *adv.* wherever.

چہاز جھاپ—jhápp, झोप, H. *n. f.* A matted shutter ;
as enclosure of bamboo-work for fowls.

چہاز جھانپنا—jhánpná, झानपना, H. *v.* To cover ; to veil ;
to shut.

چہاز جھانجھ—jhánjh, झान्क, H. *n. f.* Anger ; im-
patience ; cymbals.

چہاز جھانجھار—jhánjhar, झान्कर, H. *adj.* Broken ; leaky ;
cracked ; full of holes.

چہاز جھانجھان—jhánjhan, झान्कन (झान्क), H. *n. f.* A
hollow tinkling anklet.

چہاز جھانجھی—jhánjhi, झान्की, H. *n. f.* A children's
play in the month of *Asin* when they go
about at night singing and carrying on their
heads earthenpots perforated on all sides
within which lamps are kept burning.

چہاز جھانسا—jhánsá, झानसा, H. *n. m.* Wheedling ; de-
ception. چہاز دینا—dená, *v.* to deceive ; to
wheedle. چہاز سے میں آنا—jhánse meñ áná, to
be deceived ; to be wheedled ; to be coaxed.

چہاز جھانسو—jhánsú, झान्सू, H. *n. m.* A deceiver ; a
coaxer ; a wheedler.

چہاز جھانک—jhánk, झान्क, H. *n. f.* A peep. چہاز
چھانکی—jhánká, jhánki, peeping ; bo-peeping.

جھانکار jhānkar, झाँकर, H. n. m. Brambles ; bush ; under-wood.

جھانکنا jhānkná, झाँकना, H. v. To peep ; to spy ; to pay a short visit.

جھانکلی jhānwli, झाँवली, H. n. f. A look or glance with partly-closed wink. جھانک لی لینا —lená, v. toogle.

جھانجھان jhān, झाँ, H. n. f. Name of a tree of tamarisk kind which grows in the marshy or sandy grounds and used for thatching and fuel.

جھانجھان jhān, झाँ, H. n. f. Shadow ; freckles. جھانجھان مائیوں —māiñ, n. f. a kind of children's play.

جھابھا jhabhá, H. n. m. A tassel ; a tuft ; a pendant.

جھاپ جھاپ jhap, jhaṭ, H. adv. Quickly. جھاپ سے —se, adv. quickly. جھاپ کھانا —kháná, v. to overset (paper kite in flying).

جھاپان jhappán, H. n. m. A kind of sedan chair used in the hills.

جھاپٹ jhapat, H. n. f. A spring ; a leap ; a bound ; an onset ; a snatch ; a rush. جھاپٹ لینا —v. to snatch ; to pounce upon.

جھاپٹا jhapatṭá, झपटा, H. n. m. An assault ; a spring ; a snatch ; a clash of sword ; a stoop of bird of prey ; violence ; wild fire. جھاپٹا مارنا —márná, v. to snatch ; to make a rush ; to swoop down. جھاپٹے میں آنا —jhapatṭe meñ áná, to fall into the clutches of ; to come under the influence of ; to be blasted by an evil spirit.

جھاپٹنا jhapatṇá, H. v. To spring ; to pounce ; to walk fast ; to snatch ; to run or fly at ; to make a sudden attack on ; to snap at.

جھاپک jhapak, H. n. f. Fanning ; winking ; blinking ; blast ; gust of wind ; shame.

جھاپکنا jhapakná, H. v. To fan ; to spring ; to lower the eyelids through drowsiness, fear or shame ; to nap ; to doze.

جھاپکی jhapki, झपकी, H. n. f. Drowsiness ; wink ; blink. جھاپکی لینا —lená, to take a nap ; to doze.

جھات jihat, A. n. f. Reason ; motive ; side ; cause ; account ; manner ; form. اس جھات سے is jihat se, for this reason ; in consequence of this.

جھاتلنا jhuṭálná, H. v. To pollute victuals by touching or tasting ; to falsify ; to belie ; to prove one to be in the wrong.

جھٹ پٹا jhuṭ puṭá, H. n. m. Dawn ; day-break ; dusk ; evening twilight.

جھٹک jhaṭak, झटक, H. n. f. Jerk ; shake ; toss.

جھٹکا jhaṭká, झटका, H. n. m. Jerk ; a violent pull ; a shake ; twitch ; the slaughter of an animal, offered a sacrifice by cutting off the head at one stroke (in the Hindu way) ; broken asunder.

جھٹکانا jhaṭkáná, झटकाना, H. v. t. To pull ; to shake.

جھٹکنا jhaṭakná, झटकना, H. v. To snatch ; to jerk ; to become lean ; to be pulled down ; to fall off (in flesh).

جھٹلانا jhuṭlána, झुटलाना, Col. H. v. To falsify.

جھٹیل jhuṭail, H. n. f. Leaving ; a cast-off (woman) ; adv. left ; rejected ; stale.

جھجھار jhajar, झजर, H. n. m. A porous goblet ; a large porous water jar

جھجھری jhajhri, झहरी, Col. H. n. f. A grating ; a lattice ; a screen (jhanjhri).

جھجھک jhajhak, झहक, H. n. f. Start ; recoil ; smell ; astonishment ; umidity ; shyness.

جھجھکنا jhajhakná, झहकना, H. v. To startle ; to boggle ; to hesitate ; to be shy.

جھجھ جهد, A. n. m. Struggle ; effort ; endeavour ; attempt ; exertion.

جھجھرتا jharratá, झरटा, H. n. m. The sound made in tearing new cloth.

جھیر جھیر jhir jhir, झिर-झिर, H. adj. Running in a slender stream (water, &c.) strickling ; splashing.

جھیر جھیرا jhir jhirá, झिरझिरा, H. adj. Very thin ; flimsy ; badly woven.

جھیر جھیرانا jhir jhiráná, H. v. To trickle ; to flow in a small stream.

جہڑی جہڑی jhur jhuri, झुर-झुरी, H. n. f. The shivering or ague that precedes fever; incipient fever.

جہڑکت jhurkaṭ, झुरकट H. n. f. Lopped off branches of a tree; small twigs.

جہڑمت jhurmat, H. n. m. A crowd; multitude; conflict.

جہڑنا jharná, झरना, H. n. m. A cascade; a waterfall; a skimmer; a *jet d'eau*. v. to leak; to be sifted; to ooze; to drop.

جہڑنا jhurná, H. v. To grow thin; to wither; to pine from grief.

جہڑکا - جہڑکا jharoká or jharokha, झरोखा, H. n. m. A window; a lattice; a skylight; casement.

جہڑی jhurri, झुरी, H. n. f. A wrinkle.

جہڑ jhar, H. n. f. Continued showers of rain; fall (of leaves); a volley; bolt of a lock.

جہڑا جہڑا jharájhar, H. adv. Rapidly; unceasingly.

جہڑانا jharáná, झडाना, H. v. To get swept; to get a cloth shaken or dusted; to be exorcised.

جہڑ باتاس jhar batás, झड-बतास, Col. H. n. f. A storm of wind and rain.

جہڑ بیری jhar berí, झडबेरी, H. n. f. A wild *ber* or plum tree.

جہڑاپ jharap, झडप, H. n. f. Flame; fieriness; pungency (as of pepper); fight; cock-fight.

جہڑاپانا jharpáná, झडपाना, H. v. To cause to spur or fight.

جہڑاپنا jharapná, झडपना, H. v. To spur; to fight (as cock, &c.)

جہڑا جہڑا jhar jharáná, झडझडाना, H. v. To shake; to jerk; to flap; to chide; to scold.

جہڑا jhirak, झिड़क, H. n. f. Threat; scolding; jerk.

جہڑا jhirakná, झिड़कना, H. v. To threaten; to scold; to jerk; to rebuke; to chide.

جہڑا jhirki, झिड़की, H. n. f. Scolding; snappishness; rebuke; threat.

جہڑا jharná, झडना, H. v. To drop; to fall off fruits feathers or hair; to shake; to be

swept off. جہڑا jhar jáná v. to fall off.

جہڑی jhari, झडी, H. n. f. Continued rain; showers. لگنا لگنا لگنا—lagná, v. to rain continually.

جہڑا jhak, झक, H. adj. Clean; white; shining; n. m. insanity; madness; delirium; nonsense. جہڑا جہڑا jhaká -, bright; shining; glittering.

جہڑا jhukáná, झुकाना, H. v. To cause to bend downward; to bow; to bend; to nod; to abash.

جہڑا jhukáo, झुकाव, H. n. m. The state of being bent downwards; inclination; curve; bend; (in *Mech.*) flexibility.

جہڑا جہڑا jhak jhori, H. n. f. Pulling and hauling; snatching.

جہڑا جہڑا jhik jhik, H. n. f. Fretting; whining; whimpering.

جہڑا jhakkar, झकड़, H. n. m. A sudden blast; a gale; a storm; a tempest; a hurricane; adj. stubborn; perverse. لگنا لگنا—chálná, a storm to rage.

جہڑا jhukná, झुकना, H. v. To bend; to incline; to stoop; to bow; to dip (as a scale); to be ready; to be abashed; to pay homage to; to submit.

جہڑا jhakor, झकोर, H. n. f. A shaking (by sickness); a shock; misfortune; loss.

جہڑا jhakorá, झकोरा, H. n. m. Waving; agitation (of a tree, etc., by the wind); blast (of wind); a shove.

جہڑا jhakol, झकोल, H. n. f. } Agitation; a }
جہڑا jhakolá, झकोला, H. n. m. } shaking; a } splash or din in water; a large wave.

جہڑا jhakolná, झकोलना, H. v. To shake; to splash in water.

جہڑا jhakkí, झकी, H. adj. Passionate; talkative; wrathful.

جہڑا jhagri, झगड़ा, H. n. m. Wrangling; quarrel; brawl. لگنا لگنا—uṭháná, to set a wrangling; to raise a quarrel. لگنا لگنا—karná, v. to quarrel; to wrangle; to dispute,

جہڑا jhagrálú, झगड़ालू, H. adj. Quarrelsome; wrangling; contentious; n. brawler; a disputer.

جھگڑنا jhagarná, झगड़ना, H. v. To dispute ; to quarrel ; to argue.

جھل jihal, A. n. m. Ignorance.

جھل جھل jhalá jhal, झलझल, adj. H. Shining ; resplendent.

جھلانا jhalláná, झलाना, H. v. To be angry ; to fly into passion.

جھلانا jhuláná, झुलाना H. v. To swing ; to rock a cradle ; to dangle ; to hang ; to keep one a long time over any thing.

جھلجھلانا jhaljhaláná, झलझलाना, H. v. To glitter ; to smart ; to burn ; to throb , to beat ; to be enraged.

جھلجھلاناٹ jhaljhaláhaṭ, झलझलाइट, H. n. f. Glitter ; smart.

جھلسا jhulsá, झुलसा, H. adj. charred; scorched ; soared ; burnt ; branded

جھلسانا jhulsáná, झुलसाना, H. v. To cause to singe ; to scorch ; to brand.

جھلسنا jhulasná, झुलसना, H. v. To be singed or scorched.

جھلک jhalak, झलक, H. n. f. Glitter ; brightness; reflection of light ; glare ; lustre.

جھلکا jhalká, झलका, H. n. m. A blister.

جھلکانا jhalkáná, झलकाना, H. v. To cause to shine ; to polish ; to burnish.

جھلکانا jhalakná, H. v. To shine ; to glitter ; to flash ; to glisten.

جھلکی jhalaki, H. n. f. A flash ; a glance.

جھلگا jhalgá, adj. and n. m. Worn out ; loose ; in pieces or shreds ; a cot the string of which is loose and broken (jhalangá).

جھلمل jhilmil, झिलमिल, H. v. m. The sparkling of waves or agitated water ; the twinkling of star or light ; a kind of gauze ; a shutter ; venetian blind.

جھلمل jhilm H. n. f. Armour; coat-of-mail.

جھلملانا jhilmilána, झिलमिलाना, H. v. To twinkle ; to flash ; to undulate ; to flicker.

جھلملی jhilmilí, झिलमिली, H. n. f. A shutter.

جھلنا jhalná, झलना, H. v. To fan ; to more a fan to and fro ; to be soldered.

جھلوانا jhalwáná, झलवाना, H. v. To cause to be soldered ; to have one fanned.

جھلنا jhelná, झेलना, H. v. To be endured or borne ; to be undergone or experienced.

جھلوائی jhalwái, झलवाई, H. n. f. Price paid for soldering.

جھلی jhillí, झिल्ली, H. n. f. A thin skin ; the omentum.

جھم جھم jham jham, झम झम, H. n. m. An imitative phrase for the sound of heavy rain ; steady downpour.

جھمجمانا jhomjhamáná, झमझमाना, H. v. To shine ; to glitter ; to dance (light).

جھمک jhamak, झमक, H. n. f. Glitter.

جھمکا jhumká, झुमका, H. n. m. The bell-shaped pendant of an ear-ring ; a bunch or cluster of flowers or fruits. جھمکا —dár, having a pendant clustering.

جھملا jhamelá, झमेला, H. n. m. Altercation ; row ; bother ; entanglement ; complication ; dilemma ; difficulty.

جھناکا jhanáká, झनाका, H. n. m. Clash ; clank ; ring.

جھنانا jhannáná, झनाना, H. v. To tingle ; to become benumbed or cramped feet, (the legs, &c.); to feel the sensation of pins and needles striking into the limbs.

جھنچھنچھنا jhinjhorná, or jhanjhorná, झिंझोड़ना, H. v. To shake ; to pull and gnaw flesh with the teeth.

جھنچھناٹ jhanjhaṭ, H. n. m. Wrangling ; perplexity [some.

جھنچھناٹیا jhanjhaṭiyá, झंझटिया, H. adj. Quarrel-

جھنچھری jhanjhrí, झंझरी, H. n. f. A lattice.

جھنچھلنا jhunjhliná, झुंझलाना, H. v. To be peevish or fretful ; to rage.

جھنچھلاناٹ jhunjhlahaṭ, झुंझलाइट, H. n. f. Peevishness ; anger.

جھنچھلاناٹ jhunjhuná, झुनझुना, H. n. m. A child's rattle

جھنچھلاناٹ jhunjhanáná, झनझनाना, H. v. To rattle to jingle ; to smart.

جھانجھانا *jhanjhanāṭ*, झनझनाट, H. n. f. jingling ; rattling.

جھانجھی *jhanjhi*, झंभी, H. n. f. A *kauri*, or shell of which the upper portion is broken off.

جھنڈ *jhund*, झुड, H. n. m. A crowd ; a swarm ; a flock ; a clump (of trees) ; a herd, کے جھنڈے—*ke jhund*, dense crowds.

جھنڈا *jhandā*, झंडा, H. n. m. A banner ; a flag ; an ensign ; a standard ; a flag staff. جھانڈنا *jhande* par *chaphānā*, to render infamous ; to defame ; to disgrace. تلیے جھانڈے *jhandē*—*tale kī dostī*, a casual or passing acquaintance.

جھانڈی *jhandī*, झंडी, H. n. f. A little flag.

جھانکار *jhankār*, झंकार, H. n. f. Tinkling ; rattling ; chinking.

جھانکباٹی *jhanakbāṭī*, झनकबाई, H. n. f. Acute rheumatism.

جہنم *jahannum*, جهنم, A. n. m. Hell.

جہنمی *jahannumī*, جهنمی, A. adj. Hellish ; infernal.

جھوٹ *jhūt*, झूट, H. n. m. A falsehood ; a lie. بنانا *banānā*, to frame or invent a lie. بولنا *bolnā*, v. to tell a lie ; to lie. پکارتنا *pakarnā*, to detect falsehood ; to convict one of a lie. جاننا *jānnā*, to regard or consider as a lie. سچ لگانا *sach lagānā*, to calumniate. مٹھنا *mūṭh*, adv. for nothing at all ; in jest.

ہیں جھوٹ کے سچ میں سب سامونے والے

ہننے والوں سے کم ہیں ہونے والے

(حالی)۔

Hain *jhūt* ke *sach* mein sab samonewāle,

Bannewālon se kam hain honewāle.

جھوٹ *jhūt*, झूट, } H. n. f. Leaving of food;
 جھوٹ *jhūt*, झूट, } adj. touched ; defiled
 جھوٹ *jhūṭan*, झूटन, }

جھوٹا *jhūṭā* } H. adj. False ; untrue ; not
 جھوٹا *jhūṭha* } genuine ; n. m. a liar. جھوٹا
 پانا *pañnā*, v. to be proved false. جھوٹا
 دستاویز *jhūṭha dast-āwez yā kagaz*,
 n. m. A false or forged document.

جھوٹا *jhoṭā* झोटा } H. n. m. A swing ; the
 جھوٹا *jhoṭā*, झोटा } long hair of a woman's head.

جھوٹ *jhoj*, H. n. m. A nest ; a pouch ; a pendulous belly. [that of *Bya*].

جھونجھ *jhoṅjh*, H. n. m. Nest of a bird (as

جھوننا *jhornā*, झोरना, H. v. To shake fruit from a tree.

جھان *jhan*, झान, H. n. f. Squabbling ; row ; disturbance ; altercation.

جھوسا *jhūsā*, H. n. m. } Fine rain ; drizzle.
 جھوسا *jhusi*, H. n. f. }

جھوک *jhok*, झोक, H. n. f. Inclination ; deflexion ; dipping of a scale ; gust ; influence of drink ; push in swinging ; bend ; reeling. سانبھلنا *sanbhnā*, to withstand or bear the shock of a storm ; to endure. مارنا *mārnā*, to give a fraudulent twist or turn to the beam of a scale (*ḍandī mārnā*).

جھوکا *jhokā*, झोका, H. n. m. A puff or gust of wind ; blast ; blow.

جھوگنا *jhoknā*, झोकना, H. v. To throw away ; to cast ; to pour ; to waste ; to squander ; to feed a fire.

جھول *jhol*, झोल, H. n. m. Puckering or wrinkling of ill-made clothes ; a litter ; a furrow ; a birth ; palsy (*jhola*) ; soup. ڈالنا *ḍālnā*, v. to crease ; to pucker. نیکالنا *nikālnā*, to remove a rumple or crease from ; to brood ; to hatch. [housings].

جھول *jhūl*, झूल, H. n. f. Body clothes of cattle ;

جھولا *jholā*, झोला, H. n. m. A knapsack ; a wallet ; palsy ; bag.

جھولا *jhūlā*, झूला, H. n. m. A swing ; a cradle. جھولنا *jhūlnā*, v. to swing.

جھولنا *jhūlnā*, झूलना, H. v. To swing ; to oscillate ; to sway to and fro ; n. m. a kind of poem ; a cradle ; a swing.

جھولی *jholī*, झोली, H. n. f. A wallet ; a sack ; a pouch ; a bag.

جھومر *jhumar*, झूमर, H. n. m. A company ; a band ; an assembly ; an ornament worn by women.

جھومکا jhúmká, झुमका, H. *n. m.* A kind of ear-ring ; the bell-shaped pendant of an ear-ring.

جھومنا jhúmná, झूमना, H. *v.* To hang down ; to move the head up and down ; to wave ; to slumber ; to gather ; to lower (as clouds).

جھوپا jhoppá, झोपा, H. *n. m.* A bunch of fruit ; a spike ; a top-knot.

جھوپڑا jhoppřa झोपड़ा, H. *n. m.* A hut ; a cottage.

جھوپڑی jhoppří, H. *n. f.* A small cottage.

جھونٹا jhonṭa, झोंटा, H. *n. m.* Coil of a woman's hair.

جھونکنا jhonkná, झोकना, H. *v.* To cast ; to throw ; to cast fuel into an oven.

جھری jheri, झरी, H. *n. f.* A chink ; crevice, etc.

جہز jahez, (دہج) A. *n. m.* A bride's portion ; dowry ; the paraphernalia of a bride.

جھسی jhísí, झीसी, H. *n. f.* Mistlike rain ; drizzle ; shower.

جھل jhíl, झील, H. *n. f.* A lake ; marsh ; low ground ; morass ; swamp. [to undergo.

جھلنا jhelná, झेलना, H. *v.* To bear ; to endure ;

جہیں jahín, जहीं, H. *adv.* Wherever ; in whatsoever place ; wheresoever.

جھینا jhiná, झीना, H. *adj.* Thin ; delicate ; slender ; fine.

جھینکنا jhínkná, झीकना, H. *v.* To whine ; to cry ; to lament ; to regret ; *n. m.* the story of one's troubles or sorrows ; a grievance.

جھینگا jhingá, झींगा, H. *n. f.* A shrimp.

جھینگڑا jhingur, झींगुर, H. *n. m.* A cricket.

جي ji, जी, (जीव), H. *n. m.* Life ; soul ; self ; spirit ; mind ; conscience ; any living thing ; disposition ; temperament ; courage ; energy. جھینا —ujháná, to withdraw one's affection, or friendship, or desire (from). جي اُٿھنا —ujhna, to come back to life again ; to be revived. جي اُڙجنا —á-jáná, to have the mind suddenly (on any thing or person). جي اُڙجنا —urjáná, to be bewildered ; be confused. جي بڙھانا —barháná, to cheer or comfort (one-self) ; to inspire (another) with courage ; to rouse the spirit (of) ; to cheer. جي جانا —

jáná, *v.* to fall in love ; to have the heart set on. جي اُگتانا —ugtáná, *v.* to be tired. جي ڪرنا —burá karná, *v.* to vomit ; to take offence. جي ڀر آنا —bhar áná, to be touched with passion or seized with grief. جي ڀر جانا —bhar jáná, to be contented. جي ڀر ڪ —bhar ke, *adv.* to (one's) heart's content. جھلانا —bahlaná, *v.* to amuse one's self. جھلنا —par khelná, *v.* to risk one's life. جھلنا يا پگھلنا يا پگھلجنا —pasijna ya pighalná ya pighal jáná, to be compassionate ; to be deeply moved. جي ڀرنا —phirná, *v.* to turn from. جي ڀڙت جانا —phaṭ jáná, to be broken-hearted. جي ترسنا —tarasná, *v.* to long or yearn for. جي جان سے قربان —ján se qurbán, devoted heart and mind. جي جلانا —jalána, *v.* to grieve ; to hurt. جي چلنا —jalná, *v.* to be vexed or troubled in mind. جي چرانا —cháná, *v.* to desire. جي چرانا —churáná, *v.* to shirk or escape from work. جي چلنا —chalná, to feel desire (for) ; to long (for). جي ڊڪھي هونو —dukhí honá, *v.* to be distressed. جي ڊالنا —dálná, *v.* to animate. جي ڏوبنا —dúbná, to faint ; to sink. جي ڏوبنا —se jáná, *v.* to die. جي سے اُٿ جانا —se utar jáná, to lose one's favour. جي سے مارنا —se márná, *v.* to kill. جي کانپنا يا ڊھڙڪنا —kappná ya dharakná, *v.* to have palpitation of the heart. جي ڪرنا —karná, *v.* to desire. جي ڪھولڪر —khol kar, freely ; without restraint. جي ڪي جي ميڻ رھنا —kí jimeṇ rahná, a desire to remain unsatisfied. جي ڪو لگنا —ko lagná, to be approved or acceptable ; to hurt. جي ڪو مارنا —ko márná, to repress one's desire. جي گھڙرانا —ghabráná, *v.* to be uneasy or agitated. جي لڳھانا —lobháná, *v.* to entice ; to fascinate. جي لگنا —lagáná, *v.* to fall in love ; to pay attention to. جي لگنا —lagná, *v.* to like ; to love. جي لوٽنا —loṭná, to desire eagerly. جي لينا —lena, *v.* to kill ; to penetrate one's thought. جي متلانا —matláná, to feel nausea. جي ميڻ آنا —meṇ aná, *v.* to come into the mind ; to occur (to one). جي ميڻ —meṇ baithná, to be impressed on the mind. جي ميڻ چل جانا —meṇ jal jáná, *v.* to be troubled with jealousy. جي ميڻ آنا —

men jí aná, *v.* to be comforted ; to be refreshed. مین جی میں رکھنا—men rakhná, to keep to oneself. نکلنا—nikalná, *v.* to die ; to be dying for one. ہارنا—hárná, *v.* to be discouraged. ہٹ جانا—hat jáná, *v.* to feel disgusted. ہٹانا—haṭáná, to turn away one's affections.

جی جی, जी, H. *intj.* An honorific form of address ; sir ; master ; madam.

جے جی, जय, H. *n. f.* Victory ; triumph. جے کار—jai kár, *n. f.* triumph ; rejoicings ; cheers. کار کرنا—jai kár karná, to shout ; to huzza.

جیمال jaimál, H. *n. f.* Necklace or garland of victory ; laurels.

جے جے, जै, H. *adj.* As many as. بے بے—ber, as many times ; as often as.

جینی jai, H. *n. f.* Oats ; a small species of barley.

جیانا jiáná, जिआना, H. *v.* To cause to live ; to revive.

جیب jaib, A. *n. f.* The breast ; the breast collar of a garment ; the bosom ; the heart. جیب چاکی—cháki, *n. f.* heart-rending.

جیب jeb, A. *n. f.* A pocket. جیب خرچ—kharoh, *n. m.* pocket-money ; pin money. جیب خاص—i-kháss, privy purse. جیب کترا—katrá, *n. m.* a pick-pocket. جیب کترنا—katarná, *v.* to pick one's pocket. جیب گھڑی—gharí, *n. f.* a watch.

جیبھه jibh, H. *n. f.* The tongue. جیبھه پکڑنا—pakarná, *v.* to hold one's tongue ; to criticize minutely. جیبھه چاہنا—cháhná, to covet ; to long for something unattainable. جیبھه چلانا—chaláná, *v.* to boast beyond one's ability. جیبھه نکلنا—nikalná, *v.* to be extremely fatigued or thirsty ; to pull out the tongue as a punishment for misusing it ; to pant.

جیبھی jibhí, जीमी, H. *n. f.* A tongue scraper.

جیت jit, जीत, H. *n. f.* Victory ; gain ; success. جیت ہونا—honá, *v.* to obtain a victory.

جیتا jítá, जीता, H. *adj.* Alive ; living ; over. جیتا جاگتا—jágtá, living and healthy ; alive

and flourishing. جیتے جیتے jite jí, *adv.* for life ; in the lifetime. جیتے رہنا—rahná, *v.* to live ; to outlive ; to enjoy a long life. جیتے جی تک—jíte jí tak ká qissa, to life tenure. جیتے جی مرنا—jite jí marná, to die a living death ; to endure extreme misery or anguish.

جیتے ہو تو کچھہ کیجئے زندگی کی طرح
مردوں کی طرح جیتئے تو کیا خاک جیتئے
(حالی)

Jite ho to kuchh kijiye zindon kí tarah,
Murdon kí tarah jitye to kyá khák jiye.

During one's life one should be active, *i. e.*, be up and doing, a life of inactivity is equivalent to non-existence.

Cf. "In the world's broad field of battle.

In the bivouac of life,

Be not like dumb driven cattle.

Be a hero in the strife."

Longfellow, *Psalm of Life.*

جیتنا jitná, जीतना, H. *v.* To win ; to conquer ; to overcome ; to beat.

جیتھه jeth, जेठ (ज्येष्ठ S), H. *adj.* Eldest ; eldest born ; chief ; head ; the husband's elder brother ; the name of the second Hindu month ; May-June.

جیتھهه jethá, जेठा, H. *adj.* The first-born ; eldest ; highest.

جیتھهه انسی jeth-ansi, H. *n. f.* The right of the oldest son (to a larger portion of the patrimonial property than his brothers) ; the right of primogeniture.

جیتھههانی jethání, जिठानी, H. *n. f.* The wife of a husband's elder brother.

جیتھههی jethí, जेठी, H. *n. f.* A stick. جیتھههی مدہ—madh, *n. m.* Stick liquorice.

جیتجا jijá, जीजा, H. *n. m.* Brother-in-law or sister's husband.

جیتجی jijí, H. *n. m.* Sister. [spacious.

جید jaiyid, A. *adj.* Powerful ; fertile ; large ;

جیر jer, H. *n. m.* After-birth ; secundiness.

جیرا jirá, जीरा, H. *n. m.* Cummin-seed.

جھسا *jaisá*, A. *adv.* Such as ; according as ; in like manner. جھسے بنے تیسے —*bane taisé*, as well as is possible ; as best you can ; anyhow. جھسا چاہئے —*cháhiye*, as it should be ; as may be desired ; sufficiently. جھسا کہ —*ki*, as though ; whereas ; as if. جھسا تیسا —*taisá*, as well as. جھسا کا تیسا —*ká taisá*, such as in the original ; as before ; as it was. جھسے کا تیسا —*jaisé ká taisá*, tit for tat ; measure for measure ; a Rowland for an Oliver. جھسے تیسے —*jaisé taisé*, somehow or other ; by hook or by crook ; with difficulty.

جھسہ *jifa*, A. *n. m.* Carcass ; corpse.

جھلسانہ *jailkhána*, جیلخانہ, H. *n. m.* A jail ; prison. جھلسانہ دیوانی —*i-diwáni*, a civil jail ; a debtor's prison. جھلسانہ نوچداری —*i-faujdarí*, a criminal jail. جھلسانہ کا داروغہ —*ká dároga*, *n. m.* gaoler.

جھلی *jeli*, H. *n. f.* A rake with wooden teeth pointing upwards for turning over sheaves of corn in threshing. [food.]

جھلنا *jimná*, جیمننا, H. *v.* To eat ; to take one's

جھن *jain*, जैन, S. *n. m.* A sect of Hindus, worshipping twenty-four *tiraths*.

جھنا *jíná*, जीना, H. *v.* To live ; to exist ; *n. m.* living ; life. جھنا جی اُٹھنا —*ji uṭhna*, to be resuscitated ; to come back to life again.

جھو *jiva*, जीव, S. *n. m.* Life ; soul ; animated being ; animal ; a darling. جھو آتما —*átma*, the vital principle ; the individual soul. جھو داند —*dand*, capital punishment. جھو کے بدلے —*ke badle* *jiv dená*, to espouse the cause of another. جھو ہنسنا —*binsá*, destruction of life.

جھوت *jiwat*, जीवत, } S. *adj.* Living ; lively ;
جھوت *jiwit*, जीवित, } spirited ; alive.

جھوتش *iyotish*, ज्योतिष S. *n. m.* Astronomy ; astrology. جھوتش و دیا —*vidyá*, astronomical science. جھوتشی —*i*, an astronomer ; an astrologer.

جھوتی *iyoti*, ज्योति, H. *n. f.* Lustre ; radiance ; splendour ; sunbeam ; flame.

جھوت *jiwat*, H. *adj.* Lively ; spirited ; courageous.

جھوڑا *jiwra*, H. *n. m.* Life ; soul ; beloved ; will.

جھوڑی *jeorí*, H. *n. f.* A string ; a cord.

جھوکا *jíviká*, जीविका, S. *n. f.* Livelihood ; means of subsistence.

جھون *jyon*, ज्यों, H. *adv.* As ; like ; how much ; جھونوں کا تھون —*ká tyun*, precisely the same.

جھون *jiwan*, S. *n. m.* Life ; existence ; living ; livelihood. جھون مرن —*maran*, *n. m.* life and death ; transmigration.

جھونا *jewná*, H. *v.* To eat.

جھونار *jeonar*, *n. m.* A feast ; a banquet ; an entertainment.

(چ)

چ *che*, called also *jim-i-farsi* or *jim-i-ajami*, the seventh letter of the Persian alphabet. This letter does not occur in Arabic. The numerical value according to the *Abjad* is the same as that of ج *jim*.

چا *chá*, P. *n. f.* Tea. چادان —*chádán*, *chá-pochí*, *n. m.* teapot.

چابک *chábuk*, P. *adj.* Active ; alert *n. m.* a whip ; horsewhip. چابک دست —*dast* *adj.* nimble ; dexterous. چابک سوار —*sawár*, *n. m.* horsebreaker ; a jockey ; a good rider. چابک سواری —*sawarí*, *n. f.* breaking in horses. چابک مارنا —*márná*, *v.* to whip ; to lash.

چابنا *chábná*, चाबना, H. *v.* To chew ; to masticate ; to gnaw ; to crunch.

چابی *chábí*, चाबी (चाभी), H. *n. f.* A key.

چاپ *cháp*, चाप, H. *n. m.* A bow.

چاپٹ *chápat*, चपट, H. *n. f.* Bran ; husk.

چاپڑ *chápar*, चापड़, H. *n. f.* Hard soil ; a chopper ; an instrument for chopping. [phant.]

چاپلوس *cháplús*, P. *n. m.* A flatterer ; a sycophant. چاپلوسی —*cháplúsí*, P. *n. f.* Flattery ; sycophancy ; fawning.

چاتر *chátár*, H. *n. m.* A large net.

چاتر *chátur*, चतुर, H. *adj.* Clever ; skilful ; dexterous ; four.

چاتک *chátak*, चातक, S. *n. m.* The pied cuckoo or *papiha*.

چات *cháť*, चाट, H. *n. f.* Wish ; taste ; relish ; habit ; longing ; custom. چات پڑنا—*paṛná*, *v.* to acquire a taste. چات لینا—*lená*, *v.* to lick up.

چائنا *cháṭná*, चाटना, H. *v.* To lick ; to lap ; to eat (cloth as a worm) or (herbage a locust) ; to consume.

چاچا *cháhá*, चाचा, H. *n. m.* Paternal uncle.

چاچی *cháčí*, चाची, H. *n. f.* A paternal aunt.

چاچار *chachar*, चाचर, H. *n. m.* A song and dance round a pole in the *Holi* festival.

چادر *chádar*, P. *n. f.* A sheet ; a table-cloth ; a coverlet ; a sheet of iron ; a waterfall. چادر تارنا—*utárná*, to insult or disgrace a woman. چادر بچھانا—*bichhána*, *v.* to lay the cloth. چادر چڑھانا—*charchána*, to present a *chadar* as an offering over the tomb of a saint.

چار *chár*, चार, H. *adj.* Four, چار ابرو کا صفایا—*abru ká safáyá*, shaving of the eyebrows and whiskers, and generally shaving of the head, beard, eyebrows and moustaches. چار آدمی—*ádmí*, people in general ; a jury of arbitrators. چار انگل—*angul*, *n. m.* the breadth of four fingers ; a girah or two and a half inches. چار آئینہ—*áina*, *n. m.* iron armour. چار بلیش—*bálish*, a sofa ; a couch. چار بیسی—*bísí*, four score. چار پایہ—*páya*, *n. m.* a quadruped. چار پائی—*pái*, *n. f.* a bedstead. چار پائی چار تھم—*pái par paṛná*, *v.* to get sick. چار تھم—*tukhm*, a mixture of four kinds of seeds (*tukhm-i-rehán*, *isabgol*, *blangá* and *khurfa*) used as a cure for dysentery. چار جامہ—*jáma*, *n. m.* a kind of saddle. چار چند—*chand*, quadruple ; fourfold. چار خانہ—*khána*, *adj.* chequered ; *n. m.* chequered cloth. چار دن کا—*din ká*, for a few days ; transient. چار دن کی چاندنی—*din kí chándní*, temporary enjoyment. چار دیواری—*diwári*, *n. f.* a courtyard ; enclosure ; rampart. چار زائر—*zánú*, squatting. چار زائر بیٹھنا—*zánú baiṭhná*, *v.* to squat. چار سالہ—*sála*, *n. m.* a four year old (horse). چار طرف—*taraf*, everywhere. چار عنصر—*ansar*, *n. m.* the four elements, *viz.*, (*wind, water, fire, earth*). چار کونہ—*koni*, *n. f.* a square. چار کھونٹ—*khunṭ*, *n. m.* the whole

world. چاروں *cháron*, the four ; the whole four. چاروں شانے چت پڑنا—*cháron sháne chit paṛná*, *v.* to fall at full length on the back. چار ناچار—*náchár*, perforce ; inevitably ; certainly. چار یار—*yár*, the four successors of Mohammad, *i. e.*, Abú-bakr, 'Umar, Usman and Alí.

چارا *chára*, चारा, H. *n. m.* Forage ; fodder ; bait for fish ; truss. چارا ڈالنا—*dálná*, to give fodder to ; to bait.

چارداہ *chárdah*, P. *adj.* Fourteen.

چارہ *chára*, P. *n. m.* Cure ; remedy ; expedience ; help ; resource. چارہ کار قانونی—*kár qanúní*, legal remedy.

چاشت *chásht*, P. *n. f.* The middle hour between sunrise and the meridian ; breakfast ; dinner. نماز چاشت—*namáze*, prayer after sunrise.

چاشنی *chásní*, P. *n. f.* The viscous state of syrup ; taste ; relish ; a specimen ; a mixture of sweet and sour. چاشنی دار—*dár*, sweet and sour.

چاہند *cháq chauband*, P. *adj.* Healthy ; active ; smart ; athletic ; muscular.

چاقو *cháqú*, P. *n. m.* A knife ; a penknife.

چاک *chák*, P. *n. m.* A cut ; a rent ; fissure ; cleft ; *adj.* slit ; torn. چاک کرنا—*karná*, *v.* to rend ; to split ; to tear. چاک گریبان—*girebán*, having the collar rent ; afflicted ; sad.

چاک *chák*, चाक, H. *n. m.* A potter's wheel ; rings of earth for forming a well pulley ; a millstone. چاک پوجنا—*pújná*, *v.* the Hindu marriage ceremony of worshipping the potter's wheel.

چاکار *chákar*, P. *n. m.* A servant.

چاکری *chákerí*, P. *n. f.* Service ; duty. چاکری کرنا—*karná*, *a.* to wait upon ; to serve.

چاکسو *cháksú*, P. *n. m.* A medicine for the eye.

چاکھنا *chákhna*, चाखना, H. *v.* To taste ; to relish ; to try ; to test.

چال *chál*, चाल, H. *n. f.* Gait ; walk ; motion ; movement ; custom ; conduct ; trick ; stratagem. چال چلن—*chalan*, *n. m.* character.

چال چلنا—*chálná*, *v.* to behave ; to deceive ; to practise tricks or deception on ; to behave deceitfully towards. چال ڈھال—*dhál*, *n. f.*

make ; constitution ; manner ; behaviour ; breeding. چال میں آنا—men áná, *v.* to be cheated ; to fall into the scheming of.

چالا chálá, *H. n. m.* Departure ; the auspicious moment for setting out on a journey.

چالاک chálák, *P. adj.* Active ; clever ; expert ; artful ; cunning ; astute. چالاک دست—dast, *adj.* adroit ; dexterous.

چالاکي chálákí, *P. n. f.* Activity ; ingenuity ; trickery ; cleverness ; expertness ; craftiness. چالاکي کرنا—karná, to practise cunning ; to overreach. چالاکي سے—se, *adv.* by unfair means.

چالان chálán, چالان, *H. n. m.* An invoice ; a remittance ; a pass ; Bill of Lading ; the goods despatched ; memorandum of money received and invested ; a criminal case sent up to magistrate by the police ; a list of letters or records sent. چالان کرنا—karná, to commit a prisoner for trial ; to forward an invoice of.

چالنا chálná, چالنا, *H. v.* To sift چالان chálán, the remains after sifting. چالنی chální, a sieve ; a strainer , a sifter.

چالیس chálís, چالیس, *H. adj.* Forty.

چالیسیا chálísá, چالیسیا, *H. n. m.* A period of forty days ; a dimness of sight which is supposed to come on at 40 years of age, and often to be removed on approaching the 48th or 56th year.

چالیسیواں chálísawán, چالیسیواں, *H. adj.* Fortieth ; *n. m.* the fortieth day after the death of a relation.

چام chám, چام (चर्म) *H. n. m.* Hide ; skin ; leather. چام کے دام چلانا—ke dām chaláná, *v.* (*lit.*) to introduce a leather currency ; to stretch to the utmost a temporary authority.

چانپ chánp, چانپ, *H. n. f.* A bow ; the lock of a gun. چانپ چڑھانا—chārháná, *v.* to cock a gun ; to bend a bow ; to torture.

چانپا chánpá, چانپا, *H. n. m.* Kneaded flour ; dough.

چانپنا chānpná, *H. v. t.* To press ; to shampoo ; to cram.

چانٹا chántá, چانٹا, *H. n. m.* A slap.

چانچری chānchrí, *H. n. f.* The corn which remains in the ear after treading out.

چاند chánd, چاند, *H. n. m.* The moon ; the crown of the head ; a target. چاند تارا—tará, *n. m.* a robe made of flowered muslim, &c. ; cloth figured with moons and stars. چاند رات—rát, *n. f.* the first night of the new moon. چاند کا تکرہ—ká tukrá, a lovely person ; a beauty (مہربارہ mahpára). چاند نے کھیت کیا—ne khet kyá, the moon has risen. چاند خالی کھالی کھا—, the month of Ziq'a'd in which no festival is held, and which is considered unlucky. چاند ہونا—'Id ká—honá, to become (as) the moon of 'Id, *i. e.*, to be rarely seen. چاند ماری—márí, *n. f.* target practice. چاند لگنا—chár chánd lagná, to be exalted ; to be raised to a post of honour.

چاندنی chándní, چاندنی, *H. n. f.* Moonlight ; a white cloth spread over a carpet ; name of a flower. چاندنی گل—gul chndni. چاندنی چوک—chauk, *n. m.* a wide and public street or market. چاندنی رات—rát, *n. f.* a moonlight night. چاندنی چار دن کی—chár din kí—, a transitory enjoyment.

چاندی chándí, چاندی, *H. n. f.* Silver ; wealth. چاندی کا جوتا—ká jútá, a bribe ; a *douceur*. چاندی کا ورق—ká warq, *n. m.* thin silver leaf.

چاندال chándál, چاندال, *H. n. m.* An outcaste ; a villain ; a sinner ; a wretch.

چانگلا chánglá, چانگلا, *H. adj.* Strong ; stout ; smart.

چانول chānwál, } *H. n. m.* Rice ; one-eighth of
چارل cháwal, } a *ratt*.

چاؤ cháo, چاؤ, *H. n. m.* Wish ; longing ; gusto ; heartiness ; eagerness ; desire ; pleasure.

چاؤچرا چاؤچرا—chochlá, *n. m.* fondling ; caress. چاؤ میں آنا—men áná, to take advantage of affection ; to be a favourite. چاؤ نکلانا—nikálná, *v.* to satisfy one's desire ; to gratify a wish.

چاہ cháh, *P. n. m.* A well. چاہ زنج—cháh-i-zanakh,—i-záqan, the dimple of the chin. چاہ کن—kan, a well-digger.

چاہ cháh, چاہ, *H. n. f.* Desire ; love ; affection ; want ; occasion ; need. چاہ ہونا—honá, *v.* to be in demand.

- چاہت chāhat, चाहत, H. *n. f.* Desire ; wishing ; volition.
- چاہتا chāhtá, चाहता, H. *adj.* Due ; owing ; beloved.
- چاہنا chāhná, H. *v.* To like ; to love ; to wish for ; to require ; to aim ; to demand ; to pray ; to ask for ; to crave.
- چاہو chāho, चाहो, H. *conj.* Either ; or ; as you will ; whether ; though.
- چاہی chāhí, P. *n. f.* Land irrigated from a well.
- چاہے chāhe, चाहे, H. *conj.* Either ; or. چاہے جتنا —jitrná, however great ; howmuchsoever. چاہے جو —jo, whichever.
- چاہیے chāhiye, चाहिये, H. *v.* Must, should ; necessary ; due ; is proper ; right ; should or ought ; is requisite.
- چاہیتا chāhítá, चाहिता, H. *adj.* Beloved ; darling ; agreeable ; desirable.
- چاہے cháe, P. *n. f.* Tea See چاہی چاہی پانی —pání ; *n. m.* Tea party.
- چاہی چاہی chāhí, चाई, H. *n. m.* An exacting or litigious person, a petty thief ; a sharper ; a disease that causes the hair to fall off.
- چاہی چاہی chāhí, चुई, scald head ; mange.
- چاہانا chabáná, चवाना, H. *v.* To chew ; to champ ; to crunch ; to masticate ; to bite (the lip.)
- چاہا چاہا chabá chabá ke bát karná, to munch one's word ; to hum and haw ; to speak indistinctly.
- چاہا چاہا chabar chabar, चबड़-चबड़, H. *n. f.* Jabber ; chatter.
- چاہک chabak, चबक, H. *n. f.* Throbbing.
- چاہکنا chabakná, चबकना, H. *v.* To shoot with pain.
- چاہیلا chibillá, चिविल्ला, H. *adj.* Childish ; boyish.
- چاہیلا —pan, *n. f.* childishness ; boyishness.
- چاہلانا ehabláná, चबलाना, H. *v.* To chew slowly ; to mumble.
- چاہنی ہادی chabní haddí, H. *n. f.* Gristle ; cartilage.
- چاہوانا chabwáná, चबवाना, H. *v.* To cause to chew.
- چاہوترا chabútrá, चबूतरा, H. *n. m.* A terrace or mound ; a platform ; a custom-house ; a police office.
- چاہوترا chubháná, चुभाना, H. *v.* To pierce ; to thrust into ; to prick ; to sting ; to goad.
- چاہوترا کہنا chubhtí kahná, to say stinging things. [thrust into ; to pierce.
- چاہوترا chubhná, चुभना, H. *v.* To be stuck or
- چاہوترا chubhoná, चुभोना, H. *v.* To prick ; to stick into ; to be goaded ; to be stung ; to be disagreeable.
- چاہوترا chabainá, H. *n. m.* Parched grain ; something to be chewed.
- چاہوترا chap, P. *adj.* Left (side). چاہوترا راست —o-rást, *n. m.* right and left ; carelessness ; unsteadiness.
- چاہوترا chup, चुप, H. *n. f.* Silence ; stillness ; *intj.* silence ! چاہوترا چاہوترا —cháp, *adv.* silently ; secretly ; stealthily. چاہوترا کورنا —karná, *v.* to silence. چاہوترا رہنا —rahná, *v.* to remain silent. چاہوترا ہونہ —honá, to be silent ; to give no answer.
- چاہوترا chappá, H. *n. m.* A measure of four fingers. چاہوترا چاہوترا —chappá, every span of land.
- چاہوترا چاہوترا chapátí, चपाती, H. *n. f.* A thin cake of unleavened bread.
- چاہوترا chapáná, चपाना, H. *v.* To cause to feel shame ; to abash ; to pile ; to squeeze ; to crush.
- چاہوترا chapat, चपत, H. *n. m.* A slap.
- چاہوترا chapťá, चपटा, H. *adj.* Flat ; compressed ; even ; level ; shallow and broad.
- چاہوترا chiptá, चिपटा, H. *adj.* Glutinous ; sticky ; clammy.
- چاہوترا chapťáná, H. *v.* To press flat ; to flatten.
- چاہوترا chiptáná, चिपटाना, H. *v.* To cause to adhere ; to stick on.
- چاہوترا chipatná, चिपटना, H. *v.* To stick ; to adhere ; to embrace ; to hug.
- چاہوترا chipchipsá, H. *adj.* Glutinous ; viscid ; clammy. [to be viscious.
- چاہوترا chipchipáná, चिपचिपाना, H. *v.* To adhere ;
- چاہوترا chipchipahat, चिपचिपाहट, H. *n. f.* Viscosity ; stickiness ; tenacity.
- چاہوترا chaprás, चपरास, H. *n. f.* A breastplate ; a clash ; a buckle ; a badge.

چوراسی chaprásí, चपरासी, H. *n. m.* A peon ; an orderly ; messenger (of a court, etc).

چاپرا chaprá, चपड़ा, H. *n. m.* Lac.

چاپرا chiprá, H. *n. m.* One who has a constant discharge of matter from the eyes.

چاپر چاپر chapar chapar, चपड़-चपड़, H. *n. m.* A sound imitative of the noise made by the mouth in eating.

چاپرنا chuparná चपड़ना (चुपड़ना), H. *v.* To oil ; to grease ; to butter ; to varnish ; to anoint ; to besmear.

چاپری chuprí, चुपड़ी, H. *adj.* Oiled ; oily ; greasy ; unctuous ; oily-tongued ; mealy-mouthed. چاپری بات—bát, *n. f.* flattery ; soft and honeyed words. چاپری روٹی—roṭí, *n. f.* cakes rubbed over with clarified butter.

چاپرہا chiprahá, चिपड़हा, H. *adj.* Having mattery eyes ; blear-eyed.

چاپراڻاڻا چپراڻاڻا chaparqanátíyá, H. *n. m.* A sycophant ; a toady ; a flatterer ; *adj.* low ; mean.

چاپقالش chapqalish, T. *n. f.* Crowding ; want of room ; a fight with swords ; an altercation ; a row. [the goat-sucker.

چاپک چипк, H. *n. f.* The sparrowhawk ;

چاپکا chupká, चुपका, H. *adj.* Silent ; quiet ; cunning.

چاپکانا chipkáná, H. *v.* To paste ; to stick on ; to fix ; to compress ; to press.

چاپکن chapkan, चपकन, H. *n. f.* A kind of vest or coat.

چاپکنا chipakná, चिपकना, H. *v.* To stick ; to adhere ; to be compressed.

چاپکی چупकी, H. *n. f.* Silence. چاپکی لگانا—lagáná, to keep silent. [brutal.

چاپل chapal, P. *adj.* Filthy ; foul ; nasty ;

چاپل chappal, चप्पल, H. *n. f.* A sandal ; a slipper.

چاپنی chapní, चपनी, H. *n. f.* A lid ; a cover ; the kneepad. چاپنی ہر پانی میں ڈوب مرنے—bhar pání meṅ dúb marná, *v.* to drown oneself in a spoonful of water ; to be greatly abashed

چاپو chappú, चप्पू, H. *n. m.* An oar ; a paddle.

چاپو مارنا—márná, *v.* to row.

چپپی chippí, चिपी, H. *n. f.* A patch or join (on paper.)

چپیت chapet, चपेट, H. *n. f.* A slap ; a sudden misfortune ; loss.

چپیتا chapeṭá, चपेटा, H. *n. m.* A slap ; a thump.

چت chit, H. *adj.* Supine ; laying flat on the back. چت کرنا—karná, *v.* to throw (an adversary) on his back (in wrestling) ; to win. چت لیٹنا—leṭná, *v.* to lie on one's back.

چت chit, चित्त, S. *n. m.* Mind ; memory ; attention ; heart ; understanding ; thought ; reflection. چت ہنگ ہونا—bhang honá, *v.* to lose one's mind or senses. چت پر چہرہ—par chahrná, *v.* to take possession of the mind ; to be impressed on the mind. چت سے اترنا—se utarná, *v.* to be forgotten ; to slip the mind or memory ; to escape one. چت لگانا—lagáná, to set the heart on ; to apply the mind. چت میں بہانا—meṅ bíḥáná, to instill in the mind.

چیتا chitá, चिता, H. *n. f.* A funeral pile ; pyre.

چیتانا chitáná, चिताना, H. *v.* To warn ; to caution ; to remind ; to inform ; to draw attention ; to apprise.

چیتاونی chitáoní, (चेतावनी) H. *n. f.* Caution ; warning ; timely notice ; a token.

چتر chitra, चित्र, S. *n. m.* A drawing ; picture ; delineation ; sketch. چتر بچتر—bichitr विचित्र, variegated. چتر ایلا—álay, studio. چتر سالہ—sála ; picture gallery ; picture room ; a drawing-room. چتر کاری—kárí, *n. f.* a portrait ; a painting.

چتر chatr, P. *n. m.* An umbrella.

چتر chatur, चतुर, H. *adj.* Wise ; clever ; sly ; skilful ; ingenious ; sagacious ; shrewd ; four. چتر ہجہ—bhúj, *adj.* having four arms ; quadrilateral ; an epithet of Vishnu. چتر ویدی—vedi, one familiar with the four Vedas (*chaube*).

چتورا chatura, H. *adj.* Wise ; clever ; intelligent.

چتورا chitrá, चित्रा, H. *n. m.* The 14th mansion of the moon. [ness ; slyness.

چتورائی chaturáí, चतुराई, H. *n. f.* Wisdom ; clever-

چتردشی *chaturdasi*, *चतुर्दशी*, *S. n. f.* The fourteenth day of a lunar fortnight.

چترکار *chitrkár*, *चित्रकार*, *S. n. m.* Printer ; artist.

چترکاری *chitrkári*, *चित्रकारी*, *S. n. f.* Painting.

چٹکابرا *chitkabrá*, *चितकबरा*, *H. adj.* Spotted ; piebald ; speckled.

چٹلا *chitlá*, *चितला*, *H. adj.* Spotted ; speckled.

چیتوان *chitwan*, *चितवन*, *H. n. f.* A look ; a glance ; aspect ; appearance.

چھٹھارنا *chithárná*, *चिथाड़ना*, *H. v.* To tear to pieces ; to abuse ; to scribble.

چھٹھار *chithrá*, *H. n. m.* A rag. *چھٹھار ڪرڻا*—*chithre chithre kar dená*, to tear to pieces.

چھٹھاریا *chithariyá*, *चिथड़िया*, *H. adj.* Ragged ; tattered. *چھٹھاریا پير*—*pir*, a pir or saint to whom rags are offered (being stuck on a tree by the roadside).

چھٹی *chittí*, *चित्ती*, *H. n. f.* A scar ; a spot ; a stain ; a kind of serpent. *چھٹی دار*—*dár*, *adj.* speckled. *چھٹی ڀڙ ڄانا*—*paṛ jáná*, to form a scar ; to scar.

چھٽ *chitṭ*, *चित*, *H. n. f.* A scrap of paper or cloth ; a slip. *چھٽ لگانا*—*lagáná*, *v.* to paste a slip.

چھٽ *chaṭ*, *चट*, *H. adv.* Quickly ; instantly.

چھٽ *pat*, *adv.* quickly ; *n. f.* a scratch ; a scar ; a snap. *چھٽ ڪرڻا*—*karná*, *v.* to eat ; to dissipate.

چھٽا *chitṭá*, *चित्ठा*, *H. adj.* White ; fair ; *n. m.* a silver coin. *چھٽا لڳائڻا*—*lagáná*,—*laṛáná*, to foment quarrels ; to flatter two parties in a dispute.

چھٽا *chattá*, *चट्टा*, *H. n. m.* A school boy ; a pile of bricks, etc.

چھٽا پٽي *chaṭá paṭí*, *चटा-पटी*, *H. n. m.* Quickness ; great mortality ; particoloured ; piebald.

چھٽا چھٽا *chaṭá chaṭ*, *चटा-चट* *H. n. m.* Reiterated sound of snapping or cracking ; the sound made by cracking the finger joints ; in quick succession ; successive.

چھٽاڪھا *chaṭákhá*, *चटाखा*, } *H. n. m.* A crash ; an explosion ; a smack.

چھٽاڪا *chaṭáká*, *चटाका*, }

چھٽان *chaṭán*, *चटान*, *चटान* *H. n. m.* Rocky ground.

چھٽانا *chaṭáná*, *चटाना*, *H. v.* To cause to lick ; to make to lap up ; to lavish ; to give a bribe.

چھٽائي *chaṭái*, *चटाई*, *H. n. f.* A mat. *چھٽائي بچھائڻا*—*bichháná*, *v.* to spread a mat.

چھٽ پٽ *chuṭ puṭ*, *चुट-पुट*, *H. n. f.* Miscellaneous expenses.

چھٽپوٽا *chuṭpuṭá*, *चुट-पुटा*, *H. adj.* Pungent ; tasty ; active ; smart ; meat dressed with a little sauce or gravy.

چھٽپٽانا *chaṭpaṭáná*, *चटपटाना*, *H. v.* To be agitated ; to flutter ; to wince.

چھٽپٽاھٽ *chaṭpaṭaṣhaṭ*, *चटपटाहट*, *H. n. f.* Agitation ; tossing about ; flutter ; distress.

چھٽپٽي *chaṭpaṭí*, *चटपटी*, *H. n. f.* Haste ; hurry ; agility ; briskness.

چھٽاڪھڻا *chaṭakhná*, *चटखना*, *H. v.* To crackle.

چھٽاڪ *chaṭak*, *चटक*, *H. n. f.* A crack ; intelligence ; brightness ; bright colour. *چھٽاڪيل*—*chaṭkilá*, *adj.* bright ; shining. *چھٽاڪ مٽڪ*—*maṭak*, *n. f.* wanton gait.

چھٽاڪا *chaṭká*, *चटका*, *H. n. m.* Great thirst ; dearth ; eager desire.

چھٽاڪارا *chiṭkára*, *H. n. m.* A speck ; a scar ; a clack with the tongue occasioned by an acrid taste. *چھٽاڪارا ڪرڻا*—*chiṭkára bharná*, to smack the lips (over anything luscious).

چھٽاڪارنا *chaṭkarná*, *चटकारना*, *H. v.* To urge cattle by the clacking noise made by drawing the tongue from the palate.

چھٽاڪانا *chaṭkáná*, *चटकाना*, *H. v.* To crack (a whip) ; to snap the fingers ; to irritate.

چھٽڪولا *chuṭkulá*, *चुटकुला*, *H. n. m.* Wit ; humour ; pleasantry ; a *bon mot* ; a specific cure ; conundrum ; a mischievous joke or trick.

چھٽڪولا *chhoṛná*, *चुटकुला*—*chhoṛná*, *v.* to invent a playfully mischievous story ; to utter a jest or pleasantry.

چھٽڪنا *chaṭakná*, *चटकना*, *H. v.* To crackle (as wood on fire) ; to crack (as a whip) ; to split ; to open out ; to bloom (a flower) ; to speak angrily ; to fall out.

چھٽڪانا *chuṭkaná*, *चुटकाना*, *H. v.* To nip ; to pluck (a flower).

چھٽڪانا *chaṭkaná*, *चटकाना*, *H. n. m.* A slap on the face ; a box on the ear. [door.

چھٽڪاني *chaṭkaní*, *चटकनी*, *H. n. f.* The bolt of a door.

چھٽڪي *chuṭki*, *चुटकी*, *H. n. f.* A pinch ; a handful ; an ornament worn on the toes ; a snap of the

fingers; a twist given to lace; a knot in cloth (made by a dyer to prevent a part taking the dye); a medicinal powder. چٹکی بجانا —bajáná, *v.* to snap the fingers. چٹکی بجانے میں —bajáne men, in a moment; in a trice. چٹکی بھر —bhar, as much as can be held between a finger and the thumb. چٹکی بھرنا —bharná, *v.* to pinch; to nip; to taunt. چٹکی کا تانا —kaṭná, *v. t.* To nip; to pinch. چٹکی لینا —lená, to nip; to pinch; utter cutting words or sarcasm. چٹکیوں میں آڑنا —yon men uráná, *v.* to carry or turn off in a joke; to turn into ridicule.

چٹکیلا چٹکیلá, चटकीला, *H. adj.* Pungent; tasty; splendid; bright.

چٹنی chaṭni, चटनी, *H. n. f.* A kind of acid sauce (condiment or marmalade).

چاخورا chaṭorá, चटोरा, *H. n. m.* One who feeds on dainties; an epicure; a greedy person.

چٹھا chutahá, चुटहा, *H. adj.* Stricken; wounded; hurt.

چٹھاہا chāṭṭahá, चट्टा, *H. n. m.* A delicacy; dainty; *bonne bouche*, generally called چٹھاہا میتھا *chāṭṭhá mitthá*.

چٹھہا chitṭhá, चिट्ठा, *H. n. m.* A memorandum of the money paid to servants; rent-roll; pay-sheet; a balance-sheet. چٹھہا بانڈھنا —baṇḍhná, *v.* to balance accounts; to calculate. چٹھہا بانٹنا —bāṭṭná, *v.* to pay labourers. چٹھہا بہی —bahí, *n. f.* A rough balance-sheet. چٹھہا کرنا —karná, to raise a subscription.

چٹھہی chitṭhí, चिट्ठी, *H. a. f.* A letter; a chit; a note; a note of hand; a bill; a draft; a certificate. چٹھہی بانٹنا —bāṭṭná, *v.* to deliver letters. چٹھہی چپاٹی —chapáti, epistolary; correspondence. چٹھہی ڈالنا —ḍálná, *v.* to make a lottery; to post a letter. چٹھہی راہداری —rah dári, a passport; certificate of clearance. چٹھہی رساں —rasáñ, *n. m.* A postman; bearer of a letter.

چٹھی chaṭṭi *H. n. f.* Loss; damage. چٹھی بھارنا —bharná, to make good a loss.

چٹھیہا chutṭiyá, चुटिया, *H. n. m.* A single lock of hair left on a shaven head; a toy knot.

چٹھیہا چاṭṭiyá, *H. n. m.* The head of a gang of thieves.

چٹھیانا chutṭyáná, चुटियाना, *H. v.* To beat; to wound; to be wounded; to be affected with hurt.

چٹھیلا chutṭilá, चुटिला, *H. adj.* Wounded.

چٹھیل chaṭṭyál, *H. adj.* Level.

چچا chachá, चचा, *H. n. m.* Father's brother; paternal uncle; an astute fellow. چچا زاد بھائی —zád bhái, a cousin; a father's brother's son.

چچھانا chucháná, *H. v.* To drop; to leak; to be dripping wet with sweat. [or sheep].

چچھری chichrí, *H. n. f.* A tick or louse (of dogs)

چچھکارنا chuchkárná, चुचकारना, *H. v.* To caress; to fondle; to coax by making a sucking or kissing sound with the lips.

چچھکاری chuchkári, *H. n. f.* Blandishment; coaxing.

چچھیندا chichindá, चिचिन्डा, *H. n. m.* A kind of vegetable. [suckle.

چچھوڑنا chachorná, चचोरना, *H. v.* To suck; to

چچھوڑنا چچھوڑنا cháchí, चाची, *H. n. f.* Father's brother's wife; aunt. [to shriek; to scream.

چچھیانا chichiyáná, चिचियाना, *H. v.* To squeak;

چچھیرا chacherá, चचेरा, *H. adj.* Descended from or related through a paternal uncle. چچھیرا

چچھیرا بھائی —bhái, a male cousin; son of a paternal uncle. چچھیرا بہی —bahí, a female cousin; daughter of a paternal uncle.

چخ chakh, *P. n. f.* Quarrel; contest; strife; tumult; uproar. [dispute; discord.

چخہا chakhá chakhí, *P. n. f.* Wrangling;

چخہا chakhe, *P. intj.* Be off! Away! Begone!

چدر chaddar, चदर, *H. n. f.* A sheet; a tablecloth, see چادر *chadar*. [buffoon.

چددا chaddá, *H. n. m.* The groin; a clown; a

چدھی chaddhí, चदही, *H. n. f.* Mounting or riding on a man, horse, etc.

چر char, *H. n. m.* Sound made by tearing cloth, etc.; a sandbank or island formed by the current of a river.

چر char चर, *S. adj.* Movable; locomotive; animate. چر چر charáchar, animate and inanimate things; the world. [why.

چرہا chará, *P. adv.* Wherefore; how; for what;

چراغ chirág, *P. n. m.* A lamp; a light. چراغ کرنا یا بھجانا —barháná yá thandá karná

yá bujhaná, *v.* to extinguish a lamp ; to put out a light. چرافا ہونا — pá honá, to rear (as a horse) ; to be enraged or angry. چرافا جالنا یا روشن ہونا — jalná yá roshan honá, *v.* to be lighted. چرافا دان — dán, *n. m.* stand for a lamp ; candlestick, چرافا گل کرنا — ko háth dena, —gul karná, to put out a light چرافا مین بتی پڑنا — men battí parná, night to set in ; to be growing dark ; a lamp to be lighted. چرافا گھی کے چرافا جالنا — ghí ke — jalná, to live in fine style ; to make great rejoicings. چرافا بے چرافا — be —, dark ; abandoned ; deserted ; desolate ; childless.

چرافاں chirágán, *P. n. m. pl.* Lights ; a display of lamps.

چرافی chirágí, *H. n. f.* A present to the *mulla* for offering a votive lamp at the tomb of a saint.

چرافا چارágáh, *P. n. f.* A meadow ; a pasture ; grazing ground.

چرافا چارانá, چارانا, *v.* To graze ; to feed ; to pasture ; to make a fool of.

چرافا chiráná, چیرانا, *H. v.* To cause to tear ; to cause to split.

چرافا churáná, چورانا, *H. v.* To steal ; to rob ; embezzle ; to turn away the eyes. چرافا آنکھ چرانا — ānkh —, to take a furtive glance at.

چرافا charráná, چرانا, *H. v.* To throb ; to smart ; to crack ; to burst with a report.

چرافا chiránd, *H. n. f.* The smell of burning leather, hair, oil, etc.

چرافا chiráo, *H. n. m.* Slit ; rent ; fissure ; cleft.

چرافا chiráétá, چیرایتا, *H. n. m.* A species of gentian.

چرافا charái, *H. n. f.* The price paid for pasturage ; grazing.

چرافا charb, *P. adj.* Fat ; greasy ; active ; viscous ; oily ; glib ; sharp. چرافا زبانا — zabán, *adj.* smooth-tongued ; plausible. چرافا زبانی — zabání, *n. f.* fairness of speech ; plausibility ; fine talk.

چرافا چرافا — gizá, Rich food ; dainties.

چرافا چرافا, *P. n. m.* Tracing paper. چرافا چرافا — utárná, to make a tracing.

چرافا charbí, *P. n. f.* Fat ; grease ; tallow. چرافا کی چھلی — kí jhillí, *n. f.* caul ; the fine membrane that covers the fat. [smart pungent.

چرافا charpará, چرپارا, *H. adj.* Acrid ; hot ; چرافا چرافانا, *H. v.* To smart ; to burn ; to tingle. [smarting.

چرافا چرافاھاٹ, چرپاراھاٹ, *H. n. f.* Pungency ;

چرافا چرافا, چرافا, *S. n. m.* Conduct ; history ; art ; tricks ; adventures ; manners ; behaviour ; deeds ; exploits ; nature ; disposition. چرافا تریا — tiryá —, woman's artful schemes and wiles.

چرافا چرافا, *H. n. m.* Talk ; mention ; report ; rumour ; gossip. چرافا کرنا — karná, *v.* to talk of or about. چرافا مین رہنا — charche men rahná, to apply oneself constantly to ; to continue engaged in. [crumbling.

چرافا چرافا, چرافا, *H. adj.* Crisp ;

چرافا چرافانا, چرافا, *H. v.* To crackle ; to smart ; to prate ; to fret ; to be peevish ; to be pungent or sharp.

چرافا چرافاھاٹ, چرافاھاٹ, *H. n. f.* Peevishness ; making a cracking sound.

چرافا charkḥ, *P. n. m.* A wheel ; the sky ; the heaven ; fortune ; a lathe ; a hyæna ; a falcon ; circular motion ; a cross-bow. چرافا اشیر — i-asir, the heaven of the stars. چرافا اخضر — i-akhzar, the ethereal sphere. چرافا اتلس — i-atlas, the crystalline sphere. چرافا چرافانا — charháná, *v.* to turn on a lathe. چرافا کھانا — kháná, *v.* to turn round ; to revolve. چرافا ہندولا — hindōla, a merry-go-round.

چرافا charkḥá, چرافا, *H. n. m.* A spinning wheel ; reel, چرافا کاتنا — kátná, *v.* to spin thread. چرافا ہوجانا — ho jáná, to become worn out, rickety, old, etc.

چرافا charkḥí, چرافا, *H. n. f.* A spinning wheel ; a reel ; the axis of a pulley ; the instrument with which the seed is separated from the cotton ; catharine wheels ; a kind of fireworks ; a dumb water. چرافا فانوس — fánús, a revolving lantern made of talc with pictures all round (*fanús-i-ḥyál*).

چرافا charas, چرافا, *H. n. m.* The resinous exudation of the flowers of hemp collected with the

dew and prepared for use as an intoxicating drug; a large leathern bag or bucket. (*purvat, moth*).

چرسا charsá, चरसा, H. n. m. A hide; a skin. چرسا بهر زمین — bhar zamín, as much land as can be irrigated by a pair of bullocks.

چرسی charsí, H. n. m. One addicted to smoking charas.

چرغ charg, P. n. m. A hyæna; a kind of hawk.

چرغد chargad, A. n. m. A cricket.

چرغین چرغینک چرغینک chargain, chargaina, P. n. m. A low mean fellow; a villain; *adj.* sordid; low; vile; wicked.

چرک chirk, P. n. m. Filth; ordure; matter; pus.

چرکا charká, H. n. m. White leprosy; scratch; damage; fraud.

چرکت chirkut, चिरकुट, H. n. m. A bit; a rag.

چرکت churkut, चुरकुट, H. n. m. Powder.

چرکاتا charkatá, चरकटा, H. m. The keeper's mate who cuts forage for the elephant; low fellow.

چرکین chirkin, P. *adj.* Filthy; dirty; *n. m.* ordure; dung. Nom-de-plume of a poet.

چرم chirm, P. n. m. Leather; skin; hide; parchment. [to smart.

چرمیرانا chirmiráná, चिरमिराना, H. v. To burn;

چرمیراهاٹ chirmiráhaṭ, H. n. f. A prickly sensation.

چرمینا charmína, P. *adj.* Made of leather. چرمینک دور — doz, a shoe-maker.

چرن charn, चरण, H. n. m. The foot. چرن لینا — lená yá chhúná, v. to touch the feet of a priest. چرن امرت — amrit, n. water in which an idol's feet have been washed.

چرنا charná, चरना, H. v. To graze; to feed; *n. m.* half trousers (*janghya*).

چرنا chirná, चिरना, H. v. To be split; to split.

چرنا churná, H. v. To be stolen; to be boiled.

چرنجیو chiranjiv, चिरजीव, S. *intj.* May you live long!

چرند چرندہ چرندہ charand, charanda, P. n. m. An animal that grazes; a beast. چرند و پرند — o-parand; *n. m.* beasts and birds.

چرندم خورندم چرندم charandam khurandam, *n. m.* eat and drink.

چرنی charní, चरनी, H. n. f. A feeding trough; a manger.

چرنا charná, चरना, H. n. m. A large earthen pot (*matka* especially that in which the medicine for lying-in-woman is prepared).

چرنا charwáhá, H. n. m. A grazier; a shepherd; herdsman.

چرناہی charwáhi, H. n. f. The rent paid for pasturage; taking animals to graze; wages of a herdsman.

چرناہی chiraurí, चिरोरी, H. n. m. Beseeching; requesting; entreaty.

چرناہی chironjí, H. n. f. The nut of the *chironjia scapida*. [cut for fodder.

چرناہی charí, चरी, H. n. f. Unripe corn plants

چرناہی chir, चिद, H. n. f. Mocking; vexation; antipathy. چرناہی نیکالنا — níkalná, to mock; to banter; to provoke; to jeer.

چرناہی chirá, चिड़ा, H. n. m. A cock sparrow.

چرناہی charáná, चिदाना, H. v. To mock; to vex; to irritate; to jeer; to make grimaces.

چرناہی chirchirá, चिद-चिड़ा H. *adj.* Fretful; peevish.

چرناہی chirchiráná, चिदचिड़ाना, H. v. To crack; to crackle; to be irritable; to fret.

چرناہی chirchiráhaṭ, चिदचिड़ाहट, H. n. f. Fretfulness; peevishness.

چرناہی chirná, चिदना, H. v. To be vexed; to be provoked.

چرناہی chirwá, च्यूड़ा, H. n. m. Rice partially boiled in the husk and then flattened and roasted.

چرناہی charháná, चढ़ाना, H. v. To cause to ascend; to offer up; to raise; to lift; to increase; to advance; to sacrifice; to dedicate; to string (a bow); to brace (a drum); to dye (with colour); to fix (a bayonet); to drink; to imbibe; to quaff. چرناہی سار پار — sar par —, to embolden; to encourage. چرناہی فوج — fauj —, v. to lead an army.

چرناہی charháó, चढ़ाओ, H. n. m. Ascent; rise; increase; flood tide. چرناہی اُتار — utár, *n. m.*

ascent and decent; flood tide and ebb-tide; rise and fall.

چرناہی charháwá, चढ़ावा, H. n. m. A religious offering; libation; anything presented in sacrifice. [invasion.

چرناہی charháí, चढ़ाई, H. n. f. Ascent; attack,

چراہ بانا charh banná, H. v. To get the better of.

چراہتا charhtá, H. n. m. Rise or increase of price. چراہتا بہار—bháo, a rise or an advance in price.

چراہتی charhtí, H. n. f. Increase; gain; rise; advance.

چراہنا charhná, چرانا, H. v. To ascend; to mount; to ride; to raise, to soar; to advance; to attack; to climb; to elapse; to be offered; to be strung; to top; to pair. [slipper.

چراہوان charhwán, H. n. m. A heeled shoe or riding shoe. چراہویا charhwaiyá, H. n. m. One who ascends; a rider; a climber.

چری chirí, چیری, H. n. f. A bird; a hen-sparrow. چری مار—már, n. m. a bird-catcher; a fowler.

چریا chiríya, چیرییا, H. n. f. A bird. چریا خانہ—n. m. an aviary. چریا سونے کی چیز—sone kí—, valuable prize.

چریل chirail, چریل, H. n. f. The ghost of a woman who died while pregnant; a hag; a slut.

چسپان chaspán, P. adj. Sticking together; applicable; viscous; slimy; coherent; adhesive. چسپان کرنا—karná, v. to paste; to affix; to join. [adhesion; attachment.

چسپیدگی chaspídgí, P. n. f. Love; tenacity;

چسپیدہ chaspída, P. adj. Stuck; glued; adhered; inclined to; addicted to; fond; vigorous.

چست chust, P. adj. Tight; close; active; clever; quick; brisk; narrow; strong. چست چالاک—chalák, adj. active; alert; agile.

چستان chistán, P. n. m. An enigma.

چستہ chusta, P. n. m. Runnet; tripe; rectum.

چستی chustí, P. n. f. Activity; nimbleness; alertness; speed; dexterity; adroitness.

چسک chasak, H. n. f. A throbbing pain; aching.

چسکا chaská, چسکا, H. n. m. Love; zest; taste; ardent desire; habit. چسکا پزنا—párná, v. to acquire taste for.

چسکی chuskí, چسکی, H. n. f. A mouthful of drink; a pull at a pipe; a sip; a suck.

چسکی لگانا—lagáná, to sip.

چسنا chusná, چسنا, H. v. To be sucked. چسنی chusní, n. f. a sucking bottle; a sucking stick for infants.

چش chash, P. adv. Having a favour or smack of; tasting, (used in comps.)

چشک chashak, P. n. f. A tasting.

چشم chashm, P. n. f. The eye. چشم آہو áhú—, (an epithet expressive of beauty) soft-eyed; fawn-eyed. چشم سیر ser—, adj. contented.

چشم بد دور—bad dúr, intj. avaunt malicious glance; God preserve us from the evil eye.

چشم بیمار—bimár, n. m. a languid eye; connivance. چشم پرشی—poshi, connivance.

چشم تر—tar eyes filled with tears. چشم خون آلود—i-khún áldd, blood shot eyes; fierce look;

fiery eyes; murderous looks. چشم زخم—zakhm, look of an evil eye.

چشم نمائی—numái, n. f. reproof; reprimand. چشم نمائی کرنا—numái karná, v. to reprimand; to reprove.

چشم و چراغ—o-chirág, dearly beloved; light of the eye. چشم خانہ—khána-i—, n. m. the socket of the eye.

چشم ہم چشم—ham—, n. m. equal; peer.

چشمک chashmak, P. n. f. Wink; winking; misunderstanding; spectacles.

چشمہ chashma, P. n. m. A fountain; a spring; source; spectacles.

چغد chugad, P. n. m. An owl; the small screech-owl.

چغلی chugal, } P. n. m. An informer; چغلقور chugalkhor, } a spy; a tell-tale; a back-biter.

چغلقوری chugalkhorí, P. n. f. The act of backbiting; tale-bearing.

چغلی چغلی chuglí, P. n. f. Back-biting; tale-bearing. چغلی کھانا—khána, v. to backbite.

چفتی chaftí, P. n. m. A flat ruler.

چتی chiq, T. n. f. A hanging screen.

چقر chuqqar, H. n. m. (Chuqqar, is the Urdu form); a small earthen vessel; drinking cup.

چقماق chaqmaq, T. n. f. A flint.

چقماقی chaqmaqí, T. n. f. A fire lock.

چقندار chuqandar, P. n. m. Beet; beet-root; *Beta vulgaris*.

چک chik, चिक, H. n. f. A pain in the loins or back ; n. m. a butcher who kills sheep.

چک chik, (चेक) H. n. m. (Corr. of the English) ; Cheque ; a money order.

چک chuk, चक, H. n. m. Tenure ; holding ; landed estate. چک بندی—bandí, defining or making the boundaries of an estate or *chak*.

چک chakká, चक्का, H. n. m. A circle ; a wheel ; curd ; a sod of turf ; *adj.* thick ; clotted.

چک چاوند chakáchaund, } H. n. f. The state
چک چاوندی chakáchaundi, } of being dazzled ;
the effect on the eyes of a sudden flash of light. چک چاوندی آنا یا لگنا—áná yá lagná, to be dazzled by ; to be confounded or bewildered.

چک چارا chikará, चिकारा, H. n. m. The ravine deer. A kind of fiddle with wire and horse hair for strings. [knife.

چک چاری chikárí, चिकारी, H. n. f. A hunting

چک چکانا chukáná, चुकाना, H. v. To pay off ; to repay ; to liquidate ; to complete ; to finish ; to settle ; to fix the price of ; to decide.

چک چاکوار chakáwar, H. n. m. Name of disease in horses.

چک چاکواک chakáwak, P. n. m. A lark ; an aquatic bird said to be the same as *surkháb*.

چک چاکائی chukái, H. n. f. Settlement ; adjustment.

چک چاکیت chakit, चकित, S. *adj.* Astonished.

چک چاکاتا chakattá, चकता, H. n. f. A scar ; a slice ; a sod of turf.

چک چاکتی chaktí, चकती, H. n. f. A patch of leather ; a round plate of metal ; a round flat lump.

چک چاکت chikkat, चीकट, H. *adj.* Covered with grease and dirt ; filthy ; glutinous ; clammy.

چک چاکٹا chukťá, H. n. m. A handful.

چک چاکاٹنا chikaťná, चिकाटना, H. v. To be sticky, dirty, filthy, &c. [knife.

چک چاکچاکھی chakchakí, चकचकी, H. n. f. A dagger or

چک چاکچاوندی chakchaundi, H. n. f. A musk-rat (*chhachundi*).

چک چاککار chakkar, चक्कर or चक्र चक, H. n. m. A wheel ; a disc ; a circle ; whirlwind ; an eddy ; ring ; circumference ; revolution ; circuit ;

a whirligig ; a circular course ; giddiness ; vertigo ; perplexity ; misfortune ; scrape. چاکر کہانا—kháná, v. to whirl ; to revolve ; to take a roundabout road ; to turn round.

چاکر میں ڈالنا—men dálná, v. to put one in a difficulty. چاکر میں آنا—men áná, to be entangled in the meshes of. چاکرورتی—vartí,

n. m. an emperor, the title of one of the great families of Brahmans in Bengal. چاکر دورے کا—Ghur-daur ká chakkar, a race-course.

چاکر دینا گھوڑے کو—ghoře ko—dená, v. to lounge a horse.

چاکرانا chákráná, चकराना, H. v. To revolve ; to feel giddy ; to be puzzled or confused ; to wheel.

چاکرانی chakráni, H. n. f. A maid-servant.

چاکر وال chakráwal, H. n. m. A ring-bone in a horse.

چاکر بابا chakarbá, H. n. m. Tumult ; bustle ; uproar ; noise ; row. چاکر بابا مچانا—machána, to cause a tumult ; to revel.

چاکری chakrí, चकरी, H. n. f. A pulley ; a bandalore or small wheel with a cord fixed to its centre, which winds and unwinds itself alternately by the motion of the hand ; a plaything ; a band of singers.

چاکر چاککار chukkar, चुककर, H. n. m. A small tank or pit ; a small earthen vessel ; drinking cup.

چاکس chakkas, H. n. m. A perch for birds ; a roost.

چاکلا chaklá, चकला, H. n. m. A round plate on which bread is rolled ; any quarter of a town ; *adj.* wide ; broad ; round ; circular. چاکلے دار

chakledár, n. m. The governor of a province.

چاکلائی chakláí, चकलाई, H. n. f. Breadth ; width.

چاکلی chaklí, चकली, H. n. f. The pulley (over a well) on which the rope revolves.

چاکما chakmá, चुकमा, H. n. m. A stick ; cheat ; loss. چاکما دینا—dená, v. to cheat.

چاکن chikan, P. n. f. Embroidery ; embroidered cloth. چاکن دوز—doz, n. m. an embroiderer.

چاکنا chikná, *adj.* Oily ; greasy ; fat ; rich ; glossy ; slimy ; mild ; soft ; polished ; smooth. چاکنا چیرا—chuprá rahná, v. to

(stone); to advance money on interest; to carry on (business); to enforce; to employ; to stir (with a spoon); to manage; to direct. چلا دینا—dená, to thrust into; to drive in; to set in motion; to set agoing; to drive; to conduct; to make to go; to issue; to pass; to prosecute (case); to circulate.

چلا chaláú, چلاؤ, H. *adj.* Moving; shaky; unstable; transitory; passing away; that may be made to answer or do.

چلا chuláo, P. *n. m.* A kind of dish prepared of boiled rice without meat. [scream

چلا chillahat, چیلہاٹ, H. *n. f.* Cry; outcry;

چلا chal bichal, H. *n. f.* Displacement; disorder. [airy; sportive.

چلا chulbulá, چولبولی, H. *adj.* Restless; fidgety; چلا chulbuláná, چولبولانی, H. *v.* To be restless; to fidget.

چلا chulbuláhat, } H. *n. f.* Restlessness;
چلا chulbulápan, } sportiveness.

چلا chaltá, चलता, } H. *adj.* Moving; flowing
چلا chaltí, चलती, } (stream); current account (money); passable (coin); flourishing; thriving (business); efficient; ordinary: usual; powerful; potent (medicine); fast (music). چلتی چیز—chíz, goods in brisk demands. چلتی دکان—dúkán, a thriving business. چلتا رکھنا—rakhná, to keep going. چلتا کام—kám, temporary work. چلتا کرنا—karná, to start; to send away. چلتے ہاتھ بچر chalte háth pair, while the limbs are serviceable. چلتا ہوا پوزہ—huá purza, a sharper.

چلتا chiltah, P. *n. m.* Armour; coat of mail.

چلا chalchaláo, See chalá chali.

اتنا نہ اپنے جامے سے باہر نکل کے چل
دنیا ہے چالچال کا راستہ سنبھال کے چل

Itná na apne jáme se báhar nikal-ke chal,
Dunyá hai chalchaláo ká rastá, sambhal-ke chal,

Walk not this earth, O man, with such a lofty swell and air. Men walk this earth but to their graves, beware and walk with care.

چلا chilar, चीलर, H. *n. m.* A louse.

چلا chilgoza, P. *n. m.* A small slender nut like pistachio or the kernels of the pine.

چلا chilak, चिलक, H. *n. f.* A smarting pain.

چلا chilakná, चिलकना, H. *v.* To smart.

چلا chilam, चिलम, H. *n. f.* The part of a *hugga* which contains the tobacco and fire. چلا—bharná, *v.* to prepare the *chilam*; to fill a pipe.

چلا chilamchí, चिलमची, H. *n. f.* A washhand basin of metal.

چلا chal mardán, P. *n. m.* The leather fixed to the vacant part of the tree of a saddle.

چلا chalan, चलन, H. *n. m.* Going; gait; conduct; character; course; manner; *adj.* customary; fashionable; current; *n. m.* procedure; fashion; currency; custom. چلا—se chalná, *v.* to be frugal; to live economically.

چلا chalná, चलना, H. *v.* To move; to go; to walk; to pass; to blow (wind); to sail (ship); to be current; to be in season; to die; to be discharged; to believe; to answer; to last; to serve; to stand. چلا chalá jáná, *v.* to go away; to depart; to be off. چلا چل párná, *v.* to start; to set out. چلا chal dena, *v.* to be off. چلا—nikalná, *v.* to move on; to give oneself airs. چلا chal basná, *v.* to depart from this life; to die.

چلا chalni, चलनी, H. *n. f.* A sieve.

چلا chullú, चुल्लू, H. *n. m.* The palm of the hand hollowed for holding water, &c. چلو بھر—bhar, a handful of any liquid. چلو پانی بھرنا—bhar pání men dúb marná, *v.* to be greatly abashed. چلو سے پانی پینا—se pání, píná, *v.* to drink water out of the palm of the hand. چلو میں اُلو ہونا—men ullú honá, to become as stupid as an owl or to become intoxicated with a mouthful.

زاهد شراب پینے سے کانز ہوا میں کیوں
کیا دیکھ چلو پانی میں ایمان بہ گیا
(غائب)

Záhid ! sharáb pine se káfir huá main kyon ?
Kyá deḥ chullú pání men imán bah gayá ?
O man devout, wherefore an infidel for drinking wine ? can faith be drowned in inches two of grape juice of the wine ?

چلا chalo, चलो, H. *intj.* Away ! begone ! come, let us be going away.

چاروا *chalwá*, H. n. m. A kind of fish, *clupea cultrate*.

چارون *chilwan*, H. n. f. A lattice. (see چارمن *chilman*.)

چارونا *chilauná*, H. n. m. A winch with which a spinning wheel is turned.

چم *chum*, P. n. m. A graceful gait ; a swaying motion in walking.

چمار *chamar*, चमार, H. n. m. A worker in leather ; a tanner ; a shoemaker ; a cobbler.

چماق *chamág*, चमáq, P. n. m. An iron mace ; a wooden mace headed with iron.

چمبر *chambar*, P. n. m. A cover for the *chilam* ; a circle ; hoop of a tub. چمبر چرخ—*charḵh*, the celestial vault. چمبر گردن—*gardan*, dog's collar ; necklace ; handkerchief.

چمبک *chumbak*, चुम्बक, S. n. m. A loadstone ; magnet.

چمبال *chambal*, चम्बल, H. n. f. Name of a river in Bundelkhand.

چمپا *champá*, चम्पा, H. n. m. A tree bearing a fragrant yellow flower.

چمپا کالی *champakali*, चम्पाकली, H. n. f. A necklace, composed in the form of the buds of *champa* flowers. چمپا کایلا—*kelá*, a species of small, scented and very sweet plantain.

چمپت هون *champat honá*, चम्पत होना, H. v. To disappear ; to decamp ; to bolt ; to scamper off ; to abscond.

چمپتی *champatí*, H. *adj.* Yellow ; golden ; of the colour of *champa*.

چمتا *chimṭá*, चिमटा, H. n. m. Tongs ; pincers ; forceps.

چمتنا *chimatná*, चिमटना (चिपटना), H. v. To adhere ; to cling to ; to take in close ; to follow close at the heels of ; to embrace ; to be pasted ; to persecute.

چمتی *chimṭí*, चिमटी, H. n. m. Pincers ; a nip ; a pinch. چمتی کاٹنا—*kaṭna*, to pinch or nip with fingers.

چمچمانا *chamchamaná*, चमचमाना, H. v. To tingle ; to glitter ; to shine.

چمچماھاٹ *chamchamáhaṭ*, H. n. f. Brightness ; glitter ; sparkle.

چمچہ *chamcha*, P. n. m. A spoon ; a ladle. چمچہ ہر دیگی—*bhar*, *adj.* spoonful. —i har degi, a sponger ; one who meddles in every one's concerns.

چمچی *chamchi*, P. n. f. A small spoon such as is used to take out pickles or the lime when preparing a betel.

چمراکھ *chamrakh*, चमरख, H. n. f. A piece of leather attached to a spindle ; a lean woman.

چمرا *chamrá*, चमड़ा, H. n. m. Skin ; hide ; leather. چمرا اُدھیرنا یا نیکالنا—*udherná*, *khínchná yá níkálná*, v. to skin ; to flay.

چمرا *chimrá*, चिमड़ा, H. *adj.* Tough ; ductile ; flexible ; elastic ; tenacious.

چمرا نا *chimráná*, चिमड़ाना, H. v. To grow tough ; to become stiff. [bility.]

چمراھاٹ *chimráhaṭ*, H. n. f. Toughness ; flexibility.

چمسا *chimsá*, H. *adj.* Sticky ; glutinous, (as oil by long keeping).

چمک *chamak*, चमक, H. n. f. Flash ; gleam. چمکدار—*dár*, *adj.* glittering ; shining. چمک دمک—*damak*, n. f. splendour ; glitter.

چمکار *chumkár*, चुमकार, H. n. f. A sound made with the lips by which dogs and horses are called.

چمکارنا *chumkárna*, H. v. To coax ; to caress ; to soothe.

چمکانا *chamkáná*, चमकाना, H. v. To cause to glitter ; to burnish ; to polish ; to prosper ; to make lively or active ; to excite ; to startle ; to wave ; to display.

چمکاھاٹ *chamkáhaṭ* चमकाहट, H. n. f. Brightness ; glitter ; splendour.

چمکانا *chamakná*, चमकना, H. v. To shine ; to glitter ; to be polished ; to be brisk (market) ; to thrive ; to be startled.

چمگادار *chamgádar*, चमगादड़, } H. n. m. A bat ;
چمگیدار *chamgídar*, चमगीदड़, } a flying fox.

چمال *chammal*, H. n. m. A beggar's cup ; a begging dish.

چمن *chaman*, P. n. m. A flowerbed ; a flower garden ; a blooming, verdant, or flourishing place. چمن بندی کرنا—*bandi karná*, to lay out

a garden. دھر—dhár, *n. m.* terrestrial abode. زار—zár, a verdant meadow. چمنستان—stán, a flower bed.

زبان بزرگ گل نے کی دعا رنگیں عبارت میں
خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر

(اکبر)۔

Zabán-i-barg-i-gul ne kí dú'á rangín, ibárat meḡ.

Khudá sarsabz rakkhe is chaman ko mihrabán hokar.

چمبیلی chamelí, चमेली, } *H. n. f.* The jasmine.
چمبیلی chambelí, }

چنا chaná, चना, *H. n. m.* Gram ; the chickpea
لوه کے چنے lohe ke chane, a difficult task.

چنا chinná or chunna चिना, or chunná, *H. v.*
To build or raise a wall; to pick; to choose; to gather; to winnow the chaff from the wheat; to select; to arrange; to plait (cloth); to crimp (cloth); *n.* ascarides. دروازہ چننا dar-wáza—, to close a door with bricks.

چنار chanár, *P. n. m.* The poplar tree.

چنان chunán, *P. adj.* Like that; such; so; such as that.

چنائل چنائل chunáñ chunáñ, *P. n. f. (Lit.)*
Like this and that; a long talk; high flown language; bombast; grandiloquence. چنائل چنائل کھنا—karná, to find faults with; to pick holes in.

چنانچہ chunáncheh, *P. adv.* As; like as; so that; for example; accordingly; in such a manner; *e. g.*

چنار chunáo, *H. n. m.* Election.

چنارت chunávaṭ, चुनावट, *H. n. f.* Plaiting; crimping; plait; gather.

چنائی chináí, चिनाई, *H. n. f.* Building up a wall; masonry work; ramming; cramming.

چنتا chintá, चिन्ता, *H. n. f.* Thought; care; anxiety; fear; danger.

چنٹ chunnaṭ, चुन्नाट, *H. n. f.* Crimping; plaiting; plaits; ruffles.

چنٹ chant, *H. n. m.* A miser.

چنچل chanchal, चंचल, *H. adj.* Moving to and fro; restless; unsteady; inconstant; transient; perishable; fickle; playful; wanton; sportive.

چنچلاہٹ chanchaláhaṭ, चंचलाहट, *H. n. f.* Restlessness; wantonness; playfulness; fickleness; unsteadiness; inconstancy; transitoriness.

چنچنا chinchiná, *H. adj.* Peevish; fretful; testy.

چنچنانا chinchinána, चिनचिनाना, *H. v.* To be stung, nettled, railed; to fret; to murmur; to be irritated.

چنچنانا chanchaná, *H. v.* To smart; to throb; to tingle; to simmer; to sputter (as *ghí* in a frying-pan.)

چنچنے chunchune, *H. n. m.* The worm ascarides; itchiness; uneasiness.

چند chand, *P. adj.* Some; few. چند در چند—dar chand, *adv.* several; various; many times. چند روزہ—roza, *adj.* temporary; for a few days; transitory. چند ہر چند—adv. although; however; nevertheless.

چندا chandá, चंदा, *H. n. m.* The moon. چندا مکھہ—mukh, *n. m.* a face bright and beautiful as the moon.

چندان chandán, *P. adv.* So much; as many as; as much as; so great; rather; not much; howmuchsoever. چندانکے—kí, as much as; oft as; as soon as; whatever; insomuch that; notwithstanding that; although. چندان ضرور نہیں—zarúr nahín, rather not very necessary. چندان مضائقہ نہیں—muzáíqa nahín, it is of no great consequence; not matter.

چندر chandar, चन्द्र, *S. n. m.* The moon. چندر مہی بدن—badan,—mukhí, *adj.* having a countenance as beautiful as the moon. چندر بنسی—bansí, descendants of the moon; lunar race. چندر گرہن—chandr grahan, an eclipse of the moon.

چندرانا chandráná, चन्द्राना, (Col.) *H. v.* To pretend ignorance; to impute falsehood.

چندرار چندرار chandráwal, चंद्रावल, *H. n. f.* Connection; relationship; acquaintance.

چندرکا chandriká, चन्द्रिका, *H. n. f.* Moonlight; moonbeams; cardamums.

چندرما chandramá, चन्द्रमा, *S. n. m.* The moon.

چندرہار چندرہار chandrahár, चन्द्रहार, *H. n. m.* A necklace composed of moonshaped pieces of gold.

چندری chandri or chundri, चंदरी, H. n. f. A particoloured sheet or *sari* worn by women.

چندلا chandlá, चंदला, H. adj. Bald; n. m. baldness.

چندن chandan, चन्दन, S. n. m. Sandal tree, or its wood.

چندوا chandwá, (चन्दोवा), H. n. m. A small canopy; an awning; the crown of a hat; the shaft of a ploughshare.

چندہ chanda, P. n. m. Contribution; subscription. چندہ کرنا—karná, v. to raise a subscription.

چندھا chundhá, चौथा, H. adj. Bleared; dim-sighted; purblind; n. m. blinkard; one whose eyes are too weak to bear daylight.

چندھیانا chundhiyáná, चुंबियाना, H. v. To see dimly; to be purblind; to be dazzled by excess of light.

چندی chindí, H. n. f. A small piece of rag. چندی کرنا—chandi karná, v. to break to pieces; to reduce to fragments.

چندہ chande, P. adv. A little; a while; a few; some. چندہ بعد—ba'd, after a little while; in due course. [a mealcake.]

چندیا chandiyá, H. n. f. The crown of the head;

چندیالی chandeli, चंदेली, H. n. f. A very fine cotton cloth manufactured at *Chanderi* or *Chandeli*, a village on the left bank of the *Betwa*.

چندال chandál, चण्डाल, H. adj. Low-born; low-caste; n. m. an outcaste; a miser; a miscreant; a diabolical creature. چندال چوکری—chaukri, n. m. a community of four or more miscreants.

چندو chandú, चण्डू, H. n. m. An intoxicating substance made of opium. چندو باز—báz, n. m. one addicted to smoking *chandú*. چندو خانہ—khána, n. m. the house in which *chandú* is smoked.

چندوارل chandawal, H. n. m. The rear-guard of an army; camp followers.

چندول chandol, H. n. m. A sedan with two poles; a plaything consisting of four little earthen pots joined together (*chandol*).

چندول chandúl, H. n. m. The pyramid-crested lark.

چانسور chansur, H. n. m. Cresses.

چنک chanak, H. n. m. The bursting of the husk of a seed by the heat of the sun.

چنک بائی chanak-bái, H. n. f. Rheumatic pains.

چنکنا chanakná, H. v. To burst and fall out (seed from the husk); to be railed.

چنک chinag, चिनग, H. n. f. Pricking; smarting burning inflammation.

چنک chagg, P. n. f. A claw; a harp; a lute; a paper kite with small cymbals attached; a term in cards.

چنگا chaggá, चंगा, H. adj. Healthy; cured; sound. چنگا بنانا—banána, v. to set right; to chastise. چنگا کرنا—karná, v. to cure; to restore to health. چنگا بھالا—bhalá—, adj. in health and vigour; hale and hearty; sound; good.

چنگاری chingári, चिनगारी, H. n. f. A spark (of fire). چنگاری ڈالنا—dálná, v. to throw a fire-brand; to shed sparks; to sow discord. چنگاری

لا لگانے والا—lagáne wála, an incendiary.

چنگل chaggul, P. n. m. Talons; claws; grasp; a handful of anything dry.

چنگنا chinagná, चिनगना, H. v. To smart; to throb; to be inflamed.

چنگھاز chinghár, चिवाड़, H. n. f. Scream; screech; the trumpeting of an elephant. چنگھاز مارنا—márná, v. to scream; to roar.

چنگی chingi, H. n. f. A spark; a fire-brand.

چنگی chungi, चुंगी, H. n. f. Octroi duty; a cess levied from grain-sellers, etc.; town duties.

چنگی پینٹھ—paintyh, a market or fair, held on condition of giving a small portion of each saleable article to the zamindar.

چنگیر changer, H. n. f. A flowerpot; a tray.

چنواں chunwán, H. adj. Picked; selected; chosen.

چنوانا chunwána, चुनवाना, H. v. To cause to pick.

چنوتی chinautí, (चुनौती) H. n. f. An oath; defiance; incitement; encouragement; selec-

tion of the fittest men for a desperate enterprise.

چنوئی *chunautí*, चुनौटी, H. *n. f.* A small box for holding the lime which is eaten with betel.

چنور *chanwar*, चंवर, H. *n. m.* Peacock feathers used to whisk off flies, etc., a sign of royalty; (*chauri, chamar, morchhal*).

چنہ *chinh*, चिन्ह, H. *n. m.* Mark; trace; spot; sign; token; symptom; characteristic; feature; signature.

چنہار *chinhár*, चिन्हार, (Col.) H. *n. m.* An acquaintance.

چنہانی *chinhání*, चिन्हानी, H. *n. f.* A mark; sign; token.

چنی *chunní*, चुन्नी, H. *n. f.* A small ruby.

چنن *chunín*, P. *adj.* Picked; gathered; chosen; select; choice.

چنیچ *chunín*, P. *adj.* Like this; such; thus.

چ *chau*, चौ, H. *n. m.* Ploughshare; a back-tooth. *adj.* four. (*used in comp.*) چو بارا *—bára*, *n. m.* a room on the house-top with four doors or windows. چو باج *—bách*, a levy of revenue on four things under the ancient regime in the Delhi territory, *viz.*, the *pág* (turban); the *tág* (thread worn by a child round the waist); the *kúri* (hearth) and *punchi* (tails of cattle). چو باغلا *—baglá*, *n. f.* the gusset under the armpit. چو بندی *—bandí*, *n. f.* giving a horse new shoes. چو بولا *—bolá*, *n. m.* a verse of four lines. چو پتی *—n. f.* a pamphlet; a pocket-book. چو پھل *—pahal*, *adj.* four-sided. چو پھل *—pahlá*, *n. m.* a four-sided figure; a quadrilateral. چو پھیلا *—pahiyá*, *n. m.* a four-wheeled cart. چو پھر *—pher*, on all sides; all round. چو تھ *—tab*, *adj.* of four-folds. چو حدی *—haddí*, *n. f.* the four boundaries. چو راہا *—ráhá*, *n. m.* the junction of four roads. چو کنا کنا *—kanná karná*, *v.* to make cautious. چو کور *—kor*, *n. m.* square. چو کھت بازو *—khaṭ bázú*, the framework of a door. چو کھرت *—khúnt*, *n. m.* the four quarters; the world. چو کھرتا *—khúntá*, *adj.* quadrangular. چو گنا *—guná*, *adv.* four times.

چو گرشہ *—goshí*, *n. f.* an animal whose ears are slit (particularly, a horse). چو گھڑا *—ghara*, a raft or float supported on four or more earthen pitchers. چو ماسا *—mása*, *n. m.* the four months of the rainy season. چو محلا *—mahlá*, *adj.* of four stories. چو مکھا *—mukhá*, *adj.* having four faces. چو ہٹا *—hattá*, a market where four roads meet.

چو را *chauwá*, H. *n. m.* An aggregate of four; a quadruped.

چو راہیس *chawáís*, H. *adj.* Forty-four.

چو ران *chuán*, H. *n. f.* Dropping; dripping; a cistern into which water drains; a windfall fruit. [distil; to filter.

چو رانا *chuáná*, चुआना, H. *v.* To cause to drip; to

چو رب *chob*, P. *n. f.* Wood; timber; pole of a stick; a post; a mace; club; a staff; inflammation of the eye. چو ربکاری *—kárí*, a kind of embroidery.

چو ربا *chobá*, P. *n. m.* A post; a stake; an iron peg; boiled rice presented at betrothal.

چو ربارا *chaubára*, S. *n. m.* Summer house; an assembly-room of a village court.

چو ربانی *chobchíní*, P. *n. m.* The name of a medicine; China-root. [usher; a herald.

چو ربدار *chobdár*, P. *n. m.* A macebearer; an

چو رب دستہ *chobdastí*, P. *n. f.* A walking stick; staff.

چو ربک *chobak*, P. *n. f.* A drumstick.

چو ربھا *chobhá*, चौभा, H. *n. m.* A rail; a dish of *puláo* mixed with cocoanut, dates and almonds; prey; puncture.

چو رے *chaube*, चौबे, H. *n. m.* A Brahman acquainted with the four Vedas, but now applied indiscriminately to the descendants of such though not learned.

چو ربی *chobí*, P. *adj.* Wooden.

چو ربیس *chaubís*, चौबीस, H. *adj.* Twenty-four.

چو ربپار *chaupár*, चौपड़, H. *n. f.* A place of public meeting of the village people.

چو ربپال *chaupál*, चौपाल, H. *adj.* Quadrilateral.

چو ربپالا *chaupálá*, H. *n. m.* A litter; a sedan.

چو ربپان *chaupán*, P. *n. m.* Shepherd; a cowherd.

چوپائی *chaupái*, चौपाई, H. *n. f.* A sort of metre consisting of four lines.

چوپائی *chaupáyá*, P. *n. m.* A quadruped ; a beast ; an animal.

چوپٹ *chaupaṭ*, चौपट, H. *adj.* Ruined ; open all round ; levelled ; razed. چوپٹ کرنا—*karná*, *v.* to raze to the ground ; to destroy ; to level ; to demolish.

چوپڑ *chaupar*, चौपड़, H. *n. f.* A game played with dice ; the cloth or board on which the game is played.

چوپڑا *chopná*, H. *v.* To throw water on a field from a *dauri* ; to water ; to irrigate.

چوتلا *chautalá*, चौतला, H. *n. m.* A mode in music.

چوتڑ *chútar*, चूतड़, H. *m.* The buttocks ; rump. چوتڑ بجانا—*bajáná*, *v.* to be overjoyed. چوتڑ پیٹنا—*piṭná*, *v.* to lament ; to grieve ; to bewail. چوتڑ دکھانا—*dikháná*, *v.* to turn tail. چوتڑوں چلنا *chútarayon chalná*, *v.* to crawl ; to move on the hams.

چوتھ *chauth*, चौथ, H. *n. f.* The fourth day of the lunar month ; the fourth part ; a species of tribute, blackmail to the extent of one-fourth of the regular Government assessment levied by the Mahrattas, in Hindustan under the Moghal government, a *chauth* was levied from the successful party in a law-suit or arbitration.

چوتھ *choth*, H. *n. f.* Cow dung (passed at one time.)

چوتھا *chauthá*, चौथा, H. *adj.* Fourth.

چوتھائی *chauthái*, चौथाई, H. *n. f.* The fourth part ; a quarter.

چوتھی *chauthí*, चौथी, H. *n. f.* A Mahomedan ceremony performed on the fourth day after marriage.

چوتھے *chauthe*, H. *adv.* In the fourth place.

چوتھیا *chauthiyá*, चौथिया, H. *n. m.* The receiver of *choukh*, the landlord's share of the produce where rents are paid in kind ; a quartan ague.

چوٹ *choṭ*, चोट, H. *n. f.* A hurt ; a blow ; bruise ; damage ; injury ; a fall ; a shock ;

loss ; a stroke ; competition. چوٹ باندھنا—*báñdhná*, to bind up the edge of a sword to restrain by magic. چوٹ پر چوٹ—*par choṭ*, stroke on stroke ; one misfortune after another. چوٹ کرنا—*karná*, *v.* to hurt ; to wound ; to attack ; to cast a spell. چوٹ کھانا—*kháná*, *v.* to be hurt ; to suffer loss ; to receive a blow. چوٹ لگنا—*lagná*, to feel pain ; to be hurt.

چوٹا *choṭá*, H. *n. m.* Treacle ; the drainings of crude sugar.

چوٹیا *choṭiá*, चोटिया, H. *n. m.* A thief.

چوٹی *choṭí*, चोटी, H. *n. f.* Top ; summit ; a lock of hair left on the top of a shaven head ; a top-knot ; a coil of hair ; the crest of a bird ; peak. چوٹی کرنا—*karná*, to braid the hair. چوٹی کسی کی ہاتھ میں آنا *kisí kí háth meñ aná*, to have power over one ; to subdue.

چوٹیدار *choṭídár*, चोटीदार, H. *adj.* Tapering ; crested ; having a peak.

چوچلا *chochlá*, चोचला, H. *n. m.* Endearing arts and expressions ; fondling ; blandishments ; sport ; coquetry ; airs ; affectation.

چوچی *chúchí*, चुची, H. *n. f.* Breast ; pap ; teat. چوچی پینا—*piná*, *v.* to suck.

چوڈانی *chaudání*, H. *n. f.* An earring, formed of four pearls.

چوڈس *chaudas*, चौदस, H. *n. f.* The fourteenth day of the lunar fortnight.

چوڈھ *chodah*, चाودह, H. *adj.* Fourteen.

چوڈھرائی *chauthráí*, चौथराई, H. *n. f.* The jurisdiction, dignity or privileges of a *chauthari*.

چوڈھری *chauthari*, चौथरी, H. *n. m.* The headman of a trade ; the headman of a village ; a title.

چوڈھوان *chauthawán*, H. *adj.* Fourteenth. چوڈھوان رات کا چاند *chauthawán ráť ká chánd*, full moon ; a face like the full moon.

چور *chor*, चोर, H. *n. m.* A thief ; a robber.

چور بالو *balú*, چور بالو, *n. f.* quicksand. چور پڑنا—*paṛná*, thieves to fall on or to break into a house. چور پھرا—*pahrá*, the advanced guard of an army (*hirdwal*). چور تھانگ—*tháng*, a receiver of stolen goods. چور خانہ—*khána*,

n. m. a secret room ; a secret drawer. چور
 دروازہ—darwāza, *n. m.* trap-door, چور سوداگر—
 saudāgar, a dealer in contraband ; a smuggler.
 چور سبزہی—sīrhī, *n. f.* backstairs. چور کھڑکی—
 khīrkī, *n. f.* a back-door. چور گلی—gali, a
 secret path. چور لگانا—lagnā, to be infested
 by thieves. چور محل—mahal, *n. m.* the apart-
 ment of the concubines of great men. چور
 مندرچا—mandrā, *n.* game played by children.
 چور chūr, *H. n. m.* Powder ; fillings ; atoms ;
adj. powdered ; bruised ; tired. چور چور—
adj. broken to atoms. چور چار—chār, frag-
 ments ; crumbs. چور کرنا—karnā, *v.* to break
 into small pieces. چور ہونا—honā, *v.* to be
 broken into small pieces ; to be tired. نشہ
 چور ہونا nashe men—honā, to be intoxi-
 cated ; to be steeped in liquor ; to be drunk.
 چور موتی motī—, crushed pearls (used medi-
 cinally). چور کے لٹو moti chūr ke laddā,
 a kind of sweetmeat.
 چور chūrā, چورا, *H. n. m.* Powder ; sawdust ;
 bruised grain. چور کرنا—karnā, *v.* to powder.
 چور chaurā, چौरा, *H. n. m.* The funeral pile on
 which a *Sati* was performed.
 چوراسی chaurāsī, چौरاسی, *H. adj.* Eighty-four.
 چورانوے chaurānwe, چौरانवे, *H. adj.* Ninety-four.
 چورس chauras, چौरस, *H. adj.* Level ; plane ;
 even. چورس کرنا—karnā, to make even ; to
 level.
 چورما chūrmā, चूरमा, *H. n. m.* A sweetmeat
 made of sugar, butter and crumbled bread.
 چوران chūran, चूरन, *H. n. m.* A powder com-
 posed of medicines for promoting digestion ;
 aromatic powder ; dust.
 چورنگ chaurang, चौरंग, *H. n. m.* Cutting off
 the four legs of an animal at one blow ; a
 practice of the sword exercise.
 چوری chori, चोरी, *H. n. m.* Theft ; robbery ;
 stealth. چوری سے چوری chori—se, *adj.* sec-
 retly ; stealthily. چوری کا مال—kā māl, *n. m.*
 stolen property. چوری کرنا—karnā, *v.* to steal.
 چوری لگانا—lagānā, *v.* to charge or accuse of
 theft.
 چورا chaurā, चौड़ा, *H. adj.* Broad ; wide.

چورچا chūrā, *H. n. m.* A food made of parched
 rice ; bangles made of lac.
 چوران چا chaurānā, चौड़ाना, *H. v.* To widen ; to
 expand ; to enlarge.
 چورائی chaurāī, चौड़ाई, } *H. n. f.* Breadth ;
 چوراپان chaurāpan चौड़ापन, } width.
 چوران chaurān, चौड़ान, }
 چوری chūrī, चूड़ी, *H. n. f.* Bangles or rings
 made of lac or glass, etc. ; a gather ; pucker.
 چوری دار—dār, *adv.* puckered. چوری دارا—
 hārā, a maker of glass or lac bangles. چوریاں
 چوریاں pahinnā, to put on bangles ; to
 marry again ; to be effeminate. چوریاں تھانڈی
 تھانڈی karnā, to break one's bangles (as
 a woman does on the death of her husband).
 چوزا chūza, *P. n. m.* A chicken ; a young bird ;
 a young boy or girl.
 چوسٹھ چوسٹھ, chausath, *H. adj.* Sixty-four.
 چوسٹھ گھنٹے—gharī, the sixty-four gharīs, or
 24 hours ; *adv.* day and night ; constantly.
 چوسر chausar, चौर, *H. n. m.* A game ; (like
pachisi).
 چوسنا chūsna, चूसना, *H. v.* To suck ; to absorb ;
 to drink in ; to imbibe.
 چوگا choga, *T. n. m.* A cloak.
 چوک chūk, चूक, *H. n. f.* Omission ; error ; fault ;
 mistake ; failing ; oversight ; blunder.
 چوک chūk, *H. n. m.* Acid ; sourness ; a medi-
 cine made of boiled lemon-juice and pomegra-
 nates.
 چوک chauk, चौक, *H. n. m.* A market ; a square
 of a city ; a court-yard. چوک پورنا—pūrna,
v. to fill a *chauk* or square with coloured
 meal, perfumes, sweetmeats, &c. on some oc-
 casion of rejoicing.
 چوکا chaukā, चौका, *H. n. m.* The place in which
 Hindūs dress or eat their victuals ; an aggre-
 gate of four (*e. g., (tin) chaukā bārah*). چوک
 کرتی—bartan karnā, to cook the food and
 wash the vessels. [barley, &c. ; bran.
 چوک چوک, chokar, चोकर, *H. n. m.* Husk of wheat,
 چوک چوک, chaukarā, चौकड़ा, *H. n. m.* A congregate
 of four ; a ring of two pearls worn in
 each ear.

- چوکڑی *chaukarī*, H. *n. f.* A carriage with four horses ; a bound ; a bounce. چوکڑی بھرنہ — *bharnā*, *v.* to bound ; to leap. چوکڑی بھلنا — *bhūlnā*, *v.* to lose one's bound ; (*met.*) to be bewildered or confounded ; to have one's senses benumbed.
- چوکس *chaukas*, चौकस, H. *adv.* Cautious ; careful ; clever ; active ; exact ; of full weight. چوکس رہنا — *rahnā*, *v.* to be watchful ; to be on one's guard against. چوکس کرنا — *karnā*, to make one cautious.
- چوکسی *chaukasī*, चौकसी, H. *n. f.* Vigilance ; watchfulness. چوکسی کرنا — *karnā*, *v.* to keep watch ; to be on the alert.
- چوکنا *chūknā*, चुकना, H. *v.* To blunder ; to mistake ; to err ; to fail ; to miss.
- چوکنا *chaukannā*, H. *adj.* Cautious ; watchful ; circumspect ; vigilant ; on one's guard.
- چوکور *chaukor*, चौकोर, H. *adj.* Four-cornered ; square.
- چوکھا *chokhá*, चौखा, } H. *adj.* Clear ; unadul-
چوکھی *chokhī*, चौखी, } terated ; good ; fine ;
neat ; pure ; sharp.
- چوکھائی *chokháí*, H. *n. f.* Purity.
- چوکھاٹ *chaukhaṭ*, चौखट, H. *n. f.* A door-frame ; threshold ; sill and lintel of a door-frame.
- چوکھاٹا *chaukhaṭā*, चौखटा, H. *n. m.* A frame of picture or looking-glass.
- چوکھونٹ *chaukhúṅṭ*, H. *n. m.* A four-sided figure ; the world ; *adv.* all around.
- چوکھونٹا *chaukhúṅṭā*, चौखुंटा, H. *adj.* Four-cornered ; square.
- چوکھی *chaukī*, चौकी, H. *n. f.* A stool ; a bench ; a chair ; a guard's post ; a watch ; a police station ; an outpost ; a band of musicians (*Cf. raushan chauki*) ; a customs house or toll station. چوکھی دینا — *denā*, *v.* to watch ; to guard. چوکھی مارنا — *mārnā*, *v.* to smuggle.
- چوکیدار *chaukidār*, चौकीदार, H. *n. m.* A watchman ; a guard ; a sentinel. چوکیداری *chaukidāri*, *n. f.* the office of a watchman ; the wages or fees of a watchman.

- چوگا *chogá* or *chúgá*, *n. m.* Food of birds brought up from the crop ; food of birds in general. چوگا بدلنا — *badalnā*, *v.* to bill ; to caress by joining bills ; to feed its young (a bird).
- چوگان *chaugán*, H. *n. m.* A plain. P. *n. m.* polo ; hockey. چوگان باز — *báz*, a polo-player. چوگان کنگ — *gáh*, a polo-ground. [all about.]
- چوگرد *chaugird*, P. *adv.* On all sides ; all round ;
- چوگنا *chaugunā*, चौगुना, H. *adj.* Fourfold.
- چوگوشہ *chaugosha*, P. *adj.* A kind of oblong tray.
- چوگھارا *chaugharā*, चौघडा, H. *n. m.* A vessel consisting of four small cups joined together.
- چول *chúl*, चूल, H. *n. f.* A tenon ; the part of joiner's work which fits into another ; a pivot upon which a door turns as on a hinge. چولیں ڈھیلی ہو جانا — *en dhīli ho j nā*, the joints to become dislocated or loose ; (*met.*) to be worn out or exhausted with labour, etc.
- چولا *cholā*, चोला, H. *n. m.* A bodice ; a cloak. چولا بدلنا — *badalnā*, *v.* to transmigrate. چولا چھوڑنا — *chhoṛnā*, *v.* to die.
- چولائی *chaulái*, चौलाई, H. *n. m.* A species of potherb ; *amaranthus* ; polygamus. There are two kinds, one red, the other green ; also called *marsa*, *gandhari*, etc. [four strings.]
- چولارا *chaularā*, चौलढा, H. *n. m.* A necklace of
- چولہا *chúlhā*, चुल्हा, H. *n. m.* A fireplace ; an oven ; a hearth. چولہا جھوکنا — *jhoknā*, *v.* to feed a fire ; to cook ; to heat an oven. چولہا چھوڑنا — *chúlhe men jhoknā*, to cast into the fire. چولہا نیوت — *chúlhe niyot*, an invitation to a feast given to whole family.
- چولی *cholī*, चोली, H. *n. f.* A bodice ; a small jacket ; a small betel-basket. چولی دامن کا — *dāman ká sáth honā*, to be as closely united as the body and skirt of a garment ; to be on very good terms ; to be united in close friendship.
- چوما *chumá*, चुमा, H. *n. m.* A kiss. چوما چاٹی — *chátī*, *n. f.* dalliance.
- چومنا *chumnā*, चुमना, H. *v.* To kiss.

چون chún, H. *n. m.* Flour ; lime.
 چون chún, P. *adv.* Like ; as ; when. کی، چون —ki, *adv.* whereas ; since that ; because.
 چون چون chún chún, H. *n. f.* Squeaking ; chirruping ; warbling. کی نہ کرنا —na karná, to make not the slightest noise ; to remain perfectly quiet.
 چون chún, P. (*Contr. of chi-guna*), *adv.* Like ; in the manner of ; how ? why ? wherefore ? because. چون ہے چون —be chigún, incomparable ; the Deity. کی چہ کرنا —o-chira karná, to demand why and wherefor ; to wrangle ; to dispute.
 چون chauwan, *adj.* Fifty-four.
 چونا chúná, چونا, H. *v.* To leak ; to ooze ; to drop ; a fruit, to drop from the tree when ripe ; *n. m.* lime. پز چونا —paz, a lime burner. چونی کی بھٹی chúne kí bhattí, *n. f.* lime-kiln. چونا لگانا —lagáná, to defame.
 چونترا chauntrá, चौतरा, H. *n. m.* A platform.
 چونتیس chauntis, चौतीस, H. *adj.* Thirty-four.
 چونچ chonch, चोंच, H. *n. f.* Beak ; bill ; point ; spout.
 چوندھا chandhá, चौधा, H. *adj.* Dazzling ; dim-sighted.
 چوندھیانا chandhiyáná, चौधियाना, H. *v.* To be dazzled or astonished ; to be confused.
 چوندا chondá, चौदा, H. *n. m.* The head ; top-knot.
 چونری chaunrí, चौरी, H. *n. f.* A fly-flapper ; whisk made of horse's hair or of peacock's feathers.
 چونک chánk, चौक, H. *n. f.* A sudden start. چونک پڑنا —parná, *v.* to start up.
 چونکانا chaunkáná, चौकाना, H. *v.* To startle ; to rouse ; to waken.
 چونکننا chaunkná, चौकनना, H. *v.* To be startled ; to be roused ; to wince.
 چونکی chúnki, P. (*conj.*) Since that ; because.
 چونگا chongá, चोंगा, H. *n. m.* A funnel ; a joint of bamboo closed at one end ; a tube ; a cylindrical tin case.
 چوننی chawanní, चवन्नी H. *n. f.* A four anna piece.

چونی chúni, H. *n. f.* Bruiset or broken grain ; pulse coarsely split or ground.
 چونھا chuhá, چوھا, H. *n. m.* A rat ; mouse. چونھا دان —dán, *n. m.* a mouse-trap. چونھا مار —mar, *n. m.* sparrow-hawk ; mouser ; cormorant. چوھ کا بل ڈھنڈھنا —chuhe ká bil dhúndh-ná, to seek any place of refuge ; to fly through fear.
 چونھان chauhán, चौहान, H. *n. m.* A class of Rajpúts.
 چونھتر chauhatar, चौहतर, H. *adj.* Seventy-four.
 چونھرا chauhára, चौहरा, H. *adj.* Having four folds ; fourfold ; consisting of a set of four.
 چونھار chuhar, H. *n. m.* The act of hunting by deceiving game with a stalking horse.
 چونھرا chuhára, چوھرا, H. *n. m.* A sweeper ; a scavenger (*halálkhor* ; *bhangí*). چوھار —chamar, low caste chamár.
 چونھار chuhar (چوہار), H. *n. m.* The jaw.
 چونھیہا chuhiyá, चुहिया, H. *n. f.* A little mouse or rat.
 چونیا choyá, चोया, H. *n. m.* Husk of grain ; a hole dug for water in the sandy bed of a river.
 چا chah, P. *n. m.* A well. چاچا —bachcha, a small reservoir ; a vat ; a sink hole
 چی chí, P. *pron.* What ; which ; as ; because whether ; or ; (when prefixed to another word the s is dropped, as چیگونا chigúna, in what manner). It is added to various Persian words as : چاگر agar—, although. چانچی ánchi, that which. It is also affixed to Persian nouns to form diminutives, as ; کچا kúcha, باغیچہ bágícha.
 چھاپ chháp, छाप, H. *n. f.* A stamp ; impression ; seal ; ring. لگانا چھاپ —lagáná, *v.* to stamp ; to emboss ; to seal ; to print.
 چھاپنا chhápna, छापना, H. *v.* To print ; to publish ; to stamp. چھاپنے والا chhápnewálá, *n. m.* a printer ; a pressman.
 چھاپا chhápá, छपा, H. *n. m.* An impression ; printing edition ; stamp ; seal ; a night attack. لگانا چھاپا —lagáná, *v.* to stamp ; to put a seal on. مارنا چھاپا —márná, *v.* make a night attack. پتھر کا چھاپا patthar ká—, lithography.

چھbachcha, P. n. m. A eistern ; a ditch ; a vat.
 چھbrá, छवड़ी, n. m. } H. n. A basket.
 च्छबरी, छवड़ी, n. f. }
 च्छबिस, H. adj. Twenty-six.
 च्छबिली, छबीली, H. adj. Handsome ; graceful ; buxom ; gay.
 च्छप, छप, H. n. f. A splash. च्छप च्छप—
 chhap, the splashing sound of water.
 च्छिप, छिपा, H. adj. Concealed ; hidden.
 च्छिपी, छिपी—chhipí, adj. secretly.
 च्छिपाना, छिपाना, or chhupána, H. v. To conceal ; to hide ; to cover.
 च्छिपाना, छिपाना } H. v. To cause to
 छिपाना, छिपाना } to print ; to get
 or have printed.
 च्छिपाओ, छिपाओ, H. n. m. Concealment ; lurking ; secrecy.
 च्छिपाई, छिपाई, H. n. f. The price for printing ; the act of printing.
 च्छिपी, छिपी, H. n. f. Chippings ; chips ; splinters.
 च्छपर, छपर, H. n. m. A thatched roof ; a hut. च्छपर—band, n. m. a thatcher.
 च्छपर—bandí, n. f. thatching ; a kind of tenant. च्छर—chháná, v. to thatch.
 च्छर के दिन—phar ke dená, to surprise one with an unexpected gift ; to give in a miraculous manner. च्छर पटना—phar parná, sudden calamity to befall one. च्छर—khat, n. m. a bedstead with curtains.
 च्छिकली, छिकली, H. n. f. A lizard.
 च्छपन, छपन, H. adj. Fifty-six.
 च्छपना, छपना, H. v. To be concealed ; to hide ; to lurk ; to set (sun).
 च्छपना, छपना, H. v. To be stamped ; to be printed.
 च्छपई (चपाई) H. n. f. A poem in Hindi verse of six hemistichs.
 च्छत, छत, H. n. f. Roof ; ceiling. च्छत—बाना - पाना - लगाना—banána, pátná, lagána, to ceil ; to cover the inner roof of a building.
 च्छता, छता, H. n. m. Hive ; honey-comb ; group.

च्छितराना, छितराना, H. v. To scatter ; to strew ; to spread. [group.
 च्छितराओ, छितराओ, H. n. m. Hive ; honey-comb,
 च्छितरना, छितरना, H. v. To be scattered or spread.
 च्छितर बिता, छितर बिता, adj. Scattered ; dispersed.
 च्छत्री, छत्री, H. n. m. The military caste of the Hindus.
 च्छत्री, छत्री, H. n. f. A tester or covering of a bed, &c. ; an umbrella ; an ornamental pavilion ; a bamboo frame for pigeon to settle upon.
 च्छतार, छतार, H. adj. Umbrella-shaped ; bunchy.
 च्छितनी, छितनी, H. n. f. A small basket ; a broken basket.
 च्छतहरा, छतहरा, H. adj. Defiled by touching ; polluted (applied to vessels) ; impure.
 च्छतियाना, छतियाना, H. v. t. To raise (a gun) to the shoulder ; to point (a gun).
 च्छत्तिस, छत्तिस, H. adj. Thirty-six.
 च्छतिसापन, छतिसापन, H. n. m. Cunning ; craftiness ; artfulness. च्छतिसी, छतिसी, H. adj. f. Cunning ; crafty.
 च्छत, छत, H. n. f. The sixth day of the lunar fortnight.
 च्छत, छत, H. prep. Except ; save ; minus. (Cont. of chhoṭá, a little). च्छत—bhaiyá n. m. middle class of people.
 च्छता, छता, H. adj. Picked ; sorted ; selected. Consummate (rascal or villain, etc.)
 च्छतुटा, छतुटा, H. adj. Separate ; detached ; single ; bare.
 च्छतुटाना, छतुटाना, H. v. To cause to be separated.
 च्छतानक, छतानक, H. n. f. The sixteenth part of a seer ; two ounces.
 च्छताना, छताना, H. v. To cause to be cut or clipped ; to cause to be picked ; to have the husk separated from grain.
 च्छताओ, छताओ, H. n. m. Clearing grain from the husk.
 च्छतुटाई, छतुटाई, H. n. f. Littleness ; smallness.

چھٹپانا chhatpatāná, छटपटाना, H. *v.* To toss ; to flounder ; to tumble about.

چھٹپاڻي chhatpatāī, छटपटी, H. *n. f.* Agitation ; restlessness ; hurry.

چھٽپان chhutpan, छुटपन, H. *n. m.* Childhood ; infancy.

چھٽڪا chhutkā, छुटका, H. The little one ; the younger one.

چھٽڪارا chhutkārá, छुटकारा, H. *n. m.* Exemption ; release ; liberty ; leisure. چھٽڪارا پانا — pāná, *v.* to be freed or released ; to be got rid of. چھٽڪارا ڏيڻا — dená, to liberate ; to release ; to acquit ; to exempt.

چھٽڪانا chhitkāná, छिटकाना, H. *v.* To sprinkle ; to scatter ; to disperse ; to dishevel (hair).

چھٽڪنا chhitkāná, छिटकना, H. *v.* To be scattered or dispersed ; to shine ; to be dislocated ; to be diffused (as light) ; to fly back with a spring (bow, bolt, lock, &c.) چھٽڪنا ڪا چھٽڪا چھٽڪا — chāndnī kā —, the diffusion of moonlight.

چھٽنا chhatná, छटना, H. *v.* To be pruned ; to be separated ; to be lopped ; to be cut up (an army) ; to be sifted ; to be reduced ; to be rubbed (pen) ; to be picked out.

چھٽنا chhutná, छुटना, H. *v.* To get rid of ; to be let off ; to be acquitted ; to be fired ; to be abandoned ; to be set in motion (train) ; to get loose ; to slip from ; to be omitted ; to shoot forth ; to come out of (colour from cloth).

چھٽاڻڪي chhatānki, छटकी, H. *n. f.* A two ounce weight.

چھٽاڻ chhatwān, छटवाँ, H. *adj.* Sixth.

چھٽه chhatḥ, H. *n. f.* The sixth day of the lunar fortnight.

چھٽه chhatḥá or chhetḥa, H. *adj.* Sixth. چھٽه ۽ چھٽه — chhatḥe — chhamáḥe, *adv.* Once in six months ; now and then.

چھٽي يا چھٽي چھٽي or chhatī or chhatī, छठी, H. *n. f.* A religious ceremony performed on the sixth day after childbirth. چھٽي ڪا ڏوڏو يا ڏوڏو — chhatī kā dúḍh yād diláná, to beat severely.

چھٽي chhutī, छुटी, H. *n. f.* Leave ; holiday ; vacation ; leisure ; discharge ; furlough.

چھڙا chhajjá, छज्जा, H. *n. m.* Gallery ; a pent over a doorway ; a portico ; a balcony.

چھڙو chhichrá, A. *n. m.* Slough (of a wound) ; skin ; cuticle ; entrails ; the internal cellular web ; (*met.*) a brat.

چھڙڪارنا chhuchkārná, छुचकारना, H. *v.* To drive away contemptuously ; to cheep to (a dog) ; to set on or encourage (a dog).

چھڙو - چھڙو chhichorá or chhichhorá, छिछोरा, H. *adj.* Childish ; trifling ; mean ; base ; showy.

چھڙو چھڙو chihchorpan, छिछोरपन, H. *n. f.* Childishness ; meanness ; show.

چھڙو چھڙو - چھڙو chhachúḍdar or chhachhúḍdar, *n. f.* The musk-rat ; a mole ; a squib (firework).

چھڙو چھڙو chahchahá, चहचहा, H. *n. m.* The song of a bird ; warbling ; merriment. چھڙو چھڙو — chahchahe márná, to sing ; to warble (birds).

چھڙو چھڙو chahchaháná, चहचहाना, H. *v.* To sing ; to whistle ; to warble.

چھڙو چھڙو chahchaháḥaḥ, चहचहाहट, H. *n. f.* The singing or chirping of birds.

چھڙو چھڙو chhichhlá, छिछला, H. *adj.* Shallow. چھڙو چھڙو — chhichhlí khelná, to play at ducks and drakes.

چھڙو chhadám, छदाम, H. *n. f.* The fourth part of a *paisa* ; two *damrís* ; six *dáms* ; a small coin.

چھڙو chhidáná, छिदाना, H. *v.* To cause to pierce ; to cause to perforate.

چھڙو chhidná, छिदना, H. *v.* To be pierced or bored.

چھڙو chhurá, छुरा, H. *n. m.* A large knife ; a dagger ; a razor (*usturá*).

چھڙو chharrá, छर्रा, H. *n. m.* Small shot.

چھڙو chharinda, छरिन्दा, (Col.) H. *adj.* Alone ; single ; free ; separate ; not burdened.

چھڙو chehrah, P. *n. m.* Face ; countenance ; visage ; air ; mien ; a portrait ; a visor ; a mask. چھڙو شاهي — sháhí, *adj.* having or bearing the king's or queer's head (coin).

چھڙو چھڙو — mohra, features. چھڙو چھڙو — likhná, *v.* to draw up a descriptive roll. چھڙو چھڙو — lagáná, *v.* to wear a mask.

چھری chhuri, छुरी, H. *n. f.* A knife; an offensive weapon. تالے دم لینا—tale dam lená, *v.* to be patient under difficulties. چھری کٹاری—kaṭárá, fighting with knives; at daggers drawn; deadly enemies. چھری مارنا—márná, *v.* to stab. چھری میٹھی mīṭhí—, one who, by feigning friendship, effects the ruin of another; a secret enemy; a treacherous friend.

چھاڑ chhaṛ, छड़, H. *n. f.* Shaft; staff; a long pole or bamboo; spikenard; a fishing rod.

چھارا chhára, छारा (छड़ी) H. *adj.* Alone; solitary; *n. m.* an ornament worn on the legs.

چھیرکانا chhīrkáná, छिड़काना, H. *v.* To cause to sprinkle.

چھیرکاو chhīrkáo, छिड़काव, H. *n. m.* Sprinkling; watering.

چھیراکنا chhīrakná, छिड़कना, H. *v.* To sprinkle; to water; to asperse.

چھیرنا chhīrná, छिड़ना, H. *v.* To be touched; to have the fingers passed over; to be played on (stringed instrument); to be molested; to be vexed.

چھیروانا chhurwána, छुड़वाना, H. *v.* To have one released; to get one his liberty.

چھیراوتی chhurautí, छुरौती, H. *n. f.* Ransom.

چھاری chharí, छड़ी, H. *n. m.* A walking stick; a switch; a cane; a rod; a procession of the followers of Sháh Madár. چھاری بردار—bardár, a macebearer.

چھیریآ chhīriyá, छिड़िया, H. *n. f.* A narrow lane or passage.

چھاکا chhaká, चहका, H. *n. m.* A burn; a pavement.

چھاککا chhakká, छक्का, H. *n. m.* Aggregate of six; the six (at; cards, &c.) چھاککا پنچہ—panjá, plots; devices. چھاککا کھانا—panja karná, to play tricks; to practise deceit.

چھاککھ چھوٹ جاننا chhakke chhút jáná, to lose all one's wits; to be confounded.

چھاکھ چھاکھ chhakáchhak, छकाछक (चकाचक) H. *adj.* Full; brimful; full of wine; intoxicated.

چھاکانا chhakáná, छकाना, H. *v.* To fill to repletion; to pamper; to satisfy fully; to chastise.

چھاکرا chhakrá, छकड़ा, H. *n. m.* A two-wheeled bullock cart; a cart for carrying goods.

چھاکنا chhakná, छकना, H. *v.* To be satiated or gratified; to be deceived; to be harassed; to be afflicted.

چھاکنا chahakná, चहकना, H. *v.* To whistle (birds); to warble; to chirrup; to burn; to cauterize; to brand.

چھاغری chhagrí, H. *n. f.* A small goat (*chheri*).

چھال chhal, छल, H. *n. m.* Fraud; trick; deception; artifice. چھال بال—bal, *n. m.* trickery; force and fraud; stratagem.

چھال چوہل chohal, चोहल, H. *n. f.* Merriment; jollity. چھال کرنا—karná, to make merry; to carol.

چھال چہال chéhal, P. *adj.* Forty. چھال قدمی—qadmí, *n. f.* a walk; custom at the funerals of Mussalmans of stepping back forty paces from the grave and again advancing to it before reading the service over.

چھالا chahlá, चहला, H. *n. m.* Mud; puddle; slime; mire; splinter of wood. چھالا نیکالنا—nikálná, to split to pieces.

چھالا چھالا chhallá, छला, H. *n. m.* A ring; a ring worn on the finger or toe. چھالا دار chhalle dár, *adj.* annular; ringed.

چھالانا chhulána, छुड़ाना, H. *v.* To cause to touch; to make one touch or feel.

چھالانگ chhaláנג, छलांग, H. *n. f.* A spring; a leap; a bound.

چھالآوا chhaláwá, H. *n. m.* *Ignis fatuus*; will-o'-th'-wisp. چھال آوا—ho jáná, to disappear; to vanish suddenly; to elude search or pursuit.

چھال پھال chahal pahal, चहल पहल, H. *n. f.* jollity; movement; bustle.

چھالاک chhalak, छलक, H. *n. f.* Running over; overflow.

چھالکا chhilká, छिलका, H. *n. m.* Bark; rind; husk; scale; peel. چھالکا اترنا—utárná, *v.* to husk; to blanch; to peel.

چھالاکنا chhalakná, छलकना, H. *v.* To be spilt; to overflow; to splash.

چھاللم chihlum, P. *adj.* The fortieth day of mourning after the decease of a parent, &c., among Mohamedans.

چھلنا chhainá, छलना, H. v. To deceive ; to cheat ; to circumvent. چھلنا - چھلنا chhainá, chhanná, H. n. m. A strainer ; a cloth through which anything is sifted.

چھیلنا chhilná, छिलना, H. v. To be excoriated ; to be peeled ; to be erased ; to be scraped ; to be scratched out.

چھلنی chhalní, (चलनी), H. n. f. A sieve. چھلنا - چھلنا chhalní, hona, v. to be pierced or perforated ; to be full of holes ; to be battered.

چھلوری chhilorí, छिलोरी, H. n. f. A blister ; a whitlow ; a felon.

چھالیয়া chhaliyá, छलिया, H. adj. Treacherous ; deceitful ; fraudulent ; n. a deceiver ; a betrayer.

چھاما chhimá, (चमा S.) H. n. f. Pardon ; forgiveness ; absolution. چھاما - چھاما karná, v. to pardon ; to show indulgence.

چھم چھم chham chham, छम-छम, H. n. f. The sound of heavy rain ; jingle of small bells, anklets, &c.

چھمچھمانا chhamchhamáná, छमछमाना, H. v. To sound as heavy rain ; to jingle ; to glitter.

چھان چھان chhan, छन, H. n. m. The sound made by a drop of water falling on a hot plate ; the tinkle of small bells ; the clink of rupees.

چھان چھان chhan (चण S.) chihin, H. n. m. A moment ; an instant ; the twinkling of an eye. چھان چھان - چھان chhan, adv. in a moment.

چھاناکا chhanaká, छनाका, H. n. m. The sound of a drop of water falling on a hot plate ; the sound of the breaking of earthenware. چھاناکا - چھاناکا dil men—bitná, the heart to be violently agitated by sudden and imaginary doubts and fears.

چھین چھین chhin bhinn, छिन-भिन्न, H. adj. Scattered ; shattered ; shivered.

چھانٹا chhanṭá, छंटा, H. n. m. A cutting ; paring ; reduction ; huskings ; siftings ; discharge from a sore ; a detachment on forage.

چھانٹائی chhanṭáí, छंटाई, H. n. f. Cleaning ; sifting ; sorting ; pruning ; the price paid for cleaning.

چھانٹنا chhanṭná, छंटना, H. v. To grow thin ; to be extracted or separated ; to be pruned.

چھانچھانانا chhanchhanáná, छनछनाना, H. v. To simmer ; to clink ; to tinkle ; to chink ; to smart ; to pain.

چھاند چھاند chhand, छन्द, S. n. m. A measure in music ; a verse ; the sacred texts of the Vedic hymns ; prosody.

چھاند باند چھاند باند chhand band, छन्द बन्द, H. n. m. Trickery ; cheating.

چھانڈی chhandí, छन्दी, H. adj. Dishonest ; deceitful ; n. m. a deceiver ; a trickster.

چھانگا chhangá, छंगा, H. n. m. One having six fingers.

چھنگلی چھنگلی chhingulí, छिगुली, } H. n. f. The little finger.
چھنگلیا چھنگلیا chhungliyá, छुगलिया, }

چھاننا chhanná, छाना, H. n. m. A cloth through which anything is sifted ; a strainer ; a sieve.

چھیننا chhinná, छिनना, H. v. To be snatched ; to be seized.

چھینوانا chhinwáná, छिनवाना, H. v. To cause to snatch, &c.

چھو چھو chho, छो, H. n. m. Emotion ; love ; tenderness ; affection.

چھو چھو chhú, छू, H. n. f. The act of blowing or exorcising or uttering a prayer or incantation ; the blowing or breathing sound made by a washerman when beating clothes on a stone to clean them ; intj. used to excite a dog upon his prey. چھو چھو - چھو chhú honá, to vanish ; to disappear suddenly. چھو چھو - چھو chhú, a charm.

چھوارا chhuará, छुआरा, H. n. m. A dried date.

چھوانا chhuáná, छुआना, H. v. To cause to touch ; to get one to touch.

چھوپ چھوپ chhop, छोप, H. n. m. A coal of paint, &c. چھوپ چھوپ - چھوپ chháp karná, v. to plaster or repair a wall, &c.

چھوپنا chhopná, छोपना, H. v. To fill up ; to plaster ; to repair.

چھوت چھوت chhot, छोट, H. n. f. An evil influence on a sore eye ; impurity.

७५७ chhút, छूत, H. n. f. Defilement ; contamination ; touch. ७५७—lagná yá parná, to be infectious (a disease) ; to infect a person by touch.

७५७ chhút, छूत, H. n. f. Remission of revenue ; leaving ; separation ; divorce : release ; disjunction ; giving money off-hand or at will to dancers, &c., at an entertainment.

७५७ chhoṭá, छोटा, H. adj. Little ; small ; younger ; junior ; minor ; subordinate ; trifling matter or affair. ७५७—chhoṭá-bará, adj. great and small ; high and low. ७५७—sahib, a subordinate European officer. ७५७—muḡh baṛi bát, (Lit.) big words out of a little mouth ; (met.) boastful words spoken by a weak person.

७५७ chhoṭá chánd, छोटा चाँद, H. n. m. The name of a climbing plant, *Ophiowylon serpentinum*, the root of which is said to be an excellent remedy for snake-bites. Its root dried, and powdered, is applied externally to the bitten part, and a decoction of it is given to the person a pint in 24 hours.—Binning (Forbes).

७५७ chhoṭái, छोटाई, H. n. f. Smallness ; littleness.

७५७ chhútná, छूटना, H. v. To escape ; to be left ; to be discharged ; to slip away.

७५७ chhúchak, छूचक, H. n. m. A ceremony observed after child-birth, when the mother visits her father.

७५७ chhúchhá, छूछा, H. adj. Empty ; hollow.

७५७ chhúchh, छूछ, H. n. f. The refuse left after pressing sugarcane, &c. for juice.

७५७ chhochoho, छो-छो, H. n. f. A dry-nurse.

७५७ chhor, छोर, H. n. m. Border ; edge ; end ; bank ; boundary ; limit ; extremity.

७५७ chhorá, छोरा छोहरा (Col.) H. n. m. A boy.

७५७ chhorí, छोरी, (Col) H. n. f. A girl ; a lass.

७५७ chhor, छोड़, H. adv. Having left ; omitting ; except ; save. ७५७—baiṭhná, to give up altogether ; to withdraw from. ७५७

७५७—marná, to leave at one's death ; to bequeath.

७५७ chhoṛáo, छोड़ना, H. n. m. Release ; omission ; leaving.

७५७ chhoṛ jáná, छोड़ जाना, H. n. To leave behind ; to abandon.

७५७ chhoṛ dená, छोड़ देना, H. v. To let go ; to give up.

७५७ chhorná, छोड़ना, H. v. To let go ; to leave ; to desert ; to spare ; to pardon ; to abdicate ; to abstain from ; to pour water ; to omit ; to release ; to resign ; to emit ; to discharge ; to fire (a gun, &c.).

७५७ chhokrá, छोकरा, H. n. m. A boy.

७५७ chhokrí, छोकरी, H. n. f. A girl ; a lass ; a slave girl.

७५७ chholá, छोला, H. n. m. Green gram in the pod.

७५७ chholdári, छोलदारी, H. n. f. A kind of small tent for servants, horses, &c. ; a pavilion.

७५७ chholná, छोलना, H. v. To peel ; to scrape ; to pare ; to excoriate.

७५७ chholní, छोलनी, H. n. f. A scraper.

७५७ chahun चहुँ, H. adv. Four. ७५७— or, adv. on all sides.

७५७ chhúná, छूना, H. v. To touch : to feel ; to meddle with. [animal.]

७५७ chhauná, छैना, H. n. m. Young of any

७५७ chhonk, छौक, chhaunk, छौक, H. n. f. Seasoning ; relish ; taste ; flavour (*baghár*).

७५७ chhongkan, or chhaunkan छौकन, H. n. m. Spices with which food is seasoned.

७५७ chhaunkná, छौकना, H. v. To season ; to fry with a seasoning of spices. [pity.]

७५७ chhoh, छोह, H. n. m. Love, tenderness ;

७५७ chhawaiyá, छवैया (Col.), H. n. m. A thatcher.

७५७ chhuí, छुई, H. n. f. Chalk.

७५७ chui muí, छुई-मुई, H. n. f. The sensitive plant *Mimosa sensitiva* ; a delicate or frail thing.

۶۴۴ ohha, छः, H. *adj.* Six. ۶۴۴ بندیا—bundiyá, a kind of noxious insect which has six spots on his back. ۶۴۴ سات—sát, trick ; cheating ; jugglery. (Cf. in páñch.) ۶۴۴ کایا—kalyá, an *angarkhá* or coat made of six pieces. ۶۴۴ ماہی—máhi, six-monthly ; half-yearly. ۶۴۴ چھہتار, छिहत्तर, H. *adj.* Seventy-six. ۶۴۴ چھاہ, छय (S. छयः) H. *n. f.* Mortality ; destruction. ۶۴۴ چھاہ رोग, consumption. ۶۴۴ تپ دق *tap-i-diqq*).

۶۴۴ چھہیا, चुहिया, H. *n. f.* A little mouse. ۶۴۴ چھہیا سٹھ, छियासठ, H. *adj.* Sixty-six. ۶۴۴ چھہیاسی, छियासी, H. *adj.* Eighty-six. ۶۴۴ چھہیا لیس, छियालिस, H. *adj.* Forty six. ۶۴۴ چھہیا نونہ, छियानवे, H. *adj.* Ninety-six. ۶۴۴ چھہپ, छिप, H. *n. f.* Discoloration or spots on the skin ; fishing rod. ۶۴۴ چھہپنا, छिपना, H. *v.* To print cloths ; to draw up the rod in fishing. ۶۴۴ چھہپتی, छिपी, H. *n. m.* A cloth printer ; one who stamps floor cloths, &c. ۶۴۴ چھہتر, छेत्र (S. क्षेत्र), H. *n. m.* A plane surface ; a place where pilgrims and students are given food and lodgings ; a place of pilgrimage (as Hardwar, Banaras, &c.) ; soil ; field ; battle-field, plantation ; geometrical figure. ۶۴۴ چھہل, چھل—phal, *n. m.* the area of a plane surface. ۶۴۴ چھہج, छीज, H. *n. f.* Decrease ; diminution ; waste ; decay. ۶۴۴ چھہجنا, छीजना, H. *v.* To decrease ; to decay ; to pine away.

دیکھا دیکھی کیجے جوج

دیکھا دیکھی کایا بارہ روج

Dekhá dekhi kije jog,
Chhije káyá bárhe rog.

They who merely imitate others in austerity waste away, and their diseases increase.

۶۴۴ چھہچھہرا, छिछ्छड़ा, H. *n. m.* Flesh tough as leather, and uneatable ; the skinny part of meat.

۶۴۴ چھہد, छेद, H. *n. m.* A hole ; an opening ; an aperture.

۶۴۴ چھہدا, छीदा, H. *adj.* Thin ; not close, as cloth ; bored ; sparse ; straggling.

۶۴۴ چھہدان, छेदन, H. *n. m.* Boring. ۶۴۴ کن ۶۴۴ کان—kan—, ear-piercing.

۶۴۴ چھہدنا, छेदना, H. *v.* To pierce ; to perforate ; to bore.

۶۴۴ چھہر, छीर, H. *n. m.* Milk. ۶۴۴ ساگر—ságar ; *n. m.* The White Sea ; (*Hind. Myth.*) the Ocean of Milk.

۶۴۴ چھہری, छेरी, H. *n. f.* A she-goat.

۶۴۴ چھہر, छेद, H. *n. f.* Touch ; irritation ; flirtation ; molestation. ۶۴۴ چھہر خانہ - ۶۴۴ چھہر—chhar-khani, *n. f.* the act of vexing, exciting, attack and counter attack, &c.

۶۴۴ چھہرنا, छेदना, H. *v.* To irritate ; to molest ; to make fun of ; to fret ; to play on a musical instrument ; to touch ; to commence.

۶۴۴ چھہک, छेक, H. *n. m.* Hole.

۶۴۴ چھہکنا, छेकना, H. *v.* To come between ; to stop one's progress ; to prevent ; to restrain.

۶۴۴ چھہلا, छेला, H. *n. m.* A beau ; a fop ; a handsome fellow ; a coxcomb.

۶۴۴ چھہلان, छीलन, H. *n. f.* Parings ; scrapings (of rind or peel).

۶۴۴ چھہلنا, छीलना, H. *v.* To peel ; to pare ; to erase ; to scrape ; to scratch.

۶۴۴ چھہمی, छीमी, H. *n. f.* A pod or legume ; bean ; green peas.

۶۴۴ چھہن, छीन, H. *adj.* Thin ; emaciated ; wasted ; feeble ; delicate ; slender.

۶۴۴ چھہنہ, छेना, H. *n. m.* A sweetmeat made of curd.

۶۴۴ چھہنت, छींट, H. *n. m.* Chintz ; spray of water ; a drop of water ; a spot ; the old days of a month ; balance ; remainder. ۶۴۴ چھہنت کی ۶۴۴ کوری—kí kauří, wages for odd days or for a broken period.

۶۴۴ چھہنتا, छींटा, H. *n. m.* Sprinkling ; splash ; light rain ; scattering ; a ball of opium, as : ۶۴۴ چھہنتے آڑاے *chandú ke do chhinte uḍe* ; a light shower of rain, as. ۶۴۴ چھہنتا ہو گیا *ek chhinṭa ho gayá*.

کڑی چھوینٹا پڑے تو داغ کلاتے چلے جائیں
عظیم آباد میں ہم منتظر سارن کے بیٹھے ہیں
(داغ) —

Koi chhīṅṭá parē to Dāg Kalkatte chale jāen.
Azimábád men ham muntazir Sáwan ke
baithe hain.

excitement ; joke ; jesting, as : **دو چھوینٹوں میں** do chhīṅṭon men ro diyá ; deception ; cheat ; trick, as : **کس کے چھوینٹوں میں آگئے** : kis ke chhīṅṭon men á gae. **چھوینٹا دینا یا مارنا** — dená yá márná, *v.* to sprinkle ; to bedrop ; to bespatter. [scatter.

چھوینٹنا chhīṅṭná, **छीटना**, *H. v.* To sprinkle ; to sneeze. **چھینک** chhīnk, **छींक**, *H. n. f.* Sneezing ; sneeze. **چھینک والی** — lāne wālī, (in *Med*) a steruntatory.

چھینکا ehīnká, **छींका**, *H. n. m.* A network in which pots, &c., are hung as in a swinging tray ; the cord of a *bahāngi* ; a muzzle for cattle.

چھینکنا chhīnkna, **छींकना**, *H. v.* To sneeze.

چھیننا chhīnná, **छीनना**, *H. v.* To snatch ; to wrench ; to pluck ; to rob ; to take forcible possession of ; to deprive of ; to bereave of.

چھینی chhení, **छेनी**, *H. n. f.* A chisel ; a piercer. **چھو** chheo, **छेव**, *H. n. m.* A cut ; an incision ; a mark ; a piece of wood cut off. **چھو مارنا** — márná, *v.* to mark ; to outline ; to make an incision in.

چھیل chhīl, **छिल**, *H. n. m.* A kind of jungle tree called *dhák palds*.

چھوونا chheoná, **छेवना**, *H. v.* To extract palm juice ; to pierce a *tár* tree, to extract *tári*.

چھیل chiyán, **चियाँ**, *H. n. m.* The seed of the tamarind.

چھپ chep, **चेप**, *H. n. m.* Viscosity ; stickiness ; pus. **چھپدار** — dár, *adj.* gummy ; sticky ; glutinous ; viscous.

چھپڑ chípar, **चिपड़**, *H. n. m.* Matter in the eye ; cheum of the eyes. (**انکھ کی کیچڑ**) *ankh kí kichar*.)

چھپنا chepná, **चेपना**, *H. v.* To stick together ; to paste (*chipkand*).

چھپتی cheptí, **चेपी**, *H. n. f.* A slip pasted on. **چھیت** chait, **चैत**, *H. n. m.* The Hindu name of the 12th month the full moon of which is near *Chitra* (March-April). **چھیت کی فصل** — kí fasl, the spring crop which is cut in March.

چھت chet, **चेत**, *H. n. m.* Memory ; remembrance ; thought ; sensation ; consciousness ; wits. **چھت کرنا** — karná, to bear in mind.

چھتا chitá, **चीता**, *H. n. m.* A panther or small hunting leopard.

چھیتل chítal, **चितल**, *H. adj.* Spotted ; speckled ; *n. m.* the axis or spotted deer ; a leopard ; a large spotted snake.

چھتین chetan, **चेतन**, *H. adj.* Vigilant ; rational ; intelligent ; alive ; living ; of sound mind ; cautious ; *n. m.* intelligence ; vigilance. **چھتین کرنا** — karná, *v.* to rouse ; to warn ; to make aware.

چھتینا chetná, **चेतना**, *H. v.* To be aware ; to recover the senses ; to wake.

چھتھرا chíthrá, **चिथड़ा**, *H. n. m.* A rag.

چھتھنا chíthná, **चीथना**, *H. v.* To tear ; to rind ; to crush ; to lacerate.

چھتاک cheṭak, *H. n. f.* A miracle ; deceptions ; anxiety ; concern. Activity ; expertness.

چھچک chechak, *P. n. f.* The small-pox. **چھچک رو** — rú, pock-marked ; pitted with the small-pox.

چھیکھ chíkh, **चीख**, *H. n. f.* A scream ; screech ; shriek. **چھیکھ مارنا یا چھیکھنا** — márná yá chíkhná, *v.* to scream ; to cry ou ; to shriek.

چھیدا chída, *P. adj.* Gathered ; selected ; picked.

چھیر chír, **चीर**, *S. n. m.* A vesture of bark ; strip of cloth ; a rag ; tatter ; a woman's *sári*. *H. n. m.* Rent ; slit ; garment. **چھیر پھار** — phár, performing a surgical operation ; amputation. **چھیر نکلنا** — nikalná, to break through a crowd or troops. [cut.

چھیرا chírá, **चीरा**, *H. n. m.* A checkered turban ;

چھیرنا chírná, **चीरना**, *H. v.* To rend ; to tear ; to to cut open ; to lance.

چھیری chírí, *H. n. f.* A slave girl.

چیز *chiz*, P. n. f. A thing. چیز بست—*bast*, n. new wood furniture; chattels; baggage. چیزے *chizo*, *adv.* somewhat; a little; something.

چیزستان *chistán*, P. n. m. An enigma; a riddle.

چیکٹ *chikat*, चीकट, H. n. f. A mixture of oil and dust, *adj.* oily; greasy.

چیکھنا *chikhna*, चीखना, H. v. To taste.

چیل *chil*, H. n. f. A kite. چیل جوہٹا—*jhapattá*, f. a game played by children.

چیل *chailá*, n. m. A piece of split wood for burning, etc.

چیل *chela*, चेला, H. n. m. } A servant or slave
چیلی *cheli*, H. n. f. } brought up in the house; a disciple; a follower; a pupil.

چیلے چانٹے *chele chánte*, pupils; disciples. چیل کرنا—*karná*, v. to convert to one's faith.

چیلہار *chilhar*, चीलर, (Col.), H. n. m. Body-lice.

چیمٹا *chímṭá*, चिमटा, H. n. m. Pincers; nippers; tongs.

چین *chain*, चैन, H. n. m. Ease; comfort; rest; peace; tranquillity. چین کرنا—*karná*, to make oneself comfortable. چین (بے چین) *rain*—, Nights of ease or peace, etc.; nights of pleasure or enjoyment, etc.

چین *chín*, P. n. f. A wrinkle; a pucker. چین ہونا—*bajabín honá*, a. to frown; to knit the brow. چین پر چین ہونا—*par chín honá*, to become wrinkled from fat. چین پیشانی—*i-peshání*, a frown.

چین *chín*, चीन, H. n. f. Cry; squeak. چین بولنا—*buláná*, to make one cry out. چین بولنا—*bolná*, to utter a cry of helplessness; to squeal. چین چین کرنا—*chín karná*, to chatter; to cry out; to murmur.

چینٹا *chínṭá*, चींटा, H. n. m. A large black ant.

چینٹی *chínṭí*, चींटी, H. n. f. A small ant.

چینڈی *chínḍí*, H. n. f. A round piece of leather attached to a spinning wheel.

چینگا *chengá*, चंगा, (Col.) H. n. m. Young of a bird. چینگے پوٹے *chenge pote*, young ones; little ones; children; brats.

چینھنا *chínhná*, चीन्हना, H. v. To know; to recognise; to identify.

چینی *chíní*, चीनी, H. n. f. White sugar; Chinese; the Chinese language. چینے کے برتن—*ke bartan*, Chinaware; crockery; porcelain.

چینیما گوند *chiniyá gond*, चिनिया गोंद, H. n. m. Gum Arabic.

چیرلی *cheolí*, H. n. f. A kind of thick glossy silk; taffeta (P. تافتا *tafta*).

(ح)

ح *he*, The ninth letter of the Urdu alphabet. It is commonly called *háe-i-muhmala* and *háe-i-huttí*. In the *abjad* it has the numerical value of eight.

حاتم *hátim*, A. n. m. The name of an Arab chief of the tribe *Tái*, famous for his boundless liberality; hence, a liberal man. A man of great liberality is styled "*Hátim of the age*".

حاجات *háját*, A. n. f. (*Plu. of حاجت Hájat*) Wants; necessities.

حاجب *hájib*, A. n. m. A curtain; a screen; the eyebrow; a door-keeper; a privy counsellor; a chamberlain. A descendant who according to the Mohamadan Law prevents the other from inheritance.

حاجت *hájat*, A. n. f. Need; necessity; want; call of nature; a lock-up. حاجت رفع کرنا—*rafa' karná*, v. to supply a want; to go to the privy. حاجت روائی—*ravái*, supplying the wants of. حاجت مند—*mand*, necessitous; needy. حاجت میں رکھنا—*men rakhná*, to keep a prisoner in the lock-up.

حاجز *hájiz*, A. *adj.* and n. m. Hindering; intervening; an obstacle or obstruction; barrier.

حاجی *hájí*, A. n. m. A pilgrim to Mecca. حاجی الحرمین—*ul-haramain*, a pilgrim to both the sacred places Mecca and Medína.

حاد *hádd*, A. *adj.* Pointed; sour; fiery.

حادث *hádis*, A. *adj.* New; recent; just begun.

حادثہ *hádisa*, A. n. m. Accident; occurrence; misfortune.

حادثہ *háddah*, A. *adj.* Contracted. زاویہ حادہ *zawiya-i—*, an acute angle.

حذیق háziq A. *adj.* Skilful; intelligent; eminent; perfect.

حارج hárij, A. *n. m.* An obstacle. [man.]

حاسد hásid, A. *adj.* Envious; *n. m.* an envious

حاشا háshá, A. *adj.* Besides. حاشا لاله—lillah, *intj.* God forbid; by no means. حاشاك - حاشاك الاله—lak, háshák, far be it from thee. حاشاك الاله háshák-allah, God, preserve thee from it.

حاشیہ háshiya, A. *n. m.* A margin; hem; border; marginal note; people of inferior rank; retinue. حاشیہ لگانا—lagáná, charháná, to write a marginal note; to make comments; to lengthen or improve a story. حاشیہ گواہ—gawáh, a witness to the execution of a deed; a marginal witness.

حاصل hásil, A. *n. m.* (*Plur.* حاصلات *Hásilat*), Produce; product; result; inference; gain; revenue; ultimate consequence; acquisition; purport; object. حاصل بازاری—bazári, *n. m.* duties of a market حاصل تفریق—tafríq, *n. f.* remainder; balance. حاصل جمع—jama', the total. حاصل ضرب—zarb, the product (in multiplication). حاصل کرنا—karná, *v.* to acquire; to gain; to produce; to collect; to learn. حاصل ہونا—kalám, *adj.* in short. حاصل ہونا—honá, *v.* to be acquired; to result.

حاضر házir, A. *adj.* Present; in attendance; ready; the second person (in Grammar). حاضر

باش bāsh, *n. m.* a constant or regular attendant. حاضر باشی—bāshí, *n. f.* constant attendance. حاضر جواب—jawáb, *adj.* ready-witted; answering wittily. حاضر جوابی—jawábí, *n. f.* repartee. حاضر رہنا—rahná, *v.* to attend; to wait on. حاضر ضامن—zámin, *n. m.* a surety for another's personal appearance; a bail; a bondsman. حاضر ضامنی—záminí, *n. f.* security for personal appearance. حاضر کرانا—karána, *v.* to cause to appear. حاضر کرنا—karná, *v.* to present; to introduce; to lay before. حاضر و ناظر—o-názír *adj.* present and seeing; Omnipresent and Omniscient. حاضر ہونا—honá, *v.* to be present; to attend; to be at hand; to be at the service of. حاضر غیر حاضر—gair, *adj.* not present; absent; not forthcoming.

حاضرات házirát, A. *n. f.* (*Plu.* of حاضر *Házir*), Commanding or imprisoning demons, &c.; invocation of spirits. حاضرات کرنا—karná, *v.* to invoke evil spirits; to exorcise.

حاضراتی házirátí, A. *n. m.* A necromancer; a conjuror; an exorciser.

حاضری حاضران házirán, házirín, A. *n. m.* (*Plu.* of حاضر *Házir*). The people present; the audience. حاضریں جاسہ—i-jalsa, the present assembly; this meeting.

حاضری házirí, A. *n. f.* Presence; attendance; appearance (in a court); breakfast of (Europeans); audience; muster-roll. حاضری کا (Europeans); audience; muster-roll. حاضری رجسٹر—ká ragister, a register of attendance. حاضری کھانا—kháná, *v.* to breakfast. حاضری لینا—lená, *v.* take attendance; to call out the names of. حاضری میں ہوتا رہنا—men khará rahná, to be constant attendance. حاضری چھوٹی—chhoṭí, the early morning breakfast of Europeans, i. e., tea and toast, (&c. *Cf.* náshidá kalewá, jalpán).

حافظ háfiz, A. *n. m.* A keeper; protector; guardian; preserver; one who knows the *Qurán* by heart; one having a good memory. حافظ حقیقی—haqiqí, the true protector; God; the poetical name of Muhammad Shamsuddin, the celebrated poet of Persia.

حافظہ háfiza, A. *n. m.* Good memory; the retentive faculty of the mind.

حاکم hákim, A. *n. m.* (*Plu.* حاکمان *Hakkám, Hákimán*), A ruler; a governor; chief; master; an official; a commander; the Supreme Judge (God). حاکم بالا—i-bálá, *n. m.* a superior officer. حاکم دیوانی—i-díwání, the civil power. حاکم زیر دست—i-zerdast, subordinate officer. حاکم اعلیٰ—i-'alá, the paramount power. حاکم سابقہ—sábíqa, predecessor. حاکم نوجداری—i-faujdarí, a judge who presides over a criminal court. حاکم متجاز—majaz, competent authority. حاکم وقت—i-waqt, the government of the day.

حاکمانہ hákimána, A. *adv.* With authority; judicially; authoritatively.

حاکمی hákimí, A. *n. f.* Sway; government; authority.

حال *hál*, A. *n. m.* (*Plu.* احوال *Ahwál*). State ; condition ; business ; case ; present time ; statement ; narrative ; ecstasy. حالاً—*ápkí*, *adv.* though ; whereas ; however ; even. حال آبادی—*ábádí*, under present cultivation. حال باقی—*baqí*, current balance. حال ہونا—*be hál honá*, *v.* to be altered from a good to a bad state ; to become ill-conditioned. حال یا حالی یا حالی چلنا—*hál yá hálí hálí chalná*, to walk in haste ; to go quickly. حال بہر *bahar*—, in any case. حال خوش *khush*—, in good circumstances. حال فی الحال *filhál*, *adv.* at present. حال شکستہ حال—*shikasta*—, *tabáh*—, in straitened circumstances.

حالات *hálát*, A. *n. f.* (*Plu.* of حالات *Hálat*). Circumstances ; facts ; particulars ; states ; conditions.

حالت *hálát*, A. *n. f.* State ; condition ; circumstance ; position of one's affairs. حالت بہ *ba*—, in the state of ; under the influence of ; case.

حامد *hámíd*, A. *n. m.* A praiser. [pungent.

حامض *hámiz*, A. *adj.* Shard ; sour ; acid ;

حامل *hámil*, A. *n. m.* A carrier ; bearer ; *adj.* pregnant حامل خط *i-khatt*, bearer of a letter, &c. حامل متن *i-matan*, a commentary re-hearsing or annexed to the text.

حاملہ *hámila*, A. *adj.* Pregnant, حاملہ ہونا—*honá*, *v.* to be pregnant ; to conceive.

حامی *hámí*, A. *n. m.* A protector ; supporter ; a guardian ; *n. f.* assurance ; confirmation. حامی ہونا—*bhárná*, to consent ; to confess ; to acknowledge ; to own.

نہاں برداری کی حامی تب بہروں دل کی کر

دم دلا سے دے بندھا لوں استقامت کے لئے

(سودا)۔

Náz-bardárfí kí hámí tab bharúp dil kí kamar, Dam dilásá de bagdhá lúp istiqámat ke liye.

حائث *hánis*, A. *n. m.* A perjurer ; a violator of his oath.

حاری *háwí*, A. *adj.* Comprehending ; getting the upper hand.

حائل *háil*, A. *adj.* Intervening ; preventing ; *n. m.* hinderance ; obstacle ; prevention, حائل حائل—*honá*, *v.* to come in the way ; to interrupt ; to disturb.

حُبب *hubb*, A. *n. f.* Love ; affection ; wish ; desire ; friendship. حب الوطن *ul-watan*, *n. f.* love of one's country ; patriotism. عمل حب *amal-i*—, a love charm.

حَبَب *habb*, A. *n. f.* A grain ; a pill seed or kernel of a fruit ; a berry. (پل. حبوب) حب حب *i-balsán*, the fruit of the tree called 'Balm of Gilead'. حب السلاطین *ul-salátín*, the purging croton nut.

حباب *hubáb*, A. *n. m.* A bubble. حباب اُٹھنا—*uthná*, *v.* to bubble.

حبس *habs*, A. *n. m.* Confinement ; imprisonment.

حبس النفس *un-nafs*, suffocation. حبس بیجا *i-bejá*, wrongful confinement. حبس دم *i-dam*, asthma ; keeping in the breath for a long time, which some *fuqírs* do as a religious act, and also as a means of prolonging life. حبس دوام بہ عبور دریائے شور *dawám ba 'ubúr daryáe shor*, transportation for life beyond the sea. [Kafir ; a black slave.

حبشی *habshí*, A. *n. m.* Abyssinian ; negro ; a

حبل *habl*, A. *n. m.* A rope ; cord ; alliance.

حَبَبَة *habba*, A. *n. m.* One berry ; one grain ; one seed ; a particle ; a measure equal to two barleycorns ; a jot.

حبیب *habíb*, A. *n. m.* A lover ; beloved ; a friend.

حتی *hattá*, A. *conj.* Until ; so that ; as far as ; to the extent of ; to the end that - حتی الامکان - حتی الوسع *ul-imkán*, *ul-maqdúr*, *ul-wasa'*, *adv.* to the best of one's ability ; to one's utmost.

حَج *hajj*, A. *n. m.* Act of moving round ; to visit a place of pilgrimage ; the pilgrimage to Mecca. حج الفرض *ul-farz*, the enjoined pilgrimage to Mecca which should be performed by every Mussulman once in his life-time. امیر الحج *amírul*—, the officer in charge of a caravan of pilgrims.

- حجاب hijáb, A. *n. m.* A curtain; modesty; shame; bashfulness; night. حجاب کرنا—karná, *v.* to cover; to shame. حجاب اٹھانا—uṭháná, the sense of shame to be lost; to remove the veil. حجاب چشمی—chashmí, sheep's-eye.
- حجام hajjám, A. *n. m.* A barber; a shaver; a cupper; a scarifier.
- حجامت hajámát, A. *n. f.* Shaving. حجامت بنانا—banáná, *v.* to shave; (*met.*) to spoil; to plunder.
- حجامی hajjámí, A. *n. f.* The profession of a barber.
- حجت hujjat, A. *n. f.* Argument; discussion; disputation; altercation; proof; reason. حجت کرنا—karná, *v.* to discuss; to argue; to adduce an argument; to raise an objection; to bring forward a pretext. حجت لامایل—i-lá-táil, a useless objection; cavil.
- حجّتی hujjati, A. *adj.* Argumentative; quarrelsome; *n. m.* reasoner; wrangler; disputant.
- حجر hajar, A. *n. m.* A stone; prohibition; annulment. حجر اسود—i-aswad, the black stone in the temple of Mecca. حجر الیہود—Hajar-ul-yahúd, a calcarious stone used in medicine; Jew's stone (found in Palestine).
- حجرۃ hujra, A. *n. m.* A cell; a closet; a chamber; a private room.
- حجاء hajla, A. *n. m.* An ornamented pavilion or chamber, with curtains, for a bride; the marriage bed.
- حجم hajm, A. *n. f.* Thickness.
- حد hadd, A. *n. f.* Boundary; limit; term; extremity; a definition; bar; impediment; utmost point or degree; *adv.* utmost; at least; extremely. حد باندھنا—bándhna, *v.* to bound; to define. حد بندی—bandí, fixing the boundaries. حد سے بڑھنا—se bāhna, to overstep bounds; to exceed one's power; to encroach on. حد شکنی—shikaní, encroachment. حد کرنا—karná, *v.* to go beyond bounds. حد محدود—mahdúd, a term in lease which recognises the power of the farmer over all the lands and crops within the defined limits. حد سے حد—az—, be—, boundless; infinite; excessive.
- حدت hiddat, A. *n. f.* Sharpness; vehemence; impetuosity; fury.
- حدود hudúd, A. *n. f.* (*Plur. of حد Hadd*). Boundaries; limits; confines; definitions. حدود ارضی—arba', the four boundaries. حدود شرعیہ—i-shar'áiya, *n. f.* penal laws.
- حدیث hadís, A. *n. f.* History; tradition; the traditional sayings of Muhammad. حدیث کرنا—karná, to abjure; to swear.
- حدید hadíd, A. *n. m.* Iron.
- حدیقہ hadíqa, A. *n. m.* A garden.
- حذر hazar, A. *n. m.* Caution; prudence; fear.
- حذف hazaf, A. *n. m.* Omission; elision; rejection; dropping; cutting off a letter or syllable of a word.
- حارّات harárat, A. *n. f.* Heat; warmth; a slight fever; fervour. حرارت دینی—i-díní, *n. f.* fanaticism. حرارت فریزی—i-garízí, *n.* natural heat of the body. [care; escort.
- حراست hirásat, A. *n. f.* Guard; custody;
- حراج harráj, A. A fast running; *n. m.* an auction. حراج کرنا—karná, to sell by auction.
- حراف harráf, A. *adj.* Ingenious; cunning; clever; talkative; chatty.
- حرام harám, A. *adj.* Unlawful; forbidden; wrong; sacred. حرام خور—khor, *n. m.* one who lives on the wages of iniquity; a corrupt person. حرامزادہ—záda, *adj.* illegitimate. حرام زدگی—zadgí, *n. f.* rascality. حرام کرنا—zadgí karná, to behave ill to; to ill-treat. حرام کا—ká, unlawful; illgotten (wealth, &c.) حرامکاری—kárí, forbidden acts (particularly adultery and fornication). حرام مغز—magz, *n. m.* spinal marrow.
- حرامی harámí, A. *n. m.* Bastard; *adj.* illegal; spurious; wicked. حرام موت—maut, *n. f.* violent or unnatural death; suicide.
- حربہ harba, P. *n. m.* A dart; javelin; arms; warlike apparatus; invasion; a thrust; stab. حربہ کرنا—karná, to attack. [plough-share.
- حرت hars, A. *n. m.* Ploughing; sowing;
- حرجہ harja, P. *n. m.* A collection of trees; a wood; a thicket; a flock of animals.

حرج *harsj*, A. Narrowness ; confined. A sin ; fault ; crime.

حرز *hirz*, A. *n. m.* A charm ; an amulet ; a fortification ; an asylum.

حرص *hirs*, A. *n. f.* Desire ; greediness ; ambition ; avarice ; covetousness. حرص دینا — *dená*, to make one desire eagerly ; to entice ; to allure. حرص کرنا — *karná*, *v.* to covet ; to long for.

حریص *hirst*, A. *adj.* Greedy ; covetous ; ambitious.

حرف *harf*, A. *n. m.* (*Plu.* حرف *Harúf*) A letter of the alphabet ; the particle (in Grammar) ; hand-writing ; inverting ; changing (as clothing) ; a crooked pen ; a margin side ; a word ; the summit of a mountain ; blame ; censure.

حرف آشنا — *áshná*, just being able to read. حرف اندازی — *andázi*, cunning ; artifice. حرف آنا — *ána*, *v.* to suffer a stain. حرف بیٔتھاننا یا جمانا — *baiṭhálná. yá jamána*, *v.* to compose for printing.

حرف پکڑنا — *ba-harf*, literally. حرف پکڑنا — *pakarná*, *v.* to criticise. حرف پہچاننا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

حرف پکڑنا — *pahchánná*, *v.* to learn the alphabet. حرف تہدید — *tardíd*, disjunctive conjunction. حرف تشبیہ — *tashbíh*, the adverb of similitude. حرف تعریف — *i-t'arif*, the definite article. حرف تکذیر — *i-tankír*, the indefinite article. حرف رکھنا — *rakhná* (*kisí par*), to stigmatize ; to impute a fault to one. حرف شرط — *i-shart*, conditional conjunction. حرف صحیح — *i-sahíh*, a consonant. حرف علت — *i-'illat*, a vowel. حرف گیر — *gír*, *n. m.* a critic. حرف گیری — *gírí*, criticism. حرف لانا — *láná*, *v.* to defame ; to blot. حرف ناشنوری — *náshinawí*, not attending to advice ; obstinate. حرف ندا — *i-nidá*, interjection. حرف و حکایت — *o-hikáyat*, conversation ; discourse.

point. حرکات ٹالٹھ — *i-sálisha*, the short vowels. حرکات و سکنات — *o-sakanát*, gestures ; postures.

حرکت *harkat*, A. *n. f.* Motion ; gesture ; act ; misdemeanour ; fault ; crime ; agitation ; commotion ; hindrance ; prevention ; a short vowel. حرکت دینا — *dená*, *v.* to set in motion. حرکت کرنا — *karná*, *v.* to move ; to do an improper action.

حرم *haram*, A. *adj.* Sacred ; forbidden ; *n. m.* the sacred ; *n. m.* the sacred enclosure of the temple of Mecca ; a sanctuary ; *n. f.* a concubine ; a female slave ; a daughter ; women's apartment. حرم سرا — *sará*, *n. m.* a seraglio.

حرمات *hurmat*, A. *n. f.* Dignity ; honour ; reverence ; reputation ; chastity. حرمت بہا — *bahá*, damages for defamation ; compensation for libel. حرمت رکھنا — *rakhná*, to uphold the dignity of. حرمت کرنا — *karná*, *v.* to respect ; to honour. حرمت لینا — *lená*, *v.* to disgrace ; to dishonour. حرمت والا — *wáldá*, respectable ; worthy.

حروف *hurúf*, *n. m.* (*Plu.* حرف *Harf*). Letters. حروف تہجی — *tahajjí*, the letters of alphabet.

حریزی *harízi*, A. *adj.* Thin ; of fine silk cloth. حریری کاغذ — *kágaz*, tissue paper ; a very thin kind of paper. [imitator of others.

حریص *harís*, A. *adj.* Covetous ; greedy ; an rival ; an opponent ; a fellow-worker ; an enemy ; *adj.* cunning ; facetious.

حرم *harim*, A. *n. m.* A sacred place ; the enclosure of the temple of Mecca.

حزم *hazam*, A. *n. m.* Vigilance ; industry ; steadiness ; resolution.

حزن *huzn*, A. *n. m.* Grief ; sadness ; affliction. حزین *hazín*, A. *adj.* Sad ; sorrowful ; melancholy ; grieved.

حس *hiss*, A. *n. m.* Sense ; feeling ; imagination ; sympathy. حس بے — *be*—, without feeling ; senseless. حس و حرکت — *be*—*o-harkat*, without sense or motion. حس ظاہری — *záhiri*, sensation. حس باطنی — *bátní*, perception. حس مشترک — *mushtarik*, common sense.

حساب hisáb, A. n. m. Computation ; accounts ; calculation ; arithmetic ; reckoning ; estimation. حساب پاک کرنا —pák karná, v. to clear accounts. حساب دان —dán, n. m. an arithmetician ; accountant. حساب بے بیباکی کرنا —bebaq karná, to adjust an account. حساب جانچنا —jáchná, to audit accounts. حساب جوڑنا —jorjóná, to add up an account. حساب کتاب —kitáb, n. m. accounts ; book-keeping. حساب کتاب میں رہنا —kitáb men rahná, to live within one's income. حساب کے رو سے —ke rú se, as per account. حساب لگانا —lagáná, to make a calculation ; to form a league with. حساب میں فرق آنا —men farq áná, a deficit or defalcation to take place. حساب کرنا —karná, v. to calculate. حساب لینا —lená, v. to take an account. اپنے حساب میں —apne —men, adv. in my view ; to my thinking ; as far as I am concerned. حساب رسدی —i-rasadí, rateably ; *pro rata*. [n. m. an accountant.

حسابی hisabí, A. adj. Belonging to accounts ; Hassás hassás, A. adj. Possessed of the five senses ; an animal.

حسام busám, A. n. f. A sharp sword.

حسان hussán, A. adj. Most comely or beautiful ; very good.

حساب hasab, } A. n. m. Pedigree ;
حساب و نسب hesab-o nasab, } lineage ; nobility ;
computation ; quantity ; value ; way ; religion.

حسب hasb, A. adv. Agreeably to ; conformably to ; according to ; in conformity with ; reflecting upon ; considering. حسب الارشاد یا حسب الحكم —ul-irsbád yá—ul-bukm, agreeably to the order. حسب اتفاق —i-ittifáq, by chance. حسب اطمینان —i-itminán, to the satisfaction of. حسب الامکان —ul-imkán, as far as possible. حسب حال —i-hal, agreeably to circumstances ; as exigency may require. حسب دلخواہ —i dil-khwah, agreeably to one's desire. حسب ذیل —zail, as follows ; as under. حسب ضابطہ —zabitá, according to rule or practice ; formally ; duly. حسب قانون —qánún, legally. حسب معمول —ma'múl, according to custom ; as usual. حسب موقع —mauqá', as the case may demand.

حسد hasad, A. n. f. Envy ; jealousy ; emulation ; malice.

حسرت hasrat, A. n. f. Regret ; grief. حسرت زدہ —zada, adj. afflicted ; woe-begone ; struck with regret. حسرت کشتہ —kushta, killed with grief.

حسن husn, A. n. m. Beauty ; elegance ; goodness ; comeliness ; pleasingness. حسن اتفاق —ittifáq, lucky chance. حسن اخلاق —akhláq, courtesy ; politeness. حسن انتظام —intizám, good discipline, management or administration. حسن تدبیر —tadbir, sound policy. حسن خلق —khlúq, good disposition. حسن زن —i-zan, a good opinion of a person. حسن و قبح —o-qubh, merits and demerits.

حسین hasín, A. adj. Beautiful ; handsome ; comely.

حشاش ہشاش ہشاش ہشاش hashshásh bashshásh, A. adj. Joyful ; hilarious ; in good spirits.

حشر hashr, A. n. m. Resurrection ; doomsday ; tumult ; lamentation ; gathering. حشر یرپا —barpá karná, to weep and wail aloud. حشر یوم البشر —yomui —, the day of resurrection.

حشرات hashrát, A. n. m. Uproar ; tumult. حشرات الارض —ul-ara, reptiles ; insects.

حشم hasham, A. n. m. Equipage ; suite ; train. حشمت hashmat, A. n. f. State ; dignity ; equipage ; retinue.

حشو hasho, A. n. m. Stuffing a pillow, cushion or bed, &c., also whatever it may be stuffed with ; trash ; rubbish.

حشیش hashísh, A. adj. Desirous ; avaricious ; n. f. hay ; grass ; an intoxicating beverage prepared from the leaves of the hemp.

حصار hisár, A. n. m. Besieging ; an enclosure ; a fortification ; a bulwark ; a fort ; a castle ; rampart. حصار بالا —bilá—, the citadel of a fortress. [continence.

حصانات hisánat, A. n. f. Firmness ; stability ; حصر hasr, A. n. m. A siege ; blockade ; reliance ; surrounding.

حصن hisn, A. n. m. A fortress ; fort ; fortification. حصن حصین —i-hasín n. m. an impregnable fortress. The title of a book of Muslim traditions.

حصول *husúl*, A. n. m. Acquisition ; produce ; profit. حصول بالجبر—*bil-jabr*, extortion ; forcible appropriation.

حصہ *hissa*, A. n. m. (*Plu.* حصص *Hissas*) Share ; portion ; part ; division ; segment. حصہ دار—*dár*, a sharer. حصہ داری—*dárf*, a co-partnership ; sharing. حصہ رسدی—*rasadí*, proportional share ; a rate. حصہ کرنا—*karná*, v. to share ; to part ; to divide. حصہ کشی—*kashi*, distribution of shares ; a lottery.

حصیر *hasír*, A. n. m. A mat.

حاضر *buzzár*, A. n. m. (*Plu.* of حاضر *Hdzír*). Audience ; the people present.

حضرت *hazrat*, A. n. f. Presence ; dignity ; majesty ; highness ; title addressed to the great, such as your or his Majesty ; Highness, Excellency, Holiness. حضرت سلامت—*salámat*, I bow to your Highness ; greeting to your Highness. حضرت ظل سبحانی—*zil-i-subhání*, his majesty the shadow of God ; the king. حضرت عیسیٰ—*Isá*, Jesus Christ. حضرت مریم—*Mariam*, the Virgin Mary. حضرت بڑے—*baré*, a superior ; (ironical) a consummate knave or rascal.

حضور *huzúr*, A. n. m. The presence ; attendance ; your honour, the court ; the royal presence. حضور نویس—*navís*, the secretary of State. حضور والا—*walá*, the high or exalted presence. حضور پر نور—*pur núr*, his illustrious majesty.

حضوری *huzúrf*, P. n. m. An attendant courtier ; n. f. presence ; *adj.* of the court ; royal. حضوری نالیش—*nálish*, a complaint preferred direct to Government.

حظ *hazz*, A. n. m. Pleasure ; delight ; taste. حظ اُٹھانا—*uṭháná*, v. to enjoy.

حظر *hazr*, A. n. m. Forbidding ; seclusion.

حفاظت *hifázat*, A. n. f. Protection ; safety ; custody ; care ; guardianship. حفاظت کرنا—*karná*, v. to preserve ; to guard ; to defend.

حفظ *hifz*, A. *adv.* By heart ; n. m. memory ; custody ; keeping. حفظ کرنا—*karná*, v. to commit to memory. حفظ مراتب—*i-marátib*, observing etiquette ; attention to the rank, &c., of persons addressed.

حق *haqq*, A. *adj.* Justice ; right ; true ; n. m. right ; portion ; equity ; justice ; duty ; claim ; truth ; God. حق آسائش—*ásáish*, easement. حق ادا کرنا—*adá karná*, v. to render one his due. حق السعی—*ul-sa'í*, the wages of labour ; recompense of trouble. حق پسند—*pasand*, *adj.* honest ; truth loving ; equitable. حق تصنیف—*i-tasníf*, copyright. حق تعالیٰ—*t'álá*, God who is the Most High ; the Almighty. حق حین—*i-hín hayátí*, a life-interest. حق دار—*dár*, rightful (owner). حق دبانہ—*dabáná*, to usurp a right. حق تافہی—*talfí*, violation of right ; depriving one of his right ; perversion of justice. حق رائے دہندگی—*rai dehandgi*, suffrage. حق رسی—*rasi*, justice ; redress ; relief ; remedy ; deliverance from wrong. حق شفعہ—*i-shufa'*, right of pre-emption. حق شناس—*shinás*, *adj.* grateful ; rendering to every one his due. حق گوئی—*go'í*, truth-speaking. حق موجد—*mujid*, royalties. حق ناحق—*náhaqq*, right or wrong. حق نامیں—*náshinás*, men, with respect to. حق ناشناس—*náshinás*, ungrateful ; undutiful. حق جل و جلال—*i-jal-o-jalál*, the Deity in all his splendour. حق العبد—*ul-'abd*, the rights of a slave. حق ورثہ—*i-wirsa*, the right of inheritance. حق مارنا—*márná*, to deprive one of his right. حق مالکانہ—*i-málikána*, proprietary right. حق مرجمہ—*murawwaja*, customary due. دردہ کا حق—*dúdh ká*, rights of a mother. جان بحق ہونا—*ján ba*—*honá*, to die.

حقا *haqqá*, A. *adv.* By God ; truly.

حقارت *híqárat*, A. n. f. Contempt ; scorn. حقارت کرنا—*karná*, v. to hate ; to despise. حقارت کی نظر سے دیکھنا—*kí nazar se dekhná*, v. to look down upon.

اے ذوق کسکو چشم حقارت سے دیکھئے

سب ہم سے ہیں زیادہ کوئی ہم سے کم نہیں

(ذوق)

At Zauq ! kis ko chashm-i-híqárat se dekhye !

Sab ham se haiñ ziyádah, koi ham se kam nahín.

O Zauq ! whom can you e'er look down upon !

All are above you, less than you no one.

حَقْلَه huqqa, A. n. m. A syringe ; a clyster ; enema.

حَقْرُق huqúq, A. n. m. (*Plu. of حق Haqq*) Rights ; dues ; privileges. حَقْرُق زَوْجِيَتِ—i-zaujiyat, conjugal rights. حَقْرُق شَوْهَرِي—i-shauharí, n. m. marital rights.

حَقْقَه huqqa, A. n. m. The pipe in which tobacco is smoked. بَاز حَقْقَه—báz, a great smoker of the huqqa. حَقْقَه پَانِي بَنْد كَرْنَا—pání band karna, v. to excommunicate from one's caste.

حَقِيَقَتِ haqiyat, A. n. f. Ownership ; interest ; holding.

حَقِيْر haqír, A. adj. Contemptible ; despicable ; abject ; vile ; base ; mean ; thin. حَقِيْر جَانْنَا—jánná, v. to despise ; to condemn.

حَقِيَقَاتِ haqíqat, A. n. f. Truth ; fact ; reality ; gist. حَقِيَقَاتِ نَمَة—náma, a written statement of facts or particulars.

حَقِيَقَاتَانِ haqíqatán, A. adv. In truth ; really.

حَقِيَقِي haqíqí, A. adj. True ; real ; actual. حَقِيَقِي رَشْتَه—bhái, a full brother ; own brother. حَقِيَقِي رِشْتَه—i-rishta-i, a relation of the full-blood.

حَك hak, A. n. m. Scratching out. حَكَاكِ hakkák, a cutter and polisher of precious stone.

حَكَاكِ hukká, A. n. m. (*Plu. of حَاكِم Hakim*). Authorities ; officers ; rulers ; governors. حَكَاكِ بَالَا دَسْتِ—i-bála dast, superior officers or authorities. حَكَاكِ مَاتَحْتِ يَا تَابَعِ—i-mátahat yá tabe, subordinate officers.

حَكَايَتِ hikáyat, A. n. f. A story ; tale ; narration ; history ; romance. حَكَايَتِ كَرْنَا—karná, to relate.

حَكْم hukm, A. n. m. Order ; command ; sentence ; judgment ; judicial decision ; rule ; control ; decree ; permission ; ordinance ; a statute ; law ; sanction. حَكْم اِمْتِنَاعِي—i-imtina'í n. injunction. حَكْم اَنْدَازِ—i-andáz, a good marksman. حَكْم اَخِرِ—i-akhir, a final order or judgment. حَكْم اِلْتِنَازِ—i-ula'íná, to countermand or order. حَكْم بَجَا لَانَا—i-bajá laná, v. to execute or carry out an order. حَكْم بَرْدَارِ—i-bardar, obedient. حَكْم پَر مَوْقُوفِ—i-par mauqúf, pending the orders of. حَكْم تَوْرَنَا—i-to'rná, to infringe or violate an order. حَكْم دِيْنَا—i-dená,

v. to give or pass an order ; to order ; to sentence. حَكْم رَانِي—i-rání, n. f. rule ; sovereignty. حَكْم ضَبْطِي—i-zabtí, order of resumption or forfeiture. حَكْم قَطْعِي—i-qat'ái, a final order ; an explicit command. حَكْم مُتَفَرِّقَه—i-mutafarriqa, a miscellaneous order. حَكْم مَوْقُوفِي—i-mauqúfí, order of dismissal. حَكْم نَاطِقِ—i-nátíq, a peremptory order. حَكْم جَوِ—i-jo, your servant to command. حَكْم كَرْنَا—i-karná, v. to order ; to command. حَكْم نَامَة—i-náma, n. m. written order.

حِكْمَتِ hikmat, A. n. f. Knowledge ; mystery ; cleverness ; skill ; contrivance ; wisdom ; philosophy ; the function of a physician. حِكْمَتِ كَرْنَا—i-karná, v. to practise physic or surgery ; to exercise wisdom or skill ; to plot. حِكْمَتِ اِعْمَالِي—i-'amalí, diplomacy, practical skill ; judicial management ; *savoir faire*.

حِكْمَاتِي hikmatí, A. adj. Ingenious ; clever ; wise ; skilful ; artful.

حِكْمِي hukmí, A. adj. Imperative ; infallible ; obedient ; dutiful. حِكْمِي بَنْدَة—i-bandá, n. m. An obedient slave.

حُكُومَتِ hukúmat, A. n. f. Government ; sway ; authority ; jurisdiction ; power ; rule. حُكُومَتِ جَتَانَا—i-jatáná, v. to show off one's authority. حُكُومَتِ كَرْنَا—i-karná, v. to exercise authority ; to govern ; to rule. حُكُومَتِ شَخْصِي—i-shakhsí, despotic government. حُكُومَتِ جَمْعُورِي—i-jambúrí, a republic ; democracy.

حَكِيْمِ hakim, A. n. m. A philosopher ; a physician ; a sage ; a doctor. حَكِيْمِ نَيْمِ—i-ným, n. m. an inexperienced doctor or a quack.

حَكِيْمِي hakímí, A. n. f. The practice of medicine ; relating to man of wisdom.

حَل hal, A. n. m. Solution ; grinding ; untying ; analysis. حَل كَرْنَا—i-karná, v. to solve ; to liquefy ; to discuss ; to dilute. حَل هُونَا—i-honá, v. to be solved ; to be overcome (as difficulties). حَل لَاحِلِ—i-lá, adj. insoluble ; inexplicable.

حَلَجِ hallaj, A. n. m. A comber ; a carder of cotton.

حلال *halál*, A. *adj.* Legal ; lawful ; allowable ; having religious sanction ; killed as prescribed by law ; a woman who till the expiration of 100 days after the death of her husband is not by law allowed to marry. حلال خور —*khór*, *n. m.* a sweeper ; one who eats what is lawful ; one whose earnings are legitimate. حلال كا —*ká*, legitimate. حلال كرنا —*karná*, *v.* to kill ; to slaughter. [ness ; sweetness.

حلاوت *haláwat*, A. *n. f.* Taste ; relish ; delicious. حلاف *halaf*, A. *n. m.* An oath ; swearing by anything sacred. حلاف اٿهانا —*uṭháná*, *v.* to swear. حلاف دروغى —*darogí*, false swearing ; perjury. حلاف دينيا —*dená*, to administer an oath. حلاف سے —*se izhár dená*, to depose on oath. حلافيا *halfan*, on oath. حلاف نامہ —*náma*, *n. m.* a declaration upon oath ; an affidavit.

حلق *halaq*, A. *n. m.* The windpipe ; the throat. حلق بند كرنا —*band karná*, to make one hold his tongue.

حلقہ *halqa*, A. *n. m.* Circle ; a ring ; a loop ; a hoop of button-hole ; an assembly ; circuit of a village. حلقہ باندھنا —*báḡdhná*, to form a circle. حلقہ بگوش —*bagosh*, a slave ; a servant. حلقہ بندي —*bandí*, arrangement of villages in circles or groups (for village accountants, schools, etc.)

حلقى *halqí*, A. *adj.* Guttural.

حلم *hilm*, A. *n. m.* Mildness ; clemency ; gentleness ; calmness.

حلاوا *halwá*, A. *n. m.* A kind of sweetmeat made of flour, *ghi* and sugar. حلاوا سوھن —*sohan*, *n. m.* a kind of sweetmeat. حلاوا نڪالنا —*nikálná*, *v.* to beat severely.

حلاوان *halwán*, A. *n. m.* A kid ; a lamb.

حلاوائى *halwái*, A. *n. m.* A confectioner ; one who makes sweetmeat.

حليم *halím*, A. *adj.* Mild ; humane ; gentle.

حايه *hul'yah*, A. *n. m.* Countenance ; features ; personal appearance.

حصار *him'ar*, A. *n. m.* A male ass ; the wild ass.

حصار *hammár*, A. *n. m.* An ass-driver.

حمات *himáqat*, A. *n. f.* Folly ; stupidity.

حامل *hammál*, A. *n. m.* A porter ; a carrier of burdens.

حمام *hammám*, A. *n. m.* A hot bath ; a bagnio ; a Turkish bath. حمام كرنا —*karná*, *v.* to bathe.

حمامى *hammámí*, A. *n. m.* A bath or bagnio-keeper ; the attendant at a bath.

حمایت *himáyat*, A. *n. f.* Protection ; support ; patronage. حمايت كرنا —*karná*, *v.* to back ; to protect ; to patronize.

حمایتي *himáyatí*, A. *n. m.* A protector ; a defender ; a partizan.

حمایل *hamáel*, A. *n. f.* A necklace of flowers ; a small Qurán suspended to the neck as an amulet ; a sword-belt hung from the shoulders. حمایل كرنا —*karná*, to sling across the shoulders (swords, etc.).

حمد *hamd*, A. *n. f.* Praise of God.

حمق *hamuq*, A. *n. m.* Folly ; stupidity ; foolishness.

حمل *hamal*, A. *n. m.* A burden ; load ; the fruit of the womb ; the young that is borne in the womb. حمل رھنا —*rahná*, to conceive ; to become pregnant.

حماہ *hamla*, A. *n. m.* Charge ; attack ; assault ; onset ; invasion. آوار حماہ —*áwar*, *n. m.* an assailant. حماہ كرنا —*karná*, *v.* to attack ; to assault.

حميت *hamiyat*, P. *n. f.* Indignation ; scorn ; zeal ; a nice sense of honour ; what one is bound to honour or defend.

حميدة *hamída*, A. *adj.* Praised ; laudable. حميدة اخلاق —*akhláq* —*ausáf*, laudable qualities ; praiseworthy manners.

حنا *hiná*, A. *n. f.* The Indian myrtle. حنا بندي —*bandí*, ceremony of sending *henna* for the bride before the wedding day among Mohammedans. [kind.

حوا *hawá*, A. *n. f.* Eve ; the mother of man. حواړى *hawá'í*, A. *n. m.* A friend ; a companion ; an apostle or disciple of Jesus Christ.

حواس *hawás*, A. *n. m.* The senses. حواس باختہ —*bákhta*, *adj.* out of one's senses ; insensible. حواس ٿهڪانه ھونا —*ṭhikáne honá*, *v.* to come to

one's senses. حواس خمسہ—i-khamsa, the five senses. حواسی بد bad hawásí, distraction ; craze ; insensibility. [rooms ; magazines. حواسل hawásil, A. n. f. A pelican ; store.—حواسل hawálát, A. n. f. A lock up. کربا —karná, v. to put in custody.

حوالہ hawála, A. n. m. Reference ; allusion ; charge ; custody ; consignment. حوالہ دینا —dená, v. to make a reference ; to quote an authority. کربا —karná, v. to make over ; to surrender ; to consign. دار حوالہ دار hawáladár, a steward or agent employed for the management of a village. حوالگی مجرمان ملک غیر hawalgi mujrimán mulk gair, extradition.

حوالی hawálí, A. n. f. Environs ; suburbs.

حوت hút, A. n. f. Fish ; the constellation of Pisces.

حور húr, A. n. f. A virgin of paradise ; a celestial bride promised by Mohamed to all good Musalmans in the next world.

حوصاء hausila, A. n. m. Capacity ; ambition ; desire ; spirit. حوصاء مند—mand, ambitious ; aspiring. حوصاء نیکالنا —nikálná, v. to satisfy one's ambition ; to do one's best. عالی حوصاء —'alí, adj. high-minded ; aspiring.

حوض hauz, A. n. m. A reservoir ; a cistern ; a vat ; a fountain.

حوالداری havaldár, P. n. m. A native military officer of inferior rank ; a head constable.

حوالی havelí, A. n. m. A house ; a mansion ; dwelling.

حایی haiy, A. adj. Having life ; living ; alive. حایی قیوم —qaiyum, eternal ; immortal ; imperishable. حایی القایم وراثا —ul qáim wursá, the surviving heirs.

حیا hayá, A. n. f. Modesty ; shame. حیا دار —dár, adv. modest. بے حیا —be, adj. immodest ; impudent. بیحیائی be hayái, n. f. shamelessness.

حیات hayát, A. n. f. Life ; existence. حیات تازه —i-táza, a new life (used to express recovery from severe illness) ; the pleasure derived from meeting with a friend. حیات مستعار —e-musta'ár, a contingent life (depending on the

will of God.) قابض تاحیات شخص دیگر qábiz tá hayát shaḥs dígar, a tenant pourdie. حیات سیات hín—, adj. during one's life. n. f. lifetime. حیاتی hayátí, for life. پٹہ حیاتی hayátí paṭṭa, lease for life ; life-rent.

لائی حیات آئے - قضا لے چلی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

(ذوق)

Lái hayát áye, qazá le chali chale,

Apní ḡhushí ná áye, ná apní ḡhushí chale.

With birth I came, with death I went,

My will nor brought me nor out sent.

حیثیت haisiyat, A. n. f. Capacity ; ability ; means ; condition of life ; appearance. حیثیت خراب کرنا —ḡharáb karná, v. to deface. حیثیت ذاتی —zátí, individual capacity. حیثیت رکھنا —rakhná, v. to have capacity ; to have means. حیثیت عرفی —'urfí, reputation ; character.

حیران hairán, A. adj. Confounded ; perplexed ; worried. حیران کرنا —karná, v. to confound ; to worry. حیران و سرگردان —o-sargardán, wandering about in distracted or bewildered state of mind.

حیرانی hairání, A. n. f. Confusion ; distress ; distraction.

حیرت hairat, A. n. f. Astonishment ; wonder. حیرت افزا —afzá, adj. astonishing. حیرت زدہ —záda, adj. thunderstruck ; aghast ; amazed.

حیص بیص hais bais, A. n. f. Confusion ; dilemma ; perplexity ; difficulty ; hesitation ; suspense.

حیف haif, A. intj. Ah ! Alas !

حیاء hilaḥ, A. n. m. Stratagem ; fraud ; artifice ; excuse ; subterfuge. حیا ساز یا حیا ساز —báz yá —sáz, adj. fraudulent ; deceitful. حیلہ حوالہ —hawála, n. m. chicanery. حیلہ کرنا یا حیلہ حوالہ —karná yá—hawála karná, v. to feign ; to practise deceit ; to represent falsely ; to pretend.

حیاتی hilatav, A. adv. Fraudulently ; artfully ; deceitfully.

حین hín, A. n. m. Time ; space ; interval of time. (used in comp.) as, حین حیات —hayát, n. f. lifetime.

حیران *haiwán*, A. *n. f.* An animal; a beast; a brute; (*fig.*) a stupid fellow; a blockhead. حیوان مطلق—*i-mutlaq*, an absolute animal; a beast. حیوان ناطق—*i-nátiq*, a rational animal; a man.

حیوانی *haiwání*, A. *adj.* Brutal; bestial. حیوانی عقل—*'áql*—, animal instinct.

حیوانیت *haiwáníyat*, A. *n. f.* Brutality; beastliness.

(خ)

خ *khe*, also called *kḥáe manqúta* or *mu'ajma*. It has no corresponding sound in the English language, but is expressed by *k* dotted and followed by *h* or *kh*. Numerically in *abjad* it denotes 600.

خاتم *kḥátim*, A. *n. f.* A ring worn on the fingers; a seal; end; finish.

خاتمه *kḥátima*, A. *n. m.* Conclusion. خاتمه بالتعیر—*bilkḥair*, a happy end; epilogue; end; finish.

خاتون *kḥátún*, T. *n. f.* A lady; a matron. جنت—*i-jannat*, the queen of heaven (the title given to Fátima, the daughter of Muhammad).

خادم *kḥádim*, A. *n. m.* A servant; an attendant. خادم الطالبی—*ul-tulabá*, a public teacher; a professor (of college). خادم درگاه—*i-dargáh*, a servant who takes care of mosque or tomb.

خادمة *kḥádíma*, A. *n. f.* A female servant.

خار *kḥár*, P. *n. m.* A thorn; bramble; a cock's spur. خار آنكهوں کا—*ánkḥoñ ka*—, anything disagreeable to the sight; an eyesore. خار—*pusht*, *n. m.* a hedgehog. خاردار—*dár*, *adj.* thorny. خار كهانا—*kḥaná*, *v.* to feel jealous or envious. خار و خس—*o-khas*, *n. m.* sweepings. خار هونا—*honá*, to be a thorn in the side.

خارا *kḥará*, P. *n. m.* A hard stone; a flint. خارا سنگ—*sang*, *n. m.* granite; a kind of marble.

خارج *kḥarij*, A. *adj.* Excluded; rejected; out-cast; external. خارج از اختیار—*az-ikhtiyar*, *ultra vires*. خارج از استعمال—*az isti'amál*, out

of use. خارج از عقل—*az 'aql*, senseless; foolish. خارج قسمت—*qismat*, *n. f.* the quotient. خارج کرنا—*karná*, to exclude; to cast off. خارج هونا—*honá*, *v.* to be excluded; to cease.

خارجاً *kḥárijan*, A. *adv.* Externally; outwardly; according to rumour.

خارجة *kḥárja*, A. *n. m.* What is excluded or excepted. زاوية خارجة *záviya*—, external angle.

خارجی *kḥárijí*, A. *n. m.* A schismatic; an outsider; an outcast; *adj.* extraneous; excluded; *n.* a sect of Muhammadans.

خارش *kḥárish*, } P. *n. f.* The itch; the
خارشت *kḥárisht*, } mange; scab.

خارشتی *kḥárishtí*, P. *adj.* Itchy; mangy; scabby.

خاص *kḥás*, A. *adj.* Particularly; special; private; chief; appropriate; proper; specific; personal; own. خاص بردار—*bardár*, *n. m.* an attendant carrying the arms of his lord. خاص خواص—*kḥawás*, a royal female servant. خاصدان—*dán*, *n. m.* betel dish with cover. خاصگر—*kar*, *adj.* especially. خاص لوگ—*log*, persons of distinction; chiefs; ministers. خاص خاص و عام—*mahal*, private apartment. خاص و عام—*o-ám*, the public; noble and plebeian.

خاصة *kḥása*, A. *adj.* Noble; good; fair; excellent; personal; *n. m.* peculiar nature; disposition; the dainty food of great men; fine muslin. خاصة چننا—*chunná*, to lay dinner on the table.

خاصیت *kḥásiyat*, A. *n. f.* Quality; peculiarity; attribute; inherent property; private property.

خاطر *kḥátir*, A. *n. f.* The heart; will; mind; sake; regard; respect; favour; behalf. از ردة خاطر *ázurda*—melancholy; dejected. آشفتة خاطر *áshufta*—, distressed; agitated. جمع—*jama'*, *n. f.* satisfaction; assurance. خاطر خوراة—*kḥwáh*, *adv.* to one's satisfaction. خاطر داری *dári*, *n. f.* warm reception; hospitality; entertainment. خاطر داری کرنا—*dári karná*, *v.* to receive with hospitality. خاطر کرنا—*karná*, *v.* to pay attention; to please; to fondle; to comfort; to entertain;

to be partial to. خاطر میں نہ لانا—*men na láná*, *v.* not to regard or care for; to slight. خاطر پریشان *pareshán*—, troubled in mind; disturbed. خاطر پسند—*pasand*, pleasing to the mind. [favour.

خاطراً *khátiran*, *A. adv.* For one's sake; as a
خاتقان *kháqán*, *T. n. m.* An emperor.

خاقانی *kháqáni*, *A. P. adj.* Royal; imperial; *n.* name of a celebrated poet of Persia.

خاک *khák*, *P. n. m.* Dust; earth; ashes. خاک اڑاتے پھرنا—*uráte phirná*, to wander idly about. خاک اڑنا—*urná*, *v.* to blow (dust, dust-storm); to be disgraced. خاکبازی—*bázi*, playing with dust. خاک پھانکنا—*phápná*, *v.* to wander about (in the sense). تو کام کیا خاک تو کام کیا خاک *kám kyá khak hotá hogá*, what precious little work will be doing. خاک جانتا—*jántá háí*, (he knows nothing whatever); precious little; nothing whatever; none at all. خاک چھاننا—*chháná*, *v.* to labour or exert in fruitless search; to go through fruitless toil. خاک ڈالنا—*dálná*, *v.* to throw dust on one; to conceal such things from the disclosure of which disgrace may be expected. خاکروب—*rob*, *n. m.* a sweeper. خاکسار—*sár*, *adj.* humble. خاکساری—*sári*, *n. f.* humility. خاک سر پر اڑانا—*sar par urána*, *v.* to lament. خاک کرنا—*karná*, *v.* to reduce to ashes; to waste. خاک میں ملانا—*men miláná*, *v.* to demolish; to destroy. خاک میں ملنا—*men milná*, *v.* to be ruined; to die.

خاکساری سے نہیں بہتر جہاں میں منعمی
صل گئی جسکو یہ دولت کیصیا کر ہو گیا
(اسیر)۔

Kháksári se nahín bibtar jahán men mun'amí,
Mil gaí jisko yih daulat kimiyágar ho gayá.
Humility is the most precious of all the virtues, and the possessor of this treasure resembles an alchemist in that he can turn the most grievous misfortunes (corresponding to base metals) into joys (gold).

خاکہ *kháka*, *P. n. m.* An outline; a sketch; a draft; a caricature. خاکہ اُتارنا—*utárná*, *v.* to trace. خاکہ اُڑانا—*urána*, to make jest of; to

ridicule; to give a bad name to. خاکہ بنانا—*banáná*, to make a plan or sketch; to make a model of.

خاکناے *kháknáe*, *P. n. f.* An isthmus.

خاکی *kháki*, *P. adj.* Dusty; earthy; earthly; terrestrial; dust-coloured. خاکی اُندا—*andá*, an addled egg. [omelet; a pancake.

خاگینہ *khágína*, *P. n. m.* Fried eggs; an
خال *khál*, *A. n. m.* A mole on the face. خال خال—*khál*, *adv.* very few; rarely.

خالہ *khála*, *A. n. f.* Mother's sister; maternal aunt. خالہ زاد بھائی—*zád bhái*, *n. m.* cousin. خالہ جی کا گھر—*ji ká ghar*, the house of one's aunt; (*Met.*) a place of rest and security.

خالص *khális*, *A. adj.* Pure; genuine; real; sincere (friend).

خالصہ *khálisha*, *A. adj.* Pure; *n. m.* land under the management of Government; revenue paying lands. (In the Punjab) a term for the Sikhs who profess a pure Hinduism.

خالق *kháliq*, *A. n. m.* The Creator; God.

خالو *khálu*, *A. n. m.* Husband of mother's sister; maternal uncle.

خالی *kháli*, *A. adj.* Empty; vacant; unoccupied; mere; only; pure; without effect; blank; unemployed. خالی کرنا—*karná*, *v.* to empty; to vacate. خالی ہاتھ—*háth*, *adj.* penniless; unarmed; at leisure; empty-handed.

خام *khám*, *P. adj.* Raw; unripe; immature; inexperienced; not solid; imperfect. خام آمدنی—*ámání*, gross receipts. خام چٹھا—*chitthá*, a rough statement or account. خام طبع—*tabá*, foolish; dull. خام خیالی—*khiyáli*, *n. f.* vain imaginations.

خاموش *khámosh*, *P. adj.* Silent.

خاموشی *khámoshi*, *P. n. f.* Silence.

خامہ *kháma*, *P. n. m.* A pen; writing reed. خامہ دان—*dán*, a pencease.

خامی *khámí*, *P. n. f.* Rawsness; immaturity; defect; inexperience; imperfection.

خان *khán*, *P. n. f.* Lord; a title used by Pathans. خانخانان—*khánkhánán*, a prime minister.

خان بهادر *khán bahádur*, P. *n. m.* A title of honour.

خانان *khándán*, P. *n. m.* Family; lineage; dynasty. *خانان مشترک*—*mushtarka*, joint family.

خانانہ *khándání*, P. *adj.* Hereditary; ancestral; of good birth.

خان سالار *khán sálár*, P. *n. m.* A taster of provisions to king. [a butler.

خانسامان *khánsámán*, P. *n. m.* A house steward;

خانقاہ *khánqáh*, A. *n. m.* A monastery; an abbey.

خانگی *khángi*, P. *adj.* Domestic; private.

خانم *khánam*, P. *n. f.* Wife of a *khan*; a lady; a woman of rank.

خانمان *khánmán*, P. *n. m.* Household furniture; house; family. *خانمان خراب*—*kharáb*, isolated; desolated; ruined.

خانوادہ *khánwádah*, P. *n. m.* Family; race; the mistress of a family.

خانہ *khána*, P. *n. m.* A house; dwelling; a drawer; a compartment; a column. *خانہ آباد*—*ábád*, *adj.* prosperous. *خانہ بدوش*—*badosh*, *adj.* nomadic; *n. m.* a vagabond; a vagrant, a gypsy; a sojourner. *خانہ برانداز*—*barandáz*, a prodigal. *خانہ بربادی*—*barbádi*, *n. f.* destruction of a house or family. *خانہ برداری*—*pardázi*, domestic management. *خانہ تلاشی*—*taláshí*, *n. f.* the act of searching a house; a house; search. *خانہ جنگی*—*jangi*, *n. f.* civil war; duel; domestic or family quarrels.

خانہ خدا—*i-khudá*, the temple of God. *خانہ خرابی*—*kharábí*, *n. f.* ruination. *خانہ داری*—*dári*, *n. f.* house-keeping. *خانہ زاد*—*zád*, the child of a slave. *خانہ سیاست*—*syásat*, *n. m.* house of correction; reformatory. *خانہ ساز*—*sáz*, *adj.* home-made. *خانہ شماری*—*shumári*, *n. f.* a census. *خانہ نشین*—*nashín*, *n. m.* retired. *خانہ صاحب* *sáhib-i-*, *n. m.* the owner or master of a house; wife; (*used at last member of comp.*) as; *خانہ کتب* *kutb*—, library.

خانہ خوار *kháwar*, P. *n. m.* The east. *خسر و خوار*—*khusravé*, the monarch of the east; (*Met.*) The sun.

خانہ خوارند *kháwind*, P. *n. m.* Lord; husband. *خانہ کرنا*—*karná*, *v.* to get a husband.

خانہ خاوندی *kháwindí*, P. *n. f.* Dominion; master-ship; kindness; patronage. [ened.

خانہ خائف *kháif*, A. *adj.* Afraid; fearful; fright-
خانہ خباثت *khábásat*, A. *n. f.* Wickedness; depravity; corruptness.

خانہ خبر *khábar*, A. *n. f.* Knowledge; informa-
tion; intelligence; report; announcement;
tidings; fame; notice; care; inquiry of
one's health or circumstances. *بسنٹ کی خبر*—*basant ki—púnchhná*, to be extremely ignorant or negligent. *پہر نہ چنانا*—*pahún-*

chána, *v.* to give information; to send word.

خانہ دار—*dár*; *adj.* watchful; careful; cau-
tious; on one's guard. *خانہ خیردار کرنا*—*karná*, *v.* to forewarn; to caution. *خانہ ہونا*—*honá*, *v.* to be on one's guard. *خانہ برداری*—*dári*, *n. f.*

taking care; care; guard; guardianship.
خانہ برداری کرنا—*dári karná*, *v.* to take care. *خانہ*

دھندہ—*dihanda*, *n. m.* an informer. *خانہ کرنا*—*karná yá déná*, *v.* to inform; to acquaint. *خانہ رساں*—*rasán*, *n. m.* a messenger.

خانہ گبر—*gír*, *n. m.* an informer; a spy; a protector; a patron. *خانہ گیراں*—*gírán*, *n. m.* a guardian. *خانہ گیری*—*gírí*, *n. f.* inform-

ing; care; support. *خانہ گیری کرنا*—*giri karna*, *v.* to look after; to support. *خانہ لگانا*—*lagáná*, *v.* to search. *خانہ لینا*—*lená*, *v.* to take care of; to enquire; to seek for a trace; to support. *خانہ ہونا*—*honá*, *v.* to be informed.

خانہ بے خبر—*be*, *adj.* regardless; ignorant; senseless.

خانہ خبرت *khábrat*, A. *n. f.* Wisdom; learning; ex-
perience; trial; proof.

خانہ خبط *khábt*, A. *n. m.* Foolishness; insanity; mania; making a mistake. *خانہ ہو جانا*—*ho jáná*, *v.* to be crazed. *خانہ خبطی* *khábtí*, A. *adj.* crazy; insane; mad.

خانہ خبیث *khábís*, A. *n. m.* Bad; corrupt; foul; filthy; *n.* an unclean spirit; a miser; a wretch.

خانہ خٹکا *khutká*, H. *खुत्का*, *n. m.* A stick; a club; a bludgeon; a thumb.

خانہ ختم *khátm*, A. *n. m.* Conclusion; end. *خانہ کرنا*—*karná*, *v.* to conclude; to complete; to finish.

خدا کھاتا, A. n. m. Circumcision.
 خجالت khijálat, A. n. f. Shame.
 خجستہ khajista, P. *adj.* Happy ; fortunate ; auspicious ; blest.
 خجیل khajil, A. *adj.* Ashamed ; bashful ; modest.
 خچر khachechar, H. n. m. A mule. خچر بان — bán, a mule-driver.
 خدا Khudá, P. n. m. God ; lord ; the Supreme Being ; master ; ruler. خدا پرست — parast, *adj.* worshipping God ; pious. خدا ترس — tars, *adj.* God-fearing ; merciful. خدا حافظ — háfiz, God keep you ! Adieu ! Farewell. خدا کر کے — Khudá karke, after much prayer. خدا داد — 'ád, given of God ; natural. خدا پرنا — dikháí parná, to think of God in danger or trouble. خدا کا گھر — ká ghar, heaven ; a palace of worship ; church. خدا شناسی — shinási, n. f. knowledge of God. خدا سے گھرنا — ke ghar se phirná, to recover from a dangerous illness. خدا کی پناہ — kí panáh, God preserve me. خدا نخواستہ — nakhwásta, God forbid.
 خداوند khudáwand, P. n. m. Master ; lord ; your worship. خداوند نامت — i-ne'amat, a form of address to superiors.
 خدائی khudái, P. n. f. The Godhead ; divinity ; the world. خدائی رات — ráf, singing hymns and watching all night ; a religious feast kept by women (*rat-jagd*).
 خدایا khudáyá, *inj.* O God ! [God.
 خدایتعالی khudá-i-ta'álá, A. n. m. Most High
 خدشہ khadsha, A. n. m. Danger ; fear ; doubt ; anxiety ; alarm. خدشہ میں ڈالنا — men dálná, v. throw into a state of anxiety.
 خدم khadam, A. (*Plu. of Khádím.*) Servants ; domestics ; attendants.
 خدمت khidmat, A. n. f. Service ; duty ; employment ; attendance ; function. خدمت کرنا — karná, v. to serve ; to attend. خدمتگار — gár, n. m. a servant ; attendant ; a table servant ; a butler. خدمتگاری — gári, n. f. service ; attendance. خدمتگداری — guzári, n. f. service. خدمات ملک — i-mulk, the public service. خدمات منصبی khidmát-i-mansabi, the duties of a post.

خداگند khadang, P. n. m. An arrow ; the white poplar, a tree from which arrows are usually made.
 خدیو khadiv, P. n. m. A great prince ; a king ; a sovereign ; the Khedive (as of Egypt).
 خر khār, P. n. m. An ass. خراب تشدید — bátashdíd, doubly or very emphatically an ass ; very stupid. خر دماغ — dimág, *adj.* proud ; peevish ; stupid ; perverse.
 خراب kharáb, A. *adj.* Ruined ; spoiled ; bad ; poor ; wretched ; unchaste ; defiled ; corrupt ; obscene. خراب حال یا خستہ حال — hál ya khasta —, *adj.* ruined ; broken down circumstances. خراب کرنا — karná, v. to waste ; to spoil ; to deprave ; to pollute ; to lay waste.
 خرابات kharábát, A. n. f. A tavern ; ruins, desolate places.
 خرابہ kharába, A. n. m. Devastation ; ruin.
 خرابی kharábí, A. n. f. Badness ; depravity ; difficulty ; perplexity ; misery. خرابی میں ڈالنا — men dálná, v. to put one in difficulties.
 خراپا kharráfa, खराप, H. n. m. Snoring. خراپا مارنا — márná, v. to snore.
 خراج khiráj, A. n. m. Tribute ; tax ; duty ; revenue. خراج گزار — guzár, n. m. a tributary. خراج لگانا — lagáná, v. to tax ; to assess.
 خراجی khirájí, P. *adj.* Subject to taxation ; tributary ; revenue paying.
 خراد kharád, P. n. m. A lathe. خراہ پر چڑھنا — par charhná, to be put on the lathe ; to be polished by intercourse with refined society.
 خراسانی khurásání, P. *adj.* Belonging to the country of Khurásán ; native of Khurásán. خراسانی اجوائین — ajwáin, black henbane.
 خراش kharásh, P. n. f. Scratching ; scraping.
 خراشات khuráfát, A. n. f. Talking nonsense. خراشات بکنا — bakná, v. to talk nonsense ; to use abusive or obscene language.
 خرافت kharáfa, P. n. f. Fable ; romance ; ludicrous saying ; nonsense.
 خرام khirám, P. n. f. Pace ; gait ; walk ; march. خرامان خرامان — an khirámán, *adv.* with a stately or graceful movement.

خرانت *khurrant*, खुरंत, H. *adj.* Old; experienced; crafty.

خره *khurbúza*, P. *n. m.* The musk-melon. *Cucumis melo.*

خري *khurji*, P. *n. f.* A saddle; a sack; a bag.

خر *kharch*, P. *n. m.* Expense; expenditure; disbursement; outlay; cost; debit. خرچ اٲهانا — *uṭháná yá karná*, *v.* to bear the expense; to expend; to spend; to disburse. خرچ بالائی — *bálái*, additional or extra expenses. خرچ خانگی — *khángi*, private expenses. خرچ خانگی — *khánadí*, household expenses. خرچ داری — *darí*, expenses for betel-leaf. خرچ دینا — *dená*, *v.* to advance money for expenses. خرچ روز مره — *i-roz-marra*, current expenses. خرچ متفرقات — *mutfarriqát*, *n. m.* contingencies. خرچ هونا — *honá*, *v.* to be expended or spent.

خراچ *kharrách*, } P. *adj.* Extravagant;
خرچو *kharchú*, } prodigal.

خرچنا *kharchná*, खर्चना H. *v.* To use; to expend; to spend. [of herb.]

خرچنگ *kharchang*, P. *n. m.* A crab; a kind

خرچه *kharcha*, A. *n. m.* Costs; expenses; costs of a law-suit. خرچ دلانا — *diláná*, *v.* to award costs. خرچه قابل وصول — *qábil-e-wasúl*, recoverable costs.

خر خر *khár khár*, P. *n. m.* Snoring; pursuing. خر کرنا — *khár karná*, *v.* to snore.

خرخرا *khár khará*, P. *n. m.* Snoring. خرخرانی — *ne kí áwáz*, the croup. [dispute.]

خرخشا *kharkhasha*, P. *n. m.* Quarrelling; riot;

خرد *khírad*, P. *n. f.* Wisdom; intelligence. خردمند — *mand*, *adj.* wise; intelligent. خردمندی — *mandí*, wisdom; sagacity; intelligence.

خرد *khurd*, P. *adj.* Small; little; young. خرد بین — *bin*, *n. f.* a microscope. خرد سال — *sál*, *adj.* young; of tender years.

خردل *khardal*, A. *n. m.* Mustard seed; mustard.

خرده *khurda*, P. *n. m.* A fragment; pedlar's small wares. خرده فروش — *farosh*, *n. m.* a retail dealer; a huckster. خرده کرنا — *karná*, *v.* to change (a rupee, &c.); to sell off.

خردی *khurdí*, P. *n. f.* Littleness; minority.

خریدی *khurdiya*, खुरदिया, H. *n. m.* A money changer.

خرس *khirs*, P. *n. m.* A bear. [happy; glad.]

خرسند *khursand*, P. *adj.* Pleased; satisfied;

خرسنگ *kharsang*, P. *n. m.* Rival; a large stone.

خرطوم *khurtúm*, A. *n. m.* The proboscis of an elephant; a snout.

خره *khurfa*, P. *n. m.* Gathered or plucked fruits; that which is plucked from a tree.

خره *khurfa*, A. *n. m.* Purloin.

خره *khírqa*, A. *n. m.* A religious habit; a garment of patches. خرته پوش — *posh*, a mendicant; a devotee.

خرگاه *khargáh*, P. *n. f.* A tent; pavilion; tabernacle.

خرگوش *khargosh*, P. *n. m.* A hare; a rabbit.

خرم *khurram*, P. *adj.* Cheerful; gay; happy; pleased.

خرما *khurma*, P. *n. m.* A date.

خرمن *khirman*, P. *n. m.* Harvest; produce. خرمنگاه — *gáh*, threshing floor.

خرموش *kharmúsh*, P. *n. m.* A kind of large rat.

خرمهره *kharmohra*, P. *n. m.* The small shell called *kouri* used as coin. [joy; mirth.]

خرمی *khurramí*, P. *n. f.* Pleasure; delight;

خردار *kharwár*, P. *n. m.* An ass-load.

خروج *khurúj*, P. *n. m.* Issue; egress; eruption; sally. خرورج کرنا — *karná*, *v.* to sally; to issue; to go forth.

خروس *khurús*, P. *n. m.* A cock. [clamour.]

خروش *kharush*, P. *n. m.* A noise; cry; tumult;

خروش *kharosháp*, P. *adj.* Making a loud noise; resounding.

خریج *kharij*, A. *adj.* Sundry; miscellaneous,

خرید *khartíd*, P. *n. f.* Purchase; the cost price.

خرید و فروش — *o-farokht*, *n. f.* buying and selling. خرید و فروش کرنا — *o-farokht karná*, *v.* to buy and sell; to transact business. خرید کا مول — *ká mol*, *n. m.* prime cost; cost price.

خریدار *khariídár*, P. *n. m.* Purchaser; buyer. خریدار فرضی — *i-farzi*, an ostensible purchaser. خریدار نیلام — *i-nílám*, an auction-purchaser.

خریداری *khariídári*, P. *n. f.* Purchasing; buying.

خریده *kharida*, P. *adj.* Purchased; bought.

خریدنا *kharidná*, खरीदिना, H. *v.* To buy ; to purchase.

خریطه *kharita*, A. *n. m.* A purse ; a better-bag ; a hold-all.

خریف *kharif*, A. *n. f.* Autumn ; the autumnal crops. [autumnal.

خریفي *kharifi*, A. *adj.* Grown in autumn ;

خزان *kházán*, P. *n. f.* Autumn ; the fall of the leaf ; decay. خزان دیدة—*didá*, *adj.* having experienced autumn.

خرانچی *kházanchi*, A. *n. m.* A treasurer ; cashier. خزانچی گری—*gari*, *n. f.* treasureship.

خزانه *kházána*, A. *n. m.* treasury ; magazine ; granary ; treasure ; finances. خزانه امره—*i-ámirá*, the royal treasury ; the Government treasury. خزانه کا صندوق—*ká sandúq*, *n. m.* treasure chest ; cash safe.

خزف *kházaf*, P. *n. m.* Pottery ; earthen vessels ; broken shells.

خس *khas*, P. *n. m.* The sweet-scented root of *Andropogan muricatum* of which *tatties* are made. خس و خاشاک—*o-kháshák*, *n. m.* sweeping ; rubbish ; stick and straws.

خساره *khasarah*, A. *n. m.* Damages ; loss. خساره دینا—*dená*, to make good a loss ; to pay damages. خساره نقدی—*i-naqdí*, loss in ready money ; pecuniary loss.

خسانده *khisándah*, P. *n. m.* (in *Met.*) An infusion (in medicine).

خست *khi:sat*, A. *n. f.* Stinginess ; parsimony ; avarice. [crispiness.

خستگی *khashtagi*, P. *n. f.* Fatigue ; a wound ;

خسته *khasta*, P. *adj.* Wounded ; broken ; crispy. خسته حال—*hál*, *adj.* distressed ; afflicted. خسته دل—*dil*, *adj.* heart-broken ; sick at heart.

خسر *khusar*, P. *n. m.* Father-in-law.

خسرو *khusrau*, P. *n. m.* A king ; a royal surname ; name of a poet. خسروانه—*áná*, *adj.* kingly ; royal.

خسره *khasrah*, A. *n. m.* A list of the fields in a village. خسره آبادی—*ábádi*, a list of the

houses in a village with their occupants. خسره تقسیم—*taqsim*, a register of shares.

خسوف *khasúf*, A. *n. m.* An eclipse of the moon.

خسیس *khasís*, A. *adj.* Stingy ; parsimonious ; miserly ; close-fisted.

خشت *khisht*, P. *n. f.* A brick or tile.

خشتک *khishtak*, P. *n. f.* The gusset or a piece between the legs of a pair of trousers.

خشتی *khishtí*, P. *adj.* Of brick or tile.

خشخش *khashkhas*, } P. *n. m.* Poppy seed ;
خشخاش *khashkhásh*, } the unit of weight.

خشک *khusk*, *v. adj.* Dry ; withered. خشک سال

—*salí*, *n. f.* a dry year ; drought. خشک کرنا—*karná*, *v.* to dry. خشک هونا—*honá*, *v.* to be dried or parched. خشک مغز—*magz*, *adj.* dull ; thick-headed ; dry-brained.

خشکه *khuska*, P. *n. m.* Boiled rice.

خشکی *khuskí*, P. *n. f.* Dryness ; dearth ; dry flour sprinkled over and under dough, &c., (palehan). *adv.* خشکی کی راه—*ki ráh*, by land.

خشم *khashm*, P. *n. m.* Anger ; passion ; fury. خشم آورد—*álúd*, tainted with anger. خشمگین—*gin*, *adj.* angry ; passionate.

خشرد *khusnúd*, P. *adj.* Contented ; satisfied.

خشردی *khusnúdí*, P. *n. f.* Pleasure ; satisfaction.

خصات *khaslat*, P. *n. f.* Quality ; nature ; disposition ; habit.

خصم *khasm*, A. *n. m.* A master ; proprietor ; an adversary ; husband. خصم والی—*wáli*, *n. f.* a woman whose husband is alive.

خصوصاً *khusúsan*, A. *adv.* Especially ; particularly.

خصوصیت *khusúsiyat*, A. *n. f.* Peculiarity ; special property ; attachment ; friendship.

خصومت *khusúmat*, A. *n. f.* Enmity ; contention ; litigation.

خصی *khasi*, A. *n. m.* A castrated animal (especially a goat).

خضاب *khisáb*, A. *n. m.* A hair-dye ; a tincture. خضاب آهني کرنا—*áhani karná*, *v.* to shave (the beard) ; خضاب کرنا—*karná*, *v.* to apply hair-dye.

خضر *khiszar*, A. *n. m.* The name of a prophet, commonly called *Khwája Khizr*.

خضوع *khazú* A. *n. f.* Humility ; lowliness.
 خط *khat*, A. *n. m.* (*Plu* خط *khúttí*) Handwriting ; writing a letter ; a note ; a line ; a streak ; a mark ; beard ; moustaches ; name of a place in Arabia where spears are manufactured. خط آنا یا نکالنا — *áná yá nikalná*, *v.* to appear (the first growth of hair on the face). خط استوا — *i-istiwá*, *n. m.* the equator. خط بانانا — *banáná*, *v.* to shave the beard. خط پاکڑا جانی — *pakrá jáná*, a letter to be inter-cepted. خط جدي — *i-jadí*, the tropic of Capri-corn. خط جلي — *i-jalí*, large handwriting. خط سرطان — *i-sartán*, the tropic of Cancer. خط عمود — *i-'umúd*, a perpendicular line. خط کتابت — *kitábat*, correspondence. خط کھینچنا — *khínchna*, to draw a line. خط گلزار — *i-gulzár*, a kind of flourished handwriting. خط متوازي — *i-mutawázi*, a parallel line. خط مستدير — *i-mustadir*, a circular line. خط مستقيم — *i-mustaqím*, a straight line. خط منحنی — *mun-haní*, a curved line. خط میں خط ملانا — *men-miláná*, *v.* to forge handwriting. خط نستعلیق — *i-nasta'liq*, plan round Persian writing. خط شکسته — *shikasta*, a running hand.
 خطا *khatá*, A. *n. f.* A mistake ; a slip ; an oversight ; fault ; failure ; miss. خطا کرنا — *karná*, *v.* to err ; to commit a fault ; to miss. خطا ہونا — *honá*, to fail ; to err.
 خطاب *khitab*, A. *n. m.* A title ; address. خطاب کرنا — *karná*, *v.* to address ; to accost. خطاب — *o'itáb*, rebukes ; censures ; angry or reproachful speech. [marriage ; betrothal.
 خطب *khatb*, A. *n. m.* Asking a woman in
 خطبہ *khutba*, A. *n. m.* A sermon or oration recited in the noon-service of the congregational mosques on every Friday (it consists of expression of praise to God, blessings on Mohammad, his family, and companions, and prayer for the Mohammadans in general, and especially for the reigning sovereign) and on special occasions.
 خطر *khatar*, A. *n. m.* Danger ; risk خطر ناک — *nák*, *adj.* dangerous ; hazardous.
 خطرہ *khatra*, A. *n. m.* Danger ; fear ; risk. خطرہ کرنا — *rafa' karná*, *v.* to ward off danger.

خطر میں ڈالنا — *men dálná*, *v.* to endanger ; to risk ; to expose to danger.

خطمی *khatmí*, A. *n. f.* Marsh-mallow.

خطلہ *khitta*, A. *n. m.* A plot of land ; a region.

خطیب *khatib*, A. *n. m.* One who reads the *khutba* ; speaker.

خفا *khafá*, A. *n. f.* A secret ; concealment,

خفا *khafá*, A. *adj.* Angry ; displeased ; enraged.

خفت *khiffat*, A. *n. f.* Lightness ; want of dig-nity, disgrace ; humiliation. خفت اُٹھانا — *utháná*, *v.* to suffer disgrace.

خفتن *khuftan*, P. *inf.* To sleep. خفتہ *khufta*, *part. adj.* asleep ; (*Met.*) the dead.

خفقان *khafqán*, A. *n. m.* Palpitation (of the heart) ; hysteria.

خفقانی *khafqání*, A. *adj.* Subject to palpitation (of the heart).

خفگی *khafagí*, or *khafgí*, P. *n. f.* Anger ; displeasure. خفگی کرنا — *karná*, to be angry with ; to storm at. خفگی کی نظر سے — *kí nazar se*, with a look of displeasure.

خفی *khafí*, A. *adj.* Fine or small (handwriting) as opposed to چھٹی

خفیف *khafif*, A. *adj.* Small ; slight ; trivial ; light ; of little or no consequence ; frivolous ; petty ; undignified. خفیف ہونا — *honá*, *v.* to be put to shame ; to be slighted ; to be re-garded lightly. ضرر خفیف — *zarar-i-*, a simple hurt. عدالت خفیفہ — *'adlat-i-khafifa*, *n. f.* a small cause court.

خفیہ *khufya*, A. *adj.* Concealed ; hidden ; secret. خفیہ خبر — *khabar*, *n. f.* secret or private intelligence. خفیہ فروشہ — *faroshi*, *n. f.* contraband traffic. خفیہ کارروائی کرنا — *kár-rawát karná*, *v.* to make a private inquiry. خفیہ نویس — *navis*, *n. m.* a secret correspond-ent or informer. خفیہ نویسی — *navisi*, *n. f.* secret intelligence.

خل *khall*, A. *n. m.* Vinegar.

خلاء *khálá*, A. *n. m.* Vacuity ; vacuum ; space.

خلا ملا *khálá malá*, sincere friendship ; intimacy ; warm or close attachment.

خَلَاب *k̄hiláb*, P. *n. m.* Clay ; mire ; mud ; filth.
 خَلَاص *k̄halás*, A. *n. m.* Deliverance ; emancipation ; liberation. خَلَاص كَرْنَا—*karná*, *v.* to discharge ; to acquit ; to release ; to free. خَلَاص كَرْنَا—*honá*, *v.* to be freed or set at liberty.
 خَلَاصَة *k̄hulása*, A. *n. m.* Substance ; abstract ; essence ; extract ; abridgment ; inference ; moral ; summary. خَلَاصَة كَرْنَا—*karná*, *v.* to abridge ; to curtail ; to explain ; to solve ; to make clear ; to summarise.
 خَلَاصِي *k̄halási*, A. *n. f.* Exemption ; release ; freedom ; deliverance *n. m.* a sailor ; a tent-pitcher.
 خَلَاف *k̄hiláf*, A. *adj.* Against ; *versus* ; in opposition ; contrary (to) ; *n. m.* opposition ; contrariety ; hostility. خَلَاف بِيَانِي—*bayání*, *n. f.* contradiction ; misrepresentation. خَلَاف رَاے—*i-rae*, against one's opinion or will. خَلَاف شَرَع—*i-shara'*, unlawful. خَلَاف عَقْل—*i-'aql*, contrary to reason. خَلَاف قَاعِدَة—*i-qa'edab*, irregular ; against rule. خَلَاف قَانُون—*i-qánún*, contrary to law ; illegal. خَلَاف قِيَامَس—*i-qiyás*, inconceivable ; absurd. خَلَاف كَهْمَا—*kahná*, *v.* to contradict. خَلَاف مِرَاج—*mízáj*, disagreeing with the habit of the body. خَلَاف وَرْزِي—*warzí*, breach ; infringement. خَلَاف وَرْزِي كَرْنَا—*warzí karná*, *v.* to oppose ; to misbehave. خَلَاف سَرْكَار—*varzí bá sarkar*, against the state. خَلَاف وَضَح—*waza'*, contrary to good manners or to custom. خَلَاف هَرْنَا—*honá*, *v.* to oppose.
 خَلَافَة *k̄hiláfat*, A. *n. f.* The office or dignity of a Caliph (خَلِيفَة) ; deputyship.
 خَلَال *k̄hilál*, A. *n. m.* Defeat (at cards) ; tooth-pick ; a prickle ; straw (*dant khudni*).
 خَلَائِق *k̄haláeq*, A. *n. f.* (*Plu. of خَلْق K̄halq.*) Creatures ; people ; the creation.
 خَلِجَان *k̄halján*, A. *n. m.* Beating ; agitation ; distraction ; anxiety. خَلِجَان رَفَع هَرْنَا—*rafá' honá*, anxiety or uneasiness to be removed.
 خَلْد *k̄huld*, A. *n. m.* Paradise.
 خَلَش *k̄halish*, A. *n. f.* Prick ; pain ; suspicion ; apprehension ; anxiety ; to excite enmity.

خَالَا *k̄halt*, A. *n. m.* Mixture ; confusion. خَالَا مَلَا—*malt*, *adj.* intermixed ; jumbled.
 خَالَا *k̄hilt*, A. *n. m.* One of the four humours of the human body ; nature. خَالَا نَامِد—*i-fásid*, canker of a sore.
 خَالَا *k̄hulá'*, A. *n. m.* Repudiation of a wife, when desired by herself.
 خَالَة *k̄hil'at*, or *k̄hal'at*, A. *n. m.* A dress of honour bestowed by the ruling or superior authority to an inferior as a mark of distinction: خَالَة دِينَا يَا پَهَنَانَا—*dená yá pahnáná*, *v.* to invest with a robe of honour.
 خَالَف *k̄halaf*, A. *n. m.* A son ; an heir ; a successor, *adj.* dutiful. خَالَف الصِدْق—*ul-sidq*, *n. m.* the rightful heir ; a dutiful one. خَالَف نَا نَا—*ná*, *n. m.* an undutiful son.
 خَالَف *k̄hulafá*, A. *n. m.* (*Plu. of خَالِيفَة K̄halifa*), Caliphs. [ty; amiability ; good manners.
 خَالِق *k̄hulq*, A. *n. m.* Nature ; politeness ; civility.
 خَالِق *k̄halq*, A. *n. f.* The people ; creation ; mankind. خَالِقِ اللّٰه—*ullah*, God's creatures.
 خَالِقَة *k̄hilqat*, A. *n. f.* The creation ; people ; the world. عَجِيب الطَّائِف—*'ajib-ul-*, a strange creature ; a monster ; a prodigy.
 خَالِقِي *k̄hilqí*, A. *adj.* Natural ; inherent ; innate.
 خَالِجَا *k̄halgá*, खलजा, H. *n. m.* Name of a flower ; cockscomb.
 خَالِل *k̄halal*, A. *n. m.* Interruption ; breach ; confusion ; damage ; disorder ; derangement. خَالِل اِنْدَاز—*andáz*, *n. m.* an intermeddler.
 خَالِلِ اِنْدَاز هَرْنَا—*andáz honá*, *v.* to interfere ; to interrupt ; to disturb. خَالِل دِمَاق—*dimág*, *n. m.* madness ; melancholy.
 خَاو *k̄hulú*, A. *n. m.* Vacuity.
 خَاوَة *k̄hilwat*, A. *n. f.* Retirement ; privacy ; a private apartment. خَاوَة خَانَة—*k̄hána*, *n. m.* a place of retirement. خَاوَة نَشِيْن—*nashín*, *adj.* retired. خَاوَة و جَاوَة مِيْن—*o-jalwat meṅ*, in private and in public. خَاوَة تِي *k̄hilwati*, *n. m.* an intimate friend ; a hermit.
 خَاوَس *k̄hulús*, A. *n. m.* Purity ; sincerity ; integrity.
 خَالَا *k̄hala*, P. *n. m.* An oar ; a helm ; a rudder.
 خَالِج *k̄halij*, A. *n. f.* A bay.
 خَالِيَرَا *k̄halerá*, खलैरा, H. *adj.* Descended from or related to a maternal aunt. خَالِيَرَا پَهَنَانِي—*bháí*,

ن. m. the son of a maternal aunt ; cousin.
 بھن خالیدی — bahin, *n. f.* the daughter of a maternal aunt.

خالیطہ khalīta, *A. n. m.* (corrupt of خریطہ) *A.* small bag. طوفان خالیطہ — i-túfán, exciter of disturbance ; a calumniator.

خالیفہ khalīfah, *A. n. m.* The successor to sovereign power applied especially to the successors of Mahomed ; a Caliph ; in India, a term applied to a tailor, barber, &c.

خالق khalīq, *A. adj.* Polite ; courteous ; civil ; benign ; well-disposed.

خالیل khalīl, *A. n. m.* A sincere friend. خالیل الله — ullāh, the friend of God ; Abraham.

خم kham, *P. adj.* Twisted ; crooked ; bowed ; *n. m.* a bend ; curve ; a coil ; fold ; curl ; ringlet. خم تھوکرنا — thokná, *v.* to strike the hand against the arms previous to wrestling, &c. ; to challenge. خم دار — dār, *adj.* bent ; curved ; twisted.

خم kham, *A. n. m.* A large jar ; an alembic. خم چڑھانا — charháná, *v.* to boil clothes preparatory to washing them.

خماری khamár, khamárí, *A. n. m.* Sick-ness ; (from drink, *i. e.*, headache, etc.) drowsiness ; intoxication. خمار آلودہ — álúda, *adj.* intoxicated. خمار شکنی — shikaní, *n. f.* recovery from intoxication. خمار کھمار — khammár, *n. m.* a great drunkard. خمار خانہ — khárna, *n. m.* a tavern.

خمخانہ khamkhána, *P. n. m.* A tavern.

خمر khamr, *A. n. m.* Wine ; spirituous liquors ; fermenting.

خمرا khumra, *A. n. f.* A small mat of palm leaves for kneeling on while praying ; a small pot or jar.

خمسة khamṣa, *A. n. m.* A stanza of five lines.

خمکدہ khamkada, *P. n. m.* A tavern.

خمیازہ khamiyāza, *P. n. m.* Yawning ; stretching ; retribution. خمیازہ کو بیچنا — khinchná, to receive the punishment of one's faults or crimes.

خمیدگی khamīdagi, *P. n. f.* Crookedness.

خمیدہ khamīda, *P. adj.* Bent ; crooked. خمیدہ قد — qad, bent in form or stature.

خمیر khamír, *A. n. m.* Leaven ; yeast ; clay. خمیر اٹھانا — uṭháná, *v.* to ferment.

خمیرہ khamíra, *A. n. m.* A thick syrup ; a kind of tobacco.

خمیری khamírí, *A. adj.* Leavened ; *n.* plain steel.

خنا khaná, *A. n. f.* Vanity ; conceit.

خنازیر khanázír, *A. n. m.* (*Plu. of* خنزیر *khinzír*). Hogs ; glandular swelling in the neck ; scrofula, (*Kaṭhmálá*). [person.

خناس khannás, *A. n. m.* The devil a wicked

خناق khanáq, *A. n. m.* The quinsy ; suffoca- tion, strangulation.

خنجر khanjar, *A. n. m.* A dagger ; a poniard. خنجر مارنا — márná, *v.* to stab.

خنجری khanjarí, *P. n. f.* A small tambourine ; lines in striped silk.

خندق khandaq, *A. n. m.* Ditch ; a moat.

خندہ khanda, *P. n. m.* Laughter ; a laugh. خندہ رو — rú, *adj.* of a smiling countenance ; cheerful. خندہ پیشانی — peshání, having a cheerful appearance.

خنزیر khinzír, *A. n. m.* A hog.

خنصر khansar, *A. n. f.* The little finger ; the little toe.

خنک khubuk, *P. adj.* Cold ; cool.

خنکی khunukí, *P. n. f.* Coldness ; coolness.

خنگ khing, *P. n. m.* A steed.

خنگا khingá, *P. n. m.* Able-bodied ; an athletic clown.

خنیاکر khunyá, *P. n. m.* Singing. خنیاکر — gar, *n. m.* a minstrel ; a singer. خنیاکری — gari, *n. f.* minstrelsy.

خو khoo, *P. n. f.* Habit ; nature ; deposition. خو پڑنا — parná, *v.* to become a habit. خو ڈالنا — dálná, *v.* to habituate ; to accustom ; to ex- corcise ; to adopt a habit. خو گزنتہ — girafta, *adj.* habituated ; addicted.

خواب khwáb, *P. n. m.* Sleep ; dream. خواب آور — álúda, *adj.* sleepy ; drowsy. خواب آوار — áwar, producing sleep ; (in *Med.*) anodyne ; a soporific. خواب خیال — khayál *n. m.* phantom ;

delusion ; reverie. خواب دیدگهنا—dekhná, *v.* to dream. خواب گاهه—gáh, bed-room. خواب گاهه—o-khyál honá, to vanish like a vision or spectre.

خوابیده khwábida, *P. adj.* Sleeping ; asleep.

خواجه khwaja, *P. n. m.* A master ; a man of distinction ; a rich merchant. خواجه خضر—khizr, name of a prophet. خواجه سرا—sará, an eunuch ; one who has charge of a seraglio ; chief of a household. [ruined.]

خوار khwár, *P. adj.* Wretched ; distressed ;

خور khwár, *P. adj. and n. m.* Devouring ; drinking ; suffering, *n.* drinker ; sufferer. خورندوار mardum—, man-eating. خورنخور khán—, bloodthirsty (used in comp.).

خوارق khawáriq, *A. n. m.* Miracles ; things contrary to nature.

خوارى khwári, *P. n. f.* Baseness ; meanness ; distress ; hardship. خوارى كونا—karná, *v.* to expose one to quarrel with.

خواستار khwást, *P. n. f.* Desire ; request. خواستگار—gár, *n. m.* an applicant ; a candidate ; a suitor ; a bidder. خواستگارى—gári, *n.* solicitation ; a matrimonial suit ; desire.

خواستنه khwásta, *P. adj.* Wished for ; desired.

خواص khawás, *A. n. m.* Attendants ; favourite ; nature ; properties. خواص و عوام o-'awám, nobles and common people.

خواسى khawási, *A. n. f.* The back seat of hauda in a procession ; the office or function of an attendant.

خوان khwán, *P. n. m.* A tray. خوانچه—cha, *n. m.* a small tray. خوان پوش—posh, *n. m.* a tray cover.

خوان khwán, *P. n. m.* Reading ; singing.

خوانده khwanda, *P. adj.* Being able to read and write ; educated. نا خوانده ná—, *adj.* illiterate ; uneducated ; ignorant.

خوانى khwání, *P. n. f.* Reading ; repeating ; recitation.

خو khwáh, *P. part. adj.* Wishing ; desiring (used in com.) as : خواهى تراقى traqqí—, wishing increase or advancement. خواهى خاطر خواه khátir— *adv.* satisfactorily. خواهى مخواه—makhwáh,

willing or not willing ; positively ; *nolens volens. conj.* either or whether.

خواهان khwáhán, *P. adj.* Wishing ; desiring.

خواهر khwáhar, *P. n. f.* A sister.

خواهش khwáhish, *P. n. f.* Desire ; wish ; will. خواهش ركهنه يا كونا—rakhná yá karná, *v.* to wish ; to desire. خواهش مند—mand, *adj.* desirous.

خوب khúb, *P. adj.* Good ; well ; excellent ; beautiful ; pleasant. خوب و زور يا خوبصورت—rú yá khúbsúrat, *adj.* beautiful ; pretty ; handsome. خوبصورتى يا خوبصورتى—rú yá khúbsúratí, *n. f.* beauty ; handsomeness. [fair sex.]

خوبان khúbán, *P. n. f.* Beauties ; fair ones ; the

خوبانى khúbání, *P. n. f.* An apricot ; a dried apricot. [cooling quality.]

خوب كالى khúb kalán, *P. n. m.* A seed of a

خوبى khúbí, *P. n. f.* Excellence ; elegance ; goodness ; beauty.

خوجا khoja, *P. n. m.* An eunuch.

خود khod, *P. n. m.* A helmet.

خود khud, *P. adj.* Self ; private ; personal ; own.

خود اختيارى—ráí, own ; self-decoration. خود اختيارى—ikhtiyári, self-control ; self-possession.

خود آراى—aráí, *n. f.* the setting of self ; pride, etc. خود انتظامى—intizámí, self-government. خود بخود—bakhud, *adv.* of oneself ; naturally ; voluntarily. خود بدولت—badaulat, your worship ; your honour ; his majesty.

خود بين—bíñ, *adj.* self-conceited ; arrogant.

خود بينى—bíñí, *n. f.* self-conceit ; vanity.

خود پسنده—parast, *adj.* selfish. خود پسنده—pasand, *adj.* self-satisfied. خود تنها—saná, an egotist. خود دارى—dári, self-restraint ; content. خود رايه—ráe, *adj.* self-conceited ; wilful, خود رو—rau, *adj.* growing of itself ; wild ; spontaneous. خود ستاى—satái, *n. f.* self-praise. خود سر—sar, *adj.* obstinate ; wilful ; arrogant ; independent. خود غرض—garaz, *adv.* selfish. خود غرضى—garazí, *n. f.* selfishness. خود كاشت—kásht, one's own cultivation.

خود كرده—karda, made by one's self. خود كشي—kushí, *n. f.* suicide. خود مختار—kushí karná, *v.* to commit suicide. خود مختار

mukhtár, *adv.* independent ; free. خود نما —
 numá, *adj.* ostentatious ; proud. خود نمائی —
 numái, *n. f.* ostentation ; show ; vanity.
 خودی khudí, *P. n. f.* Self ; selfishness ; conceit
 بیخودی be—, *n. f.* transport ; madness.
 انہوتی گو خودی ہم میں تو جو تو تھا وہی ہم تھے
 ایمہ پرده کس لئے آلا ہے یا رب درمیاں تو نے
 (علیک) —
 Nā hotí gar khudí, ham men to jo Tú thá
 wahí ham the,
 Yih parda kis liye dálá hai yá Rabb ! darmiyán
 Tú ne.
 If we human beings were not addicted to the
 vice of selfishness we should have been on an
 equality with God Himself. O Lord ! why
 hast Thou made this vast distinction between
 Thee and Thy creatures ?
 خور و نوش khur, *P. adj.* Eating ; drinking. خور
 —o-nosh, *n. f.* food and drink.
 خوراب khuráb, *P. n. m.* Floodgate ; dirty water.
 خوراك khurák, *P. n. f.* Daily food ; victuals ;
 diet ; daily allowance ; a dose of medicine.
 خورجین khurjín, *P. n. m.* A wallet ; a port-
 manteau.
 خورد khward, *P. adj.* Small (*See* خورد *Khurd*) *v.*
 Ate ; drank. خورد برد —burd, speculation ;
 embezzlement. خورد برد کرنا —burd karná, to
 make away ; to spend ; to embezzle.
 خوردن khurdan, *P. n. f.* Eating and drinking.
 خوردنی khurdaní, *P. n. f.* Anything eatable ;
 provisions.
 خوردہ khurda, *P. adj.* Eaten. خوردہ فروش
 farosh, *n. m.* a retailer ; a huckster ; a hawker.
 خوردہ کرنا —karná, to change money.
 خوردی khurdí, *P. f.* Smallness ; minority.
 خورسند khursand, *P. adj.* Pleased ; contented.
 خورش khurish, *P. n. f.* Eating and drinking ;
 food ; victuals.
 خورشید khurshid or khurshed, *P. n. m.* The
 sun. خورشید رو —rú, having a countenance
 as bright and dazzling as the sun.
 خورنده khuranda, *P. n.* An eater ; feeder ; gor-
 mandizer ; glutton.

خورہ khúra, *P. n. m.* The leprosy.
 خوش khush, *P. adj.* Glad ; happy ; pleased ;
 gay ; merry ; well-off ; willing ; sweet ; deli-
 cious ; elegant. خوش اختر —akhtar, fortunate ;
 lucky. خوش اسلوب —aslúb, *adj.* well-formed ;
 elegant. خوش اطوار —atwár, *adj.* well-behaved ;
 well-bred. خوش العنان —alhnán, *adv.* melo-
 dious ; sweet. خوشامد —ámád ; *n. f.* flattery.
 خوشامدی —ámád karná, *v.* to flatter. خوشامدی
 —ámádí, *adj.* flatterer. خوش باش —bash, *adj.*
 and *n. m.* free to stay or depart ; having a
 temporary residence. خوش بوی —bú, *n. f.* per-
 fume ; odour. خوش بوی دار —bú dár, *adj.* sweet-
 smelling ; fragrant ; odoriferous. خوش بیان
 —bayán, *adj.* eloquent. خوش بیانی —bayání,
n. f. eloquence ; oratory. خوش پوش —poshák,
adj. well-dressed. خوش تراش —tarásh, elegant-
 ly cut ; well made or shaped. خوش تقریر
 —taqrír, *adj.* eloquent. خوش حال —háal, *adj.*
 in good circumstances ; prosperous. خوشخبری
 —khabari, *n. f.* glad tidings ; good news.
 خوشخرام —khirám, *adj.* graceful in walking.
 خوشخطی —khat, good handwriting. خوش خلق
 —khatí, *n. f.* good penmanship. خوش خلق
 —khalq, civil ; polite. خوش دامن —dámán, *n. f.*
 mother-in-law. خوش دل —dil, *adj.* happy ;
 delighted. خوش دهن —dahan, having a plea-
 sant or beautiful mouth. خوش ذائقہ —zâeqa,
adj. tasteful ; palatable. خوش رنگ —rang,
adj. of good or bright colour. خوش رو —rú
adj. beautiful. خوش سلیقہ —salíqa, well-
 mannered. خوش طالع —tálá', *adj.* fortunate.
 خوش طبع —taba', *adj.* merry ; jocular. خوش
 خوش کرنا —qata', *adj.* well-shaped. خوش
 karná, *v.* to please ; to gladden ; to gratify.
 خوش گوپ —gap, *n. m.* an entertaining talk ; a
 gossip. خوش گزار —gawár, *adj.* agreeable ;
 pleasant ; delicious. خوش مزہ —maza, *adj.*
 delicious. خوش معاش —ma'ásh, *adj.* well-off.
 خوش نصیب —nasib, *adj.* fortunate. خوش نصیبی
 —nasibí, *n. f.* good fortune ; luck. خوش نگاہ
 —nigáh, of pleasant aspect. خوش نما —numá,
adj. pleasant to the sight ; beautiful. خوش
 نویس —navís, *n.* a fine writer ; a writing
 master. خوش نیت —niyat, *adj.* well disposed ;

honest. خوش و نیاتی —niyatí, good will. خوشم —o-khurrám, *adj.* cheerful; happy; well-to-do. خوش وقت —waqt, *adj.* happy. خوشی —waqtí, *n. f.* happiness. خوش ہونا —hona, *v.* to be pleased; to rejoice.

خوشا khushá, *P. intj.* Happy! How fortunate! Blessed!

خوشتر khustar, *P. adj.* More pleasant.

خوشنود khushnúd, *P. adj.* Pleased; delighted.

خوشنودی khushnúdí, *P. n. f.* Pleasure; delight.

خوشہ khosha, *P. n. m.* An ear of corn; a spike; a bunch (of grapes, &c.). خوشہ چیس —chín, a gleaner.

خوشی khushí, *P. n. f.* Happiness; gladness; delight; pleasure; joy; mirth; consent; will. خوشی یا خوشی سے —khushí yá—se, *adv.* happily; gladly; cheerfully; willingly. خوشی کرنا یا منانا —karná yá manáná, *v.* to rejoice; to enjoy; to please oneself. اپنی خوشی سے —apní—se, *adv.* voluntarily. خوشی میں آنا —men áná, to get into a state of delight.

خوض khauz, *A. n. m.* Deep thought or meditation; search.

خوف khauf, *A. n. m.* Fear. خوف دکھانا —dikhána, to frighten; to terrify; to threaten. خوف کرنا —karná, *v.* to fear. خوف ناک —nák, *adj.* frightful; terrifying. [a pig.]

خوک khúk, *P. n. m.* A hog; a swine; a boar;

خوگیڑ khúgír, *P. n. m.* The stuffing of a saddle; a pad; a pack-saddle. خوگیڑ کی بھرتی —kí bhartí, *n.* rubbish; sweepings; odds and ends.

خول khol, خول, *H. n. m.* A case; a sheath; cover.

خولنجان khúlanján, *P. n. m.* Galangal.

خون khún, *P. n. m.* Blood; murder; slaughter; homicide. خون آلودہ —álúdáh, stained with blood; bloody. خون آگرتنا —ághor mein) ághor men—utarná, the eyes to be bloodshot with rage, &c. خون بگڑنا —bigarhá, *v.* to become impure (the blood). خون بہا —bahá, *n. m.* the price of blood; blood-money. خون جگر پینا —ijgar píná, to work one's self to death. خون چلنا —chalná, blood to issue; to bleed.

خون خوار —kharába, *n. m.* bloodshed. خون —khwár, *adj.* bloodthirsty; murderous.

خون ریزی khwáh, thirsting for blood. خون سر چھڑنا —rezi, *n. f.* blood-hed; slaughter.

خون سار چاہنا —sar chaahná, *v.* to be set on taking a life or lives; to be distracted by assassinating a person.

خون سفید کرنا —sufaid karná, *v.* to be unkind; to be displeased. خون کرنا —karná, *v.* to kill; to murder; to assassinate; to waste.

خون گرتے —girafta, doomed to be slain. خون ہونا —honá, to be murdered; to be wasted.

خونی khúní, *P. n. m.* Murderer; *adj.* bloody; sanguinary.

خوید khawíd, *P. n. m.* Unripe wheat or barley crop used as fodder; a green field.

خویش khesh, *P. n. m.* A kinsman; a son-in-law; *pron* self; own. خویش و اقارب —o-aqarib, *n. m.* kith and kin; kinsmen.

خیار khiyár, *A. n. m.* A cucumber.

خیار khyár, *A. n. m.* Election; choice; option.

خیارین khiyárain, *A. n. m.* Cucumber and muskmelon seeds, used in medicine.

خیاط khaiyat, *A. n. m.* A tailor.

خیال khayál, *A. n. m.* Thought; idea; imagination; conception; notion; fancy; whim; care; concern; opinion; deference; respect; apprehension; vision; a kind of song. خیال باطل —i-bátíl, misconception; a wrong idea; a false notion. خیال باندھنا —bandhna, *v.* to imagine; to arrange one's thoughts.

خیال پڑنا —parná, *v.* to occur to or strike one. خیال خام —i-kham, a vain or ridiculous idea.

خیال سے باہر —rakhná, *v.* to bear in mind. خیال سے باہر —se báhar, inconceivable.

خیال میں نہ لانا —i-fasíd, a false notion; idle fancy. خیال نہ رہنا —men na láná, to pay no regard to.

خیال نہ رہنا —na rahná, to lose all recollection of; to escape one's memory.

خیال سے —ba—, with regard to. خیال کرنا —karná, *v.* to think; to imagine; to consider; to conceive; to care; to regard.

خیالات khayálát, *A. n. m.* (Plu. of خیال Khayál). Imaginations; fancies. خیالات لاطیل —lá táel, absurd ideas.

خيالي *k̄hayālī*, A. *adj.* Ideal ; fanciful ; imaginary. خيالي پلاؤ پکانا — *pulāo pakānā*, *v.* to build castles in the air.

خيانت *k̄hiyānat*, A. *n. f.* A breach of trust ; dishonesty ; embezzlement. خيانت کرنا — *karnā*, *v.* to misappropriate ; to embezzle. خيانت مجرمه نه — *i-mujrimāna*, criminal breach of trust.

خير *k̄hair*, A. *adj.* Good ; safe ; *adv.* very well ; *n. m.* goodness ; welfare ; health. خير انديش خيرا — *andesh-k̄hwāh*, a well-wisher ; a friend. خير باد — *bād*, May he prosper | خير خرواهي — *k̄hwāhī*, *n. f.* good will or intention ; benevolence. خير وعانيت — *o-'āfiyat*, *n. f.* welfare ; health.

خيرات *k̄hairāt*, A. *n. f.* Alms ; charity. خيرات خانہ — *k̄hāna*, *n. m.* alms-house.

خيراتي *k̄hairātī*, A. *adj.* Charitable. خيراتي شفاخانه — *shafāk̄hāna*, *n. m.* charitable dispensary.

خيرگي *k̄hīrgī*, P. *n. f.* Darkness ; wickedness ; malignity. [vain.]

خيره *k̄hīra*, P. *adj.* Dark ; wicked ; malignant ; خيريت *k̄hairiyat*, A. *n. f.* Welfare.

خيزان *k̄hezān*, P. *adj.* Rising. خيزان وفتان — *uftān-o-*, *adv.* falling and rising ; precipitately.

خيله *k̄hailā*, A. *n. f.* A woman having many moles (considered great beauty among the Arabs).

خيله *k̄helā*, P. *adj.* Playful ; wanton ; foolish ; careless (woman or girl).

خيمه *k̄haima*, A. *n. m.* A tent ; a pavilion. خيمه کرنا — *karnā*, *v.* to encamp. خيمه زن — *zān*, a pitcher of tents. خيمه گاه — *gāh*, *n. m.* a camping ground.

(د)

د *dāl*, the 8th letter of the Arabic, 10th of the Persian alphabets. In reckoning by *abjad* it stands for four.

داد *dāb*, दाब, H. *n. m.* Pressure ; weight ; force ; control ; check ; restraint ; impression.

دابه — *jamāni*, *v.* to exercise authority over ; to rule. دابه يا دبا بيٽهنا يا لينه — *yā dabā baiṭhnā yā lenā*, *v.* to take possession unlawfully ; to usurp ; to embezzle. دابه بيٽهنا — *baiṭhnā*, to exercise authority over ; to bring under control. دابه سلطنت — *i-saltanat*, etiquette of the court. دابه نجايز — *nājāiz*, undue influence.

دابه *dāb*, P. *n. m.* Magnificence ; pomp ; ostentation.

دابهنا *dābnā*, दाबना, H. *v.* To press ; to suppress ; to squeeze. دابه دينه — *denā*, *v.* to bury ; to inter. دابه ركهه — *rākhnā*, *v.* to withhold ; to detain ; to conceal ; to grip (as money). دابه لينه — *lenā*, *v.* to overpower ; to outgrow ; to encroach upon.

داتا *dātā*, दाता, H. *adj.* Liberal ; generous ; *n. m.* giver ; donor ; benefactor ; patron ; creator.

داتون — *dātan*, दातन, दातवन, H. *n. f.* A tooth-brush. [obscurity.]

داج *dāj*, A. *n. m.* Darkness ; a dark night ;

داخل *dākhil*, A. *adj.* Entering ; penetrating ; arriving ; entered ; inserted ; registered ; filed. *n.* taking possession of ; entry ; inclusion. داخل خارج — *k̄hārij*, *n. m.* mutation of names. داخل دفتر — *daftar*, filed with the record. داخل دفتر کرنا — *daftar karnā*, *v.* to incorporate ; to include ; to admit ; to enter ; to enlist, to file ; to deposit ; to register ; to hand in (as money into the treasury). داخل هونا — *honā* *v.* to enter ; to arrive ; to penetrate ; to belong ; to be inserted ; to be filed.

داخه *dākhila*, A. *n. m.* Payment of money ; admission ; entrance ; a receipt for money.

داخلي *dākhili*, A. *adj.* Contained ; inclusive ; belonging.

داد *dād*, दाद, H. *n. m.* Ring-worm ; herpes ; a plant used to cure the ring-worm ; *Cassia alata*.

داد *dād*, P. *n. m.* (used in comp.). Given ; bestowed ; justice ; equity ; praise ; revenge. داد چاهنه — *chāhnā*, *v.* to demand justice. داد خرواه — *k̄hwāh*, *n. m.* a petitioner for justice ;

a plaintiff. داد خرواهی—*khwáhi*, *n. f.* demanding of justice. داد دهی *dád dihi*, administering of justice. داد دهش *dád-dihish*, bounty; charity; beneficence. داد دینا—*dená*, *v.* to do justice to; to appreciate duly; to praise one's action properly. داد درسی—*rasí*, *n. f.* redress of grievances. داد فریاد—*faryád*, *m. f.* application or cry for justice or redress. داد فریاد کرنا—*faryád karná*, *v.* to cry aloud for justice; to make complaint of injustice. داد کو پانچنا—*ko pahunchná*, *v.* to obtain justice. داد گستری—*gustarí*, diffusion or administration of justice. داد و ستد—*o-sitad*, *n. f.* money-dealings; traffic.

دادا *dádá*, दादा, *H. n. m.* A paternal grandfather.

دادر *dáder*, दादुर, *H. n. m.* A frog.

دادرا *dádrá*, दादरा, *H. n. m.* A kind of song.

دادمردن *dádmardan*, दादमदन; *H. n. m.* A plant used to cure the ring-worm; *cassia alata*.

دادنی *dádní*, *P. n. f.* Advances of money made to cultivators, &c.; debts.

دادو *dádú*, दादू, *H. n. m.* A famous *faqir*. دادو پانتهی—*panthí*, a follower of *Dádú*.

دادی *dádi*, दादी, *H. n. f.* A paternal grandmother.

دارا *dára*, *S. n. f.* A wife; *adj.* and *n. m.* dependent on or subject to, a henpecked husband.

دار *dár*, *P. n. m.* Wood; gibbet; gallows. دار کھینچنا یا چڑھانا—*par khíchná yá chárhána*, *v.* to impale. دارکش—*kash*, *n. m.* hangman; impaler.

دار *dár*, *A. n. m.* (used in comp.) A dwelling; habitation. دارالامان—*ul-amán*, *n. m.* the house of safety. دارالبقا—*ul-baqá*, the abode of permanency, *i. e.*, the next world. دارالبوار—*ul-bawár*, the abode of perdition; hell. دارالحرب *dáru'ul harb*, *n. m.* 'Land of war'; country of an enemy or of infidels, on whom it is lawful to make war. دارالخلافت یا سلطنت—*ul-khiláfat yá saltanat*, *n. f.* a capital; metropolis. دارالسلام *dáru's salám*, abode of peace or safety; heaven. دارالشفا—*ush-shafá*, *n. m.* a hospital. دارالزهراب—*ul-zarab*, *n. f.* a mint. دارالعلم

ul-'ilm, a college; university. دارالفنا—*ul-faná*, *n. f.* the abode of mortality, *i. e.*, the world. دارالقرار—*ul-qarár*, a burial ground. دارالمکافات—*ul-makáfat*, the abode of recompense or retaliation. دارو دستہ—*o dasta*, house and family.

دار *dár*, *P. Part. n.* Holding; having; such as (used in comp.). دار حصہ *hissa*—, a sharer.

دارگیر—*dár-gir*; *dár-o-gir*, seizing; capture; conflict. دارومدار—*o-madar*, *n. m.* agreement; stipulation; dependence.

دارچینی *dárchíní*, *P. n. f.* Cinnamon.

داردر *dáridr*, दादर, *S. n. m.* Wretchedness; poverty; indigency. داردر کھینچنا—*khedná*, to drive out poverty; a superstitious ceremony performed by Indian females on the night of *Deouthan*, they take a *súp* and beat it in every corner of the house exclaiming "*Ishioar paiho dáridr niklo*," Enter, O God, Depart, O Poverty!

دارو *dáru*, दाह, *H. and P. n. f.* Spirituous liquor; wine; gunpowder.

داردرسن *dáru'san*, *P. n. f.* Medicine; remedy. داردرسن—*darman*, medical treatment. [a *Dároga*.

داروغائی *dárogaí*, *P. n. f.* The office or duty of

داروغہ *dároga*, *P. n. m.* An overseer; an inspector; a superintendent; an inspector of police.

دارین *dárain*, *A. n.* The two worlds, *i. e.*, the present and future life.

دازہ *dázh*, दाड़, *H. n. m.* A jaw tooth; a grinder. دازہ مارنا—*márná*, to grind or gnash the teeth in wrath or anguish.

دازھی *dárhi*, *H. n. f.* Beard.

داس *dás*, दास, *H. n. m.* A slave; a servant; a follower; a title of the *Shudra* class.

داس *dás*, *P. n. m.* A scythe; a sickle.

داسا *dásá*, दासा, *H. n. m.* A piece of wood projecting from a wall to support the thatch; a wall plate. [—*go*, *n. m.* story-teller.

داستان *dástan*, *P. n. f.* A story; a tale. داستان گو

داسی *dásí*, दासी, *H. n. f.* A maid-servant

داشت *dásht*, *P. n. f.* Bringing up; keeping; care.

داعی *dá'i*, A. *n. m.* A well wisher ; claimant ; plaintiff ; instigator ; cause

داعیت *dá'iyá*, A. *n. m.* Petition ; plaint ; claim ; demand ; suit.

داغ *dag*, P. *n. m.* A spot ; a speck ; a blemish ; a brand ; a stigma ; a wound ; pock ; a scar ; grief ; calamity. داغ بر بالائے داغ—*bar bálae dag*, one misfortune following another. داغ بیل—*bel*, *n. m.* marking out of the lines of a road with a spade. داغدار—*dár*, *adj.* spotted ; branded ; stained. داغ دینا—*dená*, *v.* to mark by burning with a hot iron ; to brand. داغ لگانا—*laganá*, *v.* to defame ; to stain, داغ لگنا—*lagná*, *v.* to be branded ; to get a bad name. داغ ہونا—*honá*, *v.* to be cauterized or scarred.

داغنا *dagná*, داغنا, H. *v.* To cauterize ; to fire (a gun, &c.)

داغی *dá'gi*, P. *adj.* Spotted ; stained ; branded. داغی کرنا—*karná*, *v.* to stain ; to blemish ; to disgrace.

داف *dáfa'*, A. *adj.* Repelling ; repulsing ; driving away.

دائے *dákh* داخ, H. *n. f.* A raisin ; a grape. داکھ رس—*ras*, *n. m. f.* grape-juice ; wine. داکھ لٹا—*latá*, *n. f.* a vine-tendrill.

دال *dál* دال, H. *n. f.* The split pea of *mung*, *arhar*, *urad* and some other pulses ; scab. دال دلیا—*daliyá*, poor diet ; coarse fare. دال گانا—*galná*, *v.* to avail or be effective ; to have an advantage. دال میں کچھ کلا—*men kuchh kilá*, something wrong or suspicious ; something amiss.

دالان *dálan*, P. *n. m.* A hall. دالان در دالان—*dar dálan*, *n. m.* double hall.

دام *dám*, دام, H. *n. m.* Price ; value ; rate ; money. دام دینا—*bharná*, *v.* to pay the price or value of. دام دینا—*dená*, *v.* to pay the price.

دام *dám*, P. *n. m.* A net ; a snare. دام میں لانا—*men láná* *v.* to ensnare ; to entrap

دام *dám*, A. *May* (it) be perpetuated or may (it) last ; دام دولتتہ—*daulattahú*, may (his or their) prosperity continue ; دام ملک—*mulkahú*, *May* his kingdom be everlasting !

دام *dám*, P. *n. m.* A net ; a snare. دام میں لانا—*men láná* *v.* to ensnare ; to entrap

دام *dám*, A. *May* (it) be perpetuated or may (it) last ; دام دولتتہ—*daulattahú*, may (his or their) prosperity continue ; دام ملک—*mulkahú*, *May* his kingdom be everlasting !

دام *dám*, P. *n. m.* A net ; a snare. دام میں لانا—*men láná* *v.* to ensnare ; to entrap

دام *dám*, A. *May* (it) be perpetuated or may (it) last ; دام دولتتہ—*daulattahú*, may (his or their) prosperity continue ; دام ملک—*mulkahú*, *May* his kingdom be everlasting !

داماد *dámád*, P. *n. m.* A son-in-law.

دامان *dámán*, } P. *n. m.* The skirt of a garment ; the sheet of a sail ; the foot of a mountain. دامر پکڑنا—*pakarná*, *v.* to be the accuser or plaintiff ; to take refuge ; to prevent, to become a follower. دامن پھیلانا—*phailáná*, *v.* to beg ; to supplicate. دامن تلے چھپانا—*tale chhipáná*, *v.* to cover ; to protect. دامن جھار کر اٹھنا—*jhár kar uṭhná*, *v.* to rise quickly in displeasure ; to go away without taking any thing from the house. دامن جھٹک لینا—*jhatak lená*, *v.* to refuse. دامن چھڑانا—*chhuraná*, *v.* to get rid of. دامن دبا بیٹھنا—*dabá baiṭhná*, to intrude upon. دامن سے لگنا—*se lagná*, *v.* to come under one's protection. دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

دامن پکڑنا—*pakarná*, *v.* to be the accuser or plaintiff ; to take refuge ; to prevent, to become a follower. دامن پھیلانا—*phailáná*, *v.* to beg ; to supplicate. دامن تلے چھپانا—*tale chhipáná*, *v.* to cover ; to protect. دامن جھار کر اٹھنا—*jhár kar uṭhná*, *v.* to rise quickly in displeasure ; to go away without taking any thing from the house. دامن جھٹک لینا—*jhatak lená*, *v.* to refuse. دامن چھڑانا—*chhuraná*, *v.* to get rid of. دامن دبا بیٹھنا—*dabá baiṭhná*, to intrude upon. دامن سے لگنا—*se lagná*, *v.* to come under one's protection. دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

دامن جھار کر اٹھنا—*jhár kar uṭhná*, *v.* to rise quickly in displeasure ; to go away without taking any thing from the house. دامن جھٹک لینا—*jhatak lená*, *v.* to refuse. دامن چھڑانا—*chhuraná*, *v.* to get rid of. دامن دبا بیٹھنا—*dabá baiṭhná*, to intrude upon. دامن سے لگنا—*se lagná*, *v.* to come under one's protection. دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

دامن جھٹک لینا—*jhatak lená*, *v.* to refuse. دامن چھڑانا—*chhuraná*, *v.* to get rid of. دامن دبا بیٹھنا—*dabá baiṭhná*, to intrude upon. دامن سے لگنا—*se lagná*, *v.* to come under one's protection. دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

دامن سے لگنا—*se lagná*, *v.* to come under one's protection. دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

دامن گیر—*gir*, *n* dependent ; a claimant ; an accuser.

بچاتے رہو مئے سے دامان تقویٰ نہ لگجئے دھبہ کہیں اس نجس کا (داغ) —
Bacháte raho mai se *dámán-i-taqwá*,
Na lag jae dhabba kahin is najis ka.

(Lit.) Save your skirt of piety from the defiling touch of spirituous liquors lest it be polluted by this unholy thing. The meaning is, do not bring any stain or dishonour upon your character by indulging in spirituous liquors.

دامینی *dámíní*, دامینی, H. *n. f.* Lightning

دامی *dámi*, دامی, H. *n. m.* An assessment. دامی راصلات—*wásilat*, gross assets of a village.

دامی *dímí*, P. *n. m.* A hunter or fowler.

دان *dán*, دان, H. *n. m.* Gift ; alms ; charity. دان پتر—*patr*, *n. m.* a deed of gift. دان پتہ—*punya*, almsgiving ; charity. دان دینا—*dená*, *v.* to make a gift or grant.

دان *dán*, P. *part.* Knowing ; understanding (used in compos). دان قدر *quadr*—, knowing the value or quality (of persons). دان نقطہ *nuqta*—, subtle ; penetrating ; (an affix denoting receptacle), as : دان قلم *qalam*—, pen-case.

دان *dán*, P. *part.* Knowing ; understanding (used in compos). دان قدر *quadr*—, knowing the value or quality (of persons). دان نقطہ *nuqta*—, subtle ; penetrating ; (an affix denoting receptacle), as : دان قلم *qalam*—, pen-case.

دانا *dána*, P. *adj.* Wise ; sage ; learned. داناے دهر—*biná*, P. *adj.* wise ; learned. داناے دهر—*i-dahr*, wise ; the learned of the age.

داناؤی *dánái*, P. *n. f.* Wisdom ; sagacity.
 دانت *dáut*, दाँत, H. *n. m.* A tooth ; a tusk. دانت
 باجانا *—bajána*, *v.* to chatter the teeth ; to wrangle
 دانت بنا نیرالا *—banánewálá*, *n. m.* a dentist
 دانت پیسننا یا چونا یا ککٹانا یا کچکچانا
—písna yá chabána yá kítkítána yá kichkichána v.
 to gnash one's teeth ; to grin. دانت ترزنا
—tozná, to render powerless ; to bring one low.
 دانت رکھنا یا ہونا *—rakhná yá honá*, *v.* to
 desire anything exceedingly. دانت کٹی روٹی
—kaṭí roṭí khána, *v.* to be the most
 intimate friend. دانت کا درد *—ká dard*, *n. m.*
 toothache. دانت کھٹے کرنا *—khatṭe karná*, *v.*
 to dishearten ; to frustrate. دانت لگانا
—lagána, *v.* to have lock-jaw ; to desire exceedingly ;
 to fix or set the teeth (upon). دانت نکالنا
—nikálná, *v.* to laugh ; to grin ; to express or
 confess inability and a helplessness. دانت میں
 دانتی لگانا *—men ugṭí dabána yá kaṭna v.* to be amazed to wonder.
 دانتا *dantá*, दाँता, H. *n. m.* The tooth of a comb,
 saw, etc., a cog of a wheel. دانتی پڑنا
—pārná, *v.* to be untouched or jagged. دانتا کلکل
dantá kilkil दाँता-कलकल, H. *n. f.* Constant
 quarrel.
 دانتی *dantí*, दाँती, H. *n. f.* A row of teeth.
 دانتی پڑنا *—pārná*, to become jagged. دانتی لگانا
—lagná, the teeth to be clenched ; to have
 lock-jaw. See دانتا *dantá*,
 دانتی *dandí*, दंडी, (S.) H. *n. m.* A rover ; a
 waterman ; *n. f.* a balance.
 دانست *dánist*, P. *n. f.* Opinion ; view ; know-
 ledge.
 دیدہ دانستہ *dánista*, P. *adv.* Knowingly. دیدہ
—dida wa—, deliberately. [science.
 دانش *danish*, P. *n. f.* Knowledge ; learning ;
 دانشمند *dánishmand*, P. *adj.* Learned ; wise.
 دانشمندی *danishmandí*, P. *n. f.* Learning ;
 wisdom.
 دانگ *dáng*, P. *n. f.* A weight ; the fourth part
 of a *dram* ; side or quarter of a city ; a side.
 دانو *dāw*, दाव, H. *n. m.* Time ; turn ; innings ;
 power ; clutch ; grasp ; opportunity ; strata-
 gem ; ambushade ; a sleigh or trick in

wrestling ; a throw (of dice). دانو پر چڑھانا
—par chaṭhaná, *v.* to bring under one's power.
 دانو پر رکھنا یا لگانا *—par rakhná yá lagána*, *v.* to
 stake ; to bet. دانو پڑنا *—pārná*, *v.* to be
 thrown (dice) ; to have a good throw. دانو پینچ
—pench, *n. m.* stratagem. دانو میں بیٹھنا
—men baiṭhná, *v.* to lie in ambush. دانو تاکنا
—tákná, to watch one's opportunity ; to lie in
 wait for. دانو دینا *—dená*, *v.* to give one his
 turn or innings ; to deceive. دانو کرنا
—karná, *v.* to make use of a trick in wrestling.
 دانو لگانا *—ghát*, *n. m.* ambushade. دانو لگانا
—lagná, *v.* to get at chance or opportunity.
 دانو میں آنا *—men áná*, to be tricked (by).
 دانو *dánaw* दानव, (S.), Dano दानो, (H.) *n. m.* A
 demon ; a giant.
 دانوڑی *dāwri*, दाँवरी, H. *n. f.* A rope which
 fastens bullocks together when threshing.
 دانو *dāna*, P. *n. m.* A grain ; corn ; seed ;
 berry ; a speck ; a pimple ; pustule. دانو
 بدلی کرنا *—badlī karná*, *v.* to bill and coo ; to
 caress by joining bills (as pigeons do). دانو دار
—dāne dār, *adj.* granulated. دانو دینا
—dená, *v.* to feed.
 دانوی *dání*, दानी, H. *adj.* Liberal ; bountiful ;
 charitable.
 دارو *dāo*, दाव, H. *n. m.* A kind of hatchet with
 a curved point ; a bell, a sickle.
 داؤ *dáu*, दाक, H. *n. m.* An appellation of a father
 or of an elder brother.
 دارو *dāwar*, P. *n. m.* A sovereign ; God.
 داہ *dáh*, दाह, H. *n. f.* The burning of dead
 bodies ; conflagration ; ardour ; jealousy.
 داہ دینا *—dená*, *v.* to light the funeral pile.
 داہ رکھنا *—rakhná*, *v.* to bear malice.
 داہا *dāhá*, P. *n. m.* The ten days of *Muharram*
 in which the models of the tombs of *Hasan*
 and *Husain* are carried about and thrown
 into the river or other water.
 داہنا *dāhná*, दाहना, H. *v.* To burn ; to set
 fire to.
 داہنا *dahiná*, दहिना, H. *adj.* Right.
 دائی *dái*, दाई, H. *n. f.* A midwife ; a wet nurse.
 دائی سے *—dāyí* *—janái*, *n. f.* a midwife. دائی
 چھوہانا *—se peṭ chhipána*, *v.* to attempt to

conceal what cannot be hidden. دائي کورسونهنا —
 ko saunpná, *v.* to put out to nurse. دائي
 کهلاني —khilá, a dry-nurse. دائي گيري —gírí,
n. f. midwifery.
 دايججا dáejá, दाएजा दायजा, *H. n. m.* A dowry;
 portion; nuptial present.
 داير dáer, *A. adj.* Encircling; going round;
 pending; in process. داير کرنا —karná, *v.* to
 file or institute (a suit). داير و ساير —o-sáir,
 absolute; invested with authority; the cir-
 cuit of judges; the court of circuit.
 دائره dáira, *A. n. m.* A circle; a ring; an orbit;
 a tambourine; a monastery. دائره دار —dár,
 chief of a monastery; the lord abbot. نصف
 دائره nisf —semicircle.
 دايرك dáyak, दायक, *H. n. m.* Giver; donor.
 دايم dáem, *A. adj.* Perpetual; continual; per-
 manent. دايم العيس —ul-habs, imprisonment
 for life. دايم الخمر —ul-khamar, *adj.* addicted
 to drinking; sottish. دايم المرض —ul-marz,
 always sick; valitudenarian. [manent.
 دايمي dáemi, *A. adj.* Perpetual; lasting; per-
 ein داين dáen, *A. n. m.* A creditor.
 دائين dáen, दाये, *H. adj.* On the right hand
 side. دائين بائس —báen, *adv.* right and left
 دايه dáya, *P. n. f.* A nurse; a midwife.
 دب dubb, *A. n. m.* State; manner; quality; a
 bear. دب اصغر —i-asgar, the Lesser Bear. دب
 اكبر —i-akbar, the Greater Bear.
 دباغ dubbag, *A. n. m.* A tanner; currier.
 دبانا dabana, दबाना, *H. v.* To press down; to
 suppress; to restrain; to keep under; to
 subdue; to crush; to check; to usurp. دبا
 لينا dabá lená, to encroach upon; to seize;
 to cover up; to overcome.
 دبار dabáo, दबाव, *H. n. m.* Pressure; constraint;
 influence; power; authority. دبار ماننا —
 mánná, *v.* to be influenced; to submit; to
 stand in awe.
 دبدبه dubbaba, दादबा, *A. n. m.* Dignity; state;
 pomp.
 دبدبه dubbhá, दुवधा, *H. n. f.* Doubt; suspence;
 uncertainty. دبدبه کرنا —karná, *v.* to doubt;
 to mistrust.

دبستان dabistán, *P. n. m.* A school.
 دبکانا dabkáná, दबकाना, *H. v.* To conceal; to
 hide.
 دبکنا dabakná, दबकना, *H. v.* To hide; to lurk;
 to lie in ambush; to crouch. دبکنا يا رهنا
 dabak jáni yá rahná, *v.* to shulk; to sneak
 دبک بيتهنا dabak baiṭhná, to crouch.
 دبركي dubbki, दबकी, *H. n. f.* Ambush; crouching.
 دبركي مارنا —márná, *v.* to lie in ambush.
 دبلا dubbá, दुबला, *H. adj.* Thin; lean, meagre.
 دبلا پن يا دبلا پن —pan yá—pá, *n. f.* leanness.
 دبلائي dubbái, दुबलाई (दुवलाई), *H. n. f.* Leanness;
 thinness; emaciation.
 دبنا dabná, दबना, *H. v.* To fall; to go down;
 to be buried; to be concealed; to give way;
 to be pressed; to be withheld; to be over-
 come; to be quelled; to be shampooed; to
 fall short. دب جانا dab jáná, *v.* to be sup-
 pressed; to retire; to withdraw. دب مرنا
 —márná, *v.* to be crushed to death. دبے پاؤں
 dabe páw, *adj.* with silent steps; stealthily;
 gently.
 دبنگ dabang, दबंग, *H. adj.* Bold; forward;
 courageous; presumptuous.
 دبوچنا dabochná, दबोचना, *H. v.* To seize; to
 press tight; to squeeze; to seize by the
 throat.
 دبور dubbúr, *A. n. f.* The west wind; the zephyr.
 دبرسا dubbúsá, *P. n. m.* The cabin of a ship;
 stern.
 دبه dubbá, *A. n. m.* A leathern vessel for
 holding oil.
 دبیر dubbír, *P. n. m.* A writer; a secretary.
 دبيز dubbíz, *P. adj.* Thick; strong.
 دبيل dubbel, दबेल, *H. adj. and n.* Subject sub-
 ordinate; person under control.
 دت dut, दुत, *H. intrj.* away; begone. دت کرنا —
 kárná, to drive away; to rebuke; to rep-
 rimand. [day.
 دتيا dutiyá, द्वितीया, *H. n. f.* The second lunar
 دنار disár, *A. n. m.* A mantle; an upper
 garment.
 دجال dajjal, *A. n. m.* A one-eyed man; a liar;
 a great deceiver; Antichrist.

دجاء dajla, A. n. m. The river Tigris ; a lake.
 دچتا duchittá, द्विचित्त, S. *adj.* Wavering ; doubtful ; of two minds.
 دچھنا dachhíná, दक्षिणा, H. n. f. Presents or gifts to *Brahmins* on solemn or sacrificial occasions ; fee for spiritual services.
 دځ dakḥ, P. *adj.* Good ; fit ; qualified ; n. m. company ; throng ; row of men ; essence of anything.
 دخان dukhán, A. n. m. Smoke ; steam
 دخانی dukhání, A. *adj.* Smoky. دخانی جہاز — jaház, n. m. a steamer. دځانی کل — kal, n. f. steam engine.
 دختر dukhtar, P. n. f. A daughter ; a girl. دختر ریبه — i-raz, n. f. wine ; grape — i-rabiba, n. f. a step-daughter.
 دخل dakhal, A. n. m. Entrance ; access ; possibility ; admission ; occupancy ; disturbance ; ekill ; knowledge ; possession ; interference. دځل بیجا — bejá, unlawful possession ; trespass. دځل پانا — páná, v. to have access ; to be admitted ; to obtain possession. دځل در — dar ma'qúlat, interference ; intermeddling. دځل دینا — dená, v. to interrupt ; to interpose ; to allow one to enter. دځل کرنا — karná, v. to take possession ; to occupy ; to encroach upon. دځل کر نیوالا — karnewálá, n. m. an occupant ; an intruder. دځل نامه — náma, n. m. a writ or warrant of entrance or of possession (of lands etc.) دځل یابی — yábi, n. f. taking possession.
 دخول dakhúl, A. n. m. Entrance ; admission ; penetration. دخول و خروج — o-khurúj, ingress and egress.
 دځیل dakhíl, A. *adj.* Possessing ; occupying ; admitted ; allowed entrance ; intimate ; familiar n. m. a friend ; accomplice. دځیل کار — kár, n. m. an occupant. دځیل کاری — káři, n. f. hereditary ; occupancy.
 دد dad, P. n. A beast of prey. A forest full of game. [drive away,
 ددکارنا dudkárná, दुनकारना, H. v. To expel ; to
 ددورا dadorá, ददोरा, H. n. m. A bump or swelling (occasioned by the bite of an insect).

دده dadh; दधि (दध), H. n. m. Coagulated milk.
 دده کار — kádo, n. m. a festival in honour of Krishna's birthday (Bhádón badi ashṭmi).
 ددهار dadhár, दुधार, } H. *adj.* Giving milk ;
 ددهیل dadhail, दुधैल, } milch.
 ددهی duddhí, दुधी, H. n. f. A medical herb the milk of which is commonly used by women to tattoo themselves.
 در dar, P. n. m. A door ; gate. در آمد — ámad, n. f. coming in ; import. در آنا — áná, v. to come in ; to penetrate ; to arrive ; to succeed. در بان — bân, n. m. a door-keeper ; a porter. در بانی — bání, n. f. the office of a door-keeper. در بدر — ba-dar. *adv.* from door to door. در بدر چه — badar phirná, v. to wander from door to door. در پادا — parda, *adj.* & *adv.* concealed ; secretly. در پیش کرنا — pesh karná, v. t. to place or lay before ; to introduce. در پیے هونا — pai honá, v. to follow ; to pursue. در پیے جان هونا — pai-ján honá, to be desirous of the death of another. در حال — hál, *adv.* on the spot ; immediately. در صورت — súrát, *adv.* in case ; provided ; should ; suppose that.
 در dar, दर, H. n. m. Price ; rate ; value ; esteem ; tariff ; fixed standard در بندی — bandí, rent, rent rates used for assessments.
 در dar, P. *prep.* In ; into ; within ; on ; upon ; to ; about ; by.
 در dur, A. n. m. A pearl ; name of an ear-ring worn on the lobe of the ear. در انشان — afshán, scattering pearls ; eloquent. در یتیم — o-yatim, n. n. a priceless pearl.
 در dur, دُر, S. A prefix signifying *bad*, as : در بچن — bachan, n. m. abuse. در جان — jan, n. m. an enemy.
 در dur, دُر, H. *iatj.* Stand off ! Avaunt !
 در درا, H. n. m. The highway : f. a grotto ; a cave ; a valley.
 دراج durraj, A. n. m. A partridge.
 دراج darráj, A. n. m. A hedge-hog.
 درار darár, درار, H. n. m. A creak ; a tent ; a fissure.

دراز daráz, P. *adj.* Long; extended دست دراز—dast; long-handed; (*Met.*) oppressive. دراز دستی—dastí, oppression; tyranny. دراز قد—qad, *adj.* tall. دراز کرنا—karná, *v.* to lengthen. دراز گوش—gosh, *adj.* long-eared; *n. m.* a hare; an ass.

دراز daráz, درازان, H. *n. f.* Drawers of an almirah, &c.

درازی darázi, P. *n. f.* Length; extension درازی عمر—i-umr, length of life.

دورانá duráná, دوران, H. To hide; to conceal.

درانت daránt, درانت, H. *n. m.* A hooked kitchen knife.

درانتی darántí, درانتی, H. *n. f.* A kind of sickle; reaping hook.

درائی darái, P. *n. f.* Entering; commencing a discourse. درازی harzá—, *n. f.* talking nonsense.

درایت daráyat, A. *n. f.* Knowledge; sense; manner; mode; quality.

در این‌ها dar in-walá, P. In this case; at this time; by these presents.

درب darb, در, H. *n. m.* Wealth; property; prosperity.

درباب darbáb, P. *prep.* Respecting; relating to.

دربار darbár, P. *n. m.* Court; hall of audience; royal audience; a levee. دربار خاص—e-khas, private audience. دربار عام—e-ám, public audience. دربار داری—darí, *n. f.* presence at court. دربار داری کرنا—darí karná, *v.* to dance attendance on. دربار کرنا—karná *v.* to hold a levee.

درباری darbári, P. *n. m.* Courtier; the elegant and published language of the Court.

دربسته darbasta, P. *adj.* Fastened.

دربل durbal, S. *adj.* Powerless; weak; thin; emaciated.

دربند darband, P. *n. m.* The bolt or bar of a door.

درپن darpan, दर्पण, (S.) H. *n. m.* A looking glass; a mirror,

درپیش darpesh, P. *adv.* In front of; before. درپیش هونا—honá, *v.* to be in front (of); to be in hand.

درج darj, A. *n. m.* A closet; a place for writing or anything written on; entry (in a book) درج کرنا—karná, *v.* to record; to enter; to copy; to fold.

درجن darjan, दर्जन, H. *n. f.* (*Corr. from the English*). Dozen.

درجه darja, A. *n. m.* Degree; grade; division; dignity; gradation; storey; room; apartment. درجه ب—, *adv.* step by step; gradually. درجه گهتانا—ghatáná, *v.* to degrade.

درخت darakht, P. *n. m.* A tree.

درخشان darakshán, P. *adj.* Shining; brilliant درخشندگی darakshandagí, درخشانی daraksháni, P. *n. f.* Brightness; splendour.

درخواست darakhwást, P. *n. f.* Application; petition; tender; offer; proposal; desire; will; appeal. درخواست کرنا—karná, *v.* to request; to apply; to beg; to entreat. درخواست درخشندگی—i-sarsarí, *n. f.* summary application درخواست کننده—kuninda, *n. m.* an applicant; a petitioner.

درد درد, P. *n. m.* Pain; ache; sympathy; pity. درد آلود—áldúd, *adj.* pained. درد آمیز—ámez, *adj.* painful; pathetic. درد آنا—áná, *v.* to be affected with compassion. درد انگیز—angez, pitiable; exciting compassion. درد رس—ras, grieved; afflicted. درد زه—i-zeh, *n. m.* the pains of labour; travail. درد سر—sar, headache; trouble; worry. درد شکم—i-shikam, colic. درد شریک—sharík, *adj.* sympathetic; compassionate. درد نرژندی—i-farzandi, *n. m.* paternal affection. درد کرنا یا هونا—karná yá honá, *v.* to pain; to ache. درد کهانا—khána, *v.* to feel pity or compassion. درد لگنا—lagná, *v.* to feel the pains of childbirth. درد گرده—i-gurda, pain in the kidneys. درد مندی—mandí, *n. f.* affliction; sympathy. درد ناک—nák, *adj.* painful; piteous. درد بے درد—, *adj.* unsympathetic; pitiless; hard hearted; cruel.

درد durd, P. n. f. Sediment ; dregs.
 دردرا dardará, दरذرا, H. adj. Half pounded ; coarsely ground ; bruised ; crushed.
 درز darz, P. n. f. Seam ; crack ; flaw ; fissure ; cleft ; a slip of cloth. درز پڑنا—parná, v. to be cracked.
 درزن darzin, P. n. f. A sempstress ; a tailor's wife.
 درزی darzí, P. n. m. A tailor.
 درس dars, A. n. m. Reading ; learning ; to read ; a lesson ; a lecture. درس دینا—dená, v. to give a lesson ; to lecture.
 درس dars, دس daras, درس, H. n. m. Sight ; view ; look. درس دکھانا—dikhána, v. to show one's face to anyone.
 درست durust, P. adj. Right ; proper ; just ; fit ; correct ; sound ; accurate ; precise ; safe ; entire. درست آنا—áná, to fit ; to suit ; to come right. درست رکھنا—rakhná, to admit ; to allow. درست کرنا—karná, v. to arrange ; to adjust ; to amend ; to repair ; to put in order. درست عقل—aq, of sound understanding. درست نیتی—niyatí, proper design ; right intention.
 درستی darustí, P. n. f. Soundness ; fitness ; exactness ; accuracy ; arrangement ; amendment ; correction ; reformation.
 درشن - درشن darsan, darshan दर्शन, H. n. m. Interview ; appearance ; sight of an image of a god ; visiting a sacred shrine.
 درسی darsí, A. adj. Relating to reading or study ; educational.
 درشت durusht, P. adj. Rough ; hard ; rigid ; morose. [severity].
 درشتی durushtí, P. n. f. Roughness ; harshness ;
 درشت drisht, दृष्टि, H. n. f. Sight ; view ; scene ; visible. [illustration ; precedent].
 درشتانت drishtánt, दृष्टान्त, H. n. m. Example ;
 درشتی drishṭi, दृष्टि, S. n. f. Seeing ; looking at ; faculty of seeing ; sight ; vision ; eye-sight.
 درشنی darshaní, दर्शनी, H. adj. Payable at sight ; beautiful. درشنی ہندی—hundí, n. f. a bill of exchange payable at sight.

درک dark, A. n. m. Understanding ; perception ; knowledge.
 درکار darkár, P. adj. Necessary ; wanting ; required ; desired.
 درکانا darkáná, درکانا, H. v. To cause to crack or split.
 درکانا darakná, درکانا, H. v. To split ; to rend.
 درکنار darkinár, P. adj. On one side ; apart ; aside ; out of the question.
 درگا durgá, दुर्गा, H. n. f. One of the names of the goddess Kali.
 درگا dargáh, P. n. f. A shrine ; a royal court ; threshold.
 درگت durgat, H. n. f. Ruin ; abjectness.
 در گذر کرنا darguzar karná, P. v. To pass over ; overlook ; to forgive ; to let to go.
 در گذرنا darguzarná, P. v. To pass by or over ; to leave off.
 درگندہ durgandh, S. n. f. Stench ; stink.
 درلپہہ durlabh, S. adj. Hard to be got or met with ; rare.
 درم diram, P. n. m. Money ; a silver coin of about the value of two pence sterling.
 درمان - درمن darmán, darman, P. n. m. Medicine ; remedy.
 درماندگی darmáṅdgi, P. n. f. Misery ; distress ; misfortune ; want ; penury.
 درمندانہ darmándá, P. adj. Helpless, destitute.
 در ماہہ darmáha, P. n. m. Salary ; wages ; pay ; stipend. See تنخواہ tanḥwáh.
 درمٹ durmuṭ, H. n. m. A rammer.
 درمیان darmiyán, P. n. m. Middle ; interval ; midst ; prep. during ; in the course of ; in the midst of ; between. درمیان دینا—dená, v. to employ as a mediator. لانہ—láná, v. to introduce ; to include. اس درمیان میں is—men, adv. in the interval ; meantime.
 درمیانی darmiyáni, P. adj. Interior ; middling ; n. m. middleman ; an interpreter.
 درندہ darinda, P. adj. Ravenous ; ferocious ; n. m. a ravenous beast ; a beast of prey.
 درنگ dirang, P. n. m. Hesitation ; delay ; tardiness.

در dirau, P. n. m. Reaping harvest ; cutting corn at harvest.

دروازہ darwāza, P. n. m. Door. دروازہ ٹھوکتا --
 ṭhokná, v. to knock at the door. دروازہ بند کرنا
 —band karná, v. to shut the door. دروازہ کی
 ڈالنا —ki miṭṭí le dálná, to wear away
 the ground about a door by frequent visiting.

دروان darwán, दरवान, H. n. m. A door-keeper.

در بست dar-o-bast, P. adj. Whole ; entire.

درود darúd, P. n. f. Congratulation ; saluta-
 tion ; blessing. درود بھیجتا —bhejná, v. to
 bless ; to praise.

درو دگر darúdgār, P. n. m. A carpenter ; *Prov*)
 در دگر گری کار ہرگز نہ نیت
 —garí kár búzna nest, carpentry is not the business of a monkey.
 (جسکا کام اسی کر چھوئے) *jiská kám usi ko chhóje*.)

دروغ darog, P. n. m. A lie ; falsehood. دروغ
 حافی —halfí, n. f. perjury ; false swearing.
 دروغ گو —go, n. m. a liar. دروغ گوئی —goí, n. f.
 lying.

درون darún, P. adv. In ; within ; interior ;
 n. m. bowels ; heart.

درونہ دارونا, P. n. m. The heart ; core ; adv.
 inside

درویش darwesh, P. n. m. A dervish ; a beggar ;
 a mendicant.

درویشانہ darweshána, P. adj. Dervishlike.

درویشی darweshí, P. n. f. Doctrine, office, or
 way of life of a dervish.

دردہ durra, A. n. m. A whip ; a scourge.

درہ darra, P. n. m. A crack ; a pass ; a valley ;
 a glen between two hills.

درہم darham, } P. adj. Confused ;
 درہم دارہم بارہم darham barham, } confounded. درہم
 درہم کرنا —barham karná, v. to confuse ; to
 confound. درہم ہونا —barham honá,
 v. to be disorganised.

درہم dirham, A. n. m. (from P درم) Money ;
 a silver coin.

درہی darhi, P. n. f. A kind of fish.

دری dari, درئی, H. n. f. A small carpet (of
 cotton).

دریا daryá, P. n. m. A river ; sea. دریا بر آمد —
 barámad, n. m. alluvial land. دریا برد —bard,
 diluvion. دریا دلی —dili, n. f. great liberality.
 دریاے شور —i-shor, n. m. the sea ; ocean.
 دریا کر کرزہ میں بند کرنا —ko kúza meg band
 karná, to enclose the sea in a jar ; to say
 much in a few words ; to attempt the im-
 possible. دریا میں ڈال کر اور دریا نہکی کر
 aur—men dál, do good and throw in the
 river ; expect no good in return.

دریانت daryánt, P. n. f. Conceiving ; finding
 out ; enquiry ; discernment ; discovery ; in-
 vestigation. دریانت کرنا —karná, v. to enquire
 into ; to find out ; to discover ; to make a
 reference. دریانت ہونا —honá, v. to be as-
 certained or investigated.

دریائی daryái, P. adj. Aquatic ; marine ; n. f.
 a kind of silk cloth. درئی گھوڑا —ghoṛá,
 n. m. hippopotamus.

دریبا daríba, دریبہ, H. n. m. A stall in a
 market where betel is sold.

دریچہ darícha, P. n. m. A window ; easement.

دریدہ darída, P. adj. Torn ; rent. دریدہ دہن —
 dahan, open-mouthed ; plain spoken.

دریز darez, P. n. f. Printed muslin.

دریغ dareg, P. n. m. Denial ; disinclination ;
 repugnance ; regret. دریغ کرنا —karná, v
 to grudge ; to withhold ; to be niggardly or grudg-
 ing in respect of. دریغ ہونا —honá, to have
 a disinclination or objection.

دریغہ daregá, P. intrj. Alas.

دریوزہ daryuza, P. n. m. Beggary ; begging.

دربا darbá, H. n. m. A compartment ; a pigeon
 or fowl house.

درہیل darhiyal, درہیل, H. adj. Bearded ;
 having a long beard.

دزد duzd, P. n. m. A thief ; a robber.

دزدی duzdí P. n. f. Theft ; robbery ; stealing.

دس das, दस, H. adj. Ten.

دسادھ dusadh, H. n. m. Name of a low caste
 of Hindus who keep pigs, acts as chaukidárs
 etc.

دساوار *disáwar*, *दिसावर*, *H. n. m.* A foreign country; a place of importation to or exportation from.

دساروي *disáwári*, *दिसावरी*, *H. adv.* Of or belonging to a foreign country; a sort of betel leaf. دساروي مال — *mál*, imported or foreign goods.

دست *dast*, *P. n. m.* Hand; cubit; loose stool; purge. دست افشان — *afshán*, one who dances or moves the hands in dancing. دست آموز — *ámóz*, *adj.* familiarised; dexterous. دست آنا — *áná*, *v.* to have diarrhoea or loose bowels.

دست اندازي — *andázi*, *á f.* interference; trespass. دست اندازي كړنا — *andázi karná*, *v.* to interfere; to meddle. دست آور — *áwar*, *adj.* purgative. دستاويز — *áwez*, *n. f.* a deed; a document; a bond; an instrument. دستاويز جعلي — *áwez-i-ja'lí*, *n. f.* a forged document.

دست بدست — *badast*, *adv.* from hand to hand; quickly. دست بدست معامه — *badast mu'amila*, ready money purchase or transaction. دست بدعا هونا — *ba-du'á honá*, to put up the hands in prayer. دست برد — *burd*, *n. m.* superiority; advantage; plunder; misappropriation. دست بردار هونا — *bardár honá*, *v.* to give up. دست برداري — *bardári*, *n. f.* withdrawal; renunciation. دست بزر هونا — *barsar honá*, to be distressed; to be unable to execute one's intention. دست بسته — *basta*, *adj.* with folded hands; with close hands. دست بزر هونا — *basar honá*, to salute by putting the hand to the head. دست به قبضه — *ba qabza*, sword in hand; ready for battle. دست بندهك — *bandhak*, *n. f.* pledge. دستخط — *khat*, *n. m.* signature. دستخط پناه — *panáh*, tongs. دستخط كړنا — *khat karná*, *v.* to sign; to endorse. دستخطي — *khatí*, *adj.* signed; endorsed. دست دراز — *daráz*, *n. m.* an oppressor. دست درازي — *darázi*, *n. f.* oppression. دست رسي — *rasí*, *n. f.* reach; ability. دست شفا — *shafá*, *adj.* a complimentary term for a physician. دست فروش — *farosh*, a retailer; a hawker; a pedlar. دستكار — *kár*, handicraftsman; a manufacturer; an artisan. دستكاري — *kári*, *n. f.* handwork; manufacture. دست گردان — *gardán*, a short-term loan on a verbal promise to repay. دست گيري — *giri*, *n. f.* assistance; aid; patronage. دست لاف — *láf*, the first money

received in the morning by dealers. دست لگنا — *lagná*, *v.* to feel a desire to ease nature; to have loose stools. دست مال — *mal*, a handkerchief. دست و گريبان هونا — *garebán honá*, to be engaged in combat.

دستار *dastár*, *P. n. f.* A turban. دستار بند — *band*, *n. m.* one who makes up turbans.

دستارچه *dastárcha*, *P. n. m.* Napkin; towel; handkerchief; a small turban or sash.

دستاند *dastána*, *P. n. m.* A glove; a gauntlet.

دستار خوان *dastarkhwán*, *H. n. m.* A table cloth.

دستك *dastak*, *P. n. f.* Knocking at the door; summons; warrant; commission; passport.

دستك دينا — *dená*, *v.* to knock at the door.

دستگاه *dastgáh*, *P. n. f.* Power; strength; means; understanding; intellect.

دستور *dastur*, *P. n. m.* A common practice; custom; fashion; manner; mode; a minister; a senator; a model. دستور العمل — *ul-'amal*, *n. m.* rules of practice; procedure; constitution; *modus operandi*.

دستوري *dastúri*, *P. n. f.* Perquisites paid to servants by one who sells goods to their master; commission of a broker; leaves; license; conge.

دسته *dasta*, *P. n. m.* A handle; pestle; a quire of paper; a bouquet; a flower-bed; a brigade; a squadron. دسته دار — *dár*, a brigadier; commander of a division.

دستي *dastí*, *P. n. f.* A torch or link carried in the hands; a small handle; a small pincase; a hand trick in wrestling. *adj.* of or from the hand; manual. دستي مهر — *muhra*, a private seal; a signet.

دستياب *dastyáb*, *P. adj.* Attained; reached; procurable. دستياب هونا — *hona*, *v.* to be attained; to be procured; to be available.

دسترته *dasratn*, *S. n. prop.* Name of a Raja, the father of Rama.

دسمي *dasmí*, *दसमी*, *H. n. f.* The tenth day of the lunar fortnight.

دسواں *daswán*, *दसवाँ*, *H. adj.* Tenth.

دسوترا *dasotrá*, *H. adj.* Ten per cent.

داسهرا dasahrá, दशहरा, H. *n. m.* The tenth day of *Jeth Shuklapaksh*, on which is the birthday of *Gānga*. The tenth of *Asin Shuklapaksh*, on which day, after the worship and religious ceremonies performed during nine nights (*navaratri*) images of *Devi* are thrown into the river. On this day *Ram* marched against *Ravan*, for which reason it is called *Vijae Dasmi*. [period or time of life or age]

دشا dashá, दशा, H. *n. f.* Circumstances; state;

دشا dishá, दिशा, H. *n. f.* Point of the compass; direction; call of nature. دشا جانا يا پهرنا يا دشا ترانت جانا—jána, yá—phirná, yá—farágat jána, *v.* to go to ease oneself. دشا شور—shúl, *n. m.* the direction in which it is deemed unlucky to travel on particular days.

دشت dasht, P. *n. m.* A desert; a forest. دشت نورد—naward, a traveller of deserts. دشت نوردی—nawardi. دشت گردی—gardí, *n. f.* travelling over deserts. دشت هـ—i-hú, a desert void of all but *God*; a terror-striking wilderness.

دشتی dashtí, P. *adj.* Of the forest; wild; savage.

دشته dusht, दुष्ट, H. *adv.* Bad; wicked; depraved; *n. m.* a hardhearted man.

دشمن dushman, P. *n. m.* An enemy, a foe. دشمن جانی—i-jáni, mortal enemy; a deadly foe. دشمن دلی—i-dilí, an enemy at heart. دشمن عقل کا—'aql ká—, a stupid person; a fool.

دشمنی dushmaní, P. *n. f.* Enmity; hostility; detestation. دشمنی ڈالنا—dálná, to sow enmity.

دشنام dushnám, P. *n. f.* Abuse.

دشنه dashna, P. *n. m.* A dagger; a poniard.

دشوار dushwár, P. *adv.* Difficult; hard; arduous; troublesome.

دشوارى dushwárf, P. *n. f.* Difficulty; hardship.

دعا du'á, A. *n. f.* Benediction; blessing; prayer; supplication; invocation. دعا خیر—e-khair, prayer for one's welfare. دعا دینا—dená, *v.* to bless or pray for. دعا سلام کہنا—salám kabná, *n.* to send one's compliments. دعا گو—go, *n. m.* one who blesses or prays; a well-wisher. دعا مانگنا—mángná, *v.* to pray for; to bless.

دعا بد bad—, a course.

دعایہ du'áiya, A. *n. m.* Benedictory prayer; *adj.* of or relating to prayer. جمله دعائیہ jumla-i— a benedictory sentence.

دعوت da'wat, A. *n. m.* Invitation; convocation; entertainment; fare; repast; banquet; feast. Persuading people to adopt one's faith. دعوت کرنا—karná, *v.* to give a feast. دعوت جنگ—i-jang, proclamation of war. دعوت سمراوند—e-samarqand, a feast one day and a fast the next. دعوت شیراز—e-shiráz, simple fare; a plain repast. دعوت ولیمہ—e-walima, a marriage feast.

دعوی da'wá, A. *n. m.* Claim; pretention; title; demand; suit; plaint; lawsuit; charge; accusation; proposition; enunciation. دعوی خارج کرنا—kharíj karná, *v.* to dismiss a suit or claim. دعوی دار—dár, plaintiff; claimant. دعوی کرنا—karná, *v.* to claim; to sue; to accuse; to urge a claim; to assert a claim; to demand. دعوی شفع—shufa', a claim for pre-emption. دعوی مبہم—i-mubham, a vague claim.

دغا dagá, P. *n. f.* Deceit; imposture; cheat; treachery; fraud. دغا باز—báz, *adj.* deceitful; fraudulent; *n. m.* a swindler; a traitor; a knave. دغا بازی—bázi, *n. f.* treachery; cheating; imposture. دغا دینا یا کرنا—dená yá karná, *v.* to deceive; to cheat; to act deceitfully or treacherously.

دغدغا dagdaga, } A. *n. m.* Apprehension;
دغدغه dagdaga, } alarm; disturbance; fear;
tumult.

دغل dagal, A. *n. m.* Treachery; corruption; a villain; pickpocket, *adj.* deceitful; base (as coin). دغل فصل—fasal, treachery; deceit; depravity; duplicity.

دگنا dagná, दग्ना, P. and H. *v.* To be marked or branded; to be fired off (as a gun).

دگیلا dagilá, P. and H. *adj.* Spotted; stained.

دف daf, P. *n. m.* A small tambourine.

دفاں dafáin, A. *n. m.* (*Plu. of* دفیة Dafina). Hidden or buried treasures; treasure-troves.

دفتر daftar, P. *n. m.* Register; record; roll; journal; archives; a large volume. دفتر خانہ—khaná, *n. m.* office; counting-house.

دفتري daftari, A. n. m. One who has charge of office stationery, arranges and binds books, rules paper and prepares envelopes, &c.

دفتري dafti, A. n. f. The boards of the binding of a book ; pasteboard.

دفتري dafar-qalyá, P. n. m. A mess in which there is an excess of watery gravy, vegetables, etc. to make it go further ; tasteless victuals ; wishwash.

دفع dafa', A. n. m. Repulsion ; averting ; repelling ; warding off. دفع کرنا—karná, v. to repel ; to remove ; to ward off ; to dispel. دفع الوقتي—ul-waqti, beguiling the time ; putting off. دفع هونا—honá, v. to be turned back ; to be repelled.

دفعتا dafa'tan, A. adv. All at once ; suddenly ; time after ; often.

دفعه dafa' A. n. f. Section ; article ; time ; turn ; class. دفعه دار—dár, n. m. an officer of cavalry commanding small body of men. دفعه کئی دفعہ—, several times ; repeatedly.

دفعیہ dafa'iyá, A. n. m. Repulsion ; preventive ; cure ; averting ; warding off.

دفن dafan, A. n. m. Burial ; interment. دفن کرنا—karná, v. to bury ; to inter ; to conceal. دفن هونا—honá, v. to be buried.

دفینه daffna, A. n. m. Buried or hidden treasure ; treasure-trove.

دق diq, A. n. f. Hectic fever ; chronic fever ; adj. thin ; slender ; minute ; vexed ; troubled ; indisposed ; ailing ; annoyed ; worried. دق داری—dári, n. f. trouble ; vexation ; poverty ; penury. دق داری اٹھانا—dári uṭháná, to undergo trouble ; to be at the pains to. دق کرنا—karná, v. to tease ; to chaff ; to annoy ; to trouble. دق هونا—honá, to be irritated, etc. دق تپ—tap-i—, n. f. hectic fever ; consumption.

دقائق diqáq, duqáq, A. adj. and n. m. Minute ; subtle ; sagacious ; fragment.

دقائق daqqáq, A. n. m. A corn-grinder.

دقائق daqa'iq, A. n. m. Subtleness ; nice points ; difficulties ; flour, meal.

دقت diqqat, A. n. f. Difficulty ; intricacy ; abstruseness ; diligence ; accuracy ; perplexity ;

a nice point ; a subtle or minute thing ; a delicate affair. دقت شناس—shinás, quick of apprehension ; discerning. دقت میں پڑنا—men parná, v. to be in difficulty or distress ; to get into trouble.

دقیق daqíq, A. adj. Subtle ; nice ; delicate ; slender ; minute ; fine ; thin ; obscure ; abstruse ; difficult ; n. m. flour ; meal ; farina.

دقیقہ daqíqa, A. n. m. A minute ; an intricate question ; particle ; an inconsiderate business.

دکڑا dukrá, दुकरा, H. n. m. The fourth part of paisa.

دکشین dakshin, दक्षिण, S. n. m. South.

دکشینا dakshiná, दक्षिण, S. n. m. Alms ; charity ; money given to Brahmans after a feast or any public ceremonial.

دکھ dukh, दुख, H. n. m. Suffering ; affliction ; ailment ; misery ; distress ; pain ; ache ; annoyance ; bother ; fatigue ; labour. دکھ

اٹھانا—uṭháná, v. to suffer ; to take pains.

دکھ بھگتنا—bhugatná, v. to suffer ; to labour.

دکھ پانا—paná, v. to suffer pain or trouble ; to be afflicted.

دکھ دانی—dái, adj. painful ; troublesome. دکھ دینا—dená, v. to give pain.

دکھ کا مارا—ká mará, adj. afflicted. دکھ ہارتا—

hartá, n. m. one who removes pains or sorrow.

دکھ ہارن—haran, n. m. anodyne

دکھانا dukháná, दुखाना H. v. To hurt ; to torment ; to pain ; to inflict pain.

دکھانا dikháná, दिखाना, H. v. To show ; to display.

دکھا dikháú, दिखाऊ, H. adj. Showy ; ostentatious ; illusive

دکھاوت dikháwaṭ, दिखावट, H. n. f. Sight ; exhibition ; show ; display ; disguise.

دکھائی dikhái, दिखाई, H. n. f. Show ; display ; appearance. دکھائی دینا—dená, v. to appear ; to be seen ; to present itself.

دکھڑا dukhrá, दुखड़ा, H. n. m. Misfortune ; calamities ; the story of one's sufferings.

دکھانا رونا — roná, *v. i.* to tell the story of one's sufferings.

دکھانا dikhláná, *دیکھلانا*, *H. v.* To show; to exhibit; to direct. دکھانی دینا — dená, to appear; to be seen.

دکھانا dikhláwá, *دیکھلانا*, *H. n. m.* Show; ostentation; pageantry; guide.

دکھان dakhán, dakkhán or dakkhín, *دکھان*, *H. n. m.* South; the southern part of India; the Deccan.

دکھانا dukhuá, *دکھانا* *H. v.* To ache; to pain; to smart.

دکھانی dakhání, *دکھانی*, *H. adj.* Southern. دکھانی پودینا — pudina, *n.* horse-mint.

دکھایا dikhwaiyá, *دیکھوایا*, *H. n. m.* Beholder; spectator.

دکھی dukhí, *دکھی*, *H. adj.* Afflicted; in distress or pain.

دکھی dukhiyá, *دکھی*, *H. n. m. f.* A great sufferer; unfortunate; wretch. دکھیاری dukhiyárá, *دکھیاری* }
دکھیاری dukhiyárí, *دکھیاری* }
دکھانا dukháná, *P. n. m.* Two prostrations at prayer.

دکھانا dugáná, *P. n. m.* Two prostrations at prayer.

دکھانا dagdagá, *دگدگا*, *H. adj.* Shining; bright.

دکھانا dug-dugi, *H. n. f.* The cavity beneath the throat.

دکھانا dagadhná, *دگدھنا*, *H. v.* To burn; to glow; to brand; to hurt.

دکھانا digar, *P. adj.* Other; another; *adj.* once more; again. دگگور — gún, *adj.* of another complexion or colour; altered; changed.

دکھانا dagar, *دگدگ*, *H. n.* A kettle drum.

دکھانا daglá, *دگلا*, *H. n. m.* A quilted coat.

دکھانا dagná, *دگنا*, *H. adj.* Double; two-fold twice.

دل dil, *P. n. m.* Heart; mind; soul. دلا dilá, *intrj.* O. heart. دلا اٹکنا یا پھنسنا — aṭkná yá phansná, *v.* to be captivated; to fall in love.

دل اچھنا — uchaṭná, to be alienated or disgusted. دل آرام — arám, *n. f.* sweetheart. دل آزار — ázár, *adj.* vexing; cruel.

دل آزرده — ázurdá, *adj.* troubled in mind; dejected

— ázurda honá, *v.* to be offended or displeased.

دلاسا — ásá, soothing; consolation; encouragement. دل آنا — áná, *v.* to be in love with.

دل آویز — áwez, charming; engaging. دل آویزی — áwezi, attractiveness; allurements. دل آوار — bar yá-dár, *n. m.* a charmer; a sweetheart.

دل برداشتگی — bardáshtegi, *n. f.* aversion; indifference. دل بڑھانا — bārháná, *v.* to encourage. دل بند — band, *adj.* and *n. m.* attractive; lovely, a beloved child; son.

دل بھانا — bahláná, *v.* to amuse; to divert. دل پانا — páná, *v.* to find out one's disposition.

دل پسند — dīpsand, — pazír, *adj.* pleasant; agreeable. دل پھٹنا — phaṭná, *v.* to break (one's heart).

دل پھرنا یا ہٹجانا — phirná yá haṭjáná, *v.* to be disgusted. دل پھنسنا — phansná, *v. n.* to fall in love. دل پھیرنا — pherná, *v.* to be disinclined.

دل تنگ — tang, *adj.* close-fisted; mean-minded. دل توڑنا — toṛná, *v.* to dishearten; to disappoint.

دل جمعی — jama'í, *n. f.* ease of mind; satisfaction; confidence; security. دل جمعی کرنا — jama'í karná, *v.* to satisfy one.

دل جو — jo, *adj.* heart-seeking; grateful. دل جوئی — joí, *n. f.* seeking to gain the heart; trying to please.

دل چرانا — churáná, to steal the heart of any one; to abstain (from).

دل چسپ — chasp, *adj.* interesting; pleasing. دل چلا — chalá, *adj.* brave; enterprising.

دل چور — chor, *adj.* timid; inattentive. دل خوش کرنا — khush karná, *v.* to amuse; to divert.

دل دھی — dihi, *n. f.* earnestness; consolation; encouragement. دل دریا — daryá, *adj.* bountiful; magnanimous.

دل دکھانا — dukháná, *v.* to hurt one's feelings. دل دینا — dená yá lagáná, *v.* to give one's mind to; to be in love with.

دل دریا — rubá, *n. m.* a sweetheart; charmer; *adj.* fascinating; bewitching.

دل دریا بانی — rubái, *n. f.* fascination. دل رکھنا — rakhná, *v.* to console; to comfort; to please.

دل سرد — sard, *adj.* coldhearted; indifferent. دل سنبھالنا — sambhálná, to nerve.

دل سوختہ — soḳta, *adj.* afflicted. دل سوز — soz, *adj.* affecting; pathetic.

دل شاد — shád, *adj.* cheerful; glad. دل شکستہ — shikasta, *adj.* broken-hearted.

دل فریب — fareb, *adj.* charming; lovely; fascinating. دل آویز — áwez, charming; lovely; fascinating.

afroz, invigorating ; recreating ; refreshing. **دلنگار**—figár, *adj.* melancholy ; mournful. **دل کرنا**—karákarná, *v.* to summon up courage, to harden the heart. **دلکش**—kash, *adj.* attractive ; winning ; lovely. **دلکش**—kushá, *adj.* pleasing ; delightful. **دل کے پھوپھولے پھورنا**—ke phaphole phorná, to take revenge ; to pay off old scores ; to rip up old sores ; to renew a half-forgotten grief. **دل کھٹنا کرنا**—khatá karná, to displease ; to offend. **دل گداز**—gudáz, *adj.* heart melting ; pitiful. **دل گردہ**—gurda, *n. m.* courage. **دلگیز**—*adj.* attached to ; to be in love ; to be amused. **دلگیا**—lagí, *n. f.* amusement ; jest ; joke. **دل لینا**—lená, *v.* to take one's heart away ; to discover or ascertain the wishes or feelings (of). **دل مسوس کر رھنا**—masos kar rahná, to bear quietly or patiently. **دل مضبوط رکھنا**—mazbút rakhná, to keep a stout heart. **دل قابلا**—men—*qálná*, *v.* to possess one's heart. **دل قابلا**—men *qálná*, *v.* to inspire ; to infuse. **دل قابلا رکھنا**—men rakhná, *v.* to keep secret ; to bear in mind. **دل قابلا فرق ہونا**—men farq honá, to feel distrustful (of) ; to disgust ; to suspect. **دل قابلا گھر کرنا**—men ghar karná, to take one's heart ; to become intimate. **دل قابلا نشین کرنا**—nashín karná, *v.* to impress upon the mind. **دل قابلا نواز**—navaz, *adj.* and *n. m. f.*, soothing the mind ; gracious ; conciliating ; beloved ; a mistress ; sweet-heart. **دل قابلا و جان**—o-ján, heart and soul ; tooth and nail. **دل قابلا سے جان سے**—o-ján se, *adv.* heartily. **دل قابلا ہی قابلا**—hí—men, *adv.* in the inmost heart ; secretly. **دل قابلا ہت جانا**—hať jáná, *v.* to be averse. **دل قابلا ایک دل ہو کر**—ek—ho kar, with one consent ; unanimously ; with one heart. **دل قابلا بی دلی**—be-dili, discouragement ; unwillingness ; aversion.

دل dal, *H. n. m.* A large army ; thickness ; the leaf of a tree. **دلدار**—dár, *adj.* thick ; fleshy.

دلدار dulár, *H. n. m.* Love ; endearment ; affection.

دلداري dulári, *H. adj.* Dear ; darling.

دلداري raj—*n. f.* a princess.

دلداري dilásá, *P. n. m.* Consolation ; comfort. **دلداري دینا**—dená, *v.* to console ; to soothe.

دلداري dallák, *A. n. m.* A waiter at a bath who rubs, etc., bodies of those who bathe ; a barber. **دلداري تیغ دلاک**—teg-i-dallák, razor.

دلداري dalál, *A. n. m.* A broker.

دلداري dalálat, *A. n. f.* Indication ; sign ; argument ; proof ; brokerage. **دلداري کورنا**—karná, *v.* to indicate ; to show ; to denote ; to prove ; to allude ; to typify.

دلداري dallála, *P. n. f.* A go between ; procuress.

دلداري dalálí, *A. n. f.* Brokerage ; the business of a broker.

دلداري diláná, *H. v.* To cause to give ; to put in possession.

دلداري diláwar, *P. adj.* Brave. **دلداري دلداري**—*n. f.* bravery ; courage ; boldness.

دلداري dulái, *H. n. f.* A quilt ; double sheet.

دلداري daláel, *A. n. m. (Plu. of Dalil)*, Proof ; arguments.

دلداري dal hádal, *H. n. m.* A mass of clouds ; large army ; a large tent.

دلداري dalidr, *H. n. m.* Poverty ; pauperism ; refuse.

دلداري dalidri, *H. adj.* A poor man.

دلداري daldal, *H. n. f.* Marsh ; quagmire ; bog ; swamp.

دلداري duldul, *A. n. m.* Muhammad's horse which he gave to his son-in-law Ali.

دلداري daldaláná, *H. v.* To shake or yield as a quagmire.

دلداري daldalí, *H. adj.* Swampy ; boggy.

دلداري dalq, *A. n. m.* A mendicant's habit made of patches and shreds. **دلداري پوش**—posh, *adj.* wearing a *dalq* ; clothed in rags.

دلداري dalak, *H. n. f.* Trembling ; tottering ; shock ; a blow.

دالکنا *dalakná*, दलकना, H. *v.* To tremble ; to shake; to totter.

دالکھنا *dalakhná*, दुलखना, H. *v. i.* To refuse ; to decline ; to gainsay ; disobey.

دالکی *dalkí*, दुलकी, H. *n. f.* Trot. دالکی جاننا یا چلنا — *jána yá chalná*, *v.* to trot.

دالنا *dalná*, दलना, H. *v.* To grind coarsely ; to split pulse.

دالو *dalv*, A. *n. m.* The sign Acquarius ; a bucket.

دالویا *dalwaiyá*, दलवैया, H. *n. m.* One who grinds corn, &c.; a miller.

دالہا *dulhá*, दुल्हा, H. *n. m.* A bridegroom.

دالہن *dulhan*, दुल्हन, H. *n. f.* A bride; a wife.

دلی *dillí*, दिल्ली, H. *n. f.* Delhi, the capital of India.

دلی *dilí*, P. *adj.* Cordial ; hearty.

دلیا *dalyá*, दल्या, H. *n. m.* Half-ground or coarsely pounded grain ; coarse meal.

دلیر *diler*, P. *adj.* Brave ; bold ; intrepid ; courageous ; valiant. [intrepidly.

دلیرانہ *dilerána*, P. *adv.* Bravely ; boldly ;

دلیری *dilerí*, P. *n. f.* Bravery ; valour ; boldness ; intrepidity ; courage. دلیری کرنا — *karná*, *v.* to take courage ; to dare.

دلیل *dalíl*, A. *n. f.* Argument ; reason ; proof. دلیل پیش کرنا — *pesh karná*, *v.* to adduce argument or proof. دلیل کرنا — *karná*, *v.* to argue ; to reason ; to raise objection.

دلیل *dalel*; E. *n. f.* corr. of drill; punishment.

دلایتی *dalaíntí*, दलैती, H. *n. f.* A handmill for grinding, bruising or splitting grain.

دم *dam*, P. *n. m.* Breath ; life ; a moment ; pride ; pull of a *huqqa* ; a draught of water ; vitality ; energy ; spirit ; ambition ; recreation ; stewing over a slow fire ; deception ; trickery ; coaxing ; wheedling. دم اُلٹنا — *ulaṭná*, *v.* to be suffocated. دم یا دم یا دم *damá*—, *yá*— *badam*, *adv.* every moment ; continually ; successively. دم بلا — *báz*, *n. m.* a deceiver ; a wheedler ; *adj.* treacherous ; artful. دم باز — *i-báz pasín*, *n. m.* the last breath. دم بازی — *bázi*, *n. f.* deception ; deceiving.

—*baṛháná*, to practise holding the breath. دم بھڑوہ — *bakḥud*, *adj.* struck dumb ; silent.

دم بند — *band*, an alembic. دم بند کرنا — *band karná*, to silence one. دم بھر میں — *bhar meṅ*, *adv.* in a second. دم بھرنے — *bharná*, *v.* to be exhausted ; to sing the praises of ; to laud.

دم پخت — *puḥt*, *n. m.* a stew ; simmering.

دم پھولنا — *phúlná*, *v.* to pant ; to gasp. دم پھولنا — *ḥúṭná*, *v.* to die. دم چرانا — *churáná*, *v.* to pretend to faint or die. دم چڑھنا — *chaṛhná*, *v.* to pant ; to respire. دم چھوڑنا — *chhoṛná*, *v.* to breathe one's last ; to die ; to expire.

دم خم — *kham*, *n. m.* the temper of a blade ; vigour. دم مدار — *dár*, *adj.* elastic ; sharp ; edged ; long lived. دم دالسا — *dilásá*, *n. m.* false hopes ; soothing. دم دینا — *dená*, *v.* to leave to simmer or stew ; to deceive ; to die for. دم روکنا — *rokná*, *v.* to suffocate ; to choke ; to suspend respiration. دم سادھنا — *sádhná*, *v.* to hold in one's breath as a religious exercise as some *faqirs* are said to do for hours together. دم ساز — *sáz*, *n. m.* a confidant ; an intimate friend. دم سرد — *e-sard*, a sigh of despair. دم سر کھنا یا خشک ہونا — *súkhná yá ḥushk honá*, to be frightened ; to freeze one's blood. دم شمشیر — *i-shamsher*, edge of a sword. دم غنیمت ہے — *ganímat hai*, life is blessing enough. دم قدم — *qadam*, the animating spirit ; mainstay ; existence ; health and strength.

اللہ کرے سلامت جم جم رہے یہ بیڑا
ہے جس کے دم قدم سے دنیا کا سب بکھیرا
(انشا)

Allah kare salámat jam jam rahe yeh beṛá,
Hai jis ke dam qadam se duniyá ka sab
bakheṛá.

دم کرنا — *karná*, *v.* to blow ; repeat (an incantation, on or over, as a conjurer). دم کھانا — *khána*, *v.* to be silent ; to be deceived ; to have patience. دم کھینچنا — *khínchná*, *v.* to remain silent ; to smoke ; to suspend breath. دم لگانا — *lagáná*, *v.* to smoke. دم لینا — *lená*, *v.* to rest ; to breathe. دم مارنا — *márná*, *v.* to speak ; to boast. دم مرے دم آنا — *meṅ dam áná*, *v.* to return to one's senses ; to revive.

رہنا دم میں دم رہنا—men—rahna; to live; to exist.
 آنا دم ناک میں آنا—nák men áná, v. to be much
 annoyed. نقد دم—i-naqd, alone; oneself;
 ready (as money). نکالنا دم—nikalná, v. to
 die; to expire. نہ مارنا دم—na márná, v.
 not to say a word. گجر دم—gajar—, the early
 morning; day-break.

دم dum, P. n. f. Tail; end; extremity;
 follower. چھلا دم—chhallá, tail of a paper
 kite; (*Met.*) one who is always at the heels
 of another, as a child; a hanger on. دم دار—
 dár, *adj.* having a tail. دم دار تارا—dár tára,
 n. m. a comet. دبا کر ہٹانا دم—dabakar
 bhágná, v. to turn tail; to flee. دم گزا—
 gazá, the root or place of growth of the tail. دم
 ہلانا—hiláná, v. to wag the tail (as a dog).
 گھسنا دم میں گھسنا—men ghusná, to seek protection.
 دماغ dimág, A. n. m. Brain; head; intellect;
 mind; desire; pride; haughtiness; airs;
 conceit; intoxication; the nose; the organ
 of smell. دماغ پریشان کرنا—pareshán karná,
 v. to produce a confused state of mind; to
 bother one's head. دماغ چھڑنا—jharná, to
 have the pride taken out of one. دماغ چڑھنا—
 charhá, to have the head turned, or to
 become proud. دماغ خالی کرنا—khalí karná,
 n. to beat one's brain to no purpose. دم دار—
 dár, *adj.* haughty; proud. دماغ روشن—
 roshan, snuff. دماغ کرنا—karná, v. to be proud or
 haughty. دماغ میں خال ہونا—men khalal
 honá, v. to have brain disease; to be affected
 with derangement of the brain. دماغ ہونا
 honá, v. to be vain; proud.

دماغی dimági, P. *adj.* Of the brain; proud.
 دمامہ damáma, P. n. m. A kettle drum.
 دمان damán, P. *adj.* Terrible; fierce; powerful.
 دمچی dumchí, P. n. f. A crupper; the lower
 part of the back.
 دمدمانا damdamáná, H. v. t. To shake (as the
 branch of a tree).
 دمڑی damrí, دمڑی, H. n. f. The eighth part of a
 paisa. دمڑی کے تین تین ہونا—ke tén tén honá,
 to be reduced to abject poverty.

دمک damak, دمک, H. n. f. Glitter; flush; ardour.

دامکنا damakná, دمکنا, H. v. To glitter; to
 glow; to bloom.

دامکا damká, دمکا, H. n. m. A hillock.

دامکالا damkalá, دمکالا, H. n. m. A squirt; a
 pump; a fire-engine, a jack or crane.

دمل dummal, P. n. m. A boil; an abscess; a
 swelling.

دمن dimn, A. n. f. The orbicular dung of
 camels, sheep, goats, &c. (*mangni.*) [blood.

دمری damawí, A. *adj.* Plethoric; tinged with

دما dama, P. n. m. Asthma; a pair of bellows.

دمی damí, P. n. f. A kind of small *huqqa* or
 tobacco pipe.

دمیدہ damída, P. *adj.* Shot forth; blown; opened
 out; blossoming; broken forth (as the dawn
 of day.)

دن din, दिन, H. n. m. Day; time; (*Met.*) cir-
 cumstances; lot; fate; (*Plu.*) period of life;

age. دن بدن—badín, *adv.* day by day; from
 time to time. دن بھرنے یا پھرنے—bahurná yá

phirná, v. to take a favourable turn. دن بھر—
 bhar, *adv.* the whole day; all day long.

دن پڑنا—paṛná, evil days to befall. دن پورے
 کرنا—púre karná, to drag out one's days. دن

چڑھنا—charhá, to be or begin late; to
 delay. دن چڑھنا—charhá, v. to rise (the

sun); the day to be far advanced; to con-
 ceive, دن چڑھے—charhe, *adv.* late in the

morning. دن دھارے—dháre, —dhaule, —diyá, —dopahar,
adv. in broad daylight. دن ڈھلنا—dhalná, v.

to decline (the sun); to close (the day). دن
 ڈھلے—dhale, *adv.* before sunset; in the after

noon. دن سے—se, while yet day before sunset.
 دن کاٹنا—káṭná, v. to pass time in hardship

or pain. دن کو اور رات کو رات نہ سمجھنا—
 —ko—aur ráat ko ráat na samajhná, v. to be

totally absorbed in thought or business.
 دن گزوانا—ganwáná, to trifle away time. دن

مندانہ—mundná, v. to set (the sun) دن نکالنا—
 nikalná, v. to be dawn or sunrise. دن بڑا

بارا—bará—, broad day; Christmas Day. (*Prov.*)
 دن بڑی رات چوگنی—dúní ráat chaugní, may

your days be twice as long and your nights

four times as long ! (a blessing or a curse) (Prov.) دن عيد رات شب برات 'id ráf shab barát, each day was festive, and each night a festive night.

دندان danádan, دناदन, H. *n. f.* Constant boom of a cannon.

دنباله dumbálah, P. *n. m.* A tail ; the outer angle or corner of the eye ; after ; behind.

دنبال dumbal, P. *n. m.* A tail ; an abscess. (See دامل Dammal).

دنبه dumba, P. *n. m.* A kind of sheep with a thick tail.

دنت dant, दाँत, S. *n. m.* A tooth ; tusk. دنت پير —pir, toothache.

دنتیله dantelá, दन्तेला, dantila, दन्तीला, H. *adj.* Having large or prominent tusks (an elephant, boar, &c.).

دند dund, दुण्ड, H. *n. m.* A large kettle-drum ; noise ; riot ; injustice. دند مچانا —macháná, *v.* to make a noise or riot ; to oppress ; to create an uproar.

دند dand, P. *n. m.* A rib, the beam of a weaver's bloom.

دندان dandán, P. *n. m.* A tooth. دندان شکن جراب —shikan jawáb dená, *v.* to make a crushing reply ; to silence one ; to cast in one's teeth.

دندان dandána, P. *n. m.* The tooth of a saw, &c.

داندانا dandanána, दनदनाना, H. *v.* To sing for joy ; to be contented and independent.

دند dand, दण्ड, S. *n. m.* Chastisement ; fine ; penalty.

دندوات dandwat, दण्डवत, S. *n. f.* Prostration ; obeisance ; bow.

دنگ dang, P. *adj.* Struck ; astonished. دنگ هونا —honá, *v.* to be astonished.

دنگ dangá, दंगा, H. *n. m.* Riot ; disturbance ; wrangling ; hubbub ; tumult. دنگا باز —báz, quarrelsome ; turbulent ; riotous ; mutinous. دنگا کرنا —karná, *v.* to commit a riot ; to incite to rebellion.

دنگل dangal, दंगल H. *n. m.* An amphitheatre ; an arena ; wrestling.

دنگی dangai, दंगई, H. *adj.* Quarrelsome ; seditious.

دنی díní, H. दिनी, *adj.* Aged ; old.

دنی dani, A. *adj.* Mean, base. دنیا دنی —dunya-e—, the wretched world.

دنیا dunyá, A. *n. f.* The world ; the people ; multitude. دنیا دار —dár, *adj.* worldly ; *n. m.* one who is absorbed in worldly affairs. دنیا داری —dári, *n. f.* worldliness ; worldly affairs ; worldly goods or possessions ; wife and children ; a show of politeness. دنیا داری —dunyawí, *adj.* belonging to this world ; worldly ; secular. دنیا و ما فیہا —wa má fihá, the world and whatever is in it.

دو do, दो, H. *adj.* Two. دو آتشه —átisha, *adj.* double distilled. دو آتشه شراب —átisha sharáb, double distilled liquor. دو ارتبی —arthí, *adj.* ambiguous ; double meaning ; equivocal. دو انی —anní, *n. f.* a small silver coin ; a two anna bit. دو باره —bára, *adj.* twice again. دو بدر —badú— face to face. دو برسی —barsí, biennial. دو در پاره —bháshiyá, *n. m.* an interpreter. دو پاره —pára, *adj.* halved ; in two pieces. دو پایه —páya, *adj.* two-legged ; *n.* a man. دو پٹہ —paṭṭa, *n. m.* a cloth thrown loosely over the shoulders. دو پرتا —partá, *adj.* of two folds ; double. دو پستہ —pasta, pregnant. دو پالما —*n. m.* a kind of pigeon ; a kind of stone for a ring. دو پھر —pahr, *n. f.* midday ; noon. دو پھر پہلے —pahar pahle, *adj.* ante meridian ; A. M. دو پھر ٓہلے —pahar dhale, *adj.* post meridian ; P. M. دو پھری —paharí, *adv.* of noon or midday. دو پھریا —pahariyá, *n. m.* a kind of flower. دو پیازہ —piyaza, *n. m.* a kind of dish in which a double quantity of onions is used and which has little or no gravy. دو ٹوک جواب دینا —túk jawáb dená, *v.* to give a short and decisive answer ; to give a flat denial. دو ٹوک کرنا —túk karná, *v.* to cut in two ; to separate. دو ٹوک ہونا —túk honá, *v.* to be adjusted ; to be separated. دو جیا —jiyá, *adj.* pregnant. دو جی سے ہونا —jí se honá, *v.* to be pregnant. دو چار ہونا —chár honá, *v.* to have an interview ; to meet. دو چہتا —chittá, *adj.* of two minds ; wavering. دو چند

chand, *adj.* double ; twofold ; as much again.
 چوبه—choba, *adj.* double-poled (tent). دو در
 دانه کو پهرنا—dāne ko phirná, to beg from
 door to door for a crust of bread. دو دسته—
 dasta, *adj.* double-handed. دو دن کا مہمان—
 din ká mehmán, *adj.* transient ; passing away.
 دو دھارا—dhára, *adj.* two-edged (sword). دو راہا—
 ráhá, *n. m.* a road dividing into two,
 leading different ways. دو رخا—rukhá, *adj.*
 double-faced ; the same on both sides. دو رسا—
 rasá, *n. m.* a mixture of two kinds of
 tobacco. دو رنگا یا دوگلا—raggá yá doglá, *n. m.*
 a mongrel. دو رنگا—rangá, *adj.* of two
 colours ; piebald ; hypocritical. دو رنگی—
 rangí, *n. f.* double-dealing ; hypocrisy ; dup-
 licity. دو زانو بیٹھنا—zánú baiṭhná, *v.* to sit
 on the hams. دو سالہ—sála, *adj.* of two
 years ; biennial. دو سوتی—súti, *n. m.* a kind
 of cloth the threads of which are double.
 دو سیرا—será, *n. f.* a weight of two seers.
 دو شالہ—shála, *n. m.* a pair of shawls. دو شنبہ—
 shamba, Monday. دو طرفہ—tarfa, *adj.* on both
 sides ; two-sided ; mutual. دو کرنا—karná, *v.*
 to cut into two ; to bisect. دو کڑی کی بات کر
 دینا—kauṛí kí bát kar dená *v.* to disgrace
 oneself ; to lose one's credit. دو لٹی—latti, a
 kick with both hind legs. دو لٹی مارنا—márná,
v. to kick. دو لڑا—lará, *n. m.* a necklace of
 two strings or rows. دو لڑھی—lohí, *n. f.*
 scimitar made of two plates of steel joined
 together. دو مت—maṭ, a mixture of two
 soils. دو محلہ یا منزلہ—mahlá yá manzila, *adj.*
 of two floors or stories (a house). دو نالی—
 náli, *adj.* double-barrelled (a gun). دو ہاتر—
 hattar, *n. m.* beating with both hands.
 دو daw, *P. adj.* Running (used in compos.)
 دو داوی—dawá dawí, دو دوش—dawá-dawish,
 running incessantly ; running in every direc-
 tion ; labour and fatigue ; toil and trouble
 (daur dhúp). [cards, dice, &c.]
 دو دوا—dúá dúa, *H. n. m.* The two or deuce at
 دو داوی—dawá, *A. n. f.* A medicine ; a remedy ; a
 cure. دو پزیر—pazír, *adj.* remediable. دو خانہ—
 khána, *n. m.* an apothecary's dispensary.
 دو ساز—sáz, a maker or compounder of
 medicines. دو فروش—farosh, a druggist. دو

کرنا—karná, *v.* to remedy ; to cure ; to heal.
 دو دارو—kháná, *v.* to take medicine. دو دارو
 —dárú. دو دارمن—darman, *n. f.* medicine ;
 treatment ; remedy. دو دارو کرنا—dárú karná,
v. to treat a patient. دو لگنا—lagná, *v.* to
 be affective (a medicine).

دو آب dawáb, *A. n. m.* An animal ; a quadruped ;
 beast ; cattle.

دو آبا du-ába, *P. n. m.* A country between two
 rivers, as the country between the Ganges
 and the Jumna, called a Doáb ; Antárved

دو پار dwápar, द्वापर, *S. n. m.* The third yug or
 brazen age comprising, 8,64,000 years.

دو ات dawát, दवात, *H. n. f.* An inkstand.

دو اداسی dawádasí, द्वादशी *H. n. f.* The twelfth
 day of the half month (reckoned from new
 or full moon).

دو اوار davvár, *A. adj.* Moving. دو اوار چرخ—
 charkh-i —, the revolving heavens.

دو وار dwár, द्वार, *S. n. m.* An entrance ; a door ;
 a gate. دو وار پال—pál, *n. m.* a door-keeper.

دو وارا dwára, द्वारा, (*S.*) *n. m.* A door ; gate ;
prep. by means of ; through ; by ; with.

دو وازدہ dwázdih, *P. adj.* Twelve.

دو اول doál, *P. n. f.* A leather strap. دو اول پا—
 pá, *adj.* web-footed ; *n. m.* a fabulous race with
 legs like thongs, said to decoy and devour
 unwary travellers.

دو اول دیوالا diwála, दिवाला, *H. n. m.* Bankruptcy.
 دو اول نکالنا یا پیٹنا—nikálná yá piṭná, *v.* to make a
 declaration of bankruptcy ; to become in-
 solvent.

دو اول دیوالی diwáli, दिवाली, *H. n. f.* A festival observed
 by the Hindus in honour of *Lakshmi* on the
 15th *Katik* when their houses and streets
 are white-washed and illuminated, and the
 night is spent in gambling. [an insolvent.

دو اول دیوالیا divályá, दिवालिया, *H. n. m.* A bankrupt ;
 دو اول داوام—dawám, *A. n. n. m.* Perpetuity ; lasting ;
 perseverance *adv.* always ; eternally. دو اول
 علی الدوام—'al-ad —, continually ; incessantly.

دو اول داوایر dawáir, *A. n. m.* (*Plu. of* دائرہ *Dáera*).
 دو اول ای-ہم مرکز—i-ham-markaz, concen-
 tric circles.

دوب *dúb*, दूब, H. *n. f.* A kind of grass.
 دوبر *dúbar*, दूबर, H. *adj.* Weak ; lean.
 دورب *dúbbhar*, दूभर, H. *adj. & n. m.* Difficult ;
 burdensome ; troublesome ; a burden ; a trial
 دورے *dube*, दूबे, H. *n. m.* A class of *Brahmans*.
 دورت *dút*, दूत, H. *n. m.* An ambassador ; an
 envoy ; a secret messenger ; an angel who
 passes between God and mortals.
 دورتی *dúti*, दूती, H. *n. f.* A female messenger or
 spy ; a female backbiter.
 دورتی *dutiya*, द्वितीय, H. *adj.* Second.
 درج *dúj*, दूज, H. *n. f.* The second day of a lunar
 fortnight. درج *bar*, *n. m.* a bigamist ; a
 man who marries a second wife. درج کا چاند
ká chánd, the new moon.
 درجا *dújá*, दूजा, H. *adj.* Second ; secondary.
 درختہ *dokhta*, P. *adj.* Sewed ; stitched ; fixed ;
 transfixed.
 درد *dád*, P. *n. m.* Smoke ; vapour ; haze. درد
 — *i-dil*, آلودہ *álúda*, *adj.* smoky. دل
n. m. a deep sigh.
 دردمان *dúdmán*, P. *n. m.* A noble family ; a
 great tribe ; house ; race ; generation.
 دردھ *dúdh*, दूध, H. *n. m.* Milk ; the juice or
 milk of plants ; (*fig.*) caste ; sect. دردھ آدھاری
ádharí, *n. m.* one who lives on milk. دردھ
 چھڑانا *chhuráná*, *v.* to wean (a child.) دردھ
 بھائی *bháí*, *n. m.* a fosterbrother. دردھ
 بھارنا *bhar áná*, to feel affection for. دردھ
 پلانا *piláná*, *v.* to suckle. دردھ پلانی
pilái, a wet nurse. دردھ پوتا
pút, *n. m.* cattle and children. دردھ
 دھنا یا نکالنا *duhná yá nikálná*, *v.* to
 milk. دردھ ہتھی
handí, *n. f.* a vessel for
 holding milk. دردھ کا پانی کا پانی کرنا
ká dúdh aur pání ká pání karná, to sift the
 true from the false ; to exercise absolute and
 faultless justice. دردھوں نہاؤ اور پوتوں پہاؤ
dúdhon naháo aur púton phalo, May you be
 rich in cattle and children !
 دردھ *dúdh*, P. *n. m.* (see *dád*, Race ; family ;
 lampblack ; soot.
 دردھار *dudhár*, दुधार, H. *adj.* Giving much milk ;
 milch. (Prov.) دردھار کا گے کی دو لائیں بھئی سہنی
U. E.—40

دردھار *Dudhár gae ki do láten bhí sahni*
partí haiñ. Cf. "Every rose has its thorn.

دردھ *duddhí*, दुद्धी, H. *adj.* Milky ; *n. f.* starch ;
 plants with milky juice.

دردھیا *dúdhiyá*, दुधिया, H. *adj.* Milky ; white.
 دردھیا پتھر—*patthar*, a white stone used in
 building and in making various utensils.

دور *dúr*, P. *n. f.* Distance ; *adj.* far ; distant ;
 remote. دور اندیش *andesh*, *adj.* far-sighted ;
 circumspect ; prudent. دور اندیشی
andeshí, *n. f.* foresight ; circumspection prudence. دور
 اندیشی کرنا *andeshi karná*, *v.* to exercise dis-
 cretion ; to provide against. دور باد
bád, God forbid. دور باش *básh*, *avaunt* ; be off. دور
 بھگنا *bhagná*, *v.* to run away ; to abstain
 from ; to shun. دور بین *bín*, *a. f.* a spy-glass ;
 a telescope. دور بینی *biní*, foresight ; pru-
 dence. دور پار *pár*, God forbid, (a phrase
 used by women). دور دراز *daráz*, *adj.* very
 far off or distant. دور کرنا *karná*, to remove ;
 to dispel ; to avert ; to dismiss ; to turn out.
 دور ہونا *honá*, *v.* to be removed, remote or
 dispelled. دور ہو *ho*, begone ! be off ! دور
 کی بات *kí bát*, a deep thought. دور کی
 بوجھنا *kí kahná*, to express idea, دور
 بھجنا *kí bújhná*, to see long way off. دور
 رہنا *rahná*, to remain afar off.

دور *daur*, A. *n. m.* Revolution of time or of a
 heavenly body ; passing round of wine ; moy-
 ing in a circle ; circumference ; orbit ; circu-
 lation ; course ; career ; age ; period ; turn ;
 circuit. دور دورہ *daura*, *n. m.* rule ; sway ;
 jurisdiction ; dominion.

دورا *daurá*, H. *n. m.* A kind of large basket.

دوران *daurán*, A. *n. m.* Time ; age ; fortune ;
 vicissitude ; a revolution ; period ; circle ;
 pendency ; duration. دوران خون *i-khún*,
 circulation of the blood. دوران مقدمہ
i-muqaddama, pendency of a case. دوران
 عذر انتقام *uzar i-intiqál-i-daurán-muqaddama*, *Lis*
pendens. دوران مقدمہ میں *i-muqaddama meñ*,
pendente lite. دوران سر *i-sar*, *n. m.* a swim-
 ming in the head ; dizziness ; vertigo.

دورخی *dorukhí*, P. *n. f.* A kind of bow.

دوره *daura*, P. n. m. Circuit ; tour ; revolution ; session ; an inspection tour ; fit. دوره پڑنا—*parná*, to be attacked by fit. دورے سپرد کرنا *daure supurd karná*, v. to commit to the Sessions. دورے کرنا—*karná*, v. to go on tour or circuit ; to hold Sessions. [sling bucket. دوری *daurí*, دَورِی, H. n. f. A small basket ; a

دوری *durí*, P. n. f. Distance ; remoteness.

دور *daur*, دَور, H. n. f. Running ; race ; course ; reach ; endeavour ; assault ; incursion ; raid. دور دھوپ—*dhúp*, n. f. hard labour or toil ; much effort. دور دھوپ کرنا—*dhúp karná*, v. to toil hard. دور کر چلنا *kar chalná*, v. to walk fast. دور مارنا—*márná*, to make a forced march ; to make a sudden attack on.

دورا *daurá*, دَورِا, H. n. m. A mounted highway-man. دورا درتی—*daurí*, n. f. running ; hurry.

دورانا *dauráná*, دَورِانا, H. v. To cause to run ; send in pursuit ; to despatch ; to put in quickly (as cake in an oven) ; to set (thought) busy ; to give wings to thoughts.

دورنا *daurná*, دَورِنا, H. v. To run ; to go fast ; to gallop ; to attack ; to rush at ; to circulate ; to fall upon ; to travel fast (as news) ; to pervade (as poison in the system). دور دور آنا *daur daur áná*, v. to come repeatedly. دور دھوپ کرنا—*dhúp karná*, v. to toil hard.

دوز *doz*, P. adj. & n. m. Sewing ; one who sews ; (used in comp.) as ; دوز خیمہ *khaima*—, a tent-maker. دوز زر *zar*—, an embroiderer. زمین *zamín*—underground.

دوزخ *dozakh*, P. n. m. Hell ; (*Met.*) belly.

دوزخی *dozakhí*, P. adj. and n. m. Hellish ; infernal ; the damned ; a dweller in hell ; a great sinner.

دوس *divas*, दिवस, H. n. m. Day.

دوست *dost*, P. n. m. A friend ; a lover ; a sweetheart. دوستداری—*dári*, n. f. friendship. دوست رکھنا—*rakhna*, v. to like ; to hold dear. دوست نما—*numá*, in the guise of a friend : a seeming friend. دوست نواز—*nawáz*, a cherisher of friends.

دوستانہ *dostána*, P. adv. Friendly ; amicably. دوستانہ میں—*men* adv. in a friendly way ; as a friend.

دوستی *dostí*, P. n. f. Friendship ; affection ; amity ; attachment. دوستی کا دم ہرنا—*ká dam bharná*, to make a boast of friendship (for).

دوسرا *dúsrá*, दूसरा, } H. adj. Second ; next ;
دوسری *dúsrí*, दूसरी, } other ; equal ; match ; a
peer ; a duplicate ; following (day). دوسرا کے
دوسرا—*ke bolná*, v. to repeat. بار دوسری *bár*,
adv. second time ; twice. دن دوسرے *dúsre*
din, next day ; to-morrow. ماں دوسری *mán*,
n. f. a step-mother. دوسرے *dúsre*, secondly ;
in the second place ; again ; on the other
hand. [night.

دوش *dosh*, P. n. m. The shoulder ; adv. yester-
دوش *dosh*, दोष, H. n. m. Fault ; crime ; blame,
defect ; calumny ; offence ; wrong ; sin. دوش
لگانا—*lagáná*, v. to accuse ; to blame ; to
calumniate.

دوشیزگی *doshízagí*, P. n. f. Virginity.

دوشیزا *doshiza*, P. n. f. A virgin ; a maid.

دوشینہ *doshína*, P. adj. Of last night ; last
night's.

دوغ *dog*, P. n. m. Butter milk ; curd ; churned
sour milk. [pure breed.

دوگلا *doglá*, P. adj. Hybrid ; mongrel ; not of

دوکان *dúkán*, P. n. f. A shop. دوکان یا بند کرنا
—*bařháná*, *yá band karná*, v. to close the
shop. دوکان چلنا—*chalná*, a shop or business
to flourish. دوکاندار—*dár*, a shop-keeper ; a
trader. دوکانداری—*dári*, n. f. shop-keeping ;
a trade دوکانداری کی باتیں—*dári kí báten*,
shop-keeping words ; falsehood ; trickery ;
humbug. دوکان کرنا—*karná*, to keep or open
a shop. دوکان لگانا—*lagáná*, v. to open or
set up a shop ; to arrange goods for sale.

دوکنہا *dokhná*, दोखना, H. v. t. To accuse ; to
blame ; to reproach ; to calumniate.

دوکھی *dokhí*, दोखी, H. n. m. An offender ; a
criminal ; a sinner ; adj. faulty ; defective.

دوگلا *dúglá*, दुगला (दुगला) H. n. m. A sling basket
of large size round and deep used for irri-
gation. [with.

دولاب *doláb*, P. n. m. A wheel for drawing water

دوات daulat, A. n. f. Wealth ; riches ; fortune ; happiness ; felicity ; cause ; means. دولتخانه—khána, n. m. a mansion ; a palace ; a house (in polite speech). دولتخانه خاص—khána-i-khás, a royal residence. دولتمند—maud ; *adj.* wealthy ; rich ; opulent ; n. m. wealthy person. دولتمندي—mandí, n. f. wealth ; opulence. بدولت ba—, *pre.* by the favour of ; by means of ; by the good fortune of. نودولت nau—, *novus homo* ; a parvenu ; an upstart.

دولها dúlhá, دُولِهَا, H. n. m. A bridegroom ; a husband.

دولهن dúlhan, دُولِهَا, H. n. f. A bride.

دوم dūvum, P. *adj.* Second ; inferior.

دون dún, دُون, H. *adj.* Double, &c. دون كي لینا—kí lená, to boast ; to brag.

دونا doná, دُونَا, H. n. f. The name of a flower ; leaves folded up in the shape of a cup for holding flowers, sweetmeats, &c.

دونا dúná, دُونَا, H. *adj.* Double ; two-fold ; twice. دونا دونا—dún, twice as much again.

دونگرا dongrá, دُونِگَرَا, H. n. m. A heavy shower of rain.

دونوں donon, دُونُوں, H. *adj.* Both. وقت ملتے—waqt milte, dusk ; at the mingling of day and night.

دوہا dohá, دُوہَا, H. n. m. A couplet.

دوہاجو duhájú, دُوہَاجُو, H. n. m. A widower who marries again.

دوہائی doháí, دُوہَاہِي, H. n. f. Crying out for justice ; a cry for help and money. دوہائی دوہائی—tihái macháná, v. to make reiterated complaints. دوہائی—, by. Ram (I swear).

دوہر doher, H. n. f. A cloth of two folds.

دوہرا dohrá, دُوہِرَا, H. *adj.* Double ; twice.

دوہرانا dohráná, دُوہِرَانَا, H. v. To repeat ; to say or do again ; to revise ; to reduplicate ; suffer a relapse.

دوہراو dhoráo, دُوہِرَاو, H. n. m. Repetition ; revision.

دوہنا dúhná, دُوہِنَا, H. v. To milk.

دوہنی dohní, دُوہِنِي, H. n. f. A milkpail.

دوہیہ dohiyá, دُوہِيهَا, H. n. m. One who milks cattle ; a milker. [bestower.

دوہیہ diwaiyá, دُوہِيهَا, H. n. m. A giver ; a dwíp, دُوہِي, S. n. m. An island ; a region ; a peninsula ; any land surrounded by water.

دویم doyam, P. *adj.* Second ; next ; inferior.

دے dih, P. *adj.* Giving ; occasioning ; n. m. a giver (used in compo.) as : آرام آram—, comforting, &c.

دے deh, دِه, H. n. m. A village. دے بندی—bandí, a detailed statement of villages and their assessment. دے جمع—jama', the revenue assessment of a village.

دے dah, P. *adj.* Ten. دہا dahá, P. n. m. The first ten days of the Moharram. دے چند—chand *adj.* ten times ; tenfold. دے سالہ—sála, *adj.* decennial. دہسیرا dahserá, P. and H. n. m. A weight of ten seers. دہلا dahlá, دِهَلَا, H. n. m.

Ten (at cards). دہم dahum, P. *adj.* Tenth. دے در دنیا صد در آخرت—dar duniyá sad dar akhírat, ten in this world, a hundred in the next ; charity will be returned tenfold in the next world. دہیکي—yaki, a tenth part ; a tithe.

دے dah, دِه, H. n. m. Very deep water ; an abyss ; a lake ; a river.

دھاپ dháp, دِهَآپ, H. n. f. A measure of length as far as a man can run without taking breath. [fossil ; semen.

دھات dhát, دِهَات, H. n. f. Ore ; metal ; mineral ;

دھات dihát, P. n. m. Village ; country. دھات دھات—i-istimrári, village held at a fixed rent. [villager ; a rustic.

دھاتی dihátí, H. *adj.* Rural ; rustic ; n. m. a

دھار dhár, دِهَار, H. n. f. Edge ; sharpness ; stream ; current ; lines ; libation ; chain of mountains ; flow ; a strain of milk. دھار دار—dár, *adj.* edged ; sharp. دھار دھرا—dhúrá,

boundry between two villages formed by a stream. دھار کر جانا—kir jáná, the edge to be turned or become gagged. دھار نیکالنا—nikálná, to sharpen ; to produce an edge.

دھارا dhará, دِهَارَا, H. n. m. A water-course ; a current ; a stream ; channel.

دهارمک dhármik, धार्मिक, S. *adj.* Righteous ; just ; religious ; devout.

دهاران dháran, धारण, H. *n. m.* Holding ; wearing. دهاران کرنا—karná, to assume ; to adopt ; to take on oneself ; to wear.

دهاري dhári, धारी, H. *n. f.* A line ; a stripe ; a streak. دهاري دار—dár, *adj.* lined ; striped.

دهار dhár, धार, H. *n. f.* A loud cry ; thundering ; roar. دهارنا—ná, *v.* to roar ; to thunder ; to bellow. دهار مار مار کر رونا máh kar roná, to weep bitterly ; to cry aloud.

دهاک dhák, धाक, H. *n. f.* Pomp ; renown ; fame ; fear. دهاک باندھنا—bághdná, *v.* to be very famous ; to be held in awe.

دهاگا dhágá, धागा, H. *n. m.* A thread. دهاگا ڈالنا—dálná, *v.* to quilt. دهاگا پروننا pironá, to thread a needle.

دهام dhám, S. *n. m.* Dwelling place ; abode ; home ; paradise.

دهامن dháman, dhámin, धामन, धामिन, H. *n. m.* A kind of serpent ; a kind of bamboo.

دهان dhán, धान, H. *n. m.* The rice plant ; rice in the husk ; paddy. دهان پان—pán, *adj.* weak ; slight ; delicate ; tender. دهان کي—ki khílen, *n. f.* swollen parched rice.

دهان dahán, P. *n. m.* The mouth ; an orifice.

دهانا dahaná, दुहाना, H. *v.* To cause to milk.

دهاندل dhándal, धौंदल, H. *n. f.* Cheating ; wrangling ; chicanery ; row ; disturbance.

دهاندلي dhándli, dhándlibáz, H. *n. m.* A wrangler ; a trickster ; a wily knave.

دهانس dháns, धौंस, H. *n. f.* Coughing, from taking snuff, &c. ; coughing, caused by irritating or pungent substance (as chillies, &c.).

دهانسنا dhánsná, धौंसना, H. *v.* To cough.

دهانک dhánuk, धानुक, H. *n. m.* A Bowman ; a watchman armed with a bow ; a tribe of hill people using bows and arrows and their women serving as midwives.

دهانگر dhángar, धौंगर, H. *n. m.* A caste who dig wells. &c.

دها دها dahaná, P. *n. m.* The mouth ; the mouth of a waterbag, river or water-course.

دها dháwá, धावा, H. *n. m.* A long expeditious march ; attack ; raid ; name of a tree. دها مارنا—márná, *v.* to make a long quick march ; to make a sudden attack ; to make an expedition. [worship.

دها dháwná, धावना, H. *v.* To run at ; to

دها dháh, धाह, H. *n. f.* Cry ; roar ; yell. دها مارنا—márná, *v.* to cry ; to yell.

دها dháe, धाय or धाय, H. *n. f.* A wet nurse ; a midwife. [decimal.

دهاي dahái, दहाई H. *n. f.* The figure ten ;

دهاي dháen dháen, H. *n. f.* The report of guns or cannon ; the distant booming of guns ; the sound of a drum.

دهبا dhabbá, धब्बा, H. *n. m.* A spot ; a brand ; a stigma. دهبا ڈالنا يا لگانا—dálná ya laganá, *v.* to blot ; to smear.

دهپ dhap, धप, H. *n. m.* The clack of a shoe in walking ; noise ; slap ; noise of a heavy body falling ; thud ; thump. دهپ مارنا—márná, to slap ; to thump ; to blow with the flat of the hand.

دهت dhat, धत, H. *n. f.* A bad habit ; vice ; mania. A word used to encourage elephants or to stop them etc. دهت پروننا—párná, to become addicted to ; a habit to be acquired.

دهتا dhatá, धता, H. *n. m.* The act of driving away or putting off. دهتا باتنا—bataná, *v.* to put off ; to turn out.

دهتکارنا dhatkárná, धतकारना, H. *v.* To drive out ; to reprove ; to revile.

دهتورا dhatúra, धतूरा, H. *n. m.* A narcotic plant and poison.

دهتوريya dhatúriyá, H. *n. m.* A cheat ; knave ; impostor.

دهتي dhatti, H. *n. m.* One who is addicted to any vice, *adj.* habituated.

دهج dhaj, धज, H. *n. f.* Air ; mien ; shape ; form ; fashion ; attitude ; appearance ; person. دهج پالٹنا—palatná, *v.* to change one's dress or appearance.

دهجا dhaja, धजा (S. धजा), H. *n. f.* Flag ; banner ; pennon ; a slip or cloth,

دھجی dhajji, धज्जी, H. n. f. A strip of cloth or paper; rag; tatter. دھجیاں اڑانا—*urānā*, v. to tear into pieces; to disgrace. دھجیاں لگنا—*lagnā*, to be in tatters; to be reduced to poverty.

دھجیلہ dhajilā, H. n. m. Well-dressed; stylish; well-looking.

دھچکا dhachkā, धचका, H. n. m. Jerk; shock; loss. دھچکا لگنا—*lagna*, to experience a shock; to suffer loss.

دھچکنا dhachaknā, धचकना, H. r. To be jerked; to give way; to shake.

دھر dahr, A. n. m. Time; an age; custom; manner; adversity; danger; the world; atheism; fortune.

دھرا dhurā, धुरा, H. n. m. An axle; the wooden portion of an axle; boundary; axis.

دھرانا dharānā, धराना, H. v. To owe; to give in deposit; to be laid hold of; to be seized; to be imprisoned. [to repeat.

دھرانا duhrānā, दुहराना, H. v. To fold; to double;

دھرانا dhirānā, धराना, H. v. i. To bully, to threaten.

دھرپد dhurpad, धुरपद, H. n. m. A kind of song; the introductory stanza of a song, which is repeated as a kind of chorus.

دھرتا dhartā, धर्ता, S. n. m. A debtor.

دھرتی dhartī, धर्ती, H. n. f. The earth; land; soil; ground. دھرتی جوڑنا—*jotnā*, v. to plough; to break up land. دھرتی کا پھول—*kā phūl*, n. m. mushroom.

دھر دھر dhar dbamaknā, H. v. To run swiftly; to move with violence; to rush forward; to set off in hot haste; to start off. Cf. دھر دھر دھر سے لڑنے کو شہر کی طرف

(سودا)۔

Dhar dhankā wahān se larne ko shahr ki taraf.

دھرکار dharkār, धरकार, H. n. m. Name of a caste who are bamboo workers.

دھرم dharm, धर्म, S. n. m. Justice; virtue; righteousness; religion; religious obligation; usage; practice; observance of sects, castes, etc.; piety; right dealing; good works;

duty; caste. دھرم اور پدیش—*updash*, n. m. moral or religious instruction. دھرم آتما—*ātma*, *adj.* virtuous; just; pious; holy. دھرم اوتار—*antār*, n. m. incarnation of Dharam or god of justice (an epithet of respect for a just or upright man); your holiness; your majesty. دھرم بگاڑنا یا بھرتت کرنا—*bigārnā yā bhriṣṭ karnā*, v. to destroy one's religion or caste. دھرم پتر—*patr*, पत्र, n. m. A deed of gift or endowment for a religious purpose. دھرم راج—*rāj*, n. m. a king in general; a kingdom where justice is administered. دھرم راج کرنا—*rāj karnā*, v. to rule justly. دھرم سالا—*sāla*, n. m. a rest house for travellers and pilgrims; an almshouse. دھرم سے کہنا—*se kahnā*, v. to declare solemnly.

دھرم شاستر shāstra, शास्त्र, n. m. the Hindu laws or scriptures. دھرم کرنا—*karnā*, v. to do good; to give alms. دھرم میں—*hin*, *adj.* Devoid of religion or virtue. دھرتت ہاٹ—*haṭ*, *adj.* faithless; obstinate; stubborn.

دھرمی dharmī, धर्मी, S. *adj.* Virtuous; religious; pious; just.

دھرن dharan, धरन, H. n. f. A beam; the navel; accent; tone. دھرن ڈگنا یا ڈالنا—*dignā yā ṭalnā*, v. to move (the navel from its place *nāf(alna)*)

دھرنا dharnā, धरना, H. v. To place; to put down; to lay; to pledge; to stake; to lay hold of; to keep; to apply (the mind or ear); to grasp; to assume; to have; to possess. دھر رکھنا—*dhar rakhnā*, to put aside; to lay by; to keep; to retain; to take.

دھرنا دھرنا denā, धरना देना, H. v. Compelling payment of a debt or compliance with any demand by sitting at one's door and causing annoyance; dunning.

دھر دھر dhruv, ध्रुव, H. n. m. The pole (of the earth) دھر تارا—*tārā*, the polar star.

دھر دھر dharor, धरोर, H. n. f. A trust; a deposit; any thing given in charge. دھر دھر رکھنا—*rakhnā*, v. to place in one's charge or custody; to deposit.

دھرنا dharonā, धरोना, H. n. m. A second marriage of a girl brought about by her father.

دھری dhūrī, धुरी, H. n. f. An axle.

ڏهرين ڏھ dhuriyáná, ڏھريانا, H. v. To throw dust upon ; to winnow ; to sift.

ڏھريچا dharechá, ڏھريچا, H. n. m. The second husband of a Hindu widow among the lower classes.

ڏھريچا dahriyá, A. n. m. A materialist ; a free-thinker ; an atheist.

ڏھڙ dharj, ڏھڙ, H. n. m. The body ; trunk. ڏھڙ ڏھڙا—rzh jáná, v. to have paralysis ; the body to be deprived of power or motion.

ڏھڙ dharj, ڏھڙ, H. n. f. A noisy fall of blow ; a hump ; a thump, etc. ڏھڙ ڏھڙا dharjá—, n. f. a smart or sharp succession of sounds as of falling bodies, blows, firing, etc.; rattling ; banging, etc.

ڏھڙا dharjá, ڏھڙا, H. n. m. Balancing a weight ; a party ; faction. ڏھڙا ڏھڙا—uþhána, v. to weigh. ڏھڙا ڏھڙا يا ڪرنا—bápdhná yá karná, v. to balance ; to equipoise ; to make up a standard to weigh by with bricks or anything else. ڏھڙا ڏھڙا ultþa—bápdhná, (Met.) to frame or bring a countercharge.

ڏھڙاڪا dharáká, ڏھڙاڪا, H. n. m. A crash ; report of a gun ; explosion. ڏھڙاڪا ڏھڙاڪا se, adv. with a crash ; quickly ; boldly.

ڏھڙام dharám, ڏھڙام, H. n. f. The sound of the falling of a heavy body.

ڏھڙاڪ ڏھڙاڪ, ڏھڙاڪ, H. n. f. } Fear; palpita-
ڏھڙاڪا dharáká, ڏھڙاڪا, H. n. m. } tion ; throb ;
trepidation ; alarm.

ڏھڙاڪنا dharakná, ڏھڙاڪنا, H. v. To palpitate ; to beat ; to blaze.

ڏھڙانگ dharang, ڏھڙانگ, H. n. m. Body and limbs ; adj. stalwart ; strapping. ڏھڙانگ nangg—, starknaked.

ڏھڙي dharí, ڏھڙي, H. n. f. A five seers weight ; five seers ; a line (particularly, of missi). ڏھڙي ڏھڙي—jamáná, v. to apply missi to the teeth.

ڏھس dhus, ڏھس, H. n. m. A sterile sandy eminence ; a fort ; a battery ; a rampart ; a fortification.

ڏھسا dhussá, ڏھسا, H. n. m. A kind of coarse stuff made of wool.

ڏھسانا dhasáná, ڏھسانا, H. v. To cause to be thrust into ; to sink.

ڏھسان ڏھسان, ڏھسان, } H. n. m. A swamp ; a
ڏھساو dhasáo, ڏھساو, } bog ; a quagmire ; a
slough.

ڏھساڪنا dhasakná, ڏھساڪنا, H. v. To give way ; to sink.

ڏھسان dhasan, ڏھسان, H. n. f. Quagmire ; swamp ; the state of being thrust into.

ڏھسانا dhasná, ڏھسانا, H. v. To give way to, to sink (in quagmire, etc.) to penetrate ; to pierce ; to enter.

ڏھش dahash, A. n. f. Astonishment ; consternation.

ڏھش dibish, P. n. f. Charity ; gift ; bounty ; alms.

ڏھش dahshat, A. n. f. Fear ; terror ; alarm ; awe. ڏھش انگيز—agez, adj. horrible ; threatening ; hideous ; terrifying. ڏھش ڏھش—dená, v. to terrify ; to frighten. ڏھش ڏھش—zada, adj. panic-struck ; terror-stricken ; scared ; frightened. ڏھش ڏھش—nák, adj. fearful ; alarming.

ڏھشان dahqán, P. n. m. A villager ; a husbandman.

ڏھشاني dahqání, P. adj. Boorish ; clownish ; rustic ; country man ; n. m. a villager ; a peasant ; a husbandman.

ڏھشانيات dahqáníyat, P. n. f. Country manners ; rusticity ; vulgarity.

ڏھڪ dahak, ڏھڪ, H. n. f. Burning ; blazing ; glow ; ardour ; fervour.

ڏھڪ dhak, ڏھڪ, H. n. m. Sudden impression of terror ; shock. ڏھڪ ڏھڪ—rah jáná, to become motionless or paralyzed through fear ; to be confounded at a sudden disaster ; to stand aghast.

ڏھڪ dhik, ڏھڪ, H. intj. Fie ! Shame ! ڏھڪا—kár, reproach ; censure ; curse ; damnation.

ڏھڪا dhakká, ڏھڪا, H. n. m. A shove ; push ; jolt ; loss ; damage ; calamity ; a blow of misfortune or affliction. ڏھڪا ڏھڪا—dhakkam—,

shoving and pushing; jostling. دهنك دينا—dená, *v.* to shove; to push; to turn out. دهك كهانا dhakke khána, *c.* to be pushed or knocked; to wander about; to suffer misfortune. دهنك لگنا—lagná, *v.* to suffer a shock; to suffer loss. دهنك دینو کو dinog ko dhakke dená, *v.* to live with difficulty; to push through life somehow.

دهكدهكدهك دهنكدهكدهك dhakdhakána, دهنكدهكدهكنا, *H. v.* To palpitate; to beat.

دهكدهكدهك دهنكدهكدهك dhukdhukí, دهنكدهكدهك, *H. v. f.* An ornament worn on the breast; anxiety; palpitation; perturbation; apprehension.

دهكدهك دهنكدهك dhukur pukur, دهنكدهك دهنكدهك, *H. n. f.* Palpitation; agitation; suspense.

دهكدهك دهنكدهك dahakná, دهنكدهكنا, *H. v.* To burn; to blaze up; to be ruined; to regret; to be consumed with regret.

دهكدهك, دهنكدهك, دهنكدهك dhagga, دهنكدهك دهنكدهك, *H. n. m.* Paramour; gallant; master; superior.

دهك دهنك duhá, *P. n. m.* A drum.

دهك دهنك hahal, دهنكدهك, *H. n. f.* Fear; dread; shaking; trembling; shifting sand; quicksand, etc. (daldal). The name of Delhi is said to be derived from this word.

دهكدهك دهنكدهك dhulái, دهنكدهك, *H. n. f.* Washing; price paid for washing.

دهكدهك دهنكدهك dahalná, دهنكدهكنا, *H. v.* To tremble with fear; to shake.

دهكدهك دهنكدهك dhulwána, دهنكدهكنا, *H. v.* To cause others to wash.

دهكدهك dehlíz, *P. n. f.* A portico; a threshold. دهنكدهك دهنكدهك—jhágná, *v.* to pay one a visit. دهنكدهك كا كتا—ká kuttá, a hanger on or parasite. دهنكدهك دهنكدهك—khúnd dálná, a ceremonial visit paid by a young man about to be married to the parents of his intended bride.

دهكدهك دهنكدهك dhulendí, دهنكدهك, *H. n. f.* The first day of the month *Chait*, on which it is the practice to scatter dust.

دهكدهك دهنكدهك dhamá chaukí, دهنكدهك, *H. n. f.* Noise; riot; tumult.

دهكدهك دهنكدهك dhamádhama, دهنكدهك, *H. n. m.* The sound of stamping; thumping; sound of a drum.

دهكدهك dhamaká, دهنكدهك, *H. n. m.* A report of a gun; toud; crash; thump; a firelock; a kind of cannon carried on an elephant.

دهكدهك dhammál, دهنكدهك, *H. n. m.* Jumping into or running through fire (of *qalandars*); a kind of music.

دهكدهك دهنكدهك dhumpál, *H. adj.* Bulky; fat; corpulent.

دهكدهك دهنكدهك dhamdhúsar, دهنكدهك, *H. adj.* Fat; corpulent.

دهكدهك dhamak, دهنكدهك, *H. n. f.* Noise of footsteps overhead; thumping, &c.; throbbing; shooting pain; pulsation; fall in ground such as would produce a shock.

دهكدهك دهنكدهك dhamkáná, دهنكدهكنا, *H. v.* To threaten; to menace; to chide.

دهكدهك دهنكدهك dhamakná, دهنكدهكنا, *H. v.* To throb; to shoot with pain (headache); to run against; to make a rush.

دهكدهك دهنكدهك dhamkí, دهنكدهك, *H. n. f.* Threat; menace.

دهكدهك دهنكدهك—meh ana, *v.* to be frightened or coerced by one's threats.

دهكدهك dhumly, دهنكدهك, } *H. adj.* Dim; dull;
دهكدهك dhumalia, دهنكدهك, } foggy.

دهكدهك dhun, دهنكدهك, *H. n. f.* Air; tune; keynote; leading note; any absorbing thought or image; inclination; propensity; perseverance; assiduity.

دهكدهك dhau دهنكدهك, *H. n. m.* Cattle; property; fortune; riches; wealth; treasure; good fortune; prosperity. دهنكدهك—patr, *n. m.* an inventory property. دهنكدهك تیرس—teras, *H. n. f.* the thirteenth day of waning moon of the month A'svin or kártik and the festival held on that day (on which the shroffs worship money). دهنكدهك مان یا دهنكدهك—mán yá dhahwán, *adj.* rich; wealthy. دهنكدهك دهنكدهك—dhaná seth, *n. m.* fortunate or successful man; blest; a great banker. دهنكدهك یا دهنكدهك—yá dhan dhan, *intrj.* (*S. dhanya* دهنكدهك) Blessings on you! God be praised! Well done! دهنكدهك باد—bád, thanks. دهنكدهك ماننا—mánná, *v.* to thank; to be grateful for.

دھوپ dhúp, धूप, H. *n. f.* Sunshine; heat of the sun; sunlight. دھوپ پڑنا—paṛná, *v.* to be sunny; to be hot. دھوپ چڑھنا—chāḥná, *v.* the sun to rise or to be high. دھوپ چھان—chhān, a kind of cloth; sunshine and shade; shot silk. دھوپ دینا—dená, dhúp men rakhná, to air the clothes in the sun. دھوپ کال—kal, hot weather. دھوپ میں بال سفید ہونا—men bál sufed honá, to become old without experience; to pass one's life in ignorance. دھوپ کھانا—kháná, to bask in the sun. دھوپ بدلی کی دھوپ—badli kí, a clouded sun; a very hot sun.

دھوپ dhúp, S. *n. f.* Incense; perfume; aromatic vapour or smoke; frankincense. دھوپ چڑھانا—chāḥáná, to turn incense (before idols). دھوپ دانہ—dání, *n. f.* a pot in which dhúp is burnt; a censer.

دھوپنا dbúpná, धूपना, H. *v.* To pitch; to perfume; to fumigate. [per cent.

دھوپترا dahotrá, P. *n. m.* Tenth part; ten dhotí, धोती, H. *n. f.* A cloth worn round the waist, passing between the legs and fastened behind.

دھوج dhvaj, ध्वज, H. *n. m.* Flag; standard; symbol.

دھور dhúr, धूर, H. *n. f.* Dust; one-twentieth of a biswa.

دھوری dhurí, धुरी, H. *n. f.* An axle-tree; an axis.

دھوریا دھوریا دھوریا dhuriyá mallár, धुरिया मल्लार, H. *n. m.* A musical mode, sung especially in the beginning of the rains.

دھوسر dhúsar, धूसर, S. *adj.* Gray; dust-coloured دھوکا dhoká, धोका, H. *n. m.* Deceit; deception; blunder; delusion; disappointment; doubt; false appearance; a marriage; a scarecrow.

دھوکا بازی—bazi, *n. f.* Fraud; imposture.

دھوکا دینا—dená, *v.* to deceive; to cheat. دھوکا دینا

دھوکے میں آنا—kháná, *v.* to be deceived. دھوکے میں

دھوکے میں آنا—dhóke men áná, to be taken in; to be misled;

to be deceived by appearances. دھوکے میں رکھنا

دھوکے میں رکھنا—dhóke men rakhná, to feed with false hopes or promises. دھوکے کی تافتی—dhóke kí taḥṭṭi, a false screen.

دھوکڑ dhokar, H. *adj.* Robust; strong; athletic.

دھول dhúl, धूल, H. *n. f.* Dust. دھول اڑانا—

uráná, to throw dust; to disgrace. دھول

دھول کی رسی بٹنا—jhárná, *v.* to dust. دھول کی

کی رسی بٹنا—kí rassí baṭná, to attempt an impossibility;

to labour in vain.

دھول dhaul, धवल (S.), H. *n. f.* A thump; a slap.

دھول دھول—dhappá, *n. m.* a fight; a row;

thumping and slapping. دھول لگانا یا مارنا—

lagáná yá márná, *v.* to thump; to slap. دھول لگانا

دھول لگانا—dhauliyáná, H. *v.* to thump; to slap.

دھولا دھولا, धोला, H. *adj.* White. دھولا پڑنا—

paṛná, *v.* to turn white or pale. دھولا پن

دھولا پن—pan, *n. m.* Whiteness. دھولا گڑ

دھولا گڑ—gir, गिरि, *n. m.* name of one of the highest peaks of

the snowy range of the Himalaya.

دھوم dhúm, धूम, H. *n. f.* Noise; report; rumour;

pomp; fame. دھوم دھام—dhám, *n. f.* pomp;

parade; bustle. دھوم مچانا—

macháná, *v.* to make a noise or row.

دھونا dhoná, धोना, H. *v.* To wash; to cleanse;

to efface; to rinse out.

دھونا dhúná, धूना, H. *n. m.* Resin; gum.

دھونس dhauns, धोंस, H. *n. f.* Cheat; extortion;

threat; menace. دھونس میں آنا—men áná, to

be influenced by a threat; to be tricked or

cheated. [drum.

دھونس دھونس, धोन्सा, धोन्सा, H. *n. m.* A large kettle

دھونس دھونس, धोन्کنا, धोन्کنا, H. *v.* To blow the

bellow; to puff; to breathe upon.

دھونس دھونس, धोन्کنا, धوन्کنا, H. *n. f.* Bellows.

دھونی dhúni, धूनी, H. *n. f.* A fire lighted by a

Hindu *faqir* who sits over it and inhales the

smoke by way of penance: دھونی رمانا یا لگانا

—ramáná yá lagáná, *v.* to light a fire after

manner of a *faqir*; to become a *faqir*. دھونی

دھونی—dená, *v.* to smoke; to importune; to

expose to odorous fumes. دھونی لینا—lená,

to inhale smoke; to undergo fumigation.

دھی dahi, दही, H. *n. m.* Coagulated-milk;

curd; tyre.

دھیان dhyán, ध्यान, H. *n. m.* Meditation; atten-

tion; observation; thought; (esp.) mental

contemplation of the divinity ; regard ; advertency. **دھیان ہٹانا**—batānā, *v.* to distract attention. **دھیان پر چڑھنا**—par chāṛhnā, *v.* to take one's fancy ; to absorb mental consideration. **دھیان دینا**—denā, *v.* to give ear to ; to take notice ; to contemplate. **دھیان دھنا**—dharnā, to pay attention or regard to. **دھیان رکھنا**—rakhnā, to keep the attention fixed on. **دھیان میں نہ لانا**—men na lānā, *v.* to disregard. [considerate.

دھیانی dhyānī, ध्यानी, *H. adj.* Contemplative ; **دھیان دھرتا** dhīrtā धीरता, } *S. n. f.* Patience ; sedate-
دھیان دھیر dhīr, धीर, } ness ; steadiness ; en-
durance ; consistency ; fortitude ; coolness ; composure ; gravity.

دھیان دھیراج dhiraj, धीरज, *H. n. m.* Fortitude ; patience ; composure. **دھیان دھیراج ہانڈھنا**—bāṇdhnā, *v.* to have patience or perseverance ; to be firm. **دھیان دھیراج دان**—wān, *adj.* patient ; composed ; sedate ; firm.

دھیان دھیرے کوا dherī kauwā, घेरी कौवा, *H. n. m.* The nut-cracker, a large black crow.

دھیان دھیز dahez, दहेज, *H. n. m.* Dowry ; a wife's paraphernalia.

دھیان دھیم dhīmā, धीमा, } *H. adj.* Slow ; lazy ;
دھیان دھیمی dhīmī, धीमी, } gentle ; subdued (tone or vice) ; faint ; dim ; dull (colour) ; slight (fever) ; temperate ; lulled ; mild ; allayed. **دھیان دھیم پڑنا**—paṛnā, *v.* to be calm ; to go down. **دھیان دھیم کرنا**—karnā, to moderate ; to soften ; to mitigate. **دھیان دھیمے دھیمے** dhīme dhīme, *adj.* softly ; gently.

دھیان دھین dhen, *S. n. f.* A cow.

دھیان دھینگ dhīng, धींग, *H. adj.* Strong ; stout ; stalwart, robust. **دھیان دھینگا دھینگا**—dhīngā dhīngā, *n. f.* Violence ; worrying ; teasing ; tumult ; hurly burly (*hūra hūri*) **دھیان دھینگا مشتی** dhīngā mushṭī, *n. f.* fight ; fisticuffs.

دھیان دھینوار dhīnwar, } *H. n. m.* A fisherman.
دھیان دھیوار dhīwar, धीवर }

دھیان دھئی dhī, दही, *H. n. m. & f.* The deity ; god. **دھیان دھئی مارا**—mārā, *adj.* accursed of heaven ; fate-stricken.

دھیان دیا diyā, दिया, *H. part.* Given *n. m.* A gift.

دھیان دیا diyā, दिया, *H. n. m.* A lamp ; a light ; a lantern. **دھیان دیا ہاتی کرنا**—bātī karnā, *v.* to light the lamp at evening. **دھیان دیا ہارنا**—bārnā, to strike a lamp. **دھیان دیا ہارنا**—baṛhānā, to put out a lamp. **دھیان دیاسالائی**—salāī, *n. f.* a lucifer match.

دھیان دیا dayā दया, *H. n. f.* Sympathy ; pity ; fellow-feeling ; kindness ; favour ; clemency ; benevolence. **دھیان دیا مان یا دیارنت**—mān yā dayāwant, *adj.* kind ; merciful.

دھیان دیا daiyā, दया, *H. n. f.* A mother ; the stand that children run to in playing hide and seek.

دھیان دیار diyār, *A. n. m.* A country ; region ; Province.

دھیان دیال dayāl दयालु, *H. adj.* Kind ; merciful ; beneficent.

دھیان دیانٹ diyānāt, *A. n. f.* Honesty ; justice. **دھیان دیانٹ دار**—dār, *adj.* honest ; just ; conscientious. **دھیان دیانٹ داری**—dārī, *n. f.* honesty. **دھیان دیانٹ بد**—, *adj.* dishonest. **دھیان دیانٹ بد**—bad dyānātī, *n. f.* dishonesty.

دھیان دیا debā, *P. n. m.* Silk brocade ; gold tissue.

دھیان دیاچہ dibācha, *P. n. m.* Preface ; introduction ; preamble ; exordium.

دھیان دیبی debī, देवी, *H. n. f.* A goddess ; the goddess Durgā ; a queen.

دھیان دیپ dīp, दीप, *H. n. m.* An island ; a continent ; a region ; a country.

دھیان دیپ dīp, दीप, *S. n. m.* A lamp ; a light.

دھیان دیپک dīpak, दीपक, *S. n. m.* A light ; a lamp ; a kind of firework ; a musical mode or *rag* sung at evening.

دھیان دیٹ diyāt, *A. n. f.* Blood money ; paying a compensation for man-slaughter.

دھیان دیت dait, दैत, *H. n. m.* A demon ; devil.

دھیان دیتھ dīṭh, दीठ, *H. n. f.* Sight ; look ; evil eye ; vision.

دھیان دیجا dejā yā daijā, देजा, *H. n. m.* Dowry ; which the wife brings to the husband in marriage.

دھیان دیجور daijūr, *P. n. m.* A dark night ; *adj.* dark ; pitch dark.

دھیان دید dīd, *P. n. f.* Seeing ; sight ; show ; spectacle. **دھیان دید ہار**—bāz, sight-seer ; ogler. **دھیان دید بینی**—binī, observation ; watching ; look out.

دید نہ شنید—na shuníd, nor seen nor heard ; strange ; wonderful ; extraordinary. دید بان bân, *n. m.* a watch ; a sentinel.

دیدار dídár, *P. n. m.* Sight ; interview. دیدار باز—báz, *n.* one who ogles. دیدارو—ú, *adj.* goodlooking ; handsome.

دیدنی dídání, *P. adj.* To be seen ; fit to be seen ; visible.

دیدہ dída, *P. part.* Seen, *n. m.* the eye. دیدہ دیکھا—phárná, *v.* to look steadily ; to gaze. دیدہ ریزی—rezí, *n. f.* fatiguing to the eye ; working hard. دیدہ لگنا—lagná, to be attentive. دیدہ شوح—shokh, wanton ; impudent. دیدہ دانستہ—o-dánista, *adv.* wilfully ; with knowledge. دیدہ کا پانی ڈھلنا—kd pání dhalná, *v.* to become shameless. دیدہ مٹکانا—dide maṭkaná, *v.* to wanton with one's eyes. دیدہ نیکالنا—nikálná, *v.* to gaze at ; to glare at.

دیر dair, *P. n. m.* A temple ; a place of worship ; a church.

دیر der, *P. n. f.* Delay ; slowness ; tardiness ; a long time ; *adv.* late ; a long while ; tardily ; slowly. دیر پا—pá, *adj.* durable ; lasting. دیر تک—tak, तक, *H. adv.* for a long time. دیر سے—se, *adv.* from a long time. دیر لگانا—lagáná, *v.* to delay ; to loiter. دیر میں—men, *adv.* late ; after a long interval. دیر ہونا—honá, *v.* to be late (*Prov.*) دیر آید درست آید—áyad durust áyad, what is long in coming, or happening, or doing, will be welcome, or well done.

دیرروز díroz, *P. adj.* Yesterday.

دیری derí, देरी, *H. n. f.* Delay ; slowness ; tardiness ; lateness. دیری کرنا—karná, to delay ; to dally. دیری لگانا—lagáná, *v.* to be late.

دیرینہ derínah, *P. adj.* Old ; experienced ; ancient

دیس des, देश, *H. n. m.* Country ; territory ; region. دیس بدیس—byohár yá chalan, *n. m.* local custom or observance. دیس بدیس—bides phirná, *v.* to travel about. دیس تیاگ—tyág, *n. m.* abandoning one's country ; emigration. دیس نکالنا—nikálná, *n. m.* banishment ; exile ; ostracism. (جلا وطن *jilawatan*).

دیسوار desáwar, देसावर, *S. n. m.* A foreign country. دیسوارو—í, a kind of betel leaf ; a kind of dove.

دیسوی desí, देशी, *H. adj.* Belonging to the country ; native ; indigenous ; home made ; local ; provincial.

دیکھا دیکھا dekhá bháí, *n. f.* Looking ; ogling ; search. دیکھا دیکھا—dekhí, *adj.* in imitation ; mutual gazing or scanning, through rivalry. دیکھا کرنا—dekhá karná, to keep looking ; to be in the habit of looking. دیکھا دیکھا—dekhá bhála, seen and tried. دیکھا دیکھا—dekhá huá, seen ; experienced ; perceived ; endured.

دیکھتا dekhtá, देखता, *H. adj.* Whilst seeing or looking at. دیکھتے دیکھتے—dekhte dekhte, before the eyes ; in the presence of ; through long or continued looking. دیکھتے رہ جانا—dekhte rah jáná, to gape in vain ; to stand gazing in wonder or disappointment. دیکھتے رہنا—dekhte rahná, to keep on the watch ; to look after.

دیکھنا dekhná, देखना, *H. v.* To see ; to look at ; to observe ; to behold ; to search ; to inspect ; to fall ; to take care ; to scan ; to weigh well ; to feel (pulse) ; to prove ; to bear the sight of. دیکھنا دیکھنا—bhálná, to look at ; to inspect ; to examine ; to try. دیکھنے میں—dekhne men, apparently ; to all appearance. دیکھنے میں آنا—dekhne men áná, to come into sight ; to appear ; to be visible. دیکھنے والا—dekhne hárá, onlooker ; beholder ; spectator. دیکھنے پانا—dekh páná, to be permitted to see ; to ascertain.

دیکھنا dikhná, दिखना, *H. v.* To come in sight ; to appear.

دیک deg, *P. n. f.* A cauldron ; a boiler. دیکدان—dáu, *n. m.* a fireplace. [cauldron.

دیکچہ degchá, *P. n. m.* (*Dim. of Deg*). A small

دیکر digar, *P. adj.* Other ; another. دیکر گون—gún, *adj.* changed in form or figure.

دے مارے de márná, देमरना, *H. v.* To dash on the ground ; to throw.

دیمک dímak, *P. and H. n. f.* White ant. دیمک لگنا—lagná, *v.* to be eaten by white ants.

- dín, दीन, S. *adj.* Poor ; needy ; indigent ; humble. دین دینال = dayál, merciful to the poor. دین بندھو—bandhú, the friend of the poor. دینا ناتھه—díná náth, lord of the poor.
- dín, A. *n. m.* Faith ; religion. دین پناهه—panáh, *n. m.* defender of the faith. دیندار—dár, *adj.* religious ; pious. دینداری—dárí, *n. f.* religiousness. دین کی لڑائی—kí laráí, *n. f.* a crusade. دین میں ملانا—meg miláná, *v.* to convert to one's faith
- dain, A. *n. m.* Debt ; liability ; gift. دین دین—i-tamassukí, *n. f.* the certificate given to a bankrupt who has given up his effects. دیندار—dár, *n. m.* a debtor.
- dená, देना, H. *v.* To give ; to confer ; to allot ; to afford ; to yield ; to produce ; to emit ; to let ; to put ; to apply ; to give forth ; to raise (a cry for help) ; to pay ; to offer ; to allow ; to lay (eggs) ; *n. m.* debt ; liability. دینا پانا—páná, *n. m.* profit and loss ; settling of one's affairs. دینا دے de dálná, to make over ; to deliver ; to consign ; to bestow. دینا مرنہ—márná, to bequeath.
- dínár, A. *n. f.* The name of a coin ; a ducat.
- den len, देन लेन, H. *n. m.* Dealings ; traffic ; barter ; pecuniary transactions on interest.
- díní, A. *adj.* Religious ; pious, spiritual ; clerical.
- deo, P. *n. m.* A giant ; monster ; demon ; evil spirit. دینوزاد—zád, demon-born or begotten.
- deva, देव, H. *n. m.* A god ; a deity. دینو—asthán, *n. m.* a Hindu temple. دینو بانی—báni, *n. f.* the language of the gods, sanskrit. دینو لوک—lok, *n. m.* the world of the gods. دینو مالا—málá, *n. f.* mythology. دینو ناگری—nágri, the Nagri characters.
- díwár, P. *n. f.* A wall. دینوار گیری—gírí *n. f.* tapestry or cloth to adorn a wall. (Prov) دیوار ہم گوش دارد (P. دیوار کے بھی کان ہیں diwar ham gosh dárád, " Walls also have ears ; (Met.) avoid allowing your secrets to be overheard. دیوار قہقہه—i-qahqaha, the great wall of China ; a very high wall ; great wall ; great laughter. دینوار گیر—gír, a bracket ; a wall lamp.
- díwán, P. *n. m.* A royal court ; a chief officer of state ; a tribunal ; a secretary ; a minister ; a financial minister ; book of poems ; the rhymes ; the different poems ending successively with each letter of the alphabet. دینوار اعلیٰ—i-á'lá, *n. m.* a prime minister. دینوار خاص—i-kháas *n. m.* privy council chamber ; the cabinet. دینوار خانہ—khána, *n. m.* a hall of audience ; a court. دینوار عام—i-ám, *n. m.* public hall of audience.
- díwángí, P. *n. f.* Madness ; lunacy ; insanity. [frenzied.
- díwána, P. *adj.* Mad ; insane ; lunatic ; دینوارانہ دیوانانہ دیوانانہ پر دیوانانہ دیوانانہ پر
- díwání, P. *n. f.* Office or jurisdiction of a *diwán* ; a civil court. دینوار صدر—sadr, the High Court of Justice for civil suits in India.
- devatá, देवता, S. *n. m.* A demigod ; a divinity ; an object of worship ; a good man.
- diwat, दीवट, H. *n. f.* A lampstand.
- dewthán, देवठान, H. *n. f.* The eleventh day of the light fortnight of *Katik*, on which Vishnu wakes from his sleep of four months.
- deodár, देवदार, H. *n. m.* The cedar.
- dewar, देवर, S. *n. m.* Husband's younger brother.
- dewráni, देवराणी, H. *n. f.* Husband's younger brother's wife.
- deorhí, देवढी, H. *n. f.* Threshold.
- díwak, दीवक, H. *n. m.* The white ant ; weevil.
- dewlí, देवली, H. *n. f.* A fish scale ; the scale or scab of small-pox ; a small lamp ; scab ; cicatrix.
- deví, देवी, S. *n. f.* Goddess ; a female deity ; a queen.
- heh, देह, H. *n. f.* The body ; the person. دیہانت—ánt or دیہانتہ—tyág, relinquishing the body ; dying. دیہانتہ—dhárf, incarnate.

دیہ deh, P. n. m. A village دیہات—át, (pl.) villages. دیہات استمراری—át i-istimrari; village held at a fixed rent.

دیہاتی dehátí, H. adj. Relating to a village ; n. m. a villager ; rural ; rustic.

دیہرا dehrá دہرا, H. n. m. A temple where idols are worshipped by Jains.

دیہر dehír, دہیر, H. n. m. Land flooded in autumn ; marshy land

دیہی dehí, P. adj. Rural ; rustic.

(د)

د dāl, The twelfth letter of the Urdu alphabet; it has no corresponding sound or character in the Arabic or Persian, nor in any European language. It's sound is very similar to that of the English d in did.

داب dab, ڈاب, H. n. m. A sacrificial grass (kusa); a kind of grass used in making rope ; sword belt ; an unripe cocoanut.

دابر dābar, ڈابر, H. n. m. Swamp ; marsh ; a pond ; a water-pot.

دابی dābí, ڈابی, H. n. f. One-tenth of the harvest given to the reaper.

دات dāt, ڈاٹ, H. n. f. A stopper ; a cork ; an arch ; threatening ; keystone. دات دپٹ—dapaṭ, n. f. browbeating ; check. دات لگانا—lagáná, v. to cork ; to put a stopper on ; to arch.

داتنا dātáná, ڈاتنا, H. v. To check ; to snub ; to browbeat ; to eram ; to punish ; to threaten ; to rebuke.

دارم dārim, ڈاریم, H. n. f. A pomegranate.

دازہ dāṛh, ڈاڑھ, H. n. f. A jaw-tooth or grinder. دازہ گرم ہونا—gurm honá, v. to eat ; to have a snack. دازہن مارنا dāṛhen márná, to grind or gnash the teeth from rage, despair, etc. دازہن مار مار کر رونا dāṛhen már már kar roná, to weep bitterly.

دازھی dāṛhí, H. n. f. A beard ; banging root (as of the banyan, baṛh tree). دازھی کھسوتنا—khasotná, to pull or pluck out the beard.

دک dāk, H. n. f. The post ; relays of men or cattle for the post ; perpetual vomiting. دک

دک—bolna, to bid at an auction. دک بہنگی—bahngí, n. f. parcel post. دک چرکی—chaukí, n. f. a stage or station where a relay is posted.

دکخانہ یا گھر—khána yá ghar, n. m. post office. دک کا خرچہ—ká kharcha, postal charges ; postage.

دک گاڑی—gáṛí, n. f. the mail train. دک لگانا—lagáná, v. to post relays of horses or runners.

دک لگانا—lagná, n. the post to be organized ; to be laid (as relays of men or horses) ; to be seized with constant vomiting

دک میں چھوٹی چھوٹی—men chhūṭhí chhoṛná, to post a letter. دک نیلام—nilám, n. m. an auction sale.

دک والا—wálá, a letter carrier ; a postman

دکنا dākáná, ڈاکنا, H. n. m. Robbery ; an attack by a gang of robbers. دکنا پڑنا—paṛná, v. to be attacked by dacoits.

دکنا لگانا—dálná, v. to commit dacoity. دکنا زنی—zaní, n. f. dacoity ; high-way robbery.

دکنا دکنا, H. v. To vomit ; to retch.

دکنی dākání, ڈاکنی, H. n. f. A witch whose evil eye cause children to pine and die, by consuming their livers ; a termagant.

دکھ dākú, ڈاکھ, H. n. m. A robber ; a bandit. دکھ سمنداری—samundari, a pirate,

دکیا dākíyá, ڈاکیا, H. n. m. A letter-carrier ; a postman.

دال dāl, ڈال, H. n. f. A branch ; a bough ; a basket used for the purpose of raising water by artificial means from canal.

دال کا پکا—ká paká, adj. ripened on the tree. دال کا تروتا—ká túṭá, adj. plucked from the branch ; fresh ; fine.

دالا dālá, ڈالا, H. n. m. A large branch ; a litter.

دالنا dálná, ڈالنا, H. a. To throw ; to cast ; to drop ; to pour ; to miscarry ; to fling ; to put on ; to wear ; to thrust in ; to cause ; to occasion ; to put aside ; to sow ; to scatter.

دال رکھنا dāl rakhná, v. to put away or aside ; to detain. دال جانا dāl jáná, to leave behind ; to leave ; to abandon.

دالی dālí, ڈالی, H. n. f. A present of fruits, sweet-meats, etc ; a bough ; a branch.

دامر dāmar, ڈامر, H. n. m. Resin ; pitch.

दान्त dānt, दाँट, H. n. f. Threat; menace; rebuke; awe.

दान्तना dāntnā, दाँटना, H. v. To threaten; to menace; to browbeat.

दान्ठ dānth, दाँठ, } H. n. m. Pedicle; footstalk;
दान्ठाल dānthāl, } petiole; the refuse of the
harvest floor. [straw; stubble.

दान्ठी dānthī, दाँठी, H. n. f. Pedicle; stalk;

दान्द dānd, दाँद, H. n. m. A stick; staff; oar; penalty; fine; the backbone. दान्द—
bharnā, v. to pay a fine; to undergo a penalty
or punishment. दान्द लگانा या मारना—
laganā yā mārā, v. to ply an oar; to row. दान्द लेना—
v. to take a fine.

दान्दा dāndā, दाँदा, H. n. m. A landmark; boundary line; a path for cattle. दान्दा—
menḍā, n. m. the frontier or boundary between the land of two proprietors; frontier; boundary.

दान्दना dāndnā, दाँदना, H. v. To punish; to fine; to amerce; to take revenge on.

दान्दी dāndī, दाँडी, H. n. m. An oarsman; a rower; a boatman; the beam of a pair of scales; a carpet seat swung on a pole borne on the shoulders of two porters (used for the conveyance of people in the hills. Eng. *dandy*).

दान्स dāns, दाँस, H. n. m. A large mosquito; a gnat; a gadfly; sting of a reptile.

दानक dānk, H. n. m. Foil under precious stones.

दाङ्ग dāng, दाँग, H. n. m. A stick; a club; the summit of a mountain; hilly and wild tract of a country.

दाङ्गर dāngar, दाँगर, H. n. m. A starveling; a lean beas; the flowering stem of radishes mustard; *adj.* lean; thin; half-starved.

दाङ्गदोल dāngāḍol, दाँवाँडोल, H. *adj.* Wandering; unsettled; unsteady; errant; destitute. दाङ्गदोल—
phirā, v. to wander about; to be unsettled. [ing or loafing about.

दाङ्गदोली dāngāḍolī, दाँवाँडोली, H. n. f. Wandering; *adj.* Malice; jealousy; envy; spite. दाङ्गदोली—
khanā, to be jealous or envious, etc.

दाहना dāhnā, दाहना, H. v. To burn with envy; to be malicious; to be heated or fused (as metals).

दाही dāhī, दाही, H. *adj.* Malicious; envious; spiteful; rancorous.

दायन dāyan, डायन, H. n. f. A witch; an ugly old woman; a female goblin.

दाब dāb, H. n. m. Strength; power, authority; a kind of pocket; leather for making oil pots.

दाब्बा dābbā, डब्बा, H. n. m. A leathern vessel for holding oil; a leather box; a soldier's pouch; a cartridge box. [casket.

दाब्बा dābbā, डब्बा, H. n. m. A small box; a

दाबाना dābānā, डुबाना, H. v. To cause to sink; to dip; to immerse; to submerge; to down; to lose; to ruin; to exhaust.

दाबो dābo, डुबाओ, H. *adj.* Out of a man's depth; deep; drowning.

दाबदबाना dābdabānā, डबडबाना, H. v. To be filled or suffused with water or tears (the eyes). दाबदबाना—
ānsū, v. to be filled with tears.

दाबरा dābrā, डबरा, H. n. m. Marshy land; a puddle; a field under water.

दाबकी dābki, डुबकी, H. n. f. A dip; dive; plunge. दाबकी—
denā, v. to dip; to immerse. दाबकी लگانा—
lagānā, v. to dive; to plunge; to sink.

दाबू dābū, डबू, H. n. m. A large spoon; ladle.

दाबवाना dābwānā, डुबवाना, H. v. (*Caus.* of दाबना—
dābonā). To cause to be sunk or drowned.

दाबना dābonā yā dābonā, डुबाना, H. v. To drown; to immerse; to inundate; to spoil; to ruin.

दाब्बी dābbī, डिब्बी, H. n. f. A small box.

दाब्बिया dābbiyā, डिब्बिया, H. n. f. A very small box.

दाप्ताना dāptānā, डपटाना, H. v. To ride at a great pace; to gallop.

दाप्ताना dāptānā, डपटना, H. v. To run; to gallop; to rebuke; to threaten.

दाप्पू dāppū, डप्पू, H. z. m. A large or huge object; a big and fatman.

दापोल dāpol, डपोल, H. *adj.* Big; large; monstrous; huge. दापोल—
sankh, a huge conch shell; one who talks loud but does nothing.

دَافِ dāf, दफ, H. n. m. A tambourine (see daf)

دَافِ dāfā, दफा, H. n. m. A stopper ; a cork ; a pigot ; a stopple.

دَافِنَا dāfnā, दटना, H. v. To stop ; to stay ; to wait ; to halt ; to stand still ; to become fixed or firm.

دِثِّيَارَا dīthiyārā, H. adj. Seeing; possessed of sight; not blind.

دَر dār, दर, H. n. m. fear ; dread ; terror ; awe. دَر پوک يا دَر پوکنا—pok yā dārpoknā, adj. timid ; cowardly. دَر دکھانا—dikhānā, v. to frighten ; to intimidate ; to put to fear. دَر دکھا کے—dikhāke, by intimidation.

دَرَانَا dārānā, डराना, H. v. To frighten ; to terrify.

دَرَانَا darāwnā, डरावना, H. adj. Frightful; fearful ; threatening ; formidable ; tremendous ; dreadful. [to be frightened.

دَرْنَا dārnā, डरना, H. v. To be afraid of ; to fear;

دَرِيَانَا duryānā, H. v. To lead about with a rope or string (as a horse); to lead in hand.

دَرِيَال dāriyāl, डदियल, H. adj. Having a long beard.

دَس dās, दस, H. n. f. The strings by which the scales are suspended ; the threads of the warp at the end of a piece of cloth which are left unwoven.

دَسْنَا dāsnā, दसना, H. v. To bite or sting ; to kill.

دَف daf, दफ, H. n. m. A kind of drum.

دَفَالِي dāfali, H. n. m. A kind of faqir who plays upon a musical instrument called daf.

دَقَار dākār, डकार, H. n. f. A belch ; eructation ; bellowing (of an ox) ; roaring. دَقَار سانس—jānā, v. to embezzle. دَقَار نَس لينا—sāns—na lenā, to give or make no sign ; to keep one's own counsel.

دَقَارْنَا dākārānā, डकारना, H. v. To belch ; to bellow ; to swallow ; to embezzle.

دَقْدَقَانَا dāqdāqānā, डकडकाना, H. v. To drink great draughts ; to make a noise in swallowing ; to take large gulps.

دَقْرَانَا dāqrānā, डकराना, H. v. To cry aloud or bitterly with pain ; to bellow ; to roar ; to low (as an ox).

دُكَرِيَا dukariyā, डुकरिया, H. n. f. A decrepit old woman. دُرَان پُرَان—purān, an old woman's tale ; a tradition or custom among women.

دُكَوْت dākaut, डकौत, H. n. m. A caste of Hindus descended from a Brahman on the father's and a Gwalin or the mother's side, they are skilled in astrology.

دُكَوَيْت dākait, डकैत, H. n. m. A robber ; pirate ; a brigand ; a highwayman. [piracy.

دُكَوَيْتِي dākaitī, डकैती, H. n. f. Dacoity ; robbery ;

دُك دَک dag, H. n. f. A pace ; step. دُک دَک—bharnā, v. to step out ; to stride.

دُگَانَا dīgānā, H. v. (Caus. of دُگِنَا dīgnā). To cause to shake or move ; to cause to stumble ; to cause to slip ; to shake (faith, etc.) ; to render unstable.

دُگْدُگِي dūgdūgi, डुगडुगी, H. n. f. A small drum, used by bear-leaders, jugglers, etc. دُگْدُگِي پيٹنا—pīṭnā, v. to proclaim by beat of drum.

دُگَر dāgar, डगर, } H. n. m. A way ; a path ; a road. دُگَر دَگَر—dāgrā, } road. دُگَر بَتَانَا—batānā, v. to guide, to direct.

دُگَرِي dīgrī, डिगरी, H. n. f. A decree. دُگَرِي پَانَا—pānā, v. to obtain a decree. دُگَرِي جَارِي کَرْنَا—jārī karnā, v. to execute a decree. دَار دَگَرِي دَار—dār, n. m. n. decree-holder. دَگَرِي دِينَا يَا کَرْنَا—denā yā karnā, v. to award a decree. دَگَرِي کَے اَجْرَا—ke ijrā men hārij honā, to obstruct the execution of a decree. دَگَرِي اِقْبَالِي—iqbālī, a judgment by cognovit. دَگَرِي اِنْفَاکَے رَهَن—i-infakāe rahan, a decree of redemption. دَگَرِي اِسْتِقْرَارِيَا—istīqrāriya, a declaratory decree. دَگَرِي دَار دَائِن—dār dāin, a judgment creditor.

دُگْمَغ dāgmag, डगमग, } H. n. f. Trembling ; quivering ; tottering. دُگْمَغَاہَاٹ—dāgmagāhaṭ }

دُگْمَغَانَا dāgmagānā yā dīgmigānā, H. v. To tremble ; to shake ; to stagger ; to reel.

دُگِنَا dīgnā, डिगना, H. v. To be displaced ; to be dislocated ; to be shaken (one's faith) ; to yield to temptation.

دَلَا dālā, दला, H. n. m. A large lump ; a clod a large basket. A large basket of fruits, sweetmeat, etc., presented by the bridegroom to bride.

دالانا *duláná*, H. *v.* (*Caus. of دالنا dālāná*) To move ; to shake ; to swing. [nut.
 دالي *dālī*, डली, H. *n. f.* A lump ; a kind of betel
 داليয়া *daliyá*, डलिया, H. *n. m.* A basket without a cover. [shaped like an hour-glass.
 دامرو *damru*, S. *n. m.* A kind of small drum
 دانفhal *danḥal*, डंफल, H. *n. m.* A stalk ; stem ; petiole.
 दण्ड *ḍaṇḍ*, डंड, H. *n. m.* A rod ; the arm above the elbow ; an athletic exercise ; fine ; tax ; punishment.
 दण्डना *ḍaṇḍā*, डण्डना, H. *n. m.* *दण्डना*—*bharná*, *v.* to pay a fine.
 दण्डना *ḍaṇḍā*, डण्डना, H. *n. m.* *दण्डना*—*peḷná*, *v.* to practise the gymnastic exercise of *दण्ड* *ḍaṇḍ* *दण्डना*—*lená*, *v.* to levy a fine.
 दण्डा *ḍaṇḍá*, डंडा, H. *n. m.* A staff ; a club ; an ensign's staff ; the wall round a house.
 दण्डावत *ḍaṇḍāvāt* or *ḍaṇḍwāt*, डण्डवत, H. *n. f.* Prostration before a superior or a god ; bow ; obeisance.
 दण्डावत *ḍaṇḍāvāt*, डण्डवत, H. *n. f.* *दण्डावत*—*karná*, *v.* to prostrate oneself.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* A handle ; the beam of a pair of scales ; stalk ; stem ; a footpath ; a mendicant who carries a staff in his hand ; a pedicle.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* *दण्डी*—*dar*, weighman.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* *दण्डी*—*márná*, *v.* to give short weight ; to press down the weight arm of a balance by a twist of the finger.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* *दण्डी*—*pag*, *n. f.* a footpath ; track.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. m.* The sting of a scorpion or wasp, &c. ; the nib of a pen.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. m.* *दण्डी*—*mární*, *v.* to sting.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. m.* A drumstick ; a kettledrum ; (*fig.*) notoriety ; fame.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. m.* *दण्डी*—*bajāná*, *v.* to beat or sound a drum ; to make oneself famous ; to rule ; to exercise influence or authority.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* *दण्डी*—*bajná*, to be famous ; to be proclaimed.
 दण्डी *ḍaṇḍī*, डण्डी, H. *n. f.* A harridan ; a witch ; a termagant.
 दण्ड *ḍoḇ*, डोब, H. *n. m.* A dip ; a dive ; immersion ; soaking.
 दण्ड *ḍoḇ*, डोब, H. *n. m.* *दण्ड*—*dená*, *v.* to dip in dye or colouring.
 दुबा *dúbá*, डूबा, H. *n. f.* Low land covered with water ; one who is drowned ; a drowned man ; flooded land ; *adj.* sunk ; submerged ; under water ; lost.

दुबना *ḍúbná*, डूबना, *v.* To drown ; to dive ; to be immersed or deigned ; to set ; to sink ; to be absorbed (in study or business) to be sacrificed (reputation).
 दल *dil*, डल, H. *n. m.* A capsule ; a seed-vessel especially of cotton and poppy tree.
 दल *dil*, डल, H. *n. m.* *दल*—*dil*, to faint.
 ददा *ḍoḍá*, डोडा, H. *n. m.* A capsule ; a seed-vessel especially of cotton and poppy tree.
 दोर *ḍor*, डोर, H. *n. f.* A string ; cord ; thread ; line.
 दोर *ḍor*, डोर, H. *n. f.* *दोर*—*par lagáná*, to tame a bird.
 दोरा *ḍorá*, डोरा, H. *n. m.* Thread ; cord ; line ; the edge of a sword.
 दोरा *ḍorá*, डोरा, H. *n. m.* *दोरा*—*áṅkh ká*, a blood-shot eye.
 दालना *dálná*, डालना, *v.* to stitch a quilt ; to braid the hair.
 दोरी *ḍorí*, डोरी, H. *n. f.* A string ; rope ; cord ; thread ; line, or chain used in measuring land.
 दोरी *ḍorí*, डोरी, H. *n. f.* *दोरी*—*wálá*, a rope-maker ; a rope seller.
 दोरिया *ḍoriyá*, डोरिया, H. *n. m.* Striped muslin.
 दोरिया *ḍoriyá*, डोरिया, H. *n. m.* A lace.
 दोकरी *ḍokrí*, डोकरी, H. *n. f.* Old woman.
 डोकना *ḍokná*, डोकना, H. *v.* To vomit ; to drink in large draughts ; to imbibe.
 डौल *ḍaul*, डौल, H. *n. m.* Method ; manner ; mode ; shape ; form ; plan ; plot ; model ; nature ; constitution ; estimate of assets for the purpose of assessment ; device ; scheme.
 डौल *ḍaul*, डौल, H. *n. m.* *डौल*—*par láná*, *v.* to bring into shape ; to put in order ; to systematize.
 डौल *ḍaul*, डौल, H. *n. m.* *डौल*—*dálná*, *v.* to lay the foundation.
 डौल *ḍaul*, डौल, H. *n. m.* *डौल*—*se laganá*, *v.* to put together in order.
 डौल *ḍaul*, डौल, H. *n. m.* *डौल*—*be*, *adj.* shapeless ; ugly ; deformed ; irregular.
 डोल *ḍol*, डोल, H. *n. m.* A metal or leathern bucket used for drawing water from a well ; a large leather bag.
 डोला *ḍolá*, डोला, H. *n. m.* A dooley, a kind of sedan in which women of rank are carried ; a kind of cradle swung from a tree, &c. ; a litter ; cradle.
 डोला *ḍolá*, डोला, H. *n. m.* *डोला*—*dená*, to give a daughter to a superior by way of tribute.
 डोलची *ḍolchí*, डोलची, H. *n. f.* A small bucket for drawing water.
 डोलना *ḍolná*, डोलना, H. *v.* To move ; to wander ; to roam ; to rove ; to swing ; sway from side

to side; to move to and fro; to waver; to oscillate.

दोली *ḍoli*, डोली, H. n. f. A kind of sedan for women; a litter.

दोलीया *ḍoliyā*, डोलिया, H. n. m. The *Kahār*, or bearer caste who fetch water and carry *ḍolies* or palanquins.

दोम *ḍom*, डोम, H. n. m. A low caste in Hindus, (they make ropes, mats, &c.; and are employed in removing carcasses, and filths, in catching and killing stray dogs, and in performing the duties of hangman, they are great thieves).

दोमनी *ḍomnī*, डोमनी, H. n. f. The female of a *ḍom*, whose occupation is to sing and dance in the company of females only.

दुंदा *dūndā*, डूँडा, (Col.) H. n. m. A bullock with one horn; a whirlwind.

दुन्दी *ḍundī*, डोँडी, H. n. f. Proclamation by beat of drum. *दुन्दी पीटना* - *piṭnā*, v. to proclaim by beat of drum.

दुंगा *ḍongā*, डोंगा, H. n. m. A canoe; a trough; a spoon.

दुंगर *ḍongar*, डोंगर, H. n. m. A mountain; hilly country; high ground.

दुंगी *ḍongī*, डोंगी, H. n. f. A small boat.

दोहरा *ḍohrā*, H. n. m. A wooden spoon with which the juice of sugarcane is stirred and ladled out.

दो *ḍoi*, H. n. f. A wooden spoon or ladle.

दोहाबा *ḍhābā*, दाहा H. n. m. The eaves of a house, extending three or four cubits beyond the wall, so that people may sit under them.

दोहाटा *ḍhāṭā*, दाटा, H. n. m. A strip of cloth tied under the beard to make the hair incline upwards.

दोहाटी *ḍhāṭī*, दाटी, (Col.) H. n. f. Noose or gin fastened on a horse's nose.

दोहरस *ḍhāras*, दादस, H. n. f. Firmness of mind; encouragement. *दोहरस बाँधना* - *bāṇḍhnā*, v. to keep up the spirits; to take courage. *दोहरस दिना* - *denā*, to encourage; to animate; to comfort.

दोहरस *ḍhāraḥin*, दादिन, (Col.) H. n. f. } A sect
दोहरस *ḍhāraḥi*, H. n. m. } of musicians or singers.

दोहाक *ḍhāk*, दाक, H. n. m. Name of a tree; *Butea frondosa*.

दोहाल *ḍhāl*, डाल, H. n. m. A slope; declivity; mode; mould; cast n. f. shield; buckler.

दोहालना *ḍhālānā*, डालना, H. v. To cast (metal infusion); to pour out; to spill; to drink (wine); to mould; to coin; to form; (*Met.*) to do mischief; to spoil.

दोहालु *ḍhālū*, डालू, H. adj. Sloping; slant.

दोहाना *ḍhānā*, डाना, (Col.) H. v. To break; to batter; to knock down; to demolish; to raze; to pull down.

दोहानना *ḍhāpnā*, डौपना, H. v. To cover; to put a cover on; to hide; to conceal.

दोहानच *ḍhānch*, डौँचा } H. n. m. A frame;
दोहानचा *ḍhāncha*, } frame-work; plan;
sketch; skeleton; form.

दोहानी *ḍhānī*, डौँनी, H. adj. Two and a half.

दोहाब *ḍhab*, डब, H. n. m. Shape; form; method; way; conduct; style; kind; art; knowledge; address; position. *दोहाब डालना* - *ḍālnā*, to set the fashion; to make a habit of; to get into a manner or way. *दोहाब लगना* - *lagnā*, some way or means to be found; to get an opportunity.

दोहाबरी *ḍhibrī*, H. n. f. Nut (of a screw); a socket.

दोहाबुआ *ḍhabuā*, H. n. m. A copper coin equal to a *paisa* (pice).

दोहापना *ḍhapnā*, डपना, H. v. To be covered or concealed; n. m. a cover; a lid.

दोहापनी *ḍhiṭānī*, (दिठाई), H. n. f. Insistence; persistence; obstinacy.

दोहाचार *ḍhachar*, डचर, (Col.) H. n. m. Frame; plan. adj. weak; fragile; infirm; rickety.

दोहाधना *ḍāḍhnā*, डधना - *bāṇḍhnā*, to form a plan; to frame. *दोहाधना डालना* - *phailānā*, to make arrangements for.

दोहाधाना *ḍahḍhānā*, डहडहाना, H. v. To flourish; to blossom.

दोहा *ḍihar*, H. n. m. A pool; a tank.

धकना dhakná, ढकना, H. v. To cover ; to conceal ; n. m. cover ; lid.

धुकना dhukná, H. v. To bend forward ; to take aim.

धकौला dhakoslá, H. n. m. Deception ; delusion ; fable ; fiction ; a thing intended to beguile.

धकौसना dhakosná, ढकौसना, (Col.) H. v. To drink greedily.

धकैना dhakelná, H. v. To push.

धिक dhig, ढिग, H. adj. Near ; close ; side.

धगगा dhaggá, ढग्गा, H. n. m. A lean, long-legged horse ; an old fool.

धलान dhalan, ढलान, H. n. m. Declivity ; slope.

धलाना dhaláná, ढलाना, H. v. To cause to cast ; to cause to pour ; to cause to demolish.

धलाना dhuláná, ढलाना, H. v. To cause to be carried.

धुलाई dhulái, ढुलाई, H. n. f. Act of carrying ; price paid for carrying.

धिलार dhilar, ढिल्लार, (Col.) H. adj. Lazy.

धलका dhalká, ढलका, (Col.) H. adj. Blear-eyed.

धलकाना dhalakná, ढलकाना, H. v. To overturn ; to pour ; to roll.

धलकना dhalakná, ढलकना, H. v. To be spilt or poured out ; to run down ; to roll.

धलमलाना dhalmaláná, ढलमलाना, H. v. To stagger ; to waver.

धुलना dhulná, ढुलना, H. v. To bend ; to incline ; to be carried or conveyed.

धलना dhalná, ढलना, H. v. To be cast (a metal) ; to be poured out ; to flow ; to incline ; to decline ; to spill.

धलना din—, v. to decline (the day). धलति धलति phirti

धलति phirti, the changes of fortune.

धलवाँ dhalwán, ढलवाँ, H. adj. Sloping ; slanting ; declivitous.

धलित dhalaít, H. n. m. A person in the retinue of a great man armed with sword and buckler ; a targeteer ; a village *chaukidár*.

धधरा dhandhorá, ढिढोरा, H. n. m. Proclamation or publication by beat of drum ; search.

धंग dháng, ढंग, H. n. m. Manner ; method ; behaviour ; plan ; art. धङ्ग—bāratná, v. to behave. धङ्ग—be dhanggá, adj. awkward ; rude ; disordered.

धोर dhor, ढोर, (Col.) H. n. m. Cattle.

धोल dhol, ढोल, H. n. m. A large drum.

धोलक dholak, ढोलक, } H. n. f. A small drum.

धोलकी dholki, ढोलकी, } H. n. f. A small drum.

धोलकीया dholkiyá, H. n. m. A person that plays on the *dholak*.

धोलना dholná, A. n. m. A small amulet in the shape of a drum.

धोली dholí, ढोली, H. n. f. A bundle of two hundred betel leaves.

धोना dhoná, ढोना, H. v. To carry ; to bear ; to remove ; to transport.

धोचहा dhonchá, ढोचहा, H. n. m. The multiplication table of $4\frac{1}{2}$ times. [house.

धोण्ड dhond, H. n. m. A capsule ; a dilapidated

धोण्ड dhúndh } H. n. f. Search ; seeking.

धोण्ड dhúndh dhándh, } H. n. f. Search ; seeking.

धोण्डना dhúndná, ढूँडना, (Col.) H. v. To search for ; to seek.

धोण्डी dhúndí, H. n. f. The pod of pulse.

धोण्ग dhong, ढोण्ग, H. n. m. Delusion ; imposture ; deceit ; feigning ; hypocrisy ; pretence ; sham.

धोण्गी dhongí, ढोण्गी, } H. adj. Deceitful ; delusive ; deceptive ; hypocritical.

धोण्गीया dhongiyá, ढोण्गीया, } H. adj. Deceitful ; delusive ; deceptive ; hypocritical.

धायी dhaiyá, H. n. m. A measure of two and a half *seers*.

धित dhit, } H. adj. Obstinate ; wilful ; bold ; daring ; presumptuous ; insolent ; pert.

धित dhith, ढीठ, } H. adj. Obstinate ; wilful ; bold ; daring ; presumptuous ; insolent ; pert.

धित धिता, } H. adj. Obstinate ; wilful ; bold ; daring ; presumptuous ; insolent ; pert.

धेर dher, ढेर, H. n. m. A heap ; adj. much ; abundant ; enough. धेर—karná, v. to accumulate ; to pile up. धेर—hojáhá, to become a heap ; to be in ruins ; to be dead ; to be slain.

धेरा dhera, ढेरा, H. n. m. Two cross sticks reneted in the centre for twisting cord, string etc.

دھری dheri, डेरी, H. n. f. A small heap.

دھر dher, H. n. m. A low caste person who works in leather, and hides; a crow.

دھر dher, H. n. f. The tumour in the eye.

دھیل dhil, डील, H. n. f. Looseness; laxity; slackness; delay. دھیل دینا—denā, v. to loosen; to let go. دھیل کرنا—karnā, v. to dawdle.

دھیلā dhilā yā dhilī, डीला या डीली, H. adj. Loose; not tight; slack; lazy; slow. دھیل پڑنا—par jānā, v. to become loose. دھیل پن—pan, n. f. looseness; slackness.

دھلā dhelā, डेला, H. n. m. A clod of earth; a lump of clay, chalk, &c.

دھندس dhendās, } H. n. m. A kind of gourd.
دھنراس dhenras, }

دھنکا dhenkā, डेका, H. n. m. Long shanks; a large bird; a crane.

دھنکلی dhenkli, डेकली, H. n. f. A machine for drawing water; a crane; somersault.

دھن dñh, डीठ, H. n. f. Sight; look; vision. دھن باند—band, a juggler. دھن بندی—bandī, n. f. closing the eyes by conjuration; enchanting the sight.

دھر derā, डेरा, H. n. m. A tent; a dwelling. دھر ڈالنا—dālnā, v. to encamp; to linger. دھر پڑنا—pārnā, v. to be encamped.

دھر dherh, डेढ़, H. adj. One and a half. دھر پار—pao, n. m. three eighths of a seer. دھر پورا—pauwā, n. m. a weight equal to three-eighths of a seer. اپنی دھر سے اپنی اپنی—apni—eint ki masjid banānā, to withdraw through pride from the society of others; to have ideas or opinions of one's own.

دھیل dñl, डील, H. n. m. Bulk; stature; size; body. دھیل ڈالنا—dñl, n. m. shape; figure.

دھیل dñna, डैना, H. n. m. Wing (of a bird); branch; bough (of a tree).

دھینگ dñg, डैंग, H. n. f. Boasting. دھینگ مارنا—mārnā yā hāgnā, v. to boast; to brag.

دھنگ dñgi, (डोंगी), H. n. f. A boat; a canoe; a skiff; a ferry boat. دھنگ والا—walā, boatman.

دھنگ dñgyā, डैंग्या, H. n. m. A boaster; a braggard.

دھنگ dñghā, डैंग्या, H. n. m. Half as much again; a mode of reckoning. دھنگ کرنا—karnā, v. to close an account; to balance the books.

دھنگ dñghī, डैंगी, H. n. f. A potch; entrance; threshold. دھنگ دار—dār, n. m. a door-keeper, a porter. [village.

دھنگ dñh, P. n. m. A place; a dwelling; a

(ن)

ذ zil, called *dāl-i-muajjema*, is the 9th letter of the Arabic alphabet and 13th of the Urdu. In reckoning by *abjad* it stands for 700.

ذبح zābeh, A. n. m. A butcher; a sacrificer. سعد الذابیح—sa'd-uz—, two bright stars in the left horn of Capricorn.

ذات zāt, A. n. f. Nature; essence; the body; person; caste; origin; kind; sort. ذات الجناب—ul-janab, n. m. the pleurisy. ذات الریه—ul-rīh, inflammation of the lungs. ذات بھائی—bhāī, kinsman. ذات جانا—jānā, to become an outcast. ذات بھائی—bizzātihī, of himself; itself; in person. ذات شریف—sharīf, a noble personage; (ironic.) a consummate knave. ذات سے خارج—se khārij, an outcast. ذات سے خارج کرنا یا نکالنا—se khārij karnā yā nikālnā, v. to put out of caste; to excommunicate. ذات مقدارچہ ذہمت—mundarjā fihrist, scheduled caste.

ذاتی zātī, A. adj. Essential; natural; innate; constitutional; real; material; personal.

ذات zāf, A. n. m. Sudden death.

ذات zāhil, A. adj. Careless; forgetful.

ذاکر zākīr, A. adj. Remembering; grateful; n. m. a grateful person; one who praises God.

ذائقہ zāīqa, A. n. m. The sense of tasting; relish; taste. ذائقہ لینا—lenā, v. to taste; to relish; to smack the lips. ذائقہ دار—dār, adj. tasty; savoury.

ذبح zabah, A. n. m. A sacrifice; slaughter. ذبح کرنا—karnā, v. to sacrifice; to slaughter; to kill. ذبح ہونا—honā, v. to be sacrificed or killed.

ذبیح zabih, A. *adj.* Slaughtered; sacrificed; *n. m.* an intended victim; a sacrifice. ذبیح اللہ—ullah, a surname of Ismael, who according to Mohammadans was the son whom Abraham designed to sacrifice and not Issac.

ذخائر zakháir, A. (*Plu. of ذخیره Zakhíra*), *n. m.* Provisions; treasures; stores.

ذخیره zakhíra, A. *n. m.* Provisions; treasure; store; hoard.

ذرا zará, A. *adv.* A little. ذراسا یا ذراسی—sá yá—sí, *adj.* a little; *n.* a little while; short time. ذرا ذرا کر کے—zará karke, little by little; by degrees; every bit.

ذراع zirá', A. *n. m.* A yard; a cubit; the two bright stars in the head of Gemini.

ذرة zarra, A. *n. m.* An atom; a particle; a jot. ذرة صفت—sifat, little; humble; lowly.

ذروت zirwat, A. *n. f.* The top of a camel's hump; summit; the pinnacle; majesty; pomp.

ذریعة zariy'a, A. *n. m.* Means; agency; medium; influence; intervention; intercession ذریعة پیدا کرنا—paidá karná, to find means; to make interest. بذریعة ba—, by means of; by virtue of; through the intervention of. اس ذریعة سے is—se, hereby; by this means. ذریعة رکھنا—rakhná *v.* to have means.

ذہاف zu'áf, A. *n. m.* Deadly venom.

ذقن zaqan, A. *n. m.* The chin. چاہ ذقن cháh—, *n. m.* a dimple in the chin.

ذکا zaká, H. *n. m.* Acuteness of genius; sagacity; acumen. [tion; ingenuity.

ذکارت zakávat, A. *n. f.* Acuteness; penetration; ذکار zakar, A. *n. m.* Male; masculine.

ذکر zikr, A. *n. m.* Remembering; commemoration; talk; mention; relating; account; recital of the praise and names of God; prayer. ذکر کرنا—karná, *v.* to make mention; to tell; to relate; to state; to recite. ذکر مذکور—mazkúr, mention; talk; conversation; allusion.

ذکی zaki, A. *adj.* Acute; sharp; clever; fiery; ingenious.

ذلل zull, A. *n. m.* Baseness; meanness. [ness. ذل zill, A. *n. m.* Base; gentleness; tractable ذلات zalálat, P. *n. f.* Baseness; abjectness.

ذلت zillat, A. *n. f.* Insult; disgrace; baseness; indignity. ذلت اٹھانا—uṭháná, *v.* to suffer dishonour or shame (at the hands of).

ذلیل zalíl, A. *adj.* Abject; base; contemptible; mean; wretched; shameless. ذلیل کرنا—karná, *v.* to abase; to insult. ذلیل النفس—ul-nafs, *adj.* mean-spirited; submissive; abject. ذلیل ہونا—honá, to be brought low; to be disgraced.

ذم zamm, A. *n. f.* Reproach; accusation; censure.

ذمہ zimmah, A. *n. m.* Charge; trust; duty; responsibility; security; burden of (of proof). ذمہ لینا—lená, *v.* to take in charge; to take upon one's self; to be surety for. ذمہ دار—wár, *n. m.* a responsible person; one who guarantees; trustee; assignee. ذمہ داری—dári, *n. f.* charge; trust; engagement; obligation; responsibility; liability. ذمہ کرنا—karná, to make over; to deliver in trust.

ذمی zimmí, A. *n.* An infidel; subject to a Mohammedan government; one not a Mohammedan.

ذمیم zamím, A. *adj.* Blameable; culpable.

ذنب zamb, A. *n. m.* Crime; sin; fault; misdeed; misdemeanour.

ذنب zanab, A. *n. m.* (*in Astro*) A tail; a lord; a master; descending node.

ذو zu, A. *n. m.* End; extremity; (*in comp.*) possessed of; endowed with. ذرابعة الاضلاع—arba'tlu—azlá, a quadrilateral figure. ذراعان اقل—iz'áf, common multiple. ذوالجلال—zuljalál, glorious. ذوالفقار—zulfaqár, the double-edged sword possessed by Mohammad and afterwards by Ali. ذوالقرنین—zulqarnain, lord of the two horns, *i. e.*, east and west; an epithet of Alexander the Great. ذوالعین—zulminan, possessor of obligations; an epithet of deity. ذو ذنب—zanab, *adj.* a tailed comet.

()

re, called *ráe mohmalá* and *rái gair manqúta*, is the 10th letter in the Arabic, twelfth in the Persian and fourteenth in the Urdu alphabet, corresponding to ॠ in Sanskrit. In reckoning according to *abjad* it stands for 200.

راب *ráb*, राब, H. n. f. Tracle syrup; molasses.

رابڑی *rábri*, (रबड़ी), H. n. f. A kind of food like pap; thickened milk.

رابطہ *rábta*, A. n. m. Connexion: union; alliance; system; regularity.

راپڑی *rápar*, रापड़ H. n. m. Barren soil.

راپی *rápi*, रापी, H. n. f. A shoe-maker's knife.

رات *rát*, रात, H. n. f. Night. رات بھر—*bhar*, adv. the whole night.

رات تھوڑی اور سانگ بہت —*thorí aur sáng bahut*, (it is applied to express hurry of business with little time to perform it in); much work and little time; great expense with a small income.

بننا چر کچھہ بن سکے جوانی میں
رات تھوڑی ہے اور بہت ہے سانگ

(میں) —

Baná jo kuchh ban sake jawání men,

Rát thorí hai aur bahut hai sáng.

Acquire whatever you can in the season of youth; the task is arduous and the time short; (*Cf. ars longa rita brevis*; art is long and life is fleeting). رات آدھی *ádhí*—, mid-night. راتوں راتوں *rátón*—, by the night. رات باری *barí*—, late at night; in the dead of night. رات بھاری *bhári*—, a long wearisome night.

راتب *rátib*, A. n. m. A set pension; stipend; daily allowance of food; allowance; provision; allowance or food for dogs, elephants, &c. راتب خور *khor*. n. m. a stendary; one who receives a fixed allowance.

راتبہ *rátibá*, A. n. m. Salary; pay; stipend; allowance; pension.

راتر *rát r yá rátrí*, S. n. f. Night.

راتھور *rát hor*, राठौर, H. adj. Strong; firm; name of a tribe of Rajput.

ذوق معنی—*ma'ní*, n. a fun; a joke; double-entendre.

ذوق *zauq*, A. n. m. Taste; voluptuousness. ذوق سے—*se*, adv. with pleasure; willingly.

ذوی *zawí*, A. n. m. Lords; masters; adj. possessing; endowed with. ذوی الارحام—*ul-arhám* relatives by the mother's side. ذوی اقتدار—*ul-iqtidár*, powerful.

ذہاب *zaháb*, A. n. m. Departure. ذہاب البصر—*ul-basar*, loss of sight; amaurosis.

ذہب *zahab*, A. n. m. Gold.

ذہل *zabl*, A. n. m. Forgetting; oblivion; leaving; abandoning.

ذہن *zahn*, A. n. m. Genius; sagacity; understanding; memory. ذہن دقیق—*i-daqq*, a subtle genius. ذہن لگانا—*lafána*, v. to think; to consider. ذہن نشین—*nashín*, fixed in the mind; impressed on the mind. ذہن نشین کرنا—*nashín karná*, v. to impress on the mind; to instil. [cious.

ذہین *zahn*, A. adj. Acute; ingenious; sagacious.

ذی *zí*, A. n. m. (*obj.* of ذر) Possessed of; endowed with; (*used in comps.*) ذی اختیار—*akhtiyár*, n. m. one in authority.

ذی استعداد—*iste'dád*, n. m. a man of ability. ذی اقتدار—*iqtidár*, empowered; one having competent jurisdiction.

ذی حیات—*hayát*, endowed with life; an animal. ذی خرد—*khirad*, adj. endowed with wisdom.

ذی الحجہ *zil-hij*, the last month of the Muhammadan year. ذی حق—*haq*, adj. rightful.

ذی رتبہ—*rutba*, n. m. a man of distinction. ذی روح—*rúh*, animate beings.

ذی عزت—*zzat*, adj. honourable; respectable. ذی شعور—*sha'úr*, adj. intelligent.

ذی ہوش—*hosh*, adj. sensible. ذی تعدد—*qa'd*, n. m. the 11th month of the Muhammadan year. ذی غیر—*gair*—*rúh*, inanimate beings.

ذیل *zail*, A. n. m. The train of a robe; train; the sequel; an appendix; lower part; bottom; supplementary part ذیل میں—*men*, adj. as below.

ذیل حسب ذیل—*hasb*—, as below; as follows; as undermentioned. ذیل حسب مفصلاً ذیل—*hasb mufassila*—, as detailed below.

راج *rāj* राज, H. *n. m.* Government; reign; kingdom; dominion; royalty; sovereignty; a mason; bricklayer; (*used in compos.*) as: *राज-अधिकार*—*adhikār*, *n. m.* royal prerogative. *राज-अधिकारी*—*adhikāri*, *n. m.* regent. *राज-बहवन*—*bhawan*, *n. m.* a royal residence; a king's palace. *राज-बंस*—*bans*, *n. m.* royal family. *राज-पत*—*pāt*, *n. m.* dominion; kingdom. *राज-पुर*—*n. m.* the modern name for the Kshatri caste. *राज-पुरा*—*phorā*, *n. m.* a carbuncle. *राज-तलक*—*tilak*, *n. m.* coronation. *राज-चिन्ह*—*chinh*, *n. m.* the insignia of royalty. *राज-दरबार*—*darbār*, *n. m.* court. *राज-दुलारी*—*dulāri*, *n. f.* a princess. *राज-दहानी*—*dhāni*, *n. f.* the metropolis; capital. *राज-दण्ड*—*dand*, *n. m.* a tax; fine. *राज-रानी*—*rāni*, *n. f.* a queen. *राज-रजना*—*rajnā*, to live like a prince. *राज-रोग*—*rog*, *n. m.* a mortal disease; consumption. *राज-सभ*—*sabhā*, the king's court or assembly. *राज-सिंहासन*—*sinhāsan*, royal throne. *राज-का*—*kā*, *adj.* royal. *राज-काज*—*kaj*, state affairs; functions of Government. *राज-करना*—*karnā*, *v.* to reign; to rule; to govern. *राज-कुंवर*—*kunwar*, *n. m.* a prince. *राज-कुंवारी*—*kunwāri*, *n. f.* a princess. *राज-गद्दी*—*gaddi*, *n. f.* royal throne. *राज-गिरी*—*giri*, *n. f.* masonry. *राज-मजदूर*—*mazdūr*, *n. m.* masons and labourers. *राज-मन्त्री*—*mantri*, a minister or secretary of state. *राज-नीति*—*nit*, *n. f.* system of government; jurisprudence. *राज-राजा*—*wārā*, country of *rajās*; royal domains; a kingdom. *राज-हंस*—*rāj hans*, *n. m.* a goose. *राज* *rajā*, राजा, H. *n. m.* A king; a prince; a monarch; a sovereign. *राज-राज*—*rājājī*, राजाई, (Col.) H. *n. f.* Royalty; kingship; principedom; sovereignty. *राज-रुद्ध*—*rāchh*, राज, H. *n. m.* An implement; apparatus; a tool; the innermost portion of a tree. *राज-चक*—*chakkī kā*, a pivot on which a handmill is turned. *राज-चस*—*rāchchas*, राजस S. *n. m.* A demon; a fiend; an evil spirit. *राज-ब्याह*—*byāh*, form of marriage in which the appointed rites have not been observed.

राहत *rahat*, A. *n. f.* Rest; repose; respite; ease; comfort; tranquillity; relief; pleasure. *राहत-अफ़*—*afzā*, soothing; promoting to one's comfort. *राहिला* *rāhila*, A. *n. m.* A camel fit for bearing burdens; a party of travellers; caravan. *राहम* *rāhim*, A. *adj.* Compassionate; pitying; merciful. *राद* *rād*, (रद, Col.) H. *n. f.* Pus; matter. *राधा* *rādhā*, राधा, H. *n. f.* The wife of Krishna. *राध-नगरी*—*nagarī*, *n. f.* a kind of silk cloth made at Rādhānagar. *राज-राज*—*rāj*, (रर) H. *n. f.* Quarrel; dispute; war; battle. *राज-करना*—*karnā*, *v.* to dispute; to quarrel; to fight. *राजिया* *rāiyā*, (रारिया), H. *n. m.* A quarrelsome person. *राज-राज*—*rāj*, P. *n. m.* A secret; a mystery. *राज-दर*—*dār*, *adj.* confident; trusty. *राज-दारी*—*dāri*, *n. f.* keeping a secret. *राज-फ़ाश*—*fāsh* *karnā*, *v.* to betray a secret. *राज-ओनियाज़*—*oniyāz*, prayer; loving prattle. *राज-निहफ़ते*—*i-nihfta*, a close secret; a private matter. *राज-राज*—*rāziq*, A. *n. m.* The supplier of the means of subsistence (रज *rizq*); Providence; sustainer; an epithet of the Deity. *रास* *rās*, रास, S. *n. m.* The circular dance as performed by Krishna and Gopis. *रास-दाहारी*—*dhāri*, *n. m.* dancing party that acts the parts of Krishna and Gopis as a religious play. *रास-चक्र*—*chakr*, *n. m.* the zodiac. *रास-रास*—*rās*, P. *n. m.* The head; head (of cattle); top; summit; reins; (in *Geog.*) a cape. *रास-अल-जदी*—*ul-jadī*, the winter solstice. *रास-अल-सरतान*—*ul-sartān*, the summer solstice. *रास-कल*—*ul-māl*, principal; capital. *रास-कल*—*kalāj*, a horse of high caste. *रास-रास*—*rās*, H. *n. f.* Adoption. *रास-बाय़थाना*—*baithānā yā lenā*, *v.* to adopt a son. *रास-रास*—*rāst*, P. *adj.* Right; true; honest; straight; sincere (opp. to *left.*); *adv.* actually; certainly. *रास-आना*—*ānā*, *v.* to agree with; to be set to rights. *रास-बाज़*—*baz*, *adj.* honest; upright; sincere. *रास-बाज़*—*bāzī*,

n. f. honesty ; integrity ; fair play. راست گر
—go, *adj.* truthful ; speaking truth راست
گویی—goi, *n. f.* speaking the truth. راست
معامله—mu'amla, *n.* fair transaction ; of good
actions.

راسته rásta, *P. n. m.* A road ; way ; street ;
manner. راسته بتانا—batáná, *v.* to guide ; to
dismiss. راسته ديكهنا—dekhná, *v.* to wait for.
راسته كترانا—katráná, to slink away.

راستی rástí, *P. n. f.* Uprightness ; honesty ;
veracity ; truth. [durable ; solid.

راسخ rásikh, *A. adj.* Firm ; constant ; sincere ;
راسو rású, *P. n. m.* A mongoose.

راشد ráshid, *A. adj.* Pious ; orthodox ; fol-
lOWER of right path.

راشي ráshí, *A. n. m.* Briber.

راضی rází, *A. adj.* Agreed ; contented ; pleased ;
willing. رضا—ba-razá, resigned to the
will of God. راضی خوشی—khushí, *adj.* well
and happy. راضی راضی—rází, *adv.* willingly.
رضی کرنا—karná, *v.* to make content ; to
satisfy ; to please ; to reconcile. رضی هونا—
honá *v.* to be content ; to agree ; to assent ;
to accede. رضی نامه—náma, a deed of agree-
ment or compromise ; an acknowledgment of
a cause being finally settled, given by the
plaintiff (the defendant gives a رضی نامه
sáfináma).

راعی rá'í, *A. n. m.* Shepherd ; pastor.

راغ rág, *P. n. m.* A meadow ; a desert.

راغب rágib, *A. adj.* Inclined to ; willing ;
desirous ; curious. رغب کرنا—karná, *v.* to
incline ; to incite to. رغب هونا—honá, *v.* to
be inclined.

رافات ráfat, *P. n. f.* Pity ; compassion ; cle-
mency ; favour.

رافضی ráfzí, *A. n. m.* A heretic ; achismatic.

رافع ráfe', *A. adj.* Raising ; elevating ; exalting ;
n. raiser ; exalter. [server.

راقیب raqib, *A. n. m.* A rival ; watcher ; ob-

راقم raqim, *A. n. m.* A writer ; a correspondent.
راقم الحروف—ul-huruf, the writer of letters ;
undersigned.

راکب rákib, *A. n. m.* Rider ; *adj.* mounted on a
horse, &c. ; on board a ship or boat.

راکھه rákh, राख, *H. n. f.* Ashes. راکھه هونا—
honá, *v.* to be reduced to ashes.

راکھی rákhi, राखी, *H. n. f.* A red or yellow
string bound round the wrist of a person
on the festival of Salono or Rakshá bandhan.

راگ rág, *A. n. m.* A mode in music ; tune ;
story ; anger ; love ; emotion ; feeling ; pas-
sion ; song ; air. راکه پورنا—purná, *v.* to tell a
long, tedious story. راکه رنگ—rang, *n. m.*
dance and song ; amusements ; fun and frolic ;
saturnalia. راکه گانا—gána, *v.* to sign ; to cry ;
to roar. راکه لانا—láná, *v.* to make a quarrel.
راکه مالا—mála, *n. f.* a treatise on music.

راگنی rágni, (रागिनी), *H. n. f.* A mode in music,
(there being 30 rágnis in number).

راگی rágí, रागी, *H. n. m.* A singer ; a lover ; a
libertine ; *adj.* passionate ; sensual.

رال rál, राल, *H. n. f.* Resin ; pitch ; saliva.
رال تپکنا—tapakná, *v.* to slobber ; to water
(the mouth) ; to thirst or long for.

رام ráam, *P. adj.* Obedient ; tame ; *n. m.*
domestic.

رام ráam, राम, *S. n. m.* The Hindu god ; the
seventh Hindu incarnation ; *adj.* pleasing ;
lovely ; beautiful ; charming.

رام ارتار—avatar, *n. m.* the incarnation of Vishnu in
the person of Rama. رام بهجن—bhajan, *n. m.*
hymns addressed to Rám.

رام ترونی—turái, *n. f.* a vegetable. رام جنی—jání, *n. f.* a
Hindu dancing-girl.

رام چندر—chandra, *n.*
prop. Son of Dasratha and conqueror of
Lanká or Ceylon, the hero of the great epic
poem called Rámáyán. He was the seventh

aratar of Vishnu and is supposed to have
reigned in Ayodhia about 1600 B. C. رام
—ram, *n. f.* a form of salutation. رام رس—ras,

n. m. salt. رام كهانی—kaháni, *n. f.* the
Rámáyán ; a long story. رام لیل—lilá, *n. f.*

Name of a Hindu festival held during the
first ten days of the light fortnight of the
month Ásin and the play performed during
the festival, in which the deeds of Ram are
represented.

رام نومی—naumi, *n. f.* the 9th

Jay of the light fortnight in the month Chaitra; the birth day of Rám.

रामानन्दी *rámánandí*, H. n. m. A sect of Hindu *faqirs*; the followers of Rámánand

रामायन *rámáyan*, S. n. f. An epic Sanskrit poem by *Valmiki*, containing the history of *Rama*. It is also written in Brajbhasha by *Tulsí Dás*.

रामिश *rámish*, P. n. f. Repose; ease; joy; mirth; harmony; modulation. रामशुकर—*gar*, n. m. musician; a singer.

राममुण्ड *rámmuṇḍ*, H. n. m. A kind of goat.

रामी *rámí*, P. n. m. Thrower; hurler (of javelins or stones, &c.); shooter; archer; one who up-braids; jester.

रान *rán*, P. n. f. The thigh रान—*tale dabáná*, v. to humiliate; to subdue; to mount; to ride (a horse).

राना *ráná*, राना, H. n. m. A Rajput title of a prince or *rájá*.

राना *ráná*, H. adj. Spontaneous; wild.

रानभाना *rámghaná*, रानभना, (Col.) H. v. To low as a cow; to bellow; to roar.

रान्पी *ránpi*, रान्पी, H. n. f. A shoemaker's or currier's knife for scraping leather.

रान्दना *rándná*, रान्दना, (Col.) H. v. To expel; to drive out, away or off.

रान्दा *ránnda*, P. adj. Driven out; rejected. रान्दा—*dargáh*, adj. accursed by Heaven.

रान्दना *rándhná*, रान्दना, (Col.) H. v. To boil; to cook; to dress food.

रान्द *ránd*, रान्द, H. n. f. A widow; a woman. रान्द—*ká sánda*, n. m. son of a widow; a spoilt child; a base contemptible fellow.

रान्ग *rāng*, रान्ग, } H. n. m. Pewter.
रान्गा *rāngá*, रान्गा, }

रान्गभारा *rāngbhará*, रान्गभरा, } H. n. m. One who makes toys of pewter.
रान्गभार्या *rāngbharyá*, रान्गभरिया, }

रान्गा *vāngwá*, रान्गा, (Col.) H. n. m. A tax on cattle grazing waste land. [cess.

रानी *rání*, रानी, H. n. f. Hindu queen or prin-

रानी *rání*, P. n. f. Driving (*in compos.*) as: जहाज़रानी *jaházrání*, navigation. हुकूमरानी *hukm*—, reigning.

राव *rao*, राव, H. n. m. Prince. बहादुर—*bahádúr*, title, signifying a brave prince.

रावत *rāwat*, रावत, H. n. m. A hero; a high caste of sweepers; land bailiff; a person employed to collect rent from a village (*Mahto*); a trooper; a cavalier.

रावती *rāotí*, रावती, H. n. f. A small gable tent; an attic.

रावचाव *ráo cháov*, रावचाव, H. n. m. Natural love or affection; caress; endearments; dalliance; attachments.

रावल *rāwal*, रावल (Col.) H. n. m. A chieftain; a soldier; a warrior; prince.

रावण *rāvan*, (रावण S.) H. n. m. King of *Lanká* or *Ceylon*, who carried away *Sita*, the wife of *Rama* for which he lost his life and kingdom. रावण की सेना—*ki sená*, Rávan's army.

रावण्ड *rāwand*, P. n. Rhubarb. चीनी—*chíní*, Chinese rhubarb.

रावी *rāví*, A. n. m. (Plu. रावीयन *Rāwiyán*), A historian; a narrator; a relater; a reciter,

राह *rāh*, P. n. f. Road; way; manner; passage; path; progress; means of access; custom; fashion; *pre.* राह में—*men*, in the path of; for the sake of. राह बान्धना—*bāndhná*, v. to refuse admittance. राह बताना—*batáná*, to guide; to dismiss. राह पर आना—*par aná*, v. to find the road which had been lost; to mend one's manners. राह पैदा करना—*paidá karná*, to establish relations with; to form an acquaintance with. राह चलतों का पाने पकड़ना—*chalton ká palla pakarná*, to quarrel with one without just cause. राह चहोरना—*chhorná*, v. to give way. राह खर्च—*kharch*, n. m. travelling expenses. राह दार—*dár*, n. m. a collector of tolls or transit duties. राह दारी—*dáří*, n. f. tolls; transit duties. राह दिखाना—*dikháná*, v. to make one wait for. राह दिखाना या तैयार करना—*dekhná yá takná*, v. to expect; to wait for. राह देना—*dená*, v. to admit. राह देना—*dálná* v. to

establish a custom. راہ چالنا—rāh chalná, *v.* to continue in one's usual practice or mode of conduct. راہ رکھنا—rakhná, *v.* to keep up an intercourse. راہ رو—rau, a traveller. راہ زن—zan, *n. m.* a highwayman; a robber. راہ زنی—zaní, *n. f.* highway robbery. راہ سے—se, *v. dv.* by means of. راہ سے ہیرا ہونا—se heráh honá, *v.* to go astray; to exceed bounds. راہ سے چلنا—se chalná, *v.* to behave properly. راہ کاٹنا—káṭná, *v.* to travel a road; to cross the way. راہ کھوٹی کرنا—khotí karná, *v.* to linger or delay on the road. راہ گزر—guzar, *n. m.* road; way. راہ گیر—gír, *n. m.* a traveller. راہ لینا—lená, *v.* to set out; to depart. راہ مار—már, a highway robber. راہ مارنا—márná, *v.* to rob on the highway; to ruin one's prospects in life. راہ ناپنا—nápná, *v.* to walk about idly. راہ نامہ—náma, *n. m.* a book or map of roads; a traveller's guide. راہ نکالنا—nikálná, *v.* to make a road; start or devise anything new. راہ نما—numá, *n. m.* conductor; a leader. راہ نمائی—numái, *n. f.* guidance. راہ زوار—wár, *n.* an ambling horse. راہ و ربط—wári, *n. f.* ambling (a horse). راہ و رسم—o-rabṭ yá rasm, intercourse; correspondence.

راہب ráhib, *A. n. m.* A monk; hermit; a Christian priest.

راہن ráhin, *A. n. m.* A pawn; a pledger; a mortgager.

راہو ráhú, (राहु S), *H. n. m.* Typhon, or the dragon that is supposed to devour the sun or moon during an eclipse.

راہی ráhí *P. n. m.* A traveller.

راہی ráí, राई, *H. n. f.* A kind of mustard seed with small grains; a small particle. راہی پھینکنا—utárná, *v.* to throw mustard seeds in the fire to exercise an evil spirit.

راے ráe, राव, *H. n. m.* Hindu title; a prince; a chief; a bard.

راے مٹیا ráe muniyá, रायमुनिया, *H. n. m.* A kind of kusked pulse (अरहर)

راے ráe, *H. n. f.* Opinion; judgment; advice; thought; counsel. راے بلند—buland, exalted

understanding. راے پوچھنا—puchhná, *v.* to consult; to seek the advice of. راے دینا—dená, *v.* to give an opinion; to vote. راے زدن—zadan, to broach or express an opinion. راے اظہارِ رائے ishár—expression of opinion.

رایات ráyat, *A. n. m.* (*Plu. of Ráyat*) Standards; banners; (*Met.*) a camp.

رایت ráyat, *A. n. f.* A standard; a banner.

رایتا ráetá, रायता, *H. n.* A salad; pumpkin, etc. pickled in sour milk.

رایج ráij, *A. adj.* Customary; current; common; usual; fashionable. رایج الوقت—ul-waqt, *n. m.* the custom or fashion of the time; current for the time being. رایج ہونا—honá, *v.* to be in force; to prevail. رایج کرنا—karná, *v.* to make current; to give currency.

رایگان ráegán, *P. adj.* Useless; fruitless; vain; gratis, gratuitous.

رب rab yá rabb, *A. n. m.* A lord; protector; preserver; God. رب العالمین—ul-'álamín, God; preserver of the world. رب العباد—ul'ibád; God the protector of the servants.

رب rub, *P. n. m.* Juice; thick syrup. رب السوس—us-sús, *n. m.* extract of liquorice (*mulaiti ká sat*). [as : دلربا dilrubá, heart-ravishing.]

ربا rubá, *P.* Robbing; stealing; (*in compos.*)

رباب rabáb yá rubab, *P. n. m.* A kind of violin.

ربابی rabábí, *A. n. m.* A player on the rabáb.

رباط ribát, *A. n.* An inn; a caravansaray; a rope; a ligament.

رباعی rubá'í, *A. n.* A quatrain; a stanza of four lines; tetrastich.

ربانی rabbání, *A. adj.* Divine; godly.

ربو rabar, ربا, (*Col.*) *H. n. f.* Fatigue; fruitless labour; trudging. [milk.]

ربو rabí, ربا, *H. n. f.* Well boiled thick

ربط rabṭ, *A. n. m.* Connexion; intercourse; practice; bond; consistency; friendship.

ربط و ضبط—barháná, *v.* to become intimate or familiar. بے ربط—be—, disconnected. ربط و ضبط—o-zabṭ, intercourse; organization.

ربع rubá', *A. n. m.* A quarter; a fourth part.

ربع ماسکون—maskún, *n. m.* the inhabited quarter of the earth.

rabúdan, P. *inf.* Carrying off; robbing.
 rabib, A. *n. m.* A step-son.
 rabí', A. *n. f.* The spring harvest or grain when cut (as peas, wheat, gram, etc.)
 ربيع الآخر —ul-auwal, the third month. ربيع الاخر —ul-akbir or ربيع الثاني rabí-us-sani; the fourth month of the Muhammadan year.
 rip, H. *n. m.* An enemy. رپ هرچانا
 ripu, रिपु, —ho jáná *v.* to stick to one.
 rapaṭ, रपट, H. *n. f.* Clayey barren soil; chase; hunting.
 rapṭan, रपटन, H. *n. f.* Slipperiness.
 rapaṭná, रपटना, H. *v.* To slide; to slip.
 rat (रात, S.) H. *n. f.* (Cont. of रात Rát).
 jagá, a vigil, a wake; watching all night on religious occasions (a female ceremony).
 rataṅdhá, *n. m.* blindness at night; nyctalopia. रातوندها
 aundhiyá, *n. m.* one affected with night blindness.
 runt, H. *n. f.* (S. ऋतु), Season; weather.
 phirná yá palaṭná, *v.* to be changed (a season). رت پھرنا یا پالٹنا
 ratálu, रतालु, H. *n. m.* A yam.
 ritáná, रिताना, (Col.) H. *v.* To empty.
 rutba, A. *n. m.* Rank; dignity; step; quality; weight; capacity (of soil). رتبه دار
 dár, noble; distinguished; eminent.
 ratan रतन, H. *n. m.* A precious stone; jewel; gem; the pupil of the eye; (*used in compos.*) anything valuable or desirable; any precious thing, as: رتن جتت —jatit, set with jewels. رتن جراز —jaraú, *adj.* studded with jewel. رتن جوت —jot, *n. f.* a plant; a medicine. رتن نو nau—, nine different gems in an armet; a company of nine wise men in Court of Akbar رتن سنہاسن —sinhasan, a throne adorned with precious stones. رتن مالا —malá, a necklace of jewels; pearl necklace; a kind of flower; name of a hook on astronomy.
 ritná ریتنا, (Col.) H. *v.* To be emptied.
 ratnár, रतनार, S. *n. m.* Red colour.
 ratnáre, रतनारे, H. *n. f.* Bright eye.
 ratnawálí, रतनावली, H. *n. f.* A necklace of gems.

rath, रथ, H. *n. f.* A four-wheeled carriage; a native chariot; the car in which idols are conveyed. ران بان یا ران —bán yá wán, *n. m.* one who drives a rath; a charioteer. رتھه بانیا
 —báni, *n. f.* coachmanship. رتھه بانیرا —yátrá, a Hindu festival at which the car of Jagan-nath goes in possession.
 rattí, रत्ती, H. *n. f.* A weight equal to eight barley-corns, the seed of *Abrus precatorius* used as a weight. رتھی بهار, weight equal to a *ghungchi*.
 rijál, A. *n. m.* (*Plu. of راجل Raja!*) Men, ul-gaib, (in Hindi *yogini*) *n. m.* an invisible being that moves in a circular orbit round the world. راجال الغیب
 rijálá, A. *adj.* Mean; vulgar; vile; base.
 rajab, A. *n. m.* The seventh month of the Muhammadan year, when it is unlawful to go to war. (It is also called. رجب المرجب) Rajab-ul-murajjab). [A register.
 rajistar, A. *n. m.* (*Corr. from the Eng.*) راجیستار
 rajistari, रजिस्टरी, H. *n. f.* Registration; registry. راجیستری کرانا —karána, *v.* to cause to be registered.
 rijz, A. *adj.* Unholy; not pure; *n.* punishment for the blasphemy. رجز خزانہ —khwáni, recitation of verse.
 raj'at, A. *n. f.* Return; returning to earth after death; receiving back a divorced wife; the resurrection. راجت
 rajam, A. *n. m.* Stoning; driving away; expelling; repulse; reproach. رجم
 rajná, رجننا, (Col.) H. *v.* To be satisfied or satiated; to be enough.
 rajani, رجنی, S. *n. f.* Night.
 rajwára, رجاوارا, H. *n. m.* The Hindu dominions; a country under the control of a *raja*.
 rujú, A. *n. f.* Return; inclination; bent; reference; appeal. روج کرنا —karná, *v.* to turn towards; to incline to; to have recourse; to refer; to appeal. روج لانا —lána, to side with; to submit; to yield. روج هونا —honá, *v.* to incline; to turn towards.

رجهانا rijháná, रिजाना, H. v. To please ; to enchant ; to captivate.

رچا ruch, (ruchi) रुच (रुचि, S.) H. n. f. Desire ; wish ; liking ; appetite ; relish ; zest ; inclination ; desire (of).

رچا richá, ऋचा, S. n. f. Mystical prayers of the Vedas hymn ; text ; verse ; stanza.

رچانا racháná, रचाना, H. v. To set to work ; to stain or paint red with *pán* or *hindá* (*menhdi*) ; to celebrate.

رچا ruchir, रुचिर, H. adj. Pleasing ; fine ; sweet ; agreeable ; cordial.

رچانا rachná, रचना, H. v. To create ; to plan ; to make ; to form ; to invent ; to compose ; to make preparation for ; to celebrate (marriage) ; to decorate ; to adorn ; to be used or accustomed to ; to become familiar ; to be stained as with *hindá* or *pán* ; to harmonize ; n. f. creation ; making ; forming ; invention ; preparation ; literary production.

رچانا ruchná, रुचना, H. v. To be agreeable to the mind or palate ; to long for ; to desire.

رچانا rachchhá, (रक्षा S.) H. n. f. Protection ; patronage.

رحل rahl yá rihl, A. n. f. A stand or desk on which the Qurán is put ; departing ; travelling ; dwelling place of resort.

رحلت rehlát, A. n. f. Marching ; departure. (particularly to the other world) ; death.

رکنا karná, v. to depart this life ; to die ; to take one's departure.

رحم rihm yá rehm, A. n. m. The womb.

رحم rahm, A. n. m. Mercy ; pity ; compassion ; kindness. دل رحم—dil, adj. merciful. رحم زنا یا کھانا—karná yá kháná, v. to feel or have pity. [an epithet of God.

رحمان rahmán, A. adj. Merciful ; forgiving ; رحمت rahmat, A. n. f. Pity ; mercy ; compassion ; divine mercy or favour ; a blessing from on High. رحمت الله عليه—ullah-'alaihi, the mercy of God be upon him. صد رحمت sad—, bravo ! well done ! a hundred blessings from Heaven be showered on you.

رحیق rahíq, A. n. m. Pure wine ; the best wine.

رحیم rahím, A. adj. Merciful ; compassionate ; having much mercy ; n. m. the Merciful (an epithet applied to God).

رخ ruh, P. n. m. Face ; the cheek ; side ; the castle (chess). رخ بدلتا یا بدلتا—badalná yá pherná, v. to turn away from ; to change countenance ; to become angry ; to become offended or displeased ; to be inattentive. رخ کرنا—karná, v. to lean or incline to ; to turn the face or proceed towards.

رخام ruḡhám, P. n. m. Marble.

رخت rakht, P. n. m. Goods and chattels ; property ; furniture ; leather. رخت باندھنا—bágdhná, v. to pack up ; to depart.

پروا نہیں پیوند ہو گر رخت بدن میں
مرتے ہیں بس اس پر کہ تکلف ہو کہن میں
(میر انیس) —

Parwáh nahín paiwand ho gar rakht-e-badan meḡ,

Marte haiñ bas is par kí takalluf ho kafan meḡ.

رخسار rukhsár, } P. n. m. The cheek ;
رخسارہ rukhsára, } face.

رخش rakhs, P. n. m. A horse ; name of the famous horse of *Rustam* ; brilliance ; splendour.

رخشندگی rakhsandagí, P. n. f. Refulgence ; lustre ; flash.

رخصت ruḡhsat, A. n. f. Leave ; permission ; dismissal. رخصت دینا—dená, v. to give leave ; to permit ; to dismiss. رخصت رعایتی—i-ri'áyatí, privilege leave. رخصت اتفاقیہ—ittefáqiya, casual leave. رخصت کرنا—karná, v. to give leave to go ; to dismiss. رخصت ہونا—honá, v. to take leave ; to depart ; to bid adieu to.

رخصتانا ruḡhsatána, A. n. m. A present made on one's departure ; a parting present.

رختہ rakhná, P. n. m. A gap ; hole ; hitch ; obstacle. رختہ ڈالنا—dálná, v. to put obstacles in the way.

رد radd, A. n. m. Rejection ; refutation ; vomit. رد بدل—o-badal, n. f. agreement ; altercation. رد جواب—i-jawáb, n. m. a replication or

rejoinder. رد کرنا—karná, *v.* to reject ; to vomit. رد نامه—náma, a deed of abrogation. رد هونا—honá, *v.* to be refuted or rejected ; to be abrogated (a law).

رد ridá, *A. n. f.* A cloak or mantle (worn by dervishes) ; any kind of cloak put on when going out.

ردا raddá, ردا (Col.) *H. n. m.* A layer of a wall ; stratum ; line ; row ; course. ردا ركهنا—rakhná, *v.* to lay down a layer.

ردهر rudhír, روبر, *T. n. m.* Blood.

ردی raddí, *P. adj.* Rejected ; thrown away ; used and done with ; worthless ; pernicious ; *n. f.* refuse ; waste paper ; scraps. ردی کرنا—karná, *v.* to spoil ; to waste ; to throw away.

ردیف radíf, *A. n. f.* The rhyming word of poem (*gazal* or *qasida*) وار ردیف—wár, *adv.* alphabetically ; according to the last letter of each stanza.

رداله rizála, *A. adj.* Vile ; mean.

ردیل razil, *A. n. m.* A vagabond ; villain ; a low caste ; a mean fellow.

ردیانا ririyána, ریریمانا, *H. v.* To cry as a child ; to cry for ; to whine ; to whimper ; to importune ; to beg hard.

رد raz, *P. n. f.* A vineyard ; a vine ; a grape.

رزاق razzáq, *A. n. m.* The provider of the means of subsistence or daily bread (God.) رزاق مطلق—i-mutlaq, God. [of God.

رزاقی razzáqí, *A. n. f.* Providence ; an attribute

رزق rizq, *A. n. m.* Daily bread ; subsistence ; allowance. رزق پهنچانا یا دینا—pahunchána yá dená, *v.* to provide food ; to support ; to maintain. [*n. f.* a battlefield.

رزم razm, *P. n. m.* War ; battle رزمگاه—gáh,

رس ras, رس, *H. n. m.* Juice ; sap ; essence ; syrup ; pith ; marrow ; taste ; flavour ; quicksilver ; sentiment ; softness ; sweetness ; melody.

رس بهری—bharí, *adj.* liquid ; luscious ; *n.* raspberry. رس لپکنا یا چرنا—řapakná yá chúná, *v.* to exude or triele (juice). رس کپور—kapúr *n. m.* Corrosive sublimate, or a preparation of mercury. رس لینا—ras lená, *v.* to enjoy ; to extract pleasure from.

رس ras, *P.* Arriving ; reaching ; (*used in compos.*) as. رس داد—ddras, an administrator of justice. رس فریاد faryád—, (*Lit.*) one whom lamentation reaches ; a protector.

رس rás, رس, *H. n. f.* Anger ; a passion.

رسا rasá, *P. (in compos.)* Arriving ; attaining ; quick of apprehension ; skilful ; capable ; clever.

رسا rassá, رسسا, *H. n. m.* A rope ; a cable.

رساتل rasátal, رساتل, *S. n. f.* The internal regions ; pátdál.

رسالت risálat, *A. n. f.* Divine mission ; apostleship. رسالت پناه—panáh, the sylum of apostleship ; the apostle (Mohamed).

رساله risála, *A. n. m.* A treatise ; a pamphlet, a small tract ; a troop of horse ; a cavalry.

رسالدار risáldár, *n. m.* the commander of a troop of horse. رسالداري risáldári, *n. f.* the command of a troop of horse. [graver.

رساله rassám, *A. n. m.* A delineator ; an en-

رسال rasán, *P.* Causing to arrive ; conveying ; bearing ; (*used in compos.*) as : رساله muzda —, conveying glad tiding. رس چتهی chiřřhi —, a postman ; a letter carrier.

رسان rasán, رسان, *H. n. m.* Gentleness ; slowness.

رسانا risáná, ريسانان, *H. v.* To be angry ; to be displeased.

رسول rasál, رسايل, *H. n. m.* A dish of rice boiled in the juice of sugar-cane.

رسائی rasái, *P. n. f.* Access ; entrance ; reach ; quickness of apprehension ; acuteness ; skill ; ability ; wisdom.

رسان rasáyan, رسایان, *H. n. m.* Alchemy ; a mineral or metallic preparation ; chemistry.

رسانا رسانا—banána, to turn base metals into gold or silver.

رست rust, *P. adj.* Bold ; valiant ; courageous ; hearty ; firm. رست ركهيز—o-khez, springing up.

رستخيز rustkhez, راستخيز, *P. n. m.* The Day of Judgment ; resurrection.

رستگاری rustagári, *P. n. f.* Deliverance ; salvation ; safety ; liberation ; generosity.

رستم rustam, *P. n. prop.* One of the twelve champions of Persia ; a brave man.

ثابت قہمی ہنر کو ہے نفس کشی شرط
 ہے دیو کے ماتے ہونے رستم نہیں ہوتا
 —(خواجه آتش)

Sábit qadami faqr ko hai nafs kushí shart,
 Be deo ke máre hue Rustam nahín hotá.

رستمی rustamí, P. n. f. Valour ; heroism ;
 might ; authority.

رستہ rasta, P. n. m. A road ; a path ; a way.

رشد rasad, P. n. f. Income ; import ; store of
 grain for an army ; provision ; allowance of
 food ; rations. رسد پہنچانا pahucháná, v. to
 furnish supplies for an army, &c.

رشدی rasadí, P. adj. Rateable ; proportionate.
 راسدی—jama', a progressively increasing
 or diminishing total of assessment. حصہ راسدی
 hissa—, n. m. a proportionate share.

رورا rasrá, رررا, (Col.) H. n. m. A rope ; a cable.

راسری rasrí, ررری, (Col.) H. n. f. String ; cord.

رسول rusul, A. n. m. (Plu. of رسول Rasúl). Mes-
 sages ; letters ; messengers ; apostles. رسل
 رسایل—rasáil, epistolary correspondence.

رسم rasm, A. n. f. Custom ; settled mode ; order.

رسم پر چلنا—par chalná, v. to act according to
 custom. رسم ہرچانا—ho jáná, to become a
 custom or practice ; to be sketched out ; to
 be delineated.

رسماسا rasmasá, ررسماسا, H. adj. Wet with per-
 fumed essences, or perspiration.

رسمی rasmí, A. adj. Customary ; common ;
 middling ; ordinary.

رسان rasan, A. n. m. Rope ; cord. راسن باز
 rasanbáz, n. a rope-dancer. ساز راسن ساز—saz, a
 rope maker. [ooze ; to exude.

رشنا rísná, ررشنا, H. v. To drop slowly ; to

رشنا rasná, ررشنا, S. n. f. The tongue.

روسوا ruswá, P. adj. Disgraced ; dishonoured ;
 infamous. روسوا کرنا—karná, v. to disgrace

روسوا ہونا—honá, v. to be disgraced. رسوائے عالم
 i-'álam, infamous throughout the world. رسوائی
 ruswái, n. f. Disgrace ; infamy ; opprobrium.

رسوت rasaut, ررسوت, H. n. f. A kind of colly-
 rium, extracted from the root of the *Amo-
 mum anthorhizum*,

روسوخ rusúkh, A. n. m. Firmness ; constancy ;
 access ; influence. روسوخ حاصل کرنا—hásil karná,
 v. to acquire favour, interest or influence.
 روسوخیت rusúkhíyat, n. f. Constancy ; steady
 friendship. [Muhammad.

رسول rasúl, A. n. m. A messenger ; the prophet

رسوم rusúm, A. n. f. (Plu. of رسم Rasm).

Customs, &c.; fees ; duties ; taxes ; postage ;
 perquisites ; commission, &c. رسوم سرکار—
 i-sarkár, stamp duties. رسوم عدالت—i-'adálat,
 court-fees

رسوئی rasoi, رسوئی, H. n. f. Victuals ; food ;
 cookroom ; kitchen. رسوئی بنانا—banáná, v. to
 cook. رسوئی جیننا—jimná, v. to take food.
 رسوئی کچی kachchí—, food that is not fried
 or dressed. رسوئی پکی pakkí—, food fried in
 in butter or oil.

رسوویا rasoiyá, رسوویا, H. n. m. A cook.

رسی rassí, ررسی, H. n. f. Rope ; cord.

رسیانا risiyáná, ررسیانا, H. v. To be angry ; to
 be vexed.

رسیانا rasiyaná, ررسیانا, H. v. To be juicy ; to
 run with juice ; to become ripe ; to ooze.

رسید rasíd, P. n. f. An acknowledgment ; a
 receipt. رسید بھئی—bahí, n. f. a receipt-book.
 رسید دینا—dená, v. to give a receipt of acknow-
 ledgment. [ripeness ; maturity.

رسیدگی rasidgí, P. n. f. Arrival ; attainment ;

رسیدہ rasída, P. Arrived ; received ; ripe ; ma-
 ture ; of age (used in compos.), as : محنت
 رسیدہ mehnat—, overtaken by trouble. عمر
 رسیدہ 'umr—, advanced in years ; aged.

رسیلا rasílá, ررسیلا, H. adj. Luscious ; juicy.

رشته rishta, P. n. m. A string ; line ; thread ; re-
 lationship ; affinity ; alliance ; connexion.
 رشته دار—dár, n. m. a relation ; a kinsman.
 رشته داری—dári, n. f. relationship. [fat.

رشتہ rushť pushť, ررشتہ پورشت, H. v. Robust ;
 rashha, A. n. m. Dripping ; a drop ;
 sweat ; juice. (Plu. رشحات Rashhát).

رشد rushd or rashad, A. n. m. Rectitude ;
 being in the right way.

رشک rashk, P. n. m. Jealousy ; envy ; grudge.

رشوت rishwat, A. n. f. A bribe. رشوت خور—
khor, n. m. one who takes bribes. رشوت دینا—
dená, v. to give a bribe. رشوت ستانی—sitáni,
n. f. bribery. رشوت کھانا—kháná, v. to take
bribe.

رشی rishí, ऋषि S. n. m. An inspired poet or
sage; an anchorite; a pious person; a saint.
رشید rashíd, A. adj. Guided in the right way;
dutiful; orthodox; n. m. a follower of a
right way.

رصد rasad, A. n. m. Observation (of stars); in-
strument for observing. رصد گاہ—gáh, an ob-
servatory; a watch-tower.

رضا razá, A. n. f. Consent; assent; will; per-
mission; leave; furlough. رضا باسکوت—bil-
sukút, acquiescence. رضا و رغبت—o-ragbat,
n. f. free will and pleasure. رضا مند—mand,
adj. consenting; willing. رضا مندی—mandí,
n. f. consent; willingness.

رضاع razá', A. n. m. Fosterage; sucking. رضاعی
بھائی—bhái, foster-brother.

رضائی razái, P. n. f. A quilt; a coverlet.

رضوان rizwán, A. n. m. The name of the door-
keeper of Paradise; good pleasure; compla-
cency; satisfaction.

رطب rutb, A. adj. Moist; tender; fresh; green.

رطب rutab, A. n. m. Fresh ripe dates. رطب اللسان
ul-lisán, adj. having supple and refreshing
tongue.

رطوبت rutúbat, A. n. f. Moisture; dampness;
saliva; sap; juice.

رعایا ri'áyá, A. n. f. (Plu. of رعیت Ra'iyat).
Subjects; tenants; the public; the people.

رعایت ri'áyat, A. n. f. Partiality; favour; res-
pect; attention; remission; indulgence; bias.
رعایت کرنا—karná, v. to show favour or partial-
ity; to remit; to make observance of.

رعایتی ri'áyati, A. adj. Favoured or privileged.
رعایتی چھٹی—chhutí, privilege leave.

رعب ru'ab, A. n. m. Fear; awe; dignity. رعب
چمانا—jamáná, v. to inspire with awe. رعب
آنا—men áná, v. to be overawed. رعب دار—
dár, adj. awe-inspiring; of commanding presence.

رعد ra'd, A. n. m. Thunder.

رعشہ ra'sha, A. n. m. A tremor; shaking; the
shaking palsy. رعشہ دار—dár, adj. palsied.

رعنا ra'ná, A. adj. Graceful; delicate; moving
gracefully; lovely; beautiful; tender.

رعنائی ra'nái, A. n. f. Graceful gait; loveliness.

رعونت ra'unat, A. n. f. Pride; arrogance;
haughtiness.

رعیت ra'iyat, A. n. f. A subject; a tenant; a
dependant cultivator; a peasant. رعیت آزار—
ázár, subject-oppressing; n. an oppressor; a
tyrant. رعیت پرور—parwar, n. m. protector or
cherisher of subjects. رعیت پروری—parwarí, n.
protection of subjects. رعیت نواز—nawáz, che-
risher of subjects. رعیت واری فیصلہ—wári faisla,
settlement of land rents, &c., made with the
cultivators themselves.

رعیتی ra'iyati, A. n. f. Tenancy; land of
which the revenue is paid in money.

رغبت ragbat, A. n. f. Strong desire; inclina-
tion; affection. رغبت کرنا—karná, v. to desire.

رغم ragm, A. n. m. Looking down; shame, ab-
horrence; contempt; violence; force.

رغا rafá, A. n. m. Mending (a garment);
cementing (broken friendship) pacifying;
tranquillity.

رفاقت rifáqat, A. n. f. Companionship; society;
adherence; loyalty. رفاقت کرنا—karná, v. to
associate with.

رفاہ rifáh, rifáhiyat, A. n. f. Good;
benefit; ease; comfort; affluence; relief;
tranquility; an easy or comfortable state of
life. رفاه خلائق—i-khaleq, public good.

رفت raft, P. n. f. Going (used chiefly in comp.),
as. رفت و گزشت—a-guzasht, past and gone,
رفت و آمد—ámado—, coming and going.

رفتار raftár, P. n. f. Walk; gait; pace; motion;
procedure. [the departed; the deceased.

رفتاگان raftagán, P. n. m. Those who are gone;

رفتن ruftan, P. n. m. Sweeping; brushing.

رفتن raftan, P. inf. To go; to depart.

رفتائی raftaú, P. v. adj. Fit to go; departing;
transient.

رفتہ *raftah*, P. *perf. part. of* رفتن—Gone; departed; deceased; lost. رفتہ رفتہ—*raftah, adv.* in process of time; gradually; by degrees; leisurely.

رفز *rifz*, A. *n. m.* Heresy; the persuasion, or creed of a heretic; schism.

رفع *rafa'*, A. *n. m.* Raising; elevating; exaltation; settlement; removing. رفع کرنا یا رفع کرنا—*karná yá rafa' dafá' karná, v.* to remove; to settle; to decide; to dispose of. رفع ہونا—*honá, v.* to be settled or disposed of.

رفعت *rafa't*, A. *n. f.* Elevation; dignity; exaltation; eminence.

رفیق *rifq*, A. *n. m.* Gentleness; graciousness; benignity; courtesy; civility. [associates.

رفقاء *rufaqá*, A. (*Plu. of* رفیق *Rafiq*). Friends;

رفل *rafal*, रफल, H. *n. f.* (*Corr. of the Eng.*) A rifle.

رفو *rafú*, A. *n. m.* A darn. رفو چکر—*chhakkar*, making one's escape; stealing off. رفو چکر ہونا—*chhakkar honá, v.* to abscond; to decamp. رفو کرنا—*karná, v.* to darn. رفو گر—*gar, n. m.* a darning. رفو گری—*garí, n. f.* darning.

رفیدہ *rafída*, P. *n. m.* A pad (for a horse saddle); a pad on which bread is laid to be baked in oven; old clouts sewed together.

رفیع *rafi*, A. *adj.* High; exalted. رفیع الشان—*ushshán*, a person of dignity; a nobleman of high rank. رفیع القدر—*ul-qadr*, of high estimation.

رفیق *rafiq*, A. *n. m.* A companion, a friend; a comrade; a follower; a confederate. رفیق—*rifíq*, an accessory. رفیق قریب تر—*qaríb tar*, next friend. [servants; necks.

رقاب *riqáb*, A. *n. m.* (*Plu. of* رقبة) Slaves;

راقص *raqqás*, A. *n. m.* A dancer.

رقبہ *raqba*, A. *n. m.* An area; enclosure; environs; esplanade; superficial contents; neck; slave. رقبہ آراضی—*i-arází*, the area of the land. رقبہ نکالنا—*nikálná*, to calculate the area.

رقبت *riqqat*, A. *n. f.* Thinness; flimsiness; want of consistency; liquidity; sympathy; pity; affection; softness; weeping; ecstasy; enthusiasm.

رقص *raqs*, A. *n. m.* A dance; dancing.

رقعات *ruq'át*, A. *n. m.* (*Plu. of* رقعة *Ruqq'a*), Notes; a collection of letters.

رقعہ *ruqq'a*, A. *n. m.* A piece; scrap (of paper); a letter; a note; a billet; an invitation; a receipt.

رقم *raqam*, A. *n. f.* Mark; handwriting; character; figure; a mode of arithmetical notation taken chiefly from the initials of the Arabic terms for numbers; item; sum; kind; method; sort; article (of goods); a royal edict; total sum; rate of assessment. رقم جمع—*i-jama'*, an item of credit. رقم کرنا—*karná, v.* to mark; to note; to write. رقم وار—*wár, adj.* item by item; in detail. رقم ہونا—*honá, v.* to be written.

رقم *raqm*, A. *adj.* Marked; written.

رقو *raqú*, A. *n. m.* Anything applied to stop bleeding; a styptic.

رقیب *raqíb*, A. *n. m.* A rival; a competitor; an enemy; one who watches; a guardian.

رقیق *raqiq*, A. *adj.* Thin; fine; liquid; subtle; delicate; unsubstantial.

رقیمہ *raqíma*, A. *n. m.* A note; a letter; an epistle. رقیمہ نیاں—*i-niyáz*, yours faithfully or truly.

رکاب *rakáb*, A. *n. f.* A stirrup; train; retinue; a cavalcade; catchword at the bottom of a page; a goblet; a bowl; a dish. رکا بدار—*dár, n. m.* a stirrup-holder; a groom; a pentryman; a steward; a butler; a vendor of preserves, pickles, &c; a companion.

رکاب پابہ *diwál*, *n. f.* a stirrup-feather. رکا ب پابہ *pá-ba*—*adj.* ready to start. رکا ب ہم *ham*—*adv.* in company with.

رکابی *rakábí*, P. *n. f.* A dish; a plate. رکا بی مذهب—*mazhab*, a parasitical; a timeserver.

رکان *rakán*, A. *n. f.* Manner; mode; bridle; reins.

رکاو *rukáo*, } H. *n. m.* Hindrance; pre-
رکاو *rukáwat*, } vention; stoppage; delay.

رکت *rakt*, रक्त, S. *n. m.* Blood; red-colour. رکت چندن—*baháná, v.* to shed blood. رکت کوزہ—*chandan, n. m.* red sandal-wood. رکت کوفہ—*koḥ, n. m.* a kind of leprosy in which the part affected is red.

رکشا rakshá, رکشا, S. n. f. Protection ; preservation ; care ; safety ; custody ; support ; patronage. رکشا کرنا—karná, v. to protect ; to preserve ; to care.

رکعت rak'at, A. n. f. Bowing of the head and body in prayer, and standing for the recitation of a portion of the *Quran*.

رکن rukn, A. n. m. A pillar ; support ; prop ; foot of a verse. رکن السطانت—ul-saltanat, a pillar of the state ; a noble.

رکنا rukná, رکنا, H. v. To stop ; to be hindered ; to be enclosed ; to be prohibited ; to falter in speech ; to stammer.

رکوع ruku', A. n. m. Bowing the body in prayer ; a chapter from the *Qurán*.

رکوبیا rukwaiyá, رکوبیا, H. n. m. One who stops or hinders ; preventor ; prohibitor.

رکھانا rakhána, رکھانا, H. v. (*Caus. of Rakha*). To cause to keep ; to cause to be kept ; to take in charge.

رکھانی rukhání, رکھانی, H. n. f. An auger ; a chisel ; a carpenter's chisel.

رکھائی rukháí, رکھائی, H. n. f. Dryness ; indifference ; coolness ; harshness ; unfriendliness ; incivility ; unkind looks.

رکھنا rakhná, رکھنا, H. v. To keep ; to put ; to place ; to have ; to possess ; to save ; to lay by ; to stake ; to bet ; to mortgage ; to hold ; to set ; to station ; to impute ; to own ; to present ; to engage ; to employ ; to apply. رکھ چھوڑنا rakh chhorná, v. to keep back ; to withhold ; to lay by. رکھ لینا—lená, to take into keeping or service ; to engage.

رکھوار rakhwár, رکھوار, } H. n. m. A guard ;
رکھوالا rakhwála, رکھوالا } a keeper ; a watchman ; a shepherd ; a cowherd.

رکھوالی rakhwáli, رکھوالی, H. n. f. Keep ; watch ; guard ; care ; custody.

رکھوائی rakhwái, رکھوائی, H. n. f. The wages of a guard or watch ; the price for keeping.

رکھی rikhí, رکھی, (S.) H. n. m. A sage ; a saint.

رکھبی rakebí, رکھبی, H. n. f. A dish ; a plate (see rikábi).

رگ rag, P. n. f. A vein ; an artery. رگ اترنا—utarná, v. to be appeased ; to be sprained ; to have a rapture. رگ پٹھنا—patthá, veins and muscles. رگ دار—dár, adj. veined ; veiny. رگ ریشہ—resha, veins and fibres ; nature ; constitution. رگ شاہ—sháh—, an artery ; the jugular vein.

رگڑی ragáí, رگڑی, H. n. f. Friction ; attrition ; rubbing. رگڑ کرنا—khána, v. to be gazed ; to rub against. رگڑ لگنا—lagná, v. to be abraded ; to be rubbed.

رگڑا ragrá, رگڑا, H. n. m. Rubbing ; quarrelling ; wrangling ; a collyrium ; an ointment for the eyes ; damage. رگڑا جھگڑا—jhgárá, quarrel ; wrangling ; argument ; debate.

رگڑنا ragárná, رگڑنا, H. v. To rub ; to grate ; to grind ; to abrade ; to chafe ; to wear out ; to excoriate ; to scour.

رگید raged, رگید, (Col.) H. n. f. Pursuit ; chase ; hunt.

رگیدنا ragedná, رگیدنا, H. v. To pursue ; to hunt ; to chase ; to drive off or away.

رگڑا ruláná, رگڑا, H. v. (*Caus. of Rona*). To cause to weep ; to displease ; to afflict ; to vex.

رگڑنا ralná, رگڑنا, (Col.) H. v. To be mixed ; to get lost.

رگ ram, P. n. m. Terror ; scare ; fright ; elopement. رگ رہنا—rahná—, v. to remain hidden ; to elope. [speaks mysteriously.]

رگماز rammáz, A. n. m. An enigmatist ; one who rammál, A. n. m. A fortune teller ; a sooth-sayer ; a practiser of geomancy ; a prophet.

رگمان rummán, A. n. m. A pomegranate.

رگمبا rambá, رگمبا, } H. n. m. A spade ; a hoe ;
رگمبھا rambhá, رگمبھا } an instrument for rooting up grass.

رگمبھانا rambháná, رگمبھانا, H. v. To bellow ; to low (as a cow) ; to roar.

رگمزم ramz, A. n. f. (*Plu.*) رگمزم Rumúz.) A sign ; hint ; wink ; riddle ; allusion ; sarcasm ; innendo. رگمزم چلانا یا پھگنا—chalána ya phegna, v. to make allusions.

رمضان ramzán, A. n. m. The ninth Muham-madan month during which they are inter-dicted from eating, drinking, and conjugal duty between dawn and sunset. On the 27th of the month *Qurán* began to descend from heaven.

رماق ramaq, A. n. m. The last breath ; the departing spirit ; the least part ; a tincture.

رمل ramal, A. n. m. Foretelling by figures ; divination ; geomancy.

رمانا ramná, रमना, H. v. To roam ; to rove ; to wander ; to dwell in ; to enjoy ; to luxuriate ; to revel ; n. m. a park ; pasture land. [tude.

راما rama, P. n. m. Flock ; herd ; army ; multi-

راميدا ramida, P. perf. part. Disturbed ; terri-fied ; afflicted.

ريمم remim, A. adj. Old and decayed ; curious.

رين rin, ऋण, H. n. m. A debt ; a negative quantity (in Algebra).

ران ran, रण, (S.) H. n. m. War ; battle ; wood ; battle-field ; a mark. ران بن—ban n. m. a wilderness. ران بوم—bhúm, n. f. a battlefield. ران جيت—jit n. m. conqueror ; a victor.

رانبها rambhá, रंभा, H. n. f. Delight.

رانج ranj, P. n. m. Grief ; sorrow ; affliction ; sadness ; anguish of mind ; distress ; inconve-nience ; offence ; suffering ; pains. رانج دينـا—dená, v. to grieve ; to wound one's feelings. رانج كرنا—karná, v. to grieve ; to sorrow ; to lament ; to take offence at.

رانجيش ranjish, P. n. f. Grief ; unpleasantness ; coolness ; offence.

رانجك ranjak, रंजक, H. v. f. Priming-powder ; the touch-hole of a gun ; match of a gun ; rocket or squib. رانجك ازانـا—uráná, v. to flash in the pen. رانجك پلانـا—pilaná, v. to prime. رانجك چائـجانـا—chájjaná, v. to dash and fume. رانجك دان—dán, n. m. priming-pan.

رانجور ranjúr P. adj. Sick ; afflicted.

رانجيدگي ranjidagi, P. n. f. Displeasure ; vexation.

رانجيدا ranjida, P. adj. Sad ; grieved ; afflicted ; displeased, offended. رانجيدده خاطر—khátir, dis-

pleased ; afflicted in mind. رانجيدده كرنا—karná, v. to displease ; to offend.

رند rind, P. n. m. A drunkard ; profligate ; a debauchee ; a free-thinker ; a sceptic ; a rep-robate. [rakish ; disorderly.

رندا rindána, P. adj. Licentious ; dissolute ; رندا رندا rindná, رندا رندا, (Col.) H. v. To be trodden or trampled on.

رندا randa, P. n. m. A carpenter's plane. رندا رندا randa—pherná, v. to plane.

رندنا randhná, रन्धना (Col) H. v. To be boiled.

رندي rindí, P. n. f. Trick ; fraud ; debauchery.

رندا پيا randápá, रंदापा, H. n. m. Widow-hood.

رندا سالا randsála, रंदासाला, H. n. f. A widow's dress ; widow's weeds.

رندا وارا randwá, रंदावा, (Col.) H. n. m. A widower.

رنگ rang, रंग, H. n. m. Colour ; paint ; dye ; hue ; complexiou ; suit (at cards) ; manner ; mode ; sort ; enjoyment ; look. رنگ ازانـا—uráná, v. to lose colour ; to fade ; to become

pale. رنگ آز جانا يا نق هر جانا يا زرد هر جانا, v. change colour ; to grow pale. رنگ انشاني كرنا—afshání karná, v. to scatter colour. رنگ آميزي—ámiz, adj. coloured ; painted.

رنگ باخته—ámiz, n. f. painting ; colouring. رنگ بركـا—bákhta, adj. and adv. in a state of fear or astonishment ; with colour gone. رنگ برنگـا—rangá huá, adj. coloured ; painted. رنگ برنگـا—rangá huá, adj. of various colours or kinds.

رنگ بگرنـا—bigarná, u to be discoloured or strained. رنگ بـرنا—bharná, v. to paint ; to colour. رنگ بـريا—bharyá, n. m. a painter. رنگ بـهـوم—bhang, spoiling of sport.

رنگ بـهـوم—bhúm, n. a place of amusements ; a theatre. رنگ پـانـا—phiká yá mand parná, v. to become pale or dull. رنگ چـرـهـانا—charháná, v. to dye ; to paint. رنگ چـرـهـانا—charháná, v. to be painted or dyed ; to be elated with liquor. رنگ دار—dár, adj. coloured ; showy , fine. رنگ ديـكهـنا—dekhná, v. to consider the consequence. رنگ دهنـگ—dhang, appearances ; aspect ; fashion ; style. رنگ رسيـا—rasiá, n. m. a wanton. رنگ رليـان—raliyán, n. f. sport ; merriment ; pastimes. رنگ رـبـ—rúp, n. m.

colour ; appearance ; form. رنگ ریز—rez, *n. m.* a dyer. رنگ ساز—sáz, *n. m.* a painter. رنگ کرنا—karná, *v.* to paint ; to enjoy oneself. رنگ کھیلنا—khehná, to sport with colour. رنگ لانا—láná, *v.* to present a fine appearance or form ; to bloom ; to bring about a change. رنگ لینا—lená, *v.* to dye ; to colour. رنگ مارنا—márná, *v.* to win (in gaming). رنگ محل—mahal, *n. m.* an apartment for festive or voluptuous enjoyments.

رنگا رنگ rangárang, *P. adj.* Many coloured ; various ; motley.

رنگانا rangáná, رنگانا, *H. v.* To get coloured.

رنگاواٹ rangáwaṭ, رنگاواٹ, *H.* Colouring ; dyeing.

رنگاواٹ رنگاواٹ rangáwaṭ rangáwaṭ } *H. n. f.* The price paid for colouring, dyeing or painting, etc.

رنگت rangat, *P. n. f.* Colour ; dye ; hue ; complexion ; design. رنگت آنا—áná, *v.* to be dyed ; to get a colour. رنگت سفید ہونا—safed honá, *v.* to become pale.

رنگتارا rangtará, *P. n. m.* A kind of orange (This name was given by *Mohammad Shah* instead of *Sangtara*, *q. v.*)

رنگنا rangná, رنگنا, *H. v.* To colour ; to dye ; to paint.

رنگی rangí, رنگی, *H. n. f.* Chintz ; chintz etc., of which the colour washes out.

رنگیلا rangílá, رنگیلا } *H. adj.* Gaudy ; showy ;
رنگیلی rangíli, رنگیلی } airy ; gay ; *n. m.* and *f.* a rake ; a man of pleasure.

رنگین rangín, *P. adj.* Coloured ; painted ; gaudy ; florid ; ornate ; ornamented ; embellished ; figurative ; allegorical ; metaphorical ; gay ; lively ; fond of gaiety ; addicted to pleasure. رنگین ادب—adáb, of elegant manner. رنگین ادب—adáb, *n. f.* elegance of manners.

رنگینی rangíní, *P. n. f.* Bright-colouring ; a florid style. رنگینی عبارت—ibárat, *n. f.* a florid style.

رنگرٹ rangrút, رنگرٹ, *H. a. m.* (Corr. from the *English* Recruit.

رنگواس rangwás, رنگیواس, (*S.*) *H. n. m.* The seraglio of a rájá ; a palace.

رنگیا riniyá, रङ्गिया, *H. n. f.* A debtor. رنگیا ہونا—honá, *v.* to be in debt ; to owe.

رر rau, *P. part. adj.* (from رفتن to go). Going ; (used in compos.) as : رر پیشرو pesh—, preceding ; going before.

رر ro, *P. part.* (from رستن to grow) Growing (used in compos.) as : رر خود رو khud—, growing by itself.

رر رر rú, *P. n. m.* Face ; surface ; cause ; reason ; manner ; mode رر بارا—baráh, *adj.* ready for a journey ; setting out ; reformed. رر بارا—ba rú, *adv.* face to face ; in front of. رر بارا کرنا—ba rú kartna, *v.* to bring in the presence of.

رر رر رر bakár, رر رر رر bakárf, *n. m.* an order. رر رر رر bakárf, *n.* proceeding of a cause ; a record ; a warrant. رر رر رر—posh, *adj.* hiding the face ; absconded. رر رر رر—posh honá, to conceal oneself ; to abscond. رر رر رر—poshí, *v. f.* concealment ; absconding. رر رر رر—dár, *n. m.* a man of rank and dignity. رر رر رر—dená, *v.* to attend to. رر رر رر—ri'áyat, *n. f.* partiality ; favour. رر رر رر—siyáh, *adj.* disgraced ; infamous ; sinner. رر رر رر—siyáhí, *n. f.* disgrace ; dishonour. رر رر رر—shinás, *n. m.* one who is known to another by sight ; an acquaintance. رر رر رر—shinási, *n. f.* acquaintance. رر رر رر—kash, *n. m.* a cover of a mirror. رر رر رر—gardán, *adj.* turning away the face or side ; backward. رر رر رر—gardán karná, *v.* to turn away the face. رر رر رر—gardáni, *n. f.* disaffection ; revolt. رر رر رر—numái, *n. f.* a showing of the face. رر رر رر is rúse, *adv.* for this reason ; on this account ; in this wise ; so ; according to ; by way of.

رر rawá, *P. adj.* Right ; allowable ; lawful ; current ; approved ; worthy ; proper ; suitable. رر رر رر—jánná yá samajhná, *v.* to think fit or proper. رر رر رر—dár, *adj.* approving. رر رر رر—dár honá, to permit oneself to do. رر رر رر—dírí, *n. f.* approbation. رر رر رر—rakhná, *v.* to uphold ; to justify ; to make legal ; to consider lawful.

رر rawá, رر رر, *H. n. m.* A grain or particle of sand, dust, &c. ; gold and silver filing ; a bit ; a piece ; a little.

دواج riwāj, A. n. m. Usage ; custom ; fashion ; currency ; prevalence ; practice. دواج پانا یا پاننا—pānā yā pakāpnā, v. to become prevalent. دواج پانا—pāpnā, v. to prevail. دواج دینا—denā, v. to make current or customary ; to introduce. دواج شد آمد—i-shudāmad, prescriptive usage.

دواجی riwājī, A. adj. Current ; ordinary ; customary. [hurry.]

دواجی rawārawī, P. n. f. Going ; travelling ; دواج riwās, P. n. m. Fat.

دواجی roās, रोआस, H. n. f. Inclination to cry.

دواجی ruāsā, रुआसा, H. adj. Inclined to cry ; vexed ; displeased.

دواجی riwāq, A. n. m. A portico ; a gallery in front of a house ; a lofty building resting on columns ; a curtain stretched like a canopy before the door of a house or tent.

دواجی rawāl, रवाल, (Col.) H. n. m. A grain of silver or gold.

دواجی rawān, P. adj. Going ; running ; moving ; flowing ; current ; sharp ; n. m. text reading. دواجی روان کرنا—pāpnā, v. to read. دواجی روان کرنا—karnā, v. to set agoing ; to despatch ; to send ; to make current. دواجی روان ہونا—honā, to be current. دواجی سال سال sāl i—, n. m. the current year.

دواجی roān, रोआँ, H. n. m. The hair of the body ; down ; wool ; fur. دواجی رواندار—dār, adj. furred ; downy.

دواجی roānā, रोआना, H. v. (Caus. of रोना) Rond). To cause to weep ; to make one cry.

دواجی rawāngī, A. n. f. Running ; flowing ; setting out ; departure ; going ; despatch. دواجی روانگی—chiṭṭhī, n. f. a pass ; a passport.

دواجی rawāna, P. n. m. A pass ; a passport. دواجی روانہ—karnā, v. to despatch ; to send. دواجی روانہ ہونا—honā, v. to depart ; to proceed ; to be in motion ; to die.

دواجی rawānī, P. n. f. Going ; reading ; fluency.

دواجی roāī, रोआई, H. n. f. Cry ; lamentation.

دواجی riwāyat yā rawāyat, A. n. f. A narrative ; a tale ; tradition ; a legend ; a history.

روب rob, P. Sweeping (used in compos.), as : روب خاک khāk-rob, sweeper.

روب robāh, P. n. f. A fox.

روب rūp, रूप, H. n. m. Countenance ; face ; form ; figure ; appearance ; feature ; beauty ; condition ; manner ; mode. روب بدلنا—badalnā, v. to change one's countenance. روب بگاڑنا—bigārnā, v. to disfigure ; to deface. روب بدھنا—dharnā, v. to personate to assume a character ; to act a part. روب درشن—darshan n. m. a rupee. روب نکالنا—nikālnā, v. to grow beautiful.

روبی rūpā, रूपा, (Col.) H. n. m. Silver.

روبی rūpjast, H. n. m. Pewter. روب رس rūp-ras, n. calcined silver.

روبی ropnā, रोपना, H. v. To sow ; to plant ; to transplant ; to hinder ; n. f. betrothal.

روبی rūpwatī, रूपवती, S. adj. Handsome ; beautiful. [beautiful.]

روبی rūpwant, रूपवंत, S. adj. Handsome ;

روبی rūpahā, रूपहरा, } H. adj. Silvered ; sil-
روبی rūpahlā, रूपहला } very ; made of silver.

روبی rūpiya, H. n. m. A rupee ; coin ; money.

روبی رہیجنا—bhejā, v. remit money. روبی رہیجنا یا توڑنا—bhunānā yā torānā, v. to change a rupee for copper money or smaller silver coins. روبی جوڑنا—jorā, v. to hoard up wealth. روبی وال—wālā, n. m. a rich man ; a wealthy person.

روبی ruwat, रवत, (Col.) H. n. f. Beauty ; regard.

روبی rot, रोट, } H. n. m. A large loaf ; a thick
روبی rotā, रोटा, } bread ; a sweet cake offered to Hanumān.

روبی rūṭhā, रूठा, H. n. f. Misunderstanding ; mutual coolness.

روبی rūṭhnā, रूठना, H. v. To be offended or displeased ; to take offence ; to have a misunderstanding with a friend.

روبی rotī, रोटी, H. n. f. Bread ; loaf ; food ; sustenance ; maintenance ; livelihood. روبی روٹی دینا—denā, v. to feed ; to support ; to feast ; to entertain. روبی کو روٹنا—ko ronā, to cry for bread ; to be starving. روبی کھانا—khānā, v. to take food ; to eat. روبی توڑنا—torā, v. to eat the bread

of idleness. دال روئی سے خوش ہونا *dál*—*se khus honá*, *v.* to be well off. روئییاں لگنا *roṭiyān lagná*, to become plump or fat. روئیوں *roṭiyōn* *ká mārā*, *adj.* starved ; famine-stricken. والا روئی والا *wálá*, *n. m.* a baker.

روح *rúh*, *A. n. f.* Soul ; spirit ; life ; the vital principle ; the essence of anything. روح افزا *afzá*, *adj.* exhilarating. روح الامین *ul-amín*, *n. m.* the angel Gabriel, روح القدس *ul-quds*, the Holy Spirit. روح الله *ullah*, the Spirit of God ; the Holy Ghost ; Jesus Christ. روح رواں *rawān*, the animated soul. روح کانپنا *kánpná*, *v.* to tremble with fear. روح نکلنا یا پرواز کرنا *níkalná yá parwáz karná*, *v.* to be frightened to death ; to die ; life to depart.

روحانی *ruhání*, *A. adj.* Spiritual.

رود *rod*, *P. n. m.* A stream ; a river ; a torrent ; flowing water. رود بار *bár*, *n. m.* a place abounding in rivers or streams.

رودا *rodá*, } *P. n. m.* A bowstring ; a gut ;
 رودا *roda*, } an intestine ; a sinew used as a
 bow string, a branch of a tree or creeper.

روداد *rúdád* ; *P. n. f.* Statement ; account ; proceedings.

رورا *rorá*, رورہا, *H. n. m.* A stone ; a small piece of stone or brick ; a brickbat ; a caste among *Khatris*. [harsh ; surly ; uncivil.

رورہا *rúrhá*, رورہا, (Col.) *H. adj.* Hard ; rough ;

روز *roz*, *P. n. m.* A day ; daily wages, *adv.* per diem ; every day. روز افزوں *afzúñ*, *adj.* increasing day by day. روز بروز یا روز مریا *ba-roz yá roz marrah*, *adv.* every day ; daily ; constantly. روز جزا *jazá*, *n.* the Day of Judgment. روز قیامت *i-qiyámat*, *n. m.* the Day of Resurrection. روز نامچہ *námcha*, *n. m.* a diary. روز و شب *o-shab*, *adj.* day and night. روز شمار *i-shumár*, the Day of Judgment.

روزانہ *rozána*, *P. adv.* Daily ; *n. m.* a daily allowance.

روزگار *rozgár*, *P. n. m.* Service ; employment ; time ; age. روزگار پیشہ *pechá*, *n. m.* one whose business is service ; a servant. روزگار چھوڑنا *chhútná*, *v.* to be dismissed from service ; to be out of work ; to be out of employment. روزگار کرنا *karná*, *v.* to serve ; to start a business. روزگار لگنا *lagná*, *v.* to get service.

روزانہ *rauzan*, *P. n. m.* A hole.

روزہ *roza*, *P. n. m.* A fast ; lent. روزہ دار *dar*, *n. m.* one who fasts or keeps lent. روزہ رکھنا *rákhná*, *v.* to keep a fast ; to fast. روزہ کھولنا *kholná*, *v.* to break a fast.

روزی *rozi*, *P. n. f.* Daily food or allowance ; maintenance ; employment.

روزینہ *rozíná*, *P. n. m.* Daily pay or wages ; daily allowance ; stipend. روزینہ دار *dár*, *n.* a stipendiary.

روس *ros*, रोष, *H. n. m.* Passion ; anger ; rage. روس کرنا *karná*, *v.* to be angry.

روس *raus*, रोस, *H. n. f.* (*Corr. of* روش *Ravish*.) An avenue ; a garden walk.

روستائی *rostái*, *P. n. m.* A villager ; a peasant ; a rural district.

روسی *rúsi*, रूसी, *H. n. f.* Scurf.

روش *ravish*, *P. n. f.* Motion ; gait ; walk ; custom ; fashion ; avenue ; behaviour ; course ; procedure ; manner ; way ; a footpath in a garden.

روشن *roshan yá raushan*, *P. adj.* Bright ; shining ; light ; conspicuous ; clear ; evident ; manifest. روشن چوکھی *chaukí*, *n. f.* a band of musicians ; a kind of serenade with pipe and small tabours. روشن دان *dán*, *n. m.* a skylight ; a small hole for admitting light. روشن دل *dil*, *adj.* enlightened ; intelligent. روشن کرنا *karná*, *v.* to light ; to illuminate ; to kindle ; to bring to light.

روشنائی *roshnái*, *P. n. f.* Ink.

روشنی *roshní*, *P. n. f.* Light ; illumination ; eyesight. روشنی کرنا *kerná*, *v.* to illuminate ; to light a lamp.

روضہ *rauza*, *A. n. m.* A garden ; a mausoleum. روضہ خراں *khwán*, an enlogist at a tomb of a saint or beloved person.

روغن *raugan*, *P. n. m.* Grease ; oil ; butter ; varnish ; polish ; colour ; glossiness ; sleekness. روغن تلخ *i-talkh*, *n. m.* mustard oil. روغن ذرد *i-zard*, *n. m.* clarified butter. روغن فروش *farosh*, *n. m.* an oil merchant.

روغنی *rauganí*, *P. adj.* Greasy ; oily ; buttery ; fried in *ghí* روغنی *roṭí*, buttered bread.

روک rok, रोक, H. *n. f.* Stop ; restraint ; prevention ; limitation ; restriction ; hindrance ; bar ; interruption ; stay ; support ; screen ; shelter. روک توک - tok, *n. f.* obstruction ; resistance ; opposition. روک توک کرنا tok karná, *v.* to challenge (as a sentry) بے روک be—tok, *adv.* without hindrance.

روکار rokáo, रोक़ाव, H. *n. m.* Hindrance ; prevention ; hitch ; obstacle.

روکار rokar, रोक़, H. *n. m.* Cash ; ready money ; stock روکری بکری—bikrí, *n. f.* ready money sale. روکری باہی—bahí, *n. f.* cashbook.

روکاریا rokaríyá, रोक़िया, H. *n. m.* A treasurer ; a cashier.

روکنا rokná, रोक़ना, H. *v.* To obstruct ; to block ; to prevent ; to prohibit ; to stop ; to hinder ; to detain ; to interrupt ; to enclose ; to hold in detention ; to keep off ; to screen ; to catch ; to challenge (as a sentry) ; to bind by contract. [charhá, *n. m.* a monkey.

روکھá rúkh, H. *n. m.* A tree. روکھ چڑھا—

روکھá rúkhá, रुखा, H. *adj.* Dry ; plain ; rough ; unseasoned ; unbuttered ; indifferent ; unsympathetic. روکھá سركھá—súkhá, *adj.* dry ; plain ; harsh ; *n. m.* poor meal.

روکھاپن rúkhápan, H. *n. m.* Dryness ; roughness ; indifference.

روگ rog रोग, H. *n. m.* Sickness ; disease ; plague ; defect. روگ پالنا—pálná, to bring illness on oneself.

روگی rogi, रोगी, } H. *adj.* Sick ; *n. m.* sick

روگی rogiyá, रोगिया, } person.

رولی rúl, रूल, H. *n. m.* (Corr. from the Eng.) A ruler.

رولا raulá, रौला, (Col.) H. *n. m.* Noise ; alarm ; tumult ; riot. رولا مچانا—machána, *v.* to make a noise ; to raise a commotion ; to create a disturbance.

رولنا rolná, रोलना, H. *v.* To pick out ; to gather up ; to winnow ; to roll ; to plane ; to make money in abundance.

رولی rolí, रौली, (Col.) H. *n. f.* A mixture of rice, turmeric, and alum, with acid, used by Hindus to paint the sectarial mark on the forehead.

روم room, रोम, H. *n. m.* The small hair of the body ; down.

روماولی romávalí, रोमावली, H. *n. f.* A line of hair extending from the breast to the navel.

رومال rumál, P. *n. m.* A handkerchief ; a towel ; a napkin.

رومالی rumálí, P. *n. f.* A kind of pigeon ; a handkerchief worn about the head ; a mode of exercising the arms with dumb-bells.

رومی rúmí, A. *n. m.* A Roman.

رونا roná, रोना, H. *v.* To weep ; to cry ; to mourn ; to be displeased ; *n. m.* weeping ; lamentation ; grief ; *a.* rueful ; melancholy ; addicted to crying. رو دینا—dená, to burst into tears ; to weep ; to cry. رو رو کے—ro ke, with great difficulty. روئی صورت roní súrat, *adj.* of a sad countenance.

روند raund, रौंद, H. *n. f.* (Corr. fr. English) The round of guards, &c. روئند گشتی کرنا—gasbtí karná, *v.* going the rounds ; patrolling.

روندن raundan, रौंदन, H. *n. m.* Trampling ; treading under foot. روئندن میں آنا—men áná, *v.* to be trampled or crushed under foot.

روئدنا raundná, रौंदना, } H. *v.* To trample on ;

روئدنا raundhná, रौंदना } to tread down ; to crush under foot.

روئدہ rawanda, P. *n. m.* Going ; goer.

روئ روئ rúp rúp, रूँ रूँ, H. *n. f.* Crying of an infant.

روئدھنا rúndhaná, रूंधना, H. *v. t.* To fence or hedge in ; to enclose.

روئق raunaq, A. *n. f.* Beauty ; colour ; splendour ; elegance ; freshness ; flourishing state or condition. روئق انور ہونا—afroz honá, *v.* to grace or honour by one's presence ; to arrive at a place. روئق پر ہونا—par honá, to be in full bloom or splendour. روئق دار—dár, *adj.* brilliant ; splendid.

روئگتا rongtá, रौंगटा, H. *n. m.* The small hairs of the body ; down.

روئہ rawanná, रवना, H. *n. m.* A passport ; a permit ; a page ; an errand boy.

rohini, रोहिणी, S. n. f. The fourth lunar mansion, comprising Aldebaran and four other stars in Taurus. [of the eyelid.]
 rohú, रोहू, H. n. f. A fish; the corners
 ravi, रवि, S. n. m. The sun. روي وار—vár n. m. Sunday.
 rúi, रूई, H. n. f. Cotton. دار رونی—dár, adj. quilted or stuffed with cotton. روئی دھننا—dhunná, to card cotton. گالا روئی کا—ka gála, flake of cotton. [countenance.]
 royat, A. n. f. Appearance; aspect;
 ruedád, P. n. f. A statement; proceeding. رویداد مقدمہ—i-muqaddama, the merits of a case.
 roidagi, P. n. f. Vegetation; the growth of a plant.
 roen, P. n. m. Brass. روئیں تن—tan, adj. brazen-bodied.
 roen, روئے, H. n. m. The hair of the body; down. روئیں بدلنا—badalná, v. to become sleek and fat; to change one's coat.
 rawaiyá, P. n. m. Custom; manner; fashion; rule.
 rah, P. n. f. A road; a path; a way. رہبر—ber ya رہنما—numá, a n. m. guide. رہنمائی یا رہبری—bari ya—numai, n. f. guidance. رہر—ran, رہگیر—gir, رہ نورد—naward, n. m. a traveller; wayfarer. زان—zan, n. m. a highwayman; a robber. زانی—zani, highway robbery. رہ گذر—guzar, highway; passage.
 rihá, P. adj. Released; freed; liberated. رہا کرنا—karná, to discharge; to release; to liberate. رہائی rihái, n. f. acquitted; freedom; escape; release; exemption.
 rahá, رہا, H. part. adj. Remained. رہا سہا—sabá, left; remained; n. m. leavings.
 rahaish, H. n. f. Stay; abode; residence. رہایش اختیار کرنا—ikhtiyár karná, to take up one's abode; to tarry
 rahte, रहتے, (Col.) H. adv. (formative of rahtá). In the presence of; before; while he was present, or here, or alive; during the lifetime or existence of.

rahaṭ, रहट, H. n. m. A wheel for drawing water with; succession; continuation.
 rahtá, रहटा, (Col.) H. n. m. A spinning wheel.
 rahjáná, रहجانا, H. v. To stay; to remain behind; to delay; to be left undone; to be omitted. [merriment.]
 rahas, (راس S.) H. n. m. Enjoyment;
 rahasná, H. v. To be pleased; to enjoy oneself.
 rahkalá, रहकला, } H. n. m. A small canal
 rahkala, रहकल, } non; a fieldpiece; a cart.
 rehn, A. n. m. A mortgage; a pledge.
 bilqabz, رہن بالقبض—bilqabz, mortgage with possession. رہن دار—dár, n. m. a mortgagee. رہن رکھنا—rakhná, v. to mortgage; to pledge. رہن سے چھڑوانا—se chhuráná, v. to redeem. رہن نامہ—náma, a mortgage-deed.
 rahná, रहنا, H. v. To remain; to be left; to be; to exist; to last; to live; to dwell; to inhabit; to stop; to stay; to be stunted or paralysed. رہتے rahte, adv. during the lifetime of. رہ رہ کے rah rah ke, adv. again and again. رہنے والا rahne wálá, n. m. an occupant; an inmate; an inhabitant; resident.
 rahwaiyá, रहवैया, H. n. m. An inhabitant; a dweller.
 raf, राई, H. n. f. A churn. رانی چالانا—chaláná, v. to churn.
 riyá, A. n. m. Hypocrisy; dissimulation; show; pretence. ریا کرنا—karná v. to dissemble; to practise hypocrisy. ریا کار—kár, n. m. a dissembler; a hypocrite. ریاچی riyáí n. m. a hypocrite; a sophist. [flatulence.]
 riyáh, A. n. m. Wind in stomach;
 riyásat, A. n. f. Government; dominion; sway; rule, nobility. ریاست جمہوری—i-jamhúrí, n. f. republic; democracy.
 riyáz, A. n. m. (Plu. of روضہ). Gardens; labour.
 riyásat, A. n. f. Abstinence; austerity; labour; training; discipline; religious exercise. ریاضت کرنا—karná, v. to work or labour

hard ریاضتی *riyázatí*, *n. m.* an ascetic ; a devotee ; an industrious person.

ریاضی *riyází* *A. n. m.* Mathematics. دان ریاضی — *dán* *n. m.* Mathematician.

ریس *ret*, ریت, *H. n. f.* Sand ; filings.

ریس *rít*, ریت, *H. n. f.* Rite ; observance ; custom.

ریسم *rasm*, *n. f.* manners and customs.

ریس کرنا *naí-karná*, to introduce a new custom ; to make an innovation.

ریس *retá*, ریتا, *H. n. m.* Sand ; dust

ریس *rítá*, ریتا, *H. adj.* Empty ; hollow ; unoccupied ; not full. [filing.

ریسائی *retái*, ریتائی, *H. n. f.* The price paid for

ریس *retná* ریتنا, *H. v.* To file ; to rasp ; to polish.

ریس *reti*, ریتئی, *H. n. f.* Sandy soil ; a file.

ریس *retilá*, ریتیللا, *H. adj.* Sandy.

ریس *riḥhá*, ریتا, *H. n. m.* Soapwort ; soap-nut ; *sapindus detergens*.

ریس *rijh*, ریس, *H. n. f. O. f.* Choice ; pleasure ; desire ; satisfaction. ریچھ پچھانا — *pacháná*, *v.* to conceal one's gratification. ریچھ پچھار — *pachán*, *n. m.* one who conceals his inclination. [be gratified.

ریس *rijhna*, ریسنا, *H. v.* To be pleased ; to

ریس *riehh*, ریس, *H. n. m.* A bear.

ریس *rih*, ریس. (Col.) *H. n. f.* Wind ; flatus.

ریس کا درد — *ká dard*, *n. m.* rheumatism ; rheumatic gout.

ریس *rehán*, *A. n. f.* An odoriferous plant ; *ocimum pilosum*. ریسمان تخم — *tukhm-i-*, *n. m.* the seed of *ocimum pilosum*

ریس *rihi*, ریسئی, (Col) *H. adj.* Windy ; flatulent

ریس *riḥh*, *P. n. f.* Purging ; thin excrement in diarrhoea.

ریس *rekh*—*rekh*, *H. n. f.* A line ; the black line between the teeth made by applying *missi*.

ریس *rekhta*, *P. adj.* Scattered ; *n. m.* the Hindustaní language as spoken by men ; mortar ; Hindustaní ode.

ریس *raidás*, ریداس, *H. n. m.* A sect of *chamdrá* who are followers of *Raidass*,

ریس *riryáná*, ریریانا, *H. v.* To cry (as a child) ; to importune.

ریس *riḥh*, ریس, *H. n. f.* The backbone

ریس *rez*, *P.* Pouring ; scattering ; dropping ; shedding (used in compos.) as : اشک ریز *ashk* —, shedding tears. ریز رنگ *rang*—, a dyer, a painter. ریز کرنا — *karná*, *v.* to begin to speak (as young birds).

ریس *rezán*, *P.* Pouring ; scattering ; dropping

ریس *rezísh*, *P. n. f.* A running at the nose ; scattering ; flowing in small quantities.

ریس *rezgi*, *P. n. f.* A scrap ; a bit ; a small coin.

ریس *rezah*, *P. n. m.* An atom ; a piece ; a bit ; a kind of cock ; (in *Mech*) a moulding box ; a labouring boy (employed in masonry work).

ریس — *rezah karná*, *v.* to break into pieces ; to shatter. ریس ہونا — *rezah honá*, *v.* to be broken in small pieces.

ریس *rís*, ریس, (Col.) *H. n. f.* Emulation ; equality. ریس کرنا — *karná*, *v.* to compete with.

ریس *rismán*, *P. n. f.* String ; rope ; cord.

ریس *rish*, *P. n. f.* Beard. ریش خند — *khand*, laughing ; ridiculous. ریش خندی — *khandí*, *n. f.* risibility ; a laughing stock. ریش سفید — *sufeid*, grey beard

ریس *resh*, *P. n. m.* A wound ; a sore ; *adj.* wounded (used in compos.), as : دل چگر ریش — *dil* — wounded to or in the heart.

ریس *resham*, *P. n. m.* Silk.

ریس *reshmí*, *P. adj.* Silken ; woven of silk.

ریس *resha*, *P. n. m.* Fibre filament ; stringiness of a mango. ریش دار — *dár*, *adj.* fibrous ; stringy. ریش بے — *be*—, without fibre.

ریس *rigal*, (Col.) *adj.* Dry ; thin.

ریس *rekán*, ریکان, *H. n. f.* Land beyond the reach of river-water.

ریس *rekh*, ریس, } *S. n. f.* Line ; mark ; fate.

ریس *rekhá*, ریس, } *ganit*, *n. f.* geometry.

ریس *reg*, *P. n. f.* Sand. ریس روان — *rawán*, quicksand ; sand agitated as waves by the wind. ریس مالی — *máli*, polishing with

sand-paper. ريگ ماهي—máhi *n. f.* skink ; a lizard like sandy fish, used in medicine in a dried state

ريگزار regzár, *P. n. m.* Sandy region or place.
ريگستان registán, *P. n. m.* A sandy desert ; a sandy place.

ريگهاري reghári, रेघारी, *H. n. f.* A furrow.
ريل rel, रेल, *H. n. f.* A railway train in carriage.

ريلا relá, रेला, *H. n. m.* A torrent ; a flood ; rush ; push.

ريل پيل rel pel, रेल पेल, *H. n. f.* Abundance ; plenty ; bustle. ريل پيل کرنا—pel karná, *v.* to supply abundance ; to overstock.

ريلنا relná, रेलना, *H. v.* To shove ; to push ; to rush ; to bustle ; to jostle. [dregs.

ريم rim, *P. n. f.* Pus ; matter ; leas ; rheum ;
ريمي باواسير rimí bawásir, *P. n. f.* Piles, with a white or pale matter.

رين rain, رैन, *H. n. f.* Night. رين سيرا—baserá, *n. m.* a night's halt.

رينت rent, *H. n. m.* Mucus from the nose ; snivel ; snot.

رين رين ren ren, रँ रँ, *H. n. m.* Crying or moaning of a child ; the discordant note of stringed instrument.

رينتا rentá, रँटा, (Col.) *H. n. m.* Snivel ; snot.

ريندي rendí, रँडी, *H. n. f.* Palma christi ريندي کا تيل—ká tel, *n. m.* castor-oil.

رينر repr, رँر, *H. n. m.* See ريندي rendí.

رينک renk, रँक, *H. n. f.* Braying (as of an ass).

رينکنا renkná, रँकना, *H. v.* To bellow (as a buffalo) ; to bray (as an ass).

رينگتا rengta, रँगटा, *H. n. m.* The young of an ass.

رينگنا ringná yá ringná, रँगना या रिंगना, *H. v.* To crawl ; to creep.

ريني rainí, रैनी, *H. n. f.* The process of extracting colour from Kusum. ريني چزهانا—obaháná, *v.* to extract colour from Kusum.

ريوتي rewati, रेवती, *S. n. f.* The 27th lunar mansion consisting of Piscium and thirty-one other stars.

ريور rewar, रेवड़ (Col.) *H. n. m.* A flock of sheep or goats.

ريوري rewri, रेवड़ी, *H. n. f.* A kind of sweetmeat. ريوري کے ميں پڑنا—ke pher men paṛná, *v.* to be involved in difficulties.

ريوند rewand, ريند چيني, *P. n. m.* Rhubarb. rewand chini, *n. f.* the Chinese rhubarb.

ريه riya, آ, *n. m.* The lungs.

ره reh, रेह, *H. n. f.* Fossil ; alkali ; impure nitrate of soda ; Fuller's earth ; brackish or barren soil.

رهه rehā, रेहड़, (Col.) *H. n. f.* Barren or saline soil.

رهو رهو (रोहू) *H. n. f.* A kind of fish.

ريس ريس rats, آ, *n. m.* A prince ; a nobleman ; a respectable person ; a citizen ; a burgess ; a resident.

(ز)

ze called زاء زاء زاء mo'jjama or زاء زاء زاء zde manqita is the 11th letter of the Arabic, the 13th of the Persian, and the 16th of the Urdu alphabet. It has no corresponding letter in the Sanskrit alphabet ; and (j) is substituted to represent in the Nāgri, characters: Its sound is that of the English z. In reckoning by *Abjad* it stands for 7.

زا zá, Born, (used in compos.), as : زاء زاء mirzá, born of a noble ; a Mirza. [n. m. alum.

زاج záj, آ, *n. m.* Vitriol. زاج سفيد—i-sufaid,

زاد zád, آ, *n. m.* Food ; provisions. زاد راه

زاد-راه zád-i-ráh, *n. m.* travelling expenses ; way charges.

زاد zá, } *P. Born (used in compos.) as :*
زاده záda, } *زاد پاری—, born of an angel*
زادى zádí } *or fairy ; a beautiful woman.*

شاهزاده Shahzáda *n. m.* a prince. شاهزادى

شاهزادى shahzádí, *n. f.* A princess. زاد بوم zád bóm, *n. f.* birthplace ; native land.

زار *zár*, P. *n. m.* Wish; desire; lamentation.
 —زار —*zár*, great lamentation. زار و زار —*o-nizár*, *adj.* lean; emaciated. (*In composition, implies place, multitude*) as : گلزار *gul*—, *n. m.* a garden of roses. سبزه زار —*n. m.* a meadow. [ing; wailing.

زاری *zári*, P. *n. f.* Crying; lamentation; groan —
 زار *zár*, P. *n. m.* A crow.

زال *zál*, P. *adj.* Old; grey-haired, *n. m.* Prop. The name of the father of *Rustam*, and son of *Sám* son of *Nariman*.

زانر *zinú*, P. *n. m.* The thigh; the knee. زانر در زانر —*badalná*, to change the knees. زانر بیٹھنا —*do*—*baiṭhná*, to sit on the hams; to kneel.

زاریہ *záwiya*, A. *n. m.* An angle; a corner. زاریہ اندرونی —*i-andarúni*, *n. m.* an interior angle. زاریہ بیرونی —*berúni*, *n. m.* an exterior angle. زاریہ حادہ —*i-háddah*, *n. m.* an acute angle. زاریہ راس —*i-rás*, a vertical angle. زاریہ قائمہ —*i-qáemah*, *n.* a right angle. زاریہ متبادلہ —*i-mutabádlah*, *n. m.* an alternate angle. زاریہ مقابلہ —*i-muqábalah*, an opposite angle. زاریہ منفرجہ —*munfarjah*, *n. m.* an obtuse angle.

زاهد *záhid*, A. *n. m.* A devotee; a monk; a recluse; *adj.* religious; devout.

زاهدی *záhidí*, P. *n. f.* Devotion.

زائچہ *záicha*, A. *n. m.* Horoscope; astronomical table (*Janmpatri*); one's natal star.

زاید *záied*; A. *adj.* Superfluous; surplus; over and above; useless; vain. —*ul-wasf*, exceeding or beyond description.

زائر *záir*, A. *n. m.* A pilgrim.

زایل *záil*, A. *adj.* Vanishing; perishing.

زائیدہ *záidah*, P. (*pref. part. of* زاید). Born; pro-created, *n. m.* One born; offspring; child.

زائندہ *záenda*, P. *part.* Bringing forth; bearing children; *n. f.* one who brings forth; a mother.

زبان *zabán*, P. *n. f.* The tongue; language; dialect. زبان آرد —*áwar*, *adj.* eloquent; fluent.

زبان بند کرنا —*áwari*, *n. f.* eloquence.

—band *karná*, *v.* to silence; to hush up. زبان بند ہونا —*band honá*, to be unable to speak. زبان پر لانا —*par láná*, *v.* to speak; to say; to mention. زبان پکڑنا —*pakarná*, *v.* to prevent one from speaking; to criticise. زبان پلٹنا —*palatná ya badalná* *v.* to equivocate; to shuffle. زبان تلاتنا —*tutláná*, *v.* to lisp. زبان چلانا —*chaláná*, to talk much; to abuse. زبان چلنا —*chalná*, *v.* to speak fluently. زبان چلانی —*chaláe kí roṭí káhná*, *v.* to live by the glib use of the tongue or by flattery. زبان داب کے کہنا —*dáb ke káhná*, *v.* to speak with bated breath. زبان دان —*dán*, *n. m.* a linguist; one well-versed in languages. زبان دانی —*dáni*, *n. f.* knowledge of language. زبان دراز —*daráz*, *adj.* Impudent; abusive. زبان درازی —*n. f.* abuse. زبان درازی کرنا —*darázi karná*, *v.* to abuse. زبان دینا —*zabán hárna* —*dená*,—*hárná*, *v.* to give one's word; to promise. زبان (د) ہونا —*zad honá*, *v.* to be currently reported; well known. زبان سڑھنا —*súkhná*, *v.* to be dry (tongue). زبان سنبھالنا —*sanbhálná*, to be careful as to how one speaks or what one says. زبان سے نکلنا —*se nikálná*, *v.* to utter; to speak. زبان سے نکلنا —*se nikálná*, *v.* to escape one's lips. زبان کا پھراز —*ká phúar*, foul-mouthed. زبان کے چھترے لینا —*ke chaṭkháre lená*, to smack the lips over; to relish. زبان کاٹنا —*káṭná*, to grieve; to lament. زبان کا میٹھا —*míṭhá*, *adj.* honey-tongued. زبان لڑکھڑانا —*larṭkharáná*, *v.* to stammer. زبان ہلانا —*hiláná*, *v.* to speak; to say a few words. زبان کھوٹی —*khoṭí*—*bolná*, *v.* to use foul language.

زبان *zabána*, P. *n. m.* Flame.

زبانی *zabáni*, P. *adj.* Verbal; oral; traditional.

زبان پڑھنا —*parhna*, *v.* to read or recite from memory. زبانی جمع خرچ —*jama' kharch*, mere words.

زبد *zud*, A. *n. m.* Butter.

زبر *zabar*, A. *adj.* Big; great; higher; superior; above; *n. m.* the vowel point pronounced.

زبر دست —*dast*, *adj.* powerful; vigorous oppressive. زبردستی —*daستی*, *n. f.* powerfulness; oppression. زبردستی سے —*daستی se*, *adj.* forcibly;

unjustly ; by violence. (دستی پکڑ دانا) —dastí pakar buláná, *v.* to bring one by force. (دستی) —dastí chhín lená, *v.* to take by force ; to extort. (دستی کرنا) —dastí karna, *v.* to use force ; to oppress. (دستی ہونا) —honá, *v.* to have the upper hand.

(زبرجد) zabarjad, *P. n. m.* A kind of emerald ; a topaz ; a jasper.

(زیب) zibas, *P. adv.* Sufficiently ; in abundance ; plentifully. (زیب سے یا زیب) —ki, yá zibas, *conj.* inasmuch as.

(زبور) zabúr, *A. n. f.* The Psalms of David.

(زبون) zabún, *P. adj.* Bad ; ill ; evil ; wicked ; infirm ; helpless ; faulty.

(زبونی) zabúni, *P. n. f.* Badness ; vice ; faultiness ; wickedness ; infirmity.

(زجاج) zaǰal, *H. n. f.* Chattering ; nonsense. (زجاج مارنا) —marná, *v.* to chatter ; to talk nonsense. (زجاج کہنا) —háǰkná, *v.* to quibble ; to tell false and idle stories.

(زجاجی) zaǰallí, *H. n. m.* One who talks nonsense.

(زجاج) zujáj, *A. n. m.* A glass.

(زجر) zajr, *A. n. m.* Threatening.

(زچ) zich, *H. n. m.* Teasing. (زچ کرنا) —karná, *v.* to tease ; to vex ; to annoy ; to give checkmate ; to defeat ; to overcome. (زچ ہونا) —honá, *v.* to be defeated ; to be sick or weary.

(زحہ) zachha, *P. n. f.* A woman who has recently brought forth.

(زحل) zuhal, *A. n. m.* The planet Saturn.

(زحمت) zahmat, *A. n. f.* Pain ; sickness ; trouble.

(زخم) zakhm, *P. n. m.* A wound ; sore ; cut ; gash ; fracture ; loss. (زخم پر نمک چھڑکنا) —par namak chhířakná, to sprinkle salt on a wound ; to afflict or torture the afflicted. (زخم) —párná, *v.* to become a sore. (زخم پکنا) —pakná, *v.* suppurate. (زخم دینا) —dená, *v.* to injure, to hurt. (زخم کھانا) —kháná, *v.* to be wounded. (زخم کاری) —i-kári, a fatal or mortal wound. (زخمی کرنا) —i, *adj.* wounded. (زخمی) —i-karná, *v.* to wound ; to hurt. (زخم چشم) —chashm-i—, *n. m.* a wound with the eye ; a fascinating look.

(ز) zad, *P. n. f.* Sticking ; blow ; stroke ; damage ; the object of an aim ; range. (زہر کوب) —o-kob, *n. f.* assaulting and battering ; beating.

(زدگی) zadagi, *P. n. f.* Striking.

(زده) zada, *P.* Stricken ; beaten ; oppressed ; afflicted (*used in comp.*) as : (زده آفت) —áfat—, distressed.

(زر) zar, *P. n. m.* Gold ; riches ; money ; wealth.

(زر اصل) —i-asl, a principal sum ; pure gold.

(زر بان) —i-amánat, *n. m.* deposit money.

(زر باقی) —i-báqi, *n. m.* outstanding balance.

(زر بفت) —baft, *n. m.* brocade.

(زر بیمانہ) —i-by'mána, *n. m.* earnest money.

(زر پرست) —parast, *adj.* venal ; selfish ; mammonist.

(زر خرید) —kharíd, purchased with one's money ; purchased (a slave).

(زر تاران) —i-táwan, *n. m.* fine ; penalty.

(زر خیز) —khez, *adj.* rich ; fertile.

(زر خیزی) —khezí, *n. f.* productiveness ; fertility.

(زر دار) —dár, *adj.* rich ; wealthy.

(زر درز) —doz, *n. m.* one who works in embroidery.

(زر درزی) —dozí, *n. f.* embroidery.

(زر دوست) —dost, *adj.* fond of money.

(زر سیرخ) —digrí, the amount decreed.

(زر سفید) —i-sufaid, *n. m.* pure gold.

(زر ضامن) —i-zámin, a deposit security.

(زر قرض) —i-qarz, *n. m.* debts.

(زر کتا) —ká jutá, *n.* embroidered shoe ; (*Met.*) a bribe ; a *douceur*.

(زر کوب) —kob, *n. m.* a gold-beater.

(زر گر) —gar, *n. m.* a goldsmith.

(زر گری) —gari, *n. f.* the business of a goldsmith ; a kind of dialect ; a secret or enigmatical mode of speech (similar to what, in English, is called the *p.* language the letter *z* being used instead of *p*, as, *tuzum kazhán jazatize huzo i. e. tum kahán játe ho.*)

(زر گل) —i-gul, *n. m.* the yellow anthers of a rose.

(زر مطالبہ) —i-matálba, *n. m.* claims ; demands ; debts ; due.

(زر نقد) —i-mu'áwza, compensation.

(زر نیکار) —nigár, *n. m.* cash ; readymoney.

(زر نیکاری) —nigári, *n. f.* gilding.

(زر نیافتنی) —yáftaní, money to be got in ; balance to be received ; debts ; demands ; out-

standings.

(زر آفت) —zirá'at, *A. n. f.* Agriculture ; tillage ; sown field ; husbandry ; crop.

(زر آفت پیشہ) —

pesha, an agriculturist. کَرْنَا—karná, *v.* to cultivate ; to till.

زرد zard, *P. adj.* Pale ; yellow. زرد آب—áb, the pus or yellow matter running from a wound ; bile ; yellow water. زرد آلو—álú, *n. m.* an apricot. زرد پازنا—párná, *v.* to turn pale. زرد پلاک—plak, *n. m.* the name of a bird. زرد چوب—chob, *n. f.* turmeric. زرد رو—rú, *adj.* ashamed.

زردک zardak, *P. n. f.* A carrot.

زردا zarda, *P. n. m.* Tobacco for chewing ; a kind of sweet puldo, dressed with saffron.

زردی zardí, *P. n. f.* Yellowness ; paleness ; the yolk of an egg ; the jaundice.

زرع zara', *A. n. m.* Sowing ; a sown field.

زرق zaraq, *A. n. m.* Turning the eyes ; (in Persian) hypocrisy ; fraud ; detraction. زرق برق—barq, *adj.* gaudy ; splendid ; *n.* thunder and lightning ; glittering.

زرنباد zarnbád, *P. n. m.* Zedoary ; an ornamental gourd.

زرنيخ zarníkh, *P. n. m.* Arsenic.

زره sirah, *P. n. f.* Chain armour. زره پوش—posh, a man in armour.

زری zarf, *P. n. f.* Anything woven with gold thread. زری بان—báf, a gold lace-worker.

زرین zarrín, *P. adj.* Golden.

زشت zisht, *P. adj.* Deformed ; ugly ; inhuman ; hideous. زشت رو—rú, *adj.* ugly faced.

زاعف zu'áf, *A. n. m.* Sudden death by poison.

زعفران za'farán, *A. n. f.* Saffron.

زعفرانی za'farání, *A. adj.* Of saffron ; saffron-coloured ; yellow.

زعم zu'am, *A. n. m.* Presumption ; vanity ; assurance.

زغال zúgal, *P. n. m.* Charcoal.

زغان zagan, *P. n. m.* A spring ; a kite.

زغند zagand, *P. n. f.* Jump ; leap ; sally ; flight. زغند مارنا—márná, to bound ; to jump.

زنان zifáf, *A. n. m.* Leading a bride to her husband's house.

زنبیل zafíri, *A. n. f.* A whistle.

زنبیل دینا zafíl, *A. n. f.* A loud whistle. دینا—dená, *v.* to whistle.

زقوم zaqúm, *A. n. m.* A prickly plant ; an infernal tree mentioned in the Qurán the fruits of which are said to be the heads of devils whereof the damned shall eat.

زک zak, *A. n. f.* Defeat ; repulse ; insult. زک—úqhána, *v.* to suffer disgrace ; to suffer loss. زک دینا—dená, *v.* to defeat ; to put to shame.

زکوة zakát, *A. n. f.* (Pl. زكوة) Alms.

زكام zukám, *A. n. m.* Rheum ; catarrh ; cold. زكام هونا—honá, *v.* to take cold ; to catch cold.

زلزل zalázil, *A. n. m.* (Pl. of زلزله Zalzala). Earthquakes.

زالل zalál, *A. adj.* Pure ; clear (water) ; wholesome ; limpid.

زلزله zalzala, *A. n. m.* An earthquake.

زلف zulf, *P. n. f.* A lock of hair ; ringlet ; tresses. زلف پریشان—pareshán, dishevelled locks. زلف عنبرین—ambarín, locks perfumed with ambergris. زلف تابدار—i-tábdár, curling locks. زلف دار—dár, *adj.* having locks.

زلفی zulfí, *P. n. m.* The chain by which a door is fastened ; a sword knot.

زالو zalú, *P. n. f.* A leech.

زاله zalla, *P. n. m.* Victuals carried home by the guests from an entertainment.

زام zamám, *P. n. f.* A bridle ; a rein.

زمان zamán, } *A. n. m.* Time ; period ; age ;
زمانه zamána, } the world ; tense. زمانه دیکهنا—dekhná, *v.* to get experienced.

زمانه ساز—sáz, *n. m.* a time-server. زمانه سازی—sází, *n. f.* time-serving. زمانه موافق هونا—muáfíq honá, *v.* to be fortunate ; to be favoured by the turns of fortune.

زامبور zambúr, *H. n. m.* Nippers ; forceps.

زامررد zamurrad, *P. n. m.* An emerald.

زامرردین zamurradin, *P. adj.* Of the colour of an emerald. [multitude.

زمره zumra, *A. n. m.* A group ; a crowd ; troop ;

زامزامة zamzama, *A. n. m.* Singing ; modulation of the voice ; concert. زامزامة پرداز—pardáz, *n. m.* singer ; songster.

زمستان zamistán, P. n. m. Winter.
 زمسوز zambarír, A. n. m. Intence cold.
 زمیندار zamindár, P. n. m. Landlord ; landholder.
 زمین zamín, P. n. f. The earth ; ground ; land ; soil ; a region ; country ; the ground of a picture. زمین آسمان کا فرق — ásmán ká farq, a great difference. زمین آسمان کے قلابے ملانا — ásmán ke qulábe milána, v. to exaggerate. زمین بوس ہونا — bos honá, v. to kiss the ground ; to prostrate oneself ; to make profound bow. زمین در — (میں در) — *adj.* subterraneous. زمین کا پیوند ہونا — ká paiwand honá, to mingle with the dust ; to die. زمین کز جانا — men gar jáná, v. to be greatly ashamed.
 زمیندارنی zamíndární, H. n. f. The wife of a land-holder. [an estate ; a fief.
 زمینداری zamíndárí, P. n. f. A landed property ;
 زمینی zamíní, P. *adj.* Earthly ; terrestrial.
 زن zan, P. n. f. A woman ; a wife. زن کرنا — karná, v. to marry. زن مرید — muríd, *adj.* henpecked. (In comp.) beating ; striking, as : زن منکوحہ — i-mankúha, n. f. a married woman ; a lawful wife (opp. to). زن مدخولہ — i-mad-khúla, concubine. زن و فرزند — o-farzánd, wife and children.
 زنار zunnár, A. n. m. The sacred thread. زنار دار — dár, one who wears the sacred thread.
 زنان zanán, P. n. f. (Plu. f. زن Zan). Women ; wives.
 زنانہ zanána, P. *adj.* Female ; feminine ; womanish ; effeminate ; n. m. the female apartment ; seraglio ; harem ; a family ; a wife.
 زنبور zambúr, A. n. m. A wasp ; a pincer ; a hornet ; a bee. [a small gun.
 زنبورہ zambúra, P. n. m. A large bee ; a hornet ;
 زنبورچی zambúrchí, A. n. m. Fusileer.
 زنبیل zambil, P. n. f. A bag ; a purse ; a wallet.
 زنجبیل zanjabíl, A. n. f. Dry-ginger.
 زنجیر zanjír, P. n. f. A chain.
 زنجیرہ zanjíra, P. n. m. A necklace. [the chin.
 زناکھدان zanakhdán, P. n. m. The chin ; the pit in
 زندان zindán, P. n. m. A prison.

زندگانی zindagání, P. n. f. Life ; existence.
 زندگی zindagí, P. n. f. Life ; living. زندگی تاج — talkh lioná, to be sick of life. زندگی سے — تنگ آنا — se tang áná, v. to be tired of life.
 زندگی میں — men, *adv.* in one's lifetime.
 زندہ zinda, P. *adj.* Alive ; living. زندہ دلی — díli, n. f. cheerfulness. زندہ در گور — dar gor, one foot in the grave. زندہ رہنا — rahná, v. to live ; to survive. زندہ کرنا — karná, v. to bring to life.
 زندیق zindíq, A. n. m. A follower of Zoroaster.
 زنگ zang, P. n. m. Rust ; a small bell ; canker. زنگ آلودہ — áládab, *adj.* rusty. زنگ لگنا — lagna, v. to become rusty.
 زنگار zangár, P. n. m. Verdigris.
 زنگاری zangárí, P. *adj.* Of the colour of verdigris ; green.
 زنگولہ zangúla, P. n. m. A little bell ; the small bells on a tambourine ; a cymbal. [moor.
 زنگی zangí, P. n. m. An Ethiop ; a negro ; a
 زینہار zinhár, P. *adv.* On no account ; by no means ; n. m. care ; caution ; defence ; patronage ; *intj.* Take care ! Beware ! Mind !
 زوال zawál, A. n. m. Decline ; decay ; setting of the sun ; failure ; cessation ; fall ; wretchedness. زوال پزیر — pizír, *adj.* transitory ; fading.
 زوائد zawáed, A. n. m. Additions ; superfluities ; augmentations.
 زوج zauj, A. n. m. A couple ; a pair ; a husband ; spouse ; consort ; *adj.* attached.
 زوجہ zauja, A. n. f. A wife.
 زوجیت zaujiyat, A. n. f. The married state.
 زود zúd, P. *adv.* Quickly ; soon ; suddenly. زود — ranj, irascible ; soon irritated ; sensitive. زود فہم — fahm, *adj.* quick of understanding.
 زور zúr, A. n. m. A false gloss or colouring ; hypocrisy ; dissimulation.
 زور zor, P. n. m. Force ; strength ; power ; effort ; stress ; influence ; coercion. زور آزمائی — ázmani, v. to try one's strength. زور آزمائی — ázmani, n. f. trial of strength ; wrestling. زور آوار — áwar, *adj.* powerful ; strong. زور آوری — áwari, n. f.

power; force. زور اجتانا — jatáná, *v.* to show off one's authority. زور چلانا — chaláná, *v.* to use force. زور چلانا — chalná, *v.* to have authority or influence. زور دار — dár, *adj.* strong; powerful. زور دینا — dená, *v.* to strengthen; to aid; to support. زور دانا — dalná, *v.* to press or bear upon; to compel. زور کرنا — karná, *v.* to use force; to compel. زور و ظلم کرنا — o-zulm karná, to use violence against; to tyrannize over. زورون پر چڑھنا — zoron par chāhñí, zoron par chāhā huá honá, to be exercised; to be in good physical or muscular form; to be in one's prime. زور مارنا — márná, *v.* to endeavour; to try one's best. زور زلف — zúfa, *P. n. m.* Hyssop. زب زب, *P. n. f.* The navel; childbirth; a bow-string; a ledge. زب درد — dard-i-zib, the pangs of childbirth. زهد zúhd, *A. n. m.* Devotion; abstinence; continence. زهد کیش — kesh, devout. زهر zahr, *P. n. m.* Poison; venom. (*Med.*) anything bitter or disagreeable. زهر آلودا — álúda, *adj.* poisoned. زهر دار — dár, *adj.* poisonous. زهر قاتل — i-qátíl, deadly poison. زهر لگنا — lagná, to be regarded as poison; to be hateful to. زهر کھانا — haláhal, deadly poison. زهر کھنا — kháná, *v.* to take poison. زهر کے سے گھونٹ پینا — ke se ghúñṭ píná, *v.* to bear patiently. زهر مار کرنا — mār karná, to swallow as a poison; to do thing by force or unwillingly. زهر مہرا — muhra, *n. m.* bezoar, an antidote to poison. زہرا zahra, *P. n. m.* Gall-bladder; bile; boldness; spirit; plight. زہرا آب ہونا — áb honá, *v.* to be much distressed or terrified. زہرہ zuhra, *A. n. m.* The planet Venus. زہ زہه, *P. intrj.* How good; Excellent! زیادتی ziyádatí, *P. n. f.* Excess; increase; surplus; force; violence; tyranny. زیادتی کرنا — karná, *n.* to use force. زیادہ ziyáda, *A. adj.* More; too many; too much; excessive; surplus. زیادہ تر — tar, *adj.* more. زیادہ کرنا — karná, *v.* to increase; to augment. زیادہ ہونا — honá, *v.* to exceed; to surpass.

زیارت ziyárat, *A. n. f.* Pilgrimage. (جارتا járd). زیارت کرنا — karná, *n.* to go on a pilgrimage. زیارت گاہ — gáh, *n. f.* a place of resort or pilgrimage. زیاراتی ziyáratí, *A. n. m.* A pilgrim. زیان ziyán, *P. n. m.* Hurt; injury; damage; loss. زیانکاری — kárí, *n. m.* the doing of mischief; injury; hurtfulness. زیان اٹھانا — uṭháná, *v.* to suffer a loss. زیب زب, *P. n. f.* Ornament; beauty. زب دینا — dená, *v.* To become; to suit; to set off; to ornament; to adorn. زیب زب, *P. adj.* Becoming; befitting; proper; beautiful; graceful. زیبایش zebáish, *P. n. f.* Ornament; adorning. زیبایشی zebáishí, *P. adj.* Ornamental. زیبق zíbaq, *P. n. m.* Quicksilver. زیرتون zairtún, *A. n. m.* An olive. زیر زید, *A. n. m.* A fictitious name often used with Umar Cf. John Nokes with Thomas Styles in English. زیر zer, *prep.* Under; below; *adv.* inferior; lower; *n. m.* the vowel point called by the Arabians كسرة *kasra* marked thus () and sounded like the Italian *i*. زیر انداز — andáz, *n. m.* the cloth or carpet spread under a *hugqa*. زیر بار کرنا — bár karná, *v.* to put one to expenses or into debt. زیر بار ہونا — bár honá, to be indebted; to incur great expenses. زیر بند — bárí, *n. f.* expenses; burden. زیر بند — band, *n. m.* a martingale. زیر بند مارنا — márná, *v.* to whip; to flog. زیر پائی — páí, *n. f.* Slippers. زیر توجہ — i-tajwíz, under consideration; under trial; *sub judice*. زیر تحقیقات — i-tahqiqát, under investigation or enquiry. زیر حراست — hirásat, under custody. زیر کفالت — i-kafálat, encumbered. زیر نظر — i-názár, under surveillance. زیر نگیں — i-nagin, *adj.* under the authority (of). زیر دست — dast, *n. m.* a subordinate. زیر کرنا — karná, *v.* to overpower; to subdue; to defeat. زیر لب — lab, *adv.* under the lip; inarticulate. زیر لب کہنا — lab kahná, *v.* to speak softly and inarticulately. زیر و زبر — o zabar, *adj.* topsy turvy; overturned.

زیر ہم zírham, P. Small kettle drums one called *zír*, the other *bam*; low and high notes.

زیرا zírâ, P. n. m. Cummin-seed; pollen. زیرہ zírâh, n. m. Carraway seed.

زیراکہ zérâke, P. conj. Because; because that; since; on account of.

زیرک zírak, P. adj. Intelligent; ingenious; acute.

زیت zíst, P. f. Life.

گر زیت میں ناتھ ہو تو غم کوئی نہ کہاے
اور وقت مصیبت میں کوئی پاس نہ آے
یوں پیاس میں لاکر کوئی پانی نہ پلاے
اور بعد فنا ناتھ شربت پہ دلاے
(میر انیس)

Gar zíst men fáqa ho to gam kói na kháe,
Aur waqt-i-musibat men kói pás na áe.
Yún pyás men lákar kói pání na piláe.
Aur ba'd-i-faná, fátiha sharbat pa diláe.

During a poor man's lifetime he receives no sympathy in time of trouble, hunger and thirst, but respect is paid to his dead body by the very persons who entirely ignored his existence. Cf.—

"Seven towns of Greece contend for Homer dead. Through which the living Homer begged his bread."

زین zín, P. n. m. A saddle. زین پوش posh, n. m. a saddle cloth; housing. زین ساز sáz, n. m. a saddler.

زینت zínat, A. n. f. Beauty; elegance.

زینہ zína, P. n. m. A ladder; stairs; steps.

زین خان zínkhán, P. n. m. A supposed demon.

زینہار zínhár, P. adv. By no means.

زیرور zéwar, P. Jewel; ornament.

(ژ)

ژ zhe, called زائے فارسی zái fârsí or زائے عجمی zái ajamí, the fourteenth letter of the Persian alphabet, has no corresponding character in Arabic or Sanskrit. Its sound is like that of s in the English word *pleasure* and that sound is denoted here by zh.

ژاژ zházh, P. n. m. A trifling or indecent speech; a kind of thistle.

ژاله zhála, P. n. m. Hoar; frost; hail; dew. ژرف zharf, P. adj. Deep (water pit, &c.); acute (of mind).

ژندہ zhínda, P. n. m. A patched garment.

ژولیدہ zholída, H. adj. Entangled; intricate. ژولیدہ مر mú, entangled hair.

ژیان zhiyán, P. adj. Formidable; rapacious. شیر ژیان sher-i, n. m. a fierce lion.

(س)

س sin, usually named سین مہملہ mahmila, the 12th letter in the Persian and 15th in the Arabic alphabet, corresponds to स in Sanskrit. In *abjad* it stands numerically for 60.

کالسا sa, सा, H. adj. Like; resembling; so; as: कालसा kálâ—blackish. لارک سا lar-ká—, boylike. adv. Suffix, meaning very intensely, &c.; it is annexed to adjective, relative, interrogative and indefinite pronouns and from adjective with intensified signification, as: بہت سا bahut—very much or many. थोڑا سا thora—, very little. کون سا kaun—, which particular one, کوئی سا koi—, anyone, whatever.

سابر sábar, साबर (S) H. n. m. An elk; imitation chamois leather; a species of large stag; a burglar's instrument for breaking into houses.

سابق sábiq, A. adj. Former; prior; preceding. foregoing. سابق دستور dastúr, as usual. سابق میں men, adv. formerly; of yore; in times past.

سابقہ sábiqa, A. adj. Past; ancient; n. m. old acquaintance or friendship; intercourse; correspondence; transaction.

سابت sábat, साबत, H. adj. Whole; entire.

ساپن sápan, सापन, H. n. m. The name of a disorder in which the hair gradually falls.

سات sât, सात, H. adj. Seven. سات پانچ کرنا karná, v. to wrangle; to be in doubt; to be unable to decide what to do. سات سمندر samundar, n. m. the name of a game.

ساتواں sátwañ, सातवाँ, H. adj. Seventh.

ساتھ sáth, साथ, H. adv. With; together; along with; inclusive; n. m. society; company.

ساتھ iske—, along with this ; besides.
ساتھ دینا—dená, to join ; to co-operate with ;
to expose one's cause. ساتھ رہنا—rahná, *v.*
to live with. ساتھ ساتھ چلنا—sáth chalná,
v. to accompany. ساتھ لگے پھرنا—lage phirná,
to follow (one) about. ساتھ والا—wálá, *n. m.*
a companion ; a comrade.

ساتھن sáthin, साथین, *H. n. f.* (A female
companion.

ساتھی sáthí, साथی, *H. n. m.* A companion ; a
comrade ; a follower ; an accomplice. ساتھ
کرنے—karná, to make a companion of.

ساتھ sáth, ساٹھ, *H. adj.* Sixty.

ساتھ پاتھا sáthá páthá, ساٹھا پاٹھا, *H. H. n. m.* A
sexagenarian acting the part of youth.

ساتھی sáthí, ساتھی, *H. n. m.* A kind of rice pro-
duced in the rains.

ساج sáj, *P. n. m.* The teak tree.

ساج sáj, ساج, *H. n. m.* Harness ; preparation ;
accoutrement. [*n. m.* an adorer.

ساجد sájid, *A. adj.* Prostrate in adoration ;

ساجن sáján, ساجن, *H. n. m.* Husband ; lord ;
sweetheart ; a lover.

ساجنا sájna, ساجنا, *H. v.* To dress ; to decorate ;
to fit.

ساجھا sájhá, ساڻھا, *H. n. m.* Partnership ; asso-
ciation ; share.

ساجھی sájhí, ساڻھی, *H. n. m.* A partner ; share-
holder ; co-parcener. ساجھی ہونا—honá, *v.* to
enter into partnership.

ساجق sáchaq, *T. n. m.* Hina presented to the
bride on the day of marriage.

ساحت sáhat, *P. n. m.* Court ; open area of a
house ; quadrangle ; shore ; coast ; tract of
country.

ساحر sáhir, *A. n. m.* A magician ; an enchanter ;
neoromancer ; a conjurer.

ساحری sáhirí, *A. n. f.* Magic ; enchantment ;
neoromancy ; sorcery. [seaboard.

ساحل sáhil, *A. n. m.* The seashore ; beach ; coast ;

ساخت sákht, *P. n. f.* Make ; formation ; con-
struction ; structure ; form ; figure ; mould.

ساختہ sákhta, *P. adj.* Artificial ; not natural ;
counterfeited ; feigned ; surreptitious. ساخته
پر داختہ—o-pardákhta, *adj.* and *n. m.* done and
effected ; anything done or had done ; act ;
deed ; (*Met.*) a protege. ساخته بے be sákhta,
spontaneously ; extempore, impromptu ; un-
premeditated ; on the spur of the moment.

سادگی sádgi, *P. n. f.* Plainness ; frankness ;
simplicity.

ساده sáda, *P. adj.* Blank ; white ; plain, simple ;
artless ; candid ; sincere ; guileless. سادہ دل—
dil, *adj.* simple ; artless. سادہ لوح—laub, *n. m.*
a simpleton ; a fool. سادہ لوحی—lauhí, *n. f.*
simplicity ; stupidity. سادہ لوحی میں خوش
ہونا—lauhí men khush navís honá, to
excel in simplicity. سادے وضع—waza, *n. f.* a
plain fashion.

سادھ sádh, سادھ, *H. n. m.* A religious person ;
adj. virtuous ; good.

سادھان sádhán, साधारण, *S. adj.* Common ;
ordinary ; usual, *adv.* commonly ; usually.

سادھن sádhán, साधन, *H. n. f.* Observance ; per-
formance ; devotion ; practice ; fixing ; good
works ; worship ; settling.

سادھنا sádhna, साधना, *H. v.* To perform ; to
practise ; to exercise ; to train ; to habituate
or accustom oneself to ; to regulate ; to set ;
to balance ; to maintain ; *n. f.* the act of
familiarising by habitude.

سادھو sádhú, साधू, *H. adj.* Pious ; holy ; virtuous ;
simple ; innocent ; *n. m.* one who leads a
religious life ; an ascetic ; a kind of mendicant.

سار sár, *P.* A particle denoting plenty of mag-
nitude, or similitude, etc. as : کوہ سار kohsár,
a mountainous country. خاک سار khaksár, 'like
dust' ; humble.

سار sár, सार, *H. n. m.* Manure ; iron ; juice ;
pith ; value ; worth ; sap ; strength ; heart ;
essence. سار جاننا—janná, *v.* to appreciate.

سار sár, *P. n. f.* A starling ; *Turdus salica* ; the
Maina.

سارا sára, सारा, *H. adj.* All ; the whole ; entire ;
complete ; universal. سارا حال—há, the whole
matter ; all the facts of a case ; full particulars.

سارا *sará*, सारा, H. *n. m.* The pile on which Hindus burn their dead.

ساربان *sárbán*, P. *n. m.* A camel-driver.

سارتهی *sárthí*, सारथि, S. *n. m.* A chariotee; the head or leader of a caravan; a mixed caste, said to have sprung from a Kshatri father and a Brahman mother.

سارثیفکٹ *sártificat*, सार्थिकट, H. *n. m.* (Corr. from the Eng.) A certificate or testimonial; a document.

ساراس *sáras*, सारस, H. *n. m.* A species of heron; the Indian crane.

سارق *sáriq*, A. *n. m.* Thief. [mainá.]

سارکا *sárká*, (सारिका S.) H. *n. f.* A bird like a

سارنگ *sárang*, सारंग, S. *n. m.* A musical mode or *rág*; a snake; a peacock; a cloud; a frog; a species of bee.

سارنگی *sárangí*, सारंगी, S. *n. f.* A musical instrument like a fiddle.

سارنگییا *sárangiyá*, सारंगिया, H. *n. m.* A fiddler.

سارو P. *n. f.* The starling; the Maina.

ساری *sári*, सारी, H. *n. f.* Cream. A dress consisting of one piece of cloth worn by Hindu women round the body and passing over the head.

سارھو *sárhú*, सारहू, H. *n. m.* A wife's sister's husband.

سارھہ *sáphe*, सारहे, H. *adj.* With a half of one or of the aggregate number in addition to the number specified.

ساز *sáz*, P. *n. m.* Making; feigning; preparing; counterfeit; as : ساز گھڑی *gharí*—, a watch-maker; *n. m.* apparatus; harness; musical instrument; concord. ساز باز—*baz*, *adj.* trim; dressy, *n. m.* ornament; concord. ساز گاری—*gári*, *n.* concord; harmony; agreement. ساز یاراق—*yaráq*, warlike instruments; furniture; baggage. ساز و سامان—*o-sámán*, *n. m.* furniture; materials; property. ساز و سامان بی—*o-sámán*, *adj.* unprovided.

سازش *sázish*, P. *n. f.* Confederacy; conspiracy; collusion. سازش کرنا—*karná*, *v.* to conspire; to plot together.

سازشی *sázishí*, P. *adj.* Collusive; fraudulent.

سازندا *sázinda*, P. *n. m.* Maker; arranger; a musician.

ساس *sás*, P. *n. m.* A bug; flea; a louse.

ساس یا ساسو *sás yá sásu*, सस या ससु, H. *n. f.* A mother-in-law.

ساسرا *sásrá*, ससरा, (Col.) H. *n. m.* The mother-in-law's house.

ساسنا *sásná*, ससना, H. *v.* To chastise; to punish; to smite; to check; to threaten.

ساعت *sá'at*, A. *n. f.* A moment; a minute; time; a clock; a watch.

ساعد *sá'id*, A. *n. f.* The forearm.

ساعی *sá'i*, A. *n. m.* An endeavourer; one who exerts himself; a laborious or energetic man; *adj.* diligent; assiduous; energetic; eager.

ساعر *ságar*, P. *n. m.* A cup; a wine-cup; a bowl; a goblet. ساغر کش—*kash*, an exhauster of the cup. ساغری *ságari*, *n. f.* the space between the tail and anus of a horse.

ساق *sáq*, A. *n. f.* The leg (from the ankle to the knee); the shank; the trunk or stem of a tree.

ساقط *sáqit*, A. *a.* Dropped; fallen; lost; out of use (law). ساقط ہونا—*honá*, *v.* to be fallen; to be lost; to lapse.

ساقن *sáqan*, A. *n. f.* A female who prepares tobacco, *bháng*, etc., for customers; a bar maid.

ساقی *sáqí* A. *n. m.* A cup-bearer; a page; one who gives something to drink.

ساکت *sákit*, A. *adj.* Silent; quiet; mute; at rest.

ساکشات *sákshát*, साक्षत, S. *adj.* Evident; conspicuous; true; *adv.* in the presence of.

ساکشی *sakshí*, साक्षी, S. *n. f.* Attestation; witness. ساکشی دینا—*dená*, *v.* to bear witness.

ساکن *sákin*, A. *n. m.* An inhabitant; a consonant not followed by a vowel; *adj.* quiescent.

ساکھہ *sákh*, साख, H. *n. f.* Season; harvest; reputation; credit; trust; the evidence of a witness.

ساکھا *sákhá*, साखा या सका, H. *n. m.* An era; an epoch.

ساڳو sākha, ساڳا, H. n. f. A branch.

ساڳي sakhī, ساڳي, H. n. m. An evidence ; a witness.

ساڳ sag, ساڳ, H. n. m. Green pot-herbs ; vegetables ; culinary herbs. ساڳ پات—pāt, n. m. greens.

ساڳر sāgar, ساڳر, S. n. m. The sea ; the ocean.

ساڳون sāgaun yā sāgwan, ساڳون, H. n. f. Teak-wood.

ساڳو دانو يا ساڳو دانو sāgú dāna yā sābú dāna, H. n. m. Sago.

ساڳ sal, سال, H. n. m. A common timber tree ; a hole made by driving a pin into the ground, &c. ; a house ; perforation ; bore ; a school ; jackal.

سال sal, P. n. m. A year. سال به سال—basāl, year by year. سال به سال—bhar, adv. all the year round. سال پيوسته—sal-paiwasta, the year before last. سال جهڙو ڇوڇو—jharti jama' kharch, debit and credit account. سال حسابي—hisābī, official or financial year. سال خورده—khurda, adj. old (in years) ; worn out. سال ڪبيسه—i-kabisa, intercalary year ; leap year. سال مهاجني—mahājani, the mercantile year. سال تمام—tamam, an annual report. سال گرهه—girah, n. f. birthday.

سالو sālá, سالو, H. n. m. A wife's brother ; brother-in-law.

سالار sālar, P. n. m. A chief ; a general or commander (of an army) ; a captain. سالار جنگ—i-jang, leader in war ; general or commander-in-chief.

سالانو sālana, P. adj. and adv. Yearly ; annual pension. سالانو دار—dār, annuitant pensioner.

سالبه sāliba, A. n. m. A negative proposition. (Logie).

سالسا sālsá, سالسا H. n. m. Sarasparilla.

سالڪ sālik, A. n. m. A traveller ; a doctor.

سالگرام sālgrām, سالگرام, H. n. m. A flinty stone, containing the impression or one or more ammonites conceived by the Hindus to represent Vishnu who was turned to stone by a curse.

سالو salim, A. adj. Safe ; sound ; perfect ; whole.

سالن sálan, سالن, H. n. m. Meat, fish or vegetable curry.

سالنو sálná, سالنو, H. v. To bore ; to perforate ; to drill.

سالو salú, سالو, H. n. m. A kind of red cloth.

سالوتري sálotari, سالوتري, H. n. m. A horse-doctor ; a veterinary surgeon.

سالوسي sálusi, P. n. f. Hypocrisy ; trick ; fraud ; deceit ; subterfuge.

سالو sāla, P. A termination affixed to numbers, to denote so many years old as ; دو سالو do—two years old.

سالها sálhá, P. n. m. (Plu. of سال years). سالها سال—sál, many years.

سالي sāli, سالي, H. n. f. Wife's sister ; sister-in-law.

ساليانو sāliyána, P. (See sālana).

سامان sāmán, P. n. m. Furniture ; apparatus ; things ; preparations ; arrangements ; sign ; reason ; intellect ; opulence ; probity ; a land mark. سامان جنگ—i-jang, n. m. preparation for war ; warlike apparatus ; ammunition. سامان بے سر—be sar-o—, adj. destitute ; indigent ; helpless.

سامرتھي sámarthi, سامرتھي, H. n. m. Power ; ability ; capacity ; energy ; strength ; might ; opulence.

سامرتھي sámarthī, سامرتھي, H. adj. Powerful ; capable ; able.

سامو sāma', A. n. m. A hearer ; a listener.

سامنه sāmi'a, A. n. f. The sense of hearing.

سامڪ sāmak, سامڪ H. n. m. A very small grain ; a kind of grain-bearing grass (found in khadar lands).

سامگري sāmagrī, سامگري, S. n. f. Materials ; articles ; furniture ; tools ; apparatus ; materials for offering.

سامنا sāmna, سامنا, H. n. m. The front part ; opposition ; facing ; confronting. سامنا ڪرنا—karná, v. to encounter ; to confront ; to answer one insolently. سامنا هونا—honá, to brave ; to defy ; to challenge.

سامنے *sámne*, सामने, H. *adv.* In front (of); before; opposite to; in presence of: in comparison with. *کامنے*—*ká*, of or appertaining to one's presence, or lifetime or age. *سامنے* *نا*—*honá*, *v.* to face; to challenge.

سامی *sámí*, سامی H. *n. f.* Rich, arable land; a ferule.

سان *sán*, سان, H. *n. f.* A whetstone; a grindstone. *سان دھرنا*—*dharná*, *v.* to sharpen; to whet.

سان *sán*, P. *adj.* Like; likeness; similitude *سان گمان*—*gumán*, *n. m.* understanding and imagination; sign; trace; notion; idea.

سانبھار *sáubhar*, साँभर, H. *n. f.* Salt from lake *Sámbar*.

سانپ *sánp*, साँप, H. *n. m.* A serpent; a snake. *سانپ دلپر لوٹنا* *dil par—loṭná*, *v.* to burn with envy. *سانپ کا کاتا رسی سے ڈرتا ہے* *ká kátá rassi se ḍartá hai*, one who has been bitten by a snake dreads a piece of rope; a burnt child dreads the fire.

سانپا *sánpa*, साँपा, H. *n. m.* Mourning over the dead; condolence. *سانپے جانا*—*jáná*, *v.* to condole with. *سانپا کرنا*—*karná*, *v.* to sweep over one's death.

سانپن *sánpin*; साँपिन, H. *n. f.* A female snake.

سانٹ *sánṭ*, साँट, H. *n. f.* A flail; a knot; confederacy; sticking; joining; contact; union; cohesion. *سانٹ بانٹ*—*bánṭ*, combination; league; intrigue *سانٹا* *sánṭá*, साँटा, H. *n. m.* A stick with which oxen are driven; a spur.

سانٹنا *sánṭná*, साँटना, H. *v.* To join thread; to tack; to paste; to twist; to bring over to one's side.

سانجھ *sánjh*, साँझ, H. *n. f.* Evening; nightfall.

سانچ *sánch*, साँच, H. *n. m.* Truth; (*Prov.*) *سانچ کو آئے نہیں*—*ko áñch náhin*, Fire does not harm truth; truth has nothing to fear.

سانچا *sánchá*, साँचा, H. *n. m.* A mould; a matrix; the womb. *سانچے میں ڈھالنا* *sánche men ḍhálná*, *v.* to mould. [an incident]

سانیہا *sániha*, P. *n. m.* An occurrence; an event;

سانڈ *sánḍ* *yá* *sánḍ*, *n. m.* A bull; a stallion; an independent, or extravagant fellow.

سانڈا *sánḍá*, साँडा, H. *n. m.* A rope by which a cow's legs are tied at the time of milking it. A species of sand lizard (the oil of which is said to have restorative power), commonly called *úrsánḍá*.

سانڈنی *sánḍní*, साँनी, H. *n. f.* A female camel; a dromedary. *سانڈنی سوار*—*sawár*, *n. m.* a camel-driver; a messenger who comes on a camel.

سانڈیا *sánḍyá*, साँडिया, H. *n. m.* A young male camel; wheel used in lace-making.

سانس *sáns*, साँस, H. *n. m.* Breath; sigh; a fissure. *سانس بھرنا*—*bharná*, *v.* to take a deep sigh; to pant. *سانس رکنا*—*rukna*, *v.* to be suffocated. *سانس لینا* *ultí—lená*, to draw in the breath; to gasp (as a person in agony).

سانسنا *sánsná*, साँसना, H. *v.* To threaten; to distress.

سانگر *sánkar*, साँकर, H. *n. f.* A chain; a door chain; a fetter; a manacle; a kind of ornament. *adj.* narrow.

سانکل *sánkal*, साँकल, H. *n. f.* A chain.

سانگ *sáng*, साँग, H. *n. m.* Acting; imitation; disguise; face; a part in play; a drama; a scene. *سانگ بھارنا*—*bharná*, *v.* to represent a character. *سانگ کرنا*—*karná*, *v.* to act; to play a part. *سانگ مچھانا*—*macháná*, *v.* to act the buffoon; to play a fool; to cut capers.

سانگر *sánggar*, P. *n. m.* A cutter of whetstones, grindstones, &c.

سانگی *sángi*, साँगी, H. *n. m.* Actors; players; a support on which the pole of a cart is propped.

ساننا *sánná*, सानना, H. *v.* To knead; to mix up (flour, dough, earth, &c.); to stain; to implicate; to smear; to defile.

سانواں *sánwán*, साँवाँ, H. *n. m.* See *Sámak*.

سانولا *sánwá*, साँवला, H. *adj.* Of a dark or sallow complexion; of handsome countenance; nut-brown. *سانولیا* *sánwalia*, one who has a handsome countenance; an epithet of Krishna.

سانی *sání*, सानी, H. *n. f.* Chaff or straw mixed with grain, bran or *khalí* (the refuse of

linseed, mustard-seed, tilseed after the oil has been pressed out) as food for cattle.

ساردهان sávádhán ساوधान, S. *adj.* Attentive; careful; cautious.

ساردهانی sávadhání, ساوधानی, S. *n. f.* Care; attention.

سارز sávar, ساوَر, H. *n. m.* An implement for picking out bricks or house-breaking; a crowbar; a centre bit.

سارز sávar, ساوَر, H. *n. f.* The room in which a woman is delivered (*sowar*).

سارون sáwan, ساوَن, H. *n. m.* The fourth Hindu month, the full moon of which is near Aquila; July-August. سارون نه بهادر سرکه hare na bhádog súkhe, flowering in summer, and not fading in autumn; continuing in the same state or condition.

سارونت sáwant, ساوَنَت, H. *adj.* Brave; *n. m.* a hero; a warrior.

سارونی sáoní, ساوَنی, H. *n. f.* The *pharif* or autumn harvest.

ساه sáh, ساہ, H. *n. m.* A merchant; a banker; a title of respect; an innocent person.

سahas sáhas, ساہَس, S. *n. f.* Courage; bravery; fortitude; valour; spirit.

ساہو sábu, ساہو, H. *n. m.* A well wisher; a patron; a benefactor; a merchant.

ساہوکار sáhúkar, ساہوکار, H. *n. m.* A banker; a money-lender.

ساہوکارا sáhúkára, ساہوکارا, H. *n. m.* Money-market; exchange.

ساہوکاری sáhúkari, ساہوکاری, H. *n. f.* Banking business; exchange of money; commerce.

ساہول sáhul, ساہول, H. *n. m.* A plummet; a plumb-line (P. *sháqul*.)

ساہی sáhi, ساہی, H. *n. f.* A porcupine.

سائی sái, ساہی, H. *n. f.* Earnest-money. سائی dená, *v.* to give earnest money.

سایبان sáebán, P. *n. m.* A thatched roof; a sunshade.

سایر sáer, ساوَر, H. *n. m.* Octroi; the whole. (Plu. سائر لجات Sáerjât.) سائر خراج kharch, contingent charges.

سائل sáel, A. *n. m.* (Plu. سائلان Sáelán) A questioner; a petitioner; an applicant; a beggar.

سایہ sáya, P. *n. m.* Shadow; shade; shelter; spectre; the influence of an evil spirit; petticoat سایہ بان—bán, canopy; sunshade; umbrella. سایہ پروردہ—parwarda, delicately nur-ed; a protege. سایہ تلے آنا—tale sná, *v.* to take shelter. سایہ پڑنا—párná, *v.* to come under one's influence; to imitate the manner of another. سایہ دار—dár, *adj.* shady. سایہ ڈالنا—dálná, to cast a shadow; to afford shelter or protection. سایہ گستر—gustar, shade diffusing; protector. سایہ ہونا—honá, *v.* to be possessed by an evil spirit.

سائیس sáís, A. *n. m.* A groom; a horse-keeper.

سائسی sáisi, A. *n. f.* The business of a groom.

سائیں sáin, ساہی, H. *n. m.* Master; lord; husband; the Supreme Being; God; religious mendicant.

سائیں سائیں sáen sáen, سائے-سائے, H. *n. f.* A rustle; whistle; whiz.

سب sab, سب, H. *adj.* All; whole; every; total; undivided; all people; everybody; the whole.

سب سمیت samet, in all; all together; in the total. سب کھوا—khawwá, *n. m.* omnivorous; one who eats all kinds of food without exception.

سبابہ sabbába, H. *n. m.* The forefinger.

سباس subás, سواس, H. *n. f.* A sweet smell; fragrance.

سبب sabab, A. *n. m.* Cause; reason; ground; means; instrument; motive; affinity.

سبھان subhán } A. *interj.* Heaven be
subhán-alláh, } praised! Good God!
سبھان اللہ subhán-alláh, } Holy God! Bravo! Well done!
سبھانہ—hú, } Glory be to Him; the Most Holy.
حق سبھانہ—hú, } God the Most High.

سبھانہ hú, God the Most High.

سبھہ sabha, A. *n. m.* Beads, rosary. سبھہ گرداں—gardán, turning or revolving the rosary.

سبید sabud, P. *n. m.* A basket.

سبز sabz, P. *adj.* Green; verdant; unripe; flourishing. سبز بختی—bakhtí, prosperity. سبز رنگ—rang, of black complexion.

qadam, *adj.* unlucky; unfortunate. سبز ہونا — honá, to flourish. [weaver-bird.

سبزک subzak, *P. n. n.* The name of a bird; jay;

سبزہ sabza, *P. n. m.* Verdure; green; herbage; sweet basil; a green stone for an ear-ring; incipient board; *cannabis sativa* (bháng); an iron-grey horse. سبزہ زار — zár, *n. m.* a green-sward; meadow; a lawn.

سبزئی sabzî, *P. n. f.* Greenness; verdure; vegetable; potherbs; an intoxicating liquor made of (bháng). سبزئی فروش — farosh, *n. m.* a green-grocer. سبزئی مندی — mandî, *n. f.* a place where vegetables are sold.

سبط sibṭ, *A. n. f.* A grandchild.

سبق sabaq, *A. n. f.* A lesson; reading lecture. سبق لینا — lená, *v.* to take a lesson from.

سبقت sabqat, *A. n. f.* Going before; taking the lead; superiority; precedence; excellence. سبقت کرنا — karná, to precede; to advance; to surpass. سبقت لیجانا — lejáná, *v.* to bear away the palm from; to excel; to surpass; to outstrip.

سبک subuk, *P. adj.* Light; delicate; trifling. سبک بار — bār, lightly burthened; unencumbered; *expiditus*. سبک پا — pá, swift-footed. سبک بردار — bardár, swift in flight. سبک خیز — khez, vigilant; alert. سبک دوش — dosh, slightly laden; relieved سبک دوش ہونا — dosh honá, *v.* to be relieved of responsibility. سبک سار — sár, *adj.* light-headed; unsteady; contemptible. سبک مزاج — mizáj, of a fickle temper; irresolute.

سبکنا subukná, سبکنا, *H. v.* To sob.

سبکی subkî, *P. n. f.* Lightness; delicacy, contempt; sobbing.

سبک sabbal, सबल, *H. n. m.* A crowbar; lever.

سبک sabal, *A. n. m.* A disorder of the eyes; bloodshot or blear eyes. [a jar; a pitcher.

سبو sabu, *P. n. m.* A cup; a glass; an ewer;

سبوچہ sabúcha, *P. n. m.* A pitcher; a jar; an ewer.

سبوس sabús, *P. n. m.* Bran.

سبھہ subh, सुभ, *H. adj.* (S. शुभ) Auspicious; lucky; happy; good; pleasant; *n. f.* welfare;

good health. سبھہ گہڑی — gharî, *n. f.* an auspicious moment. سبھہ لگن — lagan, an auspicious conjunction of stars.

سبھا sabhá, सभा, *H. n. f.* A meeting; an assembly; company; convention; council; a court. سبھا پتی — patî, *n. m.* a president; a chairman. سبھا کرنا — karná, *v.* to convene or hold a meeting. [fortunate.

سبھاگی subhági, सुभागी; *S. adj. fem.* Lucky; سبھاو subháw, सुभाव, *H. n. m.* Good disposition; property; habit; custom; general properties of matter; *adj.* well-disposed; of good quality.

سبھتا subítá, सुबीता, (Col.) *H. n. m.* Convenience; opportunity; leisure; time; relief; comfort; ease.

سبیر saber, सबेर, *H. adj.* Early; morn.

سبیرا saberá, सबेरा, *H. n. m.* Morning; dawn.

سبیل sabíl, *A. n. f.* Course; way; means; mode; road; path; instrument; water distributed to thirsty travellers during the first ten days of Muharram. سبیل اللہ — fî—allah, in the path of God; for the sake of God.

سبپا sippá, सिप्पा, *H. n. m.* Space; distance; reach; aim. سبپا لگانا — lagáná, to keep on good terms; to make interest with. سبپا لگنا — lagná, *v.* to get a chance or opportunity.

سپاٹ sapát, सपाट, *H. adj.* Flat; smooth. سپاٹ ہونا — honá, to be levelled.

سپاٹا sapátá, सपाटा, *H. n. m.* A long run; quick march. [of the Qurán.

سپارہ sipárah, *P. n. m.* One of the 30 chapters

سپاری supári, सुपारी, *H. n. f.* Betel-nut; the nut of *Areca catechu*.

سپاس sipás, *P. n. f.* Praise; thanksgiving. سپاس نامہ — náma, laudatory address.

سپاہ sipáh, *P. n. f.* Soldiers; army. سپاہ سالار — sálár, *n. m.* general; a commander. سپاہ گری — garî, *n. f.* the military profession or tactics. [peon.

سپاہی sipahî, *P. n. m.* An Indian soldier; a

سپاہیانہ sipahiyána, *P. adj.* Soldierly; like a soldier.

سپت sapat, सप्त, (S. शपथ), H. n. f. An oath.
 سپر sipar, P. n. f. A shield ; a target. سپر اندازی
 —andāzi, n. f. throwing away the shield ;
 surrendering.
 سپرد supurd, sipurd, P. n. f. Charge ; keeping ;
 trust ; commitment ; delivery. سپرد کرنا
 karná, v. to give in charge ; to consign ; to
 entrust. سپرد کننده —kuninda, a committing
 officer. سپرد نامه —náma, n. m. assignment ;
 delivery ; trust or hypothecation.
 سپر دانی sapardái, सपरदाई, H. n. m. Musicians
 attending a dancing-girl.
 سپردگی supurdgi, P. n. f. Delivery ; surrender ;
 commitment. سپردگی دوره —i-daurah n. m.
 commitment for trial before the Sessions.
 سپردگی مین لانا —men láná, to bring under the
 trust or care of ; to take charge of.
 سپستان sipastán, P. n. m. A glutinous fruit.
 سپنا sapaná, सपना, H. n. m. A dream.
 سپند sipand, P. n. m. Wild rue.
 سپوت sapút, सपूत, H. n. m. A dutiful son ; a
 worthy child.
 سپولا sapolá सपोला, } H. n. m. A young
 سپولیا sapoliyá, सपोलिया, } snake just hatched.
 سپه sipah, P. n. f. (Contr. of سپه sipáh). سپه
 سالار —sálár, n. m. a general. سپه گری —gári,
 n. f. military life or profession.
 سپهر sipahr, P. n. m. The sphere ; the celestial
 globe ; the sky.
 سپهری sapahrí, सफरी, H. n. f. A small glistening
 fish ; sort of carp. [fruitful ; useful].
 سپهل suphal, सुफल, H. adj. Bearing good fruit ;
 سپید suped, P. adj. White. [snake-charmer.
 سپهرا saperá, सपेरा, H. n. m. A snake-catcher ; a
 sat, सत, H. Seven. (used in compos.), as :
 سات خصمی —khasmí, n. f. a woman who has had
 seven husbands. سات کونا —koná, heptagonal ;
 seven-cornered. ساتارا —sará, n. m. a necklace
 of seven strings. سات نجبا —najá, n. m. a mix-
 ture of seven different grains ; hodge-podge ;
 medley.
 سات sat, सत, H. adj. True ; right ; n. m. truth ;
 uprightness ; faith ; virtue ; chastity ; essence ;

power ; conjugal ; fidelity. ست پر چرهنه —par
 chjhná, to be prepared for sati. ست پر رهنه
 —par rahná, v. to be firm in honesty or
 chastity. ست چو رونا —chhoṛná, v. to lose
 courage or fortitude. ست بچن —bachan, quite
 true. ست چگ —jug, n. m. the first or golden
 age, comprising 1,728,000 years. ست کهنا
 —kahná, v. to speak the truth.

ست sut, सुत, H. n. m. A son ; offspring.

ستا sutá, सुता, H. n. f. A daughter.

ستار sitár, H. n. m. A guitar originally with
 three strings. ستار باز —baz, ستاریا —iyá, n. m.
 one who plays on the guitar.

ستار sattar, A. n. m. An attribute of God ; one
 who covers. ستار العیوب ul-'aiyúb, hiding sins,
 (with the veil of mercy).

ستار sutár, सुतार, H. n. m. Time ; opportunity ;
 convenience.

ستاره sitára, P. n. m. A star ; fate ; a musical
 instrument with three things. ستاره پیشانی
 —peshání, adj. having a star in the forehead
 (a blemish in horse). ستاره شناس —shinas,
 n. m. an astrologer.

ستاری sutári, सुतारी, H. n. f. An awl.

ستاسی sattási yá satási, सत्तासी या सतासी, H. adj.
 Eighty-seven.

ستان stán, P. n. m. Place ; situation ; station ;
 stall ; (used as affix to nouns ending in a
 vowel). as : بوستان bo—, place of fragrance ;
 flower-garden. هندوستان Hindu—, India. گستان
 gul—, rose garden.

ستانا satáná, सताना, H. v. To molest ; to trouble ;
 to annoy ; to oppress ; to exact ; to trouble ;
 to persecute ; to torment. ستانے والا satáne
 wálá, n. m. tormentor ; an oppressor ; a
 persecutor.

ستانزے sattánve, सत्तानवे, H. adj. Ninety-seven.

ستاور satáwar, सतावर, H. n. m. A species of
 fattening plant or drug.

ساتارن sattáwan, सत्तारन, H. adj. Fifty-seven.

ساتائیس sattáís, सत्ताईस, H. adj. Twenty-seven.

ساتتر satattar, सतत्तर, H. adj. Seventy-seven.

ساتر sattar, सतर, H. adj. Seventy.

ستروان satarwán, सत्तरवाँ, H. *adj.* Seventieth.

سترة sattrah, सत्तरह, H. *adj.* Seventeen.

ساترہواں satrahwán, सतरहवाँ, H. *adj.* Seventeenth.

ستری stri ستری, S. *n. f.* A woman; a wife.

ساتکار satkár, सत्कार, S. *n. m.* A good act; hospitality; respect. [burns the dead.

ساتکاری satkári, सत्कारी, S. *n. f.* Truth; one who

ساتلی sutlí, सुतली, H. *n. f.* Coarse twine.

سیتام sitam, P. *n. m.* Tyranny; oppression; injustice; violence; outrage. ستم (سیدہ) —rasidah, *adj.* oppressed; injured. ستم ظریفی —zarifi, ingeniousness in tyranny. ستم کرنا —karná, *v.* to tyrannize over; to oppress. ستم کش —

kash, enduring; oppressive. ستمگر —gar, *n. m.* a tyrant; an oppressor. ستمگری —gari, *n. f.* tyranny; an oppression. [day.

ساتیمی sattimí, सत्तिमी H. *n. m.* The seventh lunar

ساتر sattú, सत्तु, } H. *n. m.* Gram and barley

ساترا satná, सतुना, } parched and ground and made into a paste. ستوا باندہ کے پیچھے پڑنا —báñdh ke piche parná, *v.* to pursue or persecute one at any sacrifice. ستوا سنکرات —sankrát, the entering of the sun into Aries, on which day parched grain meal is distributed to Brahmans.

ساتواںسا satwánsá, सतवांसा, H. *n. m.* A child born in the seventh month of pregnancy.

ساتور satúr, P. *n. m.* An animal; a beast of burden; a camel.

ساتودہ sitúda, P. *adj.* Praised; celebrated; glorified; laudable. ساتودہ صفات —sifát, of laudable qualities. [prop.

ساتون sutún, P. *n. m.* A pillar; a column; a

ساتوانتی satwantí, S. *adj. fem.* Honest; chaste; faithful. [gence; *adj.* sad; afflicted.

ساتوہ sutoh, P. *n. f.* Distress; uneasiness; indignity. ساتھان sthán, स्थान, S. *n. f.* Place; dwelling;

ساتھیر sthír, स्थिर, S. *adj.* Settled; permanent; firm; calm; tranquil.

ساتھرا suthrá, सुथरा H. *adj.* Neat; clean; tidy; clear; elegant; excellent.

ساتھرائی suthrái, सुथराई, H. *n. f.* Neatness; elegance. [ground.

ساتھل sthal, स्थल, S. *n. m.* Place; site; firm

ساتھ متناسیبه satta-h-i-mutanásiba, A. *n. m.* Double rule of three.

ساتھنی suthní, सुथनी, H. *f.* A kind of yam.

ساتی satí, सती, H. *n. f.* A woman who burns herself on her husband's funeral pile; a faithful wife; *adj.* chaste; virtuous.

ساتیاناس sattyánás, सत्यानास, (S.) H. *n. m.* Destruction; ruin; devastation. ستیاناس کرنا —karná, *v.* to spoil. ستیاناس ہونا —honá, *v.* to be destroyed or ruined.

ساتیاناسی sattiyanási, सत्यानाशी, (S.) H. *n. m.* A destroyer; a thorny plant; *adj.* depraved; immoral.

ساتیز sitez, P. *n. m.* Battle; conflict; strife; contention; combat; fight.

سات sat, सट, H. *n. f.* A league; union; close attachment. سات سات satá-sat, sticking or striking together; succession of rapid strikes, *adv.* in quick succession; quickly.

ساتی siffá, H. *n. m.* An ear of Indian corn.

ساتی satfá, सट्टा, H. *n. m.* An engagement to supply grain, &c., for which advances have been made; a mercantile transaction; a market.

ساتی باتی satfá battá, सट्टा बट्टा, H. *n. m.* An intrigue; collusion; combination; interchange; barter.

ساتی satáná, सदाना, H. *v.* (Caus. of ساتنا Satná). To stick; to paste; to gum; to unite; to engraft; to stud.

ساتی ساتپانا satpatáná, सटपदाना, H. *v.* To be confounded; to be restless.

ساتی ساتر پتر satar patar, सटर पटर, H. *n. f.* Trifles; petty affairs; odds and ends.

ساتی saták, सटक, H. *n. n. f.* An elastic rod, thick at one end and thin at the other; a *hugga* snake.

ساتی satkáná, सटकाना, H. *v.* (Caus. of ساتکنا Satakná). To cause to vanish or disappear; to make tapering; to put out of the way,

سکنا saṭaknā, सटकना, H. *v.* To run away ; to flee ; to disappear ; to slink away.

سکنا suṭuknā, सुटुकना, H. *v.* To swallow by gulp and with a noise.

سٹنا saṭnā, सटना, H. *v.* To stick ; to adhere ; to unite ; to join.

سٹھیانا saṭhiyānā, सठियाना, H. *v.* To be turned 60 years ; to be superannuated ; to be decrepit.

سٹھورا saṭhorā, सठोरा, H. *n. m.* A sweetmeat consisting of meal, sugar, ginger, spices, &c., given medicinally to puerperal women.

سٹی siṭṭī, सिटी, H. *n. f.* The senses. سٹی گم ہونا —gum honā, *v.* to lose one's senses.

سج saj, साज, H. *n. f.* Ornamental preparation ; appearance ; shape. سج دھج —dhaj, *n. f.* preparation and appearance ; elegance ; ornamentation.

سجاء sajjād, A. *adj.* and *n. m.* Prostrating oneself much in prayer ; one who bows in adoration.

سجاءه sajjāda, A. *n. m.* A carpet or mat on which Mohammadans pray ; altar. سجادہ نشین —nashīn, the spiritual superior of a shrine or tomb of some reputed saint.

سجان sujan, सजान, H. *adj.* Intelligent ; wise.

سجانا sajanā, सजाना, H. *v.* To adorn ; to assort ; to decorate.

سجارت sajawat, सजावट, H. *n. f.* Ornament ; decoration ; preparation ; adorning ; arrangement.

سجایا sajayā, A. *n. m.* (Plu of سحیة) Nature ; disposition ; faculty ; natural temper.

سجده sijdah, A. *n. m.* Bowing so as to touch the ground with the forehead in adoration. سجده گاہ —gāh, *n. f.* the place where prayers are read, *e. g.* a mosque ; something on which Shia Muslims rest their heads while prostrating during prayers.

سجع saja', A. *n. m.* Rhyme ; prose ; metre ; poesy. سجعگر —go, a rhymmer ; an eloquent speaker.

سجیل sijal, सिजल, H. *adj.* Good ; pleasing ; elegant ; nice. سجیل کرنا —karnā, *v.* to polish ; to improve.

سجیل sijill, A. *n. m.* Written statement or contract ; written attestation of a notary ; judicial record ; seal of a judge. [or more.

سجیلا sajlā, सजला, H. *n. m.* Third brother of four
سجین sajan, H. *n. m.* A respectable person ; a sweetheart ; a lover ; a husband.

سجنا sajnā, सजना, H. *v.* To be prepared ; to fit ; to ornament.

سجنی sajnī, सजनी, H. *n. f.* A female friend ; a mistress.

سجھانا sijhānā, सिझाना, H. *v.* To boil ; to seethe ; to melt.

سجھانا sujhānā, सुझाना, H. *v.* To point out ; to make one understand ; to show. [alkalī.

سجی sajjī, सज्जी, H. *n. f.* A kind of mineral ;

سجیلا sajlā, सजीला, H. *adj.* Well-shaped ; handsome ; stylish ; decorated. [temper.

سجیة sajiya, P. *n. m.* Nature ; deposition ;

سج sach, सच, H. *adj.* True *n. m.* truth ; *adv.* indeed ; surely ; verily. سج ماننا —mānnā, *v.* to trust ; to believe.

سچا sachchā, सच्चा, H. *adj.* True ; sincere ; genuine ; real ; honest ; faithful ; sure ; pure ; fair ; unalloyed ; full (weight) ; bona fide (transaction). سچا پن —pan, See سچائی sachāī. سچا قول کا سچا qaul kā —, faithful to one's word. سچا ہاتھ کا سچا hāth kā —, an honest man.

سچائی sachāī, सचाई, H. *n. f.* Truth ; honesty ; genuineness ; purity.

سچیت suchet, सचेत, S. *adj.* Attentive ; careful.

سحاب sahab, A. *n. m.* A cloud. [of the bings

سحاف sahaf A. *n. m.* Consumption ; ulceration

سحر sehr, A. *n. m.* Magic ; enchantment ; fascination ; sorcery. سحر حلال —i-halāl, lawful magic ; skilful eloquence.

سحر sahr, } A. *n. m.* The dawn of
سحرگاہ sahargāh, } day.

سحری sahrī, P. *n. f.* Food taken before dawn, as among Muhammadans in the time of fasting.

سخاوت sakhawat, A. n. f. A Liberality ; generosity ; munificence.

سخت sakht, P. *adj.* Hard ; difficult ; obdurate ; cruel ; hard-hearted ; harsh ; severe ; stingy ; violent ; extreme ; unlucky ; *adv.* severely ; violently ; extremely. سخت انداز —andáz, an archer. رو سخت —rú, of stern countenance ; stern-faced ; sour-looking. سخت سست كهنا —sust Kahná, *v.* to use harsh words ; to rail at ; to reproach گوی سخت —goí, harshness of language. سخت گیری —gírí, extortion ; taking by force.

سختی sakhtí, P. n. f. Hardness ; firmness ; rigidity ; cruelty ; hard-heartedness ; harshness ; severity ; strictness ; atrocity ; obduracy ; poverty ; distress. سے سختی —se, *adv.* harshly ; severely. سختی کرنا —karná, *v.* to use force or violence.

سخرا sakhra, A. n. m. Derision ; a ridiculous person ; one who is forced to labour without reward.

سخن sukhan, P. n. m. Speech ; language ; words. آرا سخن —ará, *adj.* eloquent. سخن آرا —ará, n. f. eloquence. سخن پرور —parwar, one who adheres to his word. سخن تکیه —takya, n. m. an expletive ; a prop word. سخن چین —chín, n. m. a critic. سخن دان —dán, a scholar ; a poet. سخن دینا —dená, *v.* to promise. سخن دالنا —dálná, *v.* to ask ; to question ; to beg. سخن رس —ras, *adj.* intelligent ; eloquent. سخن ساز —sáz, n. m. an orator. سخن سازی —sázi, n. f. oratory ; eloquence ; fabrication. سخن سنج —sanj, a weigher of words ; orator. سخن طرازی —tarázi, n. f. eloquence. سخن فهمی —fahmí, intelligence ; apprehension. سخن گوئی —goí, n. f. the art of poetry. سخن کم —kam, n. m. reserved person. سخن لا لا —lá, harsh words ; foul language. سخن نشوری —ná-shinawí, inattention to advice ; heedlessness. سخن ور —war, *adj.* eloquent.

سخی sakhí, A. *adj.* Liberal ; generous ; bountiful ; n. m. a liberal person.

سد sadd, A. n. m. Obstacle ; impediment ; barrier ; fence. سد راه —i-rah, obstruction of the

road. سد رمق —i-ramaq, hindrance or prevention from breathing one's last ; the last remains of life ; the agonies of death.

سدا sadá, سدا, H. *adv.* Always ; ever ; continually ; perpetually. سدا بروت —bart, alms or food distributed daily to the poor, travellers etc. سدا بهار —bahár, *adj.* evergreen. سدا سخی —sukhí, *adj.* ever happy. سدا سهاگن —suhágan, n. f. a bird ; a kind of flower ; a class of *faqírs* who dress like women ; a woman's benediction, meaning "May your husband live for ever" ; a faithful wife.

سدن sadan, سدن, S. n. m. Dwelling house ; mansion. [prosperous time.

سدن sudin, سۇدین, S. n. m. Auspicious day ;

سده sidh yá siddh, سیخ یا سید, H. *adj.* Accomplished ; perfect ; successful ; holy ; valid ; right ; n. m. a holy man, a saint. سده کرنا —karná, *v.* to accomplish ; to perfect. سده هونا —honá, to be accomplished.

سده sudh, سۇدھ, H. m. f. Memory ; remembrance ; attention ; care ; intelligence. سده بده —budh, n. f. common sense ; presence of mind ; care. سده بھولنا —bhúlná, *v.* to loose one's senses ; to forget. سده ركهنا —rakhná, *v.* to regard ; to bear in mind. سده لینا —lená, *v.* to take care of ; to look after. سده کرنا —karná, to remember. سده بے سده —be, *adj.* senseless ; careless.

سده sudh, سۇدھ, H. *adj.* (S. शुद्ध) Straight ; right ; accurate ; pure.

سدهارنا sidhárná, سیخارنا, H. *v.* To go ; to depart ; to set out ; to leave this world ; to die.

سدهارنا sudhárná, سۇخارنا, H. *v.* To adorn ; to adjust ; to arrange ; to mend ; to beat.

سدهانا sadháná, سڤانا, H. *v.* To train or tame animals ; perform.

سدهانا sudháná, سۇڤانا, H. *v.* To cause to remember.

سدهارنا sudhárná, سۇخارنا, H. *v.* To be corrected ; to be mended ; to answer.

سدهانا sadhná, سڤانا, H. *v.* To be fully instructed or disciplined ; to be tamed.

siddhī, सिद्धि, H. *n. f.* Accomplishment; accuracy; sanctification; perfection.

sudī, सुदी, H. *n. f.* The bright half of the lunar month. [ful.]

sudaul, सुदौल, H. *adj.* Well-shaped; grace-

sir yā sar, सिर, या सर H. *n. m.* The head; skull; pate; highest part; beginning; commencement; the top; crown; pinnacle.

uṭhānā, v. to look up; to rebel; to revolt. uṭhā ke chalna, to walk on tip-toe; to walk conceitedly. ānā, to be possessed of an evil spirit.

ānkhon par yā se, most cordially or cheerfully. bhārī honā, to be giddy; to have a headache.

par paṛnā, v. to fall to one's lot. par chaṛhānā, v. to spoil (a child, &c.); to raise an inferior above one's self.

par khāk dālnā, v. to mourn; to lament. parastī karnā, v. to help; to protect.

par hāth rakhnā, to foster; to patronize. phernā, v. to revolt from obedience. phūṭauwal, wrangling; fighting.

per lenā, v. to take on one's shoulders. tor ke lenā, to take a thing by force or violence.

chāṛhā, v. to bow. chāṛhā, *adj.* spoilt by over-indulgence; proud; to exalt; to revere; to spoil (a child).

dharnā, v. to be obedient. dhunnā, v. to lament. dhonā, v. to wash one's hair.

denā, v. to pledge one's head. safaid honā, v. to become grey or old. pe pāon tak, *adv.* from head to foot.

se kafan bāndhnā, v. to engage in a desperate undertaking. se khelnā, v. to shake one's head under the influence of an evil spirit.

kaṭā, *adj.* beheaded. khānā, v. to tease; to worry. ke bal, *adv.* head downward.

ganjā karnā, v. to beat severely. gundhī, *n. f.* the Hindu marriage ceremony of braiding the bride's hair for the first time.

ghūmnā, the head to be in a whirl; to suffer from vertigo. lagnā, v. to be accused or charged with. mārṇā, v. to do one's best; to search diligently; to take great pains.

mundā, *n. m.* shaven crown. men bāl honā, to be able to endure. na pair, groundless.

nawānā, v. to be humble; to be obedient. nichā karnā, v. to be ashamed. honā v. to insist upon; to quarrel.

sar, P. *n. m.* (See sir.) Chief; head; beginning; commencement; desire; top; point; front; face; intention; inclination.

āpā, *adv.* from head to foot; cap-a-pie. i-ijlās, in court. afgandā, *adj.* head cast down. afraz, *adj.* exalted.

anjām, *n. m.* preparations; arrangements; result; end. anjām karnā, v. to manage; to provide; to arrange.

i-bāzār, *adv.* in public. barāhkār, *n. m.* manager; an agent. barāhī karnā, v. to manage.

bastā, *adj.* hidden; closed; shut. basar, *adv.* all; wholly; entirely; from end to end. buland, *adj.* exalted; glorious.

bulandī, *n. f.* exaltation; eminence. bamuhr, *adj.* sealed. parastī, *n. m.* a guardian. parastī, *n. f.* patronage.

panch, *n. m.* president; chairman; umpire. posh, *n. m.* a cover. pech, *n. m.* ornament worn in the turban.

taṭ, *n. m.* a chief. i-hisāb rahnā, to live up to one's income. khud, *adj.* independent.

i-dast, *adv.* at present; at hand. i-daftar, *n. m.* a head clerk. i-rāh, *adv.* on the road; *n. m.* the high road.

zed honā, v. to happen; to occur. zamīn, *n. f.* earth; country; limits. zanish, *n. f.* reproof; reprimand.

zor, *adj.* headstrong; rebellious; disobedient. zori, *n. f.* rebellion; insubordination; violence.

sabz, *adj.* verdent; flourishing; victorious; successful. sabz karnā,

c. to renew; to revive. سر سبز ہونا — sabz honá, to prosper. سر شام — i-shám, *adv.* early in the evening. سر نواز کرنا — faráz karná, *v.* to honour; to exalt. سر کرنا — karná, *v.* to conquer; to accomplish. سرکش — kash, *adj.* refractory; rebellious. سرکشی — kashí, *n. f.* rebellion; insurrection. سرکشی کرنا — kashí karná, *v.* to rebel. سر کوبی — kobí, *n. f.* punishment. سرگذشت — guzasht, an account of circumstances; narrative; adventure; event. سر گران — garáp, *adj.* tipsy; proud. سر گرانی — garání, *n. f.* heaviness of head; pride. سر گرداں — gardáñ, *adj.* wandering; confounded; distressed. سر گردانی — gardání, *n. f.* perplexity; confusion; distress. سر گرم — garm, *adj.* zealous; ardent. سر گرمی — garmí, *n. f.* zeal; earnestness. سر گردو — garoh, *n. m.* a ringleader; a commander. سر مسات — gasht, *n. m.* patrolling. سر مست — mast, *adj.* intoxicated. سر مشق — i-mashq, *n.* a copy for writing. سر مزہ — i-má, *n. m.* a hair's breadth. سر گوشہ — goshí, *n. f.* speaking in a low tone; whisper. سر نامہ — náma, *n.* titles at the beginning of a letter; address; superscription. سر نگر — nigún, *adj.* downcast; ashamed. سر نو — i-nau, *n. f.* renewal. از سر نو — az-i-nau, *anew; afresh; de novo.* سر نوشت — nawisht, *n. f.* destiny; fate. سر و پا — o-pá, *adj.* from head to foot; the whole. سر و سامان — o-sámán, *n. m.* necessaries; apparatus; furniture; luggage. سر sar, सर, *H. n. m.* A reed of which arrows are made; an arrow; a pond; a tank. سر sur, सूर, *S. n. m.* A god; a deity. سر sur, सुर, *H. n. m.* Tone; note; tune; music; melody; a vowel; air, breathed through the nostrils. سر ملانا — milána, *v.* to tune an instrument, in harmony with another; to sing in time. سر اونچا — unchá, major key; *so prano* or *alto.* سر بے — be, *adj. and adv.* inharmonious; out of tune. سر دھیمہ — dhímá, the tenor; *contralto.* سر نیچا — nichá, *n.* low tune; the bass. سر sirr, *A. n. m.* A secret; a mystery; a sacrament. سر sará, *P. n. f.* A caravansaray; an inn; a house; a temporary home for travellers; (*Met.*) the world.

سیر sirá, सिरा, *H. n. m.* Beginning; end; extremity; top; point; tip. سر سے — sire se, *adj.* from the very first; *ab initio.* سراب saráb, *A. n. m.* The mirage. سراب saráp, सराप, *H. n. m.* A curse. سر اپنا — ná, سراب دینا — dená, *v.* to curse; to imprecate. سراج siráj, *A. n. m.* A lamp; the sun; a candle. سراج القطب — ul-qutub, *n. m.* a planet which shines at night like the glow-worm. سرادہ sarádh, सराध (श्राद्ध S.) *H. n. m.* Funeral obsequies. سراسر sarásar, *P. adj.* Cursory; *adv.* wholly; entirely; from beginning to end. سراسری sarásari, *P. n. f.* A summary; an average; an ornament worn on the forehead. سراسری دیکھنا — dekhná, to run the eye over; to look over cursorily. [mind. سراسیمگی sarásimgí, *P. n. f.* confusion of the سراسیمہ sarásima, *P. adj.* Confounded; distracted. سراج surág, *P. n. m.* Search; trace; mark; clue; spying; enquiry. سراج رسانی — rasání, *n. f.* searching; tracing; tracking; detection. سراج لگانا — lagána, *c.* to search out; to trace out; to discover; to seek. سراج ملنا — milná, to be on the track of; to obtain a clue; to get an inkling of. [detective. سراجی surágí, *P. n. m.* A secret agent; a سراجی surágáe, सुरगाय, *H. n. f.* The bushy-tailed cow of Tibet. سیرانا siráná, सिराना, *H. v.* To cool; to make cool. سیراوی saráwgi, सरावगी, *H. n. m.* A disciple or believer of the Jains sect. سیراون saráwan, सरावन, *H. n. m.* A harrow; any instrument used for levelling ground. سیراہ saráh, सराह, *H. n. f.* Praise; commendation; flattery. سیراہن saráhan, सराहन, *H. n. m.* The act of praising, magnifying, &c. سیراہنا saráhná, सराहना, *H. v.* To praise; to commend; to approve. سیراہے saráhe, *P. n. f.* see sará. سیرائی sarái, *P. n. f.* Singing; modulation (*used as last member of compounds*) as: مدح سیرائی — madh—, singing praise.

سرائیت saráyat, A. n. f. Passing from one thing to another ; penetration ; infection.

سرائیندا saráinda, P. n. m. A singer ; an eulogist.

سرائبھنگی sarbhangí, सरभङ्गी, H. n. m. A sect of *faqirs*, who do not believe in the Hindu ideas of caste and pollution.

سارپ sarp, sarap, सर्प, सरप, S. n. m. A serpent.

سارپت sarpāt, सरपत, } H. n. m. Reed leaves
سارپتا sarpatá, सरपता, } used for thatching ;
saccharum procerum.

سارپٹ sarpaṭ, सरपट, H. n. f. Galloping hard.

سارپٹ کھنا sarpaṭ kḥná, سرپٹ کھنا—phenkná, v. to set off at a gallop ; to urge a horse go at full gallop.

سورت surat, सुरत, H. n. f. Recollection ; memory ; thought ; attention ; consideration ; reflection ; accuracy ; mind ; design. سورت آنا—áná, v. to come into one's mind. سورت بھنا—bisarná, v. to forget. سورت سے—se, adj. carefully. سورت کرنا—karná, v. to recollect. سورت نہ رہنا—na rahná, v. to slip from one's memory ; to be senseless.

سورتی surtí, सुरती, H. n. f. (*Lit.*) Tobacco of Surat ; dry tobacco for chewing, &c.

سیراجنا sirajná, सिरजना, H. v. To create ; to produce ; to form ; to make.

سیرجانہار sirjanhá, सिरजनहार, H. n. m. The Creator ; God ; the Almighty.

سیرچشمہ sarhashma, P. n. m. A spring ; a source ; a fountain.

سیرچنگ sarchang, P. n. f. A violent kick on the buttocks ; repulse ; rent ; fatigue ; distress ; trouble.

سیرحد sarhad, P. n. f. Boundary ; frontier border. سیرحد حاصل—hásil, n. m. frontier duties.

سرخ surkh, P. adj. Red. سرخ بادہ—báda, n. m. erysipelas. سرخ بید—bed, n. f. a kind of cane ; a medicinal plant. سرخ رو—rú, adj. successful ; unabashed ; *nullá culpápaliescens* ; exonerated ; triumphant. سرخ روئی—rúí, n. f. honour ; fame ; success. سرخ سفید—sufaid, adj. fair ; plump. سرخ ہونا—honá, v. to be ripe ; to be flushed ; to become red with anger.

سرخآب surkháb, P. n. m. Name of a bird ; the ruddy goose ; *anas casarca* ; a species of lark.

سرخآب کا پر اگنا—ká par lagná, v. to do something wonderful or unequalled ; to be some great or wonderful man ; to do anything expeditiously. سر پر سرخآب کا پر ہونا—sir par—ká par honá, to be proud ; to hold one's head high ; to be above one's work.

سرخٹا sarkhat, P. n. m. An agreement to hire, to serve, or to rent ; a lease of a house ; receipt given to an *desami*.

سرخٹا surkha, P. n. f. A sort of pigeon of a red colour ; a roan horse.

سرخی surkhí, P. n. f. Redness ; brickdust. سرخی مایل—máyal, adj. reddish ; slightly red

سرد سرد sarad, سرد H. n. f. (S. سرد), Autumn. سرد پورنو—púno, the day of full moon in the month of Asin.

سرد sard, P. adj. Cold ; damp. سرد کرنا—karná, v. to cool. سرد مزاج—mizáj, adj. apathetic ; cold. سرد مہر—mehr, n. m. a cold or lukewarm friend. سرد مہری—mehri, n. f. coolness ; lukewarmness. سرد ہونا—honá, v. to become cold ; to die ; to become lukewarm or indifferent ; to become chilled or paralysed.

سردا sardá, سردا, H. n. m. A kind of watermelon brought from Kábul.

سردابہ sardába, P. n. m. A cold bath ; a place where water is kept cool ; a cool room for summer ; a subterranean dwelling ; a grotto.

سردار sardár, P. n. m. A chief ; a commander ; a nobleman ; a ringleader ; a head bearer.

سردارنی sardární, P. n. m. The Mistress of a house ; the wife of a bearer (among the servants of Europeans, in India).

سرداری sardári, P. n. f. Chiefship ; headship ; supremacy ; sway ; rule ; government. سرداری کرنا—karná, v. to rule ; to command.

سردانا sardána, سردانا, H. v. To become cold ; to freeze.

سردی sardí, P. n. f. Cold ; coldness ; chilliness ; dampness ; catarrh. سردی ہائی—bái, n. rheumatic stiffness and pains. سردی پڑنا—párná, to be chilly or cold. سردی ہونا—honá, v. to catch cold. سردی و گرمی زمانہ—o-garmí-i-zamána, vicissitudes of life or fortune.

سونگ surang, सुरंग, H. n. f. A mine; a gallery; a subterraneous passage. *adj.* Red-coloured; light-bay or chestnut (a horse). سونگ اُرانا — uráná, v. to explode a mine. سونگ لگانا — lagáná, v. to mine.

سونگيا surangiyá, सुरंगिया, H. n. m. A miner.

سر sarv, P. n. m. The cypress tree. سر اندام — andám, *adj.* having a body as graceful as the cypress. سر قد — qad, *adj.* tall and graceful.

سورا surwá, सुरवा, H. n. m. A ladle shaped like a hand, with which clarified butter is thrown into the fire for a burnt offering.

سروال sarwál, A. n. m. Breeches; trousers; long drawers.

سرور sarúp, सरूप, H. n. m. A handsome face or figure; beauty; appearance; form; *adj.* handsome; beautiful; well-formed.

سروتا sarotá, सरोता, H. n. m. A kind of scissors for cutting betel-nut. [modulation.]

سرود sarod, P. n. m. A song; melody; a lyre;

سرودي P. n. m. A singer.

سرور sarur, A. n. m. Joy; pleasure; exhilaration; cheerfulness; slight intoxication.

سرور عيش و نشاط كيے
بدل گئے رنگ هي جہاں کے
سنانے تھا کان سے جو ہم نے
وہ آنکھ سے انقلاب دیکھا

(داغ) —

Súrur-i'áish-o-nishát kaise,
Badal gae rang hí jahán ke.
Suná na thi kán se jo ham ne,
Wuh ápkh se inqiláb dekhá.

سرور sarwar, P. n. m. A chief; a leader. (سردار sardár). سرور كائنات — i-káinat, (chief of created beings) Muhammad.

سارواری sarwarí, P. n. f. Chiefship; sway; rule.

سروش sarush, P. n. m. The angel of happy tidings; Gabriel.

ساروکار sarokár, P. n. m. Business; concern; in tercourse. ساروکار رکھنا — rakhná, v. to have to do with; to be concerned.

ساروار sarowar, सरोवर, S. n. m. A lake; a pond.

ساروہی sarohi, सरोही H. n. f. A two-edged sword noted for its flexibility.

سرہانا sirháná, सिरहाना, H. n. m. The head of a bedstead or tomb.

سارہنگ sarhang, P. n. m. A captain; a general; a commander; a chief; a foot-soldier; *adj.* disobedient; rebellious; strong.

سیری siri (ش्री S.) H. n. f. A name of Lakshmi, the wife of Vishnu and goddess of plenty and prosperity; prosperity; beauty; an auspicious term prefixed to the names of persons of dignity and at the beginnings of manuscripts, letters. سیری کرنا — karná, v. to commence in the name of Lakshmi. سیری مت — mat, *adj.* fortunate. سیری مد — mad, n. m. the pride or intoxication or wealth or prosperity. سیری مہراج — maháráj, Your Majesty.

ساری sari, P. n. m. Chiefship.

سیری sirrí, सिरी, H. *adj.* Mad; insane.

ساریا sariyá, सरिया, H. n. m. A reed (used in making silver or gold lace). [pack.]

ساریانا saryáná, सरयाना, H. v. To arrange; to

ساریر sarír, सीर, H. n. m. The body. ساریر دھارن — dháran karná, v. to incarnate.

ساریر sarír, A. n. m. A throne; an ornamental sofa or couch.

ساریری surairí, सुरैरी, H. n. f. Whitewashing.

ساریری surírí, सीरी, H. *adj.* Bodily; corporeal.

ساریش saresh, P. n. m. Starch; glue.

ساریشہ sareshth, H. *adj.* (S. श्रेष्ठ), Best; most excellent; pre-eminent.

ساریساف sirísáf, A. n. f. A kind of muslin.

ساری sarí, A. *adj.* Quick; nimble; ready; swift; making haste. ساریع الاجابت — ul-ijábat, quick in answering. ساریع التاثير — ut-tásir, penetrating; active (a medicine). ساریع الزوال — uz-zawál, falling; transient; fading; soon passing away. ساریع الفہم — ul-fahm, of a quick understanding.

ساریکا saríká, } ساریکا, H. *adj.* Resembling; like; so.

ساریکھا sarekhá, सरैखा, H. n. f. The ninth mansion of the moon, consisting of five stars, probably in Cancer.

ساریلا surilá, सुरीला, } H. *adj.* Melodious; harmonious.

ساریلی surilí,

سرسین surín, P. n. f. The buttocks ; thighs ; hips.

سز sir, सिद्ध, H. n. f. Madness ; foolish talk.

سزا sirá, सिद्धा, H. adj. Mad ; lunatic ; insane.

سزا sará, सड़ा, H. adj. Rotten ; putrid ; stinking ; ulcerating. [ferment.

سزانا saránd, सड़ाना, H. v. To cause to rot ; to

سزاند saránd, सड़ांद, H. n. f. Rottenness ; putrefaction ; a disagreeable smell ; stink ; stench.

سزپنا surapná, सुढ़पना, H. v. To sip ; to suck up.

سزك sarak, सड़क, H. n. f. A road ; a street. سزك كاتا يا نكالنا katná yá nikálná, v. to make a road. [suffie.

سزكنا surukná, सुढ़कना, H. v. To gulp down ; to

سزكي surkí, सुढ़की (Col.) H. n. f. The sudden slackening of the string of a paper kite.

سزتن sařan, سڑدن, H. n. f. Rottenness ; putrefaction.

سزتن siřan, सिड़न, H. n. f. Mad (woman).

سزتنا sařná, سड़نا, H. v. To rot ; to ferment, to decay ; to gangrene.

سزتي sirí, n. m. Mad ; insane. [dirty.

سزتيك sařiyal, सड़ियल, H. adj. Rotten ; worthless ;

سزا sazá, P. n. f. Punishment ; chastisement ; correction ; penalty ; requital. سزا پانا pána, v. to be punished. سزا دينا dená, v. to punish ; to chastise. سزا ياب yáb, adj. punishable. سزا يافته yáftah, n. m. an old offender.

سزا وار aazá wár, P. adj. Liable ; suitable ; deserving. سزا وار هونا wár honá, v. to deserve ; to merit.

سزاول sazáwal, T. n. m. A tax-gatherer ; a rent collector ; a supervisor ; a superintendent ; a baliff. [sazáwal.

سزاولي saziwáli, T. n. f. The business of a sis, سيس (शिष्य S.) H. n. m. A disciple ; a follower. [rabbit.

سزسا sussa, सुसा (Col.) H. n. m. A hare ; a

سست sust, P. adj. Lazy ; idle ; slow ; inactive ; loose ; tardy ; weak ; feeble ; dull ; dejected ; downcast ; slack ; sluggish ; indolent ; slothful. سست اعتقاد e'tiqád, adj. incredulous ;

sceptical ; lax in confidence ; slow to believe.

سست پيمان—paiman, adj. slow in fulfilling one's engagements. سست كرنا—karná, v. to relax ; to diminish the speed. سست هونا honá, v. to be lazy ; to be sad.

سستا sastá, सस्ता, H. adj. Cheap.

سستانا sustána, सुस्तानا, H. v. To rest ; to lie down ; to take repose.

سستي sustí, P. n. f. Slowness ; laziness ; languor ; idleness ; tardiness ; dulness. سستي كرنا—karná, v. to delay ; to idle.

سوسار susar, सुसर, } H. n. m. A father-in-law ; a term of abuse. سوسرا susra, }

سوسرار susrár, सुसरار, } H. n. f. Father-in-law's house or family. سوسرال susrál, سوسرال كا ka—ká kuttá, n. m. A son-in-law who sponges on his father-in-law.

سوسري susrí, सुसरी, H. n. f. Mother-in-law ; a term of abuse. [hiss (a snake).

سوسكارنا suskárna, सुसकारना, H. v. To sibilate ; to

سوسكنا sisakná, सिसकना, H. v. To sob ; to suspire ; to blubber ; to be in one's last gasp ; v. t. to urge a dog to the chase ; to hiss a dog on.

سوسكي siskí, सिसकी, H. n. f. Sobbing. سوسكي هونا—bharna, v. to sob ; to sigh ; to breathe convulsively.

سوشيل sushil, सुरील, S. adj. Well-disposed ; courteous ; polite.

سطح satah, A. n. f. Surface ; superficies ; an expanse ; a platform ; a flat roof. سطح مستوي—mustawi, a flat or level surface. سطح محدب—muhaddab berúní, convex surface.

سطر A. n. f. A line ; row ; rank ; series ; ruling (lines) ; delineating. سطر بندي—bandí, n. f. ruling ; lines for writing on.

سطل satl, A. n. f. A brass kettle ; a broad shallow basin of brass or copper having two handles.

سطوات satwat, A. n. f. Impetuosity ; power ; force ; authority ; dominion ; owe ; majesty.

سطور sutúr, A. n. f. (Plu. of سطر Satar.) Lines ; rows. بين السطور bain-ul—, interlineation ; the space between two lines.

سعادت sa'ádat, A. n. f. Auspiciousness; felicity; happiness. سعادت مند—mand, *adj.* fortunate; dutiful. سعادت مندی—mandí, *n. f.* prosperity; dutifulness. [ciousness.

سعد sa'd, A. n. m. Felicity; prosperity; auspiciousness.

سعی sa'i, A. n. f. Attempt; endeavour; effort; enterprise; essay. سعی کرنا—karná, *v.* to attempt; to try; to endeavour; to strive; to exert oneself.

سعیر sa'ir, A. n. f. Fire; hell-fire; name of a certain quarter of hell destined for idolators.

سفارت sifárat, A. n. f. Embassy; making peace; mediation; writing of a book.

سفارش sifárish, P. n. f. Recommendation; influence. سفارش کرنا—karná, *v.* to recommend.

سفارشی sifárhí, P. *adj.* Recommendatory. سفارشی تشریف—táshífú, *n. m.* one who is appointed to a post through sheer interest.

سفاک saffák, A. n. m. A shedder of a blood; a butcher.

سفال sífál, P. n. m. Earthenware; a tile; a shard; potsherd. سفال پوش—posh, covered with tiles.

سفالی sífálí, P. *adj.* Earthen.

سفانت sífánat, P. n. f. The art or craft, or occupation of ship building and of navigation.

سفاهت sífáhat, P. n. f. Foolishness; stupidity; ignorance; insolence.

سفت saft, A. n. f. Drinking a great deal without quenching thirst.

سفت saft, P. *adj.* Firm; thick.

سفته saftá, P. *adj.* Bored; pierced; perforated.

سفر safar, A. n. m. Journey; travel. سفر خرچ—kharch, *n. m.* travelling expenses. سفر کرنا—karná, *v.* to travel; to die. سفر نامہ—námah, *n. m.* an account of journey. دریائی سفر یا بحری سفر—daryái—yá bahri—, sea-voyage.

سفرة safra, P. n. m. A. tablecloth; napkiu; the thing (whatever it be) upon which one eats.

سفری safrí, سکاری, H. n. m. Provisions for a journey; a guava. [*adj.* inferior; mean.

سفل safl, A. n. m. Refuse; depression; lowness;

سفله sífla, A. *adj.* Low; mean; contemptible miserly; ignoble; base. سفله پن—pan, *n.* meanness; baseness. سفله خر—kho, *adj.* mean-spirited; of a base or ignoble disposition.

سفلی síflí, A. *adj.* Lower; inferior; infernal.

سفر سفوف sa'uf, A. n. m. A powder.

سفید safaid, safaid, safed, P. *adj.* White. سفید پوش—posh, *n. m.* A man dressed in white; a well-to-do man. سفید کرنا—karná, *v.* to whiten. سفید ہونا—honá, *v.* to turn pale.

سفیدہ safaida, P. n. m. White lead; ceruse; fluor albus.

سفیدی safaidí, P. f. Whiteness; whitewash; morning-light; the white of an egg.

سفير safir, P. n. m. An ambassador; an envoy; arbitrator. [of a law court; sub-poena.

سفینہ safina, A. n. m. A black book; summons

سفید safi, A. *adj.* Foolish; ignorant; licentious; extravagant.

سقا saqqa, } A. n. m. A water-carrier; a cup-
سقا saqqa, } bearer.

سقا saqáwa, A. n. m. A cold bath or a place for washing the body with cold water.

سقر saqar, n. m. Hell. سقر مقر—maqar, n. m. Hell abode.

سقا saqat A. n. m. Mistake; error; blunder; what is dropped or thrown away. سقا ہونا—honá, to miscarry. [sky; a platform.

سقف saqf, A. n. f. Roof; ceiling; canopy, the

سقم saqm, A. n. m. Flaw (اگرن augun; sickness.)

سقی saqí, A. n. m. A beam; a rafter.

ساقمونیہ saqmuniya, A. n. m. Scammony; dried juice exuding from the root of *convolvulus scammonia*.

ساقنقر saqanqúr, A. n. m. A skink

ساقیم saqím, A. *adj.* Sick; infirm.

سکات sukát, A. n. f. Silence.

سکار sakár, سکار, H. n. m. Acceptance or endorsement of a bill.

سکارنا sakárná, سکارنا, H. v. To accept (a bill of exchange, &c.); to endorse. [cutler.

سکاک sakkák, A. n. m. A maker of knives; a

سکال sukál, सुकाल, S. n. m. Good season ; abundance ; time of plenty ; an auspicious time ; morning ; dawn.

سکال sukán, A. n. m. (Plu. of ساکن sákin). Inhabitant ; a rudder ; a helm. گیر ساکن—gir, n. m. helmsman.

سکاتر sikattar, सिकतर, H. n. m. Secretary.

سکته sakta, A. n. m. A swoon ; a trance ; apoplexy ; a pause. هوننا سکته—honá, v. to fall into a swoon.

سکتا suktá, सुकटा, H. adj. Lean ; thin ; emaciated.

سکچ sakuch, सकुच, H. n. f. shyness ; modesty ; shame.

سکر sukr, A. n. m. Intoxication ; inebriation ; any intoxicating drink.

سکرات sakrát, A. n. f. Fainting ; insensibility ; agony of death. موت سکرات—i-maut, pangs or agony of death.

سکرا sakrá सकरा, } H. adj. Narrow ; contracted ; strait ; small ; tight. ساکری sakrí, ساکری, }

سکرا sukrá, सुकड़ा, H. adj. Shrunk ; contracted.

سکرننا sukarná, सुकरना, H. v. To be shrunk or contracted ; to shrink ; to draw in ; to dwindle ; to shrivel. ان سکران—an, n. f. a wrinkle.

سکاردادا sakardádá, सकरदादा, H. n. m. Great-grandfather or great-great-grand-father (on the father's side). [tion ; tuition.

سکش sikshá, शिक्षा, H. n. f. Teaching ; instruction.

سکن sakn, A. n. m. Inhabitants of a house ; inmates ; family.

سکنا sakná, सकना, H. v. To be able ; can.

سکنا sikná, सिकना, H. v. To be roasted or parched.

سکنات saknát, A. n. f. (Plu. of سکنت Saknat.) A rest ; pause ; the quiescence of a letter.

سکانبین sikanjbin, P. n. f. Oxymel ; lime juice or other acid mixed with sugar or honey.

سکوار sukwar, (سुकवार), H. adj. Delicate ; feeble ; soft ; tender.

سکوت sukút, A. n. f. Silence ; quietness ; taciturnity ; peace. [Dim. سکوری (Sakori).

سکورا sakorá, P. n. m. A small earthen cup.

سکورنا sakorná, (सिकोदना), H. v. To draw up (the limbs) ; to gather up ; to contract ; to tighten ; to shrivel.

سکون sukún, A. n. m. Quietude ; peace ; tranquillity ; rest ; cessation ; a mute.

سکونات sukúnat, A. n. f. Residence ; dwelling ; habitation. سکونت پذیر هوننا—pizir honá, v. to reside.

سکھ sikh, सिख (शिष्य S.) H. n. m. A disciple ; a follower of Gurú Nának.

سکھ sikkah, A. n. m. A seal ; a stamp ; a coining ; a die ; an impression on money ; current coin اپنا سکھ بیٹھانا—apná—biṭháná, to introduce one's coin ; to establish one's rule or authority. بانا سکھ—banáná, to coin money. جعلی سکھ—i-ja'lí, counterfeit coin.

سکھ چھرا شاہی i-chehra sháhí, n. m. King's coin.

سکھ sukh, सुख, H. n. m. Ease ; rest ; comfort ; easy circumstances ; happiness ; pleasure ; solace ; relief. پانا سکھ—páná, v. to get ease, rest, comfort, &c. دائی سکھ—dái, adj. affording ease ; comforting. سے راننا سکھ—se rahná, to live comfortably.

سکھانا sukhána, सुखाना, H. v. To dry up ; to cause to pine away ; to evaporate ; to wither ; to emaciate.

سکھانا سکھلانا sikhláná, sikháná, सिखलाना, H. v. To teach ; to instruct ; to admonish ; to advice ; to discipline. سکھانوالا sikháne wálá, n. m. a tutor ; a teacher.

سکھدارشان sukhdarshan, सुखदर्शन, H. n. m. A shrub, the juice of which is given for ear-ache ; *Crinam asiaticum*.

سکھر sikhhar, (शिखर S.) H. n. m. Climax ; top ; summit ; pinnacle ; chaplet ; the cords of the bahangí in which baskets rest.

سکھی sakhí, सखी, H. n. f. A woman's female friend ; companion or confidante ; a handmaid ; a kind of faqirs who dress like women.

سکھی sukhi, सुखी H. adj. At ease ; contented ; happy ; glad.

سکیت sakét, H. adj. Narrow ; strait ; small ; n. f. distress ; want ; difficulty.

सकृत् *sakeṭnā*, सकृत्, H. *v.* To straiten ; to tighten.

सक *sag*, P. *n. m.* A dog. सक—*bān*, *n.* a dog-keeper.

सका *sagā*, सका, H. *adj.* Own ; full ; related ; uterine ; born of the same parents ; akin. सका—*bhāi*, own or full brother, *n. m.* a relative.

सकाल *sigāl*, P. *n. m.* Thought ; suspicion ; enmity ; calumny ; word. सकाल *bad*—*a.* malevolent ; of evil thoughts.

सकान्ति *sagāi*, सकान्ति, H. *n. f.* Betrothal (*mangai*) ; a second marriage among the lower classes. सकान्ति—*karnā*, *v.* to betroth ; to contract a marriage.

सकल *sagal*, सकल, सकल, H. *adj.* All ; the whole ; entire ; one and all.

सकुरी *sugraī*, H. *n. f.* A musical mode or *rāgni* sung in the forenoon.

सकुरी *sagun*, सकुरी, H. *n. m.* Angury ; omen.

सकन्द *sugand*, } H. *n. f.* Good smell ;
सकन्द *sugandh*, सुगन्ध, } odour ; perfume ; fragrance ; aroma.

सकुरी *sughar*, सुखर, (Col.) H. *adj.* Accomplished ; expert ; beautiful ; virtuous ; elegant.

सकुरी *sughāi*, सुखरि (Col.) H. *n. f.* Beauty ; accomplishment ; virtue ; elegance.

सक *sil*, A. *n. m.* Consumption ; a hectic fever ; ulceration of the lungs. सक *o diq*, *n. m.* rapid decline ; galloping consumption.

सक *sil*, } H. *n. f.* A stone ; a flat
सक *silā*, (शिला S.) } stone for grinding ingredients, &c. ; threshold ; doorframe. सक *baṭṭā*, the slab and muller with which condiments, spices, &c., are ground.

सक *silā*, H. *n. m.* Gleanings of a corn-field. सक *binnā*, to glean.

सक *salājī*, सकलजित, H. *n. f.* Storax ; red chalk ; stone-lac ; bitumen.

सक *silāh*, A. *n. m.* Arms ; weapons ; armour.

सक *khāna*, सक *khāna*, *n. m.* arsenal ; armoury.

सक *band*, सक *band*, *adj.* armed ; accoutred. सक *dar*

सक *dar* या सक *dar*—*dar ya silāh bardār*, *n. m.* armourer. सक *sāz*, *n. au* armourer.

सक *salākh*, सकल, H. *n. f.* An iron bar ; a stake ; a spit ; a probe.

सक *salākh*, A. *n. m.* A skinner.

सक *silāras*, सकलरस, H. *n. m.* Oil of cardamom.

सक *salāsāt*, A. *n. f.* Simplicity ; plainness ; gentleness ; facility ; clearness.

सक *salāsīl*, A. *n. f.* (Plu. of सक *salāsīl*) Chains.

सक *salātīn*, A. *n. m.* (Plu. of सक *Sultān*) Kings ; emperors ; monarchs.

सक *salām*, A. *n. m.* Safety, peace ; compliment ; good-bye. सक *—alaikum*, *n. f.* Peace be with you ! Good morning ! सक *—karnā*, *v.* to salute ; to say farewell. सक *—denā*, *v.* to send one's compliments. सक *—lenā*, *v.* to return a salutation.

सक *salāmat*, A. *adj.* Safe ; sound ; well. सक *—rau*, *n. m.* an economist. सक *—ravī*, *n. f.* good management : economy. सक *—rahnā*, *v.* to be safe and sound ; to live long ; to prosper.

सक *salāmāti*, A. *n. f.* Safety ; peace ; health ; security ; well-being. सक *—kā jām pīnā*, to drink to the health of ; to quaff a cup to the health of.

सक *salāmī*, A. *n. f.* A salute of guns ; salutation ; reception ; a present to a superior or a bridegroom ; presentation of arms ; reception ; welcome ; slope.

सक *sulānā*, सकलाना, H. *v.* To put to sleep ; to quiet ; to lull ; to calm ; to murder. सक *—sulā denā*, *v.* to lay down.

सक *silānā*, सकलाना, H. *v.* (Caus. of सक *—sīnā*). To cause to sew or stitch.

सक *silāi*, सकलई, H. *n. f.* Seam ; sewing ; needle-work ; the price for sewing.

सक *salāi*, सकलई, H. *n. f.* A large needle used for tinging the eyelids with collyrium.

सक *salab*, A. *n. m.* A negative argument in logic ; seizing by force ; sporting ; negation, denial ; spoil ; booty.

سلسلہ جہان suljhaná, सुलझाना, H. *v.* To disentangle ; to unravel ; to solve a problem ; to analyse ; to settle a case.

سلسلہ جہاؤ suljhaó, सुलझाव, H. *n. m.* Disentanglement ; unravelling.

سلسلہ جہنا sulajhná, सुलझना, H. *v.* To be unravelled or disentangle.

سلس salís, A. *adj.* Easy ; gentle ; mild ; compliant ; submissive.

سلسال salsál, A. *n. m.* Limpid water ; waving like a chain.

سلسابیل salsabil, A. *n. m.* Name of a fountain in Paradise ; running limped water.

سلسالانا salsaláná, सलसलाना (Col) H. *v.* To creep (as a snake) ; to crawl ; to feel a creeping or tickling sensation ; to cause to simmer or boil ; to itch.

سلسالہٹ salsalahat, सलसलाहट, H. *n. f.* A creeping or itching sensation ; titillation ; rankling.

سلسلہ silsila, A. *n.* A chain ; series ; succession ; pedigree ; genealogy ; arrangement ; mode. وار سلسلہ—wár, *adj.* linked together ; serial ; *seriatim* ; in the chain of ; consecutive ; unbroken.

سلسطان sultán, A. *n. m.* A sovereign ; a king ; a sultan ; an emperor ; an absolute monarch.

سلسطانہ sultánah, A. *n. f.* An empress ; a queen.

سلسطانی sultání, A. *adj.* Relating or belonging to a sovereign ; regal ; royal ; princely ; *n. f.* sovereignty ; empire ; dominion ; dignity or office of sultan.

سلسطانت saltanat, A. *n. m.* Empire ; kingdom ; reign ; dominion ; realm. سلسطانت جمہوری - jambúrí, *n. f.* democracy ; republic. سلسطانت شخصی -i-shakhsí, an absolute monarchy سلسطانت متحد -i-muttahad, a united kingdom.

سلسف salaf, A. *n. m.* The past or old times ; predecessors ; ancestors ; past or former times ; money advanced for merchandise ; a purse ; a bag.

سلسفہ sulfa, सुलफा, H. *n. m.* Little balls of tobacco smoked in a *hugqa*, without the intervention of a tile. سلسفہ ہونا—honá, to be consumed ; to be utterly destroyed or ruined.

سلسک silk, A. *n. m.* A thread ; series ; train ; course ; tenor ; road. سلسک باندی silk-bandí, *n. f.* Account of the daily receipts of revenue made out at the end of the month when the whole is added together and formed into one total.

سلسگانا sulgáná, सुलगाना, H. *v.* To light ; to kindle ; to stir a fire ; to incite ; to inflame ; to stir up.

سلسگانا sulagná, सुलगना, H. *v.* To light ; to burn with smoke or flame ; to be inflamed ; to be roused.

سلسام salam, A. *n. m.* Safety ; peace ; saluting ; *adj.* sound. سلسام اللہ تعالیٰ sullamahol-láho tá'álá. Ma, the Almighty protect him.

سلسامہ salma, P. *n. m.* A band of embroidery. سلسامہ ستارا—sitára, *n. m.* A kind of embroidery consisting of small stars between embroidered band. [to prick.

سلسانا salná, सलना, H. *v.* To pierce ; to perforate ;

سلساروی silwái, सिलवाई, H. *n. f.* The price of sewing ; See سلسائی silái. [forating.

سلساروی salwái, सलवाई, H. *n. f.* The cost of per-
سلساروت salwat, P. *n. f.* Patient endurance ; content ; solace ; cheerfulness ; tranquillity.

سلساروتی salotrí, सलोटरी, H. *n. m.* A veterinary surgeon.

سلسارک sulúk, A. *n. m.* Road ; way ; manner ; mode ; intercourse ; usage ; treatment. سلسارک سے رہنا—se rahná, *v.* to live on good terms. سلسارک کرنا—karná, *v.* to treat ; to behave well ; to be at peace ; to treat kindly.

سلسارنا saloná, सलाना, H. *adj.* Salted ; seasoned ; beautiful ; frequent.

سلسارنہ salúno, सलूनो, H. *n. f.* A Hindu festival, observed in *Sáwan*, on which *rákhi*, is tied round the wrist.

سلسارونی saloní, सलानी, H. *adj.* Salted ; seasoned ; beautiful ; handsome.

سلساروی salwá, A. *n. m.* A quail ; honey.

سلسایی sillí, सिल्ली, H. *n. f.* Whetstone ; a block of stone ; a hone.

سلسایج salij, } H. *n. f.* Brother-
سلساہج salhaj, सलहज, (Col.) } in-law's wife.

سالیس salis, A. *adj.* Easy ; simple ; plain. سالیس نریس — navis *adj.* and *n. m.* writing a plain hand ; one who writes a plain hand.

سالیس selesh, سلیس, S. *n. m.* A pun ; a double meaning ; an equivoque in writing or speaking, as :—

کیکر پاکر تار، جامون فسلما آمیلا

سب کدم کچنار پیپل رتھ توت تھ

کیکر پاکر تار - جامون فسلما آملا

سب کدم کچنار پیپل رتھ توت تھ

(though it seems to be a catalogue of trees but it also means : " God has been kind, you obtained what you desired : adore his footsteps, silly woman, leave not your lover for a moment ").

سالیقہ salīqa, A. *n. m.* Observance of the rules of etiquette ; good disposition ; knack ; method ; skill. دار سالیقہ - dār, *adj.* well-mannered ; discreet. کی گفنگو — kī guftgū, *n. m.* polite conversation. سالیقہ مجلس — i-majlis, *n.* goodbreeding.

سالم salīm, A. *adj.* Perfect ; sound ; healthy ; mild. سالم الطبع — ul-taba', *adj.* mild ; gentle ; right minded ; affable.

سولیمان sulaimán, A. *n. prop.* Solomon.

سم sum, P. *n. m.* A hoof. سم لینا — lená, to pare the hoofs ; to trip ; to stumble (a horse).

سمamma, P. *n. m.* Poison ; venom.

سمآپت samápt, سماپت, S. *n. m.* Completion ; conclusion ; end ; *adj.* finished ; accomplished. سمآپت کرنا — karná, *v.* to complete ; to finish.

سماج samáj, سماج, S. *n. m.* A society ; congress ; assembly ; association ; meeting ; club.

ساماجی samáji, سماجی, H. *n. f.* Musicians who attend dancers.

ساماچار samáčár, سناچار, S. *n. m.* News ; tidings ; advice ; account of circumstances or health, &c. سماچار پتر — patr, *n. m.* a newspaper.

ساماھات samáhat, A. *n. f.* Liberality ; beneficence ; bountifulness.

ساماھ samadh, (سماधि, S.) H. *n. f.* The tomb of a *jogi*, particularly one who by religious motives submits to be buried alive ; an exercise of austerity among *jogis*, whereby they

are supposed to acquire the power of suspending the connection between the soul and body.

ساماٹ samát, A. *n. m.* Row ; series. [ecstasy.

ساماٹ samát, A. *n. m.* Hearing ; singing ; religious سماعت samá'at, A. *n. f.* The sense of hearing ; hearing (of a suit) ; cognizance. سماعت کرنا — karná *v.* to hear or try a suit ; to entertain or take cognizance of a complaint. مقدمہ قابل سماعت muqaddama qábil—, suit worthy or deserving of hearing ; cognizable.

ساما'ی samá'í, A. *adj.* What has been heard ; traditional : (in *Gran.*) irregular.

سامان samán, समान, H. *adj.* Equal ; similar ; like ; *n. m.* quality.

سامانا samáná, समाना, H. *v.* To be contained in ; to go into ; to take up room ; to fill or occupy space.

ساماوی samáwí, A. *adj.* Heavenly ; celestial.

ساما'ی samái, समई, H. *n. f.* Room ; space ; the act of containing anything (*gunjáish*) ; capability ; patience ; endurance ; forbearance.

سامبا sumbá, सुम्बा, H. *n. m.* A sponge ; a staff ; a ramrod.

سامباد sambád, सम्वाद, H. *n. m.* Discourse ; conversation ; communication

سامبات sambat, सम्बत, H. *n. m.* A year ; an era.

سامباندھ sambandh, सम्बन्ध, H. *n. m.* Connection ; relationship ; alliance ; intercourse. سامباندھ کرنا — karná, *v.* to join ; to bind ; to affianc ; to link. سامباندھ رکھنا — rakhná, to have to do with ; to be connected with.

سامباندھی sambandhí, संबन्धी, H. *n. m.* A relative ; kinsman ; *adj.* connected with ; belonging to ; adjunct ; inherent.

سامباھالنا sambhálná, भंालना, H. *v.* To support ; to sustain ; to hold up ; to shield ; to protect ; to restrain ; to repress.

سامبھاوان sam-bhávan, सम्भावन, S. *m.* } Adequacy ;
سامبھاوانا sam-bhávana, सम्भावना, S. *f.* } competency ; ability ; possibility ; probability ; likelihood ; love ; honour.

سامپت sampat, सम्पत, H. *n. f.* Wealth ; riches ; prosperity ; affluence.

سمپورن sampúran, सम्पूर्ण, H. *adj.* All ; the whole ; perfect ; full. سمپورن کرنا—karná, *v.* to complete ; to finish. سمپورن ہونا—honá, *v.* to be completed or finished.

سمت simt, A. *n. f.* Side ; direction ; way ; path ; quarter ; towards. سمت الراس—ul-rás, *n. m.* The vertical point in the heaven ; the Zenith. سمت القدم—ul-qadam, the Nadir.

سمت simat, سيمت, H. *n. f.* The act of shrinking or condensing ; contracting ; shrivelling ; shrinking. سمیت جانا—jáná, *v.* to shrink ; to contract. [wrinkle.

سمتن simtan, سيمتن, H. *n. f.* A crease ; crumple ; سمیتنا simatna, *v.* To shrink ; to be contracted ; to be drawn together ; to be crumpled up ; to shrivel.

سمجھہ samajh, समझ, H. *n. f.* Understanding ; comprehension ; knowledge ; sense ; discernment ; conception ; opinion. سمجھہ آنا—áná, *v.* to get sense or understanding ; to attain to years of discretion. سمجھدار—dár, *adj.* wise ; sensible. سمجھہ میں آنا—men áná, *v.* to understand.

سمجھانا samjhána, समझाना, H. *v.* To cause to know or understand ; to give to understand ; to remonstrate with ; to explain ; to account for ; to instruct ; to advise ; to warn. سمجھانا—bujhána, *v.* to advise ; to admonish.

سمجھنا samajhná, समझना, H. *v.* To understand ; to comprehend ; to suppose ; to consider ; to know ; to retaliate ; to come to an understanding with.

سمدر samudra, समुद्र, S. *n. m.* Sea ; ocean.

سمدم sum-dum, P. *adj.* Very corpulent.

سمدھن samdhin, समधिन, H. *n. f.* The mothers of a bride and bridegroom ; child's mother-in-law.

سمدھی samdhí, समधी, H. *n. f.* The fathers of a bride and bridegroom ; child's father-in-law.

سمدھیانا samdhíyána, समधियाना, H. *n. m.* The respective parental homes of a wedded pair.

سمر samar, A. *n. m.* Conversation by night ; a vestibule ; an adventure befalling anyone.

سمسم samsam, A. *n. m.* A fox.

سمشان smashán, स्मशान, S. *n. m.* A place where dead bodies are burnt.

سمع sama', A. *n. m.* Hearing ; the ear.

سمک samak, A. *n. m.* Height ; profundity ; depth ; extent from top to bottom of anything ; the fish on which the earth is supposed to rest ; the sign Pisces of the Zodiac.

سمان saman, समन, (Col.) H. *n. m.* (corr. fr. English) Summons.

سمن saman, P. *n. m.* Jasmine.

سمند samand, P. *n. m.* A horse of high breed ; a steed ; a chestnut horse.

سمندر samundar, P. *n. m.* A sea ; an ocean. سمندر پھل—phal, *n. m.* a medicine. سمندر پھین—phen, *n. m.* the foam of the sea. سمندر سوکھہ—sokh, *n. m.* medicinal plant. سمندر کھار—khar, *n. m.* arsenic.

سموچھا samúchá, समूचा, H. *adj.* Entire ; whole ; unbroken.

سمور samúr, A. *n. m.* A sable ; sable-skin.

سموسہ samosa, P. *n. m.* A small three cornered pastry of minced meat. سموسہ ورقی—warqi, a species of puff or pie with a crisp short crust or with fine layers of crust.

سموم samúm, A. *n. f.* A hot pestilential wind ; the simoom.

سمونا samoná, समोना (Col.) H. *v.* To mix cool water with warm water.

سمی samí, A. *n. m.* A namesake.

سمایہ samaya, समय, H. *n. m.* Time ; season ; opportunity ; period. [with.

سمیت samet, समेत, H. *adj.* Together with ; along سمیت samet, समेट, H. *n. f.* Contraction ; a stringent.

سمیتنا sameṭná, समेटना, H. *v.* To collect ; to contract ; to finish ; to roll together ; to fold up ; to wrap up ; to rake together ; to crumple up ; to compress ; to accumulate ; to amass ; to hoard.

سمیرہ sumerú, सुमेरु, S. *n. m.* The sacred mountain Meru, allegorically represented as composed of gold and gems, and the residence

of the gods ; the north pole ; the large bead in a rosary. [fed.]

سمن samín, A. *adj.* Fat ; plump ; sleek ; well-

سن sin, A. *n. m.* Tooth ; year ; age. سن بلرنتا

i-bulúgat, *n. m.* age of puberty ; mature age.

سن تمیز i-tamíz, *n. m.* age or year of discretion, سن رسیدہ rasídah, *adj.* of advanced age ; old. سن کم kam —, *adj.* young ; juvenile.

سن san, سن, H. *n. m.* Flex ; hemp.

سن san, سن, H. *n. f.* A rustle ; whistle ; whiz. سن سے جی ہو جانا —se jí ho jáná, to be struck dumb. سن سے نکل جانا —se níkal jáná, to pass quickly.

سن sun, A. *adj.* Without sensation ; quiet, palsied ; struck dumb ; still as death. سن سان —sán, desolate and silent ; void ; dreary. سن کرنے والا —honá, *v.* to be benumbed. سن کرنے والا —karne walá (*Med.*) a narcotic.

سن sunná, سنا, } H. *n. m.* A cypher ; a blank ;
سن sun. } a vacuum ; a nought.

سن sunná, (سونا), H. *v.* To hear ; to listen ; to attend to. سن پانا —páná, *v.* to come to know. سن لینا —lená, *v.* to hear. سننا انسا کرنا —ansuná karná, *v.* to pretend not to hear ; to turn a deaf ear ; to disregard. سننی سنائی suní sunái, what one has heard ; hearsay ; rumour. سننا saná, A. *n. m.* The common senna of medicine ; *Cassia senna*.

سناتن sanátan, سنااتن, H. *adj.* Eternal. سناتن سے —se, *adv.* from time immemorial.

سناتا sannatá, سنااتا, H. *n. m.* The roaring of waves ; the rumbling noise made by wind or a train at a distance ; stillness ; a howling ; wilderness ; a stunning blow or shock. سناتا بیتنا —bítaná, to receive a shock ; to be terror-stricken ; to fall into swoon. سناتے میں رہ جانا —sannáte meñ rah jáná, to be struck motionless with terror or astonishment ; *adv.* still ; silent ; dreary. [worker in gold.]

سنار sunár, سناار, H. *n. m.* A goldsmith ; a

سنارنی sunární, سناارنی, H. *n. f.* The wife of a goldsmith.

سناری sunárí, سنااری, H. *n. f.* The business of a goldsmith.

سن sinán, A. *n. f.* The point (of a spear, arrow, &c.) ; spear head.

سن sunáná, سناانا, H. *v.* (*Caus.* of سننا sunná). To cause to hear ; to tell ; to speak at ; to proclaim ; to announce ; to say or repeat a lesson. سننے والا sunánewálá, *n.* informant ; herald ; preacher.

سنبل sumbul, P. *n. m.* Spikenard ; the hyacinth. سنبلستان —stán, *n. m.* hyacinth garden

سنبل sumbul, A. *n. m.* A flower. [Zodiac.]

سنبالہ sumbalah, P. *n. m.* The sign Virgo of the سنبالہنا sanbhálná, سبمالنا, H. *v.* To support ; to help ; to hold up ; to manage ; to take care. سنبالہنے والا sambhálnewálá, a supporter.

سنبالہنا sanbhálná, سبمالنا, H. *v.* To be supported ; to be firm ; to stand ; to recover one's self from a fall, &c.

سنپیرا sappera, سبپیرا, H. *n. m.* A snake-keeper.

سنت sant, سنت, H. *n. m.* A devotee ; saint ; *adj.* virtuous ; pious ; right ; steady ; venerable.

سنت sunnat, A. *n. f.* A religious ceremony ; circumcision ; ordinance of religion ; rite ; the traditions of Mohammed. سنت کرنا —karná, *v.* to circumcise.

سنتان santán, سنتان, S. *n. m.* Children ; offspring.

سنتری santárí, سنتری, H. *n. m.* Sentinel.

سنتوکھہ santokh, سنتوہ, H. *n. m.* Contentment ; satisfaction ; patience ; gratification. سنتوکھہ کرنا —karná, *v.* to be patient or contented.

سنتوکھی santokhí, سنتوہی, H. *adj.* Contented ; patient. [instead.]

سنتی santi, سنتی, H. *n. m.* A substitute ; *adv.*

سنتی sanṭí, سنتی, H. *n. f.* A twig ; a stick ; a cane ; a switch.

سنج sanj, P. *part.* and *n. m.* Weighing ; measuring ; measurer ; examiner ; (*used as last member of comp.*) as : سنج نغمہ nagma—, a musician. سنج سنجن suñhan—, a weigher of words ; an orator ; a poet. [squirrel.]

سنجاب sanjáb, P. *n. f.* Ermine ; the grey

سنجاب sanjáf, P. *n. f.* Border ; hem ; fringe ; frill ; edge. سنجاف لگانا —lagáná, *v.* to tack on a border of frill.

سجافی sanjáfí, A. *adj.* Having a border ; fringed.

سجھا sanjhá, संज्ञा, H. *n. f.* Evening. سجھا سجھا کرنا—batti karná, *v.* to light a lamp. سجھا سجھا ہونا—phúlhná, *n.* evening twilight to come on. سجھی سئی sai—, early in the evening (*sar-i-shám*).

سججوج sanjog, संयोग, H. *n. m.* (S. संयोग) conjunction ; junction ; union ; contact ; combination ; association. Hap ; luck.

سجھلا sanjhlá, संभला, H. *adv.* Of the third rank or degree ; *n.* the third of four brothers.

سججیدگی sanjidgi, P. *n. f.* Gravity ; seriousness ; solemnity.

سججیدہ sanjidah, P. *adj.* Grave ; serious ; weighty ; considerate.

سند sanad, A. *n. f.* A grant ; a warrant ; a charter ; a certificate ; a credential ; a testimonial ; a diploma ; a deed ; a document ; a precedent ; reliance. سند کار گزاری—i-kár-guzári, a certificate of one's services. سند لانا—láná, to quote a precedent. سند معافی—i-mu'áfí, rent-free grant. سند یافتہ—yáfta, chartered ; certificated ; accredited.

سندان sindán, P. *n. f.* An anvil.

سندر sundar, सुन्दर, S. *adj.* Handsome ; beautiful ; pretty ; good.

سندرتا sundartá, सुन्दरता, S. } *n. f.* Beauty ;
سندرتائی sundartái, सुन्दरताई, H } handsomeness ;
elegance ; gracefulness. [milion.

سندور sandúr, सन्दूर, H. *n. m.* Red lead ; ver-
سندھ sindh, सिन्ध, H. *n. m.* The river Indus ;
a musical mode or *rágni*.

سندھیا sandhyá, सन्ध्या, S. *n. f.* Twilight ; the
religious worship performed at sunrise and
sunset, and also at noon.

سندیس sandes, संदेश, } H. *n. m.* A message ;
سندیسا sandesa, } tidings ; information.

سندیسپی sandesí, संदेशी, H. *n. m.* A messenger.

سندیہہ san'eh, संदेह, H. *n. m.* Suspicion ; doubt ;
grief ; anxiety ; hesitation. سندیہہ کرنا—karná,
v. to doubt.

سندیہی sandehí, संदेही, H. *adj.* Doubtful ; suspi-
cious.

سندا sandá, संडा, H. *adj.* Stout ; strong ; big ;
fat. سندا مسندا—musandá, *adj.* well-developed ;
fat ; plump ; stout

سنداس sandás, संडास, H. *n. m.* A necessary ; a
water-closet (opening into the streets) ; a
sink ; a latrine.

سندسی sandsí, संदसी, } H. *n. f.* Pincers used to
سندسی سندسی sandrsí, } take down heated cooking
vessels from an oven ; a sect of Hindu *fugirs*,
who carry a large forceps with them.

سندسار sansár, संसार, H. *n. m.* The world ; the
universe ; mundane existence.

سندساری sansárí, संसारी, H. *adj.* Worldly.

سندسان sunsán, सुनसान, H. *adj.* Still ; silent ;
lonely ; dreary.

سندسکرت sanskrit, संस्कृत, S. *n. f.* The sacred and
classical language of the Hindus.

سندسانا sansanána, सनसनाना, H. *v.* To rustle ; to
tingle ; to faint ; to simmer ; to feel a
tingling sensation ; to whiz ; to hiss.

سندسناہٹ sansanáhat, सनसनाहट, H. *n. f.* Sim-
mering ; twinkling ; fainting ; ringing ;
jingling. [tion

سندسانی sansaní, सनसनी, H. *n. f.* Tingling sensa-
سندسی sansí, सन्ती, H. *n. f.* Spanner ; a screwkey ;
pincers ; forceps. [fancy.

سنگ sanak, सनक, H. *n. f.* Whim ; frenzy ;

سنگا sanká, संका, S. *n. f.* Fear ; doubt ; suspicion.

سنگار sadkár संकार, H. *n. f.* A sign ; nod ; wink ;
halloo ; beckoning. سنگارنا—ná, *v. t.*, to
make signal ; to wink, to beckon.

سنگاٹ sankat, संकट, H. *n. m.* Misfortune ; trouble ;
pain ; distress ; agony ; difficulty ; anguish.

سنگرانت sankrant, संक्रांत, H. *n. f.* The passage
of the sun or planetary bodies from one
sign into another ; the sun's entering into a
new sign ; name of a Hindu festival.

سنگال sankal, संकल, H. *n. f.* A chain ; a fetter ; a
link.

سنگالپ sankalp, संकल्प, S. *n. m.* A solemn vow or
purpose ; a charitable donation. سنگالپ کرنا—
karná, *v.* to give alms in fulfilment of a
religious vow ; to make a grant.

سنګا sinakná, सिनकना, H. *v.* To blow the nose.
 سنګا sanakná, सनकना, H. *v.* To become tipsy ;
 to be deranged.
 سنګوچ sankoch, संकोच S. *n. m.* Shame ; bashful-
 ness ; diffidence ; reserve ; backwardness.
 سنګوچی sankochí, संकोची, S. *adj.* Bashful ;
 reserved ; diffident.
 سنګه sankh, H. *n. m.* A conch used by Hindus
 in worship ; a shell ; ten or a hundred billions
 سنګه بجانا —bajáná, *v.* to blow a conch or
 shell.
 سنګھییا sankhiyá, संख्या, H. *n. f.* A kind of
 poison ; arsenic (*Samm-ul-fár*).
 سنګھییا sangkhiyá, संख्या, S. *n. f.* A sum ; a number ;
 numeral. [engagement.
 سنګیت sanket, संकेत, S. *n. m.* Sign ; gesture ;
 سنګ sang, P. *n. m.* A stone ; weight. سنګ اسود
 —i aswad, the black stone in the Ka'ba of
 Mecca سنګ باران —i-bárán, shower of stones ;
 pelting with stones. سنګ پشت —pusht,
n. m. a tortoise ; a turtle. سنګ تراش —
 tarásh, *n. m.* a stone-cutter. سنګ تراشی —
 taráshí, *n. f.* sculpture. سنګترة —tara, *n. m.* a
 kind of orange. سنګ جراحات —i-jaráhat, *n. f.*
 a species of stalactite. سنګ خارا —i-khárá, *n. m.*
 a hard stone ; flint. سنګ خواره —khwára, *n.* a
 kind of bird. سنګدانه —dána, *n. m.* the gizzard.
 سنګدل —dil, *adj.* cruel ; hard-hearted سنګدلی
 —dill, *n. f.* hard-heartedness, cruelty. سنګریزه
 —reza, *n. m.* gravel ; pebble سنګسار —sár, *n. m.*
 stoning to death. سنګسار کرنا —sár karná, *v.*
 to stone to death. سنګ ساز —sáz, *n. m.* one
 who makes correction on the lithographic
 stone. سنګ سرخ —i-surkb, *n. m.* red stone
 سنګ سلیمانی —surma, *n. m.* antimony. سنګ سمره
 —i-sulaimáni, *n. m.* agate ; onyx سنګ سوزان —
 i-samáq, *n. m.* prophyry. سنګلاخ —lakh, *adj.*
 stony ; rocky. سنګ مائة —i-masána, *n. m.*
 stone in the bladder ; calculus. سنګ مرمر —
 i-marmar, *n. m.* marble. سنګ مقناطیس —
 miqnátís, *n. m.* the loadstone. سنګ مرسی —
 músá, *n. m.* a black stone. سنګ یشب —i-yashab,
n. m. a kind of jasper or agate.
 سنګ sang, संग, H. *adv.* Along with ; side by
 side ; in company with ; conjointly ; *n. m.*
 association ; company ; union. سنګ جانا —jáná,

v. to accompany. سنګ کرنا —karná, *v.* to accom-
 pany سنګ چھوڑنا —chhozná, to leave one's
 company ; to withdraw from. سنګ اک لینا —
 lag lená, *v.* to follow one. سنګ لینا —lená, *v.*
 to take part ; to get into one's company.
 سنګاتی saggátí, संगती, H. *n. m.* A companion ;
 a comrade ; an associate ; a consort.
 سنګار sigár, सिंगार, H. *n. m.* Dress ; decora-
 tion ; embellishment ; toilet. سنګار آئینه —áina,
n. m. toiletglass. سنګار دان —dán, *n. m.* a
 dressing case ; toilet. سنګار رس —ras, *n. m.*
 one of the nine *ras*, or poetic sentiments.
 سنګار کرنا —karná, *v.* to adorn, to dress. سنګار
 سولہ —solah—, *n. m.* sixteen appliances of a woman's
 toilet سنګار میز —mez, toilet table.
 سنګارنا singárná, सिंगारना, H. *v.* To adorn ; to
 decorate ; to dress.
 سنګت sangat, संगत, H. *n. f.* A company ; a
 society ; a party ; a place of worship. سنګت کرنا
 —karná, *v.* to keep company with ; to associate
 with.
 سنګتی sangati, संगति, H. *n. m.* A companion ; a
 comrade ; an associate.
 سنګرام sangráam, संग्राम, S. *n. m.* Battle ; war ;
 fighting ; scuffle.
 سنګره sangrah, संग्रह, S. *n. m.* A compilation ;
 a code ; bringing together.
 سنګم sanggam, संगम, H. *n. m.* Meeting ; union ;
 junction (of planets) ; confluence (of rivers).
 سنګن sungun, सुनगुन, H. *n. f.* Secret ; secret
 information ; spying. سنګن لینا —lená, to obtain
 secret information, to play the spy on.
 سنګه singh, सिंह, H. *n. m.* A lion ; the sign Leo ;
 a title among Hindus.
 سنګار sanghár, संहार, H. *n. m.* Slaughter ;
 destruction.
 سنګهارنا sanghárná, संहारना, H. *v.* To kill ; to
 consume ; to destroy.
 سنګھارا singhára, सिंघारा, H. *n. m.* Water
 chestnut ; water caltrops ; root of the
 esculent waterlily ; a handkerchief folded
 diagonally ; anything triangular.
 سنګھاسن singhósan, सिंहासन, H. *n. m.* A throne.
 سنګھاسن بیٹھانا —par biṭháná, *v.* to enthrone.

سنڱھانا *sunghána*, सुघाना, H. *v.* (*Caus. of súnghná*)
To cause to smell; to make one smell.

سنڱھني *sighní*, सिंहनी, H. *a. f.* A lioness.

سنڱي *sangí*, P. *adj.* Stony; made of stone.

سنڱي *sangí*, संगी, H. *n. m.* A companion; a comrade; *n. f.* a kind of silk cloth.

سنڱيا *sangyá*, सङ्गा, S. *n. f.* A noun.

سنڱيت *sangit*, सङ्गीत, S. *n. m.* The art of singing with music and dancing.

سنڱين *saggín*, P. *adj.* Stony; of stone; hard; solid; severe; closewoven; heavy; weighty; strong; thick; *n. f.* a bayonet. دل سنڱين—dil, hard-hearted. [heaviness.

سنڱيني *sangíní*, P. *n. f.* Solidity; hardness;

سنمڪڙي *sanmukh*, सन्मुख, H. *adj.* Before one's face; opposite; facing. کڙي سنمڪڙي—karná, *v.* to bring to face. وڙي سنمڪڙي—honá, *v.* to face.

سنوار *sanwár*, सँवार, H. *n. f.* Preparation; arrangement; amendment; correction; rectification.

سنوارنا *sanwárná*, सँवारना, H. *v.* To arrange; to dress; to adorn; to amend; to correct.

سنورنا *sanwarná*, सँवरना, H. *v.* To be arranged; to be dressed; to be amended; to suit; to come right again.

سنون *sanún*, A. *n. m.* Tooth-powder.

سنه *san*, A. *n. m.* Year; era. سنه چارس—julús, the year of accession to the throne. سنه دراس—rawáq, the current year. سنه عيسوي—'iswí, the Christian era. سنه هجري—hijri, the Muhammadan era.

سنهرا *sunehra*, sunahri, सुनहरा, सुनहरी H. *adj.* Golden; gilded; gold coloured. سنهرا پاني—pání, *n. m.* gilding; water or coating of gold.

سنني *sunní*, A. *n. m.* A sect of Muhammadans who revere equally the four successors of Muhammad. (چهار ياري *chahar yari*).

سنني *saní*, सनी, H. *n. f.* Hemp of finer quality than *san*.

سننياس *sannyás*, संन्यास, S. *n. m.* Abandonment of all worldly affections; profession of asceticism; the fourth religious order of Brahmans.

سننياسي *sannyási*, संन्यासी, S. *n. m.* A religious mendicant; an ascetic; Brahman of the 4th order or *ásram*.

سنيچار *saníchar*, सनीचर, (Col.) H. *n. m.* Saturday; the planet Saturn; (*Met.*) ill-luck; poverty; penury; *n.* a miser; a glutton. کسی کے سر پر آنا سنيچار *kisi ke sir par—áná*, to come under the influence of an evil star; the influence of Saturn to come upon the head of any one.

سنهه *saneh*, sneh, सनेह, स्नेह, H. *n. m.* Love; affection; tenderness.

سنههه *sanehí*, सनेही, H. *n. m.* Friend; lover; affectionate; loving. [basú, side by side.

سو *sú*, P. *n. f.* A side; part; direction. سو سو—

سو *sau*, सौ, H. *adj.* A hundred. سو سو—biswe, *adv.* certainly; in all probability.

سو سو—par—, cent per cent. سو کے سوا—ke sawá sai, twenty-five per cent.

سو *so*, सो, H. *pron.* That; he; she; it. *adv.* accordingly; thereupon; now; well; *conj.* therefore; hence; because of.

سويشي *swadeshí*, स्वदेशी, H. *a.* Of one's own country; home-made; country made.

سوا *sawá*, सवा, H. *adj.* One and a quarter.

سوا *suá*, सुआ, H. *n. m.* A parrot; a paroquet; a packing-needle; an ear of corn.

سوا *soá*, सोआ, H. *n. m.* Fennel.

سوا *siwá*, P. *adj.* More; additional; *prep.* besides; except; save; but; other than; over and above.

سواتي *swát*, swátí, स्वात, स्वाती, H. *n. f.* The star Arcturus; the fifteenth mansion of the moon. سوات بوند—búnd, *n.* a drop of rain which, falling into a shell, when the moon is in that mansion, becomes a pearl, but if it happens to fall into the mouth of a serpent it turns into poison, (according to the popular belief.)

سواد *sawád*, swád, स्वाद, H. *n. m.* Taste; relish; flavour; pleasure; *adj.* savoury; tasteful; delicious. سواد لگنا—lagná, *v.* to relish; to be tasteful. [of a city; reading; ability.

سواد *sawád*, A. *n. m.* Blackness; soot; environs

سوار siwár, सिवार, H. n. m. An aquatic plant ; green vegetation at the bottom of pools

سوار sawár, P. n. m. A rider ; a cavalryman ; a horseman ; a trooper ; *adj.* mounted ; tipsy. سوار سوار—honá, v. to ride.

سوارتهه suírath, स्वार्थ, H. n. m. Wish ; desire ; aim ; object ; self-interest. سوارتهه کزنا—karná, v. to bring into use. سوارتهه لگانا—lagáná, v. to spend usefully.

سوارتههی suárthi, स्वार्थी, H. *adj.* Selfish ; self-gratifying ; (خود غرض) *kuḍgaraz*.

سوارپی sawári, P. n. f. Riding ; carriage ; conveyance ; cavalcade ; horsemanship. سوارپی دینا—dená, to give one a ride or mount.

سوارک siwák, A. n. m. Rubbling the teeth ; tooth-stick (*datwan*) ; tooth-brush ; dentifrice.

سوارگت swágat, स्वागत, S. n. m. Welcome.

سوارل suál, A. n. m. Question ; query ; petition ; application ; begging ; request ; proposition ; problem. سوال چرح—jirah, cross-examination.

سوارل جواب—jawáb, question and answer. سوال کزنا—jawáb karná, v. to argue ; to discuss ; to plead. سوال حل کزنا—hal karná, v. to solve a question.

سوارل لخرانی سوال—khwáni, hearing an application ; entertaining a case or suit. سوال دینا—dená, to set a question : to make an application. سوال کزنا—karná, v. to question ; to ask ; to beg ; to request. (*Prov.*) سوال دیگر جواب دیگر—digar jawáb digar, cross purposes and crooked answers.

سوارل سوال siwálá, सिवाला, H. n. m. A temple ; Siva's temple.

سوارمی swámí, स्वामी, S. n. m. Master ; lord ; owner ; husband ; the head of a religious order.

سوارن swán, स्वान, H. n. m. A dog.

سوارنچ sawánch, A. n. m. (*Plu. of* سوارنچ) Accidents ; occurrences ; events. سوارنچ نگار—nigár, n. m. a news writer. سوارنچ عمری—'umri, n. f. the incidents of life ; biography.

سوارنگ swáng, स्वंग, H. n. m. Acting ; a play ; representation ; limitation. [mimic]

سوارنگی swángí, स्वंगी, H. n. m. An actor ; a

سوارناب siwánah, सीवा, H. n. m. A boundary of a

field or village ; limit ; landmark. سوارناب بندی—bandí, n. f. fixing the boundaries.

سوارناب suwáhá, स्वाहा, H. *adj.* Burnt to ashes. سوارناب کزنا—karná, v. to burn to ashes ; to put an end to ; to waste.

سوارنی sawání, सवाई, H. n. m. A title of the Rájá of Jaipur ; *adj.* a quarter more. سوارنی کا رسه—ká rassá, the name of the rope which is fastened at the top of a tent-pole.

سوارے siwáe, P. *prep.* Besides ; except ; without. *adj.* extra, n. f. extra collections or cesses.

سواریا sawáyá, सवाया, H. *adj.* One and a quarter. سواریا سوباس subás, सुवास, } S. n. m. A pleasant dwelling ; pleasant smell.

سواریا سوباس subas, } سواریا súbrá, सुब्रा, (Col.) H. n. m. Alloyed gold or silver.

سواریا سوبها sobhá, सोभा, H. n. f. Beauty ; splendour ; ornament ; decoration. سواریا مان—mán, *adj.* beautiful ; splendid.

سواریا سوبهاگیا saubhágya, सौभाग्य, S. n. m. Auspiciousness ; good fortune ; blessedness.

سواریا سوبها subháv, सुभाव, S. n. m. Innate disposition ; natural state ; nature ; quality.

سوارپ súp, सुप, H. n. m. A kind of winnowing basket ; a kind of wicker receptacle used for cleaning grain.

سوارپا سوبابینا súpábiná, सुपाबिना, H. n. m. A swallow.

سوارپن swapn, स्वप्न, S. n. m. Dream ; sleepiness ; vision.

سوارپ سوت saut, सौत, H. n. f. A co-wife ; a rival (when a man has two or more wives, each wife is *saut* to the other).

سوارپ سوت sút, सूत, H. n. m. Thread ; yarn ; cord ; filament ; a line ; a row ; a tendril $\frac{1}{15}$ of a

tasu. سوارپ باندهنا—bándhná, to stretch a cord for straight line ; to take aim.

سوارپ sot, } H. n. m. A spring ; a fountain ; a rivulet.

سوارپ سوت sotá, सोता, } سوارپ سوتک sútak, सूतक, H. n. m. Uncleanliness produced among all the members of a family by the birth of a child or by the death of a relative.

سوتنا sūtná, सूतना, H. *v.* To unsheathe; to strip the leaves of a branch; to drain; to bale out.
 سوتنہ swatantra, स्वतन्त्र, S. *adj.* Independent; obstinate; self-willed; absolute; free.

سوتھنی suthní, सुथनी, H. *n. f.* Trousers; an edible root.

سوتی sūti, *adj.* Made of cotton thread.

سوتیلا sautelá, सौतेला, H. *adj.* Belonging or relating to *saut*; sprung from a different wife.
 سوتیلہ بھائی bhái, *n. m.* a step-brother.

سوتیلی بہن sautelí bahin, *n. f.* step-sister.
 سوتیلی ماں sautelí mán, *n. f.* a step-mother.

سوجا sújá, सूजा, H. *n. m.* A borer; a gimlet; an anger; an awl. [tion.

سوجن sújan, सूजन, H. *n. f.* Swelling; inflammation.
 سوجنا sújáná, सूजना, H. *v.* To swell; to rise; to be puffed out; to look sulky (the face).

سوجھنا sújhná, सूजना, H. *v.* To be visible; to be seen; to appear; to be perceptible; to look.

سوجی sújí, सूजी, H. *n. f.* A needle; a tailor; *n. f.* the granulated portion of flour ground from the heart of the wheat; coarsely ground flour.

سوچ soch, सोच, H. *n. m.* Thought; reflection; consideration; meditation; anxiety; grief; reverie; imagination; idea; notice; sorrow; regret.
 سوچ بچار bichár, consideration.

سوچا میں رہنا soch meñ rahná, *v.* to be absorbed in thought; to muse.

سوچنا sochná, सोचना, H. *v.* To consider; to think; to meditate; to imagine; to ponder; to observe; to mind; to advert; to regret.

سوخی پتر súchípatr, सूचीपत्र, S. *n. m.* An index; a table of contents.

سوخت soḵht, P. *n. f.* Burning; a revoke at cards.

سوختگی soḵhtagi, P. *n. f.* Burning; combustion; heart-burning.

سوختہ soḵhta, P. *adj.* Burnt; scorched; *n. m.* a slow-match; tinder; brand firewood; fuel
 سوختہ دل یا جان ján yá—dil, *adj.* grieved; heart-sore.

سود sūd, P. *n. m.* Profit; gain; interest.
 سود پر دینا par —baḵḵah, profit and loss.

سود پر لینا dená, *v.* to lend money on interest.
 —par lena, *v.* to borrow money at interest.

سود خور khor, *n. m.* usurer.
 سود خوری khorí, *n. f.* usury.

سود در سود dar sūd, *n. m.* compound interest.

سود کھانا kháná, *v.* to take interest.
 سود لگانا lagáná, *v.* to calculate interest; to charge interest.

سود مند mand, useful; advantageous; profitable; beneficial.
 سود بے be—, *adj.* fruitless.

سودی i, *adj.* at interest; borrowed.

سودا saudá, A. *n. m.* Love; desire; madness; melancholy; ambition.

سودا ہونا honá, to have a fit of madness.
 سودائی i, *adj.* mad; insane.

سوداوی saudáwi, *adj.* Melancholic; strabillious.

سوداوی مزاج ul-mizáj, of a melancholic temperament.

سودا P. *n. m.* Trade; marketing; bargain; goods; fruits.

سودا پٹنا paṭná, a bargain to be struck.
 سودا خریدنا یا لینا kharidná yá lená, *v.* to make purchases.

سودا کرنا karná, *v.* to settle a bargain.
 سوداگر gar, *n. m.* a merchant.

سوداگر بچہ gar bachcha, a young merchant.
 سوداگری garí, *n. f.* commerce; trade.

سوداگری کرنا garí karná, to trade.

سودر súdr, सूद्र, H. *n. m.* A person of the fourth or servile tribe among the Hindús.

سودہ sudah, P. *n. m.* Powder; *adj.* pounded; ground; dissolved.

سور sūr, सूर, H. *n. m.* A hero.

سور تہا —ta, *n. f.* heroism; valour.

سورما má, سورمان máñ, *adj.* brave; bold.

سور suar, सूअर, H. *n. m.* A hog; a term of abuse.

سور کا گوشت ká gosht, *n. m.* pork; ham; bacon.
 سور کا گھینٹا ká gheñṭá, *n. m.* a pig.

سوراخ sūrākh, P. *n. m.* Hole; orifice, passage; inlet.
 سوراخ دار dár, *adj.* perforated; porous.
 سوراخ کرنا karná, *v.* to make a hole; to bore.

سورت sūrat, A. *n. f.* A chapter or division of the Qurán; a sign; a vestige.

سورج sūraj, सूरज, H. *n. m.* The sun.
 سورج بٹسی bānsí, *n.* a race descended from the sun;
 the solar race.
 سورج گھن gahau, *n. m.* an

eclipse of the sun. سورج مکھی—mukhí, *n. f.*
the sun-flower ; a kind of fan or parasol.

سورداس súrdás, سرداس. *H. n. m.* Name of a
Hindu poet and singer who was blind ; hence,
a blind man.

سورگ swarg, स्वर्ग, *S. n. m.* Heaven ; Indra's
paradise and the residence of defied mortals
and the gods. [root.

سورن súran, सुरन, *H. n. m.* An edible tuberous

سورنجان súránján, *P. n. f.* Meadow-saffron ;
dog's bane.

سوز soz, *P. n. m.* Burning ; heart burning ;
passion ; inflammation ; a stanza of a *marsiya*
or elegiac poem ; *adj.* inflaming ; burning ;
exciting ; (*used as last member of compounds*),
as : سوز جگر jigar—, سوز دل dil—, heart rend-
ing, agonising. سوز خراب—khwáb, one who
chants a dirge. سوز گدار—gudáz, *n. m.* impas-
sioned style in poetry.

سوزان sozán, *P. adj.* Burning. [pain.

سوزش sozish, *P. n. f.* Burning ; inflammation ;

سوزن sozan, *P. n. f.* A needle.

سوزناک soznak, *P. adj.* Burning ; ardent.

سوزنده sozindah, *P. adj.* Burning, *n. m.* burner.

سوزنی sozní, *P. n. f.* A quilted cloth used as a
carpet ; tamboured work.

سوس sús, *A. n. m.* Liquorice.

سوس sús, सूस, *H. n. f.* A porpoise.

سوسمار súsmdr, सूसमार, *H. n. m.* A porpoise.

سوسن sosan, *P. n. f.* A lily ; the iris.

سوسنی sosní, *P. n. f.* A bluish colour ; *adj.*
purple.

سوسی súsí, सूसी, *H. n. f.* A kind of coarse cloth.

سوغات saugát, *P. n. f.* A rich present ; a rarity ;
a curiosity. [choice ; rare.

سوغاتی saugátí, *P. adj.* Fit for a present ;

سوفار sufár, *P. n. m.* and *f.* The notch of an
arrow ; the eye of a needle ; a small perfora-
tion.

سوکá súká, सूका, *H. n. m.* A four-anna piece.

سوکنا sukna } *H. v.* To dry ; to become
سوکھنا súkhná, सूखना, } emaciated ; to pine
away ; to wither ; to soak ; to absorb.

سوکھا súkhá, सूखा, *H. adj.* Dry ; shrivelled ;
withered ; juiceless ; thin ; *n. m.* drought ;
dry land ; *terra firma* ; consumption ; a dry
year. خشک سالی khushksáli) ; dry tobacco
eaten with betel-leaf. سوکھا پڑنا—paṛná, *v.*
to occur drought. سوکھا جواب—jawáb, *n. m.*
a flat refusal.

سوک sog, (सोक), *S. n. m.* Grief ; sorrow ; mourn-
ing. سوک کرنا یا منانا—karná yá manáná, *v.*
to mourn.

سوکند saugand, सोगन्द, (Col.) *H. n. f.* An oath.
سوگند دینا—dená, to administer an oath.
سوگند کھانا—khnána, *v.* to swear ; to take an oath.
سوگند کھلانا—khláná, *v.* to administer an oath.

سوگوار sogwár, *P. adj.* Sorrowful ; afflicted ;
mourning.

سوگوارى sogwári, *P. n. f.* Affliction ; mourning.

سوگی sogí, *P. adj.* Afflicted ; sorrowful.

سول súl, सूल, *H. n. m.* A thorn ; a spike ; dart ;
point of a spear ; stomach-ache ; colic pain.
سول سی لگنا—sí lagná, *v.* to prick.

سولہ solah, सोलह, *H. adj.* Sixteen.

سولہواں solahwán, सोलहवाँ, *H. adj.* Sixteenth.

سولہوی solahí, सोलही, *H. n. m.* A game played
with sixteen *kaurís* ; the sixteen *kaurís*, with
which the game is played.

سولی súlí, सूली, *H. n. f.* An impaling stake ; a
bet ; danger. سولی چڑھانا یا دینا—chaṛháná yá
dená, *v.* to impale ; to hang. سولی چڑھانوالا یا
دینوالا—chaṛhánawálá yá denewálá, *n. m.* one
who impales ; a hangman.

سوم súm, सूम, *H. n. m.* A miser ; a niggard.
سوم پن—pan, *n. m.* niggardliness.

سوم som, सोम, *S. n. m.* The moon ; Monday.

سوموار wár, *n. m.* Monday.

سومناٹھ somnâth, *P. n. prop.* Name of an
ancient idol-temple in Gujrat which was
sacked by Mahmud Ghaznavi.

سون son, सौ, *H. n. f.* An oath.

سون sún, सून, *H. n. f.* Silence ; stillness ; quiet.

سونá soná, सोना, *H. n. m.* Gold (*Met.*) ; riches ;
wealth ; bullion. سونے کا پانی—ká pání,
gilding. سونے کا نرالا—ká níwálá, an expensive

banquet. سونے کا ورق —ka warq, gold leaf.
 چڑیا سونے کی چڑیا —ki chiriyá, a rich or wealthy
 person; a high price. سون ماکھی —
 makhí, son makhí, n. f. goldstone; marcasite.
 سونا گھنگھار —suhág, dry ginger.

سونا لینے پی گئے سونا کر گئے دیس
 سونا ملا نہ پی پھرے روپا ہو گئے کیس

Soná lene pí gae súná kar gae des
 Soná milá na pí phire rupá hó gae kes.

My husband went to earn gold, and left the
 house desolate; he found not gold or (I could
 not sleep), my husband returned not, my hair
 became silver.

سونا soná, سونا, H. v. i. To sleep; to lie down.

سونا súná, سنا, H. adj. Empty; void; unoccu-
 pied; desolate.

سونپنا sauppná, سونپنا, H. v. To deliver over; to
 commit; to charge; consign; to entrust.

سونتانا súntná, H. v. To strip leaves off
 vegetables; to draw (a sword).

سونت súnt, H. n. f. Silence. سونت مارنا —márná,
 to be silent.

سونتا sonṭá, سوتا H. n. m. A club; a mace;
 a cudgel; a pestle.

سونتا بردار sonṭá bardár, سوتا بردار, H. n. m. A
 mace-bearer; a staff-bearer.

سونتھ sonṭh, n. f. Dry ginger; a miser.

سوندھا sonḍhá, سونھا, H. adj. Sweet-smelling,
 like a new earthen vessel when first wetted;
 smelling like parched pulse.

سوندھنا saundhná, sonḍhná, سونھنا, S. v. To
 rub cloth in mud preparatory to washing; to
 mix; to smear; to daub; to knead; to wash
 out; to rinse.

سوندھی sonḍhí, سونھی, H. adj. Smelling like new
 earth; n. f. Fuller's earth; the wash or
 alkali (reh) in which washermen steep clothes.

سونڈا súṅḍ, سونڈا, H. n. f. Proboscis of an elephant
 سونڈا } H. n. m. A pack-saddle; a
 سونڈی } weevil.

سونڈی súṅḍí, سونڈی, H. n. m. A distiller and
 vendor of spirituous liquor.

سونس súṅs, سونس, H. n. m. A propoise.

سونف saunf, سونف, H. n. f. Anise seed. سونف کا
 پانی —ká 'arq, n. m. (in Med.) anise water.

سونگھا sūṅghá, سونھا, H. n. m. A stanch hound;
 a person employed in Maharatta armies, who
 is said to be able to discover hidden treasure
 or grain, &c., by the smell of the earth

سونگھنا sūṅghná, سونھنا, H. a. To smell.

سونگھنی sūṅhní, سونھنی, H. n. f. Snuff.

سونھ sonh, سونھ, H. n. f. An oath. سونھ
 کھانا —kháná, v. to swear.

سونھلا sonahlá, سونھلا, H. adj. Golden. سونھلا
 پانی —pání, n. m. gilding; gilt (soné ká páni.)

سونھا súhí, سونھا, H. adj. n. m. Red; crimson;
 saffron-coloured.

سونھگا sohágá, سونھگا, H. n. m. Borax.

سونھن sohan, P. n. f. A file; a whetstone.

سونھن sohan, سونھن, H. adj. Pleasing; charming;
 n. a friend.

سونھنا sohná, سونھنا, (Col.) H. v. To look beauti-
 ful or graceful; to suit.

سونھنی sohíní, سونھنی, H. adj. Charming; pleas-
 ing; n. f. a broom; a musical mode or rdgni.

سونی súl, سونے, H. n. f. A needle; the hand
 of a watch or clock; the pointer of a compass,
 &c., tongue of a balance. سونے پورنا —pironá,
 v. to thread a needle.

سونے کے ناکے سے خدائی کا ناکا —ká náká, n. m.
 the eye of a needle. سونے کے ناکے سے خدائی کو
 نیکالنا —ke náke se khudái ko nikálná, to per-
 form wonders; to achieve impossibilities; to
 make a camel pass through the eye of a
 needle.

تھا کام یہ تیرا ہی خدایند تعالیٰ
 لا سونے کے ناکے سے خدائی کو نیکالا

(ہدایت)

Thá kám yih Terá hi Khudáwand Ta'ála,
 Lá súl ke náke se khudái ko nikála.

It was thy work, O Almighty, to draw the
 universe through the eye of a needle.

سوے sue, P. n. f. Side; direction.

سواویا sawaiyá, سواویا, H. n. m. The multiplica-
 tion table of one and one-fourth time; a
 weight of one and one-fourth seer.

سويا suwayá, सुवेया, H. n. m. A sleeper.
 سويا soyá, सोया, H. n. m. Fennel.
 سويا siwaiyá, सिवैयाँ, H. n. f. Vermicelli.
 سويدا suwaidá, A. adj. Blackish. سويداے قلب—i-
 qalb, the black part or grain of the heart;
 the heart's core; original sin.
 سویر sawer, सवेर, H. adj. Early; soon.
 سویرا sawerá, सवेरा, H. n. m. Morning; dawn.
 سویرا هونا —honá, v. to break (the day); to dawn.
 سویرے sawere, सवेरे, H. adv. Early in the
 morning.
 سویرم soyam, P. adj. Third. [one's self.
 سویرم swayam, स्वयम्, स्वयं, S. reflex. pron. Self;
 سویرم suembor, स्वयंबर, S. n. m. The public
 election of a husband by a prince or a lady
 of high rank from among a number of as-
 sembled suitors.
 سه seh, P. adj. Three. سه بندی—bandí, n. m. a
 militia soldier, employed in collecting reve-
 nue; quarterly payment; a tribute. سه پایه—
 páya, n. m. a tripod. سه پھر—pahar, n. m.
 afternoon. سه پہل—pahal, adj. trilateral. سه چند
 —chand, adj. of three-fold; three-times.
 سه حرفی—harfí, adj. of three letters; trilateral.
 سه دره—dara, n. m. a three doored hall. سه ساله
 —sála, adj. triennial. سه شامہ—shamha, n. m.
 Tuesday. سه فصله—fasla, adj. yielding three
 crops. سه کرر—karrar, adj. third time. سه گوشه
 —gosha, adj. triangular. سه ماہی—máhi, adj.
 quarterly. سه منزله—manzila, adj. three-
 storied (a house, &c.)
 سهاتا subátá, सुहाता, H. adj. Agreeable; pleasant;
 luke werm (water).
 سهارا sahará, सहारा, H. n. m. A support; prop;
 reliance; help; assistance. سهارا دینا یا لگانا
 —dená yá lagáná, v. to support; to help; to
 assist. سهارا کرنا —karná, v. to abet; to lean
 against; to support.
 سهاگ saháq, सुहाग, H. n. m. Auspiciousness;
 good fortune; love; affection; the conjugal
 state; a marriage song; a certain ornament
 worn by a wife as a sign that her husband
 is living. سهاگ پتارا—pitára, n. m. a basket
 containing cosmetics, comb, bangles, &c.

presented by the bridegroom to the bride.
 سهاگ کرنا —utarná, v. to become a widow.
 سهاگن sahágan, सुहागन, H. n. f. A married
 woman whose husband is alive; a woman
 beloved by her husband.
 سهاگ sahálag, सहलग, H. n. m. The wedding
 season.
 سهام saháam, A. n. m. (Plu. of سهام). Portions or
 shares of inheritance.
 سهانا saháaná, } H. adj. Agreeable; charming;
 سهانوا saháwná, } pleasant; to be agreeable;
 to please.
 سهانا saháaná, P. n. m. A musical mode.
 سهار saháó, सहारो, H. n. m. Bearing; endurance.
 سهاء saháé, সহায়, H. n. m. Support; assistance;
 relief; adj. favourable; kind. سهاء کرنا—karná,
 v. to support; to help; to protect.
 سهاءت saháétá, সহায়তা, S. n. f. (See سهاء Saheá)
 Assistance.
 سهایک saháyak, সহায়ক, S. n. m. A helper; a
 supporter; a deliverer. adj. tributary.
 سهت sahit, सहित, H. prep. With. [adv. easily.
 سهج sahaj, সহজ, H. adj. Easy; not difficult;
 سهجنا sahajná, সহজনা, (Cal.) H. n. m. A tree
 the root of which supplies the place of
 horseradish.
 سهرا sehrá, S. n. m. A bridal chaplet, garland
 or wreath worn on the head by a bridegroom
 and bride.
 سهس sahas, सहस, H. adj. A thousand.
 سهسر sahasr, सहस्र, S. adj. A thousand.
 سهل sahl, A. adj. Easy; not difficult; simple;
 سهل کرنا—karná, v. to make easy; to facilitate;
 to simplify.
 سهلان sahláná, सहलानا, H. To strike; to rub
 gently; to tickle; to titillate.
 سهلاهت sahláhat, सहलाहت, H. n. f. Stroke; titil-
 lation; tickling.
 سهام saham, A. n. m. An arrow; a share; a
 portion; the segment of a circle; a versed
 side (of an arc).
 سهام sahm, P. n. m. Fear; dread. سهامات—nák,
 adj. frightened; terrified,

sahmána, सहमाना, H. *v.* To frighten.
 sahmna, सहमना, H. *v.* To be afraid; to fear.
 sahná, सहना, H. *v.* To bear; to suffer; to endure; to support; to be digested.
 sahnak, A. *n. f.* (*Plu.* صحنك) A plate; a dish [bearable].
 sahanhár, सहनहार, H. *adj.* Sufferable;
 sahv, A. *n. f.* An error; a mistake; fault; omission; oversight. *سہو القلم*—ul-qalam, a slip of the pen; oversight. *سہو کتاب*—i-kitáb, an error of the copyist; a clerical error.
 sahwan, A. *adj.* Erroneously; by mistake; inadvertently; by an oversight.
 sahodar सहोदर, S. *adj.* Born of the same mother; uterine.
 suhúlat, A. *n. f.* Ease; facility; gentleness; mildness; smoothness; softness.
 sahí, सही, H. *adj.* Let it be; very well; often added to the participle (تو to) as: *آؤ تو سہی*—áo to—, just come then; come if you dare. *سہی کھولو تو* kholo to—, pray open.
 sahí, P. *adj.* Straight; *n. f.* a straight cypress tree. [hand maid.
 sahelí, सहेली, H. *n. f.* A female friend;
 sahim, A. *adj.* Equal; even; *n. m.* A partner; an equal.
 sí, P. *adj.* Thirty.
 se, से, H. *prep.* With; by; from; of; at; since.
 sae, सये, H. *adj.* Hundred.
 saiyáh, A. *n. m.* A great traveller; an itinerant; *adj.* travelling; itinerant.
 siyáhat, } A. *n. f.* Travelling; journey;
 saiyáhi, } voyage; pilgrimage.
 siyádat, P. *n. f.* Ruling; governing dominion; rule.
 saiyár, A. *n. m.* A wanderer; a traveller; one travelling for amusement.
 siyár, सियार, H. *n. m.* A jackal.
 saiyárah, A. *n. m.* A planet.
 siyásat, A. *n. f.* Government; administration; management; chastisement; severity. *سیاست کرنا*—karná, *v.* to administer;

to punish; to chastise. *سیاست میں ہرنا*—mep honá, *v.* to be in pain. *سیاست مدن*—i-mudan, the art of government; civic economy.
 siyáq, A. *n. m.* Account-keeping; book-keeping.
 siyáqat, A. *n. f.* Driving; urging onward; stimulating.
 saiyál, A. *adj.* Flowing or running much.
 saiyálah, A. *n. m.* A torrent.
 syámá, स्यामा, H. *n. m.* The black cuckoo.
 syán, } सयान, H. *adj.* Wise; clever;
 syáná, } cunning; artful; knowing;
 arrived at years of discretion; grown-up;
n. m. a conjurer; a miser. *سیان پت یا سیان پن*—pat yá—pan, *n. f.* cleverness; cunning; niggardliness; conjuring.
 siyáh, P. *adj.* Black; dark; sombre; (*Met.*) unfortunate; bad. *سیاہ باطن*—bátin, *n. m.* a hypocrite. *سیاہ بخت*—bakht, *adv.* unlucky; unfortunate. *سیاہ بختی*—bakhti, *n. f.* misfortune. *سیاہ پوش*—posh, *adj.* dressed in black. *سیاہ تار*—tálú, *adj.* black-mouthed (horse). *سیاہ چشم*—chashm, *adj.* black eyed; unkind. *سیاہ دل*—dil *adj.* black-hearted. *سیاہ رو*—rú, *adj.* blackfaced; disgraced. *سیاہ طالعی*—tál'ái, *n. f.* misfortune. *سیاہ نام*—fám, *adj.* of black or dark complexion. *سیاہ کار*—kár, *adj.* sinful; wicked. *سیاہ کاری*—kári, *n. f.* black deeds; wickedness. *سیاہ کرنا*—karná, *v.* to blacken; to spoil; to take an account of. *سیاہ گوش*—gosh, *n. m.* A lynx; Felix caracal. *سیاہ مست*—must, *adj.* dead-drunk. *سیاہ مستی*—masti, *n. f.* excessive drunkenness.
 siyáhá, P. *n. m.* An account-book or written account. *سیاہا بچی*—bahí, *n. m.* the ledger or day-book in which daily receipts and disbursements are entered. *سیاہا کرنا*—karná, *v.* to enter; to register. *سیاہا نویس*—navis, *n. m.* an accountant.
 siyáhi, P. *n. f.* Blackness; darkness; ink; 'blacking. *سیاہی چٹ*—chat, *n. m.* blotting-paper.
 seb, P. *n. m.* An apple; *سیب فہقہب*—i-gabgab) (*Poet*) the chin.

سیپ *síp*, सीप, H. *n. f.* An oyster shell ; a shell ; a kind of mango.

سیپی *sípi*, सीपी, H. *n. f.* A shell.

سیت *sít*, सीठ, H. *n. f.* Cold ; chilliness ; moisture ; wetness. *سیت کال*—*kál*, *n. m.* the winter season.

سیتا *sítá*, सीता, S. *n. prop.* The daughter of Raja Janaka who was married to Rama. *سیتا پھل*—*phal*, *n. m.* the custard apple ; the sweet pumpkin.

سیتل *sítal*, सीतल, H. *adj.* Cold ; cool. *سیتل پائی* *sítal pái*, *n. f.* a kind of fine cool mat. *سیتل چینی*—*chíní*, *n. f.* a kind of spice.

سیتلا *sítla*, सीतला, H. *n. f.* Small-pox ; the goddess of small pox. *سیتلا کی پورٹی آنکھ*—*ki phúti ánk*h, an eye lost from small-pox. *سیتلا داغ*—*monh dag*, *adj.* pitted with small-pox.

سیتلتا *sítalta*, सीतलता, H. *n. f.* Coldness ; coolness ; gentleness ; mildness.

سیتنا *saitná yá setná*, सैतना, (Col.) H. *v.* To take care of ; to keep carefully.

سیتھ *seth*, सेठ, H. *n. m.* A rich banker ; a millionaire ; a capitalist ; a merchant ; a title.

سیتھا *síthá*, सीठा, H. *adj.* Tasteless ; insipid. *سیتھا پن*—*pan*, *n. m.* tastelessness.

سیتی *sítí*, सीटी, H. *n. f.* Whistling. *سیتی باز*—*báz*, *n. m.* a whistler. *سیتی بجانا*—*bajáná*, *v.* to whistle *سیتی بندھنا یا گم ہونا*—*bandhná yá gum honá*, *v.* to be distracted or confounded.

سیج *sej*, सेज, H. *n. f.* A bed ; a couch. *سیج بند*—*band*, *n. n.* cords for fastening bedding to a bedstead. [to lave.

سیچنا *síchná*, सीचना, H. *v.* To water ; to irrigate ;

سیچائی *síchnái*, H. *n. f.* Irrigation ; the cost of irrigation.

سین *síkh*, P. *n. f.* A spit ; a skewer ; any long thin piece of metal. *سین پر لگانا*—*par lagáná*, *v.* to roast. *سینھا کباب* *síkhya kabáb*, *n. m.* meat roasted on a spit.

سید *saiyid*, A. *n. m.* A lord ; prince ; chief ; a descendant of Muhammad through his daughter Fatima ; the first of the four classes into which Muhamamadans are divided.

سیدھ *sidh*, सीध, H. *n. f.* Straightness ; directness ; aim.

سیدھا *sídha*, सीधा, H. *adj.* Straight ; direct ; upright ; quiet ; gentle ; simple ; straightforward ; right ; easy ; *adv.* directly ; *n. m.* provision ; uncooked victuals. *سیدھا سادھا*—*sádhá*, simple ; artless. *سیدھا کرنا*—*karná*, *v.* to straighten ; to make straight. *سیدھا ہونا*—*honá*, *v.* to be straightened ; to be tamed.

سیدھا ئی *sidháí*, सीधाई, H. *n. f.* Straightness ; directness ; simplicity ; uprightness.

سیدھی *sidhí*, सीधी, H. *adj.* Straight. *سیدھی راہ سے* *سیدھی راہ سے*—*ráh se phirná*, *v.* to deviate from the right way. *سیدھی طرح*—*tarah*, *adv.* quietly ; fairly.

سیر *sair*, A. *n. f.* Perambulation ; excursion ; tour ; taking the air ; walk ; recreation ; perusal ; scene. *سیر کرنا*—*karná*, *v.* to take the air ; to walk ; to pursue ; to read. *سیر گاہ*—*gáh*, *n. f.* a place for recreation. *سیر و شکار*—*o-shikár* ; shooting and hunting.

سیر *siyar*, P. *n. f.* (*Plu. of سیرت Sirat*) Qualities ; moral disposition ; virtues.

سیر *ser*, P. *adj.* Full ; satiated ; sated ; tired. *سیر چشم*—*chashm*, *adj.* satisfied ; contented. *سیر ہونا*—*honá*, *v.* to be sated.

سیر *ser*, سير, H. *n. m.* A weight of 16 *chittaks*.

سیر *sír*, सीर, H. *n. f.* Land under the direct cultivation of the land-owner ; first-rate land ; *adv.* in partnership ; jointly.

سیرا *sírá*, सीरा, H. *n. m.* A sweetmeat made of meal and sugar.

سیراب *seráb*, P. *adj.* Full of water ; moist ; fresh ; blooming ; fertile. [succulence.

سیرابی *serábi*, P. *n. f.* Moistness ; freshness ;

سیرت *sírat*, A. *n. f.* Quality ; nature ; disposition ; character ; conduct.

سیرو *serú*, सेरू, } H. *n. m.* The head and foot
سیرو *seruá*, } pieces of a bed-frame.

سیری *serí*, P. *n. f.* Fullness ; satiety ; repletion.

سیرھی *sírhí*, सीढ़ी, H. *n. f.* A ladder ; a stair ; a step ; a degree. *سیرھی اگا کر چڑھنا*—*lagákar cháphná*, *v.* to climb by means of a ladder.

سیردہ *sezdah*, P. *adj.* Thirteen.

سیس sis, सीस, H. n. m. The head. سیس پھول—
phúl, n. m. an ornament for the head; a
husband. سیس کاٹنا—kátná, v. to behead.
سیس گوندھانا—gúndháná, v. to have the hair
braided. سیس نوانا—niwáná, v. to bow.

شیشناگ sheshnág, शेषनाग, H. n. m. (*Hindu
Myth.*) The king of the serpent race and of
the *pátdl* or lower regions.

سیف saif, A. n. f. Sword. سیف زبان—zabán, n.
m. one possessing effective spells; having a
tongue like a sword.

سیفہ saifa, P. n. m. A book-binder's knife. سیفہ
کرننا—karná, to cut the edges of the pages of
a book smooth and even.

سیفی saifi, A. n. f. Cursing; a rosary. سیفی
فیرنا—pherná, to count beads.

سیکڑا saikrú, सैकड़ा, H. n. m. A hundred; *adv.*
per cent.

سیکھہ sikh, सीख, H. n. f. Admonition; advice;
lesson. سیکھہ دینا—dená, v. to advise; to
admonish. سیکھہ لینا—lená, v. to take advice;
to learn from; to consult. سیکھہ ماننا—mánná,
to heed the advice of. [to master.

سیکھنا sikhná, सीखना, H. v. To learn; to acquire;
سیل síl, सील, H. n. m. Nature; disposition;
good conduct or disposition; humanity;
morality; virtue; steady and uniform ob-
servance of law and morals; contentment.
سیل ہونا—hóná, v. to be quiet, or modest or polite.

سیل síl, सील, H. n. f. Cold; damp; moisture.

سیلا sílá, सीला, H. *adj.* Damp; cool.

سیلا selá, सेला, (Col.) H. n. m. A kind of sheet
constituting a part of dress, especially worn
and given as presents in the Deccan; a silk
turban.

سیلاب sailáb, A. n. m. A flood; a torrent inun-
dation; deluge; stream. [tion; a flood.

سیلابی sailabí, P. n. f. Land liable to inunda-
سیلابی sailání, सैलानी, H. *adj.* Fond of walking;
wandering. [steatites.

سیلکھاری silkharí, सिलखरी, H. n. f. A species of

سیلی sailí, P. n. f. A blow with the edge of
the open hand on the neck; a slap; a cuff;
a necklace.

سیم sím, P. n. m. Silver. سیم تن—tan, *adj.*
silver bodied; with a body fair as silver.

سیم sem, सेम, H. n. f. The flat or broad bean.

سیمá, P. n. m. The forehead; face;
countenance; aspect; similitude.

سیمá' सीमा, H. n. f. Boundary; limit;
extremity; confines; landmarks.

سیماب símáb, P. n. m. Quicksilver; mercury.

سیمابی símábí, P. *adj.* Of the colour of quick-
silver.

سیمرغ símurg, P. n. m. A fabulous bird often
mentioned in Eastern romance. (*syn* 'ungá;
rúgh); a griffin. [silk-cotton.

سیمل semal, सेमल, H. n. m. The silk cotton tree.

سینا síná, सीना, H. v. To sew; to stitch; to darn.

سینا sená, सेना, H. v. To hatch; to adore; to
foster.

سینا sainá, सैना, H. n. f. An army. سینا پتی
patí, n. m. the commander of an army.

سینا سینا sainá sainí, सैना सैनी, H. n. f. Mutual
winks; ogling. [Gratis; free of cost.

سینت سینت sent ment men, सेंट मेत में, H. *adj.*

سینتالیس sáintális, सैंतालीस, H. *adj.* Forty-seven.

سینتالیسوان sáintáliswán, सैंतालीसवाँ, H. *adj.* Forty-
seventh.

سینتانا septná, सैतना, H. n. To keep
carefully; to put aside.

سینتیس saintís, सैंतिस, H. *adj.* Thirty-seven.

سینتیسوان saintís-wán, सैंतिसवाँ, H. *adj.* Thirty-
seventh.

سیندور sendur, सेंदुर, H. n. m. Red leaf; ver-
milión; minium. [mango.

سیندوریا sendúriyá, सेंदुरिया, H. n. m. A sort of

سیندھہ sendh, सेध, H. n. f. A hole made in a
wall by thieves or burglars; house-breaking.

سیندھہ legání, v. to break into a house
or wall. سیندھا sendhá, सेंधा, H. n. m. White rocksalt.

سیدھنا sendhná, सैंधना, H. v. To mine.
 سیدھی seḍdhī, सेधी, H. n. f. The juice of the wild date tree.
 سینک sīnk, सीक, H. n. f. The clump of the grass of which brooms are made; a toothpick; a stripe.
 सेक seṅk, सैंक, H. n. m. Fomentation; toasting.
 सेकना seṅkná, सैंकना, H. v. Sec. To foment; to warm; to heat; to bake.
 سینکیا sīnkiyá, सीकिया, H. n. m. Striped cloth; a kind of narrow lace.
 سینگ sīng, सींग, H. n. m. A horn. سینگ کٹا کر—kaṭá kar bachhjon men milná, to cut off the horns and mix with the calves (said of an old man got up as a young man). سینگ مارنا—márná, to butt; to gore. سینگ نکالنا—nikalná, v. to get horns; to become mad or foolish; to get maturity.
 سینگری seḡgrī, सेंगरी, H. n. f. A pod; siliqua; particularly the siliqua of the radish.
 سینگی sīngī, सींगी, H. n. f. A kind of fish; a horn for cupping. سینگی لگانا—lagáná, v. to cup. سینگی والی—walī, n. f. a woman who cups.
 سینا sīnā, P. n. m. Breast; bosom; chest; thorax. سینہ نگار—fagár, adj. wounded in the bosom. سینہ باند—band, n. f. a bodice. سینہ چاک—chák, adj. afflicted. سینہ ریش—resh, wounded at heart; afflicted. سینہ زور—zor, adj. headstrong; obstinate; robust. سینہ زوری zorī, n. f. force; obstinacy. سینہ سیاہ—siyáh, adj. black-hearted. سینہ سے لگانا—se lagáná, v. to embrace. [tháli
 سینا sení, P. n. f. A trough; tray; salver (qáb;
 سیر sew, सेव, H. n. m. An apple.
 سیر sew, सेव, H. n. m. A sweetmeat; a sort of salted vermicelli in ghee.
 سیرا sewá, सेवा, H. n. f. Worship; service; attendance on. سیرا کرنا—karná, v. to serve; to attend on.
 سوارا sewári, सेवारी, H. n. f. Sugar that has been purified with a grass called *eiwar*.

سوتلی sewtī, सेवती, H. n. f. A white rose; the dog rose (*gul-i-naarin*). [ware.
 سیرا sewrá, सेवरा, H. n. m. Half-baked earthenware.
 سیرر گال sewar gál, P. n. m. A feudal tenure; a fief; an assignment of land for charitable purposes.
 سیرا sewrá, सेवरा, H. n. m. A kind of *faqir* among the jains; a conjuror.
 سیرک sewak, सेवक, S. n. m. A servant; an attendant; a worshipper; a votary; a disciple.
 سیر کائی sewkái, सेवकई, H. n. f. Service; attendance; worship. [darning.
 سیرن sīwan, चीवन, H. n. f. Sewing; seam;
 سیرن sewan, सेवन, H. n. m. Serving; service; using; practising. سیرن کرنا—karná, v. to make use; to practise; to serve.
 سیرنا sewná, सेवना, H. v. To serve; to attend on; to brood; to hatch.
 سیرن سیرن sewain, सेवई, H. n. f. Vermicelli.
 سیاہ siyah, P. adj. (See Siyáh).
 سیرن sihon, सिहोन, H. n. m. A sort of black grain that grows in wheat fields.
 سیرن seht, सेही, H. n. f. A porcupine.

(ش)

ش shín, the nineteenth letter of the Urdú or Hindustáni alphabet; thirteenth of the Arabic and sixteenth of the Persian alphabet, corresponding to the English *sh*. In denoting numbers by the letters of the Arabic alphabet, it stands for 300.
 شاب sháb, A. n. m. A youth; a young man under 36 years of age; in the prime of manhood
 شاباش shabásh, P. intj. Bravo! Well done! excellent!
 شاباشی shábáshī, शाबाशी, H. n. f. Praise; applause. شاباشی دینا—dená, to applaud; to praise; to encourage.
 شاخ shákh, P. n. f. A branch of a tree; a bough; a horn; a cutting; a branch of any thing.

شاخدار—*dār*, *adj.* branched; horned. شاخ در شاخ
—*dār*, *adj.* branched out or diffused; entangled. شاخ زعفران—*i-sa'frán*, *Lit.* (a twig of a saffron) is applied to a proud person who estimates too highly his own worth.

ناز چمن دھی ہے بلبل سے گو خزاں ہے

تہنی جو (رد) دھی ہے سر شاخ زعفران ہے (میر)

Although the autumn is arrived the flower beds still display the same coquety towards the nightingale; the branches though withered are as proud as ever.

شاخسار—*sār*, *P. n. f.* A garden; a bower. شاخ شجرہ—*sháná*, *n. m.* calumny. شاخ شجرہ—*shajra*, a genealogical table; pedigree. شاخ مدرسہ—*madrása*, *n. m.* a branch school.

شاخچہ *shákhcha*, *P. n. m.* A small branch.

شاخہ *shákhá*, *P. n. m.* The pillory; a yoke.

شاد *shád*, *P. adj.* Happy; glad; cheerful; pleased; delighted. شاد دل—*dil*, *adj.* happy; cheerful. شاد کام—*kám*, *adj.* happy; contented; joyous. شاد کرنا—*karná*, *v.* to gladden; to rejoice. [pleasant.

شاداب *shádáb*, *P. adj.* Fresh; verdant; green;

شادابی *shádábí*, *P. n. f.* Freshness; greenness; verdure.

شادان *shádán*, *P. adj.* Happy; glad; cheerful.

شادمان *shádmán*, *P. adj.* Happy; glad; cheerful; delighted. [joy; delight; rejoicing.

شادمانی *shádmání*, *P. n. f.* Gladness; pleasure;

شادہ *shádah*, *adj.* Glad; cheerful.

شادی *shádi*, *P. n. f.* Pleasure; joy; delight; marriage; wedding. شادی کرنا—*karná*, to get a boy or girl married. شادی مرگ—*marg*, *n. f.* death from joy; an easy death. شادی ہونا—*honá*, *v.* to be married.

شادیانہ *shádiyána*, *P. n. m.* Music and singing at marriages or on other festive occasions. شادیانہ بجانا—*bajáná*, *v.* to triumph; to play festive music.

شاذ *sház* } *A. adj.* Rare; un-
شاذ و نادر } common; irregular;
شاذ و نادر } exceptional; seldom. [tator.

شارح *shárah*, *A. n. m.* A commentator; anno-

شارح *shára*, *A. n. m.* A law giver; a legislator; a highway; a public road. شارع عام—*i'ámm*, a public road; thoroughfare.

شارق *sháriq*, *A. n. m.* The sun.

شارک *shárák*, *P. n. f.* A maina; species of starling famed for its talkativeness.

شاستر *shástar*, शास्त्र, *S. n. m.* The Hindu scriptures; a code; institutes of religion. شاستر آرثہ—*árth*, *n. m.* religious discussion.

شاستری *shástrí*, शास्त्री, *S. n. f.* One versed in the Shastars. شاستری اچھر—*akshar*, the Devanágri character.

شاش *shásh* } *P. n. m.* Urine. شاش دان—*shásha*, } *dán*, urinal bladder.

شاطر *sátir*, *A. adj.* Clever; smart; cunning; sly; wanton; vicious; *n. m.* a chess player; a messenger.

شاعر *shá'ir*, *A. n. m.* A poet.

شاعریہ *shá'irah*, *A. n. f.* A poetess.

شاعری *shá'irí*, *A. n. f.* The art of practice of poetry; poetic composition; hyperbole.

شانل *shágil*, *A. adj.* Occupied; employed; diligent; busy. [cate; a mediator; patron.

شافع *sháfe'*, *A. n. m.* An intercessor; an advo-

شافعی *sháfe'i*, *A. prop.* One of the chief of the four principal sects of the Sunni Muham-madan religion; *adj.* following the sect of Sháfe'i.

شافہ *sháfa*, *A. n. m.* A suppository; a pessary; an anema.

شافی *sháfi*, *A. adj.* Healthgiving; healing; sanative; salutary (an answer); categorical; *n. m.* a restorer to health; a healer; decisive; final. شافی حقیقی—*i-haqíqí*, the actual healer. شافی مطلق—*i-mutlaq*, the absolute healer; epithets of the deity.

شاق *sháq*, *A. adj.* Difficult; troublesome; severe; grievous; afflicting.

شاقول *sháqul*, *P. n. m.* A plummet.

شاکر *shákir*, *A. adj.* Thankful; grateful; content; praising.

شاکھی *shakí*, *A. adj.* Complaining; querulous; *n. m.* complainant; a murmurer; a censorer; a backbiter.

شاگرد shágird, P. *n. m.* A pupil ; a scholar ; a disciple ; a servant. پيشه—*pesha, n. m.* menials ; domestics ; the servants' out-houses. شاگرد رشيد—*i-rashid, a complete scholar ; a favourite pupil.* هونا—*honá, v.* to become a pupil.

شاگردی shagirdí, P. *n. f.* Apprenticeship ; pupilage. شاگردی کرنا—*karná, v.* to learn or study with ; to serve one's apprenticeship.

شال shál, P. *n. f.* A shawl. شالباغ—*báf, n. m.* a shawl-weaver. شال دوڑ—*doz, one who embroiders on shawls.*

شام shám, A. *n. f.* The country of Syria.

شام shám, P. *n. f.* Evening. شام کے مردے کو تک روئے—*ke murda ko kab tak roiye (Lit)* how long can you weep for one who died at eventide ; (used to express a circumstance which is likely to prove a life-long regret). شام و سحر—*o-sahar, evening and morning.*

شام shám, राम, H. *n. m.* A name of Krishna ; *adj.* black.

شام shám, राम, H. *n. f.* The iron head or ring of a wooden pestle ; the ferule of a stick or umbrella. شام لگانا—*laganá, v.* to shoe with iron ; to put on a ferule. [song-bird.

شاما shámá, रामा, H. *n. f.* A beautiful Indian
شامت shámat, A. *n. f.* Mischance ; ill-luck ; adversity. شامت اعمال—*i-a'mál, evil days.* شامت آنا—*áná, v.* evil to come upon one. شامت کا مارا—*ká mára, adj.* unfortunate ; *n.* an unfortunate weight. [proud.

شامیخ shámíkh, A. *adj.* High ; lofty ; elevated ;
شامل shámil, A. *adj.* Comprising ; including ; included ; inclusive (of) ; blended (with) ; united (to) ; mingled ; annexed ; connected with ; confederated ; living together ; jointly ; inconfederacy ; *prep.* with ; along with ; in the company of ; *n.* encompasser ; compriser ; member ; confederate. شامل حال—*hál, of similar circumstances.* شامل کرنا—*karná, to annex ; to appendix ; to include ; to incorporate ; to insert to enter.* شامل ہونا—*honá, v.* to be included ; to fall under ; to be connected with ; to partake ; to participate.

شاملت shámilát, A. *n. m.* An undivided property ; partnership ; things included ; a coparcenary estate. شاملتی شاملاتی—*shámilátí, A. adj.* Coparcenary ; joint.

شامہ shámma, A. *n. m.* The sense of smell.

شامی shámí, A. *adj.* Syrian. شامی کباب—*kabáb, a kind of kabáb, made of flat cakes and round balls of meat.* [awning ; a pavillion.

شامیانا shámíyana, P. *n. m.* A canopy ; an
شان shán, A. *n. f.* Lustre ; pomp ; dignity ; eminence ; glory. شاندار—*dár, adj.* splendid ; grand ; pompous ; *n.* a person of state and dignity ; a man of rank. شان و شوکت—*o-shaukat, n. f.* splendour ; pomp. شان دکھانا—*dikháná, to make a display.* شان گھٹنا—*ghatná, v.* to be derogatory.

شان shán, P. *n. m.* A honey comb ; a bee-hive.

شانہ shána, P. *n. m.* A comb ; the shoulder ; a cock's comb ; a crest. شانہ دان—*dán, a comb-case.*

شاہ sháh, P. *n. m.* A king ; a prince ; the king at chess ; a title assumed by *faqirs* (used in *compos.* meaning) ; royal ; noble ; great ; excellent ; best. شاہباز—*báz, n. m.* a royal falcon. شاہ بلوط—*balút, n. m.* chestnuts ; the oak and acorns. شاہخوار—*i-kháwar, n. m.* the sun. شاہ راہ—*ráh, n. f.* public road ; highway. شاہ زادگی—*zadgi, n. f.* the period of the minority of prince. شاہ زادہ—*zadah, n. m.* a prince. شاہ زادی—*zadí, n. f.* a princess. شاہ گام—*gám, adj.* having easy paces (a horse) ; *n. m.* a particular pace of a horse. شاہ گردون—*i-gardún—mashriq, the sun.* شاہ مشرق
شامہ shámá, H. *n. f.* celebrated epic poem, containing a history of the kings of Persia, written by the Persian poet Firdausi ; about the year of Christ 1,000.

شاہانہ shahána, P. *adj.* Royal ; princely ; *n. m.* a wedding dress. [furniture.

شاہتارہ sháhtarah, P. *n. m.* A bitter plant ; a
شہید sháhid, A. *n. m.* A witness ; a deponent ; (in P.) a sweet-heart ; a beloved object ; a female friend. شاهد حال—*hál, n. m.* an eye-witness.

شاهدی sháhídí, A. n. f. Testimony; attestation; deposition.
 شاهق sháhiq, *adj.* High; lofty.
 شاهنشاه sháhansháh, P. n. m. An emperor.
 شاهنشاه فلک—i-falak, n. m. the sun.
 شاهنشاهی sháhansháhí, P. n. m. Empire; *adj.* imperial.
 شاهوار sháhvár, P. *adj.* Princely; royal; worthy of a king [kingly; imperial].
 شاهوی sháhí, P. n. f. Reign; royalty; *adj.* royal;
 شاهین sháhín, P. n. m. A falcon. [able; legal].
 شایان sháyán, P. *adj.* Worthy; suitable; desirable.
 شاید sháyad, P. *adj.* Perhaps; possibly; probably; perchance. شاید که باشد—ki báshad, perhaps it is; it may be so.
 شایستگی sháyastagí P. n. f. Politeness; good manners; fitness; affability; propriety.
 شایسته sháyasta, sháista, P. *adj.* Polite; decent; well bred; courteous; gentle; docile; worthy; suitable. مزاج شایسته مزاج—mizáj, affable; mind.
 شایع sháyá', A. *adj.* Divulged; published; spreading; revealed; apparent. شایع هونا—honá, v. to be spread abroad; to be published; to be propagated. [ardent; longing for].
 شایق sháyáq, A. *adj.* Fond; desirous; zealous;
 شایقین sháiqín, A. n. m. (*Plur. of شایق Sháiq*). Ardent admirers (of); lovers (of); votaries.
 شب shab, P. n. f. Night. شبشام—sh-shab, during the night; all night. شب باز—báz, n. m. a puppet-showman; one who is vigilant at night. شب باش—básh, n. m. a night lodger.
 شب باشی—báshí, n. f. night lodging. شب بخیر—bakhair, *intj.* may the night pass well; good night. شب برات—barát, n. f. the 14th day of Sh'abán, on which the Mohammadans make offerings and oblations in the name of deceased relations; a Mohammadan festival.
 گل-شبو گل-شبو—gul-shaboo, shabboo, the tuberose; *Polygonum tuberosum*. شب بیدار—bedár, *adj.* waking or watching all night. شب بیداری—bedári, n. f. a vigil. شب تاب—táb, a fire-fly; a glow-worm. شب تاریک—tár yá tárík, n. f. a dark night. شب چراغ—chirág, n. m. a brilliant gem; carbuncle. شب خون—khún,

n. m. a night attack with bloodshed. شب خون مارنا—khún marná, v. to attack by night.
 شب خونریزی—khúni, n. f. robbery at night with bloodshed. شب خیزی—khezí, n. f. rising at night for the purpose of praying. شب دیک—deg, n. f. a dish of meat and turnips cooked all night on the fire. شب رنگ—rang, *adj.* dark coloured. شبستان—istán, a bed chamber; a bed. شب شهادت—i-shahádat, the night of the tenth of Moharram, on which Husain was slain. شب قدر—qadr, the 27th of Ramzán (on which date the Qurán is said to have descended from heaven.) شب کور—kor, night blind. شب نگرد—gard, n. m. a watchman. شب گون—gún, *adj.* dark as night. شب گویر—gir, n. m. a nightingale; a cricket; any animal that sings at night; early dawn. شب ماه—i-máh, n. f. moonlight. شب نام—nam, dew (os). شبینه—shabína, *adj.* nocturnal; nightly; last night's state. شب و روز—o-roz, night and day.
 شب shabb, A. n. m. Alum.
 شباب shabáb, T. n. m. Youth; prime of life.
 شبان shabán, P. n. m. A shepherd; a pastor.
 شبانگه shabángah, P. n. f. A place for cattle or sheep to remain in at night; evening.
 شبانه shabána, P. *adv.* By night. شبانه روز—roz, night and day. [similitude; similarity].
 شباهت shabahat, A. n. f. Resemblance; likeness;
 شبده shabd, S. n. m. Sound; voice; a word; a term. شبدهارتوه—árth, the literal meaning.
 شبدهیز shabdez, P. n. m. A black horse of extraordinary size.
 شبیر shibr, A. n. m. A span.
 شبه shabah, A. n. f. Resemblance; similitude; image.
 شبهه shubha, A. n. m. Doubt; suspicion; uncertainty; scruple; hesitation. شبهه کرنا—karná, v. to suspect; to doubt; to distrust. شبهه مٹانا—miṭaná, v. to remove a doubt. [a bead].
 شبهه shiba or shaba, P. n. m. An agate; coral;
 شبهه shabih, A. n. f. Picture; image, likeness; resemblance; similarity.
 شبیر shappar, P. n. m. A bat; a night-flier.

شتاب *shítáb*, P. *adj.* Quick; speedy; *adv.* quickly; soon; *n. f.* haste; quickness.

شتابی *shítábí*, P. *n. f.* Quickness; haste.

شیتالنگ *shítálang* P. *n. m.* The ankle.

شتر *shutr*, P. *n. m.* A camel. بان شتر—*bán*, *n. m.*

a camel-driver; a camel-keeper. دل شتر—*díl*,

adj. timid. شتر بے مهار—*i-be-mahár*, *adj.* (*Lit.*)

a camel without a nose-string; uncontrolled;

refractory. شتر خانه—*khána*, *n. m.* a camel-

shed. شتر سوار—*sawár*, *n. m.* a rider of a

camel; an orderly on a camel. شتر غمزہ—

gamzá, *n. m.* misplaced affection; wickedness.

شتر کینہ—*kina*, *adj.* bearing malice as a camel

شتر گاو—*gáo*, *n. m.* the camel-leopard or

giraffe. شتر مرغ—*murg*, *n. m.* an ostrich.

شتری—*i* *adj.* light brown; *n. f.* a colour so

called.

شتر شتر *shatru*, शत्रु, S. *n. m.* An enemy. شتر

بھایو—*bháio*, *adj.* like an enemy.

شجاع *shajá*, A. *adj.* Brave; bold.

شجاعت *shaja'at*, A. *n. f.* Bravery.

شجر *shajar*, A. *n. m.* A tree; a plant.

شجرہ *shajra*, shijr, A. *n. m.* Genealogical tree;

a field map.

شہنہ *shahnab*, A. *n. m.* A superintendent of

police; a viceroy; a prefect; a peon or ser-

vant of a tax-gather; a watchman.

شخص *shakhs*, A. *n. m.* A person; an individ-

ual; being; body. شخص نادار—*i-nádár*, an

insolvent.

شخصیت *shakhsiyat*, A. *n. f.* Individuality; per-

sonality; nobility; rank; honour; dignity.

شخصیت بگھارنا—*baghárná*, to boast of one's

nobility of rank, &c.; to show off.

شد *shadd*, A. *n. m.* Rendering hard or strong;

intensifying; emphasizing. شد و مد—*o-madd*,

emphasis; stress; force; severity.

شدا *shaddá*, A. *n. m.* The banners carried with

the *tazía*, in the *Muharram*.

شود بود *shud bud*, P. *n. f.* A little knowledge.

شدت *shiddat*, A. *n. f.* Severity; violence; force;

vehemence; difficulty.

شدنی *shudaní*, P. *n. f.* What is to be; an occur-

rence; *adj.* possible; practicable.

شده *shuddh*, शुद्ध, H. *adj.* Correct; right;

pure; clean. شده کرنا—*karná*, *v.* to purify.

شدید *shadíd*, A. *adj.* Difficult; grievous; strong;

violent; severe; rigorous; heinous.

شر *shar*, A. *n. f.* Vice; depravity; wickedness;

evil; wrong-doing. شر کرنا—*karná*, *v.* to raise

a quarrel; to cause a breach of the peace.

شر و نساد—*o-fasád*, a breach of the peace;

wickedness and mischief; a riot.

شرا *shirá*, A. *n. m.* Purchase; sale; traffic.

شراب *sharáb*, A. *n. m.* Wine; spirits; spirituous

liquor. شراب طہورا—*sharában tahurá*, nectar.

شراب پرتگالی—*i-purtigálí*, *n. f.* Portugal wine.

شراب پینا—*piná*, *v.* to drink. شراب خانہ—

khána, *n. m.* a tavern; grogshop; a distillery.

شراب خوار—*khwár*, a drunkard. شراب

کھاری—*khwárí*, *n. f.* drinking; drunkenness. شراب

دو آتشہ—*i-do-átsha*, double-distilled spirit or

liquor. شراب کھینچنے والا—*khínchne wála*, *n.*

m. a distiller. شرابی—*i* *adj.* drunk; intoxi-

cated; *n. m.* a drunkard.

شرابور *sharabor*, P. *adj.* Wet through; dripping

wet; drenched. [quies.

شراद्धہ *shráddha* श्राद्ध, S. *n. m.* Funeral obse-

रार *sharár*, A. *n. m.* A spark.

شرارت *shararat*, A. *n. f.* Mischief; wickedness;

villainy; depravity. شرارتا—*sharátatan*, *adv.*

wickedly; mischievously. [a gleam.

شرارہ *sharára*, A. *n. m.* A spark of fire; a flash;

شرافت *sharáfat*, A. *n. f.* Nobility; civility; good

manners; politeness.

شراکت *shartákat*, P. *n. m.* Partnership, coparce-

nary; alliance; confederacy; combination.

شراکت کرنا—*karná*, *v.* to enter into partnership;

to participate in; to combine; to league with.

شراکت نامہ—*náma*, deed of partnership.

شرایط *sharáit*, A. *n. f.* (*Plu. of* شرط *Shart*)

Agreements; stipulation; conditions; re-

quirements. شرایط اقرار نامہ—*i-iqránama*, *n. f.*

the terms of a contract.

شرب shurb, A. n. m. Drinking beverage. اکل
شرب skl-o—food and drink.

شربت sharbat, A. n. m. Sherbet; sugar and
water. گھونٹ پینا—ke se ghúnt
piná, to gulp down as sherbet; (fig.) to
suffer meekly.

شربتہ sharbatí, A. n. m. A kind of lime, or
lemon; a kind of muslin; a colour; *adj.* of
the colour of *sharbat*.

شرح sharh, sharah, A. n. f. Explanation; com-
mentary; annotation; rate; proportion;
charge. شرح بندی—bandí, n. f. a table of rates.
شرح کرنا—karná, v. to define; to detail; to fix
the rate. شرح لگانا—lagán, rent-rate. شرح وار
—wár, *adv.* explicitly; as detailed. شرح کشف
—kashsháf, a lucid explanation. شرح ذیل ba
—i-zail, *adv.* as hereinafter shown; as de-
tailed or shown below.

شرر sharar, A. n. m. Sparks of fire; malice.

شررہ sharza, P. *adj.* Powerful; strong; vehe-
ment; fierce; enraged; roaring; reventous.

شرط shart, A. n. f. Condition; stipulation;
agreement; term; provision; a wager; sign;
mark. شرط بانڈھنا لگانا یا کرنا—bándhna, lagáná
yá karná, v. to stipulate; to bargain; to bind
by contract; to bet. بشرط ba—, on condition
of; subject to. بشرطیکہ—ba-sharte ki, *conj.* on
condition; that; provided that.

شرطی shartí, } A. *adj.* Conditional; provi-
شرطیہ shartíya, } sional; *adv.* certainly;
undoubtedly.

شروع shara', A. n. m. The divine way of religion;
the precepts of Muhammad; law; equity; a
high road.

شروعاً shar'an A. *adv.* According to the law;
legally. شروعاً و عرفاً—o'urfan, according to both
the religious law of God and the law of
society. [lawful.]

شروعی shar'ái, A. *adj.* Conformable to the *shra'*,

شرف sharaf, A. n. m. Honour; rank; dignity;
excellence; eminence; exaltation; glory.
شرف لیجانا—lejáná, v. to excel; to bear away
the palm from.

شرفیاب sharaf-yáb, A. *adj.* Ennobled; honoured.

شرفاء shurafá', A. n. m. (*Plu. of* شریف *Sharif*),
Persons of high rank or good family; nobles;
grandees.

شرق sharq, A. n. m. Rising (of the sun); east.

شرقی sharqí, A. *adj.* Eastern; oriental.

شرک shirk, A. n. m. Partnership; belief in a
plurality of God; polytheism; paganism;
infidelity. [associates.]

شرکا shuraká, P. n. m. (*pl. of* sharik.) Partners;

شرکت shirkat, A. n. f. See شرکت shirákát.

شرم sharm, P. n. f. Bashfulness; shame; modest-
ty. شرم رکھنا—rakhná, to preserve from shame
or disgrace; to guard the honour of the
bread. شرم ناک—nák, *adj.* bashful; modest.

شرما شرمی sharmá-sharmí, P. *adv.* Through
shame; modestly.

شرمالو sharmálú, शर्मालू, H. *adj.* Bashful; shy.

شرمانا sharmáná, शर्माना, H. v. To be abashed;
to be ashamed; to feel ashamed; to put one
to shame.

شرمسار sharmsár, P. *adj.* Ashamed; abashed.

شرمگین sharmgín, P. *adj.* Coy; bashful; modest.

شرمندگی sharmindagí, P. n. f. Bashfulness;
shame; disgrace. شرمندگی اٹھانا—uṭháná, v. to
Suffer shame or disgrace.

شرمندہ sharminda, P. *adj.* Blushing; bashful;
ashamed; modest. شرمندہ ہونا—honá, v. to
feel ashamed of oneself; to be ashamed; to
blush.

شرمیلا sharmilá, } P. *adj.* Bashful; modest.
شرمیلی sharmilí }

شرنا رتھی sharnárhí, शरणाधी, S. n. m. and *adj.*
Seeking refuge; evacuee.

شروال sharwál, P. n. m. Trousers; breeches.

شروط sharút, A. n. f. (*Plu. of* شرط *Shart*) Condi-
tions; terms.

شروع shurú, A. n. m. (*Plu. of* شروعات *Shuru'at*.)
Beginning; commencement. شروع سے—se,
from the beginning; *ab initio*. شروع کرنا—

karná, v. to begin; to commence; to take
lead of; to enter upon; to establish; to insti-
tute; to set up. شروع ہونا—honá, v. to be
begun or commenced.

شده shara, A. n. m. Vehement desire ; appetite ; greed.

شري shri, श्री, S. n. f. Prosperity ; happiness ; wealth ; beauty ; light ; glory ; intellect.

Name of Lakshmi ; name of sarasvati. شري شري — yut ; an honorific title.

شريان shiryán, A. n. f. An artery.

شريك sharir, A. adj. Wicked ; vicious ; bad ; corrupt. [God ; ordinance ; statute.

شريعت shari'at, A. n. f. The religious law of

شريف sharif, A. adj. Noble ; of high rank or dignity ; gentle ; highborn. شريف خاندان کا — khándán ká, adj. of high birth ; of a good family.

شريفه sharifa, A. n. m. Custard apple ; *Annona squamosa*.

شريک sharik, A. n. m. A partner ; a co-sharer ; an accomplice ; a confederate ; a colleague ; a comrade ; an ally ; adj. join ; united. شريك شريك — jurm, an accessory. شريك رهنا — rahná, v. to live together. شريك شريك — shikami, joint owner ; coparcener ; joint sub-lessee.

شريك کرنا — karná, v. to make a partner ; to include. شريك هونا — honá, v. to joint ; to partake ; to be a partner.

شست shast, shist, P. n. f. Aim ; a large fishing hook left attached to a strong line which is fastened to the handle of a bow ; a thumb-stall ; the sight. شست باندھنا — bāndhná, v. to take aim at ; to take a sight (with the ruler of a plane-table).

شستر shastr, शस्त्र, S. n. m. A weapon in general ; an arm. شستر باندھنا — bāndhná, v. to arm oneself.

شسته shusta, P. adj. Washed ; dressed ; pure. شسته (بان يا گفتگر) — zabán yá guftgú, n. f. pure or dignified language. [the peripneumony.

شش shush, P. n. m. The lungs. درد شش — dard

شش shash, P. adj. Six. شش پهلو — pahlú, adj. hexagonal. ششماهي — máhi, half yearly. شش

شش — o-panj, n. m. confusion ; hesitation ; perplexity. شش و پنچ میں — o-panj men, at sixes and sevens.

ششدار shashdar, P. n. m. A cube ; a die, adj. confounded ; astonished. ششدار رهنا — rahná, to stand amazed ; to be astounded.

ششم shashum, P. adj. sixth.

شما shatt, A. n. m. The bank of a river.

شماٹھ shattáh, A. adj. Artful ; lascivious ; obscene.

شطرنج satranj, A. n. f. Chess. شطرنج باز — báz, n. m. a chess player. شطرنج بازی — bází, n. f. playing at chess.

شطرنجی shatranji, A. n. f. A kind of chequered carpet. شطرنجی بان — báf, n. m. a carpet-weaver.

شعار sh'ár, n. m. Habit ; custom ; manner ; signal ; sign ; countersign ; password ; (it is much used in comp. to form adjective), as : شعار جادو — jádú, magical. شاعر کرم — karm, distinguished for generosity.

شعاری shú'ári, A. adj. Relating to custom, etc., customary ; habitual. [shine.

شعاع shu'á, A. n. f. The rays of the sun ; sun-

شعاعی shu'ái, A. adj. Radiating. شیب

شعب she'ab, A. n. m. A road in a mountain ; a pass ; a ravine. [the Arabian year.

شعبان sha'bán, A. n. m. The eighth month of شیبده

شیبده shu'badah, P. n. m. Sleight of hand ; juggling ; conjuration. شیبده باز — báz, n. m. a juggler ; a conjurer. شیبده بازی — bází, n. f. juggling ; sleight of hand ; hocus-pocus.

شعبه shu'ba, A. n. m. A channel in which water flows ; a watercourse ; a branch ; ramification. شعر خروانی — she'r A. n. m. Poetry ; verse. شعر خوانی — khwání, n. f. reading poetry. شعر کہنا — kahná, v. to compose a verse. [Poets.

شعرا shu'rá, A. n. m. (Plur. of شاعر (shá'er.) شعله شو'شا', P. n. m. Fiction ; stroke. شعله پھرنی — chhorná, v. to spread a false report.

شعله shu'la, A. n. m. Flame ; blaze ; flash. شعله افشان — afshán, scattering flame. شعله رخ یا رو — rukh yá rú, adj. flame-faced, n. m. blazing beauty. شعله ہونا — bhabhúká honá, v. to burn with rage.

شعور shu'úr, P. n. m. Wisdom ; discernment ; good management ; shrewdness ; sense. شعور دار — pár, adj. mannerly ; well-bred.

شغال shagál, P. *n. m.* A jackal.
 شغل shagl, A. *n. m.* Occupation ; employment ; anything to occupy or divert ; amusement. شغل کرنا—karná, *v.* to employ oneself.
 شفا shifá, shafá, A. *n. m.* Cure ; healing ; recovery ; convalescence. شفا خانہ—khána, *n. m.* a hospital. شفا دینا—dená, to heal ; to cure.
 شفاعت shafa't, A. *n. f.* Intercession ; recommendation. شفاعت کرنا—karná, *v.* to intercede ; to mediate.
 شفاف shaffáf, A. *adj.* Transparent ; clear.
 شفافی shaffáfi, A. *n. f.* Transparency ; clearness.
 شفتل شفا لوی shaftálú, P. *n. m.* A peach.
 شفقت shafat, P. *n. m.* The lip ; the mouth.
 شفع shufa', A. *n. m.* Pre-emption. حق شفع haqq-e—*n. m.* right of pre-emption ; the right of a person who has under certain circumstances to be substituted in the case of sale of immoveable property, for the original vendee ; this right arises by law or agreement.
 شفق shafaq, A. *n. f.* Evening twilight ; kindness. شفق پھولنا—phúlná, *v.* to appear twilight.
 شفقت shafqat, A. *n. f.* Kindness ; affection ; favour ; mercy ; clemency ; condolence. شفقت نامہ—náma, a letter of condolence.
 شفیع shafi', A. *n. m.* Advocate ; patron ; intercessor ; a possessor of the right of pre-emption. شفیع جہاز—i-jár, the occupant of ground which is simply in the neighbourhood of another estate. شفیع خلیفہ—khalít, a person who is a partner in rights and appertenance belonging to the property which is subject of sale. شفیع شاریک—shárik, a person who is cosharer in the corpus of the property.
 شفیق shafiq, A. *adj.* Affectionate ; kind ; merciful ; *n. m.* a kind friend.
 شق shaq, A. *n. m.* A fissure, a crack ; cleft ; dawn of day. شق القمر—ul-qamar, splitting of the moon, a miracle of Muhammad. شق ہونا—honá, *v.* to be torn ; to be rent ; to be split.
 شقاق شقاقول shaqáqul A. *n. f.* A wild carrot or turnip.
 شتہ shuqqa, A. *n. m.* A royal order of communication from a superior.

شقی shaqí, A. *adj.* Villainous ; wretched.
 شقیقہ shaqíqa, A. *n. m.* Temple ; one side of the head.
 شک shakk, shak, A. *n. m.* Doubt ; hesitation ; uncertainty ; incredulity. شک پڑنا—parná, *v.* to have a doubt. شک ڈالنا—dálná, *v.* to cast a doubt upon. شک رفع کرنا—rafa' karná, *v.* to remove a doubt. شک کرنا—karná, *v.* to suspect ; to doubt.
 شکار shikár, P. *n. m.* Hunting ; chase ; game ; booty ; prey ; animal food. شکار افغان—afgan, *n.* a hunter ; a game-killer. شکار باز—báz, *n.* a sportsman. شکار باند—band, *n. m.* cords, &c., for tying game in. شکار پیشہ—pesha, *adj.* (one) whose trade is hunting. شکار کرنا—karná, *v.* to hunt ; to prey upon ; to ensnare ; to catch (as prey). شکار کھیلنا—khehná, *v.* to go a hunting. شکار گاہ—gáh, *n. f.* a hunting ground. شکار مہی—máhi, *n. f.* fishing. شکار ہونا—honá, *v.* to be hunted ; to become a victim ; to fall a prey.
 شکاری shikári, P. *n. m.* A sportsman ; a hunter ; a fowler ; an angler ; *adj.* of the chase ; relating to hunting. شکاری کتا—kuttá, *n.* a hunting dog ; a hound.
 شکایت shikáyat, A. *n. f.* A complaint ; lamentation ; illness. شکایت کرنا—karná, to complain. شکایت رفع کرنا—rafa' karná, to remove the cause of complaint.
 شکتی shakti, शक्ति, S. *n. f.* Strength ; ability ; capacity ; the energy or active power of a god ; the goddess Durga, wife of Shiva.
 شکر shukra, शुक्र, S. *n. m.* The planet Venus ; Friday.
 شکر shukr, A. *n. m.* Thanks ; gratitude. شکر خدا—i-khudá, Thank God. God be praised ! شکر خدمت—i-khidmat, an acknowledgment of service. شکر کرنا—karná, *v.* to thank ; to return thanks ; to acknowledge a favour. شکر گزار—guzár, *adj.* thankful ; grateful. شکر گزاری—guzári, *n. f.* thankfulness ; gratefulness. شکر نعمت—i-ne'mat, an acknowledgment of a favour.
 شکرانہ shukrána, P. *n. m.* A present made to a pleader over and above the legal fees by a successful litigant.

شکر shakar, shakkar, P. n. f. Sugar. (Met.) sweet words. شکر افشانی—afsháni, the scattering of sugar; (Met.) utter of sweet words; sweet speech. شکر پاره—para, n. m. a kind of sweetmeat; a square. شکر خوره—khora, n. m. a bird so called from its fondness for sugar; one living on dainties. شکر گفتار—guftár, adj. sweet spoken; eloquent.

قند شکر قند shakar-qand, P. n. m. Sweet-potato.

شکره shikra, P. n. m. The sparrow hawk; a falcon.

شکست shikast, P. n. f. A breach; breakage; fracture; loss; defeat. شکست دینا—dená, v. to defeat; to repulse. شکست خوردن—khurda, adj. defeated; broken off. شکست خوردن—honá, v. to be broken; to suffer a defeat.

شکستگی shikastgi, P. n. f. Breaking; breakage; violation; defeat; dejection; affliction.

شکسته shikasta, P. adj. Broken; impaired; bankrupt; sick; weak; infirm; n. m. a running hand. شکسته بال—bál, broken down; reduced to straits. شکسته حال—hál, adj. distressed; broken down. شکسته حالی—hálí, n. f. distress; reverse of fortune. شکسته خاطر—khatir, adj. distressed in mind; offended; grieved. شکسته دل—dil, adj. broken hearted; distressed; afflicted. شکسته دلی—dill, n. f. distress; affliction; broken-heartedness.

شکشا shikshá, शिक्षा, S. n. f. Learning; study; teaching; instruction; education; training; admonition; precept.

شکل shakl, shakal, A. n. f. Form; shape; likeness; resemblance; image; appearance; figure; formation; mode; map; a proposition; (in Geom.) diagram. شکل بگازنا—bigarná, v. to disfigure; to disgrace. شکل بنانا—banána, v. to give a shape to; to make face; to assume a character. شکل منافی—i-misálí, n. f. a model; a pattern. شکل نظری—i-nazarí, (in Geom.) a theorem. هم شکل—ham, similar; like; of the same figure.

شکل پاکش shukl paksh, शुक्ल पक्ष, S. n. m. The light half of a month; the fortnight of the moon's increase (opp. to Krishnapaksh).

شکم shikam, P. n. m. The belly. شکم بنده یا شکم پرور—bandá yá—parwar, n. m. an epicure; a glutton, شکم پرست—parast, a pamperer of his belly; sensualist. شکم سیر—ser, adj. satiated.

شکمی shikamí, P. adj. Of or relating to the belly; big-bellied; subordinate; dependent; subtenanted شکمی دیوانه—diwána, a born idiot. دار شکمی اجاره دار—ijaradár, a subordinate cultivator holding lands in farm; secret; private.

شکن shikan, P. n. f. Shrinking; shrivelling; constringing; breaking; breaker; a curl; fold; plait; crease; rumple. شکن پزنا—parná, v. to be creased. شکن ڈالنا—dálná, v. to crease; to fold.

شکنجه shikanja, P. n. m. Socks (for the legs); rack; torture; bookbinder's press. شکنجه میں—meñ khinehná, v. to put in a press; to torture; (in Mech.) a clamp.

شکافی shikaní, P. n. f. Breaking; defeat. (used in comp.) as: عهد شکنی—'ahd, n. f. breach of agreement or promise.

شکوفه shikufa, P. n. m. (See shigúfa).

شکوه shikwa, A. n. m. Complaint; upbraiding.

شکوه shikoh, P. n. f. State; grandeur; pomp; majesty; magnificence; dignity.

شکی shakí, A. adj. Suspicious; doubtful; sceptical. شکی مزاج—mizáj, adj. of a sceptical turn of mind; wavering; suspicious; incredulous.

شکيب shikeb, P. n. f. Patience; long-suffering.

شکيبا shikebá, P. adj. Patient. [ing.]

شکيبانی shikebái, P. n. f. Patience; long-suffering.

شکيل shakíl, A. adj. Handsome; comely; well-formed.

شکاف shigáf, P. n. m. Split; rent; fissure; crack; the split in a pen; indentation. شکاف لگانا—lagána, v. to split.

شکال shigál, P. n. m. A jackal.

شگرف shigarf, P. adj. Rare; fine; powerful; beautiful; glorious. [surprise.]

شگفت shigift, P. n. m. Astonishment; wonder;

شگفتگی shiguftagi, P. n. f. Pleasure ; delight ; blooming ; expanding of a flower.

شگفتہ shiguftah, P. p. p. Expanded ; blooming.

شگفتہ خاطرہ—khátiri, n. f. blooming or expansion of mind ; delight. ہونا—honá, v. to be delighted ; to bloom.

شگن shagun, रागुन, H. n. m. An omen ; an augury. شگن بچارنا—bichárná, v. to wait for a good omen ; to look for an auspicious conjunction of planets ; to practice augury. شگن کرنا—karná, v. to begin a work at an auspicious time.

شگوفہ shagúfa, shigúfa, P. n. m. A bud ; a blossom ; a squib. چھوڑنا—chhorná, v. to let off a squib. لانا—laná, v. to produce something new and wonderful.

شگون shagún, P. n. m. See شگن shagun.

شگونیا shuguniyá, P. n. m. A fortune-teller ; an augur.

شل shal, A. adj. Paralytic ; having the hand luxated or withered ; fatigued ; tired.

شلاق shaláq, A. n. f. Flagellation ; flogging.

شلقم shalgam, P. n. m. A turnip.

شلاق shallaq, A. n. f. A round (of musketry) ; a discharge ; a volley ; salute of guns.

شلم shalam, P. n. f. Gum ; bird-lime.

شلوار shalwár, P. n. m. Trousers.

شلوک shlok, श्लोक, S. n. m. A distich ; a verse ; a stanza ; a hymn of praise.

شلوکا shalúká, शलुका, H. n. m. A child's bib ; a pinafore.

شلیتہ shalita, शलीता, H. n. m. A canvas sack.

شما shumá, P. pro. You. [tress of another.

شامتات shamátat, A. n. f. Rejoicing at the disaster.

شمار shumár, P. n. m. Counting ; numbering ; calculation ; account ; estimation. شمار کرنا—

karná, to count ; to number ; to enumerate ; to reckon ; to regard. شمار کنندہ—

kuninda, n. m. (in Arith.) the numerator of a fraction ; counter. شمار نویس—

navis, n. m. an accountant ; a registrar. شمار بے— beyond calculation ; innumerable. کسی شمار میں نہیں—

kisi meñ nahín, of no account.

شماري shumári, P. n. f. Counting ; enumeration (used in compos.) as : شماري مردم mardum—, a census.

شمال shumál, A. n. m. The north. شمال رو—rú, adj. facing the north. شمال مشرق—mashriq, n. m. the north-east. شمال مغرب—magrib, n. m. the north-west. شمال نما—numá, n. m. mariner's compass.

شمالی shumáli, A. adj. Northern. شمالی ہوا—hawá, n. f. a north wind.

شماعیل shamáel, A. n. m. Qualities ; virtues ; excellences ; talents ; abilities ; northerly winds.

شمر shimar, A. n. prop. One of Yazid's generals who slew Husain on the plain of Karbalá, hence, merciless, vile, &c.

شمرده shumurda, P. adj. Numbered ; counted.

شمس shams, A. n. m. The sun. [a rosary.

شمسہ shamsa, A. n. m. Small tassels attached to

شمسی shamsí, A. adj. Solar. شمسی قمیص—qamari, a term applied to a perquisite taken by the officers of government, being the difference between the pay for a lunar and solar month.

شمشاد shaushád, P. n. m. The box-tree.

شمشیر shamsher, P. n. f. A sword. شمشیر باز—báz, a sword-player ; a gladiator. شمشیرزن—zan, n. m. a swordsman.

شمع shama, A. n. f. Lamp ; a candle. شمعدان—

dán, n. m. a candle-stick. شمع رو—rú, having countenance as resplendent as the light from a candle.

شمع ساز—sáz, n. m. a candle-maker ; a chandler.

شماہ shamla, A. n. m. The embroidered end of a turban or kamarband sometimes tucked into folds, and sometimes left flying loose ; a narrow shawl worn round the waist or head.

شمن shaman, P. n. m. An idolator ; an idol temple ; idolatory ; an idol.

شمول shumúl, A. n. f. The whole ; contents ; inclusion. کے شمول میں—ke meñ, along with.

شمہ shimma, A. n. m. A smell ; an atom ; smattering ; practice

شامیم shamím, A. n. f. Odour.

شنا shiná, P. n. m. Swimming.

شناخت *shinákht*, P. n. f. Recognition; knowledge. شناخت کرنا—*karná*, v. to know again; to recognise; to identify.

شناس *shinás*, P. part. Knowing; acquainted with (used in compos.) as: حق شناس *haq*—, knowing what is right, &c [knowing.

شناسائی *shinásái*, P. n. f. Acquaintance;

شناور *shináwar*, P. n. m. A swimmer.

شناوری *shináwari*, P. n. f. Swimming.

شناة *shannáh*, P. n. m. An inflated skin or leather bag (used in crossing a river); a raft; a float.

شنبه *shamba*, P. n. m. Saturday.

شاجرف *shanjarf*, A n. m. Cinnaber; vermilion.

شانء *shan'at*, P. n. f. Badness; evil; foulness; brutality; crime.

شانكا *shanká*, शंका, S. n. m. Doubt; uncertainty. شانكا کرنا—*karná*, v. to mistrust; to hesitate.

شانگراف *shangraf*, P. n. m. See شانجرف *shanjaraf*.

شانگرافي *shangraft*, P. adj. Of the colour of *shangarf*.

شنو *shináu*, } P. part. and n. m. Hearing; }
شناوا *shinawá* } hearer. [heard; rumour.

شنيدة *shunida*, P. adj. Heard; n. that which is

شو *sho yá shú*, P. part. Washing; n. a washer.

شو *shú*, P. n. m. Husband.

شو *shiva*, शिव, S. n. m. The deity in the character of a destroyer.

شوال *shauwál*, A. n. m. The tenth month of the Muhammadan year, on the first day of which the festival of *I'd* is celebrated.

شوارع *shoáre'*, A. n. f. (Plu. of شارع *Sháre'*) High roads. [cated to Siva.

شوالا *shiválá*, शिवाला, H. n. m. A temple dedi-

شوب *shob*, P. n. m. Washing; a wash.

شوخ *shokh*, P. adj. Mischievous; playful; saucy; pert; brisk; insolent; wanton; fast; bold; daring. شوخ چشم—*chashm*, adj. wanton-eye. شوخ چشمي—*chashmi*, n. f. wantonness. شوخ مزاج—*mizáj*, of a gay disposition.

شوخي *shokhi*, P. n. f. Mischief; sauciness; pertness; forwardness, wantonness; insolence.

شودر *shúdra*, शूद्र, S. n. m. The fourth or servile caste among Hindus, said to have sprung from the foot of Brahma; a low caste.

شور *shor*, P. n. m. Cry; noise; outcry; clamour; uproar; tumult. شور پشت—*pusht*, refractory; unruly; quarrelsome; encouraging; disturbance. شور کرنا یا مچانا—*karná yá macháná*, v. to make a noise.

شور *shor*, P. adj. Salt; brackish. شور زمین—*zamín*, n. f. saline soil; barren land.

شوراء *shorá*, P. n. m. Saltpetre; nitre. شوراء كا—*ká tezáb*, nitric acid. شوراء گر—*gar*, n. m. a manufacturer of saltpetre.

شوربا *shorbá*, P. n. m. Broth; soup.

شورش *shorish*, P. n. f. Confusion; disturbance.

شوراء پشت *shorah pusht*, P. adj. Unruly; refractory.

شوراء پشتي *shora pashti*, P. n. f. Refractoriness.

شوريات *shoriyat*, P. n. f. Saltiness; brackishness.

شوريدة *shorida*, P. adj. Disturbed; mad; dejected. شوريدة حال—*hál*, adj. mad. شوريدة—*khátir*, adj. melancholy. [a particle.

شوشة *shosha*, P. n. m. An ingot; ships; a part;

شوق *shauq*, A. n. m. Desire; love; eagerness; fondness; zeal; pleasure; interest; gaiety; curiosity. شوق ذوق—*zauq*, n. m. pleasure; delight.

شوقين *shauqín*, P. adj. Fond of; desirous; loving; devoted to; n. m. a fancier; an amateur; an enthusiast.

شوقية *shauqia*, adv. Lovingly; eagerly.

شوك *shok*, शोक, H. n. m. Grief; mourning.

شوكات *shaukat*, A. n. f. Dignity; magnificence; grandeur; state; pomp.

شوله *shola*, P. n. m. A dish of rice and pulse boiled together and given to sick persons, (*khichri*).

شوم *shúm*, A. adj. Black; unfortunate; unlucky; miser. شوم بخت—*bakht*, adj. unfortunate; wretched. شوم مزاج—*mizáj*, a. niggard; stingy. شوم خلیع—*taba*, ill-tempered.

شومزا *shúmzá*, n. शूमडा, } H. adj. Miserly; }
شومزى *shúmzi*, f. शूमडी, } miser.

- شومیت *shúmiyat*, A. *n. f.* Niggardliness ; avarice.
- شوهر *shauhar*, P. *n. m.* A husband.
- شوهری *shauhari*, P. *adj.* Of or belonging to a husband.
- شہ *shah*, (*Cont. of Sháh*), P. *n. m.* A king ; a term in chess when the king only can move.
- شہباز — *báz*, *n. m.* a royal falcon. شہبازا — *bázá*, *n. m.* the companion of a bridegroom. شہپر — *par*, *n. m.* the strongest feather in a bird's wing. شہتیر — *tír*, *n. m.* a beam. شہرگ — *rag*, *n. f.* the great artery. شہزادہ — *záda*, *n. m.* a prince. شہزور — *zor*, *adj.* very strong or powerful ; gallant ; brave. شہزوری — *zori*, *n. f.* great strength ; valour. شہسوار — *sawár*, *n. m.* a good rider ; a horse-breaker. شہ مات — *mát*, check-mate. شہ نشین — *nashín*, *n. f.* a royal seat. (*See* شاه *sháh*) [a meteor ; flame.
- شہاب *shiháb*, A. *n. m.* A brightly shining star ; شہاب *shaháb*, P. *n. m.* The red colour extracted from safflower.
- شہاد *shahád*, P. *n. m.* (*Plu. of Shahíd*). Evidence ; witnesses.
- شہادت *shahádat*, P. *n. f.* Evidence ; testimony ; witness ; martyrdom شہادت تائیدی — *i-tá'idí*, *n. f.* corroborative evidence. شہادت تحریری — *tahrírí*, documentary evidence. شہادت حضوری — *i-huzúrí*, ocular evidence. شہادت ظنی — *zanní*, presumptive evidence. شہادت عینی — *'ainí*, an eye-witness. شہادت نامہ — *náma*, a testimony in writing. روز شہادت — *roz-i*—, the day of martyrdom of Husain ; the tenth of Mohurram. دینا شہادت — *dená*, *v.* to give evidence. لینا شہادت — *lená*, *v.* to take evidence.
- شہامت *shahámat*, A. *n. f.* Generosity ; bravery ; stoutness of heart ; ingenuity.
- شہانہ *shahána*, P. *adj.* Princely ; royal *n.* a musical mode.
- شہتوت *shahútút*, P. *n. m.* Mulberry.
- شہد *shahd*, *shahad*, P. *n. m.* Honey ; (*madhu*) anything very sweet. شہد کی مکھی — *ki makkhí*, *n. f.* a bee. شہد لگا کر چاٹنا — *lagá kar chatná*, (*colloq.*) *v.* to keep a useless thing very carefully.
- شہدا *shohadá*, A. *n. m.* (*Plu. of شہید Sháhíd*) Martyrs.
- شہدا *shuhdá*, *شُھدَا*, H. *n. m.* A profligate ; a rake ; a vagabond ; a scoundrel. شہدا پن — *pan*, *n. m.* rakishness ; dissoluteness. شہدا پن کرنا — *pan karná*, *v.* to play the part of a scoundrel.
- شہر *shahr*, P. *n. m.* A city. شہر آشوب — *ashob*, *n. m.* a poem on a ruined city. شہر بسانا — *basána*, *v.* to found a city. شہر بدر — *badar*, *n.* banishment ; exile. شہر بدر کرنا — *badr karná*, *v.* to banish. شہر بند — *band*, *n.* the walls of a city ; a prison. شہر پناہ — *panáh*, *n. f.* the walls of a city ; fortifications of a town. شہر دار — *i-khamoshán*, a cemetery. شہر دار — *dár*, a fowler ; a huntsman. شہر غریب — *garíb*, a stranger ; a traveller. شہر گرد — *gard*, *n. m.* a city patrol.
- شہرت *shuhrat*, A. *n. f.* Beknowa ; fame ; report ; rumour. شہرت پیدا کرنا — *paidá karná*, *v.* to become famous ; to acquire a reputation for.
- شہرہ *shuhra*, A. *n. m.* *See* شہرت *shuhrat*. شہرہ آفاق — *i-áfáq*, *adj.* known over the world ; of world wide celebrity.
- شہری *shahrí*, P. *n. m.* A citizen ; a townsman ; *adj.* of or belonging to a city.
- شہریار *shahryár*, P. *n. m.* A king ; a prince
- شہریاری *shahryári*, P. *adj.* Royal ; imperial ; *n. f.* empire ; royalty ; sovereignty.
- شہریہ *shahriyat*, P. *n. f.* The polished manners of a city ; civility ; population ; extent of a city. [a shade of red.
- شہلا *shahlá*, A. *adj.* Having dark grey eyes with
- شہنائی *shahnái*, P. *n. f.* A musical pipe ; a flute ; a clarion ; flageolet.
- شہانشاہ *shahansháh*, P. *n. m.* Emperor.
- شہید *shahíd*, A. *n. m.* A Mohammadan killed in a battle ; a martyr. شہید ہونا — *honá*, *v.* to be killed in a battle against infidels ; to become a martyr.
- شے *shai*, A. *n. f.* A thing ; an object ; a matter ; an article, &c.
- شیاطین *shayátín*, A. *n. m.* (*Plu. of شیطان Shaitán*), Devils ; demons.

شہام shyám, श्याम, S. *adj.* Black or dark-blue.
 شہب sheb, P. *n. m.* A declivity; descent; *adv.* at the bottom (of); under; below.
 شہب shaib, A. *n. m.* Whiteness (of the hair); old age.
 شہت shít, शीत, S. *n. f.* Coldness; frigidity; cold weather; winter.
 شہتال shital, शीतल, S. *adj.* Cool; chilly; frigid.
 شہخ shekh, A. *n. m.* A venerable old man; a chief of a tribe, or of a village; a prelate; the second of the four classes into which Mohammadans are divided. شہخ چالی—chillí, *n. m.* a traditionary jester; a fool; rogue. شہخ ڈونڈو—dondú, *n. m.* a figure dressed up by way of sport, or as a charm to stop rain. شہخ سددو—saddo, one of the malignant deities made responsible for many diseases, and hence worshipped by women.
 شہخی shekhí, शोकी, H. *n. f.* Boasting; bragging; شہخی باز—báz, *n. m.* a boaster. شہخی مارنا—márná, *v.* to boast; to brag. شہخی نکالنا—nikálná, *v.* to humble one's pride.
 شہیدا shaidá, P. *adj.* Mad; deeply in love; *n. m.* a lover; a madman.
 شیر shír P. *n. m.* Milk. شیر خوار—khwár, a suckling; an infant; a babe. شیر دار—dár, *adj.* milch; giving much milk. شیر و شکر—o-shakar, affection; close intimacy; intimate friend. شیر گرم—garam, *adj.* luke-warm. شیر مال—mál, *n. f.* bread kneaded with milk. شیر نئے—i-nae, juice of the sugarcane.
 شیر sher, P. *n. m.* A tiger; a lion; (*Met.*) a brave man. شیر آبی—i-ábí, *n. m.* an alligator. شیر بابار—i-babar, *n. m.* a lion. شیر بچہ—bachha, *n. m.* a whelp; a cub. شیر خدا—i-Khudá, a title of Ali. شیر گردوں—i-gardún, the sun; sign Leo. شیر مرد—mard, *n. m.* a brave man; *adj.* brave; overpowering. شیر مردی—mardí, *n. f.* bravery. شیر ہونا—honá, *v.* to get the upper hand; to overcome.
 شیرازہ shírázá, P. *n. m.* The ends of the stitching of a book. شیرازہ بندی—bandí, *n. f.* the binding of a book. [tiger or lion.
 شیرانا sherána, P. *adj.* Tiger-like; fierce as a

شیر خشک shír-khísh, P. *n. f.* A substance which rests like dew on certain trees and is used in medicine; manna.
 شیرنی sherní, P. *n. f.* A tigress; a lioness.
 شیرنی شہنی shírní, P. *n. f.* (*Corr of شیرینی Shiríní*). Sweetmeats, etc., offered in memory of saints.
 شیرہ shíra, P. *n. m.* Syrup, juice (of fruit); new wine. شیر جان—i-ján, sap of existence; essence of life.
 شیرین shírín; P. *adj.* Sweet; pleasant; gentle. شیرین ادا—adá, *adj.* of sweet or pleasing manners. شیرین زبان یا کلام—zabán yá kalám, *adj.* sweet-spoken; dulcet; gentle voiced: eloquent. شیرین زبانی یا شیرین گفتار—guftár, *n. f.* sweet speech. شیرین طبع—taba', of mild disposition. شیرین لب—lab, *adj.* sweetlipped.
 شیرینی shíríní, P. *n. f.* Sweetness; sweetmeat.
 شیشہ shísha, P. *n. m.* Glass; a looking-glass; a bottle; a glasspane. شیشہ باز—báz, *n. m.* a juggler. شیشہ ہاشہ—basha, *adj.* brittle; delicate; tender. شیشہ دکھانا—dikhaná, *v.* to show looking-glass (the practice of barbers, with the view of ascertaining whether their services are required) شیشہ ساعت—sá'at, *n. m.* an hour-glass. شیش محل—shísh mahal, *n. m.* A room of which the walls are inlaid with glass panes; a crystal palace.
 شیشی shíshí H. शशी, *n. f.* A small glass; a phial. شیشی سرنگھانا—sungháná, to make one smell hartshorn or smelling salts; to administer chloroform, &c.
 شیطان shaitán, A. *n. m.* Satan; the devil; an evil genius; a mischievous imp; one who leads into error or mischief. شیطان سر پر چڑھنا—sar par chāḥná, to be possessed by the devil. شیطان کا لشکر—ká lashkar,imps; boys. شیطان کی آنت—kí ánt, anything very long and complicated. شیطان کی خالہ—kí khála, *n. f.* mischief making woman.
 شیطانی shaitání, P. *adj.* Devilish; diabolical. شیطانی حرکت—harkat, *n. f.* diabolical act; wickedness.

شیعه shí'á, A. *n. m.* A follower of Alí ; a sect opposite to *Sunni*.

شیفته sheftah, P. *adj.* Infatuated ; enamoured. رنگ شیفته—rang, the smooth red peach ; an apricot (*shatrang*). هونا شیفته—honá, to be mad (after) ; to be enamoured (of).

شیکه shíghra, शीघ्र S. *adj.* Speedy ; quick.

شیلان shilán, P. *n. m.* A table-cloth. [blemish.

شین shain, A. *n. m.* Disgrace ; dishonour ;

شیوه shewa, P. *n. m.* Manner ; habit ; way ; trade ; business (*chál, rawish, tarz*).

شیهه shíha, P. *n. m.* The neighing of a horse.

(ص)

صád, *swdd*, called. صاد مهمله sád-e-muhmilá, or صاد غیر متعومه sád-e-gáir manqúta, is the 20th letter of the Urdú alphabet, and fourteenth of the Arabic ; it does not properly occur in the Persian language. In *abjad*, it stands numerically for 90. As an abbreviation, (ص) is used for صمیم *q. v.* صونا (ص) swád kárná, to mark a document, &c, with this letter implying that it has been examined, checked or approved ; to approve ; to sanction ; to grant.

صابر sábir, A. *adj.* Patient.

صابن sában, } A. *n. m.* Soap, P. A kind of
صابون sábuñ, } sweetmeat, (a mixture of
sesame.).

صاحب sáhib, A. *n. m.* A companion ; a lord ; a ruler ; a master ; a gentleman ; an European gentleman ; God ; a title of courtesy ; Master ; Mr. ; Sir ; possessor ; *adj.* possessing ; possessed of ; endowed, with. (*Plu.* اصحاب *asháb*, P. اصحابان *Sahibán*), used in comp., as : صاحب اختیار *i-ikhtiyár*, one vested with authority or power. صاحب اخلاق *i-ikhlaq*, *adj.* polite. صاحب اقبال *i-iqbál*, *adj.* fortunate ; prosperous. صاحب تاج *táj*, *n. m.* possessor of a crown ; a king. صاحب تخت *i-takht*, *n.* the occupant of a throne ; a king. صاحب تمیز *i-tamíz*, *adj.* intelligent. صاحب جانداد *i-jáedád*, *n. m.* a land-holder ; a householder. صاحب بندوبست *i-bandobast*, settlement officer.

صاحب جمال *i-jamál*, *adj.* handsome ; beautiful.

صاحب خانه *i-khána*, *n. m.* master of a house ;

a host. صاحب دل *i-dil*, *n. m.* a good man.

صاحب زادہ *i-záda*, *n. m.* a young gentleman of

good family ; son. صاحب سلامت *i-salámat*, *n. f.*

compliments ; intimacy ; acquaintance. صاحب

سلیقه *i-salíqa*, *n. m.* endowed with taste.

صاحب ضلع *i-zila'*, *n. m.* an officer in charge of

a district. صاحب غرض *i-garaz*, *a.* selfish.

صاحب کرامت *i-karámat*, *a.* a possessor of

miraculous power. صاحب کمال *i-kamál*, *adj.*

endowed with supernatural powers ; perfect ;

accomplished. صاحب مقدر *i-maqdúr*, *n. m.* a

man of property ; a man of means. صاحب منزلت

i-manzilát, *n. m.* a man of rank or dignity.

صاحب عقل *i-'aql*, an intelligent man.

صاحبان sáhibán, A. *n. m. Plu.* Gentlemen ;

Europeans. صاحبان انگریز *i-angrez*, English

gentlemen. صاحبان عالی شان *i-'álishán*, officers

and gentlemen of high dignity.

صاحبه sáhiba, A. *n. f.* A lady ; a mistress.

صاحبی sáhibí, A. *n. f.* Rule ; influence ; sway.

صاحبی کرنا *kárná*, *v.* to rule over ; to govern.

صادر sádir, A. *adj.* Proceeding ; going forth ;

issued ; passed ; derived. صادر کرنا *kárná*, *v.*

to issue ; to pass an order. صادر ہونا *honá*,

v. to be issued or enacted ; to be derived ; to

happen ; to be committed.

صادق sádiq, A. *adj.* True ; sincere ; faithful ;

voracious ; (a man) of his word. صادق القول

ulqaul, true to one's word. صادق آنا *áná*, *v.*

to come true ; to be verified (in) ; to suit ; to

fit ; to apply.

صادقی sádiqí, A. *n. f.* Sincerity ; truthfulness.

صاف sáf, A. *adj.* Clean ; clear ; pure ; open ;

bright (sky) ; smooth ; legible ; apparent ;

innocent ; candid ; frank ; indisputable, precise

(as an account, &c.) ; downright. صاف بیان کرنا

bayán kárná, *v.* to make a clear statement ;

to speak out. صاف دل *dil*, *adj.* open-hearted ;

frank ; guileless ; pure-hearted. صاف رہنا

rahná, *v.* to be pure ; to be honest. صاف کرنا

kárná, *v.* to clean ; to cleanse ; to purify ; to

wash ; to make a fair copy ; to eat up ; to

clear (a jungle, &c.) صاف کر جانا *kar jáná*, *v.*

to make a clean sweep (of). صاف ہونا — honá, *v.* to be cleaned; to be settled. - صاف چھت جانا — chhut jāná, — nikal áná, to get clean away; to get off scotfree. [head.

صافہ safah, *A. n. m.* A cloth worn round the

صافی safí, *P. n. f.* Cleanness; purity; sincerity; a filter; a strainer; a wiper; a duster; a cloth with which a kettle or pot is lifted off the fire.

صالح saleh, *A. adj.* Good; virtuous; righteous.

صانع sana', *A. n. m.* An artificer; the maker; the creator. صانع مطلق — i-mutlaq, the creator of the universe. صانع قدرت — i-qudrat, the Author of Nature.

صائم saem, *A. n. m.* Abstaining (from food, &c.); thirsty; a faster. صائم الدھر — ud-dahr, *n. m.* one who fasts regularly.

صبا sabá, *A. n. f.* A morning breeze; a gentle breeze; zephyr.

صباح sabáh, *A. n. f.* The morning; daybreak; dawn. صباح الخير — ul-khair, (morning salutation) Good morning. صباح علي الصباح — 'al-al — at dawn; early in the morning.

صباحت sabáhat, *A. n. f.* Fairness of complexion; elegance; beauty; comeliness.

صباغ sabág, *A. n. m.* A dyer.

صبح subah, *A. n. f.* Morning; dawn. صبحم — dam, early morning; dawn of day. - صبح خیزاں — khezá, — khez, rising early in the morning. صبح ہونا — honá, *v.* to dawn. صبح شام — shám karná, to put off from time to time; to evade; to shilly-shally.

صبر sabr, *A. n. f.* Patience; endurance; sufferance; submission; resignation. صبر پڑنا — paṛná, patient suffering (of one oppressed) to be visited on (the oppressor). صبر پڑرنا — baṛoná, to store up calamity or evil (for oneself through wrong doing); to reap the reward of evil. صبر کرنا — karná, *v.* to have patience; to wait; to bear; to endure. صبر ہونا — honá, *v.* to have patience; to be contented or satisfied. صبر ہے — be —, *adj.* impatient. صبر ہے صبری — be —, *n. f.* impatience. [morning.

صبروحی sabúhí, *A. n. f.* Wine drunk in the

صبروری sabúrí, *A. n. f.* Patience; forbearance.

صبری sabí, *A. n. m.* A youth; a boy. *Plu.* صبیان sabiyá, youths; boys.

صحاب sihab, *A. n. m.* Companions.

صحابت sahabat, *A. n. f.* Society. [plains.

صحاری saharí, *A. n. m.* (*Plu.* صحرا). Deserts;

صحافی sahaf, *A. n. m.* A bookbinder.

صحبت sahbát, *A. n. f.* Company; society; meeting, a fair. صحبت داری — dari, *n. f.* keeping company with.

صحبت کرنا — karná, *v.* to keep company with. صحبت یافتہ — yafṭa, *p. adj.*

trained in or used to good society; well bred. صحبتیں دکھنا — eḡ dekhná, to be used to society.

صحابتی sahbátí, *A. n. m.* Companion; comrade.

صحیح sehat, *A. n. f.* Correctness; accuracy; soundness; validity; confirmation; health.

صحیح بخشش — baḡhsh, *adj.* healthy; curative; sanitary. صحیح پانا یا ہونا — páná ya honá, to recover.

صحیح خانہ — khána, *n. m.* necessary; a privy. صحیح نامہ — náma, a certificate of health; corrigenda.

صحرا sahrá, *A. n. m.* A sandy desert; forest;

wilderness; a plain. صحرا نشین — nashín, *n. m.*

a hermit. صحراے لاق و داغ — i-laq-o daq, a wilderness.

صحرا زرد — naward, *n. m.* wanderer of the desert. صحرا زردی — nawardí, *n. f.* wandering in the desert

صحرائی sahráí, *A. adj.* Of the desert; wild.

صحن sahn, *n. m.* A courtyard; an area. صحن

چمن — i-chaman, a lawn.

صحنک sahnak, *P. n. f.* A small earthen dish or plate.

صحیح sahih, *A. adj.* Right; correct; accurate; perfect; entire; genuine; sound; healthy.

صحیح البدنی — ul-badání, soundness of body. صحیح

العقل — ul-'aql, *adj.* of sound mind. صحیح النسب — ul-nasb, *adj.* legitimate.

صحیح سالم — salim, *adj.* safe and sound. صحیح کرنا — karná, *v.* to

correct; to sign. صحیح ہونا — honá, *v.* to be

corrected; to be signed. [leaf; a page.

صحیفہ sahfá, *A. n. m.* A book; a volume; a

صد sad, *A. adj.* Hundred; cent. صد بزرگ — barg, *n. m.* a many-leaved rose, the Indian marigold

(*genda*). صدپا—*pá*, *n. m.* a centipede (*kankha-jur*; *gojar*). صدها *sadha*, a great many.

صدا *sadá*, *A. n. f.* Sound; tone; voice; rumour; echo.

صدارت *sadárat*, *A. n. f.* The office of prime minister or of chief justice; premiership.

صداع *sudá'*, *A. n. m.* Headache; vertigo.

صداقت *sadáqat*, *A. n. f.* Truth; sincerity; candour; fidelity.

صدر *sadar*, *A. adj.* Principal; capital; *n. m.* the chest; chief; the seat of Government; a military cantonment. صدر اعلى *-á'lá*, *n. m.* a subordinate judge. صدر اعظم *-i-á'zam*, a prime minister.

صدر بورد *-bord*, *n. m.* the Board of revenue. صدر ديوان اعلى *-diwán-i-á'lá*, *n.* a chancellor. صدر عدالت *-i-'adálat*, the supreme court of justice. صدر مقام *-maqám*, *n. m.* headquarters. صدر نشين *nashín*, a president.

صدري *sadrí*, *P. n. f.* A jacket; a waistcoat.

صدف *sadaf*, *A. n. f.* A shell; a pearl; mother of pearl.

صدق *sidq*, *A. n. m.* Truth; sincerity. صدق دل سے *-dil se*, *adv.* sincerely.

صدقة *sadqa*, *A. n. m.* Alms dedicated to pious uses; propitiatory offerings; sacrifice; gift. صدقة چانا يا ہونا *-jána yá honá*, *v.* to become a sacrifice for the welfare of another. صدقة کرنا *-karná*, to sacrifice for the welfare of another.

صدمة *sadma*, *A. n. m.* A blow; a shock; accident; calamity; collision. صدمة اٹھانا *-uthána*, *v.* suffer a shock; to meet with misfortune; to experience a shock; to suffer a blow.

صدمة پہنچانا *-pahunchána*, *v.* to give one a blow; to bring injury on one; to hurt.

صدر *sudúr*, *A. n. f.* Proceedings; issuing; taking place.

صدی *sadí*, *P. n. m.* A century; a centenary. صدی فی صدی *-fi*, per cent.

صديق *siddíq*, *A. n. m.* A faithful witness of the truth; a title of Joseph; *adj.* just; true; sincere.

صراحت *saráhat*, *A. n. f.* Clearness; pureness; specification; perspicuity; *adj.* pure; genuine; clear; evident. صراحت کرنا *-karná*, *v.* to make a statement; to specify; to elucidate.

صراحتاً *saráhatan*, *A. adv.* Clearly; expressively; evidently.

صراحی *surahí*, *A. n. f.* A goblet; a long-necked flask. صراحی دار *-dár*, *adj.* shaped in the form of a *surahí*; goblet-shaped. صراحی دار گردن *-dár gardan*, (*poet*) a long and beautiful neck.

صراط *sirát*, *A. n. f.* A direct road; the name of the bridge over the midst of Hell, across which good Moslems expect to pass into Paradise (it is said to be sharper than a sword and thinner than a hair). صراط المستقیم *-ul-mustaqím*, the right way, i. e., the Moham-madan religion. [banker.]

صراف *sarráf*, *A. n. m.* A money-changer; a banker.

صرافة *sarráfa*, *A. n. m.* The place where bankers transact their business; a bank; the exchange; a money-market.

صرافی *sarráfi*, *A. n. f.* Banking; money-changing.

صرصر *sarsar*, *A. n. m.* A cold boisterous wind.

صرع *sara'*, *A. n. f.* Epilepsy; ecstatic catalepsy (*mirgi*).

صرف *sarf*, *A. adj.* Pure; mere; unmixed; *adv.* purely; solely; merely; only; alone.

صرف *-karná*, *v.* to disburse; to spend.

صرف *-o-nahav*, *n. f.* Etymology and syntax.

صرف *-honá*, *v.* to be expended.

صرف *sarfa*, *A. n. m.* Expenditure; cost; etymology; accident; conjugation.

صرف *-karná*, *v.* to disburse; to spend.

صرف *-o-nahav*, *n. f.* Etymology and syntax.

صرف *-honá*, *v.* to be expended.

صرف *sarfa*, *A. n. m.* Expense; economy.

صريح *sarfí*, *A. adj.* Etymological; *n.* an etymologist; a grammarian.

صريح *surrah*, *A. n. m.* A purse.

صريح *sarih*, *A. adj.* Clear; apparent; evident; great; palpable; manifest; *adv.* evidently; absolutely; in toto.

صريحاً earhan, A. *adv.* Clearly; evidently; expressively; plainly; palpably. [perverse.

صعب sa'b, A. *adj.* Hard; difficult; troublesome;

صعوبة sa'ubat, A. *n. f.* Hardship; distress; trouble. [Math.] involution.

صعود sa'úd, A. *n. m.* Ascent; ascension; (in

صورة sa'wah A. *n. m.* The pied wagtail; a sort of sparrow with a red head; a water wagtail (*mamolá*).

صغار sagár, A. *n. m.* (*Plu. of* صغیر *Sagir*). Small; n. little people; the small. صغور و كبار—o the populace at large.

صغر sagr, A. *n. m.* Smallness; minuteness.

صغرى sagrá, A. *n. m.* (in *Log.*) The minor term of a syllogism; *adj.* smallest; least.

صغير sagir, A. *adj.* Small; junior; minor; inferior. صغیر سن—sin, *n. m.* a minor; a youth.

صغیر سنی—sini, *n. f.* minority.

صف saf, A. *n. f.* Row; rank; order; line; file; a long mat. آرا—ará, *adj.* arraying; marshalling.

آرا صف آرانی—aráni, *n. f.* array; battle array; parade. باندها—bándhna, *v.* to draw up in flanks.

بسته—basta, *adj.* drawn up in a line or row. صدر—dar, *adj.* and *n.* rank-breaking; a valiant warrior.

صف جنگ—jang, *n. f.* the ranks of war; the field of battle. صف کشی—kashi, *n. f.* drawing forth an army; putting an army in battle array.

صف safá, A. *adj.* Pure; clean; *n. f.* purity; cleanness; transparency; serenity (of life or mind).

چاٹ کرنا—chaṭ karná, *v.* to have clean; to lick a plaster perfectly clean

صفائی safái, P. *n. f.* Clearness; cleanness; purity; conservancy; smoothness; openness; settlement; destruction.

کرنای—karná, *v.* to purify; to cleanse; to make clean work of; to pay off; to settle matters; to effect a compromise.

هونا—honá, *v.* to be made clean; to be settled.

صفت sifat, P. *n. f.* Praise; quality; attribute; description; adjective.

صفت مرصوف—mausúf, an adjective with its substantive.

صفحة safhah, A. *n. m.* A page (of a book), face; surface. صفحه هستی—i-hastí, the face of the

earth; the page of existence. صفحه هستی—i-hastí se nám-o nishán miṭá-ná, to wipe out all trace of one from off the face of the earth; to annihilate.

صفر safar, A. *n. m.* The second month of the Mohammadan year.

صفر sifar, A. *n. m.* A cypher; a zero; nought.

صفرا safrá, A. *n.* Bile; gall.

صفرای safráwí, A. *adj.* Billious.

صفوف safúf, A. *n.* (*Plu. of* صف *Suf*). Ranks; rows; lines.

صفي safí, A. *adj.* Pure; just.

صغیر safir, A. *n. f.* Whistling; singing of birds.

صلا salá, A. *n. f.* Invitation; proclamation; call; cry (of an auctioneer or salesman, etc.); challenge of a foe.

صلابت salábat, A. *n. f.* Firmness; hardness; rigour; severity; majesty; awe.

صلاح saláh, A. *n. f.* Advice; counsel; choice. صلاح دینا—dená, *v.* to advise; to counsel.

صلاح کار—denewálá yá—kár, *n. m.* a counsellor; an adviser. صلاح کرنا—karná, *v.* to consult; to take advice.

صلاح کر لینا—kar lená, to hold consultation with; to advise (with).

لینا—lena, to take the advice of; to consult.

صلاحیت saláhiyat, A. *n. f.* Capacity; gentleness; goodness; virtue; chastity; sanctity; well-being; capability.

صلب sulb, A. *n. m.* The loins; (*Met.*) offspring.

صلب salb, A. *n. m.* Crucifixion; tugging; fretting. [legitimate.

صلبی sulbí, P. *adj.* Descended or sprung from;

صلح sulh, A. *n. f.* Peace; treaty; truce; reconciliation. صلح اختیاری—ikhtiyári, a voluntary reconciliation.

صلح چند روزه—i-chandroza, an armistice. صلح شکنی—shikani, *n.* a breach of the peace.

صلح کامل—i-kámil, permanent or durable peace. صلح کرنا—karná, to be reconciled; to make a truce.

صلح کل—kul, *n. f.* perfect reconciliation; a definite treaty. صلح نامه—náma, *n. m.* a deed of compromise; a treaty.

صلحا sulhá, A. *n. m.* (*Plu. of* صالح *Sálih*). The just; the virtuous; men of wisdom or counsel.

صلحه *salha*, A. n. m. Friendship.

صلوات *salwát*, A. n. f. Prayers; blessings; benedictions. صلواتیں سنانا *salwáteq sunána*, (*iron* and *colloq.*) to abuse roundly.

صله *silah*, A. n. m. Connexion; remuneration; a present; (in *Gram.*) the relative particle.

صليب *salib*, A. *adj.* Hard; three-cornered; *n. f.* a cross; a crucifix. صلیب پر چڑھانا *par chaháná*, to crucify. [deaf and dump.

صمم *summ*, A. *adj.* Deaf. صمم و بکم *o-bukm*, *adj.*

صمد *samad*, A. n. m. Lord; God. *adj.* High; sublime; eternal.

صمغ *samag*, A. n. m. Gum.

صمیم *samím*, A. *adj.* Pure; sincere.

صنادیق *sanádíq*, A. n. m. (*Plu. of صندوق Sandúq*). Boxes, &c. [men.

صناع *sanná'*, A. n. m. Artificers; handicrafts-صناعات *saná'at*, A. n. f. Art; trade.

صنائع *sanáe'*, A. n. m. Arts; crafts; miracles; wonderful works. صنایع بدایح *badáe'*, *n. m.* rare and wonderful works of arts; rhetoric; figures of speech.

صندل *sandal*, A. n. m. Sandalwood.

صندلی *sandalí*, A. *adj.* Of the colour of sandalwood; made of sandal-wood.

صندلی *sandalí*, P. n. f. A bench; a seat; a movable scaffold; (it is said to have been the custom in old times to place the boots or shoes of princes and nobles on a bench in an antechamber, hence the term *sandalí*).

صندوق *sandúq*, A. n. m. A box; chest; trunk; case; coffin. [casket.

صندوقچه *sandúqcha*, A. n. m. A small box; a صندوقی *sandúqí*, A. *adj.* Like a box (a tomb; scabbard).

صنعت *san'at*, A. n. f. Art; skill; trade; profession; handicraft; fabrication; machine; mystery; a figure of speech. صنعت گر *gar*, *n. m.* an artist; an artisan.

صنعتی *san'atí*, A. *adj.* Artistical.

صنف *sinf*, A. n. f. Species; kind.

صنم *sanam*, A. n. m. An idol; a mistress; a

sweetheart; a children's game. صنم خانہ *khána yá-kadah*, *n. n.* an idol temple; a pagoda (*butkhána*).

صنوبر *sanubar*, A. n. m. Any cone-bearing tree; the pine tree

صواب *sawáb*, A. n. m. Rectitude; a virtuous action; the reward (of good work, faith, &c.). جواب یا ثواب *jawáb bá*—, good, favourable, just or proper reply. [Provinces.

صوبت *subaját*, P. n. m. (*Plu. of صوبه Suba*).

صوبه *súba*, P. n. m. A province. صوبه دار *dár*, *n. m.* the governor of a province; the chief or lieutenant of a province; a native military officer, whose rank corresponds to that of a captain. صوبه داری *dári*, *n. f.* lieutenantcy of a province.

صور *súr*, A. n. f. A trumpet; a horn (musical); a clarion; the trumpet of Israfil (the angel of Death).

صورت *súrat*, A. n. f. Face; countenance; form; figure; appearance; case; plight; condition; manner; means; (in *Gram.*) mood. صورت آشنا *áshná*, *adj.* knowing one by sight only. صورت آشنائی *áshnáí*, *n. f.* acquaintance. صورت بدلتا *badalná*, *v.* to change; to transform. صورت بگازنا *bigárná*, *v.* to disfigure; to deform. صورت بنانا *banáná*, *v.* to give shape to; to form; to personate; to feign; to make faces at one. صورت پذیر کرنا یا پکرتنا *pízír karná yá pakarná*, *v.* to assume a form; to come into existence. صورت حال *i-hál*, *n. f.* a statement of the facts or circumstances of a case; a written declaration. صورت حرام *harám*, *adj.* good only to look at; fair without and foul within; spacious. صورت دکھانا *dikhána*, *v.* to appear. صورت کرنا *karná*, *v.* to plan. صورت در صورت یا در صورتیکه *dar—yá dar surate ke*, in case; provided that. صورت یہ ہے *yíh hai*, the fact is.

صوری *súrí*, A. *adj.* External; apparent.

صوف *súf*, A. n. m. Wool; silk or thread (put into an Indian inkstand).

صوفی *súfí*, A. n. m. A sect of Mohammadan devotees; an abstemious person; *adj.* wise.

صولات saulat, A. n. f. Violence; impetuosity; fury.

صوم saum, A. n. m. Fasting. صوم صلاوة—salát, fasting and prayer.

صومۃ sum'a, A. n. m. A monastery; the cell of a recluse; hermitage.

صیاد saiyád, A. n. m. A hunter; a fowler; a fisherman (shikári)

صیادی saiyádí, A. n. m. Hunting; fowling.

صیام siyám, A. n. m. Abstaining from food; a fast.

صیانت siyánat, A. n. f. Defence; support; preserving; guarding.

صيد said, A. n. f. Game; prey; chase; quarry (of a hawk); (Colloq.) a compact between pigeon-fanciers by which one may capture and keep as many of the other's pigeons as he can. صید افغان—afgan, n. m. killer of game. صید گاہ—gáh, n. f. a hunting ground.

صیغۃ siga, A. n. m. A mould (for casting metal); (in Gram.) tense, case, person, gender and number; trade; profession; section; department; a form of words used at a Muhammadan marriage. صیغۃ پڑھانا—parhána, v. to tie the nuptial knot. صیغۃ دیوانی—diwání, civil side or department. صیغۃ گرداننا—gardánna, v. to conjugate. مال—mál, revenue department. صیغۃ مفسی—i-mufsi, forma pauperis.

صیف saif, A. n. Summer (esp. May and June).

صیقل saiqal, A. n. f. Polishing; polish; cleaning. صیقل کرنا—karná, v. to polish. صیقل گر—gar, siql gar, n. m. a polisher.

(ض)

ض zád, zwád, (ض) called ضاد معجمۃ zád-e-mu-'ajjama, and ضاد مقولۃ e-manqút, is the 21st letter of the 'Urdú alphabet and the fifteenth of the Arabic. In Persian and Hindustání its pronunciation is hardly distinguished from that of (ذ) but in Arabic it is the mixed sound of d, th and z only to be

acquired from natives of that country. In abjad it stands for 800.

ضابطا zábta, A. n. m. A governor; a master; a possessor; adj. strict; punctual; patient.

ضابطگی zábtagi, P. n. f. Conformity to rule or law. بے ضابطگی be—, n. f. irregularity.

ضابطہ zábta, A. n. m. Ordinance; rule; regulation; law. ضابطہ برتنا—baratná, v. to act according to law. ضابطہ دیوانی—diwání, n. f. civil procedure. ضابطہ نوجداری—i-faujdarí, criminal procedure. باضابطہ bá—, adj. and adv. regular; formal; en regle. بے ضابطہ be—, adj. irregular; unusual. خلاف ضابطہ khiláf—, irregularly. [rediculer.

ضاحك zahik, A. n. m. Laughter (at); satirist; ضال zál, A. n. m. A prevaricator; adj. erring; going astray; forgetting.

ضامن zámin, A. n. m. A surety; security; bail; bondsman. ضامن در ضامن—dar zámin, a collateral security. حاضر ضامن házir—, security for personal appearance. نعل ضامن fe'l—, a security for good conduct. ضامن ہونا—honá, v. to be surety for another.

ضامنی zámíní, A. n. f. Security; surety; bail; pledge. ضامنی منظور کرنا—manzúr karná, v. to admit as a bail. نعل ضامنی fe'l—, n. f. security to keep the peace or for good conduct.

ضایع zaya', A. adj. Lost; destroyed. ضایع کرنا—karná, v. to destroy; to waste; to lose; to misapply. ضایع ہونا—honá, v. to be wasted; to die.

ضبط zabt, A. n. m. Check; control; restraint; the act of confiscating; confiscation; seizure; possession; resumption. ضبط کرنا—karná, v. to control; to restrain; to check; to seize; to confiscate; to resume. ضبط ہونا—honá, v. to be seized or confiscated.

ضبطی zabtí A. n. f. Confiscation; sequestration; seizure. ضبطی کے لائق—ke laiq, liable to seizure; contraband.

ضجور zajúr, A. adj. Distressed in mind; vexed; grieved; peevish; fretful.

ضحی } zuhá, A. n. m. Breakfast-time; the early part of the forenoon.

عید الضحیٰ 'id-uz-zuhá, *n. f.* Mohammadan festival observed on the tenth of *Zilhijja*, when an animal is sacrificed in commemoration of Abrahams sacrifice of his son Ismáil.

ضخامت zakhámat, *A. n. f.* Thickness ; bulkiness ; volume.

ضد zidd, *A. n. f.* The contrary of) ; the opposite (of) ; opposition ; contrariety ; reverse ; converse ; persistence ; stubbornness (*isrár aur hat*) *adj.* opposite ; contrary. ضد باندھنا — bāndhná, to be very persistent or importunate. پار — par, in despite of ; out of opposition (to). کڑنا — karná, *v.* to insist upon ; to persist ; to altercate ; to bandy words (with).

ضدی ziddí, *A. adj.* Perverse ; stubborn ; wilful ; contrary ; persistent ; wayward and unmanageable (as a child).

ضدین ziddain, *A. n. f.* Two things that are totally opposed to each other (as truth and falsehood ; east and west, &c.) ; opposites.

ضر zarr, *A. n. m.* Damage ; loss ; injury.

ضراب ziráb, *A. n. m.* Fighting ; striking with a sword.

ضراب zarráb, *A. n. m.* A stamper of coin ; a coiner ; a mint-master.

ضرب zarb, *A. n. f.* A blow ; stroke ; beating ; impression ; stamp ; pieces of cannon ; (in *Arith.*) multiplication ; making or constitution (a saying) ; proverbial ; a piece (as of cannon). ضرب

ضرب المثل — i-shadíd, grievous hurt. ضرب دینا — ul-masal, *n. f.* a saying ; a proverb. ضرب لگانا — dená, *v.* to multiply. ضرب مرکب — i-murakkab, *n. f.* compound multiplication. ضرب مفرد — mufrad, *n. f.* simple multiplication. حاصل ضرب — hásil —, *n. m.* the product. دار الضرب — dár-ul- —, *n. f.* a mint.

ضرر zarar, *A. n. m.* Injury ; damage ; loss ; detriment. ضرر پہنچانا — pahuncháná, *v.* to hurt ; to injure. ضرر خفیف — khaffif, slight injury. ضرر رسانی — rasání, *n. f.* causing injury. ضرر شدید — shadíd, *n. m.* grievous hurt.

ضروری zarúr, zurúr, *A. adj.* Necessary ; urgent ;

unavoidable ; essential ; indispensable ; obligatory ; *adj.* urgently ; certainly ; without fail ; of course ; peremptorily. ضرور بالضرور — bil- —, *adv.* urgently. جائے ضرور — jáe —, a necessary ; a privy.

ضرورت zarúrat, *A. n. f.* Necessity ; want ; exigency ; need. ضرورت پانا — parná, *v.* to have need of ; need (of a thing) to arise ; to have occasion (for). ضرورت مند — mand, *adj.* necessitous ; needy. ضرورت میں کام آنا — meḡ kám ání, *v.* to serve one in time of need.

ضروری zarúrí, *adj.* Necessary ; indispensable.

ضروریات zarúriyát, *A. n. f.* (*Plu. of* ضرورت *Zarúrat*) Necessaries.

ضعف zo'f, *A. n. m.* Weakness ; debility ; infirmity ; imbecility of mind or body ; a fainting ; fit. ضعف آنا — ání, *v.* to fall into a swoon. ضعف

بصارت — i-basárat, *n. f.* weakness of sight. ضعف العقول — ul-'aqlí, unsoundness of mind.

ضعیف za'if, *A. adj.* Weak ; infirm ; feeble ; old ; faint ; poor. ضعف الاعتقاد — ul-i'tiqád, of weak faith or belief ; credulous. ضعف الجسد — ul-jusá, emaciated in body ; insignificant in size or body. ضعف الحال — ul-hál, in wretched circumstances ; in distress. ضعف العقل — ul-'aql, *adj.* weak-minded. [old age.

ضعیفی za'ifí, *A. n. f.* Weakness ; infirmity ;

ضلع zilá, *A. n. m.* (in *Geom.*) A side ; a part ; a district ; a division ; a column (of a page) ; a kind of punning (*talázum-kádm.*) ضلع دار — dár, *n. m.* a district superintendent.

ضلال zalal, *A. n. m.* An error.

ضم zamm, *A. n. m.* Conjunction ; the vowel point (ء) pronounced as the Italian short u or as the English u in *full*.

ضماد zimád, *A. n. m.* A plaster ; liniment ; embrocation ; ointment ; bandage ; fillet.

ضمانت zamánat, *A. n. f.* Surety ; security. ضمانت

کرنا — par rihá karná, to discharge on bail ; to hold to bail. ضمانت دینا یا داخل کرنا — dená yá dákhil karná, *v.* to furnish security ; to give bail. قابل ضمانت — ke qábil, bailable. ضمانت نامہ — námah, *n. m.* security

bond.

ضمون zimn, A. n. m. The cover of a letter ; contents ; section ; clauses ; subject ; idea ; conception. ضمونا—karná, v. to include. ضمن میں—men, adv. in the fold of ; enclosed in ; in the course of ; by the way of.

ضمناً zimnan, A. adv. By implication ; comprehensively ; tacitly ; by the bye ; by the way.

ضمینی zimní, P. adj. Implicative ; collateral ; corroborative (as evidence).

ضمیر zamír, A. n. f. The mind ; heart ; conscience ; occupation ; idea ; (in Gram.) the pronoun.

ضمیری zamíri, A. adj. Of the mind or thought.

ضمیمہ zamíma, A. n. m. An addition ; an appendix ; a supplement ; a schedule.

ضوابط zawábit, A. n. m. (Plu. of ضابطہ Zábíta) Rules ; cannons ; laws.

ضیافت ziyáfat, A. n. f. A feast ; a banquet ; entertainment ; invitation. ضیافت کرنا—karná, to entertain ; to feast.

ضیغم zaígam, A. n. m. A lion.

ضیق zíq, A. n. f. Anguish ; distress ; difficulty ; oppression of spirit ; melancholy ; dilemma.

ضیق النفس—un-nafs, n. m. the asthma.

(ط)

ط toe, or Arabic *tá* called طائے غیر منقولہ یا طائے toe, or Arabic *tá* called طائے غیر منقولہ یا طائے *táe qair manqúla yá táe mahmíla*, is the 22nd letter of the Urdu alphabet and the 16th of the Arabic ; it does not occur in pure Persian and has no corresponding character in Sanskrit or Hindustani. Its genuine sound is stronger and harsher than that of ت. In *abjad* it stands for 9 and in almanacs for Capricorn.

طاب táb, A. adj. Agreeable ; pure ; clean ; excellent ; good.

طابق tábiq, A. p. adj. (Corr. of مطابق Mutábíq) Corresponding to ; agreeing with.

طارم tárim, P. n. m. A building of a circular form with an arched or cupola roof ; a dome ; a vault ; the vault of heaven (*tárim-i-á'lá*).

طاری tári, A. adj. Happening ; occurring ;

coming unexpectedly. طاری ہونا—honá, v. to prevail over ; to overshadow.

طاس táas, A. n. m. Brocade ; bowls ; cards.

طاسہ táasa, A. n. m. A kettle-drum ; a sort of tambourine.

طاعت tá'at, A. n. m. Devotion ; obedience ; submission.

طاعن tá'in, A. n. m. A reproacher ; a slanderer.

طاعون tá'ún, A. n. m. An epidemic ; a plague.

طاق تافح táfih, A. adj. Overflowing ; running over ; full of wine ; intoxicated.

طاق táq, A. n. m. An arch ; a cupola ; a recess in a wall ; a niche ; shelf ; an odd number, adj. unique ; singular ; unrivalled.

طاق پر رکھنا—par rakhná, v. to lay on the shelf ; to put aside ; to abandon.

طاق جفت—juft, n. m. the game of odd or even.

طاقات táqat, A. n. f. Strength ; power ; might ; capacity ; ability ; energy ; power of endurance.

طاقات آزمائی—ázmái, trial of strength. طاعت سے طاق ہونا—se táq honá, to be weak or powerless.

طاقات کرنا—karná, v. to use one's power ; to exert oneself (in). ور طاقات—war, adj. powerful. [small recess ; a small shelf.

طاقچہ táqcha, P. n. m. (Dim. of طاق Táq) A طاقی طاقی táqí, A. adj. Wall-eyed (a horse) ; squint-eyed (a man) ; arched. [cloth.

طاقہ táqah, A. n. m. A piece of silk or woollen

طاقیہ táqíya, A. n. m. A fillet, specially one worn under the head-dress ; a balcony ; a cornice.

طالب tálib, A. n. m. A seeker ; an inquirer ; an asker ; a lover ; a candidate ; adj. desirous ;

طالب دیدار—i-didár, n. m. a lover ; a suitor. طالب دنیا—i-duniyá, adj. worldly-minded.

طالب علم—i-ilm, n. m. searching after knowledge ; a student. طالب علمی—ilmí, n. f. search after knowledge ; study ; pupilage.

طالع tála', A. n. m. Lot ; fortune ; destiny ; adj. rising ; appearing (as the sun).

طالع آزمائی—ázmái, n. f. trying one's fortune.

طالع شناس—shinás, n. m. a fortune-teller ; astrologer ; a soothsayer. در طالع یا طالع در—

mand yá—war, *adj.* fortunate; wealthy. طامح
 وري—wari, *n. f.* good fortune; wealthiness.
 طامات támát, *P. n. m.* (*Plu.* of طامت T'ámát)
 Unintelligible talk; inconsistent speech; vain-
 glorying. [desirous.
 طامح táma', *A. adj.* Covetous; greedy; very
 طائس táús, *A. n. m.* A peacock.
 طاهر táhir, *A. adj.* Pure; chaste.
 طائر táer, *A. n. m.* (*Plu.* طيور Taiyúr). A bird.
 طائف táef, *A. adj.* Going round; circumambu-
 lating, *n. m.* night watches or patrols; a
 vision in a dream; a city in Hedjáz.
 طائفه táefah, *A. n. m.* A gang; a band of
 dancing girls and musicians; a caravan; a
 tribe; a nation; a band.
 طب tibb, *A. n. f.* The science of medicine;
 medical treatment.
 طبابت tibábat, *A. n. f.* The practice of medi-
 cine; the medical art.
 طباط tabbákh, *A. n. m.* A cook.
 طباشير tabáshir, *A. n. f.* The sugar of the
 bamboo; manna (*banslochan*).
 طباق tabáq, *A. n. m.* A large dish or tray; a
 plate; a basin; a bowl (*tashit*) كفاطى—kuttá,
n. m. sponger. [buffet (*tamáncha*).
 طاباچه tabánchah, *P. n. m.* A blow; a slap; a
 طابع tabáe', *A. n. f.* (*Plu.* of طابع Tabá').
 Natures; temperaments; dispositions.
 زبد tabarzád, *P. n. m.* Finest white sugar
 very hard or candied.
 طبع taba', *A. n. f.* Nature; disposition; tem-
 perament; edition (of a book &c.); print;
 impression طبع آزمائي—ázmái, *n. f.* trial of
 skill. زاد—zád, *adj.* original; *n.* a pro-
 duction of genius. طبع كرنا—karná, *n.* to print.
 طبعي taba'í, *A. adj.* Natural; innate; physical.
 جغرافيه جغرافيه—jugráfiya, physical geography.
 علم طبيعي ilm—, natural science; physics.
 طبق tabaq, *A. n. m.* Cover; a dish; a plate; a
 disc; an orb; storey of a house.
 طبقه tabqah, *A. n. m.* A storey; floor; stage;
 order; rank; class. طبقه التاجنا—ulat janá, *v.*
 to be destroyed or subverted (an empire).

طبل tabl, tabal, *A. n. m.* A large drum; a
 kettledrum. طبل زن—zan, a drummer.
 طبلچي tabalchí, *H. n. m.* One who plays on
 tabla.
 طبلق tablaq, *A. n. m.* A bundle of papers.
 طبلق tablaq, *A. n. f.* A little drum; an open-
 end cover.
 طبله tabla, *A. n. m.* A small tambourine.
 طبي tibbí, *A. adj.* Medical; medicinal.
 طبيب tabib, *A. n. m.* Physician. طبیب حاذق—i-
 háziq, *n. m.* an experienced physician.
 طبيبي tabíbí, *A. n. f.* The business of a
 physician.
 طبيخ tabíkh, *A. adj.* Cooked; dressed.
 طبيعت tabi'at, *A. n. f.* Mind; nature; disposi-
 tion; temperament; intrinsic quality; pro-
 perty. آنا—ána, *v.* to feel a natural
 liking (for); to be attached (to); to be fond
 (of). طبعيت الچهنا—ulajhná, *v.* to be puzzled.
 باهال هونا—bahál honá, *v.* to recover
 from sickness. بگونا—bigarná, *v.* to feel
 nausea; to be excited (the mind). بپر—
 bhar jáná, *v.* the mind to be satisfied.
 باهالنا—bahálná, *v.* to be amused. طبيعت
 پور زور دالنا—par zor dálná, to exercise one's
 skill. ايل هونا—alíl honá, *v.* to fall
 sick; to be indisposed. لگنا—lagná, *v.*
 to take interest in; to be attached to. لانا
 لانا—laráná, to grapple mentally with; to
 tackle (a difficulty, &c.).
 طبيعي tabi'í, *A. adj.* Natural; innate; physical.
 طبله tabelah, तबेला, *H. n. m.* A stable.
 طيش tapish, *P. n. f.* Heat; mental agitation.
 طپيده tapídah, *P. adj.* Agitated, distressed (esp.
 with heat); heated; palpitating.
 طحال tihál, *A. n. f.* The spleen (*tilli*).
 طراحي tarráh, *A. n. m.* An architect. طراحي
 tarráhi, *n. f.* architecture.
 طراز tarrár, *A. adj.* Eloquent; *n. m.* a pick-
 pocket; an impostor, a cut purse.
 طرازه tarárah, *A. n. m.* Quickness; speed. طرازه
 بهرنا—bharaná, *v.* to bound along (a horse) at
 full speed; to go at full speed.

طراری *tarrári*, A. n. f. Quickness ; eloquence ; finenoy.

طرز *tiráz*, A. n. m. Lace ; fringe ; embroidery ; manner of adorning ; (used as last member of compounds), as ; طرز دیباچہ *dibácha*—composer of prefaces or exordiums. سخن طراز *sukhan*—, eloquent.

طراوت *tarawát*, A. n. f. Freshness ; verdure ; dampness ; moisture ; humidity.

طرب *tarab*, A. n. f. Mirth ; cheerfulness ; joy. طرب انگیز—*angez*, *adj.* exciting mirth or joy. طرب گاہ—*gáh*, place of merriment.

طرح *tarah*, A. n. f. Manner ; mode ; form ; description ; plan ; design ; position ; air (*andáz*) : condition (*hál*) ; a line or verse set. طرح کا—*ba-ká*, *adj.* of various sorts. طرحدار—*dár*, *adj.* handsome ; graceful ; well-shaped. طرحداری—*pári*, *n. f.* beauty ; grace ; elegance. طرح دینا—*dená*, *v.* to overlook ; to disregard ; to pass over. طرح بے *be*—, badly ; severely. طرح کس *kis*—, how. طرح کسی—*kisi*—, some how or other.

طرز *tars*, A. n. f. Way ; form ; fashion ; manner. طرز کلام—*i-kalám*, phraseology ; context ; diction ; idiom.

طرف *taraf*, A. n. f. Side ; corner ; margin ; region ; quarter ; in the direction of ; in lieu of ; in right of. طرف سانی—*i-sáni*, *n. m.* the other side ; *para altera* (*Met.*) a wife ; a defendant ; an enemy. طرفدار—*dár*, *n. m.* a partisan ; a follower ; *adj.* partial. طرفداری—*dári*, *n. f.* partiality ; partizanship طرفدار کرنا—*dári karná*, *v.* to side with. طرف دار ہونا—*dár honá*, *v.* to take one's side. بر طرف *bar*—, dismissed. [of an eye.

طرفتہ العین *turfat-ul-'ain*, A. *adv.* The twinkling

طرفگی *turfagi*, P. n. f. Rareness ; wonderfulness.

طرفتہ *turfa*, A. *adj.* Wonderful ; strange ; extraordinary, *n.* a novelty ; a pleasing rarity ; a strange thing. طرفتہ یہ *yih hai*, the marvel is this ; wonderful to relate ; *mirabile dictu*.

طرفین *tarfain*, A. n. m. The parties concerned ; both parties ; the two sides of.

طرہ *turra*, A. n. m. An ornamental tassel worn in the turban ; a crest ; a curl ; a nosegay. طرہ دار—*dár*, *adj.* crested.

طریق *taríq*, A. n. f. Way ; road ; manner ; rites ; observances. طریق الشمس—*ul-shams*, the sun's course.

طریقہ *taríqat*, *taríqa*, P. n. m. and f. Fashion ; custom ; rites ; observances. طریقہ بتانا—*bataná*, *v.* to point out the proper course ; to direct. طریقہ برتنا—*baratná*, *v.* to work a system. اہل طریقہ—*n. m.* devout or religious persons ; devotees ; the sect of *Sufis*.

طشت *tasht*, P. n. m. A large basin, ewer or cup. طشت (از) ہونا—*az bám-honá*, to be divulged ; to become well-known ; to leak out. و طشت *o-chauki*, a commode. [saucer.

طشتی *tashtari*, P. n. f. A small plate ; a طعام *ta'am*, A. n. m. Victuals ; food. طعام بخش—*bakhsh*, *n. m.* a large spoon to serve out food with.

طعمہ *ta'ma*, A. n. m. Food ; bait.

طعن *ta'n*, } A. n. m. Taunt ; reproach ; cen-
طعنہ *ta'na*, } sure. طعنہ دینا یا مارنا—*dená yá marná*, *v.* to taunt ; to reproach. طعنہ زن—*zan*, *n. m.* a taunter ; reproacher. طعنہ زنی—*saní*, *n. f.* taunting ; reproaching.

طغرا *tugrá*, A. n. m. A sort of writing ; the royal titles prefixed to public papers which are generally written on a free ornamental hand ; the imperial signature.

طغیان *tugyán*, A. n. m. Disobedience ; rebellion ; perverseness ; insolence. [inundation.

طغیانی *tugyáni*, A. n. f. Overflowing ; deluge ;

طفل *tifl*, A. n. m. (*Plu.* اطفال *Atfál*) A child ; an infant. طفل شیر خوار—*i-shír khwár*, *n. m.* a sucking child. طفل مکتب—*maktab*, *n. m.* a school boy.

طفانہ *tifána*, A. *adj.* Childish.

طفلی *tifli* } A. n. f. Childhood ;
طفولیت *tafúliyat* } infancy.

طفیل *tufail*, A. n. m. Intervention ; mediation ; a parasite ; *adj.* by the means of ; through the agency of.

طفیلی *tufailí*, A. *adj.* Parasitical ; sponging.

تفيلها tufailyá, A. n. m. One who accompanies the guests to a feast uninvited.

تلا tilá, P. n. m. Gold. طلا—báfi, n. f. Gold-tissue. كار طلا—sáz yá—kár, n. m. a gilder. طلا كاري—kárí, n. f. gilding; the trade of a gilder.

تلا tilá, A. n. m. Liniment; ointment. طلا كرنا—karná, v. to anoint; to embrocate.

تلاق taláq, A. n. f. Divorce; repudiation. تلاق—dená, v. to divorce; to repudiate; to put away (a wife). تلاق نامه—náma, a bill of divorcement; a deed of divorce.

تالوات taláwat, A. n. f. Grace; elegance.

تلاية tiláya, A. n. m. Night-watch; patrol; advanced guard; reconnoitring party.

تالاب talab, A. n. f. Search; quest; wish; desire; request; solicitation; sending for; pay; wages; salary. تالاب ديننا—dená, v. to pay one his wages or salary. تالاب كرنا—karná, v. to demand; to ask for; to call for. آرام تالاب آرام—, n. m. one who is fond of ease and comfort; a lazy fellow; idler.

تالابا tulabá, } A. n. m. (Plu. of تالاب talib).
تالابة talaba, } Students.

تالباة talbána, A. n. m. Fees to peons for serving process; daily pay to constable, &c., paid by those they guard.

تالبدار talabdár, A. n. m. One who receives a fixed salary or wages.

تالبدار talabgár, A. adj. Desiring; seeking; n. m. a seeker; a claimant.

تالبي talbí, A. n. f. Summons; request; demand. تالبي هونا—honá, to be cited; to be summoned. زياده تالبي zyáda—, excessive demand; over-assessment. [A talisman; magic.

تالسم tilism, A. n. m. (Plu. تالسمات Tilismát). تالسمي - تالسماتي tilismí, tilismátí, A. adj. Magical; talismanic; mystical.

تالعات tal'at A. n. f. Appearance; countenance

تالاف talaf, A. n. m. A gift. تالافا—á, adj. gratis.

تالوق talq, A. n. m. Talc; mica; being divorced (woman); the plains of childbirth.

تالوق tulú', A. n. m. Rising (as of the sun, &c.). تالوق هونا—honá, v. to rise (the sun, &c.).

تامما' tamma', A. adj. Extremely greedy; very covetous.

تامانچه tamáncha, P. n. m. A slap; a buffet. لگانا يا مارنا—laganá yá márná, v. to give a slap. [sure; satisfaction.

تامانيات tamániyat, A. n. f. Rest; repose: composition. تماراق tumtaráq, P. n. m. Show; pomp; magnificence.

تامع tama', A. n. f. Avarice, covetousness; greediness; allurement; temptation. جامع دنيا—dunyá, the temptations of the world. جامع دنيا—dená, v. to bribe; to allure. جامع كرنا—karná, v. to covet.

تامانچه tamancha, T. n. m. A pistol.

تاناب tanáb, A. n. f. A tent-rope.

تاناز tanáz, A. adj. Facetious; playful. [ness.

تانازي tannázi, A. n. f. Facetiousness; playful-

تانب tunub, A. n. f. The rope of a tent, curtain, &c.

تانبور tambú, H. n. m. A tent.

تانبور tambúr, A. n. m. A drum; a tambour.

تانبورة tambúra, A. n. m. A Turkish guitar.

تانز tanz, A. n. f. A taunt; sneer; sarcasm. تانز كرنا—karná, v. to taunt. [ly; ironically.

تانزان tanzan, A. adv. In joke; jeering; taunting-

تانطنة tantana, A. n. m. Show of authority; pride; vanity; pomp; rage; clamour; hubbub

تواسي tiwásí, P. n. f. A kind of carpet.

تواف tawáf, A. n. f. Making the circuit of Mecca or of some other holy place; pilgrimage.

توايف tawáf, A. n. f. (Plu. توافيف Táefed). A dancing girl.

توبى tubá, A. n. m. The name of a tree in Paradise, whose fruit is said to be most delicious.

تاور taur, A. n. m. Manner; conduct; fashion; way; condition. تاور طريقه—tariqa, n. m. ways; manners; practices.

تور tur, A. prop. A mountain; Mount Sinai.

توس tus, A. n. m. A sort of woollen cloth; name of a city in Iran.

túsi, A. n. f. A kind of brown or purple colour; a native of *Tús*.

totá, P. n. m. A parrot.

túti, P. n. f. A small parrot; a paroquet; a singing bird, so called from its fondness for *tút* (mullberry).
 طوطی بولنا — bolá, to acquire influence or authority.

بولنا نہ کرے یار تو ہر یک سے بگڑ کر

مل ڈالیکھا طوطی سا کرئی ہونڈھ پکڑ کر

Bolá nakar ai yár tú her ek se bigar kar,

Mal dálegá Túti sá koí honḥh pakar kar.

طوطی بولنا — bolá, to acquire influence or authority.
 طوطی بولنا — bolá, to acquire influence or authority.

tufán, A. n. m. A storm of wind and rain; a hurricane; inundation; deluge; the universal deluge; riot. طوفان آنا — ana, a. to blow a hurricane.

طوفان اٹھانا یا مچانا — uḥḥaná yá machána, to make a riot or noise.

طوفان لگانا — lagána, v. to calumniate; to defame.

tufáni, A. adj. Stormy; tempestuous; boisterous; quarrelsome; slanderous.

tanq, A. n. m. A collar; a yoke. طوق و زنجیر — o-zanjír, irons and fetters; manacles.

طوق زنجیر کرنا — zanjír karná, v. to put irons.

túl, A. n. m. Length; prolixity; longitude. طول پکڑنا یا کھینچنا — pakarḥná yá khinchná, v. to keep a matter prolonged.

طول دینا — dená, to lengthen out. طول کلام — kalám, prolixity; verbosity.

túlání, A. adj. Lengthy; very tall.

tawíl, A. adj. Long; tall; prolix; diffuse.

túmár, A. n. m. A heap; a volume; a long story.

tawelah, A. n. m. A tether; a stable.

tahárat, A. n. f. Purity; ceremonial purification; cleanliness; ablution. [tion.

tuhr, A. n. m. Purity; cleanliness; purification.

tal, A. n. m. Plait; a fold; rolling up; crease. طے کرنا — karná, v. to fold; to travel; to pass or cross over; to dispose of; to bring to a conclusion.

طے ہونا — honá, to be travelled over; to be disposed of; to be settled; to be folded.

U. E.—53

taiyár, A. adj. Flying.

taiyára, A. n. m. Aeroplane; balloon.

tair, A. n. m. Winged creature; a bird.

taish, A. n. m. Anger; rage; passion.

میلش میں آنا — men áná, v. to be enraged.

tín, A. n. m. Earth; clay.

tínat, A. n. f. Nature; disposition.

بد ملیت — bad, adj. ill-disposed.

(ظ)

zai-manqúta yá zái-mu'ajjima, the seventeenth letter of the Arabic alphabet, does not occur in pure Persian nor has it any corresponding character in the Sanskrit or Hindustáni alphabet; as a numeral it denotes 900.

zálím, A. n. m. A tyrant; an oppressor; adj. tyrannical; cruel; unjust.

ظالم گداز — gudáz, a destroyer of tyrants; a ruler who maintains justice and good order.

zahir, A. adj. Apparent; evident; plain; open; visible; manifest; conspicuous; n. m. the external; the outside.

ظاهر پرست — parast, n. m. one who is influenced by outward show.

dár, adj. showy; ostentatious.

dári, n. f. show; ostentation; formality.

dári baratná, to assume; to pass off (for).

karná, v. to publish; to disclose; to discover; to reveal; to expose; to explain; to make a show of.

hóná, v. to become public or manifest; to be revealed; to appear.

záhira, } A. adj. Apparently;

záhira, } openly; plainly; evidently; prima facie; seemingly.

záhirí, A. adj. Apparent; outward; external. [antelope; a deer.

zabí, A. n. m. The gazelle; the Arabian antelope.

zaráf, A. n. m. Beauty; ingenuity; wit; humour; pleasantry; jest.

zarf, A. n. m. (Plu. ظرف) A vessel; vase; elegance; ingenuity; politeness; capacity; (in Gram.) the adverb.

i-zamán, adverb of time. ظرف زمان — i-makán, adverb of place.

ظریف *zarif* A. *adj.* Ingenious ; polite ; witty ; joose ; gallant.

ظفر *zafar*, A. *n. m.* Victory ; triumph ; gain. ظفر *yáb*, *adj.* victorious.

ظل *zill*, A. *n. m.* Shadow. ظل آبی—*i-Iláhi*, shadow of God ; king. ظالم—*dám zillahú*, may his or their prosperity continue.

ظلام *zalám*, A. *n. m.* Darkness (*zulmat*).

ظلم *zulm*, A. *n. m.* Oppression ; tyranny ; injustice ; outrage ; hardship ; wrong ; violence. پشہ یا کیش—*pesha ya kesh*, *adj.* oppressed (*mazlúm*). ظلم کرنا—*karná*, *v.* to oppress ; to tyrannize ; to do wrong. گدازی—*gudázi*, putting an end to oppression or injustice.

ظلمات *zulmát*, A. *n. f.* (*Plu. of ظلمات Zulmat*) Darkness ; a dark place where the water of immortality is said to be.

ظلمت *zulmat*, A. *n. f.* Darkness. [unjust.

ظلمی *zulmí*, P. *adj.* Tyrannical ; oppressive ;

ظلیل *zázil*, A. *adj.* Shady.

ظن *zann*, A. *n. m.* (*Plu. ظنون Zanún*). Impression ; presumption that a charge is well founded although the evidence is not conclusive ; suspicion ; evil opinion. ظن غالب—*i-galib*, strong presumption.

ظہر *zuhr*, A. *n. m.* The time immediately after the declining of the sun ; midday ; a noon.

ظہر *zahr*, A. *n. f.* The back.

ظہور *zuhúr*, A. *n. m.* Appearing ; manifestation ; coming to pass. ظہور میں آنا—*men áná*, *v.* to arise ; to appear.

ظہیر *zahr*, A. *n. m.* An assistant ; an ally ; an associate.

(ع)

ع *'ain* called عین غیر منقولہ یا عین مہملہ *'ain gair manqúta yá 'ain-i-mohmala*, the 18th letter of Arabic alphabet and 24th of the Urdú, does not occur in pure Persian and has no analogous character in Sanskrit ; numerically it stands for number 70.

عابد *'ábid*, A. *n. m.* A worshipper ; a devotee ; a votary ; an adorer of God.

عابر *'ábir*, A. *n. m.* A passenger ; *adj.* crossing ; passing.

عاج *'áj*, A. *n. m.* Ivory.

عاجز *'ájiz*, A. *adj.* Incapable ; unable ; humble ; exhausted ; helpless ; weak ; dejected. عاجز آنا—*áná ya honá*, *v.* to be rendered helpless ; to fail or fall short (of).

عاجزانہ *'ájizána*, A. *adv.* Humbly.

عاجزی *'ájizi*, A. *n. n. f.* Inability ; humility ; helplessness ; submissiveness ; entreaty. عاجزی کرنا—*karná*, *v.* to implore ; to supplicate to make humble entreaty to.

عاجل *'ájil*, A. *part. adj.* Speedy ; quick ; agile ; quickly passing away ; transitory.

عادت *'ádat* A. *n. f.* (*Plu. عادات 'Adat*). Habit ; custom ; practice ; manner ; usaga. عادت پڑنا—*parná*, *v.* to become a habit (with) ; to habituate. عادت کرنا—*karná*, *v.* to adopt a habit ; to introduce a custom.

عادتاً *'ádatan*, A. *adv.* Habitually.

عادل *'ádil*, A. *adj.* Just ; equitable.

عادی *'ádi*, A. *adj.* Habituated ; accustomed ; addicted (to) ; عادی ہونا—*honá*, *v.* to be accustomed or habituated.

عادی *'ádi*, A. *part. adj.* Passing ; transition ; superseding ; transgressing ; wicked ; *n.* an unjust man ; enemy. [wound.

عاذر *'ázir*, A. *n. m.* An apologist ; the scar of a wound. عار *'ár*, H. *n. f.* Shame ; modesty ; bashfulness ; disgrace ; scorn.

عارض *'áriz*, A. *n. m.* Cheeks ; an obstacle ; an occurrence ; *adj.* appearing ; befalling. عارض ہونا—*honá*, to befall ; to debar ; to prove an obstacle (to). تمامی عارض ہونا—*tamádi honá*, to be time-barred (*law*).

عارضہ *'árizá*, A. *n. m.* An accident ; an event ; an obstacle ; an affection ; a disease ; infirmity ; a want ; disorder. [real.

عارضی *'árizi*, A. *adj.* Accidental ; casual ; not permanent. عارف *'árif*, A. *n. m.* A holy man ; a devotee ; *adj.* wise ; sagacious ; ingenious ; pious ; devout.

عاری *'ári*, A. *adj.* Tired ; wearied ; naked. عاری ہونا—*áná*, *v.* to be tired or disgusted.

عاریت 'ariyat, A. n. f. The loan of anything ; lending, or borrowing a thing (which is itself to be returned).

عاریتاً 'ariyatan, A. adj. Borrowed. عاریتاً دینا—dena, v. to lend for use. عاریتاً لینا—lena, v. to borrow for use.

عاریتی 'ariyati, A. adj. Borrowed ; lent.

عازم 'ázim, part. adj. Determining ; intending ; applying the mind to an understanding.

عاشر 'áshr, A. adj. Tenth.

عاشق 'áshiq, A. n. m. A lover ; a paramour ; a suitor. عاشق مزاج—mizáj, adj. sportive ; merry. عاشق هونا—honá, v. to fall in love (with).

عاشقانه 'áshiqána, A. adj. Amorous ; loving.

عاشقی 'áshiqi, A. f. Making love ; courtship ; the state of being a lover.

عاشورا 'áshurá, A. n. m. The tenth day of the month of Muharram.

عاصم 'ásim, A. adj. Virtuous ; chaste.

عاصمه 'ásima, A. adj. Chaste, virtuous (woman).

عاصی 'ásí, A. adj. Criminal ; rebellious, n. m. a sinner ; a criminal. [noble ; gracious.

عاطر 'átir, A. adj. Fragrant ; odoriferous ;

عاطفیت 'átifat, A. n. f. Kindness ; benevolence.

عافیت 'afiyat, A. n. f. Health ; safety.

عاق 'áq, adj. Severing ; refractory. عاق کرنا—karná, to sever ; to disown ; to disinherit.

عاق نامه—náma, a deed of disinheritance.

عاقبت 'áqibat 'áqbat, A. n. f. The end ; conclusion ; future. عاقبت اندیش—andesh, adj. far-seeing ; provident ; looking into futurity.

عاقبت اندیشی—andeshí, n. f. foresight ; prudence. عاقبت اندیشی کرنا—andeshí karná, v. to look to the future ; to provide against.

عاقبت بگزرنا—bigarná, to risk heaven.

عاقلم 'áqil, A. adv. Wise ; sensible ; intelligent.

عاقلاًنه 'áqilána, A. adj. Wisely ; prudently.

عالم 'álim, A. n. m. Learned man ; one versed in science and literature ; adj. wise ; sage ; intelligent. عالم الغیب—ul-gaib, adj. Omniscient ; knowing the visible and the invisible.

عالم 'álam, A. n. m. The world ; the universe ; the public ; scene ; time ; period ; condition.

عالم آرا—ára, world-adorning. عالم افروز—afroz,

world illumining. عالم فانی—i-fání the perish-

able world. عالم بالا یا عاری—i-balá yá 'ulvá,

the heaven. عالم جنات—i-jinnát, the world of

genii. عالم سفلی—i-siflí, the earth. عالم غیب—

gaib, the next world ; the invisible world.

عالم گیر—gír, conqueror of the world.

عالمانه 'álimána, A. adj. Learned ; adv. wisely ; like a sage.

عالمیان 'álimián, A. n. m. People ; inhabitants of the world.

عالی 'á'lí, A. adj. High ; sublime ; elevated,

eminent. عالی تبار—tabár, adj. of high descent.

عالی جناب—jáh, adv. of high rank. عالی جابه—

janáb, your highness. عالی خاندان—khándán,

adj. of noble birth. عالی دماغ—dimág, adj.

intelligent. عالی شان—shán, adj. magnificent ;

grand ; majestic. عالی مرتبه—martaba, adj.

high in rank or dignity. عالی همت—himmat,

adj. high-minded. عالی همتی—himmati, n. f.

high-mindedness.

عام 'ám, A. adj. Common ; public ; general ;

ordinary. عام فهم—fahm, adj. intelligible to

all. عام خاص و عام—kháss o—, high and low.

عام جلسه—jalsa-i—, a public meeting.

عامره 'ámira, A. adj. Royal ; imperial ; abundant.

عامل 'ámil, A. n. m. Doer ; agent ; an adminis-

trator ; collector of the revenue ; conjuror.

عامی 'ámí, A. adj. Blind ; ignorant.

عاید 'áed, A. adj. Turning towards ; happening ;

subject to ; liable ; incurred ; exposed to.

عاید هونا—honá, v. to alight or rest upon ; to

be liable to ; to come upon ; to be subject to.

عبا 'abá, A. n. m. A cloak. [slaves.

عباد 'abád, A. n. m. (Plu. of عبد 'Abd) Servants ;

عبادت 'ibádat, A. n. f. Divine worship ; adora-

tion ; obedience. عبادت کرنا—karná, v. to

worship. عبادت گاه—gah, n. f. a place of wor-

ship ; a temple. [person ; a worshipper.

عبادتی 'ibádatí, A. n. f. A devotee ; a religious

عبارت 'ibárat, A. *n. f.* Composition ; style ; mode of expression or explanation (in language); interpretation ; diction. عبارت آرائی—word painting ; ornamenting of style. عبارت رنگین—*i-rangín*, florid style. عبارت گل عباسی 'abbási, P. *adj.* Red (colour). گل عباسی—*gul-i*—, *n. f.* the Marvel of Peru. عبث 'abas, A. *adj.* Vain ; profitless ; bootless ; trifling ; *adv.* in vain ; to no purpose. عبد 'abd, A. *n. m.* A slave. عبرانی 'ibrání, A. *adj.* Hebrew. عبرت 'ibrat, A. *n. f.* An example ; warning ; (*Met*) fear. عبرت انگیز—*angez*, *adj.* admonitory ; warning. عبرت پکرتنا—*pakarńa*, to take warning (from) ; to be warned. عبرت دلانا—*dilána*, *v.* to make example of. عبرت نما—*numá*, exemplary. [devotion ; adoration. عبودیت 'abúdiyát, A. *n. f.* Service (of God) ; عبور 'ubúr, A. *n. m.* Crossing ; passing over ; transportation ; mastery (of a subject). عبور کرنا—*daryá-i-shor* ; *karná*, *v.* to transport beyond the seas. عبور کرنا—*karná*, *v.* to cross a river. [shipper ; a devotee. عبید 'ubaid, A. *n. m.* A servant ; a slave ; a warrior. عبیر 'abír, A. *n. m.* Saffron ; ambergis. عتاب 'itáb, A. *n. m.* Anger ; displeasure ; reproof ; reprimand ; reproach ; rebuke. عتاب کرنا—*karná*, *v.* to reprimand ; to rebuke ; to censure. عجلت 'ajálat, A. *n. f.* Haste ; anticipation. عجائب 'ajaib, A. *n. m.* (*Plu. of* 'Ajíb), Wonders ; curiosities ; *adj.* wonderful ; strange ; astonishing. عجائب خانہ—*khána*, *n. m.* a museum. عجائب و غرائب—*o-garáib*, curiosities ; wonderful and strange things. عجائبات 'ajábat (*Plu. of* 'Ajíb) Curiosities. عجب 'ajáb, A. *n. m.* Wonder ; astonishment ; *adj.* wonderful ; astonishing ; strange. عجب 'ujb, A. *n. m.* Self-conceit ; vanity. عجز 'ijz, A. *n. m.* Weakness ; helplessness ; powerlessness ; submission. عجلت 'ujlat, A. *n. f.* Speed ; haste ; velocity. عجم 'ajam, A. *n. m.* Persia ; foreigners ; barbarians.

عجمی 'ajamí, A. *adj.* Persian ; foreign. عجبہ 'ajúba, A. *n. m.* A wonderful thing ; a miracle. عاجل 'ajúl, A. *adj.* Hasty ; quick ; expeditious. عجیب 'ájib, A. *adj.* Wonderful ; astonishing ; rare ; unique. عدالت 'adalat, A. *n. f.* A court of law or justice ; assize ; tribunal ; a bench. عدالت اپیل—*i-apíl*, a court of appeal. عدالت بحری—*bahrí*, the admiralty court. عدالت خفیفہ—*khafifa*, a small cause court. عدالت دیوانی—*i-diwání*, *n. f.* civil court. عدالت سیشن—*i-sishan*, sessions court. عدالت عالیہ—*i-aliya*, the High Court. عدالت فوجداری—*i-faujdarí*, a court of criminal jurisdiction. عدالت منجاز—*i-mál*, revenue court. عدالت مجاز—*i-majáz*, a court of competent jurisdiction. عدالت میں آنے کا منصب رکھنا—*men áne ká mansab rakhná*, to have a *locus standi* ; to have a right to come to court. عدالتی 'adálátí, P. *adj.* Judicial ; legal. عدالتی مسایل—*kárrawái*, judicial proceedings. عدالتی مسائل—*masáil*, maxims. عداوت 'adawat, P. *n. f.* Enmity ; hostility ; hatred ; malice. عداوت بالقصد—*i-bil-qasd*, malice *prepensé*. عداوت رکھنا—*rakhná*, *v.* to bear malice. عداوت نکالنا—*nikálná*, *v.* to gratify one's resentment. [inimical. عداوتی 'adawátí, P. *adj.* Malicious ; hostile ; عداوت 'iddat, A. *n. f.* The term of probation incumbent upon a woman in consequence of a dissolution of marriage either by divorce or by the death of her husband. After divorce the period is 3 months, and after the death of her husband four months and 10 days. عدد 'adad, A. *n. m.* A figure ; number ; one of anything. عدد صحیح—*sahíb*, a whole number. عدد مطلق—*i-mutlaq*, a cardinal number. عدد وصفی—*i-wasfí*, an ordinal number. عددی 'adadí, numeral ; numerical. عدل 'adl, A. *n. m.* Justice ; equity. عدل کرنا—*karná*, *v.* to do justice ; to decide. عدل گستری—*gustarí*, *n. f.* the administration of justice. عدم 'adam, A. *n. m.* Non-existence ; annihilation ; nothing. عدم استطاعت—*istatá'at*,

insolvency; want; default; non-existence; non-performance. اندراج—indráj, non-entry. عدم پیروی—pairawí, default of prosecution. عدم توجہی—tawajjahí, inattention; disregard; carelessness. عدم تعمیل—ta'míl, non-performance; non-service; non-execution. عدم حاضری—házzrí, non-appearance. عدم فرصتی—fursatí, want of leisure. عدم واقفیت—waqfiyat, ignorance. کالعدم—kal—, *adj.* non-existent; null and void. کالعدم کرنا—kal—karná, *v.* to rescind; to quash. کالعدم ہونا—kal—honá, *v.* to become extinct.

عدو 'adú, *A. n. m.* An enemy; a foe (*dushman*, *bairi*).

عدول 'adúl, *A. n. m.* Declining; disobedience (of orders); insubordination. عدول حکمی کرنا—hukmí karná, *v.* to disobey orders; to refuse to obey.

عدول 'adúl, *A. n. m.* (*Plu. of 'Adil*) Just men.

عدیل 'adíl, *A. n. m.* A distributor of justice; *adj.* equitable; just.

عدیم 'adím, *A. adj.* Deprived (of); destitute (of); being without; lacking. عدیم المثال—ul-misál, without a like or parallel; incomparable.

عذاب 'azáb, *A. n. m.* Punishment; torment; pain; anguish. عذاب مول لینا—mol lená, *v.* to bring difficulties on oneself. عذاب میں پھنسننا—men phansná, *v.* to be involved in difficulties, etc.

عذار 'uzár, *A. n.* Cheek; face.

عذر 'uzr, *A. n. m.* Objection; excuse; apology; pretext. عذر پذیر—pazír, *adj.* excusable; admissible (a plea). عذر پیش کرنا—pesh karná, *v.* to object; to plead; to bring forward an excuse or an apology. عذر خورہ—khwáh, *apologist*. عذر خواہی—khwáhi, *n. f.* apology. عذر دار—dár, *objector*. عذر داری—dárí, *n. f.* a statement of objections; having a plea; producing an excuse; a *caveat*. عذر کرنا—karná, to take objection; to apologize. عذر ناپابل سماعت—ináqátíl samá'at, an untenable plea.

عذرا 'azrá, *A. n. f.* A virgin; the sign Virgo.

عراجی 'arabchí, *P. n. m.* A driver of an عراجہ 'arába; a cart.

عراجہ 'arába, *P. n. m.* A car; a cart.

عراقی 'iráqí, *A. n. m.* An Arab horse.

عرایض 'aráez, *A. n. f.* (*Plu. of 'Arz*). Petitions; representations.

عرب 'arab, *A. n.* Arabia. [battle.

عربدہ 'arbada, *A. n. m.* A dispute; a conflict; a

عربی 'arabí, *A. adj.* Arabian; *n. m.* the Arabic language; an Arab horse.

عرس 'urs, *A. n. m.* Offering to a saint; oblations; marriage; nuptials; a marriage feast.

عرس 'irs, *A. n. m. and f.* A spouse; a husband; a wife.

عرش 'arsh, *A. n. m.* A roof; a canopy; the highest sphere; the empyrean (where the throne of God is). عرش پر چڑھانا—par chaháná; *v.* to give one a high rank; to exalt; to praise to the skies. عرش پر دماغ ہونا—par dimág honá, to be very self-conceited; to be proud or haughty. عرش معالیٰ—i-mu'allá, arsh-i-baríq, *n. m.* the empyrean; the highest heaven.

عرصہ 'arsah, *A. n. m.* Time; duration; period; interval; delay; space; a plain. عرصہ لگانا—lagáná, *v.* to delay; to take a long time. عرصہ میں—is—men, in the interval; in the meantime.

عرض 'arz, *A. n. f.* A petition; request; solicitation; breadth; (in *Geog.*) latitude; a military muster. عرض ارسال—i-irsal, a return; a report; an invoice. عرض بیگی—begí, an officer who presents letters and representations to a king or great personage; an usher. عرضداشت—dásht, *n. f.* a written petition; a memorial. عرض کرنا—karná, *v.* to request; to apply; to represent; to propose. عرض کنندہ—kunindah, *n. m.* a petitioner. عرض معروض—ma'rúz, *n. f.* the purport or matter of a petition.

عرضاً 'arzan, *A. adj.* In breadth; by chance.

عرضی 'arzí, *P. n. f.* A petition; application; representation. عرضی دعویٰ—da'wá, *n. m.* the first pleading to a suit; a plaint. عرضی دینا—dená, to petition or present a petition. عرضی لینا—lená, to receive a petition; to entertain

a case. عرضي نویس—*nawís*, a scrivener; a petition-writer. [monly called; alias.]
 عرف 'urf, A. n. m. Known by the name com-
 عرفنا 'urfá, A. (Plu. of *أعرف* *Á'rif*). The wise; the holy. [wisdom; discernment.]
 عرفان 'irfán, A. n. m. Knowledge; science;
 عرفه 'arfah, A. n. m. The day before the 'Id or other festival; a vigil.
 عرفي 'urfí, A. adj. Well-known.
 عرق 'arq, A. n. m. Juice; essence; liquor; spirit; sweat. عرق آلوده—*álúdah*, adj. covered with sweat; sweaty. عرق ریزی—*rezi*, hard labour or exertion; severe application. عرق گلاب—*khínchná*, v. to distil. کهنهچینا *khínchná*, v. to distil. گلاب *guláb*, n. m. rose-water. عرق نعناع—*na'ná'*, vinegar distilled with mint. [exaltation.]
 عروج 'urúj, A. n. m. Ascent; ascension; rising;
 عروس 'urus; A. n. f. A bride.
 عروسی 'urúsi, P. adj. Bridal; nuptial.
 عروض 'aruz, A. n. f. Versification; prosody.
 عریان 'uryán, A. adj. Bare; naked; nude; devoid (of).
 عریاني 'uryáni, P. n. f. Nakedness; nudity.
 عریض 'ariz, A. adj. Broad; wide.
 عریضه 'ariza, A. n. m. A humble petition.
 عز 'azz, A. n. m. Glory; dignity. عزاسمه—*isma-hu*, glorious is his name. [excellence.]
 عز 'izz, A. n. m. Might; grandeur; glory;
 عزا 'azá, A. n. f. Mourning; condolence. عزادار *dár*, adj. in mourning; n. m. one who mourns, or is in mourning. [Satan.]
 عزایل 'azázil, A. n. m. A fallen angel; a devil;
 عزت 'izzat, P. n. f. Honour; respect. عزت بگاڑنا—*bigárná*, v. to disgrace; to insult. عزت دار *dár*, honourable; respectable. عزت دینا *dená*, to confer honour or dignity (on). عزت رکھنا *rakhná*, v. to preserve one's honour or good name. عزت کرنا *karná*, n. to pay respect (to); render honour (to). عزت لینا *lená*, to dishonour; to disgrace; to insult. عزت میں فرق آنا—*men farq áná*, to have one's reputation or character sullied. عزت والا *wálá*, n. m. a respectable man,

عزرائیل 'izráil, A. n. m. The name of the angel of Death.
 عزل 'azl, A. n. m. Removing; dismissing; removal from office. عزل و نصب کرنا—*o-nash karná*, to remove and to appoint; to make promotions and reductions.
 عزلت 'uzlat, A. n. f. Retirement. عزلت گزین *gazīn*, a recluse; a hermit.
 عزم 'azm, A. n. m. Purpose; intention; aim; undertaking; determination. عزم بالجزم *bil-jazm*, firm resolve; settled purpose. عزم کرنا *karná*, v. to resolve; to determine.
 عزیز 'aziz, A. adj. Dear; beloved; darling; respected; honour; precious; n. m. a dear friend; a relative; a title of the king of Egypt. عزیز داری *dári*, n. f. relationship. عزیز رکھنا یا جاننا *rakhná yá jánna*, v. to love; to hold dear; to esteem or value highly.
 عزمیت 'azimat, A. n. f. Determination; resolution; undertaking; an obligatory ordinance of God.
 عسرت 'usrat, A. n. f. Difficulty; distress; straitness; poverty. [a police inspector.]
 عسس 'assas, A. n. m. The nightwatch of guards;
 عسکر 'askar, A. n. m. An army; troop.
 عسکری 'askarí, P. n. m. A soldier.
 عسل 'asal, A. n. m. Honey, (*shahad, madhu*).
 عشا 'ishá, A. n. m. The first watch of the night. عشا کی نماز *ki namáz*, n. f. the prayer of the first watch of the night.
 عشا 'ashá, A. n. m. The evening meal; supper.
 عشاق 'ushsháq, A. n. m. (Plu. of *عاشق* *Ashiq*). Lovers.
 عشبه 'ushba, P. m. Sarsaparilla.
 عشر 'ashr, A. n. m. A tenth part, a tithe. عشر شرعی *i-shar'á'*, the tithes prescribed by divine law. عشر عیشی *i-ashír*, the tenth of a tenth; a hundredth part; (*fig.*) very little.
 عشرت 'ishrat, A. n. f. Pleasure; enjoyment; mirth. عشرت خانہ *khána*, n. m. a house of pleasure; a place of entertainment.
 عشرہ ashrah, A. n. m. Ten days.
 عش عش *ash'ash*, P. n. m. Rejoicing &c. عش کرنا *ash karná*, to be greatly pleased (with); to admire; to praise.

عشق 'ishq, A. n. m. Love; passion. عشق الله — 'ulláh, (*Lit.*) love of God; a form of salutation used (instead of *salám*) by *faqirs* and by wrestlers when they meet in an arena. عشق بازی — 'bázi, n. m. a gallant; a rake. عشق بیچینان — 'bázi, n. f. gallantry; amour. عشق پیدچان — 'pechán n. m. the American jasmine.

عشوه 'ashwah, P. n. m. A confused and dubious affair; a beacon: (*Met.*) coquetry; blandishment; ogling. عشوه گار — 'gar, a coquette. عشوه گری — 'gari, n. f. coquetry.

عشیر 'ashír, A. n. m. A tenth part.

عصا 'asá, A. n. m. A club; a staff; a sceptre. عصا بردار — 'bardár, a mace-bearer (*chobdár*).

عصار 'assár, A. n. m. Oil presser or maker.

عصب 'asab, A. n. m. Muscle; nerve; tendon; sinew.

عصر 'asr, A. n. m. Time; an age. عصر کی نماز — 'ki namáz, n. f. afternoon prayer. عصر هم — 'ham, n. m. a contemporary. [flower.

عصفر 'asfar, A. n. m. Safflower; saffron in the

عصفور 'usfúr, A. n. m. The sparrow. [integrity.

عصمت 'asmat, 'ismat, A. n. f. Chastity; honour;

عصیان 'isyán, A. n. m. Sin.

عضو 'azo A. n. m. Member; limb.

عطا 'atá, A. n. f. A gift; bounty; endowment.

عطا بخشش — 'bakhsh, *adj.* liberal; bountiful. عطا کرنا — 'karná, *v.* to confer; to bestow; to grant; to accord. عطا نامه — 'náma, a deed of gift; a grant. [a perfumer.

عطارد 'attár, A. n. m. A druggist; an apothecary;

عطارد — 'utárid, A. n. m. The planet Mercury.

عطاری 'attári, P. n. f. The business of a druggist.

عطائی 'atái, P. n. m. One who is self-taught, or who possesses natural gifts; an amateur.

عطر 'itr, 'atr, A. n. m. (*Plu. عطریات Itriyát*).

Perfume; essence; attar of roses, &c. عطر دان — 'dán, n. m. a perfume-box. عطر لگانا یا مالنا — 'lagáná yá malná, *v.* to rub scent on the body or dress.

عطسه 'atsa, P. n. m. Sneezing.

عطش 'atash, A. n. f. Thirsting; thirsty.

عطشان 'atshán, A. *adj.* Very thirsty (after or for); longing.

عطف 'atf, A. n. m. Kindness; favour; bounty; inoblation; a connection. حرف عطف — 'harf, (in *Gram*) a copulative conjunction.

عطیہ 'atiyah, A. n. m. A grant; assignment. عطیہ دار — 'dár, an assignee; a grant-holder.

عظم 'azm, A. n. m. (*Plu. عظام Izám*). Bone.

عظم 'uzm, A. n. m. Greatness; magnificence.

عظمت 'azmat, P. n. f. Greatness; magnificence; magnitude; pomp; haughtiness.

عظیم 'azím, A. *adj.* Great; large; high in dignity. عظیم الشان — 'ush-shán, *adj.* of high station or dignity; magnificence. [decency.

عفت 'iffat, P. n. f. Purity; chastity; modesty; عفریت — 'ifrit, A. n. m. A giant; a demon; an ogre.

عفو 'afú, A. n. m. Pardon; forgiveness; remission of sins. عفو کرنا — 'karná, *v.* to pardon. عفو ہونا — 'honá, *v.* to be pardoned. [pation.

عفوصت 'afusat, A. n. f. Astringency; constipation. عفونت — 'ufúnat, A. n. m. Stink; rottenness; corruption; fetidness; effluvia.

عقیقہ — 'atf, 'atfah, A. *adj.* Chaste; virtuous; modest; decorous; n. f. a chaste woman; a modest woman, &c. [torture.

عقاب 'iqáb, A. n. m. Punishment; chastisement; عقاب — 'uqáb, A. n. m. An eagle.

عقاید 'aqáid, A. n. m. (*Plu. of عقیدة Aqida*). Articles of faith; religious tenets.

عقب 'aqab, A. *adj.* Behind; after. عقب کرنا — 'karná, *v.* to follow; to pursue. [world.

عقبی 'uqbá, A. n. f. End; futurity; the next

عقد 'aqd, A. n. m. The marriage knot; marriage-contract; agreement; compact; a covenant.

عقد بندی — 'bandí, n. f. the tying of the marriage knot. عقد کرنا — 'karná, *v.* to wed; to marry. عقد نامه — 'náma, marriage-contract. عقد ہونا — 'honá, *v.* to be married.

عقده 'uqda, A. n. m. A hard knot or problem; an excrescence (especially, at the joints or where bones have been broken); a mode; mystery; an enigma; entanglement. عقده کشائی — 'kushái, n. f. the untying or opening of a knot or difficulty.

عقرب 'aqrab, A. n. m. A scorpion ; the sign Scorpio.

عقرب قرحا 'aqar-qarhá, A. n. m. A medical plant; pellitory.

عقل 'aql, A. n. f. Sense ; reason ; wisdom ; intellect ; intelligence ; knowledge. عقل انسانی —i-insání, reason. عقل پر پردہ پڑجانا —par parda par jáná, a. to be dull of understanding. عقل چکر میں آنا —chakkar meñ aná, v. the head to be in a whirl ; to be confused and distracted ; to wonder at. عقل خرچ کرنا —kharch karná, to use one's sense. عقل حیوانی —i-haiwání, instinct عقل دینا —dená, v. to instruct ; to advise. عقل درجانا —dauráná, a. to think ; to consider ; to reason. عقل سے باہر —se báhar, adj. inconceivable ; unreasonable ; nonsensical. عقل پر پردہ پڑجانا —par parda par jáná, to be dull of understanding. عقل کا دشمن —ká dushman, a fool ; a blockhead. عقل ماری جانا —mári jáná, v. to lose one's senses or wits. عقل صحیح —i-sahih, sound mind. عقلمند —mañd, adj. wise ; intelligent ; sensible. عقلمندی —mandí, intelligence ; sagacity ; ingenuity. [the prudent.

عقلا 'uqalá, A. n. (Plu of 'Aqil). The wise ;

عقلا 'aqlan, A. adv. Reasonably ; prudently ; by inference ; by guess.

عقلی 'aqlí, A. adj. Reasonable ; rational ; intellectual ; mental ; judicious.

عقوبت 'uqúbat, A. n. f. Punishment ; chastisement ; torture.

عقیدت 'aqídat, n. f. } A faith ; religious belief ;
عقیدہ 'aqídá, n. m. } a creed ; a doctrine.
عقیدت مندی —mandí, adj. having firm belief or faith ; faithful ; believing. عقیدہ بد —bad—, unbelieving ; sceptical.

عقیق 'aqíq, A. n. m. A cornelian.

عقیقہ 'aqíqa, A. n. m. The Muhammadan ceremony of shaving the head of a new-born infant on the sixth day after childbirth, or a feast given on that day.

عقیم 'aqím, A. adj. Barren ; having no children.

عقیمہ 'aqímah, A. n. A barren woman ; a woman past child-bearing.

عکس 'aks, A. n. m. Reflection ; inversion ; counterpart ; a shadow or reflected image (as in a glass) ; reverse. عکس کھینچنا —khinchná, v. to take a photograph. عکس پر —bar—, on the reverse (of) ; contrary (to) ; in opposition (to).

عکسی 'aksi, P. adj. Reflected ; photographic. عکسی تصویر —taswír, n. f. photograph.

علاج 'iláj, A. n. m. Medical treatment ; cure ; remedy ; relief ; salve ; antidote. علاج کرنا —karná, v. to treat medically ; to correct ; to cure ; to remedy. علاج لایا —lá—, irremediable ; incurable.

علاقہ 'aláqah, P. n. m. Dependency ; affinity ; connexion ; reference ; intercourse ; tenure ; holding ; division ; circle ; an estate ; jurisdiction. علاقہ بند —band, n. m. a gold lace worker. علاقہ بندی —bandí, n. f. gold lace work ; the business of gold-lace making. علاقہ رکھنا —rakhná, v. to concern ; to belong ; to have to do (with) ; to be related to. علاقہ سے باہر —se báhar, beyond limits or jurisdiction of.

علاّت 'alálat, A. n. f. Ailment ; malady ; infirmity.

علام 'allám, A. adj. All-knowing ; omniscient ; very scientific ; very learned. علام الغیوب —ul-gayúb, knowing all mysteries ; acquainted with things invisible ; an epithet of the Deity.

علامت 'aláma, 'alámat, A. n. f. A mark ; a sign ; a symptom ; an index ; a badge ; a device ; a flag ; standard.

علامتہ 'alláma, A. adj. Very wise or learned ; n. m. a very learned man or woman ; a very knowing or artful woman.

علانیہ 'alániya, A. adv. Openly ; publicly ; adj. open ; manifest. علانیہ کہنا —kahná, v. to speak open ; to manifest.

علاوہ 'aláwa, A. adv. Besides ; moreover. علاوہ اس کے —iske, in addition to this ; moreover ; notwithstanding this.

علت 'illat, A. n. f. Fault ; defect ; bad habit ; the ground of a charge or accusation ; pretext ; sickness ; malady. علت ناعلیٰ —i-fa'elí, efficient cause. علت لگا لینا —lagá lená, v. to be addicted

to. حرف علم *harf*—, (in *Gram.*) the vowels. علمت و معارل —*gáf*, final course. علمت غايبى —*ma'lúl*, cause and effect. علمت مين. —*men*, on account of; on the charge of

علمي *'illatí*, P. *adj.* Of bad habits; having a fault or flaw.

علم *'alaf*, A. *n. m.* Grass; forage; fodder; provender (for beasts). علم زار —*zár*, a pasture; a meadow.

علم *'alam*, A. *n. m.* A standard; a banner; a spear; (in *Gram.*) a proper noun; in (*Geom.*) a gnomon. علم بدار. —*bardár*, *n. m.* standard-bearer.

علم *'ilm*, A. *n. m.* Knowledge; science. علم ادب —*i-adab*, *n. m.* literature. علم اخلاق —*i-akhláq*, moral philosophy. علم الآبي —*i-iláhi*, theology. علم آواز —*i-áwáz*, acoustics. علم بحث —*i-bahas*, the art of reasoning; the science of logic. علم تشريح —*i-tashrih*, anatomy. علم تواريخ —*i-tawárikh*, chronology. علم حكمت —*i-hikmat*, physics. علم حساب —*i-hisáb*, arithmetic. علم دان —*dán*, *adj.* learned. علم دين —*i-dín*, religion. علم رياضي —*i-riyázi*, mathematics. علم سحر —*i-sihr*, magic. علم طبيعي —*i-taba'i*, natural philosophy. علم غيب —*i-'urúz*, prosody. علم غيب —*i-gaib*, the occult sciences; divination. علم قیانه —*i-qayáfah*, the science of physiognomy. علم كلام بيان یا بلاغت —*i-kalám*, *bayán yá balághat*, rhetoric; oratory. علم كيمياء —*i-kímiyá*, chemistry. علم مثلث —*i-musallas*, trigonometry. علم مجلس —*i-majlis*, the science of etiquette. علم مساحت —*i-masáhat*, mensuration. علم منطق —*i-mantiq*, logic. علم موسيقي —*i-mausíqí*, the science of music. علم نباتات —*i-nabátát*, botany. علم نجوم —*i-najúm*, astrology. علم هندسة —*i-hindsa*, geometry. علم هيات —*i-haiyat*, astronomy.

علم *'ulamá*, A. *n.* (*Plu. of* علم *'Alim*). The learned doctors of law and religion.

علمي *'ilmí*, A. *adj.* Scientific; literary. علمي مباحثه —*mubáhisa*, scientific discussion.

علمي *'ilmíyat*, A. *n. f.* Learning; scholarship.

علمة *'alúfah*, P. *n. m.* Stipend; salary; daily pay; pension; provision.

علم *'ulúm*, A. *n.* (*Plu. of* علم *ilm*) Sciences. علم متعارفة —*muta'arifa*, (in *Geom.*) axioms. علم و فنون —*o-funún*, arts and sciences.

علمي *'ulwí*, A. *adj.* Sublime; celestial; heavenly.

علمي *'alí*, A. *n. m.* Mohammad's son-in-law; *adj.* high (in rank); eminent; noble. علمي بند —*band*, an amulet or charm against enchantments; a jewel, an ornament. علمي دهن —*dhat*, *adj.* gigantic; monstrous. علمي مدد —*madad*, name of a trick in wrestling.

علمي *'alá*, A. *adj.* On; upon; above; to; (its final vowel is shortened in pronunciation before the Arabic article *al*).

علمي *'alal* *'ittisál*, *adj.* in succession; consecutively; continually. علمي *'alal* *'itláq*, *adv.* absolutely; solely.

علمي *'alal* *'tawakkul*, on trust; in faith; universally. علمي الترتيب —*alat-tartib*, *adv.* respectively.

علمي *'alal* *'ijmál*, *adv.* jointly; conjointly. علمي الحساب —*'alal* *'hisáb*, *adj.* suspense account.

علمي الحساب دينيا —*'alal* *'hisáb* *dená*, *v.* to make advances.

علمي *'alal* *'khusús*, *adv.* specially; particularly. علمي الدوام —*'al* *'addawám*, *adv.* permanently; for ever; perpetually; always.

علمي الصباح —*'alal* *'sabáh*, *adv.* in the morning; about dawn.

علمي *'alal* *'asar*, *adv.* on the instant; instantly. علمي المعموم —*'alal* *'umúm*, *adv.* generally.

علمي *'alá* *'házalqiyás*, in like manner; similarly; in the same manner; and the like.

علمي *'alahidagí*, P. *n. f.* Separation; severalty.

علمي *'alahidab*, A. *adj.* Separate; distinct; apart (from); disconnected; asunder; *adv.* separately; one by one; apiece.

علمي *'alahidab* ركنا —*rakhná*, *v.* to set apart. علمي *'alahidab* كرنا —*karná*, *v.* to separate; to part with.

علمي *'alahidab* هونا —*honá*, *v.* to be separated (from).

علمي *'alai*, A. On him. علمي *'alai* *'as salám*, blessing on him. علمي *'alai* *'alaim*, on them.

علمي *'alil*, A. *adj.* Indisposed; sick; weak; out of sorts.

علمي *'alím*, A. *adj.* Wise; learned; one who knows everything; an epithet applied to God.

علمي *'amm*, A. *n. m.* Paternal uncle; father's brother. علمي *'am-záda*, paternal uncle's son.

عماد 'imád, A. n. m. A lofty pillar ; reliance ; trust.

عمارت 'imárat, P. n. f. (Plu. عمارات 'Imárdt). A building ; a structure ; an edifice ; a fortification.

عماری 'amári, P. n. A litter or rider's seat with a canopy on an elephant or camel (without a canopy it is called a *hauda*).

عمال 'ummál, A. n. m. (Plu. of عمل 'Amil). Agents ; governors ; rulers.

عمامة 'imáma, A. n. m. Tiara ; a turban.

عمداً 'amadan, A. adv. Intentionally ; deliberately ; wilfully ; in cold blood. (إداتاً) *irddatan* ; *prepnse*

عمدات 'umdat, P. n. f. A prop ; a stay ; a support ; a pillar. عمدت الخصاص —ul-kháss, a prime minister. عمدت الملك —ul-mulk, a tittle bestowed on officers of high rank.

عمدگی 'umdagí, A. n. f. Greatness ; worth ; excellence ; dignity.

عمدة 'umda, A. adj. Great ; fine ; nice ; grand ; noble ; sumptuous ; excellent ; n. m. a grandee ; a nobleman. عمدة سے عمدة —se—, the very best.

عمر 'umr, A. n. f. Age ; life-time. عمر بهار —bhar, adv. during the whole life. عمر بهار کاف —bhar ká, life-long ; sufficient for a life-time. عمر دراز —daráz, may (your) life be long. عمر گزشتہ —kashtá, one advanced in years. عمر گزشتہ —kashtá, to pass one advanced in years. عمر گزشتہ —kashtá, to pass one's life.

عمرة 'umra, A. n. m. A religious visit, or a pilgrimage, to the sacred places at Mecca.

عمق 'umaq, A. n. m. Depth ; profundity (*gahrdí*).

عمل 'amal, A. n. m. (Plu. عملیات 'Amalyát). Action ; practice ; work ; business ; act ; deed ; charm ; spell ; process ; execution ; effect ; administration ; jurisdiction ; rule ; time (of day) ; stroke (of an hour) ; an enema ; an intoxicating drink. عمل بیجا —i-bejá, misapplication ; ill-use ; improper action ; mis-employment. عمل پڑھنا —parhná (par), v. to practice a spell or charm (over) عملداری —dári, n. f. government ; reign ; collectorship. عمل در آمد کرنا —daramad karná, v. to act

upon. عمل دستک —dastak, a warrant ; a deed ; a conveyance. عمل پتہ —pattha, a deed appointing an agent or manager ; a warrant authorising a person to collect the rents of an estate. عمل کرنا —karná, to act ; to operate ; to carry into effect.

عملاً 'amalan, A. adj. Practically ; in fact ; indeed ; truly.

عمامة 'amla, A. n. m. Establishment, especially the vernacular establishment of an office as distinguished from the English department ; ministerial or public officers (attached to a court or an office). A thing done ; materials of a house.

عمالی 'ámali, 'amli, A. adj. Practical opp. (to علمی 'ilmi) ; theoretical ; addicted to ; intoxicating drugs. حکمت عملی —kikmat-i-'amali, philosophy.

عمر 'ammú, P. n. m. A paternal uncle. عمر زادہ —záda, a cousin.

عمود 'amúd, A. n. m. (in *Geom.*) A perpendicular ; pole (of a tent, &c.) ; a pillar ; a cudgel ; a mace. عمود صبح —i-subh, the morning rays or refulgence.

عموم 'umúm, A. adj. Common ; general. عموماً —umúman, commonly ; generally.

عمیق 'amíq, A. adj. Deep ; profound.

عظیم 'Amim, A. adv. Universal ; complete ; full ; abundant.

عن 'an, A. prep. From ; of ; for ; with ; on ; above ; before.

عنا 'aná, A. n. f. Distress ; trouble ; affliction ; labour ; fatigue.

عناَب 'unnáb, A. n. m. The jujube print. عنابی —i, adj. red like a jujube.

عناد 'inád, A. n. m. Obstinacy ; resistance ; opposition ; disobedience ; rebellion. [Elements]

عناصر 'anásir, A. n. m. (Plu. of عنصر 'Ansar)

عنان 'inán, A. n. f. A bridle ; a rein. عنان گشتہ —gashta, with loose reign, i. e., at full gallop (*baghtú*).

عنایت 'ináyat, A. n. f. Favour ; kindness ; bounty ; gift ; support ; aid. عنایت رکھنا —rakhná, v. to

show favour; to look with kindness (on).
 كرنأ - karná, to grant; to give; to present.

عنب 'inab, A. n. m. The grape (*angúr*).

عنبير 'ambar, A. n. m. Amberggris.

عنبيري 'ambarí, } A. adj. Of the colour or
 عنبيرين 'ambarin, } odour of amberggris.

عند 'ind, A. adj. Near; at; before; with; about; in; on; according to. عند الاستفسار—ul-istifsar, on or during interrogation; upon enquiry or investigation. عند التحقيق—ul-tabhíq, in truth; certainly. عند التجرير—ul-tajwir, under consideration; pending trial or enquiry before the court. عند التدارك—ul-tadáruk, on the disposing of a case (in a court of justice). عند الثبوت—ul-subút, on proof; on conviction. عند الضرورة—ul-zurúrát, in time of need; when required. عند الطلب—ul-talab, adv. on demand. عند الملاقاة—ul-muláqát, during the interview. عند الوصول—ul-wasúl, on arrival; on receipt. عند الوقت—ul-waqt, in time; at the proper time; in the critical juncture. عند الوقوع—ul-wuqú', on the occurrence of the event; in such an event.

عندليب 'andalíb, A. n. f. A nightingale (*hazrdástán*).

عنديه 'indiyah, A. n. m. (*Plu. عنديات 'Indiyát*)
 Opinion; intent. عنديه لينا—lena, assertions of opinion.

عنصر 'unsar, A. n. m. Element; origin.

عنصري 'unsarí, A. adj. Elementary; elemental; original.

عنصل 'unsal, A. n. A squill.

عنقوان 'unfawán, A. n. m. The beginning of anything; the prime, spring or bloom of youth.

عنقا 'anqa, A. n. m. A fabulous bird; the phoenix; a *para aris* (*Simurg*); adj. rare; curious; hard to find. عنقا هونا—honá, v. to be rare.

عنقریب 'anqaríb, A. adv. Very soon; shortly; nearly; almost; adjoining; approaching; imminent; impending.

عنكبوت 'ankabút, A. n. f. A spider.

عنوان 'unwán, 'anwán, A. n. m. The title of a book; title page; preface; superscription;

heading; anything that serves as an indication (of another thing).

عوام 'awám, A. n. m. (*Plu. of عام 'Am*). The common people; the vulgar; the public; the populace. عوام الناس—unnás, the public; the populace at large; mankind.

عود 'úd, A. n. m. Timber; the aloes-wood; a lute. عود سوز—soz, n. m. a vessel in which 'úd is burnt (for fumigation).

عود 'aud, A. n. m. Returning; a return. مرد كرنأ—karná, v. to return; to relapse.

عوده 'úda, P. adj. Light-blue; azure; sky-blue.

عوز 'auz, A. n. m. Refuge; asylum; fleeing to God for protection.

عورت 'aurat, A. n. f. A woman; a female; a wife. عورت كي ذات—ki zat, n. f. the female sex.

عوض 'ewaz, A. n. m. Reward; return; retaliation; exchange; in lieu (of); in return (for); compensation; recompense; adv. Instead; for. عوض دينا—dená, v. to pay compensation (to); to reimburse. عوض لينا—lená, v. to take revenge; to exact retribution or revenge from. عوض عرض ميں—men, ba—, as substitute for; in insatisfaction as compensation or indemnity; in supersession of; *mutatis mutandis*.

عوضي 'ewazí, A. n. f. A substitute; a *locum tenens*; a person acting for another; adj. officiating. عوضي دينا—dená, v. to supply a substitute. عوضي كرنأ—karná, v. to officiate.

عهد 'ahd, A. n. m. Engagement; stipulation; covenant; agreement; bill; bond; treaty; vow; oath; promise; contract; time; period; reign. عهد توڑنا—torná, v. to break one's promise. عهد حکومت يا عهد ميں—i-hukúmat ya 'ahd men, in the reign of. عهد شکن—shikan, adj. faithless to one's word or engagement. عهد شکنی—shikaní, n. f. breach of faith, contract or engagement; promise breaking. عهد كرنأ—karná, v. to promise; to give one's word; to make a vow. عهد نامه—náma, n. m. a contract; a charter; a treaty. عهد و پیمان—o-paimán, n. articles of agreement; a treaty of alliance.

عہدہ 'uhdah, A. n. m. An office; a post; an employment; an appointment; a commission; duty; business. عہدہ درائی—baráí, n. f. the completion of an engagement; discharge of a duty. عہدہ پانا—páná, v. to obtain the office or appointment (of). عہدہ دار—dár, an office-holder; an official; a civil or military authority. عہدہ سے برطرف ہونا—se bartaraf honá, v. to be dismissed from an office.

عیادت 'ayádat, A. n. f. Visiting of the sick. عیادت کرنا—karná, to ask after the health of a sick person. [forefend.]

عیانہ 'iyázan-bil-lah, God avert; Heaven عیار 'aiyár, A. n. m. A knave; an impostor, *adj.* cunning; artful; shrewd; crafty (*chálák*).

عیاری 'aiyári, P. n. f. Cunning; deception; imposture; craftiness; knavery.

عیاش 'aiyásh, A. *adj.* Luxurious; voluptuous; rakish; addicted to pleasure; n. m. one who is addicted to pleasure.

عیاشی 'aiyáshí, A. n. f. Luxury; joviality.

عیال 'ayál, A. n. m. Family; children; household; domestics. عیال دار—dár, *adj.* having a family. عیالداري—dári, n. f. family or worldly affairs.

عیانہ 'ayán, A. *adj.* Clear; manifest; conspicuous; evident. عیان آشکار—áshkár, عیان کرنا—karná, v. to lay bare; open; to make clear or manifest.

عیب 'aib, A. n. m. Defect; fault; vice; blemish; imperfection; sin; infamy. عیب بین—bín, fault-finder. عیب پوش—posh, n. m. concealer of faults or defects; one who connives at the faults of others. عیب پوشی—poshí, n. f. concealment of a fault; connivance. عیب جو—jo, *adj.* censorious; malicious; n. m. one who seeks for faults; a carper. عیب گیری یا عیب جوئی—giri, ya—joí, ya—chini, n. f. picking out faults; criticism. عیب دار—dár, *adj.* defective; faulty. عیب گو—go, n. m. a slanderer. عیب گوئی—goí, n. f. evil speaking; scandal. عیب لگانا—lagáná, v. to defame; to speak ill of; to accuse; to stigmatize. عیب نیکالنا—nikálná, v. to pick holes; to find fault with.

عیبی 'aibí, A. *adj.* Defective; faulty; vicious; squint-eyed.

عید 'id, A. n. f. A Muhammadan festival; a periodical festival; a feast day. عید الفطر—ul-fitr, n. f. a Muhammadan festival observed in the month of *Shavval*. عیدالضحی—uz-zuhá, a Muhammadan festival observed in the month of *Zilhij*. عید گاہ—gáh, n. f. a platform where Muhammadans assemble for prayers on 'Id festivals.

عیسائی 'isáí, P. *adj.* Christian; n. m. a Christian.

عیسوی 'iswí, A. *adj.* Belonging to Jesus; Christian. عیسوی سن—san í—, Christian era.

عیسی 'isá, A. n. Jesus. عیسی مسیح—Masih, Jesus the Messiah; Jesus Christ.

عیش 'aish A. n. m. Luxury; delight; a life of pleasure and enjoyment. عیش کرنا—karná, v. to enjoy oneself. عیش و نشاط و عشرت—ishrat,—o-nishát, pleasantness of life; luxurious enjoyment. عیش محل—mahal, n. m. the inner apartment of the house of a person of wealth or rank.

عین 'ain, A. n. f. The eye-sight; fountain; the udders; *adj.* straight; direct; intrinsic; real; very; exact; precise. عین فین—gain, as the letter 'ain' and *gain* but slightly different; (Met.) squint-eyed; having a cataract. عین المال—ul mál, principal; nett profit. عین وقت—waqt par, *adj.* in the very nick of time; punctually to the moment.

عینک 'ainak, A. n. f. Spectacles; glasses used to assist the sight.

عینی 'ainí, A. *adj.* Of or relating to the eye. عینی گواہ—gawáh—, an eye-witness.

عیوب 'ayúb, A. n. Plu. (of عیب 'Aib). Vices; faults; defects.

(غ)

غ gain, (called مغنہ یا عین مجتمعة) the nineteenth letter of the Arabic, twenty-second of the Persian and twenty-fifth of the Urdu alphabet. In Hindi it is represented by ग्. Its numerical value according to 'Abjad is 1,000.

غار *gār*, A. n. m. A cavern; a pit; a den or lair (of a wild beast); a deep gush or wound. یار *yār*—, a companion in a cave; n. an intimate friend.

غارت *gārat*, A. n. f. Rapine; pillage; plunder. غارت کرنا—*karná*, v. to plunder; to spoil; to lay waste. غارتگر—*gar*, n. m. a plunderer. غارتنا—*honá*, v. to be ruined or destroyed.

غارتگری *gāratgari*, P. n. f. Pillage; destruction; plundering.

غازه *gāza*, P. n. m. Perfumed powder for the hair or skin.

غازی *gāzi*, A. n. m. One who fights against infidels; a conqueror. غازی مرد—*mard*, n. m. a hero; (*Met.*) a horse.

غازیة *gāziya*, P. n. m. The faculty of intending or purposing (*quwwat-i-gāziya*).

غاشیة *gāshiya*, A. n. m. A covering for a saddle; a saddle-cloth.

غانل *gāfil*, A. *adj.* Negligent; neglectful; inattentive; remiss; careless; unmindful; unconscious. غافل ہونا—*honá*, v. to be careless or negligent.

غالب *galib*, A. *adj.* Overcoming; overpowering; predominant; triumphant; victorious; most probable; most likely. غلب آنا یا ہونا—*áná yá honá*, v. to overcome; to surmount; to conquer; to excel; to surpass; to subdue; to beat. غالب کرنا—*karná*, to allow one to prevail (over or against); to render one victorious.

غالباً *galiban*, A. *adv.* Most probably; mostly; apparently; principally; upon the whole.

غالیچہ *gālichā*, P. n. m. A small carpet.

غامض *gāmiz*, A. *adj.* Abstruse; enigmatical; difficult to be understood.

غائبی *gāi*, A. n. (*Plu. of* غایت *Gāyat*). End; extremities; *adj.* final.

غائب *gāib*, A. *adj.* Absent, concealed; vanished; lost; n. m. the invisible; the future; third person. غائب کرنا—*karná*, v. to secrete; to remove stealthily; to make away with. غائب ہونا—*honá*, v. to disappear; to vanish.

غائبانہ *gāibāna*, P. *adj.* In one's absence; invisibly; secretly.

غایت *gāyat*, A. *adj.* Considerable; enormous; extremely; deep; excessive; superlative; uttermost; n. f. extreme; a standard.

غبار *gubār*, A. n. m. Clouds of dust; a dust storm; foulness; impurity; vapour; fog; mistiness; (*Met.*) affliction; the smallest Arabic or Persian hand-writing (*ghatt-i-gubār*) غبار آلودہ—*dlúda*, *adj.* covered or polluted with dust; dusty. غبار نکلانا—*nikálná*, to take revenge; to give vent to one's ill-feeling, &c.

غبارة *gubāra*, A. n. m. A balloon; a mortar for throwing shells. [of intellect; stupidity.

غبارت *gabāwat*, P. n. f. Weakness or deficiency

غیب *gabgab*, A. n. m. A dewlap; a double chin. چہا غیب *cháh-i*—, the dimple in the chin.

غبن *gaban*, A. n. m. Misappropriation of money; unlawful abstraction. غبن ناش *i-fāsh*, a gross or a notorious fraud. غبن کرنا—*karná*, v. to misappropriate; to embezzle.

غیبی *gabí*, A. *adj.* Weak in mind; imprudent; dull; forgetful.

غپ شپ *gap shap*, P. n. m. Gossip; talkativeness.

غچلی *gichlí*, P. *adj.* Dirty; filthy.

غدار *gaddár*, A. *adj.* Treacherous; fraudulent; v. a traitor; a cheat. [gland.

غدد *gudúd*, A. n. m. A granulous swelling; a

غدر *gadar*, A. n. m. Riot; mutiny; confusion; disorder; sedition; disturbance. غدر مچانا یا کرنا—*macháná yá karná*, v. to rebel; to revolt; to riot. [pool.

غدير *gadí*, A. *adj.* Deceitful; n. f. a lake or

غذا *gizá*, A. n. f. (*Plu. of* اغذیة *Aqziya*). Food; aliment; diet; provisions; victuals. غذای لطیف *gizá-i-latif*, light food.

غراب *guráb*, A. n. m. A crow; a raven; a jackdaw; a kind of Arab boat or vessel.

غرارة *girára*, A. n. m. Gurgle; a large sack.

غرازیدار *dár paijama*, n. m. loose trousers. [pous; brave.

غزاز *gurrás*, A. *adj.* Frowning; haughty; pom-

غران *garrán*, P. *adj.* Rapacious; fierce.

غرامت *garámat*, P. n. f. A debt ; a fine ; a tribute. [to frown.

غرانا *gurrána*, *गुराना*, H. v. To growl ; to roar,

غرایب *garáib*, A. (Plu. of *Garib*.) Wonderful things or events. [sun ; the west.

غرب *garb*, *garab*, A. n. m. The setting of the

غرابا *gurabá*, A. n. (Plu. of *Garib*) The poor

غربال *girbál*, A. n. f. A sieve ; riddle.

غربت *gurbat*, P. n. f. Humility ; poverty ; lowliness ; wretchedness. *زدا*—*zada*, *adj.* wretched ; impoverished.

غربی *garbí*, A. *adj.* Western ; occidental.

غرزنک *gurzang*, P. n. m. A jump ; a bound.

غرش *gurrish*, P. n. Rage ; anger ; growling ; roaring ; fury.

غرض *garaz*, A. n. f. Design ; wish ; aim ; objection ; motive ; purpose ; business ; use ; need ; want ; meaning ; interest ; concern ; *adv.* in short ; in a word ; in fine. *غرض رکھنا*—*rakhná*, v. to be interested in ; to concern oneself (with.) *بارلا*—*ká báolá*, a slave to one's passion. *غرضمند*—*mand*, desirous (of) ; needy ; interested. *غرضمندی*—*mandi*, n. f. self interestedness ; selfishness. *غرض نکالنا*—*nikálná*, v. to have one's end served. *بے غرض*—*be*—, *adj.* disinterested.

غرضانہ *garzáná*, P. *adj.* From interested motives ; selfishly ; spitefully.

غرضی *garzí*, A. *adj.* Interested ; selfish. *بے غرضی*—*be*—, n. f. disinterestedness.

غرغرا *gargara*, A. n. m. Gargling.

غرفش *gurfish*, A. n. f. Threatening ; reproof ; chiding ; intimidation ; bullying.

غرفہ *gurfa*, A. n. m. An upper apartment ; a hall ; a parlour ; a window.

غرق *garq*, A. *adj.* Drowned ; sunk ; absorbed ; engrossed. *غرق کرنا*—*harná*, v. to drown. *غرق ہونا*—*honá*, v. to be immersed ; to be absorbed (by) ; to drown.

غرقاب *garqáb*, A. n. Deep water ; a whirl-pool.

غرقتی *garqí*, A. n. f. Flood ; inundation. *میں غرقتی آنا*—*men áná*, v. to be flooded.

غروب *gurúb*, A. n. m. Setting (of the sun, moon, &c.) *ہونا*—*honá*, v. to set (the sun, moon, &c.)

غرور *gurúr*, A. n. m. Pride ; vanity ; haughtiness ; vain ; glory. *کرنا*—*karná*, v. to be proud ; to boast.

غری *garra*, A. n. m. Pride ; vanity.

غریہ *gurra*, A. n. m. A white spot on the forehead of a horse ; the first day of the month ; fasting ; fast.

غریب *garíb*, A. *adj.* Poor ; destitute ; mild ; humble ; meek ; strange. *غریب الوطن*—*ulwatan*, a stranger ; a foreigner. *پرور*—*parwar*, cherisher of the poor.

غریب پروری—*parwarí*, n. f. cherishing of the poor. *غریب خانہ*—*khána*, one's own humble lodging. *کرنا*—*karná*, v. to reduce to poverty ; to impoverish. *مار*—*már*, oppression of the poor. *نواز*—*nawáz*, *adj.* kind to the poor.

غریب نوازی—*nawázi*, n. f. kindness to the poor ; hospitality.

غریبانہ *garíbána*, P. *adj.* Fit for the poor ; humble ; *adv.* like a poor person ; humbly.

غریبی *garíbí*, P. n. f. Poverty ; indigence ; humility ; mildness ; meekness. *آنا*—*áná*, v. to be reduced to poverty. [clemency.

غریز *garíz*, P. n. f. Forbearance ; meekness ; حرارت *garízi*, A. *adj.* Natural ; innate. *غریزی*—*harárat*—, n. f. natural heat.

غرق *garíq*, A. n. m. A drowning person ; *adj.* immersed ; drowned. *غریق رحمت*—*i-rahmat*, *adj.* overwhelmed with mercy ; drowned in the grace of God. [ing.

غرور *gareo*, P. n. m. Noise ; tumult ; mob ; growl-

غزال *gizál*, } A. n. m. A young deer ; a
غزالہ *gizála*, } fawn.

غزل *gazal*, A. n. f. An ode ; an amatory poem. *غزل خوانی*—*khwán*, a reciter of odes. *غزل سرانی*—*khwání*, n. f. the reciting of odes. *غزل کہنا*—*sarái*, the singing of an ode or odes. *کھنا*—*kahná*, v. to compose an ode.

غسال *gussál*, A. n. m. One whose business it is to wash the bodies of the dead.

غسل *gusl*, A. n. m. Bathing; ablution. غسل خانه
—*khána*, n. m. a bath-room; a bagnio. غسل کرنا
—*karná*, to bathe.

غش *gash*, P. n. m. A faint; stupor; swoon.
غش آنا—*áná*, v. to faint.

غشی *gashí*, A. n. f. Fainting; swooning.

غصب *gasab*, A. n. m. Injustice; wrong; oppres-
sion; violence; plunder; embezzlement.

غصه *gussa*, A. n. m. Strangulation; suffocation;
anger; rage; passion. غصه دلانا—*diláná*, v. to
enrage; to irritate; to offend. غصه کرنا
—*karná*, v. to be angry; to rage. غصه میں
—*meñ bhar jáná*, to be enraged. غصه ناک
—*nák par honá*, to be easily offended;
to be very choleric or irritable. غصه ور
—*war*, adj. angry; passionate; furious.

غصیل - فضیل *gussail, gusílá*, P. adj. Passionate;
choleric; furious; irascible.

غضب *gazab*, A. n. m. Violence; passion; outrage;
oppression; wrath; rage; course; calamity;
adj. angry; displeased; awful; dreadful;
woeful. غضب آوردہ—*áluda*, adj. oppressive;
wrathful; indignant. غضب توڑنا
—*tútná*, v. to be overtaken by a calamity; to be visited by
wrath of God. غضب کرنا
—*karná*, v. to oppress;
to tyrannise; to do wonders. غضبناک
—*nák*, adj. enraged; furious indignant. غضبناک ہونا
—*nák honá*, v. to be angry; to be enraged

غضروف *guzrúf*, A. n. m. Gristle; a cartilage.

غضنفر *gazanfar*, A. n. m. A big-bodied man; a
lion; a hero. [substantial.]

غف *gaf*, P. adj. Thick; dense; closely-woven;

غفار *gaffár*, A. Forgiving; merciful; n. for-
giver of sin; an epithet applied to God.

غفران - غفر *gafr, gufrán*, A. n. m. Pardon; remis-
sion of sin. غفران پناہ—*gufrán panáh*, asylum
of forgiveness.

غفلت *gafat*, A. n. f. Carelessness; negligence;
remissness; unmindfulness; unconsciousness;
soundness of sleep; faint; swoon. غفلت ردا
—*sada*, overcome with carelessness. غفلت کرنا
—*karná*, v. to disregard; to neglect. خواب غفلت
—*khwáb-i*—, sound or unconscious sleep; sheer
apathy or indifference.

غفور *gafúr*, A. n. m. The Pardoner; Forgiving
One, adj. merciful; clement.

غفیر *gaffr*, A. adj. All; many; numerous; large.

غل *gill*, A. n. m. Malice; hatred; rancour; insin-
cerity; perfidy. غل و غش—*o-gish*, apprehen-
sion; hesitation; fraud; deceit.

غل *gul*, P. n. m. Noise; outcry; tumult. غل کرنا
—*karná yá macháná*, v. to make a
noise; to brawl; to shout. غل گپہا—*gapáfa*,
n. m. brawl; shouts; roar.

غلظت *gilázat*, A. n. f. Thickness; bulkiness;
rudeness; churlishness; (in Urdú) filth; dirt;
offal.

غلاف *giláf, galaf*, A. n. m. A case; a sheath; a
pillow-case; an envelope; a scabbard; a guilt.
غلاف القلب—*ul-qalb*, the pericardium; covering.

غلام *gulám*, A. n. m. A slave; a bondsman; a
youngman arrived at maturity; a servant
(who receives food and clothing but no
wages); the knave (at cards). غلام کرنا
—*karná*, v. to enslave. غلام گردش
—*gardish*, n. m. a shed for servants to live in.

غلامی *gulámí*, A. n. f. Slavery; vassalage;
servitude. غلامی اختیار کرنا
—*ikhtiyár karná*, v. to accept servitude.

غلبہ *galba*, A. n. m. Superiority; prevalence;
overcoming; influence; mastery; excess.
غلبہ پانا—*páná*, v. to get the upper hand; to
obtain the mastery over; to get the better (of).
غلبہ کرنا—*karná*, to get the upper hand;
to conquer; to overcome; to overpower.

غالچگی *galchagí*, P. n. f. Rusticity; vagabond
life.

غالچہ *galcha*, P. n. m. A villager; a rustic; a
vagabond.

غلام *galat*, A. adv. Wrong; erroneous; in-
accurate; incorrect; untrue. غلط العوام - غلط
—*ul-ám*,—*ul-'nwám*, a popular mistake; a
vulgar error or fallacy. غلام بردار—*bardár*, an
eraser. غلام ثبوت کرنا—*thabrána*, v. to prove to
be wrong or erroneous. غلام خبر دینا
—*khábar dená*, to misinform. غلام سمجھنا
—*samajhná*, v. to misapprehend; to misunderstand.

غلام ذہمی *fahmí*, n. f. misunderstanding; misappre-
hension. غلام کرنا—*karná*, to make a mistake;

غورہ gora, P. n. m. Unripe grapes; dates; a colour in pigeons.

گوری gorí, P. n. f. A kind of porcelain (which breaks the moment, poison is put into it); a plate.

گورز gauz, A. n. f. Gossip.

گورم got, A. n. m. Consideration; deep meditation; fainting fit; a swoon; a dive.

گورمہ gota, A. n. m. A dip; a dive; plunge (into water). غورمہ باز یا غورمہ خورر —báz yá—khor, a diver. غورمہ خوری —khorí, n. f. dipping; diving. غورمہ دینا —dená, v. to dip; to plunge or duck under water. غورمہ کھانا —kháná, v. to be dipped; to dive; to be cheated; to lose one's way. غورمہ مارنا —márná, v. to plunge; to dive.

گورما gangmá, P. n. m. Noise; clamour; alarm; hubbub; uproar.

گورمانی gaugáí, P. adj. Noisy; clamorous; false; nonsensical; n. a noisy or turbulent fellow; a disturber.

گورک gúk, P. n. m. A frog; a toad.

گول gol, A. n. m. A company; band; herd; crowd; throng; mob; gang. گول کے گول —ke —, crowd upon crowd; crowds.

گولک golak, P. n. f. A closed box with a clip at the top through which money is dropped, generally used by *banyás* and tax-collectors at barriers; hidden things; mysteries.

گورنچی gaunchí, گویچی, H. n. f. A hole in a path (such as those made by the feet of animals).

گیات gyás, A. n. f. Aid; succour; deliverance from difficulty; redress.

غیب gaib, A. adj. Concealed; invisible; absent; n. m. invisibility; absence. غیب داں —dán, n. m. a seer; diviner; omniscient. غیب دانہی —dání, n. f. knowledge of mysteries عالم غیب —'álám-i—, the other world.

غیبت gaibat, A. n. f. Absence Speaking ill of any one behind his back; slander; distraction; backbiting. غیبت کرنا —karná, v. to backbite.

غیبی gaibí, P. adj. Absent; heavenly; divine.

غیر gair, A. adj. Other; different; strange; foreign; adv. besides; different from; n. m.

a stranger; an outsider; another person; prep. adv. and neg. prefix, without; besides; except; save; but; other than; exclusively of; different from; contrary to; the reverse of; not; non-, un-, in-, ir-, &c. غیر آباد —ábád, adj. un-inhabited. غیر ادا شدہ —adá shuda, outstanding. غیر انصاف —insáf, not just; unjust; contrary to equity. غیر تربیت یافتہ —tarbiyat yáfta, untrained; uneducated; undisciplined; unmannerly; rude. غیر جانبدار —jánibdar; neutral. غیر حاضر —házir, adj. absent. غیر حاضری —házirí, n. f. absence; non-attendance; non-appearance. غیر ساکن —sákin, non-resident. غیر سمجھنا —samajhná, v. to regard one as a stranger. غیر شخص —shakhs, a third person; a stranger. غیر متاثر —mutássir, adj. ineffective. غیر محدود —mahdúd, adj. unlimited. غیر مستعمل —musta'mal, adj. not in use; obsolete. غیر مشروط —mashrút, adj. unconditional; absolute. غیر معتبر —mu'atbar, not trustworthy; unreliable; incredible. غیر معمول —ma'múl, adj. unusual. غیر معین —mu'aiyan, unsettled; undefined; uncertain; fluctuating. غیر مکمل —mukammil, adj. imperfect; incomplete. غیر ممکن —mumkin, adj. impracticable. غیر ممکن التردد —mumkin-ul-tardíd, not to be refused; unanswerable; irrevocable. غیر ممکن الوصول —mumkin-ul-wasúl, irrecoverable. غیر مناسب —munásib, unbecoming; improper. غیر منقولہ —manqúla, adj. immoveable; fixed. غیر مذکورہ —mankúha, adj. unmarried; illegitimate. غیر واجب —wájib, adj. un-reasonable; wrong; not due.

غیرت gairat, A. n. f. Shame; bashfulness; modesty; jealousy; a nice sense of honour; courage; disdain; indignation. غیرت کھانا —kháná, v. to blush with shame. غیرت مند —mand, bashful; modest; emulous; high-minded. بے غیرت —be—, adj. shameless.

غیرت گایور gaiyúr, A. adj. Very jealous in point of love or honour; high-minded; an epithet of the Deity.

(ف)

ف fe, The 20th letter of the Arabic, 23rd of the Persian, and the 26th of the Urdú alphabet; has no exact correspondent in

Sanskrit, though in practice it is denoted by ४०. Numerically it stands for 80.

فاتح fátiḥ, *part. adj.* Opening; conquering; *n.* an opener; a conqueror.

فاتحة fátiḥa, *A. n. f.* Commencement; first part of a thing; exordium; the first chapter or *súrat* of the Qurán which is read when praying for the souls of the dead; offerings to saints, &c. فاتحة پڑھنا—*parḥná, v.* to read prayers over the dead; to make offerings to saints with prayers.

فاتر العقل fatirul 'aql, *adj.* Of unsound mind.

فاجر fájir, *A. n. m.* Sinful; immoral; unchaste.

فاحش fahish, *A. adj.* Obscene; shameless; nefarious; impudent; lewd.

فاخته fakhta, *A. n. f.* A dove; a ringed turtle-dove. فاخته ارژانا—*uráná, v.* to enjoy a period of prosperity or of unrestrained authority; to be free from care and anxiety. فاخته آر جانا—*jána, to be confounded; to faint.*

فاختی fakhtai, *P. n. f.* Dove-colour.

فاخر fakhir, *A. n. m.* A boaster; *adj.* excellent; precious; honourable; valuable.

فارس fâras fâris, *P. n.* Persia; a horseman; cavalier.

فارسی fârsí, *P. n. f.* The Persian language. فارسى دان—*dán, n. m.* a Persian scholar.

فارغ fárig, *A. adj.* Free; at leisure; disengaged; absolved; contented. فارغ البال—*ul-bál, adj.* independent; in easy circumstances; free from care. فارغ البالى—*ul-báli, n. f.* easy circumstances. فارغ خطى—*khatí, n. f.* a deed of release or discharge; an acquittance; a deed of dissolution of partnership. فارغ هونا—*honá, v.* to be free; to be at leisure; to have done with.

فاسد fâsid, } *A. adj.* Corrupt; vicious; an-
فاسدة fâsida, } xious; bad; wicked; wrong;
sinister. فاسد كرنا—*karná, v.* to corrupt; to pervert; to debase; to vitiate. فاسد نيت يا عام—*niyat yá 'ilm,* criminal intention or knowledge.

فاش fâsh, *P. adj.* Apparent; manifest; known; divulged; notorious. فاش غلطى كرنا—*galati-*

karná, to make a gross or serious mistake. فاش كرنا—*karná, to lay bare or open; to divulge; to discover.* فاش هونا—*honá, v.* to be divulged, revealed or exposed; to get abroad.

فاصلة fâsila, *A. n. m.* Space; interval; distance; separation; duration; break; gap. فاصله پڑ—*par, at a distance; far off; away from, apart.*

فاضل fâzil, *A. adj. (Plu. فاضلات Fâzilât)* Learned; accomplished; proficient; superfluous; abundant; in excess; learned; remainder; waste; *n. m.* excess; balance; an accomplished person; a learned man; a perfect scholar. فاضل باقى—*bâqí, n. f.* balance in favour; a surplus. فاضل باقى نيكالنا—*bâqí nikalná, v.* to strike the balance. فاضل هونا—*honá, v.* to be accomplished; to exceed.

فاطمة fâtima, *A. n. f.* The name of Muhammad's daughter and wife of 'Alí.

فاعل fa'ii, *n. m.* Doer; performer; maker; operator; agent; (in *Gram.*) the nominative. فاعل حقيقى—*i-haqíqí, the true God.* فاعل مختار—*i-mukhtár, master of one's own actions; a free agent.* [effective.]

فاعلى fâ'ili, *A. adj.* Active; operative; efficient; فاعل فاغ—*fâq, A. n. f.* The notch of an arrow.

فاقة fâqa. *A. n. m.* Poverty; starvation; want; fasting (from want or ill-health). فاقة كرنا—*karná, v.* to fast from want or ill-health. فاقة كاش—*kash, n. m.* a famished person; one who fasts from want. فاقة كاشى—*kashí, n. f.* fasting from necessity; endurance of hunger. فاقة مست—*mast, n. m.* one who is jolly in the midst of poverty; a poor starveling who affects the airs of a wealthy man. فاقة مرننا—*fâqon marná, v.* to starve; to die of hunger.

فال fâl, *A. n. f.* An augury; omen; presage. فال كهرنا—*kholná, v.* to practice augury; to foretell events.

فال نامہ fâl nâma, *n. m.* A book of omens, &c. فالٹو fâltu, फाल्टू, *adj.* H. Spare; surplus; extra; over and above; unemployed.

فالج fâlij, *A. n. m.* Paralysis; the palsy. فالج گرنا—*girná, to be stricken with palsy; to be palsied or paralysed.*

فالسہ fálsá, P. n. m. A sub-acid fruit; the *Grewia Asiatica*.

فالسہ fáludá, P. n. m. A kind of flammery (made of nishásta).

فالسہ fález, P. n. f. A field of melons.

فام fám, P. prep. Like (an affix to noun denoting colour), as : سية نام siya—, *adj.* blackish, لام لعل la'l—, ruby-coloured.

فانوس fánús, P. n. f. A glass shade of a candlestick; a lantern; a pharos. فانوس خیل—i-khyál, n. m. A lantern which revolves by the smoke of the candle within, and has on the sides of it figures of various animals; a magic lantern.

فانی fání, A. *adj.* Transitory; inconsistent; mortal; perishable. فانی جهان jahán-i—, this transitory world.

فایده fáeda, A. n. m. Gain; advantage; profit; out-turn; yield; benefit; interest; use; importance; result. فایده آتھانا—uṭháná, v. to reap advantage or benefit (from). فایده کرنا—karná, v. to benefit; to profit; to cure; to do good. فایده مند—mand, *adj.* profitable; advantageous; conducive; efficacious. فایده ہونا—honá, v. to derive benefit. بے فایده—be—, *adj.* useless; profitless; unserviceable; *adj.* to no purpose; in vain; uselessly.

فایز fáiz, A. part. *adj.* Attaining; obtaining; acquiring.

فائق fáeq, A. *adj.* Superior; excellent; surpassing; paramount.

فابیہ fabbiha, A. *intj.* Very well; excellent.

فاتان fattán, A. *adj.* Malicious; mischievous; tempting; seductive; n. a gold-smith; an assayer of gold; a great tempter; the Devil.

فاتح fatah, A. n. f. Victory; conquest; success. فاتح پانا—páná, v. to obtain a victory. فاتح پیچ—pech, n. m. mode of tying the turban. فاتح کرنا—karná, v. to conquer. فاتح کا ڈنکا یا نقارہ—ká-ḍanká yá naqqará, n. m. the beat or flourish of drums after a victory. فاتح مند—mand, *adj.* victorious; triumphant; victor. فاتح مندی—mandí, n. f. victory. فاتح ہونا—honá, v. to be conquered. فاتح یاب—yáb, *adj.* victorious.

فاتحہ fatha, A. n. m. The vowel point (ٴ) (ہر Zabar) pronounced as *a* in the word *America*.

فتراک fitrák, P. n. m. Saddle straps.

فتنہ fitna, A. n. m. Mischief; sedition; faction; perfidy; evil; pest; temptation; seduction. فتنہ آتھانا—uṭháná, v. to cause disturbance. فتنہ انگیز—angez, *adv.* mischievous; seditious; turbulent; n. m. mischief-maker; an incendiary; seditious person.

فتروح futúh, A. m. n. (Plu. of فتح Fath). Victories; gains; conquests; perquisites.

فتروحات futúhát, A. n. m. (Plu. of فتح Futúh). Numerous victories.

فتوحی fatúhí, P. n. f. A jacket without sleeves.

فتور futúr, A. n. m. Defect; infirmity; weakness; unsoundness; disturbance; disorder; discord; quarrel; row. فتور دہنا کرنا—barpá karná, v. to cause disturbance; to sow discord between. فتور عقل—i-'aql, unsoundness of mind. فتور ہضم—i-hazam, badness of digestion.

فتوری futúrí, futúriyá, A. *adj.* Riotous; contentious; deceitful; a fomenter of disturbances; a contentious or litigious person.

فتویٰ fatwá, A. n. m. A judicial decree; judgment; sentence; decision; the written verdict of the Muhammadan officer of a court, according to the *shara'*. فتویٰ دینا—dená, to give a verdict; to give judgment.

فتیلہ fatíla, A. wick; a match. فتیلہ سوز—soz, n. m. candlestick; a brass or tin lamp.

فجر fajr, A. n. f. Early morning; daybreak; dawn of day. فجر بڑے—báre—, early in the morning.

فجول fujul, A. n. m. A radish. [lust.

فجور fujúr, A. n. m. Wickedness; immorality;

فحش fuhash, A. *adj.* Obscene; فحش بکنا—bakná, v. to talk bawdy.

فحوا fahwá, A. n. m. Meaning; signification; intended sense or import. فحواے کلام—i-kalám, signification; scope; spirit; tenor of the speech, &c.

فخر fakhr, A. n. m. Glory; nobility, ornament; grace; just or proper pride; egotism; boasting; pride. فخر سمجھنا—samajhná, v. to take

just pride in. کَرْنَا —karná, *v.* to be proud of; to glory (in); to boast (of). [fully.

فخریه fakhriya, *A. adj.* With just pride; boast-
فدا fidá, *A. n. f.* A ransom; consecration;
sacrifice; devoting one's self to save another;
adj. devoted to; dying for. كَرْنَا —karná, *v.*
to sacrifice; to devote oneself or a thing
(for or to). نَدَا —honá, *v.* to be sacrificed.

فدوی fidwi, *A. n. m.* Your devoted servant.

فدیة fidiya, *A. n. m.* Ransom.

فَر far, *P. n. m.* Pomp; glory; splendour;
magnificence.

فَرَاةَ farrátá, फरहा, *H. n. m.* The sound of any
thing fluttering or rushing in the air; rush;
rustling. هَرْنَا —bharná, to run swiftly;
to read fast.

فَرَاكْ farákh, *P. adj.* Spacious; wide; capacious;
extensive. فَرَاكْ حَرَصَاةَ —hausila, *adj.* large-
minded; high minded. كَرْنَا —karná, *v.* to
expand; to widen.

فَرَاكْهِي farákhí, *P. n. f.* Wideness; largeness;
amplitude; roominess; abundance; prosperity.

فَرَار farár, *A. n. m.* Running away; absconding.
فَرَار هَرْنَا —honá, *v.* to run away; to flee; to
abscond.

فَرَارِي farári, *A. adj.* Absconded; escaped;
fugitive, run away. فَرَارِي مَجْرَم —mujrim, an
escaped convict.

فَرَاذ faráz, *P. adj.* High; lofty; elevated; exalted;
n. m. Height; acclivity; ascent; elevation.

فَرَاةَات firásat, *A. n. f.* Penetration; sagacity;
insight; discernment; acuteness.

فَرَاةِيس farásís, *P. adj.* French.

فَرَاةِيسِي farásísí, *P. n. m.* A Frenchman; the
French language.

فَرَاةِش farrásh, *A. n. m.* A servant who spreads
the carpets, &c.; a bed-maker, a chamberlain,
a sweeper. فَرَاةِشَانَه —khána, *n. m.* the room
where carpets, &c., are kept.

فَرَاةِشِي farráshí, *A. n. f.* Spreading carpets, &c.;
the business of a farrásh. فَرَاةِشِي سَلَام —salám,
an obeisance made down to the carpet.

فَرَاةَ farág, *A. n. m.* Freedom (from business
&c.), disengagement. فَرَاةَ كَرْنَا —karná, to
cease from; to have finished or done with.

فَرَاةَ farágat, *A. n. f.* Cessation (from labour);
freedom (from business); leisure; competency;
repose; ease; comfort; happiness; easy
circumstances; call of nature. فَرَاةَ پَانَا —
páná, to obtain freedom from; to have finished
with; to get leisure. فَرَاةَ جَانَا —jáná, *v.* to go
to the rear. فَرَاةَ هَرْنَا —honá, *v.* to be free;
to have leisure. فَرَاةَ مِيس —men, at one's
leisure or convenience.

فَرَاةَ firáq, *A. n. m.* Separation; anxiety.

فَرَاةَ مِوش farámosh, *P. adj.* Forgotten; neglected;
n. f. forgetfulness; a game. فَرَاةَ مِوش كَرْنَا —
karná, to forget. فَرَاةَ مِوش گَار —gár, *adj.* forgetful.
فَرَاةَ مِوش گَارِي —gári, *n. f.* forgetfulness
فَرَاةَ مِوشِي —i, *n. f.* forgetfulness.

فَرَاةَ مِوشَان farámin, *A. n. m.* (Plu. of فرمان Farmán)
Orders; commands; mandates.

فَرَاةَ مِوشَانِ firáwán, *P. adj.* Much; abundant; copious.

فَرَاةَ مِوشَانِ faráham, *P. adj.* Collected; accumulated;
gathered. فَرَاةَ مِوشَانِ كَرْنَا —karná, *v.* to gather; to
amass.

فَرَاةَ مِوشَانِ faráez, *A. n. m.* (Plu. of فریضة Fariza).
Divine precepts; the law of inheritance or par-
tition of property; duties.

فَرَاةَ مِوشَانِ farbah, *P. adj.* Fat; corpulent, plump;
stout and strong (مِوشَانِ) —honá, to become fat.
[mutápa].

فَرَاةَ مِوشَانِ farbahí, *P. n. f.* Fatness; corpulence

فَرَاةَ مِوشَانِ fartút, *P. adj.* Old and decrepit; good
for nothing. [prosperity.

فَرَاةَ مِوشَانِ farjím, *P. n. m.* End; conclusion; profit;
فَرَاةَ مِوشَانِ farah, *A. adj.* Pleased; cheerful; joyous;
blithe; *n.* joy; gladness; cheerfulness.

فَرَاةَ مِوشَانِ farhat, *A. n. f.* Delight; pleasure;
amusement; diversion; recreation. فَرَاةَ مِوشَانِ
افزَا —afzá, increasing delight; entertaining. فَرَاةَ مِوشَانِ
—ulliqá, pleasant to look at or behold. فَرَاةَ مِوشَانِ
بَهش —bakhsh, *adj.* refreshing; pleasant;
diverting; pleasure-giving; entertaining.

فَرَاةَ مِوشَانِ farrúkh, *P. adj.* Fortunate; lucky; happy.

فَرَاةَ مِوشَانِ farkhunda, *P. adj.* Happy; fortunate;
prosperous. فَرَاةَ مِوشَانِ حَال —hál, in a happy or
prosperous condition. فَرَاةَ مِوشَانِ طَال —tálé, fortu-
nate; lucky. فَرَاةَ مِوشَانِ نَال —fál, of happy omen
or augury; auspicious; prosperous.

فرد fard, A. n. f. List; roll; catalogue; a sheet (of paper); a couplet; an individual; outer fold of a quilt; an unit; statement; *adj.* one; unique; single; odd. فرد باقیات—báqiyát, a balance sheet. فرد قرار داد جرم—qarárdád-i-jurm, n. f. A charge sheet; indictment. فرد مزد میں—jama'bandí, n. f. a rent-roll. فرد میں نام چڑھانا—men nám chaháná, v. to enlist; to enroll. [severally.]
 فرداً فرداً fardan fardan, one by one; singly; فرداً فرداً fardá, A. *adv.* To-morrow, (*Met.*) the day of Resurrection. فرداے قیامت—i-qyámat, n. f. The resurrection morn.
 فردوس firdaus, A. n. m. A garden; paradise.
 فردوسی firdausí, P. n. *prop.* Name of a celebrated Persian poet, the author of the great epic poem *Shahnáma*. He lived about A. D. 1,000.
 فردی fardí, A. n. f. A roll; a catalogue.
 فردنگی farzángí, P. n. f. Learning; science; wisdom; excellence.
 فرزانه farzána, P. *adj.* Wise; intelligent; learned; distinguished; blest; n. a learned or wise man.
 فرزند farzand, P. n. m. A son; a child. فرزند خلف—i-khalaf, a dutiful son. فرزند رشید—i-rashíd, a good child.
 فرزندگی farzandí, P. n. f. The state or condition of being a son. فرزندگی میں لینا—men lená, v. to adopt (as a son), to make (one) a son-in-law. [chess.]
 فرس faras, A. n. m. A horse; the knight at chess.
 فرستادہ firistáda, P. *adj.* Sent; n. a messenger; ambassador; an envoy.
 فرسنگ farsang, P. n. f. A league.
 فرسودہ farsúda, P. *adj.* Obliterated; rubbed; worn; effaced; spoiled by age; decayed.
 فرش farsh, A. n. m. Floor; pavement; carpet; any cloth spread out on the ground; mattress; a floor-cloth. فرش کرنا—karná, v. to spread a carpet; to pave; to fell: to knock down. فرش ہونا—honá, v. to be paved.
 فرشتگان farishtagán, P. n. (*Plu. of فرشتہ Farishta*) Angels.

فرشتہ farishta, P. n. m. An angel; an apostle; a messenger. فرشتہ صفت—sifat, *adj.* angelic; angel-tempered; heavenly.
 فرشہ farshí, A. n. f. A kind of flat-bottomed *huqqá*. فرشی چرتا—jutá, n. m. A slipper.
 فرصت fursat, A. n. f. Leisure; freedom; opportunity; relief; leave; rest. فرصت پانا—páná, v. to have time or leisure for; to be at leisure. فرصت ہونا—honá, v. to be at leisure; to recover from illness.
 فرض farz, A. n. m. Divine command; a duty the omission of which is considered a sin; moral obligation; a statute; an ordinance; responsibility; supposition. فرض کرنا—karná, v. to impose a duty or obligation; to grant; to admit; to assume; to suppose. فرض محال—i-muhál, an impossible or absurd hypothesis. فرض ہونا—honá, v. to be incumbent (on); to become one's duty. فرض بالتعريض bil—, on the supposition or hypothesis (that); granted that; suppose (*farz karo, máno*).
 فرضاً farzán, A. *adj.* For instance; granting; hypothetically.
 فرضی farzí, A. *adj.* Incumbent; obligatory; fictitious; nominal; assumed; hypothetical; not real or essential.
 فرا fart, A. n. Excess; abundance; mastery; predominance; a guide-post; the top of a hill.
 فرع fara', A. n. f. A branch; a bough.
 فرعون fir'aun, A. n. m. Pharaoh (king of Egypt); (*Met.*) a despot; a proud, arrogant person.
 فرغل fargul, furgul, P. n. m. A quilted cloak; a mantle; a wrapper (*labádd*).
 فرار farfar, P. *adv.* Fast; fluently; in haste; quickly.
 فرق farq A. n. m. Difference; distinction; distance; separation; partition; intervening space; interval; defect; deficiency; head; top; summit. فرق پڑنا—pápná, v. to differ; to disagree; a difference or misunderstanding to arise (in or between). فرق کرنا—karná, v.

to make difference or distinction ; to distinguish ; to change ; to modify ; to separate ; to divide ; to part. فرق نکالنا—*nikálná*, *v.* to find out the difference. فرق هونا—*honá*, *v.* to differ. [(of beloved person).
 فرقت *furqat*, *A. n. f.* Separation ; disunion
 فرقدان *farqdán*, *A. n. m.* Two stars near the pole, the Greater and Lesser Bears. [company.
 فرقه *firqa*, *A. n. m.* A tribe; sect; class, society;
 فرما *farmá*, *H. n. m.* (*Corr. from the English Print*) The pages of type or stereotype plates arranged for printing a sheet, and fastened in an iron frame or chase ; a frame ; a form.
 فرمان *farmán*, *P. n. m.* A mandate ; order ; command; edict; patent ; charter. فرمان بردار—*bardár*, *adj.* subject; obedient ; *n.* a subject; a vassal ; a retainer (*tábe'dár*). فرمان برداری—*bardári*, *n. f.* subjection; obedience ; subordination. فرمان برداری کرنا—*bardári karná*, *v.* to obey; to serve. فرمان روا—*rawá*, *n. m.* one entitled to a command ; a commander ; a sovereign. فرمان روائی—*rawái*, *n. f.* sway ; authority ; sovereignty.
 فرمانا *farmáná*, *P. v.* To command ; to order (in polite or respectful speech with reference to superiors, &c.); to say ; to declare ; to affirm ; to grant ; to vouchsafe.
 فرمایش *farmáesh*, *P. n. f.* An order (for goods); commission ; requisition ; commands ; will ; pleasure. فرمایش کرنا—*karná*, *v.* to give an order.
 فرمایشی *farmáeshí*, *P. adj.* Particularly ordered; excellent ; good ; strong.
 فرموده *farmúda*, *P. adj.* Ordered ; said ; *n.* order ; command ; precept.
 فرنگ *farang*, *P. n. m.* Europe. [pean
 فرنگی *farangí*, *P. adj.* European; *n. m.* a European
 فرنگستان *farangistán*, *P. n. m.* Europe. [milk.
 فرنی *firní*, *P. n. m.* A mess of ground rice and
 فرور *faro*, *P. adj.* Down; below; under. فرور کرنا—*karná*, *v.* to quell ; to suppress. فرور هونا—*honá*, to subside ; to become low ; to be reduced.

فروتن *farotan*, *P. adj.* Depressed ; submissive ; lowly ; humble.
 فروتنی *farotání*, *P. n. f.* Humility ; submission ; lowliness. [v. to sell.
 فروخت *farokht*, *P. n. f.* Sale. فروخت کرنا—*karná*,
 فروخته *farokhta*, *P. adj.* Burnt ; inflamed ; shining ; radiant (*afrokhtha*), sold.
 فرود *farod*, *P. n. m.* Descending ; alighting ; arrival and deposit of goods within certain limits ; *prep.* and *adv.* down ; beneath. فرودگاه—*gáh*, *n. f.* a halting or landing place ; camping ground. [luminous ; resplendent.
 فروزان *furozán*, *P. imperfect. part.* Shining ;
 فروش *farosh*, *P.* Selling ; seller (*used as last member of compounds*); as: میوه فروش *mewa*—, a fruit-seller, &c.
 فروشنده *faroshinda*, *P. n. f.* A seller ; a vendor. فروشنده مجازی—*i-majízí*, a licensed vendor.
 فرور *faru'*, *A. n. f.* (*Plu. of فرور Fara'*). Tops ; summits ; branches ; ramifications ; fundamental principles or doctrines of law or religion.
 فرور *farog*, *P. n. m.* Brightness ; splendour ; glory ; fame ; honour. فرور پانا—*páná*, *v.* to get honour ; &c.
 فرورکش *farokash*, *P. adj.* Alighting ; staying ; lodging. فرورکش هونا—*honá*, *v.* to alight ; to lodge ; to stay.
 فرورگذاشت *faroguzásbt*, *P. n. f.* Omission ; overlooking ; passing over ; remissness ; connivance. فرورگذاشت کرنا—*karná*, *v.* to omit ; to pass over ; to overlook.
 فرورمونده *farománda*, *P. adj.* Tired ; fatigued ; weary ; dejected ; brought low ; powerless ; weak. [worthless.
 فرورمایه *faromáya*, *P. adj.* Mean ; low ; poor ;
 فرورهایک *farhang*, *P. n. f.* A vocabulary ; a glossary ; a dictionary ; a lexicon ; greatness ; understanding ; science.
 فریاد *faryád*, *P. n. f.* Complaint ; charge ; suit ; crying out for assistance. فریاد رس *ras*, *n. m.* a redresser of grievances; a helper ; a defender. فریاد رسی—*rasí*, *n. f.* redress. فریاد کرنا—*karná*, *v.* to complain ; to sue.

فردیادی faryádí, P. n. m. A complainant ; a plaintiff.

فرب fareb, P. adj. Deceiving ; cheating ; alluring ; seducing ; captivating (used as last member of compound), as : مردم فریب mardum—, deceiving or betraying men. دل فریب dil—, heart-alluring ; n. m. deception ; fraud ; treachery ; imposture ; allurements ; beguilement. فریب دینا—dená, v. to deceive ; to cheat ; to defraud ; to allure ; to beguile. فریب کھانا—khána, v. to be deceived or deluded (by) ; to be cheated (by) ; to be misled (by).

فربنده farebinda, P. n. m. A deceiver.

فربے farebí, P. adj. Dishonest ; delusive ; n. m. a cheat ; an impostor.

فربد فریبی farid bú'í, H. n. f. A medicinal herb.

فربتہ farefta, P. adj. Enamoured ; charmed ; fascinated ; deluded ; seduced. فریبتہ کرنا—karná, v. to fascinate ; to charm. فریبتہ ہونا—honá, v. to be fascinated.

فربق fariq, A. n. m. Order ; division ; section ; a party in a suit ; troop ; company ; department. فربق اول—i-auwal, the principal party in a law suit. فربق ثانی—i-sání, n. m. the opposite party ; the defendant party.

فربقین fariqain, A. n. m. The two parties concerned in a suit.

فساد fasád, A. n. m. Brawl, outbreak, mischief ; dissension ; disturbance ; discord ; quarrelling ; ferment ; sedition ; intrigue. فساد برپا کرنا—barpá karná, v. to create or excite a disturbance. فساد خون—i-khún, bad state of the blood.

فسادی fasádí, P. adj. Mischievous ; seditious ; vicious ; rebellious ; quarrelsome.

فسان fasán, P. n. f. Whetstone.

فسانہ fisána, P. n. m. A romance ; a tale ; a fable ; a fiction.

فسخ fakh, fikh, A. n. m. Breach ; violation (of an agreement, &c.) infraction ; infringement. فسخ کرنا—karná, v. to infringe ; to break a contract, &c. ; to cancel ; to undo ; to annul ; to revoke.

فسون fasún, P. n. m. Enchantment. فسون گر—gar, an enchanter ; a sorcerer. [sion.

فشار fishár, P. n. m. Squeezing ; pressing ; diffusing ; spreading ; scattering ; n. a scatterer ; a strewer (used as last member of compounds), as : آتش فشار—átish—, scattering fire.

فشانی fisháni, P. n. f. Spreading ; scattering.

فصاحت fasáhat, A. n. f. Eloquence ; fluency of speech.

فصاد fassád, A. n. m. A surgeon ; a phlebotomist.

فصادی fassádí, A. n. f. Surgery ; phlebotomy.

فصد fasd, A. n. f. Opening a vein ; bleeding ; phlebotomy. فصد کھولنا—kholná, v. to bleed.

فصل fasl, A. n. f. A separation ; partition ; section ; clause ; chapter ; season ; crops ; harvest. فصل استادا—i-istáda, a standing crop. فصل تخم ریزی—i-tukhm rezi, sowing season ; seed-time. فصل خریف—i-kharif, n. f. the autumnal harvest of rice, millet, etc. requiring irrigation. فصل ربیع—i-rabi', n. f. the spring harvest which consists of wheat, barley, peas, gram, &c. فصل گل—i-gul, fasl-i-bahár, the spring season.

فصلی faslí, P. adj. Belonging to the harvest or season. فصلی بخار—bnkhar, the fever caused by change of the season. فصلی سال—sál, the revenue or harvest year [the fasli era was instituted by the Emperor Akbar and began on the 10th of September (Asin) 1555].

فصیح fasih, A. adj. Eloquent ; elegant ; polished (language). [wall of defence ; a parapet.

فصلی fasíl, A. n. f. A city wall ; a rampart ; a

فضا fezá, A. n. f. Openness and extensiveness of ground or place ; a plain ; bloom. See بهار bahár. [portion.

فضالہ fuzála, A. n. m. Remains ; remaining

فضائل fazáel, A. (Plu. of فضیلت Fazilat.) Virtues ; excellences ; literary attainments ; learning.

فضل fazl, A. n. m. Bounty ; grace ; favour ; excess ; increase ; virtues ; superiority ; learning ; wisdom. فضل الہی—iláhi, intj. the grace

of God. **فضل كرنا**—karná, *v.* to be bountiful ; to be gracious ; to show mercy. **فضل هـ**—hai, all is well (by the grace of God).

فضلا fuzalá, *A. n.* (*Plu. of فضل Fázil*.) The learned ; virtuous or good men.

فضله fuzla, *A. n. m.* Leavings ; refuse ; offal ; remainder ; residue ; excrement ; filth. **فضله خوار**—khwár, an eater of leavings.

فضول fazúl, fuzúl, *A. adj.* Needless ; useless ; redundant ; excessive ; extravagant ; superfluous. **فضول خرچ**—kharch, *adj.* Extravagant ; prodigal ; *n. m.* an extravagant person ; a spend thrift. **فضول خرچی**—kharchí, *n. f.* extravagance ; prodigality ; dissipation. **فضول گو**—go, *n. m.* prolix speaker ; a babbler ; an egotist. **فضولي** fazúli, *n. f.* extravagance ; exuberance ; redundance.

فضیح fazih, *A. adj.* Disgraceful ; infamous ; ignominious

فضیحت fazihat, *A. n. f.* Disgrace ; ignominy ; infamy ; quarrel ; brawl. **فضیحت كرنا**—karná, *v.* to disgrace ; to defame ; to expose the faults or vices ; to quarrel. **فضیحت هونا**—honá, *v.* to be disgraced ; to be the town talk ; to be infamous (*ruswá honá*).

فضیلت fazilat, *A. n. f.* Excellence ; learning ; knowledge ; proficiency ; superiority. **فضیلت رکھنا**—rakhná, to be superior (to) ; to excel ; to surpass. **فضیلت کی پگڑی**—kí pagri, a robe of honour : a diploma.

فطانت fitánat *P. n. f.* Intelligence ; wisdom ; perception ; shrewdness ; skill.

فطر fitr, *A. n. m.* The breaking of the fast or festival held on the breaking of the fast of *Ramzán* (*Íd-ul-fitr*).

فطرت fitrat, *A. n. f.* Wisdom ; sagacity ; cunning ; nature ; intrigue ; machination.

فطرتی fitratí, *P. adj.* Cunning ; designing ; crafty ; natural.

فطیری fatíri, *P. adj.* Unleavened, *n. f.* unleavened bread (*opp.* to *khamíri*.)

فعل fe'l, *A. n. m.* An action ; a deed ; a work ; an operation ; (*in Gram.*) the verb. **فعل ضمانتی**—zámání, *n. f.* security for good conduct.

فعل كرنا—i-'abas, *n. m.* lost labour. **فعل كرنا**—karná, *v.* to do an act. **فعل لامبی**—lázimí, (*in Gram.*) an intransitive verb. **فعل متعدی**—i-muta'addí, (*in Gram.*) an active verb. **فعل مجہول**—i-majhúl, (*in Gram.*) a passive verb. **فعل ناشایسته**—i-násháista, an improper act. **فعل بال فعل** bil—, presently ; at the present time ; actually ; in reality.

فعلًا و قولًا fe'lan, *A. adv.* In fact ; practically. **فعلًا و قولًا**—wa qaulan, *adv.* in deed and word.

فغان fugán, figán, *P. n. m.* Clamour ; lamentation ; complaint ; cry of pain or distress.

فق faq, *A. adj.* Lost ; gone ; flown (as colour from the face) ; pallid ; pale ; astonished ; dismayed. **فق پڑجانا**—pař jáná, *v.* to turn pale with fear, &c. ; to look blank.

فقدان faqdán, *A. n. m. and f.* Want ; loss ; miss.

فقر faqr, *A. n. m.* Poverty ; the vocation of a *faqir*, or dervish. **فقر و ناکہ**—o-fáqa, poverty or hunger. [dervishes

فقر fuqará, *A. n.* (*Plu. of Faqir*.) The poor ;

فقرة fiqra, *A. n. m.* A sentence ; a period ; a line ; a clause ; deception. **فقرة دار**—báz, *adj.* eloquent ; glibtongued ; artful. **فقرة بازی**—bázi, *n. f.* deception. **فقرة بندی**—bandí, *n. f.* composition ; eloquence. **فقرون میں آجانا**—fiqron men á jáná, *v.* to be taken in by one's speeches.

فقاٹ faqat, *A. adj.* Simply ; only ; alone ; solely ; *n. m.* end ; finis.

فقاہ fiqa, *A. n. f.* Knowledge ; understanding (*esp.* of the law) ; the science of the Muhammadan law ; theology ; jurisprudence.

فقیر faqír, *A. n. f.* A beggar ; a mendicant ; a dervish ; *adj.* poor ; indigent. **فقیر دوست**—dost, friendly to the poor. **فقیر ہونا**—honá, *v.* to be reduced to beggary ; to become poor ; to become a religious devotee. [dervish.

فقیرانہ faqírána, *A. adv.* Like a beggar or

فقیری faqíri, *A. n. f.* The life of a dervish ; beggary ; poverty ; *adv.* of or relating to a beggar ; beggarly ; pauper-like.

فک الرهن fakk-ul-rehan, *A. n. m.* Redemption of a mortgage ; liquidation of a debt for which property has been pledged.

فکر *fikr*, A. *n. m.* Thought ; reflection ; consideration ; idea ; concern ; solicitude ; care. فکر کرنا—*karná*, to think (upon) ; to ponder ; to provide for or against ; to plot against ; to be anxious ; to care ; to plan ; to contrive ; to feel regret ; to pine. فکرمند—*mand*, *adj.* thoughtful ; anxious. فکرمندی—*mandí*, *n. f.* anxiety ; thoughtfulness. فکرمیں رہنا—*meñ rahná*, to be constantly thinking (of) ; to harbour designs (against). بے فکری *be fikrí*, freedom from care.

فگار *figár*, P. *adj.* Lame ; wounded ; sore ; galled ; afflicted ; confused ; distracted. دل فگار *dil—*, *adj.* heart-afflicting.

فگان *figan*, P. *part. adj.* Over-throwing ; casting.

فلاح *faláh*, A. *n. f.* Happiness ; prosperity ; profit.

فلاخن *falákhun*, P. *n. f.* A sling (for stones).

فلاسفہ *falásifa*, A. *n. m.* (*Plu. of فیلسوف Failsúf*). Philosophers.

فلاکت *falákat*, A. *n. f.* The state of being heaven or fortune-stricken ; misfortune ; adversity ; misery. [person ; such a one ; so and so.

فلال *fulán*, *fulán*, A. *adj.* A certain thing or

فلالہ *fulána*, *fulána*, A. *adj.* Such a one ; so and so. [metal.

فلز *filz*, A. *n. m. Plu.* فلزات *Filzát*). Ore ;

فلسفہ *falsafa*, A. *n. m.* Philosophy ; science.

فلسفی *falsafi*, A. *adj.* Philosophical, *n. m.* a philosopher.

فلفل *filfil*, A. *n. f.* Pepper.

فلک *falak*, A. *n.* Sky ; heaven ; firmament ;

(*Met.*) fortune ; fate. فلک زده—*zada*, *adj.* unfortunate ; distressed ; oppressed by fate.

فلک الافلاک—*ul-afák*, the highest heaven ; the empyrean.

تجھتہ رو میں لطف ہے سر مالک کو خبر نہیں

خورشید کیا ہے اُسکی فلک کو خبر نہیں

Tujh rú meñ lutf hai so malak ko khabar nahín,

Khurshaid kyá hai uskí falak ko khabar nahín.

فلکی *falakí*, A. *adj.* Celestial ; heavenly ; astronomical.

فلس *fulús*, A. *n. m.* (*Plu. of فلس Fuls* but used a singular also). A copper coin ; a pice.

فلیتہ *falíta*, A. *n. m.* A wick ; fuse ; torch ; a wick made of paper inscribed with mystical words, by inhaling the smoke of which evil spirits are said to be expelled from those possessed. دار فلیتہ—*dár*, *n. m.* a matchlock. فلایتہ دینا—*dená*, to supply a match (to) ; to set light (to).

فم *famm*, A. *n. m.* Mouth. فم رحم—*i-rehm*, the mouth of the womb. فم معدہ—*i-me'da*, *n. m.* the orifice of the stomach.

فان *fann*, A. *n. m.* Science ; skill ; art ; craft ; accomplishment ; artifice. فن فریب—*fareb*, *n. m.* art ; tricks. فن فریبی—*farebí*, *adj.* artful ; cunning.

فنا *faná*, A. *n. f.* Mortality ; destruction ; death. فنا پذیر—*pizír*, perishable ; transitory ; frail. فنا فی اللہ—*fil-lah*, to be lost in the contemplation of God and insensible to all else ; to die. فنا کرنا—*karná*, to annihilate. فنا ہو جانا—*ho jáná*, *v.* to perish ; to die ; to expire.

فنجان *finján*, P. *n. m.* A small porcelain tea cup. [words ; a point ; a mole.

فند *fand*, P. *n.* Deceit ; fraud ; artifice ; vain

فندق *fandaq*, A. *n. f.* A hazelnut ; (*Met.*) the stained tips of the fingers or toes (as being likened to hazel-nuts).

فنون *funún*, A. *n. m.* (*Plu. of فن Fann*). Sciences ; arts ; ways ; modes ; tricks ; wiles.

فوارہ *fawwára*, A. *n. m.* A fountain ; a jet. فوارہ چھوڑنا—*chhútná*, *v.* jet d'eau to burst or spout forth ; a fountain to play.

فوائد *fawáed*, A. *n. m.* (*Plu. of فایده Fáeda*). Benefits ; gains ; profits.

فوت *faut*, A. *n. m.* Death. فوت ہونا—*honá*, *v.* to die ; to be lost. فوتی—*i*, *adj.* deceased ; dead.

فوتی فراری—*fararí*, *adj.* dead or absconded ; killed and missing. فوتی نامہ—*namah*, *n. m.* a list of the killed ; a certificate of death.

فوج *fanj*, *n. f.* (*Plu.* افواج *Afwáj*). A host ; a crowd (of man) ; an army ; a multitude. فوج

فوج بہری—*bahrí*, a fleet ; navy (*opp.* to فوج بحری *Fauj-i-barrí* land forces).

فيض faiz, A. n. m. Bounty ; liberality ; grace ; favour ; plenty. **فيض پھونچانا**—pahunchána, v. to confer favours ; to give alms. **فيض عام**—i-'ám, general manificence ; public good. **فيض رساں**—rasáñ, *adj.* bountiful ; generous. **فيضياب**—yáb, *adj.* benefited ; blessed.

فيل fíl, P. n. m. An elephant. **فيل بان**—bán, n. m. an elephant-driver or keeper (*maháut*) ; **فيل خانہ**—khána, n. m. elephant house. **فيل دندان**—dandán, n. m. an ivory. **فيل مرغ**—murg ; n. m. turkey. **فيل پا**—pá, having a swelling in the leg ; having elephantiasis ; n. m. elephantiasis. **فيلپايہ**—páya, n. m. A pillar. **فيلسوف** failsúf, A. n. m. A sophist ; a philosopher ; a cunning person ; an impostor ; *adj.* intelligent ; cunning. [ness ; artfulness] **فيلسوفی** failsúfí, P. n. f. Sophistry ; cunning-

(ق)

ق, qáf called *qáf-qarashat*, the twenty-first letter of the Arabic and 27th of the Urdu alphabet, does not occur in pure Persian, and has no analogous letter in Sanskrit ; as a numeral it denotes 100.

قاب qáb, A. n. m. A large dish used for serving rice or kneading dough (*tabáq, lagan, parót*) ; **قابض** qábiz, A. *adj.* Holding ; possessing ; stringent ; constipating ; n. m. possessor ; occupant ; occupier. **قابض ہر بیٹھنا**—ho baiṭhná, v. to take possession ; to seize ; to get hold of. **قابل** qábil, A. *adj.* Worthy ; deserving ; capable (of) ; sufficient (for) ; competent ; qualified ; able. **قابل ادا**—i-adá, payable ; solvent. **قابل اعتبار**—i-'etibár, credible ; transworthy. **قابل اعتراض**—i-e'tiráz, objectionable. **قابل امکان**—i-imkán, practicable. **قابل انتقال**—i-intiqál, transferable. **قابل انعام**—i-in-'ám ; deserving a prize. **قابل باز پرس**—i-bázpurs, answerable ; responsible. **قابل پذیرائی**—i-pazirái, admissible. **قابل تعریف**—i-ta-'rif, praiseworthy ; creditable. **قابل جواب**—i-jawáb, answerable. **قابل سزا**—i-sazá, culpable. **قابل فروخت**—i-farokht, saleable. **قابل معافی**—i-mu'áf, pardonable. **قابل وصول**—i-wasúl, recoverable. **قابل ہونا**—honá, v. to be competent ; to deserve.

قابلا qábila, A. n. f. A midwife. **قابلیت** qábiliyat, A. n. f. Capacity ; capability ; possibility ; sufficiency ; fitness.

قادر qábú, P. n. m. Power ; command ; hold ; possession ; opportunity. **قادر پانا**—páná, v. to get an opportunity ; to get the upper hand. **قادر چالنا**—chalná, v. to be able to do one's power or authority ; to get or reach (*bas chalná*). **قادر کرنا دینا**—kará dená, to effectuate possession. **قادر میں رکھنا**—men rakhná, v. to keep under control. **قادر میں کرنا یا لانا**—men karná yá láná, to subdue ; to bring into one's grasp.

قاپوچی qábúchí, P. } n. m. A door-keeper ; a
قاپوچی qápúchí, T. } good-for-nothing fellow ;
a selfish person.

قاتل qátíl, A. n. m. A murderer ; an assassin ; *adj.* mortal ; fatal ; deadly.

قادر qádír, A. *adj.* Capable ; powerful ; competent. **القادر** al—, the Almighty. **قادر مطلق**—i-mutlaq, the Omnipotent.

قارورة qárúra, A. n. m. A flask ; an alabaster vase ; a large big-bellied and broad-bottomed bottle ; an urinal (sent to Unání physicians for examination). **قارورة ملانا**—miláná, v. to be in harmony with. [Qurán.

قاری qárí, A. n. m. A reader, especially of the **چینی قار**—chíní—, the black-haired goose.

قاسم qásim, A. n. m. A distributor ; one who allots. **قاسم الارزان**—ul-arzáq, distributor of daily bread, i. e., God.

قاش qásh, A. n. f. A slice (of fruit, *phánk*) ; a piece ; a chop ; the eyebrow. **قاش کرنا**—qásh karná, v. to slice, to cut in pieces **قاش زین کا**—zín ká—, the bow or pommel of a saddle.

قاصد qásid, A. n. m. A messenger ; courier ; an envoy.

قاصدی qásidí, A. n. f. Travelling or going as a messenger ; the office or situation of courier.

قاصر qásir, A. *adv.* Defective ; unable ; deficient ; failing ; lacking. **قاصر البیان**—ul-bayán, failing in relation or description. **قاصر السان**—ul-lisán,

deficient in tongue or language. قاصر هونا — honá, *v.* to be deficient.

قاضي qázi, *A. n. m.* A Muhammadan magistrate or law officer; judge. قاضي الحاجات — ul-baját, (*Lit.*) supplier of needs; God; (*fig.*) money. قاضي القضاة — ul-quzá, judge of judge; chief judge.

قاطع qáte', *adj.* Decisive; conclusive; sharp; rescinding; incontestible. قاطع الطريق — ul-tariq, highwayman.

قاعدة qa'eda, *A. n. m.* Established order; custom; system; manner; uniformity; habit; (*in Gram.*) rule; law; maxim; formula; manners; basis; the rules of grammar; a primer; (*in Geom.*) the base of a triangle. قاعدة جاري كرنا — jári karná, *v.* to bring a rule into operation. قاعدة سے لگانا — se lagáná, *v.* to put in order. قاعدة صرف — i-sarf, a rule of etymology. قاعدة كا پابند رهنا — ká páband rahná, *v.* to observe a rule; to obey. قاعدة مقرر كرنا — muqarrar karná, to make a rule (of); to regulate. حسب قاعدة hasb—, according to rule or practice; in due course or form; in order.

قاف qáf, *A. n. m.* A fabulous mountain supposed to surround the world; Mount Caucasus.

قافلة qáflah, *A. n. m.* A caravan; a body of travellers or traders. سالار قافلة — sálár, the chief or leader of a caravan.

قافية qáfiya, *A. n. m.* Rhyme; metre; the last letter in a verse which all the other distiches rhyme. قافية بندي — bandí, *n. f.* rhyming. قافية تنگ كرنا — tang karná, to confuse; to perplex; to reduce (one) to great straits. قافية تنگ هونا — tang honá, *v.* to be entangled in difficulties; to be hard pressed.

قاق qáq, *P. adj.* Dried up; lean; feeble.

قاقلة qáqula, *A. n. m.* Large cardamoms.

قاقم qáqum, *A. n. m.* A fine ermine.

قال qál, *A. n. m.* A saying; loquaciousness; boasting. قال مقال — maqál, *n. m.* altercation; wrangling.

قالب qálib, *A. n. m.* Body; lifeless form; model; frame; mould, (*in Arch.*) the centering. قالب

بدلنا — badalná, to be transformed; to change one's body.

قالبي qálibi, *P. adj.* Moulded.

قالبيچه qálichá, *P. n. m.* A small carpet; a rug.

قالين qálin, *P. n. f.* A woollen carpet.

قامت qámat, *A. n. f.* Stature; form; body; a man's height. [of an Arabic dictionary.]

قارمس qámús, *A. n. m.* The ocean, the name

قانع qáne', *A. adj.* Satisfied (with); contented.

قانون qánún, *A. n. m.* Law; canon; rule; regulation; state; ordinance; a dulcimer or harp. قانون بناانا — banáná, *v.* to frame laws.

قانون بنائيرالوزكي جماعت — banáne walog ki jama'át, a parliament; a legislative council; a senate. قانون بين الاقوامي — i-bain-ul-aqvami, international law; law of nations. قانون

چھاٽٽنا — chháṭṭná, *v.* to discuss; to argue.

قانون ذياي — i-zaili, a lawyer. قانون داں

قانون صادر كرنا — sádir karná, *v.* to pass a law. قانونو — go, *n. m.* the registrar of

a pargana; superintendent of village accountants. قانونو — goi, *n. f.* the office of a qanungo.

قانوني qánúni, *A. adj.* Legal; lawful; legislative.

قانونيا qánúniyá, *n.* a controversialist; a litigious person.

قادر qádir, *A. adj.* Violent; forcible; oppressive; conquering; triumphant; *n. m.* victor; *n. f.* victrix. [tail of the Lesser Bear.]

قائد qáid, *A. n. m.* A leader; the stars in the

قايه qáezah, *A. n. m.* A bit or curb. قايه كرنا — karná, *v.* to tie up a horse's head by passing the birdle to his tail to prevent his biting, etc., while being rubbed.

قائل qáil, *A. adj.* Convinced; convicted; confuted; confessing; acknowledging. قائل كرنا — karná, *v.* to convince; to confute; to convict.

قائل هونا — honá' *v.* to be confuted; to yield; to acquiesce (in).

قاييم qáyam, qáyem, *A. adj.* Standing; perpendicular; stagnant; firm; constant; durable; lasting; *n. f.* a drawn game at a chess.

قاييم ركهننا — rakhná, to keep up; to preserve;

قاييم رهنا — rahná, *v.* to hold; to support.

keep one's footing ; to stand firm ; to stick to ; to outlive. **قائم کرنا**—karná, *v.* to set up ; to institute ; to create. **قائم مزاج**—mizáj, *adj.* firm ; constant ; of settled temper or mind ; resolute. **قائم مقام**—muqám, *adj.* officiating ; proxy ; substitute ; *n.* representative ; successor ; *locum tenens.* **قائم مقام ہونا**—muqám, honá, *v.* to represent ; to officiate ; to act for. **قائم مقامی**—muqámí, *n. f.* deputation. **قائم ہونا**—honá, *v.* to be set up ; to be firm (in) ; to arise ; to take place.

قائمہ qáemah, *A. n. m.* (in *Geom.*) A right angle ; a perpendicular.

قبا qabá, *A. n. m.* A long gown ; a quilted garment ; a tunic.

قباحت qabáhat, *A. n. f.* Evil ; defect ; imperfection ; inconvenience ; loss ; deformity.

قبالہ qabála, *A. n. m.* A title deed ; a bill of sale. **قبالہ نیلام**—i-nilám, a certificate of auction sale.

قبایل qabáyal, *A. n. m.* (*Plu. of* قبیلہ) Tribes.

قبر qabr, *A. n. f.* A grave, a tomb. **قبرستان**—istán, *n. m.* a burial ground ; a cemetery. **قبر کے**—ke murde ukhárná, *v.* to renew old quarrels ; to take up old grievances. **قبر میں پانوں لٹکانا**—meñ páon laṭkáná, *v.* to be on the point of death.

قبس qabs, *A. n. m.* Anything for kindling fire.

قبض qabz, *A. n. f.* Seizure ; possession ; astringency ; constipation ; voucher ; tax. **قبض الوصول**—ul-wasúl, *n. f.* a receipt ; an acknowledgment ; an acquittance roll.

قبضہ qabza, *A. n. m.* Grasp ; gripe (of the hand) ; possession ; holding ; tenure ; handle ; hilt ; hinges. **قبضہ اٹھانا**—uṭháná, *v.* to dispossess ; to oust from. **قبضہ دلانا**—diláná, to put in possession. **قبضہ بحال کرنا**—bahál karná, *v.* to reinstate. **قبضہ رکھنا**—rakhná, *v.* to hold fast ; to take possession of ; to keep ; to retain ; to own. **قبضہ کرنا**—karná, *v.* to take possession ; to seize ; to lay hold of ; to usurp. **قبضہ مخالفانہ**—i-muḫhalifána, adverse possession.

قبضیت qabziyat, *A. n. f.* Seizure ; costiveness ; astringency.

قبل qabl, *A. adj.* Anterior ; previous ; first ; preliminary ; preparatory ; *adj.* before. **قبل ازیں**—azíñ, before this ; heretofore.

قبلہ qibla, *A. n. m.* The temple of the Ka'ba in Mecca ; an object of veneration and reverence ; a term used for a respectable person, as a father, king, &c. **قبلہ حاجات**—i-haját, one who supplies another's needs. **قبلہ عالم**—i-'álam, his or your majesty. **قبلہ کونین**—kaunain, a father. **قبلہ گاہ**—gáh, *n. m.* superior ; a father. **قبلہ نمہ**—numá, *n. m.* an instrument for finding the direction of Mecca ; a mariner's compass.

قبول qubúl, qabúl, *A. n. m.* Admission ; approbation ; assent ; acknowledgment ; avowal ; acceptance ; favourable reception. **قبول خط**—ḫhatt, written assent or agreement. **قبول صورت**—súrat, *adj.* handsome ; beautiful ; comely. **قبول کرنا**—karná, to accept ; to assent ; to acquiesce ; to grant. **قبول ہونا**—honá, *v.* to be accepted.

قبولنا qabúlná, **قبولنا**, *H. v.* To accept ; to approve ; to make a confession.

قبولی qabúlí, *P. n. f.* A mess of rice and pulse boiled together.

قبولیات qabúliyat, *A. n. f.* A written agreement ; acceptance ; consent ; approbation ; the counterpart of a lease. [alcove.

قبوہ qubba, *A. n. m.* A vault ; a cupola ; a dome ; **قبوہ بیچ** qabíh, *adj.* Base ; vile ; bad ; shameful ; deformed ; ugly. [red ; race.

قبیل qabíl, *A. n. m.* Species ; class ; tribe ; kind-

قبیلہ qabíla, *A. n. m.* Tribe ; clan ; wife ; family.

قتال qítál, *n. f.* Fighting ; battle ; slaughter.

قتال qattál, *A. n. m.* A great slayer ; a murderer.

قتل qatl, *A. n. m.* Slaughter ; execution ; homicide ; murder ; assassination ; carnage ; massacre. **قتل انسان**—i-insán, homicide. **قتل پدر**—i-pidar, parricide. **قتل عام**—i-'ám, a general massacre. **قتل عمد**—i-'amd, wilful murder or homicide. **قتل کرنا**—karná, *v.* to slaughter ; to massacre ; to slay ; to murder ; to kill ; to assassinate. **قتل ہونا**—honá, *v.* to be murdered. **قتلہ** qatla, *H. n. m.* A piece ; a slice.

تخط qah, A. n. m. Famine; dearth; scantiness; scarcity; failure of the harvest; want; lack. تخط پڑنا—pārná, v. to occur famine. تخط زادا—zada, *adj.* famine-stricken; famished; n. a starveling. تخط سالی—sálí, n. f. famine; dearth. قد qad, A. n. m. Stature; size; height. قد آدم—i-ádam, of the height of a man. قد آوار—áwar, *adj.* tall. قد دار—dár, of fine stature. قد و قامت—o-qámat, n. m. stature; figure; build; personal appearance. [priority.

قدامت qadimat, A. n. f. Antiquity, ancientness; قد qadah, A. n. m. A cup; a glass; refutation; reproach; satire. قدح کرنا—karná, to refute; to cross question. قدح و قدح—rad-o—, altercation; wrangling; argument; debate.

قدر qadr, A. n. f. Worth; value; merit; estimation; dignity; appreciation; honour; quantity; portion; part; fate. قدر دان—dán, n. m. a just appreciator; a patron; one who knows the worth of. قدر دانی—dání, n. f. a just appreciation of one's merits, power or faculty of appreciation. قدر شناس—shínás, same as qadrán. قدر کرنا—karná, v. to value; to esteem; to appreciate. قدر و منزلت—o-manzilát, n. f. rank; dignity. قدر کیس—kis—, how much? قدر کیسی—kísí—, somewhat (qadre). قدر، at the rate of; to the amount of; to the degree of; *advalorem*. قدری be qadri, disgrace; low estimation; non-recognition of merit.

قدرت qudrat, A. n. Divine power; omnipotence; the creation; the nature. قدرت رکھنا—rakhná, v. to have power; to be able.

قدرتی qudratí, P. *adj.* Natural; inherited; not made or produced by men. قدرتی علامات—alámát, natural features; phenomena.

قدرے qadre, P. *adv.* Somewhat; a little; in some measure; to some extent; partially. قدرے قدرے—qadre, little by little.

قدس quds, } A. *adj.* Holy; sacred; pure;
قدسی qudsí, } n. m. holiness; sanctity;
قدسیہ qudeíya, } the angel Gabriel; the holy city Jerusalem.

قدم qadam, A. n. m. A pace; a step; footstep; foot. قدم اٹھا کر چلنا—uṭhá kar chalná, to walk fast. قدم باز—báz, *adj.* fleet; ambling. قدم

—baqadam, by degrees; step by step. قدم باڑھنا—baḥáná, v. to walk fast; to encroach. قدم برس ہونا—bos honá, v. to kiss the feet, as a token of respect; to pay one's respect; to pay homage. قدم بوسی—bosí, n. m. f. kissing the feet; obeisance; homage. قدم چومنا—chúmná, v. to kiss the feet. قدم رکھنا—rakhná, v. to step in; to interfere. قدم رنجہ فرمانا یا کرنا—ranja farmáná ya karná, v. to take the trouble of going or coming. قدم لگنا—lagná, v. to come under one's protection; to walk nell (a horse). قدم سبز sabz—, *adj.* of unlucky footsteps; inauspicious. [Ancients.

قدما qudamá, A. n. m. (*Plu. of* قدیم Qadím). quddús, A. *adj.* Holy; pure; an epithet of the Deity. [sion; advent.

قدوم qudúm, A. n. m. Arrival; approach; access. قدیر qadír, A. *adj.* Powerful.

قدیم qadím, A. *adj.* Old; ancient; antiquated. قدیم الایام—ul-aiyám, old times; days of yore. قدیم سے—se, of old; from time immemorial; from ancient times. [bygone.

قدیمی qadímí, A. *adj.* Old; ancient; former; قرابت qurabat, A. n. f. Nearness; relationship; affinity; relation; kindred. قرابت دار—dár, a kinsman; relative. قرابت داری—dari, n. f. relationship; affinity.

قرابتی qarabatí, A. *adj.* Related to; akin (to). قرابہ qarába, A. n. m. A large glass bottle; a flagon.

قرابین qarabín, P. n. f. A carbine.

قرأت qirát, A. n. f. Reading; (esp. of the Qurán); a correct pronunciation.

قرار qarár, A. n. m. Quietude; rest; patience; firmness; fixedness; consistency; tranquillity; repose; agreement; confirmation. قرار پانا—páná, v. to be settled; to be agreed upon; to be established. قرار داد—dád, engagement; contract; settlement. قرار داد—dad-i-jurm, accusation. قرار دینا—dená, v. to fix; to determine; to adjudge; to admit. قرار کرنا—karná, v. to make terms; to conclude (a bargain or treaty); to agree;

to promise. قوار واقعی—wāqa'ī, *adj.* effectively ; positively ; accurate ; rightly.

قواری qarārī, *P. adj.* Fixed ; firm ; agreed. بے قواری be—, *n. f.* restlessness.

قراقرق qarāqur, *A. n. m.* Grumbling of the bowels.

قیران qirán, *A. n. m.* Conjunction of the planets. قیران السعدین—us-sa'dain, the conjunction of the two auspicious planets, Jupiter and Venus. صاحب قیران sáhib —, *adj.* fortunate.

قوران qurán, *A. n. m.* The religious book of the Muhammadans. قوران اُٹھانا—uṭháná, *v.* to take an oath on the Qurán ; to swear. قوران کا جامہ—ká jáma pahinná, *v.* to swear excessively ; to take an oath on the most trivial occasions ; to become the Qurán itself.

قراوال qaráwal, *A. n. m.* The advanced guard (of an army) ; a sentinel ; a picket ; a game-keeper.

قراویں qaráyan, *A. n. m.* (*Plu. of* قرینہ *Qarína.*) Conditions ; circumstances ; presumptions ; conjectures. قراویں عین—i'-ain, legal presumptions.

قرب qurb *A. n. m.* Nearness ; approach ; vicinity ; proximity ; relationship. قرب و جوار—o-jawár, *n. m.* environs ; suburbs ; vicinity.

قربان qurbán, *A. n. m.* A sacrifice ; victim ; offering (*sadqa, balihári*). قربان کرنا—karná, *v.* to sacrifice ; to devote. قربان گاہ—gáh, *n. f.* an altar. قربان ہونا—honá, *v.* to be sacrificed.

قربانی qurbání, *A. n. f.* A sacrifice ; a victim. قربانی کرنا—karná, *v.* to sacrifice.

قربت qurbat, *A. f.* Nearness ; relationship.

قُررات qurrat, *P. n. f.* Cheerfulness ; joy ; gladness. قُررت العین—ul'-ain, coolness of eye, *viz.*, cheerfulness ; tranquillity.

قرحہ qarha, *A. n. m.* A wound ; a sore ; an ulcer. قرحہ ہونا—honá, *v.* to fester.

قُرس qurs, *A. n. m.* The disk of the sun or moon ; an orb ; a cake ; a wafer ; a small silver coin (worth about two pen ce).

قُرُز qárz, *A. n. m.* A loan ; debt ; tick. قُرُز ادا کرنا—adá karná, *v.* to pay one's debt. قُرُز

چکانا—chukáná, to pay off a debt. قُرُز حسنة—i-hasana, money lent (or a loan obtained) without interest, and repaid at the pleasure of the borrower. قُرُز خرابا—khwáh, a creditor ; a dun. قُرُزدار—dár, *adj.* indebted, *n. m.* a debtor. قُرُزداري—dári, *n. f.* indebtedness. قُرُز دینا—dená, *v.* to lend at interest ; to supply on credit ; to grant a loan. قُرُز سے قُرُزانا—se chhuráná, *v.* to redeem (in *Law*) ; to free from debt. قُرُز لینا—lená, *v.* to contract a debt ; to borrow ; to run up an account or bill.

قُرُزہ qarza, *A. n. m.* A loan. قُرُزہ چکانا—chukáná, *v.* to liquidate a debt. [borrower.

قُرُزی qarzí, *A. adj.* Borrowed ; *n.* a debtor ; a

قُرُط qurt, *A. n. m.* A piece ; a mouthful ; an earring.

قُرُطاس qirtás, *A. n. m.* Paper.

قُرُعہ qur'a, *A. n. m.* A die ; a cast or throw of dice ; a wager ; drawing lots ; a raffle ; a ballot. قُرُعہ ڈالنا—dálná, *v.* to cast or draw lots.

قُرُق qurq, *A. adj.* Attached ; distrained ; forfeited ; confiscated. قُرُق امین—amín, an officer of the court employed to attach a property and realize the proceeds ; a bailiff. قُرُق پندیر—pazír, liable to seizure ; contraband. قُرُق کرنا—karná, to distrain ; to attach (property).

قُرُقرا qarqará, *A. n. m.* The demoiselle crane (*karákul*).

قُرُقِی qurqí, *P. n. f.* Distress ; attachment ; distraint. قُرُقِی بھیجنا—bhejná, *v.* to send an officer to execute an attachment. قُرُقِی پر ورائے قُرُقِی—parwáná-i—, a warrant issued to sequester a property ; a warrant of attachment (*qurq-ndma*).

قُرُقرام qurram, } *T. n. m.* A pimp ; cuckold ;
قُرُقرامساق qurramsaq, } a term of abuse.

قُرُقرمز qirmiz, *A. n. m.* Crimson cochineal. قُرُقرمزی qirmazí, *adj.* crimson-coloured ; scarlet.

قُرُن qarn, *A. n. m.* A period of 10 to 120 years ; an age.

قُرُنَا qarná, } *A. n. f.* A trumpet ; a horn ;
قُرُنَاے qernác, } a bugle.

قردندوق qurrambiq, A. n. m. An elembic ; a still. a retort.

قردندوق qarranful, A. n. m. A clove (*laung*).

قردندوق qaraulí, कर्ौली, H. n. f. A picquet ; grand guard ; a hunting knife.

قردندوق qarib, A. adj. Near ; neighbouring ; adjacent ; almost ; akin ; relative. قردندوق الاختتام —ul ikhtitám, near the end ; on the point of completion. قردندوق القياس يا قردندوق الفهم —ul qiyás yá—ul-fahm, within the reach of the understanding or conception ; conceivable ; comprehensible. قردندوق العرگ —ul-marg, on the point of death. قردندوق —an, nearly ; approximately ; close upon ; about.

قردندوق qarín, A. adj. Conjoined ; connected ; equal. قردندوق انصاف —i-insáf, adj. equitable ; just. قردندوق مصلحت —i-maslahat, advisable. قردندوق نصرت —, victorious.

قردندوق qarína, A. n. m. Way ; mode ; order ; arrangement ; symmetry ; correspondence ; connexion. قردندوق لگانا —se lagáná, v. to put in order ; to arrange.

قردندوق qarya, A. n. m. A village.

قردندوق qaz, P. n. m. Silk.

قردندوق qazzáq, T. n. m. A robber ; a free-booter. قردندوق اچل —i-ajal, n. m. the angel of Death.

قردندوق qazzáqí, A. n. m. The profession of a qazzáq ; free booting ; brigandage. [an oath. قردندوق تسامت qasámat, P. n. f. The administration of قردندوق تساروت qassáwat, P. n. f. Hardness of heart ; grief ; anxiety ; melancholy

قردندوق qist, A. n. f. Instalment ; portion. قردندوق باندی —bandí, n. f. paying the revenue of debt by instalments. قردندوق کسنا —karná, v. to pay by instalments. قردندوق وار —wár, adj. by instalments.

قردندوق qasam, A. n. f. Oath. قردندوق تورنا —torná, to violate an oath. قردندوق دلانا - دینا یا کھلانا —diláná, dená yá khiláná, to administer an oath. قردندوق کھانا —kháná, v. to take an oath ; to swear. قردندوق قسما قسما —qasmá qasmí, swearing on both sides ; mutual asseveration.

قردندوق qism, A. n. f. Description ; kind ; species ; nature ; division ; part ; portion. قردندوق وار —wár, according to the description or quality of ; classified.

قردندوق qismat, A. n. f. Fate ; lot ; fortune ; section ; a division of a province ; share ; division ; distribution ; partition. قردندوق بهرت جاننا —phút jáná, v. to come under an unlucky star ; to fall into adversity. قردندوق بهرنا یا جگنا —phirná yá jagná, v. to be fortunate or prosperous. قردندوق کسنا —karná, v. to divide. قردندوق قسبت —wálá, adj. fortunate ; prosperous.

قردندوق qishr, A. n. m. Bark ; husk ; rind ; shell.

قردندوق قشعریرة qush'arira, A. n. m. The hair standing on end from horror ; horripilation.

قردندوق قصاب qassáb, A. n. m. A butcher. (qasáí) بکر قصاب bakr—, n. m. a butcher who kills goats.

قردندوق قصابه qasába, A. n. m. A handkerchief tied round the head (especially worn by women).

قردندوق قصابی qassábí, A. n. f. The trade of a butcher.

قردندوق قصاص qisás, A. n. m. The law of retaliation ; capital punishment. قردندوق لینا —lena, v. to take blood for blood.

قردندوق قصابی qasáí, A. n. m. A butcher ; a merciless person ; adj. cruel ; hard-hearted.

قردندوق قصب qasab, A. n. m. A sort of fine linen ; a reed ; a tube ; a pipe ; a bone. [Towns.

قردندوق قصبات qasbát, A. n. m. (*Plu. of قصبه Qasba*).

قردندوق قصبه qasba, A. n. m. A town.

قردندوق قصباتی qasbátí, A. n. m. A townsman. قردندوق قصبه مدرسه —madrssa, a town school.

قردندوق قصد qasd, A. n. m. Intention ; design ; object ; attempt ; project ; wish ; inclination. قردندوق کسنا —karná, v. to intent ; to resolve ; to attempt ; to form a design against ; to aim at. قردندوق قصد مصمم —i-musammim, fixed resolution.

قردندوق قصداً qasdán, A. adv. Voluntarily ; intentionally ; willingly.

قردندوق قصر qasr, A. n. m. A defect ; diminution ; a citadel ; a mansion ; a palace. قردندوق کسنا —karná, v. t. to shorten ; to bring to the minimum (as namáz).

قردندوق قسور qusúr, A. n. m. Defect ; a deficiency ; fault ; omission ; incorrectness ; sin ; failure. قردندوق قسور بتلانا —batláná, v. to find fault with. قردندوق کسنا —karná, v. to commit a fault ; to fail. قردندوق قسور وار —wár, adj. blame-worthy ; at fault. قردندوق قسور بے be —, guiltless ; innocent.

قصہ qissah, A. n. m. A tale; a story; a fable; narration; romance; dispute. **قصہ اُٹھانا**—*nḥaná*, to raise a commotion or dispute; to get up a quarrel. **قصہ پاک کرنا**—*pák karná*, *v.* to settle a dispute; to murder. **قصہ خوان**—*khwán*, *n. m.* a story-teller; reciter of tales. **قصہ خوانی**—*khwání*, *n. f.* story-telling. **قصہ کوتاہ**—*kotáh*, *adj.* in short; briefly. **قصہ کوتاہ کرنا**—*kotáh karná*, to cut the matter short.

قصیدہ qasída, A. n. m. A poem; a song; an ode; eulogium; encomium.

قضا qazá, A. n. f. Fate; destiny; death; judgment; jurisdiction; omitting an appointed prayer or fast; chance. **قضا الہی سے مرنا**—*i-iláhi se marná*, *v.* to die a natural death. **قضا کارا یا قضا کار**—*rá yá—kár*, *adj.* by chance. **قضا کرنا**—*karná*, *v.* to die; to omit the performance (of a religious duty). **قضا و قدر**—*o-qadar*, *n. f.* fate. **قضاے میبرم**—*i-mubram*; inevitable fate. **قضاے ناگہانی**—*i-nágaháni*, sudden death.

قضات quzát, A. n. m. (*Plu. of* قاضی *Qazi*). Judges; justices.

قضیہ qaziya, A. n. m. (*Plu. قضاہ Qazáya*). Dispute; debate; quarrel; broil; litigation; lawsuit; proposition. **قضیہ اُٹھانا**—*nḥaná*, to raise a contention or quarrel. **قضیہ پاک ہونا**—*pák honá*, *v.* dispute to be settled. **قضیہ دلال**—*dallál*, one who excites quarrel; a mischief maker. **قضیہ کرنا**—*karná*, *v.* to quarrel; to fall out. **قضیہ مول لینا**—*mol--lená*, *v.* to interfere without cause in the disputes of others.

قٹ qat, A. n. m. Cutting transversely; cutting the nib of a pen; the nib of a pen. **قٹازن**—*zan*, *n. m.* a flat piece of stick, bone, &c., on which the nib of a pen is cut. **قٹ لگانا**—*lagáná*, *v.* to cut the nib of a pen.

قطار qitár, (*vulg. qatár*). A. n. f. A line; row; string; series; range; train; file; rank. **قطار باندھنا**—*bándhná*, *v.* to arrange in a series; to range. **قطار میں**—*meñ*, *adv.* in a line.

قٹاقتا quttá' A. n. m. (*Plu. قٹاقتا Qúttá'*).

Robbers; assassins. **قٹاع الطریق**—*ul-taríq*, highwaymen; highway robbers.

قطب qutub, A. n. m. The polar star; the North Pole; a title or degree of rank among religious mendicants; the iron spindle of a millstone; a pivot; a lord; a chief. **قطب جنوبی**—*i-janúbí*, the Antarctic or South Pole. **قطب سماوی**—*samávi*, the celestial pole. **قطب شمالی**—*i-shimáli*, the Arctic or North Pole. **قطب نما**—*numá*, the mariner's compass.

قطبی qutbí, A. *adj.* Polar.

قطر qutr, A. n. m. A diameter, chord (of an arc); diagonal (of a square). **قطر دائرہ**—*i-dáera*, *n. m.* diameter of a circle. **نصف قطر**—*qutr*, radius of a circle.

قتران qatrán, A. n. m. Tar; liquid pitch; the juice of a pine.

قطرہ qatrah, A. n. m. A drop; (*Met.*) a minim.

قٹاق qata', A. n. f. Section; cut; shape; form; fashion; style. **قٹاق برید**—*buríd*, cutting and clipping. **قٹاق تعلق کرنا**—*i-ta'alluq karná*, *v.* to abandon entirely; to break off all connections. **قٹاق دار**—*dár*, fashionable; stylish. **قٹاق کرنا**—*karná*, *v.* to cut; to cut or break off; to cut short; to perform (journey). **قٹاق کلام کرنا**—*kalám karná*, *v.* to interrupt. **قٹاق نظر**—*i-nazar*, except; besides; save; irrespective of; at all events.

قٹاقہ qat'a, qita', A. n. m. A cutting; a piece; a part; a fragment; a kind of verse; a stanza; a plot of land. **قٹاقہ دائرہ**—*daera*; segment (circle).

قٹاقی qata'i, A. *adv.* Altogether; entirely; absolutely; *adj.* decisive; conclusive; final.

قٹمیر qitmír, A. n. m. The thin pellicle on a date stone; name of a dog. **قٹمیر و قٹمیر**—*naqír o—*, minute; particular; exact.

قطن qutn, A. n. Cotton.

قعب qa'b, A. n. m. A cavern; a pit; a cup.

قعر qa'r, A. n. m. A gulf; a hollow; cavity; an abyss; depth of a well. **قعر دریا**—*i-daryá*, the depth of a river.

قفا qafá, A. n. f. The back of the head; nape of the neck; *adj.* behind; after; in pursuit (of).

قفس qafas, A. n. m. A cage ; lattice ; a network ; (*Met.*) the body.

قفل qufl, A. n. m. A lock. قفل توڑنا — toṛná, v. to break open a lock. قفل لگانا — lagáná, v. to lock up or in.

قفتی quftí, (*vulg. qulfi*) P. n. f. A mould (for ice, jelly, &c.); a small saucer-shaped earthen vessel.

قافس quafus, } P. n. m. The phoenix (a
قافس quqús, } fabulous bird).

قُل qul, A. n. m. Reading of the *Surah* or chapter of the *Qurán* entitled *qul-ho-allah*, which is done by way of benediction, over fruits and sweetmeats presented to the guests at the conclusion of the religious annual feasts read in commemoration of ancestors and other relations. Hence, it comes to signify conclusion. قُل ہو چکا — ho chuká, it is all over. قُل ہونا — honá, v. to be finished ; to die. قُل ہونا آنتون کا قُل ہواللہ پڑھنا — ánton ká qul-ho-alláh pāḥná, to be hungry.

قلاّب qulláb, A. n. m. A hook ; a pot-hook ; a fish-hook ; an iron goad used by elephant-drivers.

قلاّبازی qalábází, P. n. f. A somersault. قلاّبازی — khabázi, v. to take a somersault.

قلاّبہ qulábá, A. n. m. A stable ; link ; hash.

قلاّح qallách, H. कल्लाच, } *adj.* Shrewd; cunning
قلاّش qallásh, T. } ning n. a drunkard;
a worthless fellow ; *adj.* poor ; wretched.

قلاّقند qalá-qand, कलाकन्द, H. n. m. A kind of sweetmeat.

قلاّنج qulláñch, P. n. m. A jump ; a spring.

قلب qalb, A. n. m. Turning ; the heart ; the mind ; the soul ; the intellect ; pitch ; counterfeit coin ; kernel ; the centre or main body of an army ; *adj.* inverted. قلب ساز — sáaz, n. m. a counterfeit coiner. قلب کرنا — karná, v. to turn over ; to invert.

قلاّبہ qulba, A. n. m. A plough. قلاّبہ رانی — rání, driving the plough ; ploughing.

قالبی qalbí, A. *adj.* Cordial ; hearty ; adulterated ; counterfeit.

قلاّت qillat, A. n. f. Want ; deficiency ; scarcity ; difficulty.

قلاّلتین qullatain, A. n. m. A warm bath ; a cup or jar, which is in common used by many.

قلاّزم qulzum, A. n. m. The Red Sea or Arabian Gulf.

قلاّعہ qil'a A. n. m. A fort. قلاّعہ دار — dár, n. m. the governor or commandant of a fort.

قلاّعی qil'ái A. n. Tinning ; plating ; gilding ; varnish. قلاّعی کرنا — karná, v. to tin ; to white-wash ; to electroplate. قلاّعی کھلنا — khulná, v. to be discovered or betrayed ; to be found out. قلاّعی کھولنا — kholná, v. to expose to view. قلاّعی گر — gar, n. m. a tinman ; a tinner of pots. قلاّعی گری — garí, n. f. the business of tinning vessels.

قلاّفی qulfi, P. n. f. Curved piece of a *huqqa* snake made of copper ; a mould for ice, &c.

قلاّق qalaq, A. n. m. Disquietude ; anxiety ; keen regret. قلاّق ہونا — honá, v. to feel pain or sorrow ; to pine after.

قلاّقلاّق qulqul, A. n. m. Gurgling.

قلام qalam, A. n. m. A reed ; a pen ; n. f. cutting of trees, &c., for planting ; graft ; the upper part of the beard tapering to a point ; a kind of firework. قلام اُٹھا کر لکھنا — uṭhákár likhná, to write off-hand. قلام بنانا — banána, v. to mend a pen ; to shave the upper part of the beard.

قلامبند — band, *adj.* written. قلامبند کرنا — band karná, v. to write ; to commit to writing ; to take a note of. قلام پاک — pák, a pen-wiper.

قلام پھیرنا — phérná, v. to strike out ; to cancel. قلام تراش — tarásh, n. m. a pen-knife. قلامدان — dán, n. m. an inkstand ; a pen-case.

قلامرو — rau, n. f. empire ; domain ; territories. قلام کار — kár, n. m. an engraver ; a painter.

قلام کاری — kárí, n. f. engraving ; painting. قلام کرنا — karná, v. to cut off ; to prune. قلام لگانا — lagáná, v. to plant slips or cuttings ; to graft.

قلام مارنا — márná, to draw the pen across ; to obliterate.

قلامی qalmí, P. *adj.* Written ; manuscript ; grafted ; crystallized (saltpetre, &c.) قلامی آم — am, grafted mangoes. قلامی شوری — shora, n. m. crystallized saltpetre.

قلندار qalandar, A. n. m. A monk who deserts the world, wife, &c. and wanders about with shaven head and beard; the fly of a tent.

قلندرا qalandrá, A. n. m. A silken cloth.

قله qullah, A. n. m. The top or head of any thing; summit of a mountain peak. [porter.

قلي qulí, T. n. m. A coolie; a labourer; a

قليل qalíl, A. adj. Little; scanty; moderate; few; rare. قليل و كثير—o-kasír, more or less; small or great. قليل هونا—honá, v. to fall short of. [anything; curry.

قليا qalya, A. n. m. Broiled meat dressed with

قمار qimár, A. n. m. Dice; gambling. قمار باز—báz, n. m. a gambler. قمار بازی—bázi, n. f. gambling. قمار بازی کرنا—bázi karná, v. to gamble. قمار خانه—khána, a gambling-house.

قماش qimásh, A. n. m. Kind; sort; manner; name of a suit at cards.

قمحی qamchí T. n. f. A twig; a switch; a cane.

قمر qamar, A. n. m. The moon.

قمری qamarí, A. adj. Lunar. سال قمری—sál, a lunar year. ماه قمری—máh, a lunar month.

قمری qumrí, A. n. f. A turtle dove; a ring-dove.

قمرقما qumquma, A. n. m. A jug; a globe made of lac containing the red powder, used in *Holi*; a small round shade or lantern.

قمیض qamis, A. n. f. A shirt.

قنات qanát, A. n. f. The wall of a tent, or an external screen of canvas surrounding a tent.

قنادیل qanádíl, A. n. f. (*Plu of قندیل Qandil*). Candles; lamps; chandeliers.

قناره qanára, A. n. m. Shambles where meat is exposed to sale; a butcher's shop.

قناعت qaná'at, A. n. f. Content; contentment. قناعت کرنا—karná, v. to be contented.

قنبر qunbar, A. n. m. and f. The lark.

قند qand, A. n. m. White crystallized sugar; loaf sugar.

قندیل qandíl, A. n. f. A candle; a chandelier.

قنوت qunút, A. n. f. Obedience to God; devotion; piety.

قواعد qawá'ed, A. n. m. (*Plu. of قواعد Qada*), Rules; regulations; principles; the rules of grammar; drill; military evolution or exercise. قواعد سیکھانا—sikhána, v. to drill.

قوال qauwál, A. n. m. A musician; a singer; one who speaks well or fluently; a professional story-teller.

قوالی qauwáli, A. n. f. Singing and playing.

قوام qawám, A. n. Justice; equity.

قوام qiwám, A. n. m. Materials; ingredients; syrup; essence; substance.

قوانین qawánín, A. n. m. (*Plu. of قانون Qánún*) Rules; regulations; laws; statutes.

قوت qút, A. n. f. Food; aliment; victuals. قوت لایموت—i-lá-yamút, food sufficient to keep body and soul together.

قوت quwat, A. n. f. Power; strength; vigour; energy; support; faculty. قوت باصرة—básira, power of vision; sight. قوت جاذبه—i-jáziba, power of absorption. قوت جسمانی—i-jismání, bodily power. قوت حافظه—háfi'za, memory.

قوت دل—i-dáfe'a, power of expulsion. قوت دل—i-díl, strength of mind. قوت دینا—dená, v. to strengthen. قوت ذاتیة—i-zátiya, natural virtue or power. قوت سامعه—i-sáme'a, the faculty of hearing. قوت شامه—i-shámma, the sense of smelling. قوت غضبه—i-gazbiya, the faculty of power of anger. قوت لامسه—i-lámisa, sense of touch. قوت ماسکه—i-máska, power of retention. قوت متخیلة—i-mutkhaila, the power of fancy. قوت مدركة—i-mudrika, the power of apprehension. قوت هاضمه—i-házima, digestive power.

قوت دل—i-díl, strength of mind. قوت دینا—dená, v. to strengthen. قوت ذاتیة—i-zátiya, natural virtue or power. قوت سامعه—i-sáme'a, the faculty of hearing. قوت شامه—i-shámma, the sense of smelling. قوت غضبه—i-gazbiya, the faculty of power of anger. قوت لامسه—i-lámisa, sense of touch. قوت ماسکه—i-máska, power of retention. قوت متخیلة—i-mutkhaila, the power of fancy. قوت مدركة—i-mudrika, the power of apprehension. قوت هاضمه—i-házima, digestive power.

قوت سامعه—i-sáme'a, the faculty of hearing. قوت شامه—i-shámma, the sense of smelling. قوت غضبه—i-gazbiya, the faculty of power of anger. قوت لامسه—i-lámisa, sense of touch. قوت ماسکه—i-máska, power of retention. قوت متخیلة—i-mutkhaila, the power of fancy. قوت مدركة—i-mudrika, the power of apprehension. قوت هاضمه—i-házima, digestive power.

قوت هاضمه—i-házima, digestive power.

قوت هاضمه—i-házima, digestive power.

قور qor, A. n. f. A new rope of cotton; edging; hem; riband; retinue. قور خانه—khána, an arsenal; a wardrobe. [moury or a wardrobe.

قورچی qorchí, P. n. m. A keeper of the ar-
قورما qormá, } T. n. m. A highly spiced curry
قورمه qorma, } without turmeric or gravy.

قوس qaus, A. n. f. A bow; the arc of a circle; the sign Sagittarius. قوس اندرونی—i-andarúní, the concave side. قوس بیرونی—i-berúní, the convex side. قوس قزح—i-qazah, n. f. the rainbow.

قوس خانه qaus-khána, T. n. m. An aviary.

قول qaul, A. *n. m.* A word; speech; saying; assertion; affirmation; agreement; promise; vow. قول توڑنا—*torná, v.* to break one's word or promise. قول دینا—*dená, v.* to give word; to promise. قول قرار—*qarár, n. m.* mutual agreement; treaty. قول قرار کرنا—*qurár karná, v.* to covenant; to bind by contract. قول کا پورا—*ká púrá, faithful* to one's engagement. قول لینا—*lená, v.* to obtain a promise. قول و فعل—*o-fe'l, n. m.* word and deed. قول نامہ—*náma, a written agreement; a treaty.* قول ہارنا—*hárná, v.* to give one's word; to promise. قول بقول *ba qaul, according to the saying or dictum (of).*

قولنج qulanj yá qúlinj, A. *n. m.* Colic gripes.

قوم qaum, A. *n. m.* Caste; sect; tribe; breed; nation. قوم و خویش—*o-khwesh, n. m. Plu.* Friends and relations.

قومی qaumí, A. *adj.* National; tribal. قومی حکومت—*hukúmat, a republic.* قومی مجلس—*majlls, national assembly.*

قومیت qaumiyat, A. *n. f.* Being of the same tribe, etc.; nationality.

قوی qawí, A. *adj.* Strong; powerful; vigorous. قوی النفس—*ul-nafs, of strong or vigorous mind; high-spirited.* قوی جنتہ—*jussa, of mighty frame; gigantic; robust.* قوی دل—*dil, of strong mind or heart.* قوی ہیکل—*haikal, of huge, or mighty form or size, etc.* [powers; virtues.

قوی quwá, A. *n. f. (Plu. of قوت Quwát).*

قہر qahr, A. *n. m.* Rage; fury; indignation; calamity; vengeance (*fig.*) firebrand; incendiary; *adj.* excessive; great. قہر الہی—*i-iláhí, divine wrath.*

قہراً qahran, A. *adv.* Violently; forcibly.

قہقہہ qahqaha, A. *n. m.* A loud laughter; a burst of laughter. قہقہہ اورانا یا مارنا—*uráná yá márná, v.* to laugh heartily.

قہوہ qahwa, A. *n. m.* Coffee. قہوہ خانہ—*khána, n. m. a coffee-house.* قہوہ دان—*dán, a coffeepot.*

قے qai, P. *n. f.* Vomiting; vomit. قے آنا—*áná, v.* to feel nausea; to be sick of. قے آرندہ—*árandá, áwar, an emetic.*

قے دست dast; *n. f.* cholera. قے کرنا—*karná, v.* to vomit.

قیاس qayás, A. *n. m.* Thought; judgment; opinion; supposition; presumption; guess. قیاس کرنا—*karná, v.* to guess; to suppose; to think; to conceive. قیاس میں آنا—*men áná, v.* to be conceivable. قیاس بے قیاس—*be—, above measure;* immense; enormous قیاساً—*qyásan, by analogy; by conjecture; conjecturally.*

قیاسی qayásí, A. *adj.* Imaginary; theoretical; conjectural; analogous; presumptive.

قیانہ qayáfa, A. *n. m.* Appearance; face; mien; look; physiognomy. قیانہ شناس—*shinás, n. m. a physiognomist.* قیانہ شناسی—*shinásí, n. the science of physiognomy.*

قیام qayám, A. *n. m.* Standing erect; stability; durability; permanence; stay; existence; residence. قیام پذیر—*pizír, adj.* stationary; at rest. قیام کرنا—*karná, v.* to lodge; to last; to halt; to settle.

قیامت qayámat, A. *n. f.* The general resurrection; the last day; commotion; the scene of trouble or distress; *adj.* very great; excessive; oppressive. قیامت انا—*áná, v.* to befall (a great calamity).

قید qaid, A. *n. f.* A fetter; imprisonment; bondage; obstacle; control; a bond; treaty; an obligation. قید با مشقت—*i-bá-mashaqqat, rigorous imprisonment.* قید خانہ—*khána, prison; jail.* قید رکھنا—*rakhná, v.* to keep in custody. قید رہنا—*rahná, v.* to remain in prison, etc. قید سخت—*i-sakht, rigorous imprisonment.* قید کرنا—*karná, v.* to imprison; to captivate; to fetter. قید لگانا—*lagáná, v.* to attach conditions; to regulate; to limit; to subject; to rule. قید مجبض—*i-mahaz, simple imprisonment.* قید ہونا—*honá, v.* to be imprisoned or fettered; to be in bonds, etc.

قید بلا—*qaid, unrestrained; unconditional; unlimited; irregular; lawless; adv. at large; at random; unreservedly.*

قیدی qaidi, A. *n. m.* A prisoner; a captive; a convict.

قیر qír, A. *n. m.* Pitch; tar.

قیراط qirát, A. *n. m.* The twenty-fourth part of an ounce; a carat.

کاتھہ káth, काठ, H. *n. m.* Wood; timber; the stocks; (*Met.*) scabbard; *adj.* hard; cruel. کاتھہ پتلی—putlí, *n. f.* a puppet; a toy. کاتھہ کابڑا—ká ullú, an arrant fool. کاتھہ کبابز—kabár, wooden articles; a heap of broken furniture. کاتھہ کیرا—kírâ, a bug. کاتھہ کھی گھوڑی—ki ghoṛí, a bier; a coffin. کاتھہ ہونا—honá, *v. t.* to become like a stick; to be petrified with astonishment.

کاتھہ káthí, काठी, H. *n. f.* Frame; a saddle; body; shape; appearance.

کاج káj, काज, H. *n. m.* Work; action; business; an affair; a feast (esp. given on the death of an old person); a button hole.

کاجل kájal, काजल, H. *n. m.* Lamp-black; soot. کاجل پازنا—párnâ; to prepare lamp-black. کاجل کچھڑی—ki koṭhrí, *n. f.* a coal-celler; a place the going into which or an affair the being engaged in which brings disgrace or a stain on one's character.

کاجڑ kájú, काजू, H. *n. m.* The cashew-nut; *Anacardium occidentale.*

کچھ kách, काच, H. *n. m.* Glass. کچھ لاون—lawan, black salt. کچھ منی—maní, crystal; quartz.

کچھہ kachh, काछ, } H. *n. m.* A cloth worn
کچھہ کچھہ káchhâ, काछा, } round the hips passing
between the legs and tucked in behind the
buttocks; posteriors; (*dhoti, lungotí*). کچھہ
کچھہ káchhnâ, *v.* to put on; to skim.

کچھہ káchhi, काछी, H. *n. m.* A caste of gardeners who cultivate and sell vegetables and potherbs. [palace; a tower or turret.

کاخ kákh, P. *n. m.* A gallery; a balcony; a

کادر kádar, कादर, H. *adj.* Timid; coward.

کادر kádo, कादू, H. *n. m.* Mire; clime.

کاذب kázib, A. *adj.* False; *n. m.* a liar.

کار kár, P. *n. m.* Action; operation; profession; business; work; function; duty. کار آزمودہ—ázmúda, *adj.* experienced; practised; expert.

کارآمد—ámad, *adj.* conducive; useful; serviceable. کار بار—bár, *n. m.* business; affairs; dealings; transaction. کار باری—bárí, man of business. کار براری—barárí, accomplishment; performance. کار برداری—bardárí, undertaking

a business. کار بند ہونا—band honá, *v. i.* to act up to; to fulfil; to comply with. کار پرداز—pardáz, *n. m.* one who manages or carries on a business; a manager. کار چوب—chob, *n. m.* embroidery; embroiderer. کار خانہ—k'hána, *n. m.* a factory; a workshop; manufactory. کار خانہ الہی—i-Iláhí, God's work; nature. کار خانہ کرنا—k'hána karná, *v.* to open a workshop. کارروائی—rawáí, *n. f.* working; proceeding; conduct; usefulness; management; process. کارروائی سرسری—rawáí sarsari, summary procedure. کارروائی کرنا—rawáí karná, *v.* to discharge a duty; to hold proceedings. کارزار—zár, *n. f.* battle; engagement; war. کار ساز—sáz, *adj.* adroit; dexterous; *n. m.* a doer; the maker; the Deity. کارستانی کرنا—astáni karná, *v.* to avoid by artifice. کار سرکاری—i-sarkárí, *n. m.* government or public service. کار بہار سرکار—ba-i-sarkár, On His Majesty's Service. کار فرما—farmá, *n. m.* an emperor; a minister; a superintendent. کار کن—kun, *n. m.* director; a manager; an attorney. کار گزاری—guzárí, *n. f.* dispatch of business; employment; good service. کار گر—gar, *adj.* efficacious; effective; operative; active (as a medicine); moving; stirring (as an oration). کار نامہ—náma, *n. m.* a record of stirring deeds; a history. کار نگار—i-gar, *n. m.* a workman; an artisan. کار نگاری—i-garí, *n. f.* workmanship; skill; artistic work. [gaol.

کارا کارا kárágár, कारागार, S. *n. f.* A prison; a
کارتوس کارتوس kártús, कारतूस, H. *n. m.* (*Corr. of the Eng.*) A cartridge.

کاراج káraj, कारज, H. *n. m.* Business; profession.

کاران káran, कारण, H. *n. m.* Cause; behalf; motive; reason; account. کاران اس is—, for this reason; hence; therefore. [or officer.

کارندہ kárinda, P. *n. m.* A manager; an agent

کاروان کاروان kárwán, P. *n. m.* A caravan; a large company of travellers, or merchants, or pilgrims, united for mutual protection on a journey. کاروان سرا—sarâ, a caravansaray; an inn.

کاری *kári*, P. *adj.* Effectual; penetrating; mortal.
 کاری *zakhm-i*—n. m. a deep wound; a mortal wound.

کاریز *kárez*, P. n. f. An aqueduct; a watercourse.

کاره *kárhá*, کافر, H. n. m. A decoction; an extract.

کاره *kárhna*, کافرن, H. v. t. To draw forth; to take out; to delineate; to paint; to inter; to find; to detect; to break in; to work figures; to work figures (on cloth or in needle-work); to borrow; to bring out; to search out.

کاست *kást*, P. n. f. Loss; damage; diminution
 کاستنی—*ani*, decrease.

کاسه *kása*, A. n. m. A cup; a goblet. سر کاسه—*i-sar*, n. m. the skull. کاسه گدائی—*i-gadái*, n. m. beggar's wallet.

کاش *kash*, *intj.* Would that! God grant!

کاشانه *káshána*, P. n. m. A house; dwelling.

کاشت *kásht*, P. n. m. Cultivated land or tract; field; farm; holding; tenure (of land). بے کاشت *be—*, *adj.* uncultivated; fallow. کاشتکار—*kár*, n. m. a cultivator; a farmer; an agriculturist. کاشتکاری—*kári*, n. f. cultivation; tillage. کاشته *káshta*, tilled; cultivated.

کاشف *káshif*, A. n. m. Discoverer; explainer; revealer; expounder.

کاغذ *kágaz*, P. n. m. (*Plu.* کاغذات *Kágzdt*) Paper; document; charter; a note of hand; a newspaper. کاغذ فروش—*farosh*, a paper-seller; a stationer. کاغذ کرنا—*karná*, to give a note of hand or bond. کاغذ کے گھوڑے دوڑنا *ke ghoṛe daṛná*, to keep up an active or brisk correspondence.

کاغذی *kágzi*, P. n. f. A kind of thin-skinned lemon or lime; a stationer; a paper-maker; *adj.* delicate; thin; documentary.

کافر *káfir*, A. n. m. An infidel; *adj.* infidel; impious. [impiously.]

کافرانہ *káfirána*, P. *adj.* Like an infidel;
 کافور *káfúr*, A. n. m. Camphor. کافور ہونا یا ہونا *honá yá hojáná*, v. to scamper off; to disappear; to evaporate.

کافوری *káfúrí*, P. *adj.* Comphorate; white; transparent.

کافہ *káffa*, P. *adj.* All; universal. whole; n. m. a tribe; a multitude. کافہ انام—*i-anám*, all mankind. [wáfi, *adv.* enough and to spare.

کافی *káfi*, *adj.* Sufficient; adequate. کافی دانی—*káká*, P. n. f. Elder brother; a paternal uncle. [a species of large parrot.

کاکاتو *kákátúa*, کاکاتو, H. n. m. Cockatoo; a

کاکریز *kákrez*, P. n. m. Dark purple-colour.

کاکل *kákul*, P. n. f. A lock; a curl; a ringlet.

کاکن *Kákan*, کاکن, *kakun*, کاکون, H. n. f. A species of small grain; Panicum italicum.

کاک *kág*, کاک, H. n. m. A crow; a raven; a cork; the uvula. کاک اٹھانا—*uṭháná*, to rise the uvula (of an infant).

کال *kal*, کال, H. n. m. Death; famine; time; (*Met.*) a snake; in (*Brij.*) to-morrow. کال اپکار—*upkár*, famine-relief. کال بٹانا یا کاتنا یا گزونا—*bitáná yá kátná yá ganwáná*, v. to waste one's time. کال بس ہونا—*bas honá*, v. to be seized by fate; to be in the clutches of death. کال پورنا—*parná*, v. to happen (a famine). کال مارا—*ká tūṭá yá mára*, famine-stricken. کال کوٹھری—*koṭhri*, n. f. a black-hole.

کالا *kálá*, کالا, H. *adj.* Black; dark; large; n. m. a snake. کالا بھجنگ یا کالا کوبلا—*bhujang yá-koelá*, *adj.* jet black; a black snake. کالا پانی—*pání*, n. m. black water; the Andaman Islands; transportation (across the sea). کالا چور—*chor*, n. m. a great thief; an unknown person. کالا دانا—*dána*, n. m. name of a purgative seed. کالا جیرہ یا کالا جیرہ—*zira yá kálá jira*, n. m. seeds of the *Nigela inai*. کالا منہ—*munh karná*, v. to blacken one's face; to break off all connection with another; to disgrace; to expel. کالا نمک—*namak*, n. m. black-rock salt. کالا کرنا—*karná*, v. to blacken. کالا پتی—*pattí*, n. f. the act of caulking a ship or boat. کالا پتی کرنا—*pattí karná*, v. to caulk.

کالبد *kálbud*, P. n. m. The human body; a figure; form; mould; a shoemaker's last; the heart.

kal'adam, A. *adj.* Null and void.
 kalikh, कालिख, H. *n. m.* Freckle ; stain ; spot. کسی کے منہ میں کالکھ لگانا — *kisī ke muḡh meḡ kálikh lagáná*, to put one to shame; to mortify.
 kálí, काली, H. *n. f.* The goddess Kálí ; ink, *n. m.* name of a snake with a hundred and ten hoods, vanquished by Krishna. کالی پیاپی
 píli ánkheḡ karná yá dikhláná, *v.* to turn red with rage ; to look very angry and threatening. کالی تلسی — *tulsi*, *n. f.* basil. کالی داہ — *dah*, *n. f.* a whirlpool in the Jumna where the snake *Kali* lived. کالی جیری یا کالی (جیری) — *jirí yá kálí zírí*, *n. f.* black cummin seed, *vernón'a anthelmintica*. کالی کلوتی — *kalúṭí*, *n. f.* very black. کالی کوس — *kále kos*, *n.* a very great distance. کالی مٹی — *miṭṭí*, *n. f.* black-clay ; black lead. کالی مرچ — *mirch*, *n. f.* black pepper.
 kám, काम, H. *n. m.* Work ; task ; feat ; tactics ; workmanship ; manufacture ; embroidery ; service ; office ; duty ; affair ; need (of) ; use ; business ; occupation ; task. کام آنا — *áná*, *v.* to be of use ; to be slain (in battle, &c.), to await ; to be used. کام بنا لینا — *baṭa lená*, *v.* to take a share in work ; to assist one. کام بگڑنا — *bigarṇá*, *v.* to be spoilt ; to be bankrupt ; to fail (as one's business). کام بگاڑنا — *bigarṇá yá bigar dená*, to spoil or mar the work (of) ; to baffle ; to foil. کام بننا — *banná*, *v.* to succeed ; to gain one's end. کام پڑنا — *paṛná*, *v.* to have business with ; to have occasion for ; to come or be of use. کام تمام کرنا — *tamám karná*, *v.* to finish a work or business ; to accomplish ; to kill. کام چلانا — *chaláná*, *v.* to carry on business ; to manage. کام چلاؤ — *chalaú*, *adj.* serviceable ; sufficient to go on with ; answering as a make-shift ; enough for the purpose. کام چور — *chor*, one who shirks works ; an idle fellow. کام دار — *dár*, embroidered. کام دینا یا سپرد کرنا — *dená yá supurd karná*, *v.* to give work ; to make over charge ; to render good service. کام سے کام رکھنا — *se kám rakhná*, *v.* to mind one's own business. کام کاجی — *kájí*, laborious ; active. کام کرنا —

karná, *v.* to accomplish a business ; to succeed ; to be operative. کام میں لانا — *meḡ láná*, *v.* to use. کام نکالنا — *nikálná*, *v.* to carry into effect ; to accomplish one's desire ; to effect one's purpose (by means of).
 kám, काम, S. *n. m.* Desire ; affection ; love ; wish ; passion. کام دیو — *deo*, *n. m.* the Hindu god of love.
 kám, P. *n. m.* Palate ; desire ; object ; end ; purport ; intention.
 kámdár, कामदार, H. *n. m.* Manager ; agent.
 kamrán, کامران, P. *adj.* Fortunate ; successful ; attained to one's wishes.
 kámgar, کامگار, P. *adj.* Obtaining whatever is desired ; fortunate ; successful ; powerful.
 kámil, کامل, P. *adj.* } Complete ; perfect ; accomplished ; learned ; decisive, *n. m.* a perfect man or woman ; a saint. کامل القیمت — *ul-qímat*, of full value. کامل الوزن — *ul-wazan*, of just weight.
 kamini, کامینی, H. *n. f.* A loving woman ; a beautiful maiden.
 kámód, کامود, H. *n. f.* A musical mode of *rágini*, sung in the night. [prosperous.
 kámyáb, کامیاب, P. *adj.* Successful ; satisfied ; prosperity ; attainment of one's wishes.
 kámyabí, کامیابی, P. *n. f.* Success ; happiness ; prosperity ; attainment of one's wishes.
 kán, کان, H. *n. m.* The ear ; the handle of a vessel ; helm or rudder (of a ship) ; twist ; defect. کان آڑے یا پھٹے جانا — *uṛe yá phaṭe jáná*, *v.* to be deafened by noise. کان اُمیٹھنا — *umēṭhná*, to pull or wring the ears. کان بھرا — *bahrá karná*, to turn a deaf ear to ; to sbut one's ears. کان بھرنا — *bharná*, *v.* to excite dissension by tale-bearing ; to backbite ; to poison the ears (of). کان پھرنا — *dharná*, *v.* to refuse ; to disclaim. کان پڑنا — *paṛná*, *v.* to come to ears (of) ; to be heard ; to be audible. کان پکڑنا — *pakarṇá*, *v.* to hold one's ears (by way of punishment or repentance). کان پکڑنا (اپنا) — *pakarṇá (apná)*, to lay hold of the ear by way of contrition, &c. ; کان پھرنا —

phútná, *v.* to be deaf. کان دہا کر چلے جانا
 dabákar chale jáná, *v.* to slink away. کان دھرتا
 دینا—dharná yá dená, *v.* to be attentive ;
 to listen. کان دے سننا—de sunná, *v.* to hear
 attentively. کان کا پردہ ká pardá, *n. m.* the
 tympanum; drum of the ear. کان کاٹنا—káṭná,
v. to cut off one's ears; to surpass; to outwit.
 کان کا کچھا—ká kachchá, *adj.* listening readily
 to what is said; credulous. کان کھڑے ہونا
 —khare honá, *v.* to be alarmed یا کھول دینا یا
 کھولنا—kholdená yá kholdná, *v.* to open one's
 ears; to inform; to make acquainted with;
 to warn. کان مالنا—malná, *v.* to punish; to
 admonish. کان میل—máil, *n. m.* earwax. کان
 مہلیا—mailiyá, *n. m.* person who cleans the
 ears. کان میں انگلی دے رہنا
 rahná, *v.* to be deaf to what is said. کان میں
 تیل ڈالنا—men tel ḍálná, *v.* (*Lit.* to pour oil
 in the ear); to pretend not to hear. کان میں
 تیل ڈال کے سو رہنا—men tel ḍál ke so rahná, *v.*
 to be inattentive. کان میں کہنا—men kahná,
v. to whisper. کانوں کان کہنا—on kán kahná, *v.*
 to whisper. کانوں کان نہ جانتا—on kán na jánná,
 to know nothing at all (of); to be totally
 ignored (of). اس کان سننا اس کان اڑا دینا
 —is kán sunná us kán uṛá dená, to pay no atten-
 tion (to); to disregard. کانا باتی کرنا
 káná bátí karna, *v.* to whisper; to consult
 کانا پھرتی کرنا—káná phurtí karná, *n. f.* whispering.
 کان—kán, *P. n. f.* A mine; a quarry. کن
 kan, a miner.

کانی کوزی káná, *A. adj.* One-eyed; foolish.
 کانی کورفی kání kaurfí, *n. f.* a shell with a hole in it ; a
 bad penny.
 کانپنا káppná, کاپنا, *H. v.* To tremble; to
 shiver; to shake; to quake.
 کانتی kánti, کانتی, *S. n. f.* Lustre; grace;
 beauty; splendour.
 کانٹا kántá, کانتا, *H. n. m.* A thorn; a fork;
 small scale; a type; a spur; the tongue (of
 a balance); fishing hook; a fish-bone; dry-
 ness of the tongue; a quill (of a porcupine);
 proof; hand (of a watch or clock); a hooked
 instrument (for pulling buckets, &c., from
 the well); a prickler (of a musket); (in *Arith.*)

proof of a sum; (*fig.*) a thorn in the side; a
 hateful person. کانٹا سا کھٹکنا—sá khat.kná,
v. to prick as a thorn; to rankle in the breast.
 کانٹا مارنا—márná, *v.* to strike with the fins (a
 fish). کانٹا ہونا—honá, to become lean. کانٹوں
 پر لیٹنا kánton par loṭná, *v.* to lie on a bed of
 thorns; to be unhappy; to be in great pain
 or distress. کانٹوں میں گھسیٹنا kánton men
 ghasiṭná, *v.* to drag upon thorns; to exalt
 above one's merits. کانٹے کاٹنے ہونا kánte kaṭne honá, *v.*
 to plant thorns; to prepare distress for
 oneself.

کانٹی kántí, کانتی, *H. n. f.* A small pair of scales;
 a hook; refuse of cotton.
 کانجی kánjī, کانتی, *H. n. f.* Congee; rice-gruel;
 a kind of sour gruel or vinegar, made by
 steeping rice, or a mustard seed, &c., in water
 and letting the liquor ferment, (it is said) to
 create appetite and aid digestion. کانجی ہاؤس
 haus, (*Colloq*) *n. m.* a cattle-pound, a lock up.
 کانچ kánch, کانتی, *H. n. f.* Glass. کانچ
 نیکالنا—nikálná, *v.* to beat to a jelly. نیلا کانچ
 nilá—, *n.* blue stone.

کانڈا kándá, کانتی, *H. n. m.* An onion.
 کانڈو kándu, کانتی, *H. n. m.* A caste whose busi-
 ness it is to make sweetmeats.

کانڈھا kándhá, کانتی, *H. n. m.* The shoulder.
 کانڈھا دینا—dená, to lend a shoulder (to); to
 assist; to help to carry away the deed. کانڈھا
 اٹھانا—hiláná, *v.* to shrug up the shoulder.

کانڈھیلا kándhyá, کانتی, *H. n. m.* A man who
 carries a Hindu corpse; one of the four men
 who first lifts up a Hindu bier.

کانڈ kánd, کانتی, *S. n. m.* A section; chapter;
 division; exhibition.

کانس káns, کانتی, *A. n. f.* Quarrel; kind of grass.
 کانس میں تیرنا—men tairná, *v.* to be deluded
 by a mirage; to soar on the wings of fancy.

کانسا kánsá, کانتی, *H. n. m.* Bell-metal; bronze.

کانسہ kánsa, کانتی, *A. n. m.* A cup; a large flat dish.
 کانسہ گر—gar, *n. m.* one who makes cups,
 bowls, etc. [tion; wish; longing.

کانکشا kánkshá, کانتی, *S. n. f.* Desire; inclina-

کانکھ kánkh कौख, H. *n. f.* The armpit.
 کانور kánvar, कौवर, H. *n. f.* Two baskets attached to either end of a pole to carry holy water of the Ganges. کانوری kánvarí, *n.* a pilgrim who carries the holy water.
 کانی kání, P. *adj.* Mineral; fossil. H. *n. f.* one-eyed woman. کانی شے—shai, a mineral.
 کار káw, P. Digging; excavating; examining; meditating.
 کادا دینا káva dená, कावा देना, H. *v.* To ring or lounge (a horse etc.); to trick; to sham.
 کاکا kávak, P. *adv.* Hollow; useless; awkward.
 کاکیش kávish, P. *n. f.* Digging; scratching one's head when puzzled; fighting; enmity; inquiry.
 کاکہ káh, P. *n. f.* Grass; straw. کاکہ زبا—rubá, yellow amber. کاکہ کشان—kashán, the milkyway; galaxy. کاکہ گل—gil, straw and mud mixed together for plastering walls with.
 کاکہش káhish, P. *n. f.* Decline; anxiety; pining; wear and tear; decay.
 کاکھل káhil, A. *adj.* Lazy; slow. کاکھل مزاج—mizáj. *adj.* indolent. کاکھل وچرد—vajúd, *n. m.* a lazy fellow.
 کاکھلی káhilí, A. *n. f.* Indolence; sloth; apathy. کاکھلی کرنا—karná, to practise indolence; to be slothful.
 کاکھن káhin, A. *n. m.* Sorcerer; astrologer.
 کاکھو káhu, P. *n. m.* The name of a vegetable seed; a lettuce.
 کاکھی káhi, P. *adj.* Grass-colour; grass green; pale-green; relating to straw; *n. f.* greenness.
 کاکھے káhe, काहे, H. *pron.* What? which? why? کاکھے کو—ko, for what? why?
 کاکھی kái, H. *n. f.* Green scum on stagnant pools; the green mould that sticks to well and pavements; rust; mose.
 کایا káyá, काया, H. *n. f.* Body; appearance. کایا پالت—palát, *n. m.* the recovering of freshness and healthiness of appearance (after sickness); transmigration; entire change; کایا کشت—kashť, *n.* bodily pain.
 کایر káyar, कायर, H. *adj.* Cowardly; timid.
 کایاستھہ káyastha, *n. m.* A caste of Hindus who are usually clerks and accountants.

کاننات káenát, A. *n. f.* The world; universe; existing things; creatures; value; capital; property; possessions.
 کائییاں kaiyáñ, काइयाँ, H. *n. m.* Cunning; miser; a tribe of *Márvaris*.
 کب kub, कुब, H. *n. m.* A hump. کبا kubbá; *adj.* hump-backed.
 کب kab, कब, H. *adj.* When? at what time? کب تاک یا کب تک—talak yá kab tak, *adv.* how long? till when? کب سے—se, *adj.* since when? کب کب—kab, *adj.* when? how often? seldom. کب کا یا کب کے یا کب کی—ká, yá—ke, yá—kí *adj.* of what item? how long since? since when? long since. کب لڑ—lo, *adj.* how long? till when?
 کب kab, कब, H. (S. कवि) *n. m.* A poet.
 کباب kabáb, P. *n. m.* Roasted meat; a roast. کباب کرنا—karná, *v.* to roast; to burn. کباب ہونا—boná, *v.* to be roasted; to be enraged; to burn (with envy, or rage, or love). کباب چینے—chíní, *n. f.* cubebs; cassia buds.
 کبابہ kabáda, P. *n. m.* A bow for practising.
 کبابڑ kabár, कबाड़, H. *n. m.* A door; rubbish; broken furniture.
 کبابری kabárí, कबाड़ी, H. *n. m.* A dealer in old and broken furniture.
 کبابیت kabít, H. (S. कविता), *n. m.* A kind of Hindi verse; poetry.
 کبتا kabtá; कबता, (Col.) H. *n. f.* The art of making Hindi verses; a poem; poetry.
 کبجا kubjá, कुबजा, H. *adj.* Hump-backed; crooked.
 کبید kabid, A. *n. m.* Liver; heart.
 کببھی kubudhí, कुबुद्धि, H. *adj.* Stupid; wicked; mischievous. [haughtiness.
 کبر kibr, A. *n. m.* Grandeur; pride; greatness;
 کبرا kabra, कबरा, H. *adj.* Grey; variegated; spotted; speckled. [great; grandees etc.
 کبری kubrá, A. *n. m.* (Plu. of کبر Kibr). The
 کبری kubrá, A. *n. m.* (Log.) The major proposition of a syllogism.
 کبریا kibriyá, A. *n. m.* Grandeur; magnificence; pride; a name or an attribute of the Deity.

کبریت kibrit, *n. m.* Sulphur. کبریت احمر—*i-ahmar*; red sulphur, *i. e.*, the philosopher's stone.

کبڑا kubrá, कुबड़ा, *H. adj.* Hump-backed.

کبک kabk, *P. n. m.* The snow pheasant; a kind of partridge. کبک دری—*i-dari*, *n. m.* a beautiful partridge. کبک رقتار—*raftár*, *adj.* (graceful as) the *habk* in motion.

کبوتر kabútar, *P. n. m. and f.* A dove; a pigeon. کبوتر بازی—*bázi*, *n. f.* pigeon-flying; rearing of pigeons. کبوتر بچہ—*bachcha*, *n. m.* a young pigeon; an unripe poppy-head wrapped up in pease-meal and fried in butter or oil. کبوتر خانہ—*khána*, *n. m.* dove-cote; gigeon-house. کبوتری—*kabútarí*, *n. f.* a she-pigeon; a village nautch woman. [skin.

کبود kabúd, *P. n. m.* Azure; blue; azure sheep کبودی kabúdí, *P. adj.* Blue; azure; cerulean.

کبھڑ kubháó, कुभाव, *H. n. m.* Bad disposition; ill-temper.

کبھی kabhú, یا کبھوں یا کبھی kabhí, कभी, कभी, कभी, *H. adv.* Sometime or other; sometimes; rarely; seldom; ever. کبھی کا یا کبھی کی یا کبھی کے—*ká, yá—kí, yá—ke*, *adj.* of sometime; sometimes ago; long since. کبھی کبھی—*kabhí*, *adv.* occasionally; at times. کبھی نہ—*na—*, *adv.* sometimes or other; first or last. کبھی نہیں—*nahín*, *adv.* never.

کبیدہ kabida, *P. adj.* Removed; moved.

کبیر kabír, *A. adj.* Large; great; senior. *H. n. m.* The name of a Hindu reformer and eclectic philosopher, who flourished about the close of the 15th century; a kind of indecent song sung by the low class people at the time of Holi festival. کبیر پنٹھی panthí, a follower of *Kabir*. [mammon.

کبیر kubér, कुवेर, *S. n. m.* The god of riches;

کبیسہ kabísa, *A. adj.* Intercalary, *n. m.* سال کبیسہ *sál-i—*, leap year.

کبیشہ kabíshar, कबीशर, *H. n. m.* An eminent poet; prince of poets; laureate.

کپا kuppá, कुपा, *H. n. m.* A bladder; a large leathern vessel with a narrow neck for hold-

ing *ghi* oil, etc. کپا ہونا—*honá*, *v.* to become very fat. کپامل—*mal*, *n. m.* a fat, corpulent person.

کپاٹر kupátr, कुपात्र, *R. adj.* Unworthy; undeserving; base. [panel; leaf (of a door.)

کپاٹ kapát, कपाट, *S. n. m.* A shutter; a door کپاری kapári, कपारी, *H. n. m.* A skull; a title of Shiva; a caste in Bengal. اردہ کپاری *ardh—*, hemicrania; an areca-nut having two kernels.

کپاس kapás, कपास, *H. n. f.* Undressed cotton; the cotton plant. [soft; greenish.

کپاسی kapási, कपासी, *H. adv.* Cottony; downy; کپال kapál, कपाल; *S. n. m.* Skull; head; destiny; forehead. کپال پھٹنا—*phútná*, *v.* to be unfortunate. کپال کرنا—*kriyá*, *n. f.* breaking the skull of a burnt Hindu corpse and then pouring melted *ghi* in it beating or cudgeling one's brains; thinking intensely. کپال کھلنا—*khulná* *v.* to have a favourable turn of fortune.

کپڑا kuputra, कुपुत्र, *S. n. m.* A degenerate son; an undutiful or unfilial son.

کپٹ kapat, कपट, *H. n. m.* Fraud; spite; dissimulation; *adj.* insincere. کپٹ ویشی یا کپٹ روپ *veshí yá—rúp dhári*, *n. m.* a hypocrite. کپٹ رکھنا—*rakhná*, *v.* to cherish ill will.

کپٹی kapṭí, कपटी, *H. adj.* False; adulterated; evil-minded

کپڑا kapar, कपड़, (Col.) *H. n. m.* (*Contr. of* कपड़ा) Cloth; clothing. کپڑے ہول یا کپڑے دھول—*phúl yá—dhúl*, *n. m.* crape; tissue. کپڑے کرنا—*chhán karná*, *v.* to strain; to sift thoroughly.

کپڑا kaprá, कपड़ा, *H. n. m.* Cloth; clothes; dress. کپڑا پہننا—*pahinná*, *v.* to put on clothes. کپڑے رنگنا *kapre rangná*, *v.* to dye cloth; to become a *fukír*. کپڑے روٹی کرنا *kaprauṭí karná*, *v.* to sift; to strain.

کپڑا kuparh, कुपढ़, *H. adj.* Illiterate; unread; untutored.

کپکپی kapkapi, कपकपी, *H. n. f.* Shivering; trembling. کپکپی چرھنا—*charhná*, *v.* to shiver with cold; to come on a fit of ague.

کاپلا kapilá, कपिला, H. n. f. A brown coloured cow.

کاپوت kapot, कपोत, H. n. m. A pigeon ; a dove ; the spotted necked pigeon.

کاپوت kapút, कपूत, H. n. m. A degenerate son ; a bad or wicked son.

کاپور kapúr, कपूर, H. n. m. Camphor ; name of a flower. کچری—kachri, v. the root of a fragrant grass.

کاپوری kapúri, कपूरी, H. n. m. A kind of betel leaf so called ; adj. as white or as fragrant as camphor.

کاپول kapol, कपोल, S. n. m. The cheek.

کاپی kapi, कपि, S. n. m. A monkey.

کاپی kuppi, कुपी, H. n. f. A vial ; leathern bottle.

کوتا kutá, कुत्ता, H. n. m. A dog ; a slave ; the spring of a gun-lock. कुता मरता—(yá kúkar) mutá, n. m. fungus. کتا خانہ—khána, n. m. a kennel for dogs. کتے کی موت مرنا kutte kí maut marná, to die the death of a dog ; to die a very disgraceful death. کتے کی ہڑک kutte kí harák, n. f. hydrophobia.

کیتا kitta कित्ता, H. adv. How many ; how much ?

کتاب kitáb, A. n. m. A book. کتاب آسمانی یا کتابی—i-ásmání yá—i-ilahí, n. m. the holy book ; holy writ ; scripture. کتاب رو—rú, adj. oval or long faced. کتاب فروش—farosh, a bookseller. کتاب والا—wálá, one who has a revealed book, i. e., a Jew ; Christian (ahl-i-kitáb) ; vendor or maker of books.

کتابت kitábat, A. n. f. Writing ; inscription.

کتابہ kitába, A. n. m. An inscription ; an epitaph.

کاتارا katárá, कतारा, H. n. m. A kind of sugar-cane ; tamarind.

کاتان katán, P. n. m. A kind of cloth, fine linen

کاتانا katáná, कताना, H. v. To get spun.

کاتی katái, कताई, H. n. f. Spinning. کاتی کرنا—karná, v. to spin.

کتاب kutub, A. n. (Plu. of کتاب Kitáb). Books. کتاب خانہ—khána, n. m. a library ; a book depot ; bookshelf. کتاب فروش—farosh, n. m. a bookseller.

کتابہ katba, A. n. m. Plu. Writings ; inscriptions.

کاتخددا katkhudá, P. n. m. A master ; a bridegroom ; a married man. [keeping.

کاتخددائی katkhudái, P. n. f. Marriage ; house-

کاترا katrá, कतरा, H. n. m. Parings ; clippings.

کاترانا katráná, कतराना, H. v. To cause to clip ; to leave the high road ; stealing away ; by-paths ; to go round about ; to edge ; to slink away. کاترا کر چالنا—kar chálná, v. to desert one's companion ; to cut the society of any one.

کاترائی katrái, कतराई, H. n. f. Price paid for cutting out ; adv. sideway.

کاتر بہد کتر katar-bhed, कतर भेद, H. n. Fraud ; deceit ; artifices ; wiles.

کاتر بیونت کتر katar biyont, कतर ब्योत, H. n. f. Cutting out (clothes) ; deductions ; purloining ; consultation ; anxiety ; thrift.

کاتران katran, कतरन, H. n. f. Cuttings ; parings.

کاتران kutran, कुतरन, H. n. f. What is cut with teeth.

کاترنا katarná, कतरना, H. v. To cut ; to clip ; to pare ; to prune. [with the teeth.

کاترنا kutarná, कुतरना, H. v. To gnaw ; to bite off

کاترنی katarní, कतरनी, H. n. f. Scissors.

کاترنا kataryán, कतरना, H. adj. Awry ; crooked.

کتف kitf, A. n. m. The shoulder blade.

کاتلا katlá, कतला, H. n. m. A slice. کاتلا کرنا یا بنانا—karná yá banáná, v. to cut into thin pieces ; to slice.

کاتمان kitmán, A. n. Concealment ; concealing.

کیتنا kitná, कितना, H. adj. How much ? how many ? some ; several. کیتنے ایک kitne ek, adj. some ; some few. کیتنےا ہی—hi, however ; how-

muchsoever.

کاتنا katná, कतना, H. v. To be spun. [valued.

کاتنا kutna, कुतना, H. v. To be estimated or

کاتھال kutáhal, कुतहल, H. n. m. Sport ; festivity.

کاتھا kathá, कथा, H. n. m. A vegetable extract ; terra japonica ; catechu (khair).

کاتھا kathá, कथा, H. n. f. A story ; sermon ; religious recital ; relation. کاتھا بارتا—bartá, n. m. religious discourse or discussion. کاتھا

بیتھانا biþháná, v. to entertain a person to recite a sacred book regularly.

کٲٲٲ *kathri*, कथरी, H. *n. f.* Bedding.
 کٲٲٲ *kathak*, कथक, H. *n. m.* A story-teller ;
 A kind of singer or bard.
 کٲٲٲ *kathan*, कथन, H. *n. m.* A saying.
 کٲٲٲ *kathná*, कथना, H. *v.* To tell ; to relate ; to
 make verses.
 کٲٲٲ *kuttí*, कुत्ती, H. *n. f.* A bitch ; an abuse for
 a woman. [tragacanth.
 کٲٲٲ *katíra*, कतीरा, H. *n. m.* A gum resembling
 کٲ *kaṭ*, कट, H. *n.* Cutting ; black colour.
 کٲ ریت—*reṭ*, *n. m.* A rasp. کٲ کال—*kál*, *adj.*
 by gone ages.
 کٲٲ *kaṭṭá*, कट्टा, H. *adj.* Robust ; strong ; deadly ;
 bigotted ; *n. m.* a large fat louse.
 کٲٲ *kaṭá*, कटा, H. *n. f.* Slaughter ; bloodshed.
 کٲٲ کٲٲ—*kaṭí*, *v.* general massacre. کٲٲ کٲٲ—
karná, *v.* to murder ; to slaughter. کٲٲ چھانی—
chhání, *n. f.* fight ; deadly enmity.
 کٲٲٲ *kaṭáshh*, कटछ, H. *n. m.* Ogling ; side-
 look.
 کٲٲٲ *kaṭár*, कटार, H. *n. m.* A dagger ; a pole cat ;
 a sword. کٲٲٲ مارنا—*márná*, *v.* to stab.
 کٲٲٲ *kaṭára*, कटारा, H. *n. m.* Globe thistle ; a
 large dagger ; a kind of sugarcane ; tamarind.
 کٲٲٲ *kaṭárí*, कटारी, H. *n. f.* A small dagger.
 کٲٲٲ *kaṭáksh*, कटक्ष, S. *n. f.* Ogling ; leer ;
 side look. [cut ; to cause to bite.
 کٲٲٲ *kaṭáná*, कटाना, H. *v.* To cut ; to cause to
 کٲٲٲ *kaṭái*, कटई, H. *n. f.* The reaping of the
 harvest ; the harvest ; the price paid for
 cutting the crop.
 کٲٲٲ *kaṭ bandhan*, कट बन्धन, H. *n. m.* A
 ring of wood to fasten the feet of elephants.
 کٲٲٲ *kaṭar*, कटर, H. *adj.* Cruel ; pitiless ; merci-
 less ; *n.* a cruel man ; a caitiff.
 کٲٲٲ *kaṭar*, कटर, H. *adj.* Addicted to biting (a
 horse) ; *n.* a biter.
 کٲٲٲ *katir*, कुटीर, H. *n. m.* A hut ; a cottage.
 کٲٲٲ *kaṭrá*, कटरा, H. *n. m.* A young male buffalo ;
 a market ; mart.
 کٲٲٲ *kaṭak*, कटक, H. *n. m.* A bracelet ; an
 army ; a legion.

کٲٲٲ *kaṭká*, कटका H. *n. m.* Seizing or striking
 with the beak. کٲٲٲ بھارنا—*bharná*, *v.* to strike
 with the beak ; to bite. [nibbling.
 کٲٲٲ *kuṭkuṭ*, कुटकुट, H. *n. m.* Scratching ;
 کٲٲٲٲ *kiṭkiṭáná*, कितकियाना, H. *v.* To grind one's
 teeth ; to make a sound like *kiṭ kiṭ* in driving
 a cart ; to be very uneasy. [bite.
 کٲٲٲٲ *kaṭkhaná*, कटखना, H. *adj.* Addicted to
 کٲٲٲ *kuṭil*, कुटिल, H. *adj.* Perverse ; bent ; sinful ;
 wicked ; ruthless.
 کٲٲٲٲ *kuṭilá*, कुटिलता, H. *n. m.* Perversity ;
 wickedness ; deceit ; dishonesty ; guile.
 کٲٲٲٲ *kuṭumb*, कुटुम्ब, H. *n. m.* Family ; kinsfolk ;
 household.
 کٲٲٲٲ *kuṭumbí*, कुटुम्बी, H. *adj.* Having a large
 family ; house holder.
 کٲٲٲٲ *katmullán*, कटमुल्ली, H. *n. m.* A hedge
 teacher ; a great bigot.
 کٲٲٲٲ *kaṭná*, कटना, H. *adj.* To be cut ; to be
 spent ; to be remitted or forgiven ; to be
 killed (in fight) ; to be deduced (from) ; to
 come to an end ; to melt (as snow, ice, &c.) ;
 to be abashed ; to be interrupted ; to be
 passed ; to be jealous.
 کٲٲٲٲ *kuṭná*, कुटना, H. *n. m.* Bawd ; a mischief-
 maker ; a go-between.
 کٲٲٲٲٲ *kuṭnápá*, H. *n. m.* Pimping ; cuckoldom.
 کٲٲٲٲٲ کٲٲٲٲ—*karná*, to pimp ; to seduce.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭní*, कटनी, H. *n. f.* Reaping-season ;
 harvest.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭwáná*, कटवाना, H. *v.* To cause to be
 cut, squandered or passed ; to cause to be
 bitten.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭwáhá*, कटवाहा, H. *n. m.* One who
 guides and raises the leathern bucket from
 the well.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭorá*, कटोरा, H. *n. m.* A cup or goblet
 of any metal ; brass bowl.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭordán*, कटोरदान, H. *n. m.* A brass
 or copper vessel with a lid. [gusset.
 کٲٲٲٲٲ *kaṭorí*, कटोरी, H. *n. f.* A small brass cup ;
 کٲٲٲٲٲ *kaṭh*, कठ, H. *n. m.* A wood ; labour. کٲٲٲٲٲ
 کٲٲٲٲٲ—*báp*, *n. m.* a step-father. کٲٲٲٲٲ

bandhan, *n. m.* wooden ring with which the feet of elephants are usually fastened. کتھا پتلی—putlī, a puppet; a young delicate girl. پھوڑا—phoṛá, *n. m.* woodpecker. کتھا کلاب—*n. m.* *Rosa chinensis*.

کتھا کاٹھہا, کٹھا, *H. n. m.* A land measure being the 20th part of a bighá of 1,600 sq. yards; a corn measure of five seers.

کتھا کٹھاری یا کٹھالی kutharī yá kuthálī, *S. n. m.* A small earthen dish; a crucible. کٹھا کٹھاری—karná, *v.* to melt; to beat; to burn.

کتھا کاٹھار, کٹھار, *H. n. m.* A wooden cage; the jack tree or fruit.

کتھا کاٹھرا, کٹھرا, *H. n. m.* A railing; a wooden cage; a block on which fodder is cut. کٹھرا کٹھرا, کٹھرا, *H. n. m.* A wooden trough; a tub; a plate; an enclosure; a young male buffalo. [or tub.

کتھا کٹھری, کٹھری, *H. n. f.* A small trough

کتھا کٹھکر یا کٹھگر کاٹھکار یا کٹھگر, *H. n. m.* A wooden frame usually over a well; a wooden-cage; a palisade.

کتھا کاٹھال, کٹھال, *H. n. m.* See کٹھار.

کتھا کٹھلا, کٹھلا, *H. n. m.* A small store-house for grain; a bin; a lime-kiln. کٹھلا—کٹھلا—charháná, *v.* to burn limestone; to feed a kiln.

کتھا کٹھین, کٹھین, *H. adj.* Difficult; hard; trouble some; critical. [trouble.

کتھا کٹھینتا, کٹھینتا, *H. n. f.* Difficulty;

کتھا کٹھوتی, کٹھوتی, *H. n. f.* A wooden platter; a tub.

کتھا کٹھور, کٹھور, *H. adj.* Cruel; relentless; hard. کٹھور—kát, *H. n. f.* cruelty; hardness.

کتھا کٹھاور, کٹھاور, *H. adj.* In a wrong place; misplaced.

کتھا کٹھییا, کٹھییا, *H. n. m.* An earthen platter; a trencher; a trap; *adj.* having a hard shell; solid.

کتھا کٹھیار, کٹھیار, *H. n. m.* A store-house. کٹھیار—i, *n. m.* a man in charge of a store-house; a store-keeper.

کتھی katī, کٹھی, *H. n. m.* The rein; the loins. کٹھی کٹھی—kehri, *adj.* having a waist as elegant as the tiger; slim-waisted.

کتھی کٹھی, کٹھی, *H. n. m.* A hut; hermitage.

کتھی کٹھی, کٹھی, *H. n. f.* Chopped fodder; pulverised paper; *papier mache*; pickles. کٹھی کٹھی—karná, to severe friendship; to cut into small pieces.

کتھی کاٹھییا, کٹھییا, *H. n. f.* A fishing-hook; an earthen milk-can; a young female buffalo; an ear ornament shaped like a hook.

کتھی کاٹھییا, کٹھییا, *H. n. m.* A butcher; a kind of grass; a prickly shrub.

کتھی کاٹھیلا, کٹھیلا, *H. adj.* Thorny; prickly; active; charming; *n.* a species of thistle (with dark green leaves). [impurity.

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *P. n. f.* Density; thickness;

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *A. n. f.* Abundance; excess; majority; plurality; usage. کٹھی سے یا کٹھی سے—se yá bakasrat, abundantly; plentifully.

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *i-rái*, majority of votes or opinions. کٹھی سے ہونا—se honá, to abound; to be found in abundance.

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *A. n. m.* A multitude; a crowd.

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *A. adj.* Many; much; abundant; copious. کٹھیلا—ul-azlá', *n. m.* multilateral figure; a polygon. کٹھیلا یا کٹھیلا—ul-aulád yá kasr-ul-'ayál, *n.* a person having a large family. کٹھیلا—ul-ma'ni, having many meanings.

کتھی کٹھیلا, کٹھیلا, *A. adj.* Dense; impure; opaque; unclean. کٹھیلا—ul-mizáj, *n. m.* dirty fellow; a peevish person.

کج kaj, *P. adj.* Crooked; curved; awry; cross.

کج ادائیگی—adái, *n. f.* perversity; crossness in manners کج باز—báz, *adj.* playing unfairly; fraudulent. کج بحث—bahs, *n.* absurd reasoning; irregular debate.

کج چشم—chashm, *adj.* squint-eyed. کج خلق—khalq, *adj.* ill-tempered; rude.

کج رائے—rae, *adj.* wrong-headed. کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled.

کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled. کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled.

کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled. کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled.

کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled. کج کج—kaj, *adj.* walking obliquely; perverse; unprincipled.

awry-capped; a fop; a beau. کج نکالنا — nikálná, *v.* to remove a curvature; to make right. کج نظر — nazar, *adj.* envious; malignant. کج نهاد — nihád, ill-natured.

کجا kujá, *P. adv.* Whither? where?

کجات kuját, کجالت, *H. adj.* Of low caste; base; outcaste. [litter.

کجارو kajáva, *P. n. m.* A camel's saddle or

کجری kajrí کجری, *H. n. f.* A kind of song in rainy season which originated in Mirzapur.

کجک kajak, *P. n. m.* The iron hook used in driving elephants; an elephant-goat (*ankus*).

کجلانا kajlána, کجلاانا, *H. v.* To smoulder; to become mildewed.

کجلانٹی kajlanṭi, کجلانڈی, *H. n. f.* A pot for keeping کجل کجل; snuffers used to prepare lampblack.

کجلی بن kajlí ban, کجلی, بن, *H. n.* A forest frequented by elephants.

کجی kají, *P. n. f.* Crookedness; curvature.

کج kach, کچ, *H. adj.* (*Contr. of Kachchá*). Raw.

کچے — bach, kachche bachche, children.

کچا kachohá, کچا, *H. adj.* Raw; immature; uncooked; unbaked; built of unbaked earth; clay-built; brittle; not permanent; unexperienced; impure; false; below a fixed standard; not genuine; uncertain. کچا بچا —

bachchá, *n. m.* infants. کچا اڑپچ یا کچی آمدنی — upaj, yá kachchí ámadaní yá

kachchí nikási, *n. m.* gross income; gross proceeds. کچا پکا —

pakká, *adj.* half-cooked; partly of bricks and partly of mud; mortar; bad. کچا پیسہ — paisá, *n. m.* a rough circular piece of copper used for pice. کچہ تخمینہ —

takhmína, *n. m.* a rough estimate. کچا جی یا — ji yá dil, *adj.* girlish; sensitive; easily yielding to the passions.

کچا سر — ser, *n. m.* a *ser* below the standard of *pakka ser*. کچا چٹھا —

chitṭhá, *n. m.* rough accounts; the dark side; evil designs. کچھی کچھی اینٹ — kachchí ínt, *n.* unbaked bricks. کچھی چاندی — kachchí ohándí, *n. f.* alloyed silver. کچھی سڑک — kachchí sarák, an unmetalled road. کچھی سلائی —

kachchí siláí, *n. f.* basting clothes. کچھی عمر — kachchí 'umr, *n. f.* minority; immature age. کچھی کالی — kachchí kalí, *n. f.* a new bud; a budding young girl. کچھی ناپ — kachchí náp, *n. f.* measurement by a yard below the standard; rough measurement. [conduct.

کچھال kuchál, کچھال, *H. n. f.* Misbehaviour; ill-conduct. کچھالو — kachálú, کچھالو, *H. n. m.* An excellent root; boiled potatoes with marmalade.

کچھالی kachálí *n. f.* Rawness; indigestion; inexperience. [thick; close.

کچھو kachpach, کچپچ, *H. n. f.* Crowd; *adj.*

کچھو kichpich, کچپپچ, *H. n. f.* Mud; mire; squash. [Pleiades.

کچھویا kachpachiyá, کچپچیا, *H. n. m.* The

کچھرا kachará, کچرا, *H. n. m.* The raw muskmelon; a pod; clay; a pot-belly.

کچر کچر kachar-kachar, کچر کچر, *H. n. f.* The sound made in chewing raw food; noise.

کچھرانا kichchána, کچھانا, *H. v.* To have a gummy substance running at the eyes; to be bleary-eyed. [wound].

کچک kachak, کچک, *H. n. f.* Pain (of a sprain or

کچکانا kachkána, کچکانا, *H. v.* To sprain; to pain.

کچ کچ یا کچ کچ kach kaoh yá kich kich, کچ کچ یا کچ کچ, *H. n. f.* Noise; altercation; chitchat.

کچ کرنا — karná, *v.* to chatter; to debate loudly. کچکچیا — iyá, *n. m.* a chatter-box.

کچکچھانا kichkichána, کچکچھانا, *H. v.* To grind the teeth; to chatter. [pain.

کچھکنا kachakná, کچھکنا, *H. v.* To sprain; to kachkol, *P. n. f.* A beggar's bowl; a wallet; a miscellany; an album. [plantain.

کچھکلا kachkelá, کچھکلا, *H. n. m.* A kind of کچھل — kuchlá, کچھلا, *H. n. m.* A vomit nut; strychnia.

کچھلنا kuchálná, کچھلنا, *H. v. t.* To bruise; to crush; to beat soundly.

کچھلی kuchlí, *n. f.* The canine teeth.

کچھار یا کچھال kachnár yá kachnál, *H. n. f.* A tree, the buds of which are a delicate-vegetable.

کچھو kachchú, कच्चू, H. n. m. Name of a plant ; yam.

کچھوانسی kachvánsí, कचवांसी, H. n. f. A minute division of land measure, $\frac{1}{20}$ of a *biswansi*.

کچھور kachúr, कचूर, H. n. m. Name of a drug

کچھوری kachaurí, कचौरी, H. n. f. A cake made of flour and bruised pulse fried in ghee or oil.
 گال سے کچھوری—se gal, plump cheeks.

کچھومر kachúmar, कचूमर, H. n. m. A fruit ; pickle.
 کڑا لٹا کچھومر—kar dálná, v. to cut to pieces ; to beat black and blue.

کچھو kachh, कच्छ, H. n. m. A tortoise ; a turtle ; an incarnation of Vishnu.

کچھو kuchh, कुछ, H. adj. Any ; some ; a little ; whatever ; something ; anything.
 کچھو اور—aur, somewhat more ; something different.

کچھو اور گانا—aur gáná, v. to give a false explanation ; to tell a different story.

کچھو ایک—ek, some few ; some little.
 کچھو بات یہ نہیں ہے yih—bát nahín hai, it is nothing ; it is a matter of no consequence ; this is no reason at all ; this will not do or answer.

کچھو تو—to, a little ; ever so little.
 کچھو گونا گونا سے کچھو ہونا—ká—honá, yá—se—honá, v. to be entirely changed ; to become quite different.

کچھو کچھو—kuchh, adv. nearly.
 کچھو کر دینا—kar dená, v. to change into something else ; to charm ; to enchant.

کچھو نہ پوچھو—na púchho, it goes without saying.
 کچھو نا کچھو—ná—, some at least ; something or other.

کچھو نہیں—nahín, nothing ; none.
 کچھو ہو—ho, come what may.

کچھو kachhár, कछार, H. n. m. Moist, low land by a river ; alluvial land.

کچھو kachhárná, कछारना, H. v. To rinse ; to wash.

کچھو kachchhap, कच्छप, S. n. m. A tortoise ; a turtle.

کچھو kachahrí, कचहरी, H. n. f. A court of justice ; court ; office ; cutchery.
 کچھو برخاست—barkhást, the rising of a court.
 کچھو کرنا—barkhást karná, to close or adjourn a court.
 کچھو چڑھانا—charcháná, v. to

go into court ; to bring an action against a person.
 کچھو کرنا—karná, v. to hear cases in court ; to hold a court.

کچھو kachhwá or kachhua, कछवा, कछुआ, H. n. m. A tortoise ; a turtle ; one side of a yoke

کچھو kuchiyá, कुचिया, H. n. m. The lobe of the ear.
 [a sickle.

کچھو kachiyá, कचिया, H. n. m. A reaping-hook ;

کچھو kachiyáná, कचियाना, H. v. To shrink ; to be frightened.

کچھو kachiyáhat, कचियाहट, H. n. f. Timidity ; shrinking ; dislike ; abhorrence.

کچھو kuchailá, कुचैला, H. adj. Dirty ; ill-clothed.

کچھو kahl, A. n. m. Antimony ; collyrium.
 کچھو الجواہر—ul-jawáhir, n. m. collyrium prepared with pearls.

کد kad, P. n. m. A den ; a house.

کد kadd yá kad, A. n. f. Search ; trouble ; labour ; persistence.
 کد کرنا—karná, v. to persist ; to urge.

کد کد kadáhit, कदाचित, } S. adv. Sometimes ;
 کد کد kadápi, कदापि, } per chance.

کد kudár, कुदार, H. n. m. A kind of pickaxe.

کد kudál, कुदाल, H. n. m. A pickaxe ; a hoe ; a spade.

کد kudáli, कुदाली, H. n. f. A mattock ; a dibble ; a hoe.

کد kudám, P. pron. Who ? what ?

کد kudáná, कुदाना, H. v. To cause to leap ; to dandle ; (Met.) to provoke.
 [house.

کد kudbánú, P. n. f. The mistress of a

کد kadkhudá, P. n. m. The master or father of a family ; a bridegroom ; a married person.

کد kadkhudái, P. n. f. Marriage ; establishing a family.

کد kadar, A. n. Turbidity ; muddiness ; trouble.

کد kudrisht, कुदृष्ट, H. n. f. A bad look ; weak sight ; ill-intended look.
 [to leap.

کد kudakná, कुदकना, H. v. To frisk ; to gambol ;

کد kadlí, कदली, H. n. m. The plantain or banana tree ; the leaf of the plantain.

کدم kadam, कदम, } H. n. m. The name of
کدنب kadamb, कदम्ब, } a tree; *nauclea cadamba*.

کدر kadú yá ka'dú, कद्दू या कदू, P. n. m. A
pumpkin; a bottle; a gourd. کدر دانہ—dáná,
a kind of disease; intestinal worms. کدر کش—
kash, n. m. an implement for cutting up a
pumpkin into thin shreds.

کدوانا kudváná, कुदवाना, H. v. To cause to jump.

کدورت kudúrat, n. f. Turbidity; impurity;
depression of spirits; resentment; dust;
affliction; scum. دل میں کدورت رکھنا dil meḡ
—rakhná, to harbour resentment; to bear
malice.

کدھر kidhar, किधर, H. adv. Whither? where?
کدھر سے—se کدھی kadhí, कधी, (Col.) H. adv.
See کدھی

کدیم kadimá, कदीमा, H. n. m. A pumpkin; a
crow-bar.

کدیرور kadevar, P. n. m. A gardener; a horticulturist.
[pot in which milk is boiled.]

کدھالی kadháolí, कढावली, H. n. f. An earthen
کدھب kudhab, कुदब, H. adj. Ill-shaped; rude;
enormous; strangle; difficult; dangerous;
shocking; violent; reckless; cruel.

کدھنگ kudhang, कुदंग, H. n. m. Ill-conduct;
misbehaviour; rudeness.

کدھنگا kudhangá, कुदंगा, H. n. m. Rude; ill-bred.

کذب kazzáb, A. n. m. A liar.

کذاب kizb, A. n. f. A lie.

کر kar, कर, H. n. m. The hand; tax; fee;
tribute; revenue. کر اگھنا—ugáhná, to collect
taxes. کر لگانا—lagáná, v. to impose a tax.
کر جوڑنا—joíná, v. to join one's hands; to beg.

کر kar, P. adj. Deaf; n. m. Purpose; power;
felicity. کر و کر—o far, splendour; magnifi-
cence; pomp and pride.

کرات karrát, A. n. f. (Plu. of کررات Karrat).
Ties, &c. کرات مرات—marrát, many times and
oft; repeatedly.

کراہا karárá, करारा, H. adj. Hard; strong; stiff;
well-baked; dear; good; fresh; crisp; unflinch-
ing; resolute. [and strong.]

کراہی karárá, करारी, H. n. f. That which is firm

کراکُل karákul, करकुल, H. n. The name of a
bird; heron; curlew.

کراں karál, कराल, S. adj. Having projecting
teeth; formidable; terrible; hateful; dis-
gusting.

کرام kirám, یا karám, A. adj. (Plu. of کریم
Karim) Nobles; generous; eminent; great;
dignified.

کرامت karámat, P. n. f. (Plu. of کرامات Karámat).
Generosity; nobleness; dignity; supernatural
power; miracle. [coast; margin.]

کراں karán, P. n. m. A shore; boundary; side;

کراہا karráná, कराना, H. v. To be stiff; to become
hard.

کراہا karáná, कराना, H. v. To cause to be done;
to effect; to make; to assist.

کراہا kiráná, किराना, H. n. m. Grocery; spices;
v. to sift; to separate by turning round in a
winnowing pan.

کراہت karánt, करान्त, H. n. m. A saw.

کراہتی karántí, करान्ती, H. n. m. A sawyer.

کراہچی kirághí, करान्ची, H. n. f. A wooden cart;
a carriage drawn by camels or horses.

کراہو karáo, करार, H. n. m. The marriage of a
widow with the deceased husband's younger
brother (among low caste Hindus); con-
cubinage.

کراہنا karáhná, करारना, H. v. To grieve; to sigh
and groan; to sigh; to mourn; to repine.

کراہی karáhí, करारी, H. n. f. A flat vessel of
iron or brass in which food is boiled; a
frying-pan; a tray.

کراہیہ karáhiyat, A. n. f. Disgust; detestation;
abomination; disagreeableness. کراہیہ سے دیکھنا
—se dekhná, v. to look down upon; to scorn.

کراہیہ karáyal, करायल, H. n. m. Resin; *nigella
indica*.

کرایہ kiráya, P. n. m. Fare; rent; hire. کرایہ

اگھانا—ugháná, v. to realize rents, &c. کرایہ

چالنا—deni yá—chaláná, v. to let; to lease. دار

کرایہ—dár, v. a hirer; a tenant. کرایہ لینا

—leni, v. to hire; to rent; to realize the fare. کرایے کا قتر—ká țarțú, v. a

man employed to do any service on payment of a fee; a term of contempt. کرایہ نامہ—*nāma*, *n. m.* a lease; a deed of rent.

کربت *kurbat*, *P. n. f.* Affliction; mental anguish; distress.

کربلا *karbalá*, *A. n. m.* A place in Iráq where Husain, son of Alí, was killed and buried; a Mohammadan cemetery; the burial place of *táziya*: (*Met.*) a place where anything (esp. water) is scarce. [*bájrá* used as fodder.

کربی *karbí*, *H. n. m.* The straw of *joár* or *kripá*, *क्रपा*, *H. n. f.* Grace; kindness; affection; bounty; pity. کرپا رکھنا—*rakhná*, *v.* to be kind to a person; to keep aloof. کرپا سنڈھہ—*indhu yá—nidhán*, *n.* ocean of grace or mercy; God; abode of mercy. کرپا ہین—*hin*, *cr*uel; hard-hearted.

کریپال *kirpál*, *क्रपाल*, *H. adj.* Kind; benevolent; compassionate.

کریپان *kripán*, *क्रपाण*, *A* sword; scimitar.

کریپن *kirpan*, *क्रपण*, *H. adj.* Avaricious; misery; *n. m.* a niggare; a miser.

کرتا *kurtá*, *P. n. m.* A shirt; a tunic.

کرتا *kartá*, *कर्ता*, *S. n. m.* A doer; a maker; Creator; subject or nominative; a husband; a master. کرتا دھرتا—*dhartá*, *n.* the active or managing member of a family.

کرتار *kartár*, *कर्तार*, *H. n. m.* The Creator; God.

کرتب *kartab*, (*कर्तव्य*), *S. n. m.* Deed; duty; action; exploit; skill; jugglery; experiment.

کرتوت *kartút*, *कर्तूत*, *H. n. f.* Action; deed; tricks. [jacket.

کرتی *kurtí*, *P. n. f.* A bodice; a soldier's *kartí*, *कर्ती*, *H. n. f.* A stuffed dead calf placed near a cow to make her give milk.

کرتیا *kirtiya*, *किरतिवा*, *H. n. m.* A dancer; a singing body.

کریچ *kirich*, *किरिच*, *H. n. f.* A splinter; a sword.

کریچ *kirach*, *किरच*, *H. n. m.* A bit; a grain; a piece. کرچے کرچے کرچے *kirche kirche karná*, *v.* to pound to small pieces; to powder.—[plant.

کریچر *karchúr*, *कचूर*, *S. n. m.* The name of a

کریچر *karchúrak*, *कचूरक*, *S. n. m.* Zedoary;

کریچہ *karchhá*, *कड़ा*, *H. n. m.* A large spoon; a ladle.

کریچہ *karchhál*, *करखाल*, *H. n. f.* A spring; a jump. [sword.

کریچہ *karchhul*, *करखुल*, *H. n. f.* A spoon; a

کریچہ *karchhani*, *करखनी*, *H. n. f.* An iron skimmer. [a skein.

کریچہ *karchí*, *करची*, *H. n. m.* A spoon; a ladle;

کریخت *karakht*, *P. adj.* Rigid; hard; solid; dry. کریختگی *karakhtgi*, *P. n. f.* Austerity; hardness; dryness.

کریدا *kardá*, *कर्दा*, *H. n. m.* Exchange; barter; allowance; balance of value to make up a deficiency in coin, or the difference between the price of new articles and old given in exchange. [conduct.

کریدار *kirdár*, *P. n. m.* Action; labour; art;

کریدار *kirdgár*, *P. n. m.* God; the Creator. کریدنی *kardani*, *P. adj.* Fit to do; practicable.

کریدا *karda*, *P. pp.* Done; made; *n. act*; deed. کریدھاری *kardhamri*, *करधमरी*, *H. n. m.* A zone;

کریدھاری *kardhani*, *करधनी*, } a girdle; a cordon.

کریس *kuras*, *कुरस*, *H. n. m.* Bad taste; unpleasant flavour; bad juice; *adj.* distasteful. [sugar.

کریست *kursat*, *कुस्त*, *H. n. m.* A kind of course

کریسٹ *kursnf*, *A. n. m.* Cotton, &c., put into an ink-pot.

کریسی *kursí*, *A. n. f.* A chair; a stool; a throne; the base of a pillar; the eighth or the ninth heaven, being the throne of God; foundation; genealogy; a village near Lucknow proverbial for the stupidity of its inhabitants. کریسی

کریسی *dená*, *v.* to give elevation to; to offer one a chair; to show respect or regard for; to make (one) the president of a meeting.

کریسی *nāma*; a genealogical tree. کریسی *nashin*, *ادشین*, *adj.* first established in office; enthroned, *n. m.* one entitled to the honour of a chair in a Darbár. [as fuel.

کریسی *karsi*, *कर्सी*, *H. n. f.* Dried cowdung used

کریشما *krishma*, *P. n. m.* Blandishment; a glance; a miracle; a charm; a wonder; a phenomenon. کریشمانا *dikháná*, *v.* to work wonders.

کریشن *krishn*, *कृष्ण*, *S. adj.* Black; blueblack; playful; *n. m.* an incarnation of Vishnú, the

- Appolo of the Hindus. کرشنپان — *ár-pan*, *n.* offering a gift in propitiation of Krishna; a grant of land to a priest or temple of Krishna. کرشن پکشا — *paksha*, *n. m.* the dark half of a month; the fortnight during which the moon is on the wane. کرشن چرن — *charan*, *n. m.* the feet of Krishna; name of a plant.
- کارافس *karafs*, *A. n. f.* Parsley.
- کاراک *karak*, करक, *H. n. m.* Pain; ache; rankling.
- کاراکنا *karakná*, करकना, *H. v.* To pain; to rankle; to sprain; to powder.
- کارکٹ *karkat*, करकट, *H. n. f.* Sweeping; rubbish.
- کیرکیٹ *kirkít*, *n. m.* (*Corr. of the English.*) Cricket.
- کیرکیٹی *kirkítí*, किरकिटी, *H. n. f.* A particle of dust fallen into the eye; cricketeer.
- کیرکورا *kurkurá*, कुरकुरा, *H. adj.* Brittle; crispy.
- کیرکیرا *kirkirá*, किरकिरा, *H. adj.* Gritty; sandy; spoilt.
- کیرکیرانا *kirkirána*, किरकिराना, *H. v.* To sound gritty; to grate.
- کیرکناث *kark-náth*, कर्कनाथ, *H. n. m.* Name of a fowl of which even the bones are black.
- کیرکی *kirkí*, किरकी, *H. n. f.* A pendant to a nose-ring.
- کیرگ *karg*, *P. n. m.* A rhinoceros.
- کیرگس *kargas*, *P. n. m.* A vulture.
- کیرگا *karga*, *P. n. m.* A weaver's shop; loom; the hole in the ground in which a weaver's feet work.
- کیرم *karam*, *A. n. m.* Favour; grace; bounty; graciousness; generosity; excellence.
- کیرم *kirm*, *P. n. m.* A worm. کیرم پیلا — *píla*, *n. m.* the silk worm. کیرم خوردہ — *khurdah*, *adj.* worm-eaten; worn out. کیرم شب تاب — *i-shab táb*, *n. m.* a glow-worm; fire-fly.
- کیرم *karm*, कर्म, *S. n. m.* Work; act; duty; fate; religious acts or duties; use; devotion; (*in Gram.*) the accusative case. کیرم بھوگ — *bhog*, *n. m.* fulfilling of destiny; suffering; pleasure or pain according to one's past deeds. کیرم پھور — *phor*, unfortunate; unlucky. کیرم پھرتنا — *phútná*, *v.* to have bad luck; to suffer loss.
- کیرم کو روٹنا یا کیرم کو رونا — *thokná yá karm ko roná*, *v.* to mourn over one's misfortune; to repent. کیرم ریکھ — *rekh*, *n. f.* the lines of fate.
- کیرم ہین — *hín*, *adj.* unlucky; wretched.
- کیرمچاری *karmchári*, कर्मचारी, *S. n. m.* An accountant of a certain division of a village; one who discharges his duties properly.
- کیرمک *kirmak*, *P. n. m.* The fire-fly; vermicule.
- کیرمکارک *karmkarak*, कर्मकारक, *S. n. m.* (*in Gram.*) Accusative case.
- کیرم کالا *karam kallá*, *P. n. m.* A cabbage.
- کیرن *kiran*, किरण, *H. n. f.* A ray; sunbeam; moonbeam; gold or silver tassels.
- کیرن *karn yá karan*, कर्ण या करण, *S. n. m.* The ear; the base of a triangle; (*in Gram.*) the instrumental case; the helm; a spondee.
- کیرن پھول — *phúl*, *n. m.* a kind of ear-ring.
- کیرن مول — *múl*, *v.* a parotis or swelling near the ear. [citron.
- کیرنا *karná*, करना, *H. n. m.* Name of a kind of
- کیرنا *karuná*, करुणा, *S. n. f.* Tenderness; compassion; mercy; kindness.
- کیرنا *karná*, करना, *H. v.* To do; to perform; to make; to execute; to effect; to act; to set; to use; to finish; to cast a spell; to marry; to wed; to slaughter (a goat, &c.).
- کیرنا *kirná*, किरना, *H. v.* To wear out; to be abashed; to become notched.
- کیرنجا *karanjva*, करंजवा, *H. n.* A plant; a brown colour; a mixture of *bájrá*, *judr* and *moih*.
- کیرنگ *kurang*, कुरंग, *S. n. m.* A deer. [trowel.
- کیرنی *karní*, करनी, *H. n. f.* Deeds; actions; a
- کیروا *karvá*, करवा, *H. n. m.* An earthen pitcher with spout; a pipkin. کیروا چرتھہ — *chauth*, *n. f.* a Hindu festival in the month of *Kártik* observed by married women only.
- کیروارا *karwára*, करवारा, *H. n. m.* A paddle; rudder; the bucket to a *dhanlí*.
- کیروانا *karváná*, करवाना, *H. v.* To cause to do.
- کیروپ *kurúp*, कुरूप, *H. adj.* Ill-formed; ugly.
- کیروات *karvat*, करवट, *H. n. f.* Sideways; side. کیروات
- کیروات *lená yá badalná*, *v.* to turn (*in bed*); to feel uneasy; to adopt a new course.

ڪردار krodh, क्रोध, H. *n. m.* Anger ; wrath.
 ڪردار krodhí, क्रोधो, H. *adj.* Angry; passionate.
 ڪردار karúr, क्रूर, H. *adj.* Cruel ; relentless.
 ڪردار karor, करोड़, H. *n.* Ten millions ڪردار پتي
 ڪردارí, करोڑی, H. *n. m.* a millionaire ;
 a very rich person.
 ڪردار karorá, करोड़ा, (Col.) H. *n. m.* A tax-
 gatherer ; an overseer.
 ڪردار karondá, करोड़ा, H. *n. m.* The corinda ; a
 sour fruit.
 ڪردار kuraví, A. *adj.* Spherical ; globular.
 ڪردار kurah, A. *n. m.* A globe ; a sphere ; an orb ;
 a spheroid ; the region. ڪردار ارض—i-arz, the
 terrestrial globe. ڪردار باد—i-bád, the atmos-
 phere. ڪردار چشم—i-chashm, the ball of the
 eye. ڪردار ظلي—i-falakí, the celestial globe.
 ڪردار نار—i-nár, the region of fire ; the empyrean.
 ڪردار karhá, करहा, H. *n. m.* A camel ; the loins.
 ڪردار kurri, कुरी, H. *n. f.* Gristle.
 ڪردار kriyá, क्रिया, H. *n. f.* Deed ; obsequies ; an
 oath ; (in Gram.) the verb. ڪردار ڪرم—karm, *n.*
 performance of funeral ceremonies ; obsequies ;
 religious duties. ڪردار ڪهانا—khána, *v.* to swear.
 ڪردار kuryál, कुरयाल, H. *n. f.* The state of a
 bird sitting at ease and secure, and trimming
 its wings with its beak ; ease ; security ;
 hope. ڪردار ڪهانا ڪهانا—men gulelá lagná,
v. to fall into misfortune, when sure of
 success.
 ڪردار karait, करैत, H. *n. m.* A very poisonous
 black snake. [custom.
 ڪردار kurít, कुरीत, H. *n. f.* Misbehaviour ; a bad
 ڪردار kirít, किरिट, S. *n. f.* A crown ; a diadem.
 ڪردار kuredná, कुरेदना, H. *v.* To scratch ; to
 scrape.
 ڪردار kriřá, क्रिड़ा, H. *n. f.* Sport ; play ; amuse-
 ment ; pastime. ڪردار ڪرنا—karná, *v.* to play ;
 to gambol. [karná, *v.* to moult.
 ڪردار kuríz, P. *n.* Moulting (of birds). ڪردار ڪرنا—
 ڪردار karíl, करील, H. *n. m.* A kind of thorny
 shrub. [vegetable.
 ڪردار karelá, करेला, H. *n. m.* A kind of bitter

ڪردار karím, A. *adj.* Gracious ; merciful ; liberal ;
 generous ; an epithet of God ; the merciful
 Being.
 ڪردار karíth, A. *adj.* Disgustful ; filthy ; abomin-
 able. ڪردار ڪردار ڪردار—ush-shakl yá—
 ul-manzar, *adj.* ill-shaped ; ugly ; odious.
 ڪردار kará, *n. m.* A bracelet ; a ring ; an anklet ;
adj. hard ; stiff ; strong ; unbending ; harsh ;
 dear ; scarce ; cruel ; sharp ; sly ; rude.
 ڪردار karará, कड़ाड़ा, H. *n. m.* The perpendicular
 bank of a river ; brink ; a precipice ; declivity.
 ڪردار karaká, कड़ाका, H. *n. m.* A crash ; a rigid
 fast. ڪردار ڪردار—guzarná, to pass days in
 extreme poverty ; to go without food ; to
 starve. ڪردار ڪردار—křáke ká jára, *n. m.*
 severe cold.
 ڪردار karakar, कड़ाकड़, H. *n. m.* Crackling ; suc-
 cessive crashes. [a cauldron.
 ڪردار karáh, कड़ाह, H. *n. m.* A large iron boiler ;
 ڪردار karáhí, कड़ाही, H. *n. f.* A frying-pan.
 ڪردار ڪردار—chářná, *v.* to lick up the pot
 (applied as a reproach to a bridegroom if it
 rains on his wedding procession), ڪردار ڪردار
 —chařná, *v.* to be placed on the fire (a fry-
 ing-pan) ; to be made preparations for a feast.
 ڪردار ڪردار—karná, *v.* to cook anything as an
 offering for a god or goddess. ڪردار ڪردار
 ڪردار ڪردار—lená yá—men háth
 dářná ; *v.* a species of ordeal in which the ac-
 cused is required to take a ring out of a
 cauldron of boiling oil, if he can do this
 without being scalded, he is held innocent.
 ڪردار karak, कड़क, H. *n. m.* A crash ; thunder ;
 agility ; clap. ڪردار ڪردار—bijl, *n. f.* a match-
 lock ; a machine emitting a series of electric
 shocks.
 ڪردار kuruk, कुड़क, H. *n. f.* A coil ; clucking ; a
 clucking hen ; blank. ڪردار ڪردار—bolná, *v.* to
 draw a blank.
 ڪردار karakarána, कड़कड़ाना H. *v.* To give such a
 sound as oil or butter when boiling ; to gnash
 the teeth from rage.
 ڪردار kurkurána, कुड़कुड़ाना H. *v.* To cluck ; to
 grumble ; to tar ; to grudge.

کُرکنا *kurakná*, कुडकना, H. *v.* To crash; to munch.
 کُرکنا *karakná*, कडकना, H. *v.* To crackle; to thunder; to be beaten loudly; to roar.

کُرکھایت *karkhait*, कडखैत, H. *n. m.* A herald; an *aid-de-camp*; a bard.

کُرِوا *karvá*, कडवा, H. *adj.* Bitter; virulent; harsh; brackish; sharp; hot (temper); myrrh.

کُرِوا بول *bol*, *n. m.* harsh words; abuse. کُرِوا تیل *tel*, *n. m.* bitter oil; mustard-seed oil.

کُرِوا ہونا *honá*, *v.* to be enraged; to be harsh.

کُرِوے کسے دن *karve kasele din*; hard and cruel times. کُرِوا لگنا *lagná*, to taste bitter or acrid or pungent; to be displeasing.

کُرِواہٹ *karwáhat*, कडवाहट, H. *n. f.* Bitterness; acrid taste.

کُرِوے *karov*, कडोद, (Col.) H. *adj.* Ten millions.

کُرِہانا *kuháná*, कुदाना, H. *v.* To vex; to displease; to trouble. [envy.

کُرِہان *kuáhan*, कुदन, H. *n. f.* Grief; mortification;

کُرِہنا *kuhna*, कुदना, H. *v.* To grieve; to be afflicted; to envy; to pine; to pity; to sympathise.

کُرِہنا *karhá*, कडना, H. *v.* To issue; to escape; to appear; to be pulled out; to be drawn or painted; to spring; to be solved.

کُرِہنا ہوا *huá*, *adj.* extracted; painted; fresh drawn; embroidered.

کُرِہی *karhá*, कढ़ी, H. *n. f.* A dish made by boiling the meal of gram with spices in sour milk; curry.

کُرِہی *kurhá*, कुढ़ी, H. *n. f.* A stove; a hearth-tax; a dunghill; a lass (in Panjáb).

کُرِہی *karhá*, कढ़ी, H. *n. m.* A rafter; a beam; a link; a handcuff; hardship; a verse.

کُرِہیل *karháyal*, कड़ियल, P. *adj.* Bony; strong; muscular.

کُرِہ *kazh*, P. *adj.* Crooked; bend; curved.

کُرِہ دم *kazhdum*, P. *n. m.* A scorpion.

کُرِہ *kas*, कस, H. *n. m.* Essence; extract; decoction of a colouring substance; strength; labour; tenacity; assay; proof.

کُرِہ *kas*, P. *n. m.* A man; person; any one. کُرِہ ناکس *o-nákas*, *n.* everybody; noble and

plebeian; gentle and simple. کُرِہ بیس *be*—, *adj.* helpless. کُرِہ فی *fi*—, per head; each person.

کُرِہ *kis*, किस, H. *pron. interrog.* What; which? whom? who? کُرِہ پر *par*, whereon? on whom? کُرِہ سے *se*, whereby? from whom?

کُرِہ کس سے *tarah*, how? کس قدر *qadar*, how much? how many? کس کا *ká*, whose? کس کس *kis kis*, Which? کس لئے *liye*, why? wherefore? کس نے *ne*, who?

کُرِہ *kasá*, कसा, H. *adj.* Tight; compressed; closely packed; straight; less than; less.

کُرِہ کسایا *kasáyá*, ready tied; ready packed.

کُرِہ *kasár*, कसार, H. *n. m.* Sweetmeat made of wheatmeal, butter and sugar.

کُرِہ کسافت *kasáfat*, A. *n. m.* Sediment; obscuration; an eclipse (specially solar).

کُرِہ کسالا *kasalá*, कसाला, H. *n. m.* Labour; effort; difficulty; suffering; disease; heaviness; grief; trouble; affliction. [farmer.

کُرِہ کسان *kisán*, किसान, H. *n. m.* A husband man; a

کُرِہ کسانا *kasáná*, कसाना, H. *v.* To cause to try; to prove; to cause to tighten; to be spoilt (as an acid or sour thing by being in a brass cup).

کُرِہ کسارت *kasáwat*, कसावट, H. *n. f.* Tightening; an astringent.

کُرِہ کسب *kasab*, A. *n. m.* Profession; employment; acquisition by labour; earning skill; gain.

کُرِہ کسب کرنا *karná*, *v.* to acquire; to gain; to earn.

کُرِہ کسبت *kisbat*, A. *n. f.* A barber's or surgeon's bag to keep the tools in; a piece of leather worn by a *bhishhti*, or waterman on his left hip on which he rests his waterbag.

کُرِہ کسبی *kasbí*, कसबी, H. *n. f.* An artisan; an artificer; *n. f.* a prostitute; a harlot.

کُرِہ کستوان *kastuván*, P. *n. m.* House cloth or housings.

کُرِہ کستورا *kastúra*, कस्तुरा, H. *n. m.* Blackbird; thrush; oyster. [bag; the musk-deer.

کُرِہ کستوری *kastúrí*, कस्तुरी, H. *n. f.* Musk; the musk-

کُرِہ کسر *kasar*, A. *n. f.* Breach; loss; (in *Arith.*) a fraction; want; rout; indigestion. کسر پڑنا *parná*, *v.* to suffer a loss; to fail. کسر دینا

dená, *v.* to cause loss. **كسر (دهنا)**—*rakhná*, *v.* to leave unfinished ; to cherish ill-will. **كسر (دهنا)**—*rahná*, *v.* to be incomplete. **كسر (دهنا)**—*shán*, loss of dignity ; derogation. **كسر (دهنا)**—*'ámm*, *n.* a vulgar fraction. **كسر (دهنا)**—*'ashárya*, *n.* a decimal fraction. **كسر (دهنا)**—*i-gair wájib*, *n.* an improper fraction. **كسر (دهنا)**—*karná*, *v.* to fall short ; to omit. **كسر (دهنا)**—*mudawwar*, a recurring fraction. **كسر (دهنا)**—*murakkab*, a mixed number. **كسر (دهنا)**—*i-muzáf*, a compound fraction. **كسر (دهنا)**—*i-multaf*, a complex fraction. **كسر (دهنا)**—*i-mufrad*, a simple fraction. **كسر (دهنا)**—*nikálná*, *v.* to make good a loss ; to make up a deficiency ; to take revenge. **كسر (دهنا)**—*wájib*, a proper-fraction. **كسر (دهنا)**—*kasrat*, कसरत, *H. n. f.* Bodily or atheletic exercise ; practice ; usage. **كسر (دهنا)**—*kasratí*, *H. adj.* Athletic. **كسر (دهنا)**—*kasrah*, *A. n. m.* The vowel point marked thus (i) for *i* or *e* short, also called *zer*. **كسر (دهنا)**—*kasak*, कसक, *H. n. f.* Pain ; stitch. **كسر (دهنا)**—*mitána*—*mitána*, *v.* to relieve pain ; to soothe. **كسر (دهنا)**—*kaskut*, कसकुट, *H. n. m.* Bell-metal ; an alloy. **كسر (دهنا)**—*kaskasá*. कसकसा, *H. adj.* Sandy ; gritty. **كسر (دهنا)**—*kaskasána*, कसकसाना, *H. v.* To grate ; to be gritty. **كسر (دهنا)**—*kasakná*, *H. v.* To suffer pain ; to ache. **كسر (دهنا)**—*kasgar*, *P. n. m.* A plasterer ; a potter. **كسر (دهنا)**—*kasal*, *A. n. m.* Indolence ; cowardice ; sickness ; depression of spirits. **كسر (دهنا)**—*mand*, *adj.* sick ; ailing ; relaxed ; indisposed. **كسر (دهنا)**—*kusum*, कुसुम, *H. n. m.* Safflower ; bastard ; saffron ; the red dye or safflower ; ophthalmia. **كسر (دهنا)**—*kasmasána*, कसमसाना, *H. v.* To twist ; to fidget ; to become restless ; to bestir oneself ; to move. **كسر (دهنا)**—*kasmasáhat*, कसमसाहत, *H. n. f.* Restlessness ; shaking. **كسر (دهना)**—*kasan*, कसन, *H. n. m.* Rack ; torture ; the leather throng of a bucket. **كسر (دهना)**—*kasná*, कसना, *H. v.* To tighten ; to tie ; to bind ; to press ; to dry ; to examine ; to fry ;

to raise the price ; to load as a gun ; *n. m.* bed-string ; a pack cloth ; a wallet. **كسر (دهना)**—*kasná*, *v.* to gird up one's loins ; to be ready. **كسر (دهना)**—*kusang*, कुसंग, *H. n. m.* Bad company. **كسر (دهना)**—*kisnat*, किसनई, *H. n. f.* Husbandry ; tillage. **كسر (دهना)**—*kisú*, किस, (Col.) *H. pron.* Some ; any. **كسر (دهना)**—*kis vâste*, किस वास्ते, *H. adj.* Why ? wherefore ? for what reason ? **كسر (دهना)**—*kasvána*, कसवाना, *H. v.* (Causative of **كسر (دهना)**—*Kasná*). To cause to tighten, prove, &c. **كسر (دهना)**—*kusvána*, कुसवाना, *H. v.* (Causative of **كسر (دهना)**—*Koosná*). To cause to curse. **كسر (دهना)**—*kiswat*, *A. n. f.* A surgeon's case ; piece of leather to support the *mashak* or water bag ; dress ; appearance ; form ; manner. **كسر (دهना)**—*kasantí*, कसौटी, *H. n. f.* A touchstone ; test ; proof. **كسر (دهना)**—*par-chaphána* या *lagána*, *v.* to test ; to examine ; to prove. **كسر (دهना)**—*kusúr*, *A. n. m.* (Plu. of **كسر (دهना)**—*Kasar*). (in *Arith.*) Fractions ; portions. **كسر (دهना)**—*kusúf*, *A. n. m.* An eclipse of the sun. **كسر (دهना)**—*kasaundí*, कसौंदी, *H. n. f.* A kind of pickle ; name of a plant. **كسر (دهना)**—*kise*, *pron.* To which ? to whom ? to what ? **كسر (دهना)**—*kisí*, किसी, *H. pron.* Any ; some. **كسر (دهना)**—*ek*, any one ; certain. **كسر (دهना)**—*se*, from any one. **كسر (دهना)**—*tarah*, somehow. **كسر (دهना)**—*qadr*, a little ; to some extent. **كسر (دهना)**—*na kisí*, some one or other ; any one. **كسر (دهना)**—*ne*, some one. **كسر (دهना)**—*kase*, *P. adj.* Some one ; somebody. **كسر (دهना)**—*kasiyána*, कसियाना, *H. v.* To become astringent ; to be spoilt (curd, &c.) by-standing in a braze vessel. **كسر (دهना)**—*kaserá*, कसेरा, *H. n. m.* A brazier ; a pewteter ; grey cattle. **كسر (دهना)**—*kaserhattá*, कसेरहटा, *H. n. m.* A market where metallic vessels are sold ; brazier's quarter. **كسر (دهना)**—*kaserú*, कसेरु, *H. n. m.* A fibrous root eaten as a fruit.

کسید kasis कसिस, H. n. m. Green vitriol ; sulphate of iron.

کسيف kasif, A. *adj.* Bad ; thick ; gross ; impure. کسيف الارقات—ul-auqát, *adj.* bad or miserable in circumstances. [pungent.

کسيلة kasailá, कसैला, H. *adj.* Astringent ; bitter ;

کش kash, P. n. m. *part.* Drawing . enduring ; (used as last member of compounds) as : محنت

کش mehnat—, enduring (or one who endures) afflictions ; a draught ; a pull ; a puff. کشکش —makash, pulling ; bringing and taking away ; difficulty ; struggle ; wrangle (aincha'ani).

کش kush, P. *part.* and n. m. Killing ; destroying ; killer, (used as last member of compounds), as : ديو کش dev—, giant-killer ; (demon destroyer).

کشا kushá, P. Opening ; expanding ; loosening ; revealing ; conquering, (used as last member of compounds), as : دلکشا dil—, heart-expanding کشا مشکل muskil—, difficulty-solving.

کشا kushá, कुरा, H. n. m. The sacred grass.

کشا kushád, P. n. f. Loosening ; opening.

کشادگی kushádgi, P. n. f. Expansion ; extensiveness ; aperture ; exhilaration.

کشاده kusháda, P. *Past. part.* Open ; uncovered ; spacious ; free ; frank ; drawn forth.

کشاده ابرو—abrud, *adj.* open between the eyebrows ; cheerful ; humorous.

کشاده پشاني يا کشاده جيبس—pesháni, yá kusháda jabín, yá kusháda rú, of an open countenance ; gay ; blithe ; cheerful.

کشاده دل—dil, *adj.* open-hearted ; frank ; generous.

کشاده روی—ravi, n. f. straddling of a horse, &c.) in gait.

کشاده—kusháda, *adv.* separately ; apart ; distinctly ; legibly. [of kushá grass.

کشاسن kushásan, कुरासन, H. n. m. A mat made

کشاف kashsháf, A. n. m. An explainer ; a discoverer ; *adj.* very clear or explicit.

کشاکش kashakash, P. u. f. Repeated pulling ; stretching and straining ; struggle ; pain ; difficulty ; attraction.

کشايش kasháish, P. n. f. Opening ; hilarity.

کشت kusht, P. n. Killing ; slaughter. کشت و خون —o-khún, n. f. a carnage ; massacre.

کشت kisht, P. n. f. A check (at chess) ; a sown field. کشت زار—zár, n. a sown field ; a meadow.

کشت و کار—o-kár, n. tilling and sowing.

کشتن kushtan, P. v. To kill ; killing. کشتنی —kusháni, fit to be killed ; worthy of death.

کشته kushta, P. *adj.* Killed ; slain ; n. m. one who has killed a lover ; killed mercury or any other metal ; clax.

کشتی kishí, P. n. f. A boat ; a vessel ; a canoe ; a tray ; a wallet.

کشتی بان—ban, master of a vessel ; a boatman ; a seaman ; a sailor. کشتی چالانا—chaláná, to ply or to row a boat.

کشتی kushti, P. n. f. Wrestling ; a hand-to-hand contest. کشتی باز یا کشتی گیر—báz yá kushtí-gír, n. m. wrestler.

کشتی دلانا—diláná, v. to cause to wrestle. کشتی کرنا یا لڑنا—karná yá laráná, v. to wrestle.

کشتام—kushtam, wrestling ; contest ; flight. کشتی نورا—noorá—, a collusive wrestling in which the combatants pre-arrange to divide the prize equally and leave the contest un decided, or the loser to receive the full prize and the winner to earn the name only.

کشت kashí, कष्ट, S. n. m. Affliction ; pain ; trouble ; distress ; hardship ; difficulty.

کشته kishí, किरा, H. n. m. Dry apricots used in polishing silver articles.

کشته kushth, कुष्ठ, S. n. m. Leprosy. [rous.

کشتهی kushthi, कुष्ठी, S. n. m. A leper ; *adj.* leprous.

کشتهی kashthi, कष्टी, H. *adj.* Suffering ; in want.

کش kashish, P. n. f. Attraction ; drawing ; allurement ; misunderstanding ; ill-feeling ; writing ; penmanship.

کش—i-siq, gravity. کش—i-zamín, gravitation of the earth. کش—i-meqnátísi, magnetism ; electrical attraction.

کش kashaf, P. n. f. A tortoise ; a turtle.

کشف kashf, A. n. m. An opening ; a manifestation ; a revelation ; a divine inspiration ; solution ; the performing of a miracle.

کشف kashf, A. *adj.* Revealed ; explained ; clear.

کَشک kushk, P. n. A lofty building ; a palace.
 کَشک kashak, P. n. A line or streak.
 کَشکول kashkol, P. n. f. A beggar's cup, &c. ; a wallet ; an album. [welfare ; good.
 کَشال kushal, कुशल, S. n. f. Health ; happiness ;
 کَشمش kishmish, P. n. f. Currants ; raisins.
 کَشمِشِی kishmishí, P. adj. Of the colour of raisins ; reddish brown.
 کَشمِیرِی kashmíri, P. n. m. A native of Cashmere.
 کَشنِیز kashníz, P. n. m. Coriander ; a plant, the seeds of which are strongly aromatic, stomachic and carminative.
 کَشود kushúd, P. n. f. Opening ; solution.
 کَشور kishor, किशोर, S. n. m. A son ; a youth ; (in Law.) a minor (one under fifteen).
 کَشور kishvar, P. n. m. A country ; region ; clime ; territory. کَشور ستانی satání, n. f. territorial conquest ; annexation.
 کَشیدگی kashidgí, P. n. m. Tension ; displeasure ; ill-feeling ; extraction.
 کَشیدِه kashídah, P. n. m. A kind of needle-work ; adj. sullen ; drawn ; stretched tall. کَشیدِه کَشاتِر khátir, adj. displeased ; vexed ; grieved ; sad. کَشیدِه قد یا قامت qad ya qámat, adj. tall ; a commanding stature. کَشیدِه کارِهنا یا نِکالنا kárhna ya níkalná, v. to do needle-work.
 کَعب ka'b, A. n. m. A cube ; the ankle.
 کَعبِه ka'ba, A. n. m. A square building ; the temple of Mecca.
 کَعبَتین ka'batain, A. n. (obl. dual of Ka'bat) The temples of Mecca and Jerusalem ; a game played with dice.
 کَف kaff, A. n. f. The palm of the hand ; the sole ; a handful. کَف افسوس مالنا i-afsos malná, v. to wring one's hand ; to be sorry for. کَف پا i-pá, the sole of the foot. کَف دست i-dast, the palm of the hand ; level and desert (a plain).
 کُف kuf, A. n. f. Relation ; kin ; brotherhood.
 کُفَر kuffár, A. n. m. (Plu. of Káfir.) Infidels ; idolators ; pagans.
 کُفَّارَة kaffára, A. n. m. Expiation ; atonement ;

penitence. کُفَّارَة دینا dená, v. to atone for ; to expiate for sin.
 کُفَّاف káfaf, A. adj. Equal ; sufficient ; just ; n. m. pittance ; daily allowance ; livelihood enough to keep one from begging.
 کُفَّالَة káfálat, A. n. f. Pledge ; surety ; security ; bail. کُفَّالَة اَعْمال ul-mál, pecuniary bail. کُفَّالَة بِنِ الْنَفْس bin-nafs, personal security. کُفَّالَة جِهَار i jaház, bottomry. کُفَّالَة نَامَة nama, a bail-bond.
 کُفَّایَة kifáyat, A. n. f. Enough ; sufficiency ; thrift ; economy ; abundance. کُفَّایَة سَع se, adv. frugally ; sparingly. کُفَّایَة شَعَر sha'ár, adv. frugal ; sparing ; economical. کُفَّایَة کَرْنَا karná, v. to economize ; suffice ; to cheapen.
 کُفَّایَتِی kífáyatí, A. adj. Economical ; thrifty ; frugal ; cheap. [bagghá.
 کُفَّتَار kaftár, P. n. m. The hyena (charh, lakar).
 کُفَّچِه kafcha, P. n. m. A spoon ; the hood of a snake.
 کُفْر kufr, A. n. m. Infidelity ; heathenism ; incredulity ; profanity ; blasphemy ; ingratitude.
 کُفْر تَرْنَا torná, v. to destroy paganism ; to break one's resolution. کُفْر گُور go, a blasphemer.
 کُفْرانِ نِعْمَتِ kufrán ni'amat, A. n. m. Ingratitude ; unthank-fulness of benefits.
 کُفْرِی kufrí, A. adj. Infidel.
 کُفْش kafsh, P. n. f. A shoe ; a slipper. کُفْش خانِه khána, n. m. one's own humble lodging. کُفْش دُورِی یا کُفْش گِیر doz ya gir, a shoemaker ; a cobbler.
 کُفْشِر kafshír, A. n. m. Solder ; lead ; tin ; pewter.
 کُفْک kafak, P. n. m. (D.m. of كَف Kaff.) The part of the hand or foot stained by way of ornament. [colander.
 کُفْگِیر kafgír, P. n. m. A skimmer ; a ladle ; a
 کُفَل kafal, A. n. f. The buttocks (of a horse, &c.).
 کُفَن kafan, A. n. m. A coffin ; a shroud. کُفَن پَهَار phár ke bolná, v. to exclaim ; to shriek ; to make a terrible noise. کُفَن چُور chor, n. m. a shroud stealer ; a miscreant ; a

ruffian. کفوت—khasoṭ, *n. m.* person who snatches even the coffin of a dead man; a plunderer.

کافنا kafaṇā, कफना, *H. v.* To shroud; to dress for the grave; to lay out (a corpse); to bury.

کافی kafai, *A. n. f.* A dress worn by Muhamadan faqirs.

کافی kufai, *P. n. m.* Caste; brotherhood; kin; *adj.* alike; equal.

کفیل kafil, *A. n. m.* A security; guarantee; hostage; bail. کفیل—honai, *v.* to stand surety.

ککٹ kukkuṭ, कुकट, *H. n. m.* A cock.

ککالی kukrali, कुकुराली, *H. n. f.* A tumour in the armpit. (Kakhauri).

ککرم kukarm, कुकर्म, *H. n. m.* An evil deed; bad action; sin. [toadstool; a mushroom.

ککرمماتا kukurmattai, कुकुरमुता, *H. n. m.* A

ککروندا kukronḍai, कुकुरोदा, *H. n. m.* Name of a plant and fruit: *Celaia*.

ککڑ kukkar, कुकुर, *H. n. m.* A cock.

ککڑن کورن kukṛṇ kōṛṇ, कुकड़ू कूरु, *H. n. f.* Cook-doodle do. ککڑن کورن—karnai, *v.* to crew.

ککڑی kakri, ककड़ी, *H. n. f.* A kind of cucumber.

ککڑی kukri, कुकड़ी, *H. n. f.* A hen; maize; the gripes; a skein or bundle of thread. ککڑی

ککڑنا—honai, *v.* to shrink; to be reduced.

ککڑا kakora, ककोड़ा, *H. n. m.* A kind of vegetable.

ککائی kakai, ककली, *H. n. f.* A bracelet.

ککھیالی kakhialai, करिवयाली, *H. n. f.* Corn given to reapers and village labourers as an allowance beyond the ordinary wages.

ککھیانا kikiyanai, किकियाना, *H. v.* To scream; to shriek. [cornice.

ککڑا kagar, कगर, *H. n. m.* Edge; side; border;

کک kul, *A. adj.* All; whole; universe; aggregate; entire. کک—jama, *n.* sum total; full amount; in all. کک—hal, the whole case; full particulars. کک—mizan, grand total. کک—ham, all of them; altogether; wholly; totally.

کک kul, कुल, *H. n. m.* Family; race; tribe; lineage; pedigree; relation. کک—acharya, the family priest. کک—taran, *n.* a good son who is credit to his family. کک—dharm ya—achar, *n. m.* religious rites observed by a family through successive generation. کک—devi, a family goddess. کک—vanti, *n. f.* a virtuous woman of a noble family.

کک kal, कल, *H. n. m.* To-morrow; yesterday.

کک—ka admi, man of yesterday. *norus homo*; an upstart; *parvenu*. کک—ki bat, news of yesterday; something that has happened very lately. کک—kalai ko, in future; perchance; lest.

کک kal, कल, *H. n. f.* Ease; relief; tranquillity; peace; repose; a lock a machine; a trigger.

کک—parnai, *v.* to be at ease; to be satisfied; to recover. کک—dar, *n. m.* a rupee with a milled edge; current rupee; *adj.* formed or wrought by machinery. کک—ka admi, *n. m.* an automation; a puppet;

n. very weak person. کک—ghora, *n. m.* a mechanical horse; a very well trained and obedient horse. کک—morai ya pherai, *v.* to start working a machine; to set right; to influence. کک—pani ki, a soda-water machine; a syringe; a water-pump; a fire engine. کک—bekal ya—makal, *n. f.* uneasiness; trouble; nausea. کک—dhuen ki, a steam engine.

کک kullai, *n. m.* Gargling; washing the mouth. کک—karnai, *v.* to gargle.

کک kalai, कला, *H. n. m.* A digit or sixteenth part of the moon's diameter; a part; a division of time about 8 seconds; tricks supernatural power; tumbling; somerset. کک—bazi, *n. f.* somerset; a leap in which a person turns with his heels over his head and alights upon his feet; tumbling. کک—khana, *v.* to take somerset. کک—na lagai, *v.* not to have an advantage.

کک kalab, *A. n. m.* (Plu. of کک Kalb). Dogs.

کک kullab, *A. n. m.* A dog-keeper.

کلا بڌو kalá battá (or kalá batún), H. n. m. Gold or silver thread.

کلابه kaleba, P. n. m. A clew; a reel; a skein.

کلاب kaláp, कलाप, H. n. m. Want; affliction; sorrow; grief.

کلاغ kalág, P. n. m. A crow; a raven; a rock.

کالار kalár कलार, } H. n. m. A distiller; a
 کلال kalal, कलाल, } tavern-keeper; a seller of
 wine; a low caste of Hindús. کلال خانہ—
 khána, n. m. a tavern; a liquor-shop.

کلال kulal, P. n. m. A potter.

کلام kalám, A. n. m. A speech; a discourse; a writing; a work; an objection; a conversation. کلام اللہ یا کلام مجید—ullah yá—i-majíd, n. m. the word of God; the Qurán. کلام اللہ

کلام اللہ—ullah nḥána, v. to swear by the Qurán. کلام کرنا—karná, v. to talk; to discuss.

کلاس kalás, P. adj. Big; great; large; bulky; grand; elder.

کالانا kaláná, कलाना, H. v. To burn; to parch grain; to mix; to shake up; to shuffle.

کالانا kiláná, किल्लाना, H. v. To scream; to cry out; to howl at.

کالانچ kulánc, कुलांच, H. n. f. A leap; a bound; a jump. کالانچ مارنا—márná, v. to bound; to leap.

کالابه kaláva, P. n. m. A red or yellow thread; a ball of thread; the band round an elephant's neck. [crown.

کلاه kuláh, A. n. f. A cap; a hat; a bonnet; a

کالائی kalái, कलाई, H. n. f. The forearm; wrist. کالائی کرتا یا کالائی کرنا—ntárná yá—karná, to grasp each other's wrists and then try to shake off the hold of the opponent; contest at twisting wrists.

کیل بیل kil bil, किल बिल, H. n. f. Creeping; crawling; children; a confused noise of the children.

کیل بیلانا kilbiláná, किलविलाना, H. v. To grumble; to writhe; to wriggle (as a worm, &c.); to be restless; to itch; to be in a state of titillation.

کلبلاہٹ kulbulahat, कुलबुलाइट, H. n. f. Vermicular motion; restlessness.

کلبہ kulba, P. n. m. A hut; a house; a cell; a

cottage. کلبہ احزان—i-ahzán, house of affliction; an afflicted or distressed family.

کلب kalp, कल्प, S. n. m. Sacred precept; ordinance; rite; performance, a śāstra, or sacred book of the Hindus; a proposal; a suggestion; procedure; a day of Brahmá, the Creator, or 1,600 yugas, being a period of 432 million years of mortals and measuring the duration of the world. کلب درکش یا ترور یا بیکش—birksh yá taru yá bricch, a tree in Indra's paradise that yields whatever may be desired; tree of desires.

کالپانا kalpáná, कल्पाना, H. v. To oppress; to give pain; to afflict. [grieve.

کالپنا kalapná, कल्पना, H. v. To be grieved; to
 کالپنا kalpná, कल्पना, H. n. f. Keen desire; option; supposition; inference; conception; hypothesis. کالپنا کرنا—karná, v. to desire; to suppose.

کالٹھی kulthí, कुल्थी, H. n. f. A grain; a pulse.

کالج kaljug, कलजुग (कलियुग), H. n. m. The present or (according to Hindus) iron age, comprising a period of 4,32,000 years and is supposed to begin on the 18th February, 3,122 B. C.

کالچہ kulcha, P. n. m. A kind of bread; a biscuit; a kind of sweetmeat; the circular piece at the top of tent-pole.

کالچہ کوللہ kullarh, कुल्लह, H. n. m. A small earthen cup; a cracker; a kind of firework.

کالاس kalas, (कलश), H. n. m. The spire on the top of a dome; a pinnacle; a peak; a crest; a metallic waterport. کالاس استھاپن کرنا یا چڑھانا—asthāpan karná yá chāhāná, to make an offering of a jar of water to a god or goddess.

کالسا kalsa, कलसा, H. n. m. A brass or copper vessel with a narrow neck. [little pinnacle.

کالسی kalśi, कलसी, H. n. f. A water pot; a

کالگی kalgí, कलगो, S. n. f. A spire or ornament on the top of a dome; a pinnacle; a crest; a plume; the comb (of a cock); cocks-comb; kind of *laoni* verse. کالگی باز kalgi-báz, n. one of the two classes of *laoni* singers.

کلف kalaf, P. n. m. Starch; stiffness; a pimple on the face. کاف کرنا—karná, v. to starch. کف کندي کرنا—kundi karná, v. to chastise; to give a dressing.

کلفت kulfat, A. n. f. Distress; trouble; affliction. کفت دور کرنا—dúr honá, v. to be relieved; to be lightened.

کلفا kulfa, P. n. f. A kind of potherb.

ککک kilk, P. n. f. A reed-pen; a reed.

ککک kilak, کيلک, H. n. f. Brightness; lustre.

کککاري kilkari, کيلکاري, H. n. f. Shout; shriek; scream; a sound expressive of joy. کککاري کرنا—karkari karná, v. to shout; to cry; to shriek.

ککک کالک, H. n. m. Wrangling; quarrelling; wordy duel. ککک کرنا—karná, v. to wrangle; to bandy words with.

کککالنا kalkalána, کککالانا, H. v. To smart; to itch; to feel burdensome.

کککي kalki, کککي, H. n. m. The 10th incarnation of Vishnu which is yet to come.

ککگا kalgá, ککگا, H. n. m. A flower; a coxcomb.

ککما kulmá, ککما, H. n. m. Sausage. [writhe.

ککمالانا kalmalána, ککمالانا, H. v. To fidget; to

کلمة kalma, A. n. m. A speech; a word; a part of speech; the Muhammadan confession of faith, viz., لا اله الا الله محمد رسول الله lailaha illallah, Muhammad-ur-rasul-Allah, 'there is no (other) God but God and Muhammad is His apostle.' کلمه پڑھانا—parhána, v. to teach the kulma; to make a Muhammadan. کلمه پڑھنا—parhána, v. to be converted to Muhammadanism. کلمه حق—i-haq, truth. کلمه کفر—kuf, profane words; blasphemy. کلمه کي

ککي انگلي—ki ungli, the forefinger.

ککنج kulanj, ککنج, H. adj. Cutting behind in walking (a horse); knock-kneed.

ککندرا kalindra, ککندرا, H. n. m. A water-melon.

ککک kalank, ککک (ککک), H. n. m. Stigma; occupation: scandal; blemish. ککک کا ٹکرا لگنا—ka tiká lagná, v. to get a bad name; to be stigmatized. ککک لگانا—lagána, v. to calumniate; to stigmatize; to defame.

کککي kalanki, H. adj. Liable to reproach; calumniated; blemished.

ککک kulang, P. n. m. A fowl of a large breed; a crane; a very tall person.

ککک kulling, ککک, H. n. m. The fork-tailed butcher bird.

ککني kilni, ککني, H. n. f. A tick; a dog-louse.

ککوار kalvar, ککوار, H. n. m. A distiller or vendor of spirituous liquors; a tavern-keeper.

ککوي kalúti, ککوي, H. adj. Black; jet black.

ککور calor, ککور, H. n. m. A heifer.

ککوخ karúkh, P. n. m. A clod of earth.

ککول katol yá kilol, ککول یا ککول, H. n. m. Wantonness; play; frolic; merry-making; sport; diversion. ککول کرنا—karná, v. sport; to gambol; to frolic; to revel.

ککولت kulvant, ککولت, H. adj. Well born; of noble descent; a noble man.

ککونجي kalaunji, ککونجي, H. n. f. The black aromatic seed of *Nigella indica*, used medicinally (*mangrela*).

ککلا kalla, P. n. m. The head; the jaw; the throat; the cheeks. ککلا به ککلا—ba kalla lapná, v. to engage in a wordy duel; to have noisy dispute. ککلا تله دبانا—tale dabána, v. to down one's voice. ککلا تور—tor, adj. quick and witty (response). ککلا زن—zan, n. m. a bully; a boaster. ککلا کله چرنا—kalle chirná, v. to tear out one's cheeks ککلا داراز—kalle daraz, adj. boisterous; clamorous; abusive; n. a clamourer; a talkative or noisy person.

ککلا kalah, ککلا, S. n. m. Wrangling; quarrel; strife; contention. ککلا کار—kar, quarrelsome; abusive.

ککهارا kulhára, ککهارا, H. n. m. } A hatchet; an
ککھاري kulhari, ککھاري, H. n. f. } axe.

ککھار کک شجرہ kulah shajra, P. n. m. Succession and property of a saint *faqir*, &c.

ککھم kulla-hum, A. adj. The whole; all of them.

ککھيا kulhiya, ککھيا, H. n. f. A small earthen bowl; a cupping glass; a kind of firework. ککھيا بھارنا—bharána, v. to offer cups (*kulhiyan*) full of milk or *sherbet* to a god or goddess;

to give a *kulhiya* full of rice and sugar to a Brahmin, کلمیا لگانا—*lag nā*, *v.* to cup. کلمیا میں گڑ پھورنا—*men gur phor nā*, *v.* to try to do a work with few hands which requires many to do something impossible. سا—*sā*, *adj.* small; narrow.

کلی *killī*, किल्ली, *H. n. f.* A bolt; a key; a cry; a shriek. کلی مارنا—*mārnā*, *v.* to shriek; to cry.

کلی *kullī*, *A. adj.* Entire; total; general; common; *n. f.* total sum; the whole.

کلی *kullī*, कुल्लो, *H. n. f.* A gargle; rinsing the mouth.

کلی *kalī*, कली, *H. n. f.* A bud; lime; a piece in a native coat; a pipe for smoking; the iron age. کلی کا چرنا—*kā chūnā*, quicklime; limestone. کلیاں آنا—*kaliyān ānā*, *v.* to blossom; to flower; to bloom.

کلیان *kalyān* कल्याण, *H. n. m.* Prosperity; success; a mode in music; good کلیان ہونا—*honā*, *v.* to prosper; to be happy; to be undone. [author.

کلیات *kulliyāt*, *A. n. m.* The whole work of an کلیلان *kulijan*, कुलीजन, *S. n. m.* Galangale; the root of piṭer be-el (*kulanjan*).

کلیجہ *kaleja*, कलेजा, *H. n. m.* The liver; heart; spirit; courage; pluck. کلیجہ اچھلنا—*uchhalnā*

v. to throb; to leap with joy. کلیجہ اورا جانا—*urā jānā*, *v.* to be distracted. کلیجہ اولٹنا—*ulaṭnā*, *v.* to be fatigued with excessive vomiting; to come to one's mouth (the heart).

کلیجہ بیٹھا جانا—*baiṭhā jānā*, *v.* to be depressed in spirits. کلیجہ پر سانپ اورنا—*kaleje par sānp loṭnā*, *v.* to suffer envy or jealousy. کلیجہ

پکنا یا پک جانا—*paknā yā pak jānā*, *v.* to be cut to the quick. کلیجہ پھٹنا—*phaṭnā*, *v.* to be disturbed with grief or jealousy; to feel pity.

کلیجہ تر ہونا—*tar honā*, *v.* to be at ease; to be well off. کلیجہ تھام تھام کر رونا—*thām thām kar ronā*, to weep bitterly. کلیجہ تھام کر رھ جانا—*thām kar rah jānā yā*

mascnā, *v.* to repress one's grief; to choke one's emotions. کلیجہ ٹوک ٹوک ہونا—*ṭūk ṭūk —honā*, *v.* to be deeply grieved. کلیجہ تھننا—*ṭhannā*, *v.* to be

satisfied; to obtain one's wishes. کلیجہ جانا—*jānā*, *v.* to suffer sorrow; to burn with envy. کلیجہ چھلنی ہونا—*chhalnī honā*, to suffer heavy shocks. کلیجہ

دھک سے ہر جانا—*dhak se ho jānā*, *v.* to be surprised completely. کلیجہ سے لگ رہنا یا کلیجہ

میں ڈال رکھنا—*kaleje se laga rahnā yā kaleje men ḍal rakhnā*, *v.* to cherish in the heart; to love or esteem exceedingly. کلیجہ کانپنا—*kaṭpnā*, *v.* to tremble or palpitate (the heart); to feel afraid; to suffer cold. کلیجہ میں آک

کلیجہ لگنا—*kaleje men āg lagnā*, *v.* to feel a burning sensation; to be extremely thirsty.

کلیجی *kalejī*, कलेजी, *H. n. f.* The liver of animals.

کلیچہ *kulicha*, *P. n. m.* A small loaf; biscuit. کلید *kild*, *P. n. f.* A key.

کلیس *kales*, कलैस, *H. n. m.* Trouble; affliction; pain; anguish. کلیس کرنا—*karnā*, *v.* to afflict; to torment; to quarrel; to grieve; to mourn.

کلیسہ *kalisa*, *Gr. n. m.* A church; a cathedral.

کلیم *kalim*, *A. n. f.* An interlocutor; a speaker. کلیم اللہ—*ullah*, one who speaks to God; an epithet of Moses. [family.

کلین *kulin*, कुलीन, *S. adj.* High-born; of a good کلینہ *kulinā*, कुलीना; *H. n. m.* A kind of pickle; a high-born woman [lity; high-birth.

کلینتا *kulintā*, कुलीनता, *H. n. f.* Nobility; gentility. کلیوا *kaleva*, कलेवा, *H. n. m.* A breakfast; a luncheon. کلیوا کرنا—*karnā*, to breakfast; to lunch.

کم *kam*, कम, *H. adj.* Deficient; little; less; seldom; few. کم اختلافی—*ikhulati*, *n. f.* little familiarity or intimacy. کم آزاری—*āzārī*, *n. f.* causing but little trouble. کم اصغر یا کم ذات—*asī yā-zāt*, *adj.* low-bred; vile. کم بخت—*baḥt*, *adj.* unfortunate; unlucky; cursed.

کم بختی *baḥtī*, *n. f.* ill fortune; mishap; adversity. کم بختی آنا—*bukhtī anā*, *v.* to be overtaken by misfortune. کم بختی کے دن—*baḥtī ke din*, hard times; evil days. کمتر—*tar*, *adj.* smaller; less; seldom. کمترین—*tarīn*, *n. m.* (Lit.) least; your humble servant.

to contract; to relax; to reduce; to modify.
 کم کم—kam, *adv.* a little; little by little;
 a little at a time. کم کر بیچنا—ko bechná,
v. to sell at a loss. کم گو—go, *adj.* habitually
 silent; reserved. کم مایگی—máygí, *n. f.*
 scarcity; poverty; indigence. کم مایا،
adj. poor; scarce. کم مہنت—mihnat, *n. f.*
 littleness of labour; indolence. کم نصیب—
 nasib, *adj.* unlucky. کم نصیبی—nasbí, *n. f.*
 misfortune; ill-luck. کم نظر—nazar, *adj.* dim-
 sighted; weak-sighted. کم و بیش—o-beh, *adj.*
 more or less; about. کم و کاست—o-kást,
n. without increase or decrease. کم ہمت—
 himmat, *adj.* poor-spirited; cowardly; un-
 aspiring; illiberal. کم ہمتی—himmattí, *n. f.*
 mean-spiritedness; meanness. کم ہونا،
 to lessen; to come short; to fall. کم یاب،
adj. scarce; rare.
 کمہ حقہ kamá haqqa-hú, *A. adj.* As it actually
 is; duly; properly.
 کمار kumar, कुमार, *S. n. m.* A son; a lad; an
 unmarried boy; a prince.
 کماری kumári, कुमारी, *S. n. f.* A maiden; virgin;
 a daughter; princess. [bread-winner.
 کامنت kamaent, कामन्त, *H. n. m.* A labourer; a
 کامál, *A. n. m.* Completion; perfection;
 excellence; art; miracle; *adj.* complete;
 very great; extreme; excellent. کامال حاصل کرنا،
 hasil karná ya—ko pahncehná, *v.* to reach the utmost limits;
 to attain perfection. کامال درجہ کا—darje ka, *adj.*
 extreme; utmost. کامال دکھلانا—dikhlána, *v.* to
 perform a miracle; to work wonders. کامال رکھنا—
 rakhná, *v.* to attain the highest excellence;
 to be expert in. کامال کرنا—karná, *v.* to outwit;
 to do wonderfully well; to succeed to perfec-
 tion. [tion.
 کامالیات kamáliyat, *A. n. n.* Completion; perfec-
 کامان kaman, P. *n. f.* A bow; a fiddle-stick; an
 arch; the sign *Sagittarius*; *adj.* bent; arched;
 flexible. کامان ابرو—abru, *adj.* with arched
 eye-brows. کامان اُتارنا—utarná, *v.* to loosen
 or unstring a bow; to unbend a bow. کامان
 تانا یا چھاننا—tanna ya chaphána, *v.* to bend
 a bow. کاماندار—dar, *n.* an archer; a bowman,

tawajjahí, *n. f.* inattention; heed-
 lessness; neglect. کم جزا—jurát, coward.
 کم حرکت—harkat, *adj.* lazy; sluggish. کم
 حوصلگی—hausalgí, *n. m.* illiberality; narrow-
 mindedness. کم حوصلہ—hauslá, *adj.* poor-
 spirited; unambitious. کم حیثیت—haisiyat,
adj. poor; of small means; small-minded;
 of low condition. کم خرچ—kharch, *adj.* frugal;
 niggardly. کم خرچ بالانشین—kharch balá nashín,
 (*Lat.*) little cost and an upper seat—applied
 to things of good quality purchased cheaply.
 کم خرچی—kharchí, *n. f.* parsimony. کم خرچی
 ہونا—kharchí men tá gila honá, *v.* to be obliged to spend more than one's
 means allow; to be steeped in misery. کم خرد،
 —khirad, *adj.* unwise; stupid. کم خوابی—khwabi
n. f. want of sleep; sleeplessness. کم خور یا
 —khor ya kam khurak, *adj.* abste-
 mious; sparing in diet. کم دماغی—dimági,
n. f. want of conceit or fancy; discontent
 کم ذاتی—zátí, *n. f.* low birth; baseness. کم
 ذہن—zihan, *adj.* without abilities; forgetful.
 کم زور—zor, *adj.* weak; feeble; frail. کم زوری
 —zorí, *n. f.* weakness; debility. کم زیادہ یا کم
 زیادہ—ziyada ya—o ziyada, *adj.* more or less;
 about. کم سخن—sukhan, *adj.* speaking little;
 silent; taciturn. کم سن یا کم عمر—sin ya—
 umr, *adj.* young; minor. کم سننا—sunná, *r.*
 to be hard of hearing; to be deaf to. کم سنی
 —siní ya—umrí, *n. f.* youth; nonage. کم سے کم—se—, *adv.* at least; very
 little. کم شرح—sharah, *n.* low wage; on
 moderate terms. کم شون—shauq, *adj.* indiffer-
 ent. کم طالع—tala', *adj.* unlucky; ill-starred,
 unfortunate. کم ظرف—zarf, *adj.* ignoble, low-
 bred; poor-spirited; witless. کم عقل—'aql, *adj.*
 stupid; ignorant. کم عقلی—'aqlí, *n. f.* stupid-
 ity; folly. کم فراغی—faragi, *n. f.* want of
 leisure or ease. کم فرصتی—fursatí, *n. f.* want
 of leisure or opportunity. کم فہم—fahm, *adj.*
 stupid; silly. کم قدر—qadr, *adj.* worthless,
 mean. کم قدر ہونا، qadr honá, *v.* to fall in
 esteem; to degrade. کم قدری—qadrí, *n. f.* de-
 gradation; decline. کم قیمت—qimat, *adj.* low priced;
 cheap. کم کرنا—karná, *v.* to lessen; to deduct;

دور—*kor*, a chord of a circle. کمان کرنا—*karná*, *v.* to double ; to bend. گار کمان—*gar*, *n. m.* a bow-maker ; a bone-setter.

کمانا *kamáná*, کمانا, *H. v.* To earn ; to do (good) ; to commit (crime) ; to work ; to clean (leather or a privy) ; to fertilize ; to exercise ; to lessen.

کمانچہ *kamáncha*, *P. n. m.* A small bow ; an arched roof ; a private room ; a spring.

کمانی *kamání*, *P. n. f.* The spring (of a chariot, watch, &c.) بال کمانی *bál*—, *n. f.* a hair spring. باری کمانی *barí*—, the moving spring of a watch or clock ; the main spring.

کمانا *kamání*, कामाऊ, *H. adj.* laborious ; bread-winning ; *n. m.* earner ; husband ; labourer ; a son.

کمانی *kamái*, कामाई, *H. n. f.* Earnings ; gain ; work ; performance. کمانی کرنا—*karné v.* to earn.

کامبال *kambal*, कंबल, *S. n. m.* A blanket (*kammal*).

کامبھ *kumbh*, कुम्भ, *H. n. m.* A water jar ; the sign *Aquarius* ; a measure of grain. کامبھہ کا—*ká melá*, a fair held at Hardwar and Allahabad (ancient *Prayág*) every twelfth year.

کامپا *kampá*, कंषा, *H. n. m.* A stick with bird-lime attached used by fowlers to catch birds. کامپا لگانا—*lagáná*, *v.* to catch fowls with *kampá* ; to spread a net.

کامپاس *kampás*, E. *n. f.* Compass ; a theodolite. کامپاس لگانا—*lagáná*, *v.* to survey.

کامپانا *kampáná*, कंषाना, *H. v.* (*Caus. of Kámpná*). To shake ; to cause to tremble.

کامپانی *kampant*, (*Corr. from the English*). Company ; a banking or trading company ; the East India Company. کامپانی کا کاغذ—*ka kágaz*, Company's paper ; government promissory note. باغ کامپانی *bág*—, botanical gardens ; a public garden

کامپ *kampú*, A. *n. m.* (*Corr. from the Eng.*) Camp ; an encampment ; a cantonment ; a body of infantry disciplined in the European fashion in the service of native princes. کامپ کرنا—*parná*, *v.* to encamp (in or at).

کومت *kumat*, कुमति, *S. adj.* Stupid, vicious ; injudicious ; ill-advised ; *n. f.* stupidity ; wickedness.

کومتی *kamtí*, कमती, *H. n. f.* Abatement ; deficiency ; scarcity ; diminution ; below par. کومتی بڑھتی—*bahtí*, fall and rise of prices, etc. ; decrease and increase ; more or less.

کامٹھ *kamaṭh*, कमठ, *H. n. m.* A tortoise.

کامٹھا *kamṭhá*, कमठा, *H. n. m.* A bow (made of bamboo) ;

کامکھاب *kamkháb* or *kímkhwab*, *P. n. f.* Brocade ; silk worked with gold and silver flowers ; *adj.* wanting a sleep or nap ; sleeplessness.

کوند *kumnd*, कुन्द, *S. n. m.* A white esculent lotus ; a water-lily.

کمر *kamar*, *P. n. m.* The waist ; the loins ; girdle ; the middle ; a belt ; an arch. کمر باندھنا—*báñdná ya kasná*, *v.* to grip up one's loins ; to get ready ; to be intent ; to arm. کمر بستہ—*basta*, *adj.* having the loins girt ; ready.

کمر بند—*band*, *n. m.* a girdle ; a zone ; a waist-band. کمر بندی—*bandí*, *n. f.* preparation for battle ; arming. کمر پکڑ کے اٹھنا—*pakar ke uṭhná*, *v.* to become very weak. کمر پڑنا—*pakar ná*, *v.* to grip one by the waist ; to stand by ; to urge a claim against one. کمر ٹوٹنا—*ṭúṭná*, *v.* to be broken (the spine) ; to become hump-backed ; to be bent (one's back with old age) ; to be deserted by friends ; to suffer the loss of a son ; to lose spirit ; to be hopeless.

کمر توڑنا—*torná*, *v.* to take away one's hopes ; to win over one's adherents ; to break the backbone ; to discourage.

کمر درال *dival*, a leather belt. کمر رھانا—*rah janá*, *v.* to have a pain in the loins from remaining long in one posture ; to be paralysed ; to be unnerved.

کمر سیدھی کرنا—*sidhí karná*, *v.* to lie down ; to rest. کمر کا ڈھیلہ—*ká dhilá*, *adj.* weak. کمر کٹائی—*kushái*, *n. f.* ungirding the loins ; the order to take off accoutrements. کمر کھلنا—*kholná*, *v.* to take off the belt, tights, &c. ; to take rest. کمر کھول بیٹھنا—*khol baithná*, *v.* to sit at ease. کمر مضبوط کرنا—*mazbút karná*, to take courage or heart ; to undertake a work of expense.

کمزگه kamrakh, कमरख, H. n. m. A sour fruit.
 کمرا kamra, कमरा, H. n. m. An apartment; a room.
 کمري kamri, P. n. f. A short jacket or waist-coat; a blanket. [kin-gourd].
 کمزها kumhá, कुम्हा, H. n. f. A kind of pump-
 کمک kumak, P. n. f. Assistance; help; rein-
 force ment. کمک پر ہونا — par honá, v. to side
 with; to help; to support. کمک دینا — dená,
 v. to assist; to reinforce.
 کم کم kumkam, कुमकुम, S. n. f. Saffron.
 कमल kamal, कमल, H. n. m. The lotus.
 कमल kammal, कमल, H. n. m. A blanket.
 कमल kamalá, A. n. m. (*Plu. of कमल Kámil.*) The
 perfect.
 कमल بائي kamal báí, कमलबाई, H. n. m. Jaundice.
 कमल kamalá, कमला, H. n. m. The caterpillar of a
 brown moth covered with fine bristles which,
 on handling it, adhere to the skin and excite a
 itching, it is destructive to trees; the pal-
 merworm.
 कमल kamlá, कमला, S. n. f. A beautiful lady; a
 name of Lakshmi.
 कमलانا kumláná, } H. v. To wither;
 कमبلانا kumbláná, कुम्हलान- } to fade; to droop;
 to be blighted.
 کامند kamand, P. n. f. A scaling ladder made of
 cord and chiefly used by thieves; a halter;
 a noose; a slip-knot; a lasso; the ringlets.
 کامند پھینکا یا ڈالنا — pheṅkná yá ḍálná, v. to
 throw up a rope-ladder.
 کامنڈل kamandál, कमण्डल, H. n. m. A wooden or
 earthen water-pot, used by the ascetics.
 کامنیت kamnait, P. n. m. An archer.
 کامنیتی kamnaití, P. n. f. Archery.
 کاموانا kamwáná, कमवाना, H. v. (*Caus. of कामना Kamná.*)
 To cause to work or earn.
 کامود کامود, कमुद, H. n. m. A species of drug
 used for dyeing. [water-lily].
 کامودینی kamodiní, कमोदिनी, H. n. f. A species of
 کاموری کاموری, कमोरी, H. n. m. A small earthen
 pot.

کامون kammún, A. n. m. Cumin seed.
 کامونی kammúní, A. n. f. A medicine in which
 cumin seed is mixed.
 کومهار kumhár, कुम्हार, H. n. f. A potter.
 کومھاری kumhári, कुम्हारी, H. n. f. A potter's
 wife; a female potter; a kind of wasp which
 builds its house of clay. [alligator].
 کومھیر kumhír, कुम्हीर, S. n. m. A crocodile; an
 کامی کامی, P. n. f. Deficiency; reduction;
 diminution; decrease; loss; want; defalca-
 tion; deficit; remission; relaxation.
 کامییت kammiyat, A. n. f. Quantity; number.
 کامیت kumait, H. adj. and n. m. Bay-coloured;
 a bay horse.
 کامیرا kamerá, कैमेरा, H. n. m. A labourer; a
 hireling; a journeyman.
 کامیشن کامیشن, कमिशन, H. n. f. (*Corr. from the*
English). Commission; discount. کامیشن بیٹھنا
 —baiṭhná, a commission to sit or to be held.
 کامیشن دینا — dená, to allow commission or
 discount. کامیشن اہل اہل — ahl-i—, one to whom a
 commission is issued.
 کامیلا کامیلا, कमला, H. n. m. A drug.
 کامیلا kamelá, कैमेला, H. n. m. A slaughter-house.
 کامین کامین, A. n. f. An ambush. کامین گاہ
 —gáh, n. f. an ambuscade; a lurking place.
 کامین گاہ میں بیٹھنا —gáh men baiṭhná, to lie in
 ambush.
 کامین کامین, کامین, H. n. m. Menial servants;
 the lower caste.
 کامینہ کامینہ, P. adj. Mean; ignoble; vulgar;
 wicked. کامینہ پن —pan, n. m. meanness;
 wickedness.
 کن کن, P. part. act. (from کردن kardan) Mak-
 ing; doer, used as last member of compounds).
 as: کار کن kár—, a director; a manager.
 کن کن, part. act. (from کندن kandan.) Dig-
 ging; digger, (used as last member of com-
 pounds), as: گور کن —gor—, a grave digger.
 کن کن, کن, H. pron. Who? whom? which?
 what? کن کن یا کنکی —kí yá—kí, whose? کن
 —ko, whom?
 کن کن, کن, H. n. m. Valuation; estimate; a
 weevil; a minute particle; a grain; sparkle

of a gem ; corn ; a blossom ; *Contraction of*
 کان kán, ear. کن انگھی—unglí, *n. f.* the little
 finger. کت—kút, *n. f.* appraisalment of a
 crop on the field. کن متر—mátr, *adv.* very
 little. [squint.

کن انگھی kan ankhí, *H. n. f.* A side-glance ; a
 کنا kanna, कना, *H. n. m.* The notches on the
 two sides of the upper leather of a shoe. ; the
 part of a paper kite to which the string is
 tied ; edge.

کنار kanár, *P. n. f.* Bosom ; embrace ; side. بوس
 کنار—bos-o—, *n. f.* kissing and hugging.
 کنار در dar—, *adv.* putting aside ; excluding.

کنارا kinará, } *P. n. m.* Margin ; shore ;
 کنار kinára, } bank ; coast ; boundary ;
 edge ; end ; side ; brink ; hem. کناره چڑھانا
 chahána, *v.* to fold and sew down the edge ;
 to make a border ; to hem. کناره پکڑنا یا کناره
 پکا پنا—paka pna yá kinárákash honá, *v.* to
 withdraw ; to keep aloof ; to turn aside ; to
 retire. کنارے پر—kinare par, *adv.* ashore ;
 aside. کنارے پر لگانا kinare par lagná, *v.* to cast
 anchor ; to land. کنارے رکھنا—kinare rakhná,
v. to remove ; to put on the shelf. کنارے
 kinare kinare, *adv.* by the side of ; along
 the shore. کنارے چلنا kinare kinare
 chalna, *v.* to walk along the shore ; to walk
 apart. کنارے لگانا kinare lagná, *v.* to bring to
 shore. کنارے ہونا kinare honá, *v.* to keep
 aloof ; to turn aside ; to withdraw from.

کناری kinári, किनारी, *H. n. f.* Lace border,
 stay-lace. کناری بناف—báf, *n. m.* a lace maker.
 کناس kannás, *A. n. m.* A sweeper ; a niggard ;
 an avaricious, ill-tempered person.

کانگت kanágat, कनागत, *H. n. f.* The dark half
 of the month *Aswin*, when the Hindus give
 funeral feast in honour of their deceased
 ancestors ; a feast.

کنایہ kináya, *A. n. m.* A hint ; an allusion ; a
 metaphor ; sarcasm ; a nod ; a sign. کنایاتی
 kináyatan, *adv.* allusively ; metaphorically ;
 by winks.

کنبا kunbá, कुनबा, *H. n. m.* Family ; brotherhood ;
 relation ; tribe. کنبا چڑھانا—jorhá, *v.* to get a

large family ; to invite all the friends and
 relations

کنبی kunbí, कुनबी, *H. n. m.* A husbandman ; a
 peasant ; the name of an agricultural class
 in India.

کن پٹی kan paṭí, कनपटी, *H. n. f.* The temple.

کن پٹھا kanphatá, कनफटा, *H. n. m.* Split-eared ;
 a Hindu *faqir* distinguished by wearing large
 metal ear-rings. [below the ear.

کن پھی kanpher, *n. m.* Swelling of the glands

کنتو kintu, किन्तु, *S. conj.* But ; however.

کنٹھا kanthá, कंथा } *H. n. m.* Husband ;
 کنٹھا kantha कंथ (کانت S) } sweetheart ; a band
 round the neck of a *fogi* to carry thing on ;
 story.

کنٹار kanṭar, कंटर, *H. n. m.* (*Corr. from the Eng.*)
 Decanter ; a large glass bottle.

کنٹک kanṭak, कंटक, *H. n. m.* A thorn ; a bad
 man ; a miser ; a mean enemy ; *adj.* miserly ;
 wicked. [covering the ears.

کنٹوپ kanṭop, कंटोप, *H. n. m.* A large cap

کنٹھ kanṭh, कंठ, *H. n. m.* The throat ; wind-
 pipe ; Adam's apple ; the bosom ; voice ; *adj.*
 by heart ; by rote. کنٹھ بیٹھنا—baiṭhna, *v.* to
 become hoarse. کنٹھ سرکھنا—súkhna, *v.* to
 be very thirsty. کنٹھ کرنا—karna, *v.* to get
 by heart. کنٹھ مالا—mála, *n. m.* a necklace ;
 the bronchocele ; scrofula.

کنٹھا kanṭha, कंठा, *H. n. m.* A necklace of large
 beads made of gold or silver ; a pearl necklace ;
 a string of large beads of wood or seeds, worn
 by *faqirs*.

کنٹھی kanṭhí, कंठी, *H. n. f.* A small necklace of
 different kinds of wood or seed, worn by
 mendicants, ascetics and Vaishnavas. کنٹھی
 باندھنا—bádhna, *v.* to make one a disciple ;
 to enslave.

کنج kanj, कज, *S. n. m.* A lotus. [arbour.

کنج kuj, कुज, *H. n. m.* A bower ; a grove ; an

کنجا kanja, कजा, *H. adj.* Blue-eyed.

کنجد kanjad, *P.* Sesame.

کنجر kanjar, कजर, *S. n. m.* An elephant.

کانجر kanjar, कंजड़, H. n. m. A low class of people generally employed in making and selling strings of hemp and cotton; a nomadic tribe; gipsies.

کانجڑا kunjra, कुंजड़ा, H. n. m. Name of a caste whose occupation is selling vegetables; a greengrocer.

کانجشک kunjashk, P. n. f. A sparrow.

کانجس kanjus, कंजूस, H. n. m. A miser; a niggard. ماکھی چرس—makhi chus, n. m. a skin flint; a miser; a niggard.

کانجسی kanjasi, कंजूसी, H. n. f. Stinginess; miserliness.

کانجی kanji, कंजी, H. adj. Blue-eyed.

کانجی kunjī, कुंजी, H. n. f. A key; solution.

کانچھ kinchit, किंचित्, H. adj. A little.

کانچھان kanchan, कंचन, H. n. m. Gold; a caste of people whose females are dancers. کنچن—chān, n. m. superior kind of rice so called because it turns yellow and improves by being kept two or three years. نیر—nir, n. m. clear; transparent water.

کانچھنا kinchhna, किंचना, H. v. To sprinkle.

کانچھدان kanchhedan, कंचेदण, H. n. m. Boring the ears; an essential religious ceremony among the Hindus of boring a child's ears.

کاند kand, कन्द, S. n. m. An esculent bulbous or tuberous root.

کاند kund, P. adj. Blunt; dull; slow; obtuse, کند ذہن—zahn, adj. dull headed; stupid.

کاندا kanda, कन्दा, S. n. m. A squill.

کاندا kundā, P. n. m. A block; a log; the wood to which the barrel, lock, etc., of a firearm are secured; the stock; the arm of a paper kite, a staple. کندہ نا تراش—natarash, n. m. a dull, stupid fellow; a dolt. [a mountain.

کاندر kundar, कुंदर, H. n. m. A cave; a chasm in

کاندر kundrū, कुंदू, H. n. m. A gourd; a kind of fruit.

کاندری kundri, कुंद्री, H. n. f. A kind of vegetable.

کاندس kandas ya kandus, P. n. m. Sneezewort.

کاندسار kandsar, कन्दसार, H. n. m. A stag; a deer.

کندن kundan, कुंदन, H. n. m. Pure gold; adj. bright; pure.

کندن kandan, P. n. Digging; engraving. کندن جان—i-jān, giving up the ghost; dying.

کاندری kandurī, P. n. f. a table cloth; a feast held in honour of Fatima, the daughter of Mohammad; a fruit.

کانده kanda, P. past part. (from کندن Kandan). Dug; engraved. کنده کرنا—karnā, v. to engrave; to carve (stone, etc.) کار کنده—kār, n. m. an engraver; a carver.

کاندھا kandhā, कंधा, H. n. m. The shoulder. کاندھا بدلنا—badalnā, v. to change shoulders.

کاندھا کاندھا—pakar ke chalnā, v. to go leaning on one's shoulders; to walk with another's help. کاندھا دینا—dehā, v. to carry a dead body; to help. کاندھا ڈالنا—dālnā, v. to throw off the yoke; to lose spirit; to be discouraged.

کاندھیہا kandhiya, n. m. a corpse bearer.

کاندی kundī, कुंदी, H. n. f. Calendering cloth. کندی کرنا—karnā, v. to calender; to beat. کندیگر kundigar, n. m. calenderer.

کند kund, कुंद, H. n. m. A spring; a pool; a reservoir; a shallow pit or pan in which havan is performed; a fire-altar. [for fuel.

کاندا kanda, कंदा, H. n. m. Dried cow dung used

کاندا kundā, कुंदा, H. n. m. The inner part of the husk of rice which adheres to the grain after the first cleaning; a staple [a steersman.

کانداری kundarī, कुंदारी, H. n. m. A helmsman;

کاندال kandāl, H. n. m. A kind of haultboy.

کاندری kandrī, कुंद्री, H. n. m. A kind of vegetable; mustard plant.

کندال kundāl, कुण्डल, H. n. m. A large sort of ear-ring; a coil; a circle; a halo; کنتال کرنا—karnā yā marnā, v. to form a coil; to make a hole.

کاندلی kundlī, कुण्डली, H. n. f. A ringlet; a coil; a halo; nativity; horoscope; a snake. کندی بانا—banānā, v. to curl; to make a horoscope.

کاندلیہا kundaliya, कुंदलिया, H. n. f. A metre; a species of stanza; Hindi poetry.

کندی *kandī*, कंडी, H. *n. f.* Dried cow-dung used as fuel.

کندی *kundī*, कुंडी, H. *n. m.* An iron catch to fasten a door; staple; a door chain. کندی دینا *denā*, یا لگانا یا مارنا *yā lagānā*, یا مرنā, *v.* to put on a door chain. کندی کھکھانا یا کھکھانا *khaḥ khaṭānā* یا *kharkhaṭānā*, *v.* to rap upon a door; to knock at a door; to strike for admittance. [sugarcane

کندا *kansā*, कन्सा, H. *n. m.* A worm that injures *kan salāī*, कनसलाई, H. *n. f.* A kind of scolopendra or *julus*, which is said to get into the brain through the ears, and by its bite to occasion excessive pain and even death.

کانشٹھا *kanishṭhā*, कनिष्ठा, } S. *n. f.* The
کانشٹھیکا *kanishṭhika*, कनिष्ठिका, } little finger.

کانف *kanaf*, A. *n. m.* Side; edge; coast; shore; wing of a bird.

کانک *kanak*, कनक, H. *n. m.* Gold; dhatura plant or thorn-apple; wheat.

کانکنا *kaniknā*, कणिका, H. *n. f.* An atom; a particle; a grain (of corn, etc.); fine sand grittiness.

کانکاٹا *kankaṭā*, *adj.* Ear-cropt; crop-eared; earless; *n. m.* one who cuts off the ears; a bugaboo; a bugbear. [ears

کانکاٹا *kankaṭī*, कनकटी, H. *n. f.* A disorder in the

کانکار *kankar*, कंकड़, H. *n.* The coarse lime stone found in the soil in many parts of India, used in making roads, lime, etc. کانکار پاتھار *patthar*, *n. m.* pebbles and stones; gravel.

کانکا *kā*, made of lime-stone; metallated (as a road). [stone ball

کانکارا *kankarā*, कंकड़ा, H. *n. m.* A marble; a

کانکری *kankrī*, कंकड़ी, H. *n. f.* A small round stone or pebble; a small piece.

کانکریلا *kankrīlā*, कंकड़ीला, } H. *adj.* Gravelly;
کانکریلی *kankrīlī*, कंकड़ीली } stony; gritty.

کانکونا *kunkunā*, कुनकुना, H. *adj.* Lukewarm; tepid. [kite

کانکوا *kankavā*, कनकवा, H. *n. m.* A large paper

کانکوت *kankūt*, कनकूत, H. *n. m.* The appraiser of standing crop; *n. f.* appraisalment of a crop.

کانکھجورا *kankhajūra*, कनखजूरा, H. *n. m.* A centipede.

کانکھی *kankhī*, कनखी, H. *n. f.* A side glance; a sly look. [rice.

کانکی *kinkī*, किनकी, H. *n. f.* Ground rice; crushed

کانگال *kangal*, कंगाल, H. *adj.* Poor; miserable; bankrupt; vagrant. کانگال کر دینا *kar denā*, *v.* to make poor. کانگال ملک *mulk*, a very poor country. کانگال ہو جانا *ho jānā*, *v.* to be steeped in poverty; to be reduced to poverty.

کانگا *bankā*, کنگا, poor but proud; *n.* a peniless swell. کانگال *ṭar*, *adj.* and *n. m.* poor and vain or insolent; a vain-glorious man.

کانگالتا *kangāltā*, कंगालता, } H. *n. f.* Indigence;
کانگالی *kangālī*, कंगाली, } poverty, کانگالی چھانا *chhānā*, *v.* to be reduced to abject poverty.

کانگری *kingrī*, P. *adj.* Robust; stout; *n. m.* a strong man. [a pauper.

کانگلا *kanglā*, कंगला, H. *n. m.* A beggar; a vagrant;

کانگان *kangan*, कंगन, H. *n. m.* A bracelet; an ornament for the wrist.

کانگنا *kangnā*, कंगना, H. *n.* A string tied round the right wrist of the bridegroom or the left of the bride. [a cornice; millet.

کانگنی *kagnī*, कंगनी, H. *n. f.* A small bracelet;

کانگورا *kagūra*, P. *n. m.* A niched battlement of a castle, etc.; a part-hole; a turret; a pinnacle; a parapet wall; plumes; ornaments upon crowns. کانگور دار *dār*, *adj.* spired; having a turret, parapet, etc. [ear.

کانگوری *kagūri*, कंगूरी, H. *n. f.* The lobe of the

کانگھا *kanghā*, कंघा, H. *n. m.* A comb used by men, having teeth on one side only.

کانگھی *kanghī*, कंघी, H. *n. f.* A woman's comb having teeth on both sides. کانگھی چوٹی *choṭī*, *n. f.* braiding or plaiting of the hair.

کانگھی کرنا *choṭī karnā*, *v.* to braid or to plait the hair. کانگھی کرنا *karnā*, *v.* to comb.

کانمونا *kunmunānā*, कुनमुना, H. *v.* To whime; to whimper; to moan; to be uneasy; to grumble.

کانندا *kuninda*, P. *part.* and *n. m.* Making; doing; maker; doer (used as last member of compounds) اس کا پیدا *paidā*—, Creator.

کنوارا kunvárá, कुंवारा, H. n. m. A bachelor ; an unmarried youth. [virgin.]

کنواری kunvári, कुंवारी, H. n. f. A maiden ; a
کنواری kanantí, कनौती, H. n. f. Side hair ; ear-
ring ; picking up the ears (a horse). [nook.

کنوٹھا kanauṭhá, कनौठा, H. n. m. A corner ; a
کنور kunwar, कुंवर, H. n. m. A boy ; a son, a
prince.

کنول kanval, कंबल, H. n. m. The lotus, the
heart. کنول بائی یا بار—bái yá báó, jaundice.
دش کنول—dash, very deep water abounding with
lotus. کنول روپی—rúpi. *adj.* like a lotus ;
beautiful. کنول کھلنا—khilná, to swell with
pleasure ; to open (the heart). گٹا کنول—gaṭṭá,
n. m. the edible lotus nut. نین کنول—nain,
adj. lotus-eyed.

کنہ kunah, P. n. f. Nicety ; reason ; secret ;
essence ; end.

کنہ kunah, कुनह, H. n. m. Spite ; malice ;
rancour ; grudge. کنہ نکالنا—nikálná, to vent
(one's) spite (on).

کنہ kunh, A. n. f. Essence ; substance ; nicety.
کنی kaní, कनी, H. n. f. The sparkle of a dia-
mond or other gem ; a small particle ; broken
bits of rice ; bran.

کنی kenní, कन्ने, H. n. f. Edging ; border ; a
make-weight such as a piece of string or
cloth attached to the lighter end of a paper ;
kite ; powdered tobacco leaves. کنی باندھنا—
báṅdhná, v. to fillet the lighter end of a
paper kite.

کنے kane, कने, H. *adv.* Near ; adjacent to ; at ;
with ; beside ; at hand ; side ; end.

کنیا kannyá, कन्या, H. n. f. An unmarried girl
under sixteen ; a virgin ; a maiden ; a daughter,
a girl (not above ten years of age) ; the sign
Virgo. کنیا پانی گرنہ—pání grahn, the taking
of the bride's hand by the bridegroom at the
marriage ceremony. دانا کنیا—dán, n. m. the
giving away of the bride to the bridegroom by
her parent or guardian ; a dowry.

کنیاں kaniyáná, कनियाना, H. v. To go to one side ;
to shun ; to avoid.

کنیہ kunniyat, A. n. f. A patronymic appella-
tion ; a family name. [wringing the ears.

کنیہی kanēṭhí, कनेठी, H. n. f. Pulling the ears ;
کنیز kaníz, } P. n. A maid-servant ; a
کنیزک kanízak, } slave-girl ; a handmaid.

کو ko, को, H. *prep.* To ; at ; for ; on ; about.

کو kú, P. n. f. A street ; a lane. کو کو—bakú,
street by street ; everywhere.

کو ku, कु, S. A prefix signifying *bad* or *ill* ; as
in کنجات kunját, mean extraction.

کوآ koá, कोआ, H. n. m. Angle or corner of the
eye ; cocoon (of the silkworm) ; a slice of the
jack fruit ; the fruit of *mahwa* ; *baseia
latifolia*.

کوا kuvá, कौवा (कौआ), H. n. m. A crow ; the
uvula. کوا پری—parí, n. f. a very black woman.
کوا اٹھانا—uṭháná, v. to raise uvula of a child.

کوار kuár, कुवार, H. n. m. The sixth month of
the Hindus, September-October.

کوارا kuárá, कुवारा, H. n. m. An unmarried person ;
a bachelor. کوارا ناتا—náta, n. m. relationship
after betrothal but before marriage.

کوارا پان kuárá pan, कुवारापन, H. n. m. Bachelor-
ship ; celibacy.

کواری kuári, कुवारी, H. n. f. Spinster ; virgin ;
an unmarried girl.

کوار کیوار kivár, किवार, H. n. m. The shutter or fold
of a door ; a door ; a gate ; an entrance.
کوار دینا یا لگانا—dená yá lagáná, v. to shut a
door. کوار کھٹکھٹانا—khaṭkhaṭáná, v. to rap
upon a door ; to knock at a door.

کواکب kavákib, A. n. (*Plu. of* کواکب *Kaukab*)
stars ; Constellation.

کواں kuán, कुआँ, } H. n. m. A well. کواں پوجنا
کوا kuá, कुवा, } —pujáná, n. the ceremony of
کوارا kuvar, } worshiping a well at the
marriage or birth of a son among Hindus.

کوارا توتا—tútá, n. the water of a well to
fall ; well to be exhausted. کوارا کھٹکھٹانا—
khaṭkhaṭáná, to make (one) look into (seven) wells

as a cure for hydrophobia ; to make a person
do what pleases ; to lead one by the nose.

کوارا چلانا—chaláná, v. to water fields from a
well ; to irrigate. کوارا کھودنا—khodná, v. to
dig a well ; to dig a pit for any person,

کنواراں kharí, a well of which the water is brackish. میٹھا کنواراں miṭhá, a well of sweet water. کنواراں میں بانس ڈالنا—men-báns-dálná; to make a thorough search.

کوانچ kiwáñch, *n.* Cow-itch; a plant.

کوبہ koba, *A. n. m.* A wooden mallet; rammer.

کوبہ کاری—kárí, *n. f.* thumping; castigating.

کوبہ کاری کرنا—kárí karná, *v.* to castigate; to beat; to thump.

کوپ kop, कोप, *S. n. m.* Rage; anger; divine wrath. کوبہ کرنا—honá, *v.* to rave; to be angry.

کوپ kúp, कूप, *S. n. m.* A well; a hollow; a pit.

کوپین kopín, कोपीन, *H. n. f.* A narrow strip of cloth worn round the waist and between the legs.

کوت kút, कूट, *H. n. m.* Estimate; valuation; survey; guess; the base of a right-angled triangle.

کوتاہ kotáh, *P. adj.* Small; little; short; mean, settled. کوتاہ اندیشی—andeshí, improvidence; indiscretion. نظر کوتاہ بین یا کرتاہ—bín yá—nazar, *adj.* dim-sighted; short-sighted; imprudent; indiscreet. کوتاہ بینی—bíní, *n. f.* shortsightedness. کوتاہ عمر—umr, *adj.* short-lived. کوتاہ قد—qad, *adj.* dwarfish; short.

کوتاہ کرنا—karná, *v.* to shorten; to abridge; to cut short. کوتاہ گردن—gardan, *adj.* having a short neck; (*Met.*) wicked; willy.

کوتاہی kotáhi, *P. n. f.* Shortness; brevity; deficiency; want; littleness; smallness; narrowness (*kami*). کوتاہی کرنا—karná, *v.* to fall short; to fail; to be lacking (*in*).

کوتک kautuk, कौतुक, *H. n. m.* Play; show; trick; festivity; joy; enjoyment; sport; pastime; diversion. کوتکی کautukí, *adj.* playful; festive sportive; fond of or given to tricks or pranks.

کوتل kotal, *P. n. m.* A led horse; a horse kept only for show.

کوتمیر kotmir, कोतमीर (Col.) } *H. n. m.* Coriander.
 کوتمیر kothmir, कोथमीर, }

کوتنا kútná, कूटना, *H. v.* To value; to appraise; to estimate.

کوتوال kotwal, *P. n. f.* The chief officer of police in a town or city.

کوتوالی kotwáli, *P. n. f.* The chief police station in a city or town; the status and the office of a *kotwal*.

کوتھلا kothlá, कोथला (Col.) *H. n. m.* A large bag; the stomach; a pocket. کوتھلا بھرنا—bharná, *v.* to fill one's belly.

کوت kot, *H. n. m.* A coat. [million.

کوت kot, *H. adj.* A hundred lakhs; ten

کوت kot, कोट, *H. n. m.* A castle; a fort; a strong-hold; a rampart; a magic circle traced with sand or ashes.

کوتنا kútná, कूटना, *H. v.* To pound, to beat; to thrash; to cudgel; to chastise; to hammer.

کوتھ کothá, कोठा, *H. n. m.* A house; a warehouse; a barn; a chamber; an upper storey; the stomach. کوتھ بگڑنا—bigarná, *n.* a derangement of the stomach. کوتھ کا سختی—koṭhe ká sakht, having constipation.

کوتھری kothrí, कोठरी, *H. n. f.* A small room; a cabin; a closet; a store-room; an inner apartment. [misplaced.

کوتھور kuthaur, कुठौर, *H. adj.* Out of place;

کوتھی kothí, कोठी, *H. n. f.* A masonry house; a ware-house; a granary; a store-room; a banking firm; factory; the chamber of a gun; a curb; the inside shaft of a large bungalow. کوتھی بیٹھنا—baiṭhná, *v.* to become bankrupt; to sink (a curb) کوتھی بگڑنا—bigarná, *v.* to be bankrupt; to fail (a factory, firm, &c.). کوتھی چلنا—chalná, *v.* to have a banking transaction; to do a good business; to flourish. کوتھی کرنا یا کھولنا—karná yá kholná, *v.* to open a bank or factory. کوتھی وال—vál, *n. m.* a banker; a merchant; a warehouse-keeper.

کوتسار kausar, *A. n. m.* Name of a neeter-flowing river or fountain in Paradise, whence all the other rivers are supposed to derive their source. [cuirass.

کوت kavach, कवच, *H. n. m.* Mail; armour;

کوت kuch, *P. n. m.* Departure; decampment; march. کوت کرنا—karná, *v.* to depart; to

march ; to die ; to decamp. **کوچ مقام**—muqám, *n. m.* marches and halts.

کوچک kochak, *P. adj.* Little ; small ; diminutive ; younger (*chhotá.*)

کوچنا kochná, **کوچنا**, *H. v.* To pierce ; to prick ; to stuff ; to gore ; to stab.

کوچہ kúcha, *P. n. m.* A narrow street ; a lane.

کوچہ سے کوچہ—ba—, *adv.* from lane to lane ; here and there ; everywhere. **کوچہ بندی کرنا**—

bandí karná, v. mark off the limits of a lane.

کوچہ سر بستہ—i-sarbasta, *n. m.* a blind lane.

کوچہ گدا—gads, *n. m.* street beggar. **کوچہ گرد**—

gard, n. m. a street-walker ; a vagabond.

کوچہ گردی—gardí, *n. f.* strolling ; wandering.

کوچی kúchí, **کچی**, *H. n. f.* A brush for painting, or plastering, or whitewashing ; a weaver's brush.

کوڈ kúd, **کود**, *H. n. f.* A leap ; a spring ; a bound. **کوڈ پھانڈنا**—phánd, skipping and dancing about ; gambols ; capers.

کوڈک kudak, *P. n. m.* (*Plu.* **کوڈکین** Kudakin). A boy ; a youngster ; a stripling ; a lad.

کوڈگر kodgar, *P. n. m.* A digger ; an excavator.

کوڈن kaudan, *A. n. m.* A pack-horse ; a stupid person ; a simpleton ; *adj.* dull ; stupid ; slow ; thickheaded.

کوڈنا kúdná, **کودنا**, *H. v.* To leap ; to bound ; to jump ; to hop ; (*Met.*) to brag ; to rejoice ; to presume (upon). **کوڈنا پھانڈنا**—phándná, *v.* to leap and jump ; to leap about (as for joy) ; to perform athletic exercise. **کوڈتے پھرتا** kúdté phirná, *v.* to frisk about ; to wander about. **کوڈ کر چلنا**—kud kar chalná, to go by jumps or hops ; to hobble.

کوڈو kodo, **کوڈو** } *H. n. m.* A small grain ;
کوڈون kodon, **کوڈو** } *paspalum, P. kora.* **کوڈون**

کوڈونا—daláná, *v.* to cause one to grind *kodon*, (*Met.*) to make one perform a very difficult task.

کوڈوں کے پڑھنا—de ke parhá, *v.* to get an education at little or no cost ; to fail to pay the extra two-pence for manner.

کوڈر kaur, **کاور**, *H. n. m.* A morsel ; a mouthful.

کوڈر گراس نہ کرنا—grás na karná, *v.* to keep a fast ; to go hungry.

کور kor, **کور**, *H. n. f.* Margin ; edge ; border ; side ; point. **کور کسر**—kasar, a slight deficiency or defect.

کور kor, *P. adj.* Blind ; sightless. **کور باطن**—bátin, *adj.* inwardly blind or dark ; silly ; benighted. **کور بخت**—bakht, *adj.* unlucky ; wretched. **کور نمک**—namak, *adj.* disloyal ; unthankful ; *n.* an ungrateful fellow.

کور kúr, **کور**, *H. adj.* Savage ; cruel.

کور korá, **کورا**, *H. adj.* New ; fresh ; unbleached ; unwashed (cloth) ; blank (paper) ; undressed ; undyed ; unpractised ; untutored ; unlettered ; stupid ; plain ; poor ; *adv.* only. **کور**—bachná, *v.* to escape scot-free ; to escape untouched or unscathed.

کور—bartan, *n.* an unused vessel, (*Met.*) a bachelor ; a virgin.

کور اپن—pan, *n. m.* newness ; inexperience.

کور رکھنا—rakhná, *v.* to send away empty ; to leave blank ; to leave untutored.

کور سننا—kóri sunáná, *v.* to make no secret of ; to speak out plainly ; to abuse.

کورے رکھنا—kore rahná, *v.* to be disappointed ; to draw a blank.

کور kur dih, *P. n. m.* A small thinly populated town or village.

کور kornish, *P. n. f.* Salutation ; homage.

کورنی kurní, **کورنی**, *H. n. f.* A scoop.

کور korá, **کودا**, *H. n. m.* A whip ; lash ; a scourge.

کور مارنا یا لگانا—márná yá lagáná, *v.* to whip ; to lash.

کور kúr, **کور**, *H. n. m.* Dirt ; rubbish ; sweepings ; share ; lot. **کور کرکٹ**—karkaṭ, *n.* refuse ; rubbish ; dung, &c., of stables ; waste paper.

کور kúr, **کور**, *H. n. m.* A blockhead ; a simpleton. **کور مغز**—magz, *adj.* thick-headed ; stupid ; empty-headed.

کور korh, **کور**, *H. n. m.* The leprosy.

کور چرنا یا چرنا—chúná yá ṣapakná, *v.* to be affected with leprosy ; leprosy to break out.

کور میں کھاج نکلنا—meg khaj nikalná, *v.* to catch the itch in leprosy ; to have one misfortune added to another ; one calamity upon another.

کور korhí, **کور**, *H. n. m.* A leper ; *adj.* leprous.

کوزی kúri yá kuṛi, कूड़ी, (Col.) H. n. f. Dirt ; dunghill ; heaps of grass, cow-dung, &c.

کوزی koṛi, कोड़ी, H. n. f. A score ; twenty.

کوزی kauṛi, कौड़ी, H. n. f. A small shell (used as a coin) ; a cowrie ; money ; the breast-bone. بہر کوزی—bhar, *adj.* very little. کوزی کوزی جوڑنا—kauṛi jorṇá, *v.* to save up every farthing. کوزی کو تنگ ہونا—kauṛi ko tagg honá, *v.* to be reduced to abject poverty. کوزی ادا کرنا یا چکنا یا چکنا—kauṛi adá karná yá chukáná, *v.* to pay every farthing ; to pay up in full. کوزی بہر پانا—kauṛi bhar páná, *v.* to receive in full ; to be paid every penny. کوزی کو نہ پوچھنا—ko na púchhná, *v.* to disregard as of little value and unworthy of notice. کوزی کام کا نہیں—kám ka nahín, good for nothing ; worthless. دو کوزی کا—do—ka, *adj.* worth two cowries ; worthless. کوزی کے مول—ke mol, very cheap. کوزی یا پھرتی کوزی یا پھرتی—yá jhanjī—, a broken or worn cowrie ; a bit of money of the lowest value.

کوزیالا kauṛiyálá, कौड़ियाला, H. n. m. A kind of braided or spotted snake ; a king-fisher.

کوز kúz, P. n. m. A hump ; a crooked back. کوز پشت—pusht, *adj.* hump-backed ; *n.* a hunch-back.

کوزہ kuza, n. m. An earthen pot for water ; a jug ; a goblet ; a kind of rose ; a lump of sugar which has been crystallized in an earthen pot. کوزہ میں دریا—men daryá, much in little ; *multum in porco.*

کوس kos, P. n. m. A large kettle-drum.

کوس kos, कोस, H. n. m. A measure of length about two English miles ; a mile-stone. کوسوں در—koson dūr, *adj.* at a great distance far away.

کوسا kosá, कोसा, H. n. m. Curse ; malediction ; a kind of silk. [a young shoot.

کوسلی kosli, कोसली, H. n. f. Soft, new leaves ;

کوسنا kosná, कोसना, H. v. To curse ; to imprecate.

کوش kosh, कोष, S. n. m. A treasury ; a receptacle ; a magazine ; a dictionary ; a lexicon ;

treasure ; an egg. کوش ادھیکش—adhyaksha, n. m. a lexicographer. [heela.

کوش kavsh, P. n. f. A kind of slipper without

کوشش koshish, P. n. f. Attempt ; endeavour ; exertion ; effort. کوشش بیہودہ—i-behúda, a vain attempt. کوشش کرنا—karná, to attempt ; to try ; to strive.

کوشک kúsbak, P. n. A palace ; a citadel ; a castle.

کوفت koft, P. n. f. Pain ; grief ; anguish ; a blow ; bruise. کوفت کوب—kob, n. beating.

کوفت گر—gar, n. m. a gilder. کوفت گری—garí, n. f. steel work inlaid with gold.

کوفتہ kofta, P. *adj.* Pounded ; beaten, thrashed ; inlaid ; distressed ; grieved. کوفتہ کوفتہ balls of pounded meat highly spiced and cooked in soup. کوفتہ بیختہ—beḡhta, pounded and sifted.

کوک kok, कोक, S. n. m. The ruddy goose ; a cuckoo.

کوک kúk, कूक, H. n. f. Crying ; sobbing ; wailing up (a watch, clock, &c.) ; a trill ; screech. کوک مارنا—márná, *v.* to cry ; to screech ; to shriek.

کوکاب kaukab, A. n. m. A star ; a constellation.

کوکر kúkar, कूकर, H. n. m. A dog. کوکر بےسرا—baserá, n. m. a short stay ; a flying visit.

کوکر چال—chál, n. a trot. کوکر چھندی—chhandí, a small wild tree with thick leaves (a plaster made of which is considered a specific for the bite of a mad dog. کوکرتا—muttá, n. m. a mushroom ; a fungus (growing on wood).

کوکری kúkrí, कूकरी, H. n. f. A hitch ; a skein of thread.

کوکیل kokil, कोकिल, } S. n. f. The Indian
کوکیلá kokilá, कोकिला, } cuckoo. کوکیل بیانی—
bainí, *adj.* melodious as the kokil ; having a sweet voice.

کوکنا kúkná, कूकना, H. v. To scream ; to cry ; to vociferate or call (a cuckoo) ; to shriek ; to wind up (a clock). [(postá).

کوکنار koknár, P. n. m. Poppy ; poppy head

کوکنی kokiní, H. *adj.* Short ; small. کوکنی کیلا—kelá, the small table plantain (*champá kelá*).

کوکھ kokh, कोख, H. n. m. The belly ; abdomen. کوکھ باند یا جلی—band yá jalí, n. f. a barren woman.

کولہ kaulá, کولا, H. n. m. Corner, niche; side wall; embrace; a kind of orange.

کولہ kúlá, کولا, } H. n. m. The hip; buttock;
کولہا kúlhá, کولہا } haunch.

کولہال koláhal, کولاہل, H. n. m. Tumult; uproar; noise and revelry; merriment. کولہال کولہال—macháná, v. to make a noise; to cry aloud; to resound with songs of mirth and revelry; to moan.

کولنا kúláná, کولنا, } H. v. To groan; to sigh
کولہنا kúlhána, کولہنا, } through pain.

کولہو kolhú, کولہو, H. n. m. A mill; sugar-mill; an oil-press. کولہو چلانا—chaláni, v. to set up an oilpress or sugar mill, or to run an oil press. کولہو کا بیل—ká bál, n. m. the ox of an oilpress (Met.) a very hardworking person. کولہو کی طرح پلنا—ke bál kí tarah pilná, v. to work like the ox of an oil press; to work very hard. کولہو میں پارا دینا—men pilwá dená, v. to torture; to crush in a mill; to destroy utterly.

کولہی kaulí, کولی, H. n. f. Embrace; grasp of the arms, armful. کولہی بھرنا—bharná, v. to embrace; to take or fold one in the arms; to be avaricious or greedy.

کولہی kolí, کولی, H. n. m. A weaver.

کولہیا koliyá, کولیا, H. n. m. A lane; an alley; a street.

کومل komal, کومل, H. adj. Soft; tender; downy; placid; sweet.

کومالتا komaltá, کومالتا, } H. n. f. Softness;
کومالتائی komaltái, کومالتائی, } tenderness; delicacy.

کومل kúmal, کومل, } H. n. f. A hole made
کونہل kúnhal, کومل, } through a wall, intended for house-breaking; house-breaking; burglary. کومل دینا—dená, to commit burglary; to break into a house by penetrating through the wall (sindh lagána).

کون kaun, A. n. m. Being; existence; essence; nature; the universe. کون و مکان—o-makán, the world; the creation; the universe.

کون kaun, کون, H. pron. Who? which? what? whether? کون سا—sá, which? what? what sort or manner of?

کونہ koná, کونا, H. n. Corner; side. دار کونہ کونہدار, angular.

کونپل koppal, کونپل, H. n. f. A young shoot; bud; new leaves just sprouting. کونپل کونپل یا کونپل—phútná yá nikalná, v. to germinate; to sprout; to shoot.

کونچا kauchá, کونچا, H. n. m. A grain-parcher's iron hook; an iron pan with a handle; broom.

کونچی kúnchi, کونچی, H. n. f. A mason's brush. کونچی بھرنی یا مارنا—pherná yá márná, v. to whitewash; to paint.

کوند kaund, کوند, } H. n. f. Flash (of light-
کوندہ kauḍh, کوندہ, } ning &c.); splendour; brightness; dazzling light

کوندنا kaundná, کوندنا, } H. v. To lighten; to
کوندہنا kaundbná, کوندہنا, } flash; to glitter.

کوندنا kúndá, کوندنا, H. n. m. An earthen jar; a trough; a platter.

کوندی kúndí, کوندی, H. n. f. A stone trough; a stone mortar; a bucket.

کونسل kaunsal, کونسل, H. n. f. (Corr. from the English). Counsel; council. کونسل کونسل—karná, v. to hold a council; to take counsel together; to consult; to intrigue; to plot.

کونین kaunain, A. n. The two worlds, the physical and the spiritual; both kinds of beings, the spiritual and corporeal, men and angels.

کوه koh, P. n. m. A mountain; a hill. کوه آتش کوه آتش خیز—i-átish fishán, —i-átish khez, n. a volcano. کوه بارفانی—barfání, a snowy mountain. کوه پیکر—paikar, mountain-like; huge; bulky. کوه کن—kan, n. m. mountain-digger; an epithet of Farhád. کوه نور—i-núr, n. a large diamond (so called).

کوهان kohán, P. n. m. Hump; a haunch (of a camel or bull, &c.).

کوهانا koháná, کوهانا, H. v. To be angry or displeased with; to feel aversion (for).

کوهار kohar, کوهار, H. n. f. Mist; fog; haze.

کوهستان kohistán, P. n. m. A mountainous country; a hilly tract; a highland.

کوهستانی kohistání, P. adj. Mountainous; hilly; n. m. a hillman; a mountaineer; a highlander.

کوہنی kohní, कोहनी, H. n. f. The elbow. کوہنی دار کرسی—dár kursí, n. f. armchair. مارنا —márná, v. to strike with the elbow; to jostle.

کوہی kohí, कोही, H. n. f. A species of hawk; a falcon (*bairi*).

کوہی kohí, P. adj. Mountainous; hilly.

کوئی koí, कोई, H. pron. Any; some; anybody; somebody; anyone; someone. کوئی چیز—chíz, something. کوئی دم میں—dam meñ, adv. in an instant; shortly; soon; immediately; but now. کوئی سا یا کوئی سی—sá yá koí sí, adj. certain; any; some. کوئی—koí, a few; hardly any. کوئی نہ کوئی—na koí, some one or other. کوئی نہیں—nahín, none; nobody; not any. کوئی ہے—hai, who waits? is there anybody in attendance?

کوہر kuver, कुवेर, S. n. m. The plutus of Hindu mythology; the god of riches.

کوہل koyal, कोयल, H. n. f. The Indian cuckoo.

کوئل koelá, कोयला, H. n. m. Coal; charcoal. کوئلے کی کان koele kí kán, a coal-mine. کوئلے کا کار koele ka jaház, a collier.

کے kí, P. pron. Who? what? which; conj. that; as; because; for; if; whether, &c.

کھہ kih, P. adj. Small; little; slender; mean.

کہا káhá, कहा, H. part. Said; uttered; spoken; n. m. saying; word; speech; discourse; advice; کہا سنی—kahí suní, kahá suná, advice, pleadings; hard language; dispute. کہا کرنا—karná, to carry out the instruction of. کہا ماننا—mánná, to mind or heed the bidding (of); to obey.

کہاد khád, खाद, H. n. f. Dung; manure; کھات khat, खात, refuse; a pit; a subterraneous granary. کہات ڈالنا—dálná, v. to manure.

کہاتا khátá, खाता, H. n. m. An account-book; a day-book; a ledger. کہاتا ڈالنا—dálná, v. to open an account with. کہاتا کرنا—karná, v. to post a ledger. کہاتا واری—vári, entries in a ledger. کہاتا بہی bahí—, n. m. account books.

کہات khát, खाट, H. n. f. A bedstead; a couch. کہات سے لگجانا—se lag jáná, v. to be confined

to bed; to be bedridden. کہات کپتو—khátólá, n. m. household furniture; goods and chattels. کھاج kháj, खज, H. n. f. The itch; cutaneous eruption.

کھاجا khajá, n. m. A kind of sweetmeat like pie crust; food. [land; ricebeds]

کھادر khádar, खादर, H. n. f. Moist alluvial

کھادی khádí, खादी, H. n. f. A very thick and coarse kind of cloth.

کھار kahár, कहार, H. n. m. A tribe of *Shúdras* who draw water, carry palanquins, &c.; a water carrier; a doli-bearer; a scullion.

کھار khár, खार, H. n. m. Impure carbonate of potash or soda; alkali; alkaline earth; saltiness; brackishness. کھار لگنا—lagná, to be impregnated with alkaline salts.

کھارا khárá, खारा, H. adj. Salt; brackish; saline; alkaline; n. m. a net.

کھاروا khárvá, खारवा, H. n. m. A coarse kind of red cotton cloth, used for wrapping up books, parcels, &c.

کھاری khári, खारी, H. n. f. adj. Brackish; saline; alkaline; salt. کھارا پانی—pání, n. f. salt-water impregnated with soda and alkaline earths. کھاری پن—i-pan, n. f. brackishness. کھاری مٹی—mití, n. f. saline soil. کھاری نمک—namak, alkaline salt; sulphate of soda.

کھاری khári, खाड़ी, H. n. f. A bay; a creek.

کھاک khág, खाग, H. n. m. The horn of a rhinoceros; spur of a cock; tusk of a boar.

کھال khál, n. f. Skin; hide; a creek; bellows. کھال اوپاز—upár, n. m. a peeler; a skin-flint; an usurer. کھال اڑھیزنا یا کھال اڑانا—udherná yá—urána, v. to beat black and blue. کھال اڑھیزنا یا کھینچنا—udherná yá khinchná, v. to skin; to flay; to take the skin off. [sloth.

کھالت kahálat, P. n. f. Laziness; indolence;

کھان khán, खान, H. n. f. A mine; quarry; (Met.) heap; abundance.

کھان kahán, कहाँ, H. adv. Where? whither?

کھان تک یا کھان تک—tek yá—talak, adj. how long; how far? کھان سے—se, adv. whence?

کھان کا—ká, adj. of what

place? کہاں کا کہاں—ká—, to what degree? extremely; now here, now there.

کھانا kháná, کھانا, H. *v.* To eat; to devour; to swallow; to eat up; to take (medicine or the air, or a bribe, or an oath); to endure; to suffer; to corrode; to destroy; to pester (*ján khána*). کھانا کھا جانا khá jána, to devour; to swallow; to consume; to rub or wear away; to embezzle; to omit; to harass; to consume; to suffer meekly; to endure. *n. m.* food; eating; dinner; feast. کھانا پینا یا کھانا پان piná yá khán pán, *n. m.* eat and drink; food; board; face; feast; entertainment. کھانا پینا کھانا پینا—piná apg lagná, *v.* to assimilate food; to acquire strength. کھانا پینا نیکالنا kháyá piyá níkalná, *v.* to beat to a mummy. کھانا کھانا دینا یا دینا—karná yá dená, *v.* to give a feast. کھانا کھانا—kháne jog, *adj.* eatable; odible. کھانا کھانا پیتا khátá pitá, *adj.* well-off; in easy circumstances.

کھانا kabána, کھانا, H. *v.* (*Cause of* کھانا Kahná) To cause to tell; to be called or named.

کھانا khánp, کھانا, H. *n. f.* A slice.

کھانا khánpchá, کھانا, H. *n. m.* A basket; a pannier; a hen-coop; a cage.

کھانا khánd, کھانا, H. *n. f.* Coarse sugar. کھانا گالانا galána, *v.* to crystallize sugar.

کھانا khándá, کھانا, H. *n. m.* A double-edged sword; a cutlass; a butcher's cleaver.

کھانا khánpná, کھانا, H. *v.* To cough.

کھانا khánsí, کھانا, H. *n. f.* Cough. کھانا پورانی puráni—, chronic cough or bronchitis.

کھانا khánpkbar, کھانا, H. *n. m.* Anything very dry; *adj.* hard; dry; shrunken up; decayed. کھانا kabáni, کھانا, H. *n. f.* A story; a tale; a fable.

کھانا kháú, کھانا, H. *n. m.* An eater; a glutton; one who receives bribes; a briber; *adj.* voracious; کھانا—uráú, *adj.* extravagant; prodigal; *n. m.* an extravagant person; a spendthrift.

کھانا kaháwat, کھانا, H. *n. f.* A saying; a proverb; an adage. [moat; a drain.

کھانا khái, کھانا, H. *n. f.* A trench; a ditch; a

کھانا khabbá, کھانا, H. *adj.* Left handed; left.

کھانا khapách, کھانا—khapachchí, H. *n. f.* A splinter; a very lean person.

کھانا khapána, کھانا, H. *v.* (*Caus. of* کھانا Khapná). To use; to spend; to make away (with); to destroy; to end; to finish; to dry up; to cause to enter.

کھانا khapat, کھانا, H. *n. f.* Sale; vent; space; consumption; expenditure; outlay.

کھانا khaptá, کھانا, H. *n. m.* A broken tile; a splinter; a chip.

کھانا khappar, کھانا, H. *n. m.* The skull; a chaffing dish; a cup used by *jogis*; the vessel in which the blood of a victim is offered. کھانا—bharná, *v.* to give alms to a *jogi* in his *khapper*; to make a blood-offering.

کھانا khaprá, کھانا, H. *n. m.* A tile; a slice; scale; bark; skin.

کھانا khaprail, کھانا, H. *n. f.* Tiling; a tiled house. کھانا—chhána, *v.* to tile.

کھانا khapná, کھانا, H. *v.* To be dried up; to be used up; to be expended; to pass muster; to sell; to penetrate; to be killed.

کھانا khatta, کھانا, H. *n. m.* A subterraneous granary; a treasure; a heap; a stock; store; an ice pit.

کھانا kohtar, P. *adj.* Less; junior; inferior; low.

کھانا khetari, P. *n. f.* Littleness; smallness; inferiority; minority. [account-book.

کھانا khatauni, کھانا, H. *n. f.* A ledger; an

کھانا khattí, کھانا, H. *n. f.* A store; a heap; an underground granary; wealth. کھانا—bharná, to store up grain in a granary.

کھانا khatyána, کھانا (کھانا), H. *v.* To post a ledger; to enter in an account-book.

کھانا khaṭ (S. षट्), H. *adj.* Six. کھانا—pad, *n. m.* six-legged, an insect; a large bee. کھانا—sháster, the six philosophical systems of the Hindus, *viz*, Nyáya, Vaishe-shika, Sánkhya, Yog, Mimánsa, Vedánta.

کھانا khaṭ, کھانا, H. *n. f.* (*Contra. of* کھانا Khaṭ). Bedstead; bed, (*used in comp. as*) کھانا—buná, a bedweaver. کھانا—mal, a bg.

کہتا khatṭa, खट्टा, H. *adj.* Sour; acid; tart; *n.* a citron. کہتا چوک—chūk, *adj.* very sour.
 کہتا سا—sā *adj.* sourish; acetous. کہتا ساگ—
 sāg, *n. m.* the herb sorrel. کہتا میٹھا یا کہتا میٹھا—
 miṭhā yā khatmiṭhā, *adj.* sour and sweet.
 کہتا ہونا—honā, *v.* to turn sour. جی کہتا ہونا
 jī—honā, *v.* to take offence.
 کہتا پٹی khatā patī, खटा पटी, H. *n. f.* Wrangling.
 کہتا پٹی ہونا—honā, *v.* to quarrel; to wrangle.
 کہتا کھٹا khatās, खटास, H. *n. m.* Acidity; sourness.
 کہتا کھٹا khatāī, खटाई, H. *n. f.* Sourness; acidity;
 acid. کہتا کھٹا میں پرنا—men parnā, *v.* to be
 indefinitely deferred; to be put or laid aside.
 کہتا کھٹا میں ڈال رکھنا—men dāl rakhnā, (*Met.*)
 to keep in a state of suspense; to shilly
 shally with.
 کہتا کھٹا khatāī, खुटाई, H. *n. f.* Wickedness;
 naughtiness; treachery; malice; adulteration;
 alloy; flaw; defect; blemish (*khatāpan*).
 کہتا کھٹک khatik, खटिक, H. *n. m.* A hunter; a
 fowler. (See *khatīk*).
 کہتا کھٹکا khatkā, खटका, H. *n. m.* Fear; apprehen-
 sion; doubt; hitch (in the mind), anxiety;
 abodement; presentiment; a bolt; tap; con-
 cern; loss; sound of footsteps. کہتا لگنا—
 lagnā, *v.* to fear; to doubt; to be apprehensive.
 کہتا کھٹکے be khatke, without scruple or mis-
 giving; unhesitatingly; easily.
 کہتا کھٹکانا khatkānā, खटकाना, H. *v.* To rap; to knock.
 کہتا کھٹکانا khatkānā, खटकाना, H. *v.* To rattle; to
 clash; to be struck with; to rankle; to
 offend; to doubt; to cut dead; to be an
 eye-sore (to).
 کہتا کھٹکانا khatkānā, खुटकाना, H. *v.* To nibble; to
 pack; to break by pricking, &c. to come out
 of the egg.
 کہتا کھٹکا khatkhat, खटखट, H. *n. f.* Rattling;
 knock; noise.
 کہتا کھٹکا khatkhatā, खटखटा (Col.) H. *n. m.*
 Puzzle; complication; difficulty; care;
 wordly affairs.
 کہتا کھٹکیر khatkīr, खटकीर, } H. *n. m.* A bug.
 کہتا کھٹمال khatīmal, खटमल, }
 کہتا کھٹالو khatolā, खटोला, H. *n. m.* A small bedstead.

کہتا کھٹیا khatyā, (खटिया), H. *n. f.* A bedstead; a
 bier. کہتا نکالنا—nikalnā, *v.* to die (a common
 form of cursing); See کہتا khatī.
 کہتا کھج khij, खीज (खीझ), H. *n. f.* Vexation; irri-
 tation; teasing; fretfulness; nickname. کہتا
 نکالنا—nikalnā, *v.* to banter; to call by a
 nickname; to mock; to scoff; to jeer.
 کہتا کھجانا khijānā, खिजाना, H. *v.* To tease; to irri-
 tate; to call by a nickname; to make faces
 at; to mock.
 کہتا کھجانا khujānā, खुजाना, H. *v.* To have the itch;
 to scratch; to rub gently with the nails.
 کہتا کھجانا khijlanā, H. *v. i.* To get angry.
 کہتا کھجلاہٹ kujlahāṭ, A. *n. f.* Itching.
 کہتا کھجلی khujlī, खुजली, H. *n. f.* The itch; the
 mange (in dogs). کہتا کھجلی یا کھجلی—
 chalnā yā uṭhnā, *v.* to itch; to feel itchy; the itch
 to break out.
 کہتا کھجور khajūr, खजूर, H. *n. m.* A date; a date
 tree; a sweetmeat. کہتا کھجور—
 chharī, *n. f.* a kind of silk cloth.
 کہتا کھچا khichā, खिचा, H. *adj.* Tight; tense;
 pulled up; drawn; attracted; tightened;
 extracted; drawn (as a figure); sketched;
 slender.
 کہتا کھچا khachā khach, H. *adj.* Crowded;
 close; thick. کہتا کھچا—
 bbarnā, *v.* to stuff together; to crowd to repletion.
 کہتا کھچا khichāo, खिचाव, H. *n. m.* } Pull;
 کہتا کھچا khichavaṭ, खिचावट, H. *n. f.* } drag; at-
 traction; tightness; tension.
 کہتا کھچری khichrī, खिचरी, H. *n. f.* A dish made of
 split pulse and rice boiled together; a mix-
 ture; hodge podge; mixture of black and
 grey hairs. کہتا کھچری پکنا—
 paknā, a plan to be
 concocted.
 کہتا کھچا khachkhach, खचखच, H. *n. f.* Plash;
 the sound made by walking in mire.
 کہتا کھچنا khichnā, खिचना, H. *v.* To be drawn; to be
 attracted; to be extracted; to stretch; to be
 absorbed; to be endured; to be transferred;
 to hold or keep aloof (from); to be tightened;
 to be sketched; to be delineated.

کھدبد khadbād, खदबद, H. n. f. Bubbling ; boiling.

کھدبدانا khadbādānā, H. v. To simmer ; to bubble ; to make a boiling noise ; to boil

کھدرا khudrā, खुद्रा, H. adj. Rough ; uneven ; unpolished.

کھدنا khudnā, खुदना, H. v. To be dug ; to be engraved ; to be carved.

کھدوانا khudwānā, खुदवाना, H. v. To cause to dig ; to cause to engrave.

کھدیر khader, खदेर, H. n. f. Pursuit ; chase.

کھدیرنا khadernā, खदेरना, H. v. To pursue ; to hunt ; to drive out. [valley.

کھاḍ khāḍ, खुड, H. n. m. A pit ; an abyss ; a

کھاḍ khar, खर, H. n. f. Dry grass ; straw ; weeds.

کھاḍ khur, खुर, H. n. m. A cloven ; a hoof ; n. f. coughing. کھاḍ کھاḍ کھاḍ—khur karnā, v. to cough.

کھاḍ kharrā, खर्रा, H. n. m. A draft ; a schedule ; rough account ; memorandum of a transaction ; a bundle of papers ; an instrument to rub horses with ; a curry-comb.

کھاḍ kharā, खरा, H. adj. Pure ; frank ; genuine ; strict ; straightforward ; honest ; true ; sincere ; right ; good ; fair ; standard (as weight) ; valid (as a bargain, etc.) کھاḍ اسامی—asāmī, a good paymaster ; a trustworthy person.

کھاḍ kharānd, खर्रांड, H. n. m. Snoring. کھاḍ کھاḍ—mārnā, to snore. [lamentation.

کھاḍ kohrām, P. n. m. Weeping and wailing ;

کھاḍ kharānd, खर्रांड, H. n. f. A brackish taste ; a burnt taste ; a stink.

کھاḍ kharb yā kharab, खर्व, H. adj. A billion.

کھاḍ kahrubā, P. n. m. Amber ; oriental anime ; gum-resin.

کھاḍ kabrubāī, P. adj. Of or like amber ; electrical ; n. f. attraction of straws ; electricity.

کھاḍ khurpā, खुरपा, H. n. f. Spade ; hoe ; a weeding knife.

کھاḍ khartal, खरतल, H. adj. Good ; fair ; pure ; candid ; true ; exact. کھاḍ کھاḍ—kahnā, v. to to speak freely.

کھاḍ kharchā, खर्चा, H. n. m. A toothpick.

کھاḍ khurchan, खुर्चन, H. n. f. Potscrapings ; milkscrapings ; sweetmeat.

کھاḍ khurachnā, खुरचना, H. v. To scrape ; to erase ; to abrade.

کھاḍ khurchanī, खुर्चनी, H. n. f. A scraper ; a shovel ; an eraser.

کھاḍ khur-dār, खुरदार, H. adj. Hoofed.

کھاḍ khurdarā, खुर्दारा, H. adj. Rough ; uneven ; unpolished ; harsh ; shaggy ; wrinkled.

کھاḍ khirsā, खीरसा, H. n. m. A dish made with biestings or the milk of a cow just calved.

کھاḍ kharsā, खरसा, H. n. m. Summer ; a dry season.

کھاḍ kharsailā, खरसैला, H. adj. Scabby ; mangy. [crisp ; wrinkled.

کھاḍ khurkhurā, खुरखुरा, H. adj. Rough ;

کھاḍ kharal, खरल, H. n. m. A mortar. کھاḍ کھاḍ—karnā, v. to pulverize ; to powder ; to pound.

کھاḍ khiran, खिरन, H. n. f. A black ring painted on a tambourine. [causeway brick.

کھاḍ kharanjā, खरान्जा, H. n. m. Pavement ;

کھاḍ khurand, خوراند, H. n. m. The crust which forms on a healing wound or sore ; a scab ; a scale. کھاḍ کھاḍ یا جمنا—bandhnā yā jamnā, v. to form a scab.

کھاḍ kaharvā, कहरवा, H. n. m. A kind of song generally sung in the morning.

کھاḍ kharuṅṅ, खरुण्ट, H. n. m. A scratch ; a graze. کھاḍ کھاḍ—ānā, v. to be scratched.

کھاḍ kharuḥnā, खरुचना, H. v. To scratch ; to scrape ; to erase.

کھاḍ kharhā, खरहा, H. n. m. A rabbit ; a hare.

کھاḍ kharī, खरी, H. n. f. Oil cake ; chalk ; white clay ; adj. pure ; good ; genuine. کھاḍ کھاḍ یا پوتنا یا پھرنا—potnā yā phernā, v. to white-wash.

کھاḍ khariyā, खरिया, H. n. f. A cup shaped instrument formed of a cocoanut-shell or other material to crimp clothes.

کہریا khuriya, खोरिया, H. n. f. The knee-pan.
 کہریا kharairá yá khurairá, खरैरा खुरैरा, H. n. m. A curry comb. کہریا karná, v. to curry-comb.
 کہریا kharairí, खरैडी, H. adj. Rough ; bare ; without bedding.
 کہریا khará, खड़ा, H. adj. Standing ; erect ; upright ; ready ; ripe ; perpendicular ; vertical ; half cooked ; steep ; adj. at anchor ; moored ; aground ; in visiting ; at call ; perpetual ; constant ; in abeyance ; standing over. کہریا—kharí pachháren kháná, v. to be struck down by a sudden calamity کہریا—rahná, v. to stand ; to remain standing ; to wait. کہریا—qad, upright figure. کہریا—karná, v. to cause to stand up ; to erect ; to raise ; to place ; to station ; to set on foot ; to institute ; to bring to a stand ; to turn out ; to realize ; to stir up ; to pitch (a tent) ; to stop ; to set up ; to baste ; to procure a fictitious person for some purpose ; to build. کہریا—khet, n. m. standing crop. کہریا—honá, v. to stand ; to stand up ; to be erect ; to be instituted ; to rise ; to rear ; to be basted ; to side with ; to be built ; to be pitched ; to be ready. کہریا—kharé kharé, adj. standing all the while ; soon ; just now ; for a short while. کہریا—kharé ghaṭṭ dhulwáná, v. to get the clothes washed quickly at a ghaṭṭ without boiling them.
 کہریا knarāgo, खड़ाव, } H. n. m. Sandals ;
 کہریا kharānūp, खड़ाऊँ } pattens.
 کہریا kharbarahat, खडबड़ाहट, } H. n. f. Clat-
 کہریا kharbarí, खडबडी, } ter ; tumult ;
 uproar ; noise of horse's feet.
 کہریا kharṭal, खडतल, H. adj. Harsh ; severe ; vile ; wicked ; tiresome.
 کہریا kharśán, खडसान, H. n. m. A whetstone ; a bone ; a grindstone.
 کہریا kharakná, खड़कना, H. v. To rattle ; to clang ; to rustle ; to quarrel.
 کہریا kharḱharáná, खड़खड़ाना, H. v. To rattle ; to knock ; to rap.
 کہریا kharḱharáhát, खड़खड़ाहट, H. n. f. Rattle ; clatter ; jarring.

کہریا kharíki, खिड़की, H. n. f. A window, back door wicket ; gate ; shutter.
 کہریا kharak, खड़क (खड़ग S.) H. n. m. A sword.
 کہریا kharāṅk, खड़क, } H. adj. Dry ; stiff ;
 کہریا kharāṅkh, खड़ख, } brittle.
 کہریا kharuá, खडुवा, H. n. m. A bracelet ; a bangle ; an anklet. [a mountain.
 کہریا kuhsár, P. n. m. A mountaneous country.
 کہریا khisári, H. n. f. A kind of pulse.
 کہریا khasra, खसरा, H. n. m. The measles ; a kind of eruptive disease.
 کہریا khusar phusar, खुसर फुसर, H. n. m. Whispering. کہریا—karná, v. to whisper ; to talk in a whisper.
 کہریا khiskáná yá khaskáná, खिसकाना या खसकाना H. v. To remove ; to move ; to shove out of the way ; to draw back ; to slip into the hand of ; to steal ; to make off with.
 کہریا khisak jáná, खिसक जाना, H. v. To steal away ; to slip away ; to slink away ; to sheer off ; to decamp ; to abscond. [away.
 کہریا khisakná, खिसकना, H. v. To stir ; to slip
 کہریا khaskaut, खसकन्त, H. n. f. Running away ; flight ; departure.
 کہریا khaskhas, खसखस, H. n. f. The poppy head. (P. *hashphash*.)
 کہریا khisláo, n. m. खिसलाओ, } H. Slipperi-
 کہریا khislábat, n. f. खिसलाहट } ness ; slipping.
 کہریا khisalná, खिसलना, H. v. To slip ; to slide ; to lean towards ; adj. slippery. کہریا—parná, to slip down.
 کہریا khasná yá khisná, खसना खिसना, H. v. To drop off ; to sink ; to fall ; to become old ; to be worn out.
 کہریا khasoṭná, खसोटना, H. v. To scratch ; to tear ; to pull ; to pluck.
 کہریا khisiyáná, खिसियाना, H. adj. Peevish ; mortified ; abashed ; bashful ; humiliated ; ready to cry. کہریا—ho jáná, v. to look blank ; to be ready to cry ; to fret ; to be abashed ; to grin ; to gnash the teeth.
 کہریا khisiyánpat, खिसियानपट, } H. n. f. Hu-
 کہریا khisiyánpan, खिसियानपन, } miliation ;
 mortification ; fretfulness ; vexation.

کھف kahf, A. n. A cave ; a large cavern ; a grotto.

کھک kuhuk, कुहुक, H. n. f. The notes of the Indian cuckoo or the peacock.

کھکش kahkasháp, P. n. f. The milky way ; galaxy ; the lacteal line.

کھکھ khukh, खुख, H. adj. Empty ; poor ; n. nothing. کھکھ—mukh, n. the game of nothing and something.

کھکھوڑنا khakhoṛná, खकौड़ना, H. v. To scoop ; to scrape ; to scoop out ; to search out.

کھک khag, खग, S. n. m. A bird ; a crow.

کھگیش khagesh, खगेश, S. n. m. (Lit.) Lord of birds ; the bird of Vishnu.

کھگیل kahgil, P. n. f. A mixture of grass and mud to plaster walls with. کھگیل—karná, v. to plaster walls with kahgil.

کھک kahal, A. n. f. Sloth ; indolence ; languor (káhil).

کھک khal, खल, H. n. m. A worthless person ; a malicious person ; adj. low ; base ; vile ; shallow ; wicked ; worthless.

کھکھ khulá, खुला, H. adj. Open ; exposed ; unclouded ; unrestrained ; loose ; expanded ; unfolded ; direct ; manifest ; unfastened ; unlocked. کھکھ—khulá, adj. open ; fair. کھکھ خزانے یا کھکھ میدانے یا کھکھ یا کھکھ khule khazáve, yá khule maidán, yá khule khule, yá khullam khullá, adj. openly ; publicly ; fearlessly ; in broad daylight.

کھکھ khilár, खिलाड़, H. adj. Playful ; sportive ; frolicsome ; wanton ; full of tricks ; n. m. a gamester ; a juggler ; a conjurer ; a player ; an adept at any game.

کھکھ khiláná, खिलाणा, H. n. (Caus. of کھکھ Kháná, or کھکھ Khehá or کھکھ Khilná). To feed ; to cause to take an oath ; to administer (poison) ; to cause to suffer, or undergo (as beating) ; to support ; to bribe ; to cause to play ; to amuse ; to dandle ; to charm ; to sport with ; to amuse ; to divert (a child) ; to gamble ; to cause one to show the influence of evil spirits ; to make to blossom ; to crack ; to parch.

کھکھ kahláná, कहलाना, H. v. (Caus. of کھکھ Káhná). To cause to say ; to be called ; to cause to recommend ; to cause to reprove.

کھکھ khiláú, खिलाऊ, H. n. m. Feeder ; supporter.

کھکھ khiláí, खिलाई, H. n. f. Feeding. کھکھ—píláí, n. f. charge of maintenance.

کھکھ—píláí, n. f. charge of maintenance. کھکھ—dái, a dry nurse.

کھکھ khalbaláná, खलबलाना, H. v. To bubble ; to boil ; to be agitated ; to be in commotion.

کھکھ khalbal, खलबल, H. n. f. Hurlyburly ; commotion ; alarm ; bustle ; disorder ; agitation. کھکھ—párná, a commotion to arise ; to be agitated. کھکھ—dálná, to create confusion or a panic ; to throw into confusion.

کھکھ khilkhil, सिलखिल, H. n. f. Titter ; giggle ; burst of laughter.

کھکھ khilkhiláná, खिलखिलाना, H. v. To giggle ; to laugh heartily ; to rattle together.

کھکھ khilná, खिलना, H. v. To blow ; to flower ; to swell ; to be kept separate ; to be broken ; to be parched ; to suit ; to be delighted.

کھکھ khulná, खुलना, H. v. To open ; to be opened ; to be opened out (stitches) ; to be set at liberty ; to be cheated ; to be dispersed (clouds) ; to be untied ; to be exposed ; to be revealed ; to be disentangled ; to be laid bare ; to be cut open (the head) ; to be manifest ; to brighten up ; to shine ; to be encouraged or emboldened. کھکھ—bhúk—, to recover one's appetite.

کھکھ khilandrá, खिलंदरा, H. adj. Playsome ; playful ; frolicsome.

کھکھ khilváṛ, खिलावाड़, H. adj. Playsome ; sportive ; droll ; humorous.

کھکھ khilauná yá khiloná, खिलौना, H. n. m. A toy ; a gewgaw ; a bauble ; a jester ; a plaything. کھکھ—kháná ká—, n. m. a sugar toy.

کھکھ khálí, n. m. Oil-cake.

کھکھ khillí, खिल्ली, H. n. f. Jest ; chaff ; humour.

کھکھ—báz, adj. witty ; humorous ; playful. کھکھ—bází, n. m. flirtation ; fun ; jocularly.

کھکھ khaliyán, खलियान, H. n. f. A barn.

کھالیانا khaliyána, खलियाना, H. *v.* To flay; to peel.
 کھم kham, (S) } H. *n. m.* A pillar; a
 کھمبا khambá, खम्बा, } column; a post.
 کھمب khamb खम्ब,

کھامس khamas, H. *adj.* Hot; sultry.

کھان kham, खन, H. *n. m.* A story (of a house);
 a pit; a certain day of the lunar fortnight;
n. f. a clink.

کھیننا khinna, खिन्न, S. *adj.* Afflicted; distressed.

کھن kuhan, P. *adj.* Old; ancient, کهن سال—
 sál, *adj.* aged; old; advanced in years. کهن
 سالی—sálí, *n. f.* old age.

کھن kahan, कहन, H. *n.* Saying; proverb.

کھنا kahná, कहना, H. *v.* To tell; to say; to
 speak; to relate; to order; to recommend;
 to declare; to advise; to avow; to call; to
 name; to read; to quote; *n. m.* a saying;
 a proverb; a command; an advice; a remark;
 an order. کھنا کرنا—karná, *v.* to do one's
 bidding; to carry out the instructions of.
 کھنا نہ ماننا—na mánná, *v.* to disobey.

کھنبا khabá, } H. *n. m.* See کھم Kham.
 کھمبا khambá, खम्ब,

کھنتی khandí, खंती, H. *n. f.* A dibble; a paddle
 for digging the ground with. [bourine.

کھنجری khandjarí, खंजरी, H. *n. f.* A small tam-
 bura; a small bird; a wagtail; the spotted fork-tail.

کھندری khindrí, H. *n. f.* A patched garment;
 A beggar's bedding.

کھندلانا khundálná, H. *v.* To tread; to trample.

کھند khand, खण्ड S. *n. m.* Portion; part; piece;
 division; section; chapter; storey; region;
 quarter; district; province; washerman's
 songs.

کھندانا khindána, H. *v.* Caus. of کھندنا Khindná),
 To scatter; to disperse.

کھندت khandít, H. *adj.* Broken (faith or alle-
 giance) torn; cut; destroyed; interrupted;
 revoked; betrayed. کھندت کرنا—karná, *v.* to
 break; to interrupt; to spoil; to destroy.

کھنڈار khandar, H. *n. m.* The ruins of a town or
 house; a tumbled down building.

کھنڈ سالی khand sál, H. *n. f.* sugar factory.

کھندن khandan, H. *n. m.* Breaking; cutting;
 refutation. کھندن کرنا—karná, *v.* to break;
 to cut; to refuse; to destroy.

کھندنا khindná, H. *v.* To be scattered; to be
 dispersed; to be spread or broadcast; to be
 wasted or dissipated; to be spilt; to be crum-
 bled; to persist; to be jumbled.

کھنس khunas, H. *n. f.* Enmity; anger; spite;
 rancour; hatred; envy. کھنس نکالنا—nikálná,
v. to vent one's spite.

کھنسانا khunsána, H. *v.* To be angry; to be
 irritated or wrathful; to be cross; to hate.

کھنکانا khankána, H. *v.* To chink; to jingle.

کھنکانا khunakná yá khandakná, H. *v.* To jingle;
 to ring; to clink; to chink (money).

کھنکار khankhár, H. *d. m.* Phlegm; spittle.

کھنکارنا khankhárna, H. *v.* To hawk; to ex-
 pectorate; to cough; to hem.

کھنکار khankhar, H. *adv.* Dry and crackling;
 stiff; *n. m.* a skeleton. [clean.

کھنگالنا khangálná, H. *v.* To wash; to rinse; to
 khengar, H. *n. m.* Over burnt brick; any-
 thing dry and hard.

کھنگال khangal, } H. *adj.* Tusked.
 کھنگال khangail,

کھنہ kahná, P. *adj.* Ancient; old.

کھنی kahní, कुहनी, H. *n. f.* The elbow.

کھو kho, खो, H. *n. f.* A cave.

کھوا khavá, खावा, H. *n. m.* The shoulder.

کھوپ khop, खोप, H. *n. f.* A cave; a fissure; a
 stitch.

کھوپرا khoprá, खोपरा, } H. *n. m.* A cocoanut;
 کھوپڑا khoprá खोपड़ा, } the kernel of a cocoanut;
 skull.

کھوپری khoprí, } H. *n. f.* The skull; cranium;
 کھوپڑی khoprí, } pate; head.

کھوپڑی bajána, *v.* to break one's head; to kill.
 کھا جانا—khá jáná, *v. (Lit.)* to eat one's head
 off; to plague; to pester.

کھوپڑی گنتی کرنا—
 ganjí karná, *v.* to beat severely.

کھوت khoṭ, खोट, H. *n. f.* Defect; fault; blunder;
 injury; vice; alloy; fraud; insincerity.

کھوت کرنا—karná, *v.* to commit a fault; to inflict

loss on; to injure. **کھوت ملانا**—*miláná, v.* to alloy. **کھوت نکالنا**—*nikálná, v.* to remove the impurity of; to find fault with.

کھوٹا *khōṭá, खोटá, H. adj.* False; perfidious; counterfeit; spurious; faulty; defective; revengeful; impure. **کھوٹا ارادہ**—*irada, a* sinister design. **کھوٹا دکھنا**—*khará dekhná, to* distinguish or separate good from bad. **کھوٹا کھری سنانا**—*khōṭi khari sunána, v.* to revile; to abuse. **کھوٹا کھنا**—*khōṭi kahná, v.* to speak against; to revile. **کھوٹا ساعت**—*khōṭi sa'it n. f.* an inauspicious moment.

کھوٹائی *khōṭáí, खोटई, H. n. f.* Falseness; perfidy; alloy; defect.

کھوٹنا *khōṭná, खोटना, H. v.* To pluck; to pick.

کھوج *khōj, खोज, H. n. m.* Search; detection; inquiry; trace (*talásh, paid*). **کھوج**—*khaj, n. f.* inquiry; vexation; strict search. **کھوج لگانا**—*lagáná, to* trace; to follow, as a clue. **کھوج میں رہنا**—*men rahná, to* endeavour to pick a hole in another's coat. **کھوج نکالنا**—*nikálná, to* discover the track of.

کھوٹھ *khújhá, खूजा, H. n. m.* Precipitate; dregs; sediment; refuse.

کھوٹھنا *khōjhná, खोजना, H. v.* To seek; to search for; to inquire; to explore. **کھوٹھنے والا** *khōjnewálá, a* searcher.

کھوٹی *khōjī, खोजी* } *H. n. m.* A searcher; an investigator; a detective; an inquisitive person.

کھوٹییا *khōjīyá, खोजिया* }

کھوچار *khochar, खोचद, H. n. m.* One who puts a spoke in other people's affairs; a wicked person.

کھودانا *khodáná, खोदाना, H. v. (Caus. of* *Khodná.) To* cause to dig; to cause to engrave.

کھود بیوا *khod bevád, खोद बिवाद, H. n. m.* Inquiry; search; cross-examination.

کھودرا *khodrá, खोदरा, H. adj.* Pock-marked; rough.

کھودنا *khodná, खोदना, H. v.* To dig; to scoop; to delve; to hollow; to engrave; to carve; to search for; to investigate. **کھود کے چاروں**—*khōd ke chārōn*

khod khod ke púchhná, v. to question closely; to cross examine; to investigate minutely.

کھور *khōr, खोर, H. n. f.* A cave; a cover; a quilt; a lane.

کھورا *khaura, खौरा, H. n. m.* The rot (among sheep); the falling off of the hair.

کھورہ *khaurú, खौरू, H. n. m.* Digging the earth with the hoofs (as an ox); pawing the ground and bellowing. **کھورہ کرنا**—*kárná, to* scrape the ground with the hoof.

کھوساٹ *khúsaṭ, खूसट, H. adj.* Weak; decrepit; worthless; *n. m.* a decrepit old man; a worthless fellow.

کھوسنا *khosná, खोसना, H. v.* To snatch; to pluck; to stick in; to insert; to thrust (into); to stuff.

کھوٹھ *khokhá, खोखा, H. n. m. (Con.)* A paid bill of exchange kept as a voucher; a boy; a little child, (dialect).

کھوٹھلا *khokhlá, खोखला, H. adj.* Hollow; excavated.

کھوٹھی *khokhí, खोखी, H. n. f.* An insect; a little girl; cough.

کھول *khōl, खोल, H. n. m.* A hollow; a cavity; a case; scales; the body or hull of a boat or ship. **کھول بندی** *khōl bandí, n. f.* removing the shoes of a horse.

کھولانا *khauláná, खौलाना, H. v. (Caus. of* *Khaulná.) To* cause to boil.

کھولنا *khaulná, खौलना, H. v.* To boil; to effervesce; to be fervid or excited.

کھولنا *kholná, खौलना, H. v.* To open; to untie; to unfold; to uncover; to unmoor; to solve.

کھونا *khoná, खोना, H. v.* To lose; to waste; to fall off; to do or make with; to squander.

کھوپا *khoppá, खोपा, H. n. m.* The hair of the head braided or tied up on the top; hair-knot (*júrá*).

کھونٹھا *khonthá, खोथा, H. n. m.* A bird's nest.

کھونٹ *khúṅṭ, खूंट, H. n. m.* A corner; an angle; side; direction; pivot; ear wax; portion. **کھونٹ چاروں**—*chārōn*, the four corners or quarters of the world.

کھونٹا *khúntá*, کھونٹا, *H. adj.* A peg ; a nail ; the upright post in an oil press or sugar-mill ; a tent pin. کھونٹے کے بل کھونٹا *khúntē ke bal kúdná, v.* to become insolent, relying on another's protection. [of the hair.

کھونٹی *khúntī*, کھونٹی, *H. n. f.* A pin ; a peg ; root کھونچ *khouch*, کھونچ, *H. n. f.* Scratch ; rip ; stab ; a cut or rent in cloth, &c. کھونچ آنا یا لگنا *—áná yá lagná,* to be torn by a nail ; to receive a scratch or rip.

کھونچ *khaunch*, کھونچ, *H. n. f.* The cavity formed by putting the hands together and holding the palms as if to receive water.

کھونچا *khonchá*, کھونچا, *H. n. m.* Stuffing ; thrust.

کھونچا *khaunchá*, کھونچا, *H. n. m.* The multiplication table of $6\frac{1}{2}$ times.

کھونچی *khonchī*, کھونچی, *H. n. f.* Stuffing ; anything inserted in another ; trifling purchases ; part of grain which is to be parched, taken as payment by the grain-parcher.

کھوندنا *khúndná*, کھوندنا, *H. v.* To dig up ; to trample on ; to tread.

کھونسننا *khonśná*, کھونسننا, *H. v.* To stuff ; to thrust in ; to insert.

کھونکھنا *knokhná*, کھونکھنا, *H. v.* To cough.

کھونکھی *khonkhī*, کھونکھی, *H. n. f.* Cough ; asthma.

کھوہ *khoh*, کھوہ, *H. n. m.* A cavern ; a pit ; a cave ; a den.

کھوئی *khói*, کھوئی, *H. n. f.* The dry part of sugar-cane after extracting the juice ; husk ; refuse ; a hood worn as a protection against rain ; swollen fried grain (*khil, lárá*). [who rows.

کھوویا *khivaiyá*, کھوویا, *H. n. m.* A boatman ; one

کھوویا *khavaiyá*, کھوویا, *H. n. m.* An eater.

کھوویا *kahwaiyá*, کھوویا, *H. n. m.* A speaker.

کھیانا *khianá*, کھیانا, *H. v.* To be worn off ; to be abraded.

کھپ *khep*, کھپ, *H. n. f.* A trip ; a voyage ; a turn ; an assortment ; a cargo. کھپ بھرننا *—bharná, v.* to load.

کھست *khst*, کھست, *H. n. m.* A field ; surface ; land ; crop, battlefield ; soil, breed ; (in *Geom.*) a

plain ; superficies. آنا کھیت *—áná,* to be slain in the field (of battle). نرانا کھیت *—niráná,* to weed a field. چھورنا کھیت *—chhorná, v.* to flee from the battle. کمانا کھیت *—kamáná, v.* to manure a field. وار کھیت *—wár,* by fields ; per field. وار جمع بندی کھیت *—wár jama'bandi,* amount of the revenue assessed upon each field.

کھتی *khetī*, کھتی, *H. n. f.* Husbandry, agriculture ; farming. باری کھیتی *—bārī, n. f.* husbandry ; tillage. باری کرنا کھیتی *—bārī karná, v.* to cultivate ; to till. جوگ کھیتی *—jog, adj.* arable ; fit for cultivation. ہر کھیتی *—har, n. m.* a cultivator ; a husbandman. آگیتی کھیتی *—ágeti—* early crop. پچھتی کھیتی *pichhetī—* late crop.

کھد *khed*, کھد, *H. n. f.* Sickness ; regret ; sorrow ; grief ; affliction.

کھدا *khedá*, کھدا, *H. n. m.* A trap or enclosure for catching elephants.

کھدنا *khedná, H. v.* To be disagreeable ; to be injurious ; to drive away ; to chase ; to persecute.

کھیر *khīr*, کھیر, *H. n. f.* Rice cooked in milk ; an Indian dish or rice boiled in milk, with the addition of sugar, and sometimes spices and kernels. چٹائی کھیر *—chaṭái, n. f.* the first feeding of a child with *khīr* ; the ceremony of weaning. کھیر کا دلیا ہو جانا *—ká daliyá ho jáná (Lit.)* 'to be changed from *khīr* to coarse meal' ; to suffer a reverse of fortune ; to be ruined or marred (a hope, or aim). (*kattá*).

کھیر *khair*, کھیر, *H. n. m.* Catechu extract.

کھیرا *khairá*, کھیرا, *H. n. m.* A pigeon ; the left hand ; *adj.* brown ; of the colour of catechu.

کھیرا *khírá, H. n. m.* A cucumber.

کھیروگ *khairog*, کھیروگ, *H. n. m.* Consumption ; *pulmonalis* [(*ánwal, ná*).

کھیری *kherī*, کھیری, *H. n. m.* The afterbirth

کھیری *khíri*, کھیری, *H. n. m.* The udder ; breast ; pap.

کھیرا *kherá*, کھیرا, *H. n. m.* A village ; a mixture of different grains. پتی کھیرا *—patī, n. m.* a village priest ; a village headman.

کھیس khes, خیس, H. n. m. Damask; diaper; a sheet or wrapper of a kind of figured cloth.

کھیس khís, خیس, H. n. f. Grinning; showing the teeth; shrug; grimace; loss; waste. کھیس کھیس—niporná, v. to grin; to simper.

کھیس khisá, خیسا, H. n. m. (Corr. of کیس Kisa). A purse; a pocket; a rough glove or rubber (used in bath) [of rice; a particle.

کھیل khíl, خیل, H. n. f. Inflated parched grain
کھیل khel, खेल, H. n. m. Play; sport; fun; tricks; a water trough for cattle. کھیل سم کھیل—samajhná, v. to regard as mere play.

کھیلنا khelná, खेलना, H. v. To play; to sport; to gamble; to act; to frisk; to nod the head under the influence of a spirit. جان پر کھیل جانا ján par khel jáná, to play out (one's part, or life); to die.

کھیلی khílí, خیلی, H. n. f. Betel-fold.

کھیم کھال khem kushal, हेमकुराल, H. n. f. Health; welfare.

کھیں kahín, कहाँ, H. adv. Wherever; anywhere; somewhere; perchance. اور کھیں—aur, elsewhere. سے کھیں—se, from anywhere. کا کھیں—ká kahín, far off. کھیں کھیں—kahín, here and there; in a few places. کھیں نہ کھیں—na kahín, somewhere or other. کھیں نہی—nahín, nowhere.

کھیں kihín, P. adj. Least; youngest; junior. کھیں و کھیں—o-mihín, the small and the great.

کھینا khená, کھینا, کھینا, کھینا, H. v. To row; to paddle.

کھینچ khainch, खैच, H. n. f. Pull; attraction; drawing; holding (from); aversion; scarcity.

کھینچا کھینچا khainchá khainch, खैचा खैच }
کھینچا کھینچا khainchá khainchí, खैचा खैची }
H. n. f. Pulling and hauling; struggle; contention; tug of war.

کھینچا کھینچا khainchá, ताना, खैचा तानी, H. n. f. Stretching and straining; struggle; difficulties; scuffle.

کھینچنا khaichná, P. v. To pull; to drag; to draw; to hang (on a cross of gibbet) to hold back; to breathe; to suck up; to distil; to tighten; to flay; to extract; to sketch; to

endure. نکالنا کھینچ—nikálná, to pull or drag out.

کھوا کھوا, کھوا, H. n. m. Price of passage in a boat; ferry money; crossing a river.

کھواٹ khevát, खेवट, H. n. m. Assigned share of revenue; a record of shares; administration paper; a record of mutation. کھواٹ کھواٹ—khatanní, a record showing the distribution of lands and the right of the occupants.

کھوایا کھوایا, کھوایا, کھوایا, H. n. m. A boatman; a rower.

کے کے, कै, H. pron. How many? what number? کے کے بار یا کے کے—bár yá kae daf'a, How often? how many times?

کے یا کی ke yá kí के या की, H. prep. Of; conj. or
کے کئی, कई, H. adj. Some; several; many. کئی کئی—ek, a few; some. کئی بار یا کئی دہے—bár yá kái dafa', several times; repeatedly; again and again; often.

کیا kiya, किया, H. part. Done; performed, n. m. Action, doings.

کیا kyá, क्या, H. pron. What? whether? or کیا بات ہے یا کیا کہنا ہے—bát hai, yá kyá kahná háí, interj. it goes without saying! excellent! bravo! کیا جانے—jáne, who knows? I don't know; it may be. کیا خوب—khúb, interj. how excellent? how strange! what a joke! کیا پرہا ہے یا کیا مضائقہ ہے یا کیا ضرر ہے یا کیا ضرر—parváh hai, yá—gam hai, yá—muzáeqa hai, interj. what matter! no matter! never mind. کیا گل گل—gul khile, what a strange has come to light!

کیاری kyári, क्यारी, H. n. f. A bed; a portion of ground; a frame.

کیاست kiyásat, A. n. f. Ingenuity; sagacity. صاحب کیاست sáhib—adj. ingenious; sagacious.

کیپ kíp, कीप, H. n. f. A funnel. [flower.

کیتکی ketki, केतकी, H. n. f. A plant and its

کیتلی ketli, E. n. f. A kettle.

کیتو ketu, केतु, H. n. f. A comet; the descending node personified as the tail of the dragon supposed to cause eclipses by seizing the sun or the moon (considered, in astronomy as the ninth of the planets.)

کیتھا kaithá, H. *n. m.* The wood-apple ; an intoxicating drink made from the wood-apple.
 کیت kit, *n. f.* An insect ; the dregs of oil in a lamp, or that collected in a *huqqá* snake.
 کیچ kich, کچی, } H. *n. f.* Slime ; mud ;
 کیچار kichar, کچیڑ, } mire.
 کید kaid, A. *n. m.* Treachery ; adjustment ; vomiting.
 کیر kír, کیر, H. *n. m.* A parrot. [eyed.
 کیرا kairá, A. *adj.* Having cat's eyes ; squint-
 کیرتن kirtan, کیرتن, H. *n. m.* Repeating ; praising ; singing aloud.
 کیرتی kirti, کیرتی, S. *n. f.* Fame ; renown.
 کیرک kirak, کیرک, S. *n. m.* A parrot ; a parrotet.
 کیری kairí, کیری, H. *n. f.* A small unripe mango ; a mango-shaped locket for keeping perfumes ; an artificial flower.
 کیرا kírá, کیرا, H. *n. m.* An insect ; a worm ; a vermin ; a reptile ; a maggot ; a grub.
 کیرا kerá, کیرا, H. *n. m.* A sapling.
 کیرھا kírhá, کیرھا, H. *adj.* Wormy ; worm-eaten.
 کیس kes, کس, H. *n. f.* The hair of the head ; a cock's comb.
 کیسا kaisá, کسّا, H. *pron. adj.* How ; in what manner ? like what ? what sort of ? on what account ? why ? کیساہی—hí, howsoever. کیساہی—hí ho, of whatever sort. کیسے—kaise ho, how do you do ? what to do ? کیسے—kaise hí ho, any how ; howbeit.
 کیسر kesar, کسّر, H. *n. m.* Saffron ; the weeping *Nyctanthes*.
 کیسری kesarí, کسّری, H. *adj.* Dyed with saffron ; deep orange yellow ; *n. m.* a lion.
 کیسریا بانا kesariyá baná, H. *n. m.* A yellow or saffron-coloured dress.
 کیسے kisé, P. *n. m.* A purse ; a pocket ; a bag.
 کیش kesh, P. *n. m.* Religion ; a faith ; quality.
 کیش کافر káfir—, *adj.* prone to infidelity.
 کیش kesh, کسّا, S. *n. m.* Hair of the head ; mane of a horse or lion ; crest or comb of a cock.
 کیفٹ kaifat, P. *n. f.* Exhilaration ; intoxication.

کیفی kaiffi, A. *adj.* Exhilarated ; intoxicated ; tipsy ; merry ; *n.* a drunkard.
 کیفیت kaifiyat, A. *n. f.* Quality ; state ; situation ; condition ; fine view ; flourishing state ; enjoyment ; statement ; narrative ; remarks ; explanation. کیفیت بنانا—banáná, to draw up a schedule. کیفیت طلب کرنا—talab karná, *v.* to call for an explanation or report. کیفیت کا خانہ—ká-khaná ; the remarks column. کیفیت مقدمہ—i-muqaddama,, the facts of a case.
 کیک kaik, P. *n.* A flea (*pissú*).
 کیکر ktkar, کیکر, H. *n. m.* The acacia tree. کیکر کا گوند—ká gond, gum-arabic.
 کیکرا kekra, کیکرا, H. *n. m.* Acrab ; cancer. کیکرا منڈل—mandal, the Tropic of Cancer,
 کیک کیکی keki, کیک, S. *n. m.* A peacock.
 کیل kíl, کیل, H. *n. f.* A nail ; a tack ; a peg ; a pin ; the core of a boil ; a gold pin worn in the nose ; a pimple. کیل کاٹا—kántá, *n. m.* apparatus ; tools ; scribbling ; accoutrements.
 کیل kilá, کیلا, H. *n. f.* A pin ; a peg ; a nail ; a tooth.
 کیلا kelá, *n. m.* A plantain (tree or fruit).
 کیلنا kílná, کیلنا, H. *v.* To nail ; to charm a snake so as to prevent its biting ; to shut up ; to drive in a nail by conjuration for purifying the house from the influence of an evil spirit ; to exercise ; to breathe a spell or incantation over.
 کیلی kilí, کیلی, H. *n. f.* A screw ; a key ; a pivot ; a nail ; an axis (of rotation).
 کیمضت kimukht, P. *n. m.* Shagreen ; the leather of a horse or an ass.
 کیمیا kímíyá, *n. f.* Alchemy ; chemistry ; panacea. کیمیا بنانا—banáná, *v.* to transmute the baser metals into gold ; to alchemize. کیمیا کرنا—karná, *v.* to work wonders. کیمیا گر—gar, *n. m.* an alchemist, a deceiver. کیمیا گری—garí, *n. f.* alchemy ; alchemistry ; chemistry.
 کینچل kenchal, کینچل, } H. *n. f.* The slough
 کینچلی kenchali, کینچلی, } or skin of a snake.
 کینچلی بدلنا—badalná, *v.* to slough ; to put on a new slough. کینچلی چھوڑنا—chhorná, *v.* to cast off the old slough.

किन्चोरा *kechvá*, कौचवा, H. n. m. Maw-worm; earth-worm; a worm (bred in the body).
 किन्चोरा मार द्रा—*már dawá*, n. anthelmintic.
 किन्द्र *kendr*, केंद्र, S. n. m. Centre of a circle; a pole; a focus. [plan; sample; gauge.
 किन्दा *kendá*, केंदा, H. n. m. Mould; a rough
 किना *kína*, P. n. m. Malice; rancour; grudge; enmity. किन्तोर—*war*, *adj.* malicious; rancorous.
 कािवान *kaiván*, P. n. m. The planet Saturn; the seventh heaven.
 केोटी *keotí*, केवटी, H. n. f. A mixture of different kinds of pulse.
 केवडा *keová*, केवडा, H. n. m. Name of a plant which bears a strong-scented flower.
 केवल *keval*, केवल, S. *adj.* Only; solely; completely; specially.
 केवण *kyng*, (क्यौ) H. *adv.* Why? wherefore? well? how? what then? because. केवरकर—*kar*, how? why? what for? because. केवरके—*ki*, *conj.* because; inasmuch as; because that
 केवर नहिन—*nahín*, why not? surely; certainly; undoubtedly.

(क)

क *gáf*, called. कफ عجمي—*i-'ajamí*, the twenty-sixth letter of the Persian and the twenty-ninth letter of the Urdu alphabet, does not occur in Arabic. Its sound is that of *g* as in *good*. Its numerical value, according to the *abjad*, is the same as that of *क* *káf*. [shall.
 का *gá*, गा, H. The sign of the future tense; will;
 काब *gábh*, गाम, H. n. f. Pregnancy (of cattle).
 दालना *dálná*, व. to miscarry.
 गाभा *gabhá*, गामा, H. n. m. A new leaf springing from the centre of a plantain tree; a leaf in the bud.
 गभिन *gabhin*, गामिन, H. *adj.* Pregnant.
 गत *gát*, गान, H. n. f. The body; a limb; attire.
 गाटा *gátá*, गाटा, } H. n. m. A piece of land;
 गाथा *gáthá*, गाथा } a plot; a field; a division of a village.
 गाथी *gáthí*, गाठी, H. n. f. A knot; a tie; a bundle.

गज *gáj*, गाज, H. n. f. Scum; forth; a thunder-bolt; glass bangles. गज मारा—*mára*, *adj.* thunder-struck; disastrous.
 गजा बाजा *gájá bájá*, गाजा बाजा, H. n. m. The sound or clangour of several musical instruments.
 गजार *gájar*, गाजर, H. n. f. A carrot.
 गच्छ *gáchh*, गाछ, (Col.) H. n. m. A tree. गच्छ लु—*mirch*, n. m. cayenne of red pepper.
 गच्छी *gáchhí*, गाछी, (Col.) H. n. f. A pad for a beast of burden.
 गद *gád*, गाद, H. n. Sediment; dirt; lees. गद बिथना—*baiñná*, v. to settle at the bottom (sediment).
 गदार *gádar*, गान्दर, H. *adj.* Half-ripe; pulpy.
 गदुर *gázur*, P. n. m. A washerman (*dhobi*).
 गार *gár*, P. (used as last member of compounds denoting, maker; doer; agent) as: गान्दगान्द *ganah*—sinner. गारपरे *parhez*—abstinent; temperate, &c.
 गारा *gára*, गारा, H. n. m. Mud; kneaded clay; mortar; a musical mode.—गारा करना—*karná*, v. to knead clay; to prepare mud.
 गारना *gárná*, गारना, H. v. To strain; to squeeze; to milk; to extract juice.
 गारा *gára*, गाढा, H. n. m. A pit; a ditch.
 गारना *gárná*, गाडना, H. v. To bury; to inter; to drive in; to fix; to pitch; to sink; to plant.
 गार्ह *gárh*, गाढ़, H. n. f. A difficulty.
 गार्हा *gárhá*, गाढा, H. *adj.* Thick; close; dense; coarse; strong; intimate friendship, (*gárhí dosti*); n. m. a kind of coarse Indian cloth.
 गारी *gárf*, गाढी, H. n. f. A cart; a carriage; a coach; a railway carriage; railway train.
 गारी बर—*bhar*, a cart load of. गारी जोतना—*jotná*, v. to yoke bullocks or harness horses to a conveyance or cart. गारी चालना—*chaláná*, v. to drive a cart; to hire out carriages.
 गारियान—*bán*, n. m. a carter; a coachman.
 गगर *gágar*, गागर, H. n. A water vessel; a pitcher.
 गाल *gól*, गाल, H. n. m. The cheek; a mouthful.
 गाल पिकना—*pichakná*, v. to sink (cheeks); to

become emaciated. گال پر گال چڑھنا—par gál
charhná, *v.* to grow fat. گال پھٹاکی—phatáki,
scolding; boasting; talking nonsense. گال
پھلانا—phuláná *v.* to puff out the cheeks;
to sulk.

گال gálá, गाला, H. *n. m.* A pod or flock of cotton;
a ball of carded cotton. [Abuse.

گالی gáli, गाली, H. *n. f.* (*Plu.* گالیان *Gáliyán*).
گالی دینا—dená, *v.* to abuse; to use foul or in-
sulting language; to revile. گالی کہانا—
kháná, *v.* to be abused. گالی گالچ—galauj,
n. f. reciprocal abuse; brawl.

گام gám, P. *n. m.* A step; pace; foot.

گان gán, गान, H. *n. m.* Singing; a song. گان
بدیا—bidyá, *n. m.* the science of vocal music,
or singing.

گانا gáná, गाना, H. *v.* To sing; to chant; to
make known; to relate. گانا بجانا—bajáná,
n. m. singing and playing; music and song.

گانٹھ gánth, गाँठ, H. *n. f.* A knot; a tie; a
joint; an articulation; a hardened gland; a
bundle; a piece of ginger, &c.; a purse; a
pocket guide; an obstacle; misunderstanding.
گانٹھ باندھنا یا دینا یا لگانا—bándhná, yá dená,
yá lagáná, *v.* to tie a knot; to bear in mind;
to tie in a roll. گانٹھ پڑنا—parná, *v.* to be
knotted; to arouse ill-feeling; to be en-
tangled. گانٹھ چورنا—jorná, *v.* to tie together
the skirts of the mantles of the bride and
bridegroom; to tie the nuptial knot. گانٹھ کا
—ká, one's own; of one's own purse. گانٹھ کا
پورا—ká púra, rich; wealthy. گانٹھ کا کھونا—
ká khoná, *v.* to lose one's own money; to act
to one's own prejudice. گانٹھ کا کٹنا—káṭná,
v. to pick one's pocket; to rob. گانٹھ کھولنا—
kholná, *v.* to untie a knot; to open a purse;
to be prodigal; to remove ill-feelings. گانٹھ
گٹھیل—gáṭhílá, *adj.* knotty (as a stick); com-
pact (as a man).

گانٹھنا gánṭhná, गाँठना, H. *v.* To tie; to join;
to stitch together; to cobble, to interlock;
to construct; to bring over to one's side.

گانجر ganjar, गाँजर, H. *n. f.* A kind of grass.
گانجنا ganjñá, गान्जना, H. *v.* To store up;
to hoard; to heap.

گانجھ گánjhá, गाँझा, H. *n. m.* The hemp plant
and the fructification, which when nearly
ripe is bruised and smoked for intoxication.
گانجھ والا گánjhwálá, a vendor of intoxicating
preparation of hemp.

گانس گánsá, गाँसा, H. *n. m.* The angle of the
junction of the fingers and toes.

گانسی گánsí, H. *n. f.* The iron head of an
arrow or spear etc.

گانو gáno, गाँव (ग्राम), H. *n. m.* A village; a
hamlet گانو کی بولی—kí bolí, rustic speech.
گانو والا—wálá, a villager.

گار gáo, P. *n. m.* A bull; an ox; a cow. گار
پلنگ—palang, *n. m.* a camel-leopard. گار تکیہ—
takiyá, a large pillow or bolster, which sup-
ports the back of a person when sitting down.

گار دم—dum, tapering; stooping; conical.
گار دوش—dosh, a milking pail; a churn. گار
خرد ہونا—khurd hona, *v.* to be ruined or
destroyed; to be embezzled. گار (دو) گار—gao-
zorí, violence; brute force. گار میش mesh,
a buffalo.

گارودی gáodí, गाँदी, H. *n. m.* A fool; a simpleton.
گاروشیر gáoshír, P. *n. f.* The medicinal gum of
the opononax tree; gum-resin.

گار گھپ gáo ghap, गाव घप, H. *n. f.* Embezzle-
ment; deceit. گار گھپ کرنا—karná, *v.* to
embezzle; misappropriate.

گاہ gáh, P. *n. f.* Time; place. (*used in comp.*).
گاہ شکار shikár—, a hunting ground. عبادت گاہ
—ibádat—, a place of worship; a mosque; a
temple; a church. گاہ گاہ—gáh; now and
then; sometimes. ناگہ ناگہ—ná ná—, suddenly.

گاہک gáhak, गाहक, H. *n. m.* Seizer; taker (*e. g.*,
جان کا گاہک ján ká—'one who takes or aims
at life'); a purchaser; a buyer.

گاہی gáhí, गाही, H. *n. f.* A total of five.

گاہ گاہ P. *adv.* Once; sometime. گاہ گاہ—
gáhe, *adv.* at times; sometimes; seldom
(*kabhi kabhi*).

گاہے gáhe, गाए, H. *n. f.* A cow; *adj.* (*Met.*) poor;
meek; docile. گاہے کا گوشت—ká gosht, beef.

گایتری gáyatri, गायत्री, S. *n. f.* A sacred verse
from the Rig Veda to be recited mentally

by every Brahman at his morning and evening devotions.

کایک gáyak, गायक, S. n. m. } A singer; songster.
کایک gáyan, गायन, S. n. f. }

کیر gabr, P. n. m. A fire-worshipper; a follower of Zoroaster; an infidel.

کیر gabbar, गबर, H. adj. Rich; proud.

کیر گبرلیا - گبرلیا gubrilá, gabrautá, गुबरीला गुबरीया, H. n. m. A species of black-beetle found in dunghills or old cowdung.

کیر گبرهانا gubháná, गुभाना, } H. v. To pierce; to
کیر گبرهانا gubhoná, गुभोना, } thrust; to prick.

کپ gap, गप, H. n. f. Tattle; gossip; chat; a false report. کپ چھانتنا —chhántná, to indulge in gossip. کپ مارنا —márná, v. to prattle; to gossip. کپ گپی gappí, An idle talker; a boaster.

کپ gup, गुप, H. n. f. (Contr. of Gupt) Hidden; secret; obscure. کپ چپ —chup, adj. quiet; silent.

کپ گپت, गुप्त, S. adj. Concealed; hidden; invisible; implied; adv. secretly; privately. کپت دان —dán, a gift made secretly. کپت هونا —honá, v. to be concealed; to be invisible.

کپتی گپتی guptí, गुप्तی, H. n. f. A hidden sword; a sword stick [to catch.

کپنا گپنا gapakná, गपकना, H. v. To gulp; to swallow.

کپه گپه guphá, गुफा, H. n. f. A cave; a den.

کپه گپه gupphá, गुप्फा, H. n. m. A tassel; a wreath; a bunch (of flowers etc.).

گت gat, गत, S. n. f. Motion; phase; state; condition; predicament; plight; pace; gait; a tune; funeral rites; end; fortune; destiny; salvation; a dance. گت بجانا —bajáná, v. to play a tune. گت کربنا —karná, v. to serve out; to perform the obsequial rites. گت هونا —honá, v. to be made use of; to be beaten to a jelly; to be performed (obsequial rites); to get salvation.

گتک گتک gatká, गतका, H. adj. n. m. A cudgel; a club; a foil or blunt wooden sword (used in fencing).

گتھنا گتھنا guthná, गुथना, H. v. To be plaited; to be threaded, to contend.

گتھنا گتھنا guthwád, H. adj. Plaited; strung together.

گت گت gaṭ गट, (Col) H. n. m. A gang; a band.

گت گت گت گت gatṭá, गट्ट, H. n. m. The part of the pipe which fixes into the top of the metal part of a huqqa; a corn; a sweetmeat; an ankle-bone; a kneebone; a stopper.

گت گت گت گت gaṭ, paṭ, गट पट, H. adj. Mixed together promiscuously. گت هونا —honá, to be mixed up with.

گت گت گت گت giṭṭak, गिटक, H. n. f. A stopper.

گت گت گت گت guṭka, गुटका, H. n. m. A magic ball prepared by devotees, by putting which in their mouths they are supposed to become invisible; a hand book; a manual.

گت گت گت گت guṭakná, गुटकना, H. v. To coo (as a dove); to gulp down; to swallow.

گت گت گت گت gaṭh, गठ, H. n. f. A knot; a tie (used at first) member of compound). گت گت —jorá, n. m. tying the knot; the nuptial tie. گت گت —kaṭá, n. m. pick-pocket; a cutpurse.

گت گت گت گت gatthá, गट्ठा, H. n. m. A bundle; a package; a clove of onion, garlic, &c.; the twentieth part of a jarib. [bale.

گت گت گت گت gaṭṭhar, गट्टर, H. n. m. A large bundle; a bundle; a packet. گت گت —báṇdhná, v. to bundle; to pack up. گت گت —márná; to rob, [a seed.

گت گت گت گت guṭhlí, गुठली, H. n. f. A stone; a kernel; گت گت گت گت gathwánsí, गठवांसी, H. n. f. The twentieth part of a gáthá (i. e., about five inches).

گت گت گت گت gaṭhiyá, गठिया, H. n. f. A bag; a sack; bundle; a package; a bale; rheumatism; gout. [well-set.

گت گت گت گت grṭhílá, गठीला, H. adj. Knotty; robust; گت گت گت گت guj, गज, S. n. m. An elephant. گت گت —pál, an elephant keeper. گت گت —dant, elephant's tusks; ivory. گت گت —ráj, n. a large elephant. گت گت —motí, n. m. a fine large pearl supposed to be found in the head of an elephant. گت گت —ná], a large gun or cannon.

گجرات gajar, गजर, H. n. m. The repetition of the strokes of a gong at 4, 8, 12 o'clock ; an alarm. گجرات دم—dam; adv. early at the morning ; immediately.

گجرات gajra', गजरा, H. n. m. A garland. گجرات اہار—hār, a kind of wreath or necklace (of flowers or of gold etc.).

گجراتی gajni, गजनी, H. n. f. Clay ; earth.

گجراتی gajjhā, गज्जा, H. n. m. A heap ; a store ; abundance ; wealth. گجراتی دبا بیٹھنا یا گجراتی دبا—dabā baiṭhnā yā—mārnā, to obtain a vast amount of wealth or property by dishonest means ; to make a great haul by fraudulent means.

گجراتی gājhin, गजिन, H. adj. Thick ; dense.

گجراتی gach, P. and H. n. m. Mortar ; a floor-plastered with lime ; the sound made in walking through mire, or in piercing one with a sword, etc., گجراتی گجراتی—kārī, n. f. plastering ; working (or building) with mortar or cement.

گجراتی gachpach, गचपच, H. adj. Crowded ; mixed up ; confused. [Pleiades.

گجراتی gich pichiyā, गिचपिचिया, H. n. m. The

گجراتی guchehhā, गुच्छा, H. n. m. A bunch ; a cluster ; a clump (of grass) ; a tassel ; a mop (of hair) ; an ear or corn. گجراتی دار—dār, adj. tasselled.

گجراتی gadd, गद, S. n. m. Prose.

گجراتی gadā, P. n. m. A beggar ; a mendicant.

گجراتی gadā, गदा, S. n. f. A club ; a mace. گجراتی دھار—dhar, a mace-bearer ; an epithet of Vishnu.

گجراتی gaddā, गदा, H. n. m. A soft quilted bedding.

گجراتی gudākhta, P. adj. Melted ; dissolved.

گجراتی gudāz, P. adj. Melted ; dissolved ; thick ; plump ; melting ; gentle ; tender ; soft ; dissolving ; exterminating (used in comp.) as : گجراتی دل دل dil—, heart-melting. گجراتی ظلم zulm—, exterminating of oppression.

گجراتی gadālā, गदाला, H. n. m. A crow bar.

گجراتی gadāl, P. n. f. Begging ; living on charity.

گجراتی gaddar, गदर, } H. adj. Half-ripe ; thick ;
گجراتی gadrā, गदरा } plump ; well-developed.

گجراتی gudrī, गुदरी, H. n. f. A beggar's garment or bedding ; a quilt ; a daily market.

گجراتی gadkā, गदका, H. n. m. A mace ; a club ; a stick ; a blunt wooden sword used in fencing.

گجراتی gudgudā, गुदगुदा, H. adj. Plump and soft. گجراتی گجراتی—bistar, n. m. a soft bed.

گجراتی gudgudānā, गुदगुदाना, H. v. To tickle ; to titillate.

گجراتی gudgudāhat, गुदगुदाहत, } H. n. f. Tittling.
گجراتی gudgudī, गुदगुदी, } latin ; tickling.

گجراتی gadlā, गदला, H. adj. Muddy ; turbid ; dirty ; foul. گجراتی گجراتی—pan, n. f. muddiness ; turbidness. گجراتی گجراتی—karnā, v. to make muddy or dirty.

گجراتی gadlā, गदला, H. n. m. A quilted garment.

گجراتی gidh, गिद्ध, H. n. m. A vulture.

گجراتی gadhā, गधा, H. n. m. An ass ; a donkey ; (Met.) a fool ; a simpleton. گجراتی گجراتی—pan, n. m. stupidity.

گجراتی gaddī, गद्दी, H. n. f. A cushion ; pad ; a pack-saddle ; a throne. گجراتی گجراتی—par baiṭhnā, v. to instal a king. گجراتی گجراتی—par baiṭhnā, v. to ascend the throne. گجراتی گجراتی—se utārnā, v. to dethrone. گجراتی گجراتی—nashīn, n. m. one who sits on a gaddī.

گجراتی guddī, गुद्दी, H. n. f. The naps of the neck, گجراتی گجراتی—se-zabān-nikālnā, to extract one's tongue (a punishment).

گجراتی gadelā, गदला, H. n. m. A thick bedding ; a cushion ; a child.

گجراتی guddā, गुद्धा, H. n. m. A doll ; a puppet.

گجراتی gadaryā, गदरिया, H. n. m. A shepherd ; a cowherd.

گجراتی gad maḍ, गड मड, H. adj. Mixed up ; disordered. گجراتی گجراتی—karnā, v. to mix up, to confuse. [citadel.

گجراتی gadh, गढ़, H. n. m. A fort ; a castle ; a

گجراتی gadhī, गढ़ी, H. n. f. A fortress ; a small fort.

گجراتی gaddī, गद्दी, H. n. f. A bundle of anything ; a bundle of paper containing ten quires.

گجراتی guddī, गुद्दी, H. n. f. A paper kite.

گجراتی guzār, P. n. A ferry ; a passage ; part causing to pass ; passing by ; executing ;

paying; satisfying; *n.* performer; payer, etc. (*used as last member of compounds*); as: سال گذار shukr—, thankful; grateful. مال گذار mál—, a land-holder; a landlord.

گذارش guzárish, *P. n. f.* Petition; request; representation; statement.

گذارنا guzárna, गुजरना, *H. v.* To cause to pass; to pass (life or time etc.); to lay before; to state.

گذاره guzára, *P. n. m.* Living; subsisting; crossing a passage; stay; abode. گذاره یا گذران کرنا —yá guzrán karná, to drag out one's days; to subsist with difficulty. گذاره کی شکل نیکالنا —ki shakl níkalná, to hit on (or discover) a means of living. گذاره کی ناز —ki názo, a ferry boat.

گذاشت guzásht, *P. n. f.* The quitting or leaving.

گذاف guzáf, *P. n. f.* A vain or rash speech; boasting; vanity; a falsehood; a lie. لاف و گذاف láf o—, boasting.

گذر guzar, *P. n. m.* Ingress and egress; a pass; a food; a living. گذر آب —áb, an aqueduct; a canal. گذر گاه عام —gah-i-'ámm, a thoroughfare; a highway; a public road. گذر نامه —nama, a passport; a safe conduct.

گذران guzarán, *P. n. f.* Passing; passing time or life; subsistence.

گذرنا guzarná, गुजरना, *H. v.* To pass; to elapse; to happen; to befall; to pass through; to pass away; to die. در گذرنا —, to over-look; to excuse; to desist from; to give up.

گذری guzari, *P. n. f.* A market held (in the afternoon) by the road-side.

گذشته guzashta, *P. part. adj.* Past; elapsed; left; *n. m.* the past.

گر giri, गिरि, *H. n. m.* A mountain.

گر gar, *P.* A maker; a workman; a worker, (*used in com.*) as: زر گر —zar—, a goldsmith; conj. if; in the event of.

گر gur, गुर, *H. n. m.* A short method; a formula; pigeon.

گرا garrá, गरी, *H. adj.* Reddish (pigeon).

گزارá garará, गरारा, *H. n. m.* A sack for holding the walls of a tent (*qandt.*)

گرای garári, गरारी, *H. n. f.* An instrument for twisting thread or string; the block over which the well-rope passes; a pulley.

گراز guráz, *P. n. m.* Wild boar; hog. [morsal.

گراس giras, ग्रास, *H. n. m.* A mouthful; a

گرا girám, ग्राम, *S. n. m.* A village; a musical scale. گرام بیاسی —bási, *n. m.* a villager.

گرم —sabhá, a village court, composed of the principal inhabitants with the headman presiding.

گرمی girámí, *P. adj.* Dear; precious; revered; respected; great.

گرا girán, *P. adj.* Heavy; difficult; dear; expensive; precious; costly. گراں بها —bahá, *adj.* costly; high-priced. گراں خاطر —khátir, *adj.* unpleasant; dejected.

گراں کرنا —karná, *v.* to raise the price.

گوزارنا —guzarná, *v.* to be unpleasant. گراں ہونا —honá, *v.* to rise in price; to be burdensome or grievous.

گراں giráná, गिराना, *H. v.* (*Caus. of گراں Girná*) To cause to fall; to fell; to let fall; to drop; to shed. گرا دینا —dená, *r.* to throw, cast or break down.

گراںی garání, *P. n. f.* Dearness; dearth; scarcity; a rise in price; heaviness; indigestion.

گرب garb, (गर्ब), *S. n. m.* Pride; vanity.

گرہ garbh, garabh, गर्भ, *H. n. m.* Pregnancy; conception; vanity. گرہ پات —pát, miscarriage. گرہ رھنا —rahná, *v.* to conceive; to be pregnant. گرہ کرنا —karná, *v.* to be proud. گرہ گرنی —girná, *v.* to miscarry. گرہ و نئی —vantí, *adj.* pregnant; proud.

گراں گر gir paṅna, गिर पड़ना, *H. v.* To fall down; to drop.

گرج garaj garj, गरज, *H. n. f.* Thundering; thunder; bellowing; roaring; roar.

گرجا girjá, *P. n. m.* A church; a chapel. گرجا کرنا —karná, *v.* to conduct worship in public.

گرجنا garajná, गरजना, *H. v.* To thunder; to roar; to bellow. [plant.

گرج gurch, गुर्च, *H. n. f.* A kind of creeping

گرچه garchí, P. conj. If ; although ; though.

گرد gard, P. part. adj. and n. f. Dust ; travelling or wandering over, or through, or in (used as last member of compounds, e. g. گرد جهان jahán gard, one who has travelled over or around the world). گرد ارژانا—uráná, v. to raise a dust. گرد آلودة—álúda, adj. covered with dust, dusty.

گرد gírd, P. adj. All round ; about ; in the vicinity. گرد و پیش—pesh or پیش—o-pesh, neighbourhood ; vicinity ; all round. گرد نواح—nawah, vicinity ; suburbs, environs. گرد هونا—honá, v. to surround ; to gather or collect round. [hero.

گرد gurd, P. adj. Brave ; warlike ; valiant ; n. a گرد girdá, P. n. m. A circle ; a ring ; a hoop ; an orb ; anything round ; the hair cut in a circular form ; a round carpet spread under a drum ; a round pillow ; a round flat cake or bread. گردا سراج—súraj ká—, disc (of the sun).

گرداب girdáb, P. n. m. A whirlpool ; vortex.

گردا گردا girdá gird, P. n. m. All round ; round-about ; around.

گردان gardán, P. n. f. Turning ; revolving ; revolving ; revolution ; (in Gram.) conjugation ; revision.

گردانك gardának, P. n. f. The pointers (two stars in the Great Bear).

گرداننا gardánna, P. v. To conjugate ; to inflict ; to revise or repeat (a lesson) ; to have regard for ; to esteem ; to fold.

گردوار girdáwar, P. n. m. A superintendent ; an inspector of customs ; a patrol.

گردباد girdbád yá gardbád, P. n. f. A whirlwind ; a bolster. [cal pillow.

گرد باليش gird bális, P. n. m. A large cylindrical

گردش gardish, P. n. f. Turning round ; revolution ; course ; circulation ; change of fortune ; vicissitude ; misfortune ; wandering about ; vagrancy. گردش کرنا—karná, v. to turn round ; to revolve ; to circulate (as the blood) گردش میں آنا—meg ána, v. to be unlucky ; to be at the bottom of the wheel of

fortune ; to fall into adversity. قسمت کی یا دنوں qismat kí yá dinon kí—, the vicissitudes of fortune ; hard times.

گردگان gardgán, P. n. n. A walnut ; a pellet.

گردن gardan, P. n. f. The neck. گردن ارژانا یا گردن کاٹنا—uráná yá kátná, v. to behead. گردن پر گردن—par sawár honá, v. to extort ; to compel. گردن جھکانا—jhukáná, v. to bow the head ; to obey ; to submit ; to yield. گردن کشی—kashí, pride ; arrogance ; rebelliousness ; disobedience. گردن مارنا—márná, v. to put to death ; to kill. گردن مروڑنا—maroṛná, v. to throttle. گردن هلاک—hiláná, to shake the head ; to nod.

گردنی gardaní, P. n. f. A horse cloth ; a blow on the neck ; a trick in wrestling ; a silver ring worn on the neck. گردنی دینا—dená ; to drive a man by the neck.

گردوں gardún, P. n. m. The firmament ; the heavens ; fortune ; a chariot ; a wheel.

گردا gurda, P. n. m. A kidney ; courage ; pluck.

گردا girda, P. n. m. A circle ; a round pillow ; a round tray ; the barrel of a drum.

گردی gardí, P. n. f. Change ; revolution ; wandering ; misfortune. (used as last member of compounds), as : اشراف گردی—ashraf—, the downfall of the nobility. پادشاه گردی—pádsháh—, the dethroning of a king.

گزر garu, गरुड, H. n. m. (in Myth.) Name of a mystical bird ; a large kind of crane ; the vehicle of Vishnu. گزر پوران—purán, one of the eighteen Puráns, generally read after a Hindu's death.

گزر gurz, P. n. m. A sort of iron club ; a mace. گزر بردار—bardár, n. m. mace-bearer.

گرسنگی gursanagi, P. n. f. Hunger.

گرسنه gursina, P. adj. Hungry. [pot.

گرسی gursí, गुरसी, H. n. f. A fireplace ; a fire

گرفت girift, P. n. f. Seizure ; capture ; clutch ; grasp ; objection ; criticism. گرفت کرنا—karná, to find fault with ; to take exception (to) ; to criticise.

گرفتار giriftár, P. *adj.* Seized; arrested; involved; captivated; smitten. گرفتار کرنا—karná, *v.* to seize; to capture; to captivate. گرفتار ہونا—honá, *v.* to become a prisoner; to be involved in.

گیرفتاری giriftári, P. *n. f.* Captivity; imprisonment; bondage; capture; seizure; arrest; apprehension; entanglement.

گرگ gurg, P. *n. m.* A wolf. گرگ باران دیدہ—i-bárán dída, a veteran. گرگ زاده—záda, a wolf's whelp; a young wolf. [scullion.

گرجا gurgá, گورجا, H. *n. m.* A servant-boy; a pump shoe. گرجا بلی گرجابی gurgábí, گورجا بلی, H. *n. f.* A kind of pump shoe.

گرجا گرت girgaṭ, گرجا گرت, H. *n. m.* A chameleon.

گرجا گریا gurgaiyá, گورجایا, H. *n. f.* A sparrow (gawraiya).

گرم garm, garam, P. *adj.* Hot; warm; burning; choleric; eager; ardent; brisk (as a market, &c.); lively. گرم اختلاقی—ikhtiláqí, *n. f.* warmth of friendship; strong attachment. گرم بازار—bázárí, *n. f.* throng in a market; good sale. گرم جوشی—joshí, *n. f.* warmth of affection; cordiality; zeal. گرم خبر—khabar, the latest news; the current rumour. گرم سرد—sard, *adj.* lukewarm, the ups and downs (of life). گرم کرنا—karná, *v.* to warm; to heat; to incite. گرم مزاج—mizáj, hot-tempered; passionate. گرم ہونا—honá, *v.* to be angry; to become hot; to be thronged (a market).

گرمما garmá, P. *n. m.* Summer (mousim-i-garmá). گرمما گرم—garm, *adj.* hot and hot; fresh. گرمما گرمی—garmi, *n. f.* zeal; ardour.

گرمابا garmába, P. *n. m.* A hot bath.

گرمانا garmáná, गरमाना, H. *v.* To be hot or angry; to become enlivened; to heat.

گرمائی garmái, P. *n. f.* A stimulant.

گرمی garmi, P. *n. f.* Heat; warmth; glow; summer; ardour; fervour; passion; love. گرمی پڑنا—párná, *v.* to be hot. گرمی دانہ—dána, *v.* prickly heat (ghamori). گرمی کرنا—karná, *v.* to produce heat or warmth (in); to effect fondness.

گرنہ girná, गिरना, H. *v.* To fall; to drop; to

come down; to tumble down; to sink; to befall; to lull (the wind); to perch or alight on; to attack; to be reduced or degraded; to miscarry; to fall. گرتے پڑتے girte páte, *adj.* with difficulty; helter-skelter.

گرتہ گرتہ granth, ग्रन्थ, S. *n. f.* A book; the sacred book of the Sikhs; a knot.

گرو گرو رکھنا girau, P. *n. f.* Pledge; pawn. گرو رکھنا—rakhná, *v.* to pledge; to pawn.

گرو گرو gurú, गुरु, S. *n. m.* A spiritual guide; a teacher; tutor; *adj.* respectable; honourable.

گرو دراری—dwára, a monastery. گرو بہائی—bhái, *n. m.* a fellow disciple. گرو گھنٹال—ghanṭál, *n.* a perfect knave. گرو مکہ ہونا—mukh honá, *v.* to become a scholar or disciple

گرو بار gurú bár, गुरुवार, H. *n. m.* Thursday.

گرو گرو girwar, गिरवर, H. *n. m.* A mountain; a hill.

گرو گرو giroh, P. *n. m.* A band; a company; a gang; a class.

گرو گرو girwí, P. *adj.* Pledged; *n. f.* an insect destructive to standing corn. گرو گرو رکھنا—rakhná, *v.* to pledge; to pawn.

گرو گرو گرو گرو girwidagi P. *n. f.* Admiring; adherence; gratefulness.

گرو گرو girwída, P. *adj.* attracted; attached to; captivated; enamoured, grateful.

گرو گرو graha, ग्रह, S. *n. m.* A planet. گرو گرو دیکھنا—dekhná, *v.* to consult a horoscope. گرو گرو کتدای—kundlí, a horoscope.

گرو گرو girah, P. *n. f.* A knot; a joint; a knuckle; one-sixteenth of a gaz. گرو گرو باندھنا—bándhná, *v.* to tie a knot; (Met.) to bear in mind. گرو گرو دار—dár, *adj.* knotted; joined. گرو گرو کشا—kushá, untying a knot; the solver of a difficulty.

گرو گرو گرو گرو grahast, girhast, (गृहस्त), H. *n. m.* One who leads a married life; a householder; a Brahman in the second period of his religious life, or an investiture with the sacred thread, performs the duties of the master of a house and the father of a family; a husbandman.

گرو گرو گرو گرو گرو grahastí, grihastí, H. *n. f.* House keeping; domestic matter; worldly affairs; husbandry.

- گرہن *graban*, ग्रहण, S. n. m. Seizing ; taking ; receiving ; accepting ; seizure of the sun or moon by *Ráhu* ; an eclipse. گرہن پڑنا—*parná*, v. to be eclipsed ; an eclipse to take place. گرہن کرنا—*karná*, v. to accept ; to admit.
- گری *garí*, गरी, H. n. f. The kernel of cocoanut, &c. [is twisted ; haystack.
- گری *garri*, गरी, H. n. f. A reel on which string
- گری *guriyá*, गुरिया, H. n. f. A bead (of a rosary, or necklace &c.) ; the vertebra ; a joint of the spine.
- گریبان *giriyan*, P. adj. Weeping ; crying.
- گریبان *girebán*, giribán, P. n. m. A collar ; the opening or breast of a garment. گریبان میں نظر کرنا—*men mugh dálna*, to look within oneself ; to confess and be ashamed of one's faults.
- گریز *gurez*, P. n. f. Flight ; escape ; deviation ; aversion ; abhorrence. گریز پا—*pá*, fugitive ; runaway. گریز کرنا—*karná*, v. to avoid ; to evade ; to fly.
- گریشم *garishma*, ग्रीष्म, S. n. m. Summer ; the hot season comprising *Jeth* and *Asárh*.
- گریوہ *garewah*, P. n. m. An acclivity ; a ravine ; a low hill ; a hillock.
- گریہ *giriya*, P. n. m. Weeping ; lamentation. گریہ کرنا—*o-zári karná*, v. to bewail ; to lament.
- گریہ *griha*, गृह, H. n. m. A house ; a dwelling.
- گری *gur*, गुड़, H. n. m. Molasses ; treacles ; raw sugar. گری گڑا—*gurám̄ba*, mangoes boiled with sugar.
- گری *gurákú*, गुड़ाकू, H. n. m. Tobacco prepared for smoking.
- گری *garbar*, گڑبڑ, H. n. m. Bustle ; confusion ; disorder ; chaos ; mismanagement ; snarchy.
- گریبان *garbráná*, گڑبڑانا, H. v. To be confused ; to rumble (the stomach).
- گری *garap*, गड़प, H. n. m. Gulp. گری کر جانا—*kar jáná*, v. to gulp down ; to eat up.
- گری *gurdhání*, गुड़धानी, H. n. f. A mixture of parched wheat and *gur*.
- گری *giruri*, गिरुरी, H. n. f. A small round fold on which a burden is carried on the head.
- گریبان *gargaráná*, गड़गड़ाना, H. v. To thunder ; to rumble.
- گریبان *girgiráná*, गिड़गिड़ाना, H. v. To implore earnestly and humbly ; beseech. [sound.
- گریبان *gargarábat*, गड़गड़हट, H. n. f. Rumbling
- گری *gurgurí*, गुड़गुड़ी, H. n. f. A small *huqqa* ; a smoking pipe ; a *huqqa* made of a cocoanut-shell.
- گری *garná*, गढ़ना, H. v. To penetrate ; to be driven ; to be fixed ; to be buried ; to sink.
- گریبان *garwáná*, गढ़वाना, H. v. To cause to be buried or driven into the earth. [to bore.
- گریبان *garoná*, H. v. गढ़ोना, To pierce ; to drive in ;
- گری *garh*, गढ़, H. n. m. A castle ; a fort.
- گری *garhá*, गढ़हा, H. n. m. A hole ; a pit ; an abyss.
- گری *garhat*, गढ़त, H. n. f. Form ; structure ; make. گری من کرنا—*man*—a production of one's brain.
- گری *gurhal*, गुड़हल, H. n. m. The shoeflower.
- گریبان *garhná*, गढ़ना, H. v. To make ; to form ; to fashion ; to forge ; to form by hammering ; to mould.
- گری *garhí*, गढ़ी, H. n. f. A small fort ; a castle.
- گری *garahiyá*, गढ़हिया, H. n. f. A small tank or pond.
- گری *guriyá*, गुरिया, H. n. m. A doll. گریا کا کھیل—*ká khel*, playing with dolls ; an easy matter.
- گری *gaz*, P. n. m. A yard measure ; a ramrod ; an iron bar.
- گری *guzár*, P. (used in comp.) Paying ; executing.
- گری *guzárish*, P. n. f. Request ; representation. گری کرنا—*karná*, v. to request ; to beg ; to represent.
- گریبان *guzárná*, गुजारना, H. v. To cause to pass ; to pass (life) ; to lay before.
- گری *guzára*, P. n. m. A passage ; a ferry ; an abode. گری کرنا—*karná*, v. to get along with difficulty.

گزارف gazáf, P. n. f. Vanity; absurd talk.
 گزار گزار, P. n. m. A passage; access; way.
 عام—ám, a public road; a thoroughfare.
 گزاران guzran, *adj.* passing; *n. f.* living; livelihood. گزاران گزارا karná, *v.* to pass life or time; to subsist; to drag on one's days. گزاران گزاران, *v.* to present; to offer.
 گزارگاه—gáh, *n. f.* a passage; a thoroughfare.
 گزاران گزارا, *v.* to pass; to go; to elapse; to happen; to surpass; to die; to expire. گزار گزاران گزارا, *v.* to pass away; to elapse.
 گزار گزارا, *n. f.* a market held in the afternoon by the roadside.
 گزار گزارا, *P. adj.* Past; elapsed; last.
 گزار گزارا P. *n. f.* A relish (eaten with wine &c.); a sweetmeat made of sesamum and sugar.
 گزار گزارا, P. *n. m.* Injury; loss; harm; misfortune. گزار گزارا, *n.* a biter; a stinger; a venomous reptile, &c.
 گزار گزارا, P. *n. m.* A nettle.
 گزار گزارا, P. *n. f.* A coarse cloth (of cotton).
 گزار گزارا, P. *n.* Escape; remedy; help (*chára*). گزار گزارا ná—, *adj.* unavoidable; remediless; helpless.
 گزار گزارا, P. Choosing; preferring; adopting, (*used as last member of compounds*), as: گزار گزارا khilwat—, *n. m.* making choice of seclusion; one given to retirement; seclude.
 گزار گزارا, H. *n. m.* A morsel; a bite.
 گزار گزارا, H. *n. m.* A saint; a holy man; a caste of Brahman; a title of respect.
 گزار گزارا, P. *adj.* Impudent; arrogant; uncivil; rude.
 گزار گزارا, P. *adj.* Arrogantly; rudely; presumptuously.
 گزار گزارا, P. *n. f.* Presumption; rudeness; arrogance; contempt (of court). گزار گزارا karná, *v.* to presume; to be arrogant or rude. گزار گزارا—mu'áf, pardon (my) rudeness.
 گزار گزارا, H. *adj.* Clownish; foolish; stupid.

گزار گزارا, P. *adj.* Spreading; scattering; diffusing; *n.* dispenser; administrator, (*used as last member of compounds*), as: گزار گزارا—'adálat—, one who diffuses or dispenses justice.
 گزار گزارا, P. *adj.* Spread as a bed, &c.
 گزار گزارا, P. *n. f.* Breaking; fracture; interruption.
 گزار گزارا, P. *n. m.* Going round; a stroll; a walk. گزار گزارا—phirná yá lagáná, to go the rounds; to patrol.
 گزار گزارا, P. *n. m.* Watch; patrol; sentinel.
 گزار گزارا, P. *part.* Turned; reversed; converted; perverted; changed; become.
 گزار گزارا, P. *adj.* Closely woven; stout; of close texture.
 گزار گزارا, P. *n. f.* Speech; discourse; saying.
 گزار گزارا, *n. f.* Conversation; dialogue; chitchat. گزار گزارا—karná, *v.* to converse.
 گزار گزارا, P. *n. f.* Discourse; debate; controversy.
 گزار گزارا, H. *n. f.* An earthen water pot.
 گزار گزارا, S. *n. m.* Sky; heaven.
 گزار گزارا, P. *n. m.* A rose; a flower; the snuff of a lamp or candle; the albugo; a brand; the burnt tobacco left on the tile of a *hugga*, after smoking. گزار گزارا—i-ashráfi, a kind of flower; *calendula*; the marigold (*gendá*). گزار گزارا—i-áftab, the sunflower (*surajmukhi*). گزار گزارا—afshán, scattering roses; strewn with flowers. گزار گزارا—ánás kí jar, *n. f.* salep. گزار گزارا—ándám, *adj.* slender; delicate. گزار گزارا—bándhná, *v.* to char the end of the match of a gun. گزار گزارا—badán, *adj.* delicate; *n. m.* a kind of silk cloth. گزار گزارا—barg—, *n. m.* a rose-leaf. گزار گزارا—banáná, *v.* to engrave. گزار گزارا—phúlná, *v.* to blossom; to appear (something new or wonderful). گزار گزارا—piyáda, *n. m.* a species of rose without smell. گزار گزارا—tarásh, snuffers. گزار گزارا—taráshná, to snuff a candle. گزار گزارا—i-já'fri, *tagetes patula*. گزار گزارا—chándní, the moon-flower. گزار گزارا—chashm, *adj.* afflicted with albugo. گزار گزارا—charre upáná, *v.* to be addicted

to pleasure; to live expensively. گل چین — chin, a flower-gatherer; a gardener; a florist. گل چیني — chiní, n. f. the gathering of roses or flowers. گل خطمي — i-khatmí, n. m. marsh-mallow-flower. گل خيرا يا گل خيرو — khairá yá gul-khairú, n. m. Chinese and Persian holly-hock; the gilliflower. گل دان — dán, n. m. a flower-pot; a flower-vase. گل داؤدي — dáudi, *cherysanthemum Indicum*. گل دستمه — dasta, n. m. a nosegay; a bouquet. گل در پهریا — i-dopahar-iyá, n. m. a kind of flower; the marvel of Peru. گل دینا — dená, v. to scar; to make an issue. گل رخسار — rukh yá gul-rukhsár, adj. rosy-cheeked. گل رعنا — ra'ná, n. m. a beautiful delicate-scented rose. گل رنگ — rang, adj. rosy-red. گل رو — rú, adj. rosy-cheeked; n. a sweetheart. گلزار — zár, a garden; a well-populated town. گل سورنجان — i-suranján, n. m. the flower of the hermodectyle plant. گل سوسن — i-sosan, n. f. lily. گل شبو — i-shabbo, n. f. tuberose. گلشن — gulshan, a rose or flower garden. گل صد برگ — i-sadbarg, n. m. the hundred-leaved rose; the sun. گل طرہ — i-turra; *poinciana, pulcherrima*. گل عباس — i-'abbás, the marvel of Peru. گل عجایب — i-'ajáib, n. m. a kind of flower. گل عذار — 'izár, adj. rosy-cheeked. گل فام — fám, rose-coloured; n. a mistress. گل فرنگ — i-farang, n. m. a kind of flower; *vinca rosea*. گل قند — qand, n. m. conserve of rose. گل کاتنا یا کترنا — kátná yá katarná, v. to snuff a candle. گل کاری — kárfí, n. f. figured; worked; painting of flowers. گل کرنا — karná, to put out; to extinguish. گل کهانا — kháná, to be cauterised or to cauterise oneself. گل کهلانا — khiláná, v. to sow dissension; to cause a disturbance. گل کهلنا — khilná, v. to open (a bud); to be betrayed. گلکش — kesh, n. m. the coxcomb. گلگشت — gasht, n. m. walking in a garden. گل گونہ — gúna, n. m. a cosmetic. گل لاله — i-lála, the poppy flower; a tulip. گل لحنہ — lahna, n. m. a caudiflower. گل لینا — lená, to snuff (a candle). گل مخمل — i-makhamal, n. f. globe amaranth. گل مہندی — mehdí, n. f. balsam. گل میخ — mekh, n. f. a stud; a nail.

—i-hazára, the double poppy. گل ہونا — honá, v. to be extinguished; to go out (a candle.) گل ارمني — gil, P. n. f. Earth; clay; mud; bole. گل انداري — i-armaní, n. f. Armenian bole. گل اندازی — andázi, n. f. an embankment; a causeway. گل حکمت — i-hikmat, n. f. lute; cement. گل gal, गल, S. n. m. Throat; neck; fishing-hook. گل بھیاں ڈالنا — bahiyán dálná, v. to throw the arms round the neck of a person; to embrace. گل بھٹا کی — phatáki, boasting; vaunting. گل بھڑا — phará, the jaw; gill (of a fish). گل مالا — málá, n. m. a garland. گل مچھین — muchchhen, long curled whiskers. گل galá, P. n. m. The throat; neck; voice; funnel. گل آنا — áná, to have sore throat or inflamed tonsils. گل اوٹھانا یا گل کرنا — uṭháná yá —karná, v. to apply acrid substances, such as pepper, etc., to the uvula of a child for a cold or cough. گل بند ہونا — band honá, v. to be choked. گل بیٹھنا یا پڑنا — baiṭhná yá parná, v. to become hoarse. گل بھارتنا — pharná, v. to scream; to shriek. گل دہانا — dabáná, v. to strangle. گل کاٹنا — kátná, v. to cut the throat; to defraud. گل گھوٹنا — ghoṭná, to choke; to throttle. گل گالے باندھنا یا منڈھنا — gale bandhná yá manḍhná, v. to lay on one's head. گل گالے پڑنا — gale parná, v. to be obligatory or incumbent. گل گالے سے اترنا — gale se utarná, v. to be swallowed. گل گالے کا ہار ہونا — gale ká hár honá, v. to pursue one persistently; to plague; to importune. گل گالے لگنا — gale lagáná, v. to embrace. گل گالے لگانا — gale lagná, to hang upon the neck of. گل gullá, H. n. m. A pellet shot from a bow. گل گلاب — guláb, P. n. m. A rose; rose-water. گل پاش — pásh, n. f. bottle from which rose-water is sprinkled. گل پاشی — páshí, n. f. sprinkling rose-water. گل پاشی کرنا — páshí karná, v. to sprinkle rose-water. گل جامن — jámun, n. f. the rose apple; a sweetmeat. گل گلابی — gulábi, P. adj. Rosy; n. m. rose-colour; a bottle for holding rose-water; a kind of sweetmeat scented with rose-water (*gulábi-roori*). گل گلاس — gilás, गिलास, H. n. m. (Corr. from the Eng.) A glass; tumbler; a mug.

کلاں gulál, गुलाल, H. n. m. The red powder which the Hindus throw on each other at the Holi. کلاں باڑی—bári, n. f. a royal palace for recreation.

گالنا galáná, गलाना, H. v. To melt; to dissolve; to waste away; to reduce or subdue the body by mortification or austerities; to cause to rot. گالنا دینا—dená, v. to waste.

گلاوا giláwá, P. n. m. Prepared clay; mud.

گالا galáú, गलाऊ, H. adj. Soluble; sceptical; n. m. solution. [swelling or tumour.

گلتی giltí, गिल्टी, H. n. f. a hard glandular knot; a tangled web. گلتی گلتی } H. n. f. A knot; a tangled web. گلتی گلتی } گلتی گلتی } H. n. f. A knot; a tangled web.

گولچہ gulcha, गुल्चा, H. n. m. A slap on the cheek.

گولخان gulkhán, P. n. m. A stove.

گولخور gulkhor, P. n. m. A horse's halter.

گال galgal, गलगल, H. n. m. A citron; a bird; a mixture of lime and linsed oil forming a kind of mortar impenetrable to water.

گالگلاہٹ gilgilahat, गिलगिलाहट, H. n. f. Silminess; softness.

گولگوتھنا gulguthná, गुलगूथना, H. adj. Plum; handsome; chubby.

گولگول gulgúl, P. adj. Rosy; roseate.

گولگونا guigúna, P. n. m. Cosmetic.

گولگیر gulgír, P. m. Snufflers.

گالنا galná, गलना, H. v. To melt; to dissolve; to be boiled or cooked; to rot; to be wasted; to mortify; to drop off; to be frozen.

گولنار gulanár, P. n. m. The flower of the pomegranate; scarlet. گولناری رنگ—gulnári rang, n. m. carnation; scarlet.

گول gulú, P. n. m. The neck; the throat; the windpipe. گول باند—band, n. m. a necktie; a cravat; a neckerchief. [and folded up.

گولاری gilaurí, गिलौरी, H. n. f. Betel-leaf prepared

گولاندا gilaundá, गिलौदा, H. n. The flower or the pod of the mahua after it has fallen off.

گالا gila, P. n. m. Complaint; lamentation; reproach; blame. گالا کرنا—karná, v. to complain.

گالا galla, P. n. m. A flock; a herd; a drove.

گالہ بان—n. m. a shepherd; a herdsman. گالہ بانی—bání, n. f. keeping of a flock.

گلابرا gilabrá, गिलहरा, H. n. m. A case for keeping in gilauri.

گلابری gilahrí, गिलहरी, H. n. m. A squirrel.

گالہی galhí, गल्ही, H. n. f. The prow (of a boat, &c); the forecastle (of ship). [boatswain.

گالہایا galhaiyá, गल्हैया, H. n. m. Forecastleman;

گالی galí, H. n. m. A narrow street; a lane.

گالیان یان—yán ohhánná, v. to wander from lane to lane. [clayey.

گلی gilí, P. adj. Of earth; made of clay, earthen.

گالیارا galiyará, गलियारा, H. n. m. A lane; a street; a passage.

گالیانا galiyáná, गलियाना, H. v. To abuse; to cram; to force anything down the throat.

گالیم galím, P. n. m. A garment made of goats' hair or wool; a blanket (kammal); a carpet or rug.

گم gum, गुम, H. adj. Missing; lost; invisible; distracted; wondering. گمراہ—ráh, adj. astray; lost. گمراہ کرنا—ráh karná, v. to mislead; to deceive.

گمراہ ہونا—ráh honá, v. to go astray; to apostatise. گم سم—sum, adj. silent; quiet.

گم شدہ—shuda, adj. lost. گم کرنا—karná, v. to lose; to hide. گم نام—nám, adj. unknown; anonymous. گم ہونا—honá, v. to be lost.

گمما gummá, गुम्मा, H. n. m. A kind of large brick.

گماشتہ gumáshta, P. n. m. A factor; a representative; an agent; a correspondent.

گماشتہ گاری gumáshta garí, P. n. f. Agency; mission; diputation.

گمان gumán, P. n. m. Idea; presumption; fancy; doubt; pride. گمان غالب—i-gálib, n. m. probability.

گمان کرنا—karná, v. to think; to presume; to suspect; to put on airs. گمان لے جانا—le jáná, to run away with the idea (of);

have suspicion (against) گمان ہے—hai, it is probable or likely; it is supposed; it is expected.

گمانی gumání, गुमानी, H. n. m. A haughty person.

گمبھیر gambhír, गम्भीर, H. adv. Deep; heavy; grave; sedate; solemn; earnest; n. a serious person.

گمبھیرتا gambhīrtā, गंभीरता, H. n. f. Depth ; gravity ; sedateness.

گمٹ gammat, गममत, H. n. f. Diversion ; amusement ; the passing of time pleasantly ; assembly ; party ; society ; profit ; bargain.

گمٹا gummat, गुम्मत, H. n. m. A dome ; a tower (gumbad).

گمٹی gumtī, गुमती, H. n. f. A bastion. [napkin.

گمچھا gamchhá, गमछा, H. n. f. A towel ; a

گمڑا gumrā, गुमड़ा, H. n. m. Swelling ; lump ; bump ; tumour.

گمک gamak, गमक, H. n. f. Drum-beat ; march ; a violent shake or clash in music ; smell.

گمکیلا gamkīlā, गमकीला, H. adj. Fragrant ; spicy.

گن gun, गुण, H. n. m. Attribute ; property ; merit ; virtue ; excellence ; skill ; advantage ; cause ; multiplication ; a string. گن ارگن—angun, n. merits and demerits. گن پھل—phal, n. m. (in Arith.) product. گن دایک—dayak, adj. beneficial ; useful ; effective. گن کرنا—denā yā—karnā, v. to be effective ; to benefit ; to multiply. گن گانا—gānā, v. to praise ; to extol. گن گناہک—gāhak, n. m. one who values merit ; a patron of learning. گن ماننا—mānā, v. to acknowledge a favour ; to show gratitude. گن ندهان—nidhān, adj. skilful ; expert.

گنا gunā, गुणा, H. (used in comp.) Times ; fold ; turn ; as : گنا تین—, threefold ; triple.

گننا gannā, गन्ना, H. n. m. Sugar-cane.

گننا ginnā, गिनना, H. v. To count ; to number ; to compute ; to regard.

گنانا ginānā, गिनाना, H. v. (Caus. of Ginnā) To cause to count.

گناہ gunāh, P. n. m. A fault ; a sin. گناہ بخشنا—bakḥshnā, v. to absolve or pardon one's sin. گناہ بے لذت—i-be lazzat, n. m. sinning without enjoyment ; lying. گناہ کرنا—karnā, v. to sin ; to offend. گناہگار—gār, a sinner ; a culprit. گناہ کاری—gārī, sinfulness ; loss ; forfeit.

گنبد gumbad, P. n. m. A cupola ; a dome ; a vault. گنبد دار—dār, adj. vaulted ; domed.

گنبد کی صدا—ki sadā n. f. an echo from a dome ; tit for tat.

گنت ganit, गणित, S. n. f. Mathematics ; arithmetic ; adj. mathematical. گنت کار—kār, n. m. mathematician ; astronomer. گنت ان—an—, adj. innumerable.

گنٹھوانا gunthwānā, गुंथवाना, H. v. (Caus. of گنٹھوانا Gunthnā) To cause to string.

گنتی gintī, गिन्ती, H. n. f. Number ; reckoning ; calculation ; account ; muster. گنتی کے—ke, adj. a few.

گنج ganj, P. n. m. A treasure ; heap ; a grain market ; a mart ; an emporium. گنج بخش—baksh, adj. generous ; profuse. گنج شہیدان—i-shahīdān, n. m. a catacomb, God's acre ; the burial-place of martyrs. گنج قارون—i-Qārūn, n. m. the vast wealth of Cræsus. گنج گاؤ—i-gāo, n. m. one of the great treasure of Jamshid. گنجنامہ—nāmā, treasure-book.

گنج ganj, گنج, H. n. f. The seed of *Abrus precatorius* ; baldness ; scald head.

گنجا ganjā, گنجا, H. adj. Scald-headed ; bald.

گنجان gunjān, P. adj. Dense ; thick.

گنچایش gunjāish, P. n. f. Capacity ; room ; power ; profit ; capability. گنچایشی—i, capable ; lucrative.

گنجرور ganjūr, P. n. m. A treasurer.

گنچینہ ganjīna, P. n. m. A pack of cards consisting of eight colours or suits.

گنچہری ganjherī, گنچہری, H. adj. One addicted to the use of *ganja*.

گنچیا ganjyā, گنچیا, H. n. m. A grasscutter's bag ; a wallet.

گنچینہ ganjīna, P. n. m. A treasury ; a magazine.

گندک gandak, (गंधक), H. n. f. Sulphur ; brimstone.

گندم gandum, P. n. m. Wheat. گندم کرمائی—i-kirmānī, vermicelli. گندم رنگ یا گندمی—rang yā gandumī, adj. russet ; tawny ; brown ; swarthy.

گندورڑا gindaurā, गिन्दौरा, H. n. m. A cake of solid sugar distributed among the relatives at a marriage.

گندھ gandh, गन्ध, S. n. Smell ; odour ; an odouriferous substance.

گندہ ganda, } P. *adj.* Stinking; filthy; inde-
گندی gandí, } cent; sour. گندہ بیروزی—biroza;
n. m. a kind of resin; frankincense گندہ کرنا
—karná, v. to make dirty, to pollute; defile;
to disgrace. گندی باتیں—báten, v. obscene
language.

گندھار gandhár, گंधार, H. n. m. A musical mode.

گندھارت گundhávát, गुंधावट, H. n. f. Plaiting;
dressing; braiding.

گندھرب gandharb, गन्धर्व; S. n. m. A celestial mu-
sician; a singer; a musician of Indra's court.
گندھرب بیاہ—biváh, n. m. a marriage by mu-
tual agreement contracted without the usual
ceremonies. [sulphur.

گندھک gandhak, गंधक, H. n. f. Brimstone;
گندھنا gundhná, गुंधना, H. v. To be kneaded; to
be plaited. [green flying bug.

گندھی gandhí, गंधी, H. n. m. A perfumer; a

گندا gandá, गन्दा, H. n. m. A set of four; four
cowries or pices; a ring; an amulet; a kind
of horsecollar; a knotted string used as an
amulet; sugar-cane. گندا تعریذ کرنا—ta'vix
karná, v. to exercise by means of amulets.

گندا گundá, गुन्दा, H. *adj.* Licentious; rakish;
cunning; wicked; n. m. a rogue; a scoundrel;
a black-guard.

گندا سا gandásá, गंडासा, H. n. m. An axe; pole-axe.

گندری gindurí, गिंदुरी, H. n. f. A round fold placed
on the head for supporting a water-jar, etc.

گندمالا gandmalá, S. n. m. The bronchocele;
goitre; the Derbyshire neck; acrofula.

گندری گanderí, गंदेरी, H. n. f. A portion of
sugar-cane.

گنگ gang, गंग, } H. n. f. A stream; a river;
گنگا gangá, गंगा, } the river Ganges; the Hindu
goddess of the same name. گنگا پتر—putr,

n. m. a Brahman priest who officiates on the
Ganges. گنگا چلی—jalí, n. f. a goblet to keep
the Ganges water. گنگا چلی اٹھانا—jalí
uṭháná, v. to swear on the Ganges water.

گنگا چمنی—jamní, n. f. gold and silver tassels;
an earring; mixture. گنگا دھائی—duháí, by
the Ganges! by God! گنگا ساگر—ságar, n. m.
The mouth of river Ganges; a large jug.

گنگونا gunguná, गुनगुना, H. *adv.* Lukewarm; tepid.
گنگوناٹ گungunáhat, गुनगुनाहट, H. n. f. A small
sound; a hum.

گنوار ganwár, गवॉर, H. n. m. A villager; a
rustic; a clown; a churl; a dunce. گنوار پان—
pan, n. m. rudeness; folly. گنوار کا لٹھ—ká
lath n. m. an arrant fool.

گنوار گانvárú, गँवारू, H. *adj.* Rustic; rude.

گنوان gunvân, गुनवान, H. *adj.* Virtuous; skilful;
talented.

گنوانا ganváná, गँवाना H. v. To waste; to lose.

گنوانت gunwant, n. m. گنوانت, } H. See گنوان
گنوانتی gunwantí, n. f. گنوانتی, }
گنی guní, n. f. گنی, } gunván.

گنی گuniyá, गुनिया, H. n. m. A mason's or a
carpenter's square; the tri-square multipli-
cand.

گنیش ganesh, गणेश, S. n. m. The name of a
Hindu divinity; the god of wisdom and
prudence; Janus of the Hindus.

گو go, P. *adj.* Saying; telling; relating; n.
sayer; speaker; teller used as last member of
compounds) as: گو کامر—kam—, taciturn. گو بد
—evil speaker; conj. in spite of; although;
however; notwithstanding that.

گو گú, गु, H. n. f. Ordure; excrement; filth.

گو گاú, गौ, H. n. f. A cow; *adj.* bovine; meek;
simple.

گوارا gavará, } P. *adj.* Palatable; digestible;
گوارا gavára, } bearable; agreeable; pleasant.

گوارا کرنا—karná, v. to bear; to tolerate; to
endure.

گوال guál, ग्वाल, } H. n. m. A cowherd; a
گوالا guálá, ग्वाला, } milkman.

گوالین goálin, ग्वालिन, H. n. f. A female cowherd;
a milk-maid.

گوانا gaváná, गवाना, H. v. To cause to sing.

گواہ gaváh, P. n. m. گواہ تعلیمی—
ta'limí, a tutored witness. گواہ چشم دید—
chashm did, an eye-witness. گواہ حاشیہ—
háshiya, an attesting witness. گواہ سماہی—
samá'í, a witness who speaks from hearing.
a hearsay witness.

گواہی gawáhí, P. n. f. Evidence; testimony.
گواہی دینا—dená, v. to witness; to give

evidence ; to depose. گواہی کرنا—karná, *v.* to attest ; to witness a document.

گوبر گobar, *A. n. m.* Cow-dung. گوبر گنیش ganes, a simpleton.

گوبری gobrí, گوبری, *H. n. f.* Plaster of cow-dung. گوبری کرنا—karná, *v.* to plaster (with cow dung). [cabbage.

گوبھی gobhí, گوبھی, *H. n. f.* A cauliflower ; a گوپ gop, گوپ, *H. n. m.* A cowherd ; milkman ; a gold necklace. [of *Krishna.*

گوپال gopál, گوپال, *H. n. m.* A cowherd ; a name گوپان gophan, گوپان, *H. n. f.* A sling.

گوپی gopí, گوپی, *H. n. f.* A female cowherd, a dairy-maid.

گوت got, گوت, } *H. n. m.* Parentage ; lineage ;
گوتر gotr, گوتر, } race ; sub-division of a tribe
or caste ; stock of a family.

گوتھ goth, گوتھ, *H. n. m.* A yoke.

گوتھنا gúthná, گوتھنا, *H. v.* To plait ; to thread ; to string.

گوت گot, گوت, *H. n. f.* The hem of a garment ; piece at *chappar*, &c.

گوتہ گotá, گوتہ, *H. n. m.* Gold or silver lace (rather narrow) ; a narrow fillet of brocade.

گوجر gojar, گوجر, *H. n. m.* A centipede ; scolopendra.

گوجر گújar, گوجر *H. n. m.* A cowherd ; a dairyman ; an inferior Hindu caste chiefly engaged in agriculture and cattle-rearing.

گوجائی gojaí, گوجائی, *H. n. f.* Wheat and barley sown together in the same field.

گوجی gojí, گوجی, *H. n. f.* A staff, stick, or club.

گوچار gochar, گوچار, *S. n. m.* Perception ; information ; planetary influence ; range of vision or mind ; pasture-ground ; *adj.* known ; perceived ; perceptible.

گوچنی gochní, گوچنی, *H. n. f.* A crop of wheat and gram grown together ; mixture of wheat and gram.

گواچھی gauchhí, گواچھی, *H. n. f.* A shoot ; a sprout.

گود god, گود, *H. n. f.* The lap ; embrace ; adoption ; a present made to the bride at different

ceremonies. گود پارسنا—pasárná, *v.* to beg ; to ask. گود لینا—lená, *v.* to adopt (a child).

گودا gúdá, گودا, *H. n. m.* Brain ; marrow ; pith ; crumb (of a leaf) ; gist ; substance ; pap ; pulp گودے کی ہڈی—kí haddí, marrow-bone.

گودام godám, گودان, *H. n. m.* Godown ; warehouse ; storehouse.

گودان gaudán, گودان, *H. n. m.* Gift of a cow.

گودار gúdar, گودار, *H. n. m.* Old tattered clothes ; a quilt ; rubbish. گودار کاتھنا—gáñthná, *v.* to stitch together tattered rags ; to quilt. گودار گودے کا اعلیٰ—ká lá'l, *n. m.* a jewel in rags, (*met.*) good out of evil.

گودنا godná, گودنا, *H. v.* To puncture ; to goad ; to tattoo ; to dig ; to dot ; to vaccinate ; *n. m.* marks of tattooing ; a hoe ; vaccination.

گودی godí, گودی, *H. n. f.* The lap.

گور gor, *P. n. f.* A grave ; a tomb. گورخار—khar, the wild ass ; the onager. گورستان—istán, graveyard ; cemetery. گور کا منہ جھانک کر—ká munh jhánk kar phirná, to escape from the jaws of death. گور کفن—kafan, funeral ceremonies. گور کن—kan, [a gravedigger. گور لب lab i—, on the brink of the grave.

گورا gorá, گورا, *H. adj.* Fair ; white ; beautiful ; *n. m.* a European soldier ; a European.

گورا gaurá, گورا, *H. n. m.* A cock-sparrow ; the goddess *Parvati*.

گورک دھندا gorak dhandá, (گورک بंधا), *H. n. m.* puzzle ; a labyrinth ; an intricate affair ; a puzzle-lock (*Pers. qufl-s-waswds*). [cattle.

گورگورú gorú, گورگور, *H. n. m.* An ox ; a cow ; horned

گوری gaurí, گوری, *H. n. f.* A musical mode ; one of the names of *Parvati*.

گورایا gauraiyá, گورایا, *H. n. f.* A sparrow ; a small *huqqa* made of clay.

گورا گora, گود, } *H. n. m.* The leg ; foot ; the
گور gor, } knee ; the patella. گور ٹوٹنا—
tútná, *v.* to be broken (the leg) ; to be very tired ; to be disappointed. گور پارسنا—
párná, *v.* to fall at the feet of ; to touch the feet of
son reverentially ; to prostrate oneself

before a man of high position or caste ; to beg with great earnestness and humility. گونا گونا—pasárná, *v.* to stretch one's legs ; to die.

گونا گونا *gorná*, गूढ़ना, *H. v.* To dig ; to scrape.

گونا گونا *gúrh*, गूढ़, *H. adj.* Difficult ; obscure ; hidden. گونا گونا—*baktá*, *n. m.* a pedant ; a pedagogue. [secrecy.]

گونا گونا *gúrhá*, गूढ़ता, *H. n. m.* Abstruseness ;
گونا گونا *gorait*, गोरेत, *H. n. m.* A village watchman or informer.

گونا گونا *guz*, *goz*, *P. n. m.* A nut ; walnut ; kernel (*chilgoza*.)

گونا گونا *goz*, *P. n. m.* A fart ; flatus. گونا گونا—*márná*, *v.* to fart ; to break wind. گونا گونا—*i-shntr samajhná*, *v.* to set at naught ; to disregard ; to treat lightly.

گونا گونا *gauzan*, *P. n. m.* An elk ; a deer (*sámbar*).

گونا گونا *gosála*, *P. n. m.* A calf.

گونا گونا *gausalá*, गौसाला, *H. n. m.* A cowshed.

گونا گونا *gosáin*, गोसाईं, *H. n. m.* The Deity ; a holy person ; a devotee ; a sect of Hindus.

گونا گونا *gospaní*, } *P. n. f.* A sheep ; a goat.
گونا گونا *gosfand*, }

گونا گونا *gosh*, *P. n. m.* The ear. گونا گونا—*zad honá*, *v.* to be heard. گونا گونا—*guzár karná*, *v.* to inform ; to report. گونا گونا—*máll*, *n. f.* pulling or rubbing the ears ; chastisement.

گونا گونا *gosht*, *P. n. m.* Flesh ; meat. گونا گونا—*khwár*, *adj.* carnivorous. گونا گونا *goshtín*, *adj.* fleshy (an epithet chiefly applied to the tongue) as : گونا گونا *zubán-goshtín ast teg-i-áhní*, the tongue, though of flesh, is yet a sword of steel.

گونا گونا *goshvára*, *P. n. m.* An earring ; boring the ears ; an embroidered cloth worn in the turban ; an abstract of accounts.

گونا گونا *gosha*, *P. n. m.* An angle ; a corner ; a closet ; retirement ; privacy ; side ; horn (of a bow) ; a hermit's cell. گونا گونا *goshe dár*, *adj.* angular. گونا گونا *guzáin*, *adj.* fond of retirement. گونا گونا *nashín*, *adj.* retired ; solitary ; recluse. گونا گونا *nashíní*,

n. f. retirement ; seclusion ; the life of a hermit. گونا گونا *kamán ke goshe men pakárná*, (*Lit.*) to catch with the bow without shooting ; to seize with facility.

گونا گونا *gokhrú*, गोखर, *H. n. m.* A plant ; an iron crow's-foot ; narrow twisted silver or gold lace ; fretted lace ; a pendant ; a tragus (of the ear) ; a thorn.

گونا گونا *gugird*, *P. n. m.* Sulphur ; brimstone. گونا گونا—*i-abmar*, red sulphur.

گونا گونا *gúgal*, गुगल, *H. m.* *Agallochum* ; Indian bdellium.

گونا گونا *gol*, गोल, *H. adj.* Round ; circular ; ring-shaped ; globular ; vague ; indefinite ; *n. m.* a large earthen pot. گونا گونا—*bát*, a vague or ambiguous expression ; an entangled or doubtful matter ; (*lapetwán*). گونا گونا—*sikhar*, a circular cone گونا گونا *mál karná*, *v.* to mix ; to make a mess of ; to embezzle. گونا گونا—*mirch*, *n. f.* black pepper. گونا گونا—*maḥhol*, *adj.* fat and foolish.

گونا گونا *golá*, गोला, *H. n. m.* A large ball ; a bomb ; a cannon-ball ; a cocoanut ; the curb of a well ; colic ; a kind of pigeon ; a large jar of earth for grain ; a large beam of wood ; (in *Arch.*) an astragal ; a herd of cattle ; a pier. گونا گونا *dhár barasná*, *v.* to rain cats and dogs ; to rain in torrents. گونا گونا *márná*, *v.* to cannonade. گونا گونا *andáz*, *n. m.* cannoneer ; a bombardier.

گونا گونا *golái*, गोलाई, *H. n. f.* Roundness.

گونا گونا *gúlar*, गुलर, *H. n. m.* Wild fig ; a pod.

گونا گونا *golí*, गोली, *H. n. f.* A globule ; a ball ; a bullet ; a pill ; a marble ; a gunshot (as a measure of distance). گونا گونا—*lagná*, to be shot ; to be struck by a ball. گونا گونا *márná*, *v.* to fire or shoot at ; to shoot marbles.

گونا گونا *gúmfá*, गुमड़ा, *H. n. m.* A boil ; a swelling.

گونا گونا *gún*, *P. n. m.* Colour ; tint ; kind ; species ; mode (*used in comp.*), as : گونا گونا *gul*—, rose-coloured ; red. گونا گونا *gúná*—, of different colours ; variegated.

گونا گونا *gon*, गोन, *H. n. f.* A bag ; sack ; a pannier.

گور *gaun*, गौ, H. *n. f.* Want ; need ; advantage ; opportunity ; occasion. گور کا یار — *ká yár*, a self-interested or a selfish person ; time-server (*khud garaz*) گور گیر — *gír adj.* self-interested. گور نکلنا — *nikalná, v.* to attain one's end ; to serve one's purpose.

گورنا *gauná*, गौना H. *n. m.* Bringing home a bride ; consummation of the marriage.

گورنج *gúnj*, गुंज, H. *n. f.* Echo ; resounding ; hollow sound ; roar ; a clasp.

گورنجا *gúnjá*, गुंजना, H. *v.* To echo ; to roar ; to resound ; to clasp.

گورنجه *gúnjh*, गुंजू, H. *n. f.* A clasp.

گوند *gond*, गोंद, H. *n. f.* Gum ; gum arabic. گوند دانپ — *dání, n. f.* a gum-pot. [birds.]

گوندا *gondá*, H. *n. m.* Soft dough for feeding

گوندھنا *gúndhná*, गुंधना, H. *v.* To knead ; to braid ; to weave ; to plait.

گوند *gond* گوند, H. *n. m.* A low tribe of mountaineers inhabiting the vindhya range in the Madhya Pradesh of India.

گونگا *gúngá*, गुंगा, H. *adj.* Dumb ; mute.

گونگا کرنا *gúngán karná*, गुंगा करना, H. *v.* To sign ; to prattle.

گونہ *gúna*, P. *n. m.* Colour ; kind ; fold ; form. دو گونہ *yak* — *adj.* single ; a little. دو گونہ *do* — *adj.* double ; twice.

گونہار *gaunhár*, गौहार, H. *n. m.* The company who attend the husband to bring his wife home.

گورہ *goh*, गोह, H. *n. f.* A lizard ; an iguana.

گورہار *gohár*, गोहार, H. *n. m.* A cry for help ; abuse ; fighting.

گورہ *ganhar*, P. *n. m.* A pearl ; a gem ; lustre of a gem or sword ; essence ; nature ; descent ; origin. گورہ افشان — *afshán, adj.* scattering pearls. بار گورہ — *bár*, raining pearls. گورہ سنج — *sanj, n.* a critic ; an examiner of pearls. گورہی *gauhari, n. m.* a jeweller ; a lapidary.

گورہانا *gohráná*, गोहराना, H. *v.* To call ; to cry.

گورہی *goi*, P. *part.* Speaking ; telling ; used in *comps.* as : گورہی عیب گورہی — *aib* — fault-telling.

گورہی *gavalyá*, गवैया, H. *n. m.* A singer.

گورہی *goiyán*, गोइयाँ, H. *n. f.* A partner (at a game) ; a woman's female friend.

گورہی *goyá*, P. *adj.* As if ; as though ; as it were.

گورہی *goyál*, P. *n. f.* Talk ; eloquence ; power of speech ; command of a language.

گورہی *goyanda*, P. *n. m.* A speaker ; an informer ; a spy ; an approver.

گورہی *ghát*, घाट, H. *n. f.* Ambush ; snare ; slaughter ; trick. گورہی تاکنا — *tákná, v.* to watch for an opportunity. گورہی کرنا — *karná, v.* to kill ; to slaughter. گورہی میں بیٹھنا — *men baithná, v.* to lie in ambush ; to waylay.

گورہی *ghatak*, घातक, H. *adj* and *n.* Murderous ; cruel ; evil ; *n.* murderer ; enemy ; executioner.

گورہی *ghátí*, घाती, H. *adj.* Deceitful ; treacherous ; lurking.

گورہی *ghát*, घाट, H. *n. m.* A landing-place ; a *ghát* ; bathing-place on a river side ; a place for washing clothes on the bank of a river ; a wharf ; the curve in the blade of a sword ; a bride's skirt ; loss ; want. گورہی گھات کا پانی پینا — *ghát ká pání píná, v.* to see the world ; to acquire wide experience. گورہی مارنا — *márná*, to smuggle dutiable goods. گورہی سڑکھ گھات اتارنا — *mánjhí*, ferry-man. *súkhe* — *utárná, v.* to disappoint one.

گورہی *ghátá*, घाटा, H. *n. m.* Acclivity ; accent ; loss ; reduction ; deficiency ; scarcity ; damages. گورہی اٹھانا — *uṭháná, v.* to suffer a loss. گورہی بھارنا — *bharná, v.* to make good a loss. گورہی پڑنا — *parná, v.* to incur or suffer a loss ; loss to befall.

گورہی *gháti*, घाटी, H. *n. f.* A pass (in a mountain) ; a valley ; a custom-house pass.

گورہی *ghátiyá*, घाटिया, H. *n. m.* A Brahman who sits at a *ghát* to keep the clothes, &c., of those who resort to make ablution.

گورہی *ghás*, घास, H. *n. f.* Grass ; straw ; fodder. گورہی پات — *pát, n. m.* green ; sweepings. گورہی پھوس — *phús, n. m.* straw ; weeds. گورہی کھانا — *kháná, v.* to graze ; to eat hemp ; to become mad. گورہی کھردنا — *khodná, v.* to grub up grass with a *khurpá*.

گھاگھ ghagh, घाघ, H. *adj.* Old; aged; experienced; sly; wily.

گھاگھرا ghághrá, घाघरा, H. *n. m.* A petticoat; a gown; a plant; a pigeon; the name of a river.
گھاگھ پالتان—paltán, *n. m.* kilted soldiers; Highland regiment.

گھام ghám, घाम, H. *n. m.* Sunshine; sunbeams; heat; sultriness. گھام کھانا khána, *v.* to bask in the sun.

گھاما ghámar, *A. adj.* Simple; foolish; dull.

گھان ghán, घान, H. *n. m.* As much as is thrown in at one time into a mill, or a frying-pan, &c.; a batch.

گھانٹی ghánṭí, घाँटी, H. *n. f.* The uvula or soft palate; the throat; the windpipe; Adam's apple; the larynx.

گھانی ghání, घानी, H. *n. f.* An oil-press; a sugar-mill; a sugarcane press; quantity to be ground or pressed (*ghán*).

گھاگھ gháo, घाव, H. *n. m.* Wound; cut; sore.
گھاگھ—bharná, *v.* to heal (a wound). گھاگھ کرنا—karná, *v.* wound; to give a cut; to wound one's feelings. گھاگھ—khána, *v.* to be wounded.

گھائی ghái, घाई, H. *n. f.* Stratagem; cudgelling; the angle between the branch and trunk of a tree; a set of five; the hole of an oven; the space at the angle or inclosed space at the junction of two fingers or toes; a blow with a cudgel.

گھایا gháyal, घायल, H. *adj.* Wounded; stricken; smitten with love. گھایا کرنا—karná, *v.* to inflict a wound; to smite (with love). گھایا کرا—ká suágg, *n. m.* an exhibition in which the performer appears to pass the sword through the flesh in different parts of his body.

گھبراگھا ghabrána, घबराना, H. *v.* To be confounded; to be confused; to be agitated; to be embarrassed; to perplex; to confound.

گھبراگھاٹ ghabráhaṭ, घबराहट, H. *n. f.* Perplexity; bewilderment; confusion; agitation; consternation; alarm.

گھاپلا ghaplá, घपला, H. *n. m.* Duplicity; discrepancy (in accounts); disorder; confusion; jumble; mess; error; entanglement. گھاپنا—paṭná, *v.* to be thrown into disorder; to occur (a mistake in accounts). گھاپنا ڈالنا—dálná, *v.* to jumble; to throw into disorder; to confuse; to make a mess.

گھاگھ ghaṭ, घट, H. *n. m.* Water-pot; body; decrease; mind; heart.

گھاگھاٹا ghaṭá, घटा, H. *n. f.* Gathering of the clouds; cloudiness. گھاگھاٹا—uṭhá, *v.* to grow cloudy. گھاگھاٹا—chhána, *v.* to lower (clouds); clouds to overcast (the sky).

گھاگھاٹنا ghaṭána, घटाना, H. *v.* To subtract; to lessen; to diminish; to reduce; to allay; to lower; to degrade.

گھاگھاٹو ghaṭáo, घटाव, H. *n. m.* Subtraction; falling; reduction; abatement; deficiency; abbreviation; decline (of the moon). گھاگھاٹو—baṭáo, increase and decrease; excess and deficiency; (in *Alg.*) involution and evolution.

گھٹنا ghuṭná, घटना, H. *v.* To be pounded; to be well cooked; to be polished; to be suffocated; to be engaged in talking; to be close friends; to be full; to be shaved clean; *n. m.* the knee. گھٹنوں چلنا یا گھٹنوں کے بل چلنا—ghuṭniyon chalná, yá ghuṭnon ke bal chalná, *v.* to crawl on the hands and knees (as a child).

گھاگھاٹنا ghaṭná, घटना, H. *v.* To decrease; to lessen; to dwindle; to abate; to subside; to go down; to become allayed or appeased; to become deficient; to be depressed; to be compressed.

گھاگھاٹتی ghaṭṭí, घट्टी, H. *n. f.* Diminution; abatement; decline; loss.

گھٹتی ghuṭṭí, घुट्टी, H. *n. f.* A medicine given to new-born infants. گھٹتی میں پڑنا—men-paṭná; to be used to anything from infancy.

گھاگھاٹییا ghaṭiyá, घटिया, H. *adj.* Inferior; cheap; low-priced.

گھیکھ گھیکھ ghich pich, घिच पिच, } H. *adj.*
گھیکھ گھیکھ ghichar picar, घिचर पिचर, } Thick;

confused ; muddy ; crowdy ; *n. f.* crash ; thickness ; closeness. لڳڻا ڇڻڻ—likhná, to write closely.

گھر ghar, घर, *H. n. m.* House ; home ; dwelling ; habitation ; abode ; compartment ; room ; den ; cave ; space ; cause ; source ; origin ; family ; socket ; place of origination or production ; گھر آباد ڪرڻا—ábad karná, *v.* to marry ; to take a wife ; to beget children. گھر ٻار—bár, *n. m.* family ; household goods. گھر ٻاري—bári, *n. m.* A house holder ; a family man. گھر ٻار بسنا—bár basná, *v.* a house to be inhabited ; to undergo the consummation of a marriage ; to have a wife. گھر بگڙنا—bigarhá, *v.* to be ruined ; to lose a husband or wife by death. گھر بسنا—basná, *v.* to be married ; to get a wife. گھر بنانا—banána, *v.* to build a house ; to make oneself comfortable. گھر ٻه—bhar, *n.* the whole family. گھر گھر—ghar, from house to house ; from door to door. گھر بيٺهنا—baiṭhná, to be ruined ; to be unemployed ; to become a kept mistress. گھر بيٺه—baiṭhe, seated at home ; without moving or exertion. گھر ڀڙڪ ڏيکھڻا—phúnk tamásha dekhná, *v.* to waste one's substance in idle pleasure. گھر ڀڙڪه ڪرڻا—píchhe yá ghar gail, per house ; by the house. گھر ڇلانا—chalána, to keep one's house a-going ; to provide the expenses for one's household ; to manage a house well. گھر سر ڀر آڻهڻا—sir par uṭháná, *v.* to manage domestic concerns ; to make an uproar. گھر ڇڙ ڪرڻا—se be—karná, to turn one out of doors. گھر ڇڙ ڪرڻا—se-khoná, *v.* to waste one's own money. گھر سينا—séná, *v.* to keep much at home. گھر آدمي—ádmí, *n. m.* a member of one's family ; a confidential friend. گھر ڪرڻا—karná, *v.* to build a house ; to establish a family ; to settle ; to dwell in ; to make oneself at home or familiar (with). گھر گھر ڪرڻا يا ڀڙباد ڪرڻا—khoná yá barbád karná, *v.* to bring down a family ; to ruin oneself. گھر ڪي لوڪ يا آدمي—ke log yá ádmí, *n. m.* the wife ; the family. گھر گھسنا—ghusná, *n. m.* one who keeps much at home. گھر والي—valí, *n. f.* a house wife ;

lady. والي—wálá, *n. m.* the husband ; the master of the house. گھر ڀڄڻا—úñchá, *n. m.* a high family. گھر ڀڄڻا—bhará, a rich family. گھر ڊاڪ ڌار—ḍák, post office. گھر ڌار—, telegraph office.

گھر ڌار گھر ڌار, घर ڌار ڌار, *H. n. m.* Death-rattle ; agony ; pang. گھر ڌار ڌار—chalná, the death rattle to rise (in the throat).

گھر ڌار گھر ڌار, गहरा, } *H. adj.* Profound ; deep ;
گھر ڌار گھر ڌار, गहरी, } weighty, grave ; difficult ;
sound sleep ; close ; intimate (friendship) ;
strong (liquor). گھر ڌار ڌار—bát, a deep matter ;
an important affair. گھر ڌار ڌار—chhánná,
v. to be intoxicated by *bhang*. گھر ڌار ڌار—
chhanná, *v.* to be close friends ; to have a
great fight. گھر ڌار ڌار—nínd, *n. f.* fast or
sound sleep. گھر ڌار ڌار—gahre honá, *v.* to
gain ; to advance in interest, health or hap-
piness. [noise ; snorting.]

گھر ڌار گھر ڌار, घर ڌار ڌار, *H. n. m.* Snoring ; rattling

گھر ڌار گھر ڌار, घरामी, *H. n. m.* A thatcher.

گھر ڌار گھر ڌار, घराना, *H. n. m.* Family ; house ;
dynasty (*bhándán*).

گھر ڌار گھر ڌار, घुराना, *H. v.* To growl (as a
dog) ; to purr (as a cat) ; to snarl.

گھر ڌار گھر ڌار, घिरना, *H. v.* To be surrounded ; to
be besieged ; to be enclosed ; to be occupied
or filled ; to be collected around ; to gather
(as clouds).

گھر ڌار گھر ڌار, घिरनी, *H. n. f.* A pulley ; a wheel
on which rope is twisted ; vertigo. گھر ڌار گھر ڌار
—khaná ; to go round and round ; to whirl.

گھر ڌار گھر ڌار, घरौदा, *H. n. m.* A baby-
house ; a toy house.

گھر ڌار گھر ڌار, घरिया, *H. n. m.* A crucible ; a
wasp's comb ; honeycomb. [homely.]

گھر ڌار گھر ڌار, घरेलू, *H. adj.* Tame ; domestic ;

گھر ڌار گھر ڌار, घुड़, *H. n. m.* (*Cont. of* गहरा *Ghórá*).

A horse (*used in comp.*) as : گھر ڌار گھر ڌار—charhá,
n. m. a horseman ; a cavalryman ; a body-
guard.

گھر ڌار گھر ڌار—charhí, *n. f.* a female on
horse-back ; cavalry. گھر ڌار گھر ڌار—daur, *n. f.* a
horse-race ; a race-course.

گھر ڌار گھر ڌار—sál, *n. m.*
a stable,

گھارا ghará, घड़ा, H. n. m. A water-pot; a pot; a pitcher.

گھارا گھرائی gharáí gharaí, H. n. f. Workmanship; the price paid for the making of anything.

گھارت gharat, घट, H. n. f. Workmanship; make; invention; make-believe.

گھارکنا gharakná, घड़कना, H. v. To browbeat; to frown at; to chide; to threaten; to menace.

گھارکی gharakí, घड़की, H. n. f. Browbeating; rebuff; frown; threat; menace.

گھارونچی gharonchí, घड़ौचो, H. n. f. A stand for water-pots, &c.

گھاری gharí, घड़ी, H. n. f. A chorometer; a clock; a watch; a gong; the space of 24 minutes; time; hour; moment. گھاری بهر میں—bhar men, adv. in a moment; in a trice. ساز گھاری ساز—sáz, n. m. watchmaker. گھاری کرکنا—kúkná, v. to wind a watch. گھاری گھاری—gharí, adj. many times; again and again; repeatedly. گھاری میں گھاری میں ماشہ—men tola gharí men másha, (Lit.) at one time an ounce, at another a grain; (Met.) of a changeable or fickle disposition. ریت گھاری ret-gharí, n. f. An hour-glass; a sand-glass. [bell; a gong.

گھاریال gharýal, घड़ियाल, H. n. m. A crocodile; a

گھاسا ghisá, घिसा, H. n. m. Rubbing, abrasing; trick.

گھاسا ghisáo, घिसाओ, H. n. Friction; wear; گھاساٹ ghisávat, घिसावट } abrasion.

گھاس پائٹھ ghus-paiṭh, घुस पैठ, H. n. f. Access; entrance; entree. [to trail.

گھاسٹنا ghisatná, घिसटना, H. v. To be dragged;

گھسار گھسار ghusar phusar, घुसड़ फुसड़, H. n. Whis- pering; stuffing.

گھسنا ghusná, घुसना, H. v. To enter; to pene- trate; to interfere; to rush in. گھس آنا ghus áná, to come rushing in. گھس پڑنا ghus parná, to thrust oneself in; to rush headlong or rashly into a place or an affair.

گھسنا ghisná, घिसना, H. v. To rub; to whet; to be rubbed; to wear.

گھسیارا ghasiyára, घसियारा, H. n. m. Grass-cutter.

گھسٹنا ghasitná, घसीटना, H. v. To pull; to drag along; to trail; to scribble.

گھسٹنا ghuserná, घुसेटना, H. v. To thrust; to stuff; to foist; to penetrate.

گھسٹنا ghighiyána, घिघियाना, H. v. To falter; to implore; to appeal very humbly.

گھسٹنا گھسٹنا ghighi bandh janá, घिघीबंध जाना H. v. To lose the power of speech (from fear, joy shame, &c.)

گھسٹنا ghasír, घगीर, H. adj. Unbroken (a horse); unsubdued.

گھسٹنا gahal, गहल, H. n. f. A bunch or cluster of grapes, dates or plantain (gaud, ghour).

گھسٹنا ghulána, घुलाना, H. v. To melt; to dissolve; to soften. [softness.

گھسٹنا ghauláo, घुलाओ, H. n. m. Melting; solution;

گھسٹنا ghulná, घुलना, H. v. To dissolve; to melt; to become mellow; to rot; to become lean; to be mixed with; to waste away (from grief or sickness). گھسٹنا گھسٹنا ghul-mil, adj. dissolved; mixed; intimate. گھسٹنا گھسٹنا ghul-mil kar rahná, to be on very intimate terms; to live in close union or in harmony.

گھسٹنا ghillvá, घिलवा, H. n. m. Booty; gain; something thrown in over and above the quantity purchased; something given to boot (sent, rukhan).

گھسٹنا ghumána, घुमाना, H. v. (Caus. of گھسٹنا Ghúmná). To turn round; to brandish; to delude; to roll; to circulate. گھسٹنا گھسٹنا—ghirána, v. to roll; to circulate; to beat one a pretty round; to prevaricate.

گھسٹنا ghumrí, घुमरी, H. n. f. Vertigo; giddiness.

گھسٹنا ghamán, घमसान, H. n. m. Crowd; engagement; a furious fight battle; carnage.

گھسٹنا ghamand, घमंड, H. n. m. Pride; boast; haughtiness. گھسٹنا گھسٹنا—karná, v. to be puffed up; to be proud of. [rogant.

گھسٹنا ghamandí, घमंडी, H. adj. Proud; ar-

گھسٹنا gahau, गहल, H. n. m. An eclipse.

گھسٹنا ghun, घुन, H. n. m. A weevil; a wood-louse; rançour; grief. گھسٹنا گھسٹنا—lagná, v. to be eaten

by weevil; to be destroyed; to be consumed; to be the prey of a wasting disease.

گھن ghan, घन, H. *n. m.* Gathering of the clouds; clouds; sky; compact, dense; anvil; sledge hammer. گھن کی چوٹ—*kī choṭ*, *n.* a heavy blow. گھن چکر—*chakkar*, *n. m.* a top; a revolving body; a fool.

گھن ghin, विण, H. *n. f.* Disgust; nausea; hatred; abhorrence; shame. گھن آنا—*āná*, *v.* to feel disgust; to be nauseated. گھن دینا—*dená*, *v.* to abash; to reproach. گھن کرنا—*karná*, to have an aversion to; to dislike; to hate. گھن کھنا—*kháná*, *v.* to be disgusted (with); to suffer nausea (from.) گھننا گھنا، *adj.* disgusting.

گھنا gahná, गहना, H. *v.* To take; to seize; *n. m.* ornament; jewellery; pledge; mortgage; a kind of harrow without teeth. گھنا راکھنا—*rakhná*, to pawn; to pledge.

گھنا ghaná, घना, H. *adj.* Close; thick; much.

گھننا ghunná, घुना, H. *v.* To be eaten by weevils; *adj.* designedly silent; cunning. [corous.

گھنا ghuná, घुना, H. *adj.* Weevil-eaten; ranting.

گھنٹا ghanṭá, घंटा, H. *n. m.* A clock; an hour; a bell. گھنٹا گھر—*ghar*, *n. m.* a clock-tower.

گھنٹی ghanṭí, घंटी, H. *n. f.* A small metal bell, generally of brass or copper; a gong.

گھنڈی ghunḍí, घुंडी, H. *n. f.* A button; a herb; a knot.

گھنگھی ghungghí, घुंगची, H. *n. f.* A small red and black seed; *abrus precatorious*, the same as described under *ratti* and the primary unit of Indian weights.

گھنگھرا گھنگھرا، H. *adj.* Curly.

گھنگھولنا ghangholná, घंघोलना, H. *v.* To rinse; to stir up; to make muddy or turbid; to stir.

گھنگھور ghanghor, घनघोर, H. *adj.* Overcast; cloudy. [insect.

گھوا ghúa, घुआ, H. *n. m.* A kind of cotton; an

گھوارا گھوارا، P. *n. m.* A cradle; a swing.

گھوٹا ghoṭá, घोटा, H. *n. m.* A wooden pestle; a bruiser; a polishing stone.

گھوٹنا ghoṭná, घोटना, H. *v.* To pound; to throttle; to choke; to shave; to polish; to glaze

(paper. &c.); to reap over and over again; to plod.

گھور ghor, घोर, H. *adj.* Horrible; deep; *n. m.* dread; an abyss; a thicket; the sound of a drum; dirt; thunder.

گھورا ghúrá, घूरा, H. *n. m.* Sweepings; rubbish; manure; a dust heap; a dunghill.

گھورنا ghúrná, घूरना, H. *v.* To stare at; to look at angrily; to gaze intently on; to ogle.

گھورا ghorá, घोड़ा, H. *n. m.* A horse; the knight in chess, usually bearing a horse's head; the cock (of a gun). گھورا گھورا—*chhorná* (*bandúq ká*), to pull the trigger (of a gun). گھورا ڈالنا—*ḍálná*, to put a horse to full speed. گھورے کو سارپٹ پھینکنا—*ko sarpaṭ phenkná*, to force a horse to its utmost speed. گھورا ناقس—*náqis ghorá*, a cast horse; a screw. گھورا چرھانا—*charháná*, *v.* to cock a gun.

گھوڑی ghoṛí, घोड़ी, H. *n. f.* A mare; a machine for making macaroni.

گھوسی ghosí, घोसी, H. *n. m.* A Musalman milkman; a cowherd.

گھوکننا ghokná, घोकना, H. *v.* To read over and over again; to learn by heart.

گھوگھو ghughú, घूघू, H. *n. m.* An owl; a block-head; a dove.

گھولنا gholná, घोलना, H. *v.* To dissolve; to melt.

گھومنا ghúmná, घूमना, H. *v.* To rotate; to revolve; to roll; to whirl; to stroll; to turn; to swim (as the head); to be or become giddy or dizzy.

گھونٹ گھونٹ، H. *n. m.* A draught; a gulp; a pull. گھونٹ لینا یا پینا—*lená yá píná*, *v.* to take a draught; a swallow; to pull. گھونٹا لہو، *n.* (*Met.*) long suffering; forbearance. [to new-born infants.

گھونٹی گھونٹی، H. *n. f.* A purgative given

گھونس ghúns, घूस, H. *n. f.* Bandicoot; bribe.

گھونسا ghúnsá, घुंसा, H. *n. m.* A blow with the fist; a shock. گھونسا لگانا یا مارنا—*lagáná yá márná*, *v.* to give a blow. [small house.

گھونسل گھونسل، H. *n. m.* A bird's nest; a

گھونسم گھونسم، H. *n. m.* Boxing; fisticuffs.

گھونگا ghongá, घोणा, H. n. m. A cockle ; a snail ; a shell ; a fool.

گھونگھٹ ghúngħaṭ, घूङ्घट, H. n. m. A veil concealing the face with a veil. گھونگھٹ کاڑھنا یا kārhná yá márná, v. to draw a veil over the face. گھونگھٹ کرنا—karná, v. to veil ; to draw back the neck (a horse). گھونگھٹ والی wálí, n. f. veiled woman.

گھونگر ghúngar, घूङ्गर, H. n. m. Curl. گھونگرے بال ghúngraile bál, n. curled hair.

گھونگرُ ghúnggrú, घूङ्गरू, H. n. m. A small bell ; an ornament.

گھوننیان ghúniyán, घुन्नीय, H. n. f. An esculent root.

گھی ghi, घी, H. m. Butter ; clarified butter ; ghee. گھی کے —sá, adj. oily ; smooth ; soft. گھی کے چراغ جالنا ke chirág jalná, v. to be very successful ; to be well off ; to prosper. گھی کے گئے سے ke kuppe se já lagná, (Lit). to go and stick to a ghee-bottle ; (Met.) to find a mine of wealth ; to come in for a fortune. پانچوں انگلیوں میں páñchon unglíán—men, all the five fingers in butter, i. e. in a very prosperous condition.

گھییا ghíyá, घिया, H. n. m. A pumpkin or pumpkin ; a vegetable. گھییا ترولی troí, n. f. a vegetable. گھییا کش kash, n. m. an implement for cutting pumpkin. گھییا لمبا lambá—, n. m. a pumpkin ; a bottle-gourd.

گھر gher, घेर, H. n. m. Circuit ; boundary ; circle ; compound ; width ; area ; fulness (of a robe) ; skirt. گھر دار—dár, adj. full ; loose ; extensive. گھر گھار کرنا—ghár karná, v. to surround ; to stop ; to besiege. گھر گھار کے لانا—ghár ke láná, v. bring with great difficulty.

گھرا gherá, घेरा, H. n. m. Circumference ; circle ; fence ; disc ; rim (of a vessel) ; siege ; tire ; maze. گھرا ڈالنا—dálná, v. to encompass ; to lay siege (to) ; to blockade [mous lizard.

گھیرا gherá, घेरा, H. n. m. A kind of veno-

گھیرنا gherná, घेरना, H. v. To surround ; to encircle ; to enclose ; to blockade ; to occupy ; to include ; to wait on.

گھینٹی ghenṭí, n. m. घेंटा, } H. A pig. گھینٹا
گھینٹی ghenṭí, n. f. घेंटी, } چارھانا—charháná,
v. to sacrifice pig.

گیا gayá, गया, H. past part. Went ; gone. گیا گذرا—guzrá, adj. dead and gone ; worthless. گئے درجے gae darje, adv. at the very least ; at most.

گیا gaiyá, गैया, H. n. f. A cow.

گیاروان gyárván, ग्यारवाँ, H. adj. Eleventh.

گیارہ gy rah, ग्यारह, H. adj. Eleven.

گیان gyán, ज्ञान, H. n. m. Knowledge ; intelligence ; understanding ; intellect ; spiritual knowledge. گیان چرچا—charchá, n. m. religious discourse. گیان چوسر—chausar, n. a play with dice. گیان گدڑی gudṛí, n. f. a friar's rags. گیان میں آنا—men áná, v. to be comprehended. گیان ہونا—honá, v. to acquire spiritual knowledge.

گیانوان gyáuván, ज्ञानवान, } H. n. m. A sage ; a
گیانی gyání, ज्ञानी, } philosopher ; a wise man.

گیاہ giyáh, P. n. f. Grass ; straw.

گیت git, गीत, H. n. m. A song ; a hymn. گیت گانا—gáná, v. to sing a song or hymn ; to tell a long story.

گیتی geti, P. n. The world ; universe. گیتی آرا—ará, adj. world adorning. گیتی نورد—naward, n. m. one who has travelled over the world.

گیدا gedá, गेदा, H. n. m. A nestling ; a chicken ; an infant.

گیدا gídar, गीदड़, H. n. m. A jackal ; a coward. گیدا بھپکی bhapki, n. bravado ; bullying.

گیدی gidí, P. adj. Cowardly ; idiotic. گیدی خر—khar, n. m. an arrant fool.

گیر gir, P. part. (In comp.) Taking ; holding ; conquering ; n. taker ; catcher ; conqueror (used as last member of compounds) as : عالم گیر 'álam—, conqueror of the world. گل گیر—, snuffers, و دار—o-dár, v. take and hold ; fighting.

گیرنا gerná, गेरना, H. v. To drop ; to throw down ; to miscarry ; to fling , to waste ; to vomit ; to prepare (as ; pickle, &c.) ; to scatter.

گیر gerú, गेरू, H. n. m. Red ochre ; red earth.

گیرا gerná, गेरना, H. adj. Covered with or coloured like red ochre ; reddish.

gesú, P. *n. m.* A curl ; a ringlet ; the hair of a woman's head.

gail, गैल, H. *n. f.* A road ; a street ; a pathway ; a lane. گیل جانا—jáná, *v.* to accompany ; to go along with. گیل بھیجنا—bhejná, *v.* to send one with another. گیل لگے—lage phirná, *v.* to follow as one's tail. گیل والا—vála, *n. m.* a comrade.

gilá, गीला, H. *adj.* Wet ; moist ; damp. گیل کرنا—karná, *v.* to wet.

gilá pan, गीलापन, H. *n. m.* Humidity ; wetness ; dampness. [husband ; a step-son.

gelaṛ, गेलर, H. *n. m.* A child by a former wife. گیل گیل, P. An affix to nouns signifying affected with or full of, as : اندوہ کین—full of grief ; sorrowful. [with the hands.

gījná, गीजन, H. *v.* To crumple ; to mash. گیند gend, गेंद, H. *n. f.* An elephant ; a ball ; a sphere. گیند بلا—ballá, *n. m.* bat and ball ; cricket ; tennis. گیند دینا—dená, *v.* to bowl. گیند کھلنا—kheḷná, *v.* to play at striking a ball. [marigold.

gendá, गेंदा, H. *n. m.* A large ball ; a worm in the intestines. گیندوا gendua, गेंदुआ, H. *n. m.* A worm in the intestines.

gendí, गेंदी, H. *n. f.* A small ball.

gendai, गेंदई, H. *adj.* Of the colour of marigold ; yellow.

gnedá, गेंडा, H. *n. m.* A coil ; rhinoceros.

gendli, गेंदली, H. *n. f.* A coil ; a winding. گیندالی مارنا—márná, *v.* to coil ; to wind into a ring, (as a snake).

genglá, गेंगला, H. *adj.* Simple ; foolish.

genglápan, गेंगलापन, H. *n. m.* Simplicity ; folly.

gainí, गैनी, H. *n. f.* A small cow.

gaihán, P. *n. m.* The world.

gehúán, गेहूँआ, H. Swarthy ; wheat-coloured ; *n. m.* a kind of grass.

gehún, गेहूँ, H. *n. m.* Wheat.

(U)

U lám, The 23rd letter of the Arabic, 27th of the Persian thirtieth of Urdu alphabet.

By way of abbreviation it stands for the month of Shavvál. In reckoning by *abjad*, لام, stands for 30.

la' A. *adv.* A negative or private particle ; no ; not ; by no means ; without, or like the English prefixes, un-, in-, im-. لا—o—o-bálí, *adj.* fearless ; indifferent. لا بد—bud, *adj.* necessarily ; unavoidably ; *adj.* compulsory ; positive. لا تعداد—ta'dad, *adj.* that cannot be numbered. لا ثانی—sání, *adj.* incomparable ; unmatched لا جرم—jaram, *adj.* necessarily ; undoubtedly. لا جواب—jawáb, *adj.* silenced ; matchless. لا جواب کرنا—jawáb karná, *v.* to confute ; to silence. لا چار—chár, *adj.* helpless ; poor ; compelled ; disabled ; forlorn. لا چار کرنا—chár karná, *v.* to press ; to disarm. لا چاری—chári, —chárgí, *n. f.* helplessness ; poverty ; inability. لا حاصل—hásil, *adj.* useless ; barren. لا حل—hal, *adj.* insoluble ; insolvable. لا حول ولا قوۃ الا بالله—hauḷa valá qúvata illá billáhe, there is no power nor virtue but in God, (it is used to express contempt). لا حول بھیجنا—haul bhejná, *v.* to say "God forbid" ; to shun ; to imprecate. لا خراج—khiráj, *adj.* rent-free. لا خراج زمین—khiráj zamín, *n. f.* rent-free land ; land for which no revenue is required. لا خراج دار—khiráj dár, *n. m.* one possessing rent-free land. لا درا—davá, *adj.* remediless ; incurable. لا دعویٰ—da'wá, without claim or demand ; a deed or act of relinquishment ; a withdrawal of a claim. لا ریب—reb, *adj.* doubtless. لا زبان—zabán, *adj.* speechless ; silent ; quiet. لا زوال—zavál, *adj.* imperishable ; eternal. لا شریک—sharik, *adj.* having no associate. لا طائل—táel, *adj.* useless ; absurd. لا علاج—iláj, *adj.* incurable. لا علم—ilm, *adj.* ignorant. لا کلام—kalám, *adv.* undoubtedly, unquestionably. لا مذهب—mazhab, *adj.* irreligious. لا مکان—makán, *adj.* houseless ; the Deity. لا وارث—váris, *adj.* heirless. لا وارث مال—váris mál, *n.* unclaimed property. لا والد—walad, *adj.* childless ; لا یرا—wa-na'm, *adv.* no and yes. لا یزال—yazal, *adj.* eternal. لا یراع—ya'lam, *adj.* knowing nothing ; ignorant. لا یعنی—ya'ni, *adj.*

absurd; insignificant; obscene. **لاموت** *yamút*, *adj.* deathless; immortal.

لاہا *láha*, P. *n. m.* Request; supplication; prayer, anything facetious; flattery; coaxing.

لاہ *lábh*, साम, S. *n. m.* Profit; gain; acquisition; picking; interest. **لاہانا** *uṭháná*, *v.* to make a profit; to turn a penny.

لات *lát*, लात, H. *n. f.* A leg; a kick. **لات مارنا** *márná*, *v.* to kick; to spurn. **لات کھانا** *kháná*, *v.* to be kicked or beaten. **لات مکی کرنا** *mukki karná*, to kick and cuff.

لات *lát*, A. *prop. n.* One of the two great idols worshipped by the pagan Arabians, the name of the other one being **عزی** *uzzá*.

لات *lát*, लाट, H. *n. f.* (Corr. from the English) A lord. **لات پادری** *padrí*, the Lord Bishop. **لات صاحب** *sáhib*, the Governor-General or Viceroy. **لات مصاحب** *mushib*, Governor-General's aid-de-camp. **لات جنگی** *jangí*—, the commander-in-chief. **لات چھوٹا** *chhoṭa*—, a lieutenant-governor; governor; commander-in-chief.

لاٹا *láṭá*, लाटा, H. *n. m.* A kind of food for the poor prepared from pounded mahua mixed with some grain.

لاٹھ *laṭh*, लाठ, H. *n. f.* A staff; a minaret; a pillar; the vertical column of an oil-mill; a pestle.

لاٹھا *láṭhá*, लाठा, H. *n. m.* A long bamboo fixed in a pole or a pillar with a heavy weight on one end and a bucket attached to a rope on the other, thus making a sort of machine for drawing water from a well in some parts of India generally used for irrigation purposes.

لاٹھی *láṭhí*, लाठी, H. *n. f.* A stick; a club. **لاٹھی کرنا** *ponga karná*, *v.* to fight with clubs. **لاٹھی کے چلنا** *ṭek ke chalna*, *v.* to go leaning on one's stick. **لاٹھی چلانا** *chaláná*, *v.* cudgel-playing; to fight with a *láṭhí*.

لاٹھی والا *valá*, *n. m.* a bludgeon-man; one who sells clubs or sticks.

لاسانی *lasaní*, A. *adj.* Peerless; matchless, (see *لا*, *lá*).

لاج *láj*, लाज, H. *n. f.* Modesty; shame; honour. **لاج گزانا** *áná*, *v.* to be ashamed. **لاج گزانا** *ganváná*; *v.* to be shameless. **لاج رکھنا** *rakhná*, *v.* to preserve one's credit or honour. **لاج واد** *wán*, *adj.* bashful; modest.

لاجورد *lájvard*, P. *n. m.* lapis lazuli; Armenian stone; azure.

لاجوردی *lájvardí*, P. *adj.* Azure; sky-blue; made of, or consisting of, lapis lazuli.

لاجوانت *lájavant*, लाजवंत, H. *adj.* Modest; bashful.

لاجوانتی *lájavantí*, लाजवन्ती, H. *n. f.* *mimosa pudica*; a sensitive plant.

لاجھ *lájh*, लाझ, H. *n. m.* Viscosity; stickiness; clamminess; tenacity. [*ला* *lá*.]

لاچار *lá-char*, P. *adj.* Helpless; powerless, (see *لا* *lá*).

لاحق *lá-haq*, A. *adj.* Adjoining; contiguous; pertaining; adjoined; affixed; touching; *n. m.* a supplement; an appendage; a dependant; (in Gram.) an affix; a suffix.

لاڈ *lad*, लाड, H. *n. f.* Load; burden. **لاڈ پھاند** *phánd*, *n. f.* loading and packing.

لاڈنا *ládna*, लादना, H. *v.* To load; to burden with.

لاڈو *ládú*, लाडू, H. *adj.* Fit to carry a load; a burden bearer; a beast of burden. **لاڈو کرنا** *karná*, *v.* to mount or load a colt for the first time. [load.]

لاڈی *ládi*, लादी, H. *n. f.* The lading; a small

لاڈ *lád*, लाड, } H. *n. m.* Caress; coaxing; love;

لاڈ *láṛ*, लाड़, } sports; court-ship. **لاڈ کرنا** *karná*, *v.* to fondle.

لاڈلا *ládla*, लाडला, } H. *adj.* Dear; spoilt; pet.

لاڈ *láḍl*, लाड़ल, } H. *n. f.* Darling; favourite;

لاڈو *láḍo*, लाड़ू, } bride. [an infant (*rdl*).

لاڑ *láṛ*, लार, H. *n. m.* Saliva; slaver; dribble of

لازب *lazib*, A. *adj.* Adhesive; firm; hard.

لازم *lázim*, A. *adj.* Necessary; indispensable;

incumbent; important; (in Gram.) intransitive. **لازم آنا** *ána*, *v.* to follow of necessity;

to become a duty; to be incumbent (on). **لازم**

لازم *janná*, to consider necessary or right;

to deem indispensable. **لازم و ملازم** *o-malzúm*,

adj. reciprocal; inseparable; incumbent; obligatory.

لازمہ *lázma*, A. *n. m.* A necessary thing.
 لازمی *lázmi*, P. *adj.* Necessary ; unavoidable ; inevitable.
 لاسا *lásá*, *लस*, H. *n. m.* Anything glutinous ; gum ; bird-lime ; the viscous milk of plants. لاسا لگانا—*lagáná*, *v.* to catch with bird-lime ; to foment quarrel. لاسا پر لگانا—*par lagáná*, *v.* to tame ; to make one follow.
 لاش *lásh*, P. *n. f.* } A dead body ; a carcass ;
 لاشہ *lásha*, P. *n. m.* } a corpse.
 لاغر *lágár*, P. *adj.* Lean ; thin ; slender.
 لاغری *lágri*, P. *n. f.* Thinness ; meagreness.
 لاف *láf*, P. *n.* Boasting ; bragging. لاف زن—*zau*, *n. m.* boaster ; a blusterer. لاف زنی—*zani*, *n. f.* boasting ; bragging. لاف گزار—*guzáf*, *n. m.* vaunting ; boast. [wax.
 لاکھ *lák*, *लख*, H. *n. m.* Lac ; sealing-lac.
 لاکھ *lák*, H. *adj.* A hundred thousand ; a vaguely great number ; *adj.* howmuchsoever , any extent. لاکھ سے—*ji se*, *adv.* with all one's heart. لاکھ خاک ہونا—*ká ghar khák honá*, *v.* to be reduced to extreme poverty. لاکھوں میں—*on men*, *adv.* in public ; openly. لاکھ پتی—*patí*, *n. m.* A millionaire. لاکھوں—*ván*, *adj.* Hundred-thousandth.
 لاکھا *lákha*, *लखा*, H. *n. m.* Lac ; a red dye.
 لاکھی H. *adj.* Made of lac ; dyed with lac.
 لاک *lág*, *लग*, H. *n. f.* Affinity ; connection ; relevancy ; love ; enmity ; grudge ; approach ; cost ; secret legerdemain ; spell ; ratio ; plot ; competition. لاک دانٹ—*dánt* ; *n. m.* Enmity ; rivalry. لاک رکھنا—*rakhná*, *v.* to harbour ill-will ; to have a grudge against ; to be bent on. لاک لپیٹ—*lapet*, *n. f.* treachery ; reserve ; prejudice. لاک لگنا—*lagná*, *v.* to fall in love ; to be attached to. لاک ہے—*be*, *adj.* and *adv.* unconnected ; detached ; without let or hindrance ; frankly.
 لاگت *lágat*, *लागत*, H. *n. f.* Cost ; expenditure ; outlay. لاگت بیٹھنا—*baiṭhná*, *v.* To cost.
 لاگو *lágú*, *लगू*, H. *adj.* Adhering to. لاگو ہونا—*honá*, *v.* to follow ; to adhere ; to be attached to ; to be intent on.

لال *lál*, *लाल*, H. *adj.* Red (P. *surgh*). (Met.) red-hot ; enraged ; inflamed ; angry ; dumb ; *n. m.* ruby ; (Met.) a son ; an infant boy ; a small bird. لال انگارہ یا سرخ—*angára yá surkh*, *adj.* red-hot ; fiery. لال پیالی آنکھیں نکالنا—*páli ápkhen nikálná*, *v.* to be enraged ; to fly into a passion. لال کرتی—*kurtí*, *n. f.* the European infantry lines ; cantonments. لال کنیر—*kaner*, *n. m.* rosebay. لال مرچ—*mirch*, *n. f.* red chilli ; red pepper. لال ہونا—*v.* to become scarlet ; to be enraged ; to fly into a passion ; to reach the goal.
 لالچ *lálach*, *लालच*, H. *n. m.* Greed ; ambition ; covetousness ; avarice. لالچ دینا—*dená*, *v.* to entice ; to tempt. لالچ کرنا—*karná*, *v.* to covet. لالچ میں آنا—*men aná*, *v.* to be influenced by greed. [covetous.
 لالچی *lálchi*, *लालची*, H. *adj.* Greedy ; avaricious ;
 لالڑی *lálri*, *लालड़ी*, H. *n. f.* A kind of ruby ; a false stone resembling a ruby. [longing.
 لالسا *lálzá*, *लालसा*, S. *n. f.* Ardent desire ; eager ;
 لالہ *lála*, P. *n. m.* A tulip ; poppyflower. لالہ رخ یا رخسار یا عذار—*rukḥ yá rukhsár yá 'uzár*, *adj.* rosy-cheeked. لالہ دار—*zár*, a bed or garden of tulips.
 لالا *lála*, *लाला*, H. *n. m.* A Hindu banker or merchant ; mister ; sir. لالہ جی—*ji*, *n. m.* father ; papa ; sir ; father-in-law ; a banker ; the head of a family. لالہ بھیا کرنا—*bhaiyá karná* *v.* to fondle ; to caress.
 لالی *láli*, *लाली*, H. *n. f.* Redness ; blood ; blear eyes ; honour ; a dear girl.
 لالہ پڑنا *lále paṛná*, *लाले पड़ना*, H. *v.* To become unattainable ; to be hopeless. لالہ کے پڑنا—*ján ke*, *v.* to be under the fear of death.
 لام *lám*, Fr. *Varne*, H. *n. f.* A brigade ; a battle-field ; a row ; a line ; a ringlet. لام باندھنا—*bándhná*, to form into a brigade ; to array ; to mobilize ; the name of the letter ل *lám*, in Urdu, hence from the similitude ; *adj.* crooked ; curved ; bent. لام تاف کہنا—*qáf kahná*, *v.* to abuse ; to revile.
 لامحالہ *lámohála*, *adv.* Perforce ; compulsorily.

قوت لامسہ *lamisa*, A. n. m. Touch ; feeling. لامسہ
quwwat i—, the sense of perception ; the
sense of touching or feeling. [did.

لامع *lame'*, A part. *adj.* Shining ; bright ; splen-
دانا *lána*, لانا, H. v. To bring ; to carry over ;
to include ; to yield ; to buy ; to introduce ;
to win over ; to apply ; to persuade.

لأنك *lānk*, لائق, H. n. f. Wheat or any cereal
cut in the straw ; the loins ; chaff ; quantity ;
bird-lime.

لانگھان *lānghān*, لائق, H. n. m. Leaping across ;
bestriding. لانگھوت میں آؤ — *men āna*, v. to
be crossed or passed over.

لانگھنا *lānghāna*, لائق, H. v. To overleap ; to
pass over.

لاؤ *lāo*, لائو, H. v. (imperative of لانا) Bring.

لاوا *lāva*, لانا, H. n. m. Parched grain.

لاو بالی *lā o-bālī*, P. *adj.* Careless. لاو بالی پن
— *pan*, n. f. carelessness. لاو بالی پھرنا
— *phirna*, v. to wander about aimlessly.

لاوار *lāvar*, لاء, H. n. m. Fine molasses.

لاوالاد *lāwalad*, P. *adj.* Issueless ; childless,
(see لا) *lá*).

لاوشکر *lāo lashkar*, P. n. m. A large army with
its baggage and camp followers.

لاونی *lāonī*, لاونی, H. n. f. A kind of song ;
revenue ; wages of reaping in kind.

لاہ *lāh*, لاء, H. n. m. A kind of cloth resembling
gauze ; lac ; sealing-wax. [nature.

لاہوت *lāhūt*, A. n. m. Divinity ; the divine
لائ *lāi*, لاء, H. n. f. Parched grain, especially
rice ; a kind of sweetmeat, parched rice
mixed with sugar.

لائع *lāeh*, A. part. *adj.* Shining ; bright ; splen-
did ; apparent ; clear.

لائسہ *lāiha*, A. n. m. Anything shining ; clear-
ness ; splendour.

لازال *layazāl*, A. *adj.* Eternal.

لاياني *laya'ni*, A. *adj.* Absurd ; insignificant.

لاياق *lāyaq*, A. *adj.* Able ; competent ; worthy ;
fit ; becoming ; good ; noble ; well bred ;
first ; pertinent ; learned ; polite. لائق اعتبار —

i-e'tibār, *adj.* trustworthy ; credible. لائق
— *i-pizirāi*, *adj.* acceptable. لائق پسند —
pasand, eligible. لائق تھیں — *i-tahāin*, de-
serving of approval ; admissible. لایق مند —
mand, *adj.* worthy ; fit ; deserving. لایق مندی —
mandī, n. f. worthiness ; propriety. لایق ہونا
— *honā*, v. to deserve ; to suit.

لائم *lāim*, A. n. m. Censurer ; reprovor ; accuser
of anything mean or criminal.

لب *lab*, P. n. m. Lip ; edge ; shore ; brim ; the
moustache above the upper lip ; saliva. لب
labā—, brimful (*labrez*). لب بند ہونا — *band
honā*, v. to be silent ; lips to be closed (with
sweets). لب بستگی — *bastagi*, state of having
the lips closed. لب خا — *khā*, *adj.* fretful ;
fastidious. لب دریا — *i-dariyā*, *adj.* near the
river bank. لب پرز — *rez*, *adj.* brimful. لب و
— *o-labja*, n. m. tone ; pronunciation ;
conversation لب کھولنا یا لب ہلانا
— *kholnā yā*
— *hilānā*, v. to open the lips ; to speak. لب گر
— *i-gor*, *adj.* on the point of death ; dying.
لبیں لینا *laben lenā*, v. to shave or clip the
moustache above the upper lip. لبوں پر جان
labon par jān honā, the life (or the
breath) to be on the lips ; to be dying.

لب *lubb*, A. n. m. The essence of anything ; the
heart ; the soul ; a kernel. لب لباب — *i-lubāb*,
the pith (*ta*). [felt-vendor.

لباد *labbād*, A. n. m. A felt manufacturer ; a

لبادہ *labāda*, P. n. m. A cloak ; a pelisse ; a
gown ; a wrapper.

لباز *labāz*, لباذ, H. n. m. A liar ; a talker ; a
babbler ; *adj.* false ; unreal.

لباس *libās*, A. n. m. Dress ; clothes ; habit ; a
veil ; an appearance. با تغیر لباس
— *ba tagaiyur-*
i—, *adv.* in disguise.

لباسی *libāsī*, P. *adj.* False ; counterfeit ; veiled.

لبرا *labrā*, لبرا, H. n. m. A liar ; a tattler ; *adj.*
left-handed.

لبریز *labrez*, P. *adj.* Brimful ; overflowing,
(see لب *lab*).

لبریزی *labrezī*, P. n. f. Overflowing ; abundance.

لابلہ *lablaba*, لابلہ, H. n. m. The pancreas, *adj.*
sticky ; slimy (*laslasā*).

لابلبي lablabí, लबलबी, H. n. f. Trigger of a gun.

لبنى labnî, लबनी, H. n. f. The pot in which the juice تاري (tári) is collected from the palm-tree.

لروب labúb, H. n. m. (Plu. of لب) Essences ; piths ; a kind of electuary or confection.

للهانا lubháná, لُهْمَانَا, H. v. To entice ; to attract ; to allure ; to charm ; to seduce ; tantalise ; to fascinate.

لابى labí, لَبِي, H. n. f. The juice of the sugar-cane boiling into sugar (ráb).

لابيك labbaik, A. adj. I am standing in thy service ; here I am.

لاب lap, H. n. f. A handful ; as much as can be held in both palms joined together.

لاباتيا lapátia, لَپَاتِيَا, H. adj. Liar ; talkative.

لابائي lipái, لَپَايِي, H. n. f. Plastering.

لاپات lapat, لَپَات, H. n. f. Flame ; blow ; scent ; odour ; blast. لَپَات لَگْنَا—lagná, to have an attack of sunstroke.

لابتانا lipáná, لَپَاتَانَا, H. v. (Caus. of لَپَاتِنَا Lipatná). To cling ; to stick ; to embrace ; to absorb ; to enfold ; to entwine.

لابتار liptio, لَپَاتَانِي, H. n. m. Adhesion ; gumminess ; stickiness.

لابتانا lipatná, لَپَاتِنَا, H. v. To adhere ; to cling ; to embrace ; to persecute ; to be occupied ; to be folded ; to coil round ; to be smeared ; to stick close (to) ; to fight ; to be rolled up.

لاب جهب lap jhap, لَپ جَهَب, H. adj. Nimble ; sharp ; adv. briskly ; nimbly.

لابر lappar, لَپَار, H. n. m. A slap.

لابر شاپر lapar shapar, لَپَار شَپَار, H. n. f. Jargon ; prevarication ; confused or involved speech.

لابسي lapsí, لَپَسِي, H. n. f. Pottage ; spoon-diet ; pap.

لاپک lapak, لَپَاک, H. n. f. Flash ; dart ; a spring ; bounce ; beat ; throb ; nimbleness. لَپَاک جَهَبِيک سے —jhapak se, adv. nimbly ; briskly ; swiftly.

لابک لينا lapak lená, v. To spring forward and seize.

لاپک lapká, لَپَاکَا, H. n. m. A bad habit ; a

snatch. لَپَاکَا يَازَ جَانَا—parná yá par jáná, to be addicted to a bad habit.

لاپکان lapkáná, لَپَاکَانَا, H. v. To stretch forth one's hand ; To despatch one quickly.

لاپکنا lapakná, لَپَاکِنَا, H. v. to spring ; to beat ; to run ; to rush (after) ; to hurry ; to catch ; to attack ; to look ; to snap at ; to flash.

لاپ لاپ lap lap, لَپ لَپ, H. adj. Nimble ; smart.

لاپنا lipná, لَپِنَا, H. v. To be plastered or washed over.

لاپوانا lipwáná, لَپَوَانَا, H. (Caus. of لَپِنَا Lipná). To cause to be plastered.

لاپت lapet, لَپَات, H. n. f. A fold ; a fillet ; twist ; cover ; circumference ; complication ; ambiguity ; difficulty ; loss ; evil influence ; an attack (as of an epidemic). لَپَات جَهَبِيَّت يَاسَمِيَّت —jhapet yá samet, n. f. evasion ; disorder ; confusion.

لاپتانا lapetá, لَپَاتَا, H. n. m. A cover ; covering.

لاپتان lapetan, لَپَاتَن, H. n. m. A roller on which cloth is wound.

لاپتانا lapetná, لَپَاتِنَا, H. v. To roll ; furl ; to make into a ball ; to enclose ; to pack ; to smear.

لاپتوانا lapetván, لَپَاتَوَانَا, H. adj. Twisted ; wrapped up ; indirect (speech) ; round about ; involved or ambiguous speech (gol bát).

لات lat, لَات, H. n. f. A bad habit ; a whim ; a vice. لَات يَازَ جَانَا—parná, v. to become a habit or vice.

لات lat, H. n. f. (Cont. of لَات lát) (used in comp.) as : لَات خور —khor, adj. kicked ; mean. لَات خور —khorá, adj. kicked ; mean. n. m. a threshold ; a slave. لَات كوبي —kobi, n. f. cudgelling ; beating.

لاتا lata, لَاتَا, H. n. f. A creeper ; a vine ; a tendril. لَاتَا بَهْوَانَا—bhawan, an arbour ; a bower.

لاتتا lattá, لَاتَاتَا, H. n. m. A rag ; clothes (as in kaprá lattá).

لاتار latár, لَاتَار, H. n. f. Calamity ; labour ; fatigue ; insult.

لاترنا latárná, लताड़ना, H. v. To cause to toil ; to rail at ; to wear out ; to insult ; to affront ; to bring down.

لتر Intrá, लुतरा, H. n. m. A flatterer ; a back-bitter ; a babbler ; a mischief-maker.

لترپان lutrópan, लुतरापन, H. n. m. Backbiting ; mischief-making. [Litharná), To draggle.

लिथार्ना lithárná, लिथाड़ना, H. n. (Caus. of लथार्ना)

لثار pathar, लथड़ पथड़, H. adj. Besmeared ; reeking. [besmeared.

लिथार्ना lithárná, लिथार्ना, H. v. To be dragged or

लथार्ना latherná, लथेड़ना, H. v. To draggle ; to besmear ; to mix together.

लथियाना latiyáná, H. v. To kick.

لاٹ laṭ, लट, H. n. f. Tangled hair (jatá) ; a lock ; a thread. لاٹ دبانا—dabáná, v. to have under one's power. لاٹ دھاری—dhári, n. m. a faqir with matted hair. لاٹ जानا—jána, v. to become emaciated ; to become lean.

لاٹ laṭá, लटा, H. n. m. Entangled state. لاٹ—adj. loosely folded. لاٹ دھاری—dhári, n. m. a mendicant with matted hair.

لاٹيانا liṭáná, लिटाना, H. v. To cause to lie down.

لاٹيانا luṭáná, लुटाना, H. v. To cause to plunder ; to squander ; to spend lavishly (uṛánd) to cause to wallow or roll about. لاٹيا کر مارنا laṭá kar márná, to beat severely.

لاٹاي laṭái, लटाई, H. n. f. A small roller on which the string of a paper kite is wound ; a reel.

لاٹ پاٹ laṭ paṭ, लटपट, H. adj. Staggering ; reeling ; tangled.

लाटपाटना laṭpaṭáná, लटपटाना, H. v. To stagger ; to tremble ; to trip ; to mince.

लुटस lutṭas, लुटस, H. n. f. Plundering ; devastation, in blandishment and coquetry ; a sudden emotion ; the influence of an evil spirit.

लाटका laṭká, लटका, H. n. m. Incantation ; conjuring rod ; a philter ; a specific ; a trick.

लाटकाना laṭkáná, लटकाना, H. v. To hang ; to suspend ; to append ; to attach to ; to postpone ; to keep waiting.

लाटका laṭkáo, लटकाओ, H. n. m. Hanging ; suspension.

लाटकन laṭkan, लटकन, H. n. m. Anything hanging : a pendant ; an eardrop ; a nose-ring ; clapper (of a bell) ; a fruit ; a pendulum ; a stand for water-pots.

लाटकना laṭakná, लटकना, H. v. To hang ; to swing ; to delay ; to be kept waiting. लाटक रहना—rahná, to linger (over) ; to tarry ; to delay.

लुटना luṭná, लुटना, H. v. To be plundered ; to be ruined ; to be squandered ; to be undone ; to be defrauded.

लटना laṭná, लटना, H. v. To be emaciated ; to be reduced by sickness ; to become weak ; to degenerate ; to become poor.

लाटू laṭṭú, लटू, H. n. m. A top ; a plummet.

लुटवाना lutwána, लुटवाना, H. v. (Caus. of लुटना) To cause to be plundered

लाटुरी laṭúri, लटूरी, H. n. f. Hair ; tangled short hair. लाटुरी अटारना—utarváná, v. to shave a child's head for the first time. लाटुरी ओपारना या—upárná, yá lená, v. to pluck the hair ; to rail at. लाटुरिया laṭúriyá, adj. having short curly hair.

लाठ laṭh, लठ, H. n. m. A club ; a stick ; a measuring-rod. लाठ बांड—báṅ, n. m. a stupid rude fellow ; an illiterate man. लाठे बांडी—bázi, n. f. cudgelling. लाठे चालना—chaláná, v. to strike with a club ; to speak harshly.

लाठहा laṭṭhá, लट्टहा, H. n. m. A beam ; a rafter. लाठहाम laṭṭham—, n. m. club-fighting ; mutual cudgelling.

लाठहा laṭṭhá, लट्टहा, H. n. m. A beam ; a kind of coarse cloth. [belabour.

लाठियाना laṭhiáná, लठियाना, H. v. To cudgel ; to cudgel. लाठैत laṭhait, लठैत, H. adj. Skilled in club-fighting ; obstinate ; n. m. a clubman.

लाटिया luṭiyá, लुटिया, H. n. f. A small brass or copper pot. लाटिया दुबना—ḍubóná, v. to bring disgrace upon oneself. लाटिया दुबना—ḍubná, to be ruined or undone.

लुटरा luṭerá, लुटेरा, H. n. m. A plunderer ; a highwayman ; a swindler.

- لحشا lissa, P. n. m. The gums.
- لحجا lajjá, لجاجا, H. n. f. Shame ; modesty. لجاجت—want, adj. ashamed ; abashed.
- لجاجت lajját, A. n. f. Importunity ; adulation.
- لجاجل lajjálú, لجاجل, H. adj. Modest ; bashful ; n. m. a sensitive plant ; *mimosa natans*.
- لجاجنا lajjána, لجاجنا, H. v. To be ashamed ; to blush ; to put to shame. [ful.
- لجاجل lajjálú, لجاجل, H. adj. Ignominious ; shameful.
- لجاجت lajjit, لجاجت, H. adj. Ashamed.
- لجاجل lajjuljá, لجاجل, H. adj. Viscous ; soft.
- لجاجنتي lajjvantí, لجاجنتي, H. n. f. A bashful woman ; a plant.
- لجاجا lujja, P. n. m. Deep water ; an abyss ; the middle of the sea. [placenta.
- لجاجوزي lijhri, لجاجوزي, H. n. f. The afterbirth ;
- لجاجلا lajjilá, لجاجلا, H. adj. Bashful ; modest.
- لجاجا luchchá, لجاجا, H. n. m. A rake ; a vagabond ; a profligate ; adj. low ; mean ; shameless ; lewd ; wicked ; corrupt. لجاجا گندا—gundá, n. m. a rogue ; a rake ; a thorough villain.
- لجاجپان luchchá-pan, لجاجپان, H. n. m. Rakishness ; rascality ; corruption ; profligacy.
- لجاجانا lachána, لجاجانا, H. v. To bend ; to incline ; to bow ; to crook. [flexion.
- لجاجا lacháo, لجاجا, H. n. m. Elasticity ; de-
- لجاجا lachar, لجاجا, H. adj. Weak ; loose ; wanting force or vigour. (a language, &c. ; as : *lacher 'ibárat*) ; n. m. a simpleton ; a weak person ; a foolish fellow.
- لجاجا lachak, لجاجا, H. n. f. Flexibility ; elasticity ; a sprain ; softness. لجاجا دار—dár, adj. flexible ; elastic ; soft. [or silver lace.
- لجاجا lachká, لجاجا, H. n. m. Jolt ; a boat ; gold
- لجاجانا lachkána, لجاجانا, H. v. To bend ; to strain. [bend.
- لجاجانا lachakná, لجاجانا, H. v. To spring ; to
- لجاجانا lachlachána, لجاجانا, H. v. To be clammy ; to be soft ; to be elastic.
- لجاجا lachná, لجاجا, H. v. To bend ; to bow ; to yield ; to give way ; to shake.
- لجاجا lachchhá, لجاجا, H. n. m. A bundle (of thread) ; a skein ; ball (of thread) ; a tassel ; thin shred of anything. لجاجا دار—dár, adj. shred-like ; vague ; confused ; involved ; serial ; consecutive (as words or speech).
- لجاجا lachmí, (لجاجا), H. n. f. Wealth ; prosperity ; beauty ; the wife of Vishnu ; and goddess of wealth and prosperity.
- لجاجا lachchhan, (لجاجا), H. n. m. Sign ; feature ; manner ; symptom ; condition. لجاجا لجاجا—jhárná, v. to rail in good set terms ; to revile. لجاجا لجاجا—jhárná, v. to be corrupted ; to degenerate ; to lose one's beauty. لجاجا لجاجا—sikhná, v. to learn manners.
- لجاجا lachái, لجاجا, H. n. f. A kind of soft thin cake fried in *ghí*.
- لجاجا lachílá, لجاجا, H. adj. Elastic ; flexible.
- لجاجا liház, A. n. m. Attention ; notice ; regard ; view ; consideration ; deference ; modesty ; reference ; respect. لجاجا اٹھا دینا—uṭhá dená, v. to throw aside modesty ; to become shameless. لجاجا کرنا—karná, v. to regard ; to observe ; to defer ; to attend ; to pay respect ; to side with. لجاجا نہ کرنا—na karná, v. to become shameless ; to disregard. لجاجا ہے be—, in consideration (of) ; with regard (to) ; with reference or in advertence (to).
- لجاجا liháf, A. n. m. A coverlet ; a counterpane ; a quilted upper garment.
- لجاجا lahad, A. n. f. Grave ; tomb ; a niche in the side of a sepulchre in which a corpse is deposited ; a hollow in which dead bodies are washed. [corner of the eye.
- لجاجا lahz, A. n. f. Looking askew or from the
- لجاجا lahza, A. n. m. The twinkling of an eye ; a moment. لجاجا ہر لحظہ—ba—, adv. at every moment ; constantly. لجاجا ہر لحظہ—bhar, adv. for a moment.
- لجاجا lahm, A. n. m. Flesh ; meat.
- لجاجا lehim, adj. Flesh-eating ; carnivorous.
- لجاجا lahn, A. n. f. Note ; modulation ; voice ; melody.
- لجاجا lahúm, A. n. m. (Plu. of لحم) Flesh ; meat.

lyhyat, P. n. f. Beard; moustaches; whiskers. لحيه التيس—ul-tais, goat's beard; name of a herb.

iahim, A. adj. Fat; corpulent; bulky.

lakht, P. n. m. A piece; a bit; a portion; a part; a little. لخت جگر—i-jigar; (*Lit.*) a piece of one's liver or heart; (*Met.*) a darling child; a darling; a son or daughter. يك لخت yak—, adv. all at once; wholly; in a body.

lakhlakhána, H. v. To pant from thirst or hunger.

lakhlakha, P. n. m. A sort of strong odour or perfume; a censor; a lamp.

ladána, لدانا, H. v. To cause to be loaded.

ladáo, لداء, H. n. m. A load; a cargo; an arched roof.

ladná, لدنا, H. v. To be laden; to load; to burden; to mount (upon).

ladunni, A. adj. Inspired; infused.

laddú, لدو, H. n. m. A beast of burden; adj. fit to carry a load. لدو کرنا—karná, v. to use as a beast of burden.

laddú, لدو, H. n. m. A kind of sweetmeat in the shape of a ball; a ball: (*fig.*) gain. لدو ملنا—milná, v. to profit; to gain something. لدو من کے کھانا—man ke—khána, v. to build castles in the air; to form vain fancies.

lazzat, A. n. f. (*Plu. لذات Lazzát.*) Taste; flavour; sapidity; delight; pleasure; deliciousness.

laziz, A. adj. Delicious; nice; savoury; tasteful; delightful.

lar, لار, H. n. m. A measuring-rod varying from 4½ to 6½ cubits.

larzá, P. adj. Trembling; tremulous.

sang—, n. m. sandstone.

larzáná, لارزانا, H. v. To cause to tremble.

larzish, لارزیش, H. n. f. Trembling; shivering; tremour.

larazná, لارزنا, H. v. To shake; to tremble; to shiver; to quake; to totter; to beat; to throb.

larza, P. n. m. Shaking; quake; tremour,

an earthquake. لارزه, tap o—, n. m. cold fit; ague.

lar, لار, H. n. f. A string; a row; a strand of a rope; a party; a chain. لار ملنا—milána, v. to form a friendship with. [riotous.

laráká, لاراکا, H. adj. Quarrelsome;

laráná, لارانا, H. v. (*Caus. of Larná*). To cause to fight; to play.

larái, لارای, H. v. f. Fight; battle; war; wrestling; contest; quarrel; enmity. لارائی

—bághdná, v. to make a quarrel. لارائی

—barháná, a. to foment a quarrel. لارائی

—mol lená, (*Lit.*) to purchase a quarrel; to involve oneself in a quarrel; to pick in a quarrel. لارائی گھانا—ghána, to decide on a war; to declare war. لارائی کا گھر—ká ghar, n. m. a fire brand; cause of a quarrel. لارائی کرنا—karná, v. to give battle; to fight; to quarrel. لارائی لارنا—larná, to wage or carry on war. لارائی ملکی mulkí—, a foreign war, لارائی دیسی desí—, a civil war. لارائی ہونا—honá, v. to be at war; to have quarrel. لارائی لارائی کا جہاز—ká bájá, martial music. لارائی کا سامان—ka samán, military stores; ammunition.

larbaráná, لاربارانا, H. v. To stagger; to statter; to stammer; to falter.

larhá, لارھا, H. n. m. A boy; a child; a babe; a son; an youngster; an inconsiderate or inexperienced person; adj. simple; inexperienced; thoughtless. لارکا—bála, n. m. children. لارکا جننا—janná, v. to give birth to a son. لارکا کھیل—larkon ká khel, n. m. an easy matter; a trifle; a child's play. لارکا لارکا والا—god lená, to adopt a son. لارکا والا—larkavála, n. m. the father of a bridegroom. لارکا والا—ráh báq ka—, n. m. A foundling.

larkái, لارکای, f. لارکائی, } H. n. Boyhood;

larkápan, لارکاپن, m. لارکاپن, } childhood; childishness. [child.

larkorí, لارکوری, H. n. f. The mother of

larkharáná, لارکھارانا, H. v. To straggle; to stammer.

larkí, لارکی, n. f. A girl; a less; a daughter.

larkí, لارکی والا—wála, n. m. the father of a bride.

لڑنا *larná*, लड़ना, H. *v.* To fight ; to contend ; to struggle ; to jar against ; to quarrel ; to vie with ; to give battle ; to be staked ; to sting ; to bite ; to collide with. لڑ پڑنا—*parná*, *v.* fall out. مرنے لڑنا—*marná*, to die fighting ; to engage in mortal combat. لڑنا بھڑنا—*bhīrná*, *v.* to fight ; to quarrel. والا لڑنے مارنے *wálá* ; *n. m.* A desperate fighter ; one who is always ready to fight to the death.

لڑنت *larant*, लड़न्त, H. *n. m.* Contending ; wrestling ; fighting.

لڑی *larvaiyá*, लड़वैया, H. *n. m.* A fighter ; a warrior ; *adj.* athletic ; warlike.

لڑھانا *lurháná*, लुढ़ाना, } H. *v.* (Cause of لڑھکانا *lurhkáná*, लुढ़काना } *Lurhnd*) or (لڑھکانا *Lurhaknd*). To cause to roll ; to spill.

لڑھکانا *lurhakná*, लुढ़कना, } H. *v.* to roll ; to roll لڑھنا *lurhná*, लुढ़ना, } down ; to slip ; to lie down ; to be split ; to die. [sledge

لڑھیما *larhiyá*, लड़िया, H. *n. f.* A small cart ; a

لڑھیانا *larhiyáná*, लुढ़ियाना, H. *v.* To seam ; to hem a garment. [a link.

لڑی *lari*, लड़ी, H. *n. f.* A string of (pearls, &c.) ;

لڑج *lazij*, A. *adj.* Tenacious ; adhesive ; sticky ; clammy.

لڑجٹ *lazújat*, P. *n. f.* Tenacity ; stickiness.

لڑوم *lazúm*, A. *n. m.* Requisite ; necessity ; compulsion ; expediency.

لاس *las*, लस, H. *n. m.* Viscosity ; glutinousness ; stickiness. لاس داز—*dár*, *adj.* viscous ; sticky ; clammy.

لاسع *lassá'*, A. *adj.* Stinging ; wounding (as a scorpion, snake, &c.) ; *n. m.* a stinger.

لسان *lisán*, A. *n. f.* The tongue ; language ; dialect ; speech. لسان الحمل—*ul-hamal*, plantain. لسان الغیب—*ul-gaib*, a revelation ; an oracle (*akáshbáni*).

لسان *lassán*, A. *adj.* Eloquent ; orator.

لسانی *lisáni*, A. *adj.* Verbal ; oral.

لسانی *lassáni*, A. *n. m.* Eloquence ; oratory.

لسا *lasasá*, लसलसा, H. *adj.* Viscous ; clammy ; adhesive.

لساسانا *laslasáná*, लसलसाना, H. *v.* To be viscous or clammy ; to agglutinate.

لسورا *lasaurá* yá *lisaurá*, लसोड़ा या लिसोड़ा, H. *n. m.* A glutinous fruit. [and water.

لسی *lassí*, लस्सी, H. *n. f.* Diluted milk ; milk

لشتم پشتم *lshṭam pshṭam*, लष्टम् पष्टम्, H. *adv.* With much ado ; with difficulty ; somehow or other.

لشکر *lashkar*, P. *n. m.* An army ; a camp ; an encampment. لشکر اکٹھا ہونا—*ikaṭṭhá honá*, to collect an army ; to levy forces ; to mobilise. لشکر کشی—*kashí*, *n. f.* leading forth an army ; invasion. لشکری بولی—*i-bolí*, *n. f.* a mixed dialect ; Urdu. لشکر گاہ—*gáh*, *n. f.* a camp ; a cantonment. لشکر پیشہ—*pesh*—*n. m.* advance guard.

لشکری *lashkari*, P. *adj.* Of or belonging to an army ; military.

لطفات *latáfat*, A. *n. f.* (Opp. of کثافات *Kasáfat*).

Elegance ; grace ; neatness ; deliciousness ; pleasantness ; subtlety ; thinness ; delicacy ; purity. [jokes ; pleasantries.

لطائف *latáif*, A. *n. m.* (Plu. of لطیفہ) Jests ;

لطف *lutf*, A. *n. m.* Grace ; beauty ; elegance ; wit ; gratification ; favour ; taste ; courtesy. لطف ہے—*yeh hai*, *int.* the best of it is ; to crown all. لطف ہے—*be*—*adj.* tasteless ; out of sorts ; displeased ; dry ; inelegant. لطفی—*n. f.* tastelessness ; insipidity ; disagreement ; tameness ; absence of enjoyment ; dryness.

لطفی *lutfí*, A. P. *adj.* Adopted ; brought up in the family ; *n.* an adopted child.

لطمہ *latma*, A. *n. m.* A slap ; a blow ; a box on the ear.

لطیف *latif* A. *adv.* Delicious ; agreeable ; subtle ; light ; witty ; fine ; delicate ; courteous. لطیف طبع—*tabá'*, *n.* gentle disposition ; a cheerful spirit. لطیف غذا—*gizá*, *n.* light food ; delicious food.

لطیفہ *latifa*, A. *n. m.* (Plu. of لطائف *Latáif*). A pleasantry ; witticism ; *bon-mot* ; jest ; joke.

لطفہ گو—*go*, *n. m.* a jester ; a wit.

لعاب lu'áb, A. *n. m.* Salivá ; mucus ; viscosity ; snot. لعاب دار —dár, *adj.* viscous ; slimy.

لعاب la'b, A. *n. m.* Play ; sport ; game. لعاب و لغو —o-lagn, play a trifling. لعاب و لغو lah-o-la'b, *n. m.* Play ; sportive actions.

لعبت la'bat, P. *n. f.* A doll ; a puppet. لعبت باز —báz, *n. m.* A player of puppets ; buffoon. لعبت بازی —bázi, puppet-playing ; theatrical representation. لعبت چین —chin, *n. m.* toy ; bauble ; gewgaw.

لعل la'l, P. *n. m.* A ruby. (*Met.*) the lips of a beloved. لعل اگنا —ugalná, *v. (ironic)* to utter foul words. لعل لب —i-lab (*Lit.*) Ruby of lips ; lips having the colour and quality of a ruby ; perfectly red lips. لعل بدخشاش —i-badakhshán, *n. m.* A ruby of Badakhshan. (Badakhshan is a province of Iran famous for its rubbies).

لعن la'n, A. *n. f.* Cursing ; imprecating. لعن طعن —ta'n, *n. f.* cursing and taunting. لعن طعن كرنا —ta'n karná, *v.* to use invectives and reproaches to.

لعنت la'nat, A. *n. f.* Curse ; imprecation ; reproach ; reproof. لعنت بھجنا يا كرنا —bhejua yá karná, *v.* to curse ; to adjure ; to forswear ; to shun. لعنت كا مارا —ká mára, *adj.* accursed. لعنت ملامت كرنا —malámat karná, *v.* to reprove ; to heap reproaches on.

لعنتي la'nati, A. *adj.* Cursed ; execrable.

لعوق la'úq, A. *n. m.* An electuary, or any medicine to be licked or sucked ; a linctus.

لعين la'in, A. *adj.* Accursed ; execrable ; abominable.

لغایت ligayat, A. *adv.* To the end of ; up to.

لغت lugat, A. *n. m.* (*Plu.* لغات *Lugát*), Dictionary ; lexicon ; vocabulary ; glossary. لغت تراشنا —tarashná, *v.* to coin big words ; to use big words.

لغز lugz, or lagz, A. *n. m.* An enigma ; a riddle ; a puzzle ; an ambiguous phrase ; a labyrinth.

لغزش lagzish, P. *n. f.* Slipping ; tottering ; ambiguity ; equivocation. لغزش آنا —áná, *v.* to tremble. لغزش كرنا —karná, *v.* to slip ; to equivocate.

لغو lago, A. *adj.* Absurd ; false ; foolish ; nonsensical ; *n. m.* nonsense ; gibberish. لغو بگنا —bakná, *v.* to talk nonsense.

لغوي lugví, A. *adj.* Literal ; verbal. لغوي معني —ma'ní, the literal or verbal meaning.

لغف laff, A. *n. m.* Involving ; folding ; twisting ; joining ; assembling ; mixing. لغف و نشر —o-nashr, *v. m.* a figure of speech corresponding to the Chiasmus of the classics. The following is an example :

جان و دل ولي وعدت تو روز و شب
از رعدۀ و وعيد تو روز و نار باد

Ján o dile walí o 'ndú e to roz o shab

Az wa'da o wa'id e to pur núr o nár bád.

May the soul and the heart of thy friend and of thy foe be ever full of light or of fire by thy promise or thy threat.

لغفاز laffáz, A. *adj.* Eloquent ; talkative ; verbose.

لغفازي laffázi, A. *n. f.* Pedantry ; verbosity ; eloquence.

لغفۀ lifafa, A. *n. m.* A cover ; an envelope ; a wrapper ; outward show ; gloss ; anything frail. لغفۀ بنانا —banána, *v.* to make an envelope ; to make a show. لغفۀ كرنا —karná, *v.* to enclose ; to wrap up. لغفۀ كهلنا —khuiná, *v.* to be exposed ; to be unmasked. لغفۀ دار ٲيكۀ —tikař dár, *n. m.* a stamped envelope. [tions.

لغفيا lifáfiyá, لغفياكيا, H. *adj.* Showy ; ostenta-

تلف lafz, A. *n. m.* A word ; a saying ; a term.

تلف به تلف —ba—, *adv.* word by word ; verbatim. [expressly.

تلفان lafzan, A. *adj.* Verbally ; literally ;

تلفي lafzi, A. *adj.* Literal ; verbal. تلفي بحث —bahas, *n. f.* a wordy discussion. تلفي ترجمۀ —tarjuma, *n. m.* word for word translation.

لغفيا لغفيا لغفيا lafangá lafangiyá, لغفيا, لغفيا, H. *adj.* Addicted to boasting or vain-glorious talk ; ready with plausible excuses or explanations ; *n. m.* a vainglorious fellow ; a braggart ; a loose character.

لغفي lafif, A. *adj.* Wrapped ; folded ; collected promiscuously from all parts ; *n. m.* a mixed multitude ; a crowd ; a friend ; an acquaintance.

- لقا *laqá*, A. n. f. Meeting; encountering; seeing (*muláqát*); fighting (with). P. face, form; countenance (*used as last member of compounds*), as: لقا ماہ *máh*—, with a face like the moon; moon-faced. لقا مہ *mah*—, moon-faced.
- لقا *luqqá*, A. *adj.* Roguish; vain.
- لقا *laqqá*, A. n. m. The fan-tail pigeon.
- لقب *laqab*, A. n. m. A title; a surname; a by-word; an appellation of honour.
- لقاق *laqlaq*, P. n. m. A stork.
- لقلقا *laqlaqa*, A. n. m. The cry of a stork; spirit; weight.
- لقمان *laqmán*, A. n. m. Name of a famous eastern fabulist supposed to be the same as Æsop; a wise man.
- لقمة *luqma*, A. n. m. A morsel; a mouthful; a bit. لقمة دینا *—dená*, v. to interrupt a person while he is speaking. لقمة کرنا *—karná*, v. to swallow; to make mouthful of. لقمة لذیذ یا *—lazíz yá—tar*, n. m. a morsel of rich and delicious food. [a profligate.
- لوقندرا *luqandrá* लुकन्द्रा, H. n. m. A rake; a cheat;
- لوق داغ *laq-o-dağ*, A. *adj.* Dreary; desolate.
- لقوة *laqva*, A. n. m. Spasmodic distortion of the face; paralysis. لقوة مار جانا *—már jana*, v. to be paralysed. [lakhpátí, millionaire.
- لك *lak*, P. H. *adj.* lakh, n. m. لكه پتی *—patí*,
- لك *luk*, P. n. m. Varnish. لكدار *—dár*, n. m. Anything varnished and glazed; patent leather; a falling star; a meteor.
- لكانا *lukáná*, लुकाना, H. v. To hide; to conceal.
- لكد *lakad*, P. n. f. A kick; a blow. لكد زنی *—zaní*, n. f. kicking.
- لكر *lakkar*, लकड़, H. n. m. Log, raft; beam; club. لكڑ پھرز *—phor*, n. m. a woodpecker (*khú-barhai*). لكڑ سان *—sán*, n. a pile of wood. لكڑ هارا *—hárá*, n. m. a wood-cutter; a wood-seller.
- لكرا *lakrá*, لکڑ بگھا *—bagghá*, لکڑا, لکڑا *—bágha*, H. n. m. A log; a hyena.
- لكری *lakrí*, लकड़ी, H. n. f. Timber; wood; stick;
- fuel; *adj.* stiff; lean. لكڑی پھینکنا *—phenkná*, v. club playing; fencing. سوكهه كے لكڑی هونا *—sukh ke—honá*, to be reduced to mere skin and bone. لكڑیاں دینا *—lakriyán dená*, v. to perform one's obsequies. ایک لكڑی سے سب كو *—ek—se sab ko hápná*, (*Lit.*) to drive every one with the same stick; (*Met.*) to treat all alike; to fail in showing the consideration due to each one's position.
- لكشمن *lakshaman*, लक्ष्मण, S. n. Prop. Stepbrother and faithful companion of Ram Chandra, son of Dasratha.
- لكشمی *lakshmi*, लक्ष्मी, S. n. f. Name of the goddess of fortune, hence success, prosperity, good luck. She is the wife of Vishnu and a principal deity of the Hindus.
- لكشن *lakshan*, लक्षण, S. n. m. A mark; sign; symptom; indication; attribute.
- لكنا *lukná*, लुक्ना, H. v. To hide oneself; to be concealed.
- لكنت *luknat*, P. n. f. Stammering; lisp; impediment in speech (*hakidnd*). لكنتی *—luktání*, *adj.* stammerer, lisper.
- لكها *likhá*, लिखा, H. *adj.* Written. لكها پورا كرنا *—púrá karná*, v. to work out what is written in one's fate; to pass one's days in hardship. قسمت كا لكها *—parhá*, *adj.* educated. لكها پڑھا *—parhá*, *adj.* educated. قسمت كا لكها *—qismat ká*, n. m. fate; predestination.
- لكهانا *likháná*, लिखाना, H. v. (*Caus. of* لكهنا *Likhná*). To teach to write; to get written.
- لكهات *likhávaṭ*, लिखावट, H. n. f. A writing; an inscription.
- لكهائی *likháí*, लिखाई, H. n. f. The art of writing; the wages of writing; the labour of writing.
- لكه پتی *lakhpátí*, लखपती, H. n. m. A millionaire.
- لكهت *likhat*, लिखत, H. n. f. Penmanship; inscription; writing; a letter; a deed. لكهت *—likhat*, H. n. f. Penmanship; inscription; writing; a letter; a deed. لكهت هونا *—parhat honá*, v. to be reduced to writing (an agreement, etc.)
- لكهنا *likhná*, लिखना, H. v. To write; to copy; to register; to delineate; to make a draught; n. m. hand-writing. لكهنا پڑھنا *—parhná*, n. m. education. لكهنے هارا والا *—likhnehará yá wálá*, a writer; a scribe; an author.

لکھنا lakhná, لکھنا, H. v. To see ; to behold ; to perceive ; to understand.

لکھنی lakhní, لکھنی, H. n. f. A pen.

لکھوانا lakhwána, لکھوانا, H. v. (Caus. of لکھنا Likhna). To cause to write [lac ; glazed.

لکھوانا lakhauṭa لکھوانا, H. adj. Besmeared with
لکھرا lakhherá, لکھرا, H. n. m. One who makes or sells things made of lac ; a varnisher.

لکیر lakír, لکیر, H. n. f. A line ; lineament ; streak ; stripe. لکیر کے پیٹنا یا لکیر پیٹنا — ke faqír honá, yá—pítná, v. to walk the beaten path ; to be a slave to old customs and rites ; to follow in the track of ancestors. جب سانپ لکیر پیٹنا — píṭná, to make fruitless march for a thing which is lost.

نواق راف بتاں میں نصیر پیٹنا کر
گیا ہے سانپ نکل اب لکیر پیٹنا کر

(نصیر)

لکیر khinchná, لکیر کھینچنا, v. to draw a line ; to rule ; to strike out ; to make a boundary.

لگ lag, لگ, H. prep. To ; up to ; till ; during ; as far as.

لگا laggá, لگا, H. n. m. A long bamboo ; a pole used to impel a boat. لگانا — lagána, v. to begin ; to start. لگانا — lagná, v. to be begun ; to unite ; to be compared with.

لگا lagá, لگا, H. adj. Connected ; related ; attached to ; busy (with) ; burnt ; appended. لگا — tar, adv. constantly ; continually. لگنا — chalna, v. to go with ; to keep step ; to follow. لگا دینا — dená, v. to apply ; to put to work. لگا رکھنا — rakhná, v. to lay by ; to hoard up لگنا — rahná, v. to continue in close contact (with) ; to stick to ; to keep on ; to lie in wait ; to be engaged ; to pursue ; to be fixed. لگا ہوا — huá, adj. adjacent. لگی لگے لگے — lagí lipṭí rakhná yá kahná, to show or speak with partiality. لگے لگے لگے — lage lage, side by side (with) ; in close connection (with). لگے لگے لگے — lage háth, while the hand is in ; at the moment of (his) doing it.

لگام lagám, P. n. f. A bridle ; a bit. لگام دینا یا لگانا — dená yá chaṭhána, v. to bridle ; to

curb. لگام لئے پھرنا — liye phirná, v. to follow with a bridle ; to search in vain. لگام بے — be—, adj. refractory ; impudent. لگام ہونا — honá, v. to be unrestrained ; to have one's own way ; to run riot. لگام خوش — khush—, obedient to the run (a horse).

لگان lagán, لگان, H. n. m. Assessment ; rent. لگان مقررہ — muqarrarí, n. m. Fixed rent. لگان بے لگان — be—, adj. rent-free. لگان بہ شرح معین — ba sharah i-mu'aiyan, n. m. Fixed-rate of rent.

لگانا lagáná, لگانا, H. v. (Caus. of لگان Lagán). To apply ; to fix ; to attach ; to ascribe ; to impose ; to plant ; to shut ; to lay on (a whip or stick) ; to plaster ; to employ ; to use ; to impute ; to sow dissension. لگانا بچھانا — bujhána, v. to tell tales ; to excite quarrels ; to sow discord (between) and then make peace. لگانا لگنا — lená, v. to attach to oneself ; to win.

لگانا lagán, لگانا, H. n. m. Connection ; relation ; adherence ; affection ; support ; ratio ; reference ; allusion ; stable ; propensity. لگانا بے لگانا — be—, adj. impartial ; disinterested.

لگاوات lagávaṭ, لگاوات, H. n. f. Connection ; relation ; application ; attachment. لگاوات سیکھاوت — sikhávaṭ, n. backbiting. لگنا — karná, v. to feel an attachment.

لگاوان lagáwan, لگاوان, H. n. m. Something added to the principal food to suit one's relish e. g., pulse or curry to be taken with rice.

لگائی lagáí, لگائی, H. n. f. False accusation, لگائی بچھائی — bujháí, n. f. underhand policy ; mean tricks of sowing dissension.

لگائی lugáí, لگائی, H. n. f. A woman ; a wife.

لگ بھگ lag bhag, لگ بھگ, H. adv. About ; nearly ; approximately.

لگدی lugdí, لگدی, H. n. f. A lump of something soft such as earth mixed with water.

لگر lagar, لگر, H. n. m. A species of hawk or falcon.

لگرا lagrá, لگرا, H. n. m. A hyena.

- لگن lagan, P. n. m. A copper tough.
- لگن lagna, लग्न, H. n. m. Attachment ; love ; desire ; the rising of a sign of the Zodiac ; a moment ; a letter written by the bride's father to the bridgeroom's father fixing the day of marriage and other ceremonies connected therewith. لگن کنڈلی—kundlī, n. f. nativity ; horoscope. لگن لگنا—lagná, v. to be attached to.
- لگنا lagná लगना, H. v. To be attached ; to begin ; to be planted (trees) ; to stick ; to hit ; to touch ; to suit ; to join ; to close ; to be applied ; to be arranged ; to be galled ; to taste ; to feel ; to appear ; to be burnt ; to frequent (e. g. *wahán sher lagtá hai*) ; to pay attention ; to be related to ; to be closed ; to be displayed ; to be levied ; to cost ; to reach ; to be moored ; to smart ; to be wounded ; to have effect ; to be engaged in ; to be incurred (as blame) ; to be staked ; to go down ; to rot ; to shut (door, eyes) ; to be caught or overtaken by (disease, etc.), to bear (fruit) ; to break out (fire) ; to be in full strength or activity (as a market, etc.).
- لگنی lagnī, लगनी, H. n. f. A small لگن lagan.
- لگوا lagná, लग्ना, H. n. m. A lover ; a paramour.
- لگوانا lagnána, H. v. To cause to be applied or put.
- لگھو laghu लघु, S. adj. Short ; small ; young. لگھو شنگا—shanká, n. m. the desire to make water.
- لگھی laghī, लग्ही, H. n. f. A pole ; a gibstaff ; a crook ; a fishing rod.
- لالا lalá yá lallá, लला, लल्ला, H. n. m. A boy ; a son ; a term.
- لالاٹ lalát, ललाट, H. n. m. The forehead ; destiny.
- لالیت lalit, ललित, S. n. f. A musical mode, adj. pleasant ; agreeable ; frolicsome ; dallying.
- لالیتا lalitá, ललिता, S. n. f. A beautiful woman ; name of a ragni or musical mode.
- لالچانا lalchána, ललचाना, H. v. To long for ; to be tantalized ; to covet ; to excite desire.
- لالکار lalkar, ललकार, H. n. f. Bawl ; cry ; challenge ; threat.
- لالکارنا lalkárná, ललकारना, H. v. To call ; to bawl after ; to challenge ; to threaten.
- لالو lallo, लल्लो H. n. f. The tongue ; longing.
- لالو پتو—pato, n. m. coaxing ; adulation. لالو پتو کرنا—pato karná, v. to flatter ; to coax.
- لالہ lillah, A. For God's sake ; by God. اللہ لاله لillahilhamd, To God be the praise.
- لالہ اللہ ہر اس چیز کے خاطر می خراست لاله اللہ آمد زپس پرودہ دیرار پدید
- Lillahilhamd har áñ chíz ke khátir mí khawást, Ákir ámad ze pas-i-parda-i-díwár pedid.
- لالی lalí, लली, H. n. f. A girl ; a daughter.
- لالیانا laliyána, ललियाना, H. v. To become red.
- لالیانا lilliyána, ललियाना, H. v. To beg earnestly ; to entreat.
- لم lim, लिम, H. n. f. False accusation ; unjust censure. لم لگانا—lagána, to accuse falsely.
- لمب lamb, लम्ब, S. n. m. (in *Geom.*) A perpendicular ; adj. long ; tall.
- لمبا lambá, लम्बा, H. adj. Long ; tall ; great ; expanded. لمبا چورا—chaurá, adj. long and wide ; extensive ; of commanding stature.
- لمبا سفر—safir, n. m. a long journey ; journey to the next world. لمبا کرنا—karná, v. to lengthen ; to beat ; to permit to go ; to drive away. لمبا ہونا—honá, v. to be off.
- لمبان lambán, लम्बान, H. n. m. Length. لمبان چوران—chaurán, length and breadth.
- لمبائی lambái, लम्बाई, H. n. f. Length ; tallness.
- لمبائی چورائی—chaurái, n. f. length and breadth ; size.
- لمبر lambar, लम्बर, H. n. f. (*Cor. from the English*). Number ; examination marks ; position ; rank ; turn. لمبر آنا—ána, to come to one's turn. لمبر چرہانا—charhána, v. to enter the marks ; to promote. لمبر دار—dár, n. m. the registered representative of a coparcenary community who is responsible for the payment of government revenue. لمبر داری—dári, n. f. The office or duty of a

lambardár. لمبر سابق میں قائم رکھنا —sábîq meq qáem rakhná, to restore to the original number. لمبر وار —wár, *adv.* by turns; one after another.

لمبى lambí, لمبى, H. *n. f.* A long stride (in a horse); *adj.* long. لمبى تاننا —tánna, to lie down; to die. لمبى چرڑى ھاڭکنا —chaufí haŋkná, to boast; to brag. لمبى سانس ٻھرنا —sáns bharná, *v.* to breathe hard, to regret.

لمتنگا lamtaŋgá, A. *adj.* Tall and robust.

لمچھڙ lamchhar, لمچھڙ, H. *n. m.* A long stick; a long musket.

لمحہ lamba, A. *n. m.* A minute; a moment; twinkling of an eye. لمحہ لمحہ —lamba, *adj.* every moment; perpetually.

لمس lams, A. *n. m.* Touching; feeling; the sense of feeling or touch.

لمعہ lam'a, A. *n. m.* Shining; a flash; brilliancy; glare (of the sun).

لمکانا lamkáná, لمکانا, H. *v.* To stretch out hands or legs. [strides, to go quickly.

لمکانا lamakná, لمکانا, H. *v.* To take long

لمترانى lantrání, A. *n. m.* Boasting; bragging.

"Thou shalt not see me" (from Quran; answer received by Moses to his entreaty.

"رب ارني" Rab-i-arni *i. e.*, O Lord show thyself to me.

لمترانى سے ھو صاف يہ ھم پر روشن

کہ پدمپر بھی ترے ناز ارٹھاتے آئے

Lantarání se huá saf yah ham par raushan

Ki payambar bhí tere náz aṭháte áe.

لمنجا lunjá, لمنا, H. *adj.* Lame of a hand or hands; crippled.

لمند ڀند land phand, لمند ڀند, H. *n. m.* Deceit; fraud; artifice. (Syn. لم فرب fan fareb.)

لمندا lundá, لمندا, H. *n. m.* Twisted grass or cotton etc. placed under a jar to prevent it from over-setting.

لمند مند lund mund, لمند مند, H. *adj.* Tail cropt and bald.

لمندرا ladúrá, لمندرا, H. *adj.* Tail less; friendless.

لمندى lundí, لمندى, H. *n. f.* A round ball of sutli, múnj, etc.

لمنديانا lundiyáná, لمنديانا, H. *v.* To roll; to prepare a lundí.

لمنک lank, لمنک, H. *n. m.* A heap.

لمنکا lanká, لمنکا, H. *n.* Prop. Ancient name of the land of Ceylon, the kingdom of Ráwan.

لمنگ lang, لمنگ, H. *n. f.* Side: direction.

لمنگ lang, P. *adj.* Lame.

لمنگ ligg, لمنگ, S. *n. m.* A mark; token; the sign of gender or sex.

لمنگرا lungará, لمنگرا, H. *n. m.* A rake; a profligate. لمنگرا پن —pan, *n. m.* profligacy; rascality.

لمنگر langar, P. *n. m.* An anchor; a cable; a thick rope; alms; a weight; pendulum (of a clock); a public kitchen.

لمنگر اٹھانا —uṭháná, *v.* to weigh anchor.

لمنگر جاري کرنا —jári karná, to set up an alms-house.

لمنگر خانہ —khána, *n. m.* almshouse.

لمنگر گاہ —gáh, *n. m.* a seaport; an anchorage.

لمنگر ڈالنا —ḍálná, *v.* to cast anchor.

لمنگرى langrí, لمنگرى, *n. m.* provisions distributed to the poor.

لمنگرا langrá, لمنگرا, H. *adj.* Lame; crippled; limping.

لمنگرا کر langrá kar, لمنگرا کر, H. *adv.* Limping.

لمنگرا کر چلنا —chalná, to limp. [lame.

لمنگرانا langráná, لمنگرانا, H. *v.* To limp; to go

لمنگرت langot, لمنگرت, } H. *n.* A piece of cloth

لمنگرتا langotá, لمنگرتا, } worn between the legs

لمنگرتى langotí, لمنگرتى, } to cover at the privities.

لمنگرت باندھنا —bándhná, *v.* to gird one's loin;

to be ready to fight. لمنگرت بند —band, *n. m.*

a confirmed bachelor; a man who is faithful to the marriage tie.

لمنگرت کا سچا —ká sachchá, *n. m.* a confirmed bachelor; an ascetic.

لمنگرتيا يار —yár, *n. m.* an old friend (from childhood); a playmate.

لمنگور langúr, لمنگور, H. *n. m.* The longtailed black-faced monkey; a baboon. [Over.

لمنگھانا langháná, لمنگھانا, H. *v.* To cause to jump

لمنگھان langhan, لمنگھان, H. *n. m.* Fast; fastings;

leaping or jumping over; transgressing. لمنگھان

لمنگھان ٻرنا —karná, *v.* to keep a fast. لمنگھان پڙنا —

paṛná, *v.* to catch (a disorder).

لوح loch, लोच, H. n. m. Starch; stickiness; viscosity; sweetness; softness. دار لوح—dár, starchy; soft. دينا لوح—dená, v. to beat (dough).

لوحان lochan, लोचन, S. n. m. The eye sight.

لوح lauh, A. n. f. A plank; a tablet; a little page. لوح محفوظ—i-mahfúz, n. m. a tablet on which the destinies of the world since its creation are written. لوح و قلم—wa qalam, n. f. the tablet in which and the pen with which the destinies are written. لوح طلمس—i-tilism, n. f. a tablet on which magicians note down the methods for destroying the effects of charm.

لوحش الله lauhash alláh, P. intj. A phrase meant to express, praise, respect, astonishment and earnest desire.

لودھی lodhí, लोधी, } H. n. m. Name of an agri-
لودي lodí, लोदी, } culturist tribe in India.

لور lawar, लवर, n. m. Flame.

لور lor, लोर, H. n. m. A tear.

لوري lorí, लोरी, H. n. m. A lullaby. لوري دينا—dená, v. to lull a child to sleep.

لوهه lophá, लोहा, H. n. m. A pestle with which materials are ground on a stone' (sil. baṭṭá).

لوهنه loṣhná, लोहना, H. v. To glean; to separate the seed from cotton. [almond.

لوز lauz, A. n. m. A kind of sweetmeat; an almond. لوزيات loziyát, A. n. f. Almond confections; almond-shaped sweetmeats (made of curds, &c.).

لوك lok, लोक, S. n. m. World; region. لوك آچار—áchar, n. m. the customs of a country. لوك پر—, n. m. the next world; the heaven.

لوكا lúká, लूका, H. n. m. Flame; fire; spark. لوكا لوكا—laganá, v. to inflame or excite quarrels, &c.

لوكاٽ lokáṭ, लोकाट, H. n. m. A fruit; loquat.

لوكاٽ lúkaṭ, लूकाट, H. adj. Half burnt (wood) brand.

لوكيك laukik, लौकिक, S. adj. Wordly; ceremonial; customary.

لوكنا lokná, लोकरना, H. To catch; to hop.

لوكنا laukná, लोकरना, H. v. To shine; to flash.

لوكهٽ lokhar, लोखर, H. n. m. Instrument; tool; implement. [gourd.

لوكي laukí, लौकी, H. n. f. A pumpkin; a bottle-

لوك log, लोग, H. n. m. People; folk; caste; a husbandman.

لوكائي lugái, लुगई, H. n. f. A woman; a wife.

لولا lúlá, लूला, H. adj. Lame (of the hands); crippled.

لولا lolá, लोला, H. n. m. Ear-ring; pendent; the tongue of a bell; uvula.

لؤلؤ lúlú, A. n. m. A pearl. (Plu. لالی lálí).

لوم lúm, A. n. m. Meanness; avarice; vice.

لوم laum, A. n. m. Blaming; accusing; reproofs.

لومړي lomrí, लोमड़ी, H. n. f. A fox; a sly, cunning fellow.

لون lon, लोन, H. n. m. Salt; common salt.

لونا launá, H. v. t. To cut; to reap.

لونا loná, लोना, H. n. m. Salt; purslain.

لونار lonár, लोनार, H. n. m. Salt lands; a salt pit.

لونجی launjí, लौजी, H. n. f. Mango-pickle.

لوند laund, लौद, H. n. m. An intercalary month (malmás).

لوندآ لوندآ, लौदा, H. n. m. A lump (of clay).

لوندآ laundá, लौदा, H. n. m. A boy; a son; a slave; a brat. لوندآ پن—pan, n. m. boyishness.

لوندآ بلاء laundé báz, n. m. a sodomite. لوندآ بلاء—laundé bází, n. f. sodomy.

لوندی laundí, लौडी, } H. n. f. A girl; a
لوندی لوندی, लौडिया, } lass; a slave girl;
a bondmaid; a daughter.

لونغ laung, लौग, H. n. f. Cloves; nose-pin.

لوني launí, लौनी, H. n. f. Wages in kind to reapers in harvest time.

لوني loní yá lúni, लोनी या लुनी H. n. f. The salt that effloresces from walls, &c. butter; adj. saltish; brackish.

لونیا loniyá yá lúniyá, लोनिया, H. n. m. Purslain; a salt-maker; a caste of Baniyas; a pioneer; adj. saltish; brackish.

لوهه loh, लोह, } H. n. m. Iron. لوهه بجانا—
لوهه lohá, लोहा } bajaná, v. to fight with

swords. لوہا لٹھہ—*lath*, *adj.* strong ; rigid ; hard. لوہے چوڑے یا چوڑے—*chún yá chúr*, *n. m.* iron filings. لوہے سار—*sár*, *n. f.* an iron mine ; calcined iron. لوہے کے چنے چمانا—*lohe ke chane chabána*, *v.* to cut through adamant ; to perform a very difficult task. لوہے مان جانا—*mán jáná*, *v.* to bow before superior power. لوہے کارنا—*karná*, *v.* to iron. لوہے کا پل—*lohe ká pul*, *n. m.* an iron bridge.

لوہار *lohár*, لوہار, *H. n. m.* A blacksmith ; an iron-smith ; an iron-monger. لوہار خانہ—*khána*, *n. m.* a blacksmith's workshop ; an iron-seller's quarter. لوہار کی بہتی—*kí bhatíí*, *n. f.* an iron-smith's forge ; a furnace.

لوہرا *lauhárá*, لوہرا, *H. adj.* Junior ; younger ; cadet.

لوئی *loi*, لوئی, *H. n. f.* Flannel ; blanket.

لوئی *loi*, *H. n. f.* A lump.

لوہاب *luháb*, A. *n. m.* Burning ; blazing ; flame without smoke.

لوہارن *luhárin*, لوہارن, *H. n. f.* A female blacksmith ; the wife of a blacksmith.

لوہارا *lihárá*, لوہارا, *H. adj.* Vile ; mean ; *n. m.* a bad paymaster. [basket.

لوہاس *lahás*, لوہاس, *H. n. f.* A cable ; a large

لوہاجہ *lahja*, P. *n. m.* Tone ; sound ; accent ; cadence ; accentuation ; voice.

لوہا *liházá*, A. *adv.* Consequently ; therefore.

لوہر *lahr yá lahar*, لوہر, *H. n. f.* A wave ; undulation ; fancy ; the effect of the poison of a snake ; smart ; fit ; frenzy ; a waving pattern in embroidery ; emotion ; rapture ; excitement. لوہر اٹھنا—*uthná*, *v.* to rise emotion, ecstasy, &c. لوہر آنا—*áná*, *v.* to prosper. لوہر چڑھنا—*chahná*, a peroxysm. to come on ; to have a sudden seizure or fit.

لوہرا *lahrá*, لوہرا, *H. n. m.* A lively air or tune.

لوہرا لگانا *lahrá lagána*, لوہرا لگانا, *H. v.* To evade ; to excite.

لوہرانا *lahráná*, لوہرانا, *H. v.* To wave ; to fluctuate ; to undulate ; to tantalize ; to put off ; to blaze up.

لوہر *lahr-bahr*, لوہر-بہر, *H. n. f.* Prosperity. لوہرنا *lahrná*, لوہرنا, *H. v.* To wave ; to undulate ; to be emblazed.

لوہری *lahrí*, لوہری, *H. adv.* Emotional ; capricious ; merry ; odd ; whimsical.

لوہریا *lahriyá*, لوہریا, *H. adj.* Serpentine ; wavy ; *n. m.* watered silk ; striped cloth.

لوہسان *lahsan*, (لوہسن), *H. n. m.* Garlic ; a prickle ; blotch. لوہسنی ہینگ—*í-hing*, *H. n. m.* asafetida.

لوہک *lahak*, لوہک, *H. n. f.* Glitter ; flash.

لوہکارنا *lahkárná*, لوہکارنا, *H. v.* To pat and encourage a horse, &c.) ; to fondle.

لوہکانا *lahkáná*, لوہکانا, *H. v.* To blow up a fire ; to make a flame ; to execute ; to warble.

لوہکنا *lahakná*, لوہکنا, *H. v.* To be kindled ; to glitter ; to wave ; to rise (as wind) ; to warble.

لوہلوٹ *lahlot*, لوہلوٹ, *H. adj.* Borrowing and never paying ; a bad paymaster. [dulating.

لوہلاہا *lahlahá*, لوہلاہا, *H. adj.* Blooming ; un-

لوہلاہانا *lahlaháná*, لوہلاہانا, *H. v.* To bloom ; to flourish ; to wave. [blooming.

لوہلاہاٹ *lahlaháshat*, لوہلاہاٹ, *H. n. f.* Waving ;

لوہنا *lahná*, لوہنا, *H. v.* To get ; to avail ; *n.* fate ; destiny ; gain. لوہنا پانا—*páná*, *n.* outstanding debts.

لوہنگا *lahngá* لوہنگا, *H. n. m.* A petticoat ; a skirt.

لوہر *lahú*, لوہر, *H. n. m.* Blood. لوہر آنا یا کھنا—*áná yá kañá*, *v.* to pass blood (by stool).

لوہر بانڈ کرنے والی—*band karne wálí*, *adj.* (in *Med.*) a styptic. لوہر پانی ایک کرنا—*pání ek karná*, *v.* to work very hard. لوہر پینا—*píná*, to drink one's blood ; to worry.

لوہر توڑنا—*thúkná*, *v.* to spit blood. لوہر چھینا یا چرنا—*chupakná yá chúná*, *v.* to be full-blooded ; to be leprous.

لوہر سوکھنا—*súkhná*, *v.* to freeze the blood in one's veins. لوہر کا پیاسا—*ká piyásá*, *adj.* blood thirsty. لوہر کے سے گھرنٹ پینا—*ke se ghúnt píná*, *v.* suffer patiently ; to envy.

لوہر لہان—*lahán*, *adj.* bloody ; covered with blood.

لوہر *lahw*, A. *n. m.* Amusing oneself ; anything ludicrous or jocular. لوہر و لعب—*o-la'b*, play ; sport ; pastime ; amusement.

- لے lai لای, H. n. f. Modulation ; tune; affection; taste. [nouns use]
- لے le, لے, H. conj. part of لینا Take (contempt)
- لیاقت liyaqat, A. n. f. Merit ; abilities ; aptitudes ; proficiency. سند لیاقت sanad-i—, n. f. a certificate of qualifications. حسب لیاقت حسب hasb-i—, according to one's merits.
- لے le-ána, لے آنا, H. v. To fetch ; to import.
- لے le urná, لے اڑنا, H. v. To fly away with.
- لے le bhágná, لے باگنا, H. v. To run away with.
- لے le baithná, لے بیٹنا, H. v. To bring one down with oneself ; to sit down with ; to settle down with.
- لے lep, لےپ, H. n. m. Ointment ; plaster. لےپ کرنا یا لگانا—karná yá lagáná, v. to apply a plaster or ointment.
- لے le pálak, لے پالاک, H. n. m. An adopted child ; a foster child. لے پالنا—pálná, v. to adopt ; to foster.
- لیپان lipan, لےپان, H. n. f. Plastering ; besmearing ; the refuse of mud-plaster.
- لیپنا lípná, لےپنا, H. v. To plaster ; to gloss over ; to besmear. لےپنا پوتا lípá potá, adj. plastered and whitewashed ; scabbled.
- لےپنا lait-o-la'l, A. n. f. Subterfuge ; evasion ; procrastination. لےپنا میں ڈالنا—o-la'l men dálná, v. to dilly dally ; to evade ; to shuffle.
- لےپنا leṭná, لےپنا, H. v. To lie down ; to rest ; to fall at one's feet ; to submit ; to melt.
- لےپنا le-jáni, لےپنا, H. v. To convey ; to export ; to win ; to refer. [refuse.]
- لیجھی lijhi, لےجھی, H. n. f. Dregs ; sediment ;
- لے چلنا le chalná, لے چلنا, H. v. To carry ; to convey.
- لیچار lichar, لےچار, H. ad. Slippery ; stingy ; slow ; n. m. bad paymaster.
- لیچارپان licharpan, لےچارپان, H. n. m. Slipperiness ; slowness ; stinginess.
- لیچی líchi, لےچی, H. n. f. A fruit ; say *talía litchi*.
- لے lid, لےد, H. n. f. The dung of horses, asses, mules and elephants.
- لے le dálná, لے ڈالنا, H. v. To do down with.
- لے le dubná, لے ڈوبنا, H. v. To be drowned with.
- لے le rakhná, لے رکھنا, H. v. To keep ready.
- لے lerú, لےر, } H. n. m. A calf.
لے lerúá, لےرؤا, }
- لے zam, لےزم, P. n. f. A bow having an iron chain for the string, used in athletic.
- لے lais, لےس, H. adj. Ready ; dressed ; n. m. a spring ; an arrow ; vinegar.
- لے lais, H. n. f. (Corr. from the English.) Lace.
- لے lais yá les, لےس, H. n. f. Stickiness ; mark ; plastering. [to spread.]
- لے lesná, لےسنا, H. v. To plaster ; to daub ;
- لے lik, لےک, H. n. f. Line ; rut ; furrow ; path ; cartroad ; custom ; the customary fees of menial servants. لےک ایک چالنا—lik chalná, v. to follow the beaten path ; to adhere to old established customs. لےک پیٹنا—piṭná, v. to adhere to old established practices.
- لے lek, } A. conj. But ; yet. لیکن اگر
لے lekin, } agar, conj. but if.
- لے lik, لےک, } H. n. f. The egg of a louse ;
لے líkh, لےکھ, } a nit. لےکھ پھونکا [ment.]
- لے lekh, لےکھ, H. n. f. A writing ; an endorse-
- لے lekhá, لےکھا, H. n. f. Account ; ledger ; state. لےکھا بہی—bahi, n. f. a ledger ; an account-book. لےکھا پورا کرنا—púra karná, v. to close an account ; to discharge a balance.
- لے lekhá, لےکھا, H. v. To open an account.
- لے lená, لےنا, to take account.
- لے lekhpal, لےکھپال, H. n. m. A village accountant, or registrar, who keeps all the accounts connected with the lands of one or more villages. [accountant.]
- لے lekhak, لےکھک, H. n. m. A writer ; an
- لے lekhe, لےکھے, H. adj. As to ; regarding ; in the estimation of.
- لے líl, لےل, H. n. f. Indigo.
- لے lail-o-nihár, لے لیل و نہار, A. n. m. Night and day ; a sort of wood.
- لے lílá, لےلا, H. adj. Blue.
- لے lílá, لےلا, S. n. f. Play ; sport ; theatrical performance ; amorous sports ; wonders ; phenomenon.

لیل کلتھہ لیل کانٹھ, lil-kanth, H. n. m. The Indian jay.

لیلنا līlná, لیلنا, H. v. To gulp; to swallow.

لیلۃ القدر lailat-ul-qadr, P. The twenty-seventh night of Ramazan when the angels descended or the *Qurán* began to descend.

لیلا lailá, A. n. prop. The name of the beloved of Ma'nún; a sweetheart.

لینا le lená, لے لینا, H. v. To receive; to extort; to take back.

لیم lím, A. n. m. Consent; harmony; peace (*melmiláp, shánti*).

لئیم laím, A. adj. Reprehensible; miserly.

لے مرنا le-marná, لے مرنا, H. v. To calumniate.

لیمو lemú, لیمو, H. n. m. A lemon; lime.

لین lín, لین, S. adj. Right; absorbed; united.

لین lain, لین, H. n. f. (*Corr. from the English*). A line; file; cantonment. —دوری لائن dori n. f. an advance guard, tents, etc., the Quartermaster.

لین len, لین, H. n. m. Receiving; taking. لین دین یا لینا دینا—den yá lená dená, n. m. traffic; trade; money dealings; business; banking; friendly intercourse. لین دین بند کرنا—den band karná, v. to close a business; to stop dealing. لین دین کرنا—den karná, v. to trade; to carry on a business.

لینا lená, لینا, H. v. To take; to receive; to draw; to buy; to borrow; to win; to conquer; to usurp; to take hold of; to catch; to reach; to receive; to assume; to absorb; to drink; to suck in; to quote; to adopt; to cut; to recite. لینا ایک نہ دینا در—ek na dená do, to have nothing to do with; useless.

لے اُرنَا le urná, v. to set off; to blaze up. لے دے کے le de ke, adv. with great difficulty; after all deductions; altogether. لینے کے دینے پڑنا lene ke dene parná, v. to be on the point of death; to be involved in misery or difficulty.

لیندھا lendhá, لہندا, H. n. m. Mildew; flock; pack.

لیندی lendí, لہندی, H. n. f. Dung of sheep, goat,

etc. لیندی کرنا—tar karná, v. to please; to cajole.

لیوا levá, لےوا, H. n. m. Taker; plaster; udder. لیرا نام nam—, n. m. a son; an heir.

لیھی lehi, لہی, H. n. f. Cement; paste; starch.

لیے liye, لیے, H. adj. For; instead of; on account of.

لیئی lei, لہی, H. n. f. Paste; starch.

(م)

mím, The 24th letter of the Arabic, 28th of the Persian and thirty-first letter of the Urdu alphabet, corresponds to *m* in English. In *abjad* it stands for 40. When used as an affix it denotes the pronoun of the first person singular; changes the cardinal numbers into the ordinals and forms feminine of certain nouns; as a prefix, it has a negative force before verbal forms.

اور نہ رکھے ذکر جہاں سے دل دو نیم
بند مت رکھے دل کا گنچہ مثل میم

(حسن)

Aur na rakh fikr-i-Jahán se dil do ním.

Band mat rakh dil ká guncha mis li-mím.

ما ما, A. What; which; as far as; why; no; how; somewhat; who; those who; *int. pro.* what; why; how; wherefore; *adv.* and *conj.* no; as long as; whilst; during; as much as. ما بعد

—ba'd, following. ما بقی—baqá, the remainder;

balance; arrears. ما بھلا—bihil-ihitayáj, all that is required. ما حاصل—hasal, the produce;

profit; inference; result. ما حاضر—hazar, what is present or ready; potluck. ما سابق—sabaq,

above-mentioned; preceding. ما سابق—salaf,

past; the preceding. ما صادق—sadaq, what is true. ما شاء الله—máshá Alláh, what God wills.

ما فوق—faug, what is superior or excelling.

ما فی الضمیر—fiuz-zamír, intention; motive; secret. ما قبل—qabl, last; prior; before.

ما لا ینحل—lá yanhal, adj. Insoluble; inexplicable. ما لا کلام—lá kalám, undescribable. ما مضی—mazá

n. m. Days gone by. ما روا—vará,

besides; over and above.

ماء ماء, A. n. m. Water; liquid; juice; lustre.

ماء الجبن—ul-juban, n. m. whey (of goat's

(milk). ماد العیات—ul-hayát, *n. m.* the water of life; the elixir of life. ماد اللحم—ul-laham, *n. m.* soup prepared from kid's flesh; a medicinal soup prepared from the flesh of some birds and animals. ماد الورد—ul-ward, rose-water.

ما má, *P. pron.* we; us; our.

ما má, मा, *H. n. f.* A mother, mamma; the name of Lakshmi. ماجائی—jáí, *n. f.* one's own sister. ماجایا—jayá, *n. m.* one's own brother. ماں کے پیٹ سے لیکر نکالنا—ke peṭ se le kar nikalná, *v.* to be born with.

ما ma-'áb, *A. n.* Settled or fixed abode or dwelling place; repository; receptacle (*frequently used as last member of compounds*) as: عزت ماب 'izzat—, residence of glory.

ما باپ má báp, मा बाप, *H. n.* Parents.

ما بین má bain, *A. n. m.* The meantime; interval; *adj.* intermediate; *prep.* between.

ما پ máp, माप, *H. n. m.* Measure; survey.

ما پنا mápná, मापना, *H. v.* To measure; to survey.

ما پک mápak, मापक, *H. n. m.* Measurer; surveyor.

ما ت mát, *A. n. f.* Checkmate; defeat. مات کرنا—karná, *v.* to checkmate; to outdo; to beat (as chess). مات کھانا—kháná, *v.* to be beaten.

ما تا mátá, माता, *H. n. f.* Mother; small-pox, a female Deity. ما تا پتا—pitá, *n.* parents; lord; patron. ما تا ڈھالنا—ḡhálná, *v.* to dry up (the pox). ما تا نکالنا—nikalná, to come out (the pox).

ما تھات mátahat, *A. adj.* Subordinate; dependent.

ما ترا mátrá, मात्रा, *H. n. f.* A vowel or diacritical mark; a dose; an ingredient; wealth.

ما تم matam, *A. n. m.* Mourning; grief. ماتم ماتم خانہ یا پرسی—pursí, *n. f.* condolence. یا ماتم کدہ—khána yá—sará, ya—kada *n. m.* a house of mourning. ماتم دار—dár, a mourner. ماتم داری—dári, *n. f.* mourning. ماتم زدہ—zadá, *adj.* bereaved; mournful; afflicted. ماتم کرنا—karná, *v.* to lament; to mourn. ماتمی لباس mátamí libás, *n. m.* mourning garments.

ما تھا máthá, माथा, *H. n. m.* The forehead; the ridge of the thatch; the prow of a boat

(galahí). ماتھاپیرانا—piráná, *v.* to feel headache. ماتھ پر چڑھنا máthe par chahná, (*Lit.*) to mount on the head; (*Met.*) to take advantage of; to take liberties with. ماتھا ٹھانکنا—ṭhanakná, *v.* to feel a presentiment. ماتھا اونچا—ragahná *v.* to implore humbly. ماتھا اُنچھا—, a high forehead.

ما ت máṭ, माट, *H. n. m.* An earthen jar; an indigo vat; an article of food. مات کی بھاجی—ki bhájí, *n. f.* *Amaranthus oleraceus*; a kind of potherb.

ما تھو máṭhú, माठू, *H. n. m.* A monkey; a merry-andrew; a harlequin.

ما ٹی máṭí, माटी, *H. n. f.* See مٹی Mittí.

ما سیر ma-'ásir, *A. n. m.* (*Plu. of* مآسیر *Madsarat*). Generous qualities or actions; glories; excellencies. (*used as last member in compounds*) as: تگر مائر tigr—, victorious.

ما جید májid, *A. adj.* Glorious; honourable.;

ما جیدہ májida, *P. adj.* Fem. of ماجد májid.

ما جرا májrá, *A. n. m.* An incident; an occurrence; state; matter.

ما جو پھل majú phal, माजू फल, *H. n. m.* A gall-nut.

ما چا máchá, माचा, *H. n. m.* A large bedstead; a frame or stage on which an agriculturist sits to drive away birds, &c. to protect his corn-fields.

ما خذ mákhaz, *A. n. m.* Source; origin; the place of receipt; derivation.

ما خوذ mákhúz, *A. adj.* Taken; seized; involved; accused; called to account. ما خوذ کرنا—karná, *v.* to accuse; to criminate; to arrest.

ما خولیا mákhuliyá, *P. n. m.* A kind of disease of the brain; melancholy; insanity.

ما دام mádám, *A. adv.* Until; whilst.

ما دب mu'ddab, *A. adj.* Well-bred; courteous; polite; reverential.

ما دح mád'ih, *A. n. m.* One who praises; an encomiast.

ما در mádar, *P. n. f.* Mother. مادر زاد—zád, *adj.* innate; inborn; natural. مادر بہ خطا—ba khatá, *n. m.* A bastard.

مادری *mádrí*, P. *adj.* Motherly; maternal. مادری
 زبان *zabán*, mother-tongue; native tongue.

ماده *máda*, P. *adj.* Female; *n. f.* a female.

مادده *mádda*, A. *n. m.* Matter; substance; sub-
 ject; essence; faculty; power; (in *Gram.*)
 root; etymology.

مادی *máddí*, A. *adj.* Material; natural.

مادیان *mádiyán*, P. *n. f.* A mare.

مادین *mádin*, P. *adj. n. f.* See ماده *máda*.

مار *már*, मार, H. *n. f.* Beating; battle; a stroke;
 blow; rage; enticement; temptation; snare;
 antidote; remedy; a black loamy soil. مار
 بیتهنا *baiṭhná*, *v.* to beat; to embezzle. مار
 بهگانا *bhaganá*, *n.* to rout; to put to rout.

مار پیست یا مار *parná*, *v.* to be beaten.

مار پیست یا مار *pít yá dhár*, *n. f.* beating and bruising;
 drubbing; fighting. مار تازی *márte*

khán, *n. m.* scourger; oppressor. مار قاتل *qálná*,
v. to murder; to kill. مار راکھنا *rakhná*, *v.* to usurp.

مار کھانا *kháná*, *n.* to get a drubbing;
 to earn by hook or crook. مار گزنا *giráná*, *v.* to hack down;
 to kill.

مار لانا *láná*, *v.* to rob. مار لینا *v.* to smite;
 to conquer; to embezzle. مار ہٹانا *haṭáná*,
v. to beat and drive back; to overcome.

مار *már*, P. *n. m.* A serpent; a snake.

مارا *mára*, मारा, H. *adj.* Beaten; smitten; slain;
 founded. مارا جانا *jána*, *v.* to be slain or
 killed. مارا مار *már*, *n. f.* struggle, tumult;
 rush; mutual beating; fray. مارا پھرنا *phirná*,
v. to wander about without im.

مارا کارنا *már karná*, *v.* to work hard;
 to push on; to hurry up.

مارتول *mártaul*, मारतोल, H. *n. m.* Martello; ham-
 mer; a turn-screw.

مارگ *márg*, मार्ग, H. *n. m.* A road; a path; a
 way; remedy; antidote

مارگی *márgí*, मार्गी, H. *n. m.* A way-farer; a
 passenger.

مارنا *márná*, मारना, H. *v.* To beat; to punish;
 to drive away; to kill; to calcine; to dis-
 charge; to spurn; to throw; to ruin; to keep
 down; to subdue; to antidote; to embezzle;
 to close; to hit; to blast; to sting; to alloy;

to quench; to stamp; to pelt with; to cast
 (a spell); to discharge; to hurl. مار ڈالنا *dálná*,
 to kill outright; to slay.

مارنہارا *máranhára*, मारनहारा, H. *n. m.* A smiter;
 a slayer.

ماروت *márút*, A. *n. m.* Name of an angel.

مارے *máre*, مارے, H. *adv.* For; for the sake of;
 by reason of; on account of.

ماری *márí*, A. *n. f.* Plague; epidemic; famine.

ماریا *máryá*, मारया, H. *v.* To thrash corn.

ماری *márí*, मारी, H. *n. f.* Starch; gruel; upper
 room; balcony; shrine sacred to an inferior
 deity.

ماز *mázú*, P. *m.* See ماجو *májú phal*.

ماس *más*, मास, H. *n. m.* A month; flesh; meat.

ماس اھاری *ahári*, adj. carnivorous; flesh-
 eater. ماس کبار *kabár*, *n.* the last day of a
 month; a monthly statement. ماس نوچنا *nochná*,
v. to mangle; to tease.

ماسوا *másivá*, A. *adj.* Beside; moreover; over
 and above.

ماش (másh) مارا, S. P. *n. m.* A kind of vetch;
 a pulse. (*Mung* or *Urad*).

ماشہ *másha*, P. *n. m.* A weight consisting of 8
rattis; a pin; four annas. ماشہ بھار *bhar*, as
 much as 8 *rattis*, full $\frac{1}{12}$ th of a *tola*.

ماشہ تولہ *tolá*, *v.* to be fickle; to change.

ماضی *mázi*, A. *adj.* Past; past tense. ماضی
 مطلق *mutlaq*, (*Gram.*) past indefinite. ماضی
 قریب *qarib*, present perfect. ماضی بعید *ba'id*,
 past perfect. ماضی استمراری *istimrari*, past
 imperfect. ماضی تمذنی *tamannai*, optative
 (past). ماضی ناتمام *na tamam*, past imper-
 fect.

ماضیہ *máziya*, A. *adj.* Heretofore; formerly.

ماقبل *máqabl*, A. *adj.* Preceding; (in *Gram.*)
 the antecedent.

ماکیان *mákiyán*, P. *n. f.* A fowl; a hen.

ماگھ *mágh*, माघ, S. *n. m.* The 10th month of
 the Hindu year; January-February.

مال *mál*, A. *n. m.* Wealth; property; revenue;
 finance; effect; dainties; merchandise; a

prize (in a lottery, &c.) ; the granulated sedi-
 ment in an indigo vat. مال ارزانا—uráná, *v.*
 to squander wealth. مال باہر بھیجنا—bahar
 bhejna, *v.* to export (oppo. import.) مال خانہ
 —khána, *n. m.* a store house ; a ware-house.
 مالدار—dár, *adj.* rich ; wealthy. مال دہنی
 —n. *m.* owner of goods. مال زادی—zadí, *n. f.*
 A bawd ; a whore. مال سایر—sáyar, duties ;
 revenue from customs and other sources. مال
 ضمانت—zámin, surety ; security. مال غنیمت
 —i-ghanimat ; *n. m.* plunder ; sport. مال گاڑی
 —gárf, *n. f.* Goods train. مال منقولہ
 —manqúla, movable property. مال لاوارث
 —gair manqúla, immovable property. مال
 جاہل—i-lá várís, unclaimed property. مال
 مارنا—márná, *v.* to rob ; to swindle ; to embezzle.
 مال مردم خور—i-mardumkhor, *n. m.* a cheat ;
 swindler ; one who borrows but never pays.
 مال مست—mast, *adj.* purse-proud ; puffed up
 with the possession of riches. مال مستی
 —mastí, purse-pride. مال مقروضہ
 —i-maqrúqa, distrained or attached property.
 مال موروثہ—maurúsa, *n. m.* A bequest ; a legacy.
 مال کا—ká band-o-bast, *n. m.* Settlement of
 revenue. مال و متاع—o-mutá, *n. m.* Property ;
 assets ; wealth. مال مال, مال, *H. n. f.* The distaff string ;
 belting ; a wreath ; a garland. مال
 maál, *A. n. m.* End ; result ; aim ; issue ;
 consequence. مال اندیش—andesh, *adj.* pru-
 dent ; circumspect. مال اندیشی—andeshtí, *n. f.*
 consideration of the end or consequence ;
 prudence. مال خیر—khair, *n. m.* a happy
 issue or tendency. مال مال, مال, *H. n. m.* A rosary ; a
 chaplet ; a garland ; a necklace ; a book. مال
 پھرنی یا جاننا—pherná yá japná, to recite a prayer on
 beads ; to pray ; to tell the beads. مال مال
 mála mála, *P. adj.* Full ; replete ; rich. مال
 مالپوا—málpúá, مالپوا *H. n. m.* A kind of sweet-
 meat ; a pancake. مال مال, مال, *H. n. f.* Name given to
 different species of shrubs. مال مال
 —basant, *n. f.* an Ayurvedic medicine given in
 consumption.

مالش malish, *P. n. f.* Rubbing ; polish ; burnish-
 ing ; shampooing. مالش کرنا—karná, *v.* to
 rub ; to polish ; to furbish ; to nauseate.

مالک málik, *A. n. m.* Master ; owner ; possessor ;
 husband ; lord ; God ; landlord. مالک آراضی
 —i-arázi, *n. m.* landholder. مالک اعلیٰ—i-'alá,
n. m. a superior proprietor. مالک ادنیٰ—i-
 adná, *n. m.* a sub-proprietor. مالک الملک
 —ul-mulk, (*Lit.*) lord of the country ; a title
 addressed to sovereigns, princes, prime
 ministers, &c. مالک حقیقی—i-haqíqí, the real
 owner ; the proprietor *de facto*.

مالکانہ málikáná, *A. adj.* Proprietary ; *n. m.* an
 allowance to zamindars ousted from their
 estates.

مالکوس málkos, مالکوس, *H. n. m.* Name of a rág
 in Hindustáni music.

مالکی malkí, *A. adj.* Royal ; lordly.

مالکی málikí, *A. n. m.* A follower of one of the
 four schools of Sunní Muslim religion. The
 remaining three schools are حنفی hanafi,
 حنبلی hambli, [torship]. مالکی شافعی
 sháfa'í, مالکی حنبلی hambli.

مالکی مالکیyat, *A. n. f.* Possession ; proprie-
 tary. مالگزار málguzár, *P. n. m.* A tenant ; a subject ;
 a land-holder ; the person who pays the
 revenue.

مالگزار مالگزار, *P. n. f.* Revenue assess-
 ment ; the payment of land-revenue.

مالان málan yá málin, مالان یا مالین, *H. n. f.*
 The wife of a gardener ; a female gardener.

مالوار málwar, مالوار, *H. adj.* Rich. (مالدار
 máldár).

مالوف málúf, *A. adj.* Familiar ; dear ; customary ;
 habituated. وطن مالوف watan í—, *n. m.* beloved
 country or native land.

مالی máli, *P. adj.* Of property ; pecuniary ; finan-
 cial. مال مالی hukkam—, revenue officers.

مالی máli, مالی, *H. n. m.* A gardener ; a horti-
 culturist.

مالیات maliyat, *A. n. f.* Wealth ; value.

مالیخولیا malikhúliya, *P. n. m.* Melancholy ;
 madness ; insanity.

مالیہ mālidā, P. n. m. Pounded wheaten cakes mixed up with *ghi* and sugar ; a sweetmeat made of flour, *ghi* and sugar ; a fine woollen cloth.

ماما - مام - mām, māmā, P. n. f. Mother ; maid-servant. مام نائف - nāf, midwife.

ماما - ماموں - māmūn, māmā, मामू या मामा, H. n. m. A maternal uncle.

مامتا māmātā, (ममता S.) H. n. f. Love ; affection ; a mother's love.

مامن māmān, A. n. m. A place of security ; place of freedom from fear.

مامور māmūr, A. past, part. Ordered ; fixed ; full ; n. m. usage ; custom. مامور کرنا - karnā, v. to appoint ; to constitute. مامور ہونا - honā, v. to be appointed.

مامون māmūn, A. part. Rendered secure or safe.

مامی māmī, मामी, H. n. f. A maternal aunt ; partiality.

مالم mān, माँ, H. n. f. Mother.

مان mān, मान, H. n. m. Honour, regard, haughtiness ; vanity ; blandishment ; measure ; a son-in-law ; adj. like. مان رکھنا - rakhnā, v. to honour ; to protect one's honour. مان کرنا - karnā, v. to respect. مان گمان - gumān, dignity ; honour ; arrogance. مان مارنا - mārñā, v. to humiliate ; to humble. [worship.

مانتا mātā, मानता, H. n. f. Vow ; promise ;

مانتا mātā, मन्यता, S. n. f. Pride ; respect ; dignity. [alluvial land.

مانج mānj, (माँज), H. n. f. Pus ; serum ;

مانجی mānjī, माँजा, H. adj. Rubbed ; cleansed.

مانجنا mānjñā, माँजना, H. v. To cleanse ; to scour.

مانجھا mānjhā, माँझा, H. n. m. A paste mixed with pounded glass and applied to the string of a kite ; feast given by a bridegroom before his wedding ; the trunk of a tree ; a bed.

مانجھی mānjhī, माँझी, H. n. m. A boatman ; a sailor.

ماند mānd, माँद, H. adj. Dim ; faded. ماند پڑ جانا - paṛ jānā, v. to become dimmed ; to be faded.

ماند mānd, माँद, H. n. f. A dunghill ; a den.

ماندگی māndgī, P. n. f. Weariness ; fatigue ; indisposition. [sick.

ماندہ mānda, P. adj. Left ; weary ; indisposed ;

ماندہ mānd, माँद, H. n. m. Rice-water ; starch ; a class of songs. [cake.

ماندھا māndhā, माँढा H. n. m. Film ; a thin wheaten

ماندھل māndhal, माँदल, H. n. f. The iron-ring round the mouth of a large leather bag used for drawing water from well.

ماندھنا māndhā, माँदना, H. v. To kneed ; to rub ; to trample down ; to make ; to institute ; to write ; to draw ; to resolve.

ماندھا māndhā, माँढा, H. n. m. A nuptial bower ; a temporary building ; an open shed.

ماندھی māndhī, माँधी, H. n. f. Starch. [being.

مانس mānus, मानुस, H. n. m. A man ; human

مانسان mān sanmān, मान संमान, H. n. m. Welcome ; respect.

مانع māne', A. n. m, Impediment ; hindrance ; prohibition. مانع ہونا - honā, v. to forbid ; to prevent ; to hinder ; to object to. مانع حکم - i-hukm, arrest of judgment. مانع کیا kyā, what is the obstacle ; what hinders.

مانک mānik, मानिक, H. n. m. A jewel ; a ruby ; quartz. مانک چور - jor n. m. the whitenecked stork.

مانگ māng, H. n. f. The middle line on the top of the head where the hair is parted ; division ; prow ; want ; demand ; betrothal.

مانگ پورنا māng bharnā, v. to apply minium to the māng ; to give in wedlock. مانگ پٹی - paṭṭī,

n. f. dividing the hair in middle ; braiding the hair. مانگ جانی - jānī, n. f. a widow. مانگ

نیکالنا - nikālnā, v. to divide the hair in the middle. مانگ ہونا - honā, v. to be in demand ; to be betrothed. مانگ لینا - lenā, v. to borrow.

مانگنا māngñā, माँगना, H. v. To beg ; to ask for ; to pray ; to crave ; to borrow ; to solicit one's hand in marriage.

ماننا mānnā, मानना, H. v. To mind ; to respect ; to believe ; to acknowledge one's superiority ; to assent ; to submit ; to obey ; to suppose ; to allow ; accede to ; to observe.

مانند *mánand*, *mánind*, P. *adj.* Like ; resembling.

مانو *máno*, مانو, H. Suppose ; let ; as though ; as if ; let it be granted that.

مانوس *mánús*, A. *adj.* Intimate ; familiar ; associated ; cheering ; gladdening ; *n. m.* a friend ; an associate ; a companion.

مانی *maní*, P. *n. prop.* Name of a celebrated Chinese painter.

مانی *máni*, مانی, H. *n. f.* A nurse ; a maid servant ; a socket.

مانیه *mánya*, मान्य, S. *adj.* To be respected ; worthy of honour ; estimable.

مارا *mává*, मावा, H. *n. f.* Substances ; leaven ; congee ; *vileus* ; condensed milk ; curd.

مارا *mává*, A. *n. m.* Habitation ; abode ; dwelling ; place of resort.

مارس *mávas*, मावस, H. *n. m.* The conjunction of the son and moon ; the last day of the dark fortnight.

مارسا *máosá yá mausá*, मौसा, H. *n. m.* The husband of mother's sister ; uncle.

مارسی *máosí*, *yá mausí*, मौसी, H. *n. f.* Mother's sister ; aunt.

ماه *máh*, P. *n. m.* The moon ; a month ;

(*Met.*) a beloved person. ماهه *ba—*, *adv.* monthly. ماه چینی یا ماه روم یا ماه لقا یا ماه طلعت *—jabín*, *yá—rú*, *yá—laqá*, *yá—til'at*, moon-faced ; beautiful ; *n.* a beloved person. ماه

ماه *—jalálí*, *n. m.* name of a solar month introduced by Sultan Jalal-ud-din Saljúqí.

ماهچه *—cha*, *n. m.* a crescent of gold or silver fixed on the top of a standard or ensign.

ماه شمسی *—i-shamsí*, *n. m.* a solar month. ماه قمری *—i-qamrí*, *n. m.* a lunar month. ماه کنعان *—i-kin'an*, *n. m.* the moon of Canaan ; Joseph the son of Jacob.

ماه رازی *máhwarí*, ماهانا, H. *adv.* Monthly ; *per mensem.*

ماهتاب *máhtáb*, P. *n. m.* The moon ; moonlight.

ماهتابی *máhtábí*, P. *n. f.* A kind of firework ; blue-light ; a kind of musk melon ; shaddock ;

cloth on which are pasted device of heavenly bodies in silver or gold.

ماهور *mahur*, माहुर, H. *n. m.* Poison.

ماهیر *máhir*, A. *adj.* Skilled (in) ; expert ; well-acquainted ; *n.* a master of any art ; an adept. ماهیر هونا *—honá*, to be well acquainted (with an art, &c) ; to be familiar (with).

ماهی *máhi*, P. *n. f.* A fish ; the fish which is supposed to be upholder of the earth. ماهی

ماهی *—pusht*, *adj.* convex. ماهی ترا *—tavá*, *n. m.* a frazing-pan. ماهی خور *—khor*, *n. m.* a cormorant ; a heron. ماهی دندان *—dandáb*, a

fish's tooth. ماهی فروش *—farosh*, *n. m.* a fisherman ; an otter. ماهی گیزی *—gíri*, *n. f.* fishery ; fishing. ماهی مراتب *—marátib*, *n. m.* certain honours, the privilege of which is specially conferred on princes and great nobles ; insignnia. [wages or salary.

ماهیانہ *máhiyána*, P. *n. m.* Monthly pay, ماهیت *máhiyat*, A. *n. f.* Essence ; nature ; state ; intrinsic worth ; matter of fact.

مائی *H. n. f.* Mother ; mammá.

مایا *máyá*, माया, H. *n. f.* Illusion ; delusion ; mirage ; natural phenomena ; show ; kindness ; idealism. [unreal.

مایا رویی *máyá ráyí*, माया रूपी, H. *adj.* Illusive ;

مایل *máyal*, A. *adj.* Bent, inclined ; towards ; fond ; apt ; partial ; affectionate. مایل کرنا *—karná*, *v.* to incline to ; to bias ; to persuade.

مایل هونا *—honá*, *v.* to incline to ; to turn towards.

مایوس *máyús*, A. *adj.* Hopeless ; desperate. مایوس کرنا *—karná*, to disappoint ; to balk.

مایوس هونا *—honá*, *v.* to be disappointed.

مایوسی *máyúsí*, A. *n. f.* Despair ; hopelessness ; disappointment.

مایه *máyah*, P. *n. f.* Fund ; wealth ; quantity ; leaven ; origin. مایه چورنا *—jorná*, *v.* to hoard money ; to amass a fortune.

مباح *mubáh*, A. *n. m.* Lawful pleasure ; *adj.* lawful ; just ; proper ; permissible ; allowed. مباح رکھنا *—rakhná*, *v.* to allow ; to hold legal.

مباح کرنا *—mubáh karná*, to make allowable or lawful ; to legalize.

مباحثه *mubáhisa*, A. *n. m.* Debate ; reasoning ; dispute. مباحثه کرنا *—karná*, to discuss ; to argue ; to dispute.

مبادا mubádá, P. *adv.* Be it not; God forbid; lest; perhaps.

مبادرت mubádrat, P. *n. f.* Making haste; rising with haste; expedition.

مبادلة mubádla, A. *n. m.* Exchange; barter; retaliation.

مبادي mubádi, A. *n. f.* Beginnings; origins. مبادي الحساب—ul-hisab, the elements of arithmetic. [soldier.]

مبارز mubáriz, A. *n. m.* A warrior; a brave

مبارك mubáruk, A. *adj.* Auspicious; blessed; happy; august; *intj.* Welcome! All hail! Hail! مبارک سلامت—salámat, *n. f.* congratulations and salutations. مبارک فال—fál, *adj.* of happy omen.

مبارک باد mubárukbad, A. *intj.* May it be fortunate! Hail! *n. f.* congratulation; good wishes. مبارک باد كهنا—kahná, *v.* to congratulate; to welcome; to hail.

مبارک بادي mubárukbadí, A. *n. f.* Congratulation; welcome; blessing; a congratulatory poem. مبارک بادي دينا—dená, *v.* to welcome; to congratulate; to hail.

مبارکی mubarákí, A. *n. f.* Congratulation; auspiciousness; blessings.

مباشرة mubásharat, A. *n. f.* Sexual intercourse with a woman. [Sums of money.]

مبالغ mabálig, A. *n. m.* (*Plu. of* مبالغه Mublagh).

مبالغه mubálga, A. *n. m.* Hyperbole; exaggerating; bombast; utmost effort; deligence; care. مبالغه كهنا—karná, *v.* to exaggerate.

مباهات mubáhát, A. *n. f.* Honor; glorying; boasting; arrogance.

مباهي mubáhi, A. *adj.* Exalted; glorious; proud.

مبتدا mubtadá, A. *n. f.* Commencement; subject (of the predicate). مبتدا و خبر—o-khabar, *n. f.* the subject and the predicate.

مبتدئ mubtadí, A. *n. m.* A beginner; a disciple just commencing to learn; novice.

مبتذل mubtazal, A. *adj.* Base; mean, treated as of little value; common.

مبتسم mubtasim, A. *part, adj.* Smiling; laughing gently.

مبتلا mubtalá, A. *adj.* Involved; fallen (into); entangled; affected; overtaken by.

مبحث mabhas, A. *n. m.* Time or place for inquiry; subject of discussion.

مبختر mubakhkhar, A. *adj.* Fumigated; perfumed; porous.

مبدا mabdá, A. *n. m.* Beginning; origin.

مبدع mubda', A. *n. m.* Origin; source; cause; producer; inventor.

مبدل mubaddal, A. *adj.* Altered; exchanged; *n. m.* case in opposition.

مبذر mubazzir, A. *adj.* Extravagant; wasteful; prodigal; *n.* a spendthrift; an extravagant man. [lavished.]

مبذول mabzul, A. *adj.* Expended; conferred;

مبراء mubarrá, A. *adj.* Free; exempted; innocent; absolved; guiltless. [acts.]

مبرات mubarrát, A. *n. m.* Good deeds; pious

مبزم mubram, A. *adj.* Firm; tight; urgent.

مبهرن mubarhan, A. *adj.* Proved; evident; authentic; manifest.

مبشر mubashshir, A. *n. m.* A bearer of glad tidings; an evangelist; an announcer.

مبصر mubassir, A. *n. m.* One who can see

مبصر mubassar, A. *part.* Clear; conspicuous.

مبصر mubsir, A. *adj.* Seeing; clear; manifest; *n. m.* one who is clear-sighted; one who renders intelligent.

مبطل mubtil, A. *adj.* Abolishing; falsifying; annihilating; annulling.

مبغوض mabgúz, A. *part.* Hated; detested; odious.

مبلغ mablag, A. *n. m.* A sum; ready money; place of arrival; perfection.

مبني mabní, A. *adj.* Based; founded; *n. m.* a foundation. مبني نساد—i-fasad, *n. m.* instigator; ring leader; author of mischief; transgressor.

مبهم mubham, A. *adj.* Hidden; indistinct; equivocal; occult.

مبهوت mabhút, A. *adj.* Astonished; confounded; dumb-founded; stupefied.

مبيت mabit, A. *n.* Passing the night; a bed chamber.

مبیہی mubi'i, A. *adj.* Sold ; purchased.
 مبیان mubaiyan, A. *part* Declared ; made distinct or clear. [dent.
 مبین mubín, A. *part. adj.* Clear ; manifest ; evident. *مبت* mapat khapat, *मत खपत*, H. *n. f.* Measure. [measure.
 مپوانا mapwáná, मपवाना, H. *v.* To cause to *मत* mat, *मत* (S. मति), H. *n. f.* Sense ; understanding ; system ; way ; faith ; religion ; *adv.* don't ; do not. *مپونا*—phirná, *v.* to change one's views. *ماری جانا*—márfjáná, *v.* to be out of one's wits. *مہین*—hín, *adj.* stupid ; irreligious.
 مت matt, *मत्त*, S. *adj.* Drunk ; intoxicated ; mad.
 متا mattá, *मत्ता*, H. *n. m.* Advice ; counsel ; opinion ; belief.
 متابعت mutába't, A. *n. f.* Submission ; obedience ; obsequiousness ; following.
 متاثر mutásir, A. *adj.* Efficacious ; effective ; effectual ; touching ; impressive.
 متاخرین mutákhkharin, A. *n. m.* The moderns.
 متادب mutáddab, A. *adj.* Well bred ; well mannered ; civil.
 متادی mutáaddí, A. *adj.* Ready ; performing.
 متاذازی mutáazzí, A. P. *adj.* Annoyed ; molested ; vexed ; grieved. [sorrowful.
 متاذاسی mutáassif, A. *adj.* Repentant ; regretful ;
 متاع mata', A. *n. f.* Goods ; valuable ; effects ; chattels ; furniture.
 متامل mutáammil, A. *adj.* Contemplating ; meditative ; a thoughtful person ; a careful examiner.
 متانیت matánat, A. *n. f.* Firmness ; depth of thought ; graveness ; vigour.
 متبارک mutabarrak, A. *adj.* Holy ; sacred ; blessed ; fortunate ; heavenly ; venerable.
 متبسم mutabassim, A. *adj.* Smiling.
 متبنی mutabanná, A. *n. m.* An adopted child. *مبتنی کرنا*—karná, *v.* to adopt a child.
 متبنی mutabanní, A. *n. m.* One who adopts.
 متجلی mutajallá, A. *adj.* Bright ; splendid.
 متحد muttahid, A. *adj.* United. *صوبجات متحده* subjât-i-mutahadda, the united provinces.

متحرک mutaharrik, A. *adj.* Moveable ; moving ; accented with short vowels. *غیر متحرک* gair—*adj.* immovable ; mute.
 متحررم mutaharrim, A. *adj.* Respected ; revered ; unlawful ; forbidden ; prohibited.
 متحقق mutahaqqiq, A. *n. m.* A verifier.
 متحقق mutahaqqaq, A. *adj.* Verified ; true ; certain ; established. *کرنا*—karná, *v.* to prove ; to verify. *محقق ہونا*—hona, *v. i.* to be proved or established.
 متحممد mutahammid, A. *adj.* Praised ; commendable. [passive ; considerate ; tolerant.
 متحمل mutahammil, A. *adj.* Patient ; enduring ;
 متحیر muthaiyar, A. *adj.* Astonished ; confounded.
 متخاصمین mutakhásmín, A. *n. m.* Plaintiff and defendant (in a law suit) ; parties to a litigation. [having a literary title.
 متخالص mutakballis, A. *adj.* Pure ; surnamed ;
 متخیلہ mutakhaiyala, A. *n. m.* Fancy ; imagination ; thinking faculty.
 متداولہ mutadáwala, A. *adj.* Customary ; common ; usual. [honest.
 متداین mutadaiyan, A. *adj.* Religious ; orthodox ;
 متذکرہ mutazakkira, A. *adj.* Mentioned ; referred to. *متذکرہ بالا*—bálá, above mentioned ; *اfore-said*. *مذکرہ ذیل*—i-zail, mentioned below ; hereinafter mentioned.
 مترو mitra, *मित्र*, S. *n. m.* A friend. *متر دروہی*—drohí, *n. m.* A false friend.
 مترادف mutrádif, A. *adj.* Successive ; consecutive ; synonymous.
 متراکم mutrákim, A. *part. adj.* Accumulating ; gathering.
 متراکتا mitratá, *मित्रता*, S. *n. f.* Friendship.
 مترتب mutarattab, A. *adj.* Arranged ; classified.
 مترجم mutarajjim, A. *n. m.* (*Plu.* مترجمین Mutarajjimín) Translator ; an interpreter.
 مترجم mutarajjam ; A. *adj.* Translated.
 متراحم mutarahhim, A. *adj.* Merciful ; pitiful ; kind.
 مترادد mutaraddid, A. *adj.* Thoughtful ; anxious ; perplexed ; wondering ; wavering ; repulsed ; rejected ; refused.

- متروك mutarassid, A. *part. adj.* Watching ; vigilant. [contending.
- متروفي mutarazzi, A. *adj.* Giving satisfaction ;
- متروك matrúk, A. *adj.* Forsaken ; given up, left ; abolished ; rejected ; obsolete. مال متروك máli—, estate of a deceased person. متروك الاستعمال —ul-iste'mál, not practised ; disused ; obsolete.
- متزايد mutzáid, A. *part. adj.* Increasing ; multiplying. [shaky ; tottering.
- متنازل mutazalzal, A. *adj.* Shaken ; convulsed ;
- متساوي mutsávi, A. *adj.* Equal ; right ; parallel.
- متسع muttasa', A. *adj.* Large ; wide ; broad ; wide-spread ; diffused. [grasping.
- متسلط mutasallit, A. *adj.* Absolute ; despotic ;
- متسلم mutasallim, A. *adj.* Receiving anything in charge ; keeping in possession.
- متسلم mutasallam, A. *past. part.* Consigned ; delivered. [sympathized.
- متسلي mutasalli, A. *adj.* Satisfied ; comforted ;
- متشابه mntashábeh. A. *adj.* Alike ; similar ; resembling. [skilled in law
- متشعر mutasharra', A. *adj.* Orthodox ; religious ;
- متشكل mutashakkil, A. *adj.* Resembling ; like ; formed ; transformed.
- متشكي mutashakki, A. *adj. and n. m.* Complaining ; lamenting ; pained ; afflicted.
- متصدع mutasadda', A. *adj.* Plaguing ; troubling.
- متصدي mutasaddí, A. *n. m.* A scribe ; a secretary ; a clerk ; an accountant ; *adj.* daring ; opposing. متصدي گري —gari, *n. f.* clerkship.
- متصرف mutasarriif, A. *adj.* Extravagant ; possessing ; embezzling ; declinable.
- متصل muttasil, A. *adj.* Adjoining ; near ; touching ; contiguous ; continual ; successive. جاريتي záviya muttasila, *n.* an adjacent angle.
- متصور mutasavvar, A. *part. pass.* Imaginable ; conceived ; reflected ; considerate.
- متضاد mutazád, A. *adj.* Inconsistent ; contrary. متضاد صنعت san'at-i—, a contrast ; antithesis.
- متضرب mutazarrib, A. *adj.* Beaten ; agitated ; uneasy. [including ; comprehending.
- متضمن mutazammin, A. *part. adj.* Containing ;
- متمظلم mutazallim, A. *adj.* Darkened ; oppressed ; *n. m.* complainer of wrongs.
- متعارف muta'áraf, A. *part. pass.* Mutually known ; known to each other.
- متعاقب muta'áqib, A. *adj.* Following ; successive ; *adv.* afterwards.
- متعال muta'ál, } A. *adj.* Lofly ; high ; great ;
متعالی muta'álf, } sublime.
- متعاقد muta'áhid, A. *adj.* Confederate ; co-venanted ; *n. m.* a contractor.
- متعبد muta'abbid, A. *adj.* Religious ; pious ; obstinate ; refractory. [admiring.
- متعجب muta'ajjib, A. *adj.* Surprised ; astonished ;
- متعدد muta'addid, A. *adj.* Many ; numerous ; numbered ; a few. [deficient.
- متعدم muta'adam, A. *part. adj.* Lacking ;
- متعدی muta'addí, A. *adj.* Causal ; transitive ; active. امراض متعدی amráz-i—, *n.* infectious diseases ; epidemic.
- متعذر muta'azzir, A. *adj.* Making an excuse or an apology ; excusable ; difficult ; impossible ; *n. m.* an apologist.
- متعارض muta'arríz, A. *n. m.* Opposer ; hinderer.
- متعارف muta'arrif, A. *n. m.* One who confesses ; making oneself acquainted with.
- متعسر muta'assir, A. *adj.* Complicated ; hard ; impossible.
- متعصب muta'assib, A. *adj.* Prejudiced ; bigoted.
- متعفن muta'affin, A. *adj.* Fetid ; stinking ; unpleasant.
- متعلق muta'alliq, A. *adj.* Belonging to ; concerning ; relevant ; appropriate ; depending on ; subjoined ; annexed. متعلق ذات خاصه —zát-i-kháss, *adj.* personal ; private. متعلق فعل —i-fe'l, *n.* an adverb. متعلق کرنا —karná, *v.* to annex ; to enclose ; to attach ; to apply ; to impute ; to ascribe ; to refer to ; to allot ; to entrust ; to lay out.
- متعلقات muta'alliqát, } A. *n. m.* Domestic ;
متعلقين muta'allqin, } possession ; family ;
children.
- متعلم muta'allim, A. *n. m.* Scholar ; disciple.

مُتَا' muta', A. n. m. A kind of temporary marriage allowed among Shia Muslims but considered illegal by Sunnis.

مُتَا'هِد muta'hid, A. n. m. A farmer; a contractor; one who enters into an engagement for the revenue of a tract of land.

مُتَعَيَّن muta'aiyan, A. adj. Fixed; appointed; determined; deputed. كَرْنَا مُتَعَيَّنِينَ—karná, v. to appoint; to depute; to determine. هُوْنَا مُتَعَيَّنٌ—honá, to be appointed; to be determined.

مُتَعَيَّنَةٌ muta'aiyana, A. n. m. Command; past; appointment.

مُتَغَلِّب muta'gallib, A. adj. Overpowering; vic-

مُتَغَيَّر muta'gaiyar, A. adj. Changed; altered.

مُتَفَاوِث muta'fawit, A. adj. Separate; wide apart.

مُتَفَاوِثٌ muta'fawis, A. part. act. Asking; en-

مُتَفَرِّق muta'farriq, A. adj. Dispersed; scattered; separate; distinct; miscellaneous. كَرْنَا مُتَفَرِّقِينَ—karná, v. to disperse; to scatter; to separate.

مُتَفَرِّقَاتٌ muta'farriqát, A. n. m. Various and scattered things; miscellaneous articles; sundries.

مُتَفَرِّقَةٌ muta'farriqa, P. n. m. Horse-guards, or spearmen, or archers attending a king when he travels; a king's body-guard.

مُتَفَاتِنٌ muta'fatin, A. adj. Thoughtful; considerate.

مُتَّفِقٌ mutafiq, A. adj. Agreeing; consenting; conspiring; united; unanimous. مُتَّفِقُ الرَّأْيِ—ur-ráe, adj. unanimous; consenting; agreeing in opinion. هُوْنَا مُتَّفِقٌ—honá, to agree; to accord.

مُتَفَكِّرٌ mutafakkir, A. adj. Thoughtful; considering; pensive; anxious; uneasy or disturbed in mind; perplexed.

مُتَفَانِيٌ mutafanni, A. adj. Cunning; wity; crafty.

مُتَأَقِذٌ muta'qazl, A. n. m. One who exacts payment.

مُتَأَقِذَةٌ muta'qáte', A. part. adj. Cutting; intersecting.

مُتَأَقِدٌ muta'qaddim, A. adj. Ancient; anterior; preceding.

مُتَأَقِدٌ muta'qaddimín, A. n. m. The ancients; classics.

مُتَأَقِرِبٌ muta'qarrib, A. adj. Having access (to); approaching (to); allied (to); near; n. a royal relation or favourite. [confirmed.

مُتَأَقِرِرٌ muta'qarrir, A. part. act. Fixed; appointed;

مُتَّقِيٌ muttaqi, A. adj. Pious; sober; abstemious; temperate (parhezgár).

مُتَّكَأٌ muttaká, A. n. m. Anything to recline on; a sofa; a cushion; a prop; a support; a pillar.

مُتَّكَبِرٌ mutakabbir, A. adj. Haughty; proud; arrogant. [haughtily.

مُتَّكَبِرَانَةٌ mutakabbiráná, A. adv. Proudly;

مُتَّكَفِلٌ mutakaffil, A. adj. Becoming surety for; undertaking; n. m. bail; surety.

مُتَكَلِّمٌ mutakallim, A. n. m. Speaker; the first person.

مُتَّكِيٌ muttaki, A. part. adj. Reclining; recumbent, n. m. one who leans or reclines.

مُتَلَاشِيٌ mutaláshí, A. n. m. A seeker; a searcher; an inquirer.

مُتَلَاثِمٌ mutalátim, A. part. adj. Dashing together; agitated (as waves); buffeting one another.

مُتَلَانٌ mutláná, H. v. To feel nausea; to be sick (at the stomach).

مُتَلَاةٌ mataláhat, H. n. f. Nausea.

مُتَلَاذٍ mutalazziz, A. part. act. Relishing; delighted (by); receiving pleasure (from).

مُتَلِفٌ mutlif, A. part. act. Destroying; ruining; v. m. a consumer; prodigal; a ruiner.

مُتَلَاوِنٌ mutalavvin, A. adj. Changeable; alterable; fickle. مُتَلَاوِنُ الطَّلِيحِ—ul-taba', capricious; of changeable disposition. مُتَلَاوِنٌ مُزَاجٌ—mixáj, n. m. a capricious or fickle disposition, adj. fickle-minded.

مُتَلِيٌ mutlí, H. n. f. Nausea; inclination to vomit. هُوْنَا مُتَلِيٌ—honá, v. to feel nausea.

مُتَمَادِيٌ mutamádi, A. part. adj. Continuing; prolonging. [touching each other.

مُتَمَاسٌ mutamás, A. part. adj. Contiguous;

مُتَمَاحٌ matimán, مَتَمَاحٌ, H. adj. Wise; prudent.

مُتَمَاتِعٌ mutamate', A. adj. Enjoying; reaping advantage.

متعود mutamarrid, A. *adj.* Stubborn; refractory; rebellious; disobedient (*sarkash*).

متمكن mutamakkin, A. *adj.* Strong; powerful; dominant; prevalent; dwelling; *n. m.* an inhabitant; a diptote or a noun of *two* terminations; a triptote, or a noun of three terminations.

متمم mutammimm, A. *n. m.* (in *Math.*) A complement; a completer; a finisher.

متمني mutamanni, A. *part. adj.* Desiring; wishing; optative.

متمول mutamavval, A. *adj.* Rich; wealthy; affluent. *متمول کرنا*—karná, *v.* to enrich.

متن matn, A. *n. m.* The text; the middle.

متنازع mutnáza', A. *n. m.* Dispute; the subject of dispute; the subject of litigation, *adj.* disputed; contested. *متنازعين* mutnaz'in, litigants. *متنازعانہ* mutnáza'a fih, the thing disputed about; the subject of litigation.

متناسب mutanáсіб, *adj.* Proportionate to each other; similar.

متناقض mutanáqis, A. *adj.* Defective; imperfect.

متناقض mutanáqiz, A. *adj.* Opposite; contrary; contradictory.

متناہی mutanáhi, A. *adj.* Terminated; determined; arrived at the utmost extreme.

متنبہ mutanabbeh, A. *adj.* Circumspect; wakeful; aware.

متنجم mutanajjim, A. *n. m.* An astronomer; an astrologer. [dish.]

متنجن پلاؤ mutanjan-puláo, P. *n. m.* A kind of

متنجن گوشتی mutanjan-i-gosfandi. P. *n. m.* A kind of dish made of goat's or sheep's flesh.

متنافر mutanaffir, A. *adj.* Repugnant; offensive; abhorrent.

متنفس mutanaffis, A. *n. m.* An individual; a living being; a person breathing; an animal.

متنگ matang मतंग, S. *n. m.* An elephant.

متواتر mutvátir, A. *adv.* Successively; repeatedly; continually. [edly; continually.]

متوارد mutavárid, A. *adj.* Successively; repeatedly.

متوازی mutwázi, A. *adj.* Parallel. *متوازی الاضلاع*—ul-azlá', *n. m.* parallelogram.

متواضع mutawáze', A. *adj.* Submissive; affable; complaisant.

متوالا matwálá, मतवाला, H. *adj.* Intoxicated; inebriate; drunk. *متوالا ہونا*—honá, to be intoxicated.

متوالپن matwálpn, मतवालयपन, H. *n. m.* Drunkenness; state of intoxication. [sive; recurring.]

متوالي mataváli, A. *adj.* Consecutive; successive.

متوجه matavajjah, A. *adj.* Turning towards; bound to; attentive; intent; favouring; propitious. *متوجه ہونا*—honá, *v.* to notice; to turn the attention (to); to look towards; to proceed towards; to attend to.

متوحش matavahhish, A. *adj.* Terrified; aghast; scared away; desolate.

متوسطا mutavassit, A. *adj.* Middling; medium; mean; average; moderate; mediocre; *n. m.* a mediator; an umpire.

متوصل mutawassil, A. *adj.* Adjoining; conjoined.

متوصل mutavassil, A. *adj.* Connected; united.

متوطن mutavattin, A. *n. m.* Living; residing; resident; native; *n. m.* inhabitant.

متوزر mutavaffir, *adj.* Many; copious; numerous; abundant. [dead; defunct.]

متوفی mutavaffi, A. *adj.* Deceased; the late;

متوقع mutawaqqa', A. *adj.* Expecting hopeful. *متوقع کرنا*—karná, to make a person hopeful or expectant.

متوقف mutawaqqif, A. *adj.* Slow; dilatory.

متواکيل mutavakkil, A. *adj.* Resigned; trusting; resigned to the will of God.

متوالد mutavallid, A. *adj.* Generated; born; begotten.

متوالی mutavallí, A. *n. m.* A trustee; a kinsman; a superintendent or treasurer of a mosque.

متہانی - مٹھانی matháni, मथानी, mathní, मथनी, H. *n. f.* A milk pan; a milk pail; a churner (*رئی*) *rai*).

متھرا muthrá, मुथरा, H. *adj.* Blunt; dull; obtuse; foolish.

متهم muttahim, A. *adj.* Accused; suspected; impeached; charged; *n.* an accused person.

متھنا mathná, मथना, H. v. To churn ; to knead ; to work ; to ponder ; to mediate.

متھورا muthaurá, मथौरा, H. n. m. A sunshade ; parasol ; an umbrella ; (*surajmukhi chháta*.)

متھیا mithiyá, मिथ्या, S. adj. False ; untrue ; fictitious ; hypocritical ; imaginary ; illusory ; delusive ; n. m. an untruth ; a lie, an illusion. متھیا وادی wadí, n. a liar.

متھی mití, मिति, H. n. f. Date ; day ; interest.

متھی پورنگنا púgná, v. to be at maturity ; to fall due. متھی چڑھانا یا ڈالنا chaḥáná yá dálná v. to date ; to finish. متھی کاٹنا káṭí,

present worth and discount. متھی کاٹنا káṭná, v. to discount. متھی وار var, adj. in order of date, periodically. متھی پکی pakkí, n. f. due date ; maturity, interest allowed on money dated from the day following the receipt.

متھیرا matírá, मतीरा, H. n. m. A watermelon.

متھین matín, A. adj. Strong ; solid ; vigorous ; important.

متھاپا muṭápá, मुटाना, H. n. m. Fatness ; corpulence. متھاپا چڑھنا chaḥná, v. to grow fat ; to be proud.

متھانا mutáná, मुटाना, H. v. To grow fat ; to look big ; to give one's self airs ; to be a cock-a-hoop.

متھانا miṭáná, मिटाना, H. v. To blot out ; to erase ; to efface ; to destroy ; to abolish.

متھائی muṭái, मुटई, H. n. f. Fatness ; coarseness ; grossness ; thickness.

متھر maṭar, मटर, H. n. f. A pea. متھر گشت gasht, n. an idle and leisurely walk ; ramble ; stroll. [packet.]

متھری mutrí, मुटरी, H. n. f. A small bundle ; a

متھک muṭak, मटक, H. n. f. Coquetry ; flirtation ; ogling. [or jar.]

متھکا maṭká, मटका, H. n. m. A large earthen pot

متھکانا maṭkáná, मटकाना, H. v. To wink ; to cast amatory glances ; to make a show.

متھکانا maṭakná, मटकना, H. v. To coquet ; to ogle ; to flirt.

متھکانا maṭakná, मटकना, H. n. m. A jug ; a mug.

متھی maṭkí, मटकी, H. n. f. A small earthen pot or jar ; child's coral.

متھنا miṭná, मिटना, H. v. To be effaced ; to be erased ; to become extinct ; to be abolished ; to be cancelled ; to expire ; to be appeased or satisfied (as hunger, thirst or revenge, etc.) ; to come to an end.

متھ maṭh, मठ, H. n. m. A convent ; a monastery ; a pagoda ; a pagan temple ; a hermitage. متھ دھاری dhárí, n. m. an ascetic, an abbot ; a monk ; a hermit.

متھ muṭh, मुठ, } H. n. m. The fist ; clutch ; }
متھ mushṭ, मुष्ट, } grasp متھ —bher, en-
counter ; conflict ; adi. face-to-face ; opposite. متھ مرد mard, n. a robber ; a ruffian. متھ ہونا bher honá, v. to meet ; to conflict ; to confront. [bundle.]

متھ muṭṭhá, मुट्टा, H. n. m. A handful ; a large

متھ maṭṭhá, मट्टा, H. n. m. Butter-milk ; curd of milk mixed with some water. متھ maṭṭhá, मट्टا, } H. n. m. A sluggard ; a }
متھ maṭṭhar, मट्टर, } drone ; a dullard ; adj. indolent ; sluggish ; dull.

متھ miṭṭhá, मिट्टा H. n. m. A kiss ; a sweet lime.

متھاپان maṭṭhapan, मट्टापन, H. n. f. Sluggishness ; heaviness ; dullness.

متھارنا maṭhárná, मट्टारना, H. v. To give a round shape to ; to talk prettily ; to coax ; to win over by soft speech ; to wheedle.

متھاس miṭhás, मिठास, H. n. m. Sweetness ; pleasantness.

متھائی miṭhái, मिठाई, H. n. m. Sweetmeat ; confectionery ; sugar.

متھ miṭṭhú, मिट्टू, H. n. m. A term of endearment for parrot and children ; a parrot.

متھوری maṭhaurí, मठौरी, H. n. f. A long earthen vessel for keeping wine etc.

متھولیا muṭholia, मुठोलिया, H. n. m. One who practises masturbation.

متھی muṭṭhí, मुट्टी, H. n. f. Fist ; clutch ; gripe ; handful ; a child's coral. متھی باندھنا bándhná, v. to close the fist. متھی بھر bhar, a handful. متھی گرم کرنا garm karná, v. to

give a bribe to. مٹھی میں — *med*, in one's hand ; under one's power or influence. بندھی *bandhī*—*n. f.* the closed fist.

مٹھی *mitṭhī*, मिट्टी, *H. n. f.* A kiss.

مٹھی *muṭhiyā*, मुठिया, *H. n. m.* A handle ; a hilt a carder's stick ; a lump of sugar ; the thick end of a stick. [to grasp.

مٹھی *muṭhiyānā*, मुठियाना, *H. v.* To handle ;

مٹھی *miṭṭī*, मिट्टी, *H. n. f.* Earth ; meat ; a corpse ; carcass ; clay ; soil ; refuse. مٹھی دلید یا خوار ہونا—*palid yā khwār honā*, *v.* to be reduced to a bad condition ; to be badly off ; to be beaten severely ; to be spoiled (one's obsequial rites) مٹھی لگانا — *thikāne lagānā*, *v.* to perform one's obsequies ; to bury. مٹھی خراب ہونا—*kharāb honā*, *v.* to be spoiled. مٹھی دینا—*denā*, *v.* to inter. مٹھی ڈالنا — *dālnā*, to hush up. مٹھی ڈھونا — *dhonā*, *v.* to carry loads of earth. مٹھی کا پنجر — *kā pinjar*, *n.* clay ; the human frame ; the body. مٹھی کا تیل — *kā tel*, *n. m.* petroleum ; kerosene oil. مٹھی کرنا — *karnā*, *v.* to destroy ; to fool away (one's money).

مٹھی کی صورت — *kī mūrāt*, *n. f.* a figure of clay ; the mortal frame. مٹھی کے مول — *ke mol*, *adj.* very cheap. مٹھی میں ملنا — *meṅ milnā*, *v.* to be ruined or disgraced ; to be spoilt ; to die. مٹھی میں مٹھی ملنا — *meṅ — milnā*, *v.* to be laid in the grave. مٹھی پوتنی — *potnī*, *n. f.* white earth used for plastering. مٹھی پیلی — *pīlī*—*n. f.* a kind of yellow earth used for colouring مٹھی کا بولی — *kā bolī*—*n. f.* armenian bole (*Syn.* گل ارمنی) [soil ; arable land.

مٹھی *maṭhiyārā*, मटियारा, *H. n. m.* Rich clayey

مٹھی *maṭhiyālā*, H. *adj.* Clayey ; made of earth.

مٹھی *maṭhiyānā*, मटियाना, *H. v.* To scour ; to wash ; to besmear with mud ; to wink at ; to pretend not to hear ; to turn a deaf ear to.

مٹھی *maṭilā*, मटीला, *H. adj.* Clayey ; made of earth.

مٹھا *masāba*, A. *n. m.* A resort ; a rendezvous ; a station ; an inn ; a caravansary.

مٹھا *misāl*, A. *n. f.* Likeness ; simile ; parable ; instance ; example ; specimen ; model. مٹھا دینا

— *denā*, *v.* to exemplify ; to illustrate. — مثال be—, 'adim-ul—, incomparable.

مٹھا *masāna*, A. *n. m.* The bladder. ضعف مٹھا *zu'af-i—*, weakness of the bladder.

مٹھا *musbit*, A. *part. act.* Establishing ; demonstrative ; affirmative ; positive ; (in *Alg.*) plus.

مٹھا *masbūt*, A. *adj.* Fixed ; compact ; firm.

مٹھا *misqāl*, A. *n. m.* A weight equal to 4 *māshds* and $3\frac{1}{2}$ *rattis*.

مٹھا *misl*, A. *adj.* Similar ; like ; resembling ; analogous (to) ; *n. f.* likeness ; similitude ; like ; the papers or records of a case ; a file ; proceedings. مٹھا مرتب کرنا — *murattab karnā*, *v.* to prepare or arrange the *misl* (file, record) of a case ; to file the proceedings of a case. مٹھا بے مٹھا be—, unequalled.

مٹھا *massal*, A. *n. f.* A saying ; a proverb ; a fable ; a parable ; an adage. مٹھا گوارو *ganvārū*—, *n. m.* a rustic saying ; a plain saying.

مٹھا *wahī*—*hai*, as the saying goes. مٹھا

مٹھا *maslan*, A. *adj.* For example ; *e. g.* ; for instance ; as ; *viz.*

مٹھا *musallas*, A. *adj.* Triangular ; trilateral ; *n. m.* a triangle, a sort of verse of three lines. مٹھا حاد الزاویہ — *hād-uz-zāviyā*, an acute angled triangle. مٹھا قائم الزاویہ — *qāim-uz-zāviyā*, a right-angled triangle. مٹھا متساوی الاضلاع — *mutāsāvi-ul-azlā'*, an equilateral triangle. مٹھا متساوی الساقین — *mutāsāvi-us saqain*, an isosceles triangle. مٹھا مختلف الاضلاع — *mukhtalif-ul-azlā'*, a scalene triangle. مٹھا منفرج الزاویہ — *munfarj-uz-zāviyā*, an obtuse angled triangle. علم مٹھا 'ilm-i—, the trigonometry. [punishment.

مٹھا *musla*, P. *n. m.* Public or exemplary

مٹھا *musmir*, A. *adj.* Fruit-bearing ; fruitful ; productive (of) مٹھا غیر *gair*—, unfruitful ; barren ; sterile.

مٹھا *musamman*, A. *adj.* Octagonal ; octangular ; eightfold ; *n. m.* an octagon ; a stanza of eight lines.

مٹھا *masnavī*, A. *n. f.* A kind of verse in which the couplets rhyme regularly ; a poem in which the second line of every distich rhymes with the same letter.

مثنوی musanná, A. *adj.* Duplicate; double; dual;
n. m. a copy; the second; counterfoil. مثنوی
بہ—bahí, the original; a copy.

مج maj, मज, (Col.) H. *adj.* Soft; ripe.

مجا majjá, मजा, S. n. Marrow; pith. [some.

مجادل mujádil, A. *adj.* Contentious; quarrel-
مجادله mujádlá, A. n. m. Disputation; conflict;
flight; struggle.

مجازي mujári, P. *adj.* Current; in force.

مجازية mujárya, A. *adj.* Current; enacted; in
force (as a law).

مجاز majáz, A. *adv.* Lawful; legally authorised;

مجازاً majázan, A. *adj.* Legally; metaphori-
cally; figuratively.

مجازي majázi, A. *adj.* Metaphorical; false;
illusive; not real; mundane. [thority.

مجال majál, A. n. f. Strength, ability; au-

مجالس majális, A. n. f. (Plu. of مجالس Majlis)
Assemblies; conference.

مجالسات majálisat, P. n. f. Sitting together.

مجامع majáme', A. n. m. (Plu. of مجمع Majma')
Assemblies; congregations.

مجامعت majáma'at, P. n. f. Sexual intercourse.

مجانبات mujánabat, P. n. f. Being near or at
the side of a person; holding or keeping
aloof from. [geniality.

مجانبات mujánisat, P. n. f. Similarity; con-

مجاویر mujávir, A. n. m. An attendant at a
tomb; one who remains devoutly employed
at a tomb or is attached to it.

مجاویری mujávirí, A. n. f. Constant attendance
at a tomb. [exceeding.

مجاویز mujaviz, A. *part. act.* Transgressing;

مجاهد mujáhid, A. n. m. A religious warrior;
adj. striver; endeavourer.

مجاهدات mujáhidat, A. n. f. } Fighting
مجاهدة mujahida, A. n. m. } against infidels
in defence of faith.

مجاهدين mujshidín, A. n. m. (Plu. of مجاهد
Mujahid) Warriors (against infidels in defence
to the faith); crusaders.

مجبور majbúr, A. *adj.* Forced; compelled; help-
less; necessitated. مجبور کرنا—karná, v. to
compel; to render helpless.

مجبوراً majbúran, A. *adv.* Necessarily, by com-
pulsion or force.

مجبوری majbúrí, A. n. f. Compulsion; helpless-
ness (láchari).

مجتبی mujtabá, A. *adj.* Chosen; selected.

مجترم mujtarim, A. *adj.* Guilty; criminal.

مجتتمع mujtama', A. *adv.* Convened; assembled,
congregated; agreed (in opinion).

مجتهد mujtahid, A. n. m. (Plu. مجتهدین Muj-
tahidin). A religious director; the highest
degree to which the learned in Mohammedan
law attain. مجتهدانه mujtahidána, P. *adj.* Pre-
latial; patriarchal. [asylum.

مجاہر majhar, A. n. m. A place of refuge; an

مجد majd, A. n. m. Glory; splendour.

مجداً majdá, مجددا, H. n. m. A mixed soil of
clay and sand.

مجدد mujaddid, A. n. m. Originator.

مجزوب majzúb, A. *adj.* Absorbed in; lost in;
n. m. one who is lost in divine meditation;
a mad man; a *faqir*.

مجزور majzúr, A. n. m. (in *Arith.*) The square
of a number. [leprosy; n. a leper.

مجزوم majzúm, A. *part. adj.* Affected with

مجرأ mujrá, A. n. m. Allowance; premium;
deduction; set off, respects; obeisance; saluta-
tion; audience; an elegy; a trial of profes-
sional singing. مجرأ کرنا—karná, v. to pay
respect; to wait on; to allow deductions; to
sing. مجرأ لینا—lená, v. to deduct (from).

مجرأئی mujráí, A. n. m. Remission of revenue;
a credit given on an account; one who pays
his respect, (as servant); a repeater of a
narsiya; a professional singer.

مجررب mujarrab, A. *adj.* Proved; tried; tested;
examined (as medicine); assayed (as coin);
expert. [tions; specific.

مجرربات mujarrabát, A. n. m. Tried prescrip-

مجرد mujarrad, A. *adj.* Alone; single; un-
married. مجرد رہنا—v. to remain unmarried.

بہ مجرد گمان ba—i gumán, on a mere suspicion,
بہ مجرد نظر ba—i nazar, at a mere glance.

مَجْرَدِي mujarradí, A. *n. f.* Solitude ; celibacy.
 مَجْرَدًا mujarradan, A. *adv.* Solely ; singly.
 مَجْرِم mujrim, A. *n. m.* A criminal ; an offender.
 مَجْرِمًا قَهْرَانًا يَا قَرَارَ دِينَا —
 qahráná, yá qarár dená, *v.* to find guilty ; to convict.
 مَجْرِمَانَةٌ mujrimána, P. *adj.* Criminal ; culpable.
 مَجْرُوح majrúh, A. *adj.* Wounded, hurt. مَجْرُوحًا
 كَرْنَا —karná, *v.* to hurt. [portions.
 مَجْزَا mujazzá, A. *adj.* Divided into parts or
 مَجْزِيَةً majjizét, मैजिस्ट्रेट, H. *n. m.* (Corr. from
 the Eng.) A magistrate. اِنْرَائِرِي مَجْزِيَةً
 ánraerí—, an honorary magistrate.
 مَجْجَم mujassam, A. *adv.* Clothed with a body ;
 embodied ; corporeal ; incarnate ; solid ; *n. m.*
 a solid ; a substance.
 مَجْجَدٌ mujá'ad, A. *adj.* Curled ; crisped.
 مَجْجَلٌ mujallá, A. *adj.* Polished ; furbished ;
 bright ; manifested.
 مَجْجَلِدٌ majallid, A. *n. m.* A book-binder.
 مَجْجَلَدٌ mujallad, A. *adj.* Bound.
 مَجْجَلِسٌ majlis, A. *n. f.* An assembly ; a party ;
 a congregation ; a council. مَجْجَلِسُ خَانَةٍ —
 khána, *n. m.* a ball-room ; a town-hall. مَجْجَلِسُ رَقَصٍ وَ
 مَجْجَلِسُ سَرُودٍ —i-raqs-o-sarod, a consort ; a ball. مَجْجَلِسُ
 تَأْوِينٍ —i-'ilmí, a literary institute. مَجْجَلِسُ
 سَازٍ —qánún sáz, legislative assembly. مَجْجَلِسُ
 كَرْنَا —karná, *v.* to hold a meeting ; to convene
 a meeting in commemoration of the martyr-
 dom of Imám Husain (among Shi'ás). مَجْجَلِسُ
 مِيزٍ —mír sharík honá, *v.* to join a
 meeting, مَجْجَلِسُ مِيزٍ —mír, *n. m.* the pre-
 sident or chairman of a meeting or assembly.
 مَجْجَلِسِي majjisi, A. *adj.* Social ; civil.
 مَجْجَمَدٌ mujammad, A. *adj.* Congealed ; frozen.
 مَجْجَمَرٌ mijmar, A. *n. m.* A censer or incense ; a
 chafing dish.
 مَجْجَمْعٌ majma', A. *n. m.* Collection ; assemblage ;
 crowd ; a place of meeting ; rendezvous.
 مَجْجَمْعُ الْبَحْرَيْنِ —ul-bahrain, the place where the
 two seas meet. مَجْجَمْعُ خِلَافِ قَانُونٍ يَا نَاجِيزٍ —
 i-khiláf-qánún yá-i-nájíz, *n. m.* an unlaw-
 ful assembly. مَجْجَمْعُ عَامٍ —i-'ám, *n. m.* a public
 meeting.

مَجْمَلٌ mujmal, A. *adj.* Abridged ; brief ; con-
 tracted ; *n. m.* an abstract ; a summary. مَجْمَلُ
 حِسَابٍ —hisáb, an abstract account.
 مَجْمَلًا mujmalan, A. *adj.* In short ; in brief ;
 summarily.
 مَجْمُوعَةٌ majmú'ah, A. *n. m.* A crowd ; an as-
 sembly ; a magazine ; a compendium ; an ag-
 gregate ; a form (in printing) ; a code ; *adj.*
 assembled ; collected ; all. مَجْمُوعَةُ قَوَانِينٍ —
 i-qavánín, *n.* a code ; a body of laws ; a digest.
 مَجْمُوعِيٌ majmú'í, A. *adj.* Collected ; aggregate.
 مَجْمُوعِيَّةٌ —qimat, aggregate value.
 مَجْمَنَسٌ mujannas, A. *n. m.* A mongrel ; a mule.
 مَجْمُنٌ majnúg, A. *n. m.* One whom love has
 turned a mad ; lunatic ; the celebrated lover
 of Lailá ; a very weak and emaciated person.
 مَجْمُونِيَّةٌ majnúniyat, P. *n. f.* Insanity ; madness.
 مَجْجَوَازٌ mujavzah, A. *adj.* Proposed ; decided ;
 laid down ; prescribed ; lawful. مَجْجَوَازُ قَانُونٍ
 mujavzáz-i-qánún, a legislative body ; a
 parliament. [the Magi.
 مَجْجُوسٌ majús, P. *n. m.* A guebre ; a Zoroastrian ;
 مَجْجُوسِيٌ majúsi, P. *adj.* A Magian ; a firewor-
 shipper.
 مَجْجَوَافٌ mujavvaf, A. *adj.* Hollow ; vaulted ; con-
 cave ; empty ; vacant.
 مَجْجُوفٌ majúf, A. *adj.* Thick ; large-bellied.
 مَجْجُهٌ mujh, मुक्क, H. *pron.* Me. مَجْجُهٌ مِنِّي —
 se, from me ; to me. مَجْجُهٌ فِي مِمْكِي —
 men, in me. مَجْجُهٌ لِي —
 ko, to me ; me.
 مَجْجَهْلٌ majhlá, मज्जला, H. *adj.* Middling ; middle-
 sized ; intermediate ; between the eldest and
 the youngest (majhold).
 مَجْجُهْدٌ majhúd, A. *adj.* Distressed ; *n. m.* care ;
 trouble ; endeavour ; work ; labour ; toil.
 مَجْجُهُولٌ majhúl, A. *adj.* Unknown ; ignorant ;
 slow ; slothful ; long. There are two kinds of
 one is written as مَجْجُهُولٌ and the
 other is written as مَجْجُهُولٌ. The former
 is used in words like Bádsháhí, hukmáníf
 etc. and generally indicate feminine gender,
 whereas the latter is used in words ghoray,
 kuttay, billay, etc. and generally indicate

plural number of masculine gender). مجھوں ل **un-nasab**—*adj.* of unknown parentage. **نعل** **raqam**—, an unknown sum. **مجهول** **fe'l**—, the passive voice. **مجهول مطلق** **mutlaq**, very indolent or useless. [laziness. **مجهول** **majhūl**, *A. n. f.* Indolence; ignorance ; **مجھے** **mujhe**, **मुझे**, *H. pron.* Me ; to me. **مجبیب** **mujīb**, *A. adj.* Responding (to) ; consenting (to) ; accepting ; *n.* one who listens to or grants, &c. **مجبیت** **majit**, **मजित**, *H. adj.* Cheap ; second hand ; no longer new ; sold below its price. **مجید** **majid**, *A. adj.* Glorious ; noble ; exalted ; high. **کلم مجید** **kalām-i—**, holy writ ; the **Qorán**. [*flesh or meat.* **مچھا** **muchchá**, **मुच्चा** *H. n. m.* A large lump of **مچھامچھ** **machámach**, **मचामच**, *H. n. m.* Creaking. **مچھان** **machán**, **मचान**, *H. n. m.* A platform ; a dais ; a scaffold ; a stage ; a raised seat. **مچھانا** **macháná**, **मचाना**, *H. v.* To cause to make ; to excite ; to stir up ; to commit. **مچھکارنا** **michkárna**, **मिचकारना**, *H. v.* To rinse. **مچھکانا** **michkáná**, **मिचकाना**, *H. v.* To wink ; to shut and open (eyes) repeatedly and quickly ; to blink. **مچھکنا** **michakná**, **मचकना**, *H. v.* To have pains in the joints ; to creak (as a bedstead, etc.). **مچھلا** **machlá**, **मचला**, *H. adj.* Refractory ; cross ; wayward ; obstinate ; disobedient. **مچھلانا** **machláná**, **मचलाना**, *H. v.* To nauseate ; to pretend ignorance. **مچھلپان** **machlápán**, **मचलपान**, } *H. n. f.* Stubborn-
مچھلائی **machláí**, **मचलाई**, } ness ; obstinacy. **مچھالکا** **muchalka**, *T. n. m.* A bond ; recognizance ; agreement ; written obligation. **مچھالکا حفظ امن** **—hifz-i-aman**, a bond to keep the peace. **مچھالکا نیک چلنی** **—i-nek-chalní**, a bond for good behaviour. **مچھالنا** **machálná**, **मचलना**, *H. v.* To be refractory ; to persist in ; to be peevish ; to cry ; to be obstinate ; to sulk ; to roll on the ground (as a wayward child). **مچھمچھانا** **machmacháná**, **मचमचाना**, *H.* To creak.

مچھمچھا جاننا **machmachí jáná**, *v.* To become excited. **مچھمچھا کے لپٹنا** **machmachí ke lapátná**, *v.* To hug tight or close. **مچھنا** **machná**, **मचना**, *H. v.* To be made ; to be stirred up ; to be excited ; to be raised ; to be noised abroad. [(the eyes) ; to shut. **مچھنا** **michná**, **मिचना**, *H. v.* To be close or shut **مچھنگ** **machang**, **मचंग**, *H. n. m.* A Jew's harp. **مچھ** **machh**, **मच्छ** (*S. मत्स्य*) *H. n. m.* A fish ; name of the first incarnation of *Vishnu* in the shape of a fish. [a *gnat.* **مچھچھار** **machchhar**, **मच्छर** *H. n. m.* A mosquito ; **مچھچھرا** **machhrangá**, **मच्छरंगा** *H. n. m.* A king-fisher ; a halcyon. **مچھچھری** **machhrí**, **मच्छरी**, } *H. n. f.* A fish ; the
مچھچھہی **machchhi**, **मच्छी**, } sign *Pisces* ; an ear-
مچھچھلی **machhli**, **मच्छली**, } drop made in the form
of a fish. **مچھچھلی پکڑنا** **—pakárná**, to fish. **مچھچھلی کا پر** **—ká par**, the fin of a fish. **مچھچھلی کا کانتا** **—ká kántá**, a fish-hook. **مچھچھلی کی طرح تڑپنا** **—ki tarah tarápná**, *v.* to writhe with agony ; to flounder or to be uneasy like a fish (out of water). **مچھچھلی والا** **—válá**, *n. m.* a fish-monger. **مچھچھندر** **muchandar**, **मुछन्दर**, *H. n. m.* A monkey ; a man ; a rat ; a dunce ; a dolt ; a charlatan ; a buffoon ; a merry andrew. [fish-monger. **مچھچھوا** **machhvá**, **मछवा**, *H. n. m.* A fisherman ; **مچھچھیا** **machhiyá**, **मचिया**, *H. n. m.* A bedstead ; a chair ; a stool. **مچھچھیاو** **machhiyáo**, **मचियाव**, *H. n. m.* Honey. **مچھچھبا** **muhába**, *H. n. m.* Partiality for ; lenient or gentle treatment ; respect ; regard. **بے مچھچھبا** **—be—**, *adv.* without respect. **مچھچھبا** **muházi**, *A. adj.* Opposite (to) ; over against ; parallel (with) ; fronting. [a soldier. **مچھچھراب** **muhárib**, *A. n. m.* A warrior ; a fighter ; **مچھچھراب** **muháriba**, *A. n. f.* Fight ; war ; combat ; battle. **مچھچھساب** **muhásib**, *A. n. m.* A calculator ; an accountant ; an auditor. **مچھچھساب دیہ** **—i-deh**, *n. m.* a village accountant. **مچھچھساب** **muhásiba**, *A. n. m.* Calculation ; account ; settlement or audit of accounts. **مچھچھساب طلب** **—talab**, demanding a settlement of accounts. **مچھچھساب کرنا** **—karná** *v.* to settle or audit (accounts).

معائن muhásín, A. n. m. (*Plu. of* حَسَن *Husn*). The beard and mustachios or whiskers; virtues; laudable actions or qualities.

مَتَاش mahásh, A. n. m. Goods; effect; furniture; wealth.

مَاحِاسِر mahásir, A. *adj.* Besieger.

مُحَاصِرَة muhásara, A. n. m. A siege; a blockade. اُقْهَانَة —uḥháná, *v.* to raise or give up a siege. كَرْنَا مُحَاصِرَة —karná, *v.* to lay siege to; to besiege. مَينَ اَجَانَا —men ájáná, *v.* to be invested or besieged.

مُحَاصِرَاتِ muhásarín, A. n. m. (*Plu. of* مَاحِاسِر *Muhásir*). Besiegers.

مَاحِاسِل mahásil, A. n. m. (*Plu. of* مَحْصُول *Mahsúl*, *Plu.* مَاحِاسِلَات *Mahásalát*). Profits; proceeds; revenue; produce.

مُحَافِظ muháfiz, A. n. m. A protector; a guardian; a custodian; a guard. —in, a bodyguard. مَحَافِظَ جَنَگَلَات —jangalát, n. m. a ranger. مَحَافِظَ حَقِيقِي —i-haqíqí, n. m. the Protector; God. مَحَافِظَ خَانَة —khána, n. m. a record room. مَحَافِظَ دَفْتَر —daftar, n. m. a record-keeper. مَحَافِظَ مَحْبَس —i-mahbass, a gaoler. [guardianship; care.

مُحَافِظَات muháfizat, A. n. f. Protection, custody;

مُحَافَاة muháfa, A. n. m. A palanquin; a litter (*pálki*).

مَاحِل mahál, A. n. m. A province; a district; an estate; courts; wards; a honeycomb.

مُحَال muhál, A. *adj.* Impossible; absurd. مَحَالِق —i-mutlaq, quite absurd; absolutely impossible. [lities; virtues.

مُحَامِد mahámid, A. n. m. Commendable qua-

مُحَاوِرَات maháverát, A. n. m. (*Plu. of* مَحَاوِرَة *Mahavera*), Idioms; usage.

مُحَاوِرَة muhávara, A. n. m. Collection; phraseology; practice; habit. (of meeting; *v.* to become a habit; to become, the place where practice (of). مَحَاوِرَة، قَانُونِ بِنَا مَحَاوِرَة —bá, *adj.* unidiomatic. مَحَاوِرَة، *n. m.*

مُحِيب muhib, A. n. m. A lover; a friend.

مُحِبُّ الْوَطَان —ul-watan, n. m. a patriot.

مُحَبَّبَات muhabbat, P. n. f. Love; affection; friendship. مُحَبَّبَاتِ آمِيَز —ámez, *adj.* loving; amiable; friendly. مُحَبَّبَاتِ قَلْبِي —i-qalibi, sincere affection; true love. مَحَبَّبَاتِ كَا دَمِ بَهْرْنَا —ká dam bharná, *v.* to profess love. مَحَبَّبَاتِ كَرْنَا —karná, *v.* to love; to like. مَطَالِبُ كِي مُحَبَّبَاتِ —, n. f. interested love; cupboard love.

مَحْبَس mahbas, A. n. m. A prison; a jail.

مَحْبَسَات mihbas, A. n. m. Bed furniture; an embroidered cover.

مُحَبَّبُ mahbúb, A. n. m. Beloved; a sweetheart; a friend. مُحَبَّبُ الْاِلَهِي —i-iláhi, *adj.* beloved of God.

مُحَبَّبَانَة manbúbána, P. *adv.* Like a beloved.

مُحَبَّبَة mahbúba, P. n. f. A sweetheart.

مُحَبَّبِي mahbúbí, A. n. f. Loveliness.

مَحْبُوس mahbús, A. n. m. A captive; a prisoner.

مَحْبُوسِ خَانَة —khána, n. m. a prison; a jail. مَحْبُوسِ سَنَد —sanad, a warrant of commitment to prison; a mittimus.

مُحْتَاَج mauhtáj, A. *adj.* Poor; needy; indigent. in want; defective; n. a beggar; the poor; a cripple. مَحْتَاَجِ خَانَة —khána, n. m. a poorhouse; an almshouse. مَحْتَاَجِ كَرْنَا —karná, *v.* to impoverish; to reduce to poverty. مَحْتَاَجِ هُونَا —honá, *v.* to be in want; to lack; to be reduced to poverty.

مُحْتَاَجِي muhtájí, } P. n. f. Poverty; want;
مُحْتَاَجِي muhtájí } indigence.

مُحْتَاَت muhtát, A. *adj.* Guarded; circumspect.

مُحْتَال muhtál, A. *adj.* Artful; subtle; n. m. a deceiver; an artful or crafty person.

مُحْتَرَم muhtaram, A. *adj.* Honoured; revered.

مُحْتَسِب muhtasib, A. n. m. A censor; a superintendent of weights; measures and provisions; a police inspector; a reckoner; a calculator.

مُحْتَشَم muhtashim, A. *adj.* Attended by many followers or dependants; great; powerful.

مُحْتَلِم muhtalim, A. n. m. One having wet dream; one subject to nocturnal discharge.

مُحْتَمَل muhtamil, A. *adj.* Suspected (to); patient; enduring; long suffering.

مَحْجُوب mahjúb, A. n. m. Ashamed ; modest ; bashful ; veiled ; secluded ; excluded.

مَحْجُوبِي mahjúbí, A. n. m. Bashfulness ; modesty.

مَحْجُور mahjúr, A. adj. Prohibited ; forbidden.

مُحَدَّب muhaddab, A. adj. Convex ; bulging.

مُحَدِّث muhaddis, A. n. m. A narrator ; inventor ; innovator ; a compiler (of Mohammadan traditions) ; a believer in traditions.

مُحَدَّد mahdúd, A. adj. Limited ; bounded ; finite ; definite. مَحْدُود كَرْنَا—karná, v. to limit ; to define.

مُحَذَّف mahzúf, A. part. pass. Omitted ; elided (as a syllable from a word) ; cut off ; rejected ; implied ; understood.

مُحْرَب mehráb, A. n. f. Arch ; shelf ; niche ; the royal closet or private chamber ; the principal place in a mosque, where the priest prays. مَحْرَب تَيْغ—teg, the curve of a scimitar. مَحْرَب دَار—dár, adj. arched. وَسَعَتِ مَحْرَب was'at i—, the span of an arch.

مُحْرَبِي mehrábí, P. adj. Arched.

مُحَرِّر muharrir, A. n. m. A clerk ; a scribe ; a writer. مَحْرَر muharrar, written ; inscribed.

مُحَرَّرِي muharrarí, P. n. f. Clerkship.

مُحَرَّر muharrar, H. adj. Transposed ; perverted (as language, etc).

مُحَرِّق muharriq, A. adj. Inflamed ; burning (fever) ; n. an incendiary.

مُحَرِّقًا mukarriqan, A. adv. In a burning state.

مُحَرِّك muharrik, A. n. m. A proposer ; a mover ; an exciter ; a ring-leader ; a stimulant ; marking a consonant with a vowel.

مُحَرَّم muharram, A. n. m. The first Mohammadan month, held sacred on account of the death of Husain ; son of 'Alí ; morning ; the first month of the Mohammedan year ; adj. sacred ; venerable.

مَحْرَم mahram, A. n. m. A spouse ; a confidant ; a consort ; an intimate friend ; any one who is admitted into the women's apartments or into a sacred place ; a bodice ; gusset ; adj.

confidential ; intimate. مَحْرَم رَاز—ráz, a confidant ; a bosom friend. مَحْرَم كَرْنَا—karná, v. to entrust with a secret.

مُحْرَمَات muhramát, A. n. m. Forbidden or prohibited things. [confidence.]

مَحْرَمِيَّات mahramiyat, A. n. f. Intimacy ; trust ; مَحْرُوس mahrús, A. adj. Guarded ; preserved ; taken care of.

مَحْرُوسَة mahrúsa, A. n. m. A fortified place.

مَحْرُوق mahrúq, A. adj. Hot ; torried ; burnt ; inflamed.

مَحْرُوم mahrúm, A. adj. Deprived (of) ; debarred ; excluded ; damned, or refused (a gift, or good, or prosperity) ; unlucky. مَحْرُوم رُهِنَا—rakhná, v. to disappoint ; to exclude ; to keep one debarred (from). مَحْرُوم كَرْنَا—karná, v. to deprive of ; to balk ; to frustrate.

مَحْرُومِي mahrú mí, A. n. f. Exclusion ; disappointment ; deprivation ; loss. مَحْرُومِي قِسْمَت—i-qismat, n. f. misfortune.

مَحْرُومِيَّات mahrúmiyat, P. n. f. Privation ; disappointment. [grieved.]

مَحْزُون mahzún, A. adj. Afflicted ; sad ; vexed ;

مُحْسِن mohsin, A. n. m. A benefactor ; a patron. adj. beneficent ; generous. مَحْسِن كَش kuh, ungrateful. [carried to account.]

مَحْسُوب mahsub, A. adj. Calculated ; numbered ;

مَحْسُود mahsúd, A. part. Envied ; hated.

مَحْسُوس mahsús, A. adj. Felt ; perceived ; sensible. مَحْسُوس كَرْنَا—karná, v. to perceive ; to feel.

مَحْسُوسَات mahsúsát, A. n. f. Perceptible things ; sensations ; objects of sense.

مَحْشَر mahshar. A. n. m. Day of Resurrection ; the last day. مَحْشَر خَرَام—khirám, adj. (A woman) having such a gait as to cause even dead bodies to rise up. [dead.]

مَحْشَرًا mahshúr, A. part. Raised from the

مَحْشَى muhashshá, A. adj. Having notes in the margin ; annotated.

مُحْصِل muhasil, A. n. m. A tax-gatherer ; collector of revenue.

مصطلحات muhassílána, P. n. m. Fees for collecting taxes. [guarded ; preserved.

مصن muhsin, A. *adj.* Chaste ; continent ;
محصور mahsúr, A. *adj.* Besieged ; beleaguered ;
surrounded. محصور كرنا—karná, v. to besiege ;
to encompass ; to surround.

محصورين mahsúrín, A. n. m. The besieged.

محصول mahsúl, A. n. m. Duty ; custom ; tax ;
postage ; produce ; income ; fare ; profit ;
advantage ; gain (*hásil*). محصول آبكارى—i-
ábkarí, a duty on the manufacture and sale
of spirits ; excise duty. محصول ارگانه والـ
ugáhneválá, n. m. an exciseman ; a tax-
gatherer ; a revenue collector. محصول بيع—
bai', sales tax. محصول پرمت يا كرز گزى—
parmať yá karō giri, customs duty. محصول
چكانا—chukáná, to pay duty or postage etc.
محصول در آمد—darámad, terminal tax ; cus-
toms duty. محصول ساير—sáyar, miscellaneous
duties. محصول لگانا—lagáná, to levy a tax
(on) ; 'to lay a duty on. محصول مال برآمده—
mál-barámada, export duties. محصول موتى—
mautá, death duty. محصول وراثت—warásat,
succession duty. محصول نزد محصور—i-
fard-i—, a tariff.

محصولي mahsúli, A. *adj.* Taxable ; dutiable ;
bearing ; unpaid ; n. f. land paying revenue.

محض mahz, A. *adj.* Pure ; mere, absolute ; *adv.*
merely ; altogether ; purely ; utterly ; abso-
lutely. محض دستخط—dastkhat, a blank en-
dorsement ; *carte blanche*. محض فتره بازي—
fiqrabázi, sheer device or trickery. محض قيد
qaíd—, simple imprisonment. محض ناچيز—
náchíz, a mere trifle.

محضر mahzar, A. n. m. Royal presence ; a
general petition. محضر نامه—náma, n. m. a
musterroll ; a public attestation.

محظور mahzúr, A. *adj.* Prohibited ; illegal.

محظورات mahzúrá, P. n. m. (*Plu of محظورات*
Mahzúr). Unlawful things.

محظوظ mahzúz, A. *adj.* Delighted ; pleased ;
happy. محظوظ هونا—honá, v. To be delighted.
محظوظ غير gair—, discontented ; unhappy.

مجمع mahfil, A. n. f. An assembly ; a congrega-
tion ; a convention ; a nautch ; a ball.

مجمع كرنا—karná, v. to assemble ; to hold a
meeting ; to have a nautch.

محفوظ mahfúz, A. *adj.* Sheltered ; protected ;
guarded ; safe. محفوظ ركهنا—rakhná, v. To
preserve. محفوظ رهنا—rahná, v. to be safe
and sound. [tiple ; poor ; low.

محقر muhaqqar, A. *adj.* Despised ; contemp-
تق muhaqqaq, *adj.* Verified ; well establish-
ed ; authenticated ; positive ; certain.

محقق muhaqqiq, A. n. m. Verifier ; philosopher.
محققانه muhaqqiqána, P. *adv.* Truly ; accurately.
محققين muhaqqiqín, A. n. m. Authorities ;
philosophers ; verifiers.

محك mihak, A. n. m. Touchstone ; test.

محكم mohkam, A. *adj.* Strengthened ; strong ;
firm ; fortified.

محكمة mahkama, A. n. m. A tribunal ; a court ;
an office ; a department. محكمه ابتدائي—
ibtidáí, Court of original jurisdiction. محكمه
—i-appeal, Court of appeal. محكمه اعلى—
'alá, High Court ; Supreme Court. محكمه
—i-auqáf, Court of trust. محكمه عدالت—
i-'adlát, Court of law. محكمه كسريت—
i-commissariat, the commissariat department.

محكوم mahkúm, A. *adj.* Under control ; subject ;
n. m. a subordinate ; a subject.

محال mahal yá mahl, A. n. m. A place ; a posi-
tion ; a mansion ; a palace ; a seraglio ; an
opportunity ; a queen. محال خاص—i-khás, n. f.
the chief queen. محال سرا—sará, n. m. seraglio ;
harem. محال با ba—, *adj.* fitting ; appropriate ;
apropos. محال بے be—, *adj.* out of place ; in-
opportune.

محاليل muhallil, A. *adj.* Causing to dissolve ;
n. m. a solvent.

محالول mahlúj, A. *part.* Cleared of the seed
(cotton).

محالول mahlúl, A. *part.* Dissolved.

محالوف mahlúf, A. *part.* Sworn. محالوف عليه—
'alah, The thing sworn to.

محاله mahalla, A. n. m. A quarter ; a street ; a
ward. محاله دار—dár, n. m. the headman of a
mahalla.

محمد Muhammad, A. part. Greatly praised, n. m. the name of the prophet of Arabia.

محمّل mahmil, A. n. m. A support; that in (or on) which anything is borne; a camel's saddle; a litter. [gized.

محمود mahmúd, A. part. adj. Praised; eulor
محمودي mahmúdí, A. n. f. A fine sort of muslin.

محمولة mahmúlah, A. adj. Bearing (a meaning) loaded; applicable. [Labours; troubles.

محن mehan, A. n. m. (Plu. of محنت Mehnat.)

محنت mehnat, A. n. f. Labour; toil; industry; diligence; athletic exercise; difficulty.

محنت ٿهڪائڻ —uṭháná, v. to take trouble. محنت ٿهڪائڻ لڳائڻ —ṭhikáne lagná, labour resulting in success.

محنت شانه —i-sháqqa, n. m. hard labour. محنت ڪرڻا —karná, v. to labour; to toil.

محنت ڪش —kash, bearing labour or trouble; afflicted. محنت مزدوري —mazdúrí, labour and wages; daily labour.

مھناتنا mehnatána, P. n. m. Wages; fees; remuneration.

مھناتي mehnatí, P. adj. Laborious; industrious; painstaking, n. f. one who labours.

مھو maho, A. adj. Effaced; erased; obliterated; charmed; fascinated; forgotten; absorbed.

مھو ڪرڻا —karná, v. to efface; to erase. مھو ٿهڪائڻ —honá, v. to be effaced or erased; to be fascinated; to be absorbed.

مھور mahvar, A. n. m. An axis.

مھوڙو muhawwata, A. n. m. An enclosure; an enclosed or surrounded space, adj. surrounded; enclosed.

مھويت mahwiyat, A. n. f. Charm; fascination.

مھيٽ muhít, A. adj. Encircling; surrounding; circumambient; comprehending; n. m. circumference.

مھيٽ ٿهڪائڻ —honá, v. to circumscribe; to surround.

مھيل muhíl, A. n. m. A deceiver; a knave.

مخدّم makhádím, A. n. m. (Plu. of خدم Khadam) Servants; domestics; ministers.

مخدّم makhádím, A. n. m. (Plu. of Mokhdám). Persons served; lords; masters.

مخارج makhárij, A. n. (Plu. of مخارج) Expenses; disbursements.

مخاصمت mukhásimat, A. n. f. Mutual enmity or hostility; contention.

مخاطب mukhátib, A. n. m. The speaker; the person who addresses another. مخاطب ٿهڪائڻ —honá, v. to address; to turn towards in speaking; to turn one's attention.

مخاطب mukhátib, P. n. m. The person addressed; (in Gram.) the second person.

مخاطبين mukhátibín, A. n. m (Plu. of مخاطب Mukhátib) Persons addressed or spoken to.

مخاطره mukhátara, A. n. m. Danger; peril.

مخافت mukhafát, A. n. m. (Plu. of مخافت Mukhafat) Dread; fears. [in society.

مخالطت mukhaltat, A. n. f. Mixing together

مخالفت mukhálif, A. n. m. An enemy; an adversary; a foe; adj. opposite; adversary; contrary; dissentient.

مخالفت mukhálifat, A. n. f. Opposition; adversity; repugnance; enmity. مخالفت ڪرڻا —karná, v. to oppose; to dissent.

مخبر mukhbir, A. n. m. Informer; spy; reporter; advertiser. مخبر صادق —sádiq, bringer of certain intelligence; a title of Mohammad.

مخبري ڪرڻا —karná, v. to inform; to act the spy.

مخبرو makhbút, A. adj. Insane; foolish.

مخبرو العواس makhbút-ul-havás, A. adj. Senseless; insane.

مختار mukhtár, A. adj. Chosen; selected; independent; invested with power or authority; at full liberty; having legal power; authorised; n. m. agent; free agent; attorney; manager.

مختار ڪار —kár, n. m. an agent; a manager. مختار عام —i-'ám, n. m. general agent.

مختار مقبوله —i-maqbúla, n. m. recognised agent. مختار نامه —náma, n. m. power of attorney.

مختار ٿهڪائڻ —honá, v. to present one as attorney. خود مختار khud—adj. independent.

مختاري mukhtári, A. n. m. Independence; power; attorneyship; procuration.

مختالہ mukhtála, A. n. m. A deceiver; an impostor.

مختراع mukhtara', A. n. m. An inventor ; an author ; a founder ; *adj.* commencing. مخترع mukhtara', *adj.* invented ; *n. m.* invention.

مختص mukhtas, A. *adj.* Appropriated ; peculiar ; specific ; chosen ; private. مختص ta'mil —, *n. m.* specific performance.

مختصر mukhtasar, A. *adj.* Abbreviated ; abridged ; small ; concise ; *n. m.* epitome ; abstract. مختصر کرنا —karná, *v.* to abridge ; to epitomise. مختصراً —an, *adv.* in brief ; briefly.

مختفی mukhtafi, *adj.* Concised ; hidden ; lurking.

مختل mukhtal, A. *adj.* Confused ; confounded ; emaciated.

مختلط mukhtalit, A. *adj.* Perplexed ; mixed.

مختلف mukhtaliif, A. *adj.* Different ; unlike ; various ; diverse. [cluded.

مختوم makhtúm, A. *adj.* Sealed ; signed : con-

مختون makhtún, A. *adj.* Circumcised.

مخجل mukhajjal, A. *adj.* Confounded ; bashful ; ashamed.

مخدر mukhaddir, A. *adj.* Benumbing ; narcotic.

مخدرات mukhaddirát, A. *n.* (in *Met.*) Narcotius. (خواب دار) *khwáb dwar* والی نیند لانی *nind lane wadi*) (*Plu. of* مختدر Mukhaddara, *pardanashin ladies.*)

مخدره mukhaddra, A. *n. f.* A *pardanashin* lady.

مخدوش makhdush, A. *adj.* Dangerous.

مخدوم makhdúm, A. *n. m.* Master ; priest lord.

مخدومه makhdúma, A. *n. f.* Mistress.

مخذول makhzúl, A. *part.* Forsaken ; abandoned ; contemptible.

مخرج makhraj, A. *n. m.* Outlet ; source ; root ; issue, organ of speech ; utterance ; expenditure.

مخروط makhrút, A. *n. m.* (in *Gram.*) Cone ; *adj.* unbarked ; planed.

مخروطات makhrútát, A. *u. f.* Conic sections.

مخروطی makhrúti, A. *adj.* Conical ; tapering.

مخزن makhzan, A. *n. m.* Magazine ; treasury ; storehouse. مخزن الادویہ —ul-adviya, *n. m.* *Materia Medica.* مخزن العلوم —ul-'ulúm, *n. m.* encyclopedia.

مخسر makhsúr, A. *adj.* Injured ; damaged.

مختص maḥṣús, A. *adj.* Specified ; especial ; peculiar ; private ; appropriated. مختص کرنا —karná, *v.* to specify ; to appropriate ; to distinguish particularly. مختص مقام muqám-i—, *n. m.* the private parts of a male or female.

مخضر mukhazzar, A. *adj.* Verdant.

مخضاب mukhattat, A. *adj.* Marked with lines ; having an incipient beard.

مختراب makhtúb, A. *adj.* Affianced ; betrothed.

مخطور makhtúr, A. *adj.* Thought ; imagined ; conceived ; supposed.

مخفف mukhaffaf, A. *adj.* Abridged ; abated ; light ; contemptible ; *n. m.* an abbreviation ; an abridgment ; a contraction.

مخفی makhfi, A. *adj.* Hidden ; secret ; occult ; private. مخفی نہ رہے —na rahe, be it known.

مخیل mukhil, A. *adj.* Intruding ; disturbing ; *n. m.* intruder ; intermeddler. مخیل ہونا —honá, *v.* to meddle ; to disturb ; to interfere.

مخلا mukhallá, A. *adj.* Set free ; dismissed ; empty. مخلا با الطبع —bittaba', *adj.* unceremonious.

مخلد mukhallad, A. *adj.* Permanent ; eternal.

مخلس mukhlis, A. *adj.* Sincere ; unfeigned ; *n. m.* a sincere friend.

مخلسانہ mukhlisána, A. *adv.* Sincerely ; truly.

مخلصی mukhliif, A. *n. m.* An asylum.

مخلصی mukhlis, A. *n. f.* Release ; liberation ; deliverance. [khillat.

مخلع mukhalla', A. *adj.* Dressed or robed in a

مخلوط makhlút, A. *adj.* Mixed ; blended.

مخلوق makhlúq, A. *adj.* Created ; formed ; *n. f.* creature.

مخلوقات makhlúqát, A. *n. f.* (*Plu. of* مخلوق *Maḥlúq*). Things created ; creatures ; creation.

مخمر mukhmir, A. *adj.* Leavened ; fermented.

مخمس mukhammas, A. *n. m.* (*Plu. of* مخمس *Maḥhammasát*) Verse containing five lines ; a pentagon (*pach koniya*) ; *adj.* pentangular ; quintupled.

مخمصہ makhmasa, A. *n. m.* Dilemma ; perplexity ; difficulty ; wretchedness. مخمصہ میں پڑنا —meg parná, *v.* to get into a difficulty ; to be a loss.

مخمل *makhmal*, A. n. m. Velvet. مخملا يا مخمالي *—sá yá makhmalí*, *adj.* velvety ; soft ; of velvet.

مخمر *makhmúr*, A. *adj.* Intoxicated ; drunk ; inebriated (*matwáld*). [eunuch.

مخنث *mukhannas*, A. *adj.* Effeminate ; n. m.

مخنوق *makhnuq*, A. *adj.* Strangled ; suffocated.

مخوف *makhawaf*, A. *adj.* Terrified.

مخيار *mukhaiyar*, A. *adj.* Liberal ; charitable ; bountiful.

مخيل *mukhaiyal*, A. n. m. One who imagines. *adj.* Imagining ; fancying.

مخيلة *makhaiyala*, A. n. m. Imagination ; conception ; suspicion.

مخيم *mukhím*, A. *adj.* Pitching a tent. n. m. A place for pitching tents. مخيمونا *—hona*, v. to encamp.

مد *mad yá madd*, A. n. f. Prolongation ; extension ; flood-tide ; the mark (~) placed over *alif* to make its sound long and broad ; column ; head of accounts. —امانات *—amanat*, n. head of deposits. —مد و جزر *—o-jazar*, tide ; the flux and reflux of the sea. —مد ظله *—zillahú*, may His shadow or power be extended. —مد مقابل *—muqábil*, *Per contra*. —مد میں آنا *—men ána*, v. to come under a heading ; to be taken into accounts. —مد نظر یا نگاه *—i-nazar yá nigáh*, n. m. range of sight ; horizon ; the object of regard ; aim ; kind looks ; *adj.* sight ; in view. —اس مد میں *is—men*, under this head. —مدے *madde*, *adv.* on account of.

مد *mad*, مد, H. n. m. Wine ; pride ; intoxication ; stinking. [eulogist ; a praiser.

مداح *maddáh*, A. n. m. A panegyrist ; an

مداحي *maddáhi*, A. n. f. Praising ; panegyric.

مداخل *madákhil*, A. n. m. (*Plu. of* مدخل *Mud-khal*). Income ; revenue ; rent ; gussets.

مداخلات *madákhlat*, A. n. f. Admission ; access ; occupancy ; entering into ; intermeddling ; intrusion. —مداخلت بلا مرضي *—i-bilá maráí*, n. f. intrusion. —مداخلت بيجبا *—i-bejá*, n. f. trespass.

مدار *madár*, A. n. m. A circumference ; an orbit ;

a centre ; a seat ; dependence. —مدارالمهام *—ul-mahám*, n. m. a prime minister ; a manager. مدار دعوى *—i-da'vá*, n. ground of claim. مدار عزت *—'izsat*, the seat of glory.

مدار *madár*, مدار, H. n. f. Name of a plant ; swallowwort (آك *ák*).

مدارا *madárá*, n. } A. n. Politeness ; courtesy. مدارات *madarát*, f } hospitality. —مدارات كونا *—karná*, v. to treat ; to receive with politeness.

مدارج *madárij*, A. n. m. Step ; degrees ; ascents ; posts.

مدارس *madáris*, A. n. m. (*Plu. of* مدرسة *Mad-rasa*). Colleges ; public schools.

مداري *madári*, مداری, H. n. m. A juggler ; a bear or monkey-dancer ; a show-man ; a follower of *madár*. —مدارية حققة *—madárya huqqa*, a *huqqa* having a long stem.

مدافعت *mudáfe'at*, A. n. m. Repulsion ; striving to repel (an assailant) ; self-defence.

مدام *mudám*, A. *adv.* Eternally ; always ; *adj.* perpetual ; lasting ; eternal.

مدامي *mudámi*, A. *adj.* Eternal ; continuous ; everlasting. [use.

مدافمت *mudávmat*, A. n. f. Eternity ; continual. —مدایح *—madáih*, A. n. m. (*Plu. of* مدح *Madah*) Laudable actions ; encomiums.

مداین *madáyin*, A. n. m. (*Plu. of* مدينة *Madina*) Cities.

مدبر *mudabbir*, A. n. m. A counsellor ; a director ; minister ; *adj.* prudent ; ingenious ; deliberate ; politic. —مدبران سلطنت *—án-i-sal-tanat*, n. m. ministers of state.

مدت *mudit*, मुदित, S. *adj.* Delighted ; happy.

مدت *muddat*, A. n. f. Length of time ; duration ; a long time. —مدت العمر *—ul'umr*, space of life ; all life long ; during life. —مدت كا *—ká*, *adj.* old ; antique ; out of date ; timeworn ; ancient.

مدت عدت *muddat-i-iddat*. The period during which a Muslim widow or divorced woman cannot remarry. Ordinarily the period extends to three months. If the woman be pregnant the period extends to the time of delivery. In the case of widows the period is of four months and ten days.

- مدید مدت—madid, *n.* a long space of time.
 مدت مقررہ—i-muqarrara, *n.* a specified time.
 مدت ہوئی—hui, *adv.* long ago. ایک مدت—
 ek—, *n. f.* an age ; long period.
- مدحت مدحت . مدح madah, madhat, *A. n. f.* Praise ;
 eulogy. مدح خزان—khwān, *n. m.* a panegy-
 rist ; an eulogist ; a bard. [or egress.
- مدخل madkhal, *A. n. m.* A place of entrance
 مدخلہ madkhala, *A. adj.* Filed ; deposited ;
 entered ; instituted.
- مدخن madkhan, *A. n. m.* Chimney ; a place
 where smoke issues. [put in.
- مدخول madkhul, *A. adj.* Entered ; inserted ;
 مدخولہ madkhula, *A. n. f.* A kept mistress ; a
 concubine.
- مدد madad, *A. n. f.* Help ; aid ; reinforcement ;
 relief ; workers ; labourers, masons, &c.
 مدد دینا—pahunchānā, *v.* to assist. مدد دینا
 —dena, to render aid ; to render assistance
 to. مددگار—gār, *n. m.* a protector ; an ally ;
 an auxiliary ; an assistant ; a helper. مددگار
 gārī, *n. f.* assistance. [liquor.
- مدرا madirā, मदिरा, *H. n. f.* Wine ; spirituous
 مدرā mudrā, मुद्रा, *H. n. f.* Seal ; signet ; seal-
 ing ; a finger-ring ; stamp ; print ; coin ;
 medal ; a ring worn by jogis in their ears.
- مدرات mudirāt, *A. n. f.* (in *Met.*) Liquids ;
 fluids ; stimulants.
- مدرس mudarris, *A. n. m.* Teacher ; professor (of
 a college) ; schoolmaster ; lecturer.
- مدرس mudarras, *A. n. m.* Student ; pupil.
- مدرسانہ madrasāna, *P. adj.* Academical ;
 scholastic.
- مدرسة madrasa, *A. n. m.* School ; college ; acade-
 my. مدرسه ابتدائی—i-ibtidāī, *n. m.* primary
 school.
- مدرسی mudarrisi, *A. n. f.* Professorship ;
 teachership. [cious ; perceptive.
- مدرك mudrik, *A. adj.* Comprehending ; cons-
 مدركه mudriks, *A. n. m.* Genius ; memory ; in-
 tellectual powers ; the understanding.
- مدعا mudda'ā, *A. n. m.* Desire ; meaning ; aim ;
 object ; scope ; suit ; view.
- مدعا عالیہ mudd'a 'alaih, *A. n. m.* A defendant
 (in a law suit) ; an accused. مدعا عالیہ ترتیبی
 tartibī, a *pro forma* defendant. مدعا علیہم—
 alehim, the defendants (more than one).
- مدعی mudd'ai, *A. n. m.* A plaintiff ; a suitor ; a
 claimant ; a prosecutor ; an enemy ; a com-
 plainant. [complainant.
- مدعیہ mudd'aia, *A. n. f.* A female plaintiff or
 مدغم mudgim, *A. adj.* Inserting a letter ;
 joining two letters by *tashdid*. مدغم mudgam,
past. part. inserted as one letter into another ;
 doubled by *tashdid*.
- مدفن madfan, *A. n. m.* A tomb ; a burial place.
 مدفون madfūn, *A. adv.* Buried ; interred , con-
 cealed ; hidden ; underground (as treasure).
- مدقق mudaqqiq, *A. adj.* Minutely examining ;
 investigating closely.
- مدقوق madquq, *A. adj.* Hectic ; consumptive.
- مدک madak, मदक *H. n. f.* A mixture of chopped
 betel-leaves and opium used for smoking.
- مدلك mudallal, *A. adj.* Argumentative ; sup-
 ported by proofs ; well-grounded.
- مدمانا madmānā, मदमाना, } *H. adj.* Drunken ;
 مدمانتی madmāntī, मदमानती, } intoxicated.
- مدمغ mudammig, *A. adj.* Proud ; conceited ;
 fastidious ; vain.
- مدور mudavvar, *A. adj.* Circular ; globular ;
 spherical ; round. مدور کسر kasar—, *n. m.* a
 recurring decimal.
- مدھہ madh, मध (S. मधु) *H. n. m.* ; Wine honey ;
 intoxication ; pride ; the prime of youth ;
 passion. مدھہ پان کرنا—pān karnā, *v.* to drink
 wine. مدھہ پر آنا—par-ānā ; to attain puberty.
- مدھہ maddh, मद्ध (S. मध्यः) *H. adj.* Middle ;
 central ; intermediate ; average ; *n.* centre ;
adv. amidst ; among.
- مدھپ madhup, मधुप, *S. n. m.* A bee.
- مدھوری madhurī, मधुरी, } *S. adj.* Sweet ; pleas-
 مدھورا madhurā, मधुरा, } ant ; melodious ; soft ;
 مدھور madhur, मधुर, } tender. مدھور بانی—
 bānī, *n. f.* pleasant speech ; mellifluous tones.
 مدھور واکیہ—wākya, honeyed words ; eloquent
 language.

مدھم maddham yá maddhim, मद्धम, S. *adj.* Mid-
dling ; temperate ; medium ; slow ; dull ;
low ; moderate. مدمم کرنا — karná, *v.* to reduce ;
to moderate ; to slacken ; to abate. مدمم بیچنا
—beohná, *v.* to undersell.

مدھم madhu, मधु, S. *n. m.* Honey ; wine ;
spirituous liquor ; ardent spirit ; the season
spring ; the month *Chait* (March-April) ; *adj.*
sweet ; mellifluous. مدمم ماکی — mákhi, *n. f.*
a honey bee.

مدھوش madhosh, A. *adj.* Drunk ; intoxicated ;
confounded ; senseless ; unconscious.

مدھیستہ madhyastha, मध्यस्थ, S. *u. m.* An umpire ;
a mediator ; a go-between ; arbitrator.

مدیح madh, A. *n. m.* A praiseworthy or laud-
able action. [thened out ; tall.

مدید madíd, A. *adj.* Long ; extensive ; leng-

مدینہ medina, P. *n. m.* A city ; a state ; the
city of Medina (in Arabia).

مدیون madyún, A. *part.* Indebted. مدیون ڈگری —
digrí, A judgment debtor.

مدھ mudh, मुद्दह, H. *adj.* Head ; chief ; *n.* a head-
man ; a ringleader ; president ; a lord.

مدھا muddhá, मुद्धा, H. *n. m.* Shoulders ; withers.

مذاب muzáb, A. *adj.* Melted ; dissolved ;
liquified. مذاب لعل la' l i --, *n. f.* a liquid
ruby, *i. e.*, red wine.

مذاق mazáq, A. *n. m.* Taste ; relish ; nice per-
ception ; joke ; wit ; pleasantry. مذاق کا آدمی —
ká ádmí, a man of taste ; a humorist.

مذاقاً mazáqan, A. *adv.* Humorously ; in jest ;
wittily.

مذاقیہ mazáqiya, A. *adj.* Humorous ; witty.

مذاکرہ mazákara, A. *n. m.* Conversation ; dis-
course. [Religions ; creeds ; sects.

مذاہب mazáhib, A. *n. m.* (*Plu. of* مذهب *Mazhab*).

مذبح mazbah, A. *n. m.* A place of sacrifice ; an
altar ; a slaughter-house.

مذبذب muzabzab, A. *adj.* Wavering ; hesitat-
ing ; fluctuating ; ambiguous ; doubtful ;
uncertain.

مذبوح mazbúh, A. *adj.* Slain ; sacrificed ; pure ;
lawful (food).

مذکر muzakkir, A. *part. adj.* Reminding, *n. m.*
male. [a reminder.

مذکور muzkir, A. *part.* Rememberer ; praiser ;
مذکور maakúr, A. *adj.* Remembered ; men-
tioned ; recorded ; related ; aforesaid ; *n. m.*
mention ; discourse ; statement. مذکور کرنا —
karná, *v.* to mention. مذکورہ بالا — a-bálá, *adj.*
above mentioned ; aforesaid.

مذکورہ mazkúri, P. *n. m.* A process-server.

مذلت mazallat, A. *n. f.* Baseness ; contemp-
tibility ; ignominy.

مذمت mazammát, A. *n. f.* Blame ; censure ; con-
tempt ; a blameable quality or action ; abuse ;
evil speaking ; scorn.

مذموم mazmúm, P. *adj.* Blamed ; found fault
with ; censured ; despised ; scorned ; base ;
mean. [*adj.* sinful ; criminal.

مذنب muzuib, A. *n. m.* A sinner ; a criminal ;

مذہب mazhab, A. *n. m.* Religion ; faith ; creed ;
sect ; mode ; doctrine. مذہب پھیلانا — phailáná,
to propagate the religion (of). مذہب میں ملانا
—men miláná, to convert to a religion.

مذہبی mazhabí, A. *adj.* Religious ; godly. مذہبی

مذہبی جھگڑا — jhagrá, *n. m.* religious dispute. مذہبی
لڑائی — láráí, *n. f.* religious war ; a crusade.

ممر murr, A. *n. m.* Myrrh ; a transparent gum-
resin. [up.

مرا mará, मरा, H. *adj.* Dead ; withered ; dried

مرا بہات marábahat, P. *n. m.* Gaining ; making
a profit.

میرات mirát, A. *n. f.* A mirror ; a speculum.

مراتب marátih, A. *n. m.* (*Plu. of* مرتبہ *Martaba*).
Degree ; dignities ; times ; affairs ; points.

مراتب ابتدائی — i-ibtidáí, *n. m.* preliminary
measures or stages.

مراجعت murá'at, A. *n. f.* Return ; recourse ;
coming back ; repeating, doing over and over ;
again. مراجعت کرنا — karná, *v.* to return ; to
come back. [Stages ; journeys.

مراہیل maráhil, A. *n. m.* (*Plu. of* Marhal)

مراہم maráhim, A. *n. f.* (*Plu. of* مرحمت *Marha-*
nat) Compassions ; favours ; gifts.

مراد murád, A. n. f. Desire ; will ; intention ; purport ; inclination ; vow ; tenor ; object ; meaning ; end. مراد بخشش—bakhsb, n. m. Giver of one's desire. مراد پانا یا مراد پوری ہونا ہونا مراد پانا یا مراد حاصل ہونا ہونا—pána, yá—púrí honá, yá—bar áná, yá—hasil honá, v. to gain one's wish ; to attain one's object. مراد پوری ہونا—púrí, karná, v. to grant or gratify the desire (of). مراد دلی—i-dillí, n. f. heart's desire. مراد رکھنا—rakhná, v. to imply : to desire ; to intend. مراد لینا—lená, v. to infer ; to understand (by or from) ; to mean (by). مراد مانگنا—mágná, v. to pray for a boon ; to ask or pray for a favour. مراد ماننا—mánná, v. to make a vow. مراد ہے—hai, is meant or intended. مرادونکے دن—on ke din n. the bloom or prime of life ; the wished for days.

مرادف murádif, A. adj. Synonymous.

مرادی murádi, A. adj. Favourable ; secondary (sense) ; metaphorical ; n. f. change ; a certain number of annas.

مراسلات murásalát, A. n. m. (Plu. of مرسله) Letters ; correspondence. [responce.

مراسلات murásalat, A. n. f. Carrying ; conveying.

مراسلہ murásalá, A. n. m. A letter.

مراسم marásim, A. n. m. (Plu. of مراسم) Marsum. Laws ; usages ; rules ; customs ; agreements ; duties. [woman's child.

مراضعت maráza'at, A. n. f. Suckling ; another

مرعات murá'át, A. n. m. Reflecting ; meditating ; attention ; regard ; guarding.

مرغبت marágabat, A. n. Desire ; wish.

مرافعہ muráf'a, A. n. m. Appeal ; carrying on a law suit ; an action ; statement of a case. مرافعہ آخر—i-ákhir ; n. m. final appeal. مرافعہ اول—i-auval, n. m. court of first instance.

مرافقت maráfaqat, A. n. f. Travelling in company with.

مراقب maráqib, A. n. m. Observer ; looker after.

مراقبہ muráqaba, A. n. m. Divine contemplation ; watch ; meditation ; observation ; fear of God. مرافقہ میں جانا—meñ jáná, a. to be lost in contemplation ; to fall into meditation (on).

مراقی miráqí, A. n. m. One suffering from melancholy or insanity.

مراوی murái, मुराई, H. n. m. One whose business is to grow and sell vegetables ; greengrocer (koeri, kunjrá) [Mirrors ; looking-glasses.

مراویا maráyá, A. n. m. (Plu. of مرآت) Mirát. مراویات maráyát, P. n. f. Hypocrisy ; dissimulation. [authority ;

مرابت murabbat, P. n. f. Rule ; dominion ;

مرابج murabba', A. n. m. A square ; a quartain ; adj. squared ; four-sided ; quadrilateral. مرابج بیٹھنا—baiṭhná, v. to sit cross-legged ; to squat (chár zānu baiṭhná).

مربوبا marbút, A. adj. Bound ; fastened ; attached ; well composed or put together ; consistent ; concordant.

مربوکا marbhukká, मरभुका, H. adj. Starved to death ; famished ; voracious ; n. m. a starveling ; a greedy person.

مربی murabbá, A. n. m. Preserved fruit ; a conserve ; jam ; confection. مرابی ساز—sáz, a confectioner.

مرببی murabbí, A. n. m. A patron ; a supporter ; a guardian ; a head. مرابی بنا—banná, v. to patronise.

مرت mrit, मृत, S. n. f. Death. مریت اکال akál—n. f. untimely death [trained ; instructed.

مرتاض murtáz, A. adj. Disciplined ; exercised ;

مرتب murattab, A. adj. Arranged ; prepared ; compiled ; regulated ; classified. مرتب کرنا—karná, v. to arrange ; to compile ; to set or put in order.

مرتبان martabán, P. n. m. A glazed earthen jar ; a vessel of the finest china or porcelain.

مرتبت martabat, n. f. } A. A degree ; a rank ; a
مرتبتہ martaba, n. m. } dignity ; an office ;
time ; turn ; order. مرتبتہ—time. کئی مرتبتہ تک is—tak, to this degree. مرتبتہ کمال—kamál—several times ; often ; repeatedly. مرتبتہ کامال—kamál—, to perfection ; completely.

مرتد murtadd, A. n. m. A renegade ; an apostate ; an infidel. مرتد ہونا—hona, v. to apostatise.

مرداشی murtashí, A. *adj.* Given to bribe-taking; addicted to receiving illegal gratifications; corrupt.

مردتازی murtazá, A. *adj.* Chosen; approved; agreeable; *n. m.* a title of 'Alí, the son-in-law of Mohammad.

مردتاشی murta'ash, A. *adj.* Trembling; quivering.

مرتفع murtafa', A. *adj.* Exalted; high; lofty; sublime; eminent.

مرتکب mritak, मृतक, S. *n. m.* A dead body; a corpse. مرتکب سنسکار—sanskár, *n. m.* obsequies; the last of the sixteen essential purificatory rites among the Hindus.

مرتکب murtakib, A. *adj.* Mounted; venturing upon; attempting; guilty (of); committing; perpetrating (crime). مرتکب جرم—i-jurm, *adj.* guilty of a crime. مرتکب هونا—honá, *v.* to commit; to perpetrate.

مرت لوك mrit lok, मृत लोक, S. *n. m.* The world of mortals; the earth.

مرتھان murtahan, A. *adj.* Pledged; mortgaged.

مرتھان murtahin, A. *n. m.* A mortgagee; a pawn-broker. مرتھان قابض—i-qábiz, a mortgagee in possession.

مرتھه marsiya, A. *n. m.* A lamentation for one dead; an elegy; funeral notes.

مرجاء marjád, مرءاء, } H. *n. f.* Customs; usage; a social code; station; rank; dignity; respect.

مرجان marján, P. *n. m.* Coral.

مرجانا marjáná, مرءانا, H. *v.* To die; to love; to suffer hardship; to be out (of a game); to fade.

مرجء marja', A. *n. m.* Asylum; place of refuge; rendezvous; in (*Gram.*) antecedent.

مرجوع marjú', A. *adj.* Returned; brought back.

مرءھانا murjháná, مرءھانا, H. *v.* To fade; to wither; to pine; to faint.

مرءی murjí, A. *n. m.* One who delays doing what he promises; a procrastinator.

مرء mirch, मिर्च, H. *n. f.* Pepper; *adj.* hot; pungent; sharp. مرء دكھنی dakkhní—, *n. f.* Deccan pepper; white pepper. مرء كالي یا گول گول—, *n. f.*

kálí yá gol—, *n. f.* black pepper. مرء لال lál—, *n. f.* red pepper; chillies. مرء لگنا mirchen lagná, *v.* to smart; to take amiss.

مرءھنگ murchang, P. *n. f.* A Jew's harp.

مرءھبا marhabá, A. *intj.* Hail! Welcomed! Bravo! God bless you!

مرءھلا marhála, A. *n. m.* A day's journey; a stage; an inn; a halting place or station; the bastion of a fort; a difficulty. مرءھلا طے کرنا marhale tai karná, *v.* to traverse a long distance; to remove a difficulty.

مرءھمت marahmat, A. *n. f.* Pity; favour; clemency; pardon; a present. مرءھمت کرنا karná, *v.* to grant; to confer; to bestow.

مرءھوم marhùm, A. *adj.* Dead; the late; the deceased [marhùm.

مرءھومة marhúma, A. *n. f.* Fem. of مرءھوم

مرءھخص murakhkhas, A. *adj.* Permitted (to leave); licensed; lawful; allowed to depart.

مرد mard, P. *n. m.* A male; a man; a hero; a fellow. مرد آدمی—i-ádmí, *n. m.* a gentleman: a form of address; my good Sir; a tall strong man. مرد بچہ—bachcha, *n. m.* the son of a brave man, a brave child. مرد کي ذات—ki zát, *n. m.* the male sex.

مردار murdár, P. *adj.* Polluted; profane; dead; dirty; ugly; *n. m.* corpse; carrion. مردار خور—khor, *n. m.* a carrion-eater; a vulture; a carrion crow. [redlead.

مردار سنگ murdár, sang, P. *n. m.* Litharge;

مردانگی mardángí, P. *n. f.* Manliness; bravery; heroism. مردانگی کے کام—ke kám, *n.* heroic achievement; golden deeds.

مردانه mardána, } P. *adj.* Manly; brave;
مردانی mardání, } masculine; male; man-like; *adv.* manfully; vigorously; courageously. مردانه بھیس—bhes, *n.* a man's dress. مردانه بھیس کرنا—bhes karná, *n.* personating a man.

مردود muraddid, A. *adj.* Irresolute; perplexed in mind; repelling; driving to and fro; revolving in the mind; *n.* a repeller; one who revolves in his mind.

مردک mardak, P. n. m. A man kind ; a low fellow ; a puppy.

مردگان murdagán, P. n. m. (*Plu. of Murda*). the dead.

مردم mardum, P. n. m. A man ; gentleman ; the pupil of the eye. مردم آزار—ázár, n. m. man oppressing ; a tyrant ; an oppressor. مردم چشم—i-chasm, n. the pupil of the eye. مردم خوار—khwár, n. m. man eating ; a cannibal. مردم

مردم شماری—shumárá, n. f. census. مردم شناسی—shinásí, n. f. knowledge of man. مردم کش—kush, n. f. murderer. مردم کشی—kushí, n. f. homicide ; man-slaughter.

مردمان mardumán, P. n. m. (*Plu. of Mardum*) People ; persons.

مردمک mardumak, P. n. f. Pupil of the eye.

مردمی mardumí, P. n. f. Manliness ; bravery ; humanity.

مردن mardan, مردن, H. n. m. Rubbing ; trampling ; pounding.

مردنگ mirdang, مردنگ, H. n. f. A small drum (*Pakhawaj*) ; a tabor ; a glass shade.

مردنگی mirdangi, میردنگی, } H. n. m. One
مردنگیایا mirdangiyá, میردنگیایا, } who plays on
mirdang ; a taborer.

مردنیایا mardaniya, مردنیایا, H. n. m. Attendants who rub perfumed paste, etc. over the body.

مردنی murdaní, P. n. f. Melancholy ; gloominess ; dismalness ; death ; obsequies ; death-like ; stillness. [tender ; sweet ; slow.

مردی mirdu, مردی, S. adj. Soft ; mild ; gentle ;

مردوا mardúa, P. n. m. A man ; a manikin ; a puppy ; a wretch.

مردود mardúdd, A. adj. Rejected ; excluded ; outcast ; abandoned ; n. m. a reprobate ; an apostate ; a scoundrel.

مردده murdah, P. adj. Dead ; weak ; decrepit ; n. m. a dead body ; a scorpse. مردده دل—dil, adj. sad ; dejected ; cold-hearted ; dispirited. مردده شر—shú, a washer of the dead.

مرددها mirdahá, میرددها, H. n. m. An overseer ; a surveyor ; an exciseman. [hood ; valour.

مرددی mardí, P. n. f. Manliness ; virility ; man-

مرز marz, P. n. f. Region ; district ; confines ; frontier. مرزبان—bán, governor of the frontier ; a satrap. مرز و کشور—o-kishwar, empire ; territory.

مرزا mirzá, P. n. m. A prince ; a Persian or Mugal title. مرزا پهلویا—phoyá, a very delicate and simple person. مرزا مزاج—mizáj, adj. nice ; fastidious ; delicate. مرزا منش—manish, adj. of a princely-nature or disposition ; genteel.

مرزائی mirzáí, P. n. f. Princedom ; gentility ; arrogance. [with long loose sleeves.

مرزائی mirzai, میرزائی, H. n. f. A native jacket
مرسل mursal, A. n. m. A messenger ; a prophet ; an apostle ; an ambassador ; adj. sent to another specially with a message. مرسل نبی nabí—, n. m. The prophet sent, i. e. Mohammad.

مرسل mursil, A. n. m. Sender ; despatcher.

مرسلة mursilah, A. n. m. An epistle ; a despatch ; a letter ; adj. sent ; despatched.

مرسالین mursalín, A. n. m. (*Plu. of Mursal*) Apostles ; prophets. سید المرسلین sayid-ul—, chief of the prophets, i. e. Mohammad.

مرسوم marsúm, A. adj. Prescribed ; signed ; notified ; stretched out ; accustomed.

مرشد murshid, A. n. m. An instructor ; a guide ; a spiritual teacher ; a monitor ; the head of a religious order ; a cunning fellow.

مرشدی murshidí, A. n. f. Religious instruction.

مرصع murassa', A. adj. Studded with precious stones ; covered with gold ; set with jewels ; n. m. texture set with jewels. مرصع کار—kár, n. m. a stone-setter ; a lapidary. مرصع کاری—kárí, n. f. Art of stone setting.

مرض maraz yá marz, A. n. m. Disease ; sickness.

مرض الموت—ul-maut, n. m. mortal disease.

مرض دفع کرنا—dafa' karná, v. to cure ; to heal.

مرض صعب—i-su'ab, n. m. grievous disease.

مرض عارض—i-'áriz, accidental indisposition.

مرض میں مبتلا ہونا—men mubtilá honá, v. to

be sick ; to be involved in difficulty. مرض مہلک—mohlik. n. m. dangerous disease ; a mortal

disease. مرض کي دورا ho, of what use are you? you are a worthless fellow.

مرضي *marzī*, A. *adj.* Acceptable; agreeable; *n. m.* will; assent; pleasure. مرضي کے مرافق — *ke muāfiq*, *adj.* to the will or pleasure of; to satisfaction; satisfactorily. مرضي میں آنا — *men ānā*, *v.* to like; to please. اپنی مرضي سے — *apni—se*, *adv.* voluntarily; of one's free will or consent.

مرضيات *marziyāt*, A. *n. f.* (*Plu. of مرضي Marzī*) Agreeable things. [of humours

مرطوب *martúb*, A. *adj.* Wet; moist; damp; full

مربوب *mar'úb*, A. *adj.* Terrified.

مرغ *murg*, P. *n. m.* (*Com. مرغا murgā* in Indian). A fowl; a cock; a bird. مرغابی — *ābī*, a water fowl; a wild duck. مرغ باد نما — *i-bād-numā*, *n. m.* a weathercock. مرغ باز — *bāz*, *n. m.* a cock-fighter. مرغ بازی — *bāzī*, *n. f.* a cock fight. مرغ چمن — *i-chaman*, *n. m.* a forest bird. مرغ سحر — *i-sahar*, *n. m.* (*in Poet.*) the harbinger of day; a chanticleer; the nightingale.

مرغا *murgā*, *सुर्पा*, H. *n. m.* A cock.

مرغابی *murgābī*, See مرغ. [Birds; fowls.

مرغان *murgān*, P. *n. m.* (*Plu. of مرغ Murg*)

مرغزار *margzār*, P. *n. m.* Pasture; meadow.

مرغوب *margúb*, A. *adj.* Desired; desirable; amiable; beautiful; lovely; pleasant.

مرغول *margol*, P. *n. m.* Twisted or plated locks; curly hair; warbling; singing; a crenated arch.

مرغی *murgī*, P. *n. f.* A hen. مرغی والا — *vālā*, *n. m.* poulterer; a puppy. انڈے مرغی کی بحث — *andē—kī bahās*, *n.* the discussion about the egg and the hen (*i. e.* as to which was first); reasoning in a circle. چین کی مرغی *chin kī—*, a China hen; a guinea fowl.

مرغا *morfā*, P. *n. m.* A kind of drum (*ḡhol*).

مرغی *mirfaq*, A. *n. m.* Advantage; gain; profit; an appurtenance; the elbow.

مرزوع *mar fū'*, A *part.* Exalted; honoured

مرافق *murāfiq*, A. *adj.* Comfortable; pleasant; happy; prosperous; well off. [tower.

مرقاب *marqab*, A. *n. m.* Observatory; watch-

مرقد *marqad*, A. *n. f.* A bed; a grave; a tomb.

مرقع *muraqq'a*, A. *adj.* Clad in rags; mended; patched; *n. m.* a book of drawings or of fine penmanship; album; a portfolio.

مرقوم *marqúm*. } A. *adj.* Written; men-
مرقومہ *marqúmah*, } tioned; described. مرقومہ بالا — *i-bálā*, *adj.* above mentioned; above-cited; aforesaid. مرقومہ الحاشیہ — *ul háshiya*, *adj.* marginally noted. [writhe; to snap; to break.

مرکانا *murkánā*, *सुरकाना*, H. *v.* To twist; to

مرکب *murakkab*, A. *adj.* Compounded; combined; mixed; *n. m.* compound; a mixture. مرکب کرنا — *karnā*, to combine; to mix; to compound.

مرکب *markab*, A. *n. m.* Anything upon which one rides, or upon or in which one is borne or carried; a vehicle; a horse; a ship; a saddle.

مرکبات *murakkabāt*, A. *n. m.* (*Plu. of مرکب Marakkab*) Compound medicines; mixtures.

مرکت *markat*, *मरकत*, S. *n. m.* An emerald.

مرکت *markat*, *मकत*, H. *n. m.* An ape; a monkey.

مرکز *markaz*, A. *n. m.* The centre; an upper stroke (as of the letters *káf* and *gáf*.)

مرکز ثقل — *i-siql*, *n. m.* the centre of gravity. مرکز قائم کرنا — *qáim karnā*, to take (Point) as the centre. [concentrated.

مرکز *markúz*, A. *part.* Fixed; implanted; مرکانا *murakná*, *सुरकना*, H. *v.* To be twisted; to be broken or snapped.

مرکھنا *markhanā*, *मरखना*, H. *adj.* Addicted to striking or beating; *n.* beater; a striker.

مرکھنڈا *markhandā*, *मरखंडा*, H. *n. m.* The rim of a well.

مرکی *murkī*, *सुरकी*, H. *n. f.* A kind of ear-ring (worn by *gosáin*, *ḡairágis* and the like); the tragus of the ear.

مرگ *mirg*, *सृग*, H. *n. m.* A deer. مرگ ترشنا — *trishná*, *n. m.* the mirage. مرگ چڑا — *chirā*, *n. m.* a small bird; an insect.

مرگ چھالا — *chhálā*, *n. f.* a deer skin worn and used as a bed by *faqirs*. مرگ راج — *rāj*, *n. m.* a lion.

مرگ لوچنی یا — *gálā*, *n. f.* a deer park. مرگ نیچی — *lochní yá nainí*, *adj.* gazale-eyed.

مرگ نابه — *nābh*, *n. m.* a bag of musk; musk.

مرگ marg, P. n. m. Death. مرگ مفاجات یا ناگہانی
i-mufáját yá nágahání, n. m. sudden death.
مرگ طبعی - taba'í, natural death.

مرگنی mirganí, میرگنی, H. n. f. A doe.

مرگہت marghaṭ, मर्घट, H. n. m. The place where
Hindus burn their dead; cremation ground.

مرگی mirgí, میرگی, H. n. f. Epilepsy. مرگی آنا—
áná, v. to have epileptic fits.

مرگیہا mirgihá, میرگیہا, H. adj. Epileptic.

مرلا murlá, (مورلا), H. n. m. A peacock.

مرلی murlí, مرلی, H. n. f. A flute; a fife; a
pipe. مرلی بجانا—bajáná, v. to play on a fife.
مرلی دہر—dhar, the flute bearer; an epithet
of Krishna.

مرم marm, مرم, H. n. m. Secret meaning or
purpose; mystery; truth; mind; idea.

مرمت marammat, P. n. f. Mending; repairs;
amendment. مرمت طلب—talab, adj. requiring
repair; out of repair. مرمت کرنا—karná, v.
to repair; to set or put right; to punish;
to beat.

مرمر marmar, A. n. m. Marble.

مرمری murmurá, H. adj. Crackling; crisp; n. m.
a kind of fringe made of gold or silver.

مرمرانا murmuráná, H. v. To crackle; to
crunch.

مرن maran, مرن, H. n. m. Death; ruin; des-
truction. مرن کر—kar, death duty. مرنہار—
hár, adj. doomed to die; dying. مرن سہ—
samai, time of death; ruin; dying moment.

مرنا marná, مرنا, H. v. To die (See مرجانا
marjáná). مرنے کو—marne ko, adj. about to
die; dying. مرنے تک کی فرصت نہ ہونا—
marne tak ki fursat na honá, v. to be too much
pressed with work; not having a moment's
leisure. مرنا بن آئے bin áe—, to die prema-
turely; to die a violent death.

مروارید marváríd, P. n. m. A pearl. مروارید ناسفتہ
i-násufta, an unbored pearl.

مروانا marváná, مروانا, H. v. (Caus. of مارنا
Márná) To cause to be killed or beaten.

مرورت muravvat, A. n. m. Benevolence; polite-
ness; affability; humanity; fortitude. مرورت

تورنا—torná, v. to cease behaving affection-
ately; to withdraw one's regard (from). مرورت
کرنا—karná, v. to show regard for; to deal
kindly (with). مرورت والا—válá, adj. kind;
polite; generous; humane; gracious; affable.
مرورت ہے be—, adj. unkind; ungracious; inhu-
man; uncivil.

مرورج muravvaj, } A. adj. Current; prevalent;
مرورجہ muravvaja, } in force; usual. مرورج کرنا—
karná, v. to make current; to propagate; to
enforce. مرورج ہونا—honá, v. to be in force; to
prevail.

مرور marúr, A. n. m. Passing; a passage; an
avenue. مرور ہے ba—, adj. in lapse of time;
lapsed; ago.

مرور maror, مروت, } H. n. f. Twist; turn;
مرورج marorj, مروتج, } writhe; contortion; obs-
tinacy; vanity; affection. مرورج باز—báz, n.
m. an affected person. مرورج پھلی—phali, n. f.
a plant the fruit of which is used as a cure
for gripes.

مرورجا marorjá, مروتجا H. n. m. A twisting of the
bowels; strain; gripes. مرورجا آٹھنا—uṭhná, v.
to have gripes.

مرورجنا marorjáná, مروتجنا, H. v. To twist; to
writhe; to contort; to gripe; to crunch up;
to devour.

مرورہ marwa, A. n. m. Name of a mountain
in Mecca. [tenderness.

مرورہ maroh, مروتہ, H. n. f. Compassion; pity;
مرورہتی marohí, مروتہی, H. adj. Compassionate;
kind; merciful.

مروری marví, A. part. Related; told.

مروریا marvaiyá, مرவேیا, H. adj. Beater; striker.

مرورہ marra, A. adv. Once. روز مرہ roz—, adv.
Daily.

مرورہ murhá, مرہا, H. n. m. An orphan; a rogue;
a rescal; a cheat.

مرورہتا marhaṭṭá, مرہٹا, H. n. m. A Mahratta.

مرورہتی marhaṭí, مرہٹی, H. n. f. The language of
Maharattas; rule of Maharattas; maladminis-
tration under the Maharattas; misrule. مرورہتی
کرنا یا مچانا—karná yá macháná, v. to rob; to
plunder. مرورہتی گھس گھس—ghis ghis, n. f.
confusion; lawlessness; anarchy.

مرهم *marham*, A. *n. m.* Plaster ; salve ; cure ; ointment. *مرهم پٹی کرنا*—*paṭṭī karná*, *v.* to dress or bind up (a wound) ; to apply salve (to) ; to repair ; to set right ; to put in order.

مرہن *murhan*, *مورہن*, H. *n. f.* A kind of tobacco leaf.

مرہوب *marhúb*, A. *part.* Terrified.

مرہون *marhún*, A. *adj.* Pawned ; hypothecated ; mortgaged. *مرہون منت*—*i-minnat*, *adj.* bound in gratitude. [contortion.

مرہی *murhí*, *مورہی*, H. *n. f.* Turn ; twist ;

مرئی *marai*, A. *adj.* Visible.

مری *marí*, *ماری*, H. *n. f.* Plague ; pestilence ; epidemic ; mortality. *مری پڑنا*—*paṛná*, a plague or pestilence to break out.

مریضہ *maraiṭhā*, *ماریٹا*, *yá mureṭhā*, *مورٹا*, H. *adj.* Twisted ; wound up ; bound ; *n. m.* a turban.

مریخ *mirriḵh*, A. *n. m.* The planet Mars. (*جلاد* *Jallád-i-falak*).

مرید *muríd*, A. *adj.* Willing ; desirous ; *n. m.* a disciple ; a pupil ; a scholar ; a follower. *مرید کرنا*—*karná*, to make a disciple of ; to admit as a probationer into a religious order.

مرید *marid*, A. *adj.* Rebellious ; obstinate ; insolent ; disobedient.

مریدی *murídí*, A. *n. f.* Discipleship.

مریض *mariz*, A. *adj.* Sick ; diseased ; *n. m.* a sick person ; a patient. [mariz.

مریضہ *mariza*, A. *n. f.* Famine of *مریضہ*

ماریال *mariyal*, *ماریال*, H. *adj.* Lean ; emaciated ; weak.

مورلا *murelá*, *مورلا*, H. *n. m.* A peacock.

مریم *maryam*, A. *n. f.* Mary. *حضرت مریم* *hasrat*—, the Virgin Mary.

مڑک *maṛak*, *مڑک*, *yá muṛak* *مڑک*, H. *n. f.* A twist ; a fracture ; a trick.

مڑکنا *maṛakná*, *مڑکنا*, H. *v.* To be twisted ; to get fractured.

مڑنا *muṛná*, *مڑنا*, H. *v.* To be turned back ; to be bent or twisted [turned or twisted.

مڑوانا *muṛwána*, *مڑوانا*, H. *v.* To cause to be

مڑا *maṛh*, *مڑا*, H. *n. f.* A cottage ; a temple.

مڑا *maṛhá yá mirhá*, *مڑا*, *میدا*, H. *adj.* Lined ; headed ; covered or topped (as a drum, etc. with parchment, etc.)

مڑنا *maṛhná*, *مڑنا*, *yá mirhná*, *میدنا*, H. *v.* To cover (as a drum, book, etc., with leather parchment, etc.) to gild ; to case.

مڑہی *maṛhí*, *مڑہی*, H. *n. f.* A cottage ; a temple.

مزا *mazá*, H. *n. m.* (See *مزا*).

مزاج *mizaj*, A. *n. m.* Temperament ; constitution ; complexion ; nature ; temper ; humour ; disposition ; pride.

مزاج بگڑنا—*bigarná*, *v.* to get out of temper. *مزاج پانا*—*pána*, *v.* to find one) in good humour.

مزاج پوچھنا—*pūṅchhá*, to inquire after one's health. *مزاج دار*—*dár*, *adj.* proud.

مزاج داری کرنا—*dáří karná*, *v.* to flatter.

مزاج دان—*dán*, *adj.* acquainted with habits and disposition, knowing the temperament.

مزاج کرنا—*sharif*, how do you do ? *مزاج ک*—*karná*, *v.* to be proud ; to show temper. *مزاج کے*—*ke máre*. *adv.* through pride.

مزاج میں—*meḡ áná*, *v.* to fit in with the humour ; to be conceited.

مزاج نہ ملنا—*na milná*, *v.* to be proud ; to disagree ; to be unable to understand one. *مزاج بد*—*bad*—, *adj.* ill-natured ; ill-tempered.

مزاج تنک—*tunuk*—, *adj.* choleric ; impatient, *مزاج تیز*—*tez*—*adj.* hot-headed.

مزاج خوش—*khush*—, *adj.* jolly ; jovial ; merry. *مزاج مستقل*—*mustaqil*—*adj.* of a strong will.

مزاج نیک—*nek*—, *adj.* good natured ; good humoured. *مزاجی*—*mizáji*, *adj.* constitutional ; habitual ; proud ; haughty.

مزاہ *mazáh yá mizáh*, A. *n. m.* Jest ; joke ; fun.

مزاہ *mazáh*, A. *n. m.* Jesting with somebody.

مزاہم *muzáhim*, A. *adj.* Obstructing ; hindering ; inconvenient ; *n. m.* an obstacle ; an impediment.

مزاہمت *muzáhamat*, A. *n. f.* Impediment ; obstacle ; hindrance ; opposition. *مزاہمت بلا*—*bilá*—, *adv.* without any interruption or disturbance.

مزار *mazár*, A. *n. m.* A place of visitation ; a shrine ; a tomb ; a grave.

مزارع mazára', A. n. m. A husbandman ; an agriculturist.

مزامیر mazámír, A. n. f. (*Plu. of* مزمارة Mizmár). Psalms ; canticles ; flutes.

مزارات muzávalat, A. n. f. Curing ; watching for (prey) ; managing or entering into affairs.

مزابله mazbala, A. n. m. A privy ; a dunghill ; a place where filth and sweepings of a house are thrown. [*mazkúr.*]

مزبور mazbúr, A. *adj.* Aforesaid ; said ; written

مزخرف muzkharaf, A. n. f. Lying vanity ; a false thing decorated outwardly.

مزخرفات muzkharafát, A. n. f. (*Plu. of* مزخرف Muzkharaf) Nonsense ; idle tales ; lies.

مزد mazd, P. n. m. A reward, wages ; compensation. [a carrier.]

مزدور mazdúr, P. n. m. A labourer ; a porter ;

مزدوری mazdúrí, P. n. f. Wages ; labour ; work.

مزدوری کرنا —karná, v. to work for hire. مہنت مزدوری کر کے پیٹ پالنا mehnat—kar ke peṭ pálná, to toil and labour for a living. [farm.]

مزرع mazra', A. n. m. A field ; a corn field ; a

مزرعہ mazrú'a, A. n. m. A hamlet ; a village.

مزرعہ یا مزروعہ mazrú'a yá mazrú', A. *adj.* Sown ; cultivated ; n. sown field.

مزعفر maz'afar, A. n. m. A variety of پلّو puláo in which saffron is one of the principal ingredients.

مزكك muzakká, A. *part.* Purified.

مزككي muzakkí, A. n. m. Purifier.

مزمارة mizmár, A. n. f. A musical reed ; a pipe ; a flute ; a psaltery. [putting in motion.]

مزمزلة mazmaza, P. n. m. Shaking to and fro ;

مزمين muzmin, A. *adj.* Chronic ; long duration ; obstinate (as disease).

مزممة muzamma, A. n. m. Heel straps. مزممة لینا —lená, v. to lay hold of the help-rope (of) ; (*Fig.*) to lay hold of ; to come down upon ; to vituperate ; to show no mercy (*dre háth lená*).

مزداد mizwad, A. n. m. A traveller's bag for provisions. [liar.]

مزدور muzauwir, A. n. m. A knave ; a cheat ; a

مزه mazá, P. n. m. Taste ; relish ; pleasure ; deliciousness ; enjoyment ; fun. مزه ازانا

—uráná, v. to enjoy oneself ; to revel in. مزه چاخوانا —chakháná, v. (*Ironie*) to spoil the

pleasure or enjoyment of ; to give a retort ; to teach a good lesson ; to take revenge.

مزه دار مزیدار mazedár, mazadár, *adj.* savoury ; delicious ; palatable ; tasteful. مزه کرنا maze

karná, v. to enjoy oneself. مزه کی بات maze

kí bát, n. f. a thing that affords pleasure.

مزه لوگنا —lená, —lútná, to enjoy oneself. مزه بے مزه be—, *adj.* Tasteless. مزه بد bad— *adj.* Acrid ; pungent ; insipid.

مزیب muzaiyab, A. *part.* Decorated ; adorned.

مزیب مزیت mazaiyat, A. n. f. Excess ; superabundance.

مزید mazid, A. n. m. Increase ; advantage ; *adj.*

increased ; more. مزید کرنا —karná, v. to take away (the dinner, table-cloth, etc.) ; to increase. [fearless.]

مزیز mazir, A. *adj.* Bold ; stout hearted ;

مزیب مزین muzaiyan, A. *adj.* Adorned ; decorated ; embellished.

مژده muzúda, P. n. m. Good news ; glad tidings. مژده سنانا —sunáná, to announce good news (to). [The eyelashes ; eyelids.]

مژگان mizhgán, P. n. f. (*Plu. of* مژه Mizhah).

مژه mizhah, P. n. f. The eyelash.

مس mis, P. n. m. Copper (*Tánbá*).

مس mas, A. n. m. Touch ; sense of touch. مس کرنا —karná, v. to touch ; to feel.

مس mis, H. n. m. Pretence ; stratagem ; sham.

مساء masá, A. n. f. Evening.

مساء massá, मसाला, H. n. n. A gnat ; a mosquito.

مساء masá, H. मसाला, H. n. m. A wart ; a fleshy excrescence.

مساء missá, मिस्ता, H. n. m. Mixed grains etc.

(wheat, barley, etc. mixed with such grains as gram, pea, etc.)

مساجد masájid, A. n. f. (*Plu. of* مسجد Masjid) Mosques. [veyor ; geometrician.]

مساح masáh, A. n. m. Land measurer ; sur-

مساحت masahat, A. n. m. Measurement ; dimen-

sion ; mensuration ; survey ; geometry.

مسارقت masárqat, A. n. f. Theft; burglary.
 مساس masás, A. n. m. Mutual contact; rubbing;
 pressing. [ing; favourable.
 مساعد musá'd, A. adj. Aiding; helping; assist-
 مساعدة musá'da, A. n. f. Favour; assistance.
 مسافت musáfat, A. n. f. Distance; space;
 interval; labour.
 مسافر musáfir, A. n. f. A traveller; a
 passenger; a stranger. مسافر پروری یا مسافر
 پاروری parwári, yá—navází, n. f. hospitality
 protection of travellers. مسافر خانہ—khána,
 n. m. an inn. [passenger.
 مسافرانہ musáfirána, P. adj. Traveller-like; as a
 مسافرت musáfirat, A. n. f. Travelling; travel;
 journey.
 مسافری musáfirí, P. n. f. Travelling. مسافری کا
 اسباب—ká asbáb, n. m. luggage.
 مساکت masákat, A. n. f. Avarice; stinginess.
 مساکن masákan, A. n. m. (Plu. of مسکن Maskan)
 Habitations; dwelling.
 مساکین masákin, A. n. m. (Plu. of مسکین
 Miskin) The poor; paupers.
 مسالہ masála, مسالہ, H. n. m. (Corr. of مصالحه)
 Ingredients; materials.
 مسالک masálik, A. n. m. (Plu. of مسلك Maslak)
 Ways; paths. [A pore.
 مسام masám, A. n. m. (Plu. of مسامات Masámat).
 مسامحت murámihat, A. n. m. Treating any one
 gently; pardoning; ignoring ones's faults.
 مسان masán, مسان, H. n. m. A cemetery; a
 place where the dead are burnt or buried; a
 spirit; a disease.
 مسانیہ masániyá, مسانیہ, H. n. m. One who
 removes the remains of a burnt corpse; one
 who removes the influence of an evil spirit.
 مسارات masáwat, A. n. f. Equation; evenness;
 equality; parity; parallelism; paralleled;
 heedlessness; an every day affair. مسارات
 اول درجہ—i-darja auwal, a simple equation.
 مسارات درجہ دوم—i-darja doyam; a quadratic
 equation.
 مساروت musávatat, A. n. f. Contending for
 superiority or dominion (with); vying with.

مساوی musáví yá masáví, A. adj. Equal;
 parallel; neutral; impartial; suitable; con-
 venient. مساوی وقت ادائے زر—waqt adáe zar,
 equation of payments. [negligence.
 مساهلہ musáhala, A. n. f. Heedlessness;
 مسائل masáil, A. n. m. (Plu. of مسأله Masala).
 Questions; the precepts; propositions; prob-
 lems.
 مسبب musabbab, A. n. m. The causer; the first
 cause; an effect. (in Log.) مسبب الاسباب—ul-
 asbáb, n. m. the cause of causes; God.
 حقیقی مسبب—i-haqíqí, the true Cause; God.
 مسبرد masbird, مسبرد, S. n. m. A wart (massa).
 مسبع musba', A. adj. Composed of, or related
 to seven.
 مست mast, P. adj. Drunk; intoxicated; amo-
 rous; proud; careless; overjoyed; mad. بد مست
 bad—, adj. dead drunk. مال مست—, adj.
 purseproud. مست مگر magar—, fat and jolly.
 مستاجر mustájir, A. n. m. A tenant; a farmer;
 a contractor; a lessee.
 مستاجری mustájiri, A. n. f. A lease of land; a
 contract. مستاجری دینا—dená, v. to lease; to
 let on hire. [troyed; extirpated.
 مستاصل mastásal, A. adj. Eradicated; des-
 تاناستان mastáná, مستان, H. v. To be drunk; to
 grow fat and stout.
 مستانہ mastána, P. adv. Like a drunkard;
 drunkenly. adj. Drunken.
 مستبد mustabid, A. n. m. One who acts alone;
 a claimant of exclusive right of property.
 مستتر mustatar, A. adj. Concealed; veiled;
 hidden.
 مستثنیٰ mustasná, A. adj. Expected; excellent;
 extraordinary; selected. مستثنیٰ کرنا—karná,
 v. to exempt. [accepted; agreeable.
 مستجاب mustajab, A. adj. Heard; granted;
 مستحب mustahab, A. adj. Desirable; approved.
 مستحسن mustahsan, A. adj. Virtuous; laud-
 able; commendable. مستحسن ہونا—honá,
 to be approved (by); beautiful.
 مستحضر mustahzar, A. adj. Whose presence is
 desired; present.

مستحق mustahaq, A. *adj.* Rightful ; worthy ; deserving ; entitled. *هونا*—honá *v.* to deserve ; to be entitled to.

مستحکم mustahkam, A. *adj.* Firm ; established ; strong ; fast.

مستحيل mustahil, A. *n. f.* Altered ; changed.

مستخرج [mustakhrij], A. *adj.* Extracted ; drawn out. [appropriated.

مستخلص mustakhlās, A. *part.* Exclusively
مستدام mustadám, A. *adj.* Perpetual ; constant, immemorial.

مستدعي mustada'í, A. *n. m.* One who requests or petitions.

مستدير mustadír, A. *adj.* Spherical ; round ; globular. *خط مستدير* khat-i—, *n. m.* the circumference (of a circle) ; curve.

مسترد mustarad, A. *adj.* Rejected ; overruled ; returned ; restored ; revoked ; recalled.

مستري mistirí, *ميستيري*, H. *n. m.* A master ; a mason ; a head artificer ; an artisan.

مستزاد mustazád, A. *adj.* Increased ; additional ; more ; *n. m.* a verse in which every line has an increased short line annexed to it.

مستسقي mustasqí, A. *adj.* Dropsical ; craving drink ; *n.* a dropsical person. [cellent

مستطاب mustatáb ; A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستطاب mustatáb, A. *adj.* Good ; gracious ; excellent

مستعمل musta'mal, A. *adj.* In use ; employed ; applied ; established ; used ; second hand ; accustomed. [or succour ; convoked.

مستغاث mustagás, A. *adj.* Called upon for aid
مستغرق mustagraq, A. *adj.* Drowned ; immersed ; occupied ; hypothecated ; engrossed in ; absorbed. [repentant.

مستغفر mustagfir, A. *adj.* Asking pardon ;

مستغني mustagní, A. *adj.* Rich ; independent ; satisfied ; contended ; indifferent (to) ; disdainful ; boastful ; lofty. [plaintiff.

مستغيب mustagís, A. *n. m.* A complainant ; a
مستفاد mustafád, A. *adj.* Benefitted ; acquired ; gained ; understood ; meant.

مستفسر mustafsir, A. *adj.* Asking for explanation or interpretation ; inquisitive ; questioning.

مستفيد mustafid, A. *adj.* Profiting ; gaining. *هونا*—honá, to gain ; to derive benefit or advantage (from) ; to profit (by).

مستفوض mustafiz, A. *adj.* Spread abroad ; diffused ; doubted ; favoured ; obliged. [testable.

مستقبح mustaqbeh, A. *adj.* Abominable ; de-

مستقبل mustaqbil, A. *n. m.* Future ; the future tense.

مستقر mustaqar, A. *adj.* Settled ; fixed.

مستقل mustaqil, A. *adj.* Firm ; stable ; fixed ; durable ; permanent ; independent. *مستقل*—rahná, *v.* to be firm.

مستقيم mustaqím, A. *adj.* Right ; straight ; erect ; faithful. *مستقيم الاضلاع*—ul-azla', a rectilinear figure.

مستك mastak, *مستك*, S. *n. m.* The forehead ; head ; summit of a mountain. [suaded.

مستمال mustamál, A. *adj.* Conciliated ; pur-

مستامد mustamid, A. *adj.* Asking assistance ; one who petitions for aid against.

مستامد mustamid, A. *adj.* Relying on ; leaning on ; one who relies.

مستمع mustame', A. *adj.* Hearing ; listening to.

مستناد mustanad, A. *adj.* Authoritative ; authenticated ; certificated ; supported ; genuine.

مستوجب *mustajib*, A. *adj.* Worthy; deserving; liable; meriting; *n. m.* an author; cause.

مستور *mastúr*, A. *adj.* Covered; veiled; hidden.

مستورة *mastúra*, A. *n. f.* (*Plu.* مستورات *Mastúrdt*). A chaste woman; female; woman.

مستوري *mastúri*, A. *n. f.* Concealment; chastity; retirement; modesty.

مستوفي *mustauffi*, A. *adj.* Paying or receiving in full (a debt); *n. m.* a head clerk; an auditor. مستوفي گزي *—gari*, clerkship; audit.

مستول *mastúl*, *मस्तूल*, H. *n. m.* Mast of a ship. اگلا مستول *—giráná*, to strike sail. اگلا *aglá*—, foremast. بيچ كا مستول *bich ka*—, mainmast.

مستولي *mustauli*, A. *adj.* Overcoming; taking possession of; comprehending.

مستوي *mustavi*, A. *adj.* Straight; equal; direct; level. سطح مستوي *satah-i*—, plane surface.

مستي *masti*, P. *n. f.* Intoxication; drunkenness; ecstasy; pride.

مستند *mustandá*, *मुस्तदा*, H. *adj.* Strong and robust; gigantic.

مسجد *masjid*, A. *n. f.* A mosque. مسجد جامع يا مسجد *i-jáma' yá Jáma'* masjid, a great mosque; the principal mosque of a town or city.

مسطح *musajja'*, A. *adj.* Rhythmical (speech); measured or harmonious (periods); rhythmical prose.

مسجل *musajjal*, A. *adj.* Proved; authenticated and sealed (by a Qází or judge); judicially decided and recorded.

مسجود *masjúd*, A. *adj.* Worshipped; adored.

مسح *masah*, A. *n. m.* Drawing the hand over; wiping; washing; anointing; cutting off; travelling.

مسحور *mashúr*, A. *adj.* Bewitched; enchanted; fascinated. [pulverised.]

مسترق *mashúq*, A. *adj.* Pounded; bruised;

مسخ *maskh*, A. *n. m.* Changing; metamorphosing from a superior to an inferior shape; plagiarism.

مسخ *maskhkhār*, A. *adj.* Subdued; overcome; conquered; taken.

مستخراپن *maskharápan*, *मसखरापन*, H. *n. m.* Buffoonery; jesting; drollery.

مستخرا *maskharah*, P. *n. m.* A jester; droll; a buffoon; a laughing-stook.

مستخري *maskhari*, *मसखरी*, H. *n. f.* Jestings; joking. مستخري مين *—men fáláá*, *v.* to put off in joke.

مسدس *musaddas*, A. *adj.* Composed of six; sixangular; *n. m.* a hexameter; a sixtain; hexagon; hezastich. [tructed.]

مسدود *masdúd*, A. *adj.* Closed; shut; obstructed.

مسرت *masarrat*, A. *n. f.* Pleasure; joy; gladness; cheerfulness; rapture; delight.

مصرف *musrif*, A. *adj.* Extravagant; prodigal.

مسرع *musre'*, A. *n. m.* One acting hurriedly.

مسرنگي *musrangí*, *मुसरंगी*, H. *n. f.* A kind of pulse fried.

مسرور *masrúr*, A. *adj.* Glad; pleased; gay; cheerful; delighted.

مسروق *masrúq*, A. *adj.* Stolen; robbed.

مسروقة *masrúqa*, A. *adj.* Stolen. مال مسروقة *mál-i*—, *n. m.* stolen property.

مسطح *musattah*, A. *adj.* Plane; level; even; *n. m.* an open plain. زاوية مسطح *zaviyah*—, *n. m.* a plane angle.

مسطحة *musattaha*, A. *n. m.* A plane-table.

مسطر *mistar*, A. *n. m.* A ruler made of pasteboard strung with parallel threads; line.

مسطور *mastár*, A. *adj.* Written; aforesaid; lined.

مسعد *mus'ad*, A. *adj.* Happy; propitious; fortunate. [august; blessed.]

مسعود *mas'úd*, A. *adj.* Happy; fortunate;

مسقط *masqat*, A. *n. m.* Name of a city in Iraq; place of falling; birth place. مسقط الراس *—ul rás*, *n. m.* place of birth; native country.

مسقف *musaqqaf*, A. *adj.* Roofed.

مسك *musakká*, A. *n. m.* A muzzle to prevent oxen from eating grain.

مسكانا muskáná, सुसकाना, H. *v.* To smile ; to grim. [to split.

مسكانا maskáná, मसकाना, H. *v.* To rend; to tear;

مسكير muskir, A. *adj.* Intoxicating; inebriating.

مسكيرات muskirát, A. *n. f.* (Plu. of مسكير Muskir) Intoxicating liquors or drugs ; intoxicants.

مسكوران muskúraná, सुसकुराना, H. *v.* To smile ; to simper.

مسكوراهاٹ muskuráhaṭ, सुसकुराहाट, H. *n. f.* A smile ; simper.

مسكن maskan, A. *n. m.* A dwelling ; abode ; habitation. [ing.

مسكين musakkin, A. *n. m.* Stimulant; invigorat-

مسكنا masakná, मसकाना, H. *v.* To be torn ; to split ; to rend ; to burst ; to press.

مسكنت maskanat, A. *n. f.* Humility ; lowness ; indigence ; wretchedness ; poverty.

مسكورا maskorá, मसकोरा, H. *n. m.* A move or turn on one side. مسكورا لينا يا مارنا—lená yá márná, *v.* To turn over on the side in sleeping.

مسكون maskún, A. *adj.* Inhabited ; habitable.

مسكة maska, A. *n. m.* Butter.

مسكيانا muskiyáná, सुसकियाना, H. *v.* To smile.

مسكين miskín, A. *adj.* Poor ; miserable ; indigent ; meek. [humility ; submissiveness.

مسكيني miskiní, P. *n. f.* Poverty ; meekness ;

مساح musallah, A. *adj.* Armed ; in armour ; in mail.

مسلاخ maslaḥ, A. *n. m.* A slaughter-house ; shambles (*kameld ghar*).

مسلسل musalsal, A. *adj.* Linked ; chained ; successive ; coherent ; placed in order ; *n. f.* a kind of lace or fringe.

مسلاط musallat, A. *n. m.* A conqueror ; a governor ; a conquest ; *adj.* subdued ; appointed ; set (over.)

مسلك maslak, A. *n. m.* A way ; a passage ; an institution ; a rule of conduct ; regulation.

مسلم muslim, A. *n. m.* (Plu. مسلمين Muslimin) One who holds the Mohamedan religion ; a Mohammadan.

مسلم musallim, A. *adj.* Keeping safe ; preserving in liberty.

مسلم musallam, A. *adj.* Preserved ; kept ; sound ; entire ; certain ; free ; admitted.

مسلمان musulmán, A. *n. m.* A believer in the religion of Mohammad ; a Mohammadan.

مسلمانى musulmání, P. *n. f.* The Mohammadan religion ; Muhamadanism ; circumcision ; a Mohammadan ; *adj.* of or relating to Mohamedanism. مسلمانى کرنا—karná, *v.* To circumcise.

مسالنا masalná, मसलना, H. *v.* To bruise ; to crush ; to press ; to rub ; to squeeze.

مسلوب maslúb, A. *adj.* Seized ; spoiled ; deprived of. مسلوب الحواس—ul-hawás, *adj.* deprived of senses ; unsound in mind. مسلوب العقل—ul-aql, *adj.* deprived of understanding ; mad.

مسلوبى maslúk, A. *adj.* Walked on ; trodden ; beaten. [consumptive.

مسلول maslúl, A. *adj.* Drawn ; led ; unsheathed ;

مسئلة masla, A. *n. m.* Question ; proposition ; a precept of Mohammad ; a tenet ; a maxim.

مسئلة دان—dán, *n.* one versed in religious doctrines.

مسامة musammát, A. *n. m.* A title, prefixed to the names of females ; a lady.

مسمار mismár, A. *n. m.* A nail ; a peg ; a pin ; *adj.* demolished ; razed ; ruined. مسمار کرنا—karná, *v.* To demolish. [truction.

مسمارى mismári, P. *n. f.* Demolition ; des-

مسامانا masmasáná, मसमसाना, H. *v.* To suppress one's sentiments from fear or awe.

مسموع masmú', A. *adj.* Heard ; audible ; listened to.

مسوم masmúm, A. *adj.* Poisoned ; venomous.

مسومى musammá, A. *adj.* Named ; called ; denominated ; entitled. [old.

مسون musin, A. *adj.* Aged ; advanced in years ;

مسند masnad, A. *n. f.* A large cushion ; a throne ; a seat ; a chair. مسند کا گدھا—ka gadhá, puppet king مسند نشین—nashín, *n.* reigning prince ; sitting on a throne ; rich man.

مسند نشینی—nashíní, accession to the throne.

musnad, A. *adj.* Attributed (to); pre-
 dicated (of).
 masnún, A. *adj.* Legalized; circumcised;
 lawful; adapted into use; sharpened; polished;
 made smooth.
 misvák, A. *n. f.* A stick used as a
 dentifrice; a tooth-brush (*dátawan*).
 masauadah, A. *n. m.* The first sketch
 or draft (of a bill); a bill (of an act). مسوده
 —karná, *v.* to make a rough draft.
 masúr, مسور, H. *n. f.* A pulse; a grain.
 masúrâ, مسورا, H. *n. m.* The gums.
 masosâ, مسوسا, H. *adj.* Twisted; griped;
 squeezed; *n. m.* affliction; remorse; regret.
 masosná, مسوسنا, H. *v.* To twist; to
 squeeze; to wring; to grieve; to regret.
 masahrí, مساهری, H. *n. f.* A bed curtain
 for protection against mosquitoes.
 mushil, A. *adj.* Purgative; laxative;
 cathartic; *n. f.* a purgative; an aperient.
 masala, See مساله maala.
 misí, P. *adj.* Made of copper.
 misí, yá misí, میستی H. *n. f.* A tooth-
 powder. دان مسی—dán, *n.* a tooth-powder-
 box. مسی کاجل کرنا—kájal karná, *v.* to adorn
 ones self.
 masih } A. *n. m.* Christ; The
 masihá } Messiah.
 masihí, masihái, A. *adj.*
 Christ-like; of Christ, *n. m.* power like that
 of Messiah; a follower of the Messiah; a
 Christian. مسیحائی کرنا masihái-karná, *v.* to
 perform Christ-like acts; to heal the sick;
 to recall the dead to life.
 masen, مسن, H. *n. f.* Hair or down on the
 lips of a youth.
 mushábeh, A. *n. f.* Like; analogous;
 resembling; *n. m.* resemblance; picture;
 probability.
 mushábehât, A. *n. f.* Resemblance;
 likeness; similitude. مشابہت رکھنا—rakhná, *v.*
 to bear resemblance.

mushátamat, A. *n. f.* Reproach;
 abusing.
 mushár, A. *adj.* Signified; pointed out;
 indicated. شارالیه—un-ilaih, *adj.* aforesaid;
 touched upon before; related above.
 mushárik, A. *n. m.* A partner; a sharer.
 mushárkat, A. *n. f.* Community; co-part-
 nership; society; fellowship. [tire-woman.
 mashshátagi, A. *n. f.* The business of a
 mashshátah, A. *n. f.* A waiting maid; a
 bride-dresser; a go-between.
 musha'era, A. *n. m.* Excelling in poetry;
 lying or sleeping together under one coverlet;
 a meeting of poets; contending with in
 poetry. [Lamps.
 masháil, A. *n. f.* (*Plu. of* مشعل *Masha'íl*)
 mashágil, A. *n. m.* (*Plu. of* مشغله
Mashqahala) occupations; employments.
 musháfah, A. *n. m.* Speaking to one's
 face, lip to lip. بالمشافه bil—*adj.* face to face.
 mashsháq, A. *adj.* Well-practised; *n. m.*
 a practiser; one well-practised; proficient.
 mashsháqí, P. *n. f.* Practice; exercise;
 constant practice. [smelling.
 mashám, A. *n. m.* The smell; sense of
 mashávarat, A. *n. f.* Consultation; con-
 ference; counsel.
 musháhada, A. *n. m.* Sight; observation;
 ocular demonstration; vision; witnessing;
 beholding. مشاهده کرنا—karna, *v.* To behold;
 to observe.
 musháhará, A. *n. m.* Monthly salary;
 emoluments; pay; wages; allowance. مشهوره
 bilmuqta'; *n. m.* Consolidated; fixed
 salary.
 mashahír, A. *n. m.* (*Plu. of* مشهور *Mash-
 hoor*). Famous persons.
 masháekh, A. *n. m.* (*Plu. of* شيخ *Shekh*).
 Elders; doctors; patriarchs; old men; holy
 persons; dervishes.
 masháekhána, P. *adj.* and *adv.* Patriar-
 chal; in the manner of holy persons; like
 elders.

مشایختی masháekhi, P. *n. f.* Holiness ; piety.
 مشایح masháe', A. *n. m.* Follower.
 مشایعت masháya'at A. *n. f.* Following ;
 adhering to ; to accompany a person to a
 distance while departing. [forated.
 مشبک mushbak, A. *adj.* Latticed ; netted ; per-
 مشبه mushabba, A. *adj.* Likened to ; assim-
 ulated ; *n. m.* simile. مشبه—beh, that to
 which anything is likened or from which a
 simile is drawn.
 مشت musht, P. *n. m.* The fist ; blow ; handful.
 مشت یک yak—, in one payment ; all at once ;
 in a lump. مشت زن—zan, a boxer. مشت مال karná,
 v. to rub the body of a person
 while bathing.
 مشتاق mushtáq, A. *adj.* Desirous ; longing ; ar-
 dent ; fond.
 مشتاقانه mushtáqána, P. *adj.* With great desire.
 مشتبه mushtába, A. *adj.* Ambiguous ; doubtful.
 مشتبه جات قرضه qarzaját—ul vasúl, debt
 of doubtful recovery. [accomplice.
 مشترک mushtarik, A. *n. m.* A partner ; an
 مشترک mushtarak, A. *adj.* Joint ; common. غرض
 مشترك garaz-i—, common object.
 مشتركه mushtaraka, A. *adj.* Joint ; held in part-
 nership. مشتركه خاندان khándán-i—, joint
 family. مشتركه اسم ism—, a homonym.
 مشتری mushtarí, A. *n. m.* A purchaser ; a
 buyer ; *n. f.* the planet Jupiter. [kindled.
 مشتعل mushta'il, A. *adj.* Blaming ; blazing ;
 مشتق mushtaq, A. *adj.* Derived ; *n. m.* deri-
 vative ; excited with anger.
 مشتمل mushtamil, A. *adj.* Containing ; extend-
 ing over ; including ; comprising ; comprehend-
 ing ; inclusive (of). مشتمل هونا—hona, v. to
 contain ; to comprise ; to comprehend.
 مشتهر mushtahir, A. *adj.* Celebrated ; adver-
 tised ; proclaimed. [m. a tonic.
 مشتاهی mushtahí, A. *adj.* Longing ; desiring ; *n.*
 مشتیه mushte, P. *adj.* A little ; a few.
 مشتهر mashí, H. *n. f.* Silence. مشتهر مازنا
 márná, v. to remain silent.

مشتان mishtán मिष्ठान, H. *n. m.* Sweetmeats.
 مشتاقا mushtáqá, सुष्टया, H. *adj.* See مشتاق
 mustáqá *n. m.* A strong bodied and fat
 fellow ; a robust or stalwart fellow. [livel
 مشجر mushajjar, A. *adj.* Figured with the
 forms of trees (or shrubs) and leaves ; *n. m.*
 figured silk-brocade ; tapestry.
 مشخص mushakhkhas, A. *adj.* Specified ; es-
 timated ; distinguished ; stipulated ; fixed.
 مشخص کرنا—karná, v. to specify ; to indivi-
 duate.
 مشدد mushaddad, A. *adj.* Doubled ; *n.* a letter
 marked with the sign of duplication (called
 tashdid).
 مشر mishr, मिश्र, S. *n. m.* A title of Mithilá
 Brahmans ; a form of address to Brahman ;
adj. mixed ; compound ; mingled.
 مشرب mashrab, A. *n. m.* Place of drinking ; a
 reservoir of water ; a sect ; religion ; nature.
 مشرر musharrah, A. *adv.* In detail ; annotated ;
 explained.
 مشرف musharrif, A. *adj.* High ; overhanging.
n. m. an observe ; an officer in a treasury.
 مشرفر musharraf, A. *adj.* Exalted ; honoured.
 مشرف کرنا—karná, v. To exalt ; to honour.
 مشرق mashriq, A. *n. m.* The east ; the orient.
 مشرقی mashriqi, A. *adj.* Eastern ; oriental.
 مشرقین mushriqain, A. *n. m.* The east and the
 west. بعدالمشرقین ba'dul—, the distance of the
 east and the west.
 مشرک mushrik, A. *n. m.* A polytheist ; one who
 denies the unity of God ; an idolator ; an in-
 fidel. [imbibed.
 مشروب mashrúb, A. *adj.* Drinkable ; drunk ;
 مشروح mashrúh, A. *adj.* Explained ; above-men-
 tioned ; declared ; illustrated.
 مشروط mashrút, A. *adj.* Stipulated ; agreed
 upon ; conditional ; pledged.
 مشروطاً mashrútan, A. *adj.* Conditionally.
 مشروع mashrú', A. *adj.* Legal ; conformable to
 or prescribed by law ; initiated ; *n. m.* a kind
 of cloth made of silk and cotton.

مشعب mush'abid, A. n. m. A juggler; a conjuror.
مشعر mash'ir A. adj. Signifying; indicating;
bearing the marks (of).

مشعر musha'r, A. n. m. A place near Mecca
where pilgrims sacrifice animals and get
shaved before performing Haj.

مشعرة masha'ra, A. n. m. A place where poets
meet to recite their verses, etc.; a rendezvous
of poets.

مشعل masha'l, A. n. f. A torch; a flambeau.
مشمعل افروز—afroz, a torch-lighter.

مشمعلی masha'lehi, मशालची, H. n. m. A torch-
bearer; a scullion.

مشغلة mashgala, A. n. m. Employment; engage-
ment; pastime; amusement.

مشغول mashgúl, A. adj. Employed; occupied;
busy; diligent.

مشفق mushfiq, A. adj. Kind; affectionate; dear;
n. m. a friend. مشفق مهربان—miharbán, affec-
tionate and kind friend; Dear Sir.

مشفقانه mushfiqána, P. adj. Kindly; friendly;
affectionately.

مشق mashq, A. n. f. Exercise; practice; a copy
to write after. مشق کرنا—karná, v. to prac-
tise; to exercise; to copy.

مشقت mashaqqat, A. n. f. Labour; toil; pains.
مشقت شدید—i-shadid, hard labour.

مشقی mashqí, P. adj. Acquired by practice;
copied on. [for carrying water; a water-bag.

مشك mashk, H. n. f. A leather bag, especially
مشك mushk, P. n. f. Musk. مشك بو—bú, adj.
scented with musk; fragrant. مشك نافع—
náfa, n. m. the musk-bag.

مشكل mushkil, A. adj. Hard; difficult; intri-
cate; n. f. difficulty; hardship; intricacy.
مشكل آسان کرنا—ásán karná, v. to remove
difficulty. مشكل پڑنا—paṛná, v. to meet with
a difficulty. مشكل پسند—pasand, adj. delight-
ing in difficulties. مشكل سے—se, adj. with
difficulty; hardly; scarcely. مشكل کشا—
kushá, n. m. a disperser or solver of difficul-
ties. مشكل کشائی—kushái, n. f. the solving
of difficulties. مشكل میں پڑنا—meṅ paṛná, v.
to get into a difficulty; to be at a loss.

مشکلات mushkilát, A. n. f. (Plu. of مشك Mush-
kil) Difficulties; intricacies.

مشكور mashkúr, A. adj. Grateful; thankful.
مشكور ہونا—honá, To be thankful. [reward.

مشكورى mashkúrí, A. n. f. Thankfulness;

مشكورى mashkúk, A. adj. Doubtful; uncertain;
ambiguous. [horse.

مشكى mushkí, P. adj. Dark bay; n. m. a black
مشكيزة mushkíza, P. n. m. A small leather bag
for carrying water.

مشكين múshkín, P. adj. Musky; black.

مشكين mushken, मुखे, H. n. f. Plu. The arms
tied behind the back as a punishment.

مشكين باندھنا يا چڑھانا mushken bándhna yá
chaháná, P. v. To pinion; to tie the hands
behind the back.

مشلول mashlúl, A. adj. Dried up; paralytic.

مشموله mashmúla, A. adj. Incorporated with;
comprehended; contained.

مشموم mashmúm, A. adj. Odoriferous; fragrant;
perfumed, n. m. Perfume, scent. (Plu.
مشمومات Mashmúmdí).

مشورت mashwarat, P. n. f. } A consultation;
مشورة mushwara, P. n. m. } counsel; advice;
conspiracy; a plot. مشورت يا مشورة کرنا
mashwarat yá—karná, v. to consult or advise
(with); to deliberate. مشورة لینا—lena, v. to
take advice; to consult. مشورت مجرمانه—i-
i-mujrimána, a criminal conspiracy.

مشوش mushauwish, A. adj. Disturbed; un-
easy; perplexed.

مشهد mashhad, A. n. f. A place where a martyr
has died or is buried. [evinced.

مشهور mashhúd, A. adj. Proved; attested; clear;

مشهور mashhúr, A. adj. Well-known; famous;
noted. مشهور کرنا—karná, v. to proclaim; to
publish. مشهور ہونا—honá, v. to become
notorious or famous.

مشي mashí, P. n. m. Walking.

مشيخت mashíyat, A. n. f. Will; pleasure; wish;
the will of God; fate.

مشيخت mashikhat, P. n. m. Oldmen; seniors;
boast.

- مشیر mushir, A. n. m. A counsellor; a minister; a senator. مشیر خاص—i-khás, a privy counsellor. مشیر قیصر ہند—i-Qaisar-i-Hind, Knight Companion of the Bath.
- مشیمہ mashima, A. n. f. Uterus; womb.
- مشین mashin, مشین, H. n. f. (Corr. E. Machine)
- مشین mashaiyan, A. adj. Stately; dignified.
- مصارت musábarat, P. n. f. Patience; endurance.
- مصاحب musáhib, A. n. m. A companion; favourite; aid-de-camp.
- مصاحبت musáhabat, A. n. f. Companionship; society; familiarity; communion.
- مصادر masádir, A. n. m. (Plu. of مصدر Masdur). Infinitive nouns.
- مصارف masárif, A. n. m. (Plu. of مصرف Masraf). Disbursements; expenses. مصارف بیجا—i-bejá, improper or unnecessary expenses.
- مصاف masáf, A. n. f. A field of battle; the ranks of an army.
- مصافحہ musáfaha, A. n. m. Shaking hands.
- مصافحہ کرنا—karná, v. to shake hands; to join hands.
- مصالح masaleh, A. n. m. (Plu. of مصالح Maslahat). Things or affairs conducive to good.
- مصالحت musálahat, P. n. f. } Pacification; re-
- مصالحتہ musálaha, P. n. m. } conciliation; compromise. مصالحت کرنا—karná, v. to compromise; to make peace with.
- مصالہ másala, P. n. m. Ingredients for cooking; spices; seasoning. مصالہ دار—dár, adj. seasoned with spices. مصالہ ڈالنا—dálná, v. to season.
- مصائب musáib, A. n. m. (Plu. of مصیبت Musibat) Misfortune; calamities; afflictions.
- مصباح misbáh, A. n. f. A lamp; light; a lantern.
- مصبر musabbar, A. n. f. Aloes.
- مصصح musahhah, A. n. m. One who revises or corrects; a moderator.
- مصصحہ musahheha, A. adj. Corrected; verified.
- مصحف mashaf, A. n. m. A book; a page; the Qurán. [panied.
- مصحوب mashúb, A. adj. Associated; accom-
- مصدق misdâq, A. n. f. Whatever confirms or proves the truth of a thing.
- مصدر masdar, A. n. m. Source; origin the infinitive mood; a place.
- مصدع musadda', A. adj. Troublesome; that which creates headache.
- مصدق musaddaq, } A. adj. Attested; verified;
- مصدقة musaddaqa, } authenticated, n. m. a verifier; an affirmer; one who believes another.
- مصدور masdúr, A. part. Issued; derived.
- مصدق masdúq, A. part. Authenticated; proved true or genuine.
- مصر misr, A. n. m. A large city; Egypt.
- مصر musir, A. adj. Obstinate; unyielding.
- مصرع misra' } A. n. m. A single line of a
- مصرعة misr'a, } poem; a hemistich. مصرعة
- مصرعة barjasta—, a fine verse composed very easily and at the very moment when it is demanded.
- مصرع masra', A. n. m. Throwing down; protesting; a place where one is thrown down; an arena (for wrestlers). [cost; use.
- مصرف masraf, A. n. m. Expenses; expenditure;
- مصرف masrif, A. adj. Prodigious; extravagant; spendthrift.
- مصرف masrúf, A. part. Expended; employed; engaged; busy. مصرف ہونا—honá, v. to be engaged (in).
- مصري misrí, A. n. f. An Egyptian; sugar-candy.
- مصري کا کوزہ—ká kuzá, a cup shaped lump of sugar-candy.
- مصطبة mastaba, A. n. m. A place for receiving strangers; an inn; a caravansarai.
- مصطفى mustafa, A. adj. Chosen; selected, n. m. a name or title of Muhammad.
- مصطکی mastagí, A. n. f. Gum-mastic; a kind of medicine.
- مصطلح mastalah, A. n. m. Phrase; technical term; an idiom; adj. idiomatic; phraseological; metaphoric.
- مصفا musaffá, A. adj. Clarified; pure.

مصلى musaffi, A. *adj.* Purifying; refining; cleaning; clarifying; *n.* purifier; cleaner.

مصقلا musqala, A. *n. m.* An instrument for polishing; a smooth shell.

مصقول masqúl, A. *part.* Polished; furbished.

مصلا musallá, A. *n. m.* A carpet to pray on; a place of prayer; an oratory; a mosque.

مصلى musleh, A. *n. m.* An adviser; a reformer; a corrective; an antidote.

مصلاحت maslahat, A. *n. f.* Expedience; convenience; advisability; advice; policy. مصلاحت كرنا —karná, *v.* to consult together; to conspire. مصلاحت وقت —i-waqt, good and proper for the time being; seasonable; opportune. [adly.

مصلاحتان maslahatan, A. *adv.* Expediently; advi-

مصلوب maslúb, A. *adj.* Crucified.

مصلى musallí, P. *n. m.* One who prays.

مصمم musammam, A. *adj.* Determined; fixed; concluded; firm. [wrought.

مصنع musanna', A. *adj.* Artificial; fictitious;

مصنف musannif, A. *n. m.* An author; a composer; a writer; an editor.

مصنف musannaf, A. *adj.* Composed; written.

مصنفات musannafát, *pl. n. f.* books; works; writings.

مصنوع masnú'a, A. *adj.* Formed; created; artificial; constructed; invented. مصنوعات masnú'át, *plu. n. m.* things artificially made; works of art; fabrics; manufactures, inventions. [counterfeit; false.

مصنوعي masnú'í, A. *adj.* Artificial; fabricated;

مصور musavvir, A. *adj.* Forming; painting; *n. m.* a painter; a liner; a drawer; a photographer; sculptor.

مصور musavvar, A. *adj.* Formed; painted.

مصورى musavvirí, A. *n. f.* The art of painting; drawing photography.

مصيبة musíbat, A. *n. f.* A misfortune; disaster; calamity; misery. مصيبة [هوانا —uñháná, *v.* to suffer misery. مصيبة زدا —zada, *adj.* unfortunate; miserable. مصيبة میں پڑنا —men pārná, *v.* to befall a misfortune; to be overtaken by misery.

مضارب muzárib, A. *n. m.* A combatant; a fencer; a factor; a manager; an agent.

مضارع muzára', A. *adj.* Resembling; *n. m.* (in *Gram.*) the aorist.

مضاعف muzá'af, A. *adj.* Doubled; increased.

مضاف muzáf, A. *adj.* Added; annexed; related; *n. m.* (in *Gram.*) the noun possessed. مضاف الیه —ilaih, a noun or pronoun in the possessive case, *e. g.* in زيد کا گھوڑا Zaid ká ghoṛá, گھوڑا is مضاف and زيد is مضاف الیه.

مضافات muzáfát, A. *n. m.* (*Plu. of* مضافات Muzáfát), appendages; annexations; additions; suburbs. مضافات شہر —i-shahr, outskirts of a city.

مضامير mazámír, A. *n. m.* (*Plu. of* مضامير mizmár) Race-courses; hippodromes.

مضامين mazámín, A. *n. m.* (*Plu. of* مضامين Mazámín). The contents; subject; compositions.

مضائقه muzáeqa, A. *n. m.* Penury; distress; significance; consequence. کچھ مضائقہ نہیں kuchh—nahíñ, it is of no consequence; no matter; never mind. کیا مضائقہ kyá—, what matter?

مضبوط mazbút, A. *adj.* Strong; firm; fixed; durable; fast; possessed; resolute; restrained; cogent; solid. [solidity; cogency.

مضبوطى mazbúti, P. *n. f.* Strength; durability;

مضحك muzhik, A. *adj.* Ridiculous; droll; *n. m.* a laughing stock; one who causes laughter; a buffoon.

مضحكات muzhikát, A. *n. f.* Jests; jokes.

مضحكة mazhaka, A. *n. m.* Humour; ridicule; fun; drollery; pleasantry; a *bon-mot*. مضحكة اُڑانا —uṛáná, to ridicule; to droll.

مضر muzir, A. *adj.* Pernicious; hurtful; noxious; injurious.

مضرب mizráb, A. *n. f.* An instrument of striking; the hooked ring with which a guitar is struck. [damage.

مضرت muzzarrat, A. *n. f.* Injury; hurt; harm;

مضروب mazrúb, A. *n. m.* Multiplicant; *adj.* hurt; injured; wounded. مضروب فیه —fih, *n. m.* multiplier.

مضطر muztar, A. *adj.* Distressed ; agitated ; scattered ; embarrassed ; restless.

مضطرب muztarib, A. *adj.* Agitated ; afflicted ; uneasy ; chagrined ; confused.

مضطرب الحال ul-hál, *adj.* in a state of commotion ; in narrow circumstances ; troubled. [confusedly.]

مضطرباً muztaribna, A. *adj.* Distractedly ;

مضغة mazga, A. *n. m.* A lump of flesh ; a glutton ; an ill-bred person.

مضمار mizmár, A. *n. f.* A race course ; a plain ; a hippodrome ; a place where horses are exercised.

مضمحل muzmahil, A. *adj.* Vanishing ; idle ; fatigued ; infirm ; exhausted ; loosened.

مضمير muzmir, A. *adj.* Conceiving ; imagining.

مضمير muzmar, A. *adj.* Concealed ; imagined ; *n. m.* (in *Gram.*) antecedent. [comprised]

مضمون muzmin, A. *adj.* Contained ; included ;

مضموم mazmúm, A. *adj.* Added ; accumulated ; having the vowel point *zamma* or *pesh*.

مضمون mazmún, A. *n. m.* Contents ; sense ; meaning ; tenor ; subject ; composition ; essay ; article.

مضى mazá, A. It is past. مضى ما مضى — mā — Let bygones be bygones ; let what is passed be passed (*jo hud so hud*).

مطا matá, A. *n. m.* Favour ; protection.

مطابق mutábíq, A. *adj.* Conformable ; suitable ; like ; equal ; corresponding.

مطابق كونا karná, *v.* to compare with ; to make like. مطابق هونا — honá, *v.* to conform ; to suit ; coincide.

مطابقت mutábíqat, A. *n. f.* Conformity ; liking ; equality ; adaptation ; coincidence ; correspondence ; analogy ; similarity.

مطاع muttá', A. *adj.* Obedient ; obeyed.

مطالب matálib, A. *n. m.* (*Plu.* of *Matlab*). Objects ; demands ; wishes ; purposes ; requisitions.

مطالبه matálba, A. *n. m.* A demand ; claim ; amount ; requisition ; execution. عدالت مطالبه 'adálát-i-ját-i-khafífa, *n. f.* court of small causes.

مطالعة mutála'a, A. *n. m.* Contemplation ; study ; reading ; turning the attention (to). مطالعه كونا — karná, *v.* to peruse ; to study ; to read ; to consider. [santry.]

مطابفة mutáyaba, A. *n. m.* Jestng ; joke ; plea-

مطبخ matbakh, A. *n. m.* A kitchen ; a cook-house.

مطبخ mitbakh, A. *n. m.* A cooking utensil ; a cooking pot. [belonging to a kitchen.]

مطبخي matbakhí, A. *n. m.* A cook ; *adj.* of or

مطبع matba', A. *n. m.* A press ; a printing house ; a printing press. [boiled.]

مطبوخ matbúkh, A. *part.* Cooked ; dressed ;

مطبوخ matbú', A. *adj.* Agreeable ; laudable ; natural ; innate ; created with a disposition (to a thing or quality).

مطبوعة matbú'a, A. *adj.* Printed ; pressed ; published ; stamped ; impressed ; coined.

مطرب mutrib, A. *n. m.* A singer ; a musician ; a minstrel.

مطربي mutrib, P. *u. f.* Music ; minstrelsy ; singing. [flowing ; frequent.]

مطرود mutrid, A. *adj.* Prosperous ; current ;

مطروح matrúh, A. *adj.* Rejected ; dejected ; abject ; *n. m.* an infidel.

مطروحات matrúhát, A. *n. m.* (*Plu.* of *مطروح* Matrúh.) Things discarded or rejected.

مطعم muttá'm, A. *n. m.* A glutton.

مطعم mut'im, A. *n. m.* One who feeds others.

مطعم mut'am, A. *n. m.* Eatable ; food.

مطعمات mat'úmát, A. *n. m.* Victuals ; eatables ; viands.

مطعون mata'ún, A. *adj.* Reproached ; opprobrious ; transfixed ; infected with pestilence.

مطلل mutallá, A. *adj.* Gilded ; gilt.

مطلب matlab, A. *n. m.* A question petition ; wish ; meaning ; object ; aim ; purpose ; proposition ; motive ; demand *adv.* in short. مطلب — barári, attaining one's object ; bene-

volence. مطلب — barári karná, *v.* to bring about one's object ; to gratify desire of ; to give effect to (one's) wish or desire. مطلب — rakhná, *v.* to have a concern ; to have

some motive ; to be interested. مطالب کا یازار *matlabi*, *adj.* selfish ; time-serving ; cunning ; *n.* a friend for his own interest ; a time-serving or selfish friend. مطالب نکلنا *nikálná*, *v.* to have one's object served. مطالب نکلانا *nikálná*, *v.* to be successful in gaining one's object ; to serve the purpose ; to effect one's purpose by or through. *مطالب ہے* *be—* without an aim or object. *مطالب یہ ہے* *yeh hai*, the purport is this ; in short ; in brief.

مطلع *matla'*, *A. n. m.* The place of rising, east ; horizon ; the beginning or exordium of a poem. مطالعات *matal'át*, *n. m.* openings of poems. *مطلع صاف ہونا* *sáf honá*, *v.* the sky or the horizon to be cleared ; obstacles to be cleared.

مطلع *muttale'*, *A. adj.* Perceiving ; beholding ; knowing ; acquainted.

مطلق *mntlaq*, *A. adj.* Absolute ; independent ; universal ; supreme ; entire ; *adv.* wholly ; at all ; never. *مطلق العنان* *ul'inán*, *adj.* free ; unchecked ; independent ; unconditional. *رضائے مطلق* *razi-i—*, *v.* unconditional consent.

مطلقاً *mutlaqan*, *A. adj.* Entirely ; absolutely ; altogether.

مطلقة *mutallaqa*, *A. n. f.* A divorced woman.

مطلوب *matlúb*, *A. adj.* Desired ; longed for ; demanded ; necessary ; required ; *n. m.* an object ; a quest ; a purpose ; a sweet-heart. [tempted.

مطروح *matmú*, *A. part.* Lured ; enticed ; مطمن *mutmain*, *A. adj.* Quiet ; secure ; satisfied ; safe. *مطمئن کرنا* *karna*, *v.* to give confidence.

مطبخ *mutanjan*, *A. n. m.* A dish of delicious food ; a kind of rich *پلاؤ* *puláo*. (see *میتھن*).

مطوق *mutavyaq*, *A. adj.* Having a collar or chain round the neck ; marked with a ring round the neck (as a dove, pigeon, etc.).

مطول *mutauval*, *A. adj.* Long ; prolonged ; lengthy ; tall.

مطہر *mutabhir*, *A. adj.* Cleanser ; purifier.

مطہر *mutabhar*, *A. adj.* Cleansed ; purified.

مطہرہ *mutabhira*, *P. n. m.* A vessel for purification with which one washes ; an ewer.

مطیر *matír*, *A. adj.* Rained ; raining ; dropping.

مطيع *mutí*, *A. adj.* Obedient ; submissive ; amenable ; subject (to).

مظاہر *mazáhir*, *A. n. m.* (*Plu. of* *مظہر* *Mazhar*) Manifestation ; spectacles.

مظفر *muzaffar*, *A. adj.* Victorious ; successful ; august. *مظفر و منصور* *o-mansúr*, rendered victorious and aided by heaven.

مظلل *muzallal*, *A. adj.* Shaded (from the sun).

مظلم *muzlim*, *A. adj.* Dark ; black ; mysterious. *n. m.* One who passes through darkness.

مظلمہ *muzlima*, *A. n. m.* Oppression ; tyranny ; injustice.

مظلوم *mazlúm*, *A. adj.* Injured ; oppressed ; mild ; wronged ; treated tyrannically ; *n.* one who is treated wrongfully or unjustly.

مظلومی *mazlúmi*, *A. n. f.* Modesty ; the state of being oppressed ; oppression ; tyranny.

مظنہ *mazinna*, *A. n. m.* Suspicion ; opinion ; conjecture.

مظہر *mazhar*, *A. n. m.* A place of spectacle ; theatre ; stage ; object ; view.

مظہر *muzhir*, *A. adj.* Exhibiting ; displaying ; manifesting ; *n. m.* an exhibitor ; a deponent ; an informer ; a displayer. *مظہر ہونا* *honá*, *v.* to inform ; to depose.

مظہرہ *muzhira*, *A. adj.* Stated ; deposed ; exhibited ; declared ; affirmed.

مع *ma'*, *A. adv.* With ; together ; along with ; in company (of).

معاً *ma'an*, *A. adv.* All at once ; instantly ; along with ; together ; at the same time.

معاہد *ma'ábid*, *A. n. m.* (*Plu. of* *معبد* *Ma'bad*) Places of worship.

معاہر *ma'ábir*, *A. n. m.* (*Plu. of* *معبر* *Ma'bar*) Places where a river is fordable.

معاتب *ma'átib*, *A. n. m.* Reprover ; chider ; expostulator.

معاتب *ma'átab*, *A. part.* Reproved ; blamed.

مغایر *gair—*, blameless ; unapproachable.

- معادبت ma'atabat, A. n. f. Expostulation ; reprehension.
- مآد ma'ad, A. n. f. The life to come; the next world ; the Resurrection ; the Paradise.
- مآدلت ma'adalat, A. n. f. Justice ; equality.
- مآدن ma'adin, A. n. m. (Plu. of معدن Ma'dan) Mines ; quarries ; origins ; sources.
- مآذالله ma'azallah, A. intj. God forbid.
- مآرض ma'ariz, A. adj. Opposing ; n. m. opponent ; adversary.
- مآرضه mu'arza, A. n. m. Opposition ; antithesis ; contradiction ; rivalry.
- مآرف ma'arif, A. n. m. (Plu. of معرفه Ma'rifa) Sorts of knowledge ; sciences.
- مآش ma'ash, A. n. f. Livelihood ; landed property. بدمآش—bad—adj. wicked, n. m. one who leads a bad life. نيك مآش—, n. m. one who earns an honest livelihood.
- مآشرت mu'asharat, A. n. f. Living and eating together ; mixing with ; conversing (with) ; social intercourse ; society ; intimacy. مآشرتي—i-khidmát, social service.
- مآسر mu'asir, A. n. m. A contemporary.
- مآسي ma'asi, A. n. f. (Plu. of معصيت ma'siyat) Sins ; acts of disobedience. [ness.
- مآسفت mu'atfat, A. n. f. Benevolence ; kindness.
- مآف ma'af, A. adj. Exempted ; pardoned ; forgiven ; excused ; rent-free. مآف كرنا—karná, v. to pardon ; to forgive ; to excuse ; to remit ; to dispense with.
- مآفي mu'afi, A. n. f. Exemption ; remission ; pardon ; a rent-free grant. دار مآفي—dar, n. m. a holder of rent-free land. مآفي مطلق—i-mutlaq, free pardon. مآفي ناچاريز—i-ná jáyaz, illegal grant. مآفي مانگنا—mágná, v. to apologize ; to beg pardon. مآفي حيون حيات—i-hin hayát, released or exempted during life. مآفي استمراري—i-istamarári, a grant of land is perpetuity. مآفي روننه—rawanna, an order or a permit for the transit of merchandise free of duty.
- مآفي نامه mu'afi, náma, A. n. m. A deed of immunity.
- مآفيات mu'afiyát, P. n. f. (Plu. of معافي Mu'afi) Lands exempted from the payment of rent or revenue.
- مآقبات mu'aqabat, A. n. f. Punishment ; chastisement.
- مآلج mu'alij, A. n. m. A physician ; a doctor.
- مآلجه mu'alaja, A. n. m. Medical treatment ; remedy. مآلجه كرنا—karná, v. to attend or treat as a physician ; to apply a remedy (to) ; to heal ; to cure.
- مآلfi ma'alí, A. n. m. Highnesses ; eminences.
- مآمالات mo'amílat, A. n. m. Dealings ; transactions ; affairs. مآمالات ملكي—múlki, state affairs. مآمالات ملك غير—mulk gair, foreign affairs.
- مآمالة mu'amala, A. n. m. Business ; dealing ; negotiations ; transaction ; a contract ; an affair ; matter ; cause or suit ; (in Law) a cause. مآمالة بننا—banná, v. a bargain to be struck ; an end to be gained. مآمالة پردازي—pardázi, n. f. The transacting of business. مآمالة پكا كرنا—pakká karná, v. to settle a matter finally or definitely. مآمالة پزننا—pazná, v. to have to do or deal with ; dealings to take place (between). مآمالة خارجة—i-khárija, n. m. An irrelevant matter. مآمالة رس—ras ; adj. Thoroughly comprehending an affair. مآمالة سنگين—i-sangín, a serious business ; a grave matter. مآمالة شناس—shinás, adj. well acquainted with business. مآمالة ناصد—i-fásid, a corrupt or dishonest transaction. مآمالة نقدي—i-naqdí, a cash transaction. مآمالة بناء—biná-i—, ground or cause of action. مآمالة كرنا—karná, v. to deal with ; to treat. مآمالة كي—ki haqiqat-i-hál, the merits of a case. [disobedient ; rebellious.
- مآنيد mu'anid, A. adj. Obstinate ; stubborn ;
- مآناقه mu'anaqa, A. n. m. Embracing ; throwing the arms round the neck (of another).
- مآني ma'áni, A. n. m. (Plu. of معني Ma'ni) Meanings ; intended significations or senses ; intrinsic qualities ; elegant mystical meanings.
- مآوآدات mu'avedat, A. n. f. Returning ; relapse.
- مآوآزه mu'awaza, A. n. m. Retaliation ; substitution ; exchange ; remuneration ; compensation ;

revenue. معارضة نقدي —i-naqdí, money compensation.

معاون mu'áwin, A. *n. m.* A helper; an assistant
معاون دریا—daryá, tributary. معاون جرم—
i-jurm, an abettor in a crime; an accessory; an
accomplice.

معاونت mu'áwanat, A. *n. f.* Help; aid; assistance.
معاونت كرنا karná, *v.* to assist; to help.

معاهده mu'áhada, A. *n. m.* A contract, an agree-
ment; an alliance; a treaty; a league; con-
federacy.

معايب mu'áyib, A. *n. m. pl.* Vices; faults;
defects.

معاینه mu'áyana, A. *n. m.* Inspection; sight;
view. معاینه كرنا—karná, to inspect; to exa-
mine.

معبد ma'bad, A. *n. m.* A place of worship.

معبر ma'bar, A. *n. m.* The place where a river is
crossed; a ford.

معبر me'bar, A. *n. m.* A ferry-boat; a pontoon;
a bridge. [dreams.

معبر mu'abbir, A. *n. m.* An interpreter of

معبود ma'búd, A. *part.* Worshipped; adored.
n. m. God; the Deity.

معتاد mu'tád, A. *n. f.* A fixed allowance; a dose;
a due quantity; custom; habit; use.

معتبر mu'tabar, A. *adj.* Reliable, trustworthy;
creditable; true; confidential.

معتبري mu'tabari, A. *n. f.* Credit; reliance;
confidence; respectability; trustworthiness.

معتدبه mu'tadba, A. *adj.* Sufficient; enough;
counted; enumerated.

معتدل mu'tadil, A. *adj.* Temperate; moderate;
tolerable; of a middling sort; calm; mild.
معتدل كرنا—karná, *v.* to temper; to mode-
rate; to qualify.

معتذر mu'tazir, A. *adj.* Objector.

معترض mu'tariz, A. *n. m.* An opposer; an
objector; *adj.* opposing; withstanding; resist-
ing. معترض هونا—honá, to object; to obstruct;
to impede.

معترف mu'tarif, A. *n. m.* One who acknow-
ledges; a confessor; *adj.* acknowledging;
confessing.

معتزل mu'tazil, A. *n. m.* A separatist; dissenter.

معتزلي mu'tazili, A. *n. m.* An infidel; an atheist.

معتصم mu'tasim, A. *adj.* Abstaining; refrain-
ing. *n. m.* one who preserves himself (from
disobedience etc.)

معتقد mu'taqid, A. *n. m.* A believer; a follower
of a creed or faith; an adherent, معتقد هونا—
honá, *v.* to believe in a creed or faith.

معتكف mu'takif, A. *adj.* Constant in devotion;
secluding oneself in mosque for prayer.

معتمد mu'tamad, mu'tamid, A. *adj.* Trustwor-
thy; reliable; confidential. معتمد عليه—'aleh,
a reliable person.

معجزه mu'jiza, A. *n. m.* (Plu. معجزات Mu'jizat).
A miracle. معجزانه طور سے—mu'jizána taur se,
miraculously; by miraculous power.

معجون ma'jún, A. *n. f.* An intoxicating drug
prepared from the extract of hemp and sugar;
an electuary; a medicine.

معدد mu'addad, A. *part.* Counted; numbered.

معدلت ma'dalat, A. *n. f.* Justice; equity;
rectitude.

معدن ma'dan, A. *n. m.* A mine; a quarry.

معدني ma'dani, A. *adj.* Mineral.

معدنيات ma'daniyat, A. *n. f.* Mineral substance.
علم معدنيات 'ilm-i—, mineralogy.

معدود ma'dúd, A. *adj.* Numbered; counted;
computed; limited.

معدوله ma'dúla, P. *part.* Avoided; passed over;
quiescent; silent; applied to a letter which is
written but not pronounced.

معدوم ma'dúm, A. *adj.* Non-existent; annihilat-
ed; extinct. معدوم كرنا—karná, *v.* to annih-
late. معدوم هونا—honá, *v.* to be extinct.

معدة me'da, A. *n. m.* The stomach.

معذب mu'azzab, A. *adj.* Punished; tormented;
prevented; hindered. [an apology.

معذرت ma'zarat, A. *n. f.* An excuse; a plea;

معذور ma'zúr, A. *adj.* Excused; excusable; un-
serviceable; disappointed. معذور كرنا—rakhhá,
v. to excuse; to dispense with; to exempt
from.

معرا mu'arrá, A. *adj.* Naked; bare; bald.

معراج me'ráj, A. n. f. A ladder; ascension; the stages by which Mohammad is related to have ascended from Jerusalem to Heaven.

معرب mu'arrab, A. *adj.* Arabicised **كربنا** karná, *v.* To take words from different languages into Arabic.

معرض ma'riz, A. n. m. Place of meeting or happening; an occurrence; an occasion.

معرّف mu'arrif, A. n. m. One who makes known; an introducer; *adj.* making; praising.

معرّف mu'arrafa, A. *past. part.* Made known; notified; marked.

معرفة ma'rafat, A. n. f. Knowledge; cognizance; science; skill; revelation; cause; means; *prep.* through the medium of; by the hand of.

معرفة ma'rafa, A. *adj.* Determinated; determined. **اسم معرفة** ism—, n. m. Proper noun.

معرّك ma'raka, A. n. m. Fight; a field of battle; strife; point. **معرّك ك آدمي**—ka admi, a man of importance; a great man. [*tion.*

معرض ma'rúz, A. n. f. Representation; petition. **معرضة** ma'rúza, A. *adj.* Dated; written; submitted.

معروف ma'rúf, A. *adj.* Notorious; noted; celebrated; (in *Gram.*) active voice of a verb; the letter (ر) and (ي) are said to be *ma'rúf* when the former has the sound of *u* and the latter of *i*; as in **نور** nur light and **لاركي** lar'ki, a girl.

معزز mu'azzaz, mu'azziz, A. *adj.* Honoured; esteemed; honourable; revered; dignified.

معزول ma'zúl, A. *adj.* Deposed; dismissed; degraded; dethroned. **كربنا**—karná, *v.* to dismiss; to discharge; to disgrace. **معزولنا**—honá, *v.* to be dismissed.

معزولي ma'zúli, A. n. f. Dismissal; deposition; dethronement.

معسر ma'súr, A. *adj.* Difficult; hard; intricate.

معشر ma'shar, A. n. m. A troop; a company; a collective body of people.

معاشر ma'ashshar, A. *adj.* Composed of ten. n. m, A ten sided figure; a decagon.

معشوق Ma'shúq, A. n. m. A beloved object; a sweetheart. [*ing.*

معشوقانه ma'shúq'ana, A. *adj.* Lovely; fascinating.

معشوقية ma'shúqi, A. n. f. The state of being beloved; loveliness.

معصوم ma'súm, A. *adj.* (*Plu.* معصومات Ma'su-mdt). Innocent; guileless; simple; n. m. an innocent; an infant. [*plicity; infancy.*

معصوميت ma'súmiyat, A. n. f. Innocence; sim-

معصيت ma'siyat, A. n. f. Sin; disobedience; defection. [*fragrant.*

معطر mu'attar, A. *adj.* Perfumed; scented;

معطل mu'attal, A. *adj.* Suspended; disengaged; free from work; in abeyance; out of use; unfrequented; abandoned. **كربنا**—karna, *v.* to suspend; to abolish; to put out of employment.

معطلية mu'attali, A. n. f. Suspension from office; being out of employment.

معطوف ma'túf, A. *adj.* Inclined; turned; appended; connected; the first of two words or clauses connected by a conjunction. **معطوف عليه**—a'laih, the second word or clause joined by a conjunction. [*exalted; great.*

معظم mu'azzam, A. *adj.* Honoured; respected;

معظمة mu'azzama, A. *part. adj.* Feminine of معظم mu'azzam.

معقول ma'qúl, A. *adj.* Reasonable; proper; fair; just; appropriate; pertinent; liberal.

معقولات ma'qúlat, A. n. m. (*Plu.* of معقول Ma'qul). Intellectual things; intelligible things; probabilities.

معقولة ma'qúla, A. n. m. Probability; a word or thing consistent with reason; that which is understood.

معقولية ma'qúliyat, A. n. f. Reasonableness; probability. [*reflex; transposed.*

معكوس ma'kús, A. *adj.* Inverted; reversed;

معلق mu'allaq, A. *adj.* Suspended; pending; hanging.

معلم mu'allim, A. n. m. A teacher; an instructor; a perceptor; a tutor; a master. **معلم** mu'allam *part.* taught; instructed; trained; disciplined, n. the taught; a learner; a student;

a pupil. معلم ثانوي—*auvval*, Aristotle. معلم ثانوي—*sání*, Abu Nasar, Fárabi. معلم الملوك—*ul malakút*, Satan. معلم طوطي *túti-e*—, A trained parrot. [instructress.

معلمه *mu'allima*, A. n. f. A female teacher; an

معلمي *mu'allimí*, A. n. f. Teachership; tutorship; instruction. [with fodder; stall-fed. معلمة - معلمة *ma'lúf*, *ma'lúfa*, A. adj. Fed

معلمة *ma'lúl*, A. adj. Indisposed; diseased; distempered; sick; affected.

معلمة *ma'lúm*, A. adj. Known; evident; apparent; (in *Geom.*) data; given (as a line, etc.) معلمة كونا—*karná*, v. to know; to understand; to find out; to discover; to feel. معلمة هونا—*honá*, v. to seem; to appear; to be known; to become known (to); to be discovered; to be deemed. [sciencés.

معلمة *ma'lúmat*, A. n. f. Things known; معلمة *mu'llá*, A. adj. Exalted; elevated; high; sublime. معلمة القاب—*algáb*, of exalted rank or dignity. معلمة اردو *urdu-i-mu'alla*, n. m. language of the court.

معلمة *mu'ammá*, A. n. m. Riddle; enigma.

معلمة *mi'nár*, A. n. m. A mason; an architect; a builder.

معلمة *mi'mári*, A. n. f. Building; architecture; masonry; the occupation of a mason.

معلمة *mu'ammár*, A. adj. Aged; blessed with long life.

معلمة *ma'múr*, A. adj. Inhabited; populous; full; abundant; replete; cultivated; prosperous; delightful.

معلمة *ma'múra*, A. n. m. An inhabited place; a cultivated plot. [tion: fulness.

معلمة *ma'múri*, A. n. f. Cultivation; popula-

معلمة *ma'múl*, A. adj. Governed; established; customary; usual. n. m. habit; custom; practice; a fixed allowance.

معلمة *ma'múli*, A. adj. Customary; common; current; ordinary; usual; due (time).

معلمة *mu'amma*, A. n. m. A riddle; an enigma; a complicated matter; an innuendo.

كونا—*hal karná*, v. to solve an enigma; to untie a knot. [bergris.

معلمة *mu'ambar*, A. adj. Perfumed with am-

معلمة *mu'anqa*, P. n. m. A collar or anything similar round the neck.

معلمة *ma'nún*, A. part. Prefaced.

معلمة *ma'naví*, A. adj. Real; essential; significant; expressive (of); ideal; intellectual; implied-

معلمة *ma'ní*, } A. n. f. Meaning; signification; مضمون *ma'na*, } indication; intent; the hidden or interior part of anything; acceptance.

معلمة كونا—*bayán karná*, v. to explain the meaning; to interpret. معلمة ركنا—*rakná*, v. to imply; to denote; to have the meaning or sense (of). معلمة بے معنی—*be*, without meaning or sense; nonsensical; vain. [addicted.

معلمة *mu'auwad*, A. adj. Accustomed; trained;

معلمة *ma'ún*, A. n. m. Assistance; aid; favour; protection.

معلمة *ma'únat*, P. n. f. Aid; assistance.

معلمة *ma'búd*, A. adj. Agreed on; stipulated; promised; established; resolved; certain.

معلمة *mi'yár*, A. n. m. A touchstone; a standard; a measure. [society.

معلمة *ma'iyat*, A. n. f. Company; fellowship;

معلمة *ma'ishat*, A. n. f. Livelihood; subsistence; daily food.

معلمة *mu'aiyan*, A. adj. Fixed; appointed; established. n. a rhombus (in geom.). معلمة كونا—*karná*, v. to fix; to appoint; to establish.

معلمة وقت—*waqt-e-mu'aiyana*, appointed time.

معلمة *mu'in*, A. n. m. An assistant; a sider; a helper.

معلمة *ma'yúb*, A. adj. Bad; defective; improper; reprehensible; infamous.

معلمة *mag*, A. n. f. Depth.

معلمة *mug*, P. n. m. A tavern-keeper; a worshipper of fire.

معلمة *magák*, P. n. m. A pit; a hollow; a ditch.

معلمة *mugálata*, A. n. m. Leading into error; delusion; deception; error. معلمة دغا—*dená*, v. to mislead; to delude; to practise deception; to lead into error.

مغان *mugán*, P. n. m. (*Plu. of* مغ *Mug*) Fire-worshippers. مغال پير *pir-e*—, religious head of fire-worshippers. [repugnant.

مغایر *mugáyar*, A. *adj.* Contrary; adverse;

مغایرات *mugáyarat*, A. n. f. Exchange; disagreement; estrangement; repugnance.

مغتنم *mugtaním*, A. *adj.* Enriched; endowed with abundance; enjoying; taking delight (in).

مغتنم *mugtanám*, A. *adj.* Accounted as invaluable prize; regarded as a blessing. [arms.

مغچه *mugcha*, P. n. m. Soreness under the

مغرب *magrab yá magrib*, A. n. m. The west; the western quarter; occident. مغرب ریه—

rúya, *adj.* Facing the west; westerly. مغرب کی—
ki namáz, n. f. evening prayers.

مغربی *magrabí*, A. *adj.* Western; occidental.

مغربی تہذیب—*i-tahzib*, n. f. European etiquette. مغربی تعلیم—*i-ta'lim*. n. f. English education.

مغراق *mugarraq*, A. *adj.* Immersed; sunk (in); dipped; gilt; ornamented with gold or silver,

مغرور *magrúr*, A. *adj.* Proud; arrogant; haughty.

مغروری *magrúrí*, P. n. f. Pride; arrogance; haughtiness.

مغز *magz*, P. n. m. The brain; marrow; kernel; pith; the chief substance or essence (of anything); intellect; pride. مغز آرنا—*urná*, v. to

feel distracted. مغز پھاننا یا پھراننا یا خالی کرنا—
pacháná yá phiráná yá khálí karná, v. to

talk much and foolishly; to rack the brain.

مغز کھانا—*kháná*, v. to distract; to tease; to worry. مغز بے—*be*—, brainless; empty-headed; n. a brainless fellow.

مغزی *magzí*, P. n. f. Edging; border; hem.

مغزیات *wagziyát*, P. n. m. (*Plu. of* مغز *Magz*). Pulp or succulent parts of fruits.

مغضوب *magsúb*, A. *part. adj.* Irritated; incensed. مغضوب عالیہ—*alah*, n. m. one who has incurred displeasure.

مغفار *migfar*, A. n. m. A helmet; a mail; or network of steel worn under the helmet.

مغفرت *magfirat*, A. n. f. Pardon; remission; absolution. — [deceased; death.

مغفور *magfúr*, A. *adj.* Pardoned; forgiven;

مغال *mugal*, T. n. m. A Mogal; one of the four sects of Mohammadans, the remaining three

being سید Saiyed, شیخ Shaikh and پٹھان Pathán. Out of these four sects Saiyed is the highest and Shaikh comes next in status.

مغلانی *mugláni*, A. n. f. A Mogal woman; an attendant in a harem or women's apartment; a needle woman.

مغاللاز *mugallaz*, A. *adj.* Hard; rigorous; severe; very foul; impure; offensive (language).

مغاللازات *mugallazát*, A. n. f. Abusive languages; abuses. [cate.

مغلاقی *muglaq*, A. *adj.* Abstruse; obscure; intricate.

مغلام *muglim*, A. n. m. A sodomist; libidinous.

مغلوب *maglúb*, A. *adj.* Conquered; overcome; subdued. مغلوب کرنا—*karná*, v. to subdue; to

overcome. مغلوب الغضب—*ul-gazab*, *adj.* passionate; choleric; irascible.

مغلوبیت *maglúbiyat*, P. n. m. Subjection; subjugation; vassalage.

مغلوب *maglúq*, A. *part.* Obscured; hidden.

مغلائی *muglaí*, A. *adj.* Having gold and silver lace.

مغموم *magmúm*, A. *adj.* Sad; grieved; sorrowful; afflicted; mournful. مغموم ہونا—*honá*, v. to be sorrowful.

مغنی *muganní*, A. n. m. A singer; a musician. *adj.* making free from want.

مغنیہ *muganniya*, A. n. f. A female singer.

مغیب *mugaiyab*, A. *adj.* Hidden; concealed; invisible.

مغییر *mugaiyar*, A. *adj.* Altered; changed.

مغلیان *magláin*, P. n. f. A species of Mimosa or Acacia tree (*babúl*, *kikar*).

مفاجات *mufaját*, A. n. f. Happening suddenly or unexpectedly; *adj.* sudden; unexpected.

مفاجات مرگ *marg*—, sudden death.

مفاجرت *mufakharat*, A. n. f. Boasting (against) arrogance.

مفارقة *mufaraqat*, A. n. m. Separation; alienation; forsaking. [Evils; pernicious things.]

مفاسد *mufásid*, A. n. f. (Plu. of مفسدة *Mufsada*).

مفاصل *mufásil*, A. n. m. (Plu. of مفصل *Mafsil*). Joints of the body; articulations.

مفاصلا *mufásala*, A. n. m. Distance; space; interval; separation.

مفت *muft*, P. *adj.* Gratuitously; for nothing; gratis; *adv.* without payment; in vain. مفت *مفت*

مفت *مفت*—*men*, *adv.* gratis; for nothing. مفت خور *مفت خور*

—*khór*, a parasite; a hanger-on; a loafer. مفت را چه گفت *مفت را چه گفت*—*rá-chi-guft*, one cannot murmur at a gift. مفت میں کام کرانا *مفت میں کام کرانا*—*men kám karána*, *v.* to get work done for nothing.

مفتاح *miftáh*, A. n. f. A key.

مفتخر *muftakhar*, A. *adj.* Eminent; grandy; dignified.

مفتخر *muftakhir*, A. *adj.* Boaster; braggart.

مفتقر *muftar*, A. *adj.* Enfeebled; weak; languid.

مفتري *muftri*, A. *adj.* Knavish; tricky; *n. m.* a slanderer; a liar; a knave; a rogue.

مفتقر *muftaqar*, A. *adj.* Reduced to poverty; becoming needy.

مفتوح *maftúh*, A. *part.* Captured; taken; conquered; subdued (as a town, &c.); (in *Gram.*) pronounced with the vowel, *fataha* (ا) *zabar* in Urdu.

مفتون *maftún*, A. *adj.* Tried by temptation or affliction; tempted; fascinated; enamoured; captivated; charmed.

مفتي *muftí*, A. n. m. Mohammadan jurist or law officer; an expounder of Mohammadan law. مفتي گري *مفتي گري*—*garí*, *n. f.* The office or duty of a *Mufti*.

مفتخر *mafkhār*, A. n. m. An object of glory.

مفتخر *mufakhhār*, A. *adj.* Exalted; glorious.

مفقر *mafarr*, A. n. m. (Plu. of مفار *Mafār*). A place of refuge; an asylum.

مفروح *mufarrāh*, A. *adj.* Exhilarating; refreshing; stimulating; reviving; recreating.

مفرد *mufrad*, A. *adj.* and *n. m.* Solitary; single; simple; sole; alone.

مفردات *mufradát*, A. n. m. (Plu. of مفرد *Mufrad*) Simple; uncompounded medicines.

مفروا *mufrit*, A. *adj.* Excessive; vast; transcendent.

مفروق *mafriq yá mafraq*, A. n. m. The middle or the crown of the head.

مفروح *mafrúh*, A. *adj.* Glad; joyful.

مفروار *mafrúr*, A. n. m. A run-away; *adj.* fugitive; escaped.

مفرواري *mafrúrí*, P. n. f. Flight.

مفروض *mafrúz*, A. *adj.* Supposed; hypothetical.

مفروق *mafrúq*, A. *adj.* Separated; subtracted. مفروق *مفروق*—*minho*, the subtractor.

مفسد *mufsid*, A. *adj.* Mischievous; factious; *n. m.* a seditious person; a mischief-maker; an incendiary; a ring-leader. مفسد پن *مفسد پن*—*pan*, *n. m.* seditiousness; mischief. مجمع مفسدان *مجمع مفسدان*—*majma'-i-mufsidán*, a riotous assembly; a mob. [tiously.]

مفسدانه *mufsidána*, A. *adj.* Feloniously; seditiously.

مفسدة *mufside*, A. n. m. A riot; anything tending to disturb or corrupt. مفسدة برپا کرنا *مفسدة برپا کرنا*—*barpá karná*, *v.* to set up a riot.

مفسر *mufassar*, A. *adj.* Commented on; explained; expounded.

مفسر *mufassir*, A. n. m. (Plu. of مفسرين *Mufassarin*). A commentator; an interpreter.

مفصل *mufassal*, A. *adj.* Analysed (as speech); explained distinctly or in detail; clear; plain; full; detailed; fully; *n.* the country, as distinguished from the town. مفصل کہنا *مفصل کہنا*—*kahná*, *v.* to detail; to mention or describe in detail.

مفصلات *mufassalát*, A. n. m. (Plu. of مفصل *Mufassil*) Details; particulars.

مفصل *mafsíl*, A. n. m. Joint of a body. (Plu. مفصلات *Mafasil*).

مفصل *mufazzal*, A. *adj.* Generous; bounteous.

مفعول *maf'úl*, A. n. m. (in *Gram.*) Accusative case. مفعول نيه *مفعول نيه*—*i-fih*, the locative case. مفعول ليه *مفعول ليه*—*lahu*, the dative case. مطلق *مطلق*—*mutlaq*, cognate accusative. اسم مفعول *اسم مفعول*—*ism-i-*, the passive participle.

مفتوليات maf'úliyat, P. n. f. The state of being passive.

مفتقد mafqúd, A. adj. Not to be founded; missed; lost; extinct; wanting; lacking. مفقود الخبر—ul-khabar, of unknown whereabouts; of whom no information or news is forthcoming.

مفتس mufís, A. adj. Insolvent; bankrupt; poor; penniless; indigent; n. m. a pauper; an insolvent; a penniless person. مفاس كونا—karná, v. to impoverish.

مفتس mufís, A. n. f. Poverty; indigence; pauperism.

مفتس mafúj, A. adj. Paralytic.

مفتك mafúk, A. adj. Unfortunate; distressed; indigent; destitute.

مفتوضة mufawwaza, A. adj. Resigned; ceded; committed to the care of; entrusted; consigned; delivered.

مفتوم mafhúm, A. adj. Understood; comprehended; n. m. an object; meaning; sense. مفوم كونا—karná, v. to imply.

مفتيد mufíd, A. adj. Useful; beneficial; advantageous; profitable. مفيد كونا—honá, v. to be useful; to be profitable.

مفتير mafábir, A. n. m. (Plu. of مقبرة Maqbira). Tombs; sepulchres; graves; burial-places; graveyards; mausoleums.

مفتيل mafábil, A. adj. Opposite; converse; confronting; against; matching; comparing; prep. in opposition (to); in front (of): face to face; in comparison (with). مفائل آنا—áná, to come in front of; to face; to oppose; to challenge; to defy.

مفتبل mafábla, A. n. m. Opposition; confronting; encounter; competition; comparing. مفبل كونا—karná, v. to oppose; to confront; to compete; to check; to compare. مفبل كونا—honá, v. to encounter; to meet; meeting face to face.

مفتبل mafábla, A. n. m. A dressing box or case.

مفتبل mafáblh, A. n. m. Evils.

مفتل mafátala, A. n. m. Slaughter; carnage; battle; conflict.

مفترب mafárbat, A. n. f. Drawing near (to) approximation.

مفترب mafárbat, P. n. f. Connexion; conjunction; familiarity. [tioning.

مفتس mafásama, A. n. m. Dividing; partitioning.

مفتس mafásid, A. n. m. (Plu. of مقصد Maqsad). Objects; purposes; aims; attempts.

مفتس mafáte', A. n. m. Cutter.

مفتس mafáti', A. n. m. (Plu. of مقطع Maqta'). Cutting; places of cutting. [keeper.

مفتس mafá'id, A. n. m. Guardian; preserver;

مفتس mafáq, A. n. m. Word; speech; discourse.

مفتس mafála, A. n. m. A book (as of Enclid); saying; speech; discourse; treatise; an adage; a proverb.

مفتس mafám ya muqám, A. n. m. Place; site; situation; position; station; residence; halt; occasion. مفام النقط—un-noqát; locus (in Geom.) مفام كونا—bolná, v. to order a halt.

مفتس mafám—dená, v. to go out for condolation.

مفتس mafám—karná, v. to halt; to encamp; to stay. مفام محمود—i-mahmood. The highest place where Mohammad reached on his M'iraj.

مفتس mafámát, A. n. m. (Plu. of مفام Muqám). Places; stations.

مفتس mafámir, A. n. m. A player at dice.

مفتس mafámi, A. adj. Resident; stationary; local. مفامي جماعت—jamá'at, n. f. local body. مفامي حكومت—hukúmat, n. f. local Government. [sition; competition.

مفتس mafáwamat, A. n. f. Resistance; oppo-

مفتس mafbara, A. n. m. A mausoleum; a tomb.

مفتس mafbil, A. adj. Inclining towards; looking forward; approaching.

مفتس mafbúza, A. adj. Seized; captured; taken possession of; possessed; occupied.

مفتس mafbúl, A. adj. Accepted; received; admitted; pleasing; grateful; chosen; n. f. a mistress. [acceptibility.

مفتس mafbúliyat, P. n. f. Agreeableness;

مفتس maftabas, A. adj. Quoted; borrowed; acquired; n. m. one who borrows or quotes from the writings of others.

مقتداً muqtadá, A. n. m. He whom others follow.

مقتدر muqtadir, A. adj. Powerful; strong; able.

مقتدي muqtadí, A. n. m. A follower; an imitator.

مقترب muqtarib, A. n. m. One who is brought near; adj. brought near; approached.

مقتصر muqtasar, A. adj. Abbreviated; abridged.

مقتضا muqtazá, A. n. m. Demand; necessity; expediency. *بمقتضا* ba—e, *adv.* in conformity (with); according (to); in consequence (of).

مقتضي muqtazí, A. adj. Requiring; demanding; exacting; n. m. a demander; an exacter.

مقتل maqtal, A. n. m. A place of slaughter or of execution.

مقتول maqtúl, A. adj. Killed; slain; n. m. one who is slain; a lover.

مقدار miqdár, A. n. f. Magnitude; size; dimension; quantity; measure; amount; rate; term (of life). مقدار مجهول—i-majhúl, an unknown quantity. مقدار معروف—i-ma'rúf, a known quantity. مقدار مقررة—i-muqarrara, a fixed amount or quantity. مقدار متوافقة—mutawáfiqah; commensurable magnitude. مقدار غير متوافقة—ghair mutawáfiqah; incommensurable magnitude.

مقدار muqádar, A. n. m. Fate; destiny.

مقدر muqaddir, A. n. m. Predestinator; God; the Designer. [vigour; potency.

مقدرات maqdarat, A. n. f. Strength; power;

مقدس muqaddas; A. adj. Consecrated; holy; sanctified; hallowed. بيت المقدس bait-ul—, Jerusalem. كتاب مقدس—kitáb, the Holy or Blessed Book; Holy Scripture.

مقدم maqdam, A. n. m. Coming back; arrival; place for stepping.

مقدم muqaddam, A. adj. Antecedent; prior; preceding; first; superior; more important; chief; n. m. a village headman; a chief; a leader; hypothesis (in *Geom.*). مقدمة الجيش—

at-ul-jaihs, n. m. The advanced guard of an army sent before to fix encamping ground. مقدم جاننا—janná, *v.* to consider preferable (to

or over); to deem superior (to) or more important. مقدم ركنا—rakhná, to give preference over. مقدم هونا—honá, *v.* to be first or most binding; to precede; to stand before.

مقدمات muqaddamát, A. n. m. (*Plu. of مقدمة Muqaddama*). Preliminaries; prefaces; law suits; cases.

مقدمة muqaddama, A. n. m. The first part; a preliminary; a preamble (to speech); a preface (to a book); an introduction; a subject; an affair; matter; proceedings; a law suit; a case. مقدمة بنانا—bananá, *v.* to get up a case. مقدمة جيتنا—jítaná, *v.* to win a case. مقدمة كهزا كرنا—khará karná, *v.* to institute a suit; to prosecute. مقدمة هارنا—hárná, *v.* to lose one's case

مقدور maqdúr, A. n. m. Power; means; resources; ability. قدر حقير المقدور—bhar hattal—, *adv.* to the best of one's power or ability; with all one's might. قدر نه ركنا—na rakhná, not to possess the power or ability for. والا—wálá, a rich or powerful person; a capitalist. حسب المقدور hasbúl—, *adv.* According to one's power or ability.

مقر muqir, A. adj. Admitting; conferring; affirming; acknowledging; professing; executing; establishing. مقر جرم هونا—i-jurm honá, to plead guilty. مقر هونا—honá, *v.* to admit; to confess; to avow. [habitation.

مقار maqarr, A. n. m. A place of rest; dwelling; مقراض miqaráz, A. n. f. Scissors; shears.

مقرب muqarrab, A. adj. Admitted; approximate. مقرب الخدمة—ul-khidmat, a confidential servant; n. m. an intimate; a favourite; a relative.

مقرر muqarrar, A. adj. Fixed; established; certain; appointed; confirmed; determined; imposed; ascertained; employed; *adv.* assuredly; positively. مقرر كرنا—karná, *v.* to fix; to settle; to establish; to appoint; to employ; to impose; to assign.

مقرررة muqarrara, A. adj. Fixed; established; prescribed; defined; usual; n. m. a fixed allowance.

مقروى muqarrarí, A. n. f. A fixed stipened ; a fixed tenure in perpetuity ; fixed lease ; quit-rent ; an appointment ; *adv.* certainly. دار مقروى دار—dár, n. m. a fixed rate tenure-holder.

مقروض muqarraz, A. part. Cut ; clipped.

مقروض maqrúz, A. adj. Indebted.

مقروقة - مقرووق maqrúq, muqrúqa, A. adj. Seized ; attached ; (in Law) confiscated.

مقرون maqrún, A. adj. Near ; amounting to ; connected ; joined ; contiguous.

مقري muqrí, A. n. m. A person who teaches how to recite Qurán.

مقسم maqşam, A. n. m. Part ; portion.

مقسم maqsim, A. n. m. Place of partition.

مقسم muqassim, A. n. m. A divider ; a distributor.

مقسم muqsim, A. n. m. One who swears.

مقسم maqsúm, A. adj. Divided ; distributed ; apportioned ; allotted ; *n. m.* a portion ; lot ; fate ; destiny. مقسوم عليه—alaih, the devisor. المقسوم عليه اعظم—alaih a'zam, the greatest common measure. المقسوم كما لكها—ká likhá, the degree of fate. مقسوم كي بات هـ—kí bát hai, it is a matter of fate or destiny.

مقشر muqashshar, A. adj. Barked ; skinned ; peeled ; husked.

مقصد maqsad, A. n. m. Purpose ; intention ; design ; object ; aim ; desire. مقصد بر آنا—bar aná, *v.* to attain one's object ; wish to be gained. [failing (of).

مقاصر muqassar, A. adj. Deficient ; defective ;

مقاصر muqassir, A. adj. Sinner ; guilty.

مقصد muqsúd, A. n. m. Intent ; design ; object ; aim ; view. [diminished.

مقصورة maqsúra, A. adj. Abridged ; abbreviated ;

مقطا miqat, A. n. m. A piece of bone or bamboo, etc. on which writing-reeds or pens are nibbed.

مقطار muqattar, A. adj. Distilled ; exuded in drops. مقطار آب اب مقطار—áb-i—distilled water.

مقطر muqattir, A. adj. Dripping ; distilling.

مقطع maqta', A. n. m. The last verse of a poem in which the writer introduces his *nom de plume* ; an abrupt, breaking off ; a place of separation ; a pause (as in reading verse).

يه مسائل تصرف يه ترا بيان غالب

تجه هم والى سمجهتم جو نه باده خزار هوتا

Ye masáil-e-tasawwaf yih terá bayán Ghálib ; Tujhe ham walí samajhte jo na báda khwár hotá.

Note :—This verse is an example of مقطع. It contains the name of the poet Ghálib who has composed this verse.

مقطع miqta', A. n. m. Shears for cutting, cloth, silver etc.

مقطع muqatt'a, A. adj. Cut ; well-dressed ; cut or trimmed according to the *shara'* (as a beard) ; serious ; solemn.

مقطعات muqatta'át, A. n. m. (Plu. of مقطع Muqatta') Small cuttings (of cloth) ; short verses or poems.

مقاطع maqtu', A. part. Cut into pieces, *n. m.* a person who goes astray from a caravan.

مقعد miq'd, A. n. f. Anus ; rectum.

مقعر muqa'r, A. adj. Deep ; profound ; excavated.

مقفا muqaffá, A. adj. Measured ; rhythmical.

مقفل muqaffal, A. adj. Locked. مقفل كرنا—karná, *v.* to lock up ; to bolt (a door).

مقابل muqallib, A. adj. Turning ; converting ; changing ; *n. m.* an investor ; a turner. مقابل القلوب—ul-qulúb. The converter of hearts i. e. God. [an imitator.

مقلد muqallid, A. n. m. A disciple ; a follower ;

مقلوب maqlúb, A. adj. Inverted, turned ; reversed ; changed transposed. مقلوب مستوي—mustawí, *n. m.* a word or sentence which may be read backward or forward as : درد or in English madam ; palin-drome.

مقناتيس miqnátis, A. n. m. The magnet ; a load-stone (chumbak).

مقنعة muqna', A. n. prop. Name of a person of great ability who had invented something resembling the moon. This artificial moon gave light to several cities.

مقنعه یا مقنع maqna', A. n. m. Bridal veil worn over the head and reaching almost to the ground.

مقولہ maqûla, A. n. m. A maxim; a saying; an adage; a quotation. مقولہ بیان کرنا—bayân karnâ, to utter a saying or a proverb.

مقولات maqûlát, A. n. m. (Plu. of مقولہ Maqûla) Sayings; proverbs.

مقوّم muqawwim, A. n. m. One who sets right or rectifies, *adj.* making straight; rectifying; arranging.

مقووی muqawwí, A. *adj.* Strengthening; invigorating. مقووی باه—bâh, Aphrodisiac; stimulant. مقووی دل—dil, *adj.* cordial. مقووی دماغ—i-dimâg, *adj.* cephalic. مقووی کبد—i-kabid, *adj.* hepatic. مقووی معدة—me'da, *adj.* tonic.

مقهور maqhûr, A. *adj.* Conquered; overcome; disturbed; oppressed.

مقوی muqí, A. n. m. An emetic.

مقیاس miqyâs, A. n. m. A measuring instrument; the style of a dial; a meter; the hand of a watch; the milometer in Egypt. مقیاس الحرارة—ul-harârat, n. thermometer. مقیاس الماء—ul-mâ, a hydrometer. مقیاس العوسم—ul-mausim, a barometer.

مقید muqaiyad, A. *adj.* Imprisoned; confined; shackled; fettered in chains; restricted; strict; dedicated to; noted.

مقیّش muqqaish, A. n. m. Brocade; gold or silver thread. [broidered.]

مقیّش muqaiyash, A. *adj.* Brocaded; embroidered.

مقیم muqím, A. *adj.* Residing; stationed; fixed; n. m. resident; a broker. مقیم ہونا—honâ, v. to reside; to stay; to halt.

مکّا mukká, मुक्का H. n. m. A blow with fist; buffet. مکّا مارنا—márnâ, v. to give a blow or box.

مکتب makátib, A. n. m. (Plu. of مکتب Maktab) Schools. [pondence.]

مکتوبات makátabat, A. n. f. Epistolary; correspondence.

مککار makkâr, m. } A. *adj.* Cunning; artful; crafty; n. a cheat; an impostor; a pretender; a knave.

مککارہ makkâra, f. }

مکرم makárim, A. n. m. (Plu. of مکرمت Mukramat) Benevolence; gentleness.

مکّاری makkári, P. n. f. Cheating; fraud; imposture; deceitfulness; knavery; roguery.

مکاشفہ mukáshfa, A. n. m. Displaying; disclosure; revelation; apocalypse.

مکافات mukáfât, A. n. f. Recompense; retaliation; reparation.

مکال mukál, मुकाल, H. n. m. The altar on which the first fruit of the sugar press are offered up to Bába Mukál.

مکان makán, P. n. m. (Plu. مکانات Makánât). A dwelling; a house; lodging; a room; home; abode. مکاندار—dâr, n. m. a householder; an owner of a house. مکان کرایہ دینا—kirâe denâ, v. to let a house. مکان کرایہ لینا—kirâe lenâ, v. to rent a house.

مکائی مکائی, makái, H. n. m. The maize.

مکاید makáid, A. n. m. Frauds; snares; artifices; strategies.

مکبّر mukabbir, A. *adj.* Magnifying (God); repeating the formulæ Alláho Akbar, God is very great.

مکت mukt, मुक्त, H. n. f. Release; remission; salvation; deliverance for the soul from the body and exemption from further transmigration. مکت ہونا—honâ, v. to get salvation; to be released; to be redeemed; to be saved.

مکتا muktâ, मुक्ता S. n. m. A pearl. مکتا چولہ—wall, pearl-necklace.

مکتب maktab, } P. n. m. A school; an academy.

مکتب خانہ maktab khâna }

مکتفی muktafi, A. *adj.* Having enough; satisfied; content.

مکتوب maktúb, A. *adj.* Written; n. m. a writing; a letter; an epistle; a collection of letters generally pasted together forming a long roll. مکتوب الیہ—ilâih, n. m. the addressee.

مکتوبات maktúbât, A. n. m. (Plu. of مکتوب Maktub) Writings; letters.

مکتوم maktúm, A. part. *adj.* Hidden; concealed.

مکتبی *muktí*, मुक्ति, S. n. f. Escape; salvation; deliverance of the soul from the body and exemption from further transmigration.

مکت *mukāṭ*, मुकट, H. n. m. A crown; a tiara; a crest.

مکتل *mikhal*, A. n. m. A pencil for applying collyrium to the eyes generally made of lead.

مکتول *makhúl*, A. part. adj. Anointed with collyrium.

مکدر *mukaddar*, A. adj. Muddy; turbid, sullen; gloomy; disturbed; vexed.

مکدر *makar*, मकर, S. n. m. The sign Capricorn represented by a water animal with the body and tail of a fish and the forelegs, neck and head of an antelope (*Jadi*); a shark; an alligator.

مکدر *makr*, A. n. m. Cheating; cunning; fraud; wile; artifice; pretext; imposture; pretence; disguise. مکدر کرنا *karná*, v. to pretend; to feign. [prove to be lying or false.

مکدرانا *mukráná*, मुकराना, H. v. To refute; to

مکدر *mukarrar*, A. adj. Repeatedly; again; a second time. مکدر سے کرر — *se karrar*, adj. a second and a third time; over and over again; repeatedly. مکدر آنکے — *ánki*, post scriptum; to repeat; to reiterate.

مکرم *makarram*, A. adj. Venerable; noble; respected; reversed; august. مکرم بندا — *ibanda*, Honoured Sir. [ity; grace.

مکرمات *makramat*, A. n. f. Honour; respectabil-

مکرنی *mukárná*, मुकरना, H. v. To deny; to belie.

مکروه *makrúh*, A. adj. Hated; disgusting; loathsome; abominable; obscene; unpleasant; unbecoming.

مکروهات *makrúhat*, A. n. m. (*Plu. of* مکروه *Makrúh*) Dirty or obscene things.

مکڑ *makkar*, मकड़, } H. n. m. A large spider.

مکڑا *makrá* }
مکڑی *makrí*, मकड़ी, H. n. f. A spider. مکڑی کا جالا — *ká jalá*, n. m. a spider's web; a cobweb; anything very fine and slender.

مکسر *mukassar*, A. adj. Cubic; broken.

مکسوبا *maksúba*, P. adj. Acquired; gained; gotten; earned.

مکسور *maksúr*, A. n. m. A letter marked with the vowel (i); (in *Arith.*) a fraction.

مکشوف *makshúf*, A. adj. Revealed; disclosed; discovered; open. [from; cubical.

مکعب *maka'ab*, A. adj. Of a square of cubic

مکفول *makfúl*, A. adj. Hypothecated; pledged; bailed.

مکلف *mukallaf*, A. adj. Done with great pains and care; elaborate; elegant. مکلف — (in correspondence) your obedient servant.

مکلال *mukallal*, A. adj. Adorned with jewels; crowned

مکمل *mukammal*, A. adj. Perfect; complete; accomplished. [ity; strength; force.

مکنت *muknat*, A. n. f. Power; might; author-

مکنون *maknún*, A. adj. Hidden; concealed; secret. مکنون در — *dur*, a fine pearl.

مکو *mako*, مکو, H. n. m. The Cape gooseberry or Brazil cherry; the medicinal plant (*solanum rubrum*). [insect.

مکور *makorá*, مکوڑا, H. n. m. A large ant; an

مکه *makka*, A. n. m. The city of Mecca, in Arabia (the birth place of Muhammad). Muslims go to a shrine in this city for the performance of Haj.

مکھ *mukh*, मुख, S. n. m. The mouth; the face.

مکھ *mukh*, मुख, H. adj. Principal; chief.

مکھانا *makhana*, मखाना, H. n. m. A plant; the seed of the water-lily. [mouth.

مکھڑا *mukhrá*, मुखड़ा, H. n. m. The face; the

مکھن *makkhan*, मखन, H. n. m. Butter.

مکھنا *makhná*, मखना, H. n. m. A kind of elephant having no tusks; a cock without spurs.

مکھی *makkhí*, मक्खी, H. n. f. A fly; the sight of a gun. مکھی اڑانا — *urána*, v. to flatter or perform servile offices for any one. مکھی چوس — *chús*, n. m. a miser; a niggard. مکھی مارنا — *márná*, v. to be unemployed; to idle; to trifle.

مکھیوں بھینکنا *makhyán bhinakná*, flies to buzz (about), or to sit (upon); to be disgusting or ugly. مکھی نہ بیٹھنے دینا — *nák par —*

na baithne dená, to shrink from incurring an obligation.

مکھی mukhī, H. n. f. A blow with the fist ; buffet.

مکھی makai, मकई, H. n. f. Indian corn ; maize.

مکیدت makīdat, A. n. f. Deceiving ; cheating ; ensnaring.

مکین makīn, A. n. f. Master of a house ; an inhabitant.

مک mag, मग (S. मार्ग), H. n. m. Road ; path ; way.

مکدر mugdar, मुगदर, H. n. m. A club used to exercise with in the manner of dumb-bells.

مکدر بهانجنا bhānjnā, v. to swing dumb-bells.

مکده magadh, मगध, S. n. m. The tract of country comprising Patna, Gaya, &c. [fied.

مکده mugdha, मुग्ध, S. adj. Stupid ; silly ; stupe-

مکدر magar, P. adj. Unless ; perhaps ; except ; if not ; only ; however ; moreover. اگر مکدر کرنا agar—karnā, to if and but. [crocodile.

مکدر magar, मगर, H. n. m. An allegator ; a

مکدر magrā, मगरा, H. adj. Proud ; presumptuous ; obstinate ; cunning ; n. f. a kind of sugar.

مکدران magrāpan, मगरापन, H. n. f. Obstinacy ; stubbornness ; haughtiness. [or stubborn.

مکدرانا magrānā, मगराना, H. v. To be refractory

مکدرائی magrāī, H. n. f. Obstinacy ; stubbornness

مکدر magar machh, मगर मछ, H. n. m. An alligator ; a crocodile.

مکدری magri, मगरी, H. n. f. A ridge pole ; the raised boundary of a field.

مکدریلا magrelā, मगरेला, H. n. m. A small black pyramidal shaped seed of a very pungent smell.

مکس magaa, P. n. f. A fly ; a freckle. مکس ران rān, n. m. A fly-flap ; a fan. مکس رانی—rānī, n. f. driving away flies ; fly-flapping.

مکسر magair, मगसीर, H. n. m. The 8th Hindu month.

مکسی magasī, P. adj. Fly-bitten ; fly-like.

مکس magan, मगन, H. adj. Delighted ; pleased ; over-joyed ; transported ; drowned (in) ; plunged ; dipped. مکس ہونا—honā, v. to be transported with joy.

مکسہ magh, मघ, S. n. m. Riches ; wealth ; power.

مکدوان - wān, adj. Rich ; wealthy, n. m. an epithet of Indra ; wealthy person.

مکھا maghā, मघा, S. n. m. The tenth mansion of the moon ; Leonis.

مل mul, P. n. f. Wine ; spirituous liquor.

مل mal, मल, H. n. f. Fifth ; refuse ; sediment.

مل malla, मल्ल, H. n. m. A prize-fighter ; an acrobat.

ملا m.lā, मला, H. adj. Rubbed ; effaced.

ملا milā, मिला, H. adj. Mixed ; united ; obtained ; met with. ملا جلا—julā ; adj. united ; mixed.

ملا mullā, A. n. m. A doctor ; a schoolmaster ; a parish priest, a judge ; a jurist ; a decoy-bird. ملا قرانی—qurānī, a law officer who administers oaths on the Qurān. ملا گری—gari, n. f. teaching.

ملا mulābasat, P. n. f. Dissimulation.

ملاپ milāp, मिलाप, H. n. m. Agreement ; union ; reconciliation ; concord ; adjustment ; meeting ; pacification ; peace. ملاپ رکھنا—rakhnā, v. to agree with ; to live in harmony or concord (with). ملاپ کرنا—karnā, to be reconciled to. ملاپ کرانا—karānā, to bring about agreement or harmony (between) ; to make peace (between).

ملاپی milāpī, मिलापी, H. adj. Sociable ; intimate ; affable ; civil ; n. a social ; an associate.

ملاح mallāh, A. n. m. A sailor ; a boatman ; a seaman. ملاحی—i, n. f. The business of mallāh ; seamanship ; navigation ; passage money ; boat fare.

ملاحات malāhat, A. n. f. A rich brown complexion ; beauty ; elegance ; fineness ; delicacy ; beauty of the mouth ; piquant look or appearance. [Infidels ; atheists ; heretics.

ملاحد malāhid, A. n. m. (Plu. of ملحد Mulhid).

ملاحظہ mulāhiza, A. n. m. Looking at ; inspection ; notice ; regard ; looking askance or shy at. ملاحظہ کا ادھی—kā adhī, n. m. a courteous person. ملاحظہ کرنا—karnā, v. to inspect ; to examine ; to regard with favour. ملاحظہ میں آنا—men ānā, to pass in review. ملاحظہ شد—shud, seen ; examined ; compared. ملاحظہ ہوا—ba—, adv. for the inspection of.

ملان maláz, A. n. m. An asylum; refuge; a defence; a stronghold.

ملار malár, ملار, H. n. f. A rágni, or musical mode sung during the rains. ملار گانا—gáná, v. to sing a malár; to be merry

ملازم mulázim, A. n. m. A servant; an attendant. ملازم کرنا—karná, v. to engage a servant. ملازم خاص—i-khás, n. a private servant. ملازم خانگي—i-khángi, a domestic servant. ملازم سرڪاري—i-sarkári, a government servant.

ملازمن mulázmán, P. n. m. (Plu. of ملازم Mulazim) Servants; attendants

ملازمت mulázmat, A. n. m. Service; attendance; waiting on a superior. ملازمت اختيار کرنا—ikh-tiyár karná, v. to take service (with); to enter the service (of).

ملازيمي mulázimí, A. n. f. Attendance; service.

ملاطفه mulátfah, A. n. m. Courtesy; politeness; favour.

ملاعين mala'in, A. n. m. (Plu. of ملعون Mal'un). Rascals; villains; scoundrels; accursed or execrated persons.

ملاقات muláqát, A. n. f. Interview; meeting; visit. ملاقات بازديد—i-báz díd, a return visit. ملاقات پيدا کرنا—paidá karná, v. to obtain an introduction (to). ملاقات رکھنا—rakhná, to be on visiting terms (with); to be friends (with). ملاقات کرنا—karná, v. to pay a visit; to meet. ملاقات کروانا—karwáná, v. to introduce; to bring about a meeting between two persons. ملاقات چوند روزہ chand rozá—, a short acquaintance.

ملاقاتي muláqátí, A. n. m. A visitor; an acquaintance.

ملاگيري malágiri, H. adj. Of the colour of sandal wood. [dejection.

ملاي malál, A. n. m. Sadness; melancholy;

ملاال malálat, A. n. f. Sadness; dejectedness.

ملامت malámat, A. n. f. Reproach; rebuke; reproof. ملامت کرنا—karná, v. to reproach; to rebuke; to reprove [able.

ملامتي malámatí, P. adj. Reprehensible, blame-

ملان milán, ميلان, H. n. f. Comparison; adjustment (of differences, &c.); reconciliation; union; mingling. ملان نظر—nazar, apparent size.

ملاانا miláná, ميلانا, H. v. To bring together; to join; to unite; to harmonise; to fit; to pacify; to persuade; to mix; to adjust; to accord; to introduce; to compare. ملاينا milá lená, to gain or win over; to make partisans of.

ملااو milaó, ميلاو, m. ملاوات milawat, ميلوات, } H. n. Mixture; composition; amalgamation; adulteration; union; reconciliation. ملاو کرنا—karná, v. to mix; to adulterate.

ملائي malái, ملائي, H. n. f. Cream; rubbing down a horse, &c.

ملائي mullái, P. n. f. The office or profession of a mullá.

ملايك - ملايڪه - ملايڪ maláik, maláika, A. n. m. (Plu. of ملايڪ Malak). Angels.

ملايم muláim, A. adj. Soft; gentle; mild; placid; moderate. ملايم کرنا—karná, v. to soften; to mitigate. ملايم هونا—honá, v. to be softened; to yield; to be assuaged.

ملايمي ملایميت mulaimiyat, A. n. f. Softness; tenderness; gentleness; mildness; meekness.

ملايا malbá, ملبا, H. n. m. Rubbish; dirt; materials of a fallen house.

ملايب ملایب mulabbah, A. adj. Brimful.

ملايبس ملایبس mulabbas, A. adj. Mixed; confused; dressed; clothed.

ملايبوس ملایبوس malbús, A. adj. Clothed; dressed. n. m. clothes; wearing apparel.

ملايبوسات ملایبوسات malbúsát, A. n. m. (Plu. of ملايبوس Malbús). Clothes; garments.

ملت millat, A. n. f. Religious belief; faith; a nation. ملت کا آدمي—ká ádmí, a co-religionist.

ملائي ملاتاني multáni, ملاتاني, H. n. f. Armenian bole; yellow ochre; an inhabitant of Multán.

ملائي ملاتجاء multajá, A. n. m. A place of refuge; an asylum; a protector.

ملائي ملاتجاءي multají, A. adj. Fleeing (to); taking; refuge with; having recourse (to); a supplicant; a petitioner; refugee.

ملتزيم multazim, A. *adj.* Compelled; convicted.
 ملتفت multafit, A. *adj.* Paying regard to; attentive; necessarily following.
 ملتس multamis, A. *n. m.* A petitioner; an applicant. ملتمس ہونا—honá, *v.* to pray; to beg; to supplicate.
 ملتوي multavi, A. *adj.* Postponed; adjourned; delayed; pending. ملتوي رکھنا یا کرنا—rakhná yá karná, *v.* to put off; to postpone; to adjourn; to suspend.
 ملجأ maljá, A. *n. m.* An asylum; a place of refuge; a retreat.
 ملجھہ malichh, मलिह, H. *adj.* Unclean; dirty; foul; filthy. [elegance.
 ملح milh, A. *n. f.* Salt; savouriness; beauty;
 ملحد mulhid, A. *n. m.* An infidel; an unbeliever; a freethinker.
 ملحق mulhaq, A. *adj.* Joined; annexed. ملحق ہونا—honá, *v.* to be annexed; to be contiguous or adjoining (to). [appendix.
 ملحقہ mulhaqa, P. *n. m.* An appendage; an
 ملحوظ malhúz, A. *adj.* Contemplated; considered; regarded; looked at kindly; viewed with affection. ملحوظ رکھنا—rakhná, *v.* to bear in mind; to consider.
 ملخ malkh, P. *n. m.* A locust.
 ملدل maldal, मलदल, H. *n. m.* Rubbings; grinding; pressing.
 ملذذ mulazzaz, A. *adj.* Delicious.
 ملزم mulzim, A. *adj.* Convicted; accused; charged; confuted; condemned. ملزم قرار دینا—qarár dená, *v.* to accuse; to blame. ملزم قرار دینا—qarár dená, *v.* to convict. [nected.
 ملزوم malzúm, A. *part. adj.* Inseparable; con-
 ملعون mala'ún, A. *part. adj.* Accursed; damned; execrated; excommunicated; *n. m.* An imp; a devil.
 ملفوظ malfúz, A. *n. m.* The saying of a spiritual guide; that which is spoken or uttered.
 ملفوظات malfúzát, A. *n. m.* (Plu. of ملفوظ Malfúz). Utterances; sayings.
 ملفوف malfúf, A. *part. adj.* Wrapped up; enveloped; gathered; folded (a letter).
 ملقب mulaqqab, A. *part. adj.* Entitled; nicknamed; surnamed.

ملك malik, A. *n. m.* A king; a sovereign. ملك زادا—záda, a prince. ملك التجار—ul-tujjár, *n. m.* prince of merchants. ملك الشعرا—ul-shu'rá, a prince of poets; a post-laureate.
 ملك malak, A. *n. m.* An angel. ملك الموت—ul-maut, the angel of death called Izráil.
 ملك mulk, A. *n. m.* A country; realm; region; territory; dominion. ملك راني—rání, *n. m.* government; sovereignty. ملك ستاني—sitání, *n. m.* conquest. ملك گيري—gírí, *n. f.* conquest; annexation. نواب پے ملك—nawáb pe—*n. m.* A pretender.
 ملك milk, A. *n. f.* Property; possession.
 ملكوت malkút, A. *n. f.* Spirits; angels. عالم ملكوت 'alam-i-malkút, the world of angels or spirits.
 ملكة malika, A. *n. f.* A queen. ملكة معظمة—mu'azzima, the exalted queen.
 ملكة malka, A. *n. m.* Quickness of perception; strength of intellect; power; genius; proficiency. [of angelic disposition.
 ملكي malkí, A. *adj.* Angelic. ملكي صفت—sifat, ملكي milkí, A. *adj.* Proprietary; *n. m.* a landed proprietor; a farmer; a landlord.
 ملكي mulkí, A. *adj.* Belonging to one's country; national; political; civil; imperial; royal. ملكي لات—lát, *n. m.* the Viceroy or Governor General. [session; right.
 ملكيات milkíyat, A. *n. f.* Landed property; possessions.
 ملججا malgajá; H. *adj.* Ruffled; dirty; brackish.
 ملجوبا malgoba, मलगोबा, H. *n. m.* Food prepared from *masá* or any other pulse mixed with ourd.
 ملماس malmás, मलमास, H. *n. m.* An intercalary (thirteenth) month, in which no ceremonies should be performed.
 ملصع mulamma', A. *adj.* Plated; gilt; covered with gold or silver; electroplated; *n. m.* gilding; coating. ملصع کرنا—karná, *v.* to gild; to give a colour to. ملصع ساز—sáz, a gilder; a plater; a dissembler; a hypocrite.
 ملمال malmal, मलमल, H. *n. f.* Muslin.
 ملمالہات malmaláhat, मलमलाहट, H. *n. f.* Sadness; depression; dejection.

malmet, मलमेट H. *adj.* Effaced ; wiped out ; ruined ; destroyed.

milan, मिलन, H. *n. m.* Meeting ; contact ; union ; mixing (with) ; agreement ; harmony.

milna, मिलना, H. *v.* To be mixed, mingled or amalgamated ; to be joined ; to be blended ; to meet ; to embrace ; to associate (with) ; to have an interview (with) ; to be reconciled (to) ; to agree with ; to coincide ; to resemble ; to tally ; to suit ; to come to hand ; to attain. mil baiṭhná, मिल بیٹھنا, to live together in harmony or unity *e. g.*

خوب گزرے گی جو مل بیٹھینگے دیوانے دو

Khúb guzre gi jo mil baiṭhenge díwáne do. It will be a happy moment when two insane persons sit together. milná—میلنا جانا, *v.* to meet cordially ; to have unrestricted intercourse (with) mile jule rahná, میل جول رہنا, *v.* to live together in harmony. milne ko jáná, میلنے کو جانا, to go to meet.

malná, ملنا, H. *v.* To rub ; to tread on ; to scrub ; to scour ; to anoint.

milansár, मिलनसार, H. *adj.* Sociable ; friendly ; familiar ; convivial.

milansári, मिलनसारी, H. *n. f.* Sociableness ; friendliness ; affability ; concord ; harmony.

mallú, मल्लू, H. *n. m.* Monkey.

milwáná, मिलवाना, H. *v.* To cause to be mixed ; to cause to be united. [rubbed.

malwáná, मलवाना, H. *v.* To cause to be

malwái, मलवाई, H. *n. f.* The price paid for rubbing, scrubbing, etc. [contaminated.

mulavwas, A. *adj.* Polluted ; befouled ;

mulúk, A. *n. m.* (*Plu. of* ملك *Malik*) Kings. [princely ; like a king.

mulúkáná, P. *adj. and adv.* Royal ;

malúk, मलुक, H. *adj.* Handsome ; beautiful.

malúl, A. *adj.* Sad ; dejected ; melancholy ; tired ; weary ; languid ; vexed.

malolá, P. *n. m.* Grief ; sorrow ; regret ; sadness ; melancholy. malolé áná, مالولے آنا, to grieve.

malúm, A. *adj.* Reproached ; blamed ; accused.

mulavwan, A. *adj.* Variegated, coloured.

milauní, मिलौनी, H. *n. f.* Mixture ; adulteration ; alloy.

malwaiyá, मलवैया H. *n. m.* One who rubs.

malhár, See मलár malái. [root ; liquorice.

mulaḥṭí, मुलहटी, H. *n. f.* A medicinal

malham, महम, H. *n. m.* (*Persian* مرهم *Marham*) Salve ; plaster ; ointment.

mulhim, A. *adj.* Inspiring ; *n. m.* an inspirer. [mimic.

mulhí, P. *n. m.* A buffoon ; a jester ; a

male-panj, मलेपंज, H. *adj.* Over ten years old (a horse).

malechh, मलेच्छ H. *n. m.* An unclean race ; race who make no distinction between clean and unclean food ; an infidel ; a miscreant ; a sinner. [dark brown colour (*śaṅṅá*).

malih, A. *adj.* Nut-brown ; charming ; of

malída, P. *n. m.* Pounded meal cakes mixed with butter and sugar ; a kind of fine woollen cloth made of Kashmir lamb's wool.

mulaiyan, A. *adj.* Softening ; laxative ; emolent ; lenitiye.

malín, मलीन, S. *adj.* Filthy ; dirty ; dull ; dim ; sad ; troubled.

mamát, A. *n. f.* Death.

mumásat, A. *n. f.* Touch ; contact.

mumálik, A. *n. m.* (*Plu. of* مملکت *Mumlakat*) States ; provinces ; dominions ;

kingdoms. —i-muttahida, the United Provinces. —i-mutavassit, the Central Provinces. —i-maharúsa, protected states or dominions.

—i-mufawwaza, ceded provinces.

mumán'at, A. *n. f.* Prohibition ; restriction. —i-karná, v. to prohibit ; to forbid. [brother's wife ; maternal aunt.

mumáni, yá mamáni, H. *n. f.* Mother's

mamta, ममता, S. *n. f.* Desire ; affection ; egotism ; pride ; arrogance ; avarice ;

bohemian

mumtáz, A. *adj.* Exalted ; distinguished ; illustrious ; pre-eminent ; eminent. ممتاز کرنا — karná, *v.* to exalt ; to elevate ; to distinguish (a person from or from among). ممتاز ہونا — honá, to be distinguished ; to be exalted.

mumtahan, A. *n. m.* An examinee.

mumtahn, A. *n. m.* An examiner ; a tester ; an auditor.

munmtad, A. *part.* Extended ; stretched.

mumtana', A. *adj.* Prohibited ; forbidden ; impossible. [protector.

mumid, A. *n. m.* A helper ; an assistant ; a

mamdúh, A. *adj.* Praised ; lauded ; laudable ; commendable ; above-mentioned ; aforesaid.

mamdúhin, A. *n. m.* (*Plu. of* مدوح Mamdúh) The praised ; the famous

mamdúda, A. *adj.* Prolonged ; extended. ألف مدودة alif-mamdúda, the long آ ا.

mamarr, A. *n. m.* Pass ; passage ; transit ; ford ; (*fig.*) account ; cause.

mamzúj, A. *part. adj.* Mixed ; tempered.

mamsik, A. *n. m.* A m'ser ; a niggard ; *adj.* retentive ; stingy [deformed.

mamsúkh, A. *part.* Metamorphosed ;

mamsús, A. *adj.* Tangible ; touched.

mumkin, A. *adj.* Possible ; practicable ; feasible. ممكن الدخول —nd-dakhúl, *adj.* accessible. ممكن الزراعت —uz-zira'at, culturable ; arable.

mumkinát, A. *n. f.* (*Plu. of* ممكن Mumkin), possibilities. ممكن الوقوع —ul-wuqú', possible to happen ; likely to arise.

mamlakat, A. *n. n.* Kingdom ; region ; dominion ; empire.

mamlá, A. *part. adj.* Filled up ; full.

mamlúk, } A. *adj.* Possessed. مملوكه

mamlúka, } مقبوضة —o-maqbúza, *adj.* owned and possessed.

mamnú', } A. *adj.* Forbidden ; pro-

mamnú'a, } hibited ; illicit ; contraband.

mamnún, A. *adj.* Obliged ; favoured ; thankful ; grateful. ممنون کرنا

oblige one ; to confer a favour on. ممنون ہونا —honá, *v.* to be grateful or thankful ; to feel obliged. [pain in the bowels.

mamořá, ममोड़ा, H. *n. m.* A sort of severe

mamolá, ममोला, H. *n. m.* A wagtail.

mamiyá sás, ममिया सास, H. *n. f.* The husband's or wife's maternal aunt.

mamiyá sasur, ममिया ससुर, H. *n. m.* The husband's or wife's maternal uncle.

mimiyáná, मिमियाना, H. *v.* To bleat (as a goat or sheep).

mamerá, ममेरा, H. *adj.* Relating to the maternal uncle. مميروا —bhái, *n. m.* mother's brother's son. مميروى بہن mamerí bahin, *n. f.* mother's brother's daughter.

mumaiyiz, A. *part. adj.* Distinguishing ; discriminating ; judicious. قوت مييزه quwat-i-mumaiyiza, *n. f.* The discriminating power or faculty ; judgment.

man, मन, H. *n. m.* Mind ; heart ; spirit ; inclination ; conscience ; attention ; a maund ; a gem. من اٹکنا —aṭakná, *v.* to fall in love with. من اکتانا —uktáná, to be tired or sick (of) من بسنا —basná, *v.* to dwell in one's mind. من بهانا —bháná, *v.* to be agreeable to the mind. من بهاون يا من بهاوننا —bháwan yá —bháwná, *adj.* acceptable ; agreeable ; pleasing. من بهاون —bhávan, *n. f.* a sweet-heart ; a mistress. من بهار —bhar, as much as one desire ; one maund. من بهرنا —bharná, *v.* to be satiated or satisfied. من بهلانا —bahláná, *v.* to amuse oneself (with). من چلانا —chálná, *v.* to desire ; to long for. من سمجهانا —samjháná, *v.* to satisfy or console one. من مكامنا —kámná, *n. f.* a cherished desire ; a wish. من كرنا —karná, *v.* to desire ; to wish. من كپي من ميں رهنا —ki man meṅ rahná, *v.* to remain unsatisfied. من كے اتر پورنا —ke laddú phořná, to build castles in the air. من لچھانا —laleháná, *v.* to long for ; to hanker after. من لینا —lená, *v.* to fascinate ; to fathom one's thoughts. من مارنا —márná, *v.* to resist one's own inclination ; to suffer patiently. من مانے —máne, as the mind may desire. من ملنا —milná, *v.* to be of

- one mind. من موحى —mauji, *adj.* self-conceited; jovial من موهن —mohan, *adj.* heart-ravishing. من میں آنا —men ána, *v.* to come into one's mind; to occur to one.
- من man, *A. n. m.* Manna; a kind of delicious food received from heaven by the followers of Moses. It is commonly known as: من و سلوا —man o salwa.
- من min, *A. prep.* From; of; out of; on. من بعد —ba'd, *adv.* after; hereafter; afterwards. من جانب —jánib, from the side (of); on the part (of); by. من جملة —jumla, *adj.* from among; in all; totally; universally. منها —há, subtraction; deduction. منهائي —háí, abatement; reduction.
- من man, *P. pron.* I; me; mine.
- منا munná, मुन्ना, *H. n. m.* Darling.
- منابر manábir, *A. n. m. (Plu. of منبر mimber)* Pulpits. [shipped by ancient Arabs.
- منات manát, *n. prop.* Name of an idol worshipped.
- مناجات munáját, *A. n. f.* Prayers; applications.
- منادي manádi, munádi, *A. n. f.* Proclamation. *n. m.* proclaimer; herald. منادي كرنا —karná, to proclaim; to promulgate.
- منار minár, *A. n. m.* A lighthouse; a minaret; a turret; a watch-tower. [tion; contest.
- منازعة munáza'at, *A. n. f.* Controversy; altercation.
- منازل munázil, *A. n. f. (Plu. of Manzil)* Stages in a journey; halting places.
- مناسب munásib, *A. adj.* Proper; suitable; becoming; fit; convenient.
- مناسبة munásbat, *A. n. f.* Suitableness; fitness; relation; connection; accordance.
- مناشير manáshir, *A. n. m. (Plu. of منشور Manshūr)* Royal decrees; command.
- مناصب munásib, *A. n. m. (Plu. of منصب Mansab)* Exalted positions; high officer. [assisting.
- مناصرت munásarat, *A. n. f.* Helping; aiding;
- مناظر manázir, *A. n. m. (Plu. of منظر Manzar)* Spectacles; sights; scenes.
- مناظرة munázra, *A. n. m.* Disputation; discussion; argument; debate.
- منافرات munáfarat, *A. n. f.* Abhorrence; hate; dislike.
- مناافع munáfa', *A. n. m. (Plu. of منفعة Munfa't)* Profits; gains; advantages; dividends. منافع خام —i-khám, gross profits. [an atheist.
- منافق munáfiq, *A. n. m.* A hypocrite; an infidel;
- مناقب munaqib, *A. n. f. (Plu. of مناقب manqabat)* Virtues; abilities. [praise.
- مناقبات munáqabat, *A. n. f.* Virtue; ability;
- مناقشة munáqasha, *A. n. m.* Dispute; wrangling; quarrel.
- مناکحة munákaha, *A. n. m.* Matrimony.
- منال manál, *A. n. m.* Profit; manner; way; disposition. منال و مال —mál-o—, wealth and property.
- مانانا manáná, मनाना *H. v.* To persuade; to conciliate; to propitiate; to coax; to soothe; to appease; to invoke. [things.
- مناهي manáhi, *A. n. f.* Prohibition; prohibited
- منبت munabbat, *A. adj.* Inlaid; embossed.
- منبت کار —kár, *n. m.* inlayer; an embosser.
- منبر mimbar, *A. n. m.* A pulpit; a rostrum; a high chair; a reading desk.
- منبسط munbasit, *A. adj.* Of an open, a cheerful countenance; rejoicing; exulting.
- منبع mamba', *A. n. m.* Fountain; jet d' eau; spring; source; origin.
- منبت minnat, *A. n. f.* Humble and earnest supplication; entreaty; obligation. منبت دار —dár, obliged. منبت كرنا —karná, *v.* to make earnest supplication; to beg; to importune.
- منبت mannat, मन्त, *H. n. f.* A vow; a promise. منبت ماننا —mánná, *v.* to make a vow. منبت اتارنا —utárná, to observe or fulfil a vow.
- منتج muntaj yá muntij, *A. adj.* Deduced; inferred; concluded. *n. m.* a consequence; a conclusion.
- منتخب muntakhab, *A. adj.* Chosen; selected; *n. m.* choice; selection. منتخب كرنا —karná, *v.* to choose; to select. منتخب هونا —honá, to be chosen.
- منتخبات muntakhabát, *A. n. m. (Plu. of منتخب Muntakhab)* Selections; extracts.

منتر *mantar*, मन्त्र मन्त्र, H. *n. m.* A spell ; a charm ; an incantation ; a mystical or magical formula ; spiritual instruction ; a passage of the Vedas ; a holy text ; an advice. منتر
 منتر—*phúṅkná*, *v.* to cast a spell. منتر جنتر—*jantar*, *n. m.* incantation ; exorcism ; sorcery. منتر دینا—*dená*, *v.* to give spiritual instruction. منتری
 منتری, منتری, H. *n. m.* An adviser ; a counsellor ; a minister of state. منتریان پاردھان—*pardhán*—, a prime minister.
 منتشر *muntashar*, muntashir, A. *adj.* Published ; dispersed ; spread ; distracted ; diffused ; propagated. منتشر کرنا—*karná*, *v.* to disperse ; to scatter ; to publish.
 منتظر *muntazir*, A. *adj.* Expecting ; waiting ; looking out (for) ; *n.* expectant. منتظر رکھنا—*rakhná*, *n.* to keep one in expectation. منتظر
 منتظر—*rahná*, *v.* to await ; to wait for ; to expect. منتظر حکم—*i-hukm*, awaiting orders.
 منتظم *muntazim*, A. *n. m.* A manager ; a superintendent ; an economist.
 منتفع *muntafa'*, A. *adj.* Profiting ; enjoying.
 منتفی *muntafí*, A. *adj.* Repulsed ; rejected ; dissipated. [served].
 منقاش *muntaqish*, A. *adj.* Painted ; engraved ;
 منتقل *muntaqil*, A. *adj.* Movable ; transferable. منتقل کرنا—*karná*, *n.* to transfer ; to alienate. منتقل کرنا بعد سکارنے کے
 منتقل کرنا—*karná*, *ba'd sakárne* ke, to negotiate (a bill) after acceptance.
 منتقل *muntaqal*, A. *adj.* Transferred ; transported.
 منتقم *muntaqim*, A. *n. m.* One who takes revenge ; one who punishes. منتقم حقیقی—*i-haqiqí*, God the Punisher or Avenger.
 منثور *munthá*, منثور, H. *n. m.* An astrological term for the conjunction of stars under whose influence one is born. [proficient ; finished].
 منتهی *muntahí*, A. *adj.* Learned ; accomplished ;
 منتهی *muntahá*, A. *n. m.* The end ; conclusion ; extremity. [tion].
 منتهی *minti*, منتهی, H. *n. f.* Entreaty ; solicitation.
 منجانب *minjanib*, A. *adj.* From the side of ; on the part of.
 منجا *manjá*, H. *n. m.* A bedstead ; a sort of throne, or a chair of state.

منجالی *munjalí*, A. *adj.* Conspicuous ; apparent.
 منجم *munajjim*, A. *n. m.* An astrologer ; an almanac-maker.
 منجمد *munjamid*, A. *adj.* Congealed ; frozen ; concreted. منجمد ہونا—*honá*, *v.* to congeal.
 منجملاً *minjumla*, P. *adv.* In all ; on the whole.
 منجنبن *manjan*, منجنبن, H. *n. m.* Tooth powder ; dentifrice.
 منجنيق *minjaníq*, A. *n. m.* A battering-ram ; a catapult, a sling ; a large crane. [be trained].
 منجنا *manjáná*, منجنا, H. *v.* To be polished ; to
 منجھا *manjha*, منجھا, H. *adj.* Rubbed ; scoured ; paste or pounded glass applied to kite thread.
 منجھلا *manjhlá*, منجھلا, H. *adj.* Intermediate ; between the eldest and youngest ; middle.
 منجھولا *manjholá*, منجھولا, H. *adj.* Middling ; middle.
 منجیرا *manjirá*, منجیرا, H. *n. m.* A kind of cymbal ; a musical instrument consisting of two small brass cups tied together with a string, and played upon by striking one against the other.
 منچ *manch*, منچ, S. *n. m.* A platform ; a bedstead ; a chair ; a dais.
 منچالا *manchalá*, منچالا, H. *adj.* Zealous ; eager ; assiduous.
 منحرّف *munharif*, A. *adj.* Changed ; turned ; crooked ; disaffected ; *n. m.* an apostate ; a renegade ; a trapezium (in *Geom.*) منحرّف ہونا—*honá*, *v.* to revolt ; to be disaffected ; to rebel (against). [ism].
 منحرّفی *munharfí*, P. *n. f.* Revolting ; apostate.
 منحصّر *munhasar*, A. *adj.* Dependent ; limited ; besieged ; confined ; encompassed.
 منحنی *munhaní*, A. *adj.* Lean ; thin ; bent ; crooked ; decrepit ; hump-backed.
 منحوس *manhús*, A. *adj.* Ill-omened ; unlucky ; abominable ; *n. m.* an unlucky person.
 منخر *minḵhar*, A. *n. f.* (Plu. منخرن *Minḵharin*). A nostril.
 مند *mand*, P. An affix signifying full of as
 عقلمند 'aqlmand, sensible ; wise.

مند mand, मंद, } S. *adj.* Abated ; slow ; dull ;
 मन्दा mandā, मदा, } ill ; bad, dim ; faint (as light,
 or sound, &c.) ; mild ; gentle ; slack ; relaxed.
 मन्दा पत जाना - par jānā, *v.* to fall (at a market) ;
 to be or become abated, or slackened or
 lulled ; to decline (a business) ; *n. m.* the
 planet Saturn.

मन्दार mandar, मन्दर, mandir, मन्दिर, H. *n. m.* A
 house ; a dwelling-house ; a temple ; a pagoda.
 राज मन्दर rāj—, a royal residence ; a palace.

मन्दरा mundrā, H. *n. m.* A glass ear-ring worn
 by *jogis*.

मन्दराज mundaraj, } A. *adj.* Contained ; in-
 मन्दराजे mundarja, } serted ; entered ; com-
 prised. मन्दाज कर्ना—karnā, *v.* to insert.
 मन्दराजे डिल—mundarja zail, *adj.* as follows ;
 as below-mentioned. [ring.

मन्दरी mundrī, मुंद्री, H. *n. f.* A ring ; a finger-
 मन्दमल mundamil, A. *adj.* Healable.

मन्दना mundnā, मुंदना, H. *v.* To be shut ; to be
 closed.

मन्दिर्ल mandil, A. *n. f.* A turban woven with
 silk and gold thread ; a towel ; a napkin.

मुण्ड मुण्ड, H. *n. m.* The head ; a chief.
 मुण्ड चिरा मुण्ड चिरा, *n. m.* a sect of mendicants
 who extort alms by threatening to wound
 themselves ; an extortioner. मुण्ड माल मुण्ड
 māl, *n. f.* A necklace of human heads worn
 by Mahadeva.

मुण्डा मुण्डा, H. *n. m.* A thin cake ; a
 sweetmeat ; a film or web on the pupil of
 the eye. [(a shoe).

मुण्डा मुण्डा, H. *adj.* Shaven ; not pointed

मुण्डासा मुण्डासा, H. *n. m.* A kind of loose
 turban ; headdress.

मुण्डाना मुण्डाना, H. *v.* To get shaved.

मुण्डप मुण्डप, S. *n. m.* A temporary
 building or shed ; a temple.

मुण्डक मुण्डक, H. *n. m.* A frog.

मुण्डल मुण्डल, H. *n. m.* A circle ; circum-
 ference ; sphere, orb ; dies (of the sun or
 moon) ; a round tent or house ; the sky ; the
 headman of a village. मुण्डल बान्धना—bāndhnā,

v. to over-cast. रास मुण्डल rās—, the zodiacal
 circle.

मुण्डलाना मुण्डलाना, मण्डलाना H. *v.* To make a
 circuit ; to hover (as birds).

मुण्डली मुण्डली, H. *n. f.* An assembly ;
 a company ; a congregation ; a flock ; a church,
 a sect.

मुण्डुन मुण्डुन, H. *n. m.* Shaving the head ;
 tonsure ; the first shaving ceremony of a
 child among Hindus, called अकिका aqīqa
 among Mohammadans. [swindled.

मुण्डना मुण्डना, H. *v.* To be shaved ; to be

मुण्डवा मुण्डवा, H. *n. m.* A bower ; a shed ;
 a kind of grain.

मुण्डहा मुण्डहा, मण्डहा, H. *n. m.* A temporary build-
 ing or shed ; an open shed or hall adorned with
 flowers, erected on festive occasions, as at a
 marriage ; a nuptial bower.

मुण्डहना मुण्डहना, मण्डहना, H. *v.* To cover (a book,
 drum, &c.) with parchment ; to coat over ; to
 encase. See मण्डहना maṇḍhā.

मुण्डवाई मुण्डवाई, मण्डवाई, H. *n. f.* The cost of
 covering anything with cloth, leather, &c.

मुण्डही मुण्डही, मण्डही, H. *n. f.* A *jogis'* hut.

मुण्डी मुण्डी, मण्डी, H. *n. f.* A market ; a mart ;
 an emporium.

मुण्डेर मुण्डेर, मुण्डेर, } H. *n. f.* The coping of a
 मुण्डेरी मुण्डेरी, मुण्डेरी, } wall ; the ridge of a
 wall.

मुण्डिल मुण्डिल, A. *n. f.* A stage ; a day's journey ;
 destination ; a storey of a house. मुण्डिल
 मुण्डिल—ba—jānā, to travel by stages.

मुण्डिल देना मुण्डिल देना, to lay down a corpse for a while
 on the way to its resting place. मुण्डिल कान्ना
 kānā, *v.* to go one stage ; to finish a journey.

मुण्डिल मारना मुण्डिल मारना—mārnā, to finish a difficult task.

मुण्डिल मकसद मुण्डिल मकसद—i-maqsūd, *n. f.* destination ; goal.

मुण्डिल मकसद को पहुँचना मुण्डिल मकसद को पहुँचना—i-maqsūd ko pahunchnā,
 to gain (one's) object ; to reach one's desti-
 nation. मुण्डिल करी करी—, a stiff journey or
 stage.

मुण्डिल मुण्डिल, A. *part. adj.* Causing to descend.

मुण्डिल मुण्डिल, A. *past part.* Caused to alight or
 descend ; sent down (from heaven).

منزلت *mansilat*, A. *n. f.* Dignity; rank station; step; post of honour.

منزله *manzila*, A. *n. m.* Dignity; station; a storey (of a house). بمنزله *ba manzila*, *adj.* in the degree or position (of); in the place (of); instead (of); as. [failing.]

منزول *munzawil*, A. *adj.* Decaying; perishing;

منزوی *munzaví*, P. *adj.* Secluded; solitary; *n.* a recluse; a hermit.

منزهة *munazza*, A. *adj.* Pure; exempted from.

منسا *mansá*, मनसा, H. *n. f.* Wish; longing; desire; intention. करना *púran karná*, *v.* to fulfil one's hopes.

منسج *munsaj yá mansij*, A. *n. m.* A weaver's shop; a workshop; a weaver's loom.

منسلك *munsalik*, } A. *adj.* Threaded; strung
منسلكه *munsálíka*, } together; attached;
annexed; appended. करना *karná*, *v.* to
append; to attach.

من ساری *man salvá*, A. *n. m.* Manna and quails with which the Israelites were fed in the wilderness.

منسوب *mansúb*, A. *adj.* Related; allied; betrothed; attributed; surnamed; referred to. करना *karná*, *v.* to attribute; to ascribe; to betroth.

منسوخ *mansúkh*, A. *adj.* Cancelled; abolished; annulled; repealed; abrogated. [lation.]

منسوخی *mansúkhí*, A. *n. f.* Abolition; cancel-
منسیده *mansedhú*, मनसेदू, (Col.) H. *n. m.* A man; a male.

منش *manush*, मनुष्य, H. *n. m.* Man.

منش *manish*, P. *n. f.* Dignity; nature; disposition; desire; pride; mind; soul; heart; nature.

منشا *manshá*, A. *n. m.* Design; allusion; tenor; object; desire; meaning; motive; purport; drift. حسب *hasb* —, according to the tenor or purport of; in the sense of.

منشار *minshár*, A. *n. m.* A saw; a fan; a ventila-
lator.

منشور *munshúr*, A. *n. m.* (Plu. منشور *Manashir*)—
A royal mandate; a charter; a diploma; *adj.*
divulged; published (as a book).

منشی *munshí*, A. *n. m.* A writer; a scrivener; a Persian teacher; a title of respect. منشی *mir*—
i-falak, the planet mercury. منشی *mir*—, the head of the Persian or vernacular department of an office. گری *garí*, *n. f.* clerkship; teachership.

منشیانہ *munshiyáná*, P. *adj.* Of or relating to a munshí; munshi-like. خط *khat*, good handwriting.

منشوی *munashshi*, A. *adj.* Intoxicating; *n. m.* Anything creating intoxication. (Plu. منشیات *Munashshiyát*.)

منصب *mansab*, A. *n. m.* Post; office; dignity. منصبدار *dár*, *n. m.* an officer or official of rank; a functionary.

منصبی *mansabí*, P. *adj.* Official. عمل منصبی *'amal-i-*منصبی *kár-i-*, *n. m.* An official act. فرض منصبی *farz-i-*, *n. m.* official duty.

منصرف *munsarif*, P. *adj.* Turned back; converted; deviating; rebellious; (in *Gram.*) inflected; declined.

منصرم *munsarim*, A. *n. m.* A manager; an administrator; the head clerk of a court of settlement or of a district judge's court.

منصف *munsif*, A. *n. m.* A judge; a subordinate judge; an arbitrator; *adj.* equitable; just.

منصف مزاج *mizá*, just-minded; just in temperament; discreet.

منصفی *munsifí*, A. *n. f.* Justice; equity; a mun-
سفی *karná*, *v.* to admi-
nister justice. [fairly.]

منصفانہ *munsifána*, A. *adj.* Justly; equitably;

منصوبہ *mansúba*, A. *n. m.* Intention; design; plan; contrivance; scheme; determination. باز *báz*, *adj.* designing; foreseeing; conspiring. باندھنا *bándhná*, *v.* to resolve; to contrive; to conspire.

منصور *mansúr*, A. *adj.* Triumphant; victorious; aided; succoured.

منصوص *mansús*, A. *part.* Manifested; declared. معروف *o-m'arúf*, *adj.* manifested and known.

منضج *munzij*, A. *adj.* Suppurative; digestive.

منطبع *mantaba'*, A. *adj.* Yielding; tractable; submissive; tamed; trained.

منطبق muntabiq, A. *part. adj.* Covering ; fitting ; applying (to) ; equal ; even.

منطفي muntafi, A. *adj.* Extinguished quenched, extinct.

منطق mantiq, mantaq, A. *n. f.* Logic ; reasoning. منطق بهارنا یا چھانٹنا — chhánṭná, to chop logic.

منطق mantiq, A. *adj.* Rational ; speaker.

منطقه mintaq, A. *n. m.* A girdle ; a zone. منطقه بارده جنوبي — ul-burúj, the Zodiac. منطقه بارده جنوبي — i-bárda janúbí, the South Frigid Zone. منطقه بارده شمالي — i-bárda shimálí, the North Frigid Zone. منطقه حاره — i-hárra, the Torrid Zone. منطقه معتدله — i-mo'tadila, the Temperate Zone. [a logician.

منطقي mantaqí, A. *adj.* Logical ; dialectic ; *n. m.* منظر manzar, A. *n. m.* A sight ; spectacle ; landscape ; countenance ; face ; book. (Plu. منظر Manázir). منظر عام — i-'ám, a conspicuous object or place.

منظور manzúr, A. *adj.* Approved (of) ; acceptable ; granted ; sanctioned. منظور كرنا — karná, *v.* to grant ; to admit ; to confirm. منظور نظر — i-nazar, *n. m.* a mistress ; a favourite ; *adj.* agreeable to the sight (of) ; chosen.

منظوري manzúrí, A. *n. f.* Sanction ; permission ; approval ; assent ; ratification. منظوري يا قرينه — yá qarina, tacit or implied consent. منظوري بشرط — kháss, special sanction. منظور باشارت — bashart-i—, on condition of approval ; subject, to the approval (of).

منظوم manzúm, A. *adj.* Poetic ; versified.

منع mana', A. *n. m.* Prohibition ; prevention ; refusal. منع كرنا — karná, *v.* to prohibit ; to forbid. [extinct.

منهدم mun'adim, A. *adj.* Destroyed ; annihilated ;

منهقد mun'aqad, A. *adj.* Held ; celebrated. منهقد الالسان — ul-lasán, tongue tied.

منعكس mun'akis, A. *adj.* Inverted ; reversed ; reflected (as a figure in a mirror or in water) ; turned upside down ; topsy-turvy.

منعم mun'im, A. *adj.* Liberal ; generous ; beneficent, *n. m.* a benefactor. منعم حقيقي — i-haqiqí, the Benefactor, *i. e.* God.

منغض munaggaz, A. *adj.* Disturbed (in mind) ; miserable ; sad ; melancholy.

منفرجه múnfaraja, A. *adj.* Obtuse. زاوية منفرجه — zavía-i—, (in *Geom.*) an obtuse angle.

منفرد munfarid, A. *part. adj.* Solitary ; separate, unique ; single.

منفصله munfassala, A. *adj.* Decided ; adjudged ; divided ; distinct. [vantage ; emolument.

منفعت munfa't, A. *n. f.* Profit ; gain ; advantage. منفعل munfa'il, A. *adj.* Afflicted ; abashed ; ashamed.

منفك munfak, A. *part. adj.* Separated ; alienated.

منفي manfi, A. *adj.* Negative ; rejected, separated (from) ; (in *Alg.*) minus.

منقار minqár, A. *n. f.* A bird's bill ; a beak.

منقاش minqásh, A. *n. f.* Pincers ; tweezers.

منقبات manqabat, A. *n. f.* Glory ; accomplishment ; praise (especially of the prophet's son-in-law and successor, Hazrat Ali).

منقح munaqqah, A. *part. adj.* Made manifest or clear. [ed ; shrunken.

منقبض munqabiz, A. *adj.* Constipated ; contracted.

منقسم munqasim, A. *adj.* Divided ; classified ; distributed. [engraved ; carved.

منقاش munaqqash, A. *adj.* Painted ; embroidered ;

منقضي munqazí, A. *adj.* Elapsed ; expired ; completed ; finished ; past.

منقطع munqata', A. *adj.* Broken or cut off ; finished ; extinct ; conclusive.

منقل minqal, A. *n. m.* A chafing-dish. [ing.

منقلب munqalib, A. *part. adj.* Rotating ; revolving.

منقوش manqúsh, A. *part. adj.* Engraved.

منقوطة manqúta, A. *adj.* Dotted ; spotted ; marked with diacritical points.

منقول manqúl, A. *part. adj.* Translated ; transcribed ; copied ; related ; narrated.

منقولات manqúlát, A. *n. m.* (Plu. of منقوله Manqúla). Things related ; traditions ; saying ; movables.

منقولة manqúla, A. *n. m.* Movable property ; *adj.* movable. *n. m.* saying ; tradition. غير منقوله — ghair—, immovable (property).

منق munaqqá, A. n. m. A species of raisin ; dried grapes.

منکا manká, मनका, H. n. m. A bead ; a rosary ; the vertebræ of the neck. منکا دھالکنا—dhalakná, v. to be dying ; to be at the point of death.

منکر munkir, A. n. m. One who denies ; an atheist. منکر نکیر—nakir, n. m. the names of two angels who examine the spirits of the departed after the burial. منکر ہونا—honá, v. to deny ; to disown.

منکسر munkasir, A. adj. Meek ; gentle ; forbearing. منکسر المزاج—ul-mizáj, adj. meek in temperament.

منکشف munkashif A. adj. Discovered ; displayed ; revealed ; published ; illustrious.

منکوحہ mankuha, A. n. f. A legally married wife ; a married woman ; adj. married.

منکھ manukh, मनुष, H. n. m. A man ; mankind in general. [send for ; to call for.

منگیا mangá bhejná, मंगा भेजना H. v. To send for ; to call for ; to ask for. [dicant.

منگتا mangtá, मंगता, H. n. m. A beggar ; a mendicant. منگتیا mangtiká, मंगटीका H. n. m. An ornament worn on the forehead near the parting line of the hair.

منگرا mangrá, मंगरा, H. adj. Powerful ; stubborn ; careless, n. m. ridge of a thatch ; ridgepole.

منگسر mangsir, मंगसिर, H. n. m. The name of the 8th Hindu month.

منگل mangal, मंगल, S. n. m. Pleasure ; happiness ; auspiciousness ; prosperity ; welfare ; the planet Mars ; Tuesday. منگل چار یا منگلا—char yá mangláchar, n. m. festivity ; rejoicing ; congratulation ; an auspicious ceremony or observance. منگلا چار manglácharan, n. m. worship of a Deity before commencing some good work. منگل سما چار—samáchar, auspicious news ; the Gospel. منگلا مکھی manglá mukhí, n. m. musician or singer ; a player.

منگلی manglí, मंगली, S. adj. Rejoicing, n. m. one born under Mars.

منگنی mangní मंगनी, H. n. f. A loan ; betrothal. منگنی دینا—v. to lend. منگنی کرنا—karná, v. to betroth.

منگوانا mangwána, मंगवाना, H. n. (Caus. of مانگना Mángná). To cause to be sent for.

منموہن manmohán मनमोहन, S. n. m. A name of Krishna ; a sweetheart. [distinctly.

مینمینانا minmináná, मिनमिनाना, H. v. To speak in—
مینان minan, A. n. f. (Plu. of مینت Minnat). Humble and earnest supplications ; entreaties ; obligations. [though.

منو mano, मनो, H. adj. and conj. Like ; as
مینوال minwál, A. n. m. Mode ; manner ; form.

منوانا manwáná, मनवाना, H. v. To cause to be conciliated.

منوئی manautí, मनौती, H. n. f. Satisfaction ; acceptance.

منور munavar, A. adj. Brilliant ; illuminated ; enlightened ; splendid.

منورقہ monorath, मनोरथ, H. n. m. Desire ; aim ; object. منورقہ سچھل ہونا—suphal honá, v. to gain one's object.

منہ mugh, मुँह, H. n. m. Mouth ; face ; countenance ; orifice ; opening ; presence ; partiality ; bias ; demand ; charges. منہ اُترنا یا نکل آنا—
utarná yá nikal áná, v. to have the face withered by weakness and emaciation ; to become thin. منہ اُچلا ہونا—ujlá honá, v. to come off with flying colour.

منہ آنا—áná, v. to be salivated ; to have the trush ; n. m. salivated. منہ آ مہا—á mugh, brimful (labdáb)

منہ اندھیرا—andherá, daybreak ; dawn ; twilight. منہ بانا—báná, v. to open the mouth ; to gape ; to expire. منہ بگڑنا—bigárná, v. to make faces ; to frown. منہ بگڑنا—bigárná, v. to be displeased ; to have a bad taste in the mouth. منہ بنانا یا چڑھانا—banáná yá chiháná' v. to make mouths or faces ; to mock.

منہ بند کرنا—band karná, v. to hold one's tongue ; to bribe. منہ بولا—bolá, adj. in name ; nominal ; called ; adopted. منہ بولا—bolá bhái yá—bolí

منہ بولی یا منہ بولی—bolí

bahin, an intimate friend; an adopted brother or sister. **کے منہ پر**—bhar ke, *adv.* fully; completely. **منہ بھرنا**—bharná, *v.* to fill one's mouth; to bribe. **منہ پر دانہ نہ رکھنا**—par dáná na rakhná, *v.* to go without a morsel of food. **منہ پر شفق پھولنا**—par shafaq phúlná, to be flushed with joy. **منہ پر لانا**—par láná, *v.* to tell; to say. **منہ پر مہر کرنا**—par mohar karná, to seal the lips. **منہ پر ہوائیاں یا ناختمے**—par hawáiyán yá fákhṭa urná, to be confounded; to look blank or astonished. **منہ پر ہارنا**—par hárná, *v.* to gape with surprise. **منہ پر ہات**—phaṭ, *adv.* foul-mouthed; outspoken; fearless; unconcerned. **منہ پر ہرنا**—phirná, to turn away from; to be disgusted. **منہ پر ہرنا**—pherná, *v.* to turn one's face from one; to abstain from. **منہ پر ہلانا**—phuláná, to frown; to look angry. **منہ پر ہیلانا**—phailána, *v.* to desire much; to gape. **منہ پر تکانا**—takná, *v.* to gaze at one; to look or hope for; to be astonished. **منہ چلانا**—chaláná, *v.* to chew the cud; to be foul-mouthed. **منہ چومنا**—chúmná, *v.* to kiss. **منہ در**—dar, face to face; before; in the presence (of). **منہ دکھانا**—dikháná, *v.* to show one's face; to appear. **منہ دکھائی**—dikhái, *n. f.* a present generally given by the female relations of the bridegroom on their first visit to the bride. **منہ دیکھتے رہنا**—dekhte rah jáná, to be astonished. **منہ دیکھنے کی ulfat yá prít** *n. f.* show of friendship or affection. **منہ ڈالنا**—dálná, *v.* to eat; to beg; to request. **منہ زبانی**—zabání, *adj.* oral; verbal; *viva voce*. **منہ زرد یا فق ہونا**—zard yá faq honá, *v.* to turn pale (from fear). **منہ زور**—zor, *adj.* headstrong; obstinate; hard mouthed. **منہ سکوڑنا**—sukorńá, *v.* to change colour; to make a wry face; to be offended or displeased. **منہ سے پھول جھڑنا**—se phúl jhaṛná, *v.* flowers (of rhetoric) to fall from the lips (of); (ironic.) to rate in round terms; to abuse; to reproach.

گالیاں دے کے اب بگڑتے ہیں
واہ کیا منہ سے پھول جھڑتے ہیں

(انشاء)

Galiyán de ke ab bigaṛte hain,
Wáh kyá muḡh se phúl jhaṛte hain.
She gives abuse and also gets angry,
Ah! what flowers she scatters from her
mouth!

منہ سینا—siná, to seal one's lips; to silence one; to give hush money. **منہ سے دودھ نہ پکنا**—se dúdh ṭapakná, to be yet a child; to have no sense. **منہ کا کالا کرنا**—kálá karná, *v.* to disgrace; to bring disgrace on; to break off all connections with. **منہ کا کالا ہونا**—ká honá, *v.* to be disgraced. **منہ کا نرالا**—ká niwála, *n. m.* mouthful; anything easily attained. **منہ کا منہ میں ہاتھ کا ہاتھ میں**—ká—men háth ká háth men, staggard; aghast. **منہ کرنا**—karná, *v.* to turn one's face; to regard; to tackle; to burst or open (as an abscess). **منہ کھولنا**—kholná, *v.* to open the mouth; to speak; to reveal; to abuse. **منہ کھولانا**—kholwána, to make one speak. **منہ کی کھانا**—kí khána, to be defeated; to suffer disgrace; to be put to the blush. **منہ لپیٹ کے**—lapeṭ ke par rahná, to take to one's bed in grief. **منہ لٹکانا**—laṭk'ána, *v.* to hang down the head; to make a long face. **منہ لگانا**—lagána, *v.* to familiarise; to be familiar with an inferior; to favour. **منہ لگانا**—lagná, *v.* to be familiarised; to become a favourite; to dispute. **منہ مارنا**—márná, *v.* to bite; to feed; to fall upon. **منہ مانگنا**—mángná, *v.* to ask for; to request. **منہ مانگا**—mángá, *adj.* asked for; requested; wished for. **منہ موڑنا**—morńá, *v.* to turn away; to abstain from; to revolt. **منہ میٹھا کرنا**—míṭhá karná, *v.* to give (one) a treat; to give a bribe. **منہ میں پانی بھر آنا**—men páni bhar áná, *v.* to be tempted; to feel eager; desire for. **منہ نال**—nal, a mouthpiece (of a huqqa). **منہ نیپورنا**—niporńá, *v.* to simper. **منہ ہی منہ میں**—hi—men, *adj.* to one's self.

minhá, *A. adj.* Deducted; subtracted
منہ کرنا—karná, to subtract; to deduct.

minháj, *A. n. m.* Highway; a straight road.

موالات mawálat, P. n. f. Friendship ; love ; affection.

موالي mawálí, A. n. m. Lords ; friends ; slaves.

موالي muwálí, P. n. m. Aider ; defender.

مواليد mawálid, A. n. m. (Plu. of مواد Maulad) Sons. مواليد ثلاثه i-salása n. m. The three items of natural growth, viz., the animal, vegetable and mineral.

موانست muánast, A. n. f. Society ; familiarity ; intimacy ; fellowship.

موانع mawána', A. n. m. Impediment ; obstacles ; hindrances.

موبد mubad, P. n. m. A doctor ; a philosopher ; a worshipper of the sun.

موت maut, A. n. f. Death ; mortality. موت انا —áná, v. to come to one's death ; to die. اپني موت مرنا apní—marná, v. to die a natural death.

موت mút, H. n. m. Urine.

موتاد mautád, P. n. f. (corr. of معتاد) Quantity ; dose.

موتی motí, मोती, H. n. m. A pearl. موتی پرونا —pironá, v. to string pearls ; to talk nicely ; to speak eloquently ; to weep. موتی چور —chúr, n. m. a kind of sweetmeat ; sparkling eyes. موتی کی سی آب —kí sí áb, n. f. lustre, like that of a pearl. موتی کی سی اب اترنا —kí sí áb utarná, v. to be disgraced. موتیوں کا ہار —motiyon ká hár, a necklace of pearls.

موتیا motiyá, मोतिया, H. n. m. A jasmine. موتیا بند —bind, n. m. a kind of blindness ; a cataract.

موت mot, मोट, H. n. f. A bundle ; a leather bucket for raising water.

موتا motá, मोटा, H. adj. Fat ; corpulent ; bulky ; thick ; coarse ; dense ; large ; big ; gross ; rich ; wealthy. موتا تازا —táza, adj. plump and fat.

موتاپا motápá, मोटापा, n. m. } H. Fatness ; cor-
 موتاپان motápan, n. m. } pulency ; coarse-
 موتافی motáfí, मोटाई, n. f. } ness ; thickness.

موتھ múth, मूठ, H. n. f. Handle ; hilt ; fist ; sorcery ; a game. موتھ چلانا —chaláná, v. to cast a spell (over) ; to charm,

موتّر muassir, A. adj. Making an impression ; effective ; efficacious ; effectual ; touching. موتّر ہونا —honá, v. to have effect ; to prove efficacious.

موج manj, A. n. f. A wave ; a surge ; a whim ; emotion ; ecstasy ; abundance. موج آجانا —jáná, v. to be transported or moved or thrilled ; an idea or whim to come (into the mind). موج زن —zan, adj. waving ; boisterous ; raging. موج کرنا —karná, v. to enjoy oneself. موج مارنا —márná, v. to billow ; to wave.

موجب mújib, A. n. m. Cause ; reason ; motive.

موجبات mujibát, A. n. m. (Plu. of موجب Mujib.) Causes ; reasons.

موجبہ mújiba, A. n. m. A thing of importance (whether good or bad) ; the reward or punishment of eternity ; an affirmative proposition in logic.

موجد mùjíd, A. n. m. An inventor ; an author ; the causer. موجد ہونا —honá, v. to be the cause of. موجدان قانوں mujídán-qánún, a legislative body or assembly ; Parliament.

موجز mujaz, A. n. m. A summary ; an epitome ; adj. abbreviated ; epitomised ; brief.

موجل muwajjal, A. adj. Deferred.

موجود maujúd, A. adj. Present ; existing, at hand ; ready. موجود رہنا —rahná, v. to continue ; to attend. موجود کرنا —karná, v. to produce ; to bring before ; to apply.

موجودات maujúdát, A. n. f. Existing things ; creatures ; assets.

موجودگی maujúdagí, A. n. f. Presence ; existence. موجودگی میں —men, adv. in the presence of ; during the existence of.

موجودہ maujúda, A. adj. Present ; existing.

موجہ muwajjah, A. adj. Agreeable ; valid ; well-founded in reason.

موج moch, मोच, H. n. f. Sprain ; twist ; strain. موج آنا —áná, v. to be sprained.

موجرس mochras, मोचरस, H. n. m. The gum of the silk-cotton tree.

موجن mochan, मोचन, H. n. m. Acquittal ; release ; discharge ; forgiveness.

مردچھي mochní, मोचनी, H. n. f. Small forceps.
 مردچھي mochh, मोच्छ H. n. f. Moustaches. مردچھي
 پر تار دينا —par táo dená, v. curl one's mous-
 taches ; think no end of oneself ; to act the
 top or swell ; to brag. مردچھي مردچھي مردچھي
 marofá roṭí toṛá, one who is proud of eating
 the bread of idleness.
 مردچھي mochí, मोची, H. n. m. A saddler ; shoe-
 maker ; a cobbler [pincers ; nippers.
 مردچھي muchína, P. n. m. Tweezers ; small
 مردچھي muwahhid, A. adj. Believing in one God ;
 orthodox ; n. one who believes in the unity of
 God ; a unitarian.
 مردچھي muwahhidába, A. adj. Like one who
 believes in one God.
 مردچھي muwahhish, A. adj. Dismal ; dreary ;
 desolate. [to account.
 مردچھي muakhkhaḥ, A. adj. Taken ; seized ; called
 مردچھي muakhkhar, A. adj. Posterior ; conse-
 quent ; delayed.
 مردچھي mod, मोद, H. n. m. Joy ; pleasure.
 مردچھي muaddab, A. adj. Well-mannered ; civil ;
 polite ; disciplined ; courteous. [affection.
 مردچھي mawaddat, A. n. f. Friendship ; love ;
 مردچھي modi, मोदी, H. n. m. A grocer ; a shop-
 keeper ; a grain merchant ; a steward. مردچھي
 —khána, n. m. a storehouse ; a pantry.
 مردچھي muazzin, A. n. m. A public crier in a
 mosque who calls the people to prayer ; one
 who proclaims (by a chant) the time of
 prayer.
 مردچھي múzī, A. adj. Noxious ; troublesome ;
 vexatious ; obnoxious ; n. m. a tormenter ; a
 vexater ; a wicked person ; a miser. مردچھي
 —paná, n. m. noxiousness ; stinginess ; mean-
 ness. مردچھي ká mál, a miser's property
 مردچھي mor, P. n. m. An ant.
 مردچھي mor, मोर, H. n. m. A peacock. مردچھي
 —paṅkhi, n. f. a pleasure-boat ; a barge. مردچھي
 —chhal, n. m. a kind of brush or fan of pea-
 cock's feathers for driving away flies. مردچھي
 —mukaṭ, n. m. a crown or crest like that of
 the peacock.
 مردچھي maur, मोर, H. n. m. The blossom of a tree,
 especially of the mango.

مردچھي murat, मूरत, } H. n. f. A statue ; an idol ;
 مردچھي múrtí, मूर्ति, } a picture ; portrait ; a
 figure ; a form ; a holy man. مردچھي
 —sthápan, स्थापन, n. m. installation or conse-
 cration of an idol. مردچھي —pújan, n. f.
 idolatry.
 مردچھي múris, A. n. m. A person from whom an
 inheritance is derived ; a cause ; an author ;
 a legator. [battery ; trench
 مردچھي múrchál, P. n. f. Line of intrenchment ;
 مردچھي morchang, मोरचंग, H. n. m. A Jew's
 harp.
 مردچھي morcha, P. n. m. Rust ; a little ant ; a
 line of intrenchment ; a fortification ; a battery.
 مردچھي —bandí karná, v. to intrench.
 مردچھي —par, facing an enemy. مردچھي
 —lená, v. to oppose.
 مردچھي múrchhí, मूर्च्छी, H. n. f. A swoon ; stupe-
 faction ; fainting ; loss of consciousness.
 مردچھي —áná, v. to swoon ; to faint.
 مردچھي múrchhit, मूर्च्छित, H. adj. Fainted ; in a
 swoon ; insensible ; entranced ; infatuated.
 مردچھي morehhal, मोरछल, H. n. m. A whisk ;
 a fan especially of peacock's feathers.
 مردچھي múrchhan, मूर्च्छन, H. n. m. Fainting ;
 swooning. adj. causing insensibility. [rian.
 مردچھي muarriḥ, A. n. m. An annalist ; a histo-
 مردچھي muarraḥha A. adj. Written ; dated.
 مردچھي muarriḥhin, A. n. m. (Plu. of
 Muarriḥ). Historians ; chroniclers.
 مردچھي maurid, A. n. m. A place of descending
 or halting.
 مردچھي múrakh, मूर्ख, H. adj. Foolish ; stupid ;
 illiterate ; ignorant. مردچھي —paná, n. m.
 folly ; stupidity ; ignorance.
 مردچھي morni, मोरनी, H. n. f. A peahen.
 مردچھي maurúsi, A. adj. Hereditary ; ancestral ;
 patrimonial.
 مردچھي morí, मोरी, H. n. f. A drain ; a pipe or
 subterraneous passage for water ; an orifice.
 مردچھي mor, मोड़, H. n. f. A twist ; a bent ; a turn
 (of a road) ; winding (of river) ; doubling.
 مردچھي morná, मोड़ना, H. v. To twist ; to bend ; to
 turn ; to double ; to plait ; to pervert ; to screw
 on ; to drive back (an army).

مُرْطُ mūrḥ, مُرْد, H. *adj.* Foolish ; stupid ; ignorant. [shoulder.
 مَرَّه mārḥá, مَرْدَا, H. *n. m.* A stool ; the
 مَرَّه mauz, A. *n. m.* The banana ; the plantain fruit.
 مَرَّزُون mauzún, A. *adj.* Well-balanced ; well-adjusted ; fit ; symmetrical ; rhythmical ; agreeable. مَرَّزُون كَرْنَا—karná, *v.* to correct a verse ; to fit. مَرَّزُون نَا ná—, not rhythmical ; ill-adjusted ; disagreeable (speech).
 مَرَّزَا moza, P. *n. m.* A stocking ; a boot ; a glove.
 مَرَّزَا گِر gir, *n. m.* a horse that bites at the foot of his rider.
 مَرَّس mūs, مَرَّس, H. *n. m.* A rat ; a mouse.
 مَرَّسَل mūsál, مَرَّسَل, H. *n. m.* A long heavy wooden pestle used for husking rice.
 مَرَّسَلَا mūsálá, مَرَّسَلَا, H. *n. m.* A rod ; a bolt.
 مَرَّسَلَا دَهَار dhír, *n. m.* pelting rain. مَرَّسَلَا دَهَار دَرَسْنَا dhír barasná, *v.* to rain in torrents.
 مَرَّسَلِي mūsílí, مَرَّسَلِي, H. *n. f.* A taproot ; the fusiform receptacle of a many seeded fruit.
 مَرَّسَم mausim, A. *n. m.* Season ; time. مَرَّسَم بَهَار —i-bahár, *n. m.* the spring season. مَرَّسَم خَزَان —i-ḵhizán, autumn.
 مَرَّسَمِي mausimí, A. *adj.* Seasonable ; in season.
 مَرَّسُم mausúm, A. *adj.* Named ; called ; entitled ; noted ; stigmatised. مَرَّسُم كَرْنَا—karná, to name.
 مَرَّسِي mausí, مَرَّسِي, H. *n. f.* Mother's sister ; aunt.
 مَرَّسِيَا mauserá, مَرَّسِيَا, H. *adj.* Belonging or related to the mother's sister's husband.
 مَرَّسِيَا بَهَائِي bhái, *n. m.* a son of a mother's sister ; a cousin. مَرَّسِيَا بَهِي —bahin, *n. f.* a daughter of mother's sister. [name of a bird.
 مَرَّسِيَقَار mūsíq'ár, P. *n. m.* A shepherd's pipe ;
 مَرَّسِيَقِي mausíqí, A. *n. f.* Music.
 مَرَّش músh, P. *n. m.* A mouse ; a rat. مَرَّش دَشْتِي —dashṭí, wild rat.
 مَرَّشَك múshák, P. *n. m.* A bat ; a mole.
 مَرَّشَكُور músh-i-kor, P. *n. m.* A kind of mole ; a musk rat ; a bat.
 مَرَّوَصَل muwassal, A. *part. adj.* Joined ; attached.

مَرَّوَصُف mausúf, A. *adj.* Described ; named ; praised ; celebrated ; before-mentioned. مَرَّوَصُف عَلِيَه —'ilaih, the afore-mentioned.
 مَرَّوَصُفَة mausúfa, A. *n. m.* Anything described.
 مَرَّوَصُول mausúl, A. *past part.* Joined ; connected ; related ; reached (to) ; arrived (at) (in Gram.) the antecedent to the relative مَرَّوَصُول اسم مَرَّوَصُول ism-e—, relative pronoun.
 مَرَّوَصِي músí, A. *n. m.* A testator.
 مَرَّوَصِيَة músía, A. *n. f.* A testatrix. [village.
 مَرَّوَضِع mauza', A. *n. m.* A parcel of land ; a
 مَرَّوَضِع mauzú', A. *adj.* Placed ; situated ; *n. m.* a postulate ; an object ; (in Gram.) a word.
 مَرَّوَطِن mautin, A. *n. m.* Birthplace ; home.
 مَرَّوَضِع مَرَّوَضِع mawazzif, A. *n. m.* One who gives a stipend. [sion or stipend.
 مَرَّوَضِع مَرَّوَضِع muwazzaf, A. *n. m.* A recipient of pen-
 مَرَّوَعِد mau'id, A. *n. m.* Place or time of promise.
 مَرَّوَعِدَة mau'edat, A. *n. m.* Promise.
 مَرَّوَعِدَة mau'azit, A. *n. f.* Advice ; exhortation.
 مَرَّوَعِد مَرَّوَعِد mau'úd, A. *adj.* Promised ; predicted ; predestined. [ful ; numerous ; many.
 مَرَّوَعِد مَرَّوَعِد mau'úr, A. *adj.* Copious ; abundant ; plentiful.
 مَرَّوَقَر muwaqqar, A. *adj.* Honoured ; respected ; revered.
 مَرَّوَقَع mauqa', A. *n. m.* A place ; a situation ; a locality ; a spot ; an occasion ; an opportunity. مَرَّوَقَع پَر —par, *adv.* at the proper time ; at the right place and time, on the spot. مَرَّوَقَع دِيكْهَنَا —dekhná, *v.* to look for an opportunity. مَرَّوَقَع سَے —se, *adv.* timely. مَرَّوَقَع مَلْنَا —milná, to get an opportunity. مَرَّوَقَع وَار دَات —i-wárdát, scene of occurrence. مَرَّوَقَع هَاتَه لَگْنَا —háth lagná, an opportunity to come to hand. مَرَّوَقَع بَے be—, inopportune ; unreasonable. مَرَّوَقَع كُو هَاتَه سَے —ko háth se dená, *v.* to take time by the forelock.
 مَرَّوَقِف mauqif, A. *n. m.* A halting place ; a station.
 مَرَّوَقُف mauqúf, A. *adj.* Stopped ; ceased ; abolished ; fixed or dependent on ; dismissed. مَرَّوَقُف رَکْهَنَا —rakhná, *v.* to suspend. مَرَّوَقُف كَرْنَا

karná, *v.* to stop; to leave off; to abolish; to dismiss. موتد هونأ - honá, *v.* to be stopped; to be dismissed. [suspension.

موقوفی mauqufí, *A. n. f.* Dismissal; stoppage;

موتد maukib, *A. n. m.* An army; forces; a choice body of troops; a bodyguard; a large cavalcade. [pressed.

موتد muakkad, *A. n. m.* One compelled or pressed.

موتد muakkid, *A. n. m.* One who compels or presses.

موتد muakkil, *A. n. m.* One who appoints a *Vakil*; one who delegates power to another; a client.

موتد muwakkal, *A. n. m.* One to whom power is delegated, or a trust is committed; one who is appointed guardian, or superintendent; a trustee; a guardian.

موتد mokhá, *H. n. m.* An opening; air-hole; sky-light.

موتد mográ, मोगरा, *H. n. m.* A mallet; a rammer; a double jasmine.

موتد mogri, *H. n. f.* A mallet used by washerman for beating clothes with, etc.

موتد múl, मूल *H. n. m.* Root; origin; source; generation; stock or capital; principal; text; the original text; name of the nineteenth lunar mansion. موتد برك barg—, (in *Arith.*) the square root.

موتد mol, मोल, *H. n. m.* Purchase; purchase-money; price; value. موتد برفنا—barhá, *v.* to raise the price. موتد تول—tol, *n. m.* fixing a price; bargain; valuation. موتد تهورانا—ṭbahráná *v.* to value; to estimate. موتد دینا—dená, *v.* to sell. موتد لینا—lená, to buy; to purchase.

موتد maulá, *A. n. m.* Master; Lord; God.

موتد mauláná, *A. n. m.* A person respected for learning; a learned doctor.

موتد maulad, *A. n. m.* Birthplace; nativity.

موتد muwallad, *A. n. m.* Generator; one who produces.

موتد molsirí, maulsari, *H. n. f.* Name of a tree, and its fruits; (the flowers of the tree

are highly fragrant, and the bark is used as gurgle for swollen gums) [an editor.

موتد muallif, *A. n. m.* A compiler (of a book);

موتد muallifa, *A. adj.* Compiled; composed.

موتد maulúd, *A. n. m.* Baby; infant; a newly born child.

موتد maulúd, } *A. n. m.* Celebra-
موتد شریف maulúd sharif, } tion of the anniversary of Mohammad's birth.

موتد maulavi, *A. n. m.* A learned man; a professor; a Mohamedan doctor of law.

موتد muwalla, *A. adj.* Rendered sad; distracted; troubled with love.

موتد mulf, *H. n. f.* A radish.

موتد mom, *P. n. m.* Wax. موتد بتی—battí, *n. f.* a wax-candle. موتد جامة—jáma, *n. m.* wax-cloth. موتد دل—dil, *adj.* tender-hearted.

موتد روغان—raugan, *n. m.* a polish of wax and oil mixed together. موتد کرنا—karná, *v.* to make soft; to soften; to melt. موتد کی ناک—kí nák, a person of a fickle disposition.

موتد momia, *A. n. m.* An orthodox Mahamadan; true believer; a Musalman weaver.

موتد mominána, *P. adj.* Faithful; orthodox; *adv.* like a true believer. [wax.

موتد momí, *P. adj.* Waxen; of the colour of

موتد momiyái, *P. n. f.* A mummy; a medicine.

موتد maun, मौन, *H. n. m.* Silence; taciturnity; *v.* to remain silent; to practise taciturnity.

موتد mauná, मौना, *H. n. m.* A large jar; basket.

موتد maunat, *A. n. f.* Provision; daily food.

موتد muannas, *A. adj.* Feminine; of the feminine gender; effeminate.

موتد múnj, मूज, *H. n. f.* A kind of rush or grass (of which ropes are made). [finger

موتد múndrí, मूंदरी, *H. n. f.* A ring for the

موتد múndaná, मूंदना, } *H. v.* To close; to
موتد موندھنا—múndhná, مूँधना, } shut; to cover; to imprison.

موتد múnđ, मूँड, *H. n. m.* The head. موتد موندھنا—múndáná, *v.* to get the head shaved; to be shaven and shorn.

مہاجن mahajan, महाजन, H. n. m. A man of credit; a banker; a merchant. —i, n. f. banking business. —i-lekha, n. m. mercantile accounts. [a sofa.

مہاد mihád, A. n. m. A throne; a chair; a bed;

مہار mahár yá muhár, P. n. f. A string put through a perforation in the nose of a camel to guide him by; a bridle, rein. بے مہار be—, unbridled; unrestrained; loose. شتر بے مہار shatur-e-be—, a vagabond; a vagrant.

مہارات mahárat, A. n. f. Practice, skill; expertness; subtlety. [face of a youth.

مہاسا muhásá, मुहासा, H. n. m. A pimple on the

مہال mahál, A. adj. Formidable; dreadful.

مہام muhám, A. n. f. (Plu. of مہم Muhim). Important transactions; serious affairs; momentous businesses.

مہانا muháná, मुहाना, H. n. m. The mouth (of a river, &c.); an outlet; an estuary.

مہاوات maháwat, महावत, H. n. m. An elephant driver or keeper.

مہاوات maháwat, महावट H. n. m. Rain which falls in the month of Mágh.

مہتاب mahtáb, P. n. m. The moon; the moonlight; a kind of fireworks.

مہتابی mahtábi, P. n. f. Brocade; an open high terrace; a blue light; a kind of fireworks.

مہتار mehtar, P. n. m. A head or chief man.

مہتار mehtar, مهتار, H. n. m. A sweeper.

مہترانی mehtaráni, P. n. f. A female sweeper.

مہتمم muhtamim, A. n. m. A manager; a superintendent; an inspector; an overseer. مہتمم —i-akhbár, n. m. the manager or editor of a newspaper. مہتمم بندوبست —i-band-o-bast, n. m. settlement officer.

مہتممی muhtamimi, A. n. f. Managership.

مہتو mahto, महतो, H. n. m. Headman of a village.

مہتول mahtúl, A. adj. Terrified; afraid; trembling. [cut off; rejected.

مہجور mahjúr, A. adj. Separated; forsaken;

مہجوری mahjúri, A. n. f. Separation; absence.

مہد mahd, A. n. m. A cradle; a swing.

مہدم mahdám, A. adj. Destroyed; totally ruined.

مہدی mahdí, A. n. m. A guide. One who is led in the right way; the name of the twelfth Imam who according to the creed of the Shia Muslims, is still alive and will come out of his seclusion when the day of Resurrection approaches.

مہر mahr, A. n. m. (Moh. Law.) A dower. Dower is defined to be the money or its value which is incumbent on the husband, either by reason of its being named in the contract of marriage, or by nature of the contract itself, to be proved in exchange of the usufruct of his wife. It is known by several names, as Sadaq (صدق) nuhlah (نہلا) and 'uqr (عقر) مہر باندھنا —bándhná, v. to settle a dower on a wife. مہر بخشنا —bakhshná, v. to give up a jointure. مہر معجل —i-mu'ajjal, prompt dower. مہر موجل —i-muwajjal, deferred dower.

مہر mohr, P. n. f. A seal; a stamp; a gold coin. بردار مہر —bardár, n. m. a keeper of the seal. دستی مہر —dastí, a private seal; a signet. مہر شاہی —sháhí, a privy seal; royal signet. مہر کرنا یا لگانا —karná yá lagáná, v. to seal; to put a seal on; to close. مہر کن —kan, n. m. a seal-engraver. مہر کنی —kaní, n. f. seal-engraving.

مہر mehr, P. n. m. The sun.

مہر mehr, P. n. f. Kindness; favour; affection; prosperity. اگیز مہر —agez, adj. friendly; exciting love. [person.

مہرا mehra, मेहरा, H. n. m. An effeminate

مہرا mohrá, P. n. m. A natural protuberance of the bone in the neck-joint; vertebræ; a shell; a chess-man; polish.

مہرا mohra, मोहरा, H. n. m. The front.

مہربان mehrbán, P. adj. Kind; benevolent; gracious.

مہربانی mehrabáni, P. n. f. Favour; kindness. مہربانی کرنا —karná, v. to favour; to be kind to.

مہری mohrí, मोहरी, H. n. f. The end of a sleeve or of the leg of a pair of trousers; the bow of a gun, &c.; a drain. [fragrance.

مہک mahak, महक, H. n. f. Perfume; odour;

- مہنگا mahakná, महकना, H. v.** To exhale an agreeable smell; to emit odour; to smell; to perfume.
- مہنگیلا mahkilá, महकीला, H. adj.** Fragrant; odorous; aromatic.
- مہیلا mahilá, महिला, S. n. f.** A woman; female.
- مہلات mohlat; A. n. f.** Delay; respite; time; leisure; cessation; postponement; armistice.
- مہلات دینا—dená, v.** to allow time; to postpone.
- مہلیک mohlik, A. adj.** Fatal; destructive.
- مہلیک جگہ—honá, v.** to prove fatal.
- مہلیک جگہ—jagah, a vital part. مہلیک زخم—zaḥm, a mortal wound.**
- مہم muhim, A. n. f. (Plu. مہمات Mahimát)** Important affair; exploit; enterprise.
- مہما mahimá, महिमा, S. n. f.** Greatness; majesty; might; power; glory.
- مہمان mehman, P. n. f.** A stranger; a guest.
- مہمان خانہ—khána, a house for the reception of strangers; a guest-chamber.**
- مہماندار—dár, host; an entertainer.**
- مہمانداری—dári, n. f. hospitality; entertainment.**
- مہماندوست—dost, adj. hospitable.**
- مہمان سرا—sará, an inn.**
- مہمانی mehmaní, P. n. f.** Entertainment; hospitality; feast.
- مہمانی کرنا—karná, v. to entertain.**
- مہمال muhmal, A. adj.** Without meaning (a word, &c.); obsolete.
- مہمالا muhmala, A. adj.** Vacant; *n. m.* A letter without dot, *s. g.* مہمالا.
- مہمیز mahmez, P. n. f.** A spur.
- مہنا mihná, H. n. m.** Sarcasm; taunt.
- مہانت mahant, महन्त H. n. m.** The head of a religious order; a monk; an abbot.
- مہاندیس muhandis, A. n. m.** A geometrician; a mathematician.
- مہنگا mahngá, महंगा, H. adj.** Dear; expensive.
- مہنگی mahngí, महंगी, H. n. f.** Dearness; a time of dearness or scarcity.
- مہوا mahvá, महुआ, H. n. m.** A tree bearing sweet flowers from which spirituous liquor is distilled.
- مہودے mahoday, महोदय, S. n. m.** Greatness; pre-eminence.
- مہورت mahúrat, महूर्त, H. n. m.** A division of time equal to 12 *chhins* or 48 minutes; an auspicious omen.
- مہورت دیکھنا—dekhná, v. to ascertain the auspicious moment.**
- مہورت کرنا—karna, v. to commence a work at an auspicious moment.**
- مہورس muhawwas, A. part. adj.** Very desirous; distractedly in love.
- مہورس muhawwis, A. part. adj.** Distracting; dementating.
- مہوش mahwash, P. adj.** See مہ Mah.
- مہوک mahúk, महूक, H. n. m.** Honey.
- مہوک کی مکھی—kí makhí, honey-bee. [cuckoo.**
- مہوکا mahoká, महोका, H. n. m.** A species of
- مہی mahí, मही, S. n. f.** The earth; land; soil.
- مہی پت—pat, n. m. a king.**
- مہیا muhaiyá, A. adj.** Prepared; got ready; arranged.
- مہیا کرنا—karná, v. to supply; to procure. [dreadful.**
- مہیب muhib, A. adj.** Formidable; terrible;
- مہیش mahesh, महेश, S. n. m.** The great Lord; an epithet of Siva.
- مہیلا mahelá, महेला, H. n. m.** A mash of boiled kidney beans given to horses; a mash.
- مہین mahín, महीन, H. adj.** Fine; thin; not coarse.
- مہینا mahína, महीना, H. n. m.** A month; salary; monthly pay.
- مہینہ بھر—bhar, the whole month.**
- مہینہ چڑھنا—chaḥná, to be in arrears.**
- مہینہ دار—dár, n. m. a monthly servant.**
- مہے mac, P. n. f.** Wine; spirituous liquor.
- مہے پرست—parast, n. m. a lover of wine; a drunkard.**
- مہے پرستی—parastí, n. f. the love of wine.**
- مہے خانہ یا مہے کدہ—khána yá—kada, tavern.**
- مہے خوار—khuár, n. m. wine-bibber.**
- مہے فروش—farosh, n. m. a wine-merchant; a tavern-keeper.**
- مہے میگوں—gún adj. of the colour of wine.**
- مہے نوشی—noshí, n. f. wine-drinking.**
- مہے mac, मय, S. adj.** Full of; replete with; made of.
- مہیا maiyá, मैया H. n. f. Mother.**

میادین mayádn P. n. m. (*Plu. of Maidán*) Plains.

میاں miyáñ, میاں, H. n. m. Sir ; master ; husband ; lord ; father. میاں آدمی—ádmí, n. m. a good-natured man ; a respected person ; a gentleman. میاں جی—jí, n. m. a mediator ; a school-master ; a pedagogue ; an ambassador. میاں بھائی—bhái, sister's husband.

میان miyán, P. n. m. A scabbard ; a sheath ; waist ; loins ; the middle ; centre ; *adv.* between ; among ; in the midst (of) ; *adj.* of medium stature. میان بستہ—basta, *adj.* ready ; prepared with the loins girt. میان تہہ—tah, n. f. underlining. میان دار—dár, sheathed. میان سے باہر ہونا—se báhar honá, v. to be transported with rage ; to pass all bounds.

میانہ miyána, P. *adj.* Middling ; moderate. میانہ قد—qad, of medium stature. میانہ روی—rawí, n. f. moderation ; middle course.

میانا miyána, میانا, H. n. m. A kind of sedan or *pálki* ; a centre.

میانی miyání, P. n. f. A gusset between the legs of a pair of trousers.

میایں miyáñ, میایں, H. n. f. Mewing of a cat.

میت maiyat, A. n. f. A dead body.

میتھی methí, میثی, H. n. f. The plant fenugreek. میتھی کا ساگ—ká ság, a potherb.

میت meţ, مےٹ, H. n. m. A mate ; a scullion.

میتنا meţná, مےٹنا, H. v. To efface ; to erase ; to wipe out ; to annihilate ; to atone for.

میتھا míţhá, میٹھا, } H. *adj.* Sweet ; slow ; lazy ;
میتھی míţhí, میٹھی, } cunning ; n. m. a general
name for sweets, as sugar, molasses, &c. میتھا
میتھا بولنا—bolná, v. to speak mildly. میتھا تیل
—tel, oil of sesame (*tíl*). میتھی بات—bát, honeyed
words. میتھی بولی—bolí, sweet-speech. میتھا
پانی—pání, lemonade. میتھا تھگ—ţhág, a
false friend. میتھی مار—már, slow torture.
میتھا منہ کرنا—munh karná, v. to give one
sweetmeats, money, &c. میتھی نظر سے دیکھنا
—nazron se dekhná, to look sweet upon.

میتھنا míţhná, میٹھنا, v. To close (the eyes) ; to wink.

میخ meţh, P. n. f. A nail ; a wedge ; a peg ; a

tent-peg. میخ ڈھونکنا—ţhonkná, v. to nail ; to impale. میخ چو—chú, n. f. a mallet ; a hammer. میخ مارنا—márná, v. to render powerless.

میدان maidán, P. n. m. A plain ; an open field ; an area ; a battlefield. میدان جانا—jáná, to go to the rear. میدان چھوڑنا—chhorná, v. to take flight. میدان دینا—dená, to make room (for) ; to give a wide berth (to). میدان قلم—i-qalam, the shaft or the nib of a pen. میدان مارنا—márná, v. to win a battle. میدان میں آنا—men áná, to come out to fight.

میدہ maida, P. n. m. Flour ; meal.

میدھ medh, مےھ, H. n. f. A post fixed in the centre of a threshing floor, to which the cattle are attached as they turn round to tread the corn.

میر mír, P. n. m. A chief ; a leader ; a title by which Saiyids are called ; the king in cards. میر آتش—átish, n. m. the chief of the artillery. میر آخر—ákhur, n. m. master of the horse. میر بھر—bahr ; n. m. an admiral ; a collector of port-duty. میر بخشہ—bakşhí n. m. a paymaster-general. میر تروک—tozak, a marshal. میرزا—zá, son of a nobleman ; a title in Persia. میر سامان—sámán, n. m. a head steward. میر شکار—shikár, n. m. chief huntsman. میر عدل—i-'adl, Chief Justice. میر مجلس—majlis, n. m. the master of ceremonies ; a president or chairman. میر منزل—manzil, n. m. a quarter master general. میر منشی—munshí, n. m. a chief secretary ; a head clerk.

میرا merá, میرا, H. *pron.* My ; mine.

میرات mirás, A. n. f. Hereditary estate or property ; a bequest ; legacy ; patrimony.

میراں mirásan, میراں, H. n. f. A singing girl who sings only before women.

میراںی mirásí, میراںی, H. n. m. A singer by hereditary profession.

میراںی mirásí, P. *adj.* Inherited.

میرھا merhá, میرھا, H. n. m. A ram.

میز mez, P. n. f. A table. میز لگانا—lagáná, v. to lay the table.

میزان mizán, A. n. f. A balance ; a pair of scales ; the sign *Libra* ; total ; measures.

· میزبان دینا یا لگانا—dená yá lagáná, *v.* to add up; to total; to cast up. میزبان کل—i-kul, *n. f.* the grand total.

میزبان mezbán, *P. n. m.* An entertainer; host. میزبان میزبانی mezbání, *n. f.* entertainment; hospitality.

میسر mayassar, moyassar, *A. adj.* Obtained; attainable. میسر ہونا—honá, *v.* to be obtained or attained.

میسرہ maisara, *A. n. m.* Left wing of an army.

میش mesh, *P. n. m.* A sheep; a ram; the sign *Aries*. [unuspicious.

میشون maishún, *A. adj.* Unlucky; unfortunate;

میشی meshí, *P. n. f.* A kind of leather; parchment; chamois leather.

میعاد mí'ád, *A. n. m.* The time of a promise; term; duration; period. میعاد بڑھانا—bárhána, *v.* to extend time. میعاد پوری ہونا—púrí honá, *v.* to expire (a term or period allowed). میعاد کاٹنا—kátná, *v.* to undergo imprisonment for the full term. میعاد مقررہ—i-muqarrara, a fixed period.

میعاد می'ادی mí'y'adí, *A. adj.* Limited; terminable.

میعاد می'ادی اجارہ—ijára, *n.* a terminable lease.

میعاد می'ادی نقشہ جات—naqshaját-i—, periodical returns. میعاد می'ادی ہندی—hundí, *n. f.* a bill payable on expiry of a certain fixed period.

میغ meg, *P. n. m.* A cloud; fog; mist.

میگہ maiká, میگہ, *H. n. m.* The bride's paternal home.

میگاہل mikáíl, *A. n. m.* Name of an angel; Michael.

میگہ mekh, میگہ, *H. n. m.* The sign *Aries*.

میگہ megh, میگہ, *S. n. m.* A cloud; rain; *rág* or musical mode appropriate to the wet season and last watch of the night before the first dawn of day, said to have proceeded from the head of Brahma, or the sky. میگہ پتی—patí, *n. m.* Lord of the clouds; a title of *Indra*. میگہ راج—ráj, *n. m.* the thunderer.

میل mail, *A. n. m.* Inclination; tendency; bias.

میل mel, میل, *H. n. m.* Connexion; relationship; agreement; combination; intimacy; conciliation; concern; union; mixture; kind; sort.

میل جوں—jol, friendly intercourse. میل کا—ká.

congenial; friendly. میل کرنا—karná, *v.* to agree; to associate with.

میل کھانا—kháná, to unite; to accord. میل ہے—be—, heterogenous.

میل ہیک hel—, intimacy; familiarity. میل

ہیک hel—karná, to form an intimacy. میل

کرنا hel—karná, to form an intimacy. میل

کرنا miláp honá, *v.* to be familiar with.

میل mail, میل, *H. n. f.* Dirt; filth; rust; scum.

میل بیکٹھنا—baiṭhná, *v.* to gather (a crust).

میل چھانٹنا یا کاتنا—chháṭṭná yá káṭná, *v.* to clarify; to purify.

میل خورہ—ḵhora, *n. m.* an undervest; an apron. میل لانا—*v.* to be sorry.

میل لانا—*v.* to be sorry.

میل میل, *H. n. m.* A mile.

میل melá, میلا, *H. n. m.*

میل میلا tamásha, میلا تماشا } Meeting;

میل میلا ṭhelá, میلا ڈھلا, } company;

a fair; a concourse of people for religious

or commercial purposes.

میل mailá, میل, *H. adj.* Dirty; foul; defiled;

mean; *n. m.* filth; dirt. میل پن—pan, *n. m.*

دirtiness; filthiness. میل کرنا—karná, *v.* to

dirty; to foul; to go to stool. میل ہونا—honá,

v. to become dirty.

میلاد mí'lád, *A. n. f.* Birth. میلاد شریف—sharif,

n. f. celebration of the birth anniversary of

the prophet Mohammad. [tion.

میلان mailán, *A. n. m.* Inclination; bent; affec-

میل melí, میلی, *H. n. m.* A partaker (in); a

friendly or sociable person.

میل mem, میم, *H. n. f.* Madam.

میلد میمانسا mí'mánsá, میمانسا, *H. n. m.* One of the

orthodox systems of the Hindu philosophy;

investigation of truth.

میلد میمننا meunná, میمننا, *H. n. m.* A kid; a ram.

میلد میمانت maimanat, *A. n. f.* Prosperity; happiness.

میلد میمانا maimana, *A. n. m.* Right wing of an

army.

میلد میمون maimún, *A. adj.* Fortunate; auspicious;

n. m. a monkey; a baboon.

میلد میمیانا mí'miyána, میمیانا, *H. v.* To bleat as a

lamb or kid.

میلد میں meḡ, میں, *H. prep.* In; within: between;

among; at. میں سے—se, from within; out of;

from among.

main, मैं, H. pron. I, میں میں—main, egotism; arrogance. میں میں کرنا—main karná, to be egotistical; to be full of oneself.

min, मीन, H. n. m. A fish; the sign *Pisces*. میں میں نکالنا—mekh nikálná, v. to criticise.

miná, مینا, P. n. m. A decanter; enamel; blue-stone; a colour; the azure vault; the sky. مینا کار—bázár, a fancy fair. مینا کار—kár, n. m. an enameller. مینا کاری—kárí, n. f. enamelling.

mainá, मैना, H. n. f. Bird; starling; a term of endearment addressed to children.

minár, مینار, A. n. m. A pillar; a minaret; a steeple.

mainphal, मैनफल, H. n. m. A fruit used in medicine as an emetic; *nux vomica* (*joaz-ul-que*). [to scrub.

minjána, मीजना, H. v. To rub; to scour;

menđ, मेंढ, H. n. f. A boundary; a mound (of a field); a border; a dam; a landmark. مینڈ بندی—bandí, n. f. a record of boundaries.

mendak, मेंढक, n. m. } H. A frog; a toad; مینڈکی mendakí, मेंڈکی, n. f. } the rump of a horse; a toy. مینڈکی کو زکام ہونا—ko zukám honá, v. to display pride, or to assume consequential airs.

menđhá, मेंढا, H. n. m. A ram.

mainsil, مینسِل, H. n. m. Red arsenic; red orpiment.

mengní, मेंगनी, H. n. f. The dung of sheep, goats, and camels.

míngí, मींगी, H. n. f. The kernel.

mínú, P. n. m. Paradise; heaven.

menh, मेंہ, H. n. m. Rain. مینہ برسنا—barasná, v. rain to fall; to rain.

menhđí, मेंہدی, H. n. f. Myrtle; the henna plant; a marriage ceremony among Muhammadans. مینہدی لگانا—lagáná, v. to stain the palms, &c., with *mehđí*.

mewa, P. n. m. Fruit. مینہ دار—dár, adj. fruit bearing. مینہ فروش—farosh, a fruit-seller.

mewaját, P. n. n. m. (*Piu. of* مینہ جات *Mewa*). Fruits.

(ن)

nún. The 25th letter of the Arabic, 29th of the Persian and thirty-second letter of the Urdu alphabet. It corresponds to न in Sanskrit, and is one of the dental letters having the sound of the English n, but it has also the nasal sound represented in the Roman character by n and in the Nagrí by ण य न, and also by the *anuswár*. It denotes 50 according to *abjad*.

ná, P. No; not; a negative prefix to nouns or participles; the termination of the infinitive or gerund of Hindustani verbs. نا اتفاقی—ittifáqí, n. f. disagreement; discord. نا آزمودہ—ázmodá, adj. untried; inexperienced. نا آشنا—áshná, n. m. and adj. a stranger; unacquainted. نا آشنائی—áshnáí, n. f. friendlessness. نا اعتماد—i'timad, n. m. untrustworthy. نا اعتمادی—i'timadí, n. f. untrustworthiness. نا اتفاقی—iltifátí, n. f. inattention; slight; disfavour. نا امید—ummed, adj. hopeless; despondent. نا امید کرنا—ummed karná, v. to disappoint. نا امید ہونا—ummed honá, to be disappointed. نا امیدانہ—ummedána, adv. hopelessly. نا امیدیش—ummedí, n. f. hopelessness. نا انصاف—insáf, andesh, adj. clear; evident. نا اہل—ahl, adj. incapable; unfit; adj. unjust. نا باالغ—bálig, adj. n. an unworthy person. نا بچہ—bálig, adj. under age; unripe, n. m. a minor; a youth; a ward. نا بکار—bakár, adj. useless; worthless; vile; wicked. نا باد—balad, n. m. foreigner; a clown. نا بُرد—búd, adj. non-existent. نا بُرد کرنا—búd karná, to annihilate. نا بینا—bíná, adj. blind. نا پاک—pák, adj. impure; lewd; licentious. نا پایدار—páedár, adj. unsteady; fickle; transitory. نا پدید—padíd, adj. invisible; not to be found. نا پرہیزگار—parhezgár, adj. incontinent; unchaste. نا پسند—pasand, adj. disapproved; rejected; disagreeable; offensive; reprobated. نا پید—paid, adj. not available;

non-existent; extinct; lost; missing. نا تجربہ —tajruba kar, *adj.* inexperienced. نا تراشیده —taráshída, *adj.* unpared; unshaved; unlicked; uncivilised. نا تربیت یافته یا نا تربیت —tarbiyat yáfta yá ná tarbiyat, *adj.* uneducated; rude. نا ترس —tars, *adj.* fearless; unfeeling; merciless. نا تمام —tamám, *adj.* incomplete; imperfect. نا توان —tawán, *adj.* weak; feeble; frail; impotent. نا جایز —jáez, *adj.* unlawful contraband. نا جنس —jins, *adj.* heterogeneous; ignoble; rude. نا چاقی —cháqí, *n. f.* disagreement; indisposition. نا چیز —chiz, *n. m.* a trifle; a mere nothing. نا حق —haq, *n. m.* injustice; injury; *adj.* unjust; false; untrue; *adv.* unjustly; falsely. نا حق شناس —haq-shinás, *adj.* unjust; ungrateful, *n. m.* an unjust or ungrateful person. نا خدا —khudá, *n. m.* an atheist; an impious wretch; the captain of a ship; a seaman. نا خدا ترس —khudá tars, *adj.* not fearing God; ungodly. نا خالف —khalaf, *adj.* degenerate; undutiful (a son); wicked. نا خوانده —khwánda, *adj.* unread; illiterate; uninvited. نا خوش —khusht, *adj.* displeased; indisposed. نا دار —dár, *adj.* insolvent; poor; indigent. نا دان —dán, *adj.* ignorant; silly; innocent. نا دانسته —dánista, *adj.* unknowingly; unwillingly. نا درست —drust, *adj.* not right; wrong; false. نا دهند —dihand, *adj.* close fistcd; a bad pay-master. نا دیدنی —didaní, *adj.* unfit to be seen. نا دیده —dida, *n. m.* a person who has seen little; a greedy person. نا راست —rást, *adj.* not right; not straightforward; dishonest; unfair. نا راضی —ráz, *adj.* dissatisfied; unwilling. نا رسائی —rasái, *n. f.* want of reach; failure; inability; unskilfulness. نا رسیده —rasída, *adj.* unripe; immature. نا روا —rawá, *adj.* not current; not allowed; unsaleable. نا زور —zor, *adj.* without strength; weak. نا زیبا —zebá, *adj.* unbecoming; ungraceful; ugly. نا ساز —sáz, *adj.* disagreeing; indisposed; out of sorts. نا سپاس —sipás, *adj.* ungraceful. نا سزا —sazá, *unworthy*; impertinent; indecent; foolish. نا سمجھه —samajh, *adj.* unintelligent; dull. نا سنجیده —sanjída, *adj.* unweighed; unmeasured; hasty. نا شاد —shád, *adj.* cheerless; displeased; unhappy.

ناشایسته —sháista, *adj.* unbecoming; indecent; ill-mannered; illicit; bad; ill-fated. ناشدنی —shudaní, *adj.* impossible; bad; worthless. نا صبور —sabúr, *adj.* impatient. نا صواب —sawáb, *adj.* sinful. نا عاقبت اندیش —'áqbat andesh, *adj.* indiscreet; inconsiderate. نا فرمان —farmán, *adj.* disobedient. نا فهم —fahm, *adj.* stupid; unintelligent. نا قابل —qábil, *adj.* unfit; incapable. نا کاره —kára, *adj.* useless; worthless. نا کس —kas, *n. m.* a worthless person; a nobody. نا گوار —gawár, *adj.* unpleasant; unacceptable. نا لایق —láyaq, *adj.* unworthy; unfit. نا مبارک —mubárak, *adj.* unfortunate. نامحرم —mahram, *n. m.* a stranger; one before whom a woman cannot appear unveiled; one who is not (as regards marriage) within the forbidden degree. نا مراد —murád, *adj.* disappointed; unfortunate. نا مرد —mard, *adj.* unmanly; cowardly; impotent. نامعقول —ma'qúl, *adj.* irrational; unreasonable. نامعلوم —ma'lúm, *adj.* unknown. نامولایم —muláyam, *adj.* hard; uncivil. ناممکن —mumkin, *adj.* impossible. نا مناسب —munásib, *adj.* improper; unbecoming; unfit. نا موافق —muáfiq, *adj.* unwholesome; disagreeable; adverse. نا واقف —wáqif, *adj.* unacquainted with; ignorant. نا یاب —yáb, *adj.* scarce; rare; unprocurable. ناب náb, *P. adj.* Pure; unadulterated; genuine; clear. nab, *A. n. m.* A grinder; a canine tooth; a tusk; a fang. náb, *P. n. m.* Channel; canal; furrow; fluting (of a pillar); cornice. nábdán, *P. n. m.* Gutter; a sewer. nábh, *S. n. f.* The navel (náf); the nave (of a wheel); central point; focus. nabht, *nál*, the umbilical cord. náp, *H. n. m.* Measurement. ناپ جو کبه —jokh, measuring and weighing. nápná, *H. v.* To measure; to weigh. nátá, *H. n. m.* Relationship; kin; alliance; affinity. ناتے دار —nátédár, relative; kinsman. nátin, *H. n. f.* Grand daughter; a daughter's daughter.

ٺاٺهه náth, नाथ, S. n. m. Master; husband; lord; a patron; a title borne by *jogis*; a nose-string for beast; a stone.

ٺاٺهنا náthná, नाथना, H. v. To bore an animal's nose and put a string in it; to have complete control; to bring under subjection or control.

ٺاٺي náthí, नाथी, H. n. m. Grandson; daughter's son.

ٺاٺا náthá, नाठा, H. adj. Short; dwarfish; n. m. a naughty boy.

ٺاٺڪ náthak, नाटक, S. n. m. A dramatic performance, a play; a pantomime; a drama; a comedy; a theatre.

ٺاٺ náj, नाज, H. n. m. Grain; corn. ٺاٺڪا—káthná, to reap the harvest. ٺاٺ ڪي منڍي—kí mandí, a grain-mart.

ٺاٺجي nájji, A. adj. Free; saved; elect.

ٺاٺ nách, नाच, H. n. m. A dance. ٺاٺ ٺڇاڻا—nachána, v. to make one dance; to tease.

ٺاٺچار náchár, H. adj. Helpless; powerless; des-titute.

ٺاٺڇاڻا náchná, नाचना, H. v. To dance.

ٺاٺڇي náhlya, A. n. m. Territory; country; coast; side; quarter.

ٺاٺخدا naḥudá, P. n. m. (See ٺا)

ٺاٺخن nákhun, P. n. m. Nail; talon; claw. ٺاٺخن ڳير يا تراش—gir yá tarásh, n. m. a nail-parer. ٺاٺخن لينا—lená, v. to pare the nails; to trip or stumble (a horse).

ٺاٺخه naḥhuna, P. n. m. A kind of plectrum to strike the strings of a guitar, &c.; a haw or web in the eye; a cloth made of silk and cot-ton; enmity.

ٺاٺ náđ, नाद, S. n. m. Sound; song; roar. ٺاٺ ڊيا—vidyá, the art of singing.

ٺاٺان náđán, A. adj. Ignorant; silly; illiterate; simple.

ٺاٺاڊر náđir, A. adj. Rare; wonderful; choice; uncommon; singular; precious.

ٺاٺاڊرات náđirát, A. f. Rarities; curiosities.

ٺاٺاڊري náđrí, A. n. f. A rarity; the ace of cards.

ٺاٺاڊلي náđ-i-'alí, A. n. m. A kind of stone on

which is inscribed a verse or a sentence from the *Quran*, and worn as a charm.

ٺاٺاڊم náđim, A. adj. Abashed; ashamed.

ٺاٺاڊهنا náđhná, नाथना, H. v. To yoke.

ٺاٺاڊيا náđiyá, नादिया, H. n. m. The bull and vehicle of Shiva.

ٺاٺاڊر nář, A. n. f. Fire; hell; the mind.

ٺاٺاڊر nář, P. n. m. A pomegranate.

ٺاٺاڊر nář, नार, S. n. f. A woman; the barrel of a gun; the fibre of which a rope is made; the stalk of the lotus; the neck; the large leathern thong by which the ox-yoke is tied to the pole of the drag.

ٺاٺاڊر nárá, नारा, H. n. m. Red thread; the tape or band for trousers.

ٺاٺاڊران náráyan नारायण, S. n. m. A name of Vishnu. ٺاٺاڊران ٺاٺاڊري ٺاٺاڊري náráyani bal, Hindu funeral ceremony. ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري sat—, the True God.

ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري nářjil, P. n. m. Coconut; the cocoanut-tree.

ٺاٺاڊر nárad, नारद, S. n. m. A Hindu saint, son of Brahmá; one who stirs up quarrel; a mischief-maker.

ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري náranj, P. n. m. An orange. ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري náranjí, adj. orange-coloured.

ٺاٺاڊر nárawá, P. a. tj. Unlawful. (See ٺا)

ٺاٺاڊري náří, नारि, H. n. f. A woman.

ٺاٺاڊري náří, A. adj. Hellish; fiery.

ٺاٺاڊري náriyal, नारीयल, H. n. m. A cocoanut; *huqqa* made of a cocoanut; a firework; the head.

ٺاٺاڊر nárá, नारा, H. n. m. A trouser-string.

ٺاٺاڊري náří, नारि, H. n. f. The pulse; an artery; vein.

ٺاٺاڊر nář, P. n. m. Blandishment; coquetry; toy-ing; whims; pride; airs. ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري—uṭháná, v. to bear with the whims and airs of another.

ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري—bardár, a flatterer. ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري—parvada, delicately nurtured; a spoiled child ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري يا ٺاٺاڊر—pesha, a coquette. ٺاٺاڊر ٺاٺاڊري—o-naḥhra yá nář-o-niyáz, blandishment; toying.

نازائ *názáñ*, P. *adj.* Proud; toying; sporting; being conceited (about); strutting; swaggering.
 نازبؤ *názbú*, P. *n. m.* The herb basil or wild rue.
 نازك *názuk*, P. *adj.* Thin; light; delicate; nice; fragile; gracious. ادا نازك—*adá*, delicate in performing or singing. بدن نازك—*badan*, of delicate frame, delicate; a species of jujube. نازك خيال—*khayál*, delicate perception; fine thought; nice judgment. نازك دماغ يا نازك مزاج—*dimáğ yá názuk mizaj*, a sensitive mind; a testy or touchy disposition. نازك معامله—*mu'amala*, a delicate matter. وقت نازك—*waqt*, a critical moment; a crisis [delicacy.
 نازكي *názukí*, P. *n. f.* Softness; tenderness;
 نازل *názil*, A. *adj.* Descending; dismounting. نازل هونا—*honá*, to descend; to alight.
 نازله *názila*, A. *n. m.* A misfortune; a calamity; a disaster (as descending) from heaven; disorder. [belle; a sweetheart.
 نازنين *náznín*, P. *n. f.* A delicate woman; a
 ناس *nás*, A. *n. m.* (*Contr. of* ناس *unás Plu. of انس ins or of انسان insán*) Mankind; human being; men; people. [brim; edge.
 ناس *nás*, ناس, H. *n. m.* Destruction; ruin;
 ناس *nás*, ناس, *n. f.* Snuff. ك ناس كي چٲكي—*ki chuťki*, a pinch of snuff.
 ناسپال *náspál*, ناسपाल, H. *n. m.* The rind of an unripe pomegranate; a fire-work. ناسپالي رنگ *náspáli rang*, a light yellow colour extracted from *nálpál*. [unbeliever; an infidel.
 ناستك *nástik*, नास्तिक, S. *n. m.* Atheist; an
 ناسج *násij*, A. *n. m.* A weaver; the maker of an oration; a composer.
 ناسخ *násikh*, A. *n. m.* A scribe; name of a famous Urdu poet; one who obliterates or erases. [virtue.
 ناسك *násik*, A. *adj.* Devoted to God or to
 ناسك *násiká*, नासिका, S. *n. f.* The nose; nostril.
 ناسوت *násút*, A. *n. f.* Humanity; human kind; human nature. [running sore.
 ناسور *násúr*, A. *n. m.* A fistula; an ulcer; a
 ناسپاتي *náshpáti*, P. *n. f.* A pear.
 ناشته *náshta*, P. *n. m.* Breakfast; repast; meal.

ناصب *násib*, A. *adj.* Erected; sitting up; fixing; *n.* one who erects.
 ناصح *náseh*, A. *n. m.* An adviser; a sincere friend or counsellor; a faithful minister.
 ناصر *násir*, A. *n. m.* A defender; an assistant; a helper; an ally.
 ناصراب *násawáb*, P. *adj.* Incorrect; wrong.
 ناصيه *násiya*, A. *n. m.* Forelock over the head; the forehead.
 ناٲق *nátíq*, A. *n. m.* Speaker. حيوان ناٲق *haiwán i—*, a rational being; *adj.* decisive.
 ناٲقه *nátíqa*, A. *adj.* Speaking; rational (animal); positive; decisive; final; *n.* a rational animal. قوت ناٲقه *quwat—*, *n. f.* the faculty of speech.
 ناظر *názir*, A. *n. m.* An inspector; a supervisor; a bailiff; a *názir*.
 ناظرين *názirin*, A. *n. m.* (*Plu. of ناظر názir*). Beholders; spectators; readers. [reading.
 ناظرة *názira*, A. *n. m.* The eye; sight; vision;
 ناظم *názim*, A. *n. m.* A governor; a poet; a composer.
 ناغده *nága*, T. *n. m.* A blank; absence.
 ناف *náf*, P. *n. f.* The navel; *adj.* middle; umbilical. ناف ٲلنا—*talná*, the muscles of the navel to be displaced. ناف شهر—*i-shahr*, the centre of a city.
 نافذ *náfiz*, A. *adj.* Issued; passed; in force; valid; having effect; passing through; reaching (to). نافذ هونا—*honá*, to penetrate or reach to; to have effect (on); to be issued.
 نافع *náfe'*, A. *adj.* Beneficial; useful; profitable; good; wholesome; salutary.
 نافله *nafla*, A. *n. m.* A voluntary act of religion; supererogatory prayers.
 نافه *náfa*, A. *n. m.* A pod of musk; a musk-bag.
 نافي } P. *adj.* Rejecting; denying;
 نافيه } negative.
 ناقص *náqis*, A. *adj.* Defective; deficient; inexpert; wanting (in); unsound; bad; worthless. ناقص العقل—*ul'aql*, of unsound mind; foolish; silly.

ناقل náqil, A. n. m. A reporter ; a reciter ; a narrator ; a transcriber ; a copier ; a painter.

ناقوس náqús, A. n. m. A bell ; a conch.

ناقة náqa, A. n. f. A she-camel.

ناك nák, नाक, H. n. f. The nose ; a prominent person or thing ; honour. ناك آنا يا بهنا — *áná yá bahna*, to flow (mucus) from the nose.

ناك بهر چرھانا يا سكرنا — *bhaun charhána yá sikorná*, to turn up one's nose and knit the eyebrows ; to be displeased. ناك پر ٹكا ركھه — *par táká rakh dená*, to pay readily (for a thing).

ناك چورانا — *nákon chane chabwáná*, to torment ; to worry ; to harass.

ناك پر اونگلي ركھه كر بات كرنا — *par unglí rakh kar bát karná*, to act like a woman ; to be effeminate.

ناك پر غصه هونا — *par gussa honá*, to be very irascible.

ناك ركھنا — *rakhná*, to preserve one's honour.

ناك رگژنا — *ragarjá*, to beseech very humbly.

ناك كا بال — *ká bál*, favourite ; respected ; one who has influence over another.

ناك تورنا — *torná*, to disfigure. ناك كا تانا — *ka táná*, to dishonour.

ناك کان كا تانا — *kán kátná*, to disgrace ; to dishonour.

ناك كي سيدھه — *kí sídh*, in a straight line with the nose.

ناك ميں بولنا — *men bolná*, to speak through the nose.

ناك ميں دم آجانا — *men dam ájáná*, to be greatly worried or harassed.

ناك ميں دم كرنا — *men dam karná*, to worry ; to harass.

ناك نه ديا جانا — *na diyá jáná*, to be unable to stay at a place on account of bad smell.

ناك والا — *wálá*, a person of rank.

ناكوں ناكوں — *nákon* ; *adv.* brimful. ناكوں بهرنا — *nákon bharná*, to stuff ; to cram.

ناك nák, P. n. m. A suffix (added to verbal roots and nouns to form adjective of quality); effected ; inflamed (with) ; full (of) ; laden (with) ; full ; as : ناك خشم *khasham* —, inflamed with anger. ناك غمناك *gam* —, full of grief ; sorrowful.

ناك náka, नाका, H. n. m. The extremity of a road ; the eye of a needle ; an avenue ; a lane ; a small police station. ناك باندی — *bandí*, shutting up a road.

ناك náka, नाका, S. n. m. An alligator.

ناكám nákám, P. *adj.* Dejected ; depressed.

ناك خودا - ناك خودا — *nákat khudá, nákadkhudá*, P. *adj.* Unmarried.

ناكڑا nákrá, नाकड़ा, H. n. m. An inflammation or a tumour in the nose.

ناكس nákas, P. *adj.* Mean ; worthless.

ناك nag, नाग, S. n. m. A snake ; a sort of demigod in the shape of a snake. ناك پنچمي — *panchmí*, name of a Hindu festival which is held on the 5th of Sávan.

ناك بهانس — *pháns*, a running nose. ناك كنيا — *kaniyá*, a race of females said to inhabit the regions under the earth.

ناك لوك — *lok*, the abode of serpents and hydras.

ناك بيل — *bel*, betel plant.

ناك كيسر — *kesar*, n. f. Name of a medicinal plant.

ناك nagá, नागा, H. n. m. A caste of Hindu *faqirs* ; a naked mendicant ; a barbarous tribe inhabiting the hills along the southern borders of Assam.

ناك nagáh, P. *adv.* Suddenly ; unawares ; abruptly ; all at once.

ناك nagáhi, P. *adj.* Sudden ; unexpected.

ناك پھني nagphani, नागफनी, H. n. f. A hedge plant so called the prickly pear.

ناك nagar, नागर, S. n. m. Name of a tribe of Gujrátí Brahmans ; a cunning person ; plough.

ناك مورتھا nagar mothá, नागर मोथा, H. n. m. A sweet smelling grass.

ناك نكري nagrí, नागरी, H. n. f. The most common Hindi characters of writing, also called ; Deva Nágari.

ناك نكري naguzár, P. *adj.* Compulsory, obligatory.

ناك nagin, नागिन, } H. n. f. A female serpent.
ناك نكري nagní, नागनी }

ناك نكار nagawár, P. *adj.* Tasteless ; unpleasant.

ناك نكار nagahán, P. *adj.* and *adv.* Sudden ; suddenly ; unexpectedly. [dental.]

ناك نكار nagaháni, P. *adj.* Unexpected ; acci-

ناك نكار nagessarr, नगेसर, S. n. f. Name of a flower ; a musical instrument.

نال nal, नाल, H. n. m. A tube ; a barrel ; the bore of a gun ; the navel string ; the stalk of the lotus ; a circular ring of stone used as a dumbell ; brick work of a solid masonry well.

نالا *nálá*, नाला, H. *n. m.* A rivulet ; a brook ; a canal ; a gutter ; a furrow ; a ravine.

نالال *náláḡ*, P. *adj.* Lamenting.

نالایاق *náláyaq*, P. *adj.* Incompetent ; worthless.

نالیش *nálísh*, P. *n. f.* Complaint ; lamentation ; groan. نالیش دیرانی *i-diwání*, a civil suit. نالیش کرنا *karná*, to sue. دایر نالیش کرنا *dáyar karná*, to file a suit.

نالیا *nála*, P. *n. m.* Lamentation ; moan.

نالیی *náli*, नाली, H. *n. f.* A drain ; a straw ; a tubulated title.

نام *nám*, P. *n. m.* Name ; appellation ; a title ; fame ; honour ; reputation ; character. نام آور *—áwar*, famous ; renowned.

نام بردا *nám-burda*, *n. m.* the above named. نام به نام *—ba*—, name by name ; per head. نام خدا *i-khudá*, good heavens ! bravo !, in God's name.

نامدار *dár*, celebrated ; illustrious. نام کا *ká*, nominal. نام رکھنا *dharná yá rakhná*, to disgrace ; to defame. نام رکھنا *rakhná*, to name (a child). نام ڈبونا *ḡubona*, to lose honour or reputation. نام کرنا *karná*, to become famous. نام و نشان *o-nishán*, name and address. نام لینا *lená*, to praise.

نامزد *nám zad*, P. *adj.* Appointed ; named ; *n. m.* a betrothed damsel. نامزدگی *—gi*, *n.* nomination.

نامور *námvar*, P. *adj.* Celebrated.

نامواری *námwari*, P. *n. f.* Fame ; reputation ; celebrity ; renown.

ناموس *námús*, P. *n. f.* and *m.* Reputation ; disgrace ; females. ناموس اکبر *i-akbar*, the angel Gabriel.

نامه *náma*, P. *n. m.* A letter ; history ; work ; treatise. اقرار نامه *iqará*—, a deed of agreement. بار نامه *—bar*, a letter-carrier. نگار نامه *nigár*, a correspondent.

نامی *námí*, P. *adv.* Illustrious ; famous.

نامیہ *namia*, P. *n. m.* Vegetation ; growth ; a creature. قوت نامیہ *—qúwat-i*—, the power of growth.

نان *nán*, P. *n. f.* Bread ; loaf. نان ہائی *—bái*, نان پز *—paz*, a baker. نان خطائی *—khaḡáí*, a kind of sweet-meat. نان نہاری *—i-naháí*,

breakfast. نان و نمک *—o-namak*, coarse meal ; ordinary food. نان و نفقہ *—o-nafqa*, maintenance. [father.]

نانا *náná*, नाना, H. *n. m.* A maternal grand-uncle. ناند *nánd*, नंद, H. *n. f.* A large earthen pan ; a tub.

ناندھنا *nándhna*, नान्धना, H. *v.* To begin ; to take in hand.

ناندیہ *nándiyá*, नन्दिया, H. *n. m.* The bull and vehicle of Shiva. ناندیا بیل *—bail*, a show-bull led about from door to door, and taught to obey commands, and to make certain answers, etc.

نانک *nának*, नानक, H. *n. m.* Name of the founder of the Sikh sect.

نانکار *nánkár*, P. *n. m.* An allowance of money or land to *zamindars*, &c., for subsistence ; land granted to servants for subsistence.

نانھیال *nánhiyál*, नान्धियाल, H. *n. m.* Maternal grand-mother's house or family. [mother.]

نانی *nání*, नानी, H. *n. f.* A maternal grand-

نار *náo*, नाव, H. *n. f.* A boat ; a ship ; anything long and hollow within.

ناڑ *náú*, नाऊ, H. *n. m.* A barber. [gutter.]

ناردان *náodán*, नावदान, H. *n. m.* An aqueduct ; a

ناری انداز *návak*, P. *n. f.* A small arrow. انداز *—andáz*, an archer.

نارنا *náwná*, नान्ना H. *v.* To bend downwards ; to bow ; to cause to stoop.

نار نوش *ná-o-nosh*, P. *n. m.* Feasting ; eating and drinking ; carousing ; banqueting.

ناہ *náb*, नाह, H. *adv.* Not.

ناہار *náhar*, नाहर, H. *n. m.* A tiger.

ناہموار *náhamwár*, P. *adj.* Uneven ; rough.

ناہنجار *náhanjár*, P. *adj.* Rogue ; wicked ; rascal.

ناہید *náhid*, P. *n. m.* The planet Venus.

ناہیں *náhin*, नाहीं, H. *adv.* No ; not ; nay. نہ کرنا *—karná*, *v.* to deny ; to refuse.

ناہی *nái*, नाई, H. *n. m.* A barber.

ناے *náe*, P. *n. f.* A reed ; a pipe ; a flute.

نایب *náeb*, P. *n. m.* A deputy ; an ass istant ; a delegate ; a viceregent. دیوان *—diwán*, deputy treasurer or accountant. مناب *—manáb*, a locum tenens ; a successor.

نايچا náochá, P. m. A small reed ; a *hugqa* snake. [hatred.]

نايرہ náira, A. n. m. Fire; heat; flame; enmity;

نايك náyak, نايفك, S. n. m. A chief ; a leader ; a man ; a lad ; a youth ; a native officer ; a person well versed in dancing, singing, &c.

نايان náyan, ناھن, H. n. f. Female of *nái*, a barber's wife.

نابت nabát, A. n. f. (Plu. نباتات *Nabátát*). Vegetation ; herb ; vegetable ; plant ; grass. علم نباتات 'ilm-i—, botany. [meats.]

نابت nabát, P. n. f. Crystallised sugar ; sweet-

نابارن nabáran, نبارن, S. n. m. Prevention; forbidding ; stopping.

نبارنا nibárná, نبارنا, H. v. To accomplish ; to perform ; to manage ; to spend ; to end ; to separate.

نباش nabbásh, A. n. m. A digger up of buried bodies ; a plunderer of the dead.

نباض nabbán, A. n. m. One who feels the pulse ; a physician. [pulse.]

نباضي nabbání, P. n. f. The science of feeling

نباہ nibáh, نواھ (S. نواھ), S. n. m. Accomplishment ; performance ; maintenance ; keeping ; guarding.

نباھنا nibáhná, نباھنا, H. v. To accomplish ; to perform ; to guard ; to take care of ; to keep one's faith ; to behave ; to afford ; to conduct ; to last ; to endure.

نبتانا nibtáná, نبتانا, H. v. To settle ; to adjust ; to decide. [settlement.]

نبتاؤ nibtáo, نبتاؤ, H. n. m. Determination ;

نبرد nabard, P. n. m. Battle ; engagement; war. نبرد آزما—ázma, a warrior. نبرد گاہ—gáh, a battlefield.

نبرنا nibarná, نبرنا, H. v. To be accomplished; to be decided; to be settled ; to be done with.

نپض nabz, A. n. f. The pulse. نپض دیکھنا—dekhná, to feel the pulse. [determined.]

نپندہ nibandh, نپندہ, S. adj. Affixed; ascertained;

نپوت nabuvat, A. n. f. Prophecy; divining ; the office and duties of a prophet.

نباوی nabaví, A. adj. Of the prophet ; prophetic.

نباہ nabh, نباہ, S. n. m. The sky ; ether ; atmosphere. نباہ چر—char, aerial birds.

نباي nabí, A. n. m. A prophet.

نبيدان nibedan, نبيدان, S. n. m. Address ; a petition ; a request.

نبيرا nabíra, P. n. m. A grandson ; son's son ; a grandchild ; (Plu. نباير Nabáer).

نبيرنá niberná, نبيرنá, H. v. To end ; to put an end to ; to complete ; to finish ; to spend.

نباين nabín, نباين, S. adv. New ; fresh.

نپاٹ nipaṭ, نپاٹ, H. adj. Very; exceedingly ; extremely ; quite.

نپٹانا nipṭáná, نپٹانا, H. v. To settle; to decide; to conclude ; to terminate

نپٹاؤ nipṭáo, نپٹاؤ, H. n. m. Termination ; settlement. [be finished,]

نپاٹنا nipaṭná, نپاٹنا, H. v. To determine ; to

نپن nipun, نپن, H. adj. Skilful; clever; expert; eminent. [n. m. a childless man.]

نپوتا nipútá, نپوتا, H. adj. Sonless; childless;

نپوتري nipútrí, نپوتري, H. n. n. f. A childless or barren woman.

نپورنا nipoṛná, نپورنا, H. v. To grin ; to snarl.

نيت nit نيت (نيت), S. adv. Always ; ever ; eternally ; adj. perpetual ; constant. n. the base of an obtuse-angled triangle. نيت نيم—niam (نيتيم), daily religious rites ; prayers.

نتايج nataej, A. n. m. (Plu. of نتايج *Natija*). Results ; consequences ; issues ; fruits.

نتني natní, نتني, H. n. f. Grand-daughter ; daughter's daughter.

نث Nath, نث, H. n. f. A large gold ring worn by females in the nose.

نثارنا nithárná, نثارنا, H. v. To pour off ; to purify ; to distil ; to draw of (an infusion, etc.).

نثرا nithrá, نثرا, H. adj. Purified; distilled ; clear ; settled. [the nose.]

نثنا nathná, نثنا, H. n. m. Nostril ; a ring for

نثني nathní, نثني, H. n. f. A small nose-ring.

نتیجہ natíjâ, A. n. m. A result ; consequence ; end ; deduction ; issue ; reward ; offspring ; birth (Plu. نتایج Natíjâ). نتیجہ صریح — sarh ; a corollary (in geom.).

نت naṭ, नट, S. n. m. The name of a tribe who are generally jugglers ; etc. ; a tumbler ; a ropedancer ; a mimic ; an actor ; a cheat ; a knave.

نت کھٹ naṭ khaṭ, नटखट, H. adj. Shrewd ; naughty ; roguish ; n. m. a cheat.

نت کھٹی naṭkhaṭí, नटखटी, H. n. f. Artfulness ; roguery ; naughtiness ; mischief.

نتہر niṭhur, निटुर, S. adj. Harsh ; obdurate ; cruel ; relentless.

نتہرتا nithurtá, निटुरता, } S. n. f. Cruelty ;
نتہرتائی nithurtái, निटुरताई, } obduracy.

نتار nisár, A. n. m. Scattering ; strewing ; dispersion ; sacrifice ; money which is thrown among the people on festive occasions. نتار کarna, v. to scatter ; to throw ; to sacrifice. نتار ہونا — honá, v. to be sacrificed ; to be devoted (for).

نتار nassár, A. n. m. A writer of prose.

نثر nasr, A. n. f. Prose.

نہ nij, निज, S. adj. Own ; personal ; particular. نہ کا — ká, own ; peculiar ; private ; unofficial. نہ کا حساب — ká hisáb, a private account.

نجات nijábat, A. n. f. Nobleness ; gentility.

نجات naját, A. n. f. Freedom ; liberation ; salvation ; absolution ; escape ; pardon. نجات پانا — páná, v. to obtain deliverance. [an artificer.

نچار najjár, A. n. m. A carpenter ; an artisan ;

نچاری najjárí, A. n. f. Carpentry.

نچاست najásat, A. n. f. Dirtiness ; filth ; unholiness. [Noblemen.

نچبا nujabá, A. n. m. (Plu. of نجیب Najib).

نجد najd, A. n. m. High ground or land ; name of a part of Arabia towards Babylon.

نچس najis, A. adj. Dirty ; impure ; filthy. نچس العین — ul-ain, impure by nature ; essentially impure or unclean. [dirt.

نچس najis, A. n. m. Dirtiness ; dung ; filth ;

نچف najaf, A. n. m. High ground to which

water does not reach ; a hillock ; name of a city in Iraq in which is the tomb of All, the son-in-law and successor of Mohammad.

نجم najm, A. n. m. A star ; a planet ; fortune ; a horoscope ; a prediction from observations of the stars.

نجوم najúm, A. n. m. Stars ; mansions (of the moon). علم نجوم — ilm-i—, astrology ; astronomy. [tune-teller.

نجومی najúmí, A. n. m. An astrologer ; a for-

نجدب najíb, A. adj. Excellent ; noble ; generous ; n. a hero ; a volunteer. نجیب الطرفین — ul-tarfain, noble on both sides (father's and mother's).

نچان nichán, निचान, H. n. f. Slope ; declivity.

نچانا nacháná, नचाना, H. v. To make one dance.

نچائی nichái, निचाई, H. n. f. Lowness ; declivity.

نچلا nichlá, निचला, H. adj. Lower ; nether.

نچنا nuchná, नुचना, H. v. To be plucked or scratched ; to be pinched.

نچنت nichint, निचिन्त (निश्चिन्त), S. adj. Unconcerned ; careless ; at leisure. نچنت ہونا — honá, v. to be at leisure.

نچنتائی nichintái, निचिताई S. n. f. Carelessness ; thoughtlessness ; unconcern ; leisure.

نچوانا nachwáná, नचवाना, H. v. To cause to be danced.

نچوانا nuchwáná, नुचवाना, H. v. To cause to be scratched or pinched.

نچورنا nichorná, निचोरना, H. v. To wring ; to squeeze ; to press out ; to extort ; to exact.

نچویا nachwayá, नचवैया, H. n. m. A dancer.

نچھار nichhávar, निछावर, H. n. m. Sacrifice ; propitiatory offering ; money which is distributed at marriages and on other festive occasions.

نچھتر nachhattar, नखत्र, S. n. m. A lunar mansion or a constellation in the moon's path ; a star.

نچھتری nachhattrí, नखत्री, H. adj. Fortunate ; born under a lucky planet.

نچھافت naháfat, A. n. f. Leanness ; emaciation ; weakness ; feebleness.

نهر *nahr*, A. *n. m.* Slaughtering a camel for sacrificing; slaughtering with spear wounds and not by cutting the throat *يوم النحر* *yanm-ul—*, the day of sacrifice being the 10th of the month Zil-hijja (when the pilgrims assemble at Mecca). [fated.]

نہس *nahs*, A. *adj.* Unlucky, inauspicious; ill-

نہو *naho*, A. *n. f.* Way; path; manner; mode; (in *Gram.*) syntax.

نہوسات *nahusat*, A. *n. f.* Bad presage; ominousness; an unhappy accident.

نہوی *nahvi*, A. *adj.* Grammatical; syntactical; *n.* a teacher of syntax; one skilled in syntax.

نہیف *nahif*, A. *adj.* Lean; meagre; weak; slender.

نخ *nakh*, P. *n. m.* Silk thread.

نخاس *nakhkhas*, A. *n. m. f.* A market for slaves and cattle; a slave-mart; a cattle market. *نخاس پر بھیجنا* *par bhejna*, to expose for public sale.

نخالس *nikhális*, *निखालिस*, H. *adj.* Impure; (wrongly used for *خالص* *khális*, pure, unadulterated) mixed; adulterated.

نخچیر *nakhchir*, P. *n. f.* The chaso; game; prey; hunting. *نخچیر گاہ* *gáh*, places of hunting.

نخرا *nakhrá*, } P. *n. m.* Coquetry; trick;
نخرا *nakhra*, } joke; waggery, pretence.
نخرا باز *báz*, affected; shamming.

نخست *nakhust*, *नुखुस्त*, P. *n. m.* The beginning; principle; the first; *adj.* at first. *نخست زاد* *zád*, first born; eldest son.

نخستین *nakhustin*, P. *adj.* The first *adv.* Firstly.

نخل *nakhl*, A. *n. m.* A date-tree; a palm tree; a plant. *نخل بند* *band*, *n. m.* a gardener; a market for artificial trees and fruits of wax.

نخلہ *nakhlá*, A. *n. m.* A grove of date tree.

نخوت *nakhvat*, A. *n. f.* Pride; haughtiness; pomp.

نخود *nakhúd*, P. *n. m.* Gram.

ندا *nida*, A. *n. f.* Sound; voice; call to prayer; proclamation.

ندار *nadárád*, P. *adj.* Blank; wanting; lost; consumed. [carder.]

نداف *naddáf*, A. *n. m.* A cotton-dresser; a

ندافی *naddáfi*, A. *n. f.* Dressing of cotton; the trade of *naddáf*.

ندامت *nadámát*, A. *n. f.* Repentance; regret.

ندان *nidán*, *निदान*, S. *adv.* Lastly; after all; in the end; eventually; finally; in brief; at the utmost; at the least.

ندایہ *nidáiya*, P. *adj.* Exclamatory; ejaculatory.

ندرت *nudrat*, A. *n. f.* Oddness; singularity; rareness.

ندما *nudamá*, A. *n. m.* (*Plu. of* *ندیم* *Nadim*). Companions (of a king); courtiers. [pan.]

ندولا *nadolá*, *नदोला*, H. *n. m.* A large earthen

ندہ *nidhi*, *निधि*, S. *n. m.* Ocean; treasure; any sum or quantity of valuables; a collection.

ندھان *nidhán*, *निधान*, S. *n. m.* A place; a house; a receptacle; an abode.

ندھڑک *nidharak*, *निषडक*, H. *adv.* Fearlessly; abruptly; *adj.* fearless.

ندی *nadí*, *नदी*, H. *n. f.* A river; a rivulet.

ندیم *nadím*, A. *n. m.* A companion; a courtier.

ندیر *nidar*, *निदर*, H. *adj.* Fearless; dauntless; intrepid. [faint.]

نہال *nighál*, *निहाल*, H. *adj.* Still; motionless;

نذر *nazar*, A. *n. f.* A vow; a gift; an offering; an interview. *نذر و نیاز* *o-niyáz*, gifts and oblations.

نذرانہ *nazrána*, P. *n. m.* Gift offered or received when people of rank meet or pay their respects to a prince; a sort of tribute; a present.

نر *nar*, *नर*, S. and P. *n. m.* A male; a man; mankind; *adj.* masculine. [single.]

نرا *nirá*, *निरा*, H. *adj.* Mere; pure; unalloyed;

نرادار *nirádar*, *निरादर*, S. *adj.* Without respect; unceremonious; impolite; disrespected; *n. m.* disrespect; contempt; scorn; insult.

نراس *nirás*, *निरास*, } H. *adj.* Hopeless.
نراسا *nirásá*, *निरासा*, }

نراسی *nirásí*, *निरासी*, H. *n. f.* Despair; hopelessness; despondence.

- nirákár, निराकार, S. *adj.* Without form ; incorporeal.
- nirálá, निराला, S. *adj.* Apart ; aloof ; retired ; private, pure ; unmixed ; strange ; rare ; odd. *nirále men*, in private.
- niráná, निराना H. *v. t.* To clear ; to weed.
- nirbudhí, निर्बुद्धि, S. *adj.* Void of understanding ; senseless ; irrational. [weak.
- nirbas, निर्बस, S. *adj.* Powerless ; helpless ;
- nirbal, निर्बल, H. *adj.* Weak ; powerless.
- nirbaltá, निर्बलता, S. *n. f.* Weakness.
- nirbans, निर्बन्स, S. *adj.* Childless ; without issue.
- nirbodh, निर्बोध, S. *adj.* Senseless.
- nirbhai, निर्भय, S. *adj.* Fearless ; dauntless ; intrepid ; brave. [extinct.
- nirbáj, निर्बाज, S. *adj.* Seedless ; childless ;
- nrip, नृप, S. *n. m.* A king ; a prince.
- narpur, नरपुर, S. *n. m.* The abode of man ; the earth. [unable to answer.
- nir uttar, निरुत्तर, S. *adj.* Without answer ;
- nirjív, निर्जीव, S. *adj.* Lifeless ; inanimate.
- nirkh, P. *n. m.* Market rate ; current price. *nirx bandí*—bandí *n. f.* Adjustment of rates and prices.
- narkhará, H. *n. m.* } The throat ;
narkharí, H. *n. f.* नरवररी, } the windpipe.
- nirkhnáma, P. *n. m.* An account of the current prices ; a price-current.
- nirkhí, P. *n. m.* The person who fixes the price current ; an appraiser. [draughts.
- nard, P. *n. f.* A counter ; a chessman ;
- nardbán, P. *n. m.* A stair-case ; flight of steps ; a ladder.
- nirdokh, निर्दोष, S. *adj.* Blameless.
- niradhikárá, निरधिकारी, S. *adj.* Without title or authority. [indigent.
- nirdhan, निर्धन, S. *adj.* Poor ; penniless ;
- nirdái, निर्दयी, S. *adj.* Merciless ; cruel.
- nirarthak, निरर्थक, S. *adj.* Negligent ; careless ; insignificant ; unmeaning.
- narsingá, नरसिंगा, H. *n. m.* A musical horn ; a wind instrument.
- narsingh, नरसिंह, S. *n. m.* Male-lion ; the fourth incarnation of Vishnu.
- narson, नरसों, H. *n. m.* The fourth day past or to come.
- nargá, P. *n. m.* A ring or circle (of hunters). *nirná karná*—karná ; to hem in ; to surround.
- nark, नरक, S. *n. m.* Hell.
- narkaṭ, नरकट, H. *n. m.* A kind of reed.
- narkul, नरकुल, H. *n.* A kind of reed.
- nirakhná, निरखना, H. *v.* To look at ; to view ; to see.
- nargáo, P. *n. m.* A bull.
- nargis, P. *n. f.* A narcissus ; (*Met.*) the eye of a mistress. *nirgís shahla*—e-shahlá, the black eyes of a mistress having a tinge of blue or grey or of red or of green. *nirgís e-makhmúr*—e-makhmúr, intoxicated narcissus, an epithet applied to the eye of a mistress.
- nargistán, P. *n. m.* A bed of narcissus ; a place where narcissus grows.
- nargisí, P. *adj.* Like narcissus ; a kind of garment ; a kind of food.
- nirgun, निर्गुण, S. *adj.* Unlimited by qualities or attributes, hence God ; unskilful ; unstrung. [modest.
- nirlaj, निर्लज्ज, S. *adj.* Shameless ; im-
- nirlobhí, निर्लोभी, S. *adj.* Not covetous ; contented.
- narm, P. *adj.* Soft ; mild ; defective ; easy ; gentle ; silly. *nirná chára*—chára, *n. m.* tender pasture or grass. (*fig.*) soft articles of food. *nirná dil*—dil, tender-hearted ; gentle. *nirná garm sahná*—garm sahná, to bear up ; to endure.
- nirmán, निर्माण, S. *n. m.* Measure ; reach ; extent. [mollify.
- narmáná, नरमाना, H. *v.* To soften ; to
- nirmáná, निर्माना, H. *v.* To fabricate ; to create. [pure ; transparent.
- nirmal, निर्मल, S. *adj.* Clear ; limpid ;

نرمة nirmalá, S. *adj.* Spotless ; clean *n. m.* a sect of Hindu *faqirs*.

نرمة nirmaltá, निर्मलता, S. *n. f.* Purenness ; cleanliness.

نرمة nirmalí, निर्मली, H. *n. f.* Name of a seed with which water is purified ; *strychnos potatorum*.

نرمة nirmohí, निर्मोही, S. *adj.* Without affection or attachment ; unkind.

نرمة narma, P. *n. m.* The soft part (of) ; a kind of cloth which is very soft and fine.

نرمة narmaegosh, P. *n. m.* The lobe of the ear. [*cacy ; fluency.*]

نرمة narmi, P. *n. f.* Softness ; mildness ; delicacy.

نرمة nirantar, निरन्तर, S. *adj.* Without interval ; immediate ; continual ; constant.

نرمة niranjan, निरञ्जन, S. *adj.* Void of passion or emotion.

نرمة nirankár, निरंकार, } S. *adj.* Without form ; incorporeal ;
نرمة nirankál, निरंकाल, } formless.

نرمة nirnai, निराय, S. *n. f.* Ascertainment ; *adj.* fixed ; certain.

نرمة nirván, निर्वाण, S. *n. m.* Emancipation ; extinction ; death ; reunion with the supreme spirit. [*formless.*]

نرمة nirúp, निरूप, S. *adj.* Without form ;
نرمة nirog, निरोग, S. *adj.* Free from disease ; healthy. [*leather.*]

نرمة narí, P. *n. f.* P. *n. f.* Sheep-skin ; kid

نرمة niri, निरी, H. *adj.* Mere ; single.

نرمة nariyá, नरिया, H. *n. f.* A tile.

نرمة nareṭá, नरेटा, H. *n. m.* } Throat ; windpipe.
نرمة nareṭí, नरेटी, H. *n. f.* } —دبانا—dabána, *v.* to throttle.

نرمة nares, नरेश, S. *n. m.* A king ; a sovereign.

نرمة narína, P. *adj.* Male ; masculine.

نرمة nazíd, P. *n. m.* Origin ; race ; family.

نرمة nazár, P. *adj.* Thin ; lean ; slender ; subtitle.

نرمة nizá', A. *n. m.* Contention ; litigation ; dispute ; controversy. ما بينه النزاع má behin—, the subject of dispute ; the point at issue. نزاع لفظي—e-lafzi, a wordy dispute.

نرمة nazákat, P. *n. f.* Delicacy ; elegance ; neatness ; softness.

نرمة nazáhat, A. *n. m.* Exemption from anything bad ; purity (of life).

نرمة nizd. } P. *adj.* Near ; hard by ; close ;
نرمة nazdik } contiguous.

نرمة nazdikí, P. *n. f.* Propinquity ; nearness ; vicinity ; approach.

نرمة naza', A. *n. m.* The last breath ; the agonies of death ; expiry.

نرمة nazla, A. *n. m.* Catarrh ; rheum.

نرمة nazúl, A. *n. m.* Descent ; alighting ; sojourning ; catarrh.

نرمة nazhat, A. *n. f.* Verdure ; freshness ; pleasure ; distance ; integrity ; ornament.

نرمة nizhád, P. *n. m.* Origin ; root ; seed ; race ; family ; descent. [*raging ; low.*]

نرمة nizband, P. *adj.* Sad ; distracted ; wrathful ;

نرمة nas, नस, H. *n. f.* A vein ; a tendon ; a sinew.

نرمة nas, P. *n. m.* The environs of the mouth ; understanding.

نرمة nis, (نيسا), } H. *n. f.* Night, نيسچر يا نيساچر
نرمة nisá, (نيسا) } nischar yá nisáchar, a prowler : a demon ; a robber , a thief ; a night ranger ; an animal that prowls and feeds by night. [*female sex.*]

نرمة nisá, A. *n. f.* (*Plu.*) Women ; ladies ; the

نرمة nassáj, A. *n. m.* A weaver.

نرمة nasána, नसाना (नारान) H. *v.* To destroy ; to squander. [*Breezes ; gales.*]

نرمة nasáem, A. *n. f.* (*Plu. of* نسيم *Nasim*)

نرمة nasab, A. *n. m.* Genealogy ; family ; lineage ; race ; caste. —نسب نامه—náma, pedigree ; genealogical tree. حسب و نسب hasbo—, attainments and genealogy.

نرمة nisbat, A. *n. f.* Relation ; connection ; affinity ; reference ; attribute ; alliance ; betrothal ; *adv. or prep.* with reference (to) ; in respect (of) ; in proportion (to). نسبت
نسبت e-tanásub, Ratio and proportion. نسبت
رکھنا—rakhná, to have to do (with) ; to bear relation (to). نسبت کرنا—karná, *v.* to refer ; to attribute ; to betroth. ہو جانا—ho-jána, to become betrothed.

نسبتی nisbatí, A. *adj.* Related. —نسبتی بہائی bhái, *n. m.* wife's brother. [beatítnde.

نستار nistár, निस्तार, S. *n. m.* Release; salvation; نسترن nastaran, P. *n. m.* The white rose of India; *rosa glandulifera*; name of a kind of cloth.

نستعلیق nasta'liq, P. *n. m.* A kind of Persian writing; a fine round hand. *adj.* well-behaved; gentlemanly.

نسج nasj, A. *n. m.* Act of weaving (cloth).

نسحہ nischaí, निश्चय, H. *n. m.* Certainty; trust; faith; belief; *adj.* actual; sure; certain; *adv.* certainly.

نسخ nasḥ, A. *n. m.* Abolition; abrogation; annulment; repeal; transcribing; a kind of Arabic character.

نسخہ nusḥa, A. *n. m.* A recipe; a prescription; an exemplar; a copy of model; an edition; a writing-book; a treatise. (*Plu.* نسخه جات Nusḥaját).

نسر nasar, A. *n. m.* A virtue. —نسر طایر e-táer, the constellation of the Eagle. —نسر واقع e-wáqe', the constellation of the Lyre.

نسرین nasrín, P. *n. m.* A wild rose.

نسرین nasrain, A. *n. m.* The constellations of the Eagle and the Lyre. [ner of writing.

نسق nasq, A. *n. m.* Order, arrangement; manuscript نiskapaṭ, निष्कपट, S. *adj.* Without fraud or deceit; artless; honest; sincere.

نسل nasl, A. *n. f.* Race; pedigree; genealogy; descent; bread.

نسلاً naslan, A. *adv.* By descent. —نسلاً بہ نسلاً ba— in regular descent or succession. —نسلاً بعد نسلاً ba'd—, generation after generation.

نسناس nisanás, A. *n. m.* A monstrous race of men or demons with one leg; a satyr; a fawn. a kind of ape; a marmoset; an ourang-outang.

نسنديہ nisandeh, निःसंदेह, S. *adj.* Free from doubt; undoubted.

نسکوج nisankoch, निःसंकोच, S. *adj.* Without hesitation; without shame or reserve.

نسیان nisyán, A. *n. m.* Oblivious; forgetfulness.

نسلا naslá, (नशिला), H. *adj.* Veined; sinewy; muscular; of good bread.

نسیم nasím, A. *n. f.* Zephyr; fragrant air; breeze. نسیم سحر i-sahar, the morning breeze.

نسینی nasíní, (निःश्रेणी S.) H. *n. f.* A wooden ladder; a ladder.

نسیہ nisya, A. *n. m.* A thing forgotten; a thing dropped or thrown away as useless.

نشات nashát, A. *n. f.* A creature; anything produced; growing. نشاتین *n.* nashátain, both worlds. [thick gruel.

نشاستہ nishásta, P. *n. m.* Starch; paste; pottage;

نشام nishát, P. *n. m. f.* Gladness; joy; pleasure; cheerfulness; sprightliness.

نشان nishán, P. *n. m.* A mark; a sign; a proof; a trace; a note; a scar; a butt; family arms; armorial bearings; a badge; a flag; a standard; colours; a clue; a type; an emblem. نشان بردار —bardár, a standard-bearer. نشان پزنا —parná,

the mark of anything to be left. نشان دار —dár, *n.* a standard-bearer; *adj.* marked;

signed; possessing armorial bearings. نشان ده —deh, *adj.* pointing out; indicating. نشان دہی —dehi, *n. f.* The pointing out; indication.

نشان سوداگری —i-saudágarí, trade mark. نشان والا نشان —paní par tairne wálá—, a buoy.

نشانی nishána, P. *n. m.* A mark; a target; a butt; an aim انداز —andáz, *adj.* hitting the mark; of unerring aim; *n.* a marksman; a good shot. نشانہ مارنا —márná, to hit the mark; to strike the bull's eye.

نشانی nishání, P. *n. f.* A mark; a sign; a token; a model; a keepsake; a souvenir.

نشتار nashtar, P. *n. f.* A lancet; a flea. نشتار لگانا lagáná, *v.* to bleed, to phlebotomise; to lance.

نشتہ nasht, नष्ट, S. *adj.* Lost; destroyed.

نشیہ nischai, निश्चय, S. *n. m.* Certainty; trust; belief; *adj.* actual; real; ascertained.

نشر nashr, A. *n. m.* A spreading (as a carpet). publishing (news); rising from the dead.

نشست *nashist*, P. n. f. Sitting. نشست پر خاست *barkhást*, manners; etiquette; politeness. نشست گاہ *gáh*, a drawing room; a parlour.

نشمرده *nashmurda*, P. adj. Unnumbered.

نشو *nasho*, *nashva*, A. n. m. Growth; vegetation. نشو و نما *o-numá*, growth; development.

نشور *nashúr*, A. n. m. Rising of the dead; resurrection. يوم النشور *yaum-un-*, n. m. the day of resurrection.

نشور *nashva*, P. n. m. Inebriety; hilarity.

نشہ *nasha*, A. n. m. Intoxication; intoxicating liquor; headache or crop-sickness due to drinking; perception, fragrance, smell. نشہ خور *khór*, a drunkard. نشہ کرنا *karná*, v. to be addicted to liquor. منہ چور ہونا *men chúr honá*, to be dead drunk.

نشیب *nashéb*, P. n. m. Descent; declivity, slope. فراز و نشیب *o-faráz*, ups and downs of life; profit and loss; advantages and disadvantages of any affair; vicissitudes of fortune.

نشیدہ *nishedh*, निषेध, S. n. f. Prohibition; negation.

نشیلہ *nashilá*, A. adj. Intoxicating; inebriant.

نشیمان *nasheman*, P. n. m. Seat; residence; nest; resting place; bench; stool.

نشینی *nashíni*, P. n. f. Sitting (used as last member of compounds) as: گوشہ نشینی *nashíni* retirement; seclusion.

نص *nas*, A. n. m. Manifesting; demonstrating.

نصاب *nisáb*, A. n. f. A root; origin; principal; capital; property; dignity; fortune. نصاب الصبیان *us-sibyán* title of an Arabic vocabulary with a Persian translation in rhyme.

نصاری *nasará*, A. n. m. A Nazarene; a Christian.

نصایح *nasách*, A. n. m. (Plu. of نصیحت *Nasihát*). Advices; admonitions.

نصب *nasab*, A. n. m. Fixing; planting; establishment. نصب کرنا *karná*, v. to fix; to establish; to plant. نصب ہونا *honá*, to be fixed, to be planted.

نصر *nasar*, A. n. m. Assistance; victory; succour; aid. من اللہ وفتح قریب *nasrum min alláhi wa fatehun qarib*, God willing conquest is ours.

نصرانی *nasráni*, A. n. m. A Christian; a nazarene.

نصرت *nuzrat*, A. n. f. Victory. نصرت آیات *áyát*, in whose standards is victory; victorious.

نصف *nisf*, A. adj. Half; middle-aged. نصف النهار *un-nahár*, midday; meridian. نصف قطر *qutr*, n. m. radius of a circle. نصفاً نصف *nisfá*, half and half; in halves.

نصفی *nisft*, P. n. f. A moiety.

نصوص *nasús*, A. n. m. (Plu. of نص *Nas*). Manifestations; demonstrations.

نصیب *nasíb*, A. n. m. Fortune; lot; luck; chance; part; fate; destiny. نصیب جگنا *jagná*, to be fortunate. نصیب ہونا *honá*, to fall to the lot of; to be destined (for) [war, fortunate.

نصیبہ *nasíba*, A. n. m. Lot; fortune. نصیبہ ور *nasíbat*, A. n. f. Advice; counsel; precept. نصیحت کرنا یا دینا *karná yá dená*, to advise; to admonish; to exhort; to reprove. نصیحت کر یا نصیحت کر *gar yá nasíhat go*, an adviser; a counsellor. [a friend.

نصیر *nasír*, A. n. m. An assistant; a defender;

نصیری *nusairí*, A. n. m. Name of a sect (founded by Nusair) who believe in the divinity of Ali, son-in-law and successor of Mohammad. They are to be found mostly in Syria and Asia Minor. [beauty; lustre.

نضارت *nizárat*, A. n. f. Freshness; vendure;

نضج *nazj*, A. n. m. Suppuration (of a wound); adj. ripe; mature.

نطع *nita'*, A. n. m. A sheet of leather which is spread as a table-cloth (upon which people play chess or draughts, etc.)

نضیج *nazij*, A. adj. Ripe; well-clothed; soft. نضیج الراے *ul-ráe*, adj. of mature judgment.

نطفہ *nutfa*, A. n. m. Clear water; seed, *sperma hominis*. نطفة بنت العنب *e-bintul 'anab*, a bastard begotten in a drunken fit. نطفہ بے تحقیق *be tahqíq*, an illegitimate child; a bastard.

نطق *nutq*, A. n. m. Speech; language; discourse; reasoning; faculty.

نظار *nasár*, A. n. m. Lookers on.

نظارت nazárat, A. n. f. The act of seeing ; the office of a názir, (in Collectorate).
 نظارگی nazárgí, P. n. f. Seeing ; observation.
 نظارة nazára, P. n. m. Sight ; view ; show ; inspection. نظارة باز—báz, an ogler. نظارة مارنا—márná, to cast amorous glances.
 نظافت nazáfat, A. n. f. Purity ; cleanness ; neatness.
 نظام nizám, A. n. m. Order ; disposition ; arrangement ; custom ; habit ; a string of pearls ; a composer ; an stranger ; a basis ; a chief ; a governor ; title of the ruler of Hyderabad Deccan. نظام شمسي—i-shamsí, the solar system.
 نظامت nizámat, A. n. f. Arrangement ; government, the administration of criminal justice, the office of ناظم nazim.
 نظایر nazáyar, A. n. m. (Plu. of نظیر Nazir). Examples ; precedents.
 نظر nazar, A. n. f. Sight ; vision ; look ; regard ; view, inspection ; countenance ; favour ; reference ; the influence of an evil eye. نظر آنا—áná, to come to sight ; to appear. نظر انداز—andáz, rejected, disregarded. نظر باز—báz, an ogler ; a thief-catcher ; a juggler. نظر بچانا—bacháná, to avoid the looks. نظر بند—band, strictly watched ; under surveillance. نظر بندی—bandí, fascination ; confinement ; charm ; jugglery. نظر ثانی—i-sání, a review ; a revisal. نظر سے گرا دینا—se girá dená, to disgrace. نظر گاہ—gáh, a theatre. نظر لگنا—lagná, to be under the influence of an evil eye. نظر ملانا—miláná, to look one full in the face ; to meet the gaze of. نظر میں رکھنا—men rakhná, to keep in sight ; to keep under one's own control. نظروں میں سمٹانا—nazron men samáná, to be ever in the mind of. با—ba, adv. with a view to. با—ba—iske, adv. seeing that ; whereas. با—e-sarsari, adv. on a cursory view.
 نظران nazrán, A. n. f. Seeing ; sight.
 نظم nazm, A. n. f. Poetry, verse ; order ; arrangement ; نظم و نسق—o-nasq, order and arrangement ; organisation ; administration.

نظمی nazmí, A. n. m. A composer ; an arranger ; a poet.
 نظیر nazír, A. n. f. Example ; precedent. نظیر [shoes. Nazir-us-simt, the Nadir.
 نعال ní'al, A. n. f. (Plu. of Na'l). Horse
 نعت na't, A. n. f. Praise of Muhammad ; eulogium ; an epithet.
 نعرہ na'ra, A. n. m. Clamour ; crying ; shout. نعرہ زان یا نعرہ کش—zan yá—kash, a crying out.
 نعش na'sh, A. n. f. A bier ; a coffin ; a litter ; a corpse. بنات النعش—banát-un—, the constellation of the bear.
 نعل na'l, A. n. f. A horse-shoe ; a hoof ; a wife ; a ferrule ; a shoe ; a sandal. نعل بند—band, a ferrier. نعل بندی—bandí, shoeing a horse ; a light tribute exacted under Mohammadan rule.
 نعلین na'lain, A. n. f. (Plu. of نعل Na'l). A pair of shoes with wooden soles ; slippers. نعلین چوبیس—chobín, sandals.
 نعم na'am, A. n. m. (Plu. of نعمت Ni'amat) Benefits ; blessings ; delight ; pleasure. نعم البدل—ul-badal, blessings of the change ; change for the better.
 نعمت ne'mat, A. n. f. Favour ; benefit ; graciousness ; delight ; joy ; ease ; wealth ; good thing or comfort ; blessings of heaven ; delicacy. نعمت خانہ—khána, home or abode of affluence, etc. ; a palace ; a paradise. نعمت غیر مترقبہ—i gair mutaraqqiba, an unlooked-for piece of fortune ; a wind-fall. [podná.
 نعناع na'ná', A. n. m. Mint ; mentha sativa ;
 نعرود na'úz, A. n. m. To flee for refuge to any person. نعرود بالله—billáhi, Let us flee to God ; Heaven preserve us !
 نعيم na'im, A. n. m. Pleasure ; benefits ; goods. نعيم الدنيا—ul-duniyá, the comforts of life. جنت النعيم—jannat-un—, one of the heavens ; garden of delight. [sincere ; swift ; nimble.
 نغز nagz, P. adj. Beautiful ; excellent ; good ;
 نغم nagm yá nagam, } A. n. m. Melody ;
 نغمہ nagma, } song ; modulation ; musical note ; a sweet voice. نغمہ پرداز—pardáz, a singer ; a warbler ; musician. نغمہ سرائی—sarái, n. f. singing.

نفاذ *nafāz*, A. n. m. Penetrating; pervading; escaping from an enemy; *adj.* obeyed (an order), issued (an order).

نفاذ *nafās*, A. n. m. Childbirth; labour; bringing forth; 40 days of a woman after childbirth.

نفاذ *nafāsāt*, A. n. f. Exquisiteness; purity; refinement. [oil.]

نفاذ *nafāt*, A. n. m. Naphtha; bitumen; lamp-

نفاذ *nifāq*, A. n. m. Hypocrisy; fallacy; enmity.

نفاذ *naft*, P. n. m. Naphtha. [ing.]

نفاذ *nafkh*, A. n. m. Breathing; blowing; diffus-

نفاذ *nafkh*, A. n. m. Inflation; swelling; puffing; flatulence. [vading.]

نفاذ *nafa*; A. n. m. Penetrating; piercing; per-

نفاذ *nafar*, A. n. m. A groom; a servant; one person; an individual; one hand. نفاذ *das* —, ten persons.

نفاذ *nafrat*, A. n. f. Flight; terror; aversion; disgust; abomination; detestation; abhorrence.

نفاذ *angez*—انگیز, disgusting; horrible; loathsome. نفاذ *karná*—کرنہ, to feel aversion or disgust. نفاذ *kháná*—کھانا, to be disgusted.

نفاذ *nafrí*, P. n. f. Daily service or wages of a profession. [curse.]

نفاذ *nafrín*, P. n. f. Detestation; abhorrence;

نفاذ *nafs*, A. n. m. (*Plu.* نفاذ *Nafúsa*) The soul; the spirit; essence; substance; self desire; gravity; envy; vice; will; pleasure; truth; reality; magnificence; pomp. نفاذ *ul-amar* the essence; soul; reality. نفاذ *ul-matlab*, n. m. substance; real purpot. نفاذ

نفاذ *i-ammára yá bahímí*, inordinate appetite; ardent desire. نفاذ *parastí*, n. f. sensuality. نفاذ *parwarí*, n. f. gratification of the appetite; selfishness.

نفاذ *i-saba'í*, *yá lawáma*, irascibility. نفاذ *kushí*, mortification; self-denial; penance. نفاذ *márná*, to restrain passions. نفاذ *i-mutamai-*

نفاذ *yana yá malakí*, benevolence. نفاذ *e-mulhima*, n. f. the inspiring breath or spirit. نفاذ *i-nátiqa*, the rational soul; reason.

نفاذ *nafsá nafsí*, each one for himself.

نفاذ *ba nafsí*, he himself; *in propria persona*; personally.

نفاذ *nafas*, A. n. m. (*Plu.* نفاذ *Anfás*) Breath; respiration; a moment; an instant. نفاذ *e-bázpasín*, n. w. the last breath. [pomp.]

نفاذ *nafsáníyat*, P. n. f. Luxury; pride;

نفاذ *naft*, A. n. m. Naphtha; bitumen.

نفاذ *nafa'*, A. n. m. Profit; advantage; interest.

نفاذ *rasáq*—نفاذ رسالی, conferring benefits, beneficent.

نفاذ *nafqa*, A. n. m. The necessary expenses for living; expenditure; maintenance.

نفاذ *nafal*, A. n. m. Plunder.

نفاذ *nafil*, A. n. f. A voluntary act of religion; the observance of which is not prescribed; the work of supererogation.

نفاذ *nafúz*, A. n. m. Penetrating; pervading.

نفاذ *nafúr*, A. n. m. Fleeing; excelling; swelling

نفاذ *nafúr*, A. *adj.* Frightened; terrified.

نفاذ *nafús*, A. n. m. (*Plu. of Nafs*) Souls; spirits. نفاذ *e-salása*—نفاذ ثلاثہ, نفاذ *(mutamaenná)*—نفاذ مطمینہ (*—ammára*)

نفاذ *e-qudsia*—نفاذ قدسیہ (*—lawwáma*)

نفاذ *nafi*, A. n. m. Forbidding; refusing; (in *Gram.*) negation.

نفاذ *nafir*, A. n. f. A brazen trumpet.

نفاذ *nafirí*, P. n. f. A kind of trumpet. نفاذ

نفاذ *wálá*, n. m. a trumpeter. [pure; refined.]

نفاذ *nafís*, A. *adj.* Precious; delicate; choice;

نفاذ *naqá*, A. n. f. Purity; cleanliness; *adj.* good; virtuous.

نفاذ *naqáb*, A. n. m. f. A veil. نفاذ

نفاذ *posh*—دور, *adj.* Veiled; masked.

نفاذ *naqqád*, A. n. m. A person who examines money and ascertains its goodness; an assayer; an adept. [drum; a drummer.]

نفاذ *naqqarchí*, P. n. m. One who beats the

نفاذ *naqqár khána*, P. n. m. The place at the porch of a palace where the drums are beaten at stated intervals. نفاذ *meq tútí kí awáz kahán*—نفاذ کہان, a weak personality can have no hearing; nobody will listen to a person having no influence.

نقارہ naqqárah yá naqqára, A. n. m. A kettle-drum. نقارہ بجاتے پھرنا —bajáte phirná, to go on proclaiming by beat of drum. نقارہ کی چوٹ —kí choṭ, publicly ; openly ; by beat of drum.

نقارچی naqqárfí, A. n. m. A drummer; one who beats the kettle drum.

نقاش naqqásh, A. n. m. A painter; a draughtsman; a sculpter; a carver; an embroiderer.

نقاشی naqqáshí, A. n. f. Drawing; painting; statuary.

نقاط naqqát, A. n. m. (Plu. of نقطه nuqta) Points, dots. [player.

نقال naqqál, A. n. m. A mimic; an actor; a

نقالین naqqálin, A. n. f. An actress.

نقالی naqqálfí, A. n. f. Acting; mimicry.

نقاوت naqqávat, A. n. f. Purity; cleanliness.

نقاہت naqqáhat, A. n. f. Convalescence; imbecility; feebleness; weakness; debility.

نقائص naqqáes, A. n. m. (Plu. of نقص Naqs). Defects; blemishes; faults.

نقاب naqqab, A. n. f. A rabbit's burrow; a subterranean excavation; a mine digging through a wall; an instrument used by thieves for piercing walls. نقب زنی —zaní, house-breaking; burglary.

نقد naqqd, A. n. m. Ready money; cash prompt payment. نقد دم رہنا —dam rahná, to live a single life; to remain a bachelor.

نقدی naqqdí, A. adj. Relating to cash; in cash.

نقرس naqqris, A. n. m. The gout. [horses.)

نقرہ naqqra, A. n. m. Silver; a white colour (in

نقرئی naqqraí, A. adj. Made of silver; white (in horses).

نقش naqqsh, A. n. m. Painting; embroidering; print; mark; engraving; carving; picture; map; portrait. نقش بند —band, a creator; painter; a class of faqirs. نقش پا —i-pá, footprints; footsteps. نقش دیوار —i-divár, thunderstruck; confounded; motionless; like a picture on the wall. نقش کالہجر یا نقش فی الحجر —kálhajar yá naqqsh filhajar, indelible. نقش کرنا —karná, to imprint; to impress; to engrave;

to stamp. نقش و نگار —o-nigár; decoration; embellishment; ornaments; paintings; pictures.

نقشہ naqqsha, A. n. m. A portrait; a pattern; a map; a plan; a chart; delineation. نقشہ اُتارنا —utárná, to make facsimile of. نقشہ اموات —e-amwát, —e-fautí, a register of deaths; an obituary. نقشہ بگاڑنا —bigárná, to spoil a plan. نقشہ بنانا —banáná, to draw a map. [ornamented.

نقشین - نقشہ naqqshin; naqqshí, P. adj. Engraved; ناقص naqs, A. n. m. A defect; blemish; fault; injury; harm; diminution.

نقصان nuqsán, P. n. m. Loss; defect; injury; damage; mischief. نقصان باقصد —bilqasd, n. m. voluntary waste or damage. نقصان بھرنے —bharná, v. to bear a loss. نقصان پذیر —paazír, adj. suffering loss. نقصان پھرنچھانا —pahuncháná, v. to cause loss or damage. نقصان ذاتی —e-zátfí, n. m. personal loss. نقصان رسائی —rasání, n. f. causing harm or damage. نقصان کرنا —karná, v. to do harm or injury. نقصان گوارا کرنا —gawára karná, v. to put up with a loss.

نقض naqqz, A. n. m. Breach (of contract etc.) نقض امن —i-aman, breach of peace.

نقطہ nuqat, nuqt, A. n. m. (Plu. of نقطه Nuqta). Drops; spots; dots; vowel points.

نقطہ nuqta, A. n. f. A point; a dot; a vowel point; centre. نقطہ لگانا —lagáná, v. to dot; to impute a fault.

نقل naql, A. n. f. A history; a tale; a story; a fable; copying; transcribing; a counterpart; removing. نقل کرنا —karná, to relate; to copy; to act; to play or perform; to move. نقل نریسی —i-makán, the first stage of journey; transmigration; change of house. نقل وطن —watan, migration. نقل و حرکت —o-harkat, movement.

نقل nuql, A. n. m. What is eaten with wine; a sort of sweetmeat.

نقلی naqlí, A. adj. Fictitious; copied; traditional; false; n. m. a relater; a story-teller.

نقلیات naqliyát, A. n. f. pl. Stories; tales; farces; mimicries.

نیقمت *niqmat*, A. n. f. Punishment ; revenge ; hatred.

نقاشی *naqúsh*, A. n. m. (*Plu. of نقاش Naqsh*). Paintings ; engravings ; inscriptions.

نقل *naqúl*, A. n. f. (*Plu. of نقل Naql*) Narratives ; tales ; copies.

نقی *naql*, A. adj. Pure ; clean ; excellent ; of the finest quality.

نقیب *naqíb*, A. n. m. A chief ; a leader ; an intelligent person ; a servant whose business it is to proclaim the title of his master and to introduce persons to his master ; an adjutant or *aide-de-camp*.

نقیز *naqír*, A. adj. Very small ; meanest ; n. m. canal ; a trough. *نقیز و قظیمیر* — *o-qitmir*, great and small.

نقیض *naqíz*, A. adj. Adverse ; contrary ; opposite n. m. an enemy ; n. f. opposition ; contrariety.

نقیه *naqíh*, A. adj. Faint ; feeble ; weak.

نکاح *nakká*, *नका*, H. n. m. The ace of cards ; iron dice. *نکاحی دورا* *nakki dúrá*, a game of hazard played with cowries.

نکات *nukát*, A. n. m. (*Plu. of نکتة Nukta*). Nice points ; phrases ; conceits ; witticisms ; epigrams.

نکاح *nikáh*, A. n. m. Matrimony ; marriage. *نکاح بیوگان* — *i-bewagán*, remarriage of widows, *نکاح ارکان* *arkán-i-nikah*, essentials of marriage, (*viz.* the proposal and consent). *نکاح پڑھانا* — *parhána*, to tie the nuptial knot by uttering certain fixed terms. *نکاح پڑھائی* — *parháí*, n. f. marriage fees. *نکاح ثانی* — *e-sání*, n. m. a second marriage. *نکاح کردینا* — *kar dená*, to marry a person to another. *نکاح میں لانا* — *men láná*, v. take in marriage. *نکاح نامہ* — *náma*, n. m. a deed of matrimonial contract.

نکاحی *nikáhi*, A. adj. Married (woman).

نکارہ (ناکارہ) *na kára*, P. adj. Worthless ; useless ; invalid.

نکاس *nikás*, *निकास*, H. n. f. Skirts ; boundary ; source ; origin ; outlet ; exit ; adjustment of accounts.

نکاسی *nikási*, *निकासी*, H. n. f. Taxes collected

on goods passing out of town ; duties ; the first appearance of a marriage possession. *نکاسی خالص* — *khalis*, net assets. *نکاسی خام* — *kham*, gross assets. *نکاسی سالانہ* — *salána*, annual out turn ; annual assets. *نکاسی کی چٹھی* — *kí chitthí*, certificate of clearance ; a passport ; a permit.

نیکال *nikál*, *निकाल*, H. n. m. Contrivance ; issue ; discharge. *نیکال ڈالنا* — *dálná*, to deduct ; to strike out. *نیکال دینا* — *dená*, to turn out ; to expel. *نیکال لانا* — *láná*, to bring off ; to elope with ; to run away with. *نیکال لینا* — *lená*, to withdraw ; to take out ; to extract.

نیکال *nakál*, A. n. m. An exemplary punishment. *نیکالنا* *nikálná*, *निकालना*, H. v. (*Caus. of निकाल Nikalná*). To cause to issue ; to take out ; to withdraw ; to turn out ; to expel ; to utter ; to discover ; to find out ; to invent ; to exhibit ; to produce ; to put forth ; to hatch ; to pick ; to train or break in (a horse). [less ; base.]

نیکامی *nikámí*, *निकामी*, H. adj. Useless ; worthless. *نیکاری* *nikái*, *निकार*, H. n. f. The cost of weeding a field ; the act of weeding. [fortune.]

نکبات *nakbat*, A. n. f. Adversity ; calamity ; misfortune. *نکبات* *nikapat*, *निकपत*, H. adj. Without deceit ; sincere ; candid.

نکتہ *nukta*, A. n. m. A point of wit ; witty or pithy saying ; a mystical signification ; a subtle conceit. *نکتہ پرداز* — *pardáz*, acute ; subtle ; ingenious. *نکتہ چین* — *chín*, a caviller ; a carper ; *adj.* captious. *نکتہ چینی* — *chíní*, fault finding.

نکتہ چیں ہے ہم دل اوسکو سنائے نہ بنے
کیا بنے بات جہان بات بنائے نہ بنے
غائب

Nukta chín hai gam-i-dil usko sunáe na bane,
Kyá bane bát jahán bát banáe na bane,

As (the beloved) is a fault finding personality it is difficult to give vent to the feelings of the heart. How is it possible to express anything where it is not possible at all to do so. *نکتہ رس* — *rásh*, sagacious ; nice. *نکتہ دان* — *dán*, sagacious ; discerning ; of penetrating intellect. *نکتہ شناس* — *shínás*, *adj.* sagacious ; discerning.

نیکٹ nikaṭ, निकट, H. *adj.* Near ; close ; proximate.

نکٹا nakṭá, नकटा, H. *adj.* Nose-clip ; noseless ; *n. m.* a rogue ; name of a bird.

نکچڑھا nakcharhá, नकचढ़ा, H. *adj.* Angry ; fretful ; fastidious ; warm.

نک چھکنی nakchhikní, नकछिकनी, H. *n. f.* Name of steruntatory plant ; the plant sneezewort.

نکر nakr, नक्र, S. *n. m.* An alligator.

नक्रे nakra, A. *adj.* Undetermined ; *n.* an indefinite noun ; a common noun. [verting.

नकस naks, A. *n. m.* Inclining downward ; inclining.

नकसीर naksír, नकसीर, H. *n. f.* The veins of the nose. —*phútná*, to bleed at the nose.

नकशत्रु nakshatr, नक्षत्र, S. *n. m.* A lunar mansion or a constellation in the moon's path ; a star.

नकल भगना nikal bhagná, H. *v.* To run away ; to get off ; to be off. [out ; to be drawn forth.

नकल पटना nikal parná, निकल पटना, H. *v.* To come

नकल जाना nikal janá, निकल जाना, H. *v.* To escape ; to go away.

नकल चलना nikal chalná, निकल चलना, H. *v.* To escape ; to surpass another ; to speak much of one's talent.

नकलना nikalná, निकलना, H. *v.* To issue ; to go forth or out ; to be extracted or taken out ; to come out ; to depart ; to be performed ; to exceed ; to be uttered ; to be taken off ; to be produced ; to appear ; to result ; to prove ; to turn out ; to begin ; to be invented ; to be spread abroad ; to escape ; to slip ; to rise ; to spring.

नकमा nikammá, निकमा, H. *adj.* Worthless ; useless ; good-for-nothing.

नको niko, P. *adj.* Good ; beautiful ; well. —*kári*, *n.* beneficence ; goodness. —*námí*, *n.* reputation ; good name ; credit.

नककु nakkú, नककु, H. *adj.* Big-nosed ; bottle-nosed ; degraded ; disgraced. —*banáná*, *v.* to make one an object of scorn. —*banná*, to become infamous or contemptible.

नका nakuá, नकुआ, S. *n. m.* The nose ; a disease of the nose ; the point of anything.

नकोश nikohish, P. *n. f.* Rejecting ; despising ; reproof. [health.

नकोئی nikoí, P. *n. f.* Goodness ; benevolence ;

नकھ nakh, नख, H. *n. m.* A finger or toe nail.

نکھ سے سیکھ sikh se, from top to toe ; entirely ; throughout.

नखारना nikhárná, निखारना, H. *v.* To bleach ; to wash ; to clean ; to strain ; to clear.

नखत nakhat, A. } *n. f.* Perfume ; odour ; scent.

नखत naghat, P. }

नखत nakhat, (corrupt. of नखत्र), S. *n. m.* A constellation ; a star.

नखत्री nakhatri, (नखत्री) S. *adj.* Lucky.

नखतूर nikhatúú, निखटू, H. *adj.* Idle, useless ; worthless.

नखराना nikhráná, निखराना, H. *v.* To clear ; to settle ; to purify. [be cleaned ; to be settled.

नखरना nikharná, निखरना, H. *v.* To be peeled ; to

नखोट nikhot, निखोट, H. *n. m.* A thing without defect ; a plain dealer, *adj.* without blemish ; unblemished.

नकी nakkí, नकी, H. *n.* The ace of cards or dice. —*múnth*, name of a game. [nose.

नकीयाना nakiyáná, नकीयाना, H. *v.* To speak through

नकीर nakír, A. *n. m.* The name of an angel ; See *منكر Munkir*.

नकील nakel, नकेल, H. *n. f.* The wooden or iron instrument fixed to a camel's nose to which is tied the string by which it is led ; a cavesson.

नग nag, नग, S. *n. m.* A mountain. H. The stone of a ring, or a stone on which a name is cut ; a jewel ; a gem ; a precious stone.

नगार nigár, P. *n. m.* Painting ; picture ; portrait ; effigy ; idol ; a beautiful woman ; a mistress. —*álúda*, painted ; made as beautiful as a painting. —*khána yá* —*istán*, a picture-gallery. —*khána-e-Chín*, the picture gallery of Maní, the famous Chinese painter. —*max-mún nigár*, one who contributes to a newspaper or a magazine.

نگاری nigári P. n. f. Paintings.

نگارین nigárin, P. adv. Beautified; lovely.

نگالی nigáli, نیگالی, S. n. f. The wooden pipe of a *huqqa*.

نگاہ nigah, P. n. f. A look; a glance; a view; an aspect; observation; watching; custody; care. نگاہ بان—ban, watchman; guard; keeper. نگاہ بد—bad, evil eye. نگاہ بددنا یا—badalná, yá pherná, to turn a cold shoulder upon; to be unfavourable. نگاہ پڑنا—parná, to be seen. نگاہ رکھنا—rakhná, to watch; to look after. نگاہ کرنا—karná, to view; to inspect. نگاہ لگانا—lagáná, to ogle; to cast loving glances. نگاہ ملانا—miláná, to look one full in the face. نگاہ میں رکھنا—men rakhná, to keep in sight; to watch. نگاہ ناز—e-náz, the alluring eyes of a beloved.

نگاہ ناز سے دیکھو اشارہ کرتے جاتے ہیں

سستم دہی کرتے جاتے ہیں پشیمیاں ہوتے جاتے ہیں

Nigáh-e-náz se dekho ishára karte játe haiñ.

Sitam bhí karte játe haiñ pashemán hote jate haiñ. [approach.

نگچھائی nagcháí, ننگچھائی, H. n. f. Drawing near;

نگر nagar, نگر, H. n. m. A city; a town. نگر

نگر پر بندھ—básí, a citizen; an inhabitant. نگر پر بندھ

—parbandh; government of a town. نگر منڈلی

—mandlí, municipal board. نگر نایک—náyak, a chief bard.

نگراں nigrán, P. part. adj. Looking; beholding.

نگراں حال رکھنا—i-hál rahná, to keep watch (over); to be watchful (of).

نگری nagri, نگری, H. n. f. A town; a village; adj. belonging to a city.

نغفتہ naguftah, P. adj. Untold. [down.

نگلنا nigalná, نیگلنا, H. v. To swallow; to gulp

نگم nigam, نیگم, S. n. m. Holy writ; the

Vedas; the Scriptures; certainty; assurance. نگم نواسی—nivási, dwelling in the Vedas; a name of Brahma.

نگنagan, نغن, H. adj. Naked; nude.

نگوڑا nigorá, نیگوڑا, H. n. m. Wretch; miserable;

(Lit.) without feet; a helpless and unfortunate person; ruffian; devil. نگوڑا نہ تھا—nághá, an unmarried person; a rogue.

نگوں nigún, P. adj. (used in comps.) Hanging downward. نگوں بخت—bakht, unfortunate. نگوں ساز—sár, topsy-turvy; upside down; inverted.

نگہ nigah, P. n. (Contr. of نگاہ Nigáh).

نگہ بان nigabhán, P. n. m. A guard; a watchman; a keeper; a protector; a custodian.

نگہبانی nigabhání, n. f. protection; watching.

نگہداشت کرنا nigah dásht karná, to look after; to enlist.

نگین nagín, } P. n. m. The stone of a ring; a
نگینہ nagína, } gem; a jewel; what fits or
sits well جز نا—jarná, to set a stone.
نگینہ سا—sá, well-set; tiny; goodlooking;
pretty. ساز نگینہ—sáz, one who polishes pre-
cious stones; a lapidary.

نل nal, نل, H. n. m. A tube; a spout; a pipe;

a cylindrical case; a conduit. نل چلانا—chaláná, the magical practice adopted for the discovery

of theft. نل پانی کا نل—pání ká—, waterpipe.

نل در نل—roshní ká—, gaspipe. نل در نل—dar—, one pipe within another. نل پتی

—pattí, a tax for keeping aqueducts in repair.

نل nal, نل, H. n. m. Name of a *rájah*; the husband of Damyanti, who lost all his king-

dom at a game of dice. نلج nilaj, نلج, } H. adj. Shameless; bare-
نلجی nalajjá, } faced; rude.

نلجیتا nilajjatá, نلجیتا, H. n. f. Shamelessness.

نلی nali, نلی, H. n. f. A tube; a pipe; the windpipe; ureter; a gun barrel; the bone of

the leg; the shinbone; a weaver's shuttle or the little tube within the shuttle on which

the woof is wound.

نم nam, P. adj. Moist; damp; wet; n. humidity. نم خوردہ—khurda, destroyed by mois-

ture. نم دیدہ—dídah, weeping. نمناک—nák, moist; damp. نمناکی—nákí, moisture. نم گھوڑا

—gíra, a canopy; an awning.

نما numa, } P. *part.* Showing; exhibiting;
نمائی numái, } pointing out.

نماز namáz, P. *n. f.* Prayers prescribed by Muhammadan law. نماز پڑھنا—parhná, to say prayer. نماز گزار—guzár, one who prays. نماز آیات—e-áyát, prayers prescribed for the occasion of eclipses of the sun or moon, earthquake and storm. نماز جنازه—e-janáza, the funeral service of the Mohammedans. نماز جاے—jáe—, place of prayer; a piece of cloth or matting to say prayers on.

نمازی namázi, P. *n. m.* A person who prays; *adj.* relating to prayer; devout.

نمام nammám, A. *n. f.* Calumniator; accuser.

نمائشی numái, P. *n. f.* Display; showing.

نمایان numáyán, P. *adj.* Apparent; evident; conspicuous; prominent; bold (picture).

نمایش numáish, P. *n. f.* Appearance; show; exhibition; form; face; vision; spectacle; affection; affectation. نمایشگاه—gáh, exhibition ground; museum. نمایششی numáishí, apparent; for show or display; ostensible.

نمایندہ numáyanda, P. *n. m.* Showing; exhibit; representative.

نمیت nimit, (निमित्त), H. *n. m.* Cause; motive; for the sake of; fortune. نمیتی یا نعمتان nimítí yá nimitmán, prosperous.

نمد namad, } P. *n. m.* Felt; woollen-cloth
نمده namda, } formed without weaving. نمده پوش—posh, clothed in felt. نمدمو—mú, having hairs like felt.

نمیر namir, A. *n. m.* A panther; a leopard

نمیر namr, नम्र, S. *adj.* Bending; courteous; inclining; lowly; submissive; humble.

نمیرتا namrtá, नम्रता, S. *n. f.* Condescension; meekness; gentleness; holiness; tenderness.

نمیرود namrúd, A. *n. prop.* Name of an infidel king who ordered Abraham to be thrown in a big fire.

نمسکار namaskár, नमस्कार, S. *n. m.* Salutation; adoration; reverential form of address.

نمش namsh, P. *n. m.* A kind of food made of milk; whipt cream; a sort of syllabub.

نما نامت, A. *n. f.* Likeness; manner; custom; way.

نمک namak, P. *n. m.* Salt; spirit; animation; bread; beauty. نمک بند—band, stopped or bound up with salt (a wound). نمک پھرت پھرت کر—phút phút ker nikalná, the salt (which another has eaten) to break out in sores or boils (on the body); a curse used against a person who has proved himself to be disloyal. نمک چشی—chashí, the first feeding of a child which is attended with certain ceremonies; a ceremony of sending trays of food from the bridegroom to the bride and *vice versa* before marriage. نمک حرام—harám, disloyal; wicked; ungrateful; perfidious. نمک حرامی—harámí, ingratitude; disloyalty. نمک حلال—halál, loyal; submissive; faithful; grateful. نمک خوار—khwár, a servant; a dependant. نمکدان—dan, a saltceller. نمک سار—sar, *adj.* saline; *n.* a saltpit. نمک کا حرام ہونا—ká harám honá, to continue fasting; to keep a fast. نمک کا تیزاب—ká tezáb, muriatic acid. نمک کا حق ادا کرنا—ká haqq adá karná, to discharge (one's) obligations. نمک مرچ لگانا—mirch lagána, to give vividness (to a description). نمک پر نمک لگانا—káte par—laganá, to add one grief to another. نمک پر نمک چھڑکنا—zakhm per—chhirakná, to add to one's pain or suffering; to enhance one's grief; to pile agony on agony. [Nim tree.

نمک کھڑی nimkaurí, निमकौड़ी, H. *n. f.* Fruit of nimik, निमिष, S. *n. m.* A moment; a twinkling of the eye.

نمکی nimkí, निमकी, H. *n. f.* Pickled lemon.

نمکین namkín, P. *adj.* Salted; brackish; witty; sarcastic; animated; handsome; beautiful.

نمکینی namkíní, P. *n. f.* Saltiness; sweetness; agreeableness.

نمل naml, A. *n. m.* An ant.

نامل namil, A. *adj.* Brisk; handy; ready.

نمور namú, A. *n. m.* Vegetation; growth; increase.

نامُود namúd, P. n. f. Index ; guide ; show ; appearance ; honour ; character ; celebrity ; visibleness ; conspicuousness ; *adj.* public ; famous ; conspicuous. نامُود هونا—honá, to be eminent ; to shine ; to appear. نامُود کرنا—karná, to exhibit ; to display ; to expose ; to make a show or display.

نامُودار namúdar, P. *adj.* Apparent ; visible ; conspicuous. [play.

نامُوداری namúdarí, P. n. f. Publicity ; show ; display. نامُودا namúna, P. n. m. An example ; a pattern ; a mode ; a sample ; a type ; a specimen. (Plu. نامُودا نامُودا نامُودا Namúnaját). [ness.

نامی nami, P. n. f. Coolness ; moistness ; dampness. نیننانو نیننانو نیننانو ninnánwe, निन्नानवे, H. *adj.* Ninety-nine.

نامی پھرنا ke pher men parná, to be entirely absorbed in hoarding up wealth ; to be involved in difficulties.

ناند nand yá nanad, नन्द, H. n. f. A sister-in-law ; a husband's sister.

نندا nindá, निन्दा, S. n. f. Censure ; defamation ; reproof ; abuse ; insult ; blasphemy.

ننداس nindás, निदास, S. n. f. Drowsiness.

ننداسا nindásá, निदासा, S. *adj.* Sleepy ; drowsy.

نندت nindit, निन्दित, S. *adj.* Blamed ; censured ; reproved.

نندک nindak, निन्दक, S. n. m. A calumniator ; scorner ; *adj.* censorious.

نندن nandan, नन्दन, S. n. m. A son ; the garde of Indra ; elysium.

نندوسى nandosi, नन्दोसी, } S. n. m. Husband's sister's husband.

ننگ nangg, नंग, } H. *adj.* Naked ; nude ; bare ; shameless. ننگا جھوری—jhorí, searching.

ننگا nanggá, } H. *adj.* Naked ; nude ; bare ; shameless. ننگا سر—sar, bare-headed. ننگا کرنا—karná, to bare ; to uncover. ننگا مادر زاد—mádar zád, stark naked. ننگے پاوں nanggé páon, barefooted. ننگی تلوار nangí talwár, an unsheathed sword. ننگا ناچے پھانے کیا—náche pháñe kyá, one who has nothing ; has no fear of losing anything.

ننگ دھڑنگ nangg dharang, नंगदङ्ग, H. *adj.* Stark-naked.

ننھا nanhá, नन्हा, } H. *adj.* Small ; diminutive ; neat ; tiny. नन्हान nanháñ,

نر nau, P. *adj.* New ; young ; fresh ; raw ; recent. نر آباد—ábád, newly settled ; newly peopled ; colonised. نر آموز—ámóz, a novice ; an inexperienced person ; a beginner. نر بالا—balá, a girl just grown up to the age of maturity. نر باره—bára, a young tree. نر بائی—bái, a new custom, نر به نر—ba—, fresh at every stage ; fresh ; new.

مطرب خوش نوا بگر تازه به تازه نو به نو حافظ

Mutrib-e-khush nawá bigo táza ba táza nau ba nau.

—Hafiz

O sweet sounded minstrel go on singing fresh and invigorating songs.

نوجوان jawán, n. a youth ; *adj.* fresh and young ; in the prime of life. نوجوانی jawání, the prime, bloom or flower of life. نوجندی chandí, relating to the new moon ; of full moon. نوخاسته یا نوخیز khasháta yá nau khez, newly risen ; newly sprung up ; n. a youth. نر خٹ khat, having down on the cheeks ; n. a youth. نر دولت daulat, upstart ; *novus homo*. نر سیکھیہ sikhiyá, one who is in his novitiate, نر شکیبى shikebí, freshness of patience. نر کار kár, newly operating ; fresh. نر مشق mashq, a new practitioner ; novice. نر ملازم mulazim, a new servant ; a recruit. نر وارد wárid, a new-comer.

نر nau, नौ, H. *adj.* Nine. نر انس áns, ninth part. نر رتن ratan, a bracelet, consisting of nine jewels ; the nine jewels, i. e. men of letters at the court of Vikramaditya (*viz.* Dhanwantri, Kshapanak, Amar Singh, Sanku, Vetalbháñt Gháñakarpar, Kálidás, Vararuchí and Varaha Mihir). نر کھنڈ khand, the nine divisions of the earth ; nine stories. نر نند nindh, the nine treasures or gems of Kuvera, the god of wealth. نر نندہ باره سده هونا nindh bárah sidh honá, to be in possession of all the heart can desire.

نوا *navá* P. n. f. Voice ; sound ; modulation ; song ; air (music) ; opulence ; wealth ; subsistence ; goodness or splendour of circumstance. نوا پرداز—*pardáz*, playing on music ; singing.

نوا *nauá*, नवाभा, H. n. m. A barber.

نواب *naváb*, A. n. m. A nabob ; a governor of a town or district ; a lord. (Plu. نوابین *Nawábin*).

نوابی *navábí*, नवाबी, H. n. f. Deputyship ; misrule ; a kind of cloth ; *adj.* relating to a nabob. نوابی کرنا *navábí karná*, to live like a *nawáb* ; to live in a high style.

نواح *naváh*, A. n. m. Environs ; district ; tract ; coast. گرد نواح *gird*—, neighbourhood ; vicinity ; environs.

نواح *naváh*, A. n. m. Lamenting ; bewailing.

نواحی *naváhi*, A. n. m. Territories ; environs ; parts.

نواخته *navákhta*, P. *adj.* Protected ; reared ; cherished. [Rarities ; miraeles.

نوادیر *navádir*, A. n. m. (Plu. of نادر *Nádir*).

نوار *nivár*, दिवार, H. n. f. Tape (of a coarse kind). نوار بان—*báf*, a tape weaver.

نوارا *navára*, P. n. m. A boat ; a barge.

نواری *nivári*, निवारी, S. n. f. Name of a flower ; a sort of jasmine.

نوارا *nivára*, P. n. m. A boat ; a particular kind of boat ; a barge.

نواز *naváz*, P. *part.* Cherisher ; caressing ; soothing ; playing on music ; a musician. بنده نواز *banda*—, cherisher of slaves ; a generous person. بربط نواز *barbat*—, a player on the lute. مهمان نواز *mehmán*—, entertainer of guests. غریب نواز *garíb*—, helper of the poor.

نوازش *nayázish*, P. n. f. Caresses ; blandishment ; kindness ; politeness ; favour ; patronage. نوازش کرنا—*karná*, v. to favour ; to patronise. نوازش نامه—*náma*, a complimentary letter. (Plu. نوازشات *Nawázishat*).

نوازشنا *nayázná*, P. v. To cherish ; to comfort ; to caress ; to favour.

نوازنده *navázanda*, P. *part.* See نوازی *navázi*.

نوازی *navázi*, P. n. f. Shooting ; cherishing ; playing.

نواست *nivás*, निवास, S. n. m. Dwelling ; residence.

نواست *navása*, P. n. m. A grandson ; a daughter's son. [daughter's daughter.

نواستی *navási*, P. n. f. A grand-daughter ;

نواستی *navási*, नवासी, H. *adj.* Eighty-nine.

نواستی *nivási*, निवासी, S. n. m. An inhabitant ; a resident.

نوافل *nawáfil*, A. n. f. (Plu. of نافلة *Nafila*). Voluntary prayers over and above those prescribed as compulsory.

نواقل *naváqil*, A. n. m. (Plu. of ناقلة *Náqila*). Histories ; tales ; traditions.

نوال *nawál*, A. n. m. A gift ; present ; benefit ; mode ; measure.

نواله *nivalá*, P. n. m. A morsel ; a mouthful ; the wadding of a gun. سونے کا نوالہ *soné ká*—, a delicious morsel ; an expensive banquet.

نوان *naván*, नवाँ, H. *adj.* Ninth.

نوانا *navaná yá nivána*, नवाना निवाना, H. v. To bend ; to bow ; to cause to submit ; to fold.

نوانوے *ninánve*, निनानवे, H. *adj.* Ninety-nine.

نواپ *naváeb*, A. n. m. (Plu. of ناچه *Náeba*). Accidents ; unfortunate occurrence ; adversities ; calamities.

نوبت *naubat*, A. n. f. A period ; time ; turn ; access (of fever, etc.) ; relieving guard ; an accident ; opportunity ; occasion ; vicissitude ; degree ; pitch ; weight ; instruments of music sounding at the gate of a great man at certain intervals. نوبت چھونا—*jharná*, to be sounded (the *naubat*). نوبت خانہ—*khána*, a guard house. نوبت بہ نوبت—*ba naubat*, by degrees. نوبت کو پہنچنا—*ko pahunchná*, —*honá*, to reach a (certain) point ; to come to (such) a pass.

نوبتی *naubati*, P. n. m. One who beats the *naubat* ; periodical ; intermittent.

نوپر *núpar*, S. n. f. An ornament for the toes.

نوتنا *nautná*, H. v. t. To invite to a feast.

نوٹ note, नोट, H. *n. m.* A currency note.
 نوٹ پرامیساری pramesari—, Government promissory note.

نوٹ nauj, नौज, *intj.* God forbid ; by no means ; on no account (an expression generally used by Mohammadan women).

نوٹ noch, नोच, H. *n. m.* A pinch ; a scratch.
 نوٹا nuchná, नोचना, H. *v.* To pinch, to gripe ; to scratch ; to claw.

نوٹاوار nauchhávar, (न्योवखावर), H. *n. m.* A propitiatory offering ; sacrifice ; victim. *See* نیھارر Nichháwar.

نوٹی nauchí, नौची, H. *n. f.* A young girl kept by a bawd ; a harlot.

نوح nuh, A. *n. prop.* The patriarch Noah. نوحان
 نوح túfán-e-Núh, the great Deluge.

نوحه nauha, A. *n. m.* Lamentation ; moan ; mourning over the dead. نوحه گر—gar, a lamenter ; a mourner.

نود nauad, P. *adj.* Ninety.

نور núr, A. *n. m.* Light ; splendour. نور افزا—afzá, light-increasing ; illuminating. نور انشالی—afshán, light diffusing. نور چشم یا نور دیده—i-chashm yá—i-dida, light of the eye ; a son. نور کے تڑکے—ke tarke, at dawn ; at the break of day. نور عین—i-'ain ; a son ; light of the eye.

نورا núra, A. *n. m.* Depilatory ; hair remover.

نورانی núrání, A. *adj.* Serene ; bright ; light ; clear ; resplendent ; glorious ; *n. f.* serenity ; brightness.

نوربافی nurbáfi, P. *n. f.* Weaving.

نورد navard, P. *n. f.* A ply ; a fold ; travelling over. نورد صحرا sahrá—, a traveller in the desert. [recent.]

نورس nauras, P. *adj.* Young ; fresh ; tender ;

نورستا nau rusta, P. *adj.* Newly grown ; freshly sprung up. [the Persians.]

نوروز nauroz, P. *n. m.* The New Year's day of

نوروزی naurozí P. *adj.* Relating to New Year's Day.

نوری núrí, नौरी, H. *n. f.* Name of a bird of the parrot kind commonly called *luri psittacus*.

نورھنا nauphuá, नौहना, H. *v.* To bend ; to incline downwards ; to be obedient ; to stoop.

نوسادر nousádar, नौसादर, S. *n. m.* Sal-ammoniac.

نوش nosh, P. *part.* A drinker ; a drink ; a draught ; a present ; a ward ; an antidote بادہ نوش جان فرمانا—i-ján farmáná, to eat ; to drink. نوش کرنا—karná, to eat ; to drink ; to sup ; to sip ; to swallow ; to devour.

نوشان noshán, P. *part.* Drinking.

نوشا noshá nosh, P. *n. m.* Repeated drinking ; carousing.

نوشت navisht, A. *n. f.* Writing ; epistle.

نوشت و خواند navisht-o-khwánd, P. *n. f.* Reading and writing ; epistolary correspondence. سر نوشت sar navisht, destiny.

نوشتہ navishta, P. *adj.* Written ; *n.* a letter ; an epistle ; a writing.

نوشدارو noshdárú, P. *n. f.* Name of a medicine ; antidote ; wine ; an electuary.

نوشہ naushau, P. *adj.* New ; recent ; fresh ; young.

نوشہ nausha, P. *n. m.* A bridegroom ; *adj.* fortunate ; happy ; sweet ; cheerful.

نوشی naushí, नौशी, H. *n. f.* A bride.

نوشیروان nausherwán, P. *n. prop.* Name of a Persian king who was famous for his justice.

نوشہ بانا naushabána, P. *adj.* Of a new king, or of a bridegroom. [able.]

نوشین noshín, P. *adj.* Sweet ; pleasant ; agree-

نوع nau', A. *n. m.* Kind ; species ; sort ; manner ; mode. نوع انسان—i-insán, mankind. به هر نوع bahar nau', at any rate ; anyhow ; at all events.

نوعی nau'í, A. *adj.* Of or relating to species.

نوعیت nau'iyat, A. *n. f.* Specific difference ; special character ; speciality.

نوک nok, P. *n. f.* A bill ; a beak ; a nib ; an end ;

a point ; a tip ; an angle. نوک جھوک—jhok, pulling and hauling ; pleasantry. نوک دار—dár,

pointed نوک زبانی—i-zabán, by heart. نوک قلم—i-qalam, off-hand.

نوکا nauká, नौका, H. *n. f.* A boat

نوکار naukar, P. *n. m.* A servant ; a dependant ; a retainer.

نوکرانی naukarání, नौकरानी, H. n. f. A maid servant.

نوکاری naukarí, P. n. f. Service ; attendance. پیشہ نوکرپی—pesha, one who lives by employment.

نوکیلا nokilá, P. adj. Pointed ; beaked ; tapering.

نول nol, P. n. f. Beak ; bill ; the neck or spout of a decanter or flask.

نول naul, A. n. m. Freight ; hire of boats, etc.

نول naval, नवल, H. adj. Beautiful ; young ; new ; novel ; rare ; n. a sapling.

نولکھا naulakhá, नौलखा, H. adj. Of nine lakhs ; costing or possessing nine lakhs.

نوم navum, नवम, S. adj. Ninth.

نوم naum, A. n. f. Sleep.

نومبر navember, नवम्बर, H. n. m. November.

نومی naumí, नौमी, H. f. The ninth day of a lunar fortnight.

نومید naumid, P. adj. Hopeless ; disappointed.

نومیدانہ naumidána, P. adj. Hopelessly.

نومیدی naumidí, P. n. f. Hopelessness ; despair ; disappointment.

نون navan, A. adj. Nine.

نون navan, नवन, S. n. m. The act of praising or extolling ; laudation.

نون non, नोन, H. n. m. Salt. نون تیل—tel, salt and oil ; (Met.) the necessaries of life.

نوننا navná, नवना, H. v. To bend down ; to bow ; to incline downwards ; to submit ; to be obedient ; to stoop. [salt ; brackish soil.

نوننا noná, नौना, H. n. m. Earth abounding in

نوننا núná, नूना, H. n. m. A kind of custard apple, *Annona reticulata*.

نونہال naunihál, P. n. m. A young plant.

نونئی noní, नौनी, S. n. f. Efflorescence of salt (on a wall).

نونیا noniyá, नोनिया, H. n. m. Purslain ; a dealer in salt ; a saltpetre-maker.

نومے navve, नव्वे, H. adj. Ninety.

نومید naved, P. n. f. Good news ; glad tidings ; invitation (to kinsfolk and brethren) to a wedding.

نویدن nivedan, निवेदन, S. n. m. Proclamation ; announcement ; address ; petition.

نوویس navís, P. part. Writer ; writing ; (used as last member of compounds) as : نوویس : arzi—, a petition-writer. خوش نویس khush —, n. m. a good scribe ; one who writes a fine hand. [a scribe.

نوویسندا navisanda, P. n. m. A writer ; a clerk ;

نوویسی navisí, P. n. f. Writing.

نویل navelá, नवेल, H. n. m. A handsome youth ; a dandy ; a beautiful boy.

نویلی navelí, नवेली, H. n. f. A young and beautiful girl ; a damsel ; a belle.

نویں nuvin, P. n. m. A prince ; a king's or nobleman's son.

نه na, P. adj. or adv. Not ; neither or nor ; no ; nay. [stumble ; to trip.

نه nah, नह, H. n. m. Nail. نه لہنا—lena, to

نہاد nihád, P. n. m. Nature ; form ; habit ; stature ; quality ; disposition ; mind ; heart ; family ; race. بد نہاد bad—, wicked ; cruel ; ill-natured ; ill-disposed.

نہار nihár, A. n. m. The day ; diffusion of light. نصف النهار nisf-un—, midday. خطوط نصف النهار khutút-i-nisf-an—, the meridian. لیل و نہار lailo—, night and day.

نہار nihár, निहार, H. n. m. Fasting ; not taking food. نہار منہ—múgh, adj. Without eating ; fasting ; adv. on an empty stomach.

نہارنا nihárná, निहारना, H. v. To look at ; to regard ; to watch ; to spy ; to see.

نہاروا nahárvá, नहारवा, H. n. m. A guinea-worm ; *filaria medinensis*.

نہاری naharí, P. n. f. Breakfast ; a kind of curry or soup prepared and sold in the early morning. نہاری کھانا—kháná, to eat breakfast ; a kind of bit or bridle. [a sapling.

نہال nihál, P. n. m. A young plant ; a shoot ;

نہال nihál, निहाल, H. adj. Exalted ; pleased ; happy.

نہالچہ nihálcha, P. n. m. (Dim. of نہال Nihál.) A quilt ; a wrapper ; mattress ; a cushion.

نہالی nihálí, P. n. f. A young plant ; a kind of quilt ; a small carpet ; a cushion.

نہان nahán, نہان, H. *n. m.* Bathing ; ablution.
 نہاں nihán, P. *adj.* Latent ; hidden ; concealed ; private ; clandestine.
 نہانا nahána, نہانا, H. *v.* To bathe ; to wash.
 نہانی nihání, P. *n. f.* Concealment, *adj.* occult, secret. اندام نہانی andám-e —, *n. m.* the private parts of a female body.
 نہائی nihái, نہائی, H. *n. f.* An anvil.
 نہایا naháyá, نہایا, H. *adj.* Bathed ; washed.
 نہایا دھویا —dhoiyá, washed ; clean ; tidy.
 نہایا دھوئی کرنا —dhoí karná, to wash ; to bathe.
 نہایت niháyat, P. *n. f.* The extreme ; extremity ; end ; limit ; boundary ; excess ; *adj.* very much ; remarkable ; excessive ; *adv.* extremely ; at last ; at the utmost.
 نہاب nahb, A. *n. m.* Rapine ; plunder ; spoil.
 نہاتا nihattá, نہاتیا, H. *adj.* Unarmed ; empty-handed.
 نہج nahj, A. *n. m.* A road ; a path ; manner ; prescribing. کہ نہجے کہ —ba nahje kí, in a manner that. [ascertainment.
 نہچہ nihche, (S. निश्चय), H. *n. m.* Certainty ;
 نہر nahr, P. *n. f.* A stream or rivulet ; a brook ; a canal.
 نہورنا nihorná, نہورنا, H. *v.* To condescend ; to incline or bend downwards ; to stoop ; to bow.
 نہضت nahzat, P. *n. f.* Marching (against) ; departure ; a rising up.
 نہفتہ nahufta, P. *adj.* Concealed ; hidden ; private.
 نہلانا nahláná, نہلانا, H. *v.* To cause to bathe.
 نہلائی nahláí, نہلائی, H. *n. f.* The act of giving one a bath ; the fee for giving a bath.
 نہلوانا nahalwáná, نہلوانا, H. *v.* To cause to be bathed.
 نہنگ nahang, P. *n. m.* A crocodile ; an alligator ; a shark ; a water-dragon ; a pen.
 نہنگ nihang, H. *adj.* Naked ; free from care.
 نہنگ لڑلا —lárlá, a careless child or person.
 نہنی nahanná, نہنی, H. *n. f.* An instrument for paring the nails. See نہنی naharní, a kind of chisel.

نہورنا nihorá, نہورنا, H. *n. m.* Favour ; obligation ; kindness ; begging ; requesting ; coaxing.
 نہورنا nahorná, نہورنا, H. *v.* To bend downwards ; to bow down.
 نہی nahí, A. *n. f.* Prohibition ; an interdict.
 نہیالی nahíáli, نہیالی, H. *n. f.* A mattress ; a quilt ; bedding. See نہیالی niháloha.
 نہیب nahíb, P. *n. m.* Fear ; terror ; grief ; anxiety ; haste ; expedition.
 نہیاری nahiyar, نہیاری, H. *n. f.* A wife's family ; the house of a married woman's father.
 نہیں nahin, نہی, H. *adj.* No ; not ; nay. نہیں —to, else ; otherwise.
 نہی nai, P. *n. f.* A reed ; a tube ; a pipe ; a flute ; a fife ; a cane. نہی بست —bást, composed of reeds. نہی زار —zár, a bed of reeds or canes. نہی نواز —nawáz, one who plays on a reed ; piper.
 نہیا nayá, نہیا, H. *adj.* New ; fresh ; novel ; recent ; modern. نہی سے سے —naye sar se, anew ; afresh. نہیا جنم —janam, (in *Th eo.*) regeneration.
 نہیا naiyá, نہیا, H. *n. f.* A boat ; a boatman ; a ferryman ; a barber. [viceregency.
 نہیبات niyábat, A. *n. f.* Deputation ; delegation ;
 نہیباتا niyábtan, A. *adv.* By way of viceregency ; virtually ; really.
 نہیارا niyará, نہیارا, H. *n. m.* The scoria left after refining gold or silver (from which a small portion of these metals is obtainable) ; *adj.* apart ; aloof ; separate ; uncommon ; distinct ; different.
 نہیاریا niyáriyá, نہیاریا, H. *n. m.* One who extracts metals from the scoria ; *adj.* prudent ; cautious ; not easily imposed on.
 نہیاز niyáz, P. *n. f.* Petition ; prayer ; indigence ; poverty ; an offering ; a thing dedicated. نہیاز —tinat ; humble. نہیاز کرنا —karná, to devote ; to dedicate ; to consecrate ; to offer. نہیاز حاصل کرنا —hásil karná, to pay one's respects (to). نہیاز مند —mand, supplicant ; grateful ; indigent ; *n.* a petitioner ; an humble or obedient servant. نہیاز کیش —kesh, humble ; submissive. نہیاز چاہانا —chahána, to dedicate.

نیازی niyázi, P. *adj.* Suppliant; *n.* a beloved; a lover; friend.

نیام niyám, P. *n. m.* A sheath; a scabbard; a case; a bandage for a broken limb; the ploughtail or handle.

نیامک niyámak, نیامک, S. *n. m.* A controller; a superintendent; a coachman; helmsman; a boatman.

نیار niyáo, نیار, H. *n. m.* Maladministration.

نیایه niyáe, نیایه S. *n. m.* Justice; equity; reason; argument; disputation; sophistry; logic. نیایه شاستر—shástra, logic. نیایه کرنا—karná, to judge; to decide [blessing

نیایش niyáish, P. *n. f.* Benediction; praise;

نیاییک naiyáyik, نیاییک, S. *n. m.* A judge.

نیاییک niyáyik, نیاییک, S. *n. m.* A logician; a sophist; a reasoner.

نیبú, نیب, H. *n. m.* Name of a tree; lime; lemon; *citrusmedica.* See lema.

نیبید naibed, نیبید, S. *n. m.* Food consecrated to the deity; an oblation. [representation.

نیبدان nibedan, (نیبدان), S. *n. m.* A petition a

نایه پنچ naye panj, P. *n. m.* A horse under five years. [desire; wish; aim.

نیات niyat, A. *n. f.* Intention; design; purpose;

نیتا netá, نیتا, S. *n. m.* A leader.

نیترا netra, نیترا, S. *n. m.* The eye.

نیت یا نیتی nít yá níti, نیت یا نیتی, S. *n. f.* Guiding; conduct; morality; manners; ethics; morals; philosophy.

نیتا netá, نیتا, H. *n. m.* Mucus of the nose.

نیج níj, (نیج), S. *adj.* Own; one's own.

نیچ ních, نیچ, H. *adj.* Low; base; vile; mean; vulgar. نیچ اونچ—únch, the ups and downs of life. نیچ اونچ سمجھانا—únch samjhána, to show the different aspects of a question to advise.

نیچا níchá, نیچا, H. *adj.* Down; sloping. نیچا اونچا—únchá, uneven; rugged. نیچا اونچا دیکھنا—únchá dekhná, to view minutely; to ponder well. نیچا دکھانا—dikháná, to disgrace; to dishonour. نیچے سرور سے گانا—niche suron se gána, to sing in a low tune or voice.

نیچان níchán, نیچان, H. *n. f.* Lowness; humbleness; abjectness.

نیچاک naichak, نیچاک, H. *n. m.* The wooden ring or wheel at the bottom of a well.

نیچا naicha, نیچا, H. *n. m.* A *huqqa* snake. نیچا—band, one who prepares and sells *naicha*.

نیچے niche, نیچے, H. *adv.* Below; beneath; under; down. نیچے اوپر—úpar, upside-down; topsyturvy. نیچے سے اوپر تک—se úpar, tak, from head to foot. نیچے نظروں سے—níchí nazron se, with downcast looks.

نیچا naiyar, A. *n. m.* The sun; the moon. نیچا اعظم—'ázam, the greater luminary; the sun. نیچا اصغر—i-asghar, the moon. نیچا اور نیچا, the sun and the moon.

نیچ nír, نیچ, S. *n. m.* Water.

نیچان nairán, A. *n. m.* (*Plu. of Nár*). Fires.

نیچت nairit, نیچت, S. *n. m.* South-west.

نیچس nírás, نیچس, S. *adj.* Without juice; tasteless; insipid; unpleasant.

نیچرنگ nairang, P. *n. m.* Deceit; trick; incantation; magic; sorcery; a miracle; anything new.

نیچرنگی nairangí P. *n. f.* Magic; deceitfulness; trickery; fickleness; changeableness.

نیچر nerú, P. *n. m.* Strength; power.

نیچز níz, P. *conj.* Also; likewise; again; even.

نیچزا neza, P. *n. m.* A spear; a lance; a javelin; a part; piece of reed from which pens are made. نیچزا باز—báz, a spearman; a lancer; a jousting. نیچزا بازی—bází, *n. f.* jousting; tilting. نیچزا بردار—bardár, *n. m.* a spearman; a lancer. نیچزا دار—dár, *n. m.* a spearman. نیچزا دانا—hiláná, *v.* to handle a spear.

نیچسان naisán, P. *n. m.* Name of the seventh Syrian month corresponding to Hindi Baisakh and April-May. نیچسان—abr-e—, *n. m.* spring showers; the rain which falls while the moon is in the mansion svátí and which is believed to produce real pearls if it falls into shells.

نیچست nest, P. *n. m.* Non-existence; naught. نیچست کرنا—karná, to abolish; to annihilate; to

ruin ; to destroy. *o-nábúd karná*, to demolish; to ruin. *honá*, to perish ; to be ruined.

nísán, नीसान, *H. n. m.* A battle-drum.

nal-están, yá naistan, *P. n. m.* A sugar plantation ; a field of sugarcane ; a place where canes or reeds grow.

nestí, *P. n. f.* Non-existence; annihilation

nesh, *P. n. m.* A sting ; a puncture ; a lancet. *zan*, a stinger; an incendiary a tell-tale; one who excites quarrels. *zaní*, stinging ; mischief making.

neshtar, *P. n. m.* A lancet.

naishakar, *P. n. f.* Sugarcane.

nefá, *P. n. f.* A breeches belt ; the part of the drawers through which the string runs.

nek, *P. adj.* Good ; lucky ; *n.* anything good. *akhtar*, fortunate. *itliqádí*, good faith, *andesh*, well-disposed ; *n.* well-wisher.

báz, just ; virtuous. *bakht*, fortunate ; of good disposition. *pák*, virtuous.

tadbir, good management. *khísál yá khaslat*, *yá kbulq, yá khú*, of good disposition or habits ; good-natured. *khwáh*, well-wishing ; faithful ; grateful. *zát yá tinat*, of good disposition.

shírat, good-natured. *shírat*, faithful to one's word. *farjám*, of happy end. *fahmí*, goodness of intellect ; good sense. *qal*, well-spoken. *kirdár*, of good habits. *mard*, a good man. *manzar*, handsome ; elegant. *nám*, of good repute ; renowned. *námí hásil karná*, to earn or win a good name or reputation. *nihád*, of good nature.

niyat, well meaning.

naik, नैक, *S. adj.* Manifold ; various.

níká, नीका, *H. adj.* Elegant ; beautiful ; good.

nyak-kár, न्यक्कार, *S. n. m.* Humlliation ; humbling ; making low ; contempt ; disrespect.

neki, *P. n. f.* Goodness ; pity ; virtue ; beauty. *o-badí*, good and evil ; weal or woe.

neg, नेग, *H. n. m.* Presents at marriages and on other festive occasions made to relations and to particular servants which they regard as perquisites to which they are entitled. *jog*, *n. m.* customary presents on festive occasions. *jog wále*, *n. m.* people claiming wedding gifts. *dená*, *v.* to give the customary presents at a wedding.

negí, नेगी, *H. n. m.* One who gets customary presents at a wedding or other festive occasions.

nil, *H. and P. n. m.* Indigo; blue. *yá-ká máth bigarná*, a vat of indigo being spoiled ; to be unfortunate ; to hear something wonderful. *gáo*, the white antelope of Pennant and the *antelope picta* of Pallas. *gandan*, black and blue. *godám*, an indigo factory. *gún*, cerulean ; azure ; dark blue. *ká tiká*, blame ; disrepute.

nil, *A. n. m.* The Nile, a river in Egypt.

nail, *A. n. m.* Acquiring ; obtaining.

nilá, *H. and P. adj.* Blue; dark blue; azure. *pilá*, blue and yellow. *thothá*, blue vitriol. *pilá honá*, to be enraged. *pilá karná*, to beat black and blue.

niláb, *P. n. m.* Name of a river; the Atak or Indus.

nilápan, निलापन, *H. n. m.* Blueness.

nilám, *Port. n. m.* Auction ; a public sale.

nilámchí, निलामची, *H. n. m.* An auctioneer.

nilámí, नीलामी, *H. adj.* Auctionable.

nilái, निलार, *H. n. f.* Blueness.

nilak, *P. adj.* Blue; *n.* a sapphire.

nilkanth, नीलकंठ, *S. n. m.* The blue-necked jay ; name of Mahadeo ; a peacock ; name of a plant, *hyperanthera morungi*.

nilam, नीलम, *S. n. m.* A gem ; a sapphire.

نیلامبر nīlambar, नीलम्बर, S. n. m. A sheet of dark blue silk.

نیلوفر nilofar, P. n. m. The lotus; nilufer; water lily; nenuphar; *nymphaea lotus*.

نیلی nīlī, P. adj. Blue azure.

نیم nīm, P. adj. Half; the middle. نیم آستین — ástín; n. m. a jacket with half sleeves. باز نیم — báz, half-open. برشت نیم — brisht, a poached egg (half-boiled or half-fried, &c.) نیم پخت نیم — bismil, adj. half wounded. نیم پخت نیم — puht, half-cooked; half-boiled; parboiled. نیم خبر نیم — tar, half informed. نیم جان نیم — ján, half-dead (with fear, &c.) نیم جوش نیم — josh, coddled. نیم خورد نیم — khwáb, dozing; doze; nap. نیم خورد نیم — khurda, half-eaten; the remains of victuals. نیم راضی نیم — rázī, half-willing. نیم روز نیم — roz, middle of day; noon. نیم سوز نیم — soz, half-roasted. نیم گفته نیم — shab, midnight نیم گفتم نیم — gufta, half-said. نیم گرم نیم — ga'm, lukewarm; milk-warm. نیم ملا نیم — mullá, a half-learned witling; a quack.

نیم nīm, नीम, H. n. f. Name of a tree; *melia azadirachta*; a margosa tree.

نیم nem, नेम, H. n. m. Vow; agreement; rules; bye-laws; piety; religious observance. نیم دھرم نیم — dharm, abstinence, good conduct.

نیمات nimávat, नीमावट, S. n. m. System of the followers or Nimánand, a *faqir*.

نیمچہ nimcha, P. n. m. A small scimitar or sword; a dagger; a hanger.

نیمہ nīma, P. n. m. A garment. نیمہ آستین — ástín, a half sleeved jacket. نیمہ شام نیم — shim, evening.

نیمی niami, नियमी, H. adj. Conscientious; chaste.

نین nain, nayan, नयन, S. n. m. The eye. نین سکھ نیم — sukh, name of a flower; a kind of white cotton cloth.

نیند nind, नींद, H. n. f. Sleep. نیند اوجاٹ ہونا نیم — uchát honá, to have (one's) sleep broken; to be unable to sleep; sleep to be dissipated or to vanish. نیند بھر سونا نیم — bhar soná, to sleep soundly; to be at ease.

نیو neo, नेव, H. n. f. The foundation. نیو ڈالنا نیم — dálná, to lay the foundation (of); to found.

نیوانا niváná, निवाना, H. v. To bend.

نیوتا neotá, न्योता, H. n. m. An invitation.

نیوتانا neotáná, न्योताना, } H. v. To invite.
نیوتنا neotná, न्योतना

نیور nevar, नेवर, } H. n. f. A sore in the feet
نیول neval, नेवल } of a horse; an ornament worn by children on the feet. [listener.

نیوش niyosh, P. part. Hearing; n. hearer;

نیوشندا niyoshinda, P. n. m. Hearer; listener.

نیول neval, नेवल, } H. n. m. A weasel; a mun-
نیولا neolá, नेवला } goose; a ferret.

نیہہ, नेह, S. n. m. Affection; kindness; love; friendship.

نیہار nehar, नेहर, H. n. m. Wife's paternal home.

نیہی nehi, नेही, H. n. m. A friend.

(9)

و, váo, The 26th letter of the Arabic, 30th of the Persian and 33rd of the Urdu alphabet; it corresponds to व in Sanskrit and Hindi. It stands for six and in ephemerides represents Friday and the sign Libra.

و, wá, P. conj. And; too; also; with.

و, vá, P. adj. Open adv. again; back; prep. with interj. an expression of pain; Ah! Oh! و اشدن — shudan, to become open. و اکرنا — to open. و ماندہ — mánda, tired; fatigued; remaining behind. و ہونا — honá, to become open.

وایستگان vábastagán, P. n. m. Connections; relations; adherents; dependants; domestics.

وایستگی vabastagi, P. n. f. Adherence; connexion.

وابستہ vábasta, P. adj. Bound; related; connected; depending on; n. an adherent; a dependant.

واپس vápas, P. adj. Behind; afterwards; then; again; back; returning. واپس دینا یا کرنا — dená yá karná, to return; to give back; to send back. واپس رکھنا — rakhná, to detain; to

retard. واپس لینا—lena, to withdraw. واپس لینا—milná, to obtain or get back; to be restored (to).

واپسی vâpasí, P. n. f. Return; refund.

واپسین vâpasin, P. adj. The last; latter; hindmost; posterior.

واٹکا vâtiká, वाटिका, S. n. m. Site of a house or building; a villa (bâri).

واثق vâsiq, A. adj. Strong; robust; firm; secure; depending (upon).

واجب vâjib, A. adj. Necessary; incumbent; proper; worthy; deserving; convenient; meet; just; due; reasonable. واجب الادا—ul-adâ, necessary to be discharged (duties, &c.); payable. واجب التعمیر—ul-ta'zîr, punishable. واجب التعظیم—ul-ta'zîm, worthy of respect; venerable. واجب الرحم—ul-rahm, adj. deserving pity. واجب الزیارت—uz-ziyarat, necessary to be visited. واجب العرض—ul-'arz, fit to be represented; n. a written representation or petition; a settlement; an agreement. واجب القتل—ul-qatl, deserving death. واجب الرعايت—ur-ri'ayat, deserving honour; worthy of respect. واجب الوجود—ul-vâjûd, whose existence is necessary; God. واجب الوصول—ul-wasûl, adj. recoverable; realisable.

واجبات vâjibât, A. n. m. (Plu. of واجب vâjib) Necessary things which are fit to be done.

واجبی vâjibî, A. adj. Necessary; proper; expedient; allowable.

واحبہ vâchbihê, वाचिहे, H. n. m. Praising; commendations; affectionate and encouraging words; Bravo! Well done! Aha!

واحد vâhid, A. adj. One; sole; individual; single; unique; (in Gram.) singular number. واحد شہد—shahid, God is my witness; (Met.) adj. giving; bestowing. واحد شاهد ہونا—shâhid honâ, to give; to offer; to bestow; to treat one kindly. واحد العین—ul-'ain, adj. one-eyed.

وادی vâdî, A. n. f. A valley; a vale; the channel of a river; a river; an oasis in a desert.

وار vâ, वार, H. n. m. A blow; a wound; an assault; a stroke. وار کرنا—karnâ, to attack; to assault. وار پر وار—par vâ, repeated

attacks. وار نہ لینے دینا—na lena denâ, to allow no recess or leisure.

وار vâ, वार, H. n. m. Multitude; flock; herd; opportunity; day of the week e. g. Somvâr, Mangalvâr. وار خالی جانا—khâllî jânâ, the opportunity to be lost.

وار vâ, वार, H. n. f. (Contr. of wari). وار پھیر—pher, n. f. An offering waved round the heads of a bride and bridegroom and distributed as alms.

وار vâ, P. Like; resembling; endowed with (used as last member of compounds); as, وار شاہ—shâh—, worthy of a king. وار امید ummed—, hopeful. وار کشت kisht—, according to the fields or the crops. وار جامہ jâma vâ, n. m. a kind of cloth made of cotton and silk. سزاوار sazâvâr, deserving.

وارا vârá, वारा, H. n. m. Cheapness; thrift; benefit; gain; a victim.

وار پار vâ par, वार पार, } S. adv. On this side
وار آر árpar } and that; on both
sides; through and through; across; n. bound.

وارث vâris, A. n. m. An heir; a master; a lord; an owner; a successor. وارث ہونا—honâ, to inherit; to become heir (to). وارث لاوارث—lâ'arâth, heirless; having no heir.

وارثی vârisî, P. n. m. Heritage.

وارد vârid, A. part. Coming; arriving; approaching; alighting; descending; adj. being present. وارد صادر—o-sâdir, a guest; a traveller. وارد ہونا—honâ, to arrive; to come.

واردات vâridât, (Plu. of وارد Vârid) Event; accident; incident; occurrence; casualty.

وارستگان vârastâgan, P. n. m. (Plu. of وارستہ Vârusta) Those who are delivered; the saved.

وارستگی vârastagî, P. n. f. Deliverance; freedom; salvation; liberation.

وارستہ vârusta, P. adj. Delivered; saved; escaped.

وارفتگان vâraftâgan, P. n. m. (Plu. of وارفتہ Vâraftâ) Those who have gone astray; the lost.

وارفتہ vârafta, P. adj. Wandered; lost; gone astray; n. one who has wandered.

وارنا *várná*, वारना, H. *v.* To surround; to encircle; go round; to offer. *وارې پھيري*—*vári pherí*, a ceremony among females of distributing to the menials, money, which has been passed over the head of a bride or bridegroom as a sacrifice for her or his welfare. *وارې پھيري* *vári pherí honá*, to go round anybody (as a sign of being an offering or sacrifice for his welfare).

وارنت *várant*, वारंट, H. *n. m.* A warrant; a writ. *وارنت تلاشي*—*taláshí*, a search warrant. *وارنت کړنا*—*jári karná*, to issue a warrant. *وارنت رهاني*—*rehái*, a warrant of release. *وارنت سپردگي*—*supurdegí*, a warrant of commitment. *وارنت گرفتاري*—*griftári*, a warrant of arrest.

واژ *vár*, वाण, } H. *n. f.* A garden; an enclosure (used in compounds).
 واژي *vári*, वाणी, }
as, *واژول واژي* *phul*—, a flower garden

واژ *váz*, P. *adj. or adv.* (for *باز*) Open; back; again.

واژون *vázún*, } P. *adj.* Inverted; prepos-
 واژون *vázhún*, } terous; contrary; unfortu-
 واژون *vázhgún*, } nate; unlucky; backwards.

واسط *vásit*, A. *n. m.* The middle; a mediator; a go-between; a middle-man.

واسطه *vásta*, A. *n. m.* Account; sake; connection; relation; cause; reason; anything intermediate; a medium. *واسطه رکھنا*—*rakhná*, to have to do with; to concern; to bear (upon). *با واسطه* *ba*—, *adv.* by means of; through the medium of.

واسطي *vástí*, P. *n. f.* A reed; pen.

واسطے *váste*, P. *prep.* For; for the sake of; on behalf (of); on account (of); because; in order (to).

واسيع *vasí'*, A. *adj.* Ample; capacious; wide; roomy; an epithet of God. [style in poetry.]

واسوخت *vásokht*, P. *n. m. f.* An impassioned

واسوخته *vásokhta*, P. *adj.* Inflamed; impassioned.

واسوز *vásoz*, P. *n. m.* Burning; ardour.

واشده *vá-shuda*, P. *adj.* Opened; expanded; vanished; dispersed.

واصف *vásif*, A. *n. m.* One who extols or praises.

واصل *vásil*, A. *adj.* Joined; coupled; arrived; *n.* one who enjoys the society of the beloved. *واصل باتي*—*báqí*, collections and balances; account of payments. *واصل باتي کړنا*—*báqí karná*, to state or to balance an account.

واصلت *wásilát*, A. *n. f.* (*Plu. of* *واصل* *Wásil*) The proceeds of an estate; usufruct; mesne profits.

واضح *vázih*, A. *adj.* Evident; manifest; obvious; clear. *واضح هو که*—*ho kí*, be it known that; seeing that; whereas.

واضح *vázo'*, A. *part.* Placing; establishing; *n.* an inventor; a founder. *واضح قانون*—*qánún*, legislator.

واعد *vá'id*, A. *n. m.* One who makes a promise.

واعظ *vá'iz* P. *n. m.* A monitor; a preacher; an adviser.

وايز *váfir*, A. *adj.* Abundant; plentiful; copious; much; many; opulent; ample.

وافي *váfi*, A. *adj.* Sincere; honourable; entire; complete; plentiful; adequate; enough.

واقع *váqe'*, A. *part.* Befalling; occurring; arriving; appearing; situated. *واقع گير* *gair*—, *adj.* untrue; false; unreal. *في الواقع* *fil*—, *adv.* in fact; in reality. *واقع هونا*—*honá*, *v.* to happen; to occur; to befall. *واقع مين*—*váqe' men*, in reality; in fact; actually.

واقعات *wáqe'át*, A. *n. m.* (*Plu. of* *واقعة* *Vaqe'a*) Incidents; events; occurrences.

واقعة *váqe'a*, A. *n. m.* Event; incident; intelligence; death. *واقعه نويس*—*navís*, an intelligencer; a news-writer.

واقعي *váqe'i*, A. *adv.* Verily, in reality; actually; certainly; truly; *adj.* true; real.

واقف *váqíf*, A. *n.* A testator, one who leaves any thing by last will. *adj.* Acquainted; aware of; experienced; conversant; knowing; learned; sensible. *واقف هونا*—*honá*, to be acquainted (with). *واقف حال يا كار*—*hál yá kár*, experienced; expert; *n.* a connoisseur. *واقف كاري*—*kári*, *n. f.* knowledge; experience. *واقف نا*—*ná*—, unacquainted; unaware; ignorant, inexperienced.

واقفیت *váqfiyat*, A. *n. f.* Experience; information; knowledge; intelligence; acquaintance.

واگذاشت *váguzásht*, P. n. f. Leaving behind ; committing (to) ; release.

واگذاشته *vaguzáshta*, P. part. Left behind ; released ; remitted. [cious; eloquent.

واگمی *vágmí*, वार्मी, S. n. m. Talkative ; loquacious ; H. n. m. Agent ; door-keeper ; inhabitant ; master ; lord ; owner (used as last member of compounds), as ; in راکھ *rakh*—, a keeper. ناؤ والا *nao*—boatman. گھر والا *ghar*—, keeper or master of the house. دہلی والا *dillí*—, an inhabitant of Delhi. لکھنے والا *hone*—, one who writes ; a writer. ہونے والا *hone*—, about to be ; becoming.

والا *válá*, P. adj. Exalted in dignity ; high ; eminent ; respectable ; superior. ازا جاتہ *záh*, of exalted dignity. والا شان *shán*, high in rank or dignity. والا قدر *qadr*, of high rank. والا حضور *huzúr*—, your highness.

والد *válid*, A. n. m. A father.

والدة *vávida*, A. n. f. A mother.

والدین *válidain*, A. n. m. Parents.

والله *valláh*, A. By God (in swearing). الله يعلم *y'alam*, God knoweth. بالله اعراب *ya'lam bis sawáb*, God knoweth the truth. بالله اعراب *ya'lam bil gaib*, God knoweth the hidden things or mysteries. بالله *billáh* ; By god (I swear.)

واله *váleh*, A. adj. Confounded ; driven to despair ; distracted (with terror or grief) ; stupefied ; astonished.

والي *válí* P. n. m. Ruler ; owner ; guardian. والي *varis*, guardians ; parents. والي *be-wáris*, unprotected ; without guardians. [borrowing.

وام *vám*, P. n. m. Debt ; credit ; lending ; واماندگان *vámáṅdḡán*, P. n. m. (Plu. of *vamánda*) Those who remain behind.

واماندگی *vámáṅdagí*, P. n. f. The remaining behind ; inability.

وامانده *vámánda*, P. adj. Tired ; fatigued ; n. m. one who remains behind.

وامق *vámíq*, A. n. m. A lover ; a friend.

وان *ván*, वान, S. Possessing ; (used in compounds), as ; دهن وان *dhan*—, possessing wealth ; rich.

واو *vávallá*, P. n. m. Lamentation, *interj.* Alas !

واو *váh*, वाह, H. *interj.* Bravo ! Well done ! Alas ! वा वा वा—*vá yá váh*, Bravo ! Excellent ! Hallo ! How strange ! वा वा वा—*wah karná* ; to applaud.

واهب *váhib*, A. n. m. A giver ; *adj.* liberal ; generous. الله العطاء *ul'atáyá*, God, the Giver of all gifts.

واهم *váhim*, A. part. Thinking ; being of opinion ; fancying ; imagining. [whim.

واهمه *váhima*, A. n. m. Fancy ; imagination ;

واهي *váhi*, P. adj. Weak ; crazy ; ill-founded ; n. m. a vagrant ; a loose character. واي تباهي *tabáhi*, absurd ; nonsensical ; meaningless. واي تباهي بكنا *tabáhi bakná*, to talk nonsense ; to use foul language.

واهيات *vahiyát*, (Plu. of *vahiyat*) Absurdities ; nonsense.

واهيات *váhiyat*, P. n. f. Absurdity ; nonsense.

وايو *váyu*, वायु, S. n. f. Air ; wind. وايز مندل *mandal*, the atmosphere.

وايا *vabá*, A. n. f. The plague ; pestilence.

وابال *vabál*, A. n. f. Burden ; an unhealthy climate ; a crime ; punishment for a fault ; plague ; misfortune ; ruin ; curse ; *adj.* painful ; unwholesome ; burdensome.

واتد *vatid yá vatad*, A. n. m. A peg ; a pin. واتد الارض *ul-arz*, the antipodes.

واتر *vatar*, A. (in *Geom.*) The hypotenuse (of a right-angled triangle) ; a diagonal. واتر قوس *qaus*, string (of a bow, etc.) chord (of an arc).

واتسل *vatsal*, वत्सल, S. adj. Affectionate ; kind ; loving ; tender.

واتيره *vatirá*, A. n. m. A path ; a way ; a manner ; a habit ; a custom. واتيره نيك *nek*—, of good manners ; well-behaved ; well-conducted.

واتيق *vasq*, A. n. m. Strength ; faith.

واتيق *vasúq*, A. n. m. Strength ; firmness ; steadfastness ; confiding in.

واتيق *vasíq*, A. adj. Firm ; steady ; strong.

واتيقه *vasíqa*, A. n. f. Firmness ; solidity ; confidence ; faith ; a bond ; an obligation ; a

written agreement. وثيقة انتقال—e-intiqál, a deed of transfer. وثيقة جان بیمه—e-ján bima; a life insurance policy. دار وثيقة—dár, holder of a bond; holder of some monthly allowance in former Hyderabad State. سرکاری—e-sarkári, Government paper. وثيقة ضمانت—e-zamánat, a bail bond.

وچاهت, vajáhat, A. n. f. Respect; respectability; appearance; aspect; position.

وچاب, vajab, P. n. m. A span; nine inches,

وچد, vajd, A. n. m. Ecstasy; rapture; excessive love; transport; frenzy. چد میں آنا—men áná, to get a religious fit; to be enraptured.

وچدان, vajdán, A. n. m. Rapture; ecstasy.

وچج, vaja', A. n. m. Disease; pain; affliction; complaint; melody; ailment; mourning. وچج مفصل—e-mafásil, rheumatism. [expediency.

وچوب, vujúb, A. n. m. Necessity; obligation;

وچورد, vujúdd, A. n. m. Invention; existence; essence; being; body; substance. با وجود—ba —, with the existence of; notwithstanding;

وچورد پانا—páná, to come into existence. آدم وجود—adam —, existence or non-existence. وجود میں لانا—men láná, to bring into existence; to form; to create.

وچوردہ, vajúh, } A. (Plu. of وجہ و Wajh).
وچوردہات, vajúhát, } Reasons; causes.

وچہ, vajh, A. n. f. Cause; reason; mode; way; face; appearance; resemblance; wages; salary; money. وجہ تہریک—e-tahrik, cause of action; motive. وجہ ثبوت—e-sabút, proof; evidence. وجہ ثبوت کامل—e-sabút-e-kámil, conclusive proof. وجہات واقعات—e-sabút e-wáqé'át, circumstantial evidence. وجہ قوی—e-qavi, efficient cause. وجہ کافی—e-káfi, sufficient cause. وجہ معاش—e-ma'ásh, means of subsistence. وجہ تسمیہ—i-tasmiya, the etymology of words; the cause of giving any particular name. وجہ حال—i-hál, mode of living; state of circumstances. وجہ مخصصہ—i-mukhásimat, ground of complaint; cause of action. کئی وجہ سے—kaí—se, for several reasons; in many respects.

وچہ, vajhá, A. n. m. Allowance; pension; salary.

وچیز, vajiz, A. adj. Brief; short; epitomized.

وچیز, vijay, विजय, S. n. m. conquest; victory; triumph.

وچیہ, vajih, A. adj. Of a good countenance or appearance; respectable.

وچار, vibár, विचार, S. n. m. Reflection; meditation; thought. [in the oneness of God.

وحدانیت, vahnaniyat, A. n. f. Unity; the belief

وحدت, vahdat, A. n. f. Unity; the being one; oneness; solitariness.

وہش, vahsh, A. n. m. A wild beast; an untamed animal.

وہشت, vahshat, A. n. f. Fright; fear; dread; horror; sadness; grief; loneliness; solitude; wildness; barbarity; savageness; ferocity.

وہشت اثر—asar, terror-exciting; frightful, وہشت انگیز—angez, terrible, shocking; horrible. وہشت زدہ—zada, aghast; terrified; struck with loneliness. وہشت ناک—nák, frightful.

وہشی, vahshí, A. adj. Wild; savage; ferocious; uncivilised; barbarous; n. a wild beast; a brute; a savage. نیم وہشی—ním—, half-tamed; half-civilised; semi-barbarous. [beast-like.

وہشیانہ, vahshiyána, A. adv. Like a brute;

وہشی پنا, vahshí pana, H. n. f. Wildness; shyness; ferocity.

وہل, vahal, A. n. m. Slime; mud; mire; ooze.

وہوش, vahúsh, A. (Plu. of وحش و Wahsh). Wild beasts. [tion.

وہی, vahí, A. n. f. Divine revelation; inspira-

وہید, vahíd, A. adj. Alone, unique, singular. وہید العصر—ul-aser, the non-pareil of the age. وہید دہر—i-dahar, phoenix of the age.

وہد, vadd, A. n. m. Love; friendship; affection.

وہداع, vidá', A. n. m. Farewell; adieu; bidding farewell. وہداع کرنا—karná, to bid farewell; dismiss. الوداع—al—, farewell! also the last Friday of the month of Ramazán.

وادی *vidá'i*, A. *adj.* Bidding farewell; valedictory. [man; a scholar.

ویدان *vidván*, *S. n. m.* A wise or learned

وید *vadúd*, A. *n. m.* Love; friendship.

ویدا *vidyá*, *S. n. f.* Knowledge; learning; science; philosophy; an epithet of the goddess Durga.

ویدیت *vad'iat*, A. *n. f.* Deposit; trust. *ویدیت حیات*—*i-hayát*, death; depositing one's life.

ور *var*, *S. adj.* Desirable; excellent.

ور *var*, P. (*Contr. of* *وَر* *Vagar*. And if). Possessing; enjoyment; having; (added to substantives to form adjectives, as *جانور* *jan*—a living creature; an animal; *نامور* *nám*—, having a name; famous).

ورا *vará*, A. *prep.* Behind; beyond; besides.

وراثت *virásat*, A. *n. f.* Heritage; heirship. *وراثت نامه*—*náma*, deed of inheritance of heirship. *وراثت پهنچنا*—*an pahunchná*, to devolve by inheritance.

وراد *varrád*, A. *n. m.* A gardener.

ورثا *vursá*, A. *n. m.* (*Plu. of* *وارث* *Váris*). Heirs; successors; inheritors.

ورثه *virsa*, A. *n. m.* A heritage; a bequest. *ورثه باقنا*—*bátná*, to divide an inheritance. *ورثه پانا*—*páná*, to acquire by inheritance. *ورثه دار*—*dár*, heir. *ورثه دار شریک*—*dár-e-sharík*, joint-heir; co-heir. *ورثه میں آنا*—*men áná*, to descend as a heritage. [a flower; a petal.

ورد *vard*, A. *n. m.* A rose; a flower; the leaf of

ورد *vird*, A. *n. m.* Access; approach; daily use; task; a portion of the *Qurán* fixed for reading at a certain time; continual motion; a halting place; a stage. *ورد زبان* *zabán honá*, to have by heart; to be ready on the tongue. *ورد کرنا*—*karná*, to repeat. [adverse.

وردھ *virudh*, *S. adj.* Contrary; against;

وردی *vardí*, *H. n. f.* Uniform.

ورزش *varsish*, P. *n. f.* Abstinence; sobriety; custom; habit; athletic exercise.

ورطه *vartá*, A. *n. m.* A labyrinth; a maze; a whirlpool; embarrassment; any situation of danger and difficulty.

ورع *vara'*, A. *n. f.* Timidity; fear of God; temperance; continuance.

ورغانا *vargaláná*, *वर्गलाना*, H. *v.* To deceive; to decoy; to seduce; to tempt.

ورق *varaq*, A. *n. m.* (*Plu. اوراق* *Auráq*). A leaf; a card; a slice. *ورق اترنا*—*utárná*, to slice; to cut fine. *ورق تراشنا*—*taráshná*, to cut cards. *ورق الخیال*—*ul khyál*, an intoxicating drug; *cannabis sativa*.

ورقه *varqa*, P. *n. m.* A paper; a letter.

ورقی *varqí*, P. *adj.* Leaf-like; foliated; flaky.

ورم *varam*, A. *n. m.* A swelling; tumour; *adj.* inflated; enraged. *ورم کرنا*—*karná*, to swell. *ورم ہونا*—*honá*, to be inflated.

ورنه *varna*, P. *Conj.* (for *وگرنہ* *wagar-na*). And if not; otherwise; although.

ورود *varúd*, A. *n. m.* Arrival; coming; appearing; descending; alighting.

وزارت *vizárat*, A. *n. f.* The office of a Vazir or prime-minister; ministry.

وزان *vazán*, A. *n. m.* A weigher; a great composer of verses. [burden; a load.

وزر *vizr*, A. *n. m.* A crime; sin; fault; arms; a

وزرا *vazará*, A. *n. m.* (*Plu. of* *وزیر* *Wazir*), Ministers.

وزن *vazan*, A. *n. m.* Weight; weighing; measure; metre; rhyme; verse; reputation; honour; examination. *وزن دار*—*dár*. *adj.*

weighty; heavy. *وزن رکھنا*—*rakhná*, to carry weight *وزن کرنا*—*karná*, to weigh. *وزن کش*—*kash*, a weighman. *وزن کشی*—*kashi*, the office or duty of a weighman.

وزنی *vazní*, A. *adj.* Heavy; weighty.

وزیدہ *razída*, P. *adj.* Blown.

وزیر *vazír*, A. *n. m.* A minister of state. *وزیر اعظم*—*ul-vuzará—a'zam*, the grand Vazir; prime minister.

وزیری *vazírí*, A. *n. f.* The office of a minister of state.

وساطت *vasádat*, A. *n. f.* Means; mediation; medium; interposition; intercession.

وسالت *vasálat*, A. *n. f.* Mediation; channel; means; medium.

وسائل vasáel, A. n. m. (*Plu. of* وسیله *Vasila*)

Ways ; means. [stance.

وست vastu, वस्तु, S. n. f. Thing ; matter ; sub-

سطا vast, A. n. m. The middle; the centre ; *adj.* middling ; central ; suitable ; just ; proper ; average ; moderate.

وسطی vastí, A. *adj.* Middling ; average ; intermediate ; moderate. وسطی محالک—mumálik, the Central Provinces.

وسعت vas'at, A. n. f. Latitude : amplitude ; space ; extent ; leisure ; convenience ; opportunity ; ease. وسعت ركهنا—rakhná, to possess capacity, space, or room (for) ; to be able to contain or to pay etc. كسیر الوسعت kasir-ul—, of much or great capacity ; of large size ; of great bulk.

وسمه vasma, A. n. m. The leaves of indigo (with an extract from which people stain their beards, clothes, etc.)

وسواس vasvás, A. n. m. Doubt ; suspense ; hesitation ; suspicion ; dread ; perplexity ; superstition ; temptation of the devil.

وسواسی vasvási, A. *adj.* Doubtful ; distracting ; apprehensive ; scrupulous. [gestion.

وسوسة vasvasa, A. n. m. Temptation ; evil sug-

وسیع vasí', A. *adj.* Extensive ; large ; specious ; roomy.

وسیله vasíla, A. n. m. Affinity ; cause ; occasion ; support ; means. وسیله پیدا کرنا—paidá karná, to provide the means for achieving one's object. وسیله دار—dár, a client ; a dependent.

وسیله سے—se, *adv.* By means of ; through. وسیله ناسد—i-fásíd, corrupt means. وسیله ناجایز—i-nájaz, illegal means. [handsome ; comely.

وسیم vasím, A. *adj.* Of a fine countenance ;

وش vash, P. (*In compos.*) Like, resembling ; as : حورورش húr—, resembling a fairy.

وشن vishun, विश्व, S. n. m. The Deity in the character of preserver.

وصال visál, A. n. m. Meeting ; interview ; connection ; intercourse ; society ; enjoyment.

وصایا vasáyá, A. n. f. (*Plu. of* وصیة *Vasiyat*). Wills ; testaments.

وصف vashf, A. n. m. Praise ; encomium ; description ; merit ; virtue ; equality ; epithet. وصف ركهنا—rakhná, to possess any good quality.

وصفی vashí, A. *adj.* Descriptive ; attributive.

وصل vasl, A. n. m. Meeting ; union ; connection. وصل کرنا—karná, to unite ; to paste ; to attach.

وصلات vaslat, A. n. f. Conjunction ; meeting ; joining.

وصیحة vaslcha, P. n. m. A shred ; a fragment.

وصلی vaslí, P. *adj.* Conjunctive.

وصلی وصلی vaslí, P. n. f. Two pieces of paper, &c., pasted together to practise handwriting upon.

وصمت vasmat, A. n. f. Reproach ; disgrace ; crime ; fault ; torpor.

وصول vasúl, A. n. m. Arrival ; acquisition ; collection ; realisation (of revenue, &c.) ; recovery. وصول کرنا—karná, to collect ; to realise ; to recover. وصول نیلام—i-nílám, sale proceeds.

وصولی vasúlí, P. *adj.* Recoverable.

وصی vasí, A. n. m. An executer ; an administrator ; a preceptor ; a testator.

وصیة vasiyat, वसीयत, H. n. f. A last will and testament ; a legacy ; a bequest ; a precept ; a making a will. وصیة نامه—náma, a last will and testament. وصیة کرنا—karná, to bequeath ; to leave by will ; to advise. وصیة زبانی—i-zabání, a nuncupative will. بی وصیة bilá—, intestate.

وصید vasíd, A. n. f. The threshold of a house ; portico before a door.

وضاحت vazáhat, A. n. f. Clearness ; purity.

وضاعت vazá'at, A. n. f. Humility, humiliation ; degradation.

وضع vaz', A. n. f. Situation ; state ; condition ; manner ; mode ; procedure ; position ; conduct ; behaviour ; style. وضع بدلتا—badalná, to change the appearance or dress, &c. ; to disguise oneself. وضع حمل—e-hamal, n. f. child birth ; delivery. وضع دار—dár, of good appearance or form ; stylish ; elegant. وضع کرنا—karná, to deduct ; to subtract. وضع ہونا—honá, to be deducted. وضع خوش khush—, *adj.* fashionable ; of good manners. وضع بد bad—, *adj.* ugly ; ill-mannered ; evil-disposed.

وضو *vazú*, A. n. f. Ablution. تازہ کرنا—*taza karná*; to perform ablution over again. وضو کرنا—*tozná*, to destroy the efficacy of the devotions. وضو کرنا—*útná*, the purity of one's devotions to be destroyed.

وضوح *vazúh*, A. n. m. Evidence; proof.

وضیع *vazí'*, A. adj. Ignoble; base; low; n. m. a deposit; a trust. وضیع و شریف—*o-sharif*, n. m. the low and the high; plebeians and nobles.

واتد *vatađ*, A. adj. Firm; solid; confirmed; corroborated. [sity; use.

واتر *vatar*, A. n. m. A necessary thing; neces-

صطن *vatan*, A. n. m. Native country; residence; abode; home; country. [country.

وطنی *vataní*, A. adj. Belonging to one's

وظائف *vazáef*, A. n. m. (*Plu. of وظیفہ Wazifa*). Pensions; salaries; daily prayer.

وظیفہ *vazifa*, A. n. m. A pension; stipend; salary; a daily performance or task; Mahomedan daily worship; anything agreed on; land bestowed in gift for past services. وظیفہ دار—*dár*, a stipendiary; a pensioner. وظیفہ خوار—*khwár*, pensioner; scholarship-holder.

وظیفی *vazífí*, A. adj. Relating to a pension or a customary task; daily; customary.

وعدہ *va'da*, A. n. m. A promise; a vow; an agreement; a bargain; an appointment. وعدہ خلاف—*khláf*, a false promise; one who does not keep his word. وعدہ خلافی—*khláfí*, n. f. breach of promise. وعدہ شکن—*shíkan*, a promise breaker. وعدہ فراموش—*farámosh*, one who forgets his promise. وعدہ کرنا—*karná*, to promise; to appoint; to make a bargain. وعدہ گاہ—*gáh*, place of appointment or assignment.

وعدہ و عید—*va'id*, evading a promise. وعدہ و وفا—*vafá*, true to one's word; punctual. وعدہ و وفا کرنا—*vafá karná*, v. to fulfil a promise. وعدہ زبانی—*zabání*, verbal promise; parol. وعدہ کا—*ká sachohá*, n. m. one who is true to his promise.

وعظ *va'z*, A. n. m. Advice; admonition; sermon; preaching; homily. وعظ کرنا یا کہنا—*karná yá kahná*, to preach; to exhort; to admonish.

وعد *va'id*, A. n. f. Threat; denunciation; promising anything good.

وفا *vagá*, A. n. f. War; battle; tumult; clamour.

وفاغیرہ *vagaira*, A. conj. *Etcetera*; and so forth; and others.

وفا *vafá*, A. n. f. Performing a promise; observation of faith; sincerity; sufficiency. وفا بیگانہ—*begána*, faithless. وفا پرست—*parast*, faithful; sincere. وفا پیشگی—*pesbagí*, fidelity. وفا پیشہ—*pesha*, faithful; sincere. وفا دار—*dár*, faithful; sincere; constant. وفاداری—*dari*, n. allegiance. وفا کرنا—*karná*, to perform (a promise); to keep faith (with); to be faithful, loyal or true. وفا کیش—*kesh*, faithful. وفا بے—*be*—adj. faithless; treacherous; false.

وفات *vafát*, A. n. f. Death; decease; demise.

وفادار *vafádár*, P. adj. See وفا *vafá*. [mity.

وفاق *wafáq*, A. n. m. Concord; harmony; unani-

تد *vafd*, A. n. m. Deputation; commission; body of delegates. [abundant; copious.

وفا *vafr*, A. adj. Full; complete; entire;

وفق *vafq*, A. n. m. A sufficiency; concord; congruity. [ance; adj. full; complete.

وفور *vafúr*, A. n. m. A multitude; plenty; abund-

ت و قاحت *vaqáhat*, P. n. f. Impudence; shamelessness.

وفیقر *viqár*, A. n. m. Dignity; estimation; steadiness; constancy; modesty; mildness; honour; reputation. وفیقر اہل—*ahl-e-yá há*—, dignified; majestic. وفیقری بے—*be*—*í*, want of gravity. [ment.

وفاق *viqá'*, A. n. m. Attack in battle; engage-

ت و قایح *vaqáye'*, A. n. m. News; events. وقایح نگار—*nigár yá navís*, an intelligencer; a correspondent.

وقت *vaqt*, A. n. m. Time; term; season; opportunity; adversity. وقت بوقت—*ba*—, from time to time. وقت بی وقت—*be*—, in season or out of season; constantly; perpetually. وقت بے موقع—*i-be mauqa'*, an inopportune moment; unseasonable juncture. وقت پر—*par*, in time; seasonable. وقت پرنا—*parná*, occasion to arise (for); to stand in need (of); adversity

or misfortune to befall. وقت ہڑے ہڑے —pare par, *adv.* in time of adversity. وقت تاکنا یا دیکھنا —takná yá dekhná, to watch an opportunity. وقت کاٹنا káṭná, to pass away the time. وقت کا پابند —ká páband, observant of the proper time; punctual. وقت ہر وقت —bar waqt, at all times; on the spur of the moment. وقت نازک —názuk, delicate times; critical moment. وقت نا —ná—, occasionally; without any stated time. وقت یاب —yáb, finding an opportunity. وقتا تا وقتیکہ távaqteki, till such time; as long as. وقتا سے وقتا vaqtaṅ favaqtaṅ, from time to time. وقت معلوم —e-m'álúm, the fixed or appointed time; the hour of death.

وقتیه vaqtiya, *P. adj.* Timely; seasonable.

وقت veqr, *A. n. m.* Dignity; honour; character; *adj.* mild; modest; sedate. وقت کھونا —khoná, to lose one's character.

وقت vaq'at, *A. n. f.* Weight; force.

وقف waqf, *A. n. m.* Standing; stopping; understanding; tranquillity; firmness; constancy; permanency; a legacy for pioussness; charitable endowment. وقف نامہ —náma, a deed of endowment.

وقف waqfa, *A. n. m.* Delay; choking; stopping; retarding; respite; vacancy; pause; interval.

وقفی waqfí, *A. adj.* Belonging to some charitable endowment.

وقفیت vaqfiyat, *A. n. f.* The book in which legacies for pious uses are registered; also contraction of وقفیت vaqfiyat.

وقوع waqu', *A. n. m.* A contingency; an accident; an event. وقوع میں آنا —meḡ áná, to come to pass; to happen; to occur. وقوع میں لانا —meḡ láná, to cause to happen; to commit.

وقف vaquf, *A. n. m.* Understanding; information; sense; experience; wisdom. وقت وندار —dár, experienced. بے وقت be—, *adj.* stupid; foolish.

وقیہ vaqiya, *A. n. m.* A weight of 2½ lbs.

وقیہ vuqiya, *A. n. m.* A weight of seven *misqáls*. and forty *dirhams*; an ounce.

وکالت vakálat, *A. n. f.* Embassy; agency; deputation; commission; delegation; pleadership;

practice at the bar. وکالت کرنا —karná, to plead; to advocate the cause (of).

وکالتاً vakalatan, *A. adv.* By proxy; through the agency of an advocate or vakil.

وکری vikray, विक्रय, *S. n. m.* Selling. وکری کر —kar, sales tax.

وکریتا vikratá, विक्रेता, *S. n. m.* Seller; vendor; salesman; dealer.

وکالہ vukalá, *A. n. m.* (*Plu. of* وکیل Vakil) Pleaders; advocates.

وکیل vakíl, *A. n. m.* An agent; an ambassador; a counsellor; an attorney; a pleader; a commissioner. وکیل مطلق —mutlaq, a plenipotentiary; a viceregent invested with full powers.

وگر vagar, *P. conj.* And if.

وال valá, *A. n. f.* Government; sway; kingdom; nearness; affinity; friendship; freedom; liberty.

وال wilá, *P. n. f.* Time; season; business; matter.

وال دارین darín—, at this time; at the present time; now-a-days.

والد vilád, *A. n. f.* Procreation; generation.

والدات viládat, *A. n. f.* Nativity; birth.

ولایت viláyat, *A. n. f.* Country; dominion; a foreign country, realm; prophecy; the office of a saint. ولایت پانا —pána, to attain to the rank or dignity of a saint.

ولایتیان viláyatan, *A. adv.* On behalf of; as the guardian of.

ولایتی viláyatí, *A. adj.* European; foreign. ولایتی بینگن —baingán, the tomato or love-apple.

ولد valad, vald, *A. n. m.* A son; offspring. ولد الزنا —uzziná, a bastard; an illegitimate child.

ولدیت wɔladiyat *P. n. f.* Parentage; paternity.

ولولہ valvala, } *A. n. m.* Howling; lamenting; a tumult; ardour; fervour; noise; murmur.

ولولہ valvalá, }

ولی valí, *A. n. m.* A prince; a lord; a master; a friend. ولی اللہ —alláh, a friend of God; a saint; a prophet; servant. ولی عہد —'ahd, an heir-apparent. ولی فرضی —'ahd-i farzí, presumptive heir. ولی نعمت —ne'mat, patron; benefactor; a title of respect by which a father is addressed.

لے, *vale*, P. *adv.* But ; yet ; however.

لیک, *valek*, } A. *conj.* But ; yet ;
لیکن, *valekín*, } however.

ولیمہ, *walíma* ; P. *n. m.* Feast ; banquet.

ویمان, *vimán*, विमान, S. *n. m.* A car or chariot of the gods ; any car or vehicle ; a horse.

ووں, *von*, वों, (Col.) H. *adv.* In that manner ; so.

وہ, *vuh*, वह, H. *pron.* That ; he ; she ; it.

وہ, *vah*, P. *intj.* Bravo ! etc.

واہب, *vahháb*, A. *n. m.* Giver ; bestower.

واہبی, *vahábí*, A. *n. m.* A follower of Shaikh Abdul Wahháb, (a modern Arabian reformer of Mohammadanism).

واہج, *vaháj*, A. *adj.* Brilliant ; bright ; lustrous.

واہاں, *vaháñ*, वहाँ, H. *adv.* There ; thither ; yonder. *واہاں کا*—*ká waháñ*, everywhere ; at that very place. *وہاں*—*par*, at that place.

واہب, *vahab*, A. *n. m.* Giving ; bestowing.

واہم, *vahm*, A. *n. m.* Imagination ; idea ; fancy ; conjecture ; whim ; opinion ; anxiety ; apprehension ; doubt ; suspicion. [sical ; ideal.

واہمی, *vahmí*, A. *adj.* Imaginary ; fanciful ; whim-

واہی, *vuhí*, (वही), H. *pron.* He himself ; that very.

واہیں, *vahín*, वहाँ, H. *adv.* That very time, place, etc. ; immediately ; exactly there. *واہیں کا*—*ká vahín*, exactly the same as before.

وے, *ve*, वे, H. *pron.* They ; those.

ویا پار, *vyápár*, व्यापार, S. *n. m.* Business ; profession ; trade ; occupation.

ویا پاری, *veyápárí*, व्यापारी, S. *n. m.* A man of business ; a dealer ; a trader ; a merchant.

ویا کرن, *vyákaran*, व्याकरण, S. *n. m.* Grammer.

ویاکل, *viyákul*, व्याकुल, S. *adj.* Confounded ; troubled ; perplexed.

وید, *ved*, वेद, S. *n. m.* Knowledge ; science ; the sacred scriptures of the Hindus.

ویدیک, *vaidyak*, वैद्यक, S. *adj.* and *n. m.* Relating to medicine ; a physician. [a hero.

ویر, *vir*, वीर, S. *adj.* Heroic ; brave ; powerful ; n.

ویران, *virán*, P. *adj.* Solitude, desolate ; ruined ; desert ; waste. *ویرانہ* *viránah*, a ruined or desolate place. *ویرانی* *virání*, desolation ; destruction ; deserted places.

وےس, *vais*, (वैश्य S.) H. *n. m.* A Vaisya or man of the third or agricultural and mercantile class ; (*vayas वयस*) age.

وےسا, *vaisá*, वैसा, H. *adv.* or *adj.* In that manner ; so ; such. *وےسا کا وےسا* *vaise ká*—, just as before. *وےساہی*—*hí*, *adv.* in the same manner ; in that very same way ; in the same state or condition ; *in status quo*.

ویش, *vesh*, वेश S. *n. m.* Ornament ; dress ; decoration ; guise ; a *Vais*.

ویشنر, *vaishnav*, वैष्णव, S. *adj.* Relating or belonging to *Vishnu* ; *n.* a sectary or follower of *Vishnu*.

ویشیا, *veshiyá*, वेश्या, S. *n. f.* Harlot ; prostitute.

ویل, *vail*, A. *n. m.* Calamity ; misfortune ; revenge ; punishment. *ویل کش*—*kash*, vindictive ; revengeful.

ویواہار, *vyavahár*, व्याहार, S. *n. m.* Behaviour ; doing ; action ; conduct.

(8)

ہے, called, *ہے* *há-i-hawwaz*, and *مدورے* *há-i-mudawwará*, is the 27th letter of the Arabic, 31st of the Persian, and 34th of the Urdu alphabet. It corresponds to ह in Sanskrit. When used to denote a number, it stands for 5.

ہابوڑا, *hábuṛá*, हाबुड़ा, H. *n. m.* A freebooter ; a bugaboo (to frighten children).

ہابیل, *hábil*, A. *n. prop.* Name of Adam's son who was killed by his brother Qábil.

ہاتف, *hátif*, A. *n. m.* An angel ; an encomiast ; a voice from heaven, or from an invisible speaker.

ہاتھ, *háth*, हाथ, H. *n. m.* The hand ; arm ; paw ; trunk (of an elephant) ; a cubit ; half a yard ; possession ; power. *ہاتھ آنا*—*áná*, to come into one's hands ; to be grained or obtained. *ہاتھ اٹھانا*—*uṭháná*, to leave off ;

हाजी hájí, A. n. m. A satirist.

हादी hádí, A. n. m. A director; a leader; a gulde; a spiritual guide; head of a religious order.

हार hář, S. n. m. A necklace of pearls, &c.; a wreath; a chaplet; a flock; pasturage; n. f. loss; forfeiture. हार मान لینا یا ماننا—mán lená yá mánná, to acknowledge all lost; to accept defeat; to submit; to feel tired. हार—ná, to be overcome; to lose; to be tired. हार में रहना—meñ rahná, to be the loser.

हारहार hářá hář; हारहार, H. In compound it means the performer of any action; as: हार देक़ोन dekhan—, seer. हार करन karan—; doer. हार लक़ लकाř hářá, n. a woodman.

हारना hářná, हारना, H. v. To be overcome; to be unsuccessful; to lose; to be tired. हारना बचन या बत बचन या बत—, to promise. हारना हिममत himmat—, to lose courage.

हारुत wa mārút, A. n. prop. Names of two angels who fell in love with Venus and were imprisoned in a well near Babylon. They used to teach magic or witchcraft to anyone who approached them for the purpose.

हारून hářún, Heb. n. prop. Aaron, the brother of Moses. हारून الرشید—al-Rashíd, the fifth K̄halifah of the house of Abbás, and twenty-sixth from Mohammad.

हारियल hářiyal, हारियल, H. n. m. Green pigeon; columba hurriala; adj. of a green colour.

हार हाř, हार, H. n. m. A bone. हार या हर जोर—yá har ĵor, a medicinal plant; cissus quadrangularis.

हाशिम hářhim, A. n. prop. Name of the great-grand-father of Mohammad.

हाज़िम hářim, A. adj. Digestive; stomachic; soft; loose; languid; relaxed.

हाज़िमहा hářimah, A. n. m. The digestive powers; digestion.

हाल háal, हाल, H. n. f. The tyre of a wheel.

हाला डोला hála đolá, हाला डोला, H. n. m. Shaking; agitation; earthquake.

हालिक háalik, A. adj. Destructive; perishing; deadly; n. one who has perished; a deceased person. [&c.]; a nimbus.

हाला hála, P. n. m. A halo (round the moon).

हामान hámán, A. n. prop. Name of the Vazir of Pharaoh, King of Egypt.

हामून hámuñ, P. n. m. A desert; a plain; a level ground. हामून نورد—naward, a desert traveller; one who traverses a desert or deserts.

हामी hámi, हामी, H. n. f. Confirmation; ratification; assurance; guarantee; assent. हामी—bharná, v. to consent; to confirm; to believe; to acknowledge; to confess; to allow; to own. [harm; injury; slaughter.

हान háñ or hání, हान या हानि, S. n. f. Loss;

हाँ háñ, हॉ, H. adj. Yes; aye; indeed; forsooth; by-the-by; here; hither. हाँ जी—jí, yes sir. हाँ कहना—kahná, to assent; to agree. हाँ में हाँ मलना—meñ—miláná, to say yes; to agree.

हाँ háñ, P. interj. Make haste! let it not be! far from it!

हाँपना háñpná, } H. v. To pant; to
हाँपना हाँपना, हाँपना, } breathe heavily; to
be out of breath.

हाँदी háñdí, हाँदी, H. n. f. A pot; a small cauldron. हाँदी चढ़ना—chāñná, the pot to be put on the fire (for cooking something).

हाँसी háñsí, हाँसी, H. n. f. Laughter; joke; derision.

हाँक háñk, हाँक, H. n. f. Cry; call; driving. हाँक पुकार—pukar, uproar; outcry; shout; general hubbub. हाँक मारना—márná, to bawl after; to call to.

हाँका हाँक háñká háñk, हाँका हाँक, H. n. f. Driving; continuous driving.

हाँकना háñkná, हाँकना, H. v. To drive; to urge on (a beast by shouts and cries); to drive out, or off, or away; to bawl to. हाँकना ज़ुहूँ सच्ची—, to utter lies. हाँकना दून की—, to boast. हाँकना दाम—, to ask an exorbitant price.

हाँगी háñgí, हाँगी, H. n. f. A vessel in which sevaiñ or vermicelli is prepared; a sieve.

háv, हव S. n. m. Conquetry; airs; delliance; blandishment. بهار—bháo, charm; attraction; delliance.

hávan, P. n. m. A mortar. هاون دسته hávandasta, pestle and mortar.

haviya, A. n. m. The seventh and the lowest region of the hell.

há há, हा हा, H. n. m. Flattery; earnest request; supplication. هاله—kháná, to beg cringingly; to wheedle; to beseech; to entreat.

há há, kár, हाहाकार, S. n. m. Consternation; a general or great lamentation; wailing; exclaiming.

háe, हाय, H. interj. Alas! Ah! n. f. A sigh. هاله يا مارنا—karná yá márná; v. to sigh; to lament.

háil, A. adj. Terrible; dreadful; frightful huge; large.

háilát, A. n. f. (Plu. of هائل Háil) Dreadful things; terrible occurrences.

habbá qabbá, हबबा डबबा, H. n. m. Bronchitis; whooping-cough; convulsions (in children).

habar dabar, हबर डबर H. adv. In hot haste; hurry skurry. [ly; to gobble.

habakná, हबकना. H. v. To swallow sudden-

habal, A. n. m. Name of an anclent idol in Mecca. [languid.

habannaq, A. adj. Silly; foolish; weak;

hiba, A. n. m. A gift; a banquet; a grant. هبه—nama, a deed of gift. هبه كرنا—karná, to bequeath. هبه زباني—zabáni, gift made orally.

hap, हप, H. n. m. Act of suddenly snatching with the mouth; eating up; the sound made by a compression of the lips. هپ كرنا يا كر جانا—karná yá kar jáná, to gulp down; to eat up; to swallow; to gobble up. هپ هپ hap jhap, quick.

happá, हपा, H. n. m. Pap; soft food. هپا هپا—karná, to eat; to eat up. هپا ديننا—dená, to feed; to give bribe.

hit, हित, H. n. m. Love; friendship; affection.

hatak, A. n. f. Disrespect; affront. هتك

—karná, to disgrace; to defame. هتك عزت

—'izzat karná, to bring disgrace on; to defame.

hitkár, हितकार, } S. n. m. A friend; a benefactor.
hitkári, }

hañaurá, हतौड़ा, H. n. m. Sledge-hammer.

hataurí, हतौड़ी, H. n. f. A small hammer.

hath, हथ, H. n. m. (Contr. of هاتھ Háth).

A hand. هاتھ—phúl, a kind of firework;

an ornament. هاتھ—pher, sleight of

hand; borrowing. هاتھ—kañí, name of a

cut with the sword or club. هاتھ—kañí,

handcuff; manacle. هاتھ—levá, a cere-

mony in marriage among the Hindus in which

the hands of the bride and bridegroom are

joined palm to palm. هاتھ—nál, a small

cannon carried on elephants, &c.

hatthá, हत्या, H. n. m. A handle; a shovel;

a baker's peel; a sleeve.

hathkhandá, हथकंदा, H. n. m. Manual

dexterity; legerdemain; knack.

hathní, H. n. f. A female elephant.

hathiyá, हथिया, S. n. m. The 13th mansion

of the moon; *corvus*; the breaking up of the

rains. هاتھيا—kí ráh, the Milky-way;

the galaxy.

hathiyár, हथियार, H. n. m. A tool; arms;

weapons; apparatus. هاتھيار باندھنا—bándhna,

to wear arms; to arm. هاتھيار باندھنا—band,

armed; accoutred. هاتھيار گھر—ghar, an

arsenal.

hathiyána, हथियाना, H. v. To take hold

of; to seize; to obtain by fraud.

hathelí, हथेली, H. n. f. The palm of the

hand. هاتھيلی پر سر رکھنا—par sar rakhná, to be

careless of one's life. هاتھيلی پر سر رسوں چمانا—

par sarson jamána, (*Met.*) to do anything very

quickly; to astonish; to surprise. هاتھيلی ديننا

—dená yá lagána, to help; to succour.

هاتھيلی کا پھولہ—ká phapholá, n. m. a thing

which is broken as easily as a blister in the

palm; a fragile thing. **کھجلا نا**—*khujlānā*, to itch (the palm) (According to superstition when the palm of the right hand itches some money will come to hand but in the case of left hand some money will go out.)

ہتی *hiti*, **हिती**, *H. n. m.* A friend; a lover; a well-wisher.

ہتیہ *hatyā*, **हत्या**, *H. n. f.* Murder; slaughter; the sin of killing a man, a cow, &c.

ہتیارا *hatyārā*, **हत्यारा**, *H. n. m.* A murderer; an assassin; a wretch; a villain; *adj.* inhumane; bloody; murderous; bloodthirsty.

ہت *hat*, **हट** *n. f.* Obstinacy; perverseness.

ہتہا *hatā*, **हट्टा** *H. adj.* Stout and active; robust; vigorous.

ہتانا *hatānā*, **हटाना**, *H. v.* To repel; to worst; to foil; to drive backwards; to push back; to put off; to postpone. [falling back.]

ہتاو *hatāo*, **हटाओ**, *H. n. m.* Retiring; flinching;

ہتانا *hatnā*, **हटना** *H. v.* To go or fall back; to be driven back; to retire; to recede; to be repulsed; to retreat; to be defeated.

ہتہ *hat̄h*, **हठ**, *H. n. f.* Obstinacy; crossness; disobedience. **کرنہ**—*karnā*, to be obstinate; to be peevish. **دھرمی**—*dharmī*, obstinacy; perverseness. [perverse; stubborn.]

ہتہی *hat̄thī*, **हट्टी**, *H. adj.* Peevish; obstinate;

ہتہلا *hat̄lla*, **हट्टीला**, *H. adj.* Peevish; obstinate; teasing.

ہتیہا *hat̄iyā*, **हट्टिया**, *H. n. f.* Market

ہجر *hijr*, *A. n. m.* Separation; absence; desertion of country or friend.

ہجران *hijrān*, *A. n. m.* Separation. **زادہ**—*zada*, *adj.* separated; deserted; forsaken.

ہجرت *hijrat*, *A. n. f.* Separation; migration; departure from one's country and friends; flight; the flight of Mohammad from Mecca to Medina on the 16th July, 622 A. D., and in the reign of the Calif Omar, was ordered to be considered as the commencement of the Muhammadan era.

ہجری *hijrī*, *A. adj.* Of the *hijrat*, or Muhammadan era; according to Muhammadan era.

ہجرہ *hijrā*, **हिजरा**, *A. n. m.* An eunuch *adj.* cowardly; unmanly.

ہجم *hajm*, *A. n. m.* Driving; repulsing; extirpation; attacking suddenly.

ہجو *hajo*, *A. n. f.* Satire; blame; disrepute; infamy. **مباح**—*malih*, apparent praise but real satire; irony. **کرنہ**—*karnā*, to satirise. **گو**—*go*, a satirist.

ہجوم *hujúm*, *A. n. m.* A crowd; a mob; a concourse; a throng; a swarm; an attack.

ہجہ *hijje*, *A. n. f.* Spelling.

ہجھ *hachar machar*, **हचर मचर**, *H. n. m.* Dispute; excuse. **کرنہ**—*karnā*, to hesitate; to falter; to draw back; to make excuses.

ہچک *hachak*, **हचक**, *H. n. f.* A sudden or smart jerk or twist. [a jerk; concussion.]

ہچکا *hachkā*, **हचका**, *H. n. m.* A jolt; a shock;

ہچکچکانا *hichkichānā*, **हचकिकाना**, *A. v.* To doubt; to hesitate; to falter.

ہچکچکاہت *hichkichāhat*, **हचकिकाहट**, *H. n. f.* Hesitation; wavering.

ہچکچکی *hichkichi*, **हचकिकी**, *H. n. f.* Hesitation; doubt; wavering.

ہچکنا *hichaknā*, **हचकना**, *H. v.* To draw back from; to shrink; to waver.

ہچکولا *hachkolā*, **हचकोला**, *H. n. m.* A jolt.

ہچکی *hichkī*, **हचकी**, *H. n. f.* The hiccough; convulsive sobbing or breathing. **ہچکیاں بندھ**

ہچکیاں *hichkiyān bandh jānā*, to have the hiccoughs. **ہچکیاں لگنا** *hichkiān lagnā*, to breathe spasmodically (in the agony of death); to be at the point of death.

ہد *had*, *A. n. m.* Breaking; demolishing; rining; *adj.* liberal.

ہدا *hudā*, *A. n. m.* The right path; the way of salvation. [Presents; gifts.]

ہدایا *hadāyā*, *A. n. m.* (*Plu. of* **ہدیہ** *Hadiya*)

ہدایت *hidāyat*, *A. n. f.* Guidance; instruction; righteousness. **ہدایت تاکیدی**—*tākidi*

کرنہ—*karnā*, to direct with urgency; to enjoin strictly. **ہدایت کرنہ**—*karnā*, to guide; to direct.

ہدایت نامہ—*nāma*, a book of instructions.

هدرات *hadrat*, हदराट, H. *n. m.* Quaking; trembling; earthquake.

هدرانا *hadraná*, हदराना, H. *v.* To shake; to agitate; to cause to tremble. [jolted.]

هدرنا *hadarná*, हदरना, H. *v.* To tremble; to be

هدف *hadaf*, A. *n. m.* A mark; a butt; an aim. هدف مارنا —*márná*, to strike the mark; to hit the nail on the head. تیر به هدف *tír ba*—, *adj.* exactly to the point just as an arrow strikes exactly against the mark aimed at.

هدل *hudal*, हुदल, H. *n. m.* Quagmire; slough (*daldal*).

هدم *hadam*, A. *n. m.* Ruin; destruction; destroyer.

هدد *hud hud*, A. *n. m.* Name of a bird; the woodpecker; the hoopoe; the lapwing.

هدی *hudá*, A. *n. m.* Pointing out the right way; guidance in the right way; the right path; the way of salvation.

هدیاهت *hadyáhat*, हदयाहत, H. *n. f.* Shyness; scrupulousness; timidity.

هدیه *hadiya*, A. *n. m.* A present (esp. to a superior); an offering; a gift.

هدا *haddá*, हदुा, H. *n. m.* A wasp; a bone; spavin. گدگي كا *gurgí ká*—, *n. m.* the kneecap.

هددی *haddí*, हदुी, H. *n. f.* A bone; the hard part in the centre of a carrot or other similar root.

هددیلا *haddíla*, हदुीला, H. *adj.* Bony; hard.

هدا *hazá*, A. *pron.* This. لهذا *liházá*; *conj.* for this reason.

هذر *hazar*, A. *n. m.* Nonsense; frivolous talk; garrulity.

هذیان *hazyán*, A. *n. m.* Raving; delirium; vain, useless words.

هرا P. *adj.* Every; any; each. هر آن —*án*, every moment, constantly; whenever. هر ایک —*ek*, every one; everybody; each. هر آینه —*áina*, by every law or rule; in every way; at all events; undoubted. هر باب —*báb*, every chapter; every science; every circumstance.

هرا —*bábi*, factotum; master of every art; a jack of all trades. هر بار —*bár*, every time.

هرجانی —*jái*, *adj.* unsettled; inconstant (in love or friendship). هر چند —*chand*, although; even; if; howmuchsoever; as often as; notwithstanding.

هرچه —*che*, *pron.* whatever; whatsoever. هر چه بادا باد —*chi*, *bádábád*, whatever be the consequences.

هر سو —*sú*, *adv.* in every direction. هر حال میں —*hál men*, howsoever; in every case or instance; in every respect.

هر دل عزیز —*dil 'aziz*, popular; liked by all. هر دم —*dam*, every moment.

هر دم خیالی —*dam khyálí*, capricious; whimsical. هر دیکي چمچته —*degí chamcha*, a spronger; one who hangs on others for maintenance; a busy, meddling person.

هر طرح —*tarah*, *adv.* in every way; anyhow. هر فن مولا —*fan Maulá*, *n. m.* a master of every art; a jack of all trades.

هر کاری —*kárl*, attending to all sorts of business. هر کس یا —*kas yá—koí*, everybody; every one.

هر کجاییں —*kahín*, everywhere. هر گاه —*gáh*, whenever; always; everywhere.

هر وقت —*waqt*, always; at all times. هر ایک —*ek*, every one; each.

هرا *har*, हर, S. *n. m.* A name of *Mahádeva*; name of *Vishnu*. (See هر بهجت —*bhajan*, repeating the name of *Hari* devotion; *Vishnu*.

هرا —*bhagat*, the worshipper of *Vishnu*. هر داس —*dás*, servant of *Vishnu*.

هرا —*har Mahádeva*, an invocation or ejaculation indicative of ardour or eagerness uttered by troops on making the onset; the war-cry of the Hindus.

هرا *har*, हर, H. *n. m.* A plough. See هر بونگ كا راج —*bong ká raj*, a country or place in which injustice prevails.

هرا *harrá*, H. *adj.* Green; fresh; verdant; half-raw; unripe; unsuccessful; tired out. هر باره —*bhará*, luxuriant; fruitfull; prosperous; happy.

هرا *harrá*, H. *n. m.* Name of an astringent nut; *myrobalan*.

هرا hurrá, هُرَّاءِ, H. n. m. Row; tumult; rush
(*Corr. of E. hurrah*).

هراج harráj, A. *adj.* Running fast; n. auction.

هراج کرنا—karná, to sell by auction.

هراس hirás, P. n. m. Fear; terror; confusion;
disappointment; sorrow. هراسان—án, fright-
ened; alarmed; disappointed; confounded;
overcome by grief.

هرا haráná, هَرَانَا H. v. (*Caus. of Hárnd*). To
beat; to foil; to worst; to tire out.

هرا hiráná, هِرَانَا H. v. To be lost; to be
mislaid.

هراوال haráwal, P. n. m. The vanguard; the
advanced guard of an army; a herald; a
running footman.

هراي harái, هَرَايَ, H. n. f. Greenness; freshness;
verdure.

هراونگ harbang, هَرَبَوْنَك - هَرَبَنْك
H. n. m. Disorder; anarchy; confusion; name of a
certain very foolish Raja, proverbial for his
stupidity and misrule, who is said to have
flourished at one time at Jhúngsí, (called also
Harbongpur) near Allahabad.

هراپه harpha reoí, هَرَاپَهَ هَرَوِي, H. n. f. A kind of
sour fruit; *cicca disticha*.

هراپه hartál, هَرْتَال, H. n. f. Orpiment; sul-
phurate of arsenic; closing of shops; a strike.

هراج harj, A. n. m. Tumult; sedition; confusion;
trouble; loss; harm; injury. هراج کرنا—karná,
to cause loss or damage. هراج مرچ—marj,
trouble; bustle; agitation; tumult.

هراج harja, هَرَجَا, H. n. m. Demurrage; damages;
compensation. هراج تشخيص کرنا—tashkhis
karná, to assess damages (for). هراج ذاتي—i-
záti, personal damages.

هراجند harchand, P. *adv.* See under هراج har.

هرايد hirdai, (هَرِيدَ), S. n. m. Heart; breast.

هرايد چپل chapal—, fickle-minded.

هراجي haragi, P. n. f. Nonsense; frivolous-talk;
absurdity; babble; prate.

هراجي harza, P. *adj.* Absurd; frivolous; n. trifles;
bagatelles. هراجي گويي—gardí, gadding about;
gossiping. هراجي گويي—goí, n. f. idle talk;

foolish prating. هرازه گوش—gosh, *adj.* listen-
ing to nonsense or idle talk.

هريس haris, هَرِيَس, H. n. f. The beam of a plough;
a plough share. [ing nycantbes.

هريسنگار harsingár, هَرَسِيَنگار, H. n. m. The weep-

هريس harsh, هَرَش, S. n. m. Joy; pleasure; mirth.

هريسيت harshit, هَرَشِيَت, S. *adj.* Pleased; delighted;
rejoiced.

هريسكارا harkára, P. n. m. A running footman;
a courtier; a spy; a messenger; an emissary.

هريسكارنا harakná, هَرَكَنَا, H. v. To turn away; to
feel aversion for. [joy; pleasure.

هريسكاره harkh, هَرَش, S. n. m. Blowing; delight;

هريسگاه bargáh, P. *adv.* Whenever; since.

هريسگيز hargiz, P. *adj.* Ever; always. هريسگيز نهين—
nahin, never; on no account.

هريسگندا hargundá, هَرِيَسگندا H. n. m. Name of a
species of vegetable.

هريسگوني harguní, هَرِيَسگوني, Hi *adj.* Skillful; clever.

هريم harim, A. n. f. Mind; understanding; in-
tellect; *adj.* old; decrepit.

هريمز hurmuz, A. n. m. The isle of Ormuz in
the Persian gulf; name of a king of Persia.

هريمزي hirmizi, A. n. f. Name of a red earth.

هريمشتمشا harmushámá, هَرِيَسمَشَا, H. *adj.* Stout; robust;
active; n. m. a wicked man.

هريمشتمشي harmushámí, هَرِيَسمَشِي, H. n. f. Robustness;
thickheadedness.

هراون haran yá hiran, هَرِيَس, H. n. m. A deer or
antelope; hart.

هراون haran, هَرَس, S. n. m. Theft; plunder; sub-
traction; the hand.

هراون harná, هَرْنَا, H. n. m. A stag; a buck; a
male antelope; v. to seize; to take by force;
to steal; to plunder; to elope.

هراونزوني harnauzá, هَرْنَوِيَا, H. n. m. A fawn.

هراوني harní, هَرْنِي, H. n. f. A doe; a roe; a hind.

هراونهار harwáhá, هَرَوَاها, H. n. m. A plough-man.

هراونهر hurhur, هُرْهُر, H. n. m. Name of a plant;
cleome viscosa.

هراونهاره haft, P. *adj.* Adorned; dressed; n. m.
narcissus.

هراونهاره harwaiyá, هَرَوِيَا, H. n. m. One who is
defeated or beaten.

۵۷۰ hurra, A. n. f. A cat. [adj. green.
 ۵۷۱ hari, हरि, S. n. m. Name of *Vishnu* : H.
 ۵۷۲ haryálá, हरियाला, H. adj. Green ; verdant ;
 grassy.
 ۵۷۳ haryáli, हरियाली, H. n. f. Greenness ;
 freshness ; verdure ; grass ; vegetation.
 ۵۷۴ hariyáná, हरियानا, H. v. To become green ;
 to stop ; to prevent. [freshness.
 ۵۷۵ haryával, P. n. f. Verdure ; greenness ;
 ۵۷۶ harírá, हरिरा, H. n. m. A kind of pottage
 prepared from dried fruits.
 ۵۷۷ huraira, A. n. f. A cat.
 ۵۷۸ harísa, P. n. m. A kind of thick pottage,
 made of bruised wheat boiled to a consistency,
 to which are added meat, butter, cinnamon
 and aromatic herbs. [columba hurriala.
 ۵۷۹ hariyal, हरियल, H. n. m. A green pigeon ;
 ۵۸۰ harevá, हरेवा, H. n. m. A paroquet.
 ۵۸۱ har, हड़, H. n. f. A kind of nut ; myrobalan ;
 an ornament resembling *har*.
 ۵۸۲ harbarakar, हड़बड़कर, } H. adv. Con-
 ۵۸۳ harbarake, } fusedly ; hur-
 riedly ; in hot haste.
 ۵۸۴ harbaráná, हड़बड़ाना, H. v. To be con-
 fused ; to be in a hurry.
 ۵۸۵ harabarí, H. n. f. Hurry ; alarm ; uproar ;
 riot ; disorder ; confusion ; hubbub ; haste ;
 rashness. ۵۸۶ macháná, to raise a
 commotion ; to create a disturbance or
 hubbub. ۵۸۷ parná, to be flurried ; to
 be in a state of alarm or agitation.
 ۵۸۸ harbarýá, हड़बड़िया, H. adj. Easily agitated ;
 fidgety ; hasty.
 ۵۸۹ harap, हड़प, H. n. m. Swallowing ; gobbling.
 ۵۹۰ harapná, हड़पना, H. To seize ; to snatch ;
 to grab.
 ۵۹۱ harjorá, हड़जोड़ा, S. n. m. Name of a
 medicinal plant ; *cissus quadrangularis*.
 ۵۹۲ hardang, हड़दंग, H. n. m. Noise ; tumult ;
 commotion.
 ۵۹۳ hardangi, हड़दंगी, H. adj. Turbulent ;
 tumultuous.

۵۹۴ hurák, H. n. m. A small drum (resembling
 an hour-glass) generally by *kahars*.
 ۵۹۵ hurká, हुडका, H. n. m. Pining of children
 separated from parents ; bar of a door.
 ۵۹۶ harjáná, हड़काना, H. v. To turn out ; to
 drive away ; to discourage. [ardea argala.
 ۵۹۷ hargílá, हड़गीला, H. n. m. Name of a bird ;
 ۵۹۸ harharahat, हड़हड़हट, H. n. f. Crack ;
 crash ; sound.
 ۵۹۹ hazár, P. adj. Thousand. ۶۰۰ pá, centi-
 pede ; scolopendra. ۶۰۱ dástán, the
 nightingale.
 ۶۰۲ hazará, } P. n. m. A double flower ; a
 ۶۰۳ hazára, } divided stream ; a fountain.
 ۶۰۴ hazárhá, P. n. m. Thousands by thousands.
 ۶۰۵ hazárí, P. n. f. The command of a
 thousand ; n. m. commander of a thousand.
 ۶۰۶ bazárí, soldiers and tradesmen ;
 high and low ; people of all sorts. [buffoon.
 ۶۰۷ hazzál, A. adj. Very jocose ; n. m. a droll ;
 ۶۰۸ hizabr, A. n. m. A lion ; adj. thick ; great ;
 strong. [۶۰۹ go, a joker, a satirist.
 ۶۱۰ hazl, A. n. m. A jest ; a joke ; buffoonery.
 ۶۱۱ hazliyát, A. n. m. (Plu. of Hazl.)
 Jokes ; jests ; pleasantries ; fiddle-faddle.
 ۶۱۲ hazm, A. n. m. Putting to flight ; flight.
 ۶۱۳ hizyán, A. n. m. Delirium ; estate of
 insanity.
 ۶۱۴ hazimat, A. n. f. Flight ; rout ; defeat.
 ۶۱۵ kháná, to be defeated.
 ۶۱۶ hazhdah, P. adj. Eighteen. ۶۱۷ hazár
 'alam ; the eighteen thousand living
 species (believed by the Mohammadans to be
 the whole number of existing varieties of
 living creatures).
 ۶۱۸ hasáná, হাসানা, H. v. To make one laugh ;
 to cause to laugh.
 ۶۱۹ hasái, হাসাই, H. n. f. Ridiculing.
 ۶۲۰ hast, P. n. f. Existence ; being.
 ۶۲۱ hast, هست, S. n. m. Hand ; cubit ; an ele-
 phant's trunk ; name of the 13th mansion of
 the moon. ۶۲۲ akshar, one's own sign-
 manual ; signature ; autograph ; handwriting.

هستى hastí, P. n. f. Existence ; life ; entity ; world.

هسكا hiská, हिस्का, n. m. Imitation ; copying ; contention ; rivalry , emulation. هسكا هسكى—hiskí, mutual emulation or rivalry.

هساي hasái, हसली, H. n. m. The collar-bone ; clavicle ; a collar (of gold or silver) worn round the neck.

هسپا hasyá, (हसिया) H. n. f. A reaping hook ; sickle ; scythe.

هش hsh, P. interj. The sound made in driving away birds.

هشاش hashshásh, A. adj. Jolly ; merry ; jovial. هشاش باشاش—bashshásh, adj. gay and jolly.

هشت hasht, P. adj. Eight. هشت پهوار يا منظرى—pahlú yá manzarí, an eight-sided figure ; an octagon. هشت گوشه—goshá, eight-angled ; octangular.

هشتاد hashtád, P. adj. Eighty. پير هشتاد ساله pír —sála, an old man of eighty ; an octagenarian. [boxing.

هشت مشت husht musht, P. n. f. Wrestling and

هشتم hashtum, P. adj. Eighth.

هشكالىنا hushkálná, } H. v. To halloo ;
هشكارنا hushkárna, } to incite.

هشيار hushyár, P. adj. Intelligent ; prudent ; acquainted ; alert ; awake in senses ; sober.

هشيار رهنا—rahná, to be on one's guard

هشيار كرنا—karná, to warn ; to rouse. هشيار هونا—honá, to become conscious ; to arrive at the age of puberty.

هضم hazm, A. n. m. Digestion ; concoction ; embezzlement ; misappropriation. هضم اور—

awar, digestive ; stomachic. هضم صحيح—e-sabih ; n. m. a sound digestion. هضم ناقص—

naqís, n. m. bad digestion. هضم هونا—honá, to be digested. هضم كرنا—karná, to digest ; to embezzle.

هفت haft, P. adj. Seven هفت اقليم—aqlím, the seven climes, or regions ; the world. هفت اندام—

andám, the great vein that runs through the arm. هفت رنگى—rangí, artful ; cunning, versatile. هفت اتم—qalam, one who writes

seven hands. هفت كشور—kishwar, the seven

regions ; the world. هفت هزارى—hazárf, a commander of seven thousand. هفت هشت—hasht, abuse ; language exciting enmity or fear ; idle talk. هفت زبان—zabán, master of seven languages ; a linguist.

هفتاد haftád, P. adj. Seventy.

هفت haftá, P. n. m. A week. هفتم haftum, seventh. هفته كا دن—ká din, Saturday.

هكا هكا بكا hakká bakká, हकावका H. adj. Confused ; aghast ; confounded ; struck dumb.

هكباكنا hakbakána, हकबकाना, H. v. To become confused.

هكلا haklá, हकला, H. adj. Stuttering ; stammering ; lisping ; n. m. a stammerer.

هكلاپن haklápan, हकलापन, H. n. m. Stammering.

هكلانا haklána, हकलाना, H. v. To stammer ; to stutter ; to falter.

هگاس hagás, हगास H. n. f. Inclination to go to stool. [stool

هگاسا hagásá, हगासा, H. adj. Inclined to go to

هگانا hagána, हगाना, H. v. To cause to go to stool.

هگنا hagná, हगना, H. v. To go to stool.

هال hal, हल, H. n. m. A plough ; the after-birth. هال چلانا—chalaná, v. to plough.

هاللا hallá, हल्ला, H. n. m. Uproar ; noise ; tumult.

هالا hilá, हिला, H. adj. Domesticated ; tame. هالا—milá, attached ; familiar.

هالاس hulás, हुलास, H. n. f. Alacrity ; joy ; gladness ; snuff. هالاس لینا—lená, to take snuff.

هالاس داني honá—hóná, snuff-box. هالاس دانى—dání, snuff-box. هالاس هونا—honá, to be consumed ; to be finished.

هالاى halák, A. n. m. Perdition ; destruction ; ruin ; slaughter, death ; adj. lost ; destroyed ; fatigued. هالاى كرنا—karná, to kill ; to destroy ;

fatigue. هالاى هونا—honá, to be killed ; to be fatigued ; to be tired. هالاى كات—halákat, death ;

destruction. هالاى كا باع هونا—ká bá'is honá, to cause the death of any one. هالاى لارم مالزوم—lázim malzúm, justifiable homicide.

هالاى كى halákú, deadly ; destructive ; killer.

ہلاکی halákí, A. n. f. Perdition ; ruin ; destruction. [moon

ہلال hilál, A. n. m. The new moon ; crescent-

ہلالی hilálí, A. n. f. A kind of arrow ; a segment of a circle ; *adj.* relating to the new moon.

ہلانا hiláná, ہیلانا, H. v. To shake ; to move ; to agitate ; to tame. [deadly poison.

ہلالہل haláhal, ہلالہل H. n. m. A species of

ہلالہات halbaláhaṭ, ہلالہات, H. n. f. Hurry ; confusion.

ہلچال halchal, ہلچال, H. n. f. Commotion ; motion ; bustle ; alarm ; fright ; tumult ; anarchy. ہلچال پڑنا یا ہوننا—parná yá honá, commotion to arise or occur (in) ; to be panic-struck.

ہلدھار haldhar, ہلدھار, H. n. m. A name of Balarám, the elder brother of Krishna.

ہلدی haldí, ہلدی H. n. f. Turmeric ; *curcuma longa*. ہلدی انبا—ánbá—, *Curcuma zedoaria* ; long zedoary. ہلدی لگی نہ پتکری—lagí na phiṭkari, without cost, or labour ; ہلدی لگا کے—lagá ke baiṭhná, to presume a great deal.

ہلدیہا haldiyá, ہلدیہا, H. n. m. A kind of poison ; the jaundice ; a class of merchants. *adj.* yellow.

ہلدول hil dol, ہلدول, H. n. m. Shaking ; swinging ; motion.

ہللاز hullaz, ہللاز, H. n. m. A crowd ; alarm ; tumult ; uproar ; riot.

ہلسا hilsá, ہلسا, H. n. f. Name of a fish ; *clupea alosa*. [cheer ; to delight.

ہلسانا hulsáná, ہلسانا, H. v. To rejoice ; to

ہلسنا hulasná, ہلسنا, H. v. To be rejoiced ; to be pleased.

ہلکا halká, ہلکا, H. *adj.* Light ; base ; mean ; silly ; easy ; cheap. ہلکا پن—pan, lightness ; vanity ; levity. ہلکا جانا—jáná, to disdain ; to disesteem. ہلکا کرنا—karná, to lighten ; to alleviate. ہلکا پت کا ہلکا—peṭ ká—, *adj.* not able to keep anything secret. ہلکا ہلکا—e-halke, *adv.* slowly ; gently.

ہلکارنا hulkárná, ہلکارنا, H. v. To set on (as a dog on a bull, &c.) ; to instigate ; to halloo on. [meanness.

ہلکاہی halkáí, ہلکاہی, H. n. f. Lightness ; levity ;

ہلکور hilkor, ہلکور, H. n. f. Agitation ; swinging ; fluctuation ; rolling (as billows) ; a wave ; billow ; surge.

ہلکورنا hilkorná, ہلکورنا, H. v. To gather ; to collect ; to billow ; to wave ; to agitate ; to shake ; to disturb ; to perplex ; to fluctuate ; to waver.

ہلکورہ hilkora, ہلکورہ, H. n. m. A wave ; a billow ; a surge.

ہلگانا hilgáná, ہلگانا, H. v. To hang ; to suspend.

ہلگنا hilagná, ہلگنا, H. v. To be hung on ; to adhere ; to be constant.

ہلمیل جانا hilmil jáná, ہلمیل جانا, H. v. To be mixed ; to be intimate ; to be jumbled together.

ہلنا hilmá, ہلنا, H. v. To shake ; to move ; to be agitated ; to be tamed ; to take to ; to be familiarised.

ہلواہا halwáhá, ہلواہا, H. n. m. A ploughman.

ہلواہی halváhi, ہلواہی, H. n. f. Tillage ; ploughing.

ہلورا halorá, yá hilorá, ہلورا, H. n. m. A wave ; billow ; surge.

ہلورنا halorná, ہلورنا, H. v. To collect ; to gather ; to shake together.

ہلورنا hilorná, ہلورنا, H. v. To billow ; to wave.

ہلوری مارنا hilorí márná, ہلوری مارنا, H. v. To heave ; to rise (as the sea).

ہلہalla, ہلہا, H. n. m. An assault ; an uproar.

ہلہل hulhul, ہلہل, H. n. m. Name of a plant.

ہلہل halhal, P. n. m. Mortal poison.

ہلہلانا halhaláná, ہلہلانا, H. v. To shake, to tremble ; to cause to shiver.

ہلہلہ halela, P. n. m. The fruit myrobalan.

ہم ham, ہم, H. *pron.* We ; us.

ہم him, ہم, S. n. m. Snow ; the winter season.

ہم hamm, A. n. m. Grief ; care ; solicitude.

ham, P. conj. Also ; even ; same ; likewise ; in the same manner ; equally ; (*In compos.*) together ; with ; mutual ; mutually ; similar. هم آغوش —āgosh, embracing ; locked in each other's arms. هم آغوشی —āgoshí, mutual embracing. هم آواز —āváz, consonant ; of the same tone or voice ; companion ; comrade. هم آهنگ —āhang, harmonious ; concordant. هم یازم —bāzm, of the same society ; associating together. هم بستری —bistar, a bed-fellow. هم بستری —bistari, *n. f.* the sleeping together ; cohabitation. هم پا —pá, companion ; attendant. هم پالا —palla, of the same scale ; a partisan equally matched. هم پهلو —pahlú, side by side ; spouse ; partner. هم پیاله —piyála, pot companion. هم پیاله و هم نواله —piyála wa ham niwála, a very intimate friend. هم پیشه —peshá, of the same trade ; of the same profession. هم جانیس —jalís, sitting together ; a constant companion. هم جماعت —jamá'at, class-fellow. هم جنس —jins, of the same kind ; consubstantial ; congenial ; homogeneous ; fellow-creature. هم جوار —jawár, townsman ; neighbour. هم جولی —jolí, equal ; peer ; co-eval. هم چشم —chashm, a co-equal ; a rival. هم چشمی کرنا —chashmí karná, to contend ; to vie. هم خانگی —khánagí, residing together. هم خانه —khána, a fellow-lodger ; a companion ; a chum ; a spouse. هم خواب —khwáb, a bed-fellow ; a spouse. هم دستیار —dabistán, a school-fellow. هم دره —dard, a partner in adversity ; a sympathiser ; a fellow-sufferer ; condoler. هم دردی —dardí, fellow-feeling ; sympathy. هم دست —dast, a companion ; an accomplice ; of equal rank or power. هم دگر —digar, together ; mutual ; reciprocal. هم دل —dil, of the same inclination ; a friend. هم دم —dam, intimate. هم دوش —dosh, equal ; like ; close ; together. هم ذات —zát, of the same caste ; consubstantial. هم راز —ráz, confident ; conspirator. هم راه —ráh, with ; along with ; together. هم راهی —ráhí, fellow-travelling ; companionship. هم راهیان لشکر —ráhiyán-e-lashkar, campfollowers. هم راکب —rakáb, fellow-rider ; attendant. هم رنگ —rang, of the same colour or disposition. هم زاد —zád, cognate ; twin ; of the same age ; born together ; a playfellow ;

the double ; a jinn or familiar spirit said to be produced at the moment of the birth of every child and to accompany him through life. هم زبان —zabán, of the same tongue ; of one voice ; conversing together. هم زلف —zulf, a wife's sister's husband (*sárhú*) هم مانند —zamána, contemporary. هم زمزمه —zamazama, a fellow-singer ; companion. هم ساز —saz, accordant ; unanimous ; concordant ; friendly. هم سایه —sáegí, neighbourhood. هم سایدی —sáya, a neighbour. هم سبق —sabaq, a class-fellow. هم سخن —sukhan, conversing ; talking together. هم سر —sar, an equal ; a companion ; peer ; consort ; wife ; husband. هم ساری —sari, equality ; matching. هم ساری کا دعوی کرنا —sari ká da'wa karná ; to lay claim to equality. هم ساری کرنا —sari karná, to contend ; to vie. هم سرحد —sarhad, having adjoining boundaries. هم سفر —safar, fellow-traveller. هم سفر —sufra, messmate ; a companion of the table. هم سن —sin, of equal age ; a play-fellow. هم سنی —siní, equality of age. هم سنگ —sang, equal ; of the same weight. هم شکل —shakl, of the same appearance ; alike. هم شهری —shahrí, a fellow-citizen ; a townsman. هم شیر —shír, sister. هم شیرزاده —shír záda, sister's son. هم صحبت —shubhat, associate ; of the same society. هم صغیر —saffir, fellow-whistler ; fellow-songster ; fellow-sufferer. هم طالع —tála', of like fortune ; a comrade. هم طبق —tabaq, a mess mate. هم عصر —'asr, contemporary. هم عمر —'umr, of the same age, co-eval. هم عنان —'inán, a companion ; peer ; equal. هم عهد —'ahd, co-eval ; contemporary. هم قدم —qadam, a companion ; an attendant ; a footman. هم قسم —qasam, bound together by oath. هم قوم —qam, of the same caste or tribe. هم کار —kár, a fellow workman ; of the same business. هم کاسه —kása, a cupecompanion. هم کفر —kufú, of the same family. هم کلام —kalám, conversing together. هم کنار —kinár, embracing ; embracer. هم مذهب —mazhab, co-religionist. هم مرکز —markaz, concentric. هم مشرب —mashrab, of the same religion or disposition. هم مشق —mashq, a fellow-labourer. هم مصلحت —maslahat, confederated. هم مکتب —maktab, a school-fellow,

نام نام—nám, a namesake ; cognominal. ندا نام—nidá, singing together. نسل نام—nasil, of the same breed. ناس نام—nafs, harmonious ; concord. نامک نام—namak, a mess mate. نوال نام—nivala, a mess-mate. وزن نام—wazan, of the same weight وطن نام—watan, a com-patriot ; a fellow-countryman.

هـام humá, P. n. m. An eagle, a phoenix ; a bird of paradise ; a bird of happy omen, a fabulous bird. It is said that the person over whose head this bird flies becomes a king.

همارا hamará, हमारा, } H. pron. Our ; of us.
همارو hamáro, }

هـاما hamá shumá, P. We and you ; we both ; everybody. [an associate.

هـامال hamál, P. adj. Like ; equal ; n. a comrade ;

هـامانا hamáná, P. n. m. Opinion ; phantom ; spectre ; adj. alike ; identical ; adv. suddenly ; again.

هـامايون hamáyún, P. adj. Fortunate ; august ; n. prop. a Mohammedan king of India, father of Akbar the great.

هـمات himmat, A. n. f. Spirit ; enterprise ; mind ; resolution ; courage ; design ; liberality. هـمات باندنه bandhná, to muster courage. هـمات والا wálá, courageous ; spirited ; enterprising. هـمات هـارنا hárná, to lose spirit or courage. هـمات بے be—, dispirited ; coward. هـمات بے هـمتي be—, cowardice ; timidity.

هـماتا hamtá, P. adj. Equal ; alike ; n. m. an equal ; a peer. [resemblance.

هـماتاي hamtái, P. n. f. Equality ; likeness ;

هـمده hamda, A. n. m. Apoplexy.

هـمراه hamrah, } P. n. m. A fellow traveller ;
همراه hamrah, } adv. with ; together with.

هـمزه hamza, A. n. f. The orthographical mark (ع).

هـمکنه humakná, हुमकना, H. v. To assault ; to stretch forward.

هـمگي hamagi, P. n. f. Totality ; entirety.

هـموار hamwár, P. adj. Even ; level ; smooth. ناهموار karná, to level ; to smooth. ناهموار کنا ká—, uneven ; undiseiplined.

همواره hamwára, P. adv. Ever ; always.

هـمه hama, P. adj. All ; every one ; whole. همه دان dâñ, all-wise ; all-knowing ; omniscient. همه دانی dâñí, n. f. omniscience. همه صفت sifat mausuf, endowed with every good quality. همه با باín—, with all this ; withal ; whereas.

هميانی hamyáni, P. n. f. A purse.

هميشگي hameshagi, P. n. f. Eternity ; perpetuity.

هميشه hamesha, P. adv. Always ; ever ; continually ; perpetually ; incessantly.

هميل hamel, हमेल, H. n. f. A sort of necklace.

همين hamín, हमीं, H. pron. We ; even we.

همين هـمهم hamem, हमें, H. pron. Us ; to us, we ; ourselves.

همين hamín, P. adj. This ; even this ; this very.

هـمنجار hanjár, P. n. m. A true method ; a straight road ; a by-path ; a short cut ; a plumbline ; a level. ناهمنجار ná—, wicked ; unfortunate ; rude ; impolite.

هـند hind, P. n. m. India. [endive.

هـندبا hindbá, P. n. m. Name of a white seed ;

هـندسه hindsa, P. n. m. Geometry figures ; arithmetic. هندسه دان dâñ, a geometrician ; an arithmetician ; an accountant.

هـندو hindú, हिन्दू, H. n. m. A follower of Hindu religion ; a black mark or mole.

هـندوانه hinduána, P. n. m. A water-melon, adj. Indian ; relating to Hindus.

هـندوستان hindustán, P. n. m. India.

هـندوي Hindwí, P. adj. Indian, n. f. Hindi language.

هـندي Hindi, P. adj. Indian ; relating to India ; a native of India, n. the Hindi language. هـندی کی چندی kí chindí, an explanation of an obvious fact not admitting of a demonstration. تېغ هـندي teg-e-hindí, in ancient times India was famous for its steel, hence a sword of the best quality.

هـندہ handá, हँदा, H. n. m. A caldron ; an earthen pot. هـندہ کنا phorná, to disclose a secret ; to let the cat out of the bag.

khwáh, a well-wisher ; a friend. ہوا خواہی —
 khwáhi, well-wishing ; good-will. ہوا دار —
 dár, airy ; open. ہوا سے بات کرنا —se bāt
 karná, to rival the wind in speed. ہوا سے لڑنا
 —se larná, to quarrel with the wind, i. e., to
 be ready to quarrel ; to seek occasion for
 quarrel. ہوا کرنا —karná, to fan ; to breach ;
 to divulge ; to disclose ; to publish. ہوا کھانا —
 khána, to take the air ; to walk about idly.
 ہوا سے لڑنا —ke babúle phorná, to build
 castles in the air. ہوا کے رخ جانا —ke rukh
 jáná, to sail with the wind. ہوا کے گھوڑے پر
 ہونا —ke ghoṛe par sawár honá, to be in
 a great hurry. ہوا و ہوس —o-hawas, n. f.
 lust ; sensuality ; ambition. ہوا ہو جانا —ho
 jáná, to scamper off ; to vanish ; to disappear
 ہوا ہوا ہوا, H. v. (*Past tense of ہونا* Hona)
 Became ; was. [sects.
 ہوا ہوا havvám, A. n. m. Reptiles ; serpents ; in-
 ہوا ہوا haván, P. n. m. (*corr. of ہوا ہوا hávan*) A
 mortar. [tempt.
 ہوا ہوا haván, A. n. m. Distress ; misery ; con-
 ہوا ہوا ho áná, ہو جانا, H. v. To have gone to and
 returned.
 ہوا ہوا havái, P. n. f. A sky-rocket ; *adj.* aerial ;
 airy ; windy. ہوا ہوا ہوا —fauj, air force.
 ہوا ہوا bú bahú, A. *adv.* Perfectly ; quite ; exactly.
 ہوا ہوا hotabyatá, ہوا ہوا, H. n. f. Fate ;
 destiny.
 ہوا ہوا hote, ہوتے, H. *adv.* During ; in the presence.
 ہوا ہوا —hote, gradually.
 ہوا ہوا ho jáná, ہوا ہوا, H. v. To have happened ;
 to become. [finished.
 ہوا ہوا ho chukná, ہوا ہوا, H. v. To be
 ہوا ہوا haudaj, A. } n. m. A litter ; an open
 ہوا ہوا hauda, ہوا ہوا, H. } seat on an elephant ;
 howdah.
 ہوا ہوا hor, ہوا ہوا, H. n. f. A wager ; an agreement ;
 a bet ; a bargain. ہوا ہوا ہوا یا ہوا ہوا —bāndhná
 yá badná, to bargain ; to bet ; to lay a wager.
 ہوا ہوا horal, ہوا ہوا, H. n. m. Mica ; talc.
 ہوا ہوا havas, A. n. f. Ambition ; desire ; lust ;

curiosity. ہوا ہوا —kesh, desirous ; ambi-
 tious.
 ہوا ہوا ho sakná, ہو سکتا, H. v. To be possible.
 ہوا ہوا havasnák, P. *adj.* Full of desire ;
 lustful.
 ہوا ہوا hosh, P. n. m. Sense ; judgment ; under-
 standing ; discretion ; mind ; soul. ہوا ہوا ہوا
 —باختہ یا پراگندہ ہونا —دنگ ہونا یا جاتے رہنا
 urná, bākhta yá parágandá honá, dang honá,
 yá játe rahná, to be confounded ; to lose one's
 sense. ہوا ہوا —mand, *adj.* prudent ; sensible.
 ہوا ہوا —mandí, n. f. wisdom ; intelligence ;
 sensibleness. ہوا ہوا میں آنا —men áná, to come
 to one's senses. ہوا ہوا و حواس —o-havás, sense
 and understanding. ہوا ہوا ہوا —há, sensible ;
 prudent. ہوا ہوا ہے be —, insensible ; uncon-
 scious. ہوا ہوا ہوا be —, stupefaction ; uncon-
 sciousness. [wisdom.
 ہوا ہوا hoshang, P. n. m. Intellect ; prudence ;
 ہوا ہوا hoshiyár, P. *adj.* Intelligent ; attentive ;
 prudent ; discreet ; careful ; alert ; awake ;
 accurate ; sensible.
 ہوا ہوا ہوا hoshiyári, P. n. f. Cleverness ; prudence.
 ہوا ہوا húk, ہوا ہوا, H. n. f. Pain ; stitch ; ache ; twitch.
 ہوا ہوا ہوا —húk kar roná, to weep with
 sobbing.
 ہوا ہوا hauká, ہوا ہوا, H. n. m. Greediness ; cupidity.
 ہوا ہوا húl, ہوا ہوا, H. n. f. A thrust ; a stab ; an
 attack. ہوا ہوا دینا یا مارنا —dená yá marná, to
 thrust ; to stab ; to goad ; to impel ; to urge.
 ہوا ہوا haul, P. n. m. Terror ; horror. ہوا ہوا ہوا
 —باہش جانا —baiḥ jáná, to be terror-stricken. ہوا ہوا دل
 —dil, terrified ; melancholy. ہوا ہوا —zada,
 terrified ; frightened. ہوا ہوا —nák, *adj.* ter-
 rible ; dreadful ; fearful.
 ہوا ہوا holá, ہوا ہوا, H. n. m. The chick-pea parched
 in the pod ; green gram.
 ہوا ہوا hullar, ہوا ہوا, H. n. m. Tumult ; disturbance ;
 uproar. [to drive an elephant.
 ہوا ہوا hólná, ہوا ہوا, H. v. To thrust ; to goad ;
 ہوا ہوا holí, ہوا ہوا, H. n. f. The great Hindú
 festival held in the month of Phágún ; the
 song which is sung during the festival.

होले haule, होले, H. *adv.* Slowly ; gently.
 होम hom, होम, S. *n. m.* A kind of burnt offering
 an oblation with clarified butter. होम—
 dhenu, a sacrificial cow. [form a sacrifice.
 होमना homná, होमना, H. *v.* To sacrifice; to per-
 होमन havan, हवन, S. *n. m.* A burnt offering.
 हो हूँ, हूँ, H. *adv.* Yes; well; very well.
 हो हूँ, हूँ, H. (1st. pers. sing). I am or am.
 होना honá, होना, H. *v.* To exist; to be; to
 belong; to become; to have; to serve; to
 answer; to accrue; to do; to stand; to die.
 होना बैठना ho baiṭhná, to settle down as; to set
 up for. होना जाना ho jáná, to become. होना
 होना चुकना ho chukná, to be finished; to be completed.
 होना चलना ho chalná, to be approaching comple-
 tion; to be nearly finished. होना सकना ho sakná,
 to be possible or practicable. होना किसी के पीछे
 honá kisi ke piche ho lená, to go behind or
 after any one; to follow. होना न होना honá ná
 honá, existence and non-existence. होना हो
 होना होना ho so ho, happen what will or may.
 होना नोना honá, होना, H. *n. m.* The lip. होना
 —nikálná, to be angry; to be out of temper.
 होना लजाना honá lajkaná, to be sorry; to disdain.
 होना चबाना honá chabná, to bite the lips; to
 repent; to fear; to be enraged.
 होना हांसना hauns, होना, H. *n. f.* Desire; wish; want;
 ambition. होना करना honá karná, to desire.
 होना होना honá, होना, H. *adj.* Hopeful; pro-
 mising; feasible; possible; likely; what is
 to happen.
 होना हुन हुन honá hún hún, हुन हुन, H. *n. m.* Tumult;
 uproar. होना करना honá karná, to make the
 sound *hún* in anger or fear. होना हान
 honá hán, to evade a clear answer.
 होना होना honewálá, होने वाला, H. *adj.* Impending;
 imminent.
 होना होना honchár, होना, H. *adj.* About to be.
 होना हुवाइदा huvaídá, P. *adj.* Clear; manifest; evident;
 open.
 ही hi, H. *adv.* Very; even; exactly; only.
 है hai, है, H. *int.* Ah; alas. *v. i.* Is.
 हीया hiya, हिा, S. *n. m.* Heart; mind; soul; life.

हीया haiyát, A. *n. f.* Astronomy; the aspect of
 the heavens; face; form; figure; manner.
 हीया hiyáo, हिा, H. *n. m.* Courage; bravery,
 (wrongly used for हीवा hiwao).
 हीया haibat, A. *n. f.* Fight; panic; horror;
 dread; awe. हीया—zada, aghast; appalled.
 हीया नाक hiya nák, हीया—nák, frightful; dreadful; terrible.
 हीया hait, A. *n. f.* Astronomy; appearance or
 outward form.
 हीया heṭhá, हेठा, H. *adj.* Indolent; cowardly;
 low; inferior. हीया—pan, cowardice.
 हीया haijá, A. *n. m.* War; battle; conflict.
 हीया haiján, A. *n. m.* Rising of dust or of
 anger; exciting of anger; tumult or war;
 commotion; excitation.
 हीया hijrá, हीर, H. *n. m.* An eunuch.
 हीया hech, P. *adj.* Worthless; nothing; any;
 anything. हीया जाना hech jáná, to despise; to
 condemn. हीया कारा hech kára, useless, good for
 nothing. हीया कस hech kas, nobody. हीया
 हीया—madán, ignorant; knowing nothing; an
 ignoramus.
 हीरा hir, हीर, S. *n. m.* Essence; pith; gist vigour;
 energy; *adj.* pure.
 हीरा पहरा her pher हेर फेर, H. *n. m.* Exchange;
 round about way; turning; winding; roaming
 or wandering to and fro. हीरा की बातें
 kí báteṅ, circumlocution. हीरा के तोला
 ke tolná, to weigh in both scales alternately
 in order to test the accuracy of the scales.
 हीरा hirá, हीरा, H. *n. m.* Diamond; adamant.
 हीरा पहरा herá pherí, हेरा फेरो, H. *n. f.* Turning;
 winding; roaming or wandering to and fro.
 हीरामन hiráman, हिरामन, H. *n. m.* A kind of
 parrot.
 हीरावाल hirával, हिरावल, S. *n. m.* A kind of
 chequered blanket worn by *faqirs*.
 हीरान hiran, हीरान S. *n. m.* Gold.
 हीरना herná, हेरना, H. *n.* To search for; to spy
 out; to hunt; to pursue; to catch; to stop;
 to see; to observe; to look after.
 हीरा híz, P. *adj.* Pusillanimous; impotent.

هيزم ^{هيزم} hezam, P. *f.* Firewood; faggot. هيزم فروش —farosh, a wood merchant. كاش هيزم —kash, a woodcutter; a woodman.

هيزده ^{هيزده} hezdah, P. *adj.* Eighteen.

هيزه ^{هيزه} haiza, A. *n. m.* Cholera. هيزه هونا —honá, to have an attack of cholera.

هيك ^{هيك} hekar, हेकर, H. *adj.* Strong; robust; of full weight or measure; wealthy.

هيكال ^{هيكال} haikal, A. *n. f.* Figure; face; form; appearance; person; an ornament worn round the neck; a necklace; a palace; a temple.

هيل ^{هيل} hil, हील, H. *n. m.* Mud; mire; slime.

هيلاج ^{هيلاج} hailáj, P. *n. m.* The time of labour or birth; a mark by which the duration of life is foretold. [concord; familiarity.

هيل ميل ^{هيل ميل} hel mel, हेल मेल, H. *n. m.* Intimacy; मैला हिला ^{मैला हिला} hela márná, हिला मारना, H. *v.* To call out; to shove; to launch; to dash through water.

هيلना ^{هيلना} helná, हेलना, H. *v.* To enter into water.

هيم ^{هيم} hem, हेम, S. *n. m.* Gold; snow; one of the six seasons.

هيمانت ^{هيمانت} hemant, हेमन्त, S. *n. m.* The fifth season of the year comprising the months *Aghan* and *Pús*.

هيمه ^{هيمه} hima, P. *n. m.* Wood; firewood.

هين ^{هين} hain हैं, H. *v.* Are.

هين ^{هين} hín, हीन, } S. *adj.* Deficient; little; void
هيننا ^{هيننا} hiná. } of; devoid; deprived (of); bereft (of); without; wanting (in); low.

هينتا ^{هينتا} hintă, हीनता, S. *n. f.* Abatement; the state of being without; absence (of); want; destitution.

هينگ ^{هينگ} hingg, हिंग, H. *n. m.* Assafoetida. هينگ هگنا —hagná, to void by stool involuntarily; to pine; to be in trouble.

هينگا ^{هينگا} hengá, हेंगा, H. *n. m.* A harrow.

هيو ^{هيو} hio, हियो, H. *n. f.* The call to cattle; the sound made in calling cattle.

هيولا ^{هيولا} heyulá, A. *n. m.* Matter; appearance; the first sketch of a picture.

هيولاني ^{هيولاني} heyulání, A. *adj.* Material.

هيهات ^{هيهات} haihath, A. *intj.* Alas; alack-a-day!

هيه هيه ^{هيه هيه} hai hai, है है, H. *adj.* Alas! alas the day! well-a-day!

هيهت ^{هيهت} haiyat, A. Face; countenance, علم هيهت 'ilm-e—, Astronomy. كذاني هيهت —kazái, natural appearance.

(ي)

ي } ye, called yá-i-hutti or yá-i-musannát
ت } tahtání, is the last letter of the Arabic; Persian and Urdu alphabets. It corresponds to Hindi य and stands for 10.

يا ^{يا} yá, या, H. *conj.* Either; or. [Destiny.

يا ^{يا} yá, P. *int.* O! Oh! يا قسمت يا yá-kismet; Oh

ياب ^{ياب} yáb, A. *n. m.* Finding; discovering; receiving; *n.* finder; discoverer; recipient. It is generally used as a member of compounds; such as: كمياب - نظرياب - ناياب náyáb, zafaryáb; kamyáb.

يابو ^{يابو} yábú, P. *n. m.* A galloway; a pony; a nag.

ياترا ^{ياترا} yátrá, यात्रा, S. *n. f.* Journery; travel; march; going on a pilgrimage.

ياتنا ^{ياتنا} yátaná, यातना, S. *n. f.* Agony; sharp pain.

ياد ^{ياد} yád, P. *n. f.* Memory; recollection. ياد آنا —áná, to come to mind. ياد اوري —ávari, remembrance.

ياد بود ^{ياد بود} yád búd, یاد داشت —dásht, a memorandum; notebook; memory.

ياد دلانا ^{ياد دلانا} yád dilána, یاد دهنی —dihí, putting in mind; reminiscence. ياد دهاني —dihání, reminding.

يادش بخير ^{يادش بخير} yádsh bakhair, an expression used when mentioning an absent friend.

ياد فراموش ^{ياد فراموش} yád farámosh, یاد فراموش —farámosh, name of a game.

ياد كونا ^{ياد كونا} yád kóná, یاد گار —gár, to recollect; to remember; to call to mind; to commit to memory. ياد گار —gári, a monument; a memorial.

ياد گاري ^{ياد گاري} yád gári, یاد گاری —gári, anything given as a memorial; a souvenir; monument; memorial; remembrance; token.

يار ^{يار} yár, P. *n. f.* A friend; a lover; paramour; gallant; an assistant; a companion. يار باش —bash, jolly fellow; friendly; cordial; merry.

يار غار ^{يار غار} yár gár, یاد و فادار —i-fadár, a sincere friend.

يار فادار ^{يار فادار} yár fadár, یاد و فادار —i-fadár, a sincere friend.

یارا *yará*, P. n. f. Power ; strength.

یارانه *yarána*, P. adv. Friendly ; friendliness.

یاره *yára*, P. n. m. Power ; strength. a shrewd man ; friendship ; necessity ; tax ; toll ; revenue ; a broad bracelet ; the wrist ; a wound.

یاری *yári*, P. n. f. Friendship ; love ; assistance ; intrigue. یاری دینا—*dená*, to second ; to help ; to side with ; to befriend.

یازده *yázdah*, P. adj. Eleven.

یازدهم *yázdahum*, P. adj. Eleventh.

یاس *yás*, A. n. f. Despair ; fear ; terror.

یاسمن *yásmán*, } P. n. f. Jasmine.
یاسمین *yásmín*, }

یافت *yáft*, P. n. f. Perquisite ; earning ; gains ; income ; profit. یافت کی نوکری—*kí naukrí*, a lucrative appointment.

یافتنی *yáftaní*, P. n. f. That which is to be received ; dues ; bills ; credits.

یاقوت *yáqút*, A. n. m. A ruby ; a garnet.

یاقوتی *yáqúttí*, A. adj. Relating to or of the ruby ; n. f. an electuary.

یال *yál*, P. n. f. A horse's mane, See ایال

یامنی بهاشا *yáminí*, یاامینی, S. n. f. Night. بهاشا —*bháshá*, the language of *yamans* or *jamans*.

یارر *yáwar*, P. adj. Aiding ; friendly ; n. an assistant ; co-adjutor ; friend.

یاروری *yáwarí*, P. n. f. Friendship ; aid ; favour.

یاره *yáva*, P. adj. Absurd ; vain ; futile ; lost ; ruined. یاره بکنا—*bakná*, to talk nonsense. یاره گو—*go*, an absurd talker ; a vain, prating ; babbler.

یابوست *yabúsat*, A. n. f. Dryness ; aridity.

یاتش خانه *yatsh khána*, P. n. m. A hall of audience ; an ante-chamber.

یاتها *yathá*, یاها, S. adv. As ; according to. یاتها جوگ یا جوگ—*jog yá jog*, as proper ; properly ; sufficiently. یاتها شکت—*shakt*, to the utmost ability ; according to power.

یاتیتم *yatím*, A. n. m. Orphan ; fatherless child ; ward ; a valuable jewel. در یاتیتم *dur-e*—, a peerless pearl found alone in the shell ;

یخ *yakh*, P. n. m. Snow.

U. E.—84

یخنی *yakhni*, P. n. f. Gravy ; sauce ; stew ; hash.

ید *yad*, A. n. m. Hand ; palm ; a handle ; aid ; assistance ; power ; vigour ; benefit ; service.

ید بیضا—*e-baizá*, a white hand ; a miraculous hand of Moses which was bright and illuminating like the sun. ید طولی—*túlá*, excellence, in any art or profession ; skill ; proficiency.

یدی *yadí*, यदि, S. conj. If ; when ; since.

یدیپ *yadyapi*, यद्यपि, S. conj. If ; even ; although ; though ; notwithstanding. [a dart.

یزارق *yaráq*, यराक, H. n. m. Arms ; apparatus ;
یازعمال *yargmál*, P. n. m. Hostage ; security ; bail.

یازقان *yarqán*, A. n. m. The yellow ; jaundice.

یزد *yazd*, P. n. m. God.

یزدان *yazdán*, P. n. m. God.

یزدی *yazdí*, P. n. f. A kind of cloth made at Yazd, a town in Persia.

یزید *yazíd*, A. n. prop. A heretic Muslim King of Arabia under whose orders Imam Husain was put to death at Karbala.

یاسار *yasár*, A. n. m. Left ; the left side ; plenty ; affluence ; opulence. یاسار و یامین—*o-yamín*, left and right.

یاسار *yasár*, P. n. m. An unlucky person.

یاسارل *yasával*, P. n. m. An officer of parade ; a pursuivant ; a captain of the guard.

یسر *yasr*, A. n. m. Facility ; lenity ; prosperity ; wealth. یसर *yasar*, adj. easy ; soft ; gentle ; humane ; ready ; prepared.

یسیر *yasír* A. adj. Motherless.

یش *yash*, यश, S. See جس *Jas*.

یشب *yashab*, } P. n. m. Agate.
یشم *yasham*, }

یسوب *ya'súb*, A. n. m. The king of the bees (*P/u* یعاسب *ya'sib*).

یعنی *ya'ne*, A. adv. That is to say, *i.e.*, namely ; to wit ; for ; because.

یغما *yagmá*, } P. n. m. Plunder ; booty ; spoil.
یغما *yagma*, }
یغمان *yagmán*, }

یقین *yaqín*, A. n. m. Certainty; assurance; confidence; truth, *adv.* certain; sure; true. *adv.* truly. کرنا یقین — *karná*, to believe; to ascertain. لانا یقین — *láná*, to believe; to have faith; to credit. یقیناً *yaqínan*, certainly; assuredly. یک *yak*, P. *adj.* One; a; an. آدھ — *ádh*, a few; one or two. یکا یک *yaká*—, all at once; immediately. یکبار یا یکبارگی — *bár yá—bárgí*, immediately; once. یکبارہ یا یکباری — *bára yá—barí*, all at once; immediately; once. یک بہ یک — *ba yak*, one by one; suddenly; successively. یک بگہا — *bagghá*, a horse striving always to go to one side; pressing on one rein. تارہ — *tára*, n. m. A guitar with one string. یکتہا — *thán*, collected; assembled in one place; together. یکجا — *já*, in one place; together. یکجان — *ján*, one soul; friend. یک جان دو قالب — *ján do qálib*, bosom friends. یک چدی — *jaddí*, of the same stock; consanguineous. یک چہتی — *jehati*, unanimity; friendship. یک چشم — *chashm*, one-eyed. یک چند — *chand*, some little; some little time. یک چوبہ — *choba*, one-poled; single poled. دست — *dast*, entire; uniform; even; altogether. یک دیگر — *digar yá—digar*, one another. یک دل — *dil*, unanimous; of one heart or mind. یکدلی — *dilí*, unanimity; concord. یک ذات — *zát*, of the same caste. یک رخی — *rukhi*, a kind of bow. یک رنگ — *rang*, of one colour; sincere; simple; uniform. یک رو — *rú*, of one face; unanimous. یک زبان — *zaban*, of one voice or tongue. یک سار — *sár*, altogether. یکساں — *sán*, equal; alike; the same; conformable; uniform; plain; level. یکسر — *sar*, all at once; altogether. یک سو — *sú*, on one side; together, یک ضربی — *zarbí*, single-barrelled (gun). یک طرف — *taraf*, aside. یک قلم — *qalam*, consistent; all at once; totally; entirely; altogether. یک کنار — *kanár*, apart; aside. یک لخت — *lakht*, all at once; altogether; entirely; wholly. یک لوتا — *lantá*, single; solitary; a single child. یک لوحی — *lohi*, a sword-blade made of one piece of steel. یک مرتبہ — *martaba*, once; one time. یک مشت — *musht*, a handful; all at once; payment in lump sum. یک نفس — *nafas*, one moment. یک نہ — *na—*, one or the other. یکتہا

—*thá*, in one place; together; collected. یک دست — *dast*, equal; alike; the same.

یک *yakka*, P. *adj.* Single; solitary; unique; unequalled; n. the ace (at cards); one horse carriage; a trooper who serves alone. یک تاز — *táz*, the phoenix or hero (of the age); singly attacking (the foe).

یکارن *yakávan*, यक़ावन, H. *adj.* Fifty-one.

یکائی *yakái*, P. n. f. Unit.

یکت *yukt*, युक्त, S. *adj.* Fit; proper; right; joined; combined. یکتی *yukti*, युक्ति, n. f. contrivance; dexterity; art; skill; policy; project.

یکتا *yaktá*, P. *adj.* Single; unique; incomparable. یکتالیس *yaktális*, यक़तालीस, H. *adj.* Forty-one.

یکتائی *yaktái*, यक़ताई, H. n. f. Unity; being unique or unequalled.

یکتیس *yaktís*, यक़तीस, H. *adj.* Thirty-one.

یکستہ *yaksath*, यक़सठ, H. *adj.* Sixty-one.

یکشنبہ *yak shamba*, P. n. m. Sunday.

یکلائی *yakláí*, P. n. f. A cloak or sheet of one breadth without seam.

یکم *yakkum*, P. *adj.* First.

یکہ *yakka*, P. *adj.* One; alone; *adv.* all at once.

یکہتر *yakhattar*, एकहतर, H. *adj.* Seventy-one.

یکیاسی *yakyási*, यक़यासी, H. *adj.* Eighty-one.

یکیس *yakis*, यकीस, H. *adj.* Twenty-one.

یکانگت *yagángat*, P. n. f. Union; relation; concord.

یکانہ *yagána*, P. n. m. Kinsman; relation; kindred; *adj.* single; sole; agreed; unanimous.

یکروریت *yaggopavit*, यज्ञोपवीत, See جنیر J aneu.

یک *yal*, P. n. m. A hero; brave man; *adj.* corpulent; robust.

یالدا *yaldá*, P. n. m. The longest night or the first night of winter (in or near which the sun enters Capricorn); *adj.* dark.

یالغار *yalgár*, T. and P. n. m. Forced march of an army; sudden incursion.

یام *yam*, यम, S. n. m. Twin fellow; one of a pair or brace; cessation; conclusion; religious restraint; festival; a crow; Saturn; name of a deity; the angel of death; obedience to spiritual teacher and performance of purificatory rites.

یام *yam*, A. n. m. Sea; ocean.

یومن *yūmn*, A. n. m. Felicity; prosperity; good luck; Arabia Felix.

یامن *yaman*, यमन, H. n. m. Name of *raganī* or musical mode.

یامن *yaman*, यवन, S. n. m. A Yavan; the name formerly meant in Ionian or Greek, it is now applied to Muhammadans and Europeans and is used to designate any foreigner.

یامانی *yamanī*, A. n. m. A Cornelian (of یامن Yaman); *adj.* belonging to Yaman.

یامین *yamīn*, A. n. m. The right hand. یامین ریساار —o-yasār, n. m. the right and left wings of an army.

یوراج *yurāj*, युवराज, S. n. m. Heir-apparent.

یورش *yūrish*, P. n. m. Assault; storm; invasion.

یوز *yūz*, P. n. m. A panther.

یوگ *yog*, योग, S. n. m. The force of devotion; the power or strength derived from continued abstract meditation.

یوگی *yogī*, S. n. m. An ascetic; a hermit.

یوم *yaum*, A. n. m. A day. یوم الحساب—ul-hisāb, the day of reckoning; doomsday. یوم العشر—ul-hashr; the Day of Resurrection.

یومیہ *yanmiya*, A. *adv.* Daily; n. daily food; daily allowance.

یون *yon*, यौ, H. *adv.* Thus; in this manner.

یون توں—*ton*, in various ways; somehow or other. یون نہ یون—*na yon*, neither one way nor the other. یون ہین—*hīn*, thus; in this way; easily; by chance; for nothing; یون ہین یون—*yon-hi-sahi*; *adv.* just as you please.

یونان *yūnān*, A. n. f. prop. Ionia; Greece.

یونانی *yunānī*, A. *adj.* Ionian; Grecian; Greek.

یونس *yunus*, A. n. prop. Jonah (name of a prophet).

یہ *yeh*, यह, H. *pron.* This; it.

یہاں *yahān*, यहाँ, H. *adv.* Here; hither; near; with. یہاں تک یا تک—*tak yā talak*, up to this place; thus far; to this degree; to this pith. یہاں سے—*se*, hence; from this place. یہاں کا یہیں—*kā yahīn*, in this very place; exactly here.

یہودی *yahudī*, *Heb.* A Jew or Hebrew.

یہی *yehī*, येही, *adj.* This very; the same.

یہیں *yahīn*, यहीं, H. *adv.* Here; this very place.

یے *ye*, ये, H. *pron.* These; they.

1101201

1101201

1101201

1101201

1101201

RAM NARAIN LAL

PUBLISHER AND BOOKSELLER

NATIONAL PRESS URDU LITERATURE SERIES

<p>Musaddas-i-Hali ... 0 8 0</p> <p>Taubat-un-Nasuh.—With Notes and Glossary ... 1 4 0</p> <p>Dewan-i-Ghalib ... 0 8 0</p> <p>Masnavi Mir Hasan.—With Notes and Glossary ... 0 12 0</p> <p>Urdu-i-Moalla.—With Notes and Glossary, by Ghalib ... 2 8 0</p> <p>Masnavi-Gulzar-i-Nasim.—With Notes and Glossary ... 0 12 0</p> <p>Bagh-o-Bahar or Chahar Darwesh 1 0 0</p> <p>Kulliyati-i-Sauda.—With Introduction 1 8 0</p> <p>Gul-i-Bakauli ... 0 12 0</p> <p>Fasana-i-Ajalb.—With Introduction and Notes ... 1 4 0</p> <p>Sharif-Zada.—By Dr. Mirza Ruswa ... 1 4 0</p> <p>Murraqqa-i-Laila Majnu.—By Dr. Ruswa ... 0 12 0</p> <p>Dewan Zauq.—With Notes and Glossary ... 0 12 0</p> <p>Ood-i-Hindi.—With Notes, by Ghalib 1 4 0</p> <p>Mir ke Nashtar.—By Masudur Rahman ... 0 6 0</p> <p>Muqadma Shair-o-Shairi.—By Altaf Husain Hali ... 1 8 0</p> <p>Ashar-i-Momin.—By A. Mannan, M.A. 0 12 0</p>	<p>Miarul Balaghat.—By M. Devi Prasad Sahr ... 0 12 0</p> <p>Dewan-i-Dagh ... 1 0 0</p> <p>Ashar-i-Mir.—By A. Mannan, M. A. 0 12 0</p> <p>Tazkira Naurang-i-Sauda.—By M. Abdul Rafi Sahib ... 0 12 0</p> <p>Mowazna Anis-o-Dabir.—By Maulana Shibli Nomani ... 2 8 0</p> <p>Ashar-i-Zauk.—By A. Mannan M. A. 0 12 0</p> <p>Jadid Ilmul Uruz.—By A. Majid M.A. 0 12 0</p> <p>Jadid Ilmul Balaghat.—By A. Majid M. A. ... 0 12 0</p> <p>Diwan-i-Hali.—By Maulana Hali ... 1 8 0</p> <p>Jawahar-ul-Uruz.—By Ahmed Shah Beg Jauhar ... 1 0 0</p> <p>Nau Bahar.—By Ram Sarup Kaushal, M. A., ... 1 4 0</p> <p>Ashar-i-Nazir.—By Hafiz Shamsuddin Ahmade ... 0 12 0</p> <p>Tarikh-Adab-i-Hindi.—By Hafiz Shamsuddin Ahmade ... 2 0 0</p> <p>Ashar-i-Ghalib.—By A. Mannan, M.A. 0 12 0</p> <p>Iqbal.—By Akhtar Orinvi ... 0 12 0</p> <p>Shikwa-i-Hind.—By Hali ... 0 2 0</p> <p>Bewa ke Munajat.—By Hali ... 0 2 0</p> <p>Marsia Anis-o-Dabir. Vol. I ... 0 12 0</p> <p>Do. do. Vol. II ... 1 0 0</p>
--	--

—: 0 :—

JUST OUT

اردو غزل کی نشو و نما

مصنفہ ڈاکٹر رفیق حسین ایم اے

قیمت چھ روپیہ مچلہ

ALLAHABAD
RAM NARAIN LAL
PUBLISHER AND BOOKSELLER

FOREIGN WORDS AND PHRASES

USED IN THE ENGLISH LANGUAGE

A

Ab extra, (L.) From without : خارجی - باہر سے

Ab initio, (L.) From the beginning : ابتدا سے - شروع سے

Ab intra, (L.) From within : اندرونی

Ab origine, (L.) From the origin or beginning : شروع یا اول سے

Ab ovo, (L.) From the egg ; from the beginning : انقے سے - شروع سے

Absente reo, (L.) The defendant being absent : غیر حاضری مدعا علیہ

Absit invidia, (L.) Let there be no ill-will ; envy apart : حسد نہ نہ

Accusari nemo se debet, nisi coram Deo, No one is bound to accuse himself accept before God : کسی شخص کو اپنا جرم ظاہر کرنا بجز حضور خدا کے ضروری نہیں ہے

A communi observantia non est recedendum, No deviation should be made from the common usage : کوئی تجاویز دستور عام سے نہ کرنا چاہئے

A couvert, (Fr.) Under cover ; protected : پوشیدہ - محفوظ میں

Ad arbitrium, (L.) At pleasure : اپنی خوشی پر - حسب مرضی

Ad captandum vulgus, (L.) To attract the rabble : عام لوگوں کو بہکانے کے لئے

Ad diem, نلاں روز - بتاریخ

Ad extremum, (L.) To the extreme : بدرجہ - غایت - آخر کار

Ad finem, (L.) To the end : اخیر تک

Ad hoc, (L.) For this special object or duty : اس فرض سے

Ad infinitum, (L.) To infinity : لایتمہا - ابتدایاں تک - ابدی

Ad interim, (L.) In the meanwhile : درمیانہ یا قائم مقام - عارضی

Ad libitum, (L.) At pleasure : رضامندی پر - خوشی پر

Ad referendum, (L.) To be further considered : زیادہ غور طلب - واسطے غور مزید کے

Ad rem, (L.) To the point : بمطالعہ - مطلب پر - نسبت اصل معاملہ کے

Adsum, (L.) I am present ; here : میں موجود ہوں - یہاں

Ad unguum, (L.) To the nail ; exactly ; perfectly : ٹھیک ٹھیک

Ad unum omnes, (L.) All to a man : سب ایک ایک کر کے

Ad valorem, (L.) According to the value : حسب مالیت

Ad vitam aut culpam, (L.) For life or fault i. e., till some misconduct is proved : تا حیات یا تا بد اعمالی

Æquo animo, (L.) With an equable mind : یکدلی سے

A fortiori, (L.) With stronger reason : مضبوط دلیک سے

Affaire d'amour, (Fr.) A love affair : عشق کا معاملہ

Affaire d'honneur, (Fr.) An affair or honour : معاملہ عزت

Affaire du cœur, (Fr.) An affair of the heart : معاملہ دل

A fortiori, (L.) With stronger reason : بوجوہات مستحکم

Agenda, (L.) Things to be done : ضروری چیزیں

A la bonne heure, (Fr.) In good or favourable time ; well-timed : اچھی ساعت میں

A la mode, (Fr.) According to the fashion : مطابق دستور - رائج الوقت

Alere flammam, (L.) To feed the flame : اشتعال دینا

- Al fresco, (It.)** In fresco : تختہ مصوری پر
- Alma mater, (L.)** lit. A benign mother—
applied by graduates to their university : مہربان
ماں (مراد مدرسہ العالم سے ہے)
- Alter ego, (L.)** Another self : وجود دیگر
- Alter idem, (L.)** Another precisely similar :
دوسرا تھیک تھیک
مشابہ
- Ameade honorable, (Fr.)** Satisfactory apology ; reparation :
قابل اطمینان معافی
- A mensa et thoro, (L.)** From bed and board :
رہنے اور کھانے کی جگہ
- Amor patriæ, (L.)** Love of country : حب الوطنی
- Amour propre, (Fr.)** Self-love ; vanity : خود
پسنندی
- Anglice (L.)** In English : انگریزی میں
- Animo et corpore, With heart and soul :** جان
و تن سے
- Anno Domini, (L.)** In the year of our Lord :
سنہ عیسوی میں
- Anno mundi, (L.)** In the year of the world :
سنہ ابتداء دُنیا
- Anno regni, (L.)** In the year of enthronement :
سال تخت نشینی
- Anno urbis conditæ, (L.)** In the year
the city (Rome) was built : سنہ تعمیر شہر روم
- Annus mirabilis, (L.)** Year of wonders : سنہ
عجائبات
- A non usu, For want of use :** کم استعمالی سے
- Ante meridiem, (L.)** Before noon : قبل دوپہر
- Ante omnia, (L.)** First of all : سب سے پہلے
- A posteriori, (L.)** From the effect to the cause :
علت سے سبب تک - از معلول تا علت
- A priori, (L.)** From the cause to the effect :
سبب سے نتیجہ تک - از علت تا معلول
- A propos, (Fr.)** To the point ; pertinently :
مطاب پر - مطابقاً
- Aqua vitæ, (L.)** Water of life ; brandy ;
alcohol : آب حیات - بر آبی - شراب
- Arcana imperii, (L.)** State secrets : ریاست کے
راز - امر راز داری سلطنت
- Argent comptant, (Fr.)** Ready money : نقد
روپیہ
- Articulo mortis, (L.)** At the time of death :
پوت و نات
- Argumentum ad ignorantiam, (L.)** Argument
founded on an adversary's ignorance of
facts : دلیل مبنی بر ناواقفیت واقعات طرف ثانی
- Argumentum ad judicium, (L.)** Argument
appealing to the judgment : دلیل ملتی تعریز
- Argumentum ad verecundiam, (L.)** Argument
appealing to modesty : دلیل پر بنائے نظیر یا
سند کسی بزرگ کے
- Ariston metron, (Gr.)** The middle course is
the best ; the golden mean : اوسط سب سے بہتر
ہے - عمدہ اوسط طریقہ
- Ars longa, vita brevis, (L.)** Art is long, life
is short : ہنر کے سیکھنے میں عرصہ لگتا ہے اور زندگی
کم ہے
- Audi alteram partem, (L.)** Hear the other
party : طرف ثانی کی بات بھی سنا چاہیے - کسی شخص
کی تعریز بلا اسکی سماعت کے نہیں کی جانی چاہئے
- Aura popularis, (L.)** The breeze of popular
favour : سب لوگوں کی مہربانی کا رخ
- Aurea mediocritas, (L.)** The golden or happy
mean : عمدہ یا خوش اوسط
- Aux armes, (Fr.)** To arms : مسلح ہار
- Avant propos, (Fr.)** Preliminary matter ;
preface : امر تمہیدی - دیباچہ
- A verbis ad verbera, (L.)** From words to
blows : بات ہی بات میں جنگ کی قربت

B

- Bancus ruptus, (L.)** Bankrupt insolvent :
دیوالیہ
- Bete noire, (Fr.)** A black beast ; a bugbear :
حوا - تراونی چیز
- Bis, (L.)** Twice ; repeated : دوبارہ - مکرر
- Bis at qui cito dat, (L.)** He gives twice who
gives quickly : جو جلد دیتا ہے دوٹا دیتا ہے
- Bona confiscata, (L.)** Confiscated property :
مال مضبوط
- Bonafide, (L.)** In good faith ; in reality : نیک
نیتی سے - دراصل
- Bon ami, (L.)** Good friend : نیک دوست

Bon gre mal gre, (Fr.) Willing or unwilling :
 مارغا و کرغا - خوراہی نغوراہی - راضی یا نہ راضی

Bonhomie, (Fr.) Good-natured simplicity :
 سادگی - سیدھاپن

Bon jour, (Fr.) Good-day ; good morning :
 صبح کا سلام

Bonne, (Fr.) A nurse or governess :
 معلمہ - اٹالیکہ - اُستانی جی

Bonne foi, (Fr.) Good faith :
 نیک نیتی

Bon soir, (Fr.) Good evening :
 شام کا سلام

Bon ton, (Fr.) The height of fashion :
 کمال وضعداری

Boullion, (Fr.) Soup :
 شوربا

Box in lingua, (L.) One who has taken a bribe :
 وہ شخص جس نے رشوت لی ہو

Brevi manu, (L.) Extemporaneously :
 بجزستہ - بے ساختہ - بلا توقف

Brevete, (Fr.) Patented :
 محفوظ بہ سند

Bric-a-brac, (Fr.) Odd and ends :
 ناضل - بچا - بچایا

C

Cadit susoetio, (L.) The question falls ; there is no further discussion :
 معامہ ختم ہوتا ہے

Cafe, (Fr.) A coffee-house :
 قہرہ خانہ

Campo santo, (It.) A burying ground :
 قبرستان

Canaille, (Fr.) The rabble :
 عوام الناس

Cap-a-pie, [pe] (Fr.) From head to foot :
 از سر تا پایا

Caput, (L.) Head ; chapter :
 باب - سر

Caput mortuum, (L.) The worthless remains :
 مردہ لعش

Carpe diem, (L.) Enjoy the present day ; seize the opportunity :
 بہتے دریا میں ہاتھ دھونا

Carte blanche, (Fr.) A blank sheet of instructions ; full powers :
 سادہ کاغذ بڑے تصریح - ہدایت - کامل اختیارات

Casus belli, (L.) That which involves or justifies war :
 دلیل جنگ - بناے جنگ - وجہ جنگ

Causa sine qua non, (L.) An indispensable cause or condition :
 وجہ لازمی

Cavaliere, servente, (It.) One who waits with fantastic devotion upon a married lady :
 ذنب موبد

Cave canem, (L.) Beware of the dog, a frequent inscription on Roman thresholds :
 ازسگان ہرشیار - ایش - کتوں سے ہرشیار رہ

Cedant arma togæ, (L.) Let arms yield to the gown— i. e. let military authority yield to the civil power :
 سیف تابع قلم ہو - فوجداری تابع دیوانی ہو

Ce n' est que le premier pas qui coute, (Fr.)
 پہلی منزل تڑپی ہے - ابتداہی مشکل ہے

Centum, (L.) A hundred :
 سر

C'est a dire, (Fr.) That is to say :
 یعنی

Ceteris paribus, (L.) Other thing being equal :
 اور امر مساوی

Charg d'affaires, (L.) An ambassador :
 سفیر جز ملک غیر میں بغرض انتظام امر خاص متعلق اپنے ملک کے مقیم ہو

Chanson, (Fr.) A song :
 گیت

Chef, (Fr.) The head ; the leading person or part :
 سر - انسر - بڑا آدمی یا بڑا حصہ

Chef de cuisine, (Fr.) Head cook :
 باورچی کلس - خانامان کلس

Chef d' æuvre, (Fr.) A masterpiece :
 بڑا کام - کار بُزرگ

Cheminus regius, (L.) A thoroughfare :
 شارع عام

Cher ami, (Fr.) A dear friend :
 جگرپی دوست

Che sara, sara, (It.) Whatever will be, will be :
 جو ہوگا ہوگا سو ہوگا

Chic, (Fr.) Style ; easy elegance ; adroitness :
 طرز عبارت

Ci devant, (Fr.) Formerly ; former :
 سابقاً - اول - زمانہ میں - مقدم - اول

Ci git, (Fr.) Here lies :
 یہہ ہے - یہاں پڑ ہے

Circulus in probando, (L.) A circle in the proof using the conclusion as one of the arguments :
 دعویٰ کر دلیل ماننا - ہم دلیل - ہم دعویٰ - دلیل مبنی بہ دعویٰ

Clam et secrete, (L.) Privately ; secretly :
 خفیہ - طور پر - پوشیدہ طور سے

Coiffeur, (Fr.) A hairdresser :
 بال بنانیرالا

Collectanea, (L.) Passages collected from others :
 اقوال مولفہ

Commune bonum, (L.) A common good :
 نائکہ - عام - نائذہ باہمی

- Communis opinio, (L.)** General opinion : عام رائے
- Compos mentis, (L.)** Of a sound mind : سلیم الذہن - سمجھدار آدمی
- Compte rendu, (Fr.)** An account rendered ; report : فرد حساب - رپورٹ
- Comptoir, (Fr.)** Counting-room : شمار خانہ
- Con amore, (It.)** With love ; very earnestly : محبت سے - بڑی سرگرمی سے
- Conditio sine qua non, (L.)** A necessary condition : شرط ضروری
- Confiteus acus, (L.)** Culprit who has confessed : مازم اقبالی
- Confrere, (Fr.)** A brother belonging to the same monastery ; an associate : رکن خانقاہ - ساتھی
- Contra bonos mores, (L.)** Against good manners or morals : خلاف قاعدہ و تہذیب
- Contre-temps, (Fr.)** A mischance : مصیبت - آفت
- Copia vera, (L.)** True copy : صحیح نقل
- Copia verborum, (L.)** Plenty of words ; fluency in speech : لسانی - فصاحت
- Coram nobis, (L.)** Before us : ہمارے سامنے - عدالت کے روپرز
- Corps, diplomatique, (Fr.)** A diplomatic body : جماعت سفرا
- Corpus delicti, (L.)** The body, substance, or foundation of the offence : بناؤ جرم
- Corrigenda, (L.)** غلط نامہ
- Couleur de rose, (Fr.)** Rose colour ; hence an aspect of beauty and attractiveness : گلابی رنگ - حسن دلفریب
- Coup de grace, (Fr.)** The finishing stroke : ضرب قاتل
- Coup de main, (Fr.)** A sudden enterprise or effort : مہم یا کوشش ناگہانی
- Coup de soleil, (Fr.)** A stroke of the sun : حرقت
- Coup de'tat, (Fr.)** A stroke of policy ; a violent measure of state : حکمت عملی - سیاست
- Coup d'œil, (Fr.)** A rapid glance of the eye : نظر کی تیز گردش
- Coutequil coute, (Fr.)** Cost what it may : ہر چہ باد آباد - جو ہو سو ہو
- Crassa negligentia, (L.)** Gross neglect : غفلت شدید
- Crescente malitia crescere debet et poena, (L.)** When vice increases, punishment ought also to increase : جبکہ بدی کی زیادتی ہو تو سزا بھی زیادہ ہونا چاہئے
- Cui bono ? (L.)** For whose benefit ? کسکے فائدہ کے لئے
- Culpa tenet suos auctores, (L.)** A fault binds its own authors : قصور اس شخص پر عاید ہوتے ہیں جو اسکا مرتکب ہوا ہو
- Cum grano salis, (L.)** With a grain of salt, i. e., with some allowance : کسبقدر رعایت سے - مع - نمک مرچ کے - مبالغہ کے ساتھ
- Cum privilegio, (L.)** With privilege : بحق - از روئے حق
- Curiosa felicitas, (L.)** Nice felicity of expression : عمدہ خوش بیانی
- Currente calamo, (L.)** With a running or rapid pen : رواں یا تیز قلم سے
- Custos rotulorum, (L.)** Keeper of the rolls : محافظ رجسٹر

D

Datio solvendi animo, (L.) Transfer of property for paying up a debt : انتقال جائداد بغرض بے باقی کسی قرضہ کے

De bonne grace, (Fr.) With good grace ; willingly : خوش اسلوبی سے - بخوشی - برضامندی

De facto, (Fr.) From the fact ; really : حقیقتاً - از روئے حقیقت - واقعہ

Deo favente, (L.) With God's favour : خدا کے فضل سے

Dei gratia, (L.) By the grace of God : بفضل خدا

Dei judicium, (L.) By the decree of God : حکم خدا سے

De jure, (L.) From the law ; by right : از روئے قانون - از روئے حق

Delinquens per iram provocatus punitur debet mitius, (L.) A delinquent provoked by anger should be more mildly punished : مجرم کو جسکو بوجہ غصہ کی اشتعال ہوا ہو، کم سزا دینی چاہئے

De mortuis nil nisi bonum, (L.) Say nothing but good of the dead : گذشتگان را جز بے تکرّفی یاد : ممکن - گذرے ہرزوں کے حق میں بے لگائی کہہ

De nihilo nihil fit, (L.) From nothing nothing is produced : نیست سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی

De novo, (L.) Anew : از سر نو

Deo gratias, (L.) Thanks to God : انشاء اللہ شکر خدا

Deo volente, (L.) God willing ; by God's will : انشاء اللہ

De profundis, (L.) Out of the depths : گہر سے

Dernier ressort, (Fr.) A last resource : آخری چارہ

Desipere in loco, (L.) To jest at the proper time : طرائف بر محل

De trop, (Fr.) Too much, or too many : حد سے زیادہ

Dies non, (L.) A day on which judges do not sit : جس دن جج لوگ اجلاس نہیں کرتے

Dieu et mon droit, (Fr.) God and my right : خدا ہے اور میرا حق

Dieu vous garde, (Fr.) God protect you : خدا تمہارا نگہبان ہے

Distrait, (Fr.) Absent in thought : غفیرط

Divertisement, (Fr.) Amusement ; sport : تفریح - ہولہرا - شغل - کھیل

Dominus, vobiscum, (L.) The Lord be with you : خدا حافظ

Double entendre, } (Fr.) Double meaning ;
Double entente, } a word or phrase capable of more than one meaning : دو معنی

Dramatis personæ, (L.) Characters of a drama : اراکین ناٹک

Droit ne poit pas morier, (Fr.) A right never can die : حق کبھی ساقط نہیں ہو سکتا

Droits d'octroi, (Fr.) Duties levied on certain articles on their entry into a town : محصول چنگی

Dulce est desipere in loco, (L.) It is pleasant to jest, or revel, at the proper time : طرائف یا خوشی بر محل بھائی معاروم ہوتی ہے

Dulce et decorum est propatria mori, (L.) It is sweet and glorious to die for one's country اپنے ملک کے لیئے جان دینا کیسا بھلا اور نام آوری کا کام ہے

Dum spiro, spero, (L.) While I breathe, I hope : جب تک سانس تب تک آس

Dum vivimus, vivamus, (L.) While we live, let us live : جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں زندہ دلی سے : بسر کرنا چاہیئے

Duranta vita, (L.) During life : زندگی میں

E

Editio princeps, (L.) Original edition : طبع اول

Edition de luxe, (Fr.) A splendid and expensive edition of a book : ایک خوبصورت اور قیمتی طبع

El Dorado, (Sp.) The golden land : سنہری زمیں

En avant ! (Fr.) Forward : آگے بڑھو

En famille, (Fr.) With one's family, in a domestic state : گھست - خاندان - سہیت - بال بچہ دار

En masse, (Fr.) In a body : دستہ - اٹھا ہو کر

En plein jour, (Fr.) In broad day : دن درپہرے

En regle, (Fr.) In order ; according to rules : پاناعدہ

En route, (Fr.) On the way : اٹانے راہ

En suit, (Fr.) In company : ہمراہیوں کے ساتھ

En tout, (Fr.) In all ; wholly : بالکل

Entree, (Fr.) Entry : داخلہ

Entrepote, (Fr.) A warehouse or magazine : مال گروم - مستزن

En verite, (Fr.) In truth ; verily : در حقیقت - در اصل

Errare est humanum, (L.) To err is human : انسان مرکب من الخطا و النسیان

Error nocet errants, (L.) An error hurts him that errs : غلطی غلطی کنندہ کو نقصان پہنچاتی ہے

Esprit de corps, (Fr.) The animating spirit of a collective body, as of the army or the bar : کسی جماعت کا جوش دلی وغیرہ

Et cetera, (L.) And the rest, &c. :

Et hoo genus omne, } (L.) And everything
Et id genus omne, } of the sort : اور ہر ایک چیز اسی قسم کی

Et sequentes, (L.) And those that follow : اور مذکورہ ذیل

Et sic de cæteris, (L.) And so of the rest : علیٰ ہذا القیاس

Eureka ! (Gr.) I have found it ! : میں نے اُسے پایا

- Excelsior, (L.)** Higher ; more elevated : بلند تر - اعلیٰ تر - برتر
- Exceptio probat, regulam, (L.)** The exception proves the rule : استثناء قاعدہ ہو جاتا ہے
- Ex curia, (L.)** Out of court : بیرون عدالت
- Exempli gratia, (L.)** By way of example : بطور تمثیل مثلاً
- Exeunt, (L.)** They go out : وئے باہر جاتے ہیں
- Exeunt omnes, (L.)** All go out, or retire : سب باہر جاتے ہیں
- Ex mero motu, (L.)** By one's own will or consent : اپنے ہی رضا و رغبت سے
- Ex nihilo nihil fit, (L.)** Out of nothing, nothing comes : نیست سے نیست ہی ہوتا ہے
- Ex officio, (L.)** By virtue of his office : بحیثیت : عہدہ - باعہ پار عہدہ
- Ex parte, (L.)** On one side only : ایک طرفہ
- Experto crede, (L.)** Trust one who has tried, or has experienced : تجربہ کار پر بھروسہ کرو - کار : آزمودہ پر اعتبار کرو
- Expose, (Fr.)** An exposition ; recital : بیان
- Expressis verbis, (L.)** In express terms : صاف لفظوں میں
- Ex tempore, (L.)** Out of hand ; without study : فوراً - بغیر طیار ہوئے
- Extra muros, (L.)** Beyond walls : دیوار سے باہر
- Ex uno disco omnes, (L.)** From one judge of the rest : مشقی نمونہ از خوراک
- F**
- Facile princeps, (L.)** Evidently pre-eminent ; the admitted chief : افضل - افسر - مسامہ
- Facta sunt potentiora verbis, (L.)** Deeds are more powerful than words : انعام (واقعات) : الفاظ سے زیادہ موثر ہیں
- Fait accompli, (Fr.)** A thing already done : کیا ہوا کام
- Fama clamosa, (L.)** A current scandal : عام بدنامی
- Fama nihil est celerius, (L.)** Nothing travels more swiftly than scandal : بُرائی جلد مشہور : ہو جاتی ہے
- Famos libelli, (L.)** Seditious newspapers and pamphlets : اخبارات یا سانحات تبتہ انگیز
- Faux pas, (Fr.)** A false step : نامناسب برتاؤ
- Fax populi, (L.)** The dregs of the people : عوام الناس - بارانی لوگ - کونجڑے قصابی
- Fecit, (L.)** He made or executed it : اوسنے اورے تیار کیا
- Felicitas multos habet amicos, (L.)** Prosperity has many friends : اقبال مندی میں سب دوست ہوتے ہیں - جسے ہانہہ توڑی اور کما سب توڑی
- Feliciter, (L.)** Happily ; successfully : خوشی سے - کامیابی سے
- Felo de se, (L.)** A suicide : خود کشی
- Feu de joie, (Fr.)** A firing of guns in token of joy : خوشی کی سلامی
- Fiat justitia, ruat cœlum, (L.)** Let justice be done, though the heavens should fall : بہر صورت انصاف ہونا چاہئے
- Fide et amore, (L.)** By faith and love : ایمان و محبت سے
- Fidei defensor, (L.)** Defender of the faith : حامی دین
- Finem respice, (L.)** Look to the end : انجام کو دیکھو
- Flagrante delicto, (L.)** In the very act : ارتکاب جرم کرتے ہوئے
- Fortuna favet fortibus, (L.)** Fortune favours the bold : دلیر کی تقدیر بھی ہمدردی کرتی ہے
- Fra, (It.)** Brother ; friar : بھائی ہم فراتہ
- Frequentia actus multum operatur, (L.)** The frequency of an act operates much : کسی کام کے متواتر کرنے سے بڑا اثر ہوتا ہے
- Fulmen brutum, (L.)** A harmless thunderbolt : برق بے زبان
- Functus officio, (L.)** Having performed one's office or duty, hence out of office : وہ شخص جو اپنا کار منصبی انجام دے چکا ہو
- Furor loquendi, (L.)** A rage for speaking : جوش کلام
- Furor poeticus, (L.)** Poetical fire : جوش شاعری
- Furor scribendi, (L.)** A rage for writing : جوش تحریر

Furtum sine affectu furandi non committum, Theft is not committed without an intention of stealing : ارتکاب سرتہ بلا نیت یا خوراعش سرتہ کے نہیں ہوتا

G

Gallice, (L.) In French : فرانسیسی زبان میں

Garçon, (Fr.) A body ; a waiter : لڑکا - غلام

Garde du corps, (Fr.) A bodyguard : محافظان

Gardez, (Fr.) Take care : ہرشیار رہو

Genius loci, (L.) The genius of the place : ناقل مقام

Gens d'armes, (Fr.) Armed police : مسلح پولیس

Gloria, in excelsis, (Fr.) Glory to God in the highest : خدا کا جلال

Gloria Patri, (L.) Glory be to the Father : بزرگی خدا کو شایاں ہے

Grand merci, (Fr.) Many thanks : بہت بہت شکر ہے

Gravius est divinam quam temporalem lædere majestatem (L.) It is more serious to hurt divine than temporal power : قدرت الہی کی خلاف ورزی وہ نسبت مضائقہ انسان کے سنگین تر ہے

H

Hauteur, (Fr.) Haughtiness : گومنت - فرور

Helluo librorum, (L.) A devourer of books ; a bookworm : کتب بینی کا کمال شائق

Hic labor, hoc opus est, (L.) This is the labour ; this is the toil : یہہ - یہہ مشقت ہے

Hoi polloi, (Gr.) The many ; the rabble ; the vulgar : عوام الناس

Honi soit qui maly pense, (Fr.) Evil be to him who evil thinks : جو بدی سوچتا ہے اوسکے لئے بدی ہو

Hors de combat, (Fr.) Out of condition to fight : لڑائی سے معذور

Horse de propos, (Fr.) Not to the point or purpose : بے مصل - بے موقع

Hors de saison, (Fr.) Out of season : بے موسم

Hortus siccus, (L.) A collection of dried plants : خشک پودوں کا مجموعہ

Humanum est errare, (L.) To err is human : ایسا ہی مرکب مریضیا و انسانیاں

I

Ibidem, (L.) In the same place : اوسے جگہ

Idem, (L.) The same : ایضاً

Id est, (L.) That is ; often contracted *i. e.* : یعنی

Ignorantio, elenchi, (L.) Ignorance of the point in question : عدم واقفیت از امر متنازع فیہ

Ignorantia eorum quæ quis scire tenetur non excusat, (L.) Ignorance of those matters which one is presumed to know, does not excuse : ناواقفیت ان امور کی جنکا ہر شخص کو معلوم ہونا چاہئے کوی معذور نہیں ہے

Impedimenta, (L.) Luggage in travelling ; the baggage of any army : اسباب سفر - اسباب فرج

Imperium in imperio, (L.) A government or rule within another : حکومت در حکومت

Imposito mannum, (L.) The laying of hands on anyone : ہمدان کرنا - کسی پر ہاتھ چلانا

In articulo mortis, (L.) At the point of death : قریب المرگ

Incuria, (L.) In court : عدالت میں

In dubio, (L.) In doubt : مشکوک

In esse, (L.) In being : موجود

In extenso, (L.) At full length : پورے طور پر - مفصل

In extremis, (L.) At the point of death : قریب المرگ - آخر وقت پر

Informa pauperis, (L.) As a poor man : بھیکہ - مفلس

Infra dignitatem, (L.) Below one's dignity : خلاف شان

In limine, (L.) At the threshold : ابتدا میں - شروع میں

In loco parentis, (L.) In the place of a parent : بجائے والدین

In medias res, (L.) Into the midst of things : منجملاً اور چیزوں کے

In memoriam, (L.) To the memory of ; in memory : یادگاری میں

In nuce, (L.) In a nutshell : تھوڑے میں

In pace, (L.) In peace : صلح میں

In petto, (L.) Within the breast ; in reserve : رکھایا ہوا

Imposse, (L.) In possible existence ; in possibility : ممکن الوجود

- In propria persona, (L.)** In person : - اصلاً
بہ ذات خون
- In puris naturalibus, (L.)** Quite naked :
ننگا مادر زاد
- In re, (L.)** In the matter of : - مقدمہ - درباب
- In saltu uno duos apros capere, (L.)** In one cover to take two bores ; killing two birds with one stone :
ایک پتھہ دو کاج
- In situ, (L.)** In its original situation :
اصلي جگہ پر
- In statu quo, (L.)** In the former state :
پہلے ہی حالت میں
- Inter alia, (L.)** Among other things :
منجملہ دیگر امور کے
- Inter arma leges silent, (L.)** In the midst of arms the laws are silent :
ارازہ جنگ میں قانون خاموش رہتا ہے یعنی جنگ کے زمانہ میں قانون پر عملدرآمد بند ہو جاتا ہے اور اسکے بجائے قانون فوجی نافذ ہوتا ہے
- Inter nos, (L.)** Between ourselves :
ہمارے درمیان
- In terrorem, (L.)** As a warning :
بظاہر ڈرنا
- Inter se, (L.)** Among themselves :
آپس میں مابین خود
- In toto, (L.)** In whole ; entirely :
بالکل - مطاباً
- Inter muros, (L.)** Within the walls :
محصور
- In transitu, (L.)** On the passage :
راستہ میں
- Iipse dixit, (L.)** He himself said it ; dogmatism :
اوسنے یہہ خود کہا - مقولہ - امر مسلمہ
- Ipsa facto, (L.)** In the fact itself :
در حقیقت
- J**
- Jecta est alea, (L.)** The die is cast :
اب تو کر گذرے - ہرچہ بادا باد ما کشانی در آب انداختیم
- Jeu de mots, (L.)** A play on words ; a pun :
ذریعہ بات - صنعت لفظی
- Jeu d'esprit, (Fr.)** A witticism :
ہزانت
- Jura est Deum in testem vocare, (L.)**
To swear is to call God to witness :
خدا لینا خدا کو گواہ کرنا ہے
- Jure divino, (L.)** By divine law :
قانون الہی سے
- Jure humano, (L.)** By human law :
انسانی قانون سے
- L**
- Labore et honore, (L.)** By labour and honour :
عزت اور محنت سے
- La fortune passe partout, - (Fr.)** Fortune passes every where :
آسمان سب کو گردش دکھاتا ہے
- Lapsus calami, (L.)** A slip of the pen :
سہو قلم - غلطی نقاب
- Lapsus linguæ, (L.)** A slip of the tongue :
سہو زبان
- Lapsus memoriæ, (L.)** A slip of the memory :
سہو حافظہ
- Laus Deo, (L.)** Praise to God :
العمد للہ
- L'avenir, (L.)** The future :
آئندہ
- Le beau monde, (Fr.)** The fashionable world :
باورج لری
- Le pas, (Fr.)** Precedence in place or rank :
ترقیات مرتبہ یا عہدہ
- Le roy n'est lie par aucun statut, The king is not bound by any statute :
بادشاہ تابع کسی قانون کے نہیں ہے**
- Lese, majeste, (Fr.)** High treason :
مضرت
- Lettre' de cachet, (Fr.)** A sealed letter ; a royal warrant :
مہر شدہ خط و وارنت سرکاری
- Lex loci, (L.)** The law or custom of the place :
جگہ کا قانون یا دستور - مقامی رواج
- Lex neminem cogit and impossibilia, (L.)** The law compels no man to do impossibilities :
قانون کسی شخص کو نا ممکنات کے کرنے پر مجبور نہیں کرنا
- Lex non scripta, (L.)** Unwritten law—that is, the common law :
قانون عوام
- Lex scripta, (L.)** Statute law :
آئین
- Lex talionis, (L.)** The law of relation :
قانون مکانات
- Locum tenens, (L.)** One occupying the place a deputy or substitute ;
قائم مقام
- Locus standi, (L.)** A place for standing ; a right to interfere :
حق مداخلت
- M**
- Ma chere, (Fr.)** My dear (Fem. :)
مہربان (مرث)
- Ma foi, (Fr.)** Upon my faith :
ایماناً
- Magna est veritas, et prevalebit, Truth is mighty and will prevail :
سچ کو بڑی طاقت ہے اور ندرت ترقیت رکھتا ہے**
- Magnum bonum, (L.)** A great good :
بڑا فائدہ

Magnum opus, (L.) A great work : بڑا کام
Mala fide, (L.) With bad faith ; treacherously : بد نیتی سے
Mala propos, (Fr.) Ill-timed : بے موقع
Mala prohibita, (L.) An evil prohibited : ذمہ ممنوعہ
Malheur, ne vient jamais seul, (Fr.) Misfortunes never come singly : - مٹسی میں آتا گیا - کڑھی اور تسیر کھا
Mandamus, (L.) We command a writ ; a writ or command issued by the court of King's Bench : شاہی کونسل کا فرمان
Maun propria, (L.) With one's own hand : اپنے ہاتھ سے
Materfamilias, (L.) The mother of a family : بڑی بی - ماں یا مالکن خاندان کی
Mea culpa, (L.) My fault : میرا قصور
Materia Medica, (L.) Medicines collectively, for all substances : مختلف الادویہ
Matinee, (Fr.) A morning or early recital or performance : سرور صبح
Me jndice, (L.) I being judge, in my opinion : میری رائے میں بدعینیت
Melee, (Fr.) A fight in which the combatants are mingled together : گھمسان کی لڑائی
Memento mori, (L.) Remember death : موت کو یاد رکھو
Memorabilia, (L.) Things to be remembered : امر یادداشتی
Mens sana in corpore sano, (L.) A sound mind in a sound body : صحیح العقل اور صحیح الجسم
Mens sibi conscia recti, (L.) A mind conscious of rectitude : قلب سلیم
Messieurs, (Fr.) Sir, gentlemen : صاحبان
Meum et tuum, (L.) Mine and thine : میرا اور تمہارا
Mirabile dictu, (L.) Wonderful to tell : عجیب بات - کہنے میں عجیب
Mirabile visu, (L.) Wonderful to see : دیکھنے میں عجیب
Modus, (L.) Manner ; mode : طریقہ - طرز
Modus operandi, (L.) Manner of operation : طریق عمل
Mon cher, (Fr.) My dear : مٹھے پیارے

Monsier, (Fr.) Sir ; Mr. : جناب
More majorum, (L.) After the manner of our ancestors : آبا و اجداد کے طرز کے موافق
More suo, (L.) In his own way : اپنے طرز سے
Mors omnibus communis, (L.) Death is common to all : موت سب کے لئے ہے
Motu propria, (L.) O his own accord : اپنی خوشی سے
Multum in parvo, (L.) Much in little : کثرت در قلت - تھوڑے میں بہت
Mutatis mutandis, (L.) With necessary changes : ضروری تبدیلیات کے بعد

N

Necessitas est lex temporis et loci, (L.) Necessity is the law of time and place : ضرورت قانوں وقت اور مقام ہے
Nemine contradicente, (L.) Without opposition : بلا اعتراض
Nemine dissentiente, (L.) No one dissenting : بلا مخالفت
Ne plus ultra, (L.) Nothing farther ; to the uttermost point : حد - غایت
Ne verba pro farina, (L.) Do not give me words for food ; fair words butter no parsnips : کھانے کے عوض میں باتیں نہ بناؤ - اقر کہے منہ نہیں میٹھا ہوتا
Nihil ad rem, (L.) Nothing to the point : معلق مطالب پر نہیں
Nil desperandum, (L.) Never despair : کبھی ناامید مت ہو
Nisi dominus frustra, (L.) Unless God be with you, all your toil is vain : جب تک خدا تمہاری مدد نہ کرے تمہاری تمام محنت رائیگان ہے
Nisi prius, (L.) Unless previously : دو صورت نا مانع ہونے کی امر کے
Nolens volens, (L.) Whether he will or not ; willing or unwilling : چاہ نا چاہ
Nom de plume, (Fr.) A literary title : تخلص
Non compos mentis, (L.) Not in sound mind : مطبوعہ - غیر صحیح العقل
Non culpa nisi mens sit rea, (L.) There is no guilt unless there be a guilty intention : کوئی جرم نہیں ہے جب تک کہ نیت مجرمانہ نہ ہو
Non sequitur, (L.) It does not follow : ہمہ نتیجہ نہیں نکلتا

- Nosce teipsum, (L.)** Know thyself : خود را :
شماں اپنے کو جان نہ تو کیا ہے
- Nota bene, (L.)** Mark well : نوٹ کو دیکھو
- Notenda, (L.)** Things to be noted : چکڑیں نوٹ
داداشت
- Novus homo, (L.)** A new man, or one who
has raised himself from obscurity : وہ شخص
جس نے نیچے درجہ سے عروج حاصل کیا ہے
- O**
- Obiit, (L.)** He, or she, died : - نکل شخص مر گیا
نکل عزت مر گئی
- Omnia vincit amor, (L.)** Love conquers all
things : عشق کی سدا حیت ہے
- Omnis privatio præsупponit habitum, (L.)**
Every private presupposes former enjoyment :
ہر بیدخلی سے سابق قبضہ لازم آتا ہے
- On dit, (Fr.)** They say, a flying rumour : لوگ
کہتے ہیں۔ مشہور افواہ
- Onus probandi, (L.)** The burden of proving :
بار ثبوت
- Ora pro nobis, (L.)** Pray for us : ہمارے لئے دعا کرو
- Otium omnia vitia parit, (L.)** Idleness produces
every evil ; idleness is the root of all evil : کاہلی
ہر ائی کی چیز ہے
- P**
- Pace, (L.)** By leave of : بلا اجازت
- Palmam qui meruit ferat, (L.)** Let him who
has won the palm carry it : جس نے جیتا ہے اسے
لیجئے دو
- Par excellence, (Fr.)** By way of eminence :
از روئے فوقیت
- Pari passu, (L.)** With equal place together :
قدم ملا کر - ایک ساتھ
- Particeps criminis, (Fr.)** An accomplice :
شریک جرم
- Passim, (L.)** Everywhere : ہر ایک جگہ - ہر کہیں
- Paterfamilias, (L.)** The father of a family :
گزرگ خاندان
- Pax vobiscum, (L.)** Peace be with you : خدا آپ کو
سلامت رکھے
- Pensee, (Fr.)** A thought : خیال
- Per, (L.)** For, through, by : سے - ساتھ - فی
- Per annum, (L.)** By the year : سالانہ
- Per centum, (L.)** By the hundred : فیصدی
- Per contra, (L.)** Contrariwise : مخالف جانب
- Per diem, (L.)** By the day ; daily : فی یوم - یومیہ
- Per saltum, (L.)** By a leap or jump : جست سے
- Per se, (L.)** By himself ; itself, etc. خود
- Personnel, (Fr.)** The persons employed in any
service : اشخاص جو کسی کام پر مقرر ہوں
- Petitio, principii, (L.)** A begging of the ques-
tion : بلا دلیل کسی امر کو مان لینا
- Pen-a-pen, (Fr.)** Little by little : تھرتھرتا
کرے
- Pleno jure, (L.)** With full authority : پورے
اختیار سے
- Plebs, (L.)** Common people : عوام الناس
- Plus peccat auctor quam actor, (L.)** The
causer offends more than the doer : والا بہ نسبت
کرنے والے کے زیادہ جرم کرتا ہے
- Point d'appui, (Fr.)** Point of support ; prop :
سہارا
- Pons asinorum, (L.)** The ass's bridge ; a name
for the fifth proposition in the first Book of
Euclid : پل خزان - اٹلیڈس کے پہلے مقالہ کی پانچویں
شکل
- Posse comitatus, (L.)** The power of the
country : طاقت ملک
- Poste restate, (Fr.)** To remain until called
for : بلائے جانے تک توقف کرنا
- Post mortem, (L.)** After death : بعد از موت
- Pour passer le temps, (Fr.)** To pass away
the time : وقت گزارنا
- Pour prendre conge, (Fr.)** To take leave :
رخصت ہونے کے لئے
- Praemonitus praemunitus, (L.)** Forewarn-
ed ; forearmed : قتل المردنی قبل الانیا
- Prescriptum, (L.)** A thing prescribed : شے معینہ
- Presto, (It.)** Quickly : جلدی سے
- Prima facie, (L.)** On the first view : بادین نظر
- Primo, (L.)** In the first place : اولاً
- Primum mobile, (L.)** The source of motion :
باعض حرکت محرک اول
- Princia probant, non probantur, (L.)**

Principles prove, they are not proved : اصول سے ثابت کیا جاتا ہے نہ یہ کہ اصول ثابت کیا جاتا ہے

Pro bono publico, (L.) For the public good :
رفا عام کے لئے

Proes, verbal, (Fr.) A written statement :
بیان تحریری

Pro et con, (L.) Argument for or against :
دلائل موافق اور مخالف

Profanum vulgus, (L.) The profane rabble :
دنیا دار لوگ

Pro forma, (L.) For the sake of form :
بغرض ترتیب

Pro patria, (L.) For our country :
اپنے وطن کے واسطے

Proh pudor ! (L.) O, for shame !
حیف - شرم کی بات

Pro memoria, (L.) For a memorial :
برائے یادگار

Propaganda, fide, (L.) For extending the faith :
برائے ترقی دین

Pro patria, (L.) For our country :
اپنے ملک کے لئے

Pro rata, (L.) In proportion :
بمقدار

Pro tempore, (L.) For the time being :
موجودہ - چند روز کے لئے

Q

Quantum libet, (L.) As much as you please :
جس قدر تمہاری خواہش ہو

Quantum sufficit, (L.) A sufficient quantity :
کافی مقدار

Quasi, (L.) As if ; in a manner :
گویا بطور

Quid rides ? (L.) Why do you laugh :
کیوں ہنستے ہو

Quid pro quo, (L.) One thing for another :
ایک چیز دوسرے چیز کے عوض

Qui tardius solvit, minus solvit, (L.)
He who pays slowly, pays too little :
جو دیر سے دیتا ہے کم ادا کرتا ہے

Qui vive ? (Fr.) Who goes there ?—hence, on the qui vive, on the alert :
کون جاتا ہے - چو تھو رہو

Quod erat demonstrandum, (L.) Which was to be proved or demonstrated :
جو ثابت کرنا تھا

Quod erat faciendum, (L.) Which was to be done :
جو کرنا تھا

Quod vide, (L.) Which see :
اسکر دیکھو

Quo jure, (L.) By what right :
کس حق سے

Quot homines tota sententia, (L.) As many men, so many minds :
جتنے آدمی اتنے رائیں

R

Raison d'etre, (Fr.) Reason for a thing's existence :
دلیل وجود ہے

Rara avis, (L.) A rare bird :
ایک نادر پرندہ - ہا

Recherche, (Fr.) Sought out with care ; rare ; exquisite :
تحر سے تلاش کیا گیا - نادر - عمدہ

Reducti ad absurdum, (L.) Reducing a position to an absurdity :
کسی حالت کو ناممکن ثابت کرنا

Regium donum, (L.) A royal gift :
ملکہ شاہی

Re in facta, (L.) The business being unfinished :
کام نا تمام

Renovate animos, (L.) Renew your courage :
پھر ہمت کرو

Rentes, (Fr.) Funds bearing interest ; stocks :
سرمایہ جسکا سود آتا ہو

Requiescat in pace, (L.) May he rest in peace :
خدا اُسے جاؤں انی سلامتی دے

Res angusta domi, (L.) Narrow circumstances at home ; poverty :
تنگدستی - مفلسی

Res gestæ, (L.) Exploits :
مہمات

Res judicata, (L.) A case or suit already decided :
مقدمہ قبل ازہیں فیصلہ شدہ

Respicere finem, (Fr.) Look to the end :
انتہام کو دیکھو

Reume, (L.) An abstract or summary :
خلاصہ یا انتخاب

Resurgam, (L.) I shall rise again :
میں پھر اُٹھوں گا

Ruat, cœlum, (L.) Let the heavens fall :
خواب چھوٹے ہی ہو

Ruse contre ruse, (L.) Cunning against cunning :
حرفت کا مقابلہ حرفت سے

Ruse de guerre, (Fr.) A stratagem of war :
مکرر جنگ - لڑائی کا داروں

Rus in urbe, (L.) The country in town : دیہات
کی کیفیت شہر میں

S

Salus ubi multi consilii, (L.) There is
safety among many counsellors : مشیران کثیر
ہونے سے امن رہتا ہے

Sang-froid, (Fr.) Gold blood ; coolness : سرد
مہاری - لاپرواہی

Sans ceremonie, (Fr.) Without ceremony :
بلا تکلف

Sans peur et sans reproche, (Fr.) Without
fear and without reproach : بلا خوف و ملامت

Sans souci, (Fr.) Without care : بے فکر

Sapiens omni agit cum concilio, (L.) A
wise man does every thing advisedly : عقلمند
آدمی ہر بات سمجھتے ہوچھتے کر کرتا ہے

Satis verborum, (L.) Enough of words :
کافی الفاظ

Sauve qui peut, (Fr.) Save himself who can :
جو اپنے آپکو بچا سکے بچا رہے

Savant, (Fr.) A learned man : عالم

Saxum volutum non obducitur musco,
(L.) A rolling stone gathers no moss : گزرا
تول سدا محتاج رہتا ہے

Secundum artem, (L.) According to rule :
حسب قاعدہ

Secundum naturam, (L.) According to
nature : حسب فطرت - موافق مزاج

Secundum ordinem, (L.) In order : بہ ترتیب

Semper idem, (L.) Always the same : ہمیشہ
وہی

Semper paratus, (L.) Always ready : ہمیشہ تیار

Seriatim, (L.) In a series : سلسلہ وار - مسلسل

Si Deus nobiscum, quis contra nos, (L.)

If God be for us who can be against us :

جاگو رہا ہے ساتھیوں مار نہ سکے کرتے

بال نہ باتنا نرسکے جو جگ بیڑی ہوتے

Sic, (L.) Like this ; so : ایسی طرح - ایسا ہی

Sicut ante, (L.) As before : جیسا پہلے

Sic itur ad astra, (L.) Such is the way to
immortality : جا کا بھی راستہ ہے

Sic passim, (L.) So everywhere : ایسا ہی ہر ایک
جگہ

Sic transit, } (L.) So passes away
Gloria mundi, } earthly glory : اسطرچ
دنیاوی شوکت گزر جاتی ہے

Simile gaudet simili, (L.) Birds of a feather
flock together : کند ہم جنس یا ہم جنس پرروز - کبوتر
با کبوتر باز با باز

Similia simili- } (L.) Like things are cured
bus curantur, } by like : زہر کا علاج زہر ہے

Sine die, (L.) Without a day being appointed
indefinitely : بلا تہین - تاریخ - غیر محدود طور سے

Sine qua non, (L.) An indispensable condi-
tion : ناگزیر شرط - ضروری بات

Soi-disant, (Fr.) Self called : اپنے آپ میں مہو

Spero meliora, (L.) I hope for better things :
میں بہتری کی امید رکھتا ہوں

Sponte sua, (L.) Of one's own accord : اپنی
مرضی سے

Status quo, (L.) The state in which : جس حالت
میں تھ

Stet, (L.) Let it stand : اسے رہنے دو

Suaviter in modo, } (L.) Gentle in manner ;
fortiter in re, } resolute in deed : شریف
اطوار میں - مستعد کام میں

Sub judice, (L.) Under consideration : زیر تجریر

Sub poena, (L.) Under a penalty : سزائے

Sub rosa, (L.) Under the rose ; privately :
پوشیدہ طور سے

Sui generis, (L.) Of its own kind : اپنی قسم کا

Summum bonum, (L.) The chief good : بڑا نایبہ

Suppressio veri, (L.) A suppression of the
truth : سچ بات کی پوشیدگی

Suum cuique, (L.) Let each have his own :
ہر ایک کو اپنا حق رکھنے دو

T

Tædium vitæ, (L.) Weariness of life : زہدی سے
آزردگی

Tant mieux, (Fr.) So much the better : بہا تک
فہمیت ہے

Tant pis, (Fr.) So much the worse : اتنا ہی بڑا

Tapis, (Fr.) Upon the carpet : زیر تجریر

Te Deum, (L.) A hymn of thanksgiving : شکر گزہ کا بھجن

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, (L.) The times are changed and we with them : زمانہ بدل گیا ہے اور ہم بھی اوسکے ساتھ بدل گئے ہیں

Tempus fugit, (L.) Time flies : وقت گذر جاتا ہے

Terra firma, (L.) Solid earth ; a safe footing : زمین سخت - مضبوط جگہ

Terra incognita, (L.) An unknown country : نامعلوم ملک

Testamentum omne morte consummatur, (L.) Every will is perfected by death : ہر وصیت نامہ وفات سے مکمل ہو جاتا ہے

Tete-a-tete, (Fr.) Head to head ; a private conversation : آپس کی گفتگو

Toga virilis, (L.) The garb of manhood : جامہ انسانی

Totidem verbis, (L.) In just so many words : ٹھیک اتنے لفظ نہیں

Tour de force, (Fr.) A feat of strength or skill : طاقت یا ہنر مندی کا کام - کرتب

Tout-a-fait, (L.) Entirely : بالکل

Toot a vous, (Fr.) Wholly yours : بالکل تمہارا

Tout ens emble, (Fr.) The whole taken together ; the broad or general effect : عام طور سے - عام نتیجہ

ل

Ubique, (L.) Everywhere : ہر ایک جگہ

Ultima ratio regum, (L.) The last argument of king's war : بادشاہوں کی آخری دلیل یعنی جنگ

Ultima Thule, (L.) The utmost boundary limit : آخری سر حد یا حد

Ultra vires, (L.) Beyond one's powers : اپنے طاقت سے باہر

Ultra posse non est esse, (L.) What is beyond possibility cannot exist : جو کہ امکان کے باہر ہے وہ نہیں ہو سکتا

Una voce, } (L.) With one voice ; with one mind : یکدل
Unoa nimo, } mind : unanimously : سے - اتفاق کر کے

Usque ad nauseam, (L.) To disgust : نفرت پیدا کرنا

Usus loquendi, (L.) Current usage of speech : عام رواج زبان - معاورہ

Ut infra, (L.) As below : حسب ذیل

Ut supra, (L.) As above : حسب تذکرہ صفر

V

Vade mecum, (L.) A constant companion : ہمیشہ کا ساتھی

Vale, (L.) Farewell : الوداع

Valet de- } (Fr.) An attendant ; a footman : خادم - نوکر
chambre, }

Variae lectiones, (L.) Various readings : عبارت کی مختلف تعبیر

Variorum notæ, (L.) The notes of various authors : مختلف مصنفوں کی شرح

Veni, vidi, vici, (L.) I came, I saw, I conquered : میں آیا - میں دیکھ - میں فتح کیا

Verbatim et literatim, (L.) Word for word and letter for letter : لفظ بلفظ اور حرف بھرف

Verbum sat sapienti, (L.) A word is enough for a wise man : عاقل را اشاره کافیست

Versus, (L.) Against ; towards : بنام

Vestigia nulla } (L.) Not a step backward : ایک قدم بھی پیچھے نہیں
retorsum, }

Vexata quæstio, (L.) A disputed question : نہیں - امر متنازعہ فیہ

Via, (L.) By way of : راستہ سے ہو کر

Via media, (L.) A middle course : اوسط

Vice, (L.) In the place of : بجائے

Vice versa, (L.) The terms being exchanged : برعکس - کسی عبارت کا اول

Videlicet, (L.) To wit ; namely : usually shortened into, viz. : یعنی

Vi et armis, (L.) By force and arms ; by main force : زبردستی

Virtute officii, (L.) By virtue of office : بھدیشیت
مہلتہ

Vis a vis, (Fr.) Opposite : facing : مقابلہ - مجابہ

Vis inertiae, (L.) The power of inertia ; passive resistance : مقابلہ بے تعرض

Vis major, (L.) Inevitable accident : حادثہ ناگہانی - آنت ربانی

<p>Vita brevis, ars longa, (L.) Life is short, art is long : زندگی تھرتی ہے - علم و فن کی حد نہیں</p> <p>Vivat regina, (L.) Long live the queen : ملکہ کی عمر دراز ہو</p> <p>Vivat rex, (L.) Long live the king : شاہ کی عمر دراز ہو</p> <p>Viva voce, (L.) By the living voice ; by oral testimony . زبانی</p>	<p>Vive Lempereur, (Fr.) Long live emperor : شہنشاہ کی عمر دراز ہو</p> <p>Vox et præte } (L.) A voice, and nothing rea nihil, } more : فقط آواز اور کچھ نہیں</p> <p>Vox populi, vox Dei, (L) The voice of people is the voice of God : زبان خلق تقارہ خدا</p>
---	---

[THE END.]





For use in
the Library
ONLY

**PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET**

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PK
1976
S78
1900z
c.1
ROBA

The Student's practical
dictionary. Rev. and
improved ed.

For use in
the Library
ONLY

**FOR USE IN
LIBRARY
ONLY**

